


جدید عربی اردو
ولادت نامہ
محمد سید

کتب خانہ نذر اللہ علی

مقابلہ نمبر ۱۰۱، منشا خانہ کراچی (پاکستان)

جدید اقتوی جامع لغت

اضافہ شدہ جدید ایڈیشن



المعجم عربی اردو

سائنس، تاریخ، جغرافیہ، طب، فاضلہ کے معانی و مترجم
محاورات و ضرب الامثال اور ہم اشیا کی تصانیف

جملہ حقوق طباعت محفوظ ہیں

تاریخ اشاعت جولائی ۱۹۷۷ء

تعداد طبع ایک ہزار

قیمت مجلد - ۱۰۰ روپے



ملنے کے پتے

دارالاشاعت اردو بازار کراچی ما

اولاد القادری، کلاں روڈ، کراچی ۱۲

مکتبہ دارالعلوم و لائبریری دارالعلوم کراچی ۱۲

ادارہ اسلامیات ماہنامہ ۱۹۰، نارنگی لاہور

PRINTED AT . TANVEER PROCESS LIAQUATABAD KARACHI. PHONE : 416729

www.marfat.com

Marfat.com

مجلس تجلید

- مقدمہ
- مترجمین
- پروفیسر شہزاد احمد ارشد
استاذ جامعہ کراچی
- نظر ثانی و تحقیق
تصحیح
1. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب منظرہ
 2. مولانا سعد حسن خاں یوسفی (فاضل ندوۃ العلماء)
 3. پروفیسر عبدالصمد صادم ازہری (میر و فاضل دیوبند)
 4. مولانا سید حسین صاحب (استاذ دارالعلوم دیوبند)
 5. مولانا انور احمد قاسمی (عربی پروفیسر بہاولپور)
 6. پروفیسر محبوب الہی صاحب (فاضل دیوبند و دہلی)
 7. مولانا سبحان محمود صاحب مظاہری (سہارنپور)
 8. مولانا ظہور احمد صاحب (استاذ دارالعلوم دیوبند)
 9. مولانا صلح الحسینی صاحب (فاضل دیوبند)
 10. مولانا ولی حسن صاحب (ٹوٹی) (فاضل ندوۃ العلماء)

مجلس تصحیح

مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی

رموز الخلاء

- ۱ عرض ناشر
- ۲ رموز و اشارات یعنی مطلوب لغت نکالنے کا طریقہ
- ۳ مقدمہ علمیہ
- ۴ چند اہم و ضروری قواعد صرفیہ کی شناخت
- ۵ آغاز لغات
- ۶ محاورات و ضرب الامثال
- ۷ عربی کے جدید لغات (ضمیمہ)
- ۸ تصاویر المنجد مع عربی الفاظ

مقابل مولوی مسیح الدین صاحب

عرض نامتھر

عصر وراز سے احقر کی یہ خواہش تھی کہ عربی زبان و لغت پر چند مفید کتب شائع کروں۔ اور پاکستان بننے کے بعد سے مجھ سے کئی زائد کتب شائع ہوئی ہیں۔ عربی زبان سیکھنے اور عربی علوم سے استفادہ کرنے کا شوق بڑھا، خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ ماشاء اللہ ممالک عربیہ و ممالک اسلامیہ کے وزیان میں روز بروز بہتر ہو رہے ہیں اور ہمارے بہت سے بھائی ممالک عربیہ میں ملازمتوں اور دوسرے شعبوں میں خدمات انجام دینا چاہتے ہیں ان کو بھی ہر قدم پر عربی زبان کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اردو زبان میں ابھی تک کوئی ایسا جامع لغت نہیں ہو سکا تھا جو پوری طرح معیسی و مددگار ہو سکتا، داعیہ تو پہلے سے تھا، اب اہل علم کی اس پریشانی کو دیکھ کر عزم کر لیا کہ عربی لغت کی چند مفید اور مستند کتب شائع کی جائیں۔ چنانچہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے دار سے اس سلسلے کی کسی مفید کتب شائع کر چکے ہیں اور زیر نظر کتاب المینجد عربی تو گویا عربی زبان کی انسائیکلو پیڈیا ہے جس میں اختصار کے ساتھ عربی زبان کے تمام الفاظ لے لئے گئے ہیں، اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اس کی اشاعت ہوتی ہے۔

لیکن اس کے باوجود المینجد کی کمزوریاں معنی نہ تھیں مثلاً یہ کہ اس کے عیسائی مرتب نے لغت میں بھی عیسائی مذہب کا پرچار ضروری سمجھا اور اس کے ساتھ اسلام اور اسلامی ناموں اور جگہوں سے انتہائی مستحبانہ انداز میں انماز کیا لیکن ارادہ یہ کیا گیا کہ ان نقائص کی اصلاح کے ساتھ اصل کتاب سے فائدہ اٹھایا جائے اس لئے اللہ کے نام پر اس مشکل کام کو شروع کر لیا گیا، اس کے ترجمہ کے لئے چند مستند علماء کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جنہوں نے انتھک جاں افشانی کے ساتھ ترجمہ کے نقائص انجام دیئے اور مذکورہ نقائص کی اصلاح اور بہت سے ضروری اور اہم لغات جو المینجد سے رہ گئے تھے ان کا اضافہ کیا، اب ہماری کوششوں کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے مجھے قوی امید ہے کہ ہماری یہ خدمت عوام و خواص میں پسند کی جائے گی اور اس کتاب سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے میری خواہش تھی کہ المینجد کے شروع میں اصول و تاریخ لغت پر ایک جامع مقدمہ کا اضافہ کیا جائے۔ اس کے لئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ سے عرض کروں کیوں کہ حضرت موصوف کو اللہ تعالیٰ نے جن علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال فرمایا ہے موجودہ دنیا نے اسلام میں اس کی محدود چند سے آگے نہیں بڑھتی بلکہ مولانا موصوف کی بے حد مصروف زندگی درس و تدریس فتویٰ نویسی اور عوام و خواص کی خدمت کی لگن ان کی زندگی کا عزیز ترین سرمایہ ہے جس کے لئے ان کے دن اور رات کے تمام اوقات وقف ہیں اس مجاہدانہ زندگی کو دیکھ کر ان سے یہ عرض کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، ڈرتے ڈرتے عرض کیا گیا اور میری یہ انتہائی خوش نصیبی ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے انہی مشاغل کے باوجود ایک نہایت جامع مقدمہ تحریر فرمادیا۔

مقدمہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چھوڑنا بڑی بات ہے لیکن یہ عرض کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ المینجد کے ترجمہ کا بارگاہ اٹھانے اور تین سال کی تباہ و روز کی انتھک محنتوں کا نقد صلہ میں نے یہ بے مثل مقدمہ لکھا کر وصول کر لیا۔

اب تک اردو کا دامن لغت ہی سے خالی تھا، اصول لغت اور تاریخ لغت اردو میں آجائے کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا میں اس عظیم کام پر جس قدر بھی شکر کروں بجا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علوم سے اُمت کو تادیر مستفیض فرمائے، آمین۔
آخر میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعاون سے میں یہ علمی کا نام منظر عام پر لاسکا کہ اللہ تعالیٰ ترجمہ کرنے والوں نصوح کے نقائص انجام دینے والوں کتابوں اور چھپنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

المینجد اردو کا جدید عکسی ایڈیشن

لغت سب سے پہلے ۱۹۶۰ء میں طبع ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوتے رہے اور خدا کا شکر ہے کہ عوام و خواص میں یہ لغت بے حد مقبول ہوئی لیکن لغت ایک ایسے خوبصورت کے ذریعہ چستی رہی جس کی وجہ سے طباعت میں اتنی خوبصورتی نہ تھی۔ اب اس کا جدید عکسی ایڈیشن بہت سی اصلاحات و اضافات و درستی غلطی کے بعد ظاہری و باطنی برکت سے خوب خوب تر ہو گیا ہے۔ کتاب کی صحت، کتابت، طباعت و کاغذ بلبندی کے بارے میں اس کے سوا کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ اس نے کتاب کو ہر لحاظ سے اعلیٰ اور نفیس بنانے میں کئی کئی ای نہیں کی اور اس سلسلے میں جس قدر سرمایہ خرچ کیا جاسکتا تھا اس سے دریغ نہیں کیا مجھے امید ہے کہ میری اس محنت اور عرق ریزی کو آپ پسند فرمائیں گے۔

محمد رضی عثمانی مالک و ارالاشاعت کراچی۔

۶ رمضان المبارک ۱۴۰۳ھ مطابق ۲۳ ستمبر ۱۹۸۲ء

مقدمہ المینج اردو

از حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کراچی

أصول اللغة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على سيدنا ورسولنا المجتبیٰ محمد المصطفى و
على الصالحين و صحبه نجوهم الهدى ومن يهديهم اقتدى

ما بعد۔۔۔ بر خوردار عزیز محمد رضی سلمہ ناظم ادارہ دارالاشاعت کراچی نے عربی لغت کی جدید اور مشہور کتاب المینج اردو ترجمہ اردو خواں حضرت
کی سہولت کے لئے اپنے مکتبہ سے شائع کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا ایک معتدبہ جلد کتابت بلکہ کچھ حصہ طبع بھی ہو چکا اس وقت مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس
پر کوئی مقدمہ لکھ دوں۔ مشاغل کے سبب یہ قضیہ ملتارہ۔ آخر ربیع الثانی ۱۳۶۲ھ میں احقر کو ایک طویل علالت پیش آئی اور بر خوردار عزیز مولوی محمد زکی سلمہ
ناظم ادارہ اسلامیات لاہور کے اصرار پر کچھ دنوں کے لئے انکار و مشاغل سے کیسوی حاصل کرنے کے لئے لاہور کا سفر ہوا۔ اس وصیت کو اس کام کے
لئے غنیمت سمجھ کر سطور ذیل قلمبند کرنے کا ارادہ کر لیا۔ واللہ الامر من قبل ومن بعد۔

المینج پر مقدمہ لکھنے کے لئے المینج کی خصوصیات سے تو بحث کرنا ضروری امر تھا ہی کیوں کہ اس کتاب نے جہاں سہولت پسند حضرات کو عربی
زبان سے روشناس کرنے میں مدد پہنچائی وہیں ان لوگوں کی راہ میں کچھ اشکالات بھی پیدا کر دیئے جن کا مقصد عربی زبان سیکھنے سے محض موجودہ عربوں سے
بات چیت اور مخاطبت و مکاتبت یا کسی سفارت خانہ کی ملازمت ہی نہیں بلکہ اس کو قرآن و سنت کے سمجھنے کا وسیلہ بنانا ان کا مقصد و اعظم
ہے۔ ان حضرات کے لئے چند تمبیہات از بس ضروری ہیں تاکہ وہ کسی مخالفہ کے شکار نہ ہوں۔ لیکن ان تمبیہات کا تعلق تو صرف اس کتاب کے ساتھ
ہے اصل لغت کی کوئی اہم خدمت نہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اصل لغت کی حقیقت اور عربی اور شرعی حیثیت اور اس کی مختصر تاریخ پر چند
فصلیں لکھ دی جائیں تاکہ یہ مجموعہ اصول لغت کی ایک مفید کتاب بن سکے۔ اس موضوع پر نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم کا رسالہ "البلغ فی اصول اللغة" عربی
زبان میں کافی جامع اور مفید رسالہ ہے۔ زیر نظر کتاب میں بھی زیادہ تر مضامین اسی سے لئے گئے ہیں۔ واللہ المستعان و علیہ التکلان۔

لُغْتِ كِی تَعْرِیْفِ

لُغْتِ ان آوازوں کا نام ہے جن سے ہر قوم اپنے اغراض و مقاصد کا دوسروں پر اظہار کرتی ہے۔ ابو الوفاء ہورینی نے بھی
یہی نقل کیا ہے۔

مختلف لغات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں

انسان اور حیوانات کی آفرینش اور ان میں لگی ہوئی قدرتی مشینری کے کل پڑزوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو عمل حیران نہ جاتی ہے کہ اس کا رخا نہ قدرت میں کس چیز سے کیا چیزیں بن رہی ہیں۔ عارفِ رومی نے خوب فرمایا ہے

در میان خون و رودہ فہم و عقل	تر	جز زاکریم تو نتوان کرد نعتل
اے کہ خاک تیرہ را تو جان وہی	تر	عقل و حس را روزی ایماں وہی
شکر از نے میوہ از چوب آوری	تر	وز منی مردہ بت خوب آوری!
گل زر گل صفوت زول پیدا کنتی	تر	پیہ را بخششی ضیاء و روشنی

انسان و حیوان کی چلتی پھرتی فیکسٹری میں ایک خود کار (آٹومیٹک) مشین اس کی زبان ہے۔ جو دل و دماغ میں آئے ہوئے خیالات کی ترجمانی اس حیرت انگیز طریق پر کرتی ہے کہ جو مضمون دل و دماغ میں آیا اس کے ادا کرنے کے لئے مناسب حروف و الفاظ کا انتخاب پھر اس کی صحت کے ساتھ دیکھی جس میں سین اور سین اور صدا کا القباس نہ رہے اس تیر و رقاری کے ساتھ کر ڈالتی ہے کہ ایک سیکنڈ کا وقفہ نظر نہیں آتا اور اتنی بات میں انسان اور حیوان سب برابر ہیں۔ اپنے دلی مقصد کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لئے سب کی زبانوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم جانوروں کی زبان نہ سمجھیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بندہ کو سمجھادیں تو وہ بھی سمجھنے لگتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارہ میں ارشاد ہے عَلَّمْنَا مِثْقَالَ طَيْرٍ (یعنی ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی)۔

پھر انسان کو حق تعالیٰ نے مدنی الطبع بنایا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کو دوسروں کی امداد کے بغیر پوری نہیں کر سکتا اور اس کا دائرہ عمل بھی عام جانوروں کی طرح صرف محسوسات نہیں بلکہ اس کا امتیازی عمل معقولات سے متعلق ہے اس لئے اس کو اپنی زندگی قائم رکھنے اور منصبی فرائض ادا کرنے میں خوب افہام و تفہیم اور مکمل بیان و تبیین کی ضرورت زیادہ ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس کی زبان کو عام جانوروں کی زبان سے ممتاز پیدا فرمایا اور اس کو اظہار مقصد کے لئے لغات کی بڑی مقدار اور بیان کے طریقے سکھائے اور اس کی لغت کو اتنی وسعت عطا فرمائی کہ ایک انسان اپنے مقصد کو مختلف الفاظ اور مختلف عنوانات سے ادا کر سکتا ہے۔ اسی نعمت کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَمٍ، الْبِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰہِ تَعَالٰی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کے طریقے سکھائے۔ اس میں زبان سے قلم سے، اشاروں سے وہ اپنے مقاصد کو بلکہ دقیق علمی معانی کو کبھی مختلف عنوانات کے ساتھ دوسروں کو سمجھانے میں تمام حیوانات سے خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے انسانی لغات اور ان کے اختلاف کو اپنی قدرت کا طرہ نشانیوں میں شمار فرمایا ہے، وَمِنْ اٰیٰتِ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ السُّنۡتَکَیۡمَ وَالْوٰنٰکِیۡمَ مِنْ فِیۡ ذٰلِکَ لَآیٰتٍ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طرہ بڑی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور اختلاف تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اور اسی میں بڑی نشانیوں میں جاننے والوں کے لئے۔

زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے کہ ایک عربی بولتا ہے، فارسی، ایک ترکی بولتا ہے ایک انگریزی، کوئی ہندی یا تاملی زبان کا عادی ہے کوئی کمال یا لاطینی کا۔ پھر ان میں بھی خطوں کے اختلاف سے ہزاروں لغات اور زبانیں مختلف ہیں کہ ایک آوی جو بڑی زبان کا سہرا ہے ہے مگر جس زبان کو نہیں جانتا اس کو سمجھنے سے بالکل قاصر اور بے علم نظر آتا ہے۔

اور ہر انسان کا لب لہجہ دوسرے مختلف ہونا بھی اس اختلاف لغات میں داخل ہے کہ ایک ہی قسم کی زبان اور حلو اور ہونٹوں سے بولنے والے ہی نوع انسان اپنی اپنی بولی اور لب و لہجہ کے اعتبار سے بالکل متماز ہیں۔ ہر ایک کی آواز الگ پہچانی جاتی ہے۔ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے، ایک ہی طرح کی آب و گل اور غذا پرورش پانے والے انسانوں میں زبانوں اور لب و لہجہ کا یہ اختلاف اور امتیاز بلاشبہ قدرتی صنعت کاری کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ اور اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ فقبارک اللہ احسن الخالقین۔

تایخ لغت

اصل لغت کی ایجاد کب اور کس طرح ہوئی اس کو تو عالم کا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کیوں کہ کلام اور بیان کا سلسلہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرشتوں اور جنات وغیرہ میں جاری تھا۔ لکن اللہ تعالیٰ (بلغر) البتہ انسانی لغت کی تاریخ قرآن کریم نے خوب بیان کر دی ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی چیز جو جنت میں سکھائی گئی وہ علم لغت تھا۔ قال تعالیٰ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور مہر مفسرین نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو عام مخلوقات و موجودات کے نام سکھائے گئے۔ زمین، پہاڑ، دریا، درخت اور مختلف نباتات اور حیوانات اور ان کے استعمال میں آنے والی اشیاء سب کے نام ان کو بتلائے گئے جو فرشتوں کو معلوم نہ تھے اور یہی علم لغت سب سے پہلا امتحانی مضمون بنا شیخ السنہ جلال الدین سیوطیؒ نے مزہر میں فرمایا کہ علم لغت کی فضیلت و اہمیت ثابت کرنے کے لئے اس کی یہی اولیت کافی ہے۔

حضرت قتادہؒ نے فرمایا کہ جن اشیاء کے جو نام حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن بتلا دیئے تھے ان کے وہی نام متعین ہیں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان میں تغیر و تبدل کرے کہ انسان کا نام گھوڑا اور گھوڑے کا نام بیل یا بکری اور درخت کا نام پتھر یا پہاڑ کا نام دریا اور نہر تجویز کرے (انتہی) اور اس قانون قدرت کو حق تعالیٰ نے کچھ ایسا بھری بنا دیا کہ کسی نے کسی زمانہ میں ایسا اول بدل کیا بھی نہیں۔ آئندہ چل کر جو زبانوں کا اختلاف پیدا ہوا جس کا بیان آگے آتا ہے اس میں شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہے کہ ایک زبان میں جو لفظ کسی خاص چیز کا نام ہے وہی بعینہ کسی دوسری چیز کا نام رکھا گیا ہو۔

واضح لغت یعنی اس کا موجد کون ہے؟

اس مسئلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام اشعری اور ان کے متبعین اور ابن فورک، ابن فارس وغیرہ کا قول یہ ہے کہ واضح لغت حق تعالیٰ ہے۔ اسی نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو تمام لغات سکھائے اور پھر اس میں جو اضافے ہوتے رہے وہ بھی بذریعہ وحی و الہام ہوئے آیات قرآن علم آدم الاسماء کلہا اور فی السنکم والوائکم وغیرہ سے ان حضرات کا استدلال رہے۔ ابن جنی نے کہا کہ میں نے عربی لغت میں غور کیا تو اس کے عجائب و غرائب نے مجھے اس اعتقاد پر مجبور کر دیا کہ کسی انسان کی ایجاد نہیں پھر جب روایات حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہ رہا۔ اور ابوالہشام معتزلی اور ان کے متبعین کا خیال یہ ہے کہ واضح لغت خود انسان ہے کسی خاص ملک اور خطہ کے لوگ باہمی میل ملاپ سے ایک زبان بنا لیتے ہیں وہی ان کا لغت ہوتا ہے۔

یعنی حضرات کا خیال یہ ہے کہ تمام لغات کی اصل وہ مختلف آوازیں ہیں جو انسان مختلف جانوروں سے یا نباتات اور جمادات کے باہمی کراؤ سے بنتا ہے انہیں آوازوں کے مناسب الفاظ متعلقہ معانی کے لئے وضع کر لئے گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں جن کو ذاب صدیق حسن خاں صاحب نے "البلغۃ فی اصول اللغۃ" میں جمع کر دیا ہے۔

لیکن مہر علماء محققین اس پر ہیں کہ ان اقوال میں سے کسی ایک پر یقین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جو دلائل ہر قول کی تائید میں پیش کئے جاتے ہیں ان میں کوئی بھی نہیں جس کے مقابل میں کوئی دوسرا احتمال نہ رہے۔ اس لئے صحیح یہ ہے کہ امکان و احتمال دونوں صورتوں کا ہے۔ امام رازی نے محصول میں جمہور کا یہی قول نقل فرمایا ہے۔ اور تاج الدین ارموی نے حاصل میں اور سراج الدین ارموی نے تحصیلات میں اسی کو راجح قرار دیا ہے اور علم لغت اور علم لغات کے محققین اور زبانوں کے ماہرین نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

اور ظاہر اس کا یہ ہے کہ ابتداءً وضع لغت حق تعالیٰ نے فرمائی جب کہ آدم علیہ السلام کو یہ لغات سکھائے۔ اس کے بعد اس میں اضافے اور حرور کی نئی پیشی اور دوسری قسم کے تغیر و تبدل انسان کی طرف سے ہر زمانہ ہر ملک اور ہر خطہ میں انسانوں کے مختلف حالات و استعمالات کے تابع ہوتے رہے جیسا کہ واقعات اور تاریخ شاہد ہے۔

تھی۔ عبرانی وغیرہ زبانوں میں انبیاء علیہم السلام نے ترجمہ کر کے اپنی اپنی قوموں کو پہنچایا۔ اور کعب اجار جو علماء یہودیوں سے تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ ان کا قول تفسیر سحر محیط میں سورۃ انعام کی آیت ۱۵۱ تا ۱۵۲ کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ یہی آیات ہیں جن سے تورات اس طرح شروع ہوتی ہے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّیْ عَلَیْکُمْ اَلۡتَشۡرُکَ اِنَّہٗ شَیۡطٰنُ الۡاٰخِرِ اَلَا یَہٰدِیۡہٗۤ اَسَیۡۤ اَسَیۡۤ“ اس سے بھی بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بعینہ تورات میں مذکور تھے۔

اور شاید یہی وجہ ہے کہ صرف قرآن نے تمام اقوام عالم کے علماء اور بلغاء و فصحاء کو مخاطب کر کے یہ چیلنج دیا ہے کہ جو شخص اس کے کلام الہی ہونے میں شک کرتا ہے وہ اس کی ایک چھوٹی سی سورت کے مقابلے میں کوئی کلام بنا لائے اور سارے عرب کے فصحاء و بلغاء جو اسلام اور قرآن کی مخالفت میں اپنی مال، اولاد، آبرو سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، اس چیلنج کے جواب سے بالکل عاجز اور قاصر رہے۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن کے صرف معانی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ اس کے نظم الفاظ بھی حق تعالیٰ ہی طرف سے ہے جس کا مثل بنانے پر کوئی مخلوق قادر نہیں ہو سکتی ہے اور قرآن کریم کے نسخ و نسخ اور تمام جلسا زیوں سے قیامت تک محفوظ رہنے کا یہی راز ہے، اس کے معانی اور الفاظ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو مخلوق کی ہر دسترس سے بالاتر ہیں۔ پہلی کتابیں تورات و انجیل اور صحف موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام نسخ و تحریف سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے معانی اگرچہ حق تعالیٰ کی طرف سے تھے مگر الفاظ انبیاء علیہم السلام کے تھے۔

ان تمام روایات سے اگر یہ نتیجہ نکالا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس طرح حکومت کی کوئی ایک دفتری زبان اور لغت ہوتی ہے حکومت الہیہ کی دفتری زبان عربی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو وہی سکھائی گئی اور بالآخر جنت میں پہنچ کر تمام انسانوں کی زبان وہی ہو جائے گی۔ بلکہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی برزخ کا پہلا امتحان داخلہ اسی زبان میں ہوگا۔ آسمانی حکومت کے تمام کارکنان فرشتوں کی بھی یہی زبان ہے۔ آسمانی کتابیں بھی اسی زبان میں نازل ہوئیں۔ عربی زبان کی فصیلت و شرافت کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا کوئی شہادت ہو سکتی ہے۔

عربی زبان کی خصوصیات اور فضائل

عربی لغت کی سب سے بڑی فصیلت تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام قرآن اسی زبان میں نازل ہوا۔ امام الانبیاء سید الاولین و الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ اہل جنت کی بلکہ تمام کارپردازان حکومت الہیہ کی زبان عربی اور جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی زبان بھی اصل عربی ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کی وسعت و سہولت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب ہی اس لئے فرمایا ہے کہ وہ کل دنیا کی زبانوں کے مقابلے میں جبریت سے بہتر اور افضل ہے اس کا محقق سائنس دان ڈی۔ اے۔ مینڈل نے اس میں ملاحظہ فرمائیے۔

عربی زبان کی ابتداء

استاد ابو منصور نے فرمایا کہ اس زبان کی اصل ابتداء تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا کر فرمادی تھی اور دوسری زبانیں طوفان نوح کے بعد ان کی اولاد کے دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کے بعد شروع ہوئیں۔ قرآن کریم کا عربی زبان میں ہونا اس کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ عربی زبان سب زبانوں سے مقدم ہے کہ کلام ازلہ اس میں نازل ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے جو یہ منقول ہے کہ عربی زبان سب سے پہلے حضرت اسمعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تاریخ و روایات کی شہادتوں کی بنیاد یہی ہے کہ قریش کی خاص عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا چرچہ اور دنیا میں رواج حضرت اسمعیل علیہ السلام سے شروع ہوا اور نہ اصل عربی زبان تو اول ہی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی جس کو لے کر وہ دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان کی اولاد میں باقی رہی۔

”البلغۃ فی اصول اللغۃ“ میں ذاب تسلیق حسن خاں صاحب نے عبد الملک بن حبیب سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلی زبان جس کو لے کر آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے وہ عربی زبان تھی زمانہ ورازد گزر لے پر اس میں تغیر و تبدل پیدا ہو کر سریانی زبان پیدا ہو گئی۔ اور یہ زبان ارض سوڈان یعنی جوہرہ کی طرف منسوب

ہے جو طوفانِ نوح سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سریانی زبان عربی زبان سے بہت طبعی جلتی زبان تھی اور بوقت طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں جتنے آدمی سوار تھے ان سب کی یہی زبان تھی۔ صرف ایک آدمی جس کو جرہم کہا جاتا تھا اس کی زبان ان سے مختلف یعنی خالص عربی زبان تھی۔

کشتی نوح علیہ السلام سے اترنے کے بعد نوح علیہ السلام کے پوتے ارم نے جرہم کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کی زبان خالص عربی تھی یہاں سے ان کی نسل میں پھر خالص عربی زبان کا رواج ہو گیا۔ ان کی اولاد میں عوص اور جابر پیدا ہوئے۔ عوص کی اولاد میں عاد اور قحیل ہوئے اور جابر کی اولاد میں قبیلہ ثمود اور جدلیس اور بھی قبائل عرب کے قدیم قبائل تھے جن کی زبان عربی تھی (البلغہ)

اس سے معلوم ہوا کہ قبیلہ جرہم جس میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کو پھر بذریعہ الہام عربیہ خالص سکھلا دی۔ اور ان کی نسل میں عربیہ خالص کا رواج ہوا جو قریش کی زبان تھی اور جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔

حضرت جابرؓ کی ایک روایت اس کی شاہد ہے۔ انھوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قُرْآنًا عَرَبِيًّا کی تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ عربیہ خالصہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت اسمعیل علیہ السلام کو سکھلا دی تھی، اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، نیز یہ بیہقی نے شعب الایمان میں بھی یہ روایت نقل کی ہے۔

ابن وحیہ کہتے ہیں کہ قبائل عرب مختلف اقسام میں: ایک عرب عاربہ دوسرے عرب متعربہ تیسرے مستعربہ۔ عرب عاربہ خالص عرب میں جس کے قبائل بن یزید بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وہ قبائل یہ ہیں: عاد، ثمود، اُمیم، عقیل، طسّم، جدلیس، عقیل، جرہم، وبار اور عرب متعربہ اور عرب مستعربہ وہ لوگ ہیں جو خالص عرب نہیں۔ دوسری قوموں کے امتزاج سے پیدا ہوئے۔ عرب متعربہ قحطان کی اولاد میں جن کی اصل زبان سریانی تھی ایبیری بن ان کا وطن ہو گیا تھا۔ وہاں بنوا اسمعیل سے انھوں نے عربی زبان سیکھی اور وہی رواج پا گیا۔

اور عرب مستعربہ، عرب مجاز ہیں جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جن کو نبی محمد بن عدنان بن اؤد کہا جاتا ہے چونکہ حضرت اسمعیل علیہ السلام اصل عربی نہ تھے اور نہ ان کی آبائی زبان عربی تھی اس لئے ان کی اولاد کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔

ابن لسان نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ آدمی جس نے اپنی آبائی زبان کو بھلا کر عربی زبان بولی وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں۔ ابن درید نے جہرۃ اللغات میں بھی یہی تفصیل اقسام عرب کی نقل فرمائی ہے اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام عرب حضرت اسمعیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ مگر صحیح اور مشہور یہ ہے کہ عرب عاربہ حضرت اسمعیل علیہ السلام سے پہلے ہیں جن کے قبائل عاد، ثمود، جدلیس، اُمیم، جرہم، عقیل وغیرہ ہیں جو حضرت خلیلؑ اللہ حضرت اسمعیل علیہ السلام سے پہلے تھے اور ان کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ البتہ عرب مجاز جن کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، یہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔

اسی طرح عرب یمن اور حمیر بھی اولاد اسمعیل علیہ السلام سے نہیں بلکہ مشہور یہ ہے کہ وہ قحطان کی نسل سے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شیرازی نے القاب میں نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ سب سے پہلے عربیہ خالصہ پر حضرت اسمعیل علیہ السلام کی زبان کھلی، جب کہ ان کی عمر چودہ سال کی تھی۔

ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور ابو احمد طریف نے اپنے جزی میں روایت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ ہم سے زیادہ فصیح ہیں۔ حالانکہ آپ کی بود و باش ہمیشہ ہمارے ہی اندر رہی۔ کہیں باہر جا کر کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اصل زبان مندا اس ہو گئی تھی۔ جب عربی علیہ السلام نے آکر وہ اصل زبان مجھے یاد کرادی ہے۔ میں نے یاد کر لیا (البلغہ)

اور یطی نے مستدرک الفرووس میں بروایت ابورافع نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جس طرح حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسما کی تعلیم دی تھی مجھے بھی تمام اسما کی تعلیم دی ہے“

عربی زبان کی وسعت

حضرت امام شافعیؒ جو قرآن و سنت کے بے مثل عالم و فقیہ اور تقریباً آدھی دنیا کے امام و مقبول ہونے کے ساتھ ادب اور لغت کے ماہر امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان تمام زبانوں میں وسیع تر زبان ہے۔ اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس زبان کے پورے لغات کا احاطہ سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔

ابن درید نے جہرہ میں اور خلیل نے کتاب العین میں جو کچھ اپنی معلومات اور یادداشت سے لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عربی زبان کے کلمات پانچ کروڑ چھ لاکھ اسی ہزار چار سو ہیں۔ جن میں پانچ کروڑ چھ لاکھ بیس ہزار مستعمل اور باقی مہمل و متروک ہیں۔

پھر ان میں دو حرفی کلمات کی تعداد سات سو پچاس اور تین حرفی کلمات کی انیس ہزار چھ سو پچاس ہے اور چار حرفی کلمات تین لاکھ تین ہزار چار سو ہیں اور پانچ حرفی کلمات چھ کروڑ تین لاکھ پچتر ہزار چھ سو ہیں یہ سب تفصیل علامہ زبیدی نے مختصر کتاب الخلیل میں اور شیخ ابوالعین یونس نے مزہر میں مزید تشریحات کے ساتھ نقل کی ہیں۔

عربی لغت کی بے مثال وسعت کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک چیز کے بہت سے نام اور بہت سی لغات پائی جاتی ہیں۔ ایک ہی مفہوم کو سینکڑوں معنوں اور الفاظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ علماء لغت نے ایسے لغات کو مستقل کتابوں میں بھی جمع کر دیا ہے۔ تیر، تلوار، نیزہ، شیر، اونٹ، بکری، سانپ، صبح و شام، آفات و مصائب، جن کا ذکر عام طور پر کلام میں بار بار آتا ہے ان کے لئے ایک ایک لفظ کے اتنے لغت میں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔

ابن خالویہ کہتے ہیں کہ میں نے عربی لغت سے شہر کے پانسو نام جمع کئے ہیں اور سانپ کے دو سو اور جمرہ اصبہانی نے مصائب و آفات کے چار سو نام لغت عرب سے جمع کر کے فرمایا ان تک شراسبہاء الیہ و اعجیہ الیہ و اھی یعنی مصائب کے نام بہت ہونا بھی مصائب ہی ہیں۔

عربی زبان میں اول تو لغات کی اتنی بڑی کثرت تھی کہ نمونہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ پھر اعراب اور اشتقاق کے بدلنے سے ایک ایک لفظ میں دس دس معنی پیدا ہوجاتے ہیں اس کے علاوہ مجازات، استعارات، تشبیل و تشبیہ اور کنایات کے ان خاص طریقوں نے جن کو عرب نے اختیار کیا ہے اس زبان کو ادب بھی زیادہ وسیع اور مہمل اور شیریں بنا دیا ہے۔

کلام میں لہجہ و اطناب یعنی طول و اختصار بھی عرب کے کلام میں ایک حیرت انگیز صنعت ہے کہ اگر اختصار کرنا چاہیں تو بڑے سے بڑے کلام کو صرف ایک یا دو حروف سے ادا کر دیں اور طول دینا چاہیں تو چھوٹی سے چھوٹی بات کو ایک خطبہ اور مقالہ بنا دیں۔

الفاظ و کلمات کے بجائے ضمیروں سے کام لینا بھی عربی کی خصوصیات میں سے ہے جس میں اختصار کے علاوہ اور بہت سے فوائد ہیں ایسی قسم کی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کریم نے عربی زبان کی صفت میں بلسان عربی صبیح فرما کر صفت بیان میں اس زبان کا دوسری زبانوں سے بہتر اور افضل ہونا متعین فرمایا ہے۔

اور اگر غور کیا جائے تو بیان ہوا وہ صفت ہے جس پر کسی زبان کی خوبی و خرابی کو پرکھا جاسکتا ہے کیونکہ لغت و زبان کا مقصد ہی اپنے دل کی بات کا اظہار و بیان ہے تو جو لغت اس اظہار و بیان کے اعتبار سے اکل ہو گا وہی سب لغات میں بہتر و افضل قرار پائے گا۔ عربی زبان کی انہیں بے مثال خصوصیات کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ قرآن کا لہجہ جو قرآن کے پورے پورے مفہوم کو ادا کر دے کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں۔ جیسے تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کے ترجمے سریانی اور عبرانی زبانوں سے دوسری زبانوں میں کئے گئے ہیں اور ان کو ان زبانوں کی تورات و انجیل سمجھا گیا ہے۔ قرآن میں اس کا امکان نہیں۔ قرآن کریم کے جتنے ترجمے فارسی، اردو، انگریزی وغیرہ میں کئے گئے وہ محض اہل علم کی ضرورت کے پیش نظر قرآنی مضامین سے ادنیٰ ہی مناسبت پیدا کرنے کے لئے ہیں۔ قرآن کے پورے مضامین سے آگاہی اور اس کے حقائق و معارف کا علم ان ترجموں سے قطعاً ناممکن ہے۔

اسی وجہ سے علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ قرآن سے علمدہ شائع نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ اس کو اردو یا انگریزی کا قرآن کہیں گے۔ حالانکہ اس کو قرآن کہنا کسی حیثیت سے صحیح نہیں۔ اول تو اس لئے کہ الفاظ قرآن حقیقت قرآن کے جزء ہیں۔ قرآن نام ہے الفاظ اور معانی کے مجموعے کا۔ دوسرے اس لئے معانی قرآن بھی کسی دوسری زبان میں پورے پورے منتقل نہیں کئے جاسکتے۔ اس لئے معنی کی حیثیت سے بھی قرآن کے اردو یا فارسی یا انگریزی ترجمہ کو قرآن کہنا صحیح نہیں۔ اسی لئے سلف صالحین نے جب بضرورت عوام قرآن کے ترجمے مقامی زبانوں میں لکھے تو اس کا التزام کیا کہ ترجمہ قرآن سے علمدہ نہ ہو۔

عربی زبان کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی خاص اہمیت رکھتی ہے کہ تکلم اور تلفظ کی آسانی کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے اس کو چند مثالوں سے سمجھئے: جس کلمہ میں دو حرفوں کے اجتماع سے تکلم میں صعوبت یا سختی پیدا ہو سکتی ہے وہاں عرب نے اس کا التزام کیا ہے کہ کسی ایک حرف کو اس کے مناسب حرف سے بدل دیا۔ کہیں حرف ساکن پر کوئی مناسب حرکت دے دی۔ کہیں کسی حرف کو حذف کر دیا۔ مثلاً لفظ قَوْل کی ماضی قول ہوتی ہے سہولت کے لئے واؤ کو الف سے بدل کر قال کر دیا۔ اس کا مضارع یَقُولُ ہوتا ہے جو زبان پر ثقیل ہے۔ یہاں واؤ کی حرکت قاف پر ڈال کر یَقُولُ کر دیا۔ سَوَعْدَا کا اسم ظرف مَوَعَاد ہوتا ہے واؤ کو یاء سے بدل کر مَوَعَاد کر دیا۔

عام عجمی زبانوں میں دو دو تین تین بلکہ اس سے بھی زیادہ ساکن حرف جمع ہوتے ہیں جس کا ادا کرنا زبان پر نہایت مشکل گزرتا ہے اور اسی لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آخری حرف زبان سے ادا بھی نہیں ہوتے۔ عربی زبان میں اس کی خاص رعایت رکھی گئی ہے کہ جہاں دو حرف ساکن کے اجتماع سے ثقل پیدا ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ قلب و ابدال کا عمل کر کے آسان کر دیا گیا ہے۔

عربی زبان کی تدوین و تصنیف

یہ بات بھی شاید عربی زبان ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے حرف اور کلمہ کو بحث و تنقید کی اتنی پھلنیوں میں چھاتا گیا ہے کہ اس کی نظیر دوسری زبانوں میں ملنا مشکل ہے۔ لغت کی کتابیں شمار کی جائیں تو ہزاروں کی تعداد ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تیس تیس جلدوں کی کتابیں مختلف ترتیب اور مختلف انداز سے لکھی گئی۔ خاص خاص الفاظ پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔

اس فن کی سب سے پہلی تصنیف خلیل بن احمد نخعی کی ہے جو کتاب العین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ابن درید نے جہرۃ اللغۃ تصنیف کی اصبغی نے لغت کی ایک خاص قسم اجناس پر کتاب لکھی۔ ابو زید انصاری نے نوادر پر اور ابو عبیدہ نے کتاب النوادر واللغات تصنیف کی۔ ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے غریب اللغۃ پر کتاب تصنیف فرمائی۔ ابو علی فارسی نے تذکرہ اور ازہری نے تہذیب ابن فارس نے معجم فارابی نے دیوان الادب صاحب ابن عباد نے محیط، قرآن نے جامع پھر مختلف طبقات اور مختلف اوقات میں اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ صاحب ابن عباد کا یہ واقعہ منقول ہے کہ ان کو کسی بادشاہ نے اپنے یہاں طلب کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں سے کہیں منتقل ہوں تو مجھے ساٹھ اونٹ فی لغت کی کتابیں منتقل کرنے کے لئے چاہئیں۔ یہ شخص جانتا ہے کہ اونٹ کتنا عظیم الشان وزن اٹھاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ایک صاحب ابن عباد کے پاس کتنی کتابیں لغت کی موجود ہوں گی۔

مگر فتنہ تاتاریں جب بغداد کے اسلامی کتب خانے و ریائے و جلیں ڈال کر اور کہیں جلا کر تباہ کئے گئے۔ ان میں سے اکثر کتابیں ضائع ہو گئیں۔ اس مقدمہ کے آخر میں کتب لغات کی ایک مختصر فہرست بطور نمونہ کے شامل کر دی گئی ہے وہ دیکھ لی جائے۔ متاخرین جن کی کتابیں لغت عرب میں متداول اور مشہور ہوئیں وہ ازہری کی صحاح اور ابن سیدہ اندلسی کی کتاب المحکم والھیط اور شیخ محمد الدین فیروز آبادی کی قاموس ہے اور اس آخری دور میں عام طور سے قاموس کو زیادہ شہرت و قبول حاصل ہوا۔ بہت سے علماء نے اسے درسا پڑھا اور پڑھایا ہے۔ سید مرتضیٰ زبیدی ہندی نے اس پر ایک نہایت عمدہ مبسوط شرح تاج العروس دس ضخیم جلدوں میں لکھی۔

عرب کے فصحاء وبلغاء

فصاحت و بلاغت اور شعرو سخن تمام دنیا کی زبانوں میں ایک فن کی حیثیت رکھتا ہے جو سیکھنے سکھانے سے کافی محنت اور مشق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ لیکن عرب کے لئے یہ ایک فطری ذوق کی حیثیت رکھتا ہے جیسے بلخ کے بچے تیرنا سکھائے بغیر پڑھتے ہیں۔ عرب کے بچے بڑے مرد و عورت، سب شعرو سخن کی عمدہ قابلیت کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر بھی درجات اور مراتب کا عظیم تفاوت ہوتا ہے۔ جاہلیت کے عرب شعراء اور فصحاء میں امر القیس کو ملک الشعراء کہا جاتا ہے اور بھی بہت سے نام معروف و مشہور ہیں۔ یہاں ان کی تاریخ لکھنا نہیں۔ اسلامی دور میں اس پر اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں سب اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام رسالت تبلیغ پر فائز فرمایا اور آپ کے مخاطب اول عرب کے فصحاء و بلغاء تھے تو ضروری تھا کہ آپ کو فصاحت و بلاغت کا وہ معیار عطا فرمایا جائے جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا افضل العرب یعنی میں تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔

صحیح مسلم کی روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان اپنی چند خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے کہ مختصر لفظوں میں بڑے بڑے مضامین کے دریا بھر دیتے تھے۔

اسمعیل بن ابی عبید کہتے ہیں کہ عرب کی تاریخ اور ان کے کلام و اشعار، لغات کے ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ قریش تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں۔ ان کا لغت سارے لغات عرب پر فائق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عرب میں انتخاب فرمایا ہے۔ پھر ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ قریش کو اپنے حرم محترم کا خادم اور نگہبان بنا کر تمام عرب کو ان کا خادم اور شاگرد بنا دیا۔ تمام عرب کے قافلے حج کے لئے مکہ آتے تو اپنے اپنے اختلافات کا فیصلہ بھی قریش سرداروں کے سامنے پیش کرتے اور ان کے حکم پر سب راضی ہو جاتے تھے۔

قریش کے سوا دوسرے قبائل کی زبانوں میں خاص خاص قسم کی کمزوریاں مشہور تھیں جن پر مقابلہ کے وقت ایک دوسرے کو عار دلائی جاتی تھی لیکن قریش کی زبان ان سب کمزوریوں سے پاک تھی۔ اسی لئے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے کے وقت حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ قرآن کے لکھنے کا کام صرف قریش اور بنو ثقیف کے نوجوان انجام دیں پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب ممالک اسلامیہ کے لئے قرآن مجید کے متعدد نسخے لکھوائے تو حکم دیا کہ ان کے لئے مکہ والا آدمی قبیلہ ہزلی کا اور کھنہ والا بنو ثقیف کا ہونا چاہیے کیوں کہ ہزلی کا لفظ اور ثقیف کا خط سب سے زیادہ قابل اعتماد تھا۔

ابو نصر فارابی کہتے ہیں کہ قریش اس خاص صلاحیت میں سب سے ممتاز تھے کہ تمام قبائل عرب کے لغات میں جو سب سے زیادہ فصیح اور سہل سنتے ہیں بہتر بیان معنی میں واضح لفظ ہوتا اس کا انتخاب کر لیتے تھے اور وہی ان کی زبان کا لغت سمجھا جاتا تھا اور وہ لوگ جن سے عربی لغت لیا گیا اور ان کے کلام کو عربی زبان کے لئے صحیح و غلط کا معیار سمجھا گیا وہ بنو ہزلی اور بنو ثقیف ہیں۔ قیس، تمیم، اسد، ہزلی اور بعض کناہ اور بعض قبیلہ طے کے ان کے سوا دوسرے قبائل جو ہمدانی علاقوں پر رہتے تھے اور ان کی زبانیں دوسری زبانوں سے متاثر تھیں جیسے بصرہ کے رہنے والوں کی زبان فارسی زبان سے متاثر تھی اور یمن و عدن کے باشندے کہ ان کی زبان حبشی زبان کے کچھ اثرات لئے ہوئے تھی۔ ان کی لغات سے لغت عرب میں کوئی چیز نہیں لی گئی یہی وجہ ہے کہ قبائل لغت و جہاز کی لغت اس لئے نہیں لی گئی کہ وہ مہر اور قبط سے ملنے جلتے تھے اسی طرح قضاہ اور غسان کی زبان پر اس لئے اعتماد نہیں کیا گیا کہ وہ اہل شام سے ملے ہوئے تھے اور ان میں اکثر انصاری تھے جو عربی زبان کھتے پڑھتے تھے۔ اور تغلب اور یمن والوں کی زبان اس لئے متروک قرار دی گئی کہ وہ جوہرہ میں یمن کے پڑوسی تھے اور بنی بکر کی لغت فارسی اور ہندی کے قریب ہونے کے سبب اور اہل یمن کی زبان ہندوستان اور حبشہ کے اتصال کے سبب قابل اعتماد نہیں مانی گئی۔

اسی طرح شہر کے باشندوں کی زبان اور لغت کا بھی اس لئے اعتماد نہیں کیا گیا کہ شہروں میں اطراف و اکناف سے مختلف زبانوں کے لوگوں کی آمد و رفت کے باعث شہریوں کی زبان کھڑی ہو جاتی ہے خالص نہیں رہتی۔ عرب کے تمام شہروں میں سے صرف بصرہ اور کوفہ ایسے دو شہر ہیں جن میں زبان کی بڑی خدمت کی گئی اور دوسری زبانوں کے اختلاط سے بچایا گیا۔ اسی لئے ان دونوں شہروں کے لغت کا اعتبار کیا گیا اور دونوں میں عربی لغت کے بڑے بڑے

ماہرین پیدا ہوئے (السیلغہ مختصراً) عربی زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ

مذکورہ صدر بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عربی لغت کے ماہرین نے اس زبان کی لغت جمع کرنے میں اس کی بڑی احتیاط کی ہے کہ دوسری زبانوں سے اس کا اختلاط نہ ہو جائے۔ اسی لئے علماء لغت میں سے ایک جماعت اس کی قائل ہو گئی کہ عربی زبان میں کسی دوسری زبان کا کوئی لفظ نہیں لیا گیا اور جو مثالیں ایسی ہیں کہ ان میں بظاہر دوسری زبانوں کے الفاظ عربی ہیں لئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ان کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ محض تو لہو و لور توافق ہے کہ ایک معنی کے لئے ایک لفظ عربی زبان میں لیا گیا ہے وہ ہی لفظ کسی دوسری زبان میں آ گیا۔

لیکن اکثر علماء اہل تحقیق اس پر ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کچھ الفاظ عربی زبان میں ضرور دوسری زبانوں سے لئے گئے ہیں جن کو معرب اور دخیل کہتے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ کسی کلمہ کے غیر منصرف ہونے کے لئے علماء عربیت نے ایک علتِ مجزہ کو قرار دیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ لفظ کسی بھی زبان سے منتقل کر کے عربی میں لیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی ایسے غیر منصرف الفاظ بکثرت موجود ہیں خصوصاً: شیباء اور افزلو کے نام جیسے ابراہیم اسمعیل وغیرہ۔

اور ابو عبیدہ نے اس معاملہ میں ایک معتدل فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ بات تو ناقابلِ انکار ہے کہ بہت سے الفاظ عربی لغت میں رومی، فارسی، عبرانی، وغیرہ زبانوں کے لئے گئے ہیں، لیکن یہ الفاظ عربی زبان میں ایسے معروف و مشہور ہو گئے کہ خود عربی زبان کے الفاظ کچھ جانے لگے۔ اس لئے کسی کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ عربی زبان میں کوئی غیر عربی لفظ نہیں لیا گیا کہوں کہ جو لئے گئے وہ خود عربی بن گئے یا بنا لئے گئے اور دوسروں کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ غیر زبانوں کے الفاظ عربی زبان میں آئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اصل میں وہ الفاظ غیر عربی تھے اگرچہ بعد میں وہ بھی عربی بن گئے اور جب وہ الفاظ عربی زبان کی حیثیت میں آ گئے تو قرآن بھی انہیں الفاظ میں نازل ہوا خلیل بن احمد کی کتاب العین اور ابن درید کی جہرہ میں ایسے الفاظ کو معرب یا دخیل کہا گیا ہے مثلاً: ط، الیم، طور، ربانیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں اچھراط، قسطاس، فردوس رومی زبان کے اور مشکوٰۃ، کفلین حبشی زبان کے اور بیت لک جو رانی زبان کے الفاظ ہیں اور ابراہیم، اسمعیل، یعقوب وغیرہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں اور طوبیٰ بنی زبان کا لفظ ہے اور یہی تحقیق معتدل اور اسی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عربی لغت میں دوسری زبانوں کے الفاظ اس طرح تو شامل نہیں ہوئے جیسے دوسری زبانوں میں مختلف زبانوں کے الفاظ عاودہ شامل ہوا کرتے ہیں لیکن اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ گئے چنے چند الفاظ ایسے ضرور ہیں جو دوسری زبانوں سے لئے گئے ہیں ان میں صرف وہی الفاظ عربی لغت کے جو دیکھے گئے ہیں جو قدیم عربی زبان میں نزولِ قرآن کے وقت معروف ہو چکے تھے۔ بعد میں مختلف زبانوں کے اختلاط سے جو الفاظ عربوں میں رواج پائے ان کو ماہرین لغت نے عربی لغت کا جزو بنانا با اتفاق جائز نہیں سمجھا۔ ایسے الفاظ ان حضرات کی اصطلاح میں معنوع یا مؤد کھاتے ہیں جو اہل لغت کے نزدیک عربی لغت کا جزو نہیں سمجھے جاتے جن کا بیان منقریب آئے گا۔

عربی لغات و معاجم کی مختصر فہرست بترتیب حروف تہجی

نام کتاب	مؤلف مصنف	تاریخ تصانیف	نام کتاب	نام مصنف	تاریخ تصانیف
ابدال فی اللغہ	ابی طیب عبد الواحد بن علی اللغوی	۳۵۱ھ	ارشاد فی اللغۃ	محمد بن عبید بن قریب	۳۵۱ھ
ابنیۃ الاسماء والافعال	شیخ ابی القاسم علی بن جعفر القطاع السوری	۳۵۳ھ	ارین فی تفسیر العشرین	امام ابی العزیز عبد الرحمن بن علی الجوزی	۳۵۳ھ
تحف الادیب فی القرآن کی تہذیب	شیخ ابی حیان محمد بن یوسف اندلسی	۳۵۶ھ	الازہر الواضح	مصطفیٰ بن عثمان الرومی	۳۵۶ھ
الاتساق فی تہذیب الاشتقاق	شیخ تقی الدین علی بن عبد اللطیف البسکی	۳۵۶ھ	اشدراک الغلط	ابی بکر الرزید	۳۵۶ھ
اختری	مصطفیٰ بن شمس الدین قرظہ الحصاری		اسماء الاسد	ابن خالویہ وابوسهل وغیرہ	۳۵۶ھ
	الشہیر باختری				

نام کتاب	نام مصنف	تاریخ و قلم	نام کتاب	نام مصنف	تاریخ و قلم
اسماء الخمر والعصير	محمد بن الحسن بن رمضان الخوي		ترجمان المرحوم بمبنتی الارب	فاضل شهاب الدين احمد بن محمد بن عرب شاه	۸۵۴ھ
اسماء الخيل	ابن عبيد معمر بن المثنى البصرى	۲۰۰ھ	تقريب المرام في غريب القام	شيخ امام محب الدين احمد بن عبد الله الطبري	۹۰۳ھ
اسماء الذئب	رضي الدين حسن بن عد الصنعاني	۵۰ھ	بن سلام		
اسماء السيف	شيخ ابى سهل محمد بن علي الهروي	۴۳۳ھ	تلخيص في اللغة	ابو بلال حسن بن عبد الله العسكري	۳۹۵ھ
اسماء النكاح	محمد الدين ابى طاهر محمد بن يعقوب		تليقح العين في اللغة	ابو غالب تمام بن غالب بن عمر القرطبي اللغوي	۴۲۶ھ
	فيروز آبادي	۹۱۷ھ	تنبية البارعين على المنوت	ظهير الدين علي حسن بن حطير النعماني	۵۱۸ھ
اسماء في الاسماء	سعید بن احمد بن محمد الميراني	۵۲۹ھ	من كلام العرب		
اشارة في غريب القرآن	ابو بكر محمد بن الحسن	۳۵۱ھ	تنبية البصائر في اسما	ابو الخطاب العلامة عمر بن حسين بن علي بن دجيرة	
اصول اللغة	شيخ عبد الواحد بن علي بن برهان اللغوي	۶۳۳ھ	ام الكبار	الكوني	۶۳۳ھ
اعانة الانسان على	قاضي عز الدين محمد بن ابى بكر	۶۳۳ھ	الانصاح عما وقع في	عبد الله بن برى العباسي	۵۸۲ھ
احكام اللسان		۸۱۹ھ	كتاب الصحاح		
الانصاح في اسماء النكاح	جلال الدين سيوطي		تهذيب الاسماء واللغات	امام محي الدين يحيى بن اشرف النورى	۶۷۸ھ
امثلة مغرب اللغة	علي بن حسن النهدي المتروك بركات التل		تهذيب التهذيب	ابو القلاء محمود بن ابى بكر بن حامد التنوخي	۷۲۳ھ
انموذج في اللغة	ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني	۴۵۶ھ	تهذيب اللغة	ابو منصور محمد بن احمد بن طلحة بن مزج الازهرى	۳۷۰ھ
انوار الغيب في اسماء اللغات	محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي	۸۱۷ھ	جامع اللغة	سيد محمد السيد بن السيد علي صاحب الراموز	
البارع في اللغة	شيخ ابوطالب معتقل بن سلمة بن عامر اللغوي	۸۱۷ھ	الجمع بين صحاح الجوهري	ابو اسحق ابراهيم بن قاسم البطليني	۶۲۶ھ
البرهان الطالع في لغات	محمد حسين التبريزي الحيدر آبادي		غريب المصنف في اللغة		
الفرس			الجمع بين العباب	ساج الدين ابو محمد احمد بن عبد القادر المعروف	
البنية في اللغة	ابو جعفر احمد بن يوسف القهري السلي		الحكم واللغة	باين كشرم	۷۹۹ھ
البلغة في ترجم النور	ابوطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي	۷۱۷ھ	الجمهرة في اللغة	ابو بكر محمد بن الحسن بن وديد اللغوي البصرى	۳۲۱ھ
البلغة في اللغة	ابو يوسف يعقوب بن احمد الاديب النيسابوري	۷۶۲ھ	الجمهرة مختصرا بالعين	صاحب بن عباد	۳۸۵ھ
تاج العروس من	سيد ابو الفتح محمد بن قاضي الحسيني الواسطي		جواهر اللغة	ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري	۵۱۷ھ
جواهر العاوس	المصري هندي	۱۲۰۵ھ	مدائق الاداب في اللغة	عبيد الله بن محمد المعروف بابن شاه مردان	
تلح المصانف في اللغة	ابو جعفر احمد بن علي المعروف بجعفر المقرئ البيهقي	۵۳۲ھ	حسن السير فيماني القرن	جلال الدين سيوطي ر	
تاج اللغات	محمد اسمعيل الكندي		من اسماء الطير		
تحفة الارب فيماني القرآن	شيخ ابراهيم محمد بن يوسف الاندلسي		خلق الانسان	ابن قتيبة عبد الله بن مسلم التيمي	۲۷۶ھ
من الغريب	التيمي	۶۳۵ھ	خلق الانسان	ابو الحسين احمد بن فارس اللغوي	۲۹۵ھ
التحفة السنية الى العروة	محمد بن مصطفى بن لطف اشدر الاشيشي		خلق الانسان	ابو سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعي	
الحسينية في لغات العرب			الدرة المصيبة في	زين الدين عبد الرحمن بن ابى بكر العيني	۸۹۳ھ
بالتركيب			اللغة التركيبية		

تاریخ و کتاب	نام مصنف	نام کتاب	تاریخ و کتاب	نام مصنف	نام کتاب
۲۹۵ھ	ابن فارس ابو الحسین احمد القروی	نقحۃ اللغة	۳۹۹ھ	بدیع الزمان حسین بن ابراہیم	دستور اللغة
	شیخ عبد القادر دین احمد البینی	فک القاموس	۳۵۰ھ	اسحق بن ابراہیم الغارانی	دیوان الادب
	شیخ حبیب اللہ قنوجی	قابوس فی ترجمۃ القاموس	۳۲۵ھ	شیخ عبد اللہ بن عبد الرحمن الدمشقی	رسالۃ العتقاد المغرب الواقع فی القاموس
۳۸۵ھ	میرزا اسد اللہ غالب دہلوی	قانع بران		شیخ محمد الیاسی بوطاہر محمد بن یعقوب	الروض المستوفی الاسمان الی الالوف
	امام محمد الدین محمد بن یعقوب	القاموس المحيط والقبولوس الوسیط	۸۱۴ھ	الفیروز آبادی	
۸۱۴ھ	الفیروز آبادی	الجامع لما ذہب من کلام العرب طایط	۶۲۴ھ	علاء الدین علی بن المراد الکاظمی	زبدۃ اللغة (فارسی)
۲۹۲ھ	سلمان عبد اللہ المحض وانی	قانون فی اللغة	۹۱۱ھ	جلال الدین سیوطی رح	سدرۃ العرف
۳۲۲ھ	حسن بن احمد اللغوی الہمدانی	القصیدۃ الدامغنیۃ فی اللغة		ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن سنان الخفاجی	سر الفصاحتہ فی اللغة
	شیخ سعد اللہ مفتی رام پور	القول المانوس فی صفا القاموس		حسین بن المہذب المصری	سبب فی حصر لغات العرب
	محمد بن ولی بن رضی الدین	کاتبیۃ	۶۵۰ھ	امام رضی الدین حسن بن محمد الصنعائی	شوارذ فی اللغة
۲۸۵ھ	ابوالعباس محمد بن یزید المعروف بالبرہم لئوی	کامل فی اللغة	۱۲۲۰ھ	مسٹر جوزف برٹیو جو نیر نصرانی	شمس اللغات
۳۶۸ھ	روایۃ ابی سعید الحسن بن عبد اللہ السیرانی	کتاب سماجیال تہامہ و مکاتہا		ابن فارس ابو الحسین احمد بن فارس الرازی	الصاحی فی اللغة
۳۸۵ھ	ابوالقاسم صاحب اسمعیل بن عبد الوہاب	کتاب سماء اللہ تعالیٰ وصفاتہ	۳۹۵ھ	اللغوی	
۵۲۸ھ	ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری	کتاب لاکتہ و الجبال والمیاء	۳۹۳ھ	امام ابو نصر اسمعیل بن حامد الجوهری القاری	صباح فی اللغة
	شیخ جمال الدین ابو الفضل محمد بن مکرم	لسان العرب فی اللغة		ابو فضل محمد بن عمر بن خالد القرظی	صراح اللغة
۵۱۴ھ	الانصاری الخوزجی			مصطفیٰ خاں بن رشون خاں کھنوی	صفوۃ المصادر
	شیخ جلال الدین سیوطی رح	لمعۃ الاشراف فی الاشتقاق		جلال الدین سیوطی رح	ضوء الصباح فی لغات التکاح
۳۷۱ھ	ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الخلیل الاسکانی	مبادی اللغة	۳۷۹ھ	ابو بکر محمد بن حسن الزبیدی الاشجلی	طبقات اللغویین والتحاۃ
۹۶۲ھ	جمال الدین محمد بن عبد اللہ بن مالک النخعی	مشکت	۳۸۲ھ	احمد بن ابان الاندلسی اللغوی	العالم واللغة
۹۹۶ھ	شیخ محمد طاهر الصدیقی البغدی	مجمع البحار	۶۵۰ھ	امام حسن بن محمد بن حسن بن حمید العمری	الغباء الذخیر واللبا الفاخر
۹۵۵ھ	امام حسن بن محمد الصنعائی	مجمع البحرین		شمس الدین بن محمد السیداسی	عمدۃ فی لغة الفرس
۲۹۵ھ	ابو الحسین احمد بن فارس القرونی	مجل اللغة	۵۳۹ھ	سید بن احمد المیدانی النیسابوری	غرائب اللغة
	ابو الحسین علی بن اسمعیل الایلی المعروف	الحکم والمحیط الاکمل		شیخ امام محمد الدین بوطاہر محمد بن یعقوب	الغرر المشتملۃ والدرر المشتملۃ
۵۵۵ھ	بابن سیرۃ		۳۱۴ھ	الفیروز آبادی	
۹۱۱ھ	جلال الدین محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر البیہقی	المرزہ فی اللغة	۵۲۹ھ	ابن احمد المیدانی سعید	غریب اللغة
۹۱۱ھ	یحییٰ بن ابی بکر اللخوی	مصادر	۹۹۸ھ	مصطفیٰ بن محمد المعروف بخجرو زاوہ	غلطات العوام
	احمد بن ابان بن سید اللغوی	المعلم		شیخ محمد غیاث الدین بن جلال الدین	غیاث اللغات
۶۱۰ھ	امام ابو الفتح ناصر بن عبد اللہ اللطوی	مغرب		بن شرف الدین رامپوری	
۵۲۹ھ	علامہ جبار اللہ ابو القاسم محمود بن عمر اللخوی	مقدمۃ الادب		علامہ جبار اللہ ابو القاسم محمود بن عمر	الفاقی فی غریب الحدیث
	شیخ فاضل عبد الرحیم بن عبد الکریم	منتہی الارب	۵۳۸ھ	الزمخشری	

تاریخ و قات	نام مصنف	نام کتاب	تاریخ و قات	نام مصنف	نام کتاب
۶۰۶ھ	المعروف بابن الاثیر الجوزی محمد قاسم بن حاج محمد کاشانی ابوسعید محمد بن ابی سعید محمد بن ابراہیم حسان بن نصوح	وجیز ہدایۃ فی اللغۃ ہدیۃ فی اللغۃ	۹۱۱ھ	جلال الدین سیوطی رح علی بن محمد القاری الہروی المکی ابونصر مسعود بن ابی بکر حسین بن جعفر اللادیب عیسیٰ بن ابراہیم الرعبی جلال الدین سیوطی	مذہب فیما وقع فی القرآن من العرب الناموس نصاب الصبیان نظام الغریب نظام اللسد فی السواد نہایت فی غریب الحدیث
۵۴۲ھ	ابوجعفر احمد بن علی المعروف بجعفرک	ینالیح اللغۃ			
۳۲۵ھ	ابوعمر محمد بن عبدالواحد الزاہر المطرز	یواقیت		شیخ امام ابوالسعادات مبارک بن ابی اکرم محمد	

عربی زبان کی بے نظیر حفاظت

ادبی

اس کے لئے محدثانہ اصول کا استعمال

دنیا کی عام زبانیں زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک صدی کے بعد اس پہلی صدی کی زبان متروک ہو جاتی ہے۔ روزمرہ کے لغات اور ان کے تلفظ میں فرق ہوتا جاتا ہے۔ کچھ دوسری زبانوں کے اختلاط سے اچھی یا بُری تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس زمانہ کی وہی زبان فصیح سمجھی جاتی ہے جو اس وقت بولی جا رہی ہے۔ فارسی قدیم کا موازنہ فارسی جدید سے کیجئے۔ یا اردو قدیم کا اردو جدید سے تو ایسا نظر آئے گا کہ یہ زبان ہی دوسری ہے۔ اسی طرح عام بول چال کی عربی جو آج کل مجاز اور دوسرے عرب ممالک میں بولی جاتی ہے وہ قدیم قرآنی عربی سے اتنی مختلف ہے کہ ان دونوں کو ایک زبان کہنا مشکل نظر آتا ہے۔ اگر عربی زبان سے مسلمانوں کا تعلق صرف اتنا ہی ہوتا کہ وہ ایک مسلم برادری کی زبان ہے تو آج دوسری قدیم زبانوں کی طرح قدیم عربی بھی متروک و بے نام و نشان ہو جاتی۔

لیکن مسلمان عربی زبان کا صرف اس لئے دلدادہ نہیں کہ اس کو اس زبان میں اپنے عربی بھائیوں سے بول چال اور مراسلت کا تعلق رکھنا ہے بلکہ اس کے لئے عربی زبان سے دل بستگی اور اس کے احترام و تقدس کی سبب بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا متن عربی میں ہے اس لئے اسلام کی اساس و بنیاد عربی زبان پر قائم ہے اور اسی وجہ سے تمام علمائے امت کا اتفاق ہے کہ عربی زبان کی حفاظت اور اس کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہمیشہ قائم رکھنا اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔

جوہری نے صحاح کے شروع میں لکھا ہے کہ ”عربی ہی وہ لغت ہے جس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا اور وہی دنیا کے علم کو اس کے ساتھ والبتہ فرمایا“ اور شیخ السنہ علامہ سیوطی نے مزہر میں فرمایا کہ ”اس میں کوئی شک نہیں کہ لغت عربی کا سیکھنا اور معلوم کرنا دین کی ضروریات میں داخل اور ایک فرض کفایہ ہے“ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن دینے والوں پر یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ عربی لغت سے پورا واقف ہو اور مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ”جب تمہیں قرآن کے کسی لفظ میں اشکال پیش آئے تو اشعار عرب میں اس لفظ کو تلاش کرو۔ کیوں کہ عربی زبان کی تعبیر اور اس کے معانی کی تعبیر کے لئے اشعار عرب ہی معیار ہیں“

اور بعض اہل علم نے دو شعروں میں عربی زبان کی ضرورت و فضیلت کو اس طرح بیان فرمایا ہے ۵

حفظ اللغات علینا ۛ فرض کفر صلوٰۃ ۛ فلیس یضبط دین ۛ الا یحفظ اللغات
یعنی لغات عربی کا یاد کرنا نماز کی طرح ایک فرض ہے کیوں کہ کسی دین کو بغیر حفظ لغات کے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا اور امام ثعلب نے اپنی امالی میں فرمایا

کہ نقیہ کو عربی لغت کے علم کی شدید ضرورت ہے۔

ان روایات سے عربی زبان کی حفاظت اور اس کو سیکھنے اور یاد رکھنے کا فرض کفایہ ہونا تو معلوم ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ عربی جس کی حفاظت اسلامی فرض ہے وہ وہی قدیم عربی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن ہم تک پہنچی نئی عربی میں کوئی کتنی ہی مہارت حاصل کر لے وہ اس فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جاہلیت عرب کی زبان کو محفوظ رکھے کیوں کہ اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور اسی کے ذریعہ قرآن کے معانی صحیح معلوم ہو سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ عربی لغت کے جمع کرنے والے مصنفین نے اس کی رعایت رکھی ہے کہ دوسری زبانوں کے اختلاط سے اہل قرآنی زبان محفوظ ہو کر اشتباہ میں نہ پڑ جائے۔ ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ لغت عربی کی تصنیف و تدوین کرنے والوں نے عرب کے صرف ایسے قبائل کے لغت کو بنیاد اور عمود بنایا ہے جن کا اختلاط دوسری زبان والوں سے نہ تھا۔ کوفہ، بصرہ کے علاوہ کسی شہر کی زبان کو اسی لئے سند نہیں مانا کہ ان شہروں میں بھی زبانوں کا اختلاط پایا جاتا تھا۔ اور جزیرۃ العرب کے سرحدی قبائل جن کا اختلاط ہندی یا فارسی یا حبشی و رومی زبانوں سے تھا۔ ان کی زبان کا بھی لغت عربی میں اعتبار نہیں کیا۔ صرف ان عرب عربا کی زبان سے عربی لغت کو مدون کیا ہے جو نسل اور زبان کے اعتبار سے خالص عرب تھے۔ اور ان میں بھی زیادہ تر قریشی قبائل ہیں۔

پھر جن قبائل کی لغت کو کتابوں میں مدون کیا وہ بھی ویسے ہی سنی سنائی باتوں کی طرح جمع نہیں کر دیا بلکہ علماء اسلام نے جو اصول روایت حدیث کو غیر معتبر اور ضعیف روایات سے پاک رکھنے کے لئے حدیث رسول میں استعمال فرمائے۔ تقریباً انہیں اصولوں سے لغت عرب کے جمع کرنے میں کام لیا۔

نقل لغت میں نقل حدیث کے اصول کا استعمال !

جس طرح روایات حدیث سند نقل کے اعتبار سے چند اقسام متواتر، مشہور، خبر واحد پر مشتمل ہیں، پھر خبر واحد میں سند متصل کا اعتبار کیا گیا منقطع کو نہیں لیا گیا۔ اور ناقابل اعتبار راویوں کو ساقط کیا گیا ہے اسی طرح لغت عرب کے جمع کرنے میں علمائے لغت نے بھی یہی انداز اختیار فرمایا ہے۔

متواتر

امام لغت ابن الانباری نے اپنی کتاب لمع الاذہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث فرمائی ہے اور اسی کتاب میں فرمایا کہ "جو لغت قرآن میں یا حدیث کی روایات متواترہ میں آئے ہیں وہ متواتر اور قطعی ہیں یعنی جن معانی کے لئے قرآن و حدیث میں مستعمل ہوئے ان کے وہی معنی یقینی ہیں۔ زبان یا زمان کے بدلنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔"

امام رازی نے محمول میں فرمایا کہ "لغت اور قواعد نحو صرف کا وہ حصہ جو نزول قرآن اور بعد رسالت کے زمانہ سے معروف ہے اور جو نقل کیا گیا ہے وہ قطعی ہے۔ مثلاً لفظ سماء آسمان کے لئے اور ارض، زمین کے لئے اور مارا پانی کے لئے، نار، آگ کے لئے قرآن و سنت میں استعمال کئے گئے ہیں اور قائل کو ہمیشہ مرفوع اور مفعول کو منصوب اور مضاف الیہ کو مجرور پر ٹھا گیا ہے۔ عربی زبان کے لئے یہ قطعی ہیں۔ اگر کسی اور زمانہ کے عرب، بلکہ پال بلکہ تحریر و تقریر میں بھی اس کے خلاف کوئی صورت اختیار کر لیں تو اسلامی عربی میں اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔"

ابوالطیب لغوی نے کتاب مراتب النجوم میں بیان کیا ہے کہ جو الفاظ عرب جاہلیت سے لے کر آج تک زبردست استعمال ہوتے رہے خود قرآن میں آئے ہوں یا نہیں وہ متواتر اور اپنے معانی میں قطعی ہیں اور جو احاد و افراد کی روایت سے منقول ہیں ان میں رجال حدیث کی طرح تنقید کر کے ثبوت کو غیر ثبوت سے بچنے کو چھوٹے سے امتیاز کے طریقے استعمال کئے جائیں گے۔

منقطع ہو

ابن الانباری نے اپنی کتاب لمع الاذہ میں بیان کیا کہ جس طرح حدیث میں سند منقطع کا اعتبار نہیں اسی طرح لغت کی روایت میں بھی قطع مردود ہے۔

اخبار احاد

خبر واحد لغت میں وہ ہے جس کے نقل کرنے والے ایک دو آدمی ہیں۔ عام طور پر مشہور نہیں ہے۔ ایسے لغات کے بارہ میں علماء لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے راوی کے حالات پر نظر کی جائے گی۔ اگر وہ اپنے فہم اور حافظہ اور ثقاہت کے اعتبار سے مکمل ہے تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے حضرات کی اکثریت اس کے مخالفت نہ ہو۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ لغت صرف ان لوگوں کی روایت سے لیا جائے گا جن کا صدق و امانت اور ثقاہت معلوم ہو اور جس شخص میں یہ اوصاف مجہول ہوں اس کی نقل کا لغت میں اعتبار نہ ہوگا۔

خلیل بن احمد نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے عربی لغت میں ایسے کلمات داخل کر دیئے ہیں جو کلام عرب میں سے نہیں ہیں ان سے مھوکانہ کیا جائے۔ ابن الانباری نے فرمایا کہ ”ناقل لغت کے لئے ضروری ہے کہ ثقہ اور قابل اعتماد ہو جیسے نقل حدیث میں ضروری ہے“

عزالدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”ناقل لغت کا حدیث کی طرح نقل لغت میں قابل اعتماد ہونا ضروری ہے مگر اتنا فرق ہے نقل حدیث میں فاسق کا قرنی روایت معتبر نہیں اور نقل لغت میں جاہلیت عرب کے اشعار سے استدلال جائز ہے بلکہ وہی لغت عرب کے لئے اصل اصول ہے، اگرچہ وہ لوگ مسلمان نہ تھے“

خطیب بغدادی نے ابن عبدالحکم سے نقل کیا ہے کہ ”عربی ادب کے ماہرین علماء کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے اور اشعار عرب ان سے پڑھتے تھے حضرت امام کو قبیلہ ہزہل کے دس ہزار اشعار بر زبان یاد تھے جن کو نقل کر کے ان کے اعراب اور لغات اور معانی کی تشریح فرمایا کرتے تھے“

موضوع و مصنوع

جس طرح روایات حدیث میں ناقابل اعتبار روایات کو علماء حدیث نے موضوع کہہ کر الگ کر دیا ہے اور مستقل کتابوں میں ایسی روایات کو جمع کر کے ان پر تنقیدی بحث فرمائی ہے۔ اسی طرح اہل لغت نے اس قسم کے بے اہل الفاظ کو مصنوع کے نام سے موسوم کر کے لغت عرب سے الگ کر دیا۔ محمد بن سلام نے اپنی کتاب ”طبقات الشعراء“ کے شروع میں لکھا ہے کہ اشعار عرب میں کچھ ایسے اشعار بھی لوگوں نے شامل کر دیئے ہیں جو مصنوع اور موضوع ہیں۔ ان سے کسی کے لئے استدلال جائز نہیں۔

مَوْلَد

اسی طرح ایک قسم لغات کی مَوْلَد کہلاتی ہے۔ وہ بھی لغت عرب میں معتبر اور قابل استدلال نہیں۔ علامہ زبیدی نے فرمایا کہ مَوْلَد وہ لغت ہیں جو اصل عربی زبان میں نہیں۔ پھر غلط عوام کے طور پر عربی میں رائج ہو گئے۔ اور فرق مصنوع اور مَوْلَد میں یہ ہے کہ مصنوع تو وہ الفاظ ہیں جن کو دھوکہ اور تلبیس کے لئے یہ کہہ کر کہ عربی لغت میں داخل کر دیا گیا ہے کہ یہ فصیح اور اصل عربی زبان کے لغات ہیں۔ اور الفاظ مَوْلَد میں یہ بات نہیں بلکہ تغیر زبان و لسان کے عام حوادث کے تحت کچھ غلط عوام بلکہ خواص میں زبان زد ہو جاتے ہیں جو اصل لغت اور اس کے قواعد کی رو سے غلط ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے سوا دوسری زبانوں میں تو ایسے الفاظ کے لئے یہ اصول بنایا گیا ہے کہ غلط العوام فصیح یعنی جو غلط لفظ سب اہل زبان میں عام ہو جائے وہ فصیح سمجھا جائے گا۔ لیکن عربی لغت کے علماء اس پر متفق ہیں کہ لغات مَوْلَد کا کوئی اعتبار نہیں۔ فارابی نے لغات مَوْلَد کو عربی سے علیحدہ کرنے کے لئے کہا ہے ہذا عربیہ و ہذا مَوْلَد پھر مَوْلَد لغات کی چند مثالیں بیان کی ہیں۔

جیسے لفظ حسان چھوٹی کمان کے لئے اور تحریر لکھنے کے معنی میں اور ایام عبوز خاص سردی کے دنوں کے لئے اور فاقہ شراب پینے کے ایک خاص ترین کے لئے اور فحشہ یعنی فاحشہ طرز یعنی طعن، اسی طرح مجالست اور تجنیس، ارجح، کابوس، ماش، عفتص کے الفاظ قواعد کے مطابق ان معنی میں نہیں تھے جن میں

ان کے بعد کے لوگوں نے استعمال کیا۔ اسی طرح صدقہ القطر کو قطرہ کنا بھی اصل لغت کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اسی طرح لفظ تشویش کی عربی میں کوئی اصل نہیں۔ لفظ طفیل بھی اسی طرح ہے۔ غبی اور بے وقوف آدمی کو زبون کنا بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ جنکین و فلاسفہ کے کلام میں محسوسات اور ذاتی اور ذاتیات کے الفاظ بھی اسی قسم میں داخل ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم نے ایسے الفاظ کو ایک مستقل رسالہ میں جمع فرمایا ہے جس کا نام ہے ”لفظ الفصاحتی تصحیح بعض ما استعملتہ العامة من الاعلاط“۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ معرب یا دخیل جن الفاظ کو کہا جاتا ہے وہ بھی اگرچہ اصل زبان کے الفاظ نہ تھے مگر زمانہ قدیم میں نزولِ قرآن سے پہلے ہی وہ الفاظ عربی لغت میں معروف و مشہور ہو کر مثل زبانِ عربی کے ہو گئے تھے وہ با اتفاق اہل لغت عربی کا جز سمجھے گئے ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ ہے کہ عربی زبان میں غیر عربی الفاظ کے داخل کی تین قسمیں ہیں۔ معرب یا دخیل، مصنوع، مؤلف۔ پہلی قسم زمانہ جاہلیت اور زمانہ نزولِ قرآن کے وقت سے عربی لغت کا جز اور فصیح قرار دی گئی ہے۔ اس کو تو اب غیر عربی کنا بھی مجاز ہی ہے۔ باقی دونوں قسمیں نہ عربی لغت کا جز ہیں نہ ان کا کہیں اعتبار ہے۔ نہ ان کے کسی مشل میں احتجاج یا استدلال کرنا جائز ہے۔

آداب اللغوی

اوپر جو تفصیل بیان ہو چکی ہے اس میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ لغت عرب کی تدوین و تصنیف میں اس فن کے علماء نے مؤذناہ انداز کی احتیاط کو ضروری قرار دیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان صرف زبان کی حیثیت سے مطلوب نہیں جس کے ادلنے بدلنے کا اہل لسان کو ہر وقت ہمیشہ اختیار ہوتا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کے لئے عربی زبان کی تعلیم کا فرض ہونا اور اس کی پوری حفاظت کرنا اس لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی زبان ہے۔ اس کے جانے بغیر قرآن و سنت کے احکام کو پوری طرح نہیں جانا جاسکتا اور یہ مقصد ظاہر ہے کہ اسی زبان سے متعلق ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جو عہد رسالت میں بولی اور صحیح سمجھی جاتی ہے۔

اس لئے عربی لغت میں اشتغال صرف ایک زبان کا اشتغال نہیں بلکہ ایک دینی فریضہ کی ادائیگی اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لئے علماء لغت نے لغوی عالم کے لئے بھی اسی طرح کچھ آداب شرائط لکھے ہیں جس طرح مسٹر، محدث، فقیہ اور مفتی کے لئے آداب مقرر ہیں۔

اس بارہ میں علماء لغت نے فرمایا کہ لغوی پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیرت کو صحیح کر کے اخلاص پیدا کرے یعنی فن لغت کے اشتغال سے اس کی نیرت قرآن فہمی اور کتاب سنت کی تشریح کی ہونا چاہئے۔ صحیح نیرت کے بعد اس کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ فن لغت حاصل کرنے کے لئے ثقہ اور دیانت دار علماء لغت کو تلاش کرے اور لغات سے سزا متصل کے ساتھ جو لغات حاصل ہوں صرف انہیں پر اعتماد کرے۔ ہر رطب و یابس کو جمع نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم بے شک یہ علم دین ہے تو تم غور کرو کہ اپنا دین کن لوگوں سے حاصل کرنا چاہئے۔

فاروق اعظم نے فرمایا کہ قرآن کا درس صرف وہی شخص دے جو لغت عرب کا عالم ہو۔ فارابی نے کہا کہ قرآن کے علم اور اس کے معانی کے فہم کے لئے اسی کے ہوا اور کوئی راہ نہیں کہ آدمی لغت عربی میں تبحر حاصل کرے۔

اور لغوی کے لئے لازم ہے کہ اشعار عرب کو یاد کرے اور ان کے معانی اور حقائق کو سمجھے کیوں کہ اسی کے ذریعہ قرآن پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لغوی پر لازم ہے کہ جو لوگ اس سے علم لغت حاصل کرنا چاہیں ان کے ساتھ لغت و مہربانی کا معاملہ کرے اور جب کوئی شخص ان آداب کو جمع کرے تو لغویین کے نزدیک وہ حافظ کھانے کا مستحق ہے جیسے حدیث کے یاد کرنے والے ماہر کو حافظ کہا جاتا ہے۔

هذا الخرمنا ائیرادنا وھما من اصول اللغۃ وما یتعلق بہا فلیتھا الحمد اولہ و آخرہ و باطنہ و ظاہرہ

”المبجد کی خصوصیات“ اور اس پر تبصرہ

علماء اسلام نے ہر قرن اور ہر زمانہ میں عربی لغت پر مختلف انداز میں جو کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ان کا ایک ہلکا سا خاکہ اسی مقدمہ میں آپ کے سامنے آچکا ہے۔ ان میں عظیم و ضخیم بڑی کتابیں بھی جیسے لسان العرب، تاج العروس وغیرہ اور متوسط بھی جیسے صحاح، جوہری اور قاموس وغیرہ اور مختصر بھی جیسے مختار الصحاح وغیرہ۔ ان میں ترتیب کے بھی مختلف انداز ہیں۔ لغت کی سب سے پہلی کتاب جو خلیل احمد نخوی کی تصنیف ہے اس کی ترتیب میں طبعی ترتیب لفظ کی رعایت کر کے ان حروف کو مقدم کیا ہے جو حلق سے نکلتے ہیں۔ پھر ان حروف کو جو زبان اور تالو سے نکلتے ہیں۔ پھر ان حروف کو جو نوب زبان اور ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ پھر حروف حلقی میں حرف عین کو اس لئے مقدم کیا ہے کہ وہ حلق کے بالکل آخری حصہ سے نکلتا ہے اور اسی بنا پر کتاب کا نام کتاب العین رکھا ہے۔

فطری اور طبعی حیثیت سے یہ ترتیب بہت مناسب تھی۔ لیکن عوام کے لئے کچھ دشواریاں بھی تھیں اس لئے بعد کے مصنفین نے حروف تہجی کی ترتیب پر کتابیں لکھیں، پھر ان میں بھی بعض نے آخری حروف کا اعتبار کر کے ابواب کی ترتیب قائم کی اور ابتدائی حروف کو ان کی فصلیں ٹھہرایا۔ قاموس کا یہی طرز ہے اور بعض نے ابتدائی حروف کو اصل ابواب قرار دے کر آخری حروف کو فصل بنایا۔ المبجد نے بھی یہی طرز اختیار کیا ہے۔

عوام کے لئے سہولت کی رعایت ہر زمانہ کے مصنفین نے اپنے عہد کی ضرورت کے مطابق کی ہے۔ یہ دور جس سے ہم گذر رہے ہیں۔ سہولت پسندی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ المبجد کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اس نے موجودہ طبائع کی رعایت کے پیش نظر لغت عربی کو ایسے انداز پر ترتیب دیا ہے جس سے استخراج لغت کافی آسان ہو گیا۔ ساتھ ہی اختصار عبارت کے لئے علامات ایسی مقرر کر دیں جن سے حروف کی حرکات الفاظ میں بیان کئے بغیر آسانی سے واضح ہو جاتی ہیں ای طرح جمع وغیرہ کے لئے رمز مقرر کر کے اختصار پیدا کیا گیا ہے۔ رمز کے ذریعہ اختصار عبارت کا اہتمام متقدمین کی کتابوں میں بھی کافی موجود ہے مگر اس میں کچھ سہولت زیادہ ہے۔ دوسری امتیازی چیز المبجد میں یہ ہے کہ اس میں درختوں اور جانوروں کی تصویریں دے کر لفظ کا مفہوم متعین کر دیا گیا ہے اور المبجد کو مقبول عوام بنانے میں اس کا بڑا دخل ہے۔

استخراج لغت کی تسہیل اور ہر چیز کے مفہوم کو واضح کرنے کا جو کام المبجد نے کیا ہے وہ اپنی جگہ بے شک قابل تحسین ہے اور جو لوگ عربی زبان کو صرف اس حیثیت سے جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے جغرافیہ میں آئے ہوئے ایک خطہ زمین پر بولی جاتی ہے اور عربی زبان سیکھنے کا مقصد ان کے سامنے صرف یہ ہے کہ اس زبان کے ذریعہ عرب ممالک کے باشندوں سے مخاطبت اور مکاتبت ہو سکے۔ ان کے لئے بلاشبہ المبجد عربی زبان سکھانے میں مددگار ثابت ہوگا اور ان کا مقصد المبجد کے ذریعہ پورا ہو سکے گا۔

لیکن مسلمانوں میں عربی زبان سیکھنے سکھانے والوں کی اور عربی ادب کی خدمت پر عزم صرف کرنے والوں کی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو کبھی عمر بھر اس مخاطبت و مکاتبت کی نوبت نہیں آتی یا آتی ہے تو ایک ثانوی مقصد کی حیثیت سے آتی ہے۔

وہ عربی زبان کو ایک مقدس اسلامی اور قرآنی زبان کی حیثیت سے دینی فریضہ سمجھ کر سیکھتے ہیں۔ اور ان کا مقصد تمام لغت کی کتابوں اور جاہلیت عرب کے دو ادیب کے پڑھنے پڑھانے سے قرآن و سنت کا سمجھنا سمجھانا اور فہم قرآن میں مہارت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ان کے لئے افسوس ہے کہ المبجد صحیح معنی میں مبجد یعنی مددگار نہیں بلکہ ان کی راہ میں کچھ مشکلات پیدا کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اس مقصد کے لئے عربی لغت جمع کرنے میں نزول قرآن کے زمانہ کی عربی زبان کو پوری احتیاط کے ساتھ جمع کرنا اور قسم کی تخلیط و تلبیس سے محفوظ رکھنا اور جدید اور متحدہ الفاظ و محاورات سے اجتناب کرنا ازلیس ضروری ہے۔ اسی لئے سابق مصنفین لغت اور علماء لغت نے لغت عربی اور ادب عربی کے لئے ان معذبانہ اصول سے کام لیا ہے جن کا ذکر اسی مقدمہ میں آپ تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اور یہ معلوم کر چکے ہیں کہ علماء لغت نے الفاظ مصنوعہ یا مولدہ جن کو

ذیل بھی کہا جاتا ہے ان کو عربی لغت میں شمار کرنا جائز نہیں سمجھا۔ اور اسی لئے عرب کے ان قبائل کی لغت کا اعتبار نہیں کیا جو دوسری زبان والوں کے قریب رہتے تھے یا جن کی زبانیں دوسری زبانوں سے متاثر تھیں۔ یہاں تک کہ کوڈ اور لبرہ کے سوا کسی شہر کی زبان کو لغت میں حجت نہیں قرار دیا۔ کیونکہ شہروں میں مختلف زبان کے لوگوں کی بجز آمد و رفت کے سبب شہریوں کی زبان دوسری زبانوں سے مخلوط ہوجاتی ہے۔

المبجد کا مصنف ایک غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کیوں ضروری سمجھتا۔ اس کے سامنے تو عرب ممالک کے بسنے والے موجودہ انسانوں کی زبان ہے۔ اس کو مسلمانوں کی کتاب و سنت سے کیا سروکار تھا۔ جدید لغات، جدید معاویات کو اس نے کھل کر عربی لغت کا ایسا جو بنا دیا ہے کہ یہ امتیاز کرنا دشوار ہو گیا کہ کونسا لفظ اصل عربی کا لفظ ہے اور کونسا مصنوع یا مولد ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مصنف المبجد سے اس طرز اختیار کرنا ہمیں کوئی شکوہ بھی نہیں لیکن قابل شکایت اور حیرت انگیز وہ تعصب ہے جو مصنف نے اس کتاب میں برتا ہے کہ لغت کے ترجمہ اور مفہوم میں عیسائی عقائد کو زبردستی ٹھونسنا ہے۔ دیکھئے ع کے مادہ میں لفظ عذراء کے معنی لوئیس معلوف صاحب لکھتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں:-

لقب السيدة مريم والدة الاله للتعبد
یعنی عذراء لقب ہے حضرت مریم کا جو والدہ ہیں جسمانی خدا کی۔

ہم لوئیس معلوف مصنف المبجد سے یہ نہیں کہتے کہ خدا کو تعبد یعنی جسمانی کہنا ایک نہایت نامعقول بات ہے کیوں کہ جسم اور جسمانیت حادث اور فانی ہونے کی علامت ہے جو حادث اور فانی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ تو ان کا اپنا عقیدہ ہے اس کے غلط صحیح یا حق و باطل ہونے کی ذمہ داری خود ان پر ہے آخر دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پتھر کی مورتیوں اور پیل کے تپوں اور ریاضوں کے پانی کو یا آگ و ہوا کو خدا کہہ دیا ہے۔

لیکن ان سے یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ لغت کے ترجمہ میں اپنے اس بے بنیاد عقیدہ کو داخل کرنے کا آپ کو کیا حق تھا پھر تمنا یہ ہے کہ وہ لفظ عذراء کا ترجمہ بھی نہیں صرف حضرت مریم کا لقب ہونے کی ادنیٰ مناسبت سے ان کے صاحبزادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے عیسائی عقیدہ کو جو ولادت بنا کر عیسائی مشن کا حق ادا کر دیا ہے۔

اور اس سے زیادہ واضح الفاظ میں عیسائی مشن کا حق مادہ م میں لفظ مسیح کے تحت اس طرح ادا کیا ہے خود المبجد کے الفاظ دیکھئے۔

المسيح المسحوب بالدهن ج مسحاء ومسحى لقب
الرب يسوع ابن الله المتجسد -
ص ال کے مادہ میں صلیب کا لفظ آیا تو آپ لکھتے ہیں:-

یعنی مسیح اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر تیل ملا جائے اس کی جج مسحاء اور مسحی آتی ہے نیز لفظ مسیح لقب ہے رب یسوع کا جو اللہ کے بیٹے جسمانی ہیں۔

العود المکره الذی صلب علیہ اسم المسیح

یعنی صلیب وہ مقدس کھڑی ہے جس پر حضرت مسیح کو سولی دی گئی
اس معرکہ کو کوئی عیسائی ہی حل کرے کہ ان کے عقیدہ کے موافق جو کھڑیاں حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کرنے اور توہین و ایذا کے لئے ان کے دشمنوں نے استعمال کی وہ مقدس کیسے ہو گئی۔ اگر ان کا خیال صحیح ہے تو ان کھڑیوں کو تو انتہائی منحوس کہنا چاہیے ہم یہاں اسلام و عیسائیت کے عقائد کی تحقیق نہیں کر رہے اس لئے ہیں اس سے بجز نہیں کہ وہ ان کھڑیوں کو کیوں مقدس سمجھیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا لفظ صلیب کے لغوی معنی میں تقدس داخل ہے یا لفظ صلیب کے مفہوم میں یہ عیسائی نظریہ شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا۔

ایک طرف تو بیان لغت کے پردہ میں ادنیٰ ادنیٰ مناسبت و تصور مذکور عیسائی عقائد کا پرچار مہرہ ہے۔ اور دوسری طرف اسی تعصب و رنگ نظری کا یہ مظاہرہ ہے کہ مادہ ح م میں لفظ احمد اور محمد کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بھی ذکر نہیں کرتے کہ لفظ دنیا میں کسی مٹی کا نام بھی ہے۔ مزدلف، مٹی، بئرب وغیرہ ایسے معروف و مشہور مقامات کے نام ہیں کہ کوئی لغت لکھنے والا ان سے اغراض نہیں کر سکتا، مگر المبجد نے ان مقامات کا ذکر کرنے سے مکمل اجتناب کیا۔ اسی طرح اسلامی مشاہیر اور مشہور مقامات میں سے شاذ و نادر ہی کسی کا ذکر کیا ہے۔ المبجد کے تازہ ایڈیشن میں جو ایک نیا ضمیمہ اعلام اور مقامات کا اضافہ کسی دوسرے مصنف کی طرف سے کیا گیا ہے اس میں تو مجبوری تھی کہ اسلامی دنیا کو عالمی جغرافیہ سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں یہ اعلام لائے گئے ہیں مگر ان کے متعلق جو احوال لکھے گئے ہیں وہ بالکل غیر مستند اور بھجن جگہ تو غلط چیزوں پر مشتمل ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھئے اس ضمیمہ میں لفظ حواء کے بیان میں لکھا ہے۔
جبل فی جزیرة العرب شمالی شرقی مکتہ فیدہ غار اختفی
یعنی جزیرہ العرب کا ایک پہاڑ مکہ کے شمال شرقی میں واقع ہے جس میں

فیه النبی فی عودۃ من الطائف حتی استطاع دخول
مکہ بعد الحجۃ۔

ایک نار ہے جس میں طائف سے لوٹنے کے وقت نبی باکر چھپے تھے یہاں
تک کہ پھر ہجرت کے بعد مکہ میں داخل ہو سکے۔

تاریخ کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی ایسی لغو غلطی نہیں رسکتا اور جس کو تاریخ عالم کا اتنا پتہ نہ ہو اس کو تاریخ جغرافیہ یا لغت لکھنے پر فائدہ اٹھانے کی جرأت نہیں
کرنا چاہئے۔ نارِ حرارہ تو اس نار کا نام ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت منبتوں میں بیٹوں مقام کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور پھر مکہ میں آجاتے
تھے۔ اس وقت سارا مکہ آپ کو امین کے لقب سے پکارتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بھی مخالف نہ تھا جس سے چھپنے کی نوبت آتی۔ اس کے مصنف کو غار ثور کا
دھوکا ہے جس میں آپ ہجرت کے وقت چھپے تھے۔ مگر طائف سے لوٹنے کا اس میں دخل نہ تھا۔ سرسری طور پر ایک مثال سامنے آگئی۔ اس سے صنف کے علم
و اطلاع کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

یہ بہت ہی مختصر سا نقشہ المنجد کی متعصبانہ ذہنیت کا ہے جس کو محض سرسری نظر سے لکھا گیا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو اس پر متعجب کرنا ہے کہ
عربی زبان ان کے لئے صرف ایک زبان نہیں بلکہ دین بھی ہے اس کے حاصل کرنے میں ظاہر کہ ایسے متعصب عیسائی کے بیان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا جو لغت کے
ترجمہ میں بھی زبردستی اپنے عقائد کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور اسلامی معلومات سے اتنا بے خبر ہے کہ تاریخ کے ایک نہایت مشہور واقعہ میں بھی وہ فاحش غلطیاں کرتا
سہولت اور جدت پسندی آج کل عام لوگوں کا ذہن بتا جاتا ہے اور وہ فی نفسہ کوئی مذموم چیز بھی نہیں بشرطیکہ اصل حقیقت کو اس سہولت اور جدت
کی بھینٹ نہ چڑھا دیا جائے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور چمک دمک پر اصل حقیقت کو قربان نہ کر دیا جائے۔ وہ مسلمان جن کا مقصد اصل عربی زبان سیکھنے اور
پڑھنے سے قرآن کا سمجھنا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کرنا ہے ان کے سامنے اگر جانوروں کی یا انسان کی تصویر دے کر نکتہ فہم
سمجھانے کو آسان کر دیا گیا تو کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ محض اس آسانی کے فائدہ کے لئے خود قرآن و حدیث اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی پرواہ
نہ کرے۔ احادیث متواترہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے اور استعمال کرنے کو حرام و ناجائز قرار دیا ہے کیا کوئی عقل مند اس کو
صحیح قرار دے سکتا ہے کہ محض اس سہولت پسندی کے لئے آخرت کا عذاب خرید لیا جائے اگر صرف سطحی فوائد ہی پر نظر کی جائے تو جتنے جرائم اور محرمات شرعیہ
میں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو چوری، ڈاکہ، بے حیائی دھوکہ دہی وغیرہ سب ایسے جرائم ہیں جن کے گناہ و جرم ہونے پر سارا ہی جہاں
متفق ہے، مگر کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ کام بالکل ہی بے فائدہ ہوتے تو پاگل و مجنون کے سوا کوئی ان کے پاس نہ جاتا، مگر دنیا کو دیکھئے
تو ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے بڑے بڑے ہوشیار لوگ نظر آئیں گے۔ وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ ان لوگوں کی نظر ان جرائم کے ایک وقتی فائدہ پر ہوتی
ہے اس کے بڑے نتائج اور عواقب ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ان جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کی نظر نتائج اور حقائق پر ہوتی ہے وہ
چوری اور ڈاکہ کے ذریعہ فوری مالداروں کے فائدہ کے ساتھ ساتھ اس کے مفسد اور خرابیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لئے ان کو یہ چیزیں مبغوض نظر آتی ہیں بلکہ خود مجرم
بھی جب نتائج پر نظر کرتا ہے تو اپنے فعل کو برا ہی سمجھتا ہے۔

اسی طرح اگر تصویریں کے ذریعہ حیوانات کا پہچانا آسان ہو جاتا ہے اس کے بغیر جب تک طویل عبارت سے ان کی صورت اور کیفیات کو بیان نہ کیا جائے
پہچانا مشکل ہوتا ہے تو اس آسانی کے بالمقابل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا عذاب کیا اس سے کم ہے جو ایک چور کو چوری کے
فائدہ کے بالمقابل پہنچتا ہے اور جس کی وجہ سے عقلاً دنیا میں کوئی بھی چوری کو اس کے وقتی اور سطحی فائدہ کے پیش نظر جائز نہیں قرار دیتا۔

یہ جگہ اس بحث کی نہیں کہ جانداروں کی تصویر کو حرام قرار دینے میں کیا حکمت ہے؟ اور کیوں اس شدت کے ساتھ اسلام نے اس کو روک رکھا ہے۔ میرے رسالہ
التصویر یا احکام التصویر میں اس پر تفصیلی بحث موجود ہے ضرورت ہو تو اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔

یہاں تو صرف اتنا بتاتا ہے کہ مسلمان سہولت اور جدت پسندی کی یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے بھی آنکھیں بند کر لے
اگر جانداروں کا پہچانا بغیر تصویر کے کچھ مشکل ہے تو مسلمان اس مشکل کو مصیبت اور گناہ کے مقابل میں خوشی سے قبول کرنے کے لئے تیار ہوگا خصوصاً جب کہ
اس جاندار کے پہچانے پر اس کا کوئی ضروری کام بھی موقوف نہ ہو۔ ورنہ مواقع ضرورت میں استثنائی احکام خود شریعت اسلام میں موجود ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چند اہم و ضروری قواعد صرفیہ کی شناخت

مجرد کو مزید بنانے میں حسب ذیل ستائے غرض کا اثر ہوتا ہے

اغراض پیش نظر

اوزان مزید

(۱) تعدیہ، لازم کو متعدی کرنا یا اگر فعل متعدی ہو تو ایک اور مفعول کا اضافہ کرنا، جیسے تَرَاحَ (مزید خوش ہوا) سے فَرَاحَتْهُ (میں نے اس کو خوش کیا)

فَعَّلَ

(۲) تکثیر، مفعول کی تکثیر مراد ہو جیسے قَطَعْتُ الْجَبَلَ (میں نے رسی کے بہت سے ٹکڑے کئے)

(۳) نسبت، مفعول کی نسبت اصل فعل کی طرف مقصود ہو جیسے كَفَّرْتُهَا (میں نے اس کو کفر کی طرف مَسُوب کیا اور اس کو کافر ٹھہرایا)

(۴) سلب، کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا، جیسے كَشَرْتُ الْعُودَ (میں نے لکڑی سے اس کا پھلکا دور کیا)

(۵) اتخاذ، کسی اسم کو ماخذ بنانا، جیسے تَحَيَّمُ الْقَوْمَ (لوگوں نے جیسے لگائے)

(۱) اشتراک، دو شخصوں کا مل کر کوئی کام کرنا جن میں ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی جیسے صَادَبَ زَيْدٌ عَمْرًا (زید نے عمرو کو اور عمرو نے زید کو مارا پٹا)۔

فَاعَلَ

(۲) موافقت فَعَّلَ - فَعَّلَ کے ہم معنی ہونا، جیسے صَاعَقْتُ الشَّيْءَ (میں نے اس کو دوچند کر دیا) بمعنی ضَعَفْتُهُ۔

(۳) موافقت أَفْعَلَ، أَفْعَلَ کے ہم معنی ہونا جیسے بَاعَدْتُهُ (میں نے اس کو دور کیا) بمعنی ابْعَدْتُهُ۔

(۴) موافقت مَجْرَدٌ - مَجْرَدٌ کے ہم معنی ہونا جیسے سَافَرَ زَيْدٌ (زید نے سفر کیا) بمعنی سَفَرَ۔

(۱) تعدیہ، جیسے خَرَجَ زَيْدٌ (زید نکلا) سے اَخْرَجْتُهُمْ (میں نے اس کو نکالا)۔

أَفْعَلَ

(۲) دخول، ماخذ میں آنا جیسے اَمْسَى زَيْدٌ (زید شام میں داخل ہوا)۔

(۳) قصد، کسی جگہ کا قصد کرنا جیسے اَغْرَقَ - (عراق کا قصد کیا)۔

(۴) صيرورت، صاحب ماخذ ہونا جیسے اَلْبِنُ الْبَقِیُّ (گائے دو دھ والی ہو گئی)۔

(۵) مبالغہ، کسی شے کی کیفیت یا مقدار کی زیادت بیان کرنا جیسے اَسْفَى الْقَبِيحُ (مصحح خوب روشن ہو گئی)

(۶) وجدان، کسی چیز کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا جیسے اَبْغَلْتُ زَيْدًا (میں نے زید کو بخمیل پایا)

(۷) عرض، مفعول کو عمل ماخذ میں پیش کرنا جیسے اَبْعَثُ الْفَرَسَ (میں نے گھوڑے کو بیچنے کی جگہ منڈی میں برائے فروختگی پیش کیا)۔

(۸) سلب، جیسے اَشْكَيْتُهُ (میں نے اس کی شکایت دور کی)۔

(۹) حیثیت، کسی چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا، جیسے اَحْصَدَ الذَّرْعُ (کھیتی کا ٹٹے کا وقت آپہنچا)۔

(۱۰) موافقت مَجْرَدٌ - جیسے اَقْلَتُ الْبَيْعَ (میں نے بیع کو نسخ کیا)

(۱۱) مطاوعت فَعَّلَ - فَعَّلَ کے بعد اس کا اس غرض سے آنا کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کیا، جیسے عَلَّمْتُهُ فَعَلَّمَ (میں نے اس کو سکھایا)

تَفَعَّلَ

تو وہ سیکھ گیا۔

- (۲) تَكَفَّفَ ، ماخذیں تَضَع و بناوٹ ظاہر کرنا تَشَبَّحَ عَنْهُ و مَرَّتْ بِكَفِّ بَہادر بنا۔
 (۳) اتَّخَذَ ، کسی چیز کو بنانا ماخذیں لینا جیسے تَأَبَّطَ الصَّبِيَّ عَمْرُوٌ عمرو نے بچہ کو بغل میں لیا۔
 (۴) تَجَنَّبَ ، ماخذ سے پرہیز کرنا جیسے تَأْتَمَّ اس نے گناہ سے پرہیز کیا۔
 (۵) صَيَّرَتْ ، جیسے قَمَّوْلٌ زَيْدٌ زید مال دار ہو گیا۔

- (۶) تَدَرَّجَ ، کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا جیسے تَجَدَّرَعُ زَيْدٌ زید نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا۔
 (۷) طَلَبَ ، جیسے تَجَلَّ التَّنِيُّ اس نے کسی چیز میں محبت چاہی۔

(۸) اتَّسَابَ ، جیسے تَبَدَّى بَادِرٌ کی طرف فسوب ہوا۔

تَفَاعَلَ :- (۱) اشْتَرَاكَ ، جیسے تَنَزَّاتَمَا ، دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔

(۲) مَطَاوَعَتْ ، فَاعِلٌ جیسے بَاعَدْتُهَا فَبَاعَدَا ، میں نے اس کو دور کیا وہ دور ہو گیا۔

(۳) تَغَيَّلَ ، وہ صفت ظاہر کرنا جو درحقیقت نہ ہو جیسے تَمَارَضَ اُس نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا۔

(۴) تَدَرَّجَ ، جیسے تَوَارَدَ الْقَوْمُ لَوْكٍ ٹھہر ٹھہر کر آئے ، بدفعات آئے۔

(۵) مَوَافَقَتْ مَجْرَدٌ ، جیسے تَعَالَى اللَّهُ بِمَعْنَى عَلَا ۔

اِفْتَعَلَ :- (۱) مَطَاوَعَتْ فَعَلٌ ، جیسے جَمَعْتُهُ فَاَجْتَمَعَ میں نے اس کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گیا۔

(۲) اتَّخَذَ ، جیسے اِخْتَجَرَ الْفَارُ چوہے نے بل بنایا۔

(۳) مَبَالَغَ ، جیسے اِكْتَسَبَ ، اُس نے کسب میں مبالغہ کیا۔

(۴) طَلَبَ ، جیسے اِكْتَدَا فَلَانَا ، اُس نے فلاں سے مشقت طلب کی۔

(۵) مَوَافَقَتْ فَعَلٌ ، جیسے اِجْتَدَبَ بِمَعْنَى جَدَّبَ ۔

(۶) مَوَافَقَتْ تَفَاعَلَ ، جیسے اِخْتَصَمَ بِمَعْنَى تَخَاصَمَ ۔

اِنْفَعَلَ :- (۱) مَطَاوَعَتْ اُنْفَعَلٌ ، جیسے اَغْلَقَ الْبَابَ فَاَنْغَلَقَ اُس نے دروازہ بند کیا تو وہ بند ہو گیا۔

(۲) مَطَاوَعَتْ فَعَلٌ ، جیسے كَسَّرْتُ فَاَتَكَسَّرَ میں نے اُس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔

فائدہ :- باب انفعال ہمیشہ لازم آتا ہے متعدی نہیں اور ہمیشہ ایسے معانی کے لئے آتا ہے جن کا تعلق اعضائے ظاہری سے ہو۔

اِفْعَلَ :- (۱) دَخَلَ ، کسی صفت میں داخل ہونا جیسے اِحْتَرَّ البُسْرُ کھجور نے سُرخ پکڑ لی۔

(۲) مَبَالَغَ ، جیسے اِسْوَدَّ اللَّيْلُ رات بہت تاریک ہو گئی۔

فائدہ :- باب افعال اکثر الوان و عیوب کے لئے آتا ہے۔

اِسْتَفْعَلَ :- (۱) طَلَبَ ، جیسے اِسْتَغْفَرَ ، اُس نے مغفرت طلب کی۔

(۲) وَجَدَانٌ ، جیسے اِسْتَكْرَمْتُهُ میں نے اس کو کرم سے متصف کیا۔

(۳) تَحَوَّلَ ، طلب ماہیت یا صفت ہو کر ماخذ بن جانا ، جیسے اِسْتَحْجَرَ الطَّيْنُ مٹی پتھر ہو گئی۔

(۴) تَكَفَّفَ ، جیسے اِسْتَجْرَأَ اس نے عورت تکلف دکھلائی۔

(۵) مَطَاوَعَتْ اَفْعَلٌ ، جیسے اَقَمْتُهُ فَاَسْتَقَامَ میں نے اس کو سیدھا کیا وہ سیدھا ہو گیا۔

(۶) مَوَافَقَتْ مَجْرَدٌ ، جیسے اِسْتَقَرَّ بِمَعْنَى قَرَّ ۔

اَفْعَوْلَ :- (۱) مبالغہ، جیسے اِحْدَاوَدَبَ بہت کبڑا ہو گیا۔

(۲) موافقت مجرود، جیسے اِحْلُوْكَی التَّمَّامَ بمعنی حلاً۔

اَفْعَوْلَ وَاِفْعَالَ :- مبالغہ، جیسے اِجْلَوْذَ وہ بہت تیز دوڑا اِحْمَاثًا اس کی سرخی تیز ہوئی

قاعدہ :- وزن اِفْعَالَ، الوان و میوب کے لئے مخصوص ہے۔

تَفَعَّلَ :- مطاوعت تَفَعَّلَ، جیسے وَحَوَّجْتَهُ فَنَدَّ حَدَجَ میں نے اس کو روٹھکایا، سو وہ لڑھک گیا۔

اِفْعَلَّ وَاِفْعَلَّلَ :- مبالغہ، جیسے اِسْتَحْفَضَا اس نے نہایت شتابی کی اِسْتَحَفَّوْہ سہت خوف یا ڈر یا سردی کے باعث کانپ گیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔

تنبیہ :- مجرود کو مزید میں لانے کی یہ چند اہم اغراض تھیں جو سپرد قلم ہوئیں، علمائے سرف نے اور اغراض کا بھی ان میں اضافہ کیا ہے، مگر ہم نے طوالت کلام کے خوف سے ان کو نظر انداز کر دیا۔

یہ واضح رہے کہ ان ابواب مزید فیہ کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہر مجرود سے ان کو بنایا جائے، بلکہ یہ سب سماجی چیزیں ہیں جن کا درسا اور کتب لغت پر ہے۔

مشتقات

فعل سے جو اسم مشتق ہوتے ہیں وہ کل دس ہیں :-

مصدر، اسم مہرہ، اسم نوع، ظرف مکان و ظرف زمان، اسم آلہ، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مبالغہ

مصدر

ثلاثی مجرود کے مصادر قیاسی نہیں، ان کے چند اوزان میں جن کی شناخت کا درسا پر ہے، چنانچہ اکثر و بیشتر :-

(۱) جو پیشہ کے معنی دیتے ہیں وہ فِعَالَتَا کے وزن پر آتے ہیں جیسے زِرَاعَةٌ، تِجَارَةٌ، حَيَاكَةٌ۔ وغیرہ

(۲) جو امتناع کے معنی دیتے ہیں وہ فِعَال کے وزن پر آتے ہیں جیسے اِبَاءٌ، شِرَاءٌ، جِمَاعٌ۔

(۳) جو اضطرار کے معنی کو مفید ہوتے ہیں ان کا وزن فَعْلَان ہوتا ہے جیسے غَلِيَانٌ، جَوْلَانٌ، خَفَقَانٌ

(۴) جو بیماری و مرض کے معنی ظاہر کریں وہ فُعَالٌ کے وزن پر ہوتے ہیں جیسے صَدَاعٌ، زُكَامٌ، دُوَادٌ

(۵) جن سے سیر کے معنی لکھیں وہ فَعِيْلٌ کے وزن پر آتے ہیں جیسے رَحِيْلٌ، ذَمِيْلٌ۔

(۶) جن سے آواز کے معنی سمجھے جائیں ان کا وزن فُعَالٌ یا فَعِيْلٌ ہوتا ہے جیسے صَرَاحٌ، زَعِيْرٌ۔

(۷) جو سی زنگ کے معنی پر دلالت کریں ان کا وزن فُعَلَةٌ ہوتا ہے جیسے حُمَامَةٌ، زُرْقَةٌ، حَضْرَةٌ۔

اور اگر مذکور المصدر معانی نہ ظاہر کریں تو بیشتر :-

(۱) فَعْلٌ کا مصدر فُعُولَةٌ یا فَعَالَتَا کے وزن پر آتا ہے جیسے سُهُولَةٌ، نِبَاهَةٌ، فَصَاحَةٌ

(۲) اور فَعِيْلٌ لازمی کا مصدر فَعْلٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے فَرُخٌ، عَطَشٌ، بَلْبٌ

(۳) اور فَعْلٌ لازمی کا مصدر فَعْوَلٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے فَعُوْدٌ، خُرُوْجٌ، نَهْوْمٌ۔

(۴) اور فَعِيْلٌ و فَعْلٌ متعدی کا مصدر فَعْلٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے فَعْمٌ، نَصْرٌ۔

مصادر غیر ثلاثی

یہ سب کے سب قیاسی ہیں، اور حسب ذیل احکام کی رو سے ان کا استعمال ہوتا ہے :-

فَعَلَ :- فعل کا مصدر تَفَعَّلَ آتا ہے جیسے فَرَحَ تَفَرَّحًا ، اور کبھی تَفَعَّلَ کے وزن پر بھی جیسے وَسَّعَ نَوَسَعًا وَقَدَّمَ نَقَدَمًا اور اگر مہوز اللام ہو تو تَفَعَّلَ کے وزن پر زائد اور تَفَعَّلَ کے وزن پر کم آتا ہے جیسے نَبَأَ تَنْبِئَةً وَوَطَأَ نَوَاطِئَةً وَهَنَاءَ تَهْنِئَةً اور اگر ناقص ہو تو صرف تَفَعَّلَ کا ہی وزن آتا ہے جیسے عَلَى تَحْلَبَةً وَذَكَى تَزَكِيَةً اور اگر اہون ہو تو صرف تَفَعَّلَ کے وزن پر آتا ہے جیسے قَوَّمَ تَقْوِيمًا ، سَدَّدَ تَسْوِيدًا ۔

فَاعَلَ :- اس کا مصدر فَعَالٌ وَمُفَاعَلَةٌ آتا ہے جیسے قَاتَلَ قِيَالًا وَمُقَاتَلَةٌ البتہ جہاں فَا کلمہ یا ر ہوں مفاعلتہ کا وزن مخصوص ہے جیسے يَاسِرٌ مِيَا سِرَةً وَيَا مَن مِيَا مَنَةً اور يَا وَفَ مِيَا وَ مَسَةً اور يُوَا مًا شاذ ہے ۔

أَفْعَلَ :- اس کا مصدر اَفْعَالٌ ہے جیسے اَلْمَرَاكِرُ اَمَّا اگر عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو نقل کر کے الف سے بدل دیتے ہیں پھر و دالت جمع ہوجانے کے باعث ایک کو حذف کر کے اس کے عوض میں آخر میں تاء بڑھا دیتے ہیں جیسے اَمَاتَ اِمَاتَةً ، اَغَاتَ اِغَاتَةً ، اَشَارَ اِشَارَةً ۔

تَفَعَّلَ :- اس کا مصدر تَفَعَّلٌ ہے جیسے تَقَدَّرَ تَقَدُّمًا اور جب لام کلمہ حرف علت ہو تو یاد سے بدل کر ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں جیسے تَأَنَّى تَأَنِيًا ، تَقَاضَى تَقَاضِيًا ۔

اِفْتَعَلَ :- اس کا مصدر اِفْتَعَالٌ ہے جیسے اِشْتَرَكَ اِشْتِرَاكًا ۔

اِفْعَلَّ :- اس کا مصدر اِفْعِلَالٌ ہے جیسے اِحْمَرَ اِحْمَارًا ۔

اِنْفَعَلَ :- اس کا مصدر اِنْفِعَالٌ ہے جیسے اِنطَلَقَ اِنطِلَاقًا ۔

اِسْتَفْعَلَ :- اس کا مصدر اِسْتِفْعَالٌ ہے جیسے اِسْتَعْرَجَ اِسْتِعْرَاجًا لیکن عین کلمہ اگر حرف نلت ہو تو الف سے بدل کر حذف کر دیتے ہیں ، اور آخر میں تاء بڑھا دیتے ہیں جیسے اِسْتِقَامَ اِسْتِقَامَةً ۔

اِفْعَوْلَ :- اس کا مصدر اِفْعِيْعَالٌ ہے جیسے اِحْدَوْدَبَ اِحْدِيدًا ۔

فَعَّلَلَ :- اس کا مصدر فَعَّلَلَةٌ وَفِعْلَالٌ ہے جیسے دَخَرَجَ دَخْرَجَةً وَدَخْرَاجًا و درازن میں مفاعلت ہونے کی صورت میں قیاسی ہوتا ہے ورنہ سماعی جیسے وَسَوَسَ وَسَوَسَةً يَا وَسَوَاسًا ۔

تَفَعَّلَلَّ :- اس کا مصدر تَفَعَّلَلٌ ہے جیسے تَدَخَّرَجَ تَدَخْرَجًا ۔

اِفْعَلَّلَّ :- اس کا مصدر اِفْعَلَّلَالٌ ہے جیسے اِحْرَجِمَ اِحْرَجَامًا ۔

اِفْعَلَّلَّ :- اس کا مصدر اِفْعَلَّلَالٌ ہے جیسے اِقْتَشَعَرَ اِقْتِشَعَارًا ۔

فعل مجہول کے مصدر کے لئے کوئی مخصوص وزن نہیں ، جو فعل معرود کا مصدر ہوتا ہے پس وہی فعل مجہول کا مصدر شمار ہوتا ہے جیسے ضَرَبَ ضَرْبًا ، جس طرح معرود میں کہا جاتا ہے ضَرَبَ ضَرْبًا ۔

مصدر مہمی

ثلاثی مجرد سے مصدر مہمی مَفْعَلٌ کے وزن پر آتا ہے مُنْظَرٌ ، مَضْرَبٌ ، مَسَى عَلَى اس قاعدہ سے مَرَجِعٌ ، مَسِيرٌ ، مَسِيرٌ ، مَشِيْبٌ ، مَسَى فِئًا ، مَقِيلٌ ، مَرَجِيٌّ سات الفاظ مستثنیٰ ہیں ۔

مثال داوی سے مَفْعِلٌ کے وزن پر آتا ہے ، خواہ مضارع کا عین کلمہ کسور ہو یا مفتوح جیسے مَوْرِدٌ ، مَوْعِدٌ ، مَوْجِلٌ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے ، اور بجائے علامت مضارع کے میم مفہوم لگاتے ہیں جیسے مُنْحَدَرٌ - مُصْطَبِرٌ - مُرْدَحِمٌ ۔

اکم مزہ و اکم نوع

اکم مزہ وہ مصدر ہے جو فعل کے صرف ایک دفعہ ہونے کو ظاہر کرے۔

اکم نوع وہ مصدر ہے جو فعل کی ہیئت وقوع بتائے۔

اکم مزہ ثلاثی مجرد سے فَعَلَتْ کے وزن پر آتا ہے جیسے ضَرَبْتُ ضَرْبَةً وَأَخَذْتُ أَخْذَةً ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب میں اکم مزہ بنانے کے لئے باب کے اصل مصدر پر تادیر طھانی پڑتی ہے جیسے التفتُّ التفتُّ، انطلقت انطلاقةً ثلاثی وغیرہ کے مصادر کے آخر میں جب تاء آجائے تو اکم مزہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کا لانا ضروری ہے جو وحدت کے معنی دے جیسے ضَرَبْتُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، قَاتَلْتُ مَقَاتِلَةً لَأَغِيرَ، مَا التفتُّ إِلَيَّ إِلَّا التفتُّ إِلَيَّ أَجَابَةً فَقَطْ۔

اکم نوع ثلاثی مجرد سے فَعَلَتْ کے وزن پر آتا ہے جیسے وَقَفَ وَقْفَةً الْأَسَدُ وَمَشَى مَشْيَةً الْمُخْتَالِ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اکم مزہ ہی کے وزن پر آتا ہے جیسے حَسَنُ الْإِنطِلَاقَةِ وَقَبِيحُ الْمَعَاشِرَةِ۔

ظرف مکان و ظرف زمان

ظرف مکان وہ ہے جو وقوع فعل کی جگہ کو بتائے، ظرف زمان وہ ہے جو وقوع فعل کے وقت کو بتائے۔

ظرف مکان و ظرف زمان ہر دو مفعول کے وزن پر آتے ہیں، جب کہ ان کے مضارع کا عین کلمہ یا مفتوح ہو جیسے مَطْبَعٌ، مَدِينَةٌ۔

اور جب عین کلمہ مکسور ہو تو مفعول کے وزن پر آتے ہیں جیسے مَجْلِسٌ، مَنَزِلٌ اس قاعدہ سے الفاظ مندرجہ ذیل مستثنیٰ ہیں، کیوں کہ ان کا مضارع کو مضموم العین ہے مگر پھر بھی یہ مفعول کے وزن پر آتے ہیں جیسے مَسْجِدٌ، مَشْرِقٌ، مَغْرِبٌ، مَطْلِعٌ، مَجْمُوعٌ، مَسْرُوقٌ، مَسْكِينٌ، مَنَسِيكٌ، مَدِينَةٌ، مَسْقِطٌ۔

مثال سے ظرف زمان و مکان ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے اور ناقص سے ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے مَوْجِدٌ مَوْجِدٌ، مَطْلُوبٌ، مَسْرُوقٌ، مَسْرُوقٌ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے مصدر بھی کے مانند جیسے أَدْخَلَ مَدْخَلٌ جان لیجئے کہ مفعول کا وزن کسی جگہ کسی چیز کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے جیسے مَقْبَرَةٌ، جہاں قبوریں بکثرت ہوں مابلاً جہاں اونٹ بہت ہوں مَفْعَاةٌ جہاں سانپ زیادہ ہوں مَسْبَعًا، جہاں وزندے بکثرت ہوں، ثلاثی مجرد و مزید سے یہ وزن قیامی ہے، بعض کا خیال ہے کہ وزن گوہرین معنی بکثرت آتا ہے مگر قیامی نہیں۔

اسم آلہ

اسم آلہ اس آلہ یا اس آواز کو بتاتا ہے جس سے کوئی کام کیا جائے، یہ صرف ثلاثی مجرد و متعدی سے بنتا ہے، البتہ مَفْعَاةٌ (صفا) سے مَرْقَاةٌ (مماقی) سے مِزْمَارٌ (مماقی) سے مستثنیٰ ہیں۔

اسم آلہ کے تین وزن ہیں:۔ مِفْعَلٌ جیسے مَبْرَدٌ، مِفْعَالٌ جیسے مِقْتَارٌ، مِفْعَلَةٌ جیسے مَكْنَسَةٌ، مُنْخَلٌ مَدْهَنٌ، مُكْحَلَةٌ، مَدَقٌ، مُسْعَطٌ، مُنَارَةٌ، مُسْطٌ۔ وغیرہ الفاظ اسمائے جامدہ کے مانند ہیں، ان میں فعل سے اشتقاق کا اعتبار نہیں اور وہ اسم آلہ جو فعل سے مشتق نہ ہو سکے اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں، مختلف اوزان پر آتا ہے جیسے قُدُومٌ، سِيكِبِنٌ، وَاسٌ۔ وغیرہ۔

اسم فاعل و اسم مفعول

اسم فاعل اس ذات کو بتاتا ہے جس سے فعل کا صدور ہوا ہو، یہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے ضارب، قاتل، ناصب۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے مضارع معرون کے وزن پر آتا ہے اس صورت سے کہ علامت مضارع کو متیم مضموم سے بدلا جاتا ہے اور ماقبل آخر کو کسرہ دیا جاتا ہے، جیسے مکرہ، متقدّم۔

اسم مفعول اس ذات کو بتاتا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو، یہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے مقرب، ماخوذ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے مضارع مجول کے وزن پر اس صورت سے کہ علامت مضارع کو متیم مضموم سے بدلا جاتا ہے اور ماقبل آخر کو فتح دیا جاتا ہے جیسے مکرّم، مدّاخرج۔

تنبیہ :- قیاس تو یہی چاہتا ہے کہ اسم فاعل و اسم مفعول کا اشتقاق اپنے ہی فعل سے ہو، خواہ وہ مجرد ہو، خواہ مزید، لیکن بعض الفاظ شاذ ہونے کے سبب اس قیاس کے ماتحت نہیں آتے جیسے أمحل سے ماحل، أملاح سے مالح، آیفح سے یافح، أعشب سے عاشب، أحبہ سے محبوب، آجتہ سے مجنون، آحمہ سے محمود، آزکمه سے مذاکوم، آسئل سے مسؤل۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے اسم مفعول مصدری، ظرف زمان و مکان ایک ہی وزن پر آتے ہیں صرف قرآن معنویہ کے ذریعہ امتیاز کر لیا جاتا ہے

صفت مشبہ

صفت مشبہ اس ذات کو بتاتا ہے جس میں معنی مصدری بطور ثبوت یعنی پائیداری کے پائے جلتے ہوں جیسے جمیل ثلاثی مجرد سے اس کے اوزان سماعی ہیں جیسے حسن، کریم، کین، سهل، صعّب، ان اگر فعل لون، عیب یا حلیہ پر دلالت کرے تو صفت مشبہ کے لئے وزن أفعل کا ہے جیسے آسود، آعرج، آیلج۔

اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے صفت مشبہ صرف ابواب لازمہ سے آتی ہے جیسے

اسم تفضیل

اسم تفضیل ان ذات کو بتاتا ہے جس میں اوزان کی نسبت مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے، اس کو فعل التفضیل بھی کہتے ہیں، اس میں مذکر کے لئے أفعل کا وزن مقرر ہے اور مؤنث کے لئے فُعلی کا، اور یہ صرف ثلاثی مجرد کے ابواب سے بنتا ہے، وہ مادے جو رنگ، عیب، حلیہ پر دلالت کرتے ہیں، ان سے اسم تفضیل کا صیغہ نہیں آتا، بلکہ اسی وزن پر صفت کا صیغہ آتا ہے۔

اور وہ ابواب یا مادے جن سے اسم تفضیل کا صیغہ أفعل کے وزن پر نہیں آسکتا، ان سے اگر اسم تفضیل کے معنی ظاہر کرنا ہوں تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ آشد یا أكثر یا انتہی جیسے الفاظ کے بعد اس باب کا مصدر منصوب استعمال کرتے ہیں جیسے أشد سواداً، أشدّ أجراً۔ اسم تفضیل معرون اور ثلاثی مجرد سے بنتا ہے لیکن بعض الفاظ شدّ و ذمّ اور ابواب غیر ثلاثی سے بھی آتے ہیں مثلاً العود أحمد میں (أحمد) حید سے اور (حایم) أعطی من عمرو میں (أعطی) أعطی سے اور (هذا) أخصر من ذلك میں (أخصر) أخصر سے ہیں کبھی اسم تفضیل اسم جامد سے بھی آتا ہے جیسے "ما بالبادیة أنوار منة" میں (أنوار) نوء سے ماخوذ ہے خیر و شر و صل خیر و شر تھے کثرت استعمال کے باعث ہر دو جگہ سے ہر جگہ کا سقوط ہوا، کبھی مع ہر جگہ کے بھی استعمال ہوتے ہیں۔

اوزان مبالغہ

مبالغہ ہے جو کسی فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی کو بتائے، اس کے مشہور وزن یہ ہیں۔

(۱) فَعَالَتْ جیسے عَلَامَةٌ وَنَصَارًا (۲) فَعَالَتْ جیسے عَلَامَةٌ وَنَهَامَةٌ (۳) فَعِيلٌ جیسے صِدِّيقٌ وَسَيِّدٌ (۴) مَفْعِلٌ جیسے مَسْكِينٌ وَمُعْطِيٌّ (۵) مَفْعَالٌ جیسے مَسْأَلٌ وَمُقْدَامٌ (۶) فُعَلَتْ جیسے مُعْكَةٌ وَمُجْعَعَةٌ (۷) فَعِلٌ جیسے شَرٌّ وَخَذِرٌ (۸) فَعِيلٌ جیسے رَحِيمٌ وَعَظِيمٌ (۹) فَعُولٌ جیسے كَذُوبٌ وَقُدُودٌ (۱۰) فَاعِلَةٌ جیسے رَاوِيَةٌ (۱۱) فَعَلٌ جیسے عُنُقٌ (۱۲) فَعُولَةٌ جیسے فَرُوقَةٌ (۱۳) مَفْعَلٌ جیسے مِخْرَبٌ (۱۴) فَاعُولٌ جیسے فَارُوقٌ (۱۵) فَعَالٌ جیسے كِتَابٌ۔

مبالغہ کے اوزان سب سامی ہیں، اور وہ صرف ثلاثی مجرد سے آتے ہیں البتہ ذَرَاك، اَدْرَاك سے اور مِعْطَاء اعْطَى سے مِهْمَوَان اَهَانَ سے، مِحْسَانٌ اَحْسَنَ سے، مِثْلَانٌ اَتْلَفَ سے، مِثْلَانٌ اَمْلَقَ سے، مِخْلَافٌ اَخْلَفَ سے، اور سَمِيعٌ اَسْمَعُ سے، نَدِيرٌ اَنْذَرَ سے، زَهْوَقٌ اَزْهَقَ سے شاذ ہیں۔

قائدہ:- بعض اوزان مبالغہ کے ساتھ تالافظی ہوتی ہے تو وہ تالافظی سے تالیف نہیں ہوتی، بلکہ تاکید مبالغہ کے لئے آتی ہے جیسے عَلَامَةٌ (بہت بہت جاننے والا، فَرُوقَةٌ بہت بہت فرق کرنے والا) مَجْرَمَةٌ (بہت بہت کاٹنے والا)۔

جب فَعِيلٌ فَاعِلٌ کے معنی میں ہوں تو مذکورہ مونس میں فرق ہوگا خواہ موصوف کا ذکر ہو یا نہ ہو، جیسے "رَجُلٌ نَصِيرٌ" "اِمْرَاةٌ نَصِيْرَةٌ" وَجَاءَ نَصِيْرٌ وَنَصِيْرَةٌ۔

اور اگر فَعِيلٌ بمعنی مَفْعُولٌ ہو اور موصوف بھی ساتھ ساتھ مذکور ہو تو مذکورہ مونس میں ایک ہی حالت ہوگی جیسے "زَيْدٌ قَتِيْلٌ" "وَأَتَتْ الْمَاءَةَ جَرِيْحًا" اور غیر موصوف کے فرق ہوگا جیسے "جَاءَ حَبِيْبٌ وَحَبِيْبَةٌ"۔

اسی طرح اگر فَعُولٌ بمعنی فَاعِلٌ ہو تو موصوف کے ساتھ مذکورہ مونس میں ایک حالت رہے گی، جیسے يَحْيَى الْبَتُوْلُ، فَرِيْحُ الْبَتُوْلُ اور اگر موصوف نہ ہو تو فرق ہوگا جیسے:- جَاءَ بَتُوْلٌ وَبَتُوْلَةٌ۔

اور اگر فَعُولٌ بمعنی مَفْعُولٌ ہو تو مونس و مذکورہ فرق و امتیاز ہوگا خواہ موصوف مذکور ہو یا نہ ہو جیسے هَذَا رَسُوْلٌ وَتِلْكَ رَسُوْلَةٌ وَجَاءَ رَسُوْلٌ وَرَسُوْلَةٌ۔

مذکورہ مونس

مذکورہ علامتِ تکرار کے بے نیاز ہے، البتہ مونس کے لئے تین علامتیں مقرر ہیں:-

(۱) تاء جیسے نَلْمَةٌ، قُوَّةٌ، نَعْمَةٌ، تَدَا سَمَاءٌ (۲) الف مقصورہ جیسے عَدَدِيٌّ، فَضْلِيٌّ، كَبِيْرِيٌّ، عَظْمِيٌّ۔ (۳) الف ممدودہ، جیسے حَمَاءٌ، سَوْدَاءٌ، بَيْضَاءٌ، زَرْقَاءٌ۔

ہر علامت تالیف آخر اسم میں زائد کی جاتی ہے، اور یہ اسم کو مونس بنا دیتی ہے، لیکن وہ اسماء جو مردوں کے نام ہوں ان کے آخر میں گو علامت تالیف ہوں مذکورہ جیسے طَلْحَةَ، نَجْلَةَ، اَرْطَى، خَضْرَاءٌ وغیرہ مونس کی دو قسمیں ہیں، مونس لفظی، مونس معنوی۔

مونس لفظی وہ ہے جس میں علامت تالیف ظاہر میں لگی ہوئی ہو، جیسے اَخْلَصَ مَذْرُوعٌ الصَّدْرِيْسُ۔

مونس معنوی وہ ہے جس کو اہل زبان نے مونس بنا لیا، لیکن اس میں کوئی ظاہری علامت تالیف نہ ہو، یہ چار قسم پر ہے:-

(۱) عورتوں کے نام جیسے:- مَرْكَمٌ، زَيْنَبٌ وغیرہ۔

(۲) وہ اسماء جو عورتوں کے لئے ہی مخصوص ہوں، جیسے:- اُخْتٌ، اُمٌّ وغیرہ۔

(۳) شہروں اور قبیلوں کے نام، جیسے:- شَامٌ، مِصْرٌ، قُرَيْشٌ وغیرہ۔

(۴) ان اعضاء جسمانی کے نام جو دو دو ہوں جیسے:- عَيْنٌ، رَجُلٌ، اُذُنٌ، لیکن یہ آخر حکم التالیف کے کیوں کہ صَدْرٌ، مَرْفِقٌ، حَاجِبٌ، خَدٌ وغیرہ مونس نہیں ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں جن کو اہل لفظ نے جمع کیا ہے، ہوں تو وہ بہت ہیں مگر ہم چند کا ذکر کرتے ہیں۔

اُذُن، اَرْض، اَدْنَب، اَرْوَى، اَسْت، اَصْبَع، اَفْعَى، اَبْر، اَجْعَلِم، اَجْهَتَم، حَرَب، دَار، اَزْرَاع، رَجَل، رَحْم، رَحَى
رَيْح، سَقَا، سَن، سَاق، شَمْس، شَمَال، ضَبْع، عَرُوض، عَصَا، عَقَب، عَيْن، فَاَس، فَاغْنَا، فَذَك، قَدَام، قَوَس
كَاس، كَفَف، كَرَش، كَف، نَار، نَعْل، نَاب، وَرَك، يَد، يَمَن -

ہوا کے جو اسم ہیں وہ بھی مؤنث بنانے جاتے ہیں جیسے صبا، قبول، اجتوب، دبور، شمال، حیف، حروس، سمور وغیرہ
ان کے علاوہ بعض ایسے اسم بھی ہیں جن میں تذکیر و تانیث دونوں صورتیں جائز ہیں، ان میں مشہور یہ ہیں:-

اَبَط، اَزَار، حَال، حَانُوت، خَمْر، حَرَع، دَلُو، رُوح، زَقَاق، سَبِيل، سَعْرَى، سَرَاوِيل، سَلَاح، سَلَكِين، سَلَم، سَلْم
سَمَاء، سَوَق، صَاع، صُنْحَى، طَرَس، طَرِيق، عَجْن، عَضَد، عَقَاب، عَقْرَب، عَنُق، عَنَكِيوت، قَرُوس، قَرَس، قَهْم، قَدَار
قَفَا، قَمِيص، كَيْتَد، لَسَان، مِسْك، مِلْح، مَنَجِيْق، مَوَسَى، نَفْس، وَرَاء -

حروف تہجی بھی علم میں انھیں الفاظ کے شریک حال ہیں - **مثنیٰ**

وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، کسی اسم واحد کو جب مثنیٰ بنا نا چاہتے ہیں تو حالت رفعی میں اس کے آخر میں الف بڑھاتے ہیں اور حالت نصبی
جری میں یا قبل مفتوح، اور آخر میں نون مکسور زائد کرتے ہیں جیسے: جاء الرجلان، رأت الرجلين ومرت بالرجلين۔

کوئی علم اگر مرکب اضافی ہو تو اس کے جزو اول (مضاف) کو مثنیٰ لاتے ہیں جیسے عبد الملك اور اگر مرکب بنائے یا مرکب استلوی
ہوں تو ان کو اپنی حالت پر رکھتے ہیں البتہ مذکورہ ہونے کی صورت میں ان سے پہلے ذوا اور مؤنث ہونے کی حالت میں ذواتا بڑھاتے ہیں جیسے
ذو اعد یكرب، ذواتا بعلبک جن کا تثنیہ نہیں آتا وہ یہیں بعض، اجمع جمعاء، کل، احد، عروبہ، اسمائے اعدا اور وہ اسم تفضیل جرحن
— کے ساتھ استعمال ہو جیسے الیدان، افضل من الرجلين۔

مثنیہ اسم منقوص

اسم منقوص وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یا قبل مکسور ہو جیسے القافی اور اگر اس میں یا حذف ہو چکی ہو تو مثنیہ بنانے وقت لوٹا قی
ہے جیسے راہ، راہیان، راعن، راعیان۔

مثنیہ اسم مقصور

اسم مقصور وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف ہو اور اس کے بعد ہمزہ نہ ہو جیسے عصا، رحى، یہ الف اگر تیسرے حرف کی جگہ ہو اور
کسی سے بدل کر آیا ہو تو مثنیہ بنانے کی صورت میں وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا، جیسے رجاء، رجوان، فقی، قتیان اور اگر الف چوتھی جگہ یا اس سے
زائد ہو تو زیاد سے بدل جاتا ہے جیسے ذکریان اور قهقران و خوزلان شادیں، کیوں کہ بروئے قیاس قهقران و خوزلیان کہنا چاہئے تھا۔

مثنیہ اسم ممدود

اسم ممدود وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ، جیسے صفراء، خضراء اس میں الف اگر تانیث
کے لئے ہو جیسے خضراء میں تو مثنیہ بناتے وقت ہمزہ کو واؤ سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے خضروان، یجب ہے کہ الف سے پہلے واؤ
نہ ہو ورنہ ہمزہ کو باقی رکھتے ہیں تاکہ دو واو جمع نہ ہو جائیں جیسے عشواء سے عشوان۔
اگر ہمزہ اصلی ہو تو بھی لزوماً باقی رکھی جاتی ہے، جیسے لاء سے لاءان، قرأ سے قرأان۔

اگر ہمزہ نہ اصلی ہی ہوتی تانیث کے لئے تو اس میں ہر دو صورتیں روا ہیں، خواہ اس کو واؤ سے بدلیں خواہ اس کو بجزبہ رکھیں جیسے سماء سے سماوان اور سماوان -

تشنیہ اسماء محذوف اللام

وہ اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض میں کچھ نہ ہو تو تشنیہ بناتے وقت ان کا لام کلمہ واپس آئے گا جیسے آب کہ دراصل آبو تھا بجات تشنیہ ابوان اسی طرح اخوان، حموان، عداوان وغیرہ، البتہ قم ویدا میں واؤ واپس نہیں آئے گا، بلکہ کہیں گے فآن ویدا ان

اور وہ اسماء جن میں محذوف کی جگہ کچھ ہو تو ان کو اپنی صورت پر باقی رکھ کر تشنیہ بنایا جائے گا، جیسے سنۃ، ابن، اسم کہ ان کا تشنیہ ستان، ابنان، اسمان ہے۔

جمع

جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم رہے، اور جنوں کا توں جو کچھ زیادہ ہو وہ آخر میں۔ اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے، بلکہ بگڑ جائے اور متغیر ہو جائے، پھر جمع سالم کی بھی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم

جمع مذکر سالم

جمع مذکر سالم وہ ہے کہ بجات رفعی اس کے آخر میں واؤ قابل مضموم ہو، اور بجات نصبی وجرئی یا رما قبل مکسور اور دونوں کے بعد وزن جیسے جاء مسلمون، رأیت مسلمون، امرت بمسلیحین اس وزن پر جمع بنانے کے لئے یہ شرط ہے کہ اسم تانیث کی وجہ سے خالی ہو اور مفرد ہو نہ مرکب، لہذا طلحة گو مذکر علم ہے لیکن تانیث کی وجہ سے اس کی جمع واؤ نون سے نہیں آئے گی، اسی طرح معد یکرب و بعلبک وغیرہ، یا عبد الملك و تابطشہ اگر یہ مرکب ہیں نہ مفرد، اگر ان کی جمع بنانی ہو تو لفظ ذو کی جمع بنا کر ان کلمات کی طرف اس کی اضافت کریں گے جیسے: ذو معد یکرب، ذو بعلبک، و ذو تابطشہ۔

بعض ایسے بھی ہیں جن کی جمع جمع مذکر سالم کے وزن پر آتی ہے، اگرچہ اس کی شرطیں ان میں نہیں پائی جاتی مثلاً ارضون، عالمون، علیون، اهلون، بنون، سینون۔ اسی طرح بردہ کلمہ شامی جس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں تاملالی گئی ہو اس کی جمع بھی واؤ نون کے ساتھ آتی ہے جیسے عیون، ثبور، میون۔ جمع عضنا، ثبۃ، ماشۃ۔

جمع مؤنث سالم

جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور بی تار زیادہ کی جائے، جیسے ثورات، شجرات اگر مفرد کے آخر میں پہلے ہی سے تار ہو تو جمع بنانے کے لئے اس کو مذکر کر دیتے ہیں، جیسے طالبۃ سے طالبات، مسلمۃ سے مسلمات، مندوبۃ سے مندوبات، اس وزن پر جمع آتی ہے (۱) ہر وہ اسم جس کے آخر میں تانیث ہو جیسے شمرۃ سے ثورات، شمرۃ سے شجرات البتہ امرۃ، شاعرۃ، قلة، امة ملکہ، شفعۃ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(۲) ہر وہ اسم جو مؤنث کا علم ہو جیسے زینب سے زینبات، جہیم سے مؤیمات۔

(۳) ہر وہ مصدر جو تین سے زائد حرف رکھتا ہو جیسے تعریقات، امتیازات، اختیارات۔

(۴) ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث ہو خواہ مقصورہ ہو یا محدودہ جیسے صحرا سے صحراوات، حشی سے حشیات۔

اسانے مقصورہ و محدودہ میں الف کی تبدیلی یا التواء کے متعلق وہی صورتیں اختیار کی ہیں جن کا ذکر مشنی میں آچکا ہے۔ مذکورہ اسماء کے

- (۴) فَوَاعِلُ براس ثلاثی کی جمع جس کے فاسکے بعد واو یا الت زائد ہو جیسے جَوَاهِرُ، جمع جَوَاهِرُ، حَوَاتِمُ جمع حَوَاتِمُ
 (۵) فَعَائِلُ براس مؤنث کی جمع جس کا تیسرا حرف مدہ ہو جیسے صَحَائِفُ جمع صَحَائِفَةُ، نَسَائِلُ جمع نَسَائِلَةٌ۔
 (۶) أَفَاعِلُ أَفْعَلُ (بتثنية المرة) کی جمع جیسے أَصَابِعُ أَصْبَعٍ کی جمع أَنَامِلُ أَنَمِلَةٌ کی جمع أَجَادِلُ، أَجْدَالُ کی جمع۔
 (۷) أَفَاعِلُ أَفْعُولُ اور أَفْعُولَةٌ کی جمع جیسے أَسَالِبُ، أَسْلُوبُ کی جمع أَرَاجِيزُ أَرْجُوزَةٌ کی جمع۔
 (۸) فَعَائِلُ براس رباعی کی جمع جس کے حرف آخر سے پہلے مدہ ہو جیسے قَرَاهِيسُ جمع قَرِيْطَاسُ، عَصَافِيْرُ جمع عَصْفُوسُ۔
 (۹) مَفَاعِلُ، مَفْعَلُ اور مَفْعَلَةٌ کی جمع جیسے مَبَاضِعُ جمع مَبْضَعُ، مَكَائِسُ جمع مَكْنَسَةٌ۔
 (۱۰) مَفَاعِلُ، مَفْعَالُ، مَفْعِيلُ، مَفْعُولُ کی جمع جیسے مَفَاتِيْرُ جمع مِفْتَاحُ، مَسَاكِيْنُ جمع مَسْكِيْنُ، مَقَادِيْرُ جمع مَقْدُوْسُ۔

اسم جمع و شبہ جمع

اسم جمع وہ ہے جو جمع کے معنی دے اور اسی مادہ سے اس کے لئے کوئی مفرد نہ ہو جیسے جَيْلٌ، قَوْمٌ، نَهْطٌ، جَيْشٌ۔
 شبہ جمع وہ ہے جو جمع کے معنی دے اور اس کے واحد و جمع میں تار سے تیز ہو جیسے رِقٌّ کہ اس کا مفرد و ساقۃ ہے شہس کہ اس کا واحد شہس ہے
 اور اسی قبیل سے وہ جس کے واحد و جمع میں یا نسبتی سے فرق و امتیاز نہ ہو جیسے الرودی رومیوں میں سے ایک المجویسی مجوسیوں میں سے ایک
 البتہ پہلا غیر ذوی العقول کے لئے ہے اور دوسرا ذوی العقول کے لئے۔
 اسم جمع و شبہ جمع ہر دو کی جمع مفردات کے طرز پر آتی ہے جیسے قوم کی جمع اقوام، ثوب کی جمع اثواب، رفقہ کی جمع رفق، نجم کی جمع انجم اور دم کی جمع ادم

صفت

صفت وہ اسم ہے جو کسی ذات کی حالت کو بتائے، اس کی پانچ قسمیں ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اوزان مبالغہ۔

صفت کی تانیث

صفت کی مؤنث بنانے کے لئے اس کے آخر میں تاء لگا دی جاتی ہے جیسے صادق صادقۃ، کاذب کاذبۃ، لیکن وہ صفت جو فعلان یا
 افعال کے وزن پر ہو، یا اسم تفضیل ہو اس کی تانیث کے احکام مخصوص ہیں۔
 (۱) جو صیغہ صفت فعلان کے وزن پر ہو اس کی مؤنث فعلی کے وزن پر آتی ہے جیسے عطشان سے عطشی، سکران سے سکری
 ظمان سے ظمائی مگر بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان کی مؤنث تانیثی کے ساتھ آتی ہے مثلاً الیان، جیلان، خصمان، سخنان، صوحان
 قروجان، قشوان، مقمان، نصران اور بعض ایسے ہیں جن کی مؤنث فعلی کے وزن پر بھی آتی ہے اور تاء کے ساتھ بھی جیسے عطشان سے عطشانی اور عطشانۃ
 عشان سے عشانی اور عشانۃ۔

(۲) جو صیغہ صفت افعال کے وزن پر ہو اس کی مؤنث فعلی کے وزن پر آتی ہے جیسے ابیمن سے بیضاء، امسی سے مہراء
 (۳) اسم تفضیل کے لئے مؤنث کا صیغہ فعلی ہے جیسے احمرم سے کرمی، اصغر سے صغریٰ پھر اگر کلمہ ناقص واوی ہو تو واؤ کو یاد
 سے بدل دیتے ہیں جیسے احلی سے حلیا، ادنی سے دنیا۔

بعض صفات کے صیغے ایسے بھی ہیں جن میں تذکرہ و تانیث کا کوئی فرق نہیں، یہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) قَعَالَتْ جیسے رَجُلٌ قَهَامَةٌ، اِمْرَاَةٌ قَهَامَةٌ۔

(۲) مِفْعَالٌ جیسے رَجُلٌ مِفْعَالٌ وَاِمْرَاَةٌ مِفْعَالٌ اور مِيقَانَةٌ شَاوَةٌ۔

(۳) مَفْعِلٌ جِيسے رَجُلٌ مُعْطِرٌ ، وَامْرَأَةٌ مُعْطِرَةٌ

(۴) مَفْعَلٌ جِيسے رَجُلٌ مِفْشَمٌ ، امْرَأَةٌ مِفْشَمَةٌ

(۵) فُعْلَةٌ وَفُعْلَةٌ جِيسے رَجُلٌ ضَحْكَةٌ ، امْرَأَةٌ ضَحْكَةٌ اگر آپ میں کلمہ کو فتح دے دیں تو فاعلی معنی دے گا مثلاً ضَحْكَةٌ (بہت ہنسنے والا) هَنَّاءٌ (بہت عیب لگانے والا) هَنَّاءٌ (بہت ٹھٹھا کرنے والا)۔

(۶) فَعُولٌ بمعنی فاعل اور فَعِيلٌ بمعنی مفعول جِیسے رَجُلٌ صَبُوٌّ ، امْرَأَةٌ صَبُوٌّ ، غلامٌ قَتِيلٌ ، امْرَأَةٌ قَتِيلَةٌ ، عَدَاوَةٌ شَاوَةٌ ، البتہ فعیل بمعنی مفعول کبھی تا کے ساتھ مؤنث آتا ہے ، باوجود موصوف کے معروف ہونے کے جیسے خاتمہ سعیدہ : عاقبہ حمیدہ ، کبھی فاعل مؤنث بغیر تا کے آتا ہے ، جیسے امراء عقیمہ - کجی العظام وھی رمدیم۔

واضح رہے کہ وہ صفات جو عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں ان کے ساتھ اکثر تازیانیث لاحق نہیں ہوتی ، یہ جب کہ حدوث کے معنی ان سے مراد نہ لئے جائیں جیسے کائنی ، مَضِیْعٌ ، حَامِلٌ وغیرہ ان اگر حدوث کے معنی ملحوظ ہوں تو تازیانیث کی تارا لاحق ہوگی جیسے ارضعت فی ماضیۃ

صفت کی جمع

صفت کا صیغہ اگر فردی العقول کے لئے ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث اس کی جمع جمع سالم کی شکل میں آتی ہے جیسے رجال صادقون ، و نسلہ صدقات اور وہ صیغہ صفت کا جو بروزن افعال ، فعلاء ، فعلان ، فعلی ہو یا اسم فاعل ناقص ہر یا فعیل بمعنی مفعول ہو تو ان کے احکام مضموم ہیں جو زیر بیان آئیں گے۔

(۱) وہ صیغہ صفت جو بروزن افعال فعلاء ہو تو اس کی جمع قیاساً فُعْلٌ کے وزن پر آتی ہے جیسے اَحْمَرٌ کی جمع حُمُرٌ ، اَنْجُوْبٌ کی جمع عُجُوْبٌ اور کلمہ اجون یا ئی ہو تو فاعل کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں جیسے اَعْنِیدٌ کی جمع غِیْدٌ ، اَبْیَضٌ کی جمع بَیْضٌ ، اَهِیْفٌ کی جمع هِیْفٌ ۔

(۲) جب صفت فعلاًن فعلی کے وزن پر ہو تو اس کی جمع فُعْلَانٌ یا فِیْعَالٌ کے وزن پر آتی ہے جیسے سُكَارٌ مِیْ خِیَارِی ، سُكْرَانٌ و حِیوَانٌ کی جمع اور جِیَاعٌ و عِضَابٌ ، جُوْعَانٌ و عَضْبَانٌ کی جمع ۔

(۳) اسم فاعل ناقص کی جمع فُعْلَتَا کے وزن پر آتی ہے جیسے مَعَاةٌ و مَعَاةٌ کہ دراصل رُفِیْعَةٌ و عِضْبَةٌ تھے ۔

(۴) فَعِیْلٌ بمعنی مفعول جب ہلاکت ، درود و دکھ و پرانگندگی کے معنی دے تو اس کی جمع فَعْلٰی کے وزن پر آتی ہے جیسے جَوْنِیٌّ سے جَوْنِیٌّ صَرِیْعٌ سے صَرَعِیٌّ ، شَتِیْتٌ سے شَتِیٌّ اور اسی طرح فَعِیْلٌ بمعنی فاعل جب معنی میں ہی کے ساتھ مشابہت لکھتا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے جیسے مَرِیْضٌ کی جمع مَرَضِیٌّ یا فَعِیْلٌ کے وزن پر ہو جیسے ذَمِیْنٌ کی جمع ذَمْنِیٌّ یا فاعل کے وزن پر ہو جیسے هَالِكٌ کی جمع هَلْکِیٌّ ۔

صفات کی جمع کے بقیہ اوزان قیاسیہ چھپنا ؛

(۱) فُعَالٌ اور فُعْلَةٌ کے وزن پر اس اسم کی جمع آتی ہے جو فاعل کے وزن پر ہو اور اس کا وہم کلمہ صحیح ہو ، جیسے زَاہِرٌ صَائِمٌ کی جمع فُؤَادٌ و فُؤَادٌ اور کَاتِبٌ و ظَالِمٌ کی جمع کَتَبَةٌ و ظَلَمَةٌ ، فُعْلَةٌ کا وزن زیادہ تر اس فاعل کی جمع کے لئے ہے جو اجرت ہوا ، کسی صنعت و حرفت کے معنی میں ہوا جیسے سَاقَةٌ ، بَاعَتٌ ، حَاکِمَةٌ کہ یہ دراصل سَوَقَةٌ ، بَیْعَةٌ ، حِیْکَةٌ تھے ۔

(۲) فُعَلٌ کا وزن بھی فاعل کی جمع کے لئے ہے جیسے سَاجِدٌ و جَائِعٌ و نَاطِقٌ کی جمع سَجْدٌ و نُوْمٌ و جُوعٌ ہے ۔

(۳) فَوَاعِلٌ فاعِلَةٌ کی جمع ہے جیسے صَوَاحِبٌ و صَوَارِبٌ ، صَاحِبَةٌ و صَارِبَةٌ کی جمع اور فَوَاعِلٌ ہی کے وزن پر اس فاعل کی جمع آتی ہے جو اَنَاتٌ کی صفات سے ہو جیسے عَوَاقِرٌ ، حَوَامِلٌ ، طَوَاقٌ ، عَاقِرٌ ، حَامِلٌ ، طَالِقٌ کی جمع ۔

(۴) فُعْلَاءٌ فَعِیْلٌ بمعنی فاعل کی جمع ہے جیسے کَرَمَاءٌ ، عَلَمَاءٌ کَرِیْمٌ و عَالَمٌ کی جمع ۔

(۵) اَفْعِلَاءٌ فَعِیْلٌ کی جمع ہے جو مضاعف یا مقول الام ہو جیسے عَشَقٌ کی جمع اَغْنِیَاءٌ ، قُوَى کی جمع اقویاء ، مذکر اسم تفضیل کی جمع سالم اَفْعِلٌ

کے وزن پر آتی ہے جیسے اعظموں، اکوون اور جمع مکسر آفَاعِل کے وزن پر جیسے اصاعنر، اکابر۔
مزنث اسم تفضیل کی جمع سالم فعلیات کے وزن پر جیسے عظمیات، اکرمیات اور جمع مکسر فَعَلَ کے وزن پر جیسے صغرا لبر۔
صیغہ منثی الجموع کی جمع سالم آتی ہے جیسے ضواریات جمع ضواریب، آفاضلون جمع آفاضل۔

نسبت

کسی کلمہ آخر میں یاے مشدود کا کسرہ کے بعد لاحق کرنا تاکہ یہ الحاق مدلول کلمہ کے ساتھ کسی چیز کی وابستگی ظاہر کرے نسبت کہلاتا ہے۔
جب اسم منسوب الیہ ثلاثی مکسور العین ہو تو بوقت نسبت عین کو فتح دیا جائے گا جیسے قَحْدَا سے قَحْدَا تِی، مَلِک سے مَلِکِی۔
اور اگر منسوب الیہ رباعی مکسور العین ہو تو افسح ہی صورت ہے کہ اس کے عین پر بدستور کسرہ رہے جیسے مَشْرِق سے مَشْرِقِی۔
مَغْرِب سے مَغْرِبِی، یَثْرِب سے یَثْرِبِی۔

جس لفظ کے آخر میں تلے تانیث ہو نسبت کے وقت اس کا حذف لازم ہے، مثلاً ناصراً کی طرف نسبت میں ناصری کہیں گے جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ اس کی طرف نسبت کرنے کے حسب ذیل قواعد ہیں۔

(۱) الف مقصورہ اگر تیسرے حرف کی جگہ ہو تو بوقت نسبت وہ واؤ سے بدل جاتا ہے جیسے عصا سے عصوی، فتی سے فتوی
(۲) اگر الف مقصورہ چوتھا حرف ہو اور اصلی ہو تو پھر بھی اس کی واؤ سے تبدیلی زیادہ تر زیر عمل ہے جیسے مَرْمِی سے مَرْمِوِی اور حذف بھی ہوا ہے جیسے مَرْمِی اور اگر اصلی نہ ہو بلکہ زائد ہو خواہ تانیث کے لئے خواہ الحاق کے لئے تو اس میں مختار صورت حذف کی ہے، یعنی حَبِی، دُفْرِی کہیں گے، اور اس کی تبدیلی واؤ سے بھی جائز ہے مثلاً کہیں حَبِیوِی، دُفْرِوِی اور الف تانیث کو جب واؤ سے بدل دیں تو اکثر اس سے پہلے الف زائد کر دیتے ہیں جیسے طُوْبَاوِی، دُثِیَاوِی۔

(۳) الف مقصورہ اگر ایسے اسم میں واقع ہو جس کا دوسرا حرف متحرک ہو تو وہ حذف ہوتا ہے جیسے بَرْدِی سے بَرْدِوِی اسی طرح اگر کلمہ میں پانچویں جگہ ہو تو بھی حذف ہو جاتا ہے جیسے مصطفیٰ سے مُصْطَفِوِی بعضوں نے یہاں واؤ سے تبدیلی بھی جائز رکھا ہے گویا مُصْطَفِوِی بھی کہتے ہیں۔
اگر اسم کے آخر میں الف ممدودہ تانیث کے لئے ہو تو اس کی طرف نسبت کے قواعد۔

(۱) الف ممدودہ تانیث کے لئے ہونے کی صورت میں بوقت نسبت واؤ سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے صفراء سے صَفْرَاوِی۔
(۲) الف ممدودہ کا ہمزہ اگر اصلی ہو تو بحال خود رہتا ہے جیسے قُرَاء سے قُرَاوِی، اِبْتِدَاء سے اِبْتِدَاوِی۔
(۳) اگر اصلی نہ ہو تو اس کا لکھنا بھی جائز ہے اور اس کی واؤ سے تبدیلی بھی روا، مثلاً سِدَاء سے سِدَاوِی بھی کہتے ہیں اور رِدَاوِی بھی سَدَاوِی سے سَدَاوِی بھی کہنا روا ہے اور سَدَاوِی بھی۔

اسم منقوص کی طرف نسبت کرنے کے اصول۔

(۱) یاد اگر تیسری جگہ ہو تو اس کو واؤ سے بدل کر اس کے ماقبل فتح دیتے ہیں جیسے عَمِی سے عَمِوِی، حَتِی سے حَتِوِی۔
(۲) اگر چوتھی جگہ ہو تو حذف بھی جائز ہے جیسے قَائِن و مَائِن سے قَائِنِی و مَائِنِی اور واؤ سے تبدیلی بھی، مگر اس صورت میں ماقبل کو فتح ضرور دیا جائے گا، یعنی کہا جائے گا۔

(۳) اگر پانچویں جگہ ہو تو حذف کرنا ضروری ہے جیسے مُسْتَعِی سے مُسْتَعِوِی، مُعْتَدِی سے مُعْتَدِوِی اگر کوئی کلمہ فیصل کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں حرف صحیح ہو تو اس کا وزن اپنی حالت پر باقی رہتا ہے جیسے مَسِیْنِی سے مَسِیْنِوِی، صَلِیْب سے صَلِیْبِی، حَذِیْب سے حَذِیْبِوِی اگر وہ کلمہ ناقص ہے تو ایک یا دو حذف کر کے دوسرے کو واؤ سے بدل دیں گے اور ماقبل کو فتح دیں گے جیسے عَمِی سے عَمِوِی، عَلِی سے عَلِوِی اگر فیصلہ کے وزن پر ہو تو مضامعت و متصل نہ ہونے کی صورت میں یاد کو حذف کر کے ماقبل کو فتح دیا جائے گا مثلاً مَدِیْنِیۃ کی طرف نسبت کرنے میں

جیسے عین ابل سے عین ابلی، وادی آتی سے وادی آتی، عین حور سے عین حوری۔
 مرکب اسادوی میں نسبت جزو اول کی طرف کی جاتی ہے، جزو ثانی کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے تابط شرًا سے تابطی، ذریعہ سے ذری
 ذیل میں حروف تہجی کی ترتیب سے ان اسماء کی فہرست دی جاتی ہے جو قواعد نسبت کے خلاف مستعمل ہیں۔

عَبْدِي	بنی عبیدہ	رَبِّي	رَبِّي	أَنَاقِي	سابت	عَبْدِي
عَيْشِي	عبد شمس	رَبِّي	رَبِّي	أَهْوِي	راقبۃ عظیمة	عَيْشِي
عَبْدِي	عبد الدار	رَبِّي	رَبِّي	بَدْوِي	سامہر مز	عَبْدِي
عَبْقَسِي	عبد قیس	رَبِّي	رَبِّي	بَحْرَانِي	سارینۃ	عَبْقَسِي
عَبْدَالِي	عبد اللہ	رَبِّي	رَبِّي	بَهْرَانِي	ساروح	عَبْدَالِي
فَقْهِي	فہم کنانۃ	رَبِّي	رَبِّي	تَهَامِي	ساروحاء	فَقْهِي
فَرُهَوِي	فراہید	رَبِّي	رَبِّي	تَيْمِي	سامے	فَرُهَوِي
قَوِي	قویم	رَبِّي	رَبِّي	تَقْفِي	سارباب	قَوِي
قُرَشِي	قُرَشِي	رَبِّي	رَبِّي	جَمَانِي	سہل	قُرَشِي
كُنِّي	کنت	رَبِّي	رَبِّي	جَدَامِي	سلیقۃ	كُنِّي
رَبِيَانِي	رابعۃ عظیمة	رَبِّي	رَبِّي	جَلُولِي	سلیمۃ الأزد	رَبِيَانِي
مُلِي	ملیح خراۃ	رَبِّي	رَبِّي	حَبْلِي	سلیم	مُلِي
مُرُوِي	مرو الشاہجہانی	رَبِّي	رَبِّي	حُرُوِي	شام	مُرُوِي
مَرَقْسِي	امرؤ القیس	رَبِّي	رَبِّي	حَرَمِي	شعر کشیر	مَرَقْسِي
هَاجِرِي	ہجر	رَبِّي	رَبِّي	حَضْرَمِي	صدر کبیر	هَاجِرِي
هَدَنِي	ہذیل	رَبِّي	رَبِّي	حَزْنِي	صنعاء	هَدَنِي
نَبَالِي	انباط	رَبِّي	رَبِّي	دَهْرِي	طبیعۃ	نَبَالِي
نَصْرَانِي	ناصرۃ	رَبِّي	رَبِّي	ذَيْرَانِي	طیئ	نَصْرَانِي
يَمَانِي	یمن	رَبِّي	رَبِّي	دَامَانِي	عبیدہ کلب	يَمَانِي

تصغیر

بعض اظہار قلت یا حقارت اسم میں ایک خاص تغیر کرنے کو تصغیر کہتے ہیں۔
 ثلاثی مجرد سے تصغیر قعیل کے وزن پر آتی ہے جیسے عبداً سے عبیداً، راجل سے رجیل۔
 ثلاثی مزید باہمی اور خاسی سے جب کہ چوتھا حرف تہ نہ ہو تو تصغیر قعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے جعفر سے جعیفر، سقرجیل
 سے سفیدج۔

اگر تہ نہ ہو تو قعیل کے وزن پر جیسے مضراب سے مضرب، قرطاس سے قرطیس، اگر کم کے آخر میں تہ نہ ہو
 یا الف نون زائد تان تو علامت تانیرث یا الف نون سے طحق جو حرف ہو گا وہ جو کاتوں اپنی پہلی حالت پر رہے گا جیسے ثمرۃ سے ثمری، بشری
 سے بشری، سماء سے سمیراء، سکوان سے سکیزان، غضبان سے غضبان۔

اگر مؤنث معنوی ثلاثی ہو تو تصغیر میں ظاہر کی جاتی ہے، جیسے ارضی سے ارضیۃ، شمس سے شمسۃ البتہ اس کے لئے شرط ہے کہ التباس کا خطرہ نہ ہو مثلاً خمس کی جب تصغیر بنائی ہوگی جو معدودہ مؤنث کے لئے ہے تو خمیس کہیں گے نہ خمیسۃ و نہ خمسة کی تصغیر کا شبہ ہوگا جو معدودہ مذکر کے لئے ہے۔

اگر کسی کلمہ میں حرف علت ہو اور تعیل ہو چکی ہو تو تصغیر بناتے وقت وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ مثلاً باب کی تصغیر یوب اور ناب کی تصغیر یبیب ہوگی، کیوں کہ الف پہلے میں واؤ سے اور دوسرے میں یاء سے بدلا ہوا ہے، یاب و جب کہ ان کی جمعیں ابواب و نیاب ہیں اور کھلا اصول ہے کہ جمع تکمیر اسماء کو اصل کی جانب لوٹا لاتی ہے، ہاں اگر الف کی اصلیت کا پتہ نہ لگ سکے کہ وہ واؤ سے بدلا ہوا ہے یا یاء سے تو ما قبل ضم کا اعتبار کرتے ہوئے تصغیر میں واؤ لاتے ہیں، جیسے عاجر سے عویج یہی حکم اس واؤ یا یاء کا ہے جو بدلے ہوئے ہوں، جیسے مؤسر سے مئیسیر، میزان سے مؤیزن البتہ عید کی تصغیر عیبید شاذ ہے، کیونکہ قیاس عوید کو چاہتا ہے، اگر واؤ اور یاء بدلے ہوئے نہ ہوں تو ان میں تغیر نہ ہوگا، جیسے سور سے سویر، بیت سے بییت اگر اسم مصغر کا دوسرا حرف الف زائد ہو جیسے خالد و ضارب تو وہ اجماعاً واؤ سے بدل جائے گا جیسے خالد سے خوید، ضارب سے ضویرب۔

اگر اسم مصغر کا تیسرا حرف الف ہو یا واؤ تو اس کو یاء سے بدل کر یاء تصغیر میں مدغم کر دیتے ہیں، جیسے عصا سے عصی، دلو سے دلی عجز سے عجیز، کتاب سے کتیب، اگر واؤ متحرک ہو اور لام کلمہ نہ ہو تو اس کو یاء سے بدلنا یا باقی رکھنا دونوں صورتیں جائز ہیں جیسے جدول سے جدیل یا جدیول، آدوسا سے ادیر یا ادیوسا۔ اگر تیسرا حرف یاء ہو تو وہ یاء تصغیر میں مدغم ہو جاتی ہے جیسے نصیر سے نصیر، جمیل سے جمیل اگر چہ تیسرا حرف واؤ ہو یا الف تو ان کو یاء سے بدل دیا جاتا ہے جیسے عصفور سے عصفیر۔ اور سلطان سے سلطین۔

اگر اسم تفضیل ناقص ہو جیسے احلی و شہی تو تصغیر کے ما بعد فتح ہوگا جیسے هو اخیل من العسل۔

اگر کسی اسم میں آخر سے کچھ حذف ہو کر دو حرف پہلے رہے ہوں تو تصغیر میں حذف شدہ حرف واپس آنے کا جیسے اب سے ابی، آخر سے آخری، دد سے دمی، اگر حرف شدہ حرف کے عوض شروع میں ہمزہ وصل کا اضافہ ہو جیسے ابن میں تو تصغیر میں عوض حذف ہوگا، اور محذوف لوٹ آئے گا، جیسے ابن سے بنی۔

اگر محذوف حرف کے عوض میں ہمزہ نہ ہو بلکہ تاء ہو تو اس کی تصغیر میں عوض باقی رہے گا اور محذوف لوٹے گا جیسے زینۃ سے وزینۃ اور عداۃ سے وعیدۃ، اُخت و بنت کی تصغیر اُخیۃ و بنتیۃ۔

مشنی اور جمع سالم کی تصغیر اس طرح آئے گی کہ مثلاً مؤمنان کی تصغیر مؤمنیان، مؤمنون کی مؤمنون، مؤمنات کی مؤمنات اور جمع نقات کی اس طرح کہ مثلاً أرغفة کی تصغیر أرغفة ہوگی۔

جمع کثرت کی تصغیر بنانے کا اصول یہ ہے کہ پہلے اس کو مفرد کی شکل میں لاکر اس کی تصغیر بنالیں، پھر واؤ نون لگا کر اس کی جمع بنالیں، چرب کہ۔ رعاقل ہو، جیسے غلمان کہ یہ جمع ہے غلام کی، غلام کی تصغیر غلیم ہوئی، اس میں واؤ نون لگا کر غلیمون کر لیا، بس ہی غلمان کی تصغیر ہے، اسی نسخہ و طریق پر شعراء کی تصغیر شوئیسون ہوگی۔

اگر مذکر لایقل یا مؤنث ہو تو آخر الف تاء کی زیادتی کی جائے گی، جیسے جواد جمع جاریۃ کی تصغیر جویریات، دسماہم جمع درہم کی تصغیر دمایہمات آتی ہے۔

تنبیہ: ذیل کے وہ الفاظ ہیں جن کی تصغیر خلاف قیاس آتی ہے، جیسے:-

بحر کی تصغیر ابیحہ، انسان کی انسیان، رجس کی روجیل، اصل کی اصیلال، عشیۃ کی عشیۃ، اصبیۃ ر اصبیۃ، غلمۃ کی اغلمۃ، اطرع قونی، دریع، حویب، نعیل، مزیں، ذوید، کہ قیاس کا تقاضا تھا کہ ان کے حرفیں تاء ہوتی۔

مصنوع مرکب اضافی ہو تو اس کے پہلے جز کی تصغیر ہوگی، دوسرے جز کو اپنی حالت پر چھوڑا جائے گا جیسے عَمْدُ اللّٰهِ کی تصغیر عَمْدٌ اللّٰہ ہوگی
مرکب بنائی کے ساتھ بھی یہی اصول برتا جائے گا جیسے مَعْدِنِکْرَب کی تصغیر مَعْدِنِکْرَب اور حَضْرَمَوْت کی حَضْرَمَوْت، نَفْطُوِيَه کی
نَفْطُوِيَه، خَمْسَةَ عَشْر کی خَمْسَةَ عَشْر ہوگی، البتہ مرکب اسنادی جیسے تابط شرآ کی تصغیر نہیں آتی۔

ہمزہ کے لکھنے کے اصول

ہمزہ جب شروع کلمے میں آتا ہے الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے اسماء، اکراہ اور اگر ابتدا میں آئے اور کسی حرف کے ساتھ متصل
ہو تو بھی الف ہی کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے بِأَجْمَلٍ وَلَا فُضْلٍ مَّكَرًا وَلَا لِيْنٍ میں اس کی وہی ہیئت ہے جو وسط کلمے میں ہوتی ہے اور یہ
کثرت استعمال کے باعث ہے۔

اگر ہمزہ وصل بعد فام یا واؤ کے واقع ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، بشرطیکہ اس کے بعد بھی ہمزہ ہو جیسے فَاذْنِی، وَاذْنِی
اگر ہمزہ درمیان میں واقع ہو اور ساکن ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے لکھا جائے گا، جیسے بَأْسٌ، بَأْسٌ، بَأْسٌ اور جب
ہمزہ وصل کے بعد بلا ہو، پھر اثنائے کلام میں اس کی طرف لوٹا دیا گیا ہو تو وہ اس حرف کی شکل میں لکھا جائے گا جس کی طرف وہ بدل گیا ہے جیسے
يَارْجُلِ الثَّنَانِ اور هَذَا الَّذِي اَوْ تَمَنَّتْ عَلَيْهِ۔

ہمزہ متحرک درمیان میں آنے والا اپنی حرکت کے موافق حرف کی شکل میں لکھا جائے گا، چاہے اس سے پہلے ساکن ہو یا متحرک جیسے لَوْهَرٌ،
سَوْفٌ، سَأَلٌ اگر مفتوح ہو اور بعد ضمیر یا کسرہ کے واقع ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے سَوَالٌ، رِثَالٌ، مَثْوَنٌ
اگر ہمزہ الف اور یا کے درمیان واقع ہو تو اس کو ہمزہ اور یا دونوں کی صورت میں لکھنا جائز ہے جیسے بَقَاءٌ یا بَقَائِي، رَأْيٌ یا رَائِي۔
اگر ہمزہ الف اور ضمیر میں یا کے علاوہ کسی اور کے درمیان واقع ہو اور مکسور یا مضموم ہو تو اپنی حرکت کے موافق حرف کی شکل میں لکھا جائے گا
اور مفتوح ہو تو ہمزہ کی صورت میں جیسے بَقَائِيہ - بَقَائِيہ بَقَاءِيہ۔

اگر ہمزہ کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے جُزْءٌ، شَيْءٌ، فَسَيْءٌ اور اگر ما قبل متحرک ہو
تو اس کی حرکت کے موافق حرف کی شکل میں لکھا جائے گا جیسے نَكَاطِيٌّ، اَنْكَاطِيٌّ۔ اگر ہمزہ طرف میں واقع ہو اور اس کے ساتھ تاء تانیث لاحق ہو اور ہمزہ
سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو ہمزہ الف کی شکل میں لکھا جائے گا جیسے نَشَاءٌ اور اگر متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا
جیسے فَيْسَةٌ، لُؤْلُؤَةٌ، اِذَا قَبِلَ مَعْتَدٌ ہو تو یا کے بعد یا کی شکل میں اور الف اور واؤ کے بعد ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا، جیسے
خَطِيئَةٌ، بَرِيئَةٌ، قَرَاءَةٌ، صَلَاةٌ، مَرَاوَعَةٌ، سُوءَةٌ۔

ابدال کے قواعد

ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو رکھنے کا نام ابدال ہے، ذیل میں وہ حروف درج ہیں جو کسی حرف سے بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔

و - الف جب ضمہ کے بعد واقع ہو تو وہ واؤ سے بدل جاتا ہے جیسے ضَارِبٌ سے مَبْرُؤٌ، ضَوْرِبٌ، قَاتِلٌ سے قَوْتِلٌ یا ساکن
جب ضمہ کے بعد آئے تو وہ واؤ سے بدل جاتی ہے جیسے آيَقِنٌ سے مُؤَقِنٌ، آيَسِرٌ سے مُؤَسِرٌ۔

ل - واؤ یا یا جب متحرک ہوں اور ان کا ما قبل مفتوح ہو تو وہ الف سے بدل جاتے ہیں جیسے قَالَ، عَزَا، بَاعَ، دَمَى۔ لیکن اس قاعدہ
کے لئے یہ شرائط ہیں کہ یہ واؤ، یا، فاء کلمہ کی جگہ نہ ہوں، مدہ زائدہ سے پہلے الف ثننیہ سے پہلے اور یا مشدود اور نون تاکید سے
پہلے نہ ہوں، ناقص کے میں کلمہ کی جگہ نہ ہوں جس کلمہ میں یہ واقع ہوں وہ فعلان و فعلی کے وزن پر نہ ہو اور نیز لے لفظ کے ہمنوی
نہ ہوں جس میں تعلیل نہیں ہوتی۔

- ی - واؤ اور یاد جب ایک کلمہ میں جمع ہوں اور ان میں پہلا ساکن ہو تو واؤ کو یاد کر کے یاد کو یاد میں مدغم کر دیتے ہیں جیسے کھٹی، میت کھٹی، کریدر اصل طوی، میوت، ہر موی تھے۔
- واؤ ساکن جب کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس کو بار سے بدل دیتے ہیں، جیسے مؤزان سے میزان، مؤعاد سے میعاد۔
- ۶ - واو یا یاد جب الف زائد کے بعد طرف میں واقع ہوں تو ہمزہ سے بدل جاتے ہیں، جیسے عجوز سے عجائز، قلاوۃ سے قلائد، صدیقیت سے صحائف۔
- ت - واو یا یاد اگر باب افتعال کے فاعل میں واقع ہوں تو وہ تام سے بدل جاتے ہیں، جیسے اتقی، اتسر۔
- د - باب افتعال کے فاعل میں اگر وال یا ذال یا زاء واقع ہو تو تاء کو وال سے بدل لیتے ہیں جیسے اذان، اذکر، اذدان کہ یہ دراصل اذتان، اذتکر اور اذتتان تھے اذکر میں وال کو ذال سے اور ذال کو وال سے بدلنا جائز رکھا گیا ہے۔ گویا اذکر بھی کہہ سکتے ہیں اور اذکر بھی۔
- ط - باب افتعال کے فاعل میں اگر صاد، ضاد، ظاد، ظاد واقع ہوں تو تاء کو طاء سے بدل دیتے ہیں جیسے اضطر، اضطرِب، اطماد، اطملم، اطملم، میں ظاء کو طاء سے یا طاء کو ظاد سے بدلنا دونوں صورتوں میں جائز ہیں، گویا اطملم بھی کہہ سکتے ہیں اور اطملم بھی۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱ =

(۱)

الْاَلِفُ۔ الف کی دو قسمیں ہیں ساکن و متحرک الف ساکن کو "حرف لیں" کہتے ہیں جیسے فاکس، الف متحرک کا دوسرا نام ہمزہ ہے، ہمزہ تلفظ معانی کے لئے آتا ہے۔

(۱) استغمام کے لئے جیسے اَقْرَبَاتِ دیکھتے پڑھا، اَمَّا قَدْرَاتِ يَأْقَلْمُ لَعْنَةُ اَوْ كِيَا تُرُ نے نہیں پڑھا۔ اَفِي الْبَيْتِ اَخْوَا؟ کیا گھر میں تیرا بھائی ہے۔

(۲) نَدَا قَرِيبَ كَيْ لَيْ جَيْسِي اَزِيدُ اَقْبَلُ لے زید آ، اَزِيدُ اَذْهَبُ لے زید جا۔

(۳) تَسْوِيَةِ كَيْ كَيْسِي اَصُولَادِيَاں وَاَقْرَبَاتِيَاں ہے جہاں جملہ کو جس پر وہ داخل ہوا ہے مصدر میں تبدیل کیا جائے جیسے لَا اَبَا بِي اَقْتَمَتْ اَهْرَقَعْدَاتِ۔ سَوَاءٌ عَلَيَّ قِيَامُكَ وَ قَعُوْدُكَ۔ میں تیرے کھڑے ہونے یا بیٹھے کی پروا نہیں کرتا، یعنی یہ دونوں میرے نزدیک برابر ہیں، یا مِثْلًا اَنْذَرْتَهُمْ اَهْلًا لَمْ يَتَذَكَّرْ یعنی آپ کا اُن کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ہر دو برابر ہیں۔ آ۔ حرف نداء۔ بعید کے لئے یا جو بعید کے زمرہ میں شمار ہوتا ہے، جیسے سونے والا اور فاعل۔

آب۔ ماہ اگست۔ غنسی سال کا اٹھواں مہینہ جو ۳۱ دن کا ہوتا ہے۔

اَبْدَانِ، اَبَاوُ اَبَاوُ اَبَايَةِ وَيَا بِيَةِ، اَلِيهِ مَسْتَقٍ ہونا، چاہنا، خواہش مند ہونا۔

اَبَّ۔ (رض، ن) اَبِيَاوُ اَبَاوُ اَبَاوُ اَبَايَةِ۔ آمادہ ہونا، تیار رہنا، ابواب آجہ کسی کے قصد کی طرح تسد کرنا، کسی کے ارادہ پر چلنا، کسی کی روش کو اپنانا۔ يَبْدَا اَلِي السَّيْفِ تلوار سونقنے کے لئے ہاتھ بڑھانا۔

اَبَّيَّ۔ چھینا چلانا۔

تَابَّتْ يَسِي۔ تعجب کرنا۔ خوش ہونا۔ اَلَا بِيَّ۔ گھاس تر و خشک، تمویشی کا چارہ،

پَرَاكَاہ، ج، اَوْبُ اَلَا يَاب۔ پالی، سراب۔ اَلَا يَاب۔ برطاسیلاب، موج دریا۔

اَيَاہُ يَا بَاہ، بِالسَّمِہِ تِيرِ سَ مَارِنَا۔ اَبَّتَ (ن، هـ)، وَا يَبَّتَ (س)، اَبَّتَا وَا يَبَّتَا النہار الیوم دن کا سخت گرم ہونا، وَا يَبَّتُ وَا يَبَّتْ۔ سخت گرم (دن) تَابَّتْ۔ الجَمْرُ۔ انکار سے کا بھڑکن، تیز ہونا وھکتا۔

اَبْتَةُ الْغَضَبِ۔ غصہ کی تیزی، غصہ کی تندی اَبْتَهُ۔ و۔ علیہ (رض)، اَبْتَا بَادِشَاہِ كَيْ حَضْرِيَاں بِرَا بھلاکتا، غیبت کرنا۔ بَدُوْنِي كَرْنَا اَبْتَّ (س)، اَبْتَا۔ اونٹ کا دو دھڑکی کر مدہوش سا ہوجانا۔

اَلَا يَبْتُ۔ خوشی میں اترتے ہوئے چلنے والا۔ اکر ڈاکر چلنے والا۔

اَبْجَدًا۔ لغت عرب میں اُن اٹھ مشہور کلمات کا پہلا کلمہ جن میں صرف ہجا جمع کر دیئے گئے ہیں اور وہ کل یہ ہیں۔ اَبْجَدَا، هُوَز، حَطِي، كَلْبَن، سَعْفَص، قَوْشَت، نَعْنَا، مَطْعَم حروف کی اس ترتیب میں حساب محفل کی رعایت رکھی گئی ہے، اور اکثر تاریخ انہی کے لحاظ سے نکالی جاتی ہے، ان میں مدد کا شمار اس طرح رکھا گیا ہے کہ پہلے اکائیاں ہیں، پھر دہائیاں، پھر سینکڑے اور ان کے بعد ہزار۔

اَبْدًا (رض، ن) اَبُوْدَا بِالْمَكَانِ كَيْسِي بَجْہِ طَهْرِنَا، اَقَامَتْ كَرْنَا۔ اَشَاوَرِيَّيْ مَشْكَلٍ اَوْرَظْرِبِ الْقَاظِ لَانَا جِن كَيْ مَعْتِي كَا پَرَنَدِ لَيْكِي۔

اَبْدًا (رض، ن)، اَبُوْدَا الْحَيَوَانَ جَنْجَلِي ہونا، جوشی ہونا

اَبْدًا (س)، اَبْدًا وَحْشِي اَوْرَ جَنْجَلِي ہونا۔ علیہ،

غضب ناک ہونا، غصہ ہونا اَبْتَاہ۔ ہمیشہ ٹھہرنا اور ہمیشہ رکھنا تَابَّتْ اَبْدًا ہونا۔ وحشی اور جنگلی ہونا۔

المكان، مکان کا ویران اور غیر آباد ہونے جنگلی جانوروں کا مسکن اور قرار گاہ بنا۔

اَلَا بِيَّ۔ زمانہ۔ جہ۔ آباد و اَبُوْدَا اَزَلِي، قَدِيم، ہمیشہ رہنے والا۔ کہا جاتا ہے "لا اتيہ ابد" ابد الابدین و الابدین و ابد الابد و الابد و ابد الابد یعنی میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا

اَبْدًا۔ طرف زان ہے جو مستقبل میں نفی و اثبات کی تاکید کے لئے آتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے لَا اَفْعَلُهُ اَبْدًا میں اس کو برگز نہیں کروں گا۔ یا اَفْعَلُهُ اَبْدًا میں اس کو ضرور کروں گا

اَلَا بِيَّ كَيْ۔ وہ بڑی مصیبت و آفت جس سے انسان گھبرائے۔ وہ مصیبت جس کا ذکر ہمیشہ رہے، وحشی، عجیب و نادار شے۔ جہ۔

اَوَا يَبْدُ وَا يَبْتُ اَوَا يَبْدُ۔ وہ بزدل جو ہر کام سے گریز کرے اور ہر کام سے گریز کرے۔

اَوَا يَبْدُ الشَّعْرُ جِس كَيْ نَدْرَتِ مِي مِثَالِ نَدْلِ كَيْ اَلَا يَبْدُ وَا اَلَا يَبْدُ۔ من امة اوتان ہر سال چننے والی لونڈی یا گدھی۔

اَلَا يَبْدِي مِي۔ جس کی انتہا نہ ہو۔ اَلَا يَبْدِي يَتِي۔ دوام، جس کی انتہا نہ ہو، آخرت

اَبْرًا (ن، هـ)، اَبْرًا وَا اَبْرًا اَلْعَرَبُ قَلَانَا بَجْہُو كَا كَيْ كُوْدَسْنَا۔ اَبْرًا غیبت کرنا کھانے میں کسی کو سوئی کھلانا، ہلاک کرنا۔

الزَّرْعُ: اَصْلَا ح كَرْنَا، كَا بَجَاوِيَا قَلْمُ كَرْنَا اَبْتَبَرُ۔ البتہ کناں کھوونا

اَلَا بَرَّةُ۔ کسی کیڑے مثلاً بچھو یا کھٹی کا ڈنگ جس سے ڈستی ہے، کیرا سینے کی موٹی، چغلی۔

اَبْرَةَ الْقَرْنِ۔ سینک کا سرا، جہ، اَبْرًا،

اَبْرًا، اَبْرًا وَحْشِي اَوْرَ جَنْجَلِي ہونا۔ علیہ،

اَبْرًا، اَبْرًا وَحْشِي اَوْرَ جَنْجَلِي ہونا۔ علیہ،

اَبْرًا، اَبْرًا وَحْشِي اَوْرَ جَنْجَلِي ہونا۔ علیہ،

وَابْشًا وَاِبْرَاتٌ -

المِشْبَرُ والمِشْبَارُ - سوئی دانی، سوئیوں کا کپس، درختوں میں قلم لگانے کی چھری۔

الابار - سوئی بنانے والا، سوئیوں کا کارگر سوئیوں کا فروخت کرنے والا، پستو، درخت خرم میں قلم چڑھانے والا اور اس کو گابھائیوں

الابری - سوئی کا بیوپاری، سوئی بیچنے والا۔

المشيرة - چغلی، تمتم - جہ - ماسیر

المابوس - مٹم - کہا جاتا ہے "فلان لیس

بہا بوردی دینہ" یعنی فلان شخص اپنے دین

میں مٹم نہیں۔

الموتیر - کھیت والا۔

الابریز والابریزی من الذهب -

خالص سونا۔

الابریم والابریم - ریشم۔

الابریثیہ - بشب کا ماتحت علاقہ یا وہ

اشخاص جو اس کی ماتحتی میں ہوں۔

الابریق - قبضہ والا لونا، چھاگل، جہ۔

آباریق - (معب)

ابز - من، ابز او ابوزا - الطیبی ہرن

کا کودنا، قدرنا، اچھنا صفت، آبز و

آباز و ابوزنہ بواجہ - ابزا

ظلم کرنا۔

الابزیخ والابزام - بکسوا، جہ، ابزیم

آبسنار من، آبتسا مامت کرنا، ڈرانا

آبسن بہ - تا بعدار بنانا، ذیل و حقیر کرنا۔

فلانا: قید و بند میں جکڑنا، بدسلوکی سے

پیش آنا، حقیر و ذلیل جانا۔

آبتسہ - عار و شرم دلانا (آبتسہ کے ہم معنی)

الابیس - قحط، خشک سالی، سخت جگہ، ترکچہ۔

الابیس - صل بد کردی جگہ۔

ابسا آا اباس - بدخورت۔

آبتسہ دن، آبسا و آبتسہ جمع کرنا

تآبتش القوم (قوم کا جمع ہونا، انٹھا ہونا۔

الاباشہ من الناس - مخلوط جماعت

الابش کسی کے صحن اور گھر کے دروازے کو کھانے پینے کی چیزوں سے بجانے والا اور آراستہ کرنے والا۔

رجل اباش کمانے والا مرد۔

ابص (س) آبتسا - خوش ہونا، شان مان ہونا

صفت، آبص و آبص و آبوص۔

آبتص (من ن) آبتسا - البعیر، اونٹ

کے اگلے پاؤں کو ہانڈ سے باندھنا۔

تآبتص البعیر: اونٹ کو (ماضی نامی رتی سے

باندھنا۔ البعیر، اباض نامی رتی سے

بندھا ہوا ہونا۔ لازم و متعدی دونوں طرح سے آتا ہے۔

الابض (ج) آباض و المایض - جہ:

مایض زانو کا اندرونی حصہ، بند و بست

تآبتط الشی: بغل میں دبانا، بغل میں لے لینا

استآبتط الرجل: اوپر سے تنگ اور اندر سے

چوڑا کر رکھا کھودنا۔

الایط - بغل (مذکر و مؤنث) جہ۔ آباط

ایط الجیل - وامن کوہ۔

الایباط - بغل میں وہائی ہوئی چیز۔

آبتق - (س) آبتق (ن من) آبتقا و آبتقا

آبتقا - العبد (غلام کا سروار کے

پاس سے) بھاگنا۔ صفت: آبتق جہ۔

آبتق و آبتاق -

تآبتق - چھپنا - الشی، انکار کرنا،

ادرا سمجھنا، نا آشنا سمجھنا۔

الآبتق - بھنگ - بھنگ کا چھلکا، گمان

آبتل (س) آبتلا و آبتل (ن) آبتلا

اونٹوں کا اچھی طرح انتظام کرنا، اونٹوں

لے رکھنا و میں مہارت دکھانا، صفت

آبتل و آبتل جہ۔ آبتال

آبتل (ن) آبتلا راہب بنا

آبتل - بہت اونٹوں والا ہونا، پختی ملک میں

بہت اونٹ رکھنا۔ ابیل، چھانٹ کر

جمع کرنا۔

تآبتل - ابیل، چھانٹ کر جمع کرنا۔

الابیل و الابیل - اونٹ یہ لفظ جمع کے معنی

دیتا ہے، اس کا مفرد مستعمل نہیں ہے۔ آبال

الابکتا - قیدہ - کہا جاتا ہے "جاءتہ

ابکتہ" یعنی وہ اپنے قید میں آیا۔

الابیل - جہ: آبال و ابیل و الابیل

و الابیل راہب۔

الابالکة - جماعت، مال کا اچھا انتظام کرنے والا

الابیلکة و الابالکة و الابالکة کہا گیا کہ وہ

کا کٹھا، کہا جاتا ہے "صفت علی ابالکة"

یعنی مصیبت پر مصیبت

الابابیل - فرقے، ابابیل جمع ہے اس کا

واحد نہیں، بعض کہتے ہیں کہ ابابیل اس کا

واحد ہے، کہا جاتا ہے "جاءت ابابیل" یعنی تیرے

اونٹ قطار در قطار اور گھر در گھر

آئے "طیرو ابابیل غول کے غول پرندے

المابلکة - بہت اونٹوں والی زمین۔

ابلیس - شیطان، علم منس ہے جہ۔

آبالس و آبالسہ -

آبتک (ن من) آبتا - شیعیب لگانا۔

تمت رکھنا - الدم فی الحج، (خون کا

زخم میں) سیاہ ہو جانا۔

آبتک عیب لگانا، عار و شرم دلانا، عروہ کے

محاسن و خوبیاں لگانا، مرثیہ لگانا۔ تآبتک

آبتکات قدم، چپن، چھپنے لگنا، انتظار کرنا

آبان الشی: کسی چیز کی ابتدا کسی شے کا وقت۔

الآبتة - عیب، کینہ، کڑوی کی گڑ۔ جہ۔

کہا جاتا ہے "بینہم آبتة" یعنی

ان کے درمیان دشمنیاں ہیں، یا کہتے ہیں "فی

حیثہ اب" اس کے حسب میں بہت عیب ہیں۔

آبتن القدامیا ابن الرجل پاؤں کی گین

آبتنة الرجل - آدمی کے سارے ساتھی۔

الابین - بیٹا۔

الابین - خشک اور سوکا ہوا کھانا۔

الآبتوس و الابتوس - ایک قسم کا درخت

جس کی کڑی سخت و سیاہ ہوتی ہے۔
آبَة (ف) اِنہا۔ لہ: سمجھانا، تاثر جانا، لا
یُوْبِدَ لَہ اس کی طرف توجہ و التفات نہیں کی
 جاتی۔
آبَہ۔ خبردار کرنا، آگاہ کرنا، سمجھانا
تَابَہ علیہ۔ تکبر کرنا، بڑا بننا۔ عین کذا: اپنے
 کو کسی چیز سے بالاد برتر سمجھنا۔
الْاِبْہَة وَاْلَاِبْہَة۔ بڑائی، تکبر، سخت
آبَان (ابان) اباؤہ و اباؤہ و اباؤہ اباب ہونا، لیتیم
 (تیمم کی پرورش کرنا، کہا جاتا ہے "ابوتہ
 وامتہ" یعنی میں اس کے لئے بمنزلہ ماں یا
 کے ہو گیا۔
آبَى فَلَانًا کسی کو کنا کر میں اپنے باپ کو تم
 پر ندا کرتا ہوں۔
تَابَى فَلَانًا کسی کو باپ بنانا۔
الْاَب۔ باپ، جو کسی چیز کی ایجاد یا اصلاح کا
 سبب ہو۔ اس کا اعراب حالتِ رفعی میں
 واؤ کے ساتھ، حالتِ نسی میں الف کے
 ساتھ اور حالتِ جزی میں یاء کے ساتھ جیسے
 کہتے ہیں:۔ **جَاءَ اَبُوکَ، رَاَيْتُ اَبَاکَ**
وَمَرَّتْ بِاَبِیکَ اور منادی ہونے کی صورت
 میں کہا جاتا ہے "یا اَبی ویا اَبت"
 ج:۔ **اَبَاءُ وَاَبُوکَ**۔
اَبُو اَبِیاس۔ اتھ منہ دھونے کی چیز میں غلی
 وغیرہ۔ **اَبُو اَبُوْب**۔ اُدنٹ۔ **اَبُو اَلْاَبُوہ**
 گدھ۔ **اَبُو اَلْاَسُوہ**۔ چیتا۔ **اَبُو اَلْاَصْبَح**۔
 گدھ۔ **اَبُو اَلْاَصْبَا**۔ میزان۔ **اَبُو بَرِیْص**۔
 پھل۔ **اَبُو البَشَر**۔ کنیت حضرت آدم علیہ السلام
لَوْبَقِیْف۔ سرکہ۔ **اَبُو جَامِع**۔ دسترخوان
اَبُو جَحَاوَة۔ ٹڈی۔ **اَبُو جَعَاد**۔ بجز۔
اَبُو جَعْرَان۔ گبریلہ۔ **اَبُو جَبِیل**۔ ترکاری
اَبُو جَبِیب۔ جھنا ہوا بکری کا پتھہ۔
اَبُو حَدِیْم۔ تعلق۔ **اَبُو حَذِر**۔ گرگٹ۔
اَبُو حَصِیب۔ رومی۔ **اَبُو خَال**۔ کتا۔
اَبُو حَصِیب۔ گرگٹ۔ **اَبُو دَعْفَاء**۔ ہوقوف

اَبُو دَرِیْن۔ ایک قسم کا حلوا۔ **اَبُو دَعْلَة**۔ بھیریا
اَبُو زَاجِر۔ کوا۔ **اَبُو زَهْرَة**۔ گیدڑ۔
اَبُو سَلْمَان، **مُرغ**۔ **اَبُو السَّوَد**۔ بخور۔
اَبُو عَذْرُ الْمَرْاَة۔ شوہر۔ **اَبُو عِسْلَة**۔ بھیریا
اَبُو عَقِیْبَة، **سُور**۔ **اَبُو الْعَلَاء**۔ فالودہ
اَبُو الْعَفَاء۔ گدھا۔ **اَبُو عَسُوْف**۔ زردی۔
اَبُو عَوْن۔ نمک۔ **اَبُو عَزْوَان**۔ بلی۔
اَبُو قَثْرَة۔ کنیت ابلیس۔ **اَبُو قَثْرَة**۔ گرگٹ۔
اَبُو کَلَاة۔ زربجو۔ **اَبُو لَاحِق**۔ باز۔
اَبُو لَیْد۔ شیر۔ **اَبُو مَالِک**۔ بھوک، برہمچاری، گدھ
اَبُو مَتَوٰی۔ میزان۔ **اَبُو مَذْقَة**۔ بھیریا۔
اَبُو مَهْرَة۔ شیطان۔ **اَبُو مَهْرِیْم**۔ قاضی کا پیادہ
اَبُو مَهْنَال۔ گدھ۔ **اَبُو مَشْغُوْل**۔ زرخیزی
اَبُو مَهْمِیْتَا۔ پھل۔ **اَبُو مَعَاوِیَة**۔ چیتا۔
اَبُو الْمَنْذَر۔ مرغ۔ **اَبُو نَعِیْم**۔ رومی۔
اَبُو الْوَسْطَار۔ عقاب، اور بقول ازنی مرن
اَبُو هَبِیْرَة۔ زینڈک۔ **اَبُو یَحْیٰی**۔ ملک الموت
اَبُو الْیَقْطَان۔ مرغ۔ کہا جاتا ہے **لَا اَبَ لَکَ**
وَلَا اَبَاکَ۔ **وَلَا اَبَکَ** یعنی تیرا باپ
 مرے۔ یہ جیسے مدح و ذم دونوں موقعوں پر
 استعمال ہوتے ہیں، اس کے لئے بھی جگ باپ
 ہے اور اس کے لئے بھی جس کا باپ نہیں۔
یا اَبی اَنْتَ۔ یعنی میرا باپ تجھ پر ندا ہو۔
الْاَب۔ عیسائیوں کے نزدیک اقنوم اول
 جس کو باپ کہتے ہیں۔
اَبی (ف) من، اَبَاء وَاَبَاءَة وَاَبِی۔ الشی
 ناپسند کرنا، مکروہ جانا، کسی چیز سے ناخوش
 ہونا۔ صفت۔ **اَب** ج:۔ **اَبُو** و **اَبَاءَة** و **اَبَاء**
اَبی عَلِیْہ وَاَبِی۔ باز رہنا، رکنا، خود وار ہونا
اَبَاءَة اَبِیَا۔ الشی، خود وار بنانا
الْاَبِی۔ نفرت کرنے والا۔ کینہ ہاتوں سے اپنے
 آپ کو بند رکھنے والا۔ **رَجُلٌ اَبَاء**۔
 خود وار مرد۔
تَابَ وَاَنْتَب۔ بے آستین والی قمیص پہننا
الْاَنْتَب۔ بے آستین والی قمیص۔ ج:۔
اَبُو و **اَبِی** و **اَبَاء** و **اَبَاءَة**

اَنْتَب الشَّعِیْر۔ جو کا چھلکا۔
اَنْتَابِکَ۔ امیر، سردار، یہ لفظ دراصل بارشاہوں
 کی اولاد کے اتالیقوں پر بولا جاتا تھا اور
 انہیں کو اس نام سے خطاب کرتے تھے۔
الْاَنْتَاد۔ دوودہ دہنے کے وقت گائے کی
 ٹانگوں میں باندھنے کی رسی، آتدہ و اُتد
الْاَنْتْرَج و **الْاَنْتْرَج**۔ لیموں کا درخت۔
اَنْتَل رَض، **اَنْتَلَا وَاَنْتَلَانَا وَاَشْلَا لًا**۔
 غصہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا، غضب
 میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا۔
اَنْتَم رن، **اَنْتَمَا** دو چیزوں کو جمع کرنا بالک
 اقامت پر ہونا، دیر و تاخیر کرنا۔
الْمَا اَنْتَم۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور اس
 لفظ کا اطلاق بیشتر اس جمع پر ہوتا ہے جو
 اظہار غم کے لئے ہو۔ ج:۔ **مَا اَنْتَم**
الْاَنْتَان۔ گدھی۔ ج:۔ **اَنْتَن وَاَنْتَن وَاَنْتَن**
اَسْت اَنْتَن۔ گدھی خریدنا، کہا جاتا ہے "کان
حَادِرًا"۔
فَاَسْتَان۔ بیش اس وقت کسی جاتی ہے کہ
 کوئی عزت دار ہو کر ذلت کا شکار ہو ہو۔
الْاَنْتُون۔ حمام کا چولہا، چونہ بنانے کی بھٹی،
 ج:۔ **اَنْتَن وَاَنْتَانِیْن**۔
اَنْتَان، **اَنْتَوَا وَاَنْتَاء** الشجر، درخت میں پھل
 آنا، پھل بہت پیدا ہونا۔ ہر علیہ:۔
 چغل خوری کرنا۔
اَنْتَمَا اِتَاوَة۔ رشوت دینا۔
اِتَاوَة۔ الارض، زمین کی پیداوار یا روئیدگی۔
الْاِتَاوَة۔ خراج، رشوت، ج:۔ **اِتَاوِی**
اَتِی (ف) **اِتِیَانَا وَاِتِیَانَا وَاِتِیَانَا**
 آنا۔ بالکان: حاضر ہونا۔ الشی:
 کرنا۔ پورا کرنا، جاری و نافذ کرنا۔ **الرَّحْل**:
 کسی آدمی کے پاس سے گزرنے پر علیہ **الرَّحْل**:
 ہلاک کرنا۔
اَتِی۔ **تَاْتِیَة وَاْتِیَا**۔ الماء، پانی کے
 بہاؤ کے لئے راستہ نکالنا۔

آتَاهُ مَوَاتَاةً - علی الشیء: موافقت کرنا
 آتَىٰ آيَاتًا فَلَانَا - الشیء: کسی کو کوئی چیز دینا
 اور اسی سے ہے۔ آتَتْ غَدَاةً امْتَا -
 — الیہ الشیء: (کسی کو کوئی چیز) بھیجنا۔
 — الرجل: بدلہ دینا۔
 تَأْتِي - الامر: تیار ہونا، آسان ہونا — لامر:
 نرم ہونا، میاں نرمی اختیار کرنا۔
 — المعروف: درپے ہونا۔
 اسْتَأْتِي - الرجل: آنے کی درخواست کرنا۔
 سست سمعنا۔
 الاتی والأتاوی - مسافر، پرہیزی، جنبی۔
 سَبِيلُ آتِيٍّ وَآتَاوِيٍّ - اچانک آجانے والا
 سیلاب، انجان جگہ سے آجانے والا سیلاب۔
 المأتی والمأتاة - سمت، جہت، کہا جاتا
 ہے "اتی الامر من مأتاة ادمآتاتہ"
 اس نے کام کو اس کے ڈھب اور طریقے سے کیا۔
 آتَى (ن ص)، آتَانَا وَآتَاوْنَا وَآتَاثَةً
 البیات او الشعر، گنجان اور گھنا ہونا، بکثرت
 ہونا اور گھنے دار ہونا، صفت: آتٌ و
 آتِيٌّ ج: اثاث۔
 آتَتْ الفراش: (بستر) بچھانا۔
 تَأْتَتْ - مال پانا، خوش حالی نصیب ہونا
 آتَرَ (ن ص) آتَرًا وَآتَارَةً وَآتَرَةً
 الحدیث: بیان یا نقل کرنا، صفت مفعولی:
 ماٹوس — کسی کا اکرام و احترام کرنا
 آتَرَ - (ن ص) آتَرًا - یفعل کذا، وہاں کیا کرنے لگا
 — لامر: کسی کام میں کیوں کے ساتھ لگ جانا
 — علیہ: پکارا وہ کرنا — علیہم، اوروں کو
 نظر انداز کر کے اپنے لئے بہترین چیزیں چھانٹ لینا
 آتَرَفِيهِ - اثر پیدا کرنا، کسی چیز پر اثر انداز ہونا
 آتَرَ آيَاتًا - اکرام و عزت کرنا، پسند کرنا،
 فضیلت دہری دینا۔
 آتَرَ كَذَا - بھیجے لگانا۔
 تَأْتَرُوا اسْتَرًا - فلان، کسی کے نشانات قدم
 پر چلنا، پیروی کرنا — من و بہ: اثر پہنچنا،

اثر قبول کرنا، ہم کہہ سکتے ہیں مَاتًا تَأْتَرَاتِي
 آتَرًا اس نے میرے ساتھ کوئی سلوک نہیں
 کیا، یا پھر کوئی احسان نہیں کیا۔
 اسْتَأْتَرَ - ہاشمی علی الغیر: دوسرے کے مقابلہ
 میں اپنے لئے کوئی چیز مخصوص کر لینا، کسی چیز
 میں خود کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ اللہ: اللہ
 اللہ تعالیٰ کا کسی کو دنیا سے اٹھالینا، وفاق دینا
 الاشر: کسی چیز کا اثر و نشان، حدیث، سنت،
 مدت، جہ، آثار و ائوس علم الاشارة: اگلی
 قوموں کی چھوڑی ہوئی یادگاروں کی معرفت
 مثلاً ان کے مکانات، مجتے اور سکے وغیرہ
 کی معرفت، کہا جاتا ہے "خَدَجٌ فِي اثَرَةٍ
 وَاثَرَةٍ" وہ اس کے بعد نکلا و علی الاشر
 یعنی فوراً اور فی الحال نکلا۔
 الاشری - اشارہ قدیمہ کا ماہر۔
 الاشر والاشتر - زخم کا نشان، جہ۔
 اشار و ائوس۔
 الاشر - تلوار کا جوہر، جہ۔ ائوس
 الاشرۃ - جہ۔ اشار و الاشارة بقیہ علم،
 موردی شرافت و بزرگی، اچھا نسل، پسندیدہ نسل
 الاشرۃ - پسندیدگی، دوسرے کے مقابلہ میں
 انسان کا اپنے لئے اچھی شے پسند کرنا، خود کو
 دوسرے پر ترجیح دینا، انتہائی خود پسندی،
 د خود غرضی۔
 الاشر - تلوار کا جوہر، باعزت و با شرف جہ:
 اشراد
 فرس اشر - وہ گھوڑا جس کے کھروں کے نشانات
 بڑے بڑے ہوں۔
 الاشر - قدام نویں آسمان کو بھی اشر کہتے ہیں
 اور باصطلاح علمائے طبیعیات اشر "اشر"
 کو کہا جاتا ہے، یہ دراصل وہ مادہ ہے جس کے
 توجہ سے گرمی بڑھتی ہے اور آواز دور
 تک جاتی ہے۔ حدیث ما ثوبہ قرن برب
 قرن نقل ہونے والی حدیث یا بات، اور
 اسی معنی کے پیش نظر کہا جاتا ہے "السيف

الماٹوس" یعنی خاندانی تلوار۔
 الماشرۃ و الماشرۃ - پسندیدہ نسل،
 خاندانی شرافت و بزرگی، جہ۔ ماشر
 ائفہ (ن) ائفاسی کے پیچھے جانا، طلب کرنا
 ائف تائیفًا - القدر: جوٹھے پر اندی رکھنا
 تائفت الرجل المکان - کسی کا جگہ سے نہ ملنا،
 جگہ پر جمع جانا۔ القوم الامر علیہ: لوگوں
 کا کسی کام پر اکٹھا کرنا۔
 الاثیفۃ - چولھے کا پایہ، جس پر اندی رکھی
 جاتی ہے، جماعت، جہ، اثافی
 تائیفۃ الاثافی - پہاڑ کا ایک حصہ جس کے
 سامنے دو پتھر رکھ کر اس پر اندی رکھتے ہیں۔
 کہا جاتا ہے "رملا اللہ بثائفة الاثافی"
 یعنی خدا کرے وہ بڑی مصیبت میں پڑے۔
 ائش (ن) ائشلاً و ائشل (ن) ائشلاً
 زمین میں یا شرافت میں جڑ پکڑنا۔ صفت:
 ائشل و مؤئشل۔
 ائشل المال - مال کی زکوٰۃ دینا، اصل ٹھہرانا،
 — المرء: تعظیم کرنا۔ المجد: بزرگی
 کی بنیاد رکھنا۔
 تئشلاً - جڑ پکڑنا، جمع ہونا۔ المال، مال
 کانا، اس کو برطمانا۔ البئر: کنواں کھودنا۔
 الائشل - جہ و کا و رخت، واحد ائشلہ - جہ۔
 ائشلات و ائشال و ائشول کہا جاتا ہے
 "مَحْتِ ائشلة فَلَانٍ" یعنی اُسے عیب
 لگایا اور اس کو کم قدر کیا۔
 الائشلة و الائشلة - گھر کا سالن و اسباب
 اصل، سالن۔ الائشلة و الائشال و الائشال
 موردی مال یا شرافت یا بزرگی۔
 ائشم (ن ص) ائشاً و ائشلاً و ائشلاً
 ناجائز کام کرنا، گناہ کرنا، صفت، ائشیم
 جہ، ائشاً و ائشاً و ائشاً۔
 ائشہ - (ن ص) ائشاً - اللہ فلا تافی کذا
 گناہ گار ٹھہرانا اور سزا دینا۔
 ائشہ - کسی کو گناہ کی طرف منسوب کرنا۔

آلَم — کسی کو گناہ میں مبتلا کرنا۔
 تَأْتَمُّمٌ — گناہ سے بچنا اور گناہ گناہ سے گریز کرنا
 الْإِثْمُ (ج) آثَامٌ وَالْمَأْتَمَةُ وَالْمَأْتِمُ
 تاجا نزل، گناہ، جرم، خطا
 الْآثَامُ — گناہ کی جزا اسی سے ہے یَقِ آثَامًا
 الْإِثْمُ — تھیرا، جو، شراب، چٹا، چوکا
 جاتا ہے تَوْبَتِ الْإِثْمِ حَتَّى مَسَّ عَقْلِي
 میں نے شراب پی، یہاں تک کہ میری عقل گم ہو گئی
 آثَانٌ (ج) وَأَثْوَادٌ وَأَثَاةٌ وَأَثَى (ج) أَيْثًا
 وَأَثَائِيَّةٌ — یہ کسی کی چٹلی کھانا کسی پر تہمت لگانا
 تَأْتَمُّوْا تَأْتَمُّوْا — بادشاہ کے پاس مقدر لے گئے
 الْمَأْتَمَةُ وَالْمَأْتَمَةُ — چٹل خوری
 آج (ج) آجِبًا رَأْيًا كَأَمْبَرٍ كَانَتْ شَعْلًا مَارِنًا
 صفت، آجاج و آجوج — آجوجا
 الْمَاءُ پانی کا کھاری اور کھروا ہونا۔
 آجَجَ — النَّارُ: آگ کو بھڑکانا پانی کو کھاری
 بنانا — عَلِي الْعُدُوِّ وَشَمْنٍ پرحملہ کرنا۔
 آجَجَ — الْمَاءُ: پانی کو کھاری بنانا
 تَأْتَمُّوْا تَأْتَمُّوْا وَاسْتَمُّوْا — بھڑکانا، شعلہ
 ہونا — اسْتَمُّوْا: التَّوْبَةُ: گرمی کا شدید ہونا
 الْآجَجُ — بہت کھاری اور کھروا پانی۔
 الْآجَجَةُ: گرمی کی شدت اور تیزی۔ جہاں آجاج
 وَالْآجَجِيُّ شَوْرٌ: چلنے کی آہٹ۔
 آجَدَا وَآجَدَا وَآجَدَا — تکی کرنا مضبوط
 کرنا — نَادِي أَمْرٍ: مضبوط اونٹنی۔
 الْآجَجُ — چھوٹا پانی۔ التَّوْبَةُ: مضبوط
 کیا ہوا، کہا جاتا ہے بِنَاءٌ مُّوَجَّدٌ مَعْنَى مَارٍ
 مَضْبُوطٌ — تَوْبَةُ مُوَجَّدٌ التَّوْبَةُ
 مضبوط بنا ہوا کپڑا۔
 آجَرُ (ج) آجَرًا وَآجَارًا وَآجَرِيًّا
 الرَّجُلُ عَلَى كَلْبِهِ دِينًا، مَزُورِي دِينًا۔
 آجَرُونَ (ج) آجَرًا وَآجَارًا وَآجُورًا
 الْعَظْمُ، بَرِي كَأَمْبَرٍ تَأْتَمُّوْا مَهْمَا نَا۔
 — الْعَظْمُ: بَرِي كَأَمْبَرٍ تَأْتَمُّوْا مَهْمَا نَا
 آجَرُ الطَّيْنِ — مٹی کا پکانا۔ آجَرُ مَوَاجِرًا

الرَّجُلُ مَزُورِيًّا نَا — آجَارُ الدَّارِ فَلَانًا
 وَمَنْ فَلَانٌ يَكْرَهُ كَرَاهِيَةً مِثْلَ صِفَتِ كَاسِيَةٍ
 مُوَجَّدٌ ہے بکسریم، نہ مؤاجر۔
 اسْتَمُّوْا — صِدْقٌ كَرَاهِيَةً كَرَاهِيَةً مِثْلَ مَزُورِيًّا نَا
 — عَلَيْهِ بَكَزًا، أَمْرٌ مِثْلُ مَزُورِيًّا نَا۔
 اسْتَمُّوْا الدَّارَ: گھر کو کرایہ پر لینا۔ الرَّجُلُ،
 کسی کو مزور دیکھنا۔ الْآجَرُ — ثَوْبٌ۔
 جہاں آجور و آجار: الْآجَرَةُ — بَيْتٌ۔
 جہاں آجور — الْآجَرَةُ جہاں آجور و
 الْإِجَارَةُ — کرایہ، مزوری۔
 الْآجِيرُ — نوکر، مزور۔ جہاں آجوراء
 آجاص — آلو بخارا، زرد آلو۔
 آجَلٌ (ج) آجَلًا — عَلَيْهِ شَرًّا کسی کے
 خلاف شرٹھانا۔
 آجَلٌ (ج) آجَلًا — دیر کرنا، گردن کے درد
 میں مبتلا ہونا، صفت: آجَلٌ وَآجِيلٌ
 آجَلٌ الشَّيْءُ: کسی چیز کی مدت مقرر کرنا یا مہلت
 دینا۔ الرَّجُلُ: درد گردن کا علاج کرنا
 تَأْتَمُّوْا — بچھے رہنا، مہلت مانگنا۔
 اسْتَمُّوْا آجَلًا — تاخیر چاہنا، مہلت طلب کرنا
 آجَلٌ — اُلْ، بے شک۔
 آجَلٌ — مدت، وقت، موت۔ جہاں آجال
 الْآجَلُ — سبب، کہا جاتا ہے مَنْ آجَلَتْ
 قَعَلَتْ هَذَا مِثْلُ تَحَارِيٍّ جہاں سے کیا۔
 الْإِجَالُ — گردن کا درد۔
 الْإِجَالُ — نیل کا تھوڑا سا جہاں آجال۔
 الْإِجَالُ وَالْإِجَالَةُ — دیر سے ہونے والا امر
 آجَمٌ (ج) آجَمًا وَآجَمِيًّا وَآجَمِيَّةٌ
 التَّيْمَانَةُ: دن کا سمت گرم ہونا۔
 تَأْتَمُّوْا — عَلَيْهِ کسی پر غضبناک ہونا
 تَأْتَمُّوْا الْأَسَدَ: شیر کا بھاڑی میں داخل ہونا۔
 الْإِجْمَةُ — گنجان، صفت، بھاڑی، شیر کے
 رہنے کی جگہ۔ جہاں آجم و آجمت
 جہاں آجام۔ الْإِجْمُ: جہاں آجام
 آجَنُ (ج) آجَنًا وَآجُونًا وَآجِنًا

رَسٌّ، آجَنًا الْمَاءُ: پانی کا رنگ اور مزہ بدلنا
 صفت، آجِنٌ وَآجِنٌ۔
 آجِنٌ (ج) آجِنًا الثَّوْبُ: کپڑے کو دھونے کے
 لیے کرنا۔
 الْإِجَانَةُ — کپڑے دھونے کا ٹب۔ جہاں آجائین
 الْمِثْجَنَةُ وَالْمِثْجِنُ — کپڑا کھونے کی موگری
 جہاں۔ مَآجِنٌ
 آخِرٌ (ج) آخًا كَانَتْ
 الْإِحْسَاحُ — پیاس۔ وَالْإِحْسَاحُ وَالْإِحْسَاحَةُ
 اخذ و وحد۔ المتعد: متعدد کو ایک کر دینا۔
 — الْعَدَّةُ: کسی عدد پر ایک بڑھا دینا۔
 اتَّخَذَ — یہ، اکٹھا ہونا، مشفق ہونا۔
 اسْتَأْخَذَ — اکیلا ہونا۔
 الْإِحْدَا — ایک، اکیلا، یکتا، مونث، اخذی
 کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَحَدٌ الْإِحْدَايْنِ"
 فلاں بے مثل ہے "أَحَدٌ الْإِحْدَايْنِ" بڑھتی ہے۔
 أَحَادٌ — ایک ایک، کہا جاتا ہے "جَاوَدَ أَحَادًا"
 أَحَادٌ أَحَادٌ "بہنی وہ لوگ ایک ایک کے آئے
 الْإِحْدَا — بیکٹھہ، التَّوْبَةُ جہاں أَحَادٌ
 أَحَدٌ — مدنی منورہ کے پاس ایک پہاڑ کا نام
 الْإِحْدَايْتِ — یکتائی
 آخِرٌ (ج) آخِنًا پوٹیدہ، کینا اور دشمنی رکھنا۔
 آخِنٌ مَوَاجِحَةٌ — الرَّجُلُ: کسی سے دشمنی رکھنا
 الْإِحْنَةُ — کینہ، جہاں آخن۔
 الْإِحْبُوطُ وَالْإِحْبُوطُ — جگنوٹا ایک کیرا۔
 أَحْذَنٌ (ج) أَحْذَنًا وَآحْذَانًا — لینا —
 دیکھ، کسی چیز کو کھڑا کرنا — كَادِبًا بِنَدْبَةٍ كَيْسِيٍّ كُو
 گناہ پر سزا دینا، کسی سے مواخذہ کرنا —
 عَلِيٌّ يَدُهُ: کسی کو کام رکھنے سے باز رکھنا۔
 — مِنْ شَيْءٍ، مَوْجِبِينَ كَبْرًا — نمنہ،
 نقل کرنا، بیکھنا — عَلِيٌّ نَفْسُهُ: اپنے نفس پر
 نگرانی رکھنا — فَيَدُهُ: نگرانی، نگرنا، اثر انداز
 ہونا — تَفَعُّلٌ: کر کے لگنا — فِي كَذَا:
 شروع کرنا — أَحْذَنًا وَآحْذَانًا: کسی کے طریقے
 پر چلنا، کسی کے اخلاق کو اپنانا اور اس کے رنگ

مثلاً کہا جاتا ہے ہی اذن۔ ہما اذن۔ ہم اذن اسی طرح کہا جاتا ہے "جاءنا اذن" اذنیہ یعنی وہ لاپٹی اور طبع پرست بن گیا یوں بھی کہا جاتا ہے "جاءنا اذنیہ" وہ غافل ہو کر آیا۔
 الاذنة - خواہش۔
 الاذن - اذان، بانگ، خبر و ارکنا۔
 الاذن والاذانی - بڑے بڑے کان والا
 الاذین والمؤذن - اذان دینے والا۔ بانگ
 الاذین - سرور، لیڈر، کفیل۔
 المئذنة - اذان دینے کی جگہ یا مقام۔
 مناره - منارہ، منارہ۔
 اذی (س) اذی واذاۃ تکلیف اذیت پانا۔
 اذی ایدنا - الرجل کسی کو کھانا تکلیف پہنچانا۔ تا اذی - تکلیف اٹھانا
 الاذی والاذیۃ والاذاۃ - تھوڑا مزر۔ غنیمت نقصان۔
 الاذی - تکلیف دینے والا یا تکلیف برداشت کرنے والا
 الاذی - صبح و رات، اذی
 ارب (س) ارباً - ماہر ہونا۔ صفت ارب
 و اربیب مؤنث اربیبۃ۔
 ارباب بالشیء کسی شے کا بہت و لدادہ اور مشتاق ہونا۔ کسی شے میں ماہر ہونا۔ مانا و بھیر ہونا۔ الیہ کسی چیز کا محتاج ہونا
 الرجل کسی کے اعتماد کا کر جانا۔
 الیہ قوی ہونا۔
 ارب (س) ارباً - العقدة۔ گرو مضبوط لگانا۔
 الرجل کسی کے مضبوط مارنا۔
 ارب رک، اربۃ و ارباً - عقلمند و دانہ ہونا
 صفت اربیب و ارباب۔
 ارب الشیء - کسی چیز کو مضبوط کرنا اور محکم بنانا۔ الشاة بکری کا جڑ جڑ الگ کرنا
 ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 اربۃ مؤاربۃ - فریب دینا۔ دھوکا دینا

تأرب - تکلف و بناوٹ سے زبردی ہونا۔
 الامر کسی کام کا دشوار ہونا۔
 استأرب - معالطہ و دنیا کینہ چھپا کر مارات کرنا
 قرض لینا۔
 الارب - حاجت، ضرورت۔ انتہا۔ جہ
 آراب
 الارب - معنی۔ کہا جاتا ہے "قطعت الذبیحة ارباً ارباً" یعنی میں نے اس کا ایک ایک معنی الگ الگ کیا۔
 حاجت۔ جہ، آسباب۔
 الاربۃ - چالاک، حیلہ
 الارباب - انجمن شہادت اور بیچ کی انگلی کے درمیان کا فاصلہ۔
 الاربۃ - گرہ کتے کے گلے کا پٹہ۔ جہ، ارب
 الاربۃ - ران کی جڑ۔
 الاربابیان - جھینگا پھل۔
 المارب والماربة والماربة و الماربة - بہرہ سوات را۔ حاجت
 جہ، مارب۔
 الاربۃ - گڑ کے سر کے بال۔
 ارب - اس کو اوہ عورت میں دیکھئے۔
 ارباب - (آگ کا) جھلانا۔ بیٹھ، لوگوں میں غصہ و فساد کی آگ بھڑکانا۔
 تأربت النار - آگ کا بھڑکانا۔
 الاربۃ والاربات - لیندھن۔
 الاربات والاربۃ والارباب۔ آگ
 ارب (س) ارباً و ارباً و کما تہ جہ۔
 خوشبو دینا۔ مہکا، صفت، ارب
 اسما (س) اسما جہا۔ الحق با باطل، حق و باطل کو ملانا۔
 اربح القاسی - لوگوں کا بلند آواز سے رونا
 اسما جہ القورہ بینہم۔ آگسنا، ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔ صفت
 آراب - انار، آگ کو روشن کرنا اور جلانا۔

الاسما جہ - بڑا اجموٹا۔
 المومس جہ - شیر۔
 الارجوان - ایک چھول دار درخت۔
 سربج - سرخ کپڑے
 اسما جہا و اسما جہا مؤاربۃ۔
 - کتاب، تاریخ ڈالنا۔
 التاریخ - وقت کا بیان کسی چیز کے واقع ہونے کا وقت یا اس کی تاریخ۔ جہ
 تواریخ۔
 تاریخ الشیء کسی چیز کا وقت یا اس کی غایت
 جہ، تواریخ
 علم التاریخ - وہ علم جو واقعات و حادثات کے بیان اور ان کی تاریخ پر مشتمل ہے۔
 (۱) الارخ - بیل جہ، اربخ (۲) الارخ
 نیل گائے۔ واحد اربخہ۔ جہ، اربخ
 و اربخ (۳) الاسما جہا - پہاڑی بکری کا پتہ
 الارب - ایک بڑا لہیا دھبی میں ۱۲ صلا
 فہ آتا ہے۔
 اسما (س) ارباً - الداجہ جانور کو لکنا، دستار
 دہر کرنا۔ المرأة عورت سے جماع
 کرنا۔ النار آگ سلگانا۔ السوا
 باسناد کرنا۔
 ارب (س) ارباً - المانی جوئے میں قلبہ
 کے وقت اربے سے لے کر لکنا۔
 الاربۃ - آگ۔
 اسما (س) ارباً - ارباً و ارباً۔
 سکونا بھلنا۔ کہا جاتا ہے "لکنا ارباً و ارباً"
 وطنہ میں لکنا کسی کو مہر کے لئے اپنے
 وطن کی طرف لکنا ہے۔ ارب
 رات کا ٹھنڈا ہونا صفت، ارب و ارب
 و ارب۔ کہا جاتا ہے "بنا لیلۃ ارباً"
 یا رنہ من فیہا الشداۃ بودھا۔ کین
 ہونے والی ٹھنڈی رات گزارنے کی صفت
 ٹھنڈک کی وجہ سے ہر شخص کو سرد ہونا۔ و
 اربت اصابعہ من البرد یعنی اس کی

اَرَك (س) اَرَكَا و اَرَك - الجبل، درخت
پیلو کے پتے کھانے سے پیٹ میں درد ہونا
اَرَك و اَرَك - الجرح، زخم کا اچھا ہونا۔
الاسمیکة - آراستہ و مزین تخت - جہ:
اَرَاثِك و اَسْمِيك -
الارصنة - وہ چمڑا جسے ختنہ کے وقت کاٹنے
ہیں۔

اَرَدَرْض (س) اَرَدَا - ماعلی المائدة -
دستر خوان پر جو کچھ ہو سب چٹ کر جانا۔
الارض، زمین میں زبرد چھوڑنا شاخ
صفت مفعول ارماء و مارومة -
الشيء: کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا -
الرحل: آدمی کو نرم مزاج بنانا - الجبل:
مضبوط ہونا -

الاردم - ڈالیں - کہا جاتا ہے "بھرق
عليه الاردم" یعنی وہ مارے غصہ کے
اس پروانہ پیتا ہے - پتھر - انگلیوں
کے کنارے، کنکریاں -

الاردم و الاردم - میدان میں میلوں کے
شمار کے لئے پتھر - کہا جاتا ہے مہابھا
ارم او ارم - یعنی اس میں کوئی نہیں -
اس کا استعمال ہمیشہ نفی میں ہوتا ہے -
جہ: آرام و اُردوم -

الارومة و الارومة و الاردم -
درخت کی جڑ - جہ: اُردوم -

الارومة - نشان راہ - جہ: اُردم
اَرِن (س) اَرِنَا و اَرِنِيَا و اَرَانَا -
البعير - اونٹ کا نشاط میں آنا صفت
اَرِن و اَرُون -

اَرِنَه رن، اَرِنَا - و انت سے کاٹنا -
اَرِنَه موارنة و اَرَانَا بغاوت کرنا -
الارآن - تابوت جہ: اَرُون و الارآن
تلوار -

الارآن و المتوان - وحشی جانوروں کے
رہنے کی جگہ - صہٹ - کمرہ - مادین

اَرْض النعل - جوتے کی تلی
الارضة - لکڑی کھانیرا لکڑا، دیک
جہ: اَرْض -

الارضى شوکی - زمین پر پھینکنے والا ایک
کانٹے وار پودا -

الارطى - ایک درخت جس کا پھل عناب
کے مشابہ ہوتا ہے - اس کا واحد
ارطاة جہ: ارطى و ارط و ارط
الارغى و الارغون - ارگن - ایک قسم

کا باجر
اَرَق تَارِيْقًا - حد بندی کرنا - الجبل:
گرہ لگانا -

اَسْرَف على الارض - محدود کیا جانا -

الارقة - دوزخیوں کے درمیان حدفاصل
علامت گرہ - جہ: اَرَق

الارقى - زمین کی پیمائش کرنے والا - خالص
دودھ - کہا جاتا ہے "هُوَ مَوَارِقِي"
یعنی اس کے مکان کی حد میرے مکان کی
حد کے متصل ہے -

اَرِق (س) اَرَقَا و اَثَرِق - رات میں نیند
نہ آنا - بے خرابی کی شکایت ہونا -

صفت: اَرِق و اَرِق و اَرِق و اَرِق
اَرَكَر اُس کے لئے مخصوص ہے جس کی
عادت ہی بے خرابی کی ہو گئی ہو -

ارقة تاريقا و اَرِقَة ابراقا - بیدار
لکنا -

اليرقان و الارقان و الارقان و
اليرقان و الارقان و الاراق -

یرقان، اس بیماری میں انسان کا رنگ
سیاہ یا زرد ہوجاتا ہے، کاشت کر بھی یہ
روگ لگ جاتا ہے -

اَرَك رن (س) اَرُوْكَا - الجبل، اونٹ
کا پیلو کے درخت کے پتے کھانا -

الاسم الك - پیلو کا درخت - واحد و اَرَاكَة
جہ: اَرَك و اَرَاكَة -

انگلیاں سروی کے سبب سکھنا
گئیں - "عجبة اَرْدَا" وہ درخت
جو جڑ پکڑے -

اريز - القوم: قوم کا سردار
الارز - صنوبر کا درخت
الارن و الارنو و الارمت و السوز
چاول

الاروز - بخیل -
اَرَس (س) اَرَسَا و اَرَس - کاشتکار
ہونا - زراعت کرنا -

الاريس - کاشتکار - جہ: اَرِيْسُون
الاريس - کاشتکار، بڑا کاشتکار - جہ:
اَرِيسَة و اَرِيس و اَرِيس -

الاريس - پاکیزہ نسب
اَرَش (س) اَرَشَا - بھرکانا، اکسانا، جوش
دلانا، دیت اور خون بہا دینا - رشوت دینا -

اَرَش - بینہم، لوگوں میں فتنہ و فساد ڈالنا
ایک کو دوسرے کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا
الموب او النار، اگر جنگ کی آگ بھڑکانا
الارش - دیت، رشوت جہ: اَرُوش

اَرْض (س) اَرْضَا و اَرْضِي رن، اراضة
- المكان: کسی جگہ کا سرسبز اور خوش منظر
ہونا - صفت اَرِيض -

اَرِيض (س) اَرِيضَا و اَرِيضَة الخبثة
لکڑی کا دیک خوردہ ہونا -

اَرْضِي - الكلام وغيره - آراستہ کرنا، تیار کرنا
کا اَرْضِي - بالمكان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا
کسی جگہ جم کر رہنا - لکڑا، ورپے ہونا

اِسْتَارَضِي - السحاب، بادل کا زمین سے
قرب ہو کر پھیل جانا اور جم جانا -

الارمض - زمین - جہ: اَرْضُون و اَرُوض
و اَسْرَاض و اَرَاضِي - کہا جاتا ہے،
"اتانا ابن اَرْض" یعنی میرے پاس
وہ مسافر پر ویسی آیا جس کے نسب کا کوئی
پتہ نہیں -

<p>جہ، آذرة و آذر۔ المیٹرزو المیڈرة - تہند - جہ: مازر - کہا جاتا ہے "شدا لاسر" مآزدة "کسی کام کے لئے مستعد تیار ہونا۔ ازف رس، ازفاد ازوقا - قریب ہونا۔ الرجل: جلدی کرنا۔ الجرح - زخم کا بھر جانا۔ آزف ایزافا - جلدی کرنا۔ تآزف - الرجل: کسی کا پست قدم ہونا۔ بدخلق ہونا۔ تآزف - قریب قریب قدم رکھنا۔ القوم بعض کا بعض سے قریب ہونا۔ الازف - تنگی، بد حالی اور اسی سے ہے فی عیشہ آزف - اس کی زندگی تنگ ہے الازفة - قیامت کا دن الآزفی - تیز رفتاری و پستی "میشی لافنی وہ تیز چلتا ہے۔ المآزفة - پانسخانہ - جہ، مآزف المزادة المتآزفة - چھوٹا تڑوان مکان متآزف - تنگ جگہ۔ رجل متآزف - پست قدمو۔ المتآزف - تنگ دل و بدخردو۔ آزق دن (ض)، آزقا و ازق (س)، ازقا و متآزق - تنگ ہونا۔ المآزق - تنگ جگہ۔ میدان جنگ جہ، مآزق آزل (ض)، آزل و تآزل - تنگی و سختی میں پڑنا۔ صفت: آزل آزلہ - کسی کو روکن، باز رکھنا، بند کرنا۔ الآزل - بلا بصیبت - جھوٹ الآزل - وہ زمانہ جس کے لئے ابتداء نہ ہو۔ الآزلی - قدم، دائمی جس کی ابتداء نہ ہو۔ المآزل - تنگ جگہ آزمہ (ض)، آزما و آزوما۔ دانت سے</p>	<p>الآزب والآزیب - لہا المیٹزاب - پرناہ۔ گندی نالی۔ بدرو پانی بہنے کی جگہ۔ جہ، مآزیب الآزب - شدت و قحط آزج البيت - مکان کو لیا بنانا۔ آزج (ن)، آزوجا فی مئیشہ: تیر چینا آزج (س)، ازجا - العشب: گھاس کا طویل ہونا۔ آزج (ن)، ازجا - معنی: مدد طلب کرنے کے وقت کا بلی کرنا۔ الآزج - لہا مکان جہ: ازج و آراج۔ الآزج - ناز و انداز سے چلنے والا۔ قہس ازوج - تیز رفتار گھوڑا۔ آزح (ض)، آزوجا و تآزح - دیر لگانا اور پیچھے رہ جانا۔ صفت ازوج ازحت قدامہ، اس کا قدم پھسل گیا۔ ازد رخت و آزاد رخت - بکاش کا رخت الازاد - ایک قسم کی کھجور ہے۔ آزس (ض)، ازرا - بالشی: کسی شے کو گھیرنا۔ البنات: گتھ جانا۔ وآزف لانا - کسی کو مضبوط کرنا، قوت پہنچانا۔ وآزکا - ڈونپنا آزکا مؤازکا - مددینا بخوار کرنا تآزرو امزرو امزور - ازار پہننا تہند باندھنا۔ الآزر - قوت - پیٹھ، کہا جاتا ہے شد یہ آزرکا "اس نے اس کو قوت و طاقت پہنچائی، اسی سے ہے "واشدو یہ آزری" الآزر - جڑ - تہند۔ الآزر - تہند باندھنے کی جگہ الآزرکا - تہند باندھنے کی ہیئت کہا جاتا ہے "یکل قوم ازرکا یا تہندونہا" مرقوم کی جد اجداد اسم و طور طریقہ ہے۔ الآزار - چادر، تہند، پردہ پشت و تیار</p>	<p>شاة آران - جنگل بیل الآرنة - تر پیر۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک اند ہوتا ہے جو پیر بنانے کے لئے دودھ میں ڈالاجاتا ہے۔ الآرین و الارانی و الارنی - ایک قسم کا دانہ جو دودھ کو پیر بنا دیتا ہے۔ الآرون - زہر اور بقول بعض اتنی کا بھیجا۔ الآرویتہ و الارویتہ - پہاڑی بکرا نڈر و مؤنٹ ہر دو کے لئے یہی مستعمل ہے جہ، آراوی و آراو و آروی۔ آری (ض)، آریا - النحل: مکھ کا شہد بنانا۔ آری (س)، آریا - صدرہ علی: غضبناک ہونا۔ آری - الدابة: جانور کے لئے تھان بنا - النار: آگ سلگانا یا بھر طکانا۔ تآزی - بالمکان: اقامت کرنا۔ عتہ پچھے رہ جانا۔ الآری - شہد کھانا جو دیگ کی تلی میں جل کر چپک جائے۔ الآریتا - جانور کا تھان آزت (ن، ض)، آزا و آزا و آزیزا القدر: دیگی کا جوش مارتا، سنسانا۔ - القدر بہا: دیگی کو جوش میں لانے کے لئے اس کے نیچے آگ جلانا۔ آزکا علی کذا - بھڑکنا، اُکسانا، اُبھارنا - الشی: جمع کرنا۔ تآزمتا - المجلس: اہل مجلس میں اضطراب و بھل چھٹا۔ اسم الآزکا ہے الآز - چھوڑے وغیرہ کا درد الآزیز - بادل کی گرج و کرک، ٹھنڈ، دیگی کا کھد کھدانا۔ آزب (ض، ن)، آزبا - الماء، پانی کا بہنا الآزب - کینہ - پست قدم</p>
---	---	---

<p>اسرۃ (رض) اسر اور اسارۃ۔ تسمہ سے باندھنا۔ اسرۃ اسر اور اسار اور اسارۃ۔ قید کرنا۔ تاسر — علیہ: دیر کرنا استاسر — اپنے آپ کو بطور قیدی کے حوالے کرنا۔ الاسر روم، کہا جاتا ہے "هذا لك بأسرة" یہ سب کاسب تمہارے لئے ہے۔ الاسار۔ تسمہ۔ بایاں۔ چپ الاسر۔ پیشاب کا رکن۔ الاسرۃ۔ خاندان۔ مضبوط زرہ۔ ج: اسر الاسیر۔ قیدی ج: اسری و اسراء و اساری و اساری۔ الاسرب و الاسروب و الاسرب سیب۔ الاسطیل۔ اصلیل۔ ج: اسطیلات الاسطربلاب۔ ایک قسم کا آلہ جس سے ہیئت دان ستاروں کی بلندی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ الاسطقیس و الاسطقیس۔ اصل جڑ مادہ۔ ج: الاسطقیسات۔ قدار کے نزدیک یہ عناصر رابع کا نام ہے۔ الاسطورۃ۔ قصہ۔ حکایت۔ ج: اساطیل۔ الاسطول۔ جنگی جہازوں کا بیڑہ۔ ج: اساطیل۔ الاسطوانۃ۔ ستون کہتا ہے۔ جانور کی ٹانگہ۔ ج: اساطیل و اساطینۃ، کہا جاتا ہے "هو اساطین الزمان" وہ لوگ زمانہ کے حکماء اور ممتاز افراد ہیں۔ اسف (س) اسفا۔ علیہ: کسی پر ممکن ہونا افسوس کرنا۔ صفت: آسف۔ اسفہ ایساقا۔ غصہ دلانا، ممکن کرنا۔ تاسف۔ افسوس کرنا، تاسفت بیباک</p>	<p>الاسی۔ چہلے میں تھوڑی راکھ۔ الاساس۔ چغل خمد الاشب۔ زالو کے بال۔ اندام نہالی کے بال دبر کے بال۔ ج: آساب اسباناخ و اسفاناخ۔ پاک۔ اسبیدا اج و اسفیدا اج۔ کاشغری سفید الاسنت۔ جڑ، بنیاد، سرین الاسنآذ۔ معلم۔ مدبر۔ عالم۔ ج: اساتینہ و اساتینہ۔ اور بامصلا تجارت محکمہ جات حساب کا افسر اعلیٰ۔ اکا ڈنٹ جزل۔ الاسنار۔ مدد میں چار اور روزی میں ساتھی مشال۔ ج: اساتینہ۔ الاسنبرق۔ موٹا ریشمی کپڑا۔ ریشم اور سونے کے تاروں کا بنا ہوا کپڑا اسنار (رض) اسنار و اسنار و اسنار الاسناد۔ الکلب العید: شکار کے لئے کئے گئے کراکسانا، بھڑکانا اسنار۔ بین القوم۔ لوگوں میں فساد ڈالنا اسنار (س) اسنار۔ شیر کو دیکھ کر ادا باختہ ہونا، اور ہشت زوہ ہونا۔ اخلاق میں شیر کی طرح ہونا۔ علیہ: جرات کرنا۔ تاسنار و اسنار۔ شیر کے مانند ہونا، علیہ: جرات کرنا۔ اسنار اسنار الثبت و نبات کا اتھائی لہا ہونا الاسنار۔ شیر، نہ ہر یا مادہ ہر دو کے لئے مستعمل ہے، کہا جاتا ہے "هو الاسنار" ہی الاسنار۔ ج: اسنار و اسنار و اسنار و اسنار و اسنار و اسنار کہتے ہیں۔ داع الاسنار۔ جذام الاسنارۃ۔ وہ جگہ جہاں شیر بکثرت ہوں یا پائے جاتے ہوں۔ ج: ما اسنار الاسنارۃ۔ میخ۔</p>	<p>کاشنا۔ الجبل، رسی کو مضبوط بنانا۔ الاسنار علیہ، زمانہ کا سنت ہونا۔ لصاحبہ ساتھ ساتھ رہنا۔ چھار رہنا۔ عن الشیخ کسی چیز سے رک جانا۔ علیہ: حفاظت کرنا تاسنار۔ القوم، لوگوں کا تکی اور قحط سالی میں بتلا ہونا۔ زمانہ کی سختی سے دردمند اور دکھی ہونا۔ الاسنار و الاسنار و الاسنار۔ کھلی نوکر اور انت۔ ج: اسنار و اسنار و اسنار۔ الاسنار۔ پر سیر کرنے والا۔ الاسنار۔ پر سیر۔ کہتے ہیں "اصل کل دوا الاسنار" یعنی ہر دوائی کی جڑ پر سیر ہے۔ الاسنار و الاسنار۔ سختی، تکی، قحط، ج: اسنار و اسنار و اسنار و اسنار الاسنار۔ تنگ مقام، میدان جنگ۔ ج: ما اسنار اسنار مؤازاة۔ الریل، ایک کا دوسرے کے مقابل اور قریب ہونا۔ تاسنار تاسنار۔ القوم، ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تاسنار۔ منہ، مرطنا اسنار۔ مقابل، سامنے، کہا جاتا ہے۔ "جلس اسنار و بازانہ" وہ اس کے مقابل بیٹھا۔ اسنار الامر۔ کام کا منتظم، کہا جاتا ہے "هم اسنار و هم" وہ لوگ ان کے مثال ہیں۔ اسنار (ن) اسنار۔ الزار، گھر کی بنیاد رکھنا ۔ بین الناس، لوگوں میں فساد برپا کرنا اسنار۔ البیت، گھر کی بنیاد رکھنا۔ تاسنار۔ بنیاد پڑنا۔ الاسنار و الاسنار و الاسنار۔ ج: اسنار و الاسنار و الاسنار۔ ج: اسنار و اسنار۔ بنیاد، کسی چیز کی ابتداء۔</p>
--	--	---

اتھ پھٹ جانا، کہتے ہیں ”یا اسفی و
 اُسفا علی کذا“ یعنی مجھ کو اس کے کھو
 جانے پر کس قدر حسرت و اندوہ ہے۔
 الاُسوف - جلد نمکین ہونے والا نرم دل
 الاُسیف - غمگین، وہ شخص جو موٹا نہ ہوتا ہو
 ج: اُسفا مؤنث اُسیفۃ - ارض
 اُسیفۃ و اُسافۃ - بجز زمین کاشت
 کے لئے ناموافق زمین۔

الاُسیف: قیدی - حدیث میں ہے ”لا
 تقتلوا عسیفاً ولا اُسیفاً“ مزدور اور
 قیدی کو قتل مت کرو۔

الاُسافۃ: - افسوس، زمین کی نرمی
 الاُسیفۃ - باندی
 الاُسفنج - اسفنج - واحد: اسفنجۃ
 الاُسفندا - اسفند، سفید رانی
 الاُسفنتور - والسفنتور - ایک
 رنگینے والا جانور جو گرم ممالک میں ہوتا ہے
 یہ گرگٹ سے بڑا اور موٹا ہوتا ہے اور دم
 چھوٹی بھکتا ہے۔

الاُسکۃ - بحر روم کا بندرگاہ جہاں آساکل
 اُسکل رک، اُسالۃ و اُسیل (س) اُسلا
 نرم و ہموار ہونا، دراز ہونا، چکنا ہونا صفت
 اُسیل، مؤنث: اُسیلۃ -
 اُسکل - الریح - نیزہ کو تیز کرنا، انہی کی مانند
 بنانا۔

تاُسسل - ع: اخلاق و عادات میں کسی کے
 مشابہ ہونا کہا جاتا ہے ”هو علی
 آسالی من ابیہ“ وہ اپنے باپ کے
 مشابہ ہے۔ آسال کا مفرد نہیں آتا۔
 الاُسسل - پتلی اور لمبی شاخوں والا ایک پودا
 واحد: اُسلۃ نیزہ اور ہر تیز اور تپلا لہا۔
 مثلاً تلوار اور پھری وغیرہ۔

الاُسکۃ - زبان کی نرک، بازو کا گلاصہ
 الاسم - مادہ سم و میں تلاش کیجئے
 اسامۃ - شیر کا علم جلس ہے۔

اَسَن (ن ض) اَسَنًا و اَسُونًا و اَسِن
 (س) اَسَنًا و تَأَسَنَ المَاءُ - پانی
 کا متغیر ہونا، صفت: اَسِن
 تَأَسَنَ و ذَا - دوستی کا بدل جانا۔

تَأَسَنَ آبَاہ: باپ کے اخلاق اختیار کرنا
 اَسِن (س) اَسِنًا - الرجل: ہرٹے ہوئے
 پانی والے کنویں میں داخل ہونے سے ہوش
 ہو جانا، یا سر کا چکرانا، صفت: اَسِن
 الاُسِن - بقیہ چربی، ج: آسان
 الاَسَان - آثار قدیمہ - کپڑے کے پھٹے اور
 بوسیدہ حصے۔

الاُسِن - رستی کی لڑی - ج: اُسوف
 اَسَارن، اَسَوًا و اَسَا - الجرح، زخم کی
 دد کرنا - مایوسوں کا علاج کرنا -
 الرجل: کسی کو تسلی اور دلاسا دینا، صفت
 مفعول: اَسَى و ما سَو - بینم
 لوگوں کے درمیان صلح کرانا - ع: بطلان
 کسی کو کسی کے لئے نمونہ بنانا۔

اَسَى تَأَسِیۃ - الرجل: کسی کا علاج کرنا،
 تسلی دینا، مدد کرنا۔

اَسَى ہوا ساقۃ - الرجل: مالہ کسی کے
 ساتھ مالی ہمدری کرنا۔

اَسِیۃ بنفسی - کسی کو اپنے برابر سمجھنا
 تَأَسَى - صبر کرنا، تسلی کرنا۔ و اَسِیۃ یہ
 کسی کی پیروی کرنا، اقتدار کرنا۔

تَأَسَى القوم - ایک دوسرے کو تسلی دینا
 الاُسُوۃ و الاِسُوۃ - اقتدار، نمونہ، وہ
 چیز جس سے تسلی حاصل کی جائے - ج:
 اَسَى و اَسَى۔

الاِسَاء - دوا، ج: اَسِیۃ
 الاُسُو - دوا۔

الاَسِی - طبیب، معالج - ج: اَسَاۃ و
 اَسَاۃ، مؤنث: اَسِیۃ - ج:
 اَسِیۃ و اَسِیۃ - اَسِیۃ - ج:
 الاَسَوَان - نمکین۔

التَّأَسَاء - تعویہ، تسلی۔

الاَسَاء - صبر

اَسَى (ض) اَسِیًا - کہ من اشی: کسی کے لئے
 کسی چیز میں سے کچھ پانی چھوڑنا۔

اَسِی (س) اَسِی - غمگین ہونا - صفت،
 اَسِی و اَسِیَان ج: اَسِیَانون -
 مؤنث: اَسِیۃ و اَسِیَانہ - ج:
 اَسِیَانًا و اَسِیَات و اَسِیَا۔

الاَسِیۃ - ستون ج: اَسِیٰ کہ جاتا ہے
 ”مملک ثابت الاواسی“ مضبوط سلطنت
 والا بادشاہ۔

الاَشِ - سوکھی روٹی
 اَشِب (س) اَشِبًا و تَأَشَبَ - البشرا
 درخت کا گنجان ہونا، گھنا ہونا، صفت،
 اَشِب۔

اَشِبہ (ن ض) اَشِبًا - طامت کرنا عیب
 گیری کرنا - القوم: بعض کو بعض کے
 ساتھ طمانا، مختلف لوگوں کو ملا کر دیکھنا۔
 تَأَشَبَ - و اَشِبَ - القوم: لوگوں
 کا ایک دوسرے سے مل جانا۔

الاَشِب - درختوں کی ایسی کثرت کہ ان میں
 گذرانہ جاسکے۔

الاَشَاب - لوگوں کا مخلوط گروہ - ج:
 اَشَابِیۃ - وہ کافی حد تک علم و ہوا
 فہم ما شوب و مؤنث اَشَابِیۃ - غیر علمی
 نسب۔

اَشَر (س) اَشَرًا - مغرور ہونا، اَشَرًا
 صفت: اَشَر و اَشَرًا و اَشَرًا - ج:
 اَشَرًا و اَشَرًا و اَشَرًا و اَشَرًا و
 اَشَرًا۔

اَشَر (ض) اَشَرًا - اَشَرًا - اَشَرًا
 اَشَر الاَسنان - دانت تیز کرنا۔
 اَشَر و اَشَر - اَشَر - اَشَر - اَشَر
 واحد: اَشَرہ۔

الاَشِر - مڑی کے پاؤں کا کھٹا۔ مڑی کے

والاصیل - بنیو کیل کے خود میں دین کر نیوالا
الاصیلة - جریدوالی، "جاؤ اباصیلہم"
وہ تمام کو لے آئے۔

الاصلة - ایک قسم کا سانپ ج۔ اصل
اصن رن من، اصنا - علیہ: مجبور کرنا۔
مضطر کرنا - فلانا: تھکانا۔

اقتض الیہ: پناہ لینا، مضطر ہونا۔
الارض - اصل جڑ، کہا جاتا ہے "فلان کریم
الارض" فلاں شریف الاصل ہے۔

الاصاص - پناہ لینے کی جگہ جہاں سوزش
الاصاة - تالاب، جو نہر ج: اضی و
اضیات۔

الاصاعة - خریدنے کی فالیز، بید کا جنگل۔
اصدر (س) اصما - علیہ: غضبناک ہونا۔
- بہ: تکلیف پہنچانے لگنا۔

الاصم - کینہ، حسد، غصہ ج اصمات
اط (رض) اطمیاطا - آواز نکالنا، کرکنا،
چرچرانا - الابل: اونٹ کا بولنا۔

کہا جاتا ہے "ہم اهل اطمیاط و صہیل"
وہ اونٹ اور گھوڑے رکھتے ہیں۔
اطرة (رض) اطرا و اطرة - بول دینا

خم دینا، دوہرا کرتا
اناطس - مرطنا
تااطس - دوہرا ہو جانا

الاطیور - گناہ کہا جاتا ہے "اخذا باطیور
غیورہ" اس نے اس کو دوسرے کے قصور
میں پکڑ لیا۔

الاطار - چوکتا، گھیرا، یا جو چیز کسی شے کو
گھیرے جیسے دن اور چھلنی وغیرہ کے چوکتے
ج: اطرو۔

الاطل و الاطلن - ج: اطلال و الاطلن
ج: ایاطلن - کوکھ، پہلو۔
اطم - الاطام - قلعوں کو بند کرنا

تااطم - السیل: سیلاب کی موجیں بلند نہیں
- اتار: آگ کی لپیٹ اویچی ہوتی۔

الاصرو والاصرو والاصر - عدد پیمان
بوجہ گناہ - ج اصار
الاصار - ج: اصرو والاصر - ج:

ایاصرو والاصارة - خیمہ کی رسیوں
کا کھونٹا یا کیلا۔
الاصرة - رشتہ، تعلق، مہربانی - ج:

اواصر -
اصطبل - اصطل
الاصطوانہ - ستون، کہا، جانور کی

ٹانگ - ج: اصناطین و اصناطنة
الاصطفیلین گاجر - واحد: اصطفیلینة
الاصطکمة - راکھیں پکی ہوئی روٹی۔

الاصف - ایک قسم کی خاردار جھاڑی
الاصل (رک) اصالة - جڑ والا ہونا
جڑ پکڑنا - شریف الاصل ہونا -

رأیہ: کسی کی رائے کا اچھا ہونا صفت:
اصیل -
اصیل (س) اصلا - الماء: کیمپڑ کی وجہ سے

متغیر ہونا - اللحم: بودا ہونا -
اصلة - جڑ والا بنانا، اصل بیان کرنا -
شرافت بیان کرنا -

اصل ایصلا - شام کے وقت میں تہل
ہونا، بوقت شام آنا۔
تاصلا - جڑ پکڑنا، جڑ والا ہونا۔

استاصلا - الشیء: کسی شے کو جڑ سے کھینچنا
استاصلت الشیء: درخت کا
جڑ پکڑ لینا۔

الاصل - ج: فرع کا مقابل، والد، مصدر
منبع "ما فعلتہ اصلا" میں نے
اس کام کو قطعاً نہیں کیا۔ ج: اصول

والاصول - وہ اصول و قواعد جس پر کسی علم
کی بنیاد ہو۔
الاصیل - عصر و مغرب کا درمیانی وقت

ج: اصال و اصائل و اصل
واصلان -

دم کے سرے کی گرہ - ج: اواشیر
التاشیر - بڑی دغیر کا وہ عضو جس سے
وہ کانٹے کا کام لے ج: تاشیر۔

المیشار - آرہ ج: ماشیر و مواشیر
الاشقی - ستالی - ج: اشافی -
الاشقیل - ایک پودا ہے جو دوا کے طور

پر استعمال ہوتا ہے - اور اس کو بصل
الفارسی کہتے ہیں۔
الاشنة - ایک قسم کی نباتی شے ہے،

جو درختوں اور پتھروں پر پیدا ہوتی ہے
الاشنان والاشنان - ایک قسم کی
بونی جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔

اص - الشیء: مضبوط کرنا۔
اصص - الشیء: مضبوط کرنا
تاصصوا و اصصوا - جمع ہونا اور بھیر کرنا

الاصیص - ٹوٹا ہوا برتن، گلد، پیشاب
کا برتن -
الاصیصہ - پاس پاس کے یا گرد و پیش

کے مکانات
اصد و اصدا - الباب: دروازہ بند کرنا
و اصدا - چھوٹی قیس پسنانا -

الاصدا - چھوٹی قیس، کرتی - ج
اصد و اصباد -
الاصدا - قوم کے جمع ہونے کی جگہ -

ج: اصدا
الاصید - صحن خانہ
الاصاد - لہجہ چوکتے

اصر (رض) اصرا - الشیء: توڑنا -
الغیمہ: خیمہ کے لئے میخ بنانا -
فلانا علیہ: مہربان بنانا -

اصرکا مواصر - پڑوسی ہونا
تاصروا - باہم پڑوسی ہونا -
انحصر - القوم: لوگوں کا تعداد میں زیادہ

ہونا - النبات: گھاس کا لمبا اور گنجان
ہونا -

<p>الْأَفْكَه - من السنين خشك سال - ج: أَوَافِك - المؤنفات - مختلف سمت چلنے والی ہوائیں، وہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے مع ان کے بسنے والوں کے اٹھ دیا أَفْلَ رَضَن، وَأَفْلَ دَس، أَوْلَا القراء چاند کا غروب ہونا - صفت: أَفْلَ ج: أَفْلُ وَأَفُول، کہا جاتا ہے کہ فلان کعبہ سافل ونبجہ آفل - وہ وہ شخص پھوٹی قسمت ہے - أَفْلَ رَضَن، أَفُولاً وَأَفْلَ رَضَن، أَفْلَا الرجل بخوش و شادماں ہونا - الرضع، دودھ کا ختم ہو جانا أَفْلَه - تنظیم کرنا - تَأْفَلَ - تکبر کرنا - الْأَفِيل - اونٹ کا بچہ - ج: إِقَالَ و أَفَائِل - موزنہ أَفِيلَة أَفَنَ رَضَن، أَفْنَا - انافہ، اونٹنی کو برکت دو ہونا - اللہ فلاناً اللہ کا کسی کو ضعیف العقل بنا دینا - أَفِنَ رَضَن، أَفْنَا وَأَفِنَ - کمزور رائے والا ہونا - صفت: أَفِينٌ وَمَافُونٌ تَأْفِنَ - تکلف کسی عادت کو اختیار کرنا کم ہونا، ناقص ہونا - اوغوالا انجام کار کی نکر کرنا، تباہی پر نظر رکھنا الإفان - وقت، کہا جاتا ہے "جاءني إفان ذلك" - وہ اس کے دوستان میں آیا الأفود - دو لباس جو علمائے ہندو کا سروا پہنا کرتا تھا - الْأَفِيُون - افیم الْأَقَاقِيَا - ایک قسم کی دوا، درخت لکڑی کارس - الْأَقَه - رطل کا نصف ج: أَقَق الْأَقْحَوَانُ وَالْأَقْحَوَان - بالونہ - دامد أَقْحَوَانَه وَاقْحَوَانَه -</p>	<p>دفع کرنا - أَفْرَس، أَفْرَا - البعير، ماغزی کے ہدموٹا ہونے الْأَفْرَة - جماعت - بلا - سختی - الْمُفْر - خادم - خدمت میں تیز لڑکا - أَفْرَ رَضَن، أَفْرَا - کودنا، اُچھلنا - الافستین - ایک قسم کی کڑوی نباتی دوا - أَفَقَ رَضَن، أَفَقَا - کناروں میں جانا آفاق میں جانا - المجد: چمڑہ رنگنا - صفت منقول: أَفِيَق - ج: أَفِقَه وَأَفَقُ - انتہا تک پہنچنا - صفت: أَفِقُ وَأَفِيَق - أَفِقَ - الطريق، راستہ کا درمیانی حصہ الْأَفِقُ وَالْأَفِق - کنارہ، کنارہ آسمان جو زمین سے لگا ہوا دکھائی دیتا ہے - ہواؤں کے چلنے کی جگہ - ج: آفاق - الْأَفِيَقَه - رنگی ہوئی کھال الْأَفَاق - کمانے کی خاطر بہت سفر کرنا الْأَفَقَة وَالْأَفِقَه - پہلو، کوکھ الْأَفِيَق - چمڑے کا بڑا ڈول أَفَكَ رَضَن، أَفَكَ وَأَفُوكَا وَأَفِكْ رَضَن، أَفَكَ وَأَفَكَ - جھوٹ ہونا - صفت: أَفِكْ - ج: أَفُوكَا وَأَفُوك ج: أَفَكَ وَأَفَكَ ج: أَفَاكُونُ وَأَفَكَ إِفَكَ - عن رائیہ: کسی کو اپنی رائے سے پھیر دینا - أَفِكْ المکان، کسی جگہ کا بے بارش والا ہونا أَفِكْ الرجل - کسی کا ضعیف العقل ہونا إِسْفَكَ البكد باھلہ - شہر کا اٹ جانا - الارض، زمین کا خشک سال سے ہل جانا - الْأَفَكُ وَالْأَفَكَة وَالْأَفِيَكَة - جھوٹ أَفِيَكَة کی جمع أَفَايِكْ الْأَفِيَكُ وَالْمَافُوكُ - خیر و بھلائی سے محروم، کمزور عقل والے والا -</p>	<p>علیہ بردا بننا غضبناک ہونا الْأَطْمُ بقلہ - ج: آطاهر الْأَطْوَر - پانی میں رہنے والا ایک بے پاؤں کا جانور جس کا پھیلا حصہ مچھلی کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً آٹھ قدم کی ہوتی ہے اور اس کا نام سمندری کھول ہے ج: أَطْمُ وَأَطْمَة - الْأَطِيمَه - چمڑا - ج: أَطَائِم - أَفَتَ رَضَن، أَفَا وَتَأْفَتَ وَأَفَفَ کرب و بے قراری میں اُن ان کہنا - الْأَفَفَ - بے قراری و بے چینی، وقت الْأَفُ - ناخونوں کے کٹے ہوئے بڑے، کان کا میل - أَفَ - اسم فعل یعنی میں ناپسند کرتا ہوں - لے قرار ہوتا ہوں - الْيَا فُوف - شیر کا بچہ، کڑوا کھانا، تیز رفتار ج: يَا فِيف - الْيَا فُوفَة - پروانہ الْأَفَات - بہت امن اُن کرنے والا أَفَحَه - کسی کے تالور پر مارنا الْيَا فُوف - بچہ کے سر کا وہ نرم حصہ جو حرکت میں رہتا ہے، تالور - ج: يَا فِيفَه - کہا جاتا ہے "ضربَ يَا فُوفَ اللَّيْلِ" رات کے اول حصہ میں چلا "رَكِبَ يَا فُوفَ فِلَان" وہ فلاں پر غالب و برتر رہا - أَفِدَا رَضَن، أَفَدَا - جلدی کرنا - صفت: أَفَدَا إِسْتَفَدَا - الترحل - کوچ قریب آجانا الْأَفَدَا - مدت، نایت الْأَفِدَا - دیر، تاخیر - الْأَفْرَجُ وَالْأَفْرَجَه وَالْفَرَا ج - یورپین - أَفْرَ رَضَن، أَفْرَا وَأَفْرَمَا - خدمت کرنے میں جیتی دکھانا - القوم: دھتکارنا،</p>
---	---	---

<p>الْمَاكِدُ وَالْمَاكِمَةُ - سرین کا گوشت الْمَاكُومُ - غمگین الْاِكْتِه - آشیانہ الْاِكَا - مشک وغیرہ کا سر بہ الْاِكِي (رض) اکیا - دستاویز لینا ال - حرف تعریف ہے، کبھی عہدی ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں "اشتریت عبدًا انتم بعث العبدًا" یعنی میں نے ایک غلام خریدا اور پھر اسی غلام کو بیچ دیا۔ اور کبھی جنسی جیسے "خلق الانسان ضعيفًا" یعنی انسان ضعیف و کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور بھی اسم موصول کے معنی دیتا ہے جب کہ یہ اسم فاعل و اسم مفعول پر داخل ہو۔ جیسے "جاء في الصارب والمفروب" آل (ن) آل - نیز سے مارنا دھتکارنا - الرجل: جلدی کرنا - اللون: رنگ کا صاف و چمکیلا ہونا۔ آل (رض) آل و آلاد و آلیداء - الرین بیمار کا کہنا - الرجل فی دعاء: کسی کا اپنی دعا میں گڑ گڑانا۔ آللت (س) آللا - الانسان، وانترن کا خواب ہو جانا۔ آلل - الشئ: کسی چیز کو دھار دھار بنانا۔ یا نوکدار بنانا۔ آل (س) - عہد، اقرار، پڑوسی، اچھی صل دشمنی، کینہ۔ ال (س) - آہ و زاری۔ الآلة - برہمی، روانی کے ہتھیار۔ فرض مثل "تیز رفتار گھوڑا"۔ الآلة - نالہ و زاری کرنے کی ہیئت قرابت - ج: آل الآلة - مویشی جس کی چراگاہ دور ہو۔ ج: آل الآلیلة - مویشی جس کی چراگاہ دور ہو۔</p>	<p>آكله مواكله - ساتھ کھانا کھانا۔ إتكل - معن کا معن کو کھانا۔ من الغضب: غصہ سے جل اٹھنا، غصہ میں جل جھن جانا۔ إتكلت النار - آگ کا سخت بھڑک اٹھنا إستأكله - الشئ کھانا تیار کرنے کو کھانا کہا جاتا ہے "فلان یستأصل الصنعاء" یعنی فلاں شخص ضعیفوں کا مال ہروپ کر جاتا۔ الأكل والأصل - مچل، خوراک، کشاہ روزی الأكلة - لقمہ، فیبت۔ الأكلة - خارش، غیبت کھانے کی ہیبت۔ الأكلة - خارش الأكلة - معنو کو کھانے والی بیماری یا زخم۔ الأکال - کھانا، اسی سے ہے "مازنت اکالا" میں نے کچھ نہیں کھا۔ رؤکال - خارش۔ الأکال والأکیل والأکول و الأكلة - بہت کھانا پیو۔ الأکولة - بکری جو کھانے کے لئے موٹی کی جلتے۔ الأکولة والأکیل - بکری جو چیر پیے دیو کے شمار کے لئے کھڑی کی جلتے۔ الماکل - خوراک ج۔ ماکل الماکلة - جو چیر کھاتی جلتے۔ خوراک المیکلة - چھوٹا پیالہ المیکال - چھپہ۔ ج: ماکیل الماکول - خوراک ج: ماکیل استاکم - الموضع: ٹیلہ بن جانا۔ الاکمة - ٹیلہ ج اکم و اکمات ج: آکام و اکم و اکام۔</p>	<p>ج: آقاجی و آقاجہ "آقاسی الامر" کسی امر کا آغاز۔ الأقط والأقط والأقط والأقط والأقط والإقط - پیر أقط - پیر کا گڑا۔ الأقشاق والأقشوس - ایک خوبصورت پتوں والی گھاس۔ أكد و أكد - العبد والسرچ: مضبوط کرنا، مضبوط باندھنا۔ الشئ: ثابت کرنا۔ تأكد و تؤكد - ثابت ہونا، مضبوط ہونا۔ الاکید - مضبوط، محکم، ثابت۔ الاکید و التکید - وہ تسمے جن سے زین کے آگے کے حصے کو باندھتے ہیں۔ أکران، أکران - الارض: زمین کو پھاڑنا اور اس میں کاشت کرنا۔ الاکار - کاشت کار (ج)، اکرة و اکارون۔ الاکرة - گیند، گڑھا ج، أکر أکت و أکت ایگافا - لہار: گڑھے پر پالان کشتا۔ الاکاف: پالان بنانا الاکاف - پالان (ج): أکت و اکفنة الاکاف - پالان بنانے والا، پالان چینے والا۔ أکل (ن) اکلا و ماکلا - الطعام، کھانا - الشئ: بنا کرنا أكله (ن) اکلا و اکالا و اکالا - رأسه: سر کھلانا۔ أکل (س) اکلا و تاکل - السن او العود: دانت یا کڑی کا کھوکھلا ہوا کر کر جانا۔ أكله و آكله ایگالا - الشئ: کسی کو کچھ کھلانا۔</p>
--	--	---

<p>آلفہ الآفاد مؤالفة۔ آپس میں محبت پیار کے ساتھ رہنا۔ و آلفہ المكان ایلاقاً۔ کسی کو کسی جگہ سے مانوس کر دینا۔ آلفم۔ ہزار بنانا۔ آلفو۔ ہزار ہونا۔ آلف۔ الکتاب: مسائل کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا۔ الشیء: یعنی کو بعض سے ملانا۔ مہنم، لوگوں میں الفت و محبت پیدا کرنا۔ الالف: پورے ہزار کرنا تألفوا۔ جمع ہونے۔ اکٹھے ہونے۔ تألف۔ الشیء: چیز کا نظم و ترتیب میں آنا تألف۔ بناؤںکی دستی رکھنا، اوپری دل سے محبت کرنا۔ استألفوا۔ جمع ہونا۔ استألف۔ دوست و ساتھی تلاش کرنا۔ الآلف والائف۔ دوستی۔ انس و محبت الآلف۔ حروف تہجی کا پہلا حرف، ہر شے میں سے ایک۔ الآلف۔ ہزار ج، الوف والاف اوالف۔ الطیر: گھر میں رہنے والے پرندے الایفۃ۔ الف (ہزار) کی طرف منسوب سے اور اصطلاح میں اس ہزار شمار پر مشتمل قصیدہ کو کہتے ہیں جنہیں کسی فن کے اصول و قواعد بیان ہوں اگر مطلق لفظ ایفہ بولہائے تمہا سے ایفہ بہا تک مراد ہوتا ہے جملہ جنہیں ہے۔ الایلاف۔ عہد۔ پروانہ، راہ چاری۔ القائف۔ مصدر، کتاب الالوف۔ بہت محبت کرنے والا ج، الف المألف۔ جس سے لوگ الفت و محبت رکھیں، لوگوں کی مرطوب شے۔ ج، مألف۔ المیولت۔ کتاب کا مصنف، ہزار کا مالک الق (من) القاتل و القاتل۔</p>	<p>الالوک۔ سرور و اجر خاک کو اڑانے۔ "رجل الوب" ڈول کو جلدی نکالنے والامرو المملب۔ تیز رفتار آلت۔ (من) الثا و آلت ایلاتنا الرجل حقاً: کسی کے حق میں سے گھٹانا۔ — آلت الشیء: گھٹانا (لازم و مستعدی) آلتہ یحییٰ: کسی کو قسم دلانا۔ — الرجل: کسی کو اس کے ارادے سے پھیرنا اور باز رکھنا۔ الآلتہ۔ تھوڑا عطیہ، گزرنے ہوئے واقعہ پر چھوٹی قسم۔ الذی۔ اسم موصول، تثنیہ۔ اللذان ج: الذین و الذیون تصغیر: اللذین والذیان و اللذیون۔ مونث: الذی ج: اللواتی و اللاتی تثنیہ التان تصغیر: اللاتی و اللاتی۔ الترک ویدہ (من) الزا۔ لادم ہونا۔ چمٹ جانا۔ الز (من) الزا۔ بے قرار ہونا۔ السہ (من) الساء۔ خیانت کرنا۔ دھوکہ دینا۔ السہ۔ دیوانہ ہونا۔ صفت مالوس السہ مؤالسة۔ غدر کرنا خیانت کرنا الأس۔ جنون۔ خیانت۔ الأس۔ دیوانگی۔ الأسوس۔ دیوانہ۔ مثل لوماع۔ الأسوس۔ دیوانہ آلف (من) آلفا۔ مانوس ہونا محبت کرنا صفت، الف۔ ج، آلف والیف ج، الالف و آلف ج، الالف اور اسم، الافة۔ الف المكان و آلفہ ایلاقاً۔ کسی جگہ سے مانوس ہونا۔ الف (من) الفاء۔ ایک ہزار و نیا</p>	<p>الآ۔ یہ حرف شروع کلام میں آتا ہے اور اپنے مابعد کے مضمون پر زور دیتا ہے اور اس کے تحقیق کو ثابت کرتا ہے جیسے "الآ انہم ہم السفہاء" خبر واد ہو کہ یہی بے وقوف ہیں۔ حرف تثنیہ بن کر آتا ہے جیسے "الآ یا صاح قم" خبر واد اے ساتھی کھڑا ہو جا یا حرف عرض ہوتا ہے، جیسے "الآ تنزرا ینا" کیا آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے؟ یا تخصیص کا کام دیتا ہے جیسے "الآ توب و تتردا عن غیثک" خبر واد تو بہ کر اور اپنی گمراہی سے باز آ جا، الآ۔ حرف تخصیص بن کر آتا ہے جیسے "الآ تکرہ ابویک" تو اپنے والدین کی عزت کیوں نہیں کرتا۔ الآ۔ حرف استثناء جیسے "جاء القوم الآ زیداً" یعنی زید کے علاوہ سب قوم آئی اور کبھی صفت کے لئے غیر کے معنی میں آتا ہے جیسے "الی رجال الآ جالک" میرے آدمی تیرے آدمیوں کے علاوہ ہیں۔ اور کبھی نفی کے بعد صر کے لئے آتا ہے جیسے "ما ضرب الآ زیداً" زید نے ہی مارا آلب (من) آلبا و آلب۔ اکٹھا ہونا جمع ہونا۔ آلب (من) آلبا و آلب۔ جمع کرنا آلب۔ مہنم، لوگوں میں فساد برپا کرنا۔ الآلب۔ کسی ایک شخص کی عداوت پر جمع ہونے والی قوم کہا جاتا ہے "ہم علی الب واحداً" کہ وہ سب میری عداوت پر متحد و متفق ہو گئے۔ انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان کا فاصلہ۔ الآلب۔ بکری کے بچے کی کھال، زہر بخار کی شدت۔ گرمی کی شدت۔ پیاس بھڑکے کے اچھے ہونے کی ابتداء۔ الآلبۃ۔ جھوک</p>
--	---	---

البرق بجلی کا چمکا، بجلی کا کوئٹا

أَبْقِ - الرجل، جو بھٹ بھٹا۔

أَبْقَى الْقَسَا - دیوانہ و مجنون ہونا، صفت،

مُشَقِّقٌ وَمَأْلُوقٌ -

الإلْقِ - بھیر پڑا۔ جہاں آبق - بدخلق

الأولق - جنون۔ دیوانگی۔

الإلاق - بغیر بارش کے بجلی۔

الآلاق - بھڑکا۔

المألوق - دیوانہ

المشقق - بے وقت

أَلَّتْ - (رض) آگ اور اُلُوکَة و اُلُوکَا

و ما لکنا و اَلَّتْ اَلْاَکْتَمَ: پیغام

پہنچانا۔

إِسْتَأْتَلَتْ - اُلُوکَتَه کی کاغذیا پیغام

لے جاتا۔

الملك والملک - جہاں مَلَک و

مَلَکَة - فرشتے

الألوك والألوكَة و المألک و

المالکَة - پیغام جہاں آلیک و

مَالَتْ -

المألوت - دیوانہ۔

أَلَمَّ (رس) أَلَمًا - دکھی اور درد والا ہونا

صفت، أَلَمٌ -

أَلَمَهُ تَأَلَمًا و أَلَمَهُ إِيْلَامًا -

دکھ درد پہنچانا۔

تَأَلَمَ - دکھی ہونا، درد مند ہونا۔

الألَم - سخت دکھ جہاں أَلَمَ

الألَم - دردناک، دکھ اور تکلیف دہن والا

الإلتماس - ہیرا۔

أَلَهَ (رض) أَلَهَةً و إِيْلَاهَةً و

أَلَهِيَّةً - بندگی کرنا۔

أَلِهَهُ (رس) أَلِهًا - حیران ہونا، کہا جاتا

ہے "أَلِهْتُ عَلَيْهِ" میں نے اس پر

بہت جزد و فزع کیا۔

أَلِهَ - ع - معبود بنانا، خدا کا مرتبہ دینا۔

پسٹش کرنا۔

تَأَلَسَ - معبود بن جانا یا خدا ہونا

إِسْتَأَلَسَ - معبود سے مشابہ ہونا۔

الإلَهُ - معبود، خدا۔ جہاں آ إِلَهَةً -

أَلَهًا - ذات واجب الوجود کا نام اللہم

اے خدا۔ اے اللہ۔

أَلُوهُتَةً و أَلَاهَةً و إِيْلَاهِيَّةً

و أَلُوهُيَّةً و إِيْلَاهِيَّةً -

معبودیت، خدائی۔

الإلَاهَةَ - برا اسباب - نیانچاند۔

الإِلِيَهَةَ و إِيْلَاهَةً - آفتاب۔

علم الإِلِيَهِيَّاتِ - وہ علم جس میں اللہ کی ذات

صفات سے بحث ہو۔

الأردن، أَلُوَا و أَلُوَا و إِيْلَا و آتِي و

أَمْتَلَى - فی الامر کسی کام میں کوتاہی

کرنا۔ دیر لگانا، کہا جاتا ہے "لَعَزَّيَالُ

جَهَنَّمَ" اس نے کوشش کرنے میں کوتاہی

نہیں کی۔

أَلَى إِيْلَاءٍ و تَأَلَى و إِيْتَلَى - قسم کھانا

أَلَى - عظیم بکری کی مینگنی۔

الألُو و الألوَّة و إِيْلِيَّةً - اڑکی کلاسی

جہاں أَلِيَّةً

الألُوَّة و الألوَّة و إِيْلِيَّةً - قسم۔

أَلِيَّةً کی جمع الألیا۔

الألی - بہت قسمیں کھانے والا۔

المیضَلَاة - وہ رومال جس کو زخم کرنے

والی حرکت اپنے اٹھنے میں لے کر ہلاتی ہے

جہاں مَالٌ

أَلَى (رس) أَلِيًا - ڈنبر کی جلی کا بڑھ جانا

صفت، أَلِيَانٌ و آلی - مؤنث،

إِيْلَاءٌ و إِيْلَانَةٌ جہاں أَلَى

الألیة - ڈنبر کی جلی، یعنی - أَلِيَانٌ

بغیر تاکہ جہاں أَلِيَا و إِيْلِيَاتٌ -

الألی و الألی و الألی - نعمت ہرانا

فعل - جہاں أَلَى

الألوه والالی - ایک ہیٹھ سبز رہنے والا

درخت میں کا پھل کھڑا ہوتا ہے۔ واحد

الألوهة

الالی - فوج کا دستہ۔ جہاں إِيْلِيَاتٌ

یہ ترکی کلمہ ہے ربی میں اس کے لئے لیلیق

کا لفظ مستعمل ہے۔

إلی - حرف جر ہے، یہ کئی معنی دیتا ہے۔

انہائے زمانہ کے لئے جیسے "درس الی

المساء" اس نے شام تک پڑھا۔

انہائے مکان کے لئے جیسے "سَارَ إلی

الْبَيْتِ" وہ گھر تک گیا۔

عند کے معنی میں جیسے "كَلَامُهُ أُنْشَهُی

إلی مِنَ التَّوْحِيْقِ" اس کی گفت و گو

مجھ کو شراب سے زیادہ مرغوب و محبوب ہے

لَام کے معنی میں جیسے "الامسا لیدك"

معاہدہ تیرے اختیار میں ہے۔ مع کے

معنی میں جیسے "ضم هذا الی ذاك"

اس کو اس کے ساتھ ملا۔

إِلِيَاث - اسم نسل ہے یعنی اَبْعَدُ یعنی دور

ہر جا جیسے "إِلِيَاثٌ عِنِي" تو مجھ سے

دور ہو جا۔ یعنی خندا رلے جیسے

"إِلِيَاثُ الْكِتَابِ" اس کتاب کو لے لے

ألی - اولی کے معنی میں آتا ہے جیسے العرب

الألی "قدمائے عرب - اولی - ہم اشارہ

جمع قریب کے لئے ہے۔

أَهْرٌ - حرف عطف ہے۔ یہ ہمزہ استفہام کے

بعد برابری کے معنی میں آتا ہے جیسے أَقْرَبُ

أَهْرٌ بَعِيدٌ" اور کسی بل کے معنی ادا

کرتا ہے جیسے "هل یستوی الاعنی

و البصیر امر هل یستوی الطلمات

و النور"

أَقْرَدُنْ، أَمَّا و أَمَّمْ و تَمَّامٌ و ائْتَمَّ

تصدکنا و اقمہ۔ و ما ظہر مدہ پہنچانا

امامة و اَمَّا و اَمَامًا - القوم و

بالقوم: قوم کا امام بننا۔

اُمّتٌ اُمّومَةٌ - ماں ہونا
 تَأْتَمُّ - المرأة: کسی کو ماں بنانا
 اُسْتَمَّتْ - بے - اقتدار و پیروی کرنا۔
 اُسْتَأْمَرَ - کسی کو امام بنانا
 اِسْتَأْمَرَ - المرأة - کسی عورت کو ماں بنانا
 الاُمُّ - والدہ - ماں کسی چیز کی اصل ج
 اُمّاتٌ و اُمّهات - بعض کے نزدیک
 امتات انسان کے لئے ہے اور اُمّات
 بہائم کے لئے۔ اُمّ القُرْأی: مکہ معظمہ۔
 اُمّ الطریق: شارع عام اُمّ النجوم
 ککشاں اُمّ الراس و اُمّ اللامع
 وہ جگہ جس میں داغ لپٹا ہوا ہو ہے اُمّ
 المشوی بیوی اُمّ عریط - بھجور۔ اُمّ
 اربع و اربعین کنکبورا - اُمّ اذراس
 جنگل چرا مصیبت اُمّ البینس شتر مرغ
 اُمّ التنايف - دور کا جنگل۔ اُمّ
 تُولب گدھی۔ اُمّ جابیر - ہریہ
 اُمّ حنّاب - ظلم و بے انصافی۔ اُمّ
 الجحان ڈول، ڈھال۔ اُمّ جعّار - بھجور
 اُمّ جعّان گدھ۔ اُمّ الجیش - جھڑا
 اُمّ حباب - دنیا۔ اُمّ حبیب - گڑگٹ
 اُمّ حرب - جھڑا۔ اُمّ حَفَصہ - مرغی
 اُمّ حلس گدھی۔ اُمّ الحباثت -
 شراب اُمّ حنّاف - سستی اُمّ خنّوسا - بھجور
 اُمّ دَرَن دنیا اُمّ دَربائین - قحط زدہ
 سرزمین۔ اُمّ دَرَناء دنیا۔ اُمّ دَقْر - دنیا
 اُمّ دَقار دنیا۔ اُمّ اَشیدا چوہا۔
 اُمّ الرئیق - سستی - بلا۔ اُمّ الرّمح
 جھنڈی۔ اُمّ سَمَحَة کرا۔ اُمّ سوید
 دُبر۔ اُمّ صَبّاس بلا۔ سستی رطائی
 اُمّ صَبّوس بلا سستی رطائی اُمّ الصبّیان
 ایک قسم کی بیماری جو بچوں کو لاحق ہوتی ہے
 اور جس سے بچے بیہوش ہو جاتے ہیں۔
 اُمّ حَلِیق - سستی - سانپ - بلا
 اُمّ الطریق شارع عام۔ اُمّ الطعام

معدہ - گیہوں - اُمّ عاصِر - بھجور۔
 اُمّ عَرِیط - بھجور۔ اُمّ عِزْر - دُبر
 اُمّ کَدْوَة بھجور۔ اُمّ القَرَج - ایک
 قسم کا کھانا جو شربت، چاول اور شکر سے
 تیار کرتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں ایک قسم کی
 روٹی جس میں پرندہ اور برفنا کا گوشت بھر کر
 تیز میں پکاتے ہیں۔ اُمّ القُرْآن -
 سورہ فاتحہ۔ اُمّ تَشَعْم - رطائی
 مصیبت - بھجور۔ موت بکری اُمّ القود
 سوار قوم۔ اُمّ الکتاب لوح محفوظ
 سورہ فاتحہ یا کل قرآن پاک۔ اُمّ کَلْب
 ایک پہاڑی درخت کا نام۔ اُمّ کَلْبَة -
 بخار۔ اُمّ مازن چیرٹی۔ اُمّ المثنوی -
 بیوی۔ اُمّ مِلْدَم - بخار۔ اُمّ النجوم
 ککشاں۔ اُمّ الولید مٹی اُمّ ہبایدہ -
 مینڈکی۔

لا اُمّ لک - کلمہ زم ہے اور کبھی مدح و

استحسان کے لئے بھی آتا ہے۔

الامّار - آگے و اُمّامک - یہ ڈرانے کے
 لئے آتا ہے اور اِحذار (یعنی ڈر)
 کے معنی دیتا ہے۔

الامّار - (مذکورہ مؤنث دونوں کے لئے)۔

پیش امام، وہ جس کی اقتدار کی جائے۔

پیشوا، مہاراجا وہ دعا گایا اور گدھ جس سے

وہ عمارت کی سید قائم کرتا ہے منور،

کھلا راستہ، ج: اُمّیّہ و اُمّیّۃ

الامّامۃ - امامت - پیشوائی ریاست عالم

الامّۃ - جماعت، آدمیوں کا گروہ۔ وقت

طریقہ، قدرت، امامت۔

الامّی - ان پر طوطے بے پر حال کھا۔

والامّیۃ و الامّومۃ - ماں ہونا۔

الامّیم و الامّومہ - سرپرست کھلیا ہوا

الامّیۃ - لفظ "ام" کی تفسیر بھجور

ج: اُمّائیم۔

الامّیۃ - پھر جس سے سر کھلا جائے

اُمّا - حرف تشبیہ ہے اور اس کے بعد اکثر قسم
 کھائی جاتی ہے، جیسے: اُمّا و اللہ -

حرف تشبیہیہ - "اُمّا تَنْزِل بِنَا"

اُمّا - حرف شرط و تاکید یعنی لیکن جیسے "اُمّا الذّین

آمَنُوا فَبِعَلْمُونِ اَنَّهُ الْحَقُّ" لیکن جو

لوگ ایمان لائے پس وہ جاتے ہیں کہ وہ

یقین ہے۔ حرف تفصیل جیسے "اُمّا زیداً

فَرَج" لیکن زید نے تو فائدہ اٹھایا۔

اُمّا - یہ کسی معنی دیتا ہے۔

۱۔ حرف تفصیل ہوتا ہے جیسے انا ہدینہ

السبیل اُمّا شا کرا و اُمّا کفورا۔ ہم نے

انسان کو راستہ دکھلایا اس کے بعد وہ شکر

گزار بندہ بنے یا ناشکر بن کر جئے۔

۲۔ شک و ابہام کے موقع پر بھی آتا ہے

جیسے "جاء اُمّا زیداً و اُمّا عمو" یا تو

زید آیا ہے یا عمر، گویا یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں

میں سے کون آیا۔

۳۔ اباحت و تخییر کے معنی بھی دیتا ہے جیسے

"تعلّمہ اُمّا الفقہ و اُمّا اللغۃ" فقہ

سیکھ یا لغت۔

اُمّتہ (رض)، اُمّتا و اُمّتہ - قیاس کرنا۔

انذار لگانا۔ قصد کرنا۔

الامّت - کرودیا، اونچا مقام، شک، بھلی

ہونا، ج: اُمّات و اُمّوت

اُمّج (رض) اُمّجگا گرم ہونا، پیاسا ہونا

صیف اُمّج - بہت گرم، گرم گرم

اُمّج (رض) اُمّحانا۔ اُمّج - دھوکنا

اُمّد (رض) اُمّدا۔ علیہ بختہ ہونا، تاملین

ہونا۔

اُمّدا - مدت بیان کرنا، اُمّدا، بکھین

ایک قطرہ دھیر دھیر پڑنا۔

الامّدا - فایت، چیز کی انتہا، غفیر،

ج: اُمّاد - کہا جاتا ہے "خال علیہ الامّاد"

ان پر مدت، طویل ہو گئی۔

الامّدا و الامّدا - بھری ہوئی کشتی۔

أَمْرَةٌ (ن) أَمْرًا وَأَمْرًا وَأَمْرًا بِكَم
 دینا۔ صفت، آہٹ اور صفت معقول ماموں
 کہا جاتا ہے أَمْرًا الشئ وبالشئ
 وَأَمْرًا ان يفعل وبان يفعل۔ یعنی
 اس نے اس کو کسی کام کے کرنے یا بنانے
 کا حکم دیا۔
 أَمْرٌ (س) أَمْرًا وَأَمْرًا وَأَمْرًا
 وَإِمَارَةً۔ امیر ہونا، سردار ہونا، حاکم ہونا
 — علیہ والی ہونا۔
 أَمْرٌ (س) أَمْرًا وَأَمْرًا۔ الشئ بہت
 ہونا، کثرت سے ہونا۔ الرجل بکثیر مؤنث
 کا مالک ہونا۔ صفت ایسا۔
 أَمْرَةٌ۔ کسی کو امیر و حاکم بنانا۔
 أَمْرًا مَوْأَمَةً۔ فی امر کسی امر میں مشورہ
 کرنا۔
 أَمْرًا أَيُّمَارًا حکم دینا۔ ۴۔ أَمْرٌ
 اللہ تعالیٰ نے اس کے مال یا اس کی نسل کو
 بڑھایا۔
 تَأَمَّرُوا أُمَّتَهُمْ وَاسْتَأْمَرُوا۔ کسی
 سے مشورہ کرنا۔
 تَأَمَّرَ عَلَيْهِ: تسلط پانا۔ زبردستی کرنا۔
 اسْتَمَرَّ الْأَمْرُ وَبِهِ: فرما برداری کرنا، حکم
 بجالانا۔
 اسْتَمَرُّوا وَاتَّامَرُوا۔ آپس میں مشورہ کرنا
 اسْتَمَرُّوا بِفُلَانٍ۔ کسی کے قتل کی سازش
 کرنا۔
 الْأَمْرُ۔ جہ آواز۔ حکم، فرمان جہ امور
 کام۔ واقعہ۔ چہو جیسے "لامہا ماکان
 کذا" کسی چیز کے سبب ایسا ہوا۔
 أَوَّلُوا الْأَمْرَ۔ دوسرا، علماء، حکام
 الْأَمْرَةَ۔ امر کا اسم مرہ
 الْأَمْرَةَ۔ امر کا اسم نعت حکومت، ولایت
 الْأَمْرَةَ بِيَابَانٍ میں چمک چمکنا سا نشان
 ٹیلہ۔ جہ امر
 الْأَمْرَةَ۔ علامت جہ آمارات۔

الامر مجیب۔ خلاف عقل و خلاف شرع امر
 الْأَمْرُ وَالْأَمْرَةُ۔ کمزور لئے رکھنے والا
 کہا جاتا ہے "مالہ آمیر ولا آمیرة"
 یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔
 الْأَمْرُ۔ بہت حکم دینے والا، شرارت پر
 اُکسانے والا، مؤثر، أَمْرًا
 التامور۔ برتن اول، بادشاہ کا وزیر۔
 التامور۔ راہب کا صومعہ، شیر کی کچھار
 التاموریتی والتاموریتی والتاموریتی۔
 انسان۔
 الْأَمِيرُ۔ حکم دینے والا، سردار قوم، اس
 شخص کو بھی امیر کے لفظ سے یاد کرتے
 ہیں جو شریف الاصل ہو، اگرچہ صاحب
 حکومت نہ ہو۔ پڑوسی، وہ شخص جس کے
 مشورہ طلب کیا جائے۔
 امیر المؤمنین۔ خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ
 امیر البحر۔ بحری بیڑے کا کپتان یا کسی
 فوج کے ایک دستہ کا امیر۔ جہ: أمراء
 المال الامیرتی۔ شاہی ٹیکس، خراجی
 زمینوں سے حاصل کردہ مال۔
 الْمُؤْتَمِرُ۔ کانفرنس۔
 الْمُؤْتَمِرُ۔ خود رائے۔
 الْمُشْتَرُ۔ مشورہ، کہا جاتا ہے "فُلَانٌ
 بَعِيدٌ مِنَ الْمُشْتَرِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُشْبَرِ"
 وہ مشورہ سے بیدار بخلی سے قریب ہے۔
 آمس۔ یعنی علی انکسر۔ کل گذشتہ۔
 الْأَمْسُ (اعرابی حالت میں) گذشتہ الام میں سے
 کوئی دن۔ جہ: آمس و اموس و
 آماس۔ نسبت کے لئے اِمْسِيَّتِي خلاف
 قیاس۔
 الْأَمْسُ وَالْأَمْسُ۔ وہ گزشتہ جسے
 پارک کی کہ کچا کھاتے ہیں اور کبھی آگ
 دکھلا لیتے ہیں۔
 اِمْسٌ (س) اِمْسًا۔ الرجل کسی کام کا پختہ
 ارادہ کرنا اور کسی کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لانا

الَامَّة وَالْإِمَّة۔ ہر ایک کی رائے کی پیروی
 اتباع کرنے والا۔ بن جانے و موت میں چلا
 جانے والا۔ جہ: اِمْعُون۔ اِمْع کی
 اصل، اِتی معک ہے اور اِمْع میں تا۔
 تائیت کی نہیں، بلکہ مبالغہ کی ہے۔
 تَأَمَّرَ وَاسْتَأَمَّرَ۔ ہر ایک کی رائے کا
 تابع بننا۔
 أَمْسٌ۔ العین۔ تاک کی طرف کا آنکھ کا گوشہ جہ:
 أَمَاق۔
 أَمَلَةٌ (ن) أَمَلًا وَأَمَلَةً تَأَمِيلًا۔
 امید کرنا۔
 تَأَمَّلَ۔ الأمر ذمیرہ: کسی کام میں دیکھ بھج
 بچار کرنا۔
 الْأَمَلُ وَالْأَمَلُ۔ اُمید جہ: آمال
 الْأَمَلَةُ۔ اُمید۔
 الْأَمَلَةُ۔ امدادی لوگ جہ: آمال
 الْهَامَلُ۔ امید جس کی امید رکھی جائے
 الْمَوْمَلُ۔ گھوڑوں میں آٹھویں نمبر کا گھوڑا
 أَمْنٌ (س) أَمَانَةً۔ امین ہونا، امانت دار ہونا
 صفت۔ امین جہ: أَمْنَاءُ۔
 أَمَنَ (مض) أَمْنًا۔ کسی پر اعتماد و سہوار کرنا
 کسی پر اعتبار کرنا۔ صفت: آمِنٌ۔
 آمِنٌ (س) أَمْنًا وَأَمْنًا وَأَمَانًا وَأَمْنَةً
 مطمئن ہونا۔ صفت آمِنٌ دَائِمٌ وَأَمِنٌ
 — اللسان ذمیرہ: شیر سے محفوظ رہنا اور پینا
 آمِنٌ۔ آمین کہنا۔ ۴: کسی کو امن و
 اطمینان میں کرنا۔
 آمِنٌ وَإِثْمَانٌ۔ فلاناً علی کذا، کسی کو
 کسی خطے پر امین بنانا۔
 آمَنَهُ اِيْمَانًا۔ امن دینا۔ بلہ، کسی کی
 تصدیق کرنا، اس پر یقین لانا۔ لہ:
 تا بجا راہد مطیع ہونا۔
 اسْتَأْمَنَهُ۔ کسی سے امن چاہنا، کسی سے
 امن طلب کرنا، کسی کو امین سمجھنا۔
 علی کذا، امین بنانا۔

الْأَمْنَةُ - الامینان، ولی سکون، امانت، وہ شخص جو ہر ایک پر جھروسہ کر لے۔
 الْأَمْنَةُ - وہ شخص جس پر ہر ایک کو اعتبار آجائے اعتباری آدمی، معتد علیہ۔
 الْأَمْنَةُ - آردو، جر، امانتی
 الْأَمَانَةُ - امانت، ودیعت - جر
 أَمَانَات - خدا تعالیٰ کی فرض کی ہوئی ذمہ داری۔
 الْإِيمَان - تصدیق کرنا، مان لینا، خدا سے تعالیٰ کی وحی پر دل و جان سے ایمان لانا۔
 الْأَمَانَةُ - وہ سواری جس کے لغزش قدم کا خوف و خطر نہ ہو۔
 الْأَمِين - امانت دار، کسی کے پاس امانت رکھنے والا، کسی کی امانت رکھنے والا۔
 جِ أَمَانًا -
 آمین و آمین - ام فعل یعنی بھول کر ایسا ہی ہو۔
 الْمُؤْمِنُونَ - ماننے والا - تصدیق کرنے والا - خدا تعالیٰ کے احکام پر یقین لانے والا۔
 الْمَأْمُونُونَ - معتد علیہ شخص - معتبر آدمی۔
 الْمَأْمُون - امن کی جگہ۔
 أُمَّة (س) أُمَّهَاتُ وَأُمَّهَاتُ - الشیء بھول جانا، فراموش کرنا۔
 أُمَّة (ن) أُمَّهَاتُ - الیہ فی الامر، کسی سے کسی امر میں مدد و پہچان کرنا۔
 تَامَّةً - المرأة؛ کسی عورت کو مان جانا۔
 الْأَهْمِيَّةُ - بگڑی کی چیمک یا چنسیاں
 أَمَانٌ (س) وَأَمِيٌّ (س) وَأَمِيٌّ (م) أَمِيٌّ
 أُمَّةٌ الْجَارِيَّةُ - لڑکی بننا۔
 أُمَّةٌ (ن) أُمَّةٌ - السُّورَةُ مِائَاتُ مِائَاتٍ
 کرنا
 آمی - الجاریہ - لڑکی بنانا۔
 تَامِيٌّ وَاسْتَامِيٌّ - الجاریہ؛ کسی کو باندی و لڑکی بنانا۔
 الْأُمَّةُ - باندی، لڑکی، جر، امانت و

أَمَوَاتٌ وَأَمْوَاتٌ - نسبت کے لئے "آموتی" تفسیر اُمِيَّةُ -
 أُمِيَّةُ - قریش کا ایک قبیلہ - نسبت آموتی اور اکثر آموی بھی کہتے ہیں۔
 أَنْ - حرف مصدری ہے، فعل مضارع کر نصب دیتا ہے، جیسے "ان تصوروا خیر لکم" یعنی تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے کبھی أَنْ سے مخفف ہو کر جیسے "عَلِيمٌ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَوْضِعٌ" اللہ نے جان لیا کہ تم میں سے بعض بیمار ہوں گے۔ کبھی تفسیر کے لئے آتا ہے یعنی آئے کے جیسے "فادعينا اليه ان اصنع القلث" پس ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ کشتی بنا، کبھی زائد ہوتا ہے معنی تاکید کے لئے جیسے لَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ جب آیا خوش خبری دینے والا۔
 اِنْ - حرف شرط ہے۔ و فعلوں کو جزم دیتا ہے جیسے "اِنْ تَقْرُبْ تَقْرُبْ" اگر تو مارے گا تو مارا جائے گا۔
 حرف نفی ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور معنی کے نزدیک لیس کی طرح عمل کرتا ہے جیسے "ان احد خیر امن احد الا لعا قیة" یعنی ما نیت کے بغیر کوئی کسی سے بہتر نہیں، کبھی جملہ فعلیہ پر آتا ہے جیسے "ان ادری اقربہا ام بعیدا ما توعدون" میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ کرب ہے یا بعید۔
 کہیں اِنْ مشقہ سے مخفف ہوتا ہے اور زائد ہوتا ہے جیسے "مَا اِنْ زَيْدًا قَائِمٌ" اِنْ - حرف تاکید ہے۔ ام کر نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع جیسے "اِنْ زَيْدًا قَائِمٌ" کبھی حرف جواب ہوتا ہے جیسے کوئی کہے "لعن الله ناقة حملتني اليك" یعنی اللہ اس اونٹنی پر لعنت کرے جو مجھ کو تیرے

پاس لے آئی۔ اور اس کے جواب میں کہا جائے اِنْ ورا کہہا۔ ان اس کے سوا پر بھی اِنْ - حرف تاکید ہے۔ یہ ام کر نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور اس کے مابعد کا جملہ مفرد کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی مصدری معنی دیتا ہے جیسے "بلغني ان زيدا قائم" بھ کو زید کے قیام کی خبر پہنچی۔
 اَنْ (م) اَيْنًا وَاِنَّا وَاَنَا وَاَنَا وَاَنَا
 کرنا، اور اور ڈکھل دہرے آہ نکالنا۔
 اَنْتَهُ وَاَنْتَهُ - ماننا۔
 الْاَنْتَانِ وَالْاَنْتَانِ وَالْاَنْتَةُ - بہت کرانے والا
 الْاَنْتَةُ وَالْاَنْتَةُ - کرنا حاصل مصدر
 اَنَا - ضمیر رفع برائے منکلم یعنی "میں"۔
 الْاَنْتَةُ - "اَنَا" کہنا۔
 الْاَنْتَةُ - لان، خودی، گھمنڈ، غرور۔
 اَنْتُ - کسی کو ڈانٹنا، جھڑکنا، طاعت کرنا
 الْاَنْتِيْقُ - عرق کشید کرنے کا آلہ جو انکاہیق
 الْاَنْتُ - بیگن۔
 الْمُؤْتَنِبُ - جو شخص میں کو کمانے کی تلاش نہ ہو
 اَنْتُ وَاَنْتُ - تو واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر کی ضمیر پر فروع منفصل
 جر، اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ
 اَنْتُ (م) اَنْتُ - المرءُفُ اِنْتِ اِنْتِ اِنْتِ
 آہ آہ کرنا۔ لکھنا، جھڑکنا، لڑنا۔
 اِنْتُ (ن) اِنْتُ - اللہ کے لئے اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ
 ہونا، منقش ہونا، منقش، اِنْتُ اِنْتُ
 مکان اِنْتُ - گاس ہر اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ
 نسیف اِنْتُ - کڑھوارہ۔
 اَنْتُ - مؤنث بنانا، مؤنث بنانا، اِنْتُ اِنْتُ
 بنانا۔ اِنْتُ - نرم ہونا، نرم ہونا۔
 اَنْتُ اِنْتُ اِنْتُ - المرأة، عورت کا لڑکی
 جننا، صفت، مؤنث
 تَانْتُ - مادہ ہونا، مؤنث ہونا۔ لڑ

اَنْصَر (ن) اَنْصَرًا خوف کی وجہ سے آنتوں کا حرکت کرنا۔

اَنْصَرًا اِنْصَارًا۔ المم: گزشت کا نیم بریاں کرنا
اَنْصَر (ن) اَنْصَرًا۔ من العار: خود دار ہونا
نا پسند کرنا۔ صفت: اَنْصَرٌ۔ اسم
الانفة۔ البعير: اونٹ کی ناک میں پوری
پیدا ہونا۔ صفت: اَنْصَرٌ۔

اَنْفٌ (ن) اَنْفًا۔ کسی کی ناک پر مارنا
اَنْتَفٌ وَاِسْتَنْتَفٌ۔ الشئ: کسی چیز کو
نئے سرے سے شروع کرنا۔ اور اسی سے
ہے "اِسْتَنْتَفَ الدَّعْوَى" یعنی اس نے
اپیل کی۔

اَلْاَنْفُ۔ ناک۔ اَنْفٌ الجمل: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا
حصہ۔ اَنْفٌ کُلُّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کی ابتداء
کہا جاتا ہے۔ "مات حتف انفہ"
یعنی وہ اپنی طبیعت موت مرا۔ رغم انفہ۔
وہ ذلیل و رسوا ہوا۔

حس اَنْفہ۔ وہ غالب و زبردست ہوا
ج: اَنْفَاتٌ وَاَنْوْفٌ وَاَنْفٌ۔
اَنْفًا۔ ابھی کہا جاتا ہے۔ "ذُكُوتہ
اَنْفًا" میں نے اس کا ابھی ذکر کیا۔ یہ
تباہی و ترقیت منسوب ہوتا ہے۔

اَنْفٌ۔ الشباب: عنقریب شباب
کہا جاتا ہے "مَصَّنَتْ اَنْفٌ الشَّابَّ"
یعنی عالم جوانی ختم ہوا۔ جوش جوانی جاتا رہا
اَلْاَنْفُ۔ وہ سبزہ زار جس کو کسی نے نہ چرا ہوا
کاس اَنْفٌ۔ وہ پیالہ جس کے کسی نے
نہ پیا ہو۔ اچھوتا پیالہ۔

اَلْاَنْفِیَّتُ۔ نرم لڑا۔ تمام زمینوں سے پہلے
پیداوار اگانے والا پہاڑ۔
رَجُلٌ اَنْفِیٌّ۔ بڑی ناک والا مرد۔

اَلْمُسْتَنْتَفُ۔ نیا۔
اَنْتَقَ (ن) اَنْتَقًا۔ خوش ہونا۔ الشئ:
کسی چیز کو پسند کرنا۔ ہر کسی چیز کو پسند
کر کے دوسری اشیاء کے مقابل میں اس کو اختیار

اِسْتَنْتَسَ۔ وحشت دور ہونا۔ بدالیہ
کسی سے مانوس ہونا۔ لہذا کان لگانا

دیکھنا۔
اَلْاَنْسُ۔ وہ شخص جس سے تم کو انس ہو،
بڑا گروہ ج: اَنْسٌ
اَلْاَنْسُ۔ آدمی۔ واحد اِنْسِیٌّ وَاَنْسِیٌّ
ج: اَنْسٌ وَاَنْسِیٌّ۔

اَلْاَنْسُ وَاَبْنُ اَلْاَنْسِ۔ تمہارا دوست
اور حلیف۔
اَلْاَنْسُ وَاَلْاَنْسَةُ۔ اُنسیت۔
اَلْاَنْسَةُ۔ پاکیزہ طبیعت والی لڑکی۔
ج: اَوَانِسٌ۔

اَلْاَنْسَانُ۔ انسان، آدمی خواہ مذکر ہو یا
مؤنث اور اِنْسَانَةٌ بھی مانا گیا ہے
غیر مزدوم زمین۔

اَلْاِنْسَانُ الْعَیْنُ۔ آنکھ کی تہی ج: اَنْاسِیٌّ
وَاَنْاسِیَّةٌ وَاَنْاسٌ۔

اَلْاِنْسَانِیَّةُ۔ انسان کی خصوصیات۔
اس کا استعمال اکثر اخلاق ستودہ کے لئے
آتا ہے، مثلاً جو آزادی، خوش اخلاقی
رہی تربیت وغیرہ۔

اَلْاَنْوَسُ۔ بہت اُنس کرنے والا
اَلْاَنْوَسُ۔ اُنس کرنے والا، وہ شخص جس سے
اُنس ہو، کہا جاتا ہے "ما بالدار من
انیس" یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے۔

اَنْفِیْسٌ۔ ایک آبی پرندہ بھی ہے جس کی آواز
گائے کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے۔
اَلْاَنْفِیْسَةُ وَاَلْمَاَنْوَسَةُ۔ آگ۔

اَلْمَوْتِیْسُ۔ انس ہیٹے والا پنجشنبہ کے دن
کا نام۔

اَلْمَوْتِیْسُ۔ شمع۔

اَلْمَوْتِیْسَاتُ۔ ہتھیار۔

اَلْاَنْفِیْسُونَ۔ رومی سولف
اَنْطَقَ (ن) اَنْطَقًا۔ المم: گزشت کا خزا
ہونا۔ بگڑنا۔

نرم ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔
اَلْاَنْثِیُّ۔ مادہ۔ ج: اَنْثٌ وَاَنْثِیٌّ۔
ج: اَنْثٌ۔

اَلْمَوْتِیْسَةُ۔ مادہ، بیچڑا
اَلْمِیْسَنَاتُ۔ وہ عورت جو لڑکیاں بنا کر
ہو۔ مرد کے لئے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے
اس لئے کہ مفعول کا وزن دونوں کے لئے
یکساں ہے مِیْسَنَاتُ کا مقابل بَدَاکَرٌ ہے
یعنی وہ عورت جو لڑکے بنا کرتی ہو۔

اَلْاِنَاثُ۔ چھوٹے چھوٹے ستارے۔

اَلْاِنْجِیْلِیُّ۔ جہاز کا سنگ۔

اَلْاِنْجِیْلِیُّ۔ آسمانی کتاب جو حضرت عیسیٰ علی
نبینا وعلیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ ایک
یونانی کلمہ ہے جس کے معنی بشارت کے ہیں
ج: اَنْجِیْلِیُّ۔

اَنْحَر (ن) اَنْحَارًا وَاَنْحَارًا وَاَنْحَارًا۔ کا کھنا
اَلْاَنْحَرُ وَاَلْاَنْحَرُ وَاَلْاَنْحَرُ۔ برال کرنے
پہ نکل کی وجہ سے کانکھنے والا۔

اَنْسَ (ن) وَاَنْسَ رُكًا، اَنْسَا وَاَنْسَةُ
وَاَنْسَ (ن) اَنْسًا۔ مانوس ہونا۔
— پر والیہ کسی سے محبت کرنا، کسی سے
دل لگانا۔

اَنْسًا۔ مانوس کرنا۔
اَنْسَ۔ الشئ: کسی چیز کو دیکھنا اور اس کو جاننا
اَنْسَ یُوْا اَنْسًا، مَوْتِیْسَةُ لُطْفٌ
مہربانی کرنا۔ محبت کرنا۔ تسلی دینا۔

اَنْسًا یُوْا اَنْسًا، اِنْیَسًا۔ مانوس کرنا۔
اَنْسَ۔ الصوت: آواز سننا۔ الشئ:
کسی چیز کو دیکھنا اور اسی سے ہے "اَنْسَ
من جانب الطور ناراً" یعنی حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے طور کی جانب آگ کو
دیکھا۔

اَنْسَ۔ انسان ہونا، مانوس ہونا۔ السبع
دندہ کا دوسرے اپنے شکار کی آہٹ کو
معلوم کر لینا۔ یہ کسی سے مانوس ہونا

کرنا۔ الشیء کسی چیز کا خوبصورت و عمدہ اور پسندیدہ ہونا۔ صفت :
 أَنْقَى وَأَنْبَقٌ وَمُؤْنِقٌ۔ کہا جاتا ہے
 "رَوْضَةٌ أَنْبِقٌ وَأَنْبِقَةٌ" باغ
 خوبصورت و خوش منظر ہے۔
 أَنْقَى۔ کسی کو تعجب میں ڈالنا۔
 أَنْقَى وَأَنْبِقًا وَنَبِقًا۔ تعجب میں
 ڈالنا۔ رَنْبِقًا۔ مصدر خلاف تیاں ہے
 تَأْتِقُ۔ کسی ستھری چیز کا پیھا کرنا۔ فی
 الکلام اور العمل: احتیاط و حکمت سے
 انجام دینا۔ المکان: پسند آنے
 کے سبب کسی جگہ سے جُدا نہ ہونا۔
 الْأَنْاقَةُ وَالْإِنَاقَةُ۔ پسندیدہ حسن
 الْأَنْوَقُ۔ عقاب، کہا جاتا ہے "هُوَ
 أَعَزُّ مَنْ بِيضَ الْأَنْوَقِ" وہ عقاب
 کے انڈے سے زیادہ کم یاب ہے یعنی
 بالکل نایاب ہے۔
 أَنْكَرَ (ن) أَنْكَا۔ الشیء بڑا اور مڑا ہونا
 الْأَنْكَرُ۔ سیر۔ ایک ٹکڑے کو انکٹہ
 کہتے ہیں۔
 الْإِنْكَالِيُّسُ۔ مارا ہی۔
 الْإِنَامُ وَالْإِنَامُ۔ مخلوق۔ انسانی نسل
 أَنْى (رض) أَنْبَا وَأَنْبَى وَأَنْبَى وَأَنْبَى
 تَأْنِيَةً۔ قریب ہونا آنا۔ التباث
 نبات کا پکنا۔
 أَنْى يَأْنِي وَأَنْى (س) أَنْبَا وَأَنْبَى
 رہنا، دیر کرنا۔ صفت۔ أَنْى۔
 أَنْى أَنْبَاءً۔ فلانا دیر کرنا، پیچھے ڈالنا
 تَأْنَى وَاسْتَأْنَى۔ فی الامر وہ: غورو
 فکر کرنا۔ انتظار کرنا، اکنساری سے
 سلوک کرنا۔ الرجل: کسی کو مدت دینا
 الْإِنَاةُ۔ وقار، بردباری، انتظار، ہمت
 الْإِنَاءُ وَالْإِنَى وَالْإِنَى۔ وقت کا آجانا
 پکنا۔
 الْإِنَى۔ بردباری، نرمی، پورا دن۔ یا اس

کا ایک حصہ۔ ج، آنا و اُنَى،
 کہا جاتا ہے "آنا و اللیل والفرج
 النهار" یعنی رات دن و شب و روز
 رجلٌ آتٍ۔ بردبار اور سنجیدہ آدمی
 الْإِنَاءُ۔ برتن ج، آئینہ و حجر، آوان
 أَنْى۔ ظرف مکان ہے و فعلوں کو جزم
 دیتا ہے۔ اور آئین (جہاں) کے معنی
 ظاہر کرتا ہے جیسے "أَنْى تَجْلِسُ
 أَجْلِسُ" جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا
 کبھی مِنْ آئِنٍ "کہاں سے" کے معنی
 کو مفید ہوتا ہے جیسے أَنْى لَكَ هَذَا
 یعنی تم کو یہ کہاں سے ملا۔ کبھی رستی،
 کب۔ کے معنی میں ظرف زمان کے لئے
 آتا ہے، جیسے "أَنْى جِئْتَ" تم
 کب آئے۔ کبھی استعمال کے لئے
 یعنی کیف ر کس طرح، جیسے أَنْى بَجِئِ
 هَذَا اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا" اللہ تبارک
 ان بستوں کو کیوں کر زندہ کرے گا
 أَلَا وَأَلَا وَأَلَا وَأَلَا وَأَلَا وَأَلَا
 افسوس۔ لئے (ظہار و رد کا کلمہ ہے)
 أَلَا (ن) أَلَا وَأَلَا وَأَلَا وَأَلَا
 وَتَأَلَا۔ آہ ہونا۔ آہ آہ کرنا۔
 أَهَبَ وَتَأَهَبَ۔ بلیہ: کسی کام کے
 لئے تیار و آمادہ ہونا۔
 الْأَهْبَةُ۔ سامان۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ
 لِلسَّفَرِ أَهْبَتَهُ" اس نے سامان سفر کیا
 الْأَهْبَةُ: گریو سامان۔ اسی حالت میں
 ج، آہس و آہسات
 الْإِهَابُ۔ کچی کمال۔ خام چھڑا۔
 ج، آہب و آہب و آہب۔
 أَهْلَ (ن) أَهْلًا وَأَهْلًا
 الرجل: شادی کرنا۔ امرأة: کسی عورت کا نکاح کرنا۔ صفت
 معنوی (ملاہولت)
 أَهْلٌ (س) أَهْلًا۔ بہ: کسی سے دل لگانا

أَهْلٌ۔ المکان اور الہد، جگہ یا شہر کا آباد ہونا
 صفت، أَهْلٌ وَمَاهُولٌ۔
 أَهْلُهُ أَيُّهَا لَأ۔ شادی کر دینا۔ وَأَهْلًا
 کسی کو کسی کام کے لائق بنانا، یا کھنا۔
 أَهْلٌ۔ بہ اہل و سہل: کنا۔ خوش آمد کرنا۔
 تَأَهَّلَ وَاتَّهَّلَ۔ شادی کرنا۔ شہر بار بار
 ہونا۔
 تَأَهَّلَ۔ لامر کسی کام کے لائق ہونا۔
 اسْتَأَهَّلَ۔ الشیء کسی چیز کا اہل ہونا۔
 مستحق ہونا۔ حق دار ہونا، لائق ہونا۔
 الرجل: کسی کو کسی کام کے لائق کھنا۔
 أَهْلًا وَسَهْلًا: خوش آمدی۔ اصل میں
 یہ کلام یوں ہے "صَادَقَتْ أَهْلًا لَأ
 غُرْبًا وَوَطِئَتْ سَهْلًا لَأ وَعُرًّا"
 یعنی تو نے اپنے ہی گھر والوں کو ہلایا نہ
 اجنبیوں کو اور نرم زمین میں آیا نہ سخت
 زمین میں۔
 الْأَهْلِيُّ۔ کنبہ۔ رشتہ دار۔ ج۔ أَهْلُونَ
 وَأَهَالٌ وَأَهَالٌ وَأَهَالَاتٌ وَ
 أَهْلَاتٌ۔
 أَهْلُ الرَّجُلِ۔ بیوی
 أَهْلُ الْأَمْرِ۔ حکام۔
 أَهْلُ الْمَذْهَبِ۔ ہم مذہب
 أَهْلُ التَّوْبَةِ۔ غیور میں رہنے والے بدو
 أَهْلُ الْمَدَارِ وَالْحَقْوَرِ۔ مکانوں میں رہنے
 والے شہری۔
 الْأَهْلِيَّةُ۔ قابلیت، لیاقت
 الْأَهْلِيُّ وَالْأَهْلِيَّةُ۔ پالتو جانور
 الْأَهْلِيُّ۔ بیوی بچہ والے۔
 الْإِهَالَةُ۔ پھیل جھٹی چہلچہل۔ ہر وہ زمین جس
 کو بطور سامان کے استعمال کیا جائے۔
 الْمَاهُولُ۔ آباد مکان۔
 أَوْ۔ حرف عطف ہے، اور ذیل کے معنوں میں
 آتا ہے،
 ا۔ شک جیسے "بِتَأْنَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ"

ہم ایک یا دو دن رہے۔
 ۲۔ ابہام جیسے "نحن او انتم علی الحق" یا تو ہم حق پر ہیں یا تم۔
 ۳۔ اباحت جیسے "جائیں الحسن او ابن سیرین" حسن کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس۔
 ۴۔ تخییر جیسے "سور اکیبا اوماشیبا" سوار ہو کر چلو یا پیدل۔
 ۵۔ تقسیم جیسے "الکلمۃ اسم او فعل او حرف" کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔
 ۶۔ کبھی الی، ان کے معنی دیتا ہے جیسے "لا لئذ منک او تو فینی حتی" میں تم کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میرا پرہا حق نہ دے دو۔
 ۷۔ کبھی الی کے معنی میں آتا ہے جیسے "لا قتلن العدا او یخصم" میں دشمن سے رطوں گا مگر یہ کہ وہ ملیج ہو جائے۔
 آب (ن) او با و ما با۔ من السفر: سفر سے واپس ہونا۔ صفت: آئب۔ ج: آؤب و آئیاب و آؤاب۔ الماء: رات کے وقت پانی پر اترتا۔
 الشمس: سورج کا غروب ہونا۔
 الی اللہ: ترہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔
 آب (ن) او با۔ قصد کرنا۔
 آب الیہ۔ کسی کے پاس رات کے وقت جانا۔
 آؤب (س) او با۔ ناراض ہونا، غضبناک ہونا۔
 آؤب و آئیب۔ جتہ: لوٹنا۔
 آؤب و آؤب مؤؤبہ۔ القوم: سارے دن چلنا اور رات کو قیام کرنا۔
 تاؤب و تاؤیب و ائمتاب۔ واپس ہونا، لوٹنا۔ الماء: رات میں کسی چشمہ پر اترنا۔
 الآؤب و الآؤبہ و الایاب۔ واپسی

رجوع۔
 والآؤب۔ قصد، عادت، راستہ، جہت کہا جاتا "جاؤ امن کل آؤب" وہ لوگ ہر سمت و جہت سے آئے۔
 "و کنت علی صوب فلان و اوبہ" میں فلاں کی روش و طریقہ پر تھا۔
 الآؤاب۔ تو بکرنے والا ج: آؤابون المآب۔ مرجع، واپس لوٹنے کی جگہ۔
 جہ مآؤب۔ کہا جاتا ہے "بینہما ثلاثۃ مآؤب" یعنی ان دونوں کے درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے۔
 الآئبۃ۔ وہ پانی جس کو دوپہر کے وقت پین۔
 الآؤج۔ بلندی، فن موسیقی میں راگ کے ایک سڑکا نام۔
 الاح۔ اٹھنے کی سفیدی۔
 آؤ (ن) آؤدا و آؤودا۔ الامر: گراں بار کرنا۔ بجاری گنا، تھکا دینا۔
 الحمل: بڑھل کرنا۔ صفت: آؤا اور صفت مفعول: مؤؤد۔ آؤدا النی: سایہ کا ڈھلنا اور لوٹنا۔ العشی: نال ہونا۔ آؤدا و آؤد۔ العود: لکڑی کا موڑنا اور ٹیڑھا کرنا۔
 آؤد (س) آؤا و تاؤد۔ ٹیڑھا ہونا، موڑنا۔ صفت: آؤد مؤنث: آؤداء و تاؤدکا۔ الامر: کسی کسی کام کا شاق گذرنا، گراں گزرنا۔
 اتاد اننیاد۔ جھکنا، موڑنا، ٹیڑھا ہونا۔
 الآؤد۔ کبی، جھکاؤ، تکلیف، تکان۔
 الآؤدۃ۔ بوجھ۔
 المآؤد۔ مصیبتیں۔
 الآؤار۔ گرمی، پیاس، دھواں ج: آؤر الآؤرۃ۔ چرھا، آگ جلانے کی جگہ۔
 الآؤرۃ۔ بط۔ ج: آؤرۃ۔
 المآؤرۃ۔ وہ جگہ جہاں بطنیں کبیرت ہوں

آس یؤوس آؤسا و آؤاسا۔ دنیا، معاوضہ دینا۔
 استئاسلہ۔ بخشش چاہنا، مدد کا خواہش گار ہونا، صحبت کا خواہش ہونا۔
 الآؤس۔ عطیہ، بخشش۔ بھیرٹا۔
 الآس۔ درخت مورجس کے پتے بہت سبز اور تروتازہ ہوتے ہیں۔
 واحد: آسہ۔
 الآس۔ چولھے کی یقیر راگ، شہد، قبر اؤلیس۔ بھیرٹا۔
 حب الآس۔ مورد کے دانے۔
 الآس البری و شرابۃ الراعی۔ جنگلی مورد۔
 آؤ (ن) آؤقا۔ نقصان و ہزر پہنچانا ناسد کرنا۔
 آؤت آؤقا و آؤقۃ و آؤوقا۔ البلاد: شہروں کا آؤت زدہ ہونا۔
 الآؤقۃ۔ آؤت۔ مصیبت، نسا دلانے والی چیز۔
 آؤ (ن) آؤقا۔ علیہ او پر سے جھانکنا۔
 جھک جانا۔ کسی پر مصیبت و محورت لانا۔
 آؤقۃ۔ کسی پر مصیبت و مشقت ڈالنا۔
 تاؤق۔ رگنا۔
 الآؤق۔ بوجھ، محنت، کہا جاتا ہے "القی علی آؤقہ" اس نے اپنا بوجھ بھری ڈال دیا۔
 وہ آؤق۔ وہ منحوس ہے۔
 الآؤقۃ۔ جماعت۔ اسی سے ہے "جاء القوم باؤقیرہم" قوم پوری کی پوری آئی۔
 الآؤقۃ۔ گڑھا جس میں پانی جمع ہو جاوے ج: آؤقات و آؤق۔
 الآؤقۃ۔ نصف رطل کا پٹھا مصلحہ جوتالی جھٹاک ہوتا ہے۔ ج: آؤاق و آؤاق

الأوقیانوس - بحر محیط، بحر یورپ و امریکہ کے درمیان واقع ہے۔
 الأوکسیجن - آکسیجن، ایک قسم کی گیس
 الآل - سراب، وہ بخارات جو چھلکتی دھوپ میں آسمان وزمین کے مابین پانی کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔
 آل الرجل - انسان کے اہل و عیال، آل کا لفظ صرف شرفاء کے لئے مستعمل ہے چنانچہ آل الاشکاف نہیں کہا جاتا
 آل الجبل - پہاڑ کے اطراف
 الآلة - اوزار، ج: آل والآلات حالت، سختی۔
 الآلة الحدباء - تابوت
 آلة الخیاطة - سینے کی مشین۔
 آلة الکتابیة - ٹائپ رائٹر
 الآلاتی - گرتیا۔ سازندہ، کارخانہ، آواز کا منتظم یا مینجر۔
 الأول - پہلا، ج: أوائل واول واولون - مؤنث، اولی - ج: أول واولیات - لفظ - اول صفت کی حالت میں غیر منصرف ہوتا ہے مثلاً آپ کہیں لقیۃتہ عاماً اول۔ اور اس کے علاوہ صورتوں میں منصرف رہتا ہے جیسے "ما رأیت لہ اولاً و آخراً" اور کہا جاتا ہے "لقیۃتہ اول ذی یدین" یعنی بوقت صبح میں سب سے پہلے اس سے ملا۔ "اعمل کذا اول ذی یدین" یہ کام میں سب سے پہلے کروں گا۔
 آل دن، اولاً و ما لا - ایہ: لومنا۔
 — ایالاً و اولاً — الرعیۃ: رعیت کا انتظام کرنا۔ سیاست رانی کرنا
 اولاً و ایالاً و ایالۃ - علی القوم: کسی قوم پر حاکم ہونا۔
 آولہ - ایہ: کسی کی طرف واپس کرانا۔

تأولی - الکلام: کلام کی تفسیر کرنا۔
 تأول فیہ الخیر - کسی چیز میں بھلائی معلوم کرنا۔
 ائتال - المال: مال کا انتظام کرنا
 المال - واپس ہونے کی جگہ، نتیجہ۔
 مآل الکلام - کلام کا مفاد۔
 ایالیۃ - حکومت، سیاست، صوبہ، ج: آیالات۔
 اولاء و اولی - اسم اشارہ مع قریب کے لئے۔ مذکور مؤنث دونوں کے لئے
 اولاء کے شروع میں (ہا) تنبیہ داخل کر کے "ہو لاء" کہا جاتا ہے اور آخر میں (ہ) خطاب لاحق کر کے اولیٹ بولا جاتا ہے اور اولاء و اولی "التذین" کے معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں۔
 اولو - جمع ہے یعنی ذوی عیال (والدہ) مفرد اس کا ذو ہے۔ مؤنث اولات اس کا واحد ذات ہے۔ کہا جاتا ہے "جاء فی اولو العلم و اولات الفضل" میرے پاس علم والے اور فضل والیاں آئیں۔
 آہ دن، اوما - شدت کی پیاس لگانا۔
 و آہ دن، اوما و ایاماً و آیاماً۔
 النخل و علیہا چھتے کے نیچے و حواں کر کے بکھیوں کو اڑانا۔
 اومہ - کسی کو پیاسا کرنا۔
 الأواہر - پیاس، دوران سر۔
 و ایامہ - حواں، ج: ایام
 آن دن، اونا - علی نقسہ، اپنی جان پر نرمی کرنا۔
 اوق و تاون - الرجل: سنجیدہ و پر وقار ہونا۔
 الاون - نرمی، آرام، سکون، باوقار رفتار سے چلنا۔

الآن و الاوان - رتت ج: آوت
 الاث - ابھی، اس وقت۔
 الایوان - محل، ج: ایوانات۔ و
 اوایین۔
 الاوان - کھوپڑے (اس کے لئے دامنیں)
 آہ دن، اذھا و اواہ و تاوہ - آہ نکالنا۔ درد مند ہونا۔
 الاواہ - بہت آہیں بھرنے والا۔
 الاہۃ - آہ، کسرہ۔
 اوی رض، اویا و اواہ - البیت؛ والی البیت: گھر میں اترنا، گھر میں ٹھکانا لینا۔
 و اوی و اوی - البیت، کسی کو گھر میں امان دینا۔
 اوی رض، اویۃ و ایتہ و ماویۃ و ماواہ - لہ: کسی پر رحم کرنا، نرم دل ہونا، ترس کھانا۔
 تاوی و تاوی - الطیور، کٹھن ہونا
 ائتوی و ایتوی - پناہ لینا۔
 لہ: کسی پر ترس کھانا۔
 الماوی و الماواہ - جملے پناہ۔
 امین اوی - گیدڑ یعنی اس کی کنیت ابو زہرہ تہا ہے۔ ج:
 بنات اوی
 الآیۃ - علامت - من الکتاب، قرآن کا ایک آیت و عبرت۔ ج:
 آی و آیات
 آیۃ الرجل - آدمی کا وجود، کہا جاتا ہے "خروج القوم بایتہم" قوم پوری جماعت لے کر نکلے۔
 آی - حرف نداء یعنی یاد دہیے ای زیلاً
 حرف تفسیر جیسے در آیت
 عصفراً ای اسداً
 ای - ہاں، قسم سے پہلے آتا ہے جیسے: "ای واقعا" ہاں، قسم بخدا۔

تَايِمَ عورت تک بے نکاح کے رہنا، مجرد رہنا
غیر شادی شدہ رہنا۔

الْاَيْمُ - سانپ، اژدہ، جہ اُیوہ۔

اَيْمُ اللّٰہِ خدا کی قسم۔

الْاَيْمَةُ - عیب، نقص، کہا جاتا ہے الْحَرْبُ
(مَا يَنْبَغِي) مَيْتَمَةٌ، لڑائی عورتوں
کو راند کرنے والی اور بچوں کو یتیم کرنے
والی ہے۔

اَنْ يَّيْتِيَنَّ اَيْبَانًا - وقت کا آجانا کہا جاتا ہے
"اَنْ لَكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا" یعنی تمہارے
لئے ایسا کرنے کا وقت آ پہنچا۔

الْاَيْبَانُ - تھکن، ماندگی۔

الْاَيْبَانُ وَالْاَوَانُ - مادہ "اَوْن" دیکھو۔

اَيْتَانُ - اسم شرط ہے، دو فعلوں کو جزم دینا
ہے جیسے "اَيْتَانُ تَضْرِبُ اَضْرِبُ" جب

تمہارے گامیں ماروں گا، اسم استفہام یعنی
متی جیسے "اَيْتَانُ تَرْجِعُ" تَرْجِعُ واپس ہوگا
اَيْبَانُ - اسم ظرف ہے "کہاں" کے معنی

دیتا ہے جیسے کہیں "اَيْبَانُ يُوْسُفُ"
یوسف کہاں ہے؟ اور معنی شرط کو متضمن

ہو کر دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، خواہ
مَا اس کے ساتھ ملتی ہو یا نہ ہو جیسے

"اَيْبَانُ يَا اَيْنَمَا تَقِفُ اَقِفُ"
تو جہاں کھڑا ہو گا میں بھی کھڑا

ہوں گا۔

اَيْبَانُ - اسم فعل ہے، کسی فعل یا

بات کی زیادتی چاہنے کے لئے
استعمال ہوتا ہے۔

اَيْبَانُ وَاَيْبَانًا وَاَيْبَانًا - اَيْبَانُ
آفتاب کی روشنی اور اس کا حسن

ایسا ہی نباتات کی رونق و خوش
منظری کے لئے بھی مستعمل ہوتا

ہے۔

اَلْاَيْبَانُ - آفتاب کے گرد و دائرہ

اَيْبَانُ وَاَيْبَانًا - کسی کو نا امید بنانا
الْاَيْبَانُ - پچاس یا پچاس سے زائد گھر رکھنے
والی عورت۔

اَضْرَبُ يَضْرِبُ اَيْضًا - لڑنا، کہا جاتا ہے
فعلہ اَيْضًا - اس نے اس کو بھی کیا۔

اَيْضًا پر نصب یا تر مفعول مطلق ہونے
کے سبب سے ہے یا حال ہونے کی
بنا پر۔

ایک حالت سے دوسری حالت پر تبدیل
ہونا جیسے کہا جاتا ہے:

"اَضْرَبُ سِوَادُ شَعْرِي بِيَاضًا"

یعنی اس کے بالوں کی سفیدی سیاہی
سے تبدیل ہو گئی۔

الْاَيْقُوْتَةُ - مجسمہ، اسٹیج۔ اس کے

مقابل میں عربی لفظ "النصمة"
ہے۔

اَيْكُ (دس) اَيْكًا وَاَسْتَايِكُ -

الشجر: درخت کا گنجان اور گھنا ہونا
الْاَيْكُ - گنجان درخت۔ واحد:

اَيْكًا۔

الْاَيْكُ - چھل دار۔

اَيْلُ - عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام

ہے۔ اور اس کے معنی عبرانی میں
قوی و قدیر کے ہیں۔

الْاَيْلُ وَالْاَيْلُ وَالْاَيْلُ -

بارہ سنگا۔ جر:

اَيْلًا اَيْلًا۔

الْاَيْلُولُ - ماہ ستمبر

اَمْرِي يَمِيْمٌ اَيْمَةٌ وَاَيْوَمًا وَاَيْمًا

الرجل من زوجته او المرأة من
زوجها: مرد کا زندگی اور عورت

کا راند ہو جانا۔ بیوہ ہو جانا۔

صفت: اَيْمٌ جر: اَيْمٌ وَاَيْمًا و
اَيْمُونَ وَاَيْمَاتٌ -

اَيْمَةٌ - راند بیوہ کرنا۔

اَيْمٌ یعنی معالیٰ کے لئے مستعمل ہے۔

۱۔ شرط کے لئے اور اس وقت دو فعلوں
کو جزم دیتا ہے جیسے "اَيْتَانُ تَضْرِبُ اَضْرِبُ"
جس کو تمہارے گامیں ماروں گا۔

۲۔ استفہام کے لئے جیسے "اَيْكُمُ اَيْمٌ"
تم میں سے کون آیا۔

۳۔ اسم موصول جیسے "سَلَّ عَلَيَّ اَيْتَهُمُ
اَفْضَلُ" جو ان میں سے افضل ہے اس

کو سلام کرو۔

۴۔ کمال کے معنی پر دلالت کرنے کے لئے
اس وقت نکرہ کی صفت بن کر آتا ہے جیسے

"زَيْدٌ رَجُلٌ اَيْمٌ رَجُلٍ" یعنی زید کمال آدمی
۵۔ منادی معرف باللام کے شروع میں تہنید

کے لئے آتا ہے جیسے "يَا اَيْتَهُمَا الرَّجُلُ"
اے آدمی۔ "يَا اَيْتَهُمَا الرَّوَاةُ" اے عورت

اَيْتَا ضمیر متصل منصوب کے شروع کا حصہ ہے
جیسے اَيْتَا، اَيْتَانَا، اَيْتَاةٌ وغیرہ

اَيْتَا - حرف نداء، منادی بید کے لئے کہی اس
کے ہمراہ کورہ سے بدل کر ہیا کہتے ہیں۔

اَدَّ يَكْبِدُ اَيْدًا وَاَدَّ اَضْبُوْتُ اَدَّ
سخت ہونا۔

اَيْدَا تَأْيِيْدًا وَاَيْدَاةٌ هُوَ اَيْدَاةٌ -

قوی کرنا، ثابت کرنا۔ صفت: مُؤَيِّدٌ و
مُؤَيِّدٌ صفت مفعول: مُؤَيِّدٌ و مُؤَيِّدٌ

تَأْيِيْدًا - قوی ہونا۔

الْاَيْدُ وَالْاَيْدُ - قوت۔

الْاَيْدُ - ہر وہ شخص سے کوئی چیز قوت پر
پردہ، پناہ، ہوا، محفوظ پھاڑ۔

اَيْدُ الْجَيْشِ - فوج کا دایاں ہاتھ
الْاَيْدُ - قوی۔

الْمُؤَيِّدُ - بڑا معاملہ مصیبت جہ
مَاوُذٌ وَاَيْدُ

اَيْتَا - ماہ می جو اکتیس دن کا شمار ہوتا ہے
اَيْسُ (دس) اَيْسًا - مینہ کسی سے نا امید ہونا

صفت: اَيْسٌ

بَتْسُ - فعل ماضی جہاد ہے۔ مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دراصل بَتْسُ الرجل - تھا جس کے معنی ہیں کیسا بُرا آدمی ہے۔

أَبْتَسَ - مصیبتوں میں گرفتار ہونا۔ کسی کو مصیبتوں میں مبتلا کرنا۔ تَبَّأَسَ - مفلسی کا بہانہ کرنا، شکست مفلس بننا۔

إِبْتَأَسَ - ناپسند کرنا۔ ٹھکین ہونا۔ اور اسی سے ہے "لَا تَبْتَسِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر غم نہ کیجیے۔

الْبَأْسُ - شجاعت، دلیری، قوت، خوفِ غلاب۔ لَابَأْسَ بِهِ - اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس میں کوئی برج نہیں۔ لَابَأْسَ عَلَيْكَ - تم پر کوئی خوف نہیں۔ لَابَأْسَ فِيهِ - اس میں کوئی نقصان نہیں لَابَأْسَ أَنْ تَعْرِفُوا - تمہارے جاننے میں کوئی دشواری نہیں۔

الْبُؤْسُ - ج۔ اَبُؤْسٌ وَالْبَأْسَاءُ وَالْبُؤْسِيُّ - خست، محتاجی و البأساء - لڑائی جھگڑ۔

بَنَاتُ بَتْسٍ - مصیبتیں، آفتیں۔ بَتْسٌ وَبَتْسٌ - العذاب بخت عذاب البائسین - ہانویں ایک لگ کا نام ہے۔ بَاشٌ - رئیس، سردار۔

بَاشٌ - کاتب، ہیڈ کلرک۔ الباناشا - پاشا، ایک لقب جو سلطان ترک مخصوص مراتب کے لحاظ سے عطا کیا کرتا ہے۔ ج۔ باشاوات و باشات الباشیق - ایک نمکاری پندہ جس کو باشقہ کہتے ہیں۔

تَبَّأَطَ - لیٹنا۔ فارغ البال ہونا۔ مٹھن ہونا تَبَّأَطَ عَنْهُ - کسی شخص سے اوجھل کرنا۔

بَاقَةٌ (ذ)، بَاقًا و بَاقٍ - علیہ الویل - مصیبت و ہلاکی کا کسی پر اچانک آجانا۔

الْبَاقَةُ - گل دستہ۔ بَوَّلَكَ، بَوْلًا و بَالًا - کمزور اور چھوٹا ہونا۔ حقیر و ذلیل ہونا۔ صفت بَيِّئِلٌ -

الْبَالُ - دل مچھلی۔ الْبَالَةُ - کپڑوں کا بندل۔ کپڑوں کی گانٹھ جو تاجر ایک دوسرے کو بھیجا کرتے ہیں۔ فصیح عربی اس کی اِبَالَةٌ ہے۔

الْبَالُو - ناچ گھر، فصیح عربی اس کی مَرَقَصٌ ہے۔ (جدید)

الْبَالُونُ - غبارہ۔ اس کی بھی فصیح عربی مَنطَادٌ ہے (جدید) البامیا - بھٹی۔

بَاةٌ (ذ)، بَاهًا - سمجھنا۔ کہا جاتا ہے۔ "مَا بَاةٌ لِأَمْرٍ أَوْ بِأَلْأَمْرِ" اس نے معاملہ کو نہیں سمجھا۔

بَأَى (ذ)، بَأًا - عَلَيْهِمْ - لوگوں پر فخر کرنا۔ بکبر کرنا۔

الْبَبُّ - طریقہ۔

الْبَبْرُ وَالْبَبْرُ - شیربہر۔ ج۔ بَبْرٌ۔

الْبَبْعَاءُ وَالْبَبْعَاءُ وَالْبَبْعَاءُ - طوطا۔ ج۔ بَبْعَاوَاتٌ۔

بَعَارُفٌ، بَعَاءٌ - بالمکان - کسی جگہ اقامت کرنا۔

بَعَثَ (ذ) بَعَا و أَبَعَهُ - اِبْتَاتًا - کاٹنا - الامر - کسی کام کو نافذ کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ البیتة - پختہ ارادہ کرنا۔

الرَّجُلُ - کسی شخص کو مشقت میں ڈالنا۔ بَعَثَهُ - نادس فرودینا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الْوَعْدُ - پختہ وعدہ کرنا۔

تَبَثَّتْ - ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ توشہ لینا اِنْبَثَّتْ - کٹ جانا۔

الْبَاتُّ - کلٹنے والا۔ دبلا۔ بَيْعٌ بَاتٌ - لازمی بیع۔

الْبَدْتُ - گاڑھا کپڑا۔ ج۔ بَدْتُوت -

الْبَثَاتُ - توشہ گھر کا سامان۔ ج۔ اَبَثَّةٌ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَى بَثَاتِ أَمِيرٍ" وہ کام کے قریب جا لگا۔

الْبَثَّةُ - بَثٌّ کا اسم مرہ۔ الْبَثَّةُ و بَثَّةٌ و بَثَاتًا - قطعاً، یقیناً۔ کہا جاتا ہے "لَا أَفْعَلُ الْبَثَّةُ" میں اس کو یقیناً نہیں کروں گا۔

الْبَثَاتُ و الْبَثِيُّ - مٹے کپڑے بننے والا یا بیچنے والا۔

الْبَثِيَّةُ - کڑی کا بڑا پیپا۔ ج۔ بَثَاتِيٌّ - بَثْرَةٌ (ذ)، بَثْرًا - کاٹنا۔

بَثْرَدَسٌ، بَثْرًا و اِنْبَثْرَةً - کٹ جانا۔ اَبَثْرَةٌ - اللہ۔ اللہ کا کسی کو بے اولاد کر دینا۔

الْبَايْتُ وَالْبَيْتَارُ وَالْبَيْتَارُ - شمشیر ہراں۔ تیز و تھار والی تلوار۔ ج۔ بَوَاتِرٌ۔

الْأَبْتَرُ - کٹا ہوا۔ دم کٹا۔ مِنَ الْحَيَاتِ چھوٹا زہریلا سانپ۔ بے اولاد جس کی نسل باقی نہ رہے۔

الْأَبْتَرَانُ - غلام، جنگلی گدھا۔ مَوْتٌ بَثْرَاءُ - و الْبَثْرَاءُ مِنَ الْخَطْبِ - وہ خطبہ جو محمد الہی سے خالی ہو۔

بَتَعَ (ر) بَتْعًا - مضبوط گردن یا مضبوط مفاصل والا ہونا۔ صفت۔ اَبْتَعٌ - مَوْتٌ بَتْعًا - ج۔ بَتَعٌ۔

بَتَعَرَنَ (ذ) بَتَعَرًا - مِنْهُ - پیچھے رہ جانا۔ کہا جاتا ہے "بَتَعَرَنِي الْأَرْضُ" وہ دور تک چلا گیا۔

بَتَعَرَضَ (ر) بَتَعًا - التَّبِيدُ - شراب بنانا الْاَبْتَعُ - بڑگوخت، مٹے جوڑوں اور موٹی گردن والا ہونا۔ کمل، سب کہا جاتا ہے "جَاءُوا أَكْلَهُمْ اَبْتَعُونَ"۔

بَتَعَرَضَ (ر) بَتَعًا - التَّبِيدُ - شراب بنانا الْاَبْتَعُ - بڑگوخت، مٹے جوڑوں اور موٹی گردن والا ہونا۔ کمل، سب کہا جاتا ہے "جَاءُوا أَكْلَهُمْ اَبْتَعُونَ"۔

بَتَعَرَضَ (ر) بَتَعًا - التَّبِيدُ - شراب بنانا الْاَبْتَعُ - بڑگوخت، مٹے جوڑوں اور موٹی گردن والا ہونا۔ کمل، سب کہا جاتا ہے "جَاءُوا أَكْلَهُمْ اَبْتَعُونَ"۔

بَتَعَرَضَ (ر) بَتَعًا - التَّبِيدُ - شراب بنانا الْاَبْتَعُ - بڑگوخت، مٹے جوڑوں اور موٹی گردن والا ہونا۔ کمل، سب کہا جاتا ہے "جَاءُوا أَكْلَهُمْ اَبْتَعُونَ"۔

بَتَعَرَضَ (ر) بَتَعًا - التَّبِيدُ - شراب بنانا الْاَبْتَعُ - بڑگوخت، مٹے جوڑوں اور موٹی گردن والا ہونا۔ کمل، سب کہا جاتا ہے "جَاءُوا أَكْلَهُمْ اَبْتَعُونَ"۔

وہ سب کے سب آگئے۔

الْبَشْعُ وَالْبَشْعُ شَرَابٌ شَدِيدٌ تِيزٌ نَبِيدٌ۔

الْبَشْعُ - مرد، دراز قامت۔

بَشْكَةٌ دَنٌ مِّنْ اَهْنَكَا وَبَشْكَةٌ - کاٹنا۔

تَبَشَّتْ وَارْتَبَتْكَ - کٹنا۔

الْبَشْكَةُ - کھڑا، چیز کا کٹا ہوا حصہ۔ ج

بَشْتٌ۔

الْبَائِكُ وَالْبَتُّوكُ - کاٹنے والا، تلوار۔

بَتَّلَ رَنٌ مِّنْ اِبْتَلَا وَبَتَّلَ - الشَّيْءُ - کسی

شے کو کاٹ کر کسی سے جدا کرنا۔

بَتَّلَ وَتَبَتَّلَ - دنیا سے کٹ کر خدا کی

طرف رُخ کرنا۔ تجربہ اختیار کرنا، شادو کا

نہ کرنا۔

اِبْدَتَلَّ - کٹنا، عَطَاءٌ بَتَّلُ بے مثل

بخشش، آخری بخشش۔

الْبَتُولُ - غیر شادی شدہ عورت، باکرہ۔

لقب حضرت مریم علیہا السلام، وعفرت

فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔

الْبُتُولَةُ وَالْبُتُولِيَّةُ - تجربہ کی حالت۔

الْبَيْتِيلُ - دنیا سے بے تعلق، وادی کے

نچلے حصہ میں پانی کا راستہ، خصر

بَيْتِيلٌ - باریک اور پتلی کمر۔ ج۔

بُتْلٌ۔

الْبَيْتِيلُ - یعنی بتول، وَالْبَشْلَاءُ۔

کھجور کا چھوٹا پودہ جو ایک جگہ سے اکھاڑ

کر دوسری جگہ لگایا جائے۔

الْمُبْتِيلُ - وہ کھجور جس کی شاخیں کاٹ کر

دوسری جگہ لگائی گئی ہوں۔

بَثَّ رَنٌ مِّنْ بَثَا وَبَثَّتْ - الْخَبْرُ -

خبر پھیلانا۔ الشَّيْءُ - چیز کو پھیلانا۔

الْغُبَارُ - غبار اڑانا۔

بَثَّ وَبَاتَّ وَابَتْ - فَلَانَا الْخَبْرُ

کسی کو کسی خبر سے آگاہ کرنا۔ باخبر و

واقف کرنا۔

تَبَاثٌ - العَوْمُ الْأَمْرَارُ - لوگوں کا ایک

دوسرے کو راز سے واقف کرنا۔

اِبْتَثَ - پھیلانا، متفرق ہونا۔ غبار وغیرہ کا اڑنا۔

اِسْتَبَثْتُ - الْخَبْرُ - کسی سے کوئی خبر

دریافت کرنا۔

الْبَيْتُ - پر آگندگی حال۔ سخت غم۔

بَثَّتْ - الْخَبْرُ - خبر پھیلانا۔ الْغُبَارُ -

غبار اڑانا۔

بَثَّرَ رَنٌ مِّنْ وَبَثَّرَ رَسٌ وَبَثَّرَ بَثْرًا

وَبَثَّرَ وَبَثَّرَ وَبَثَّرَ وَبَثَّرَ - وَجْهَةٌ

چہرہ پر پھنسیاں نکلنا۔ صفت بَثْرُو

بَثِيرٌ۔

الْبَاثِرُ - رُسُّنٌ وَالْإِثْنَانِي - حاسد۔

الْبَثْرُ - پھنسی۔ واحد - بَثْرَةٌ - ج۔ بَثْرٌ۔

الْبَثِيرُ - بہت کہا جاتا ہے۔ کَثِيرٌ بَثِيرٌ

الْمَبْثُورُ - بڑا دولت مند۔ وہ شخص جس

پر حد کیا جائے۔

بَثَعَتْ رَسٌ، بَثْعًا - الشَّفْعَةُ خَاصَّةٌ

بوزوں کا نوں سے بھر کر سرخ ہو جانا۔

الْأَبْشَعُ - وہ شخص جس کے بوزوں کثرت خون

سے سرخ ہوں بوزوں بَشْعَاءُ - ج۔ بَشْعٌ

بَشَقٌ رَنٌ، بَشَقًا وَبَشَقًا وَبَشَقًا -

السَّيْلُ الْمَوْضِعُ سَيْلَابٌ كَالْجِو

کو پھاڑ دینا۔

بَقَقَ - النَّمْرُ - دریا کے بند کو توڑنا، تاکہ

پانی فراخی سے بے۔

اِبْتَشَقَ - الْمَاءُ - پانی کا بہ پڑنا۔

بِالْكَلَامِ - تیز بولنا۔

الْبَشَقُ وَالْبَشَقِيُّ - دریا کے کنارہ کا ٹوٹا ہوا

حصہ۔ ج۔ بَشَقٌ۔

بَجَّهَ رَنٌ، بَجَّاهُ بَجَّارًا - نیرہ مارنا۔ بَجَّهَ

الْبِلَادُ الْعَاقِلَةَ - گھاس کا اونٹنی کو

موٹا کرنا۔

اَلْبَجْرَةُ - پھٹنا۔

الْأَبْعَرُ - کشاوہ آنکھوں والا، مَوْنٌ - بَجَّاءُ

کہا جاتا ہے۔ عَيْنٌ بَجَّاءٌ - کشاوہ

آنکھ۔

الْبَجْعَةُ - آنکھ کی پھنسی، گھوٹی۔

بَجْبَجِيرٌ - الْعَيْنُ - بچہ کو ہلا کر چپ کرانا۔

تَبَجَّبَجِرٌ - اللَّحْمُ - گوشت کا زیادہ

اور ڈھیلا ہونا۔

بَجَّحَرَسٌ، بَجَّحَا - بے - خوش ہونا۔

تَبَجَّجِحٌ - فخر کرنا، بڑا بننا۔

الْبَجَّاحُ - بہت فخر کرنے والا۔

بَجَدَ رَنٌ، بَجُودٌ أَوْ بَجْدٌ - بِالْمَكَانِ

کسی جگہ ٹھیرنا۔ مقیم ہونا۔

الْبَجْدُ - مِّنَ النَّاسِ - جماعت۔ مِّنَ

الْخَيْلِ - تَوْبًا سَوْسَ زَائِدٌ گھوڑے۔

بُجْدَةُ الْأَمْرِ وَبُجْدَتُهُ بُجْدَتُهُ -

حقیقت، اصلیت، کہا جاتا ہے عندہ

بُجْدَةُ الْأَمْرِ وَهُوَ ابْنُ بُجْدَةَ

الْأَمْرِ - یعنی وہ اس بات کا حقیقت

شناس ہے۔

الْبَجْدُ - وحاری دار کپڑا۔ ج۔ بَجْدٌ۔

بَجْرَسٌ، بَجْرًا - الْوَجْلُ - باہر نکل جانا

اور موٹی جڑ والی ناف والا ہونا۔ بڑے

پیٹ والا ہونا۔ اور پانی سے پیٹ بھرنے

پر بھی سیراب نہ ہونا۔ صفت (بَجْرٌ

وَأَبَجْرٌ

تَبَجَّرَ - الْعَيْدُ - نمیند کے پینے میں

زیادتی یا اصرار کرنا۔

الْبَاجِرُ - بھولے ہوئے پیٹ والا ہونا۔

ج۔ بَجْرَةٌ۔

الْبُجْرَةُ - ناف، چھڑ، عیب۔ ج۔ بَجْرٌ۔

کہا جاتا ہے۔ ذُكُورٌ وَبُجْرَةٌ -

اس نے اس کے ظاہری و باطنی سب

عیب بیان کر دیے۔

الْبُجْرُ - ج۔ أَبَا جِرًا بِأَجْرٍ - و۔

رِالْبُجْرِيُّ - ج۔ بُجْرِيٌّ - مشر،

مصیبت، بری بات۔ کہا جاتا ہے۔

لَقِيْتُ وَثَةَ الْبَجْرِيَّةِ - اس سے

مجھے مصیبتیں حاصل ہوئیں۔

الْبَحْرَاءُ - سخت اور بلند زمین۔ وہ زمین جو گھاس و گائے۔

الْبَحَارِم - مصیبتیں۔

بَحْسَ رَن (مِنْ) بَحْسًا وَبَحْسَسَ -

الماء پانی جاری کرنا۔ بانا۔ الجرح زخم پھیرنا۔

بَحْسَسَ - فلانا۔ گالی دینا۔

بَحْسَسَ وَانْبَحْسَسَ وَتَبَحْسَسَ - الماء۔

پانی کا جاری ہونا۔ پھوٹنا۔

الْبَحْسُ وَالْبَحْسِيُّ - بننے والا۔ پھوٹنے

والا۔ عین بَحْسِيٌّ - بہت پانی

والا چشمہ۔ ماءٌ بَحْسِيٌّ - بہتا ہوا

پانی۔

بَجَعَهُ رَن، بَجَعًا - تلوار سے کاٹنا۔

الْبَجَعُ - ایک لمبی چوڑی چورچ والا پرندہ۔

جس کی چورچ کے نیچے ایک بڑا پوٹا ہوتا

ہے۔ لقی لقی۔

يَجَلُّ رَن، وَيَجَلُّ رَس، يَجَلُّ وَيَجُولُ -

خوش و شادمان ہونا۔ خوش حال و فراخ

حال ہونا۔ صفت۔ بَا جَل -

بَجَلُّ رَن، بَجَالَةٌ وَبَجُولٌ - معزز ہونا

با شرف ہونا۔ صفت۔ بِي جَلُّ -

أَجَلَّةٌ - الشئ کی چیز کافی ہونا۔

بَجَلَّةٌ - کسی کا تعظیم کرنا۔

بَجَلُّ - معروف جواب۔ یعنی نعمہ ران۔

اسم فعل، یعنی۔ حَسْبُ رَكَفِي

بَجَلُّكَ - تمہارے لیے کافی ہے۔

الْبَيْجَلُ - بڑا بہتان۔

الْبَيْجَلُ - وسیع و فراخ۔

الْأَبْجَلُ - پاؤں یا ہاتھ میں ایک موٹی رگ۔

ج۔ أَبَا جَل -

بَجَمَ رَن، بَجَمًا وَبَجُومًا - ڈر یا عاجزی

کی وجہ سے چپ ہونا۔

بَجَمَ - تیز نظر ڈالنا۔ آہستہ ہونا اور

دیر لگانا۔

الْبَجْمُ - جھاو کا پھل۔ واحد۔ بَجْمَةٌ -

الْبَجْمُ - بڑی جماعت۔

بَجَمَ رَس، بَجَمًا وَبَجَمًا وَبَجَمًا وَ

بَجَمًا وَبَجَمًا وَبَجَمًا وَبَجَمًا -

گلو گرفتہ ہونا۔ بیٹھی ہوئی آواز والا ہونا

صفت (أَبَجَمَ) مؤنث بَجَمَاءُ وَ

بَجَمَةٌ، ج۔ بَجَمٌ -

أَبَجَمَ وَبَجَمَ - کسی کی آواز کو بٹھانا۔

اور بھاری کرنا۔

الْبُحَّةُ - آوازیں بھاری پن اور اس کا

بیٹھا ہونا۔

بَحْبَحَ وَتَبَحَّحَ - اچھی طرح ٹھنڈا۔

تَبَحَّحَ - الدار - گھر کے وسط میں ٹھنڈا۔

تَبَحَّحَتِ الْعَرَبُ فِي لِقَائِهَا -

عرب کی لغت میں وسعت پیدا ہو گئی۔

بُحُوحَةٌ - الدار - گھر کا وسط یا درمیان۔

الْعَيْشُ - زندگی کی فساخیا

عمر کی

الْبَحْبَحَةُ - جماعت۔

الْبَحْبَحَةُ - بدخودت۔

بَحَّتْ رَن، بَحُوحَةٌ - خالص ہونا۔

بَا حَتَّهُ - العود - کسی کے ساتھ خالص

دوستی کرنا۔ فلانا کسی کو بتانا۔

الْبَحْتُ - خالص۔ شراب بَحْتُ - خراب

خالص، بغیر ملاوٹ کے۔ مَسْكٌ

بَحْتُ - مہلک بغیر کسی آمیزش

کے۔ عَوْبِيٌّ بَحْتُ خالص نسب

والاعرابی، مؤنث۔ بَحْتَةٌ - لفظ

بَحْتُ واحد تشبیہ، جمع، مذکر مؤنث

سب کے لیے آتا ہے۔ اگر چاہو، تو

مؤنث تشبیہ و جمع لاسکتے ہو۔

الْبَحْرُ وَالْبَحْرِيُّ - پست قدم

گھٹیلے بدن والا۔

بَحْتُ رَن، بَحْتًا - فی الارض زمین

کھونا۔ اور یہ مثل اسی سے ہے کہ ابنا حش

عَنْ حَتْفِهِ وَيَطْلُوهُ - کہ وہ اپنی

ہلاکی کا سامان خود مہیا کر رہا ہے۔ عندہ

تفتیش کرنا۔

بَا حَشَّكَ - بحث کرنا گفتگو کرنا۔

تَبَا حَشُّوا - باہم گفتگو کرنا۔ آپس میں بحث و

مباحثہ کرنا۔

تَبَحَّثَ وَابْتَحَثَ وَاسْتَبَحَثَ -

عندہ - تحقیق کرنا۔ تفتیش کرنا۔

الْبَحْثُ - مص - مٹی کے نیچے تلاش کرنا تفتیش

تحقیق، سونے وغیرہ کی کان - ج۔

أَبْحَثَ -

الْبَحْيُوثُ - سمید، راز۔

الْبَحْثُ - بہت بحث کرنے والا۔

الْمَبْحَثُ - بحث، یا بحث کی جگہ - ج۔

مَبَا حِثُّ - مَبَا حِثُّ الْبَقْرِ - نامعلوم

جگہ، یا بنجر زمین۔

الْمَبْحَثَةُ - بحث و تدقیق۔

بَحْثَرٌ - الشئ يَحْثَرُهُ - بکھیرنا۔ جُدا جُدا

کرنا۔ کھولنا۔

تَبَحْثَرٌ - بکھیرنا۔ جُدا جُدا ہونا۔ ظاہر ہونا۔

بَحْرٌ رَس، يَحْوُ اُدْرَسَ حِرَانٌ يَابَهُوتٌ

ہونا۔ سخت پیاس کے سبب پانی سے

سیراب نہ ہونا۔ صفت (بَحْرٌ)

بَحْرٌ رَن، بَحْرًا - الارض - زمین کا

پھیرنا، پھاڑنا۔ الناقلة - اونٹنی کے

کان چرنا۔ صفت مفعولی - بَحْيَرَةٌ

ج۔ بَحَا يَرُ وَبَحْرٌ -

أَبْحَرٌ - سمندر پر سفر کرنا۔ الماء - پانی

کا ٹمکین اور کھاری ہونا۔ الارض - زمین

کا دولہی ہونا۔

تَبَحَّرَ - فِي الْعِلْمِ وَبِحِمْ مَالِكٌ هَوْنَا -

اسْتَبَحَّرَ - فِي الْعِلْمِ وَالْمَالِ - وَبِحِمْ الْعِلْمِ

یا کثیر المال ہونا۔

الْبَحْرُ - سمندر، کھاری پانی، بڑا دریا تصغیر

أَبِيحُر - ج - أَبْحُرُ وَبُحُورُ
 بِحَار - البَحْرُ الْمُتَوَسِّطُ
 بِحُرُ الرُّومِ - يورپ، ایشیا، اور
 افریقہ کے درمیان کا سمندر۔ البَحْرُ
 الْمُحِيطُ - پانچ براعظموں کو گھیرنے
 والا سمندر۔ بَحْرَاتْلَانْتَلْ - جو
 سمندر یورپ، افریقہ، اور امریکہ کے
 درمیان ہے۔
 البَحْرَةُ - پانی جمع ہونے کی جگہ۔ پست
 علاقہ۔ بَرَابَاغ - حوض۔ ج - بِحَار
 وَبُحْرُ -
 البَحْرِيُّ - سمندری۔ بَرِي كِي صَد - و
 البَحَارُ - ملاح۔
 البَحْرِيَّةُ - جمیل۔ البَا حُرُ مَبُوت، حیران، بیوقوف
 فضول۔ البَا حُرُ البَا حُرَاءُ - ماہ جولائی کی سخت
 گرمی۔
 البَحْرَان - شدت مرض کے باعث قوت
 مددک میں خلل پیدا ہو جانا، امراضِ مادہ
 میں اچانک تغیر۔
 البَحْرَيْن - ایک شہر ہے۔ نسبت کے لیے
 بَحْرَانِي - خلافت قیاس ہے۔
 بَحْرَان، بَحْرَانَا - فِي النُّوم - سونے میں
 غواٹے لینا۔ غصہ ٹھنڈا کرنا۔
 بَحْرُ - اسم فعل، تعریف و رضامندی کے
 اظہار کے لیے یعنی شاباش، آفسوین
 مرحبا اور تاکید کے لیے اس کو کر لاتے
 ہیں۔ اور کہتے ہیں بَحْرُ، بَحْرُ - کسرہ
 کے ساتھ یا تون سے۔
 بَحْبَحْرُ - فِي النُّوم - نیند میں غواٹے لینا۔
 البَحِيرُ - اونٹ کا بیلانا اور منہ کا
 جھاگ سے بھر جانا۔ الرَّجُلُ كَيْسِي كُو
 شَابَا شِي دِيَا۔
 بَحْبَحْرُ وَكَبْحَبْرُ - الحُرُ - گرمی کا کم ہونا
 بَحْبَحْرُ دِن، بَحْبَحْرَا - مارنا۔
 بَحْبَحْرُ - الرَّجُلُ - بزدل ہونا۔

بَحْتَهُ - لاجواب کر دینا۔
 البَحْتُ - نصیب، فارسی لفظ ہے، اس
 کی فصیح عربی حَظ ہے۔
 البَحْيُتُ وَالمَبْحُوتُ - نصیب و در۔
 خوش قسمت۔
 بَحْتَرُ بَحْتَرًا وَتَبْحَتَرُ - ناز سے چلنا
 متکبرانہ چال چلنا۔
 البَحْتَرِيَّةُ وَالتَّبْحَتَرِيَّةُ - خود
 پسندانہ چال۔
 بَحْرُتُ دِن، بَحْرَا - القِدْرُ - ہانڈی کی
 بھاپ نکلتا۔
 بَحْرُ رَس، بَحْرَا - القَمَدُ - گندہ دہن
 ہونا۔ صفت دَابْحُرُ
 بَحْرُ - بھاپ نکالنا۔ بَحْرَةُ وَبَحْرُ
 عَلَيْهِ - دھونی دینا۔ دھونی دے کر
 خوشبودار بنانا۔
 تَبْحَرُ - دھونی لینا۔ دھونی سے خوشبودار ہونا
 البَحَارُ - بھاپ۔ ج - أَبْحُوهُ -
 البَا حُرَةُ - اسٹیم۔
 البَحْرُورُ - ہر وہ شخص جس سے دھونی دی
 جائے۔ ج - أَبْحُرَةُ وَبُحُورَات -
 بُحُور مَرِيحُ وَبُحُورُ الْاَلْاَرَادُ وَ
 بُحُورُ الْبَرُ وَبُحُورُ السُّودَانِ وَ
 بُحُورُ الْبَرْبُرِ - مختلف قسم کی
 نباتات ہیں۔
 البَحْبَحْرَةُ - عود سوز۔
 التَّبْحَتَرَةُ - باعث گندہ دہنی، اسی سے وہ
 روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے منقول ہے۔ "إِيَّاكُمْ وَنَوْمَةَ
 الْقَدَاةِ فَإِنَّهُمَا مَبْحَرَةٌ مَبْحَرَةٌ
 مَبْحَرَةٌ" - صبح کو سونے سے پرہیز کرو
 اس لیے کہ اس سے گندہ دہنی، فساد
 بدن اور طبیعت کی خفگی پیدا ہوتی ہے
 بَحْرُ دِن، بَحْرَا - عَيْنَةُ - کسی کی
 آنکھ پھوڑنا۔

بَحْسَهُ دِن، بَحْسَا - گھٹانا اور اسی سے
 ہے۔ "لَا تَبْحَسُ أَخَاكَ حَقَّةً" تو
 اپنے بھائی کا حق نہ گھٹا۔
 بَحْسُ - عَيْنَةُ - آنکھ پھوڑنا۔
 تَبْحَسُ - القَوْمُ - لوگوں کا ایک دوسرے
 کو نقصان پہنچانا۔
 البَحْسُ - مَم - ناقص۔ قرآن کریم میں ہے
 "وَشَرُّهُ بَشْمَنُ بَحْسٍ" یعنی ان
 کو گھٹیا قیمت میں بیچ دیا۔
 البَحْسُ - بارانی زمین۔
 البَحْسِيُّ - بارانی فصل۔
 الْاَبَا حَسُ - انگلیاں۔
 البَحْسِيَّةُ - بخشش، عطیہ، انعام، اس
 کی فصیح عربی رَائِيَّةٌ يَأْخُذُونَ ہے۔
 بَحْسُ رَس، بَحْسَا - الرَّجُلُ - کسی کی
 آنکھ کے اوپر یا نیچے غدہ ہونا۔
 صفت أَبْحَسُ - مؤنث بَحْسَاءُ
 ج - بَحْسُ -
 بَحْسُ دِن، عَيْنَةُ - آنکھ نکال لینا۔
 تَبْحَسُ - تیز نظر سے دیکھنا۔ پلکوں کا الٹ
 جانا۔
 البَحْسُ - قَدَمُ كَا كُو شَت، انگلیوں کی جڑ
 کا گوشت۔
 مَبْحُوصُ الْقَدَامَيْنِ - پتلے پاؤں والا۔
 قَدَمِ فِي كَم كُو شَت رَكْعَةً وَالَا -
 بَحْرُ دِن، بَحْسَا - نَهْلُ - غم یا غصہ سے
 اپنے آپ کو ہلاکت تک پہنچانا۔ التَّاقَةُ
 بَكْرِي كُو فَوْحُ كَرْنِي فِي كَرِي كَتَا لَات
 دِيَا - لَهُ لَعْنَةُ - بے لوث نصیحت
 کرنا۔ خالص نصیحت کرنا۔
 بَحْرُ دِن، بَحْسَا وَبَحْسَاةُ -
 بِالْحَقِّ - حق کا اقرار کرنا۔ حق مان لینا۔
 بَحْرُ دِن، بَحْسَا وَبَحْسَاةُ - عَيْنَةُ
 آنکھ کا نیچا کرنا، آنکھ پھوڑنا۔ رَجُلٌ
 أَبْحَقُ وَبَا حَقِي وَبَحْقِي وَبَحْقِي

کانا آدمی۔ عین بَخْلًا و بَخْلًا
و بَخْلًا و بَخْلًا۔ کان آگہ۔
بَخْلًا دس، بَخْلًا۔ عینہ۔ بری
طرح کافی ہونا۔

بَخْلًا دس، بَخْلًا و بَخْلًا دس، بَخْلًا
بخیل ہونا، کنجوس ہونا۔ ج۔ بَخْلًا
- علیہ و عنہ۔ کسی سے بخل کرنا۔
صفت (بَخْلًا) ج۔ بَخْلًا۔

بَخْلًا۔ بخیل ہونے کا الزام لگانا۔
آبَخْلًا۔ بخیل پانا۔
الْبَخَالُ و الْبَخَالُ و الْمَبْخَلُ و الْبَخْلُ
ہت کنجوس۔

الْمَبْخَلَةُ۔ وہ چیز جو بخل و کنجوسی کا باعث
ہو۔ او ساسی سے ہے۔ الْوَلَدُ الْمَبْخَلَةُ
مَجْبُتًا۔ لڑکا بخل و بزدلی کا باعث
ہوتا ہے۔

الْمَبْخَلِيُّ۔ کنسوپ، ایک قسم کا زنانہ مزید
بَخْلًا بَخْلًا۔ غَضَبًا۔ غصہ پھینا۔
بَدَأَ بَدَأَ۔ رَجُلًا۔ ٹانگیں کھولنا۔
الرَّجُلُ عَنِ الشَّيْءِ۔ کسی چیز کو کسی سے
دور کرنا۔ ہٹانا۔

بَدَأَ دس، بَدَأَ۔ زیادتی گوشت کی وجہ
سے دونوں رانوں میں فاصلہ ہونا۔
بَدَأَ۔ الشَّيْءِ۔ چیز کو بکھیرنا۔ متفرق کرنا۔
- الرَّجُلُ۔ ٹھکانا۔

بَدَأَ مُبَادَاً و بَدَأَ۔ تبادلی سے
فروخت کرنا۔ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ۔
ہر ایک کا اپنا اپنا زاد سفر لینا اور پھر
طا کر خراج کرنا۔

أَبَدَ۔ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ۔ ہر ایک کو اس
کا حصہ دینا۔ بَدَأَ۔ زمین کی طرف
لہجہ بڑھانا۔

تَبَدَّدَ۔ بکھرا، متفرق ہونا۔ الْقَوْمُ
الشَّيْءِ۔ آپس میں حصے تقسیم کر لینا۔
إِبْتَدَأَ۔ الرَّجُلَانِ فَلَا نَبَالَضَرِبَ۔ وہ

دونوں طرف سے اس کو ہانسنے لگے۔
تَبَدَّدَ۔ الْقَوْمُ۔ میدان کارزار میں نکل کر
اپنے اپنے مقابل پر حملہ کرنا۔ دو دو
آدمیوں کا فاصلہ سے گذرنا۔

إِسْتَبَدَّ۔ بَدَأَ۔ خود کو ترجیح دینا مخصوص
کر لینا۔ الْأَمْرُ بِفُلَانٍ، کسی بات
کا لیے قابو ہو جانا۔

الْمَيْدُ و الْمَيْدُ بَدَأَ۔ مثل و نظیر۔
الْبُدَّ۔ چارہ کار، حفاظت کی جگہ، بھاگنے
کی جگہ، تم کہتے ہو: لَا بُدَّ مِنْ هَذَا
یہ لازمی ہے۔ بدلہ، عوض۔

الْبُدَّةُ و الْبُدَادُ۔ حصہ۔
الْبُدَادُ۔ مقابلہ کے لیے نکلنا، ہمسرہ
کہا جاتا ہے۔ لَقُوا بَدَأَ دَهُمًا۔
وہ لوگ اپنے حریفوں سے ملے۔

بَدَأَ و بَدَأَ۔ یعنی ہر شخص اپنے اپنے
ہمسرہ کو پکڑ لے۔ و جَاءَتِ الْخَيْلُ
بَدَأَ و بَدَأَ۔ گھوڑے متفرق متفرق گئے
الْبَدَدُ و الْبَدَّةُ۔ طاقت، حاجت۔

الْأَيْدِ۔ وہ جس کے ہاتھ یا رانوں میں فاصلہ
ہو۔ بَدَأَ جیم والا مؤنث (بَدَأَ)
کہا جاتا ہے: ذَهَبُوا أَبَادِيْدًا
و تَبَادِيْدًا۔ یعنی وہ لوگ متفرق ہو
گئے اور بکھر گئے۔ و طَبِئُوا أَبَادِيْدًا
و تَبَادِيْدًا۔ متفرق و بکھرے ہوئے
پڑنے۔

الْمُسْتَبَدَّ۔ وہ شخص جو کام کو شروع
کرنے کے بعد اس کو ختم کیے بغیر نہ
چھوڑے۔

بَدَأَ دس، بَدَأَ و بَدَأَ و تَبَدَّدَ۔ الشَّيْءِ
و بَدَأَ۔ شروع کرنا۔ پہلے کرنا۔
بَدَأَ۔ يَفْلَانٍ۔ آگے بڑھانا۔

بَدَأَ۔ الشَّيْءِ۔ شروع کرنا پیدا کرنا۔
بَدَأَ و أَبَدَأَ۔ اللَّهُ الْخَالِقُ۔ اللہ نے
مخلوق کو پیدا کیا۔ صفتی بَدَأَ و

مُبَدِي۔

أَبَدَأَ الرَّجُلُ۔ تعجب ایگز کام کرنا۔
عجیب کام کرنا۔ کہا جاتا ہے: فَلَا وَجْهَ
مَا يُبَدِي وَمَا يُعِيدُ۔ یعنی فلاں
کچھ بھی نہیں بولتا۔

بَدَأَ كَأَنَّ۔ شروع کرنا، پہلے رکھنا۔ فضیلت
دینا۔

الْبَدَاءُ و الْبَدَاءُ و الْبَدَاءَةُ و الْبَدَائِيَّةُ
شروع۔ ابتداء۔ کہا جاتا ہے: أَفْعَلُهُ
بَدَأَ و بَدَأَ و بَدَأَ و بَدَأَ و بَدَأَ
و بَدَأَ بَدَأَ و بَدَأَ بَدَأَ ذِي
بَدَأَ۔ یعنی میں اس کو ہر چیز سے
پہلے کروں گا۔

و الْبَدَاءَةُ۔ کسی جگہ کے لیے سفر کی ابتداء
تم کہتے ہو: اِكْتَرَيْتُ الْفُرْسَ
لِلْبَدَاءَةِ و الرَّجْعَةِ۔ میں نے
گھوڑے کو آمد و رفت کے لیے کرایہ
پر لیا۔ بَدَأَ كَيْ جَمْعَ أَبَدَاءٍ و
بَدَأُ و بَدَأُ۔

الْمَبْدَأُ۔ اصل، سبب۔ ج۔ مَبْدَأِي۔
الْمَبْدَأُ۔ اَوَّلُ، پہلا، وہ اسم مستدالہ
جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔

بَدَأَ دس، بَدَأَ۔ بِالْعَصَا۔ لاشعری
سے مارنا۔ بِالسِّبْرِ۔ راز کھول دینا۔
تَبَادَحُوا۔ بِالشَّيْءِ۔ باہم مل کر پھینکنا۔

الْبِدْحُ۔ ج۔ بَدُوْحٌ و بَدَأِحٌ و
بَدَأِحٌ، ج۔ بَدُوْحٌ و بَدَأِحٌ
کشادہ زمین۔

بَدَأَ دس، بَدَأَ دس، بَدَأَ دس، بَدَأَ دس
بَدَأِحًا۔ بلند مرتبہ ہونا۔ صفت
(بَدَائِحٌ) ج۔ بَدَأِحٌ۔

تَبَدَّدَ۔ علیہ۔ بڑا بننا۔
بَدَأَ دس، بَدَأَ دس۔ اِلَى الشَّيْءِ۔ کسی چیز
کی طرف جلدی کرنا۔ اِلَى الشَّيْءِ۔
کسی چیز کے لیے کسی سے سبقت کرنا۔

بَادَر مَبَادَرَةً وَبَدَارًا - اِنی الشیء کسی چیز کی طرف ہلنا۔ جلدی کرنا۔ الشیء۔ وقوع سے پہلے کرنا۔
 بَادَر - فَلَانَا الشیء والیہ۔ کسی چیز کے لیے کسی سے سبقت لے جانا۔ آگے بڑھ جانا۔
 تَبَادَر - القوم۔ جلدی کرنا۔
 تَبَادَرُوا وَابْتَدَرُوا - القوم امرا۔ کسی کام کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے آگے بڑھنا۔
 اَبْدَر - چودھویں کے چاند کا طلوع کرنا۔
 البَدَر - چودھویں رات میں چلنا۔
 البَدَر - چودھویں رات کا چاند۔ طباق، تقالی، ج۔ بَدُوْر
 البَادِر - جلدی کرنے والا۔ سبقت کرنے والا۔ ج۔ کَوَادِر
 البَدْرِیُّ - ہاڑے سے کچھ پہلے کی بارش۔
 البَدْرِیُّ - مسابقت، کہا جاتا ہے۔
 "اِسْتَبَقْنَا البَدْرِیُّ" ہم نے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے دوڑ کی۔
 البَدْرَةُ - دس ہزار درہم۔ مِنَ النِّعَالِ - بڑی مالیت، دس ہزار درہم کی بھیلی۔
 ج۔ یَدْرُوْ بَدُوْر - کہتے ہیں: فُلَانٌ یَّحِبُّ البَدُوْرَ - یعنی فلاں شخص ہزاروں کی تھیلیاں ہمہ کرتا ہے۔
 المَبْدَرَةُ - بکری کے بچہ کی کھال۔
 البَادِرَةُ - تیزی وشتابی یا تیزی کے وقت کی خفیف الحرقی۔ ج۔ کَوَادِر - کہا جاتا ہے: بَدَرْتُ مِنْهُ کَوَادِرُ غَضَبٍ - اس سے غصہ کی حرکات سرزد ہوئیں۔
 البَادِرَةُ - تیر کی نوک، کہا جاتا ہے۔
 "اَصَابَتْهُ بَادِرَةُ السَّهْمِ" اس کو تیر کی نوک لگی، مونڈھے اور گردن کے

درمیان کا گوشت۔
 بَدَاو - اسم فعل یعنی اَسْرَع (جلدی کر) البَیْدَار - کھلیان۔ ج۔ بَیَادِر - بَدَع رَف، بَدَعَا - الشیء - کوئی شے ایجاد کرنا۔ کوئی چیز غیر نمونہ کے بنانا۔ ابتداء کرنا۔
 بَدَع رَف، بَدَعَا وَبَدُوْعَا - لاشافی ہونا بے مثال ہونا۔
 بَدَعَا - کسی کو بدعتی ٹھہرانا۔
 اَبْدَع - کسی کام کو عمدگی سے کرنا۔ بے بے مدد چھوڑ دینا۔
 وَابْتَدَع - الشیء - ایجاد کرنا۔ الرجل بدعت نکالنا۔
 تَبَدَع - بدعتی ہونا۔
 اِسْتَبَدَع - الشیء - کسی چیز کو عجیب و نادر سمجھنا۔
 اَلْبِدْع - انوکھا، نا تجربہ کار شخص، کہا جاتا ہے "فَلَانٌ بَدَعٌ فِی الْاَمْرِ" فلاں نے اس کام کو پہلی بار کیا۔ ج۔ اَبْدَاع وَبُدْع
 اَلْبِدْعَةُ - وہ چیز جو غیر معمولی مثال کے بنائی جائے۔ مذہب میں نئی رسم ج۔ بَدْع
 البَدِیْع - خدا تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ کہا جاتا ہے: "اِنَّهُ بَدِیْعُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ" یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا موجد ہے۔ انوکھی چیز۔ انوکھی چیز بنانے والا۔ موٹا نئی مشک۔ عَلَمُ البَدِیْع - وہ علم جس سے کلام کی لفظی و معنوی خوبیاں معلوم ہوں۔
 المَبْدِیْعُوْنَ - بدعتی لوگ۔
 بَدِیْع دَس، بَدَعَا - زمین پر گھسیٹنا۔
 بِالشَّرِّ اَوْ بِالْاَقْدَارِ - بمائی یا گندگی سے آلودہ ہونا۔

بَدَع رَف، بَدَعَا - الْجَوْر اَوْ الْكُوز - اخروٹ یا بادام توڑنا۔
 بَدَع رَف، بَدَعَا - پانچا میں پانچا نہ کرنا۔ صفت بَدِیْع -
 بَدَل رَف، بَدَلَا وَابْدَل وَبَدَل - الشیء - بدلنا۔ بدلہ میں لینا۔
 بَدَل دَس، بَدَلَا - ہڈیوں یا جوڑوں میں درو والا ہونا۔
 بَدَل وَابْدَل - الشیء مِنْهُ - بدلہ میں لینا۔ وَبَدَل الشیء شَيْئًا اٰخَرَ - بدل دینا۔ کہا جاتا ہے: بَدَل اللّٰهُ الخَوْفَ اٰمَنًا - اللہ نے خوف کو امن سے بدل دیا۔
 بَادَلَهُ - بَدَلَا - تبادلہ میں دینا۔ تبادلہ کرنا۔
 تَبَدَلَا وَتَبَادَلَا - تَوْبَهُمَا - دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے کپڑوں کے بدلہ دوسرے کے کپڑے لیے۔
 وَتَبَدَل - بدل جانا۔ متغیر ہونا۔
 تَبَدَلَهُ وَاسْتَبَدَلَهُ - بَدَلَا - بدلہ میں لینا۔ فَخَلَّ تَبَدَلَتِ الدَّارُ بِذُنُوبِهَا وَخَفَّتْ كَمَرُكَ النِّیْتِ وَخَفَّتْ سے بدل گئی۔
 اَلْبِدَالُ وَابْتَدَالُ وَابْتَدِیْل - بدلہ، عوض جانعین، سخی، فیاض، شریف، کہا جاتا ہے: رَجُلٌ بَدِیْلٌ وَبَدِیْلٌ ج۔ اَبْدَالُ وَبَدَلَا۔
 اَلْبِدَال - جوڑوں یا ہاتھوں کا یا ہڈیوں کا درو اور ایسی سے ہے: رِبَتْ بَدِیْلٌ شَرٌّ مِنْ بَدَلٍ - یعنی ہت سے عموماً ہڈی کے درو سے بُرے ہیں۔
 اَلْبِدَال - وہ مقدس لوگ جن سے دنیا کبھی خالی نہیں رہتی، جب کوئی ان میں سے دنیا سے اٹھتا ہے تو دوسرا اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔
 اَلْبِدَال - کھانے کی چیزیں بیچنے والا، عام

لوگ اس کو بقال کہتے ہیں۔

البَادِلَةُ - بس پستان کے درمیان کا گوشت

بَدَن رن، بَدْنَا و بَدْنَا و بَدُونَا و

بَدَن دك، بَدَانَةٌ و بَدَانَا -

قریب بدن ہونا۔ موٹے بدن والا ہونا۔

صفت (بَادِن) مؤنث (بَادِن) و

بَادِنَةٌ، ج - بَدَن و (بَدِين) ج -

بَدَن -

بَدَنَةٌ - زرہ پشانا۔ و بَدَن - بڑی عمر

والا ہونا۔

البَدَان - جسم - ج - أَبْدَان - چھوٹی زرہ

ج - بَدَن -

البَدَانَةُ - وہ قربانی کا اونٹ یا گائے جو مکہ

مظلمہ میں ذبح کی جائے، عورتوں کی

بے آستین والی قمیص۔

البَدَان والمَبْدَان - موٹا جسم۔

بَدَا رن، بَدَّهَا و بَادَا - الرجل -

کسی کے پاس اچانک آنا۔ صفت

بَادِي - مؤنث بَادِيَةٌ - ج - بَعَادَةٌ -

تَبَاهُ - الشَّعْرُ و المَخْطَب - بلا تامل

و فکر باہم شعر پڑھنا یا تقریر کرنا۔

صفت مُبْتَدِئَةٌ و مُبْدِيَةٌ -

البَدَاهَةُ و البَدَاهَةُ - ہر شے کا آغاز

کہا جاتا ہے: لِحَقَّةٌ فِي بَدَاهَةِ

جَرِيَةٍ - دوڑ کے شروع ہی میں وہ

اس سے جا ملا۔

بَدِيهَا و عَلَى البَدِيَّة - بے سوچے

بات کہنا۔

البَدِيَّة - اچانک، یکایک - فوری،

بے غور و فکر، کہا جاتا ہے: آجَابٌ

عَلَى البَدِيَّة "یعنی اس نے بغیر غور و

فکر کے جواب دیا۔ ج - بَدَا يَه - اور

کہا جاتا ہے: هَذَا مَعْلُومٌ فِي

بَدَاةِ العَقْلِ - یہ بغیر سوچنے اور

کرنے کے معلوم ہے: وَلَوْ سَلَّيْنَا

بَدَا يَه فِي الكَلَامِ: فلاں کی گفتگو

عجیب و غریب ہے۔

البَدِيَّة - فہمی - وہ ظاہری اور واضح

بات جس کے جاننے کے لیے غور و فکر

کی ضرورت نہ ہو۔

البَدِيَّة - فِي البَدِيَّة بولنے والا۔ فِي الفور

تقریر کرنے والا۔

بَدَا رن، بَدُوًا و بَدَاءًا و بَدَاءَةً -

ظاہر ہونا۔ صفت (بَادِي) ج -

بَادُون و بَدِي و بَدِي - لَه

فِي أَمْرٍ - خیال، سوچنا۔

بَدَا رن، بَدَاوَةٌ و بَدَاوَةٌ و تَبَدُّي

صحرائی طرف جانا، ہادیہ میں اقامت

پذیر ہونا۔ صفت (البَدَوِي) و

تَبَدُّي - ظاہر ہونا۔

أَبْدِي - الأَمْر - ظاہر کرنا۔ فِي كَلَامِهِ

اپنے کلام میں جرأت دکھانا، اور اسی

سے ہے: السُّلْطَانُ ذُو عَدْوَانٍ

و ذُو بَدْوَانٍ - بادشاہ جرأت و

دلیری والا ہے۔

بَادِي - بِالْعَدَاوَةِ - دشمنی ظاہر کرنا۔

ہ - کوئی بات کسی سے صفائی سے کہہ

دینا۔ مقابلہ کرنا۔

تَبَادِي - ہادیہ نشینوں سے مشابہ ہونا۔

بدوی صفت ہونا۔

البَدْو - و البَادِيَّة و البَدَاوَةُ - صحرا۔

جنگل - ج - بَادِيَات و بَوَاد -

و البَدْو - خانہ بدوش عربی قبائل، اور

بَدْو کی طرف نسبت کے لیے بَدَوِي

و بَدَوِي - مؤنث بَدَوِيَّة - ج -

بَدَاوِي -

البَدْوَةُ - داوی کا کنارہ۔

البَدَاة - مٹی، خیال، رائے - ج - بَدَاوَات

بَدَاوَةُ الأَمْر - کام کا شروع معاملہ

کا آغاز - و البَدَاوَات - مختلف

رائیں۔

بَدَا رن، بَدُوًا و بَدَاوَةً و بَدَاوَةً و

بَدُوَّةً - بد حال ہونا، سکتے حال

ہونا۔ صفت (بَدُو) و بَدُوِي - مؤنث

رَبْدُوَّةً و بَدَاوَةً،

بَدَا رن، بَدَا - غالب - فوقیت و

برتری رکھنا۔

بَادُوَةٌ - سبقت کرنا۔

رَبْدُوَةٌ - مِنْهُ حَتَّى - کسی سے اپنا حق

لے لینا۔

البَدُو و البَدِيَّة - مثل کہا جاتا ہے۔

«سَجُلٌ قَدَّ بَدُوٌ» - یکتائے زمانہ

شخص ہے۔

بَدَا رن، بَدَا - الشَّيْء - ناپسند کرنا۔

الشَّخْصَ و عَلَى الشَّخْصِ - کسی کو

حقیر جانا۔ کسی کی مذمت کرنا۔

بَدَا رن، و بَدِي رن، و بَدُو رن،

بَدَاوَةٌ و بَدَاوَةٌ - فحش گو ہونا۔

بے وقوف ہونا۔ صفت (بَدِي) ،

ارضٌ بَدِيَّةٌ - گھاس اگانے والی

زمین۔

أَبْدَا - فحش بکنا۔ گالی دینا۔

بَدِي - مؤنث - بَدِيَّةٌ - بد اخلاق۔

بد زبان۔ بد چلن

بَادَاوَةٌ - جھگڑا کرنا۔ فحش کلامی کرنا۔

البَدَاج - بکری کا بچہ - ج - بَدَا جَان -

بَدَا حَةٌ رن، بَدَا حًا - چیرنا۔ بھاڑنا۔

الجلد عن العرق - کھال ہٹانا۔

تَبَدُّحٌ - السَّحَابُ - ابر کا برسنا۔

البَدَاحُ - پھٹن - ج - بَدَاوَحٌ - فِي رَجُلِهِ

بَدَاوَحٌ - اس کے پاؤں میں بوائی ہے۔

البَدَاحُ - رانوں کی خراش۔

بَدَا حَةٌ رن، بَدَا حًا و بَدَا حًا رن، بَدَا حًا

و بَدَا حًا رن، بَدَا حًا و تَبَدُّحٌ -

بلند ہونا۔ تکبر کرنا۔ بڑی شان والا ہونا۔

<p>کرنے والا۔ بڑا فیاض۔ الْمُبْدَلُ وَالْمُبْدَلَةُ۔ روزانہ پنپنے کے کپڑے۔ پھٹا پرانا کپڑا۔ ج۔ مَبَاذِلُ۔ بَدَلُ لَحْمٍ بَدَلُ لَحْمٍ وَبَدَلُ لَحْمٍ قَوْلُ كَيْ مطابق عمل نہ کرنا۔ صفت (مُبْدَلُ لَحْمٍ) وِبَدَلُ لَحْمٍ۔ بَدَمٌ۔ دک، بَدَا مَعَةً۔ دورانِ دیش ہونا اور اپنی رائے پہنچنے کے ساتھ جم جانا۔ صفت بَدِيئِيٌّ۔ الْمُبْدَمُ۔ دورانِ دیش۔ مال اندیشی۔ قوت، طاقت، رائے کی عمدگی، مروت۔ الْمُبْدَمُ۔ مضبوط اونٹنی۔ بَدَاؤُنَ بَدَاؤُا وَابْدَاؤُا اِبْدَاؤُا۔ علیہ۔ فحش بکنا۔ بدزبانی کرنا۔ بَدَاؤُا وَرَكِّ، بَدَاؤُا وَبَدَاؤُا فحش گو ہونا۔ فحش کلام ہونا۔ صفت بَدِيئِيٌّ۔ ج۔ اَبْدَاؤُا۔ مؤنث بَدِيئِيَّةٌ۔ الْبَدَاؤُا۔ یہودہ کلام، ناشائستہ کلام۔ يَبْدُرُ مِنْ، يَبْدُرُ اَوْ مَبْرُؤُا۔ والدہ۔ اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا۔ خوش معاہلی سے پیش آنا۔ صفت بَدِيئِيٌّ۔ ج۔ اَبْرَارٌ وَرَبَابٌ ج۔ مَبْرُؤُا، يَبْدُرُ مِنْ، يَبْدُرُ اَوْ مَبْرُؤُا وَبُرُؤُا۔ فی قولہ۔ بکریوں کا۔ خَالِقَةُ۔ اپنے خالق کی اطاعت کرنا۔ بَدِيئِيَّةٌ الْيَمِينُ۔ قسم کا سچا ہونا۔ بَدِيئِيَّةٌ الْمَسْلُوقَةُ۔ نماز کا قبول ہونا۔ بَدِيئِيَّةٌ اَللّٰهُ الْمَسْلُوقَةُ۔ اللہ تعالیٰ کا نازک قبول فرمانا۔ بَدِيئِيَّةٌ۔ نیک اطوار بھرانہ۔ نیکی کی طرف منسوب کرنا۔ پاک کرنا۔ مَبْرُؤُا۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ اَبْرَارٌ۔ خشکی کا سفر کرنا۔ علیہ۔ کسی پر غالب ہونا۔ فائق ہونا۔ اَللّٰهُ</p>	<p>الْبَدْعُ۔ خوف، ڈر۔ الْمُبْدُوْعُ۔ خوفزدہ۔ اِبْدَاعُوْا۔ متفرق ہونا۔ اِبْدَاعُوْا الْخَيْلُ کسی چیز کی طلب میں دوڑنا۔ الْبَادِقُ وَالْبَادِقِيٌّ۔ انگو کا شیرہ قدرے پکا ہوا جو نشہ آور ہو۔ الْبَادِقَةُ۔ پیادے۔ الْبَيْدِقُ۔ سفر کار ہنما۔ پیادہ۔ ج۔ بِيَادِقُ۔ الْمُبْدَقَةُ۔ وہ شخص جس کا قول عمل سے بہتر ہو۔ اِبْدَاعُوْا۔ متفرق ہونا۔ بھاگنا۔ بَدَلُ دُنْ مِنْ، بَدَلُا۔ الشَّوْءُ۔ دینا۔ سخاوت کرنا۔ کہا جاتا ہے: بَدَلُ نَفْسِهِ دُونَ اَوْ عَنِ فُلَانٍ۔ اس نے فلان کی حمایت میں اپنی جان لڑادی۔ اس نے اپنے آپ کو اس پر فدا کر دیا۔ صفت دَبَاذِلُ و بَدُوْلُ، صفت مفعولی (مَبْدُوْلُ) بَدَلُ جَهْدًا، اس نے پوری کوشش کی۔ وَاِبْتَدَلَ الثَّوْبَ۔ کام کے وقت کپڑا پہننا، یا روزانہ استعمال کرنا۔ اَلْكَلَامُ، مُبْتَدَلٌ۔ ردی کلام۔ گھٹیا کلام کثیر الاستعمال کلام۔ رَسِيْفٌ، صَدَقَ الْمُبْتَدَلُ۔ تیز و ہلکا والی تلوار۔ تَبْدَلُ وَاِبْتَدَلُ۔ وقار سے گرا ہوا ہونا چھپورا ہونا۔ اِبْتَدَلُ۔ روزانہ پنپنے کے کپڑے استعمال کرنا۔ الْبَدَالُ۔ عطا، بخشش۔ رَجُلٌ بَدَالٌ فیاض آدمی۔ الْبَدْلَةُ۔ مِنَ الْبَيْتِ۔ روزانہ پنپنے کے کپڑے۔ الْبَدَالُ وَالْمُبْدَالُ۔ بہت داد و دہش</p>	<p>صفت دَبَاذِيْحٌ، ج۔ يَدَاذِيْحٌ۔ و دَبَاذِيْحٌ، ج۔ بَدَاذِيْحٌ۔ يَدَاذِيْحٌ۔ فز کرنے میں کسی سے مقابلہ کرنا۔ الْمُبْدَاخُ۔ منکر۔ الْمُبْدَاخِيٌّ۔ بڑا۔ الْبَيْدَاخُ۔ موٹے جسم والی عورت۔ بَدَارُ دُنْ، بَدَارًا۔ الْحَيْثُ۔ بیج ہونا۔ الْمَالُ۔ مال فضول خرچی میں اڑانا۔ الْعِلْمُ۔ پھیلانا۔ اشاعت کرنا۔ الْاَرْضُ۔ آگنا۔ بَدَارُ الْمَالِ۔ فضول خرچی میں اڑانا۔ صفت رَبْدَارٌ وَتَبْدَارٌ و تَبْدَارَةُ) تَبْدَارُ وَاِبْدَارُ متفرق ہونا۔ تَبْدَارُ الْمَاءُ۔ پانی کا متغیر ہو کر پیلا پڑ جانا۔ الْبَدَارُ۔ بیج، نسل، اولاد، کہا جاتا ہے "اِنَّهُ بَدَارٌ سُوْعٌ" وہ بری نسل کا ہے۔ ج۔ بَدُوْرٌ وَبَدَارُ۔ الْبِنَارُ وَالْبَيْدَارُ وَالْبَيْدَارَةُ و السَّبِيْبَارُ۔ بہت باتوں بگو۔ فضول خرچی کرنے والا۔ الْبَدُوْرُ وَالْبَيْدِيٌّ۔ چغل خور۔ وہ جو اپنے راز کو نہ چھپا سکے۔ ج۔ بَدُوْرُ۔ الْمُبْدَارُ۔ فضول خرچی کرنے والا۔ الْبَدُوْرِيٌّ، باطل، بہت فضول خرچ۔ الْمُبْدُوْرُ۔ بہت۔ بَدَارُ الْمَالِ۔ بکھیرنا۔ فضول خرچی و اصراف سے کام لینا۔ حفاظت کرنا۔ الْمُبْدَارِيٌّ۔ دربان۔ محافظ، راہبر۔ بَدَاؤُا دُنْ، بَدَاؤُا۔ ڈرانا۔ خوفزدہ کرنا۔ بَدَاؤُا الْاِنَاؤُا۔ برتن کا ٹپکنا۔ اِبْدَاعَةُ۔ ڈانا۔ خوف زدہ کرنا۔ گھبراہٹ میں ڈالنا۔ الْبَدْعُ۔ برتن سے ٹپکا ہوا پانی۔</p>
---	---	--

حَبَّتَهُ۔ قول کرنا۔ الرَّهْمِ۔ ہم

پوری کر دینا۔

تَبَرَّدَ۔ نیک و صلح ہونا۔ نیکی کے اظہار

کا ارادہ کرنا۔ تَبَرَّدَ۔ کسی کی

اطاعت کرنا۔

تَبَارَ۔ القوم۔ لوگوں کا ایک دوسرے کے

ساتھ نیکی کرنا۔

رَبَّتْ۔ ساتھیوں سے کنارہ کشی کرنا اور

یک سو ہونا۔

التَّبَرُّ۔ فدائے تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں

سے ہے۔

التَّبَارُ۔ خشک زمین۔ ج۔ بُرُور۔ کہا جانا

ہے۔ جَلَسْتُ بَرًّا۔ میں گھر سے باہر

بیٹھا۔ حَوَجَّ بَرًّا۔ وہ صحرا و بیابان

کی طرف نکلا۔ اُرِيدُ جَوًّا دُرَيْدًا

بَرًّا۔ میں پوشیدگی چاہتا ہوں اور وہ

علانیہ کا خواہاں رہے کوئی قدیم محاورہ

نہیں ہے۔

التَّبَرُّ عَطِيَّةً، طَاعَتًا، مَلَاحِيَةً، سَهَابًا۔

التَّبَرُّ۔ گھٹن، اس کا واحد تَبَرُّةٌ ہے۔

التَّبَرُّ وَالنَّيَّاسُ۔ نیک اطوار۔ بھلائی

کرنے والا۔ بَرَّانِيك، سَجَا۔ ج

• اَبْرَارٌ وَبَرَّةٌ۔

التَّبَرُّيُّ۔ خشکی میں بہنے والا۔ خَلَاتٌ

بَحْرِيَّةٌ۔ مِنَ النَّبَاتِ۔ جنگلی

نبات۔ خَلَاتٌ بُسْتَانِيَّةٌ۔ دباغ میں پیدا

ہونے والی۔ مِنَ الْحَيَوَانِ۔ وحشی

جانور۔ خَلَاتٌ اِبْلِيَّةٌ۔

التَّبَرُّيَّةُ۔ صَوْلًا، بِيَابَانًا۔ ج۔ تَبَرُّوِيٌّ

التَّبَرُّانِيٌّ۔ ظاہر۔ بیرونی۔ کہا جاتا ہے۔

«مَنْ اَصْلَحَ جَوَانِيهٖ اَصْلَحَ

اَللّٰهُ بَرًّا اِيْتِهٖ»۔ یعنی جو اپنے باطن

کو صالح بنائے گا اللہ اس کے ظاہر کو

درست اور ٹھیک کر دے گا۔

التَّبَرُّيَّةُ۔ جنگل، بیابان۔ ج۔ تَبَرُّرِيَّةٌ

اَبْرًا۔ اسم تفضیل (زیادہ نیک، زیادہ نیامنی

زیادہ دور، صحرا میں بہنے والا، عرب

کے اس قول «اَصْلَحَ الْعَرَبُ اَبْرًا»

کے معنی یہ ہیں کہ عرب کا فیض تر و ہی

بدوی ہے جو شر سے دور رہتا ہے۔

التَّبَرُّيُّ۔ اچھی بات۔

التَّبَرُّةُ۔ نیکی کا موجب، بخشش، فیاضی۔

ج۔ مَبَارٌ وَتَبَرَّاتٌ

التَّبَرُّوُدُ۔ مِنَ الْاَذْرَاقِ۔ وہ فعل جو

شبہ، بھوٹ اور خیانت سے پاک ہو۔

التَّبَرُّيْرُ۔ درخت پہلو کا پہلا پھل۔ واحد

بَرِّيْرَةٌ۔

بَرًّاكَ رَفٌ، بَرِّعًا وَبُرُوعًا۔ عدم سے

وجود میں لانا۔ جاملہ خلقت پنانا۔

بَرِّيْعٌ (س) بُرُوعًا وَبَرِّعًا وَبَرَّاعَةٌ

۔ مِنَ الْعَيْبِ وَالذَّنْبِ۔ عیب

قرض سے نجات و خلاصی پانا۔

بَرِّيْعٌ (س) وَبَرِّعَةٌ، وَبَرُّوْرٌ،

بَرِّعًا وَبُرُوعًا وَبُرُوعًا۔ مِنَ

الْمَرْمَنِ۔ ہماری سے شفا پانا۔

بَرًّا هُ تَبَرُّةٌ۔ بری کرنا مِنَ التَّهْمَةِ

تہمت دور کرنا۔

اَبْرًا۔ التَّبَرُّيْعِيُّ۔ بیمار کو شفا دینا۔

مِنَ الذَّنْبِ۔ کسی کو قرض سے بری

کرنا۔ الرَّجُلُ۔ ہمینہ کی پہلی رات

میں داخل ہونا۔

بَارًا۔ شَرِيْكَةٌ۔ خریک سے جدائی

اختیار کر لینا۔

تَبَرُّوْرٌ۔ مِنَ الذَّنْبِ۔ گناہ سے بیزار

ہونا

تَبَارًا۔ التَّبَرُّوْرَانِ۔ خاوند بیوی کا ایک

دوسرے سے جدا ہونا۔

اَسْتَبْرَأَ۔ قرض یا گناہ سے برأت چاہنا۔

التَّبَرُّيُّ وَالتَّبَرُّوِيٌّ۔ خالص، خالی۔ وہ جو

گناہ اور اتہام سے پاک اور بری ہو

ج۔ تَبَرُّوْرٌ وَبَرَّا وَبَرَّاءٌ وَ

اَبْرَاءٌ وَابْرِيَاءٌ۔ مؤنث تَبَرُّوْرَةٌ

وَ تَبَرُّوْرِيَّةٌ۔ ج۔ تَبَرُّوْرِيَّاتٌ وَ تَبَرُّوْرِيَّاتٌ

وَ تَبَرُّوْرِيَّاتٌ۔

التَّبَرُّاءُ۔ ہمینہ کی پہلی شبہ اَبْنُ التَّبَرُّاءِ

ہمینہ کی آخری شبہ، کہا جاتا ہے۔

«أَنَا تَبَرُّاءٌ مِنْ كَذَا» میں اسی سے

برمی اور پاک ہوں۔ اس کا تشبیہ و جمع

یا مؤنث نہیں آتا۔

التَّبَرُّوْرَةُ۔ شکاری کی جھونپڑی۔ ج۔ بَرَّاءُ۔

التَّبَرُّوْرَةُ۔ بَرِّيْعٌ کا مصدر ہے، فرمان،

اجازت، خلاصی۔ ج۔ بَرَّاءَاتٌ۔

التَّبَرُّوْرَةُ۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ صحت یاب

شخص جس میں نقابیت ابھی باقی ہو۔

التَّبَرُّوْرِيَّةُ۔ مخلوق۔ ج۔ تَبَرُّوْرِيَّةٌ۔

التَّبَرُّوْرِيَّةُ وَالنَّبَرُّوْرِيَّةُ۔ پرندہ کی گردن

کے پر۔

بَرِّالٌ وَتَبَرُّوْرَالٌ وَابْرَالٌ۔ الطَّائِرُ

پرندہ کا لڑائی کے لیے گردن کے پر

کھڑے کرنا۔

التَّبَرُّوْرِيَّةُ۔ بَرِّوْرٌ، مٹی کی بنی ہوئی پختہ نالی۔

ج۔ بَرِّوْرِيَّةٌ۔

التَّبَرُّوْرِيَّةُ۔ بے فائدہ بکواس کرنا۔ بک بک کرنا

عصہ میں چلانا۔ بکنا۔ صفت (بَرِّوْرِيَّةٌ)

تَبَرُّوْرِيَّةٌ۔ وحشی ہونا۔

التَّبَرُّوْرِيَّةُ۔ قوم بربر کا شخص۔

التَّبَرُّوْرِيَّةُ۔ مغربی افریقہ کی ایک قوم ہے۔

مصر اور دیگر ممالک میں رنگیوں اور

جیشیوں پر بھی بربر کا لفظ بولا جاتا

ہے۔ ج۔ بَرِّوْرِيَّةٌ وَ بَرِّوْرِيَّةٌ۔

التَّبَرُّوْرِيَّةُ۔ شیر۔

بَرِّوْرِيَّةٌ۔ طلب کرنا۔

تَبَرُّوْرِيَّةٌ۔ کتے کی مانند چلنا۔

التَّبَرُّوْرِيَّةُ۔ گرا کنواں۔

بَرِّوْرِيَّةٌ۔ الارض۔ زمین کو پانی دینا۔

اسیر کیط۔ برہنہ باجر، ساری۔
 بَدَّتْ رَحْمًا، بَدَّتْنَا۔ الشیءُ۔ کالٹنا۔
 بُرَّتْ رَسٌ، بُرَّتْنَا۔ حیران ہونا۔
 اَلْبُرْتُ وَالْمَبْرُوتُ شکر، چینی، کھانہ
 اَلْبُرْتُ وَالْمَبْرُوتُ۔ ماہر راہبر۔ ج۔
 اَبْرَاتُ
 اَلْمَبْرُوتَانِ تازگی، تازگی کا درخت
 بَدَّتْكَ بُرْتًا مَلَكَةً۔ الثوبُ۔ پھاڑنا، ٹکرے
 ٹکرے کرنا۔ الشیءُ۔ پیوستی کی مانند
 کالٹنا۔
 اَلْمَبْرَاتُكَ۔ چھوٹے ٹیلے جمع ہے، بغیر
 واحد
 بُرْتُ رَسٌ، بُرْتًا۔ خوش حالی کی زندگی بسر کرنا
 اَلْبُرْتُ۔ نرم و ہموار زمین۔ ج۔ پدات
 اَبْرَاتُ، بُرُوتُ۔
 اَلْمُبْرُتُتُ۔ مِنَ السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ۔ پنجہ
 چنگل ج۔ بَدَاتُیْنِ۔
 اَلْمُبْرُتُتَةُ۔ شرکت و قوت
 بُرُجٌ رَسٌ، بُرْجًا۔ کھانے پینے میں فراخ
 حال ہونا۔ رزق میں کشائش والا ہونا
 بُرْجَتُ۔ خیلنہ، کسی کا سیاہ اور فراخ
 آنکھوں والا ہونا۔ حین آنکھوں والا
 ہونا۔ صفت رَا بُرْجٌ، آنکھ۔
 (بُرْجَاءُ) ج۔ بُرْجٌ۔
 بُرْجٌ۔ الشیءُ۔ ظاہر ہونا، بلند ہونا۔
 بُرْجٌ وَابْرُجٌ۔ برج بنانا، مینار بنانا۔
 تَبْرُجَتِ الْمَوَاةُ عورت کا اجنبیوں کو
 کو اپنی زینت اور اپنے محاسن دکھانا۔
 اَلْبُرْجُ۔ خوبصورت۔ ظاہر، معلوم۔ ج۔
 اَبْرَاجٌ۔
 اَلْبُرْجُ۔ ستون، قلعہ، محل، مینار، گنبد۔
 ج۔ بُرْجٌ وَابْرُجٌ وَابْرُجَةٌ۔
 اَلْبُرْجُ۔ آسمانی بارہ برجوں میں سے ایک
 بُرْجٌ۔ وہ بارہ بُرْجٌ یہ ہیں:- حمل
 جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ،

میزان، عقرب، قوس۔ جدی، دلو،
 حوت۔
 اَلْبَارِجُ۔ ماہر ملاح۔
 اَلْمَبَارِجَةُ۔ بڑی جنگی کشتی۔ ج۔ بُوَارِجٌ۔
 کہا جاتا ہے: مَا فُلَانٌ اِلَّا بَارِجَةٌ
 خَذَ جَمِيعَ فَيَدُو كُلَّ الشَّيْءِ۔ یعنی فلاں
 شخص شریہ ہے۔ سَفِينَتُكَ بَارِجَةٌ
 کھلی کشتی۔
 تَبَارِجٌ يَجُ۔ اَلنَّبَاتُ۔ نباتات کے پھول۔
 اَلزَّبْرِيجُ۔ دودھ ہونے کا آلہ۔
 اَلْمُبُجْدُ۔ دھاری دار اُونی چادر۔
 اَلْبُرْجَانِيسُ۔ مشتری ستارہ۔
 اَلْمُبُجْدَةُ۔ انگلیوں کے جوڑ یا ہاتھ اور
 پاؤں میں چھوٹی ہڈیاں۔
 اَلْبُرْجَانِجَةُ۔ قبیلہ تمیم کی ایک شاخ عرب
 میں ضرب النمل ہے "اِنَّ لَشَقِي
 وَاقِدُ اَلْبُرْجَانِجَةُ" یہ مثل اس شخص
 کے لیے بولی جاتی ہے جو خود کو لالچ کے
 باعث ہلاکت کی نذر کر دے۔ اس
 کی اصل یوں ہے کہ سوید بن ربیعہ نے
 عمرو بن ہند کے بھائی کو قتل کر دیا۔
 تو عمرو نے قسم کھائی کہ وہ بنو تمیم کے
 سو آدمیوں کو مار کر نذر آتش کرے گا
 چنانچہ بنو دارم بنو تمیم کی ایک شاخ،
 کے ننانوے آدمیوں کو مار کر اس نے
 ان کو آگ میں ڈالا۔ قضا کا مارا براجم
 کا ایک آدمی گوشت کی بُو بَا کر اور
 تقریب دیمہ کا شہہ کر کے وہاں آ
 موجود ہوا۔ عمرو نے اس کو بھی موت
 کے گھاٹ اتار کر اپنی قسم پوری کی۔
 اور وہ شخص لالچ کے باعث لقمہ
 اجل بنا۔
 بُرْجٌ رَسٌ، بُرْجًا، وَبُرْجًا۔ اَلْمَكَانُ
 وَمِنْهُ۔ کسی جگہ کا چھوڑنا، کسی مکان
 سے ہٹنا۔ اور جدا ہونا۔ نَزَائِلُ ہونا۔ کہا

جاتا ہے: مَا بُرْجٌ وَلَا بُرْجَتٌ
 غَنِيًّا: وہ اور تو غنی رہا۔ بُرْجٌ
 اَلْخَفَاءُ۔ ظاہر ہونا۔
 بُرْجٌ رَسٌ، بُرْجًا۔ اَلْمَوْجِلُ۔ غصہ ہونا۔
 ناراض ہونا۔ بُرْجًا۔ اَلصَّيْدُ۔
 شکار کا دائیں جانب سے گذر جانا۔
 صفت رِبَارِجٌ وَبُرْجٌ وَبُرْجِيحٌ،
 بُرْجٌ۔ بے الامور۔ تھکانا، سخت فکھ اور
 تکلیف دینا۔ اَللَّهُ عِنْدَكَ۔ اَللّٰهُ تَبَرُّي
 تکلیف کو دور کرے۔
 اَبْرُجَةٌ۔ کسی کو جگہ سے ہٹانا۔ تعجب کرنا عزت
 کرنا۔ تعظیم کرنا۔
 بُرْجٌ۔ اَلْمَكَانُ۔ جگہ سے ہٹانا۔
 اَلْبُرْجُ۔ ج۔ اَبْرَاجٌ۔ وَرَا اَلْبُرْجِيحُ وَ
 اَلْبُرْجَا، سخی، تکلیف، برائی۔
 اَلْبُرْجُ۔ وَبَهْتٌ اَنْكِرُ مَعَالِمَهُ۔ اَمْرٌ رُبْرُجٌ
 تکلیف دہ معاملہ۔
 اَلْبُرْجُ۔ کشادہ زمین جس میں نہ روئیدگی
 ہو، نہ کوئی عمارت، کہا جاتا ہے: لَا
 بُرْجًا: کوئی چارہ کار نہیں۔ وَجَاءَنَا
 اَلْاَمْرُ بِدْرَاحًا: یعنی معاملہ ہم تک
 واضح طور پر پہنچا۔ وَجَاءَنَا بِاَلْكُفْرِ
 بَدْرَاحًا: یعنی اس نے کفر کا اظہار صاف
 اور کھلے طریقہ سے کیا۔
 بُرْجٌ۔ بِرُوزِنٍ قَطَامٌ۔ سورج۔
 اَلْبَارِجُ وَالْبَارِجَةُ۔ شب گذشتہ۔
 اَلْبَارِجَةُ الْاُولَى۔ گذشتہ رات سے
 پہلی رات کہا جاتا ہے: هَبْنِي
 فَعَقَلَةٌ بَارِجَةٌ۔ یہ فعل غلط اور
 غیر راوی ہے۔
 بُرْجِيحٌ۔ تیر کے خطا کرنے پر یہ لفظ استعمال
 ہوتا ہے، یعنی ارے۔ صوحی اس
 کے خلاف ہے جو تیر کے نشانہ پر لگنے
 کے وقت کلہ تخمین کا کام دیتا ہے یعنی
 واہ، کیا خوب۔

البیادۃ - گرم ہوا۔ ج۔ بواہج۔
 رابن یریح۔ کڑا۔

التباریح۔ مصائب زندگی، کہا جاتا ہے۔
 "تباریح الشوق۔ سوزِ شبانے
 عشق۔

بردن، بردا و بردک، بردقہ۔
 ٹھنڈا ہونا۔ صفت (برد و تبارد و
 برد و برد۔ بردت الارض
 زمین پر اولے کرنا۔ برد۔ القوم
 لوگوں کو سردی لگنا۔ یا ان پر اولے
 پڑنا۔

برد۔ الحق علیہ اولہ، حق ثابت
 ہونا۔ برد فلان۔ سوجانا۔ سست
 پڑ جانا۔ کہا جاتا ہے "جنگ فی
 الامور کبرد" جب کوئی کسی
 معاملہ میں گرم بوشی سے کام لے کر پھر
 سرد پڑ جائے۔

بردن، بردا۔ الحدیث۔ لہجہ کو
 ریتی سے رگڑنا۔ الخیز۔ روٹی پر
 پانی ڈالنا۔ العین۔ آنکھ میں ٹھنڈا
 سرمہ لگانا۔

بردن، بردا و بردقہ۔ ٹھنڈا کرنا۔
 الوجع۔ تکلیف کو خفیف کرنا اور
 سکون دینا۔ الحق۔ حق کو ثابت
 اور واجب کرنا۔

بردنا الغیل و برد علینا۔ ہم کو ملت
 کی سردی لگی۔

آبرد۔ موسم سرما میں یا اولوں میں داخل
 ہونا۔ الیہ البرید۔ کسی کی طرف
 قاصد یا اہلی بیعتا۔ الشق۔ ٹھنڈا
 کرنا۔

آبردہ۔ العرفن۔ عرفن کا کسی کو کمزور
 کر دینا۔

تبرد۔ ٹھنڈک ماہ بنا۔ کہا جاتا ہے "تبرد
 من الماء یعبرہ" وہ ٹھنڈک کی

خاطر ہانی میں اُترا۔

تبارد۔ سردی ظاہر کرنا بسستی سے کام کرنا۔
 ایتبرد۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا۔

استبردقہ۔ کسی کو ٹھنڈا پانا۔ استبرد
 حلیہ یسانہ۔ اس نے اس پر
 وہاں ورازی کی۔

البرد۔ سردی، نیند۔
 البردان والبردان۔ صبح و شام۔
 البرد۔ املے۔

البردقہ۔ واحد البرد۔ ایک اولہ،
 بد معنی۔

البرود۔ وہ سرمہ جس سے آنکھ کو ٹھنڈک
 پہنچے۔ ثعبت برود۔ وہ کپڑا جس کی
 دندا بھری ہوئی ہو، روئیں دار کپڑا۔

البرد۔ دھاری دار کپڑا۔ ج۔ برود و
 آبراد و آبرد۔ کہا جاتا ہے "دفع
 بینکم قدا برود ہمانینہ"۔

یعنی وہ آپس میں ایسے سخت جھگڑے
 کہ قیمتی کپڑے تک پھٹ گئے اگر بیان
 میں زبردست جھگڑا اٹھا ہوا۔ کالا
 کبل۔ واحد بردقہ۔ ج۔ برد۔

البردوی۔ نرکل کی طرح ایک پودا، جس
 کے پھل کو قدیم معری لکھنے کے کام میں
 لیتے تھے۔

البردوی۔ کھجور کی ایک عمدہ قسم۔
 البرادقہ۔ لہجہ دیر کا سجا ہوا برادہ۔
 البرجاء۔ سردی کا بخار۔

البرادقہ۔ پانی ٹھنڈا کرنے کا برتن۔
 البرید۔ قاصد، اہلی۔ ج۔ برد۔ تقریباً
 بارہ میل کی مسافت۔ ڈاک خانہ۔

البارد۔ اسم فاعل۔ کھٹیش ہا برد۔
 خوشگوار زندگی۔ تھوینجہ ہا بردقہ۔
 وہ مال غنیمت جو بغیر لڑائی و جدائی اور
 محنت کے مل جائے۔ جھلا ہا بردقہ۔

کمزور و شہسی دلیل۔ المرہکات

البواردہ۔ کانٹے والی تلواریں۔
 الابدرد۔ چیتا۔ ج۔ آہارد۔ ٹونٹ
 آبردقہ۔

الیبرد۔ ریتی۔
 الیبردقہ۔ ٹھنڈ پیکرنے وال چیز کہا
 جاتا ہے۔ "ہذہ صبردقہ یلبدن"۔

یہ بکن کو ٹھنڈ پہنچانے والی ہے۔
 البردقہ والبردقہ۔ جانور کی پیٹھ
 پر ڈالا جانے والا کپڑا۔ عری گیر۔

البرخون۔ ٹو۔ ترکی گھوڑا۔ ٹونٹ
 تبرقوتہ۔ ج۔ بردا ذین۔

بردن۔ الفرس۔ ترک گھوڑے کی چال
 چلنا۔ ٹوک کی طرح چلنا۔ الرجل کسی
 کو مغلوب کرنا۔

بردن، بردقہ۔ میدان کی طرف نکلا۔
 بردن و بردس، بردا۔ گنای و
 پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا۔ صفت
 رہا رہا۔

بردک، بردقہ۔ فضیلت و شجاعت
 میں اپنے ساتھیوں سے فوقیت لے جانا
 صفت ربردقہ، ٹونٹ (بردقہ)۔

آبردقہ۔ نکالنا۔ الکتاب۔ کتاب شائع
 کرنا۔ الرجل۔ کسی کا ارادہ سفر کرنا۔
 ہرش۔ پاخانہ کرنا۔ الشق۔ چیز کا نکالنا۔

ظاہر کرنا۔ الفرس۔ گھوڑے کا گھوڑ
 دوڑ کے میدان میں آگے نکل جانا۔
 الرجل فی العلو۔ کسی کا علم میں اپنے
 ہمسروں سے سبقت لے جانا۔

ہا بردقہ و بردا۔ مقابلہ پر نکل
 کر پڑنا۔

تبروتی۔ قضاے حاجت کے لیے میدان
 کی طرف جانا۔
 استبردقہ۔ نکالنا۔

البراز۔ باوند کا مصدر، آدمی کا پاخانہ
 البراد۔ دھنوں سے نکالی گھلا ہوا وسیع

میدان کنایہ از قضائے حاجت۔
 الْمَبْرُورُ وَالْمَبْرُورَةُ - قضائے حاجت کی جگہ۔
 الْمَبْرُورُ - دم خیزوں کے درمیان کی روک۔
 اور آٹھ اور آخرت کے درمیان موت سے قیامت تک کا وقت۔ جہ
 بَدَا زَخْمٌ - بَدَا زَخْمُ الْإِيمَانِ، ایمان کی ابتداء و انتہاء کے درمیان کی حالت یا شک و یقین کی درمیانی حالت۔
 تَبَرُّزَقِي - القوم - لوگوں کا بغیر گھوڑوں، اور اونٹوں کے جمع ہونا۔
 تَبَرُّزَقِي - القوم - بغیر اونٹوں اور گھوڑوں کے جمع ہونا۔
 الْمَبْرُورُ زَيْقٌ - لوگوں کے گروہ۔ شاہراہ کے ارد گرد کے راستے۔ واحد (مَبْرُورِي) (معرّب)
 بَرِيَسٌ دَسٌ، بَرِيَسًا - مقروض پر سختی کرنا۔
 بَرِيَسٌ - الارض - زمین کو نرم بنانا۔
 الْبُرُوسُ وَالْبُرُوسُ - روٹی۔
 الْبُرُوسِيَانُ - ایک قسم کی کھجور۔
 بَرِيَسْمَةٌ - کسی کو برسام کی بیماری میں مبتلا کرنا۔
 الْبُرُوسَامُ - ذات الجنب کی بیماری۔
 بَرِيَسْمَةٌ - برسام کی بیماری میں مبتلا ہونا۔
 صفت (مَبْرُوسِيَانُ)
 بَرِيَسِيَانُ دَسٌ، بَرِيَسِيَانُ بَرِيَسِيَانُ - سفید داغوں والا ہونا۔ صفت (مَبْرُوسِيَانُ) وہ جگہ جہاں گونا گوں نباتات بکثرت ہوں۔ سَنَةُ بَرِيَسَاءٍ - وہ سال جس میں گھاس کی پیداوار بہتات سے ہو۔
 الْبُرِيَسِيَانَةُ وَالْبُرِيَسِيَانُ - سفید داغ۔
 الْمَبْرِيَسِيَانُ - سفید داغوں والا۔
 بَرِيَسِيَانُ - اللَّحْمُ - کاٹنا۔

الْبُرِيَسِيَانُ وَالْبُرِيَسِيَانُ - بدخلق۔
 بَرِيَسِيَانُ - اللَّحْمُ - کاٹنا۔ کھڑے کھڑے کرنا۔
 فَلَانًا بِالْأَسْوَدِ - کھڑے سے مارنا۔
 رَابِعٌ لَشَقِي - شادماں ہونا۔ صفت (مَبْرُوسِيَانُ) الشَّجْوُ كُلُّ نَكَلًا - النُّورُ - کھلنا۔
 بَرِيَسِيَانُ - الْجَزْوَةُ - کھڑے کھڑے کرنا۔
 بَرِيَسِيَانُ بَرِيَسِيَانُ وَبَرِيَسِيَانُ - الرَّجُلُ خاموش رہ کر غم کا اظہار کرنا۔
 الْمَبْرِيَسِيَانُ - کسی کو گھور کر دیکھنا۔
 الْبُرِيَسِيَانُ - بَرِيَسِيَانُ - تیز نظر والا۔
 بَرِيَسِيَانُ - الْبُرِيَسِيَانَةُ - خط کو گوند سے چھپکانا۔
 الْبُرِيَسِيَانُ - گوند، لٹی۔
 بَرِيَسِيَانُ دَسٌ، بَرِيَسِيَانُ - برص کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ صفت (مَبْرُوسِيَانُ) مَوْتٌ بَرِيَسِيَانُ - جہ۔
 بَرِيَسِيَانُ - اَرْضٌ - اَرْضٌ بَرِيَسِيَانُ - مختلف جگہوں سے چری ہوئی زمین۔
 حَيَّةٌ بَرِيَسِيَانُ - کوڑھ یا لاسانپ۔
 آفَرِيَسِيَانُ - کسی کو برص کی بیماری میں مبتلا کرنا۔
 تَبَرُّزَقِي - الارض - کسی زمین کی گھاس پوری کی پوری چرانا۔
 الْبُرِيَسِيَانُ - ایک جلدی بیماری جس کی وجہ سے جلد سفید ہو جاتی ہے اور ایک تکلیف دہ خارش پیدا ہو جاتی ہے۔
 سَامٌ آفَرِيَسِيَانُ - چھپکلی، تشنہ کی صورت میں ہذا ان سَامًا آفَرِيَسِيَانُ - اور جمع کی حالت میں هُوَلًا وَ مَوَاتًا آفَرِيَسِيَانُ و آفَرِيَسِيَانُ کہتے ہیں۔
 آفَرِيَسِيَانُ - چھپکلی۔
 الْبُرِيَسِيَانُ - کپڑے کا وہ ٹکڑا، جس سے شیشی بوتل وغیرہ کے سر کو باندھیں۔
 الْآفَرِيَسِيَانُ - چاند۔
 بَرِيَسِيَانُ دَسٌ، بَرِيَسِيَانُ - الْمَاءُ مِنَ الْعَيْنِ۔

چشمہ سے تھوڑا پانی پھوٹنا۔ الْعَيْنُ
 بَرِيَسِيَانُ - چشمہ کا تھوڑا پانی دینا۔
 بَرِيَسِيَانُ دَسٌ، بَرِيَسِيَانُ - النَّبَاتُ - نباتات کا پھوٹنا۔ پہلی روئیدگی کا ظاہر ہونا۔
 بَرِيَسِيَانُ وَآفَرِيَسِيَانُ - الْمَكَانُ - کسی جگہ کا بہت روئیدگی والا ہونا۔
 تَبَرُّزَقِي - تھوڑی چیز پر زندگی گزارنا۔
 الشَّيْءُ - کسی شے کو تھوڑا تھوڑا لینا۔
 - الْمَاءُ - پانی چوستا۔ الارض - زمین کا روئیدگی والا ہونا۔
 الْبُرِيَسِيَانُ - تھوڑا۔ جہ۔ بَرِيَسِيَانُ وَبَرِيَسِيَانُ وَآفَرِيَسِيَانُ، کہا جاتا ہے۔ هَذَا الْبُرِيَسِيَانُ مِنْ عَدِيٍّ - یہ بہت میں سے تھوڑا ہے۔
 الْبُرِيَسِيَانَةُ - بخور زمین۔ نباتات نہ اگانے والی زمین۔
 الْبَارِيَسِيَانُ - اکھوا۔
 الْبُرِيَسِيَانُ وَالْبُرِيَسِيَانَةُ - تھوڑا۔
 الْمَبْرُوسِيَانُ - کثرت بخشش کی وجہ سے تنگ دست۔
 الْمَبْرُوسِيَانُ وَالْمَبْرُوسِيَانُ - بائع اور خریدار کے درمیان دلال۔ الْمَبْرُوسِيَانُ کرایہ پر گھوڑوں اور گدھوں کو چلانے والا۔
 الْبُرِيَسِيَانُ - پتھر کی چوکت، اس کی فصیح عربی الْأَشْكُفَةُ ہے۔
 بَرِيَسِيَانُ بَرِيَسِيَانُ فَتَبَرُّزَقِي - کسی کو بریل (درشوت) دینا۔
 الْبُرِيَسِيَانُ - لٹی۔
 الْبُرِيَسِيَانُ - لمبا پتھر، درشوت۔ جہ۔
 بَرِيَسِيَانُ - بَرِيَسِيَانُ - رات کا تاریک ہونا۔
 الرَّجُلُ - کسی کا غصہ کے سبب ہونٹ لٹکانا۔ وَتَبَرُّزَقِي - غصہ سے بھولنا۔
 الْبُرِيَسِيَانُ وَالْبُرِيَسِيَانُ - مرنے ہونٹ والا۔
 بَرِيَسِيَانُ دَسٌ، وَبَرِيَسِيَانُ دَسٌ، وَبَرِيَسِيَانُ دَسٌ،

بَرَاَعَةٌ وَبُرُوعًا - علم یا فضیلت یا
 جمال میں یکتا ہونا۔ صفت (براع) ،
 بُرُوعَهُ - علم یا فضیلت یا جمال میں کسی
 پر غالب آنا۔ بَرَعَ الْجَبَلُ - پہاڑ پر
 چڑھنا۔
 تَبَرَّعَ بِالْعَطَاءِ - صدقہ و خیرات دینا۔
 ایسی بخشش کرنا جو نہ واجب ہو اور
 نہ اس سے کوئی عوض مطلوب ہو۔
 کہا جاتا ہے: "فَعَلَهُ تَبَرُّعًا وَ
 مُتَبَرِّعًا" یعنی اس نے اس کو بطور
 نفل کیا۔
 الْبَرِّيْعُ - جمال و عقل میں یکتا۔ بَرِّقُ
 بَرِّيْعٌ - دور سے چمکنے والی بجلی۔
 الْبُرُوعَةُ - حلقہ دُبر۔
 الْبُرُوعِيسُ وَالْبُرُوعِيسُ - بہت دودھ
 دینے والی اونٹنی۔
 الْبُرُوعِيسُ - سختیوں پر صبر کرنے والا۔
 تَبَرَّعَ الرَّجُلُ - کسی کے نیچے تملانا۔
 تَبَرَّعَتِ الْحَيَّةُ - کندل مارنا۔
 الْبُرُوعُ - بچو کا بچہ۔
 بَرَّعَ بَرَّعَةً وَتَبَرَّعَ الشَّجَرُ
 درخت کا غنچہ کھلانا۔
 الْبُرُوعُ وَالْبُرُوعَةُ - جہ - بَرَّاعَةٌ
 وَرَالْبُرُوعُومُ وَالْبُرُوعُومَةُ - جہ
 بَرَّاعِيْمٌ - غنچہ ناشگفتہ۔ پھل
 کا غلاف۔
 بُرُوعُ رَسٍّ، بَرَّعًا - ناز و نعمت سے زندگی
 بسر کرنا۔
 الْبُرُوعُ - لعاب۔
 بَرَّعَتْ - المکان - کسی جگہ کا بہت
 پسوں والی ہونا۔
 الْبُرُوعُوْتُ - پسو۔ جہ - بَرَّاعِيْتُ -
 بُرُوعُوْتُ الْبَحْرِ - جھینگا پھلی۔
 الْبُرُوعُوْتُ الْبُرُوعُوْتُ وَالْبُرُوعَاذُ - گائے
 یا نیل گائے کا بچہ۔ جہ - بَرَّاعُوذُ

وَبَرَّاعِيْزُ -
 الْبُرُوعِشُ - پھر۔ واحد بُرُوعِشَةٌ -
 الْبُرُوعِيْغِيُّ وَالْبُرُوعِيْغِيُّ - بیچ والی میخ۔
 الْبُرُوعِيْزُ - ارغوانی رنگ یا اسی رنگ
 میں رنگا ہوا کپڑا۔
 بَرِّقَ دَنٌّ، بَرِّقًا وَبُرُوقًا وَبَرِّقَانًا وَ
 بَرِّيْقًا - الْبَرِّقُ - بجلی کا ظاہر ہونا
 - الشَّيْءُ - چمکنا۔ جگمگانا۔ السَّمَاءُ
 آسمان سے بجلی چمکنا۔ الرَّجُلُ -
 کسی کو دمکی دینا۔
 بَرَّقَتْ دَنٌّ، بَرِّقًا وَبَرِّقَتْ وَابَرَّقَتْ -
 الْمَرْأَةُ - عورت کا بننا، سنورنا۔
 آراستہ و مزین ہونا۔
 بَرِّقَ رَسٌّ، بَرِّقًا - حیران ہونا۔ اور
 چندھیا جانا۔
 بَرَّقَهُ - آراستہ کرنا۔ بَرَّقَ عَيْنَهُ وَ
 بَعِيْنَهُ - آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا۔
 اَبْرَقَ - برق زیادہ ہونا۔ دھمکانا۔ لمبا سفر
 کرنا۔ يَسِيْرُهُ - تلوار چمکانا۔ عَن
 وَجْهِهِ - منہ کھولنا۔ اَبْرَقَتِ السَّمَاءُ
 آسمان کا بجلی چمکانا۔
 الْبَرِّقُ - بجلی۔ جہ - بُرُوقٌ - کہا جاتا ہے
 "بَرِّقَ خُلْبٌ وَبَرِّقَ خُلْبٌ وَ
 بَرِّقَ الْخُلْبُ - بے ہارش کی بجلی۔
 پانی نہ برسانے والی بجلی۔
 الْجَارِقَةُ - بجلی والا بادل۔ تلواریں۔
 سَحَابَةٌ بَرَّاقَةٌ - بجلی والی بدلی۔
 الْبَرِّقَةُ - دہشت۔ خوف۔
 الْبَرِّقُ - خوف۔ دہشت۔ بھیڑ کا بچہ۔
 جہ - اَبْرَاقٌ وَبَرِّقَانٌ - رَجُلٌ
 بُرُوقٌ - بھول آدمی۔
 الْبَرِّقُ - گرہ۔
 الْبَرِّقَةُ - جہ - بُرُقٌ وَرَالْبَرِّقُ
 جہ - اَبْرَاقٌ - پتھر ریت مٹی ملی
 ہوئی سخت زمین، (اس کی تصویف اَبْرَاقٌ)

سے۔ الْاَبْرَاقُ - سیاہ و سفید رنگ
 والا۔
 الْبُرَاقُ - وہ سیاہی جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 شب معراج کو سوار ہوئے تھے اس کا
 قد گذر گئے تھے بڑا اور پھر سے چھوٹا تھا۔
 التَّبَارِيْقُ - تھمڑا یا تیل یا گھی جو کھانے
 میں ڈالا جائے۔
 مَبْرُوقٌ - الصُّبْحُ - صبح طلوع ہونے
 کی جگہ۔ جہ - مَبَارِقٌ وَ مَبَارِيْقٌ -
 بَرِّقَ بَرِّقَةً وَتَبَرَّقَ - وَجْهَهُ
 بدشکل ہونا۔ الثَّوْبُ - کپڑے کا
 آلودہ ہونا۔
 بَرِّقَتُهُ وَبَرِّقَتُهُ - گونا گوں رنگوں سے
 آراستہ کرنا۔ فِي الْكَلَامِ - بے سرو پا
 باتیں کرنا۔
 الْبَرِّقِشُ - ایک دل پسند آواز، اور رنگین
 پروں والا پرندہ۔
 اَبْرَاقِشُ - ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے
 پر اوپر سے خاکی، نیچے سے سرخ اور
 نیچے سے سیاہ ہوتے ہیں جب پر کھولتا
 ہے، رنگ برنگ الوان دکھائی دیتے ہیں
 اس کا اطلاق مجازاً امتلون المزاج شخص
 پر بھی ہوتا ہے۔
 الْبَرِّقُوْشُ - پرانا جوتا۔
 بَرِّقَطٌ - چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا۔
 پیچھے جھانکتے ہوئے واپس جانا۔
 الْكَلَامُ مَبْرُوقٌ - ربط و بے ترتیب
 کلام کرنا۔
 مَبْرُوقَةٌ - برق پہنانا۔
 الْبُرُوقُ - جہ - بَرَّاقٌ - عورت کا روپوش۔
 تَبَرَّقَعَتْ - برق پہنانا۔
 بَرِّقَلٌ - جھوٹ بولنا۔
 الْبَرِّقَلَةُ - عمل سے خالی بات۔
 الْبَرِّقِيلُ - ایک جگلی ہتھیار، جس کے
 ذریعہ گولی اور پتھر وغیرہ پھینکا کرتے

<p>کیے جانا۔ اَبْرَمَ - الحبل۔ رسی کا بٹ جانا۔ تَبْرَمَ - زرع ہونا۔ الْبَرَم - درخت عفا کا پھل، بنیل، لثیم۔ ج۔ اَبْرَام۔ الْبُرْمَة - پتھر کی ہانڈی۔ ج۔ بَرَم و بَرَام۔ الْبُرْم - بد اخلاق لوگ۔ الْبُرَام - چھوٹی۔ ج۔ اَبْرَمَة۔ الْبُرَام - بٹنے والا۔ الْبُرْمَة و الْبُرَام - دھاگا۔ ڈورا۔ ہر بٹی ہوئی شے۔ بٹی ہوئی رسی۔ الْبُرْمَة شکر۔ الْبُرْمَة - سوراخ کرنے کا اوزار۔ ہما۔ الْبُرْم - تکلہ۔ ج۔ مَبْرَم۔ المَبْرَم - منع۔ قضاء مَبْرَم - اٹل حکم یا فیصلہ۔ الْبُرْمِيل - پیپہ۔ ج۔ بَرَامِيل۔ الْبُرْمَة - میزانیہ، بکٹ۔ ج۔ مَبْرَمَة۔ بُرْمَة - قتبونس۔ کسی کو بونس پہنانا اور پھر کسی کا بونس پہن لینا۔ الْبُرْمَة - وہ بی لہنی جو آغاز اسلام میں پہنی جاتی تھی۔ ہر وہ لباس جس کے ایک حصہ سے سر ڈھک لیا جائے الْبُرْمَة - لہنی، ہیٹ۔ الْبُرْمَة - مٹی کا برتن۔ ج۔ بَرْمَة۔ بُرْمَة - ہتھیار، چھانکے، بعد جسم کا بھالت، حد درستی آنا، صفت (بُرْمَة)، بُرْمَة - ہتھیار۔ ج۔ بُرْمَة۔ بُرْمَة - دلیل لانا۔ الْبُرْمَة و الْبُرْمَة - عرصہ، زمانہ کا کچھ حصہ۔ ج۔ بُرْمَة و بُرْمَات۔ الْبُرْمَة - ہندوؤں کی ایک فات۔ مغزور رہیں، بُرْمَة - الشیخ و علیہ و عنہ کسی چیز پر دلیل قائم کرنے کے اس کو واضح کرنا</p>	<p>الْبُرْمَة - بڑھاؤ، زیادتی، نیک، بخق۔ الْبُرْمَة - اونٹ کے بیٹھے کی ہیئت پانی جمع ہونے کی جگہ۔ ج۔ بُرْمَة۔ دو دو دینے والی بکری۔ ج۔ بُرْمَات۔ الْبُرْمَة - ایک چھوٹا سا سفید آبی پرندہ، پینے والے کی اجرت اور مزدوری۔ ج۔ بُرْمَة و اَبْرَام و بُرْمَات۔ الْبُرْمَة - اونٹ۔ برکت والا۔ الْبُرْمَة - بزدل، بستی، کا بوس۔ الْبُرْمَة - پانی لینے والا۔ پینے والا۔ الْبُرْمَة - اونٹوں کے بیٹھے کی جگہ۔ کہتے ہیں: لَيْسَ لِفُلَانٍ مَبْرَمٌ جَمَلٌ یعنی فلاں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ الْبُرْمَة - مادہ سیبی۔ الْبُرْمَة - پھانسی کا۔ الْبُرْمَات - کوہ آتش فشاں۔ بُرْمَة - کاٹنا، پھاڑنا۔ بُرْمَة - الْبُرْمَة گھوڑے کا ہاروں پیروں پر کھڑا ہونا۔ اور گھٹنوں کے بل گر پڑنا۔ بُرْمَة و تَبْرْمَة - الرجل۔ سرین کے بل گزنا۔ الْبُرْمَة - پستا قدمی۔ جُوعٌ بُرْمَةٌ - سخت بھوک۔ بُرْمَة (ن)، بُرْمَة و بُرْمَة - الْحَبْلُ دو لڑیاں کر کے رسی بٹنا، صفت مفعول مَبْرَمٌ و بُرْمَةٌ - الامر۔ کام کو پختہ اور مضبوط کرنا۔ بُرْمَة (س) - بُرْمَة - تنگ دل ہونا۔ ہے قرار ہونا۔ بُرْمَة - دلیل نہ سوجھنا۔ اَبْرَمَ - الْحَبْلُ و الْاَمْر۔ بُرْمَة - بُرْمَة الْحَبْلُ - کسی کو طول و پویشیاں کرنا۔ زرع کرنا۔ بُرْمَة - بُرْمَة - بُرْمَة کسی کو لا جواب کرنے کے لیے بھٹ</p>	<p>تھے۔ الْبُرْمَة - جنگلی آلو بخارا۔ زرد آلو۔ بُرْمَة (ن)، بُرْمَة و تَبْرْمَة - بُرْمَة و اَبْرَام - الْبُرْمَة - اونٹ کا بیٹھا بُرْمَة - کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ بُرْمَة - کسی کے لیے دعائے برکت کرنا۔ بَارَكَ الرجل کسی آدمی کے حق میں برکت کی دعا مانگنا۔ راضی ہونا۔ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَفِيكَ وَعَلَيْكَ وَ بَارَكَكَ - اللہ تجھ کو مبارک کرے۔ کہتے ہیں: بَارَكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ الْبُرْمَة یعنی اے اللہ تعالیٰ تو نے انبیاء اور ان کی اولاد کو جو شرافت و بزرگی اور عزت بخشی ہے، وہ ہمیشہ برقرار رکھ۔ بُرْمَة - یہ دعا نہیں، بلکہ اس سے اس سائل کو خطاب کیا جاتا ہے جس کو دفع کرنا مقصود ہو۔ اَبْرَمَ - اونٹ کو بٹھانا۔ تَبْرَمَ - باہ۔ کسی سے برکت حاصل کرنا۔ تَبَارَكَ - باہ۔ نیک فال لینا۔ کسی سے نیک فکون لینا۔ اللَّهُ فان صدق کا مقدس ہونا۔ اَبْرَمَ - القوم۔ لوگوں کا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جنگ کرنا۔ اَبْرَمَ کو اَبْرَمِي العُدُو - ہمزوڑنے کی کوشش کرنا۔ فُلَانًا کسی کو پھاڑ کر اپنے سینہ کے نیچے لانا۔ بُرْمَة و عَلَيْهِ۔ کسی کو گالی دے کر اس کی اہانت کرنا۔ اور اَبْرَمِي کرنا۔ اَبْرَمَ - برکت کی فال لینا۔ الْبُرْمَة - سینہ، اونٹوں کا گلہ، واحد بُرْمَة، بُرْمَة (تبارک)۔ ج۔ بُرْمَة۔</p>
--	---	---

تَبْرَهَنَ دہل سے ثابت ہوتا۔
 اَبْرَهَان - دلیل، حجت، ہم بڑا ہیں
 اَبْرُوَاز - فریم، چوکتا۔ فصیح عربی میں
 اس کے بے لفظ کلمات اور
 اطراف ہے۔

اَبْرُوَاق و اَبْرُوَاق - ایک قسم کی بوٹی
 جو مہن بادل سے سرسبز اور سہری ہو
 جاتی ہے چنانچہ مثل ہے "اَشْكُرُ
 مِنْ بَرُوْقَةٍ" کہ وہ بروقہ سے
 بھی زیادہ شکر گزار ہے کہ تھوڑے
 ہی پرشاکر و صابر رہتا ہے۔

بَدْرَان، بَدْوَا و اَبْرِي اَبْرَاء -
 الناقہ، اونٹنی کے ناک میں چھلا یا
 حلقہ ڈالنا۔

اَلْبُرَّة كَوْنٌ مَلَقَةٌ دَارِجِيَّةٌ مَثَلًا لَكُلِّهَا، ہال
 یا پازیب وغیرہ۔ ج۔ بَرِي و
 بُرَات و بُرِين و بِرِين - کہا
 جاتا ہے "اَعْطَتْهُ الدُّنْيَا بُرَّتَهَا"
 یعنی اس نے دنیا بہت پائی۔

بَدْرِي دهن، بَرِيَاد اَبْرِي - السهبة
 و القلم - تیر یا قلم کو تراشنا، صفت
 مفعول بَدْرِي و مَبْرِي، المُنْحَصِي
 و بلا کرنا۔ کمزور کرنا۔

بَارِي - ارجل کسی سے آگے بڑھنے
 کی کوشش کرنا۔ اَبْرَاتة - اپنی
 عورت سے فراق پر صلح کرنا۔

بَرِي - مٹی لگانا۔
 بَارِيَا - آگے بڑھنے میں باہم مقابلہ کرنا۔
 بُرِي - لمعروفہ - بھلائی کے
 دہے ہونا۔

اَبْرِي - لہ۔ پیش آنا۔
 اَلْبَرِي - مٹی، غبار۔

اَلْبَارِي دفا، پیدا کرنے والا تیر کا ترشنے
 والا۔ خل ہے "اَعْطِ القوس
 بَارِيَهَا" کمان کو اس کے تراشنے والے

کے سپرد کرو۔ یعنی کام اسی کو دو جو
 اس نے کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔
 اَلْبُرَايَةُ و اَلْبُرَاء - تراشہ چھیلن۔

اَلْبُرِيَّة - براء میں دیکھو
 اَلْبُرِيَّة و اَلْبُرِيَّة، سرک بھوسی بڑگنسی
 کرتے وقت گرتی ہے۔

اَلْبُرَاءَةُ و اَلْمَبْرَاء - پاتو، چھری،
 تراشنے کا آلہ۔

بَدْرَان، بَدْرَا و بَدْرِيَّة - چھین لینا۔
 غالب آنا۔ اَلشَيْءُ مِنْهُ - کوئی چیز
 کسی سے ظلم و قهر اُلے لینا۔

اَبْتَرْتُ - مِنْهُ الشَّيْءُ - کسی سے کچھ زبردستی
 چھین لینا۔

اَلْبُرَّة - کتان یا روئی کے کپڑے، ہتھیار۔
 ج۔ بَرُوَز۔

اَلْبُرَّة - کپڑے، ہتھیار، ہیئت۔

اَلْبُرَار - پارچہ فروش، کپڑے بیچنے والا۔

اَلْبُرَادَةُ - کپڑے کی تجارت، پارچہ فروشی۔

اَلْبُرَابُوط - پاسپورٹ، پروانہ، راہداری

اس کے لیے فصیح لفظ اَلجَوَاز ہے۔

بَدْرِي - تیز چلنا۔ سختی سے ہانکنا۔ بھاگ جانا

بہت حرکت کرنا۔

بَدْرِي (بَدْرِي) - فخر میں مقابلہ کرنا۔

عَلَى فُلَانًا - کسی کے برخلاف کسی کو

اکسانا۔ بھڑکانا۔

بَدْرِي - آراستہ کرنا۔ خوبصورت کرنا۔

بَارِيَّة - فخر کرنے میں کسی سے مقابلہ کرنا۔

بَارِيَّة - باہم فخر کرنا۔

بَدْرِي (دس)، بَدْرِي - ابھرے ہوئے سینے

اور اندر کی جانب وہی پیٹھ والا ہونا

صفت دَاْبْرِي، مَوْنُوت بَدْرِيَاء -

ج۔ بَدْرِي۔

بَارِي - عین الامور۔ کسی کام سے پیچھے

بھٹنا۔ پیچھے رہنا۔

اَبْتَرْتُ - کی سی چال چلنا یا اس جیسی بیٹھک

بیٹھنا۔

بَدْرِي - لہ۔ کسی سے فروتنی کرنا۔

بَدْرِي دهن اَبْرِيَاء - اَلْحَبُوب - بیج ہونا

- و بَدْرِي اَلْقَدَر - ہانڈی میں مسالہ

ڈالنا۔ بَدْرِي اَلْوَنَاء - برتن بھرنا۔

کہتے ہیں: فُلَانٌ بَدْرِي كَلَامُهُ و

تَوْبَلُّهُ: فلاں نے اپنی گفتگو میں

نک مرچ ملایا۔

اَلْبُرَّة - بیج، تخم۔ واحد بَدْرِيَّة، ج

بُرُوَز۔ مصالحہ، ج۔ اَبْرَار۔ جب

اَبْرَارِيہ کہتے ہیں: مثلی لا يَحْفِي

عليه اَبْرَارِيك! یعنی مجھ جیسے

سے تمہاری گپ شب نہیں چھپ سکتی۔

اَلْمَرْأَةُ اَلْبُرَاء - کثیر الاولاد

عورت۔

اَلْبُرَار - مسالہ بیچنے والا۔ بیج فروخت

کرنے والا۔

اَلْبُرِيَّة - بیج نکالنے والوں کی لاشی۔

دھوبی کی موگری۔

اَلْبُرَار - باز پالنے والا۔ کاشتکار۔ ج

بِيَارِيَّة (مغرب)

بَدْرِي دك، بَدْرِيَاء - الغلام۔ خوش

طبع ہونا۔ ظریف ہونا۔ صفت (بَدْرِي)،

مَوْنُوت بَدْرِيَاء،

تَبْرِيء - الغلام۔ بتکلف ظریف بننا۔

- اَلشَّرُّ - فتنہ اور برائی کا بڑا ہونا۔

اَلْبُرَاء - بے جھجک اور بے دھڑک چلنے

والا لڑکا۔ (د۔ و اَلْبُرِي)، من الغلمان

وکی و حرب زبان لڑکا۔

اَلْبُرِي - شریف آدمی۔

بَدْرِي دك، بَدْرِيَاء و بَدْرِيَاء - اَلشَّمْسُ

سورج کا نکلنا۔ بَدْرِي اَلْحَاجِمُ -

چکنے لگانے والے کا لشر لگانا۔

دملہ۔ خون بہانا۔

اَبْتَرْتُ - اَلْوَبِيء - موسم بہار کا شروع

ہونا۔ نُجُوم دُجُوزِغ، طلوع ہونے والے ستارے۔
 المَبْرُغ۔ نشتر۔
 بَزَقِي دِن، بَزُقًا۔ تھوکتا۔ الارض۔ یونا۔
 المَبْرَاق۔ تھوکتا۔
 المَبْرَاق۔ ایک قسم کا گھونگا۔ واحد بَرَّاق۔
 يَزَل دِن، بَزَلًا وَبَزَلًا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز میں سوراخ کرنا۔ الشَّرَابُ۔ شراب صاف کرنا۔ بَزَلُ الاَصْر۔ کسی کام کو کر گزرتا۔ رائیہ۔ کوئی نیا رائے دینا۔
 بَزَل دِن، بَزُولًا۔ البعير۔ اونٹ کا دانت نکالنا۔ البعيرُ النَّابُ۔ اونٹ کا کچھیاں نکالنا۔ صفت مذکر مؤنث (بازل، ج۔ بَوَازِلٌ وَبُزُلٌ وَبُزْلٌ۔
 تَبَزَلٌ وَابْتَزَلٌ۔ الخمر۔ شراب کے برتن میں سوراخ کرنا۔ الجَسَدُ جسم سے خون ٹپکنا۔ السَّقَاءُ۔ مشک کا ٹپکنا۔
 اسْتَبَزَلُ۔ الشَّيْءُ۔ کسی شے کو کھونا۔ الخمر۔ شراب کو صاف کرنا۔
 البَزْلُ۔ سختی۔
 البَزْلُ۔ ایک قسم کا پاڑی بکرا۔
 البَزَالُ۔ برما۔ سوراخ کرنے کا اوزار۔
 البَزَالُ۔ شراب لے گئے کا سوراخ۔
 البازِلُ۔ تازہ پھوٹا ہوا دانت۔ تخریب کار آدمی۔ کہا جاتا ہے: رُحِي بِاَشْهَبِ بَازِلٍ۔ وہ سخت اور دشوار معاملہ میں الجھ گیا۔
 البَزَالَةُ۔ بڑی مصیبت، عمدہ رائے، کہا جاتا ہے: امْرَأَةٌ بَزَالَةٌ التَّائِيَةُ۔
 خِطَّةٌ بَزَالَةٌ صَافٌ اور واضح

طریق کار۔
 المَبْرُؤَلُ۔ شراب صاف کرنے کا آلہ۔ فطر۔ برنا۔
 رَجُلٌ تَبَزَلَةٌ۔ مرد کوتاہ قامت۔
 بَزَمَ دِن مَن، بَزَمًا۔ علیہ۔ آگے کے دانتوں سے کاٹنا۔ بالشَّيْءِ۔ کسی شے کو اٹھانا۔ فلانًا ثوبہ۔ کسی کے کپڑے پھین لینا۔ النَّاَقَةُ۔ اونٹنی کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دوہنا۔ وَتَوَالِقُوسٍ۔ کمان کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کھینچ کر چھوڑنا۔
 البَزِيحُ۔ کھجور کی چھال یا پتہ، جس سے ترکاری کا منہ باندھا جائے۔
 المَبْرُؤَمُ۔ دانت۔
 بَزَمَخَةٌ بَزَمَخَةٌ۔ مگر کرنا۔
 بَزَادِنٌ، بَزَوًا۔ علیہ۔ کسی پر دراز دستی کرنا۔ رَبَزَاةٌ وَابْزَاةٌ وَابْزِي بَه، کسی پر غالب آنا۔ وَرَبَزَاةٌ بَزِي يَبْزِي بَزَاةً وَابْزِي (ابْزَاءٌ) ابھرے ہوئے سینے اور دہنی ہوتی پیٹھ والا ہونا۔ صفت (ابْزِي)، مؤنث بَزَوَاعٌ۔
 تَبَازِي۔ باز سے مشابہت رکھنا۔ سُرِينِ اٹھا کر ملاتے ہوئے چلنا۔
 البَزْوُ۔ مثل ونظير۔
 البَزِي۔ دودھ پیتا بچہ، کہا جاتا ہے۔
 ”هُوَ بَزَقِي“ وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔
 البَزَاءُ۔ شخی، ڈینگ۔
 المَبَازُ وَالمَبَازِي۔ باز۔
 بَسَّ دِن، بَسًّا وَابْسًا۔ الابل۔ اونٹ کو زری سے ہلکنا۔ اور بس بس کہنا۔
 بَسَّ المَالِ فِي البَلَادِ۔ مال کو ملک میں پھیلادینا۔ بَسَّ السَّوِيْقِي بَسًّا

کو گھی یا زیتون کے ساتھ ملانا۔ بَسَّ القَوْمَ عَنْهُ۔ لوگوں کو دھتکار دینا۔
 ابْسٌ۔ بالناقاة۔ دوہنے کے لیے اونٹنی کو چکارتا۔
 ابْسٌ۔ زمین پر پانی کا بہنا۔ ایک طرف بٹنا۔
 البَسُّ وَالبِسُّ۔ بِلَا۔ کوشش۔ ج۔ بَسَّاسٌ۔
 البَسِيْسُ۔ تھوڑا کھانا۔
 البَسِيْسَةُ۔ گھی یا زیتون میں بلا ہوا آٹا یا سٹو۔
 البَسُوسُ۔ وہ اونٹنی جو بغیر بس بس کئے کے دودھ نہ دے۔ ج۔ بَسُوسٌ۔
 بَسُّ بَسٌّ وَبَسُّ بَسٌّ۔ بکریوں اور اونٹوں اور بٹیوں کے بلانے یا دھمکانے کا کلید۔
 بَسْبَسٌ۔ بِالْقَتْمِ وَالْاِبِلِ۔ بکریوں یا اونٹوں کو بس بس کہہ کر بلانا۔ بہ۔ کسی سے بس کہنا، یعنی کافی ہے۔
 البَسْبَسُ۔ بے آب و گیاہ زمین۔ یا بان ج۔ بَسَابِسٌ۔
 رُحَاتُ البَسَابِسِ وَالتَّزَاهَاتُ البَسَابِسُ۔ باطل اور جھوٹی باتیں۔
 البُسْتَانُ۔ باغ۔ ج۔ بَسَاتِيْنٌ۔
 البُسْتَانِيُّ۔ باغ والا۔ باغبان۔
 البُسْتَانِيُّ۔ مِثْلُ البَهَاتِ، باغ میں لگائے ہوئے پودے، گہرا پتہ دیکھی، کے خلاف۔
 بَسَّت دِن، بَسًّا۔ چلنا، کشادہ قدم رکھنا۔ دوڑنے میں سہقت کرنا۔
 البَسْتِقُ۔ خادم۔
 البَسْتُوْقَةُ۔ مٹی کا مرتبان۔
 بَسْرٌ دِن، بَسْرًا وَبَسْرًا۔ جلدی کرنا۔ غالب آنا۔
 وَابْسَرَ القَرْحَةَ۔ زخم سے مواد نکال کر پٹی

<p>گھڑینا۔ البشاک۔ بڑا چھوٹا۔ بیشم رس، بیشما۔ من الطعام۔ بد معنی ہونا۔ من الشئ۔ کسی چیز سے اکتا مانا۔ صفت بیشم۔ ابشمة۔ الطعام۔ خداک کا بد معنی پیدا کرنا۔ البشام۔ ایک خوشبودار درخت، جس کی کڑی سے خلال بنایا جاتا ہے۔ اس کا واحد بشامہ ہے۔ دوا فروش۔ اسی کے بیج کو حب بلسان کہتے ہیں۔ بص رض، بصیضا د بضا۔ چمکنا۔ جگمگانا۔ الماء۔ پانی کا رشنا۔ کہا جاتا ہے۔ بص بی بسیر۔ اس نے مجھے تھوڑا دیا۔ بصص۔ الجرو۔ بے کا آنکھیں کھولنا۔ الارض۔ روئیدگی اگنا۔ الشجر۔ کو نپل نکلنا۔ البصاصة۔ آنکھ۔ البصيص۔ چمک تک۔ بصيص بصيصه۔ یعنی بصص۔ وتبصيص۔ الکتب۔ کتے کا دم ہلانا ۔ فلان۔ چا پوسی کرنا۔ بصرون وبصردس، بصرا و بصارة۔ وہ وہ۔ کسی چیز کو جاننا۔ ویکھنا۔ بصرون، بصرا۔ الشئ۔ کا لٹنا۔ بصرا۔ الامر۔ کسی کو کوئی کام بھیجنا۔ وبصرو۔ بصرہ میں آنا۔ الجرو۔ بے کا آنکھیں کھولنا۔ باصر۔ الشئ۔ کسی شے کو دور سے جانک کر دیکھنا۔ ابصرا۔ دیکھنا۔ بینا کرنا۔ الوجه۔ کسی کا بصرہ میں آنا۔ البصرا العلویق۔ راستہ کا واضح اور نمایاں ہونا۔</p>	<p>بأشرك النعيم۔ نعمتوں کا کسی پر ٹوٹ پڑنا اور امانت آنا۔ المرأة۔ جاء کرنا۔ تبأشروا بالامر۔ ایک دوسرے کو کسی امر کی خوشخبری دینا۔ البشر۔ خندہ پیشانی، کشادہ روی۔ البشیر۔ خوش خبری پہنچانے والا۔ جہ۔ بشراء۔ البشارة حسن وجمال۔ البشارة۔ اترا ہوا چمڑہ۔ وہ عطیہ جو بشارت دینے والے کو دیا جائے۔ البشر۔ انسان (مذکورہ ٹوٹ وادو جمع) أبوالبشر۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی کنیت۔ البشرة۔ کھال کے اوپر کا رخ۔ گھاس پات۔ جہ۔ بشر۔ التبأشیر۔ خوشخبری۔ ہر شے کی ابتداء۔ البشوی۔ خوش خبری۔ المبشورات۔ باریش کی امید والے والی ہوائیں۔ بشع رس، بشعا وبشاعة۔ الشئ۔ بدمزہ ہونا۔ المرء۔ بد شکل ہونا۔ فلان بالامر۔ میں و تنگی میں ہونا۔ تبشع۔ بے مزہ ہونا۔ بدمزگی ظاہر کرنا۔ استبشعة۔ کسی کو بے مزہ پانا۔ یا سمجھنا۔ بشقة رض، وبشقة رس، بشقا۔ بالعصا۔ لاکھی سے مارنا۔ الباشق۔ ایک چھوٹا شکاری پرندہ۔ بشک دن من، بشکا۔ جلدی کرنا۔ الخبز۔ کسی خبر کو گھڑنا۔ الثوب کپڑے میں دو دو رنگ لگانا۔ فی عقلہ۔ کام بگاڑنا۔ ببشک۔ جھوٹ بولنا۔ الكلام۔ بات</p>	<p>وضع ہونا۔ بش رس، بشقا وبشاشة۔ ہنس مکھ ہونا خندہ پیشانی ہونا۔ لیشی۔ کسی چیز کو دیکھ کر فرحان و شادان ہونا۔ بالصدق دوست کو دیکھ کر خوش ہونا۔ صفت بش و ہاش و بشوش و بشاش۔ أبشمت الارض۔ نباتات کا کسی زمین میں شاخ درشاخ اور گنجان ہونا۔ آپس میں گتھ جانا۔ بش بش۔ الرجل۔ خوشی و مسرت کا اظہار کرنا۔ تبش بش۔ بہ۔ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا۔ المبشختة۔ چھوٹا صندوق۔ بشرون، بشرا۔ الجلد۔ کھال چھیلنا۔ الشارب۔ مونچھ مونچھ کر کھال ظاہر کرنا۔ الجراد الارض۔ بڑی کاساری زمین کی روئیدگی کو چر جانا۔ بش رض، وبشردس، والبشرو استبشرو۔ بہ۔ کسی شے سے خوش ہونا۔ أبشرت الارض۔ زمین کا اگانا کہا جاتا ہے۔ "بشرتی بوجه حسین"۔ یعنی وہ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملا۔ بشردہ۔ کسی کو خوش کرنا اور اس کو خوش خبری سنانا۔ البشارة۔ خوش خبری۔ جہ۔ بشارات و بشائر۔ بشائر الوجه۔ پاکیزہ خود خال۔ خوش روئی۔ بشائر الصبح۔ آغاز صبح۔ أبشر۔ فلانا۔ کسی کو خوش خبری پہنچانا۔ ۔ الامر و جھد۔ کام نے اس کے چہرہ کو حسین اور پر رونق بنا دیا۔ الشئ۔ کسی شے کو چھیلنا۔ بأشرو۔ الامر کسی کام کو خود سنبھالنا۔</p>
---	---	--

تَبَصَّرَ - المشي: کسی نے کسی طرف بصر خود
دیکھا۔ فی الشیء: کسی بات میں
سوچ بچار کرنا۔

تَبَاَصَّرُوا: کسی چیز کو دیکھنے میں مقابلہ
کرنا۔ ایک دوسرے کو دیکھنا۔
اِسْتَبْصَرُوا: الاصر: کسی کام کا ظاہر کرنا۔
اور آشکار ہونا۔ الاصر: ظاہر اور
آشکارا کرنا۔ ابھی طرح دیکھنا۔ فیہ۔
سوچ بچار کرنا۔ غور و خوض کرنا۔

البصير: قوت بصارت، آنکھ، علم۔ ج
البصار: کہا جاتا ہے: اَتَيْنَهُ بَيْنَ
سَمْعِ الارضِ وبصرها: یعنی میں
اس سے ایسے تنہا مقام پر ملا کہ صرف
زمین ہی میری بات سنتی اور مجھ کو
دیکھتی تھی۔

البصيرة: نرفرات ووجہ کے دو آئے کے
مغربی کنارہ پر ایک بستی کا نام ہے
بَصْرَتَان - بصرہ وکوفہ۔
والبصرة: سحت وکرت زمین پر پتھر پٹی
اور لیس دار زمین۔ ج۔ بَصَار۔

البصير: دانا، بینا۔ ج۔ بَصْرَاء۔
البصيرة: عقل، زیرک، عبرت، شاہد
حجت۔ کہا جاتا ہے: جوارحه
بصيرة عليه: یعنی اس کے اعضا
بدنی اس کے خلاف گواہ ہیں۔ و
فراستہ ذات بصيرة: پسی فراست
ج۔ بَصَائِر۔

الباصرة: آنکھ۔ ج۔ بَوَاصِر۔ کہتے ہیں
"خير العشاء بواصره" بہتر کھانا
وہ ہے جو تاریکی سے پہلے کھایا جائے۔
الباصر: چھوٹا گول پالان۔ ج۔ بَوَاصِر۔
البصر: کنارہ۔ روٹی، چھال۔ بَصْرُ
کُل شئ: موٹائی۔ حدیث میں ہے۔
"بَصْرُ كُلِّ سَمَاءٍ وَصَيْرَةٌ خَسْرٌ"
میانہ عام: ہر آسمان کی موٹائی

پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہے۔
المبصر والمبصرة: واضح اور کھلی
دلیل۔

المبصر: نگہبان، کہا جاتا ہے: رَجَبْتُ
عَلَى بَصْتَانِي مَبْصِرًا: میں نے
اپنے باغ کے لیے ایک نگہبان مقرر
کیا۔

بَصَعَةُ (ف): بَصْعًا: جمع کرنا۔ الماء
پانی کا بہنا یا رشنا۔
البصع: رات کا کچھ حصہ۔

البصع: بے وقوف، انگشت شہادت اور
بیچ والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ۔
البصع: بمعنی البصع۔

البصيع: جسم سے ٹپکنے والا پسینہ۔ ج
بَصْع۔

الابصع: احمق۔ یہ لفظ تاکید کے لیے بھی
لایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں: اَخَذْتُ
حَقِّي اَجْمَعُ البصع: مؤنث بَصْعَاء
ج۔ ابصعون وبصع۔ اجمع سے
پہلے اس لفظ کو لانا روا نہیں۔

بَصَقَ (ف): بَصْقًا: تھوکتا
البصاق: تھوک۔

البصقة: بلند سنگلاخ زمین۔ ج۔ بَصَاق۔
بَصَلَةٌ وَتَبَصَلَةٌ: مین ٹیباہ۔ کسی کے
کپڑے اتارنا۔

تَبَصَّلَ - القشر: چمکے کا موٹا ہونا۔
البصل: پیاز۔ واحد بَصَلَةٌ۔

البصلة: لوبے کا خود۔ کہتے ہیں: خَرَجُوا
كَأَنَّهُمُ الْأَصْلُ وَعَلَى رُؤْسِهِمُ
البصل: وہ نکلے گویا کہ وہ ڈسنے
والے سانپ ہیں جن کے سروں پر لوبے
کے خورد کئے ہیں۔ اصل اصلہ کی
جمع ہے جو ایک زہریلے سانپ کا
نام ہے۔

بَصَلُ الفار: جنگلی پیاز۔ کوئی کا ندہ، غلام اس

کو بَقِيْلَةٌ کہتے ہیں۔
بَصَمَ (ف): بَصْمًا: القماش: کپڑے پر
نشان لگانا۔

البصم: چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی
انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ ثوب ذو
بصم: موٹا کپڑا۔ رجل ذو
بصم: موٹا آدمی۔

البصمة: علامت۔
البصان والبصان: ماہ ربیع الآخر۔ ج
بُصَانَاتٌ وَابْصِنَةٌ۔

بَصَارِنٌ، بَصَوًا: عَرِيْمَةٌ: قرفدار سے
سب کچھ لے لینا۔
البصوة: چنگاری۔

بَصْرٌ (ف): بَصْرًا وَبَصْوَةٌ
موٹاپے کے ساتھ تیلی اور نرم کھال والا
ہونا۔ صفت رُبْعٌ وَبَاصٌ وَبَصِيْفٌ
مؤنث بَصْءٌ وَبَاصَةٌ وَبَصِيْفَةٌ۔
بَصْرٌ (ف): بَصْرًا وَبَصْوَةٌ وَبَصْفًا
الماء: پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔

الحجر: پتھر سے پانی کا رشنا، نخل
کے بارے میں کہتے ہیں: "فَلَانٌ مَا
يَبْصُقُ حَجْرًا: یعنی نخل کے سبب
فلاں شخص سے بھلائی نہیں مل سکتی۔

العين: آنکھ کا آنسو بہانا۔ کہا جاتا
ہے: "فَلَانٌ مَا تَبْصُقُ عَيْنُهُ: یعنی
وہ مہیبت پر بہت صابر ہے۔
او تَارُ العود: سارنگی کے تاروں کو
بجانے کے لیے حرکت دینا۔ کہہ
دینا۔

بَصْفًا وَبَصَافَةً: تھوڑا دینا یا تھوڑا پانی
دینا۔

البص: لہ: کسی کو تھوڑی سی چیز دینا۔
بَصْفٌ تَبْصِيْفًا: ناز و نعمت کی زندگی
بسر کرنا۔

ابتنق: القوم: قوم کو بالکل تباہ کر دینا۔

تَبَعَضَ - فَلَانًا. کسی سے سب کچھ لے لینا۔
 - حَقَّةٌ مِنْ فُلَانٍ - تَقَوُّرًا تَقَوُّرًا کر کے حق وصول کر لینا۔
 يَتَرَبَّضُونَ - کم پانی والا کنواں۔ ج
 بِضَاعٍ -
 الْبِضَاعُ وَالْبِضَاعَةُ - تَقَوُّرًا پانی۔
 الْبِضْ - مَوْتَانِي کے ساتھ نرم جسم اور پتلی کھال والا۔ مَوْتَانِي بَضْ -
 الْبِضَّةُ - کھٹا دودھ۔
 الْبِضِيضَةُ - پوری ملکیت۔ کہتے ہیں۔
 "أَخْرَجَتْ لَهُ بِضِيضَتِي" میں نے اپنی ساری ملکیت اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔
 الْبِضْرَةُ - رَائِيگان، اسی سے ہے "ذَهَبَ كَمَلَةٌ بِضْرًا مِضْرًا" اس کا خون رَائِيگان کیا۔
 بَضْعُ دَفٍ، بَضْعًا وَبَضْعًا - الشَّيْءُ - کاٹنا۔ نشتر سے چیرنا۔
 الْبِضْعُ - نشتر۔ ج۔ مَبَايِعُ -
 بَضْعُ دَفٍ، بَضُوعًا - الْكَلَامُ - کلام سمجھنا۔ الْكَلَامُ - کلام کا واضح ہونا۔
 مِنْ فُلَانٍ - کسی سے آگتا جانا تنگ دل ہونا۔
 الْبِضْعَةُ - الْكَلَامُ - کلام یا سمجھا دینا۔
 الْبِضْعُ - الشَّيْءُ - سرمایہ و پونجی بنانا۔
 تَبَضَّعَ وَاسْتَبِضَّعَ - سرمایہ لینا۔ الشَّيْءُ سرمایہ بنانا۔
 تَبَضَّعَ - الْعَرَقُ - پسینہ کا تَقَوُّرًا تَقَوُّرًا ہونا
 اسْتَبِضَّعَ - الرَّجُلُ الشَّيْءُ - کسی کے لیے سرمایہ مہیا کرنا۔
 اسْتَبِضَّعَ - كُنَّا - چیرا جانا۔ شُكَاةٌ دِیَا مَانَا
 بَاضِعٌ مَبَاضِعَةٌ وَبِضَاعًا - الْمَرْأَةُ جماع کرنا۔
 الْبِضَاعَةُ - تِجَارَتُ كَالسَّامَانِ - سرمایہ پونجی ج۔ بَضَائِعُ -

الْبَاضِعُ - لوگوں کے سامان اٹھانے والا۔
 کلٹنے والی تلوار۔
 الْاِبْضَعُ - مِنَ الرَّجَالِ - لاغز۔
 الْبِضْعَةُ وَالْبِضْعَةُ - گوشت کا ٹکڑا۔
 ج۔ بَضْعٌ وَبِضْعٌ وَبِضَاعٌ وَبِضَاعَاتٌ -
 الْبِضْعُ وَالْبِضْعُ - رات کا کچھ حصہ تین سے نو تک کی تعداد۔ کہا جاتا ہے بَضْعٌ سِینِیْنٌ وَبِضْعٌ عَشْرَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَبِضْعٌ وَعِشْرُونَ امْرَأَةً - اور مذکر کے لیے بَضْعَةٌ عَشْرَمِنْ الرَّجَالِ وَبِضْعَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا - لفظ بَضْعٌ کو پہلے لانا واجب ہے لہذا عِشْرُونَ وَبِضْعٌ نہیں کہہ سکتے۔
 بَضْعُ دَفٍ، بَضْعًا - الْزَّرْعُ - فصل کا موٹے دانہ والا ہونا۔
 الْبِضْعُ - ہال، خوشہ، نفس۔ کہتے ہیں "هُوَ كَرِيمٌ الْبِضْعُ" وہ کریم النفس آدمی ہے۔
 بَطَّانٌ، بَطَّاءٌ - الْجَوْحُ - زخم کو چیرنا۔
 بَطَّطٌ - عاجز ہونا۔ ٹھکنا۔
 الْبِطُّ - واحد الْبِطِّيَّةِ (بطخ۔ زہرہ) ہر دو کے لیے آتا ہے، ج۔ بَطُّوْطٌ وَبِطَّاطٌ -
 الْبِطَّةُ - بطخ کی شکل کی شیشی۔
 الْبِطُّ - ج۔ مَبَايِعٌ وَرِ الْبِطُّ، نَشْرٌ شُكَاةٌ لِكَاةِ الْاَلِ -
 الْبِطَّاطَةُ - آو۔
 بَطَّطٌ - الْبِطُّ - بط کا بولنا۔ پانی میں غوطہ لگانا۔ الرَّجُلُ - کسی کا کمرہ رائے والا ہونا۔
 بَطُّورٌ، بَطَّاءٌ وَبِطَّاءٌ وَبِطُّوْءٌ وَبِطُّوْءٌ -
 اَبْطَاءٌ - دیر کرنا۔ صفت رِبْطِيٌّ، مَوْتَانِي بَطِّيَّةٌ، ج۔ بَطَّاءٌ -

اَبْطَاءٌ وَبِطَّاءٌ - عَلَيْهِ بِالْاَمْرِ - کام کو مؤخر کرنا۔
 بَاطًا كَالْمِثْلِ كَرْنَا -
 تَبَطَّأَ وَتَبَطَّاءٌ - فِي سَبِيحِهِ - پتے میں تیغے رہنا۔ دیر لگانا۔
 اسْتَبَطَّأَ - کسی کو آہستہ پانا یا سمجھنا۔
 الْمِبْطَاطَةُ - تاخیر کا باعث و سبب۔
 بَطَّحَ دَفٍ، بَطَّحًا - پھیلانا۔ پھاننا۔ منہ کے بل کرنا۔
 بَطَّحَ - الْبَيْتُ - گھر میں کنکریاں بچھا کر اس کو ہموار کرنا۔
 تَبَطَّحَ وَابْطَاحَ وَاسْتَبَطَّحَ -
 الْوَادِي - وادی کا پھیلنا۔ کشادہ ہونا۔
 ابْطَاحَ - الرَّجُلُ - آدمی کا منہ کے بل کرنا۔
 الْبَاطِحُ - فَا - منہ کے بل کرنے والا۔
 الْبَطَّحَاءُ - ج۔ بَطَّاحٌ وَبِطَّاحٌ وَبَطَّاحَاتٌ وَرِ الْاَبْطَاحُ، ج۔ اَبَا بَطَّحٌ وَرِ الْبِطَّاحَةُ، ج۔ بَطَّاحٌ وَرِ الْبِطَّاحُ (الْبِطَّاحُ) کشادہ نالہ جس میں ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں۔
 الْبِطَّاحَةُ - قَدْرًا قَامَتْ، مَسَافَتْ -
 الْبِطَّاحَةُ - خِصْلَتٌ، عَادَةٌ، كَمَا جَاءَتْ فِي "هَذِهِ بَطَّاحَةُ صِدْقٍ"
 الْبَطَّاحُ - بِنَا سے پیدا ہونے والی ایک بیماری جو برسام سے مشابہ ہوتی ہے۔
 اور اسی سے ہے رِ الْبِطَّاحَةُ (حقی) بَطَّحَ دَفٍ، بَطَّحًا - مَالًا -
 اَبْطَاحَ - بہت غریبوں والا ہونا۔
 الْبِطَّاحَةُ - خَرْبُوزَةٌ - خَرْبُوزِے کی پھل۔ واحد بَطَّاحَةٌ -
 الْمِبْطَاحَةُ - خَرْبُوزِے کی فالیز۔ ج۔ مَبَايِعٌ -
 بَطَّحَ دَفٍ، بَطَّحًا - چیرنا۔ شُكَاةٌ دِیَا مَانَا صفت مَعْوَلٌ رَمْبُورٌ وَبِطَّاحٌ، بَطَّحَ دَفٍ، بَطَّحًا - زیادہ نعمت میں بڑا کر اترانا۔ بیک جاننا۔ الْحَقُّ - تکبر

البَطْمُ والبَطْمُ - بن - بن کا پھل۔
بَطْنٌ (ن) بُطْنًا و بَطْنًا - پرشیدہ اور
چھپا ہوا ہونا۔ صفت (باطن)
بَطْنٌ (ن) بَطْنًا - الوادی - وادی میں
داخل ہونا۔ کَوْلَةٌ - پیٹ پر مارنا۔
بَطْنٌ الاَصْرُ - کسی کی بات کی تہہ
تک پہنچنا۔ بُطُونًا و بَطَانَةٌ -
یَفْلَانٌ و مَنهُ - کسی کے خواص میں
سے ہونا۔

بَطْنٌ (ن) بَطْنًا و بَطْنٌ (ن) بَطَانَةٌ
بڑے پیٹ والا ہونا۔ توند والا ہونا۔
صفت (بطن) و بَطْنٌ و مَبْطَانٌ،
بَطْنٌ بَطْنًا - پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا
صفت (مَبْطُونٌ)
بَطْنٌ و اَبْطَنٌ - الشوب - کپڑے میں
استر لگانا۔ الدَابَّةُ - جانور پر
تنگ کنا۔

اَبْطَنٌ - الشیء - کسی چیز کو چھپانا۔
بَا طَنَةٌ - سرگوشی کرنا۔ دوستی کرنا۔
تَبَا طَنٌ - المکان - مکان کا دور ہونا۔
تَبَطَّنٌ و اَسْتَبَطَنٌ - الشیء - اندر داخل
ہونا۔ الاَصْرُ - بات کی تہہ تک پہنچنا۔
البَطْنُ - پیٹ - ہر چیز کا اندرونی حصہ۔
بَطْنُ الارضِ - زمین کا پست و نشیبی
حصہ۔ مِنَ الْقَوْمِ - قوم کا وہ گروہ
جو قبیلہ سے کم ہو۔ ج - بَطُونٌ و
اَبْطَنٌ و بَطْنَانٌ - کہا جاتا ہے۔
"الْقَتِ الدَّجَا جَتَا اَبْطَنَهَا" مرغی
نے اٹھ دیا۔ و صَا حَتْ عَصَا فِیْرِ
بَطْنَهٗ - وہ بھوکا ہوا۔

البَطْنُ - پیٹ کی بیماری۔
البَطْنُ - حویلی، جس کا نصب العین صرف
پیٹ ہو۔
البَطْنَةُ - دُبر۔
البَطْنَةُ - بسیار خوری کے سبب بہت

تیز رفتار ہے۔
بَا طَشٌ - ایک دوسرے کو سختی سے پکڑنا۔
الْاَبْطَعُ - وہ شخص جس کے پیچھے کے سامنے
والے دانت گر گئے ہوں۔
الْبَطَاقَةُ - خط، پرچہ، پُرزہ، - بَطَاقَةٌ
الشوب - کپڑے پر رنگی ہوئی چٹ،
جس میں کپڑے کی قیمت وغیرہ لکھی ہوتی
ہے۔ ج - بَطَائِنٌ۔

بَطَلٌ (ن) بَطْلًا و بَطُولًا و بَطْلَانًا -
خراب ہونا۔ بے فائدہ ہونا۔ بیکار
ہونا۔ صفت (باطل) بَطَالَةٌ فِی
كَلَامِهِ - تمسخر کرنا۔ الفَاعِلُ مِنَ
العَمَلِ - معطل ہونا۔ بے کار ہونا۔
صفت (بَطَالٌ)
بَطَلٌ (ن) بَطَالَةٌ و بَطُولَةٌ - دلیرو
بہادر ہونا۔ صفت (بَطَلٌ) ج -
اَبْطَالٌ - مُؤَنٌ بَطْلَةٌ - ج -
بَطَلَاتٌ۔

بَطْلَةٌ - کسی کو باطل کرنا۔ بیکار کرنا۔
اَبْطَلٌ - باطل کام کرنا۔ صفت (مَبْطَلٌ)
- الشیء - چیز کو ضائع کرنا۔ باطل کرنا۔
- الرجلُ - تمسخر کرنا۔
تَبَطَّلٌ - شجاع بننا۔ بیکار رہنا۔ کہا جاتا
ہے "تَبَطَّلُوا بَيْنَهُمْ" انھوں نے
آپس میں لغو و باطل کام کیے۔

الْبَطَالَةُ - بیکاری۔ کام سے فراغت۔
الْبَطَالَةُ - بہادری۔
الباطل - نا حق، بے اصل۔ ج -
اَبَا طِيلٌ - شیطان۔ جادوگر۔ ج -
بَطْلَةٌ۔

البطل - باطل، جھوٹ، کہا جاتا ہے۔
"ذَهَبَ دَمُهُ بَطْلًا" اس کا خون
رائیگاں گیا۔
البَطَالَاتُ - لغویات۔ فضولیات۔
الْاَبْطَالَةُ و الْاَبْطُولَةُ - باطل۔

کے سبب حق کے قبول کرنے سے انکار
کرنا۔ الشیء - پسندیدہ شے کو
نا پسند کرنا۔ النُحْمَةُ - جل و تکر سے
نعمت کو حقیر جاننا اور اس کا شکر
بجائے لانا۔ صفت (بَطْرٌ)
اَبْطَرَهُ - دہشت میں ڈالنا۔ ناشکر گزار
بنانا۔ کہتے ہیں "اَبْطَرَهُ ذَرَعَهُ"
یعنی اس پر اس کی طاقت سے زائد
لا دویا۔ ذَرَعَةُ اَبْطَرَهُ کِ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ
سے بدل اشتغال ہے۔

بَطْرًا - بے کار۔ رائیگاں۔ کہتے ہیں۔
"ذَهَبَ دَمُهُ بَطْرًا" اس کا خون
رائیگاں گیا۔

بِطْرٌ - الدَابَّةُ - جانور کا علاج کرنا۔ نعل
بندی کرنا۔ صفت (بَطْرٌ و بَطِيرٌ و
بِطْرٌ) ج - بِيَا طْرَهُ -

الْبِطْرَةُ - سالوتری کا پیشہ۔
الْبِطْرِيُّ - زبان دراز۔ بہت چمکنے والا۔
مُؤَنٌ بَطْرِيَّةٌ

البطرشيل و البطرشين - ایک قسم
کا لمبا کپڑا جس کو کاہن ڈیوٹی اور
خدمت کے وقت استعمال کرتے ہیں۔
الْبَطْرِيُّ - رومی فرج کا جنرل۔ ج - بَطَارِقٌ
و بَطَارِيقٌ و بَطَارِقَةٌ۔

البطارق - لمبا۔
الْبَطْرِيكُ و الْبَطْرِيكُ و الْبَطْرِيكُ
پادریوں کا سردار۔ پیشوا۔ عیسائیوں
کے کسی گروہ کا سردار۔ ج - بَطَارِكَةٌ
و بَطَارِيقٌ۔

بَطَشٌ (ن) بَطَشًا - بے یک بیک
کسی کی سخت گرفت کرنا۔ علیہ۔
کسی پر حملہ کرنا۔ ٹوٹ پڑنا۔ صفت
دَبَا طَشٌ دَبَطَاشٌ و بَطِيشٌ کہتے
ہیں "فَلَانٌ يَبْطِشُ فِی الْعِلْمِ يَبَا عِ
بَسِيطًا" فلان علم سیکھنے میں بہت

<p>جماعت۔ ج۔ بُعُث و بُعُوث۔ اباعُوث۔ عیسائیوں کی اصطلاح میں استسقاء کی نازد کلمہ سر یا نیر الباعِثُ والباعِثَةُ۔ باعث، سبب۔ ج۔ بَوَاعِثُ۔ البُعُوثُ والبُعُوثُ۔ بھیجا ہوا۔ بَعَثَهُ بَعَثَرًا۔ بکھیرنا۔ المتاع۔ سامان کا اٹھانا پلٹانا۔ تَبَعَثَهُ۔ الٹ پلٹ ہونا۔ کہتے ہیں: تَبَعَثَتْ نَفْسِي۔ یعنی میری طبیعت میں بگاڑ ہو کر متلی ہونے لگی۔ بَعَجَرُ (ف) بَعَجًا۔ البَطْنُ۔ پیٹ پھالانا پھینا۔ صفت (باعجر) صفت معنوی (مَبْعُوجٌ و مَبْعُوجَةٌ) بعیجہ مذکورہ مؤنث ہر دو کے لیے آتا ہے۔ ج۔ بَعَجِيٌّ۔ الارضُ آبًا۔ زمین میں بکثرت کنوئیں کھودنا۔ المَطَرُ الارضُ۔ بسبب کثرت و شدت بارش کا زمین کے پتھروں کو نکالنا۔ تَبَعَجَرُ و التَّبَعَجَرُ۔ بادل کا برس کر کھل جانا۔ التَّيْلُ۔ سیلاب کا شتابی سے ہونا۔ علی بالکلام۔ بکثرت ہونا۔ المَبَاعِجَةُ۔ واوی کا فراخ حصہ۔ ج۔ بَوَاعِجِرُ۔ بَعَدَ (ك) بَعْدًا و بَعْدًا (م) بَعْدًا۔ دور ہونا۔ ہلک ہونا، حزن۔ صفت (بَاعِدٌ)۔ بَعْدًا و بَعْدًا مفرد و جمع ہر دو کے لیے و بَعْدًا ج۔ بَعْدًا و بَعْدًا و بَعْدًا۔ اَبْعَدُ۔ دور ہونا اَبْعَدًا و بَعْدًا و بَاعِدًا، دور کرنا۔ تَبَعَدُ۔ دور ہونا۔ تَبَاعَدُوا۔ ایک کا دوسرے کو دور کرنا۔ تَبَاعَدُوا و اَبْعَدُوا و اُسْتَبْعَدُوا۔ کسی سے دور ہونا۔ اُسْتَبْعَدُوا النُّعَى۔</p>	<p>البَطْرُ۔ انگوٹھی۔ البَطْرُ۔ رائیگاں۔ کہا جاتا ہے: ذَهَبَ دَمُهُ بَطْرًا۔ اس کا خون رائیگاں گیا۔ المَبَطْرُ۔ ختمہ کرنے والا۔ بَعَثَ (م) بَعَا۔ الماءُ۔ پانی کا بکثرت بہانا۔ البَعَا۔ سامان۔ بادل میں بہا ہوا پانی جو ابھی نہ برس سہا ہوا۔ کہا جاتا ہے: اَلْقَى السَّحَابُ بَعَاً۔ یعنی بادل نے سارا پانی برسا دیا۔ المَبْعُوثَةُ۔ تیز اور مسلسل کلام۔ البَعَايَةُ۔ فقراء جن کے پاس کچھ بھی مال و جائداد نہ ہو۔ بَعَثَهُ (ف) بَعَثًا و تَبَعَثًا۔ تنہا بھیجنا۔ بہ۔ دوسرے کے ساتھ بھیجنا۔ كَا بَرًا لِكَيْ يَكْرَهُنَّ۔ اُبھارنا۔ کہا جاتا ہے "بَعَثَهُ مِوَنَ نَوِيهًا"۔ اس نے اس کو نیند سے جگایا۔ "بَعَثَهُ عَلَيَّ الشَّيْءُ"۔ اس نے اس کو کسی کام کے لیے اکسایا۔ المِهِيْتُ۔ اٹھانا۔ دوبارہ زندہ کرنا۔ چنانچہ يَوْمَ الْبَعْثِ اسی سے ہے۔ یعنی دوبارہ اٹھنے کا دن۔ تَبَعَثَ الشَّيْءُ۔ کسی شے کا تیزی سے نکلنا ظاہر ہونا۔ الشَّيْءُ مَنَدًا۔ شعر کی آمد ہونا۔ تَبَاعَثُوا۔ عَلَيَّ الشَّيْءُ۔ بعض کا بعض کو کسی کام پر اکسانا۔ اَبْعَثَ۔ بھیجا جانا۔ تیزی سے ظاہر ہونا۔ فِي السَّيْرِ۔ چلنے میں جلدی کرنا۔ اَبْتَعَثَهُ۔ بھیجا۔ البَعْثُ و البَعَثُ۔ فوج۔ ہر وہ جماعت جسے کہیں بھیجا جائے۔ ج۔ بَعَثُ و بَعُوثُ۔ البَعْثُ و البَعَثُ۔ وہ جس کے غم اس کو نیند سے بیدار رکھیں۔ فوج بھیجی ہوئی</p>	<p>شکم پڑی۔ البَطَانُ۔ ج۔ اَبْطِنُ و بَطْنُ۔ تنگ جس سے جانور کا پالان کسا جاتا ہے۔ ایک کپڑا جو گھوڑے پر اس کو مکھیوں سے بچانے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: فُلَانٌ عَوِيضُ البَطَانِ۔ یعنی فلاں غنی اور خوشحال ہے۔ و التَّقَاتُ خَلَقْنَا البَطَانَ۔ معاطہ سخت ہو گیا مصیبت سنگین ہو گئی۔ بَطَانَةٌ۔ الثوبُ۔ کپڑے کا استر۔ الرجلُ۔ آدمی کے اہل و عیال اور خواص۔ بھید۔ ج۔ بَطَائِنُ۔ البَاطِنُ۔ ہر شے کا اندرونی حصہ، پوشیدہ ۔ مِنَ الارضِ۔ زمین کا پست حصہ ۔ مِنَ القَدَمِ۔ پاؤں کا تلو۔ ج۔ اَبْطِنَةٌ و بَطْنَانُ۔ البَاطِنَةُ۔ بھید۔ البَطِينُ۔ دور۔ کہا جاتا ہے: شَاؤُ بَطِينٌ۔ مسافت بعیدہ۔ "كَيْسٌ بَطِينٌ"۔ تعمیلی بھری ہوئی۔ البَطِينُ۔ چاند کی منازل میں سے ایک منزل کا نام۔ المَبَطْنُ۔ پتلے اور چکے ہوئے پیٹ والا۔ المَبَطْنَةُ۔ ایک قسم کی کشتی۔ البَاطِيَّةُ۔ شراب کے لیے شیشہ کا برتن ج۔ بَوَاعِطُ۔ بَطْرُنُ، بَطْرًا۔ العودُ۔ سازنگی کے تاروں کو بجانے کے لیے حرکت دینا۔ اَبْطًا۔ الرجلُ موٹا ہونا۔ صفت بَطِيظٌ۔ البَطُّ۔ قَطُّ کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے۔ "هُوَ قَطُّ بَطُّ"۔ وہ سخت مزاج و تند خو ہے۔ بَطْرُوسُ، بَطْرًا۔ الرجلُ غیر محتون ہونا۔ صفت اَبْطَرُ۔ ج۔ بَطْرُ۔ مؤنث بَطْرَاءُ۔</p>
---	--	--

کسی چیز کو دور پانا یا سمجھنا۔
 البعد والبعد والبعد کا دوری۔
 بوشیاری۔ بعداً الہ۔ بدو کا ہے
 یعنی اللہ اس کو ہلاک کرے، یا اپنی
 رحمت سے دور کرے۔

البعد۔ بعید کے مانند صفت ہے۔
 بعد۔ پیچھے۔ بعد ازاں۔ یہ ظرف زمان
 ہے۔ اور مضاف ہو کر آتا ہے اس
 کا مضاف الیہ اگر محذوف ہو تو یہ
 بنی برصمہ ہوتا ہے یا منصوب بہ
 تخرین۔ کتے ہیں۔ بعد و بعد و
 من بعد۔

الأبعد۔ بہت دور۔ خاتن۔ ج۔ آبا بعد۔
 رجلٌ (مُبعِدًا) دور دراز کا سفر کرنے
 والا۔

بعردس، بعردا۔ الجمل۔ اونٹ کا نو
 سال یا چار سال کا ہونا۔
 بعردون، بعردا۔ میٹنی کرنا۔
 بعرد۔ المصی و البعرد و تبعردہ۔ انگری
 میں سے میٹنی نکالنا۔

البعرد والبعرد۔ ج۔ البعار۔ میٹنی۔ واحد
 وبعردی۔ ج۔ بعرات۔
 البعیر۔ نو سالہ یا چار سالہ اونٹ یا اونٹنی
 ج۔ بعوان و البعیر۔ و جج۔
 آبا بعد و آبا بعد۔

المبعرد والمبعرد۔ میٹنی نکلنے کی جگہ۔
 بعردہ، بعردہ۔ ہالندہ کرنا۔ بکینا۔
 بعین۔ الرجل۔ کسی کا پھروں سے ستایا
 جانا۔ صفت (مبعون)
 بعینہ۔ حصے بنانا۔ الگ الگ جوڑ کرنا۔
 تبعین۔ جوڑ جوڑ ہونا۔

أبعین۔ المكان۔ کسی جگہ بکثرت پھر ہونا
 صفت (مبعون)
 بعین۔ الشی۔ کسی چیز کا ایک جوڑ یا
 حصہ۔ کبھی ایک فرد کے معنی بھی دیتا

ہے۔ جیسے کہتے ہیں: بعین اللہالی؛
 راتوں میں سے ایک رات۔ ج
 أبعاص۔

البعوض۔ مچھر۔ واحد (بعوضۃ)
 بعطرف، بعطا۔ فی الجمل والشوم۔
 مبالغہ کرنا۔ زیادتی کرنا۔ النجوان۔
 جانور کو ذبح کرنا۔

أبعط۔ فلان۔ کسی کا اپنی قدر سے بڑھ
 جانا۔ الرجل۔ کسی کو اس کی طاقت
 سے زیادہ تکلیف دینا۔ فی الجمل
 جمالت میں زیادتی کرنا۔

بعق دفن، بعاقا۔ المظرو الارض
 بارش کا زمین کو شق کر دینا۔ ترخا دینا
 دراڑیں پیدا کر دینا۔ بعقا۔ الجمل
 اونٹ ذبح کرنا۔ الپتور۔ کنواں
 کھودنا۔

بعق۔ الیقی۔ مشک بھاڑ دینا۔
 تبعق۔ والتبعق و البعق۔ فی الکلام۔
 کلام شروع کرنا۔ السحاب۔ ہاول کا
 زور سے برستا۔

الباعق۔ مؤذن۔
 البعاق۔ تیز سے والا ہاول۔ بیخ۔
 قبعق۔ المغانة۔ بیابان کی فسارخ
 دکشاہ جگہ۔

البعق والبعق۔ پست شد۔
 والبعق۔ گہری کی گولی۔
 بعق رس، بعقا۔ الجسم۔ جسم کا
 سخت اور کھردرا ہونا۔

الباعک۔ بیوقوف۔
 بعقوۃ۔ النایس۔ لوگوں کے جمع ہونے
 کی جگہ۔ الصیف۔ موسم گرما کی
 گرمی۔ الفسق۔ فساد کا درمیان۔

بعل دن، بعالة وبعولة۔ الرجل
 للمراة۔ شوہر ہونا۔ خاوند بننا۔
 بعلت المراة۔ خاوند والی ہونا۔

بعل رس، بعلا۔ بامبرہ۔ اپنے معاملہ میں
 حیران و متعجب ہونا۔ صفت (بعول) مؤنث
 بعلة۔

تبعلت المراة۔ بیوی کا خاوند کی اطاعت
 و فرمانبرداری کرنا۔

باعل۔ القوم قوماً۔ ایک قوم کا دوسری
 قوم میں شادی بیاہ کرنا۔ رشتہ ناکرنا۔

استبعل۔ المكان۔ کسی زمین کا بارانی
 ہونا۔ الرجل للمراة۔ شوہر و
 خاوند ہونا۔

البعل۔ ج۔ بعول وبعال وبعولة
 شوہر، خاوند، بیوی کو بعل بھی کہتے
 ہیں اور بعلة بھی۔

البعل۔ مالک، سردار۔ کہتے ہیں یہ من
 بعل هذه الناقة؛ اس اونٹنی
 کا مالک کون ہے اور اس معنی کو پیش
 نظر رکھتے ہوئے کنعانی اور دیگر بت
 پرست اپنے معبودوں کو بعل کہا
 کرتے تھے۔ البعل من الارض۔
 بارانی زمین۔

بعکبک۔ ملک شام میں ایک شہر ہے جس
 کے آثار قدیمہ آج تک مشہور ہیں۔
 نسبت کے لیے بعکبکی و بعلی
 کہتے ہیں۔

بعاتبی وبعو، بعوا وبعی یعنی بعیا
 جرم وخطا کا مرکب ہونا۔ ہ بالعین
 کسی پر نظر بد لگانا علیہم الفسق۔
 لوگوں پر فساد و برائی بپا کرنا۔ الشی
 کسی چیز کو مستحار لینا۔

بعردن، بعوا۔ الدّم۔ خون کا جو شش
 میں آنا۔

بعیغہ، بعیغہ۔ البساط۔ فرش روزنا۔
 البعیغہ۔ غیر واضح کلام کرنے والا۔
 جلد ہار۔

بعفہ دن، بعفا و باعفا۔ کسی کے پاس

الْبَقْعُ - توڑتے وقت گری ہوئی کھجوریں۔
 متفرق جماعت۔
 الْبُقَاظ - پتیر کا ٹکڑا۔
 الْبُقْعَةُ - زمین کا ایک حصہ۔
 بَقَعُ دَسٌ، بَقَعَا - الطير - پندہ کا مختلف رنگ والا ہونا۔ صفت رَابَعٌ، مؤنث بَقَعَاو - ج. بَقَعٌ - فلان بالشئ کسی کا کسی چیز پر اکتفا کرنا۔
 بَقَعُ رَنٌ، بَقَعَا وَبَقَعٌ - جاننا۔ کہتے ہیں "مَا أَدْرِي أَيْنَ بَقَعٌ" میں نہیں جانتا، وہ کہاں چلا گیا۔
 بَقَعٌ - الثوب - کپڑے کو رنگتے وقت اس میں سفید سفید داغ چھوڑ دینا۔
 تَبَقَعَتِ الْبُقَاظُ - کپڑوں کا ہیک کر جگہ جگہ سے گیا ہونا۔
 بَقَعٌ - تیز جانا۔
 أَبْقَعَهُ - لونہ - خون یا رنج سے رنگ متیر ہونا۔ اَمْقَعَهُ - میم سے فصیح تر ہے۔
 الْبُقْعَةُ وَالْبُقْعَةُ - قطع زمین۔ ج. بَقَاعٌ وَبُقْعٌ - کہتے ہیں: فلانٌ حَسَنُ الْبُقْعَةِ عِنْدَ الْأَمِيرِ یعنی فلان امیر کے حضور میں اچھا مرتبہ رکھتا ہے۔ وَالْبُقْعَةُ - پانی جمع ہونے کی جگہ۔ واد۔
 الْبُقْعِيُّ - مختلف درختوں کی جڑوں والی زمین۔
 ابْنُ بَلْعِجٍ - کتا۔
 الْبَاقِعَةُ - باق کا مؤنث، ایک قسم کا پندہ، وہ نہرک شخص جن کو فریب نہ دیا جاسکے۔ ج. بَقَاعٌ - کہتے ہیں۔
 "مَا فَلَانٌ إِلَّا بَاقِعٌ مِنَ الْبُقَاظِ" فلاں بڑا مالک ہے۔
 الْأَبْقَعُ - سیاہ سفید داغوں والا مؤنث بَقَعَاو - ج. بَقَعٌ - سَنَةٌ بَقَعَاو

سبز و خشک سالی والا سال۔
 الْأَبْقَعُ - وہ سال جس میں بارش کم ہو۔
 بَقَعُ رَنٌ، بَقَعَا وَبَقَعَاو - الظل - ظاہر ہونا۔ ناب البعير - اونٹ کے کیلے نکلا۔ المكان - کسی جگہ ترکاری یا سبزی اگ آنا۔ صفت رَابِعٌ وَبَقَعٌ - وجه الغلام - چہرے پر سبز نکل آنا۔
 بَقَعٌ - لمعيرہ بَقَعَا - اپنے اونٹ کے لیے ساگ پات جمع کرنا۔
 وَأَبْقَعُ الْقَوْمُ - لوگوں کا سبزی پانا۔ یا لوگوں کے موشیوں کا سبزی چر جانا۔
 بَقَعٌ - وجه الغلام - لٹکے کے چہرے پر سبز کا آغاز ہونا۔
 تَبَقَعُ وَابْتَقَعُ - سبزی کی طلب میں نکلا۔
 الْمَائِيَّةُ - مریخی کا سبزی چر جانا۔
 الْبَقْعُ - سبزی ترکاری۔ ج. بَقَعٌ وَابْقَالٌ -
 الْبَقْعَةُ - بقل کا واحد۔ بَقْعَةُ الْحَمَقَاءِ وَبَقْعَةُ الزُّهْرَاءِ وَبَقْعَةُ الْبَيْتِ -
 خرفہ کا ساگ۔
 الْبَقْعَةُ الْبَارِدَةُ - عشق پیچہ۔
 بَقْعَةُ الْأَنْصَارِ - کرم کلمہ۔
 الْبَاقِعُ وَالْبَاقِعِيُّ وَالْبَاقِعِيُّ - لوبیا۔
 اَرْضٌ رَبْعَةٌ وَبَقْعَةٌ وَبَقَاعٌ -
 مَبْقَعَةٌ - سبزی والی زمین۔
 الْبَقَالُ - سبزی فروش۔
 الْمَبْقَعَةُ - سبزی کی جگہ۔
 الْبُقَاظُ وَالْبَاقِلُ - بے دست والا کونہ مٹی کی دو ات۔ ج. بَقَاوِيلٌ -
 بَقَعُ الثَّوْبِ - کپڑے کو بقم سے رنگنا۔
 الْبَقْعُ - ایک قسم کی کڑوی جو کپڑے رنگنے میں کام آتی ہے۔
 الْبُقْعُ - دھڑا۔
 الْبُقَامَةُ - من الصوف - کاتنے کے کام

میں نہ آنے والی روٹی جو دھننے وقت گرجاتی ہے، کمزور، کم عقل آدمی۔
 بَقَادٌ، بَقَاوَةٌ وَبَقِي رَضٌ، بَقِيًّا - فلاں بے عیب نہ۔ کسی کی طرف دیکھنا۔ کسی کا انتظار کرنا۔
 بَقِي رَضٌ، بَقَاءٌ وَبَقِي رَضٌ، بَقِيًّا - ہمیشہ رہنا ثابت رہنا۔
 أَبْقَى - علیہ کسی پر رحم کھانا کسی پر مہربانی کرنا۔ وَرَبْقِي وَتَبْقِي وَاسْتَبْقِي، ثابت کرنا۔ باقی رکھنا۔ اسْتَبْقِي - صنہ - کچھ حصہ چھوڑ دینا۔
 تَبْقِي - یعنی بقی۔
 الْبَاقِي - فا۔ خدائے تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔
 الْبَاقِيَّةُ - باقی کا مؤنث۔ ج. الْبَاقِيَّاتُ وَالْبَاقِيَّةُ -
 الْبَقْوِيُّ وَالْبَقْوِيُّ وَالْبُقْيَا وَالْبُقْيَةُ - باقی رہا ہوا۔ باقی ماندہ۔ ج. بَقَايَا - کہتے ہیں: فلانٌ بَقِيَّةٌ قَوْمُهُ فَلَانٌ اپنی قوم کا چیدہ شخص ہے۔
 الْمَبْقِيُّ - بقا، رنگ۔ ج. الْمَبْقِيُّ - بَقْعَةُ دِنٌ بَقَا - مزاحمت کرنا۔ اَطْعَمَ بَقَاوَتًا - لیس کرنا۔ الدَابَّةُ - جانور کو چلا کر تھکا دینا۔ بَقْعُ الرَّجُلِ - کسی کا محتاج ہونا۔
 تَبْقَالٌ - الْقَوْمُ - لوگوں کا بچ کرنا۔ بَقْعُ كَرْنَا - الشئ - چیز کا تیسرا حصہ ہونا۔
 الْبَقَالِيُّ - اجمع۔ بے وقوف۔
 بَقْعٌ - مکہ مظلوم۔
 بَقْعٌ وَتَبْقَالٌ - الْقَوْمُ - عليم۔ لوگوں کا کسی پر ہجوم کرنا۔ ج. بَقْعَالٌ - بہت بھلا بَقْعَالٌ - سخت مزاج آدمی۔
 بَقَاعٌ رَضٌ وَبَقَاوَةٌ وَبَقَاوَةٌ - الْبَقَاوَةُ - الْبَقَاوَةُ - اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ الْبَقَاوَةُ

کنزین کا پانی کم ہوتا۔ العین۔ آنکھ کا
آنسو کم نکالنا۔ صفت دیکھی و بکیثتہ
و بکی و بکیثتہ، جو بگاڑ و بگایا۔
آبید بگاڑ۔ بخشش کم کرنے والا ہاتھ۔
بکی (رس) بگاڑ۔ اپنی حاجت نہ پانا۔
آبگا۔ الدار۔ دودھ کم پانا۔
البک و البکاء۔ ایک قسم کی نبات۔ واحد
بکاء۔
بکعہ دن، بکعنا۔ تلوار یا لاطی سے مارنا۔
دلیل و حجت میں کسی پر غالب آنا۔ کتے
ہیں: "بکعہ حتی أشکعہ"۔ یعنی
اس پر حجت میں ایسا غالب آیا کہ آخر
اس کو خاموش کر دیا۔
بکعہ۔ یعنی بکعہ۔ زجر کرنا۔ مرزئش کرنا۔
جھوٹا۔ اور اسی سے ہے: "تبکیبت
الضمیر۔ ضمیر کی جھوٹ۔
بکورس، بکورا۔ الی الشیخ۔ جلدی کرنا۔
بکورن، بکورا۔ آگے بڑھنا۔ علیہ والیہ
صبح کے وقت کسی کے پاس جانا۔ فی
الشیخ۔ صبح سویرے کچھ کرنا۔
آبکو و بکو۔ پیش قدمی کرنا۔ جلدی کرنا۔
فلانا۔ کسی کے پاس صبح سویرے آنا۔
بکور علیہم۔ کسی کو علی الصبح بھجنا۔
بکو۔ المصطفیٰ۔ نماز کے لیے شروع وقت
میں آنا۔
بالک۔ کسی کے پاس صبح کے وقت آنا۔
تبکور۔ پیش قدمی کرنا۔
بکور۔ کسی چیز کے پہلے حصہ پر قابو پانا
۔ فلانا۔ کسی کے پاس صبح کے وقت
آنا۔ الفاکہتہ۔ پہلا پھل کھانا۔
علی فلان۔ صبح سویرے آنا۔
الباکور۔ فلانا آتا ہا بکورا۔ وہ اس کے پاس
صبح سویرے آیا۔
البکور مذکر و مؤنث ہر دو کے لیے، ماں
باپ کا پہلا بچہ۔ جوان گائے، کنواری۔

ہر چیز کا اول۔ ج۔ آبکار۔
البکو۔ ہر وہ فعل جس کے مثل پہلے نہ ہوا
ہو۔ الضربۃ البکو۔ تلوار کی کاری
چوٹ۔ کام تمام کرنے والی چوٹ۔
کووم بکو۔ انکور کا پہلا دانہ۔
نار بکو۔ شروع جلائی ہوئی آگ۔
یحل بکو۔ تیز سرکہ۔
الدرة البکو۔ درنا سفتہ۔
البکو۔ جوان اونٹ۔ ج۔ آبکو و بکوران
و بکار و بکارۃ۔ مؤنث بکوۃ۔
ج۔ بیکار۔
البکوۃ۔ صبح۔ مثلاً آپ کہیں: "آقیتہ
بکوۃ"۔ میں اس کے پاس صبح
سویرے آیا۔
البکوۃ و البکوۃ۔ چرخ۔ ج۔ بکو و
بکوات۔ کتے ہیں۔ "والبکوات
شترہن الصائمۃ"۔ یعنی سب سے
بڑی چرخ وہ ہے جو نہ گھومے۔
البکوۃ۔ جماعت، اور اسی سے ہے
"جاؤا علی بکوۃ ابیہم"۔ وہ سب
کے سب آئے، ایک بھی نہ بچا۔
البکاء۔ دو شیزگی، کنواریاں۔
البکوۃ و البکوۃ۔ اسم ہے بکر
سے، یعنی اس کی خاصیت اور اس
کے حقوق۔
الباکورۃ۔ پہلا میوہ۔ ہر چیز کا اول۔ ج۔
بواکیر و باکورۃ۔
البکیر و الباکور و البکور۔ ہر چیز اپنے
وقت سے پہلے آنے والی۔ موسم بہار
کی پہلی بارش۔
البکیرۃ۔ پہلے مراد پہنچ جانے والا۔
پہلے یا درخت خرما۔ ج۔ بکائر۔
المبکیر۔ فنا۔ موسم بہار کی پہلی بارش۔
الببکار۔ پہلے تیار ہو جانے والا پھل یا
درخت خرما۔ ارض بکبار۔ جلا گانے

وال زمین۔ ج۔ مہاکور۔
بکسہ دن، بکستا۔ مغلوب کرنا۔
بکعہ دف، بکعنا۔ بدن کے مختلف حصوں
پر سمٹت چوٹ ماننا۔ بد خلقی سے پیش آنا۔
بکعہ کاٹنا۔ خاموش کرنا۔ رجل آبکعہ
ہاتھ کٹنا آدمی۔
بکل دن، بکلا و بکل۔ الشیخ۔ ملانا۔
السجل۔ آٹا۔ سٹو۔ گھی یا زیتون ملا کر
کھانا تیار کرنا۔
تبکل۔ فی الكلام۔ گڑ بڑ گفتگو کرنا۔ ہ
و علیہ۔ گالی گلوچ اور مار پیٹ سے
کسی پر غالب آجانا۔ الشیخ۔ کسی
چیز کو فضیلت سمجھ کر لینا۔ الرجل۔ کسی
کا مردہ الحال زندگی بسر کرنا۔ فی مشیہ
ناز سے چلنا۔
ابتکل۔ الشیخ۔ کسی شے کو غنیمت جان
کر لینا۔
البکۃ۔ حال، بیعت، لباس، طبیعت۔ ج۔
بکل۔
البکالۃ و البکیکۃ۔ ایک قسم کا کھانا جو آٹا،
سٹو، گھی یا روغن زیتون سے تیار کیا
جاتا ہے۔ البکیکۃ۔ غنیمت۔
بکعہ رس، بکما و بکامۃ۔ گونگا ہونا۔ صفت
د آبکعہ، ج۔ بکعہ و بکعیہ، ج۔
بکمان۔
بکم دک بکامۃ۔ جان بوجھ کر چپ ہونا۔
تبکعہ۔ الكلام علیہ۔ بول نہ سکنا۔ گفتگو
نہ کر سکنا۔
بکی (رض)، بکاء و بکی۔ رونا۔ صفت
د باک، ج۔ بکاء۔ مؤنث باکیۃ۔
ج۔ باکیات و بواک۔
بکی و بکی۔ المیت۔ میت پر رونا۔
بکی و ابکی و استبکی۔ الرجل۔ کسی کو
رلانا۔
تباکلی۔ بناوٹی رونا رونا۔ بتکلف رونا۔

التَّبَكَاءُ والتَّبَكِيُّ - بہت رونے والا۔
 التَّبَكَاءُ والتَّبَكِيُّ - رونا یا بہت رونا۔
 التَّبَكِيُّ - رونے کی جگہ - ج - مَبَاكٍ -
 بَلٌّ - حرف عطف ہے۔ سابق کلام سے
 اضراب کے لیے آتا ہے۔ جیسے "مَا
 ذَهَبَ لِيْ دُبُّ بَلِّ عَمْرُو" کہ اس میں
 حکم عمرو پر ہے۔ زیر پر حکم لگانے
 سے سکوت ہے۔
 بَلَّةٌ رَنٌ، بَلٌّ وَبَلَّةٌ وَبَلْلٌ - بالماء
 پانی سے تر کرنا۔ بَلٌّ يَدُه - دینا۔
 بَلٌّ رَسٌ، بَلْلٌ وَبَلْلٌ - بَلْدًا - فتح مند
 ہونا۔ کامیاب ہونا۔ پالینا۔ چنانچہ
 کہتے ہیں "إِذَا بَلَّتْ بَقَاةُ يَدِي" :
 یعنی جب کہ اس کے قبضہ پر میرا
 ہاتھ پہنچے۔
 بَلٌّ رَضٌ، بَلْلٌ وَبَلْلٌ وَبُلُوْلٌ - مِنْ
 مَرَضٍ - بیماری سے تندرست ہونا
 صحت یاب ہونا۔ بَلٌّ فِي الْأَرْضِ
 جانا۔ ر - بُلُوْلٌ، الرِّيْحُ - سرد
 ہوا کا چلنا۔
 أَبْلٌ - الشَّجَرُ - درخت کا پھل دار ہونا۔
 پھل لانا۔ العودُ - لکڑی میں تری کا
 ہونا۔ من مَرَضٍ - بیماری سے
 صحت یاب ہونا۔ أَبْلَةٌ فِي الْأَرْضِ -
 زمین میں پھرانا۔ لے جانا۔
 بَلَّلٌ - الثَّوْبُ - کپڑے کو تر کرنا۔
 تَبَلَّلٌ وَابْتَلَّلٌ - تر ہونا۔
 ابْتَلَّ وَتَبَلَّلَ وَاسْتَبَلَّ - من مَرَضٍ
 بیماری سے صحت یاب ہونا۔
 ابْلٌ - صحت، شفا، مباح۔ اور اسی سے
 ہے حضرت عباسؓ کا یہ قول "لَا
 اَحْلَاهَا لِمَغْتَسِلٍ وَهِيَ لَشَارِبٍ حَلٌّ
 وَبَلٌّ - یعنی میں اس کو نہانے والے
 کے لیے حلال نہیں ٹھہرتا۔ البتہ پینے
 والے کے لیے حلال و مباح ہے۔

چالاک۔ کہا جاتا ہے۔ "هُوَ بَلٌّ"
 أَبْلٌ - وہ چالاکوں کا چالاک ہے۔
 البَلَّةُ - جوانی کی تروتازگی۔
 البِلَّةُ - تری، رزق، خیر۔
 البَلَالُ وَالبَلَالُ وَالبَلَالُ - تری،
 دودھ یا پانی کی اس قدر مقدار کہ اس
 سے حلق تر ہو جائے۔
 البَلَالَةُ - اس قدر مقدار کہ اس سے کوئی چیز
 تر کی جائے۔ تھوڑی سی چیز تری۔
 البَلْلُ - بیج۔
 البَلِيلُ وَالبَلِيلَةُ - تدار ٹھنڈی ہوا۔
 ذُو بَلِيٍّ وَبَلِيٍّ وَبَلِيَّانٌ - دور کی غیر معلوم
 جگہ کہتے ہیں "هُوَ بَلِيٌّ بَلِيٌّ" وہ
 ایک غیر معلوم جگہ میں ہے۔
 الأَبْلُ - ہدکار۔ سخت کنجوس۔ مَوْنَتٌ بَلَّةٌ
 ج - بَلٌّ - کہتے ہیں "لَا شَيْءٌ أَبْلٌ
 لِلْجَسَدِ مِنْ كَذَا" یعنی جسم کے لیے
 اس سے زیادہ کوئی چیز مواتی نہیں۔
 صَفَاةٌ بَلَّةٌ - چکنا پتھر۔
 البَلَانُ - حمام میں نہلانے والا۔ وَالبَلَانُ
 ج - بَلَانَاتٌ - حمام۔
 البَلَّةُ - بیٹ۔ حال کہتے ہیں "طَوَيْتُ
 السِّقَاءَ عَلَى بَلَّتَيْهِ وَبَلَّتَيْهِ" میں
 نے مشک کو لپیٹ لیا جبکہ وہ تری ہی
 تھی "طَوَيْتُ فَلَانًا عَلَى بَلَّتَيْهِ وَ
 وَبَلَّتَيْهِ وَبَلَّتَيْهِ وَبَلَّتَيْهِ"
 یعنی میں نے فلاں شخص کو باوجود اس کے
 عیب اور برائی کے برواشت کیا۔
 البَبْلُ - مستقل۔ کہتے ہیں "خَصَمٌ مَبْبِلٌ"
 وہ مستقل جھگڑا رہے۔
 البَالُولُ - تھوڑا پانی۔
 البَلُولُ وَالبَبْلُ - بہت شور کرنے
 والا۔ مور۔
 مَبْبِلٌ - شیر۔
 بَبْلٌ بَبْلَةٌ وَبَلْبَالٌ - القَوْمُ - لوگوں کو

بھڑکانا، غم میں ڈالنا یا مبتلا کرنا۔
 الأَلْسَةُ - زبانوں کو مخنوط اور گڑ بڑ
 کرنا۔ الأَمْتَعَةُ - سامان بکھڑا۔ الأَدَاءُ
 رایوں کو خراب کرنا۔
 تَبَلَّلٌ - بھڑکانا۔ غم میں مبتلا ہونا۔
 البُلْبُلُ - بلبیل۔ ج - بَلَابِلٌ - بُلْبُلٌ
 الإِبْرِيْقُ - لوٹے کی ٹونٹی، عمام کے
 نزدیک بلبیل بچوں کے ایک کھلونے
 کا نام بھی ہے، لیکن اس کے لیے فصیح
 لفظ دَوَامَةٌ دَلِيٌّ ہے۔
 البَلْبَالُ - سخت غم۔
 بَلَّتٌ رَضٌ، بَلَّتَا - الشَّيْءُ - کچھ کاٹنا۔
 بَلَّتَتْ رَضٌ، بَلَّتَا وَبَلَّتَتْ رَضٌ، بَلَّتَا - وَ
 ابْتَلَّتْ - کٹنا۔
 أَبْلَتَةٌ - بَحِيثَةٌ - کسی کو قسم دلانا۔ ابْتَلَّتْ
 الرَّجُلُ - گفتگو سے رک جانا۔
 البَلِيْتُ وَالبَلِيْتُ - مخمق کلام کرنے والا۔
 فصیح، وانا، عقل مند۔
 المَبْلَتُ - آراستہ کلام۔
 البَلَّتَةُ - ماہر۔ ہر چیز کا جاننے والا۔
 البَلَّتِيُّ - زبان آور۔ فصیح۔
 البَلِيْتُ - دوسال کا پرانا چاہہ جو سیاہ
 ہو گیا ہو۔
 بَلَجٌ رَنٌ، بُلُوْجًا وَابْلَجٌ وَتَبْلَجٌ وَ
 ابْلَجٌ وَابْلَجٌ - الضَّبْعُ - مرج
 کا روشن ہونا۔
 بَلَجٌ رَسٌ، بَلَجٌ صَدَأٌ - انْفِرَاجٌ مَرْدٌ
 ہونا۔ اطمینان قلب ہونا۔ الرَّجُلُ
 هَمْسٌ مَكْرَهُ بَرْدٌ - الحَقُّ - حق ظاہر ہونا۔
 صَفِيٌّ وَابْلَجٌ، مَوْنَتٌ يَلْبَجَاءُ -
 الأَبْلَجُ - علوہ، علوہ، ابروؤن والا ہونا
 تَبْلَجٌ - البِدْءُ - ہنسنا، ہشاش بھاش ہونا۔
 ابْلَجٌ ابْلَجٌ - ابْلَجٌ ابْلَجٌ - ظاہر اور
 آشکارا ہونا۔
 البَلَجَةُ وَالبَلَجَةُ - سہیدہ مرج - پورے پھلے کا

آبلس - بے خبر ہونا۔ عملین شکستہ دل ہونا۔
 - من رحمة الله - اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ فی امرہ - اپنے کسی کام میں حیران ہونا۔ صفت ربلیس و قہلیس،
 آبلسہ - متحیر کر دینا۔
 البلس - بے خبر آدمی۔
 البلاس - ٹاٹ۔ بالوں کا بنا ہوا فرش۔
 بلس - بلس۔
 البلاس - ٹاٹ بیچنے والا۔
 البلیس - شیطان کا علم جنس ہے۔
 ابالیس و ابالیسہ۔
 بلیسہ - مکروہ چہرے والا ہونا۔ برسام میں مبتلا ہونا۔
 بلسہ و بلسہ - گہرا ہٹ سے چپ ہوجانا۔ و بلسہ - مکروہ چہرہ والا بنا دینا۔
 البلسہ - گوند جیسا ایک مادہ جس سے زخموں پر لپک کیا جاتا ہے۔
 البلسام - برسام دیکھ بیماری کا نام۔
 البلسن - مسور مسور کے مشابہ ایک دانہ۔
 البلسان - ایک درخت سفید چھوٹے پھولوں والا جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔
 البلسون - بگلا۔
 بلس - فلانا من مالہ - کسی سے زبردستی مال لے لینا۔
 بالصدہ - کسی پر کوہ پڑنا۔
 تبلس - الشیء - کسی چیز کو پوشیدہ طور سے طلب کرنا۔
 تبلست القم - کم دودھ والی ہونا۔
 البلسوص - ایک قسم کا پرندہ۔ جہ بلسی۔
 بلسون، بلسا و بلسا و ابلسا - اللہ گریں پتھر کے چوکوں کا فرش کرنا۔
 بلسا - الرجل - چلنے میں ٹھکنا۔ بلسا اذنتہ - گوشہ ٹال کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

(آبلس)،
 بلسون (بلسون) - کندھ میں ہونا۔ صفت و بلسون و ابلسون،
 بلسون - کمزور رائے والا ہونا اور کم ہمت ہونا۔
 - الفوس - گھوڑے کا نہ بڑھنا۔
 السحابہ - بادل کا نہ برسا۔ الرجل - بخیل ہونا۔
 - فی اصطلاح البعض کسی مقام سکونت کی آب و ہوا کا عادی بنانا اور اسی سے بے حدیقتہ التبلیس یعنی وہ باغیچہ جہاں پر ویسی حیوانات و نباتات کو ویسی جگہ کی آب و ہوا کا عادی بنایا جائے۔
 ابلس - القوم - شہر میں ہمیشہ رہنا۔
 ابلسہ - القوم - شہر میں ہمیشہ رکھنا۔
 بالدا - تلوار یا ڈنڈوں سے جنگ کرنا۔
 تبلس - کندھ میں ہونا۔ کھٹل عقل والا ہونا۔
 بیوقوفی ظاہر کرنا۔ افسوس کرنا۔
 الرجل - دونوں ہاتھ سے تالی بجانا۔
 الصبح - صبح کا روشن ہونا۔ آشکارا ہونا۔ القوم - ویران جگہ میں آباد ہونا۔
 البلسون - متحیر، بے وقوف۔
 البلسون و البلسون - جہ - بلاد و بلاد ان کوئی جگہ آباد ہو یا غیر آباد۔ و البلسون قبر۔ و البلسون سینہ کہتے ہیں ہو واسم البلسون: وہ کشادہ سینے والا ہے، شہر جیسے شام میں دمشق، عراق میں بصرہ۔
 البلسان - بصرہ و کوفہ۔
 البلسون و البلسون - ایک قسم کا شیشہ، ایک قسم کا سفید اور شفاف جوہر۔
 تبلس و تبلسون - بصرہ کے مشابہ ہونا۔
 البلیس - و طین البلیس - مہری مٹی جو دریائے نیل سیلاب کے بعد چھوڑ جاتا ہے۔

وقت - علی الصباح - و البلسون
 ابروئل کے درمیان کشادگی۔
 البلسون و البلسون - کشادہ رو۔ بلسون۔
 بلسون زلف بلسا - الثوی کی پتھر کا خشک ہونا۔ تری کا خشک ہوجانا۔ البلسون کنویں کا پانی سوکھ جانا۔ صفت ربلسون۔
 الرجل بالاصو - کسی کا کسی بات سے انکار کرنا۔ الغریب - قرض دار کا مفلس اور نادار ہونا۔ الرجل بفسہادتہ - کسی کا شہادت کو چھپانا۔
 - بلوحاء و بلسون و تبلسون - ٹھکنا عاجز ہونا۔ کہتے ہیں: بلسون و بلسون علی: میں نے اس کے پاس کچھ نہیں پایا۔
 ابلس - النخل - درخت خرما پر کچی کھجوریں نکل آتا۔
 بالبحر - القوم - بلاحق کے لوگوں سے جھگڑا کرانے پر غالب آجانا۔
 تبلسا - باہم انکار کرنا۔
 البلسون - وہ زمین جو کچھ نہ اگائے۔ جہ بلسون۔
 البلسون - کچی کھجور۔ کھجور شروع میں طلح کہلاتی ہے پھر خلال پھر بلسون پھر بلسون پھر رطب اور پھر تمور۔
 البلسون - ایک پرندہ گدھ سے کچھ بڑا۔ جہ بلسون۔
 بلسون (س) بلسا و تبلسون - تکبر کرنا۔ الحق ہونا۔ صفت ربلسون، مؤنث بلسا و و بلسون و بلسون،
 البلسون و البلسون - درخت شاہ بلوط۔
 البلسون - ایک قسم کا قیمتی جوہر۔
 بلسون، بلسون - بالکمان - کسی جگہ اقامت پذیر ہونا یا اس کو شہر بنانا۔
 صفت ربلسون، جہ - بلسون۔
 بلسون (س) بلسا، کشادہ ابرو ہونا۔ صفت

”إِذَا مَهَقَا صَبِيَّتِكَ فَبَلَطَ لَهٗ“
 جب تمہارا بچہ بچے تو اس کی گوشمالی کرو۔
 أَبْلَطَ - الیصلی الرجل - تمام مال چڑھا لینا۔ وَأَبْلَطَ - محتاج و فقیر ہونا۔
 بِالَطِّ وَتَبَالَطَ - القوم - آپس میں تلوار سے لڑنا۔ وَبَالَطَهُ - چھوڑ کر بھاگ جانا۔ بِالَطِّ فِي أُمُورِهِ - مبالغہ کرنا۔
 الْبَلَاطُ - ہموار اور برابر زمین۔ پتھر کے چوکے جن سے زمین کا فرش تیار کیا جاتے، اسی سے ہے ”بَلَاطُ الْمَلِكِ“۔
 بادشاہ کا محل اور محازا مجلس شاہی۔
 الْبُلُطُ - لشکر سے بھاگنے والا۔
 الْبَلُوطُ - ایک بڑا درخت ہے، تنہ اس کا موٹا اور لکڑی اس کی مضبوط ہوتی ہے۔ بلوط کا پھل - بَلُوطُ الْأَرْضِ - ایک قسم کی گھاس ہے۔ پتے اس کے کاسنی کے مشابہ ہوتے ہیں، شاہ بلوط کتنا۔
 الْبُلُطِيُّ - ایک قسم کی مچھلی۔
 بَلَطَ - زمین پر لیٹ جانا۔ الشئ - چوڑا کرنا۔
 تَبَلَطَ - چوڑا ہونا۔
 بَلَعَ رَنًا، بَلَعًا وَابْتَلَعَ - الشئ - نگلنا۔
 بَلَعَهُ - وَأَبْلَعَهُ - نگلوانا۔ کہتے ہیں بَلَعَهُ رِيْقَهُ - یعنی اس کو اسی قدر ملت دی کہ وہ تنوک نکل لے۔ رَمَلَهُ وَتَبَلَعَهُ، الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ - اسی کے سر میں بڑھاپے کے آثار (سفید بال) ظاہر و آشکارا ہوئے۔ وَتَبَلَعَهُ - گھونٹ لینا۔
 الْبُلْعَةُ - چکی کا سوراخ - ج - بُلْعُ - الْبُلْعَةُ - بسیار خورد آدمی۔
 الْبَلْعُ - بہت نگلنے والا۔
 التَّبْلَعُ - حلق۔
 الْبَلْبَعُ - بسیار خورد پیٹو۔

الْبَلُوعَةُ وَالْبَلَاغَةُ وَالْبَلُوعَةُ - ج
 بَلَّوْا بَلْعًا وَبَلَّوْا لَيْعًا - گندلی نالی۔
 بدرود۔
 بَلَعَهُ اللَّقْمَةَ - لقمہ نگلنا۔
 الْبَلْعُ وَالْبَلْعُومُ - حلق۔ کھانا نگلنے کا نالی
 الْبَلْعُ - بہت کھاؤ۔ بسیار خورد
 بَلَعَهُ رَنًا، بَلُوعًا - پہنچنا۔ الثمر - پھل
 کا پکنا۔ الغلام - بالغ ہونا۔ صفت
 (بَالِغٌ) مَوْثٌ (بَالِغَةٌ وَبَالِغٌ) -
 الْعِلَّةُ - بیماری کا سخت ہونا۔ کہتے
 ہیں ”بَلَعُ مِثْقِي كَلَامُكَ“ - یعنی
 تمہاری گفتگو نے میرے دل پر بہت
 گہرا اثر ڈالا۔
 بُلْعٌ - مشقت میں مبتلا ہونا
 بَلَعُ دَلِكُ، بَلَاغَةٌ - فصیح و بلیغ ہونا۔ صفت
 بَلِيعٌ - ج - بُلْعَاءُ۔
 بَلَعَهُ وَأَبْلَعَهُ - ایسے کسی کو کسی کے
 پاس پہنچانا۔ بَلَعَهُ عَنْهُ الْمَوْثَالَةَ
 إِلَى الْقَوْمِ - قوم تک کسی پیغام پہنچانا
 بَلَعَهُ الْفَارِسُ - تیز دوڑنے کے لیے
 لگام کو بڑھانا۔
 بَالَعٌ - فِي الْأُمُورِ - کوشش و مشقت میں
 کوئی کوتاہی نہ چھوڑنا۔
 تَبَلَعَهُ - بِالْشَّيْءِ - کسی چیز پر اکتفا کرنا۔
 حَمَانٌ عَمَّ كَرْنَا - بِهِ الْعِلَّةُ - بیماری کا
 سخت ہو جانا۔
 تَبَالَعٌ - فِيهِ الْمَرْحُومُ - بیماری کا انتہائی
 پہنچنا اور شدید شدید ہونا۔ الْبَلْعُ
 فِي كَلَامِهِ - عَقْلٌ جَارِحٌ لَاهِزٌ
 كَرْنَا - الدَّبَاغُ فِي الْجِلْدِ - کھان
 میں رنگائی کا اچھی طرح سے اثر کرنا
 الْبَلْعُ وَالْبَلْعُ - بلیغ۔ انتہا کو پہنچنے والی
 چیز کہتے ہیں۔ ”هوَ أَحْمَقُ بَلْعٍ“
 وہ بے درجہ کا بیوقوف ہے۔ اسی
 طرح ”هِيَ حَمَقَاءُ بَلْعَةٍ“ کہا جاتا

ہے۔ ”أَمْرًا اللَّهُ بَلْعًا“ - اللہ کا حکم نافذ
 ہے۔ ”وَجِيشٌ بَلْعٌ“ - پہنچنے والا لشکر
 ”رَجُلٌ بَلْعٌ“ - خبیث مرد۔
 الْبَلْعَةُ - انتہائی بے وقوفی۔
 الْبُلْعَةُ وَالْبَلَاغُ وَالْتَّبْلَعُ - صرف
 گذرے کی مقدار۔
 الْبَلَاغُ - پیغام۔ کسی چیز تک پہنچنا۔ کنایت
 کتاب جس میں کسی مسئلہ کا حکم بیان کیا
 جائے۔ ج - بَلَاغَاتُ - الْبَلَاغَاتُ
 چھٹی خوریاں۔
 الْبَالِغُ - سن بلوغ تک پہنچنے والا۔ کہتے
 ہیں ”غَلَامٌ بَالِغٌ وَجَارِيَةٌ بَالِغَةٌ
 وَبَالِغَةٌ“ - وامل بَالِغٌ - نافذ حکم۔
 الْبَالِغَاءُ - جانور کے پائے۔
 الْبَلَاغِيُّ وَالْبَلَاغِيُّ - دلی بات کو فصیح و
 بلیغ عبارت میں بیان کرنے والا۔
 الْبَلِيعُ - ہر وہ شخص جس کو انتہا تک پہنچایا
 گیا ہو۔
 التَّبْلَعُ - روپے پیسے کی مقدار۔ ایک شخص
 کی حد و مقدار و انتہا۔ ج - كَبَالِيعٌ۔
 التَّبْلِيغُ وَالتَّبْلِيغَةُ - چھٹی رسی جسے بڑی
 رسی میں باندھیں تاکہ باقی ٹکڑے نہ ہٹسے۔
 الْبَلْعُ - قديم البلاء کے نزدیک چار بدنی
 اخلاط میں ایک غلط کام۔
 بَلَقَ رَنًا، بَلُوقًا - جلدی کرنا۔ وابلق
 الباب - دروازہ بالکل کھلی ہوئی یا
 پھرتی ہے۔ جلدی کرنا۔
 بَلِيعٌ وَمِنْ بَلِيعٍ وَفِعٌ بَلِيعٌ وَبَلِيعٌ وَ
 ابْلِقٌ وَابْلَاقٌ وَالْبَلِيعُ - سیاہ و
 سفید داغوں والا ہونا۔ عفت و ابلق
 مَوْثٌ بَلْعَاءُ - ج - بَلِيعٌ۔
 بَلِيعٌ رَسٌ بَلْقًا - تعمیر ہونا۔ ابْلِقٌ - الْبَابُ
 وروازہ کھلنا۔ رَابِلِقٌ - چکنا۔
 الْبَلِيقُ - سنگ مرمر۔ بَلِيعٌ رَسٌ وَابْلِقَةٌ
 سیاہی و سفیدی۔

الْأَبْلَقُ الْفَرْدُ۔ سوال بن فادیا کا مشہور
 قلعہ جو سیاہ و سفید بتوں سے بنا
 ہوا تھا۔ ایک ابلق پرندہ جو ملک شام
 میں ابی بلیق کی کینت سے مشہور ہے
 کہا جاتا ہے: طلب الأبلق
 العقوق: یعنی اس نے غیر مکن چیز
 کو طلب کیا۔ کیونکہ ابلق ترک اور عقوق
 حاملہ کو کہتے ہیں۔
 الْبَلْقُ وَالْبَلْقَةُ: بیابان۔ مطلق
 روئیدگی نہ اگانے والی قطعہ زمین۔
 ج۔ بَلَّيْقُ۔
 الْبَالِقَةُ۔ موری۔ بدرو۔
 الْمُبَلَّقُ۔ سیاہ و سفید داغوں والا۔
 بَلْقَمُ۔ مکان۔ کسی جگہ کا ویران وغیر
 آباد ہونا۔ صفت (بَلْقَمُ) کہا جاتا
 ہے: "دَارٌ بَلْقَمٌ"
 الْبَلْقَعُ وَالْبَلْقَعَةُ۔ ویران و خالی زمین
 ج۔ بَلَّاقِيْعٌ۔ (الْبَلْقَعُ وَالْمَرَاةُ
 الْبَلْقَعَةُ) بہ بھلائی اور خیر سے خالی
 عورت۔
 الْبَلْقَعِيُّ۔ صاف۔ کہتے ہیں: سَهْمٌ اَوْ
 سِنَانٌ بَلْقَعِيٌّ۔ یعنی صاف پھل والا
 تیر یا نیزہ۔
 بَلَّحَ۔ الرجلُ۔ کسی کی برائی بیان کرنا۔
 اَبْلَيْتُ۔ شفقتہ، اس کے ہونٹ بوجھ
 گئے۔ صفت اَبْلَعٌ۔
 الْبَلْحُ۔ ایک قسم کی ممدی چھوٹی مچھلی۔
 الْبَلْمَاءُ۔ پورے چاند کی رات۔
 بَلْمَةٌ رَسٌ، بَلْمَةٌ بَلْمَةٌ، ضعیف العقل
 کو در پڑنے والا ہونا۔ صفت اَبْلَمٌ،
 مَوْتٌ بَلْمَةٌ۔ ج۔ بَلْمٌ۔
 اَبْلَمٌ۔ الرجلُ۔ کسی آدمی کو بیوقوف پانا۔
 كَبْلَمٌ۔ بے وقوف ہونا۔ حجت میں عاجز
 ہونا۔ الطریق۔ بلار سنائی و معلوم
 کے کسی راستہ پر چلنا۔ گم شدہ شے کا

کوچ لگانا۔
 بَالَمَهُ۔ فریب دینا۔
 تَبَالَمَهُ۔ دیدہ و دانستہ بیوقوف بننا۔
 بَلْمَةٌ۔ اسم فعل بمعنى جھوٹ۔
 بَلْمِيْنِيَّةُ الْعَيْشِ۔ زندگی کی فراخی و
 آسودگی۔
 بَلْمَسٌ۔ تیز چلنا۔
 بَلْمَصٌ۔ خوف سے بھاگنا۔
 بَلَّارٌ، بَلَّوٌّ اَوْ بَلَّاءٌ۔ الرجلُ۔ کسی
 کو آزماتا۔ تجربہ کرنا۔ امتحان لینا۔
 بَلَّجٌ رَسٌ، بَلَّجٌ اَوْ بَلَّاءٌ۔ الثوبُ۔ کپڑے
 کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ صفت
 (بَالٍ اَوْ بَلَّجٍ)۔
 بَلِّيُّ تَبْلِيَّةٌ اَوْ اَبْلَاءٌ اَبْلَاءٌ۔ الثوبُ۔
 بوسیدہ کرنا۔
 بَالِيٌّ مَبَالَاةٌ اَوْ بَالَةٌ اَوْ بَالَا۔ الامرُ و
 بالامر۔ پرواہ کرنا۔
 بَالَاةٌ۔ مقابلہ پر فخر کرنا۔ ایک دوسرے کو گھٹانا۔
 اَبْلَى۔ فَلَا تَاْعُدْرَةَ، کسی کے سامنے عذر
 پیش کرنا اور اس کا اس عذر کو قبول کر
 لینا۔ طامت دور کرنے کے لیے حذر
 بیان کرنا۔ فِي الْحَرْبِ بَلَاءٌ حَسَنًا
 میدان جنگ میں بہادری و شجاعت
 ظاہر کرنا۔ اَيِّمِيْنَا: تسلی بخش
 قسم کھانا۔
 تَبَالَاةٌ۔ کسی کی آزمائش کرنا۔
 اَبْلَى۔ ختم کھلاتا۔ ا۔ آزماتا۔ الشَّيْءُ۔
 پہچانا۔
 اِسْتَبْلَى۔ ا۔ آزمائش کرنا۔
 اَبْلَوِيٌّ۔ الْعَشْبُ۔ گھاس کا دراز ہونا۔
 الْبَلْوِيُّ وَالْبَلْوَةُ وَالْبَلْيَةُ وَالْبَلْيَةُ
 مصیبت، آزمائش۔ ج۔ بَلَّوِيًّا۔
 الْبَلَاءُ۔ غم، آزمائش خیر سے بری اثر سے۔
 اَبْلُوٌّ اَوْ اَبْلِيٌّ۔ پرانا۔ بوسیدہ۔ کہتے ہیں
 "هُوَ بَلَّوٌّ اَسْفَارٌ وَبَلْيَاهَا: وہ غم

سفر اور تجربوں میں پرانا ہے، یعنی اس
 نے انہیں چیزوں میں اس قدر عمر گزاری
 ہے اور نہایت تجربہ کار ہو گیا ہے۔ و
 يَلْوُ شَيْئًا وَيَلْوِيهِ۔ یعنی وہ شے میں مبتلا
 ہے اور اس پر غالب۔ ج۔ اَبْلَاءٌ۔
 الْبَلْيَةُ۔ وہ اونٹنی جس کو ایام جاہلیت میں
 اس کے مالک کی قبر پر باندھ دیا کرتے
 تھے، اور اس کو چارہ پانی کچھ نہیں دیتے
 تھے، حتیٰ کہ وہ وہیں مرجاتی تھی۔
 الْمَبْلِيَّاتُ۔ تابوت میت کے آس پاس ہونے
 والی عورتیں۔
 بَلِيٌّ۔ حرف تصدیق ہے اور نعت (ہاں) کے
 معنی دیتا ہے۔ اکثر استفہام کے بعد
 آتا ہے اور ایجابی معنی کے لیے مخصوص
 خواہ اس سے پہلے مثبت ہو یا منفی۔ مثلاً
 اَقَامَ زَيْدٌ دَكِيًّا زَيْدٌ كَهْرًا اَبَاكَ اَوْ
 اَقَامَ زَيْدٌ دَكِيًّا زَيْدٌ كَهْرًا اَبَاكَ
 میں "بلی" کے معنی ہیں "ہاں" یعنی زید کھڑا
 ہوا۔ اور اَمَا اَقَامَ زَيْدٌ دَكِيًّا دَكِيًّا
 نہیں؟ کے جواب میں بھی بلی کے معنی
 ایجاب ہی کے ہیں، یعنی ہاں زید کھڑا ہوا۔
 الْبَيْتُ۔ من العود۔ بربط کا موٹا تار۔ یا
 اس کی موٹی آواز۔ ج۔ بَيْتٌ۔
 بَيْتٌ رَضٌ، بَيْتًا اَوْ بَيْتًا۔ بِالْمَكَانِ۔ کسی
 جگہ رہ پڑنا۔ اقامت پذیر ہونا۔ اَبْتَيْتُ
 السَّحَابَةَ: کسی روز ابر کا رہنا۔
 بَيْتٌ۔ الشَّاقُ۔ بکری کو موٹا کرنے کے لیے
 باندھنا۔
 كَبَيْتٌ۔ جلدی نہ کرنا۔
 الْبَيْتَانُ۔ انگلیوں کے اطراف۔ پورے۔
 الْبَيْتَانَةُ۔ بنان کا واحد۔ انگلی۔ اوپر کا
 پورا۔ ج۔ بَيْتَانَاتُ۔
 الْبَيْتَانَةُ۔ سرسبز و شاداب باغ۔ ہرا
 بھرا باغ۔
 الْبَيْتُ۔ ایک درخت کا دانہ جس سے قومہ
 بنایا جاتا ہے۔

آدمی۔ ابن لیلھا۔ بڑے کام والا
 آدمی۔ ابن ذکاء۔ صبح۔ ابن
 الطور۔ آواز بازگشت۔ ہو
 ابن یومہ۔ یعنی وہ ایسا آدمی ہے
 جو آج ہی ک سوچتا ہے، کل کی نہیں
 ابن بطنہ۔ یعنی اپنے پیٹ ہی کی
 فکریں رہنے والا آدمی۔
 الإبنم۔ بیٹا۔ میم زائد ہے۔ اولاد
 میں نون میم کے تابع رہتا ہے۔
 اینت۔ جر۔ بنات۔ لڑکی۔ نسبت کے
 بنتی و بنتوی۔ بنت الشفة
 کلمہ۔ الارض۔ کنکری۔ الیمین
 قہوہ۔ العین۔ آنسو۔ العنقود
 والکرم۔ شراب۔ بنات الدهر
 وبنات طبق۔ سختیاں۔ بنات
 اللیل وبنات الصدر۔ افکار
 بنات الارض۔ چھوٹی چھوٹی ندیاں۔
 بنات نعش الکبریٰ۔ وہ سات
 ستارے جو قطب شمالی کے پاس
 دکھائی دیتے ہیں اور اسی طرح نعش
 صغریٰ بھی ہیں۔
 بنیات الطریق۔ بڑے راستہ سے
 چھوٹے چھوٹے پھٹنے والے راستے اور
 اسی سے ہے مدع بنیات الطریق
 یعنی بڑے کام کو سبنا لیا اور کترو
 فریب کو چھوڑو
 التبارنی۔ شرافتیں۔ حروف المبانی۔
 حروف تہجی۔
 المنوۃ۔ فرزندہ۔ بیٹا ہونا۔
 بہاؤن، و بہتھی (س) و بہوؤن،
 بہاء و بہاء و بہوؤا۔ بہ۔
 مانوس ہونا۔ لہ۔ سمنا۔ کہتے ہیں
 ما بہات لہ و ما بہت لہ میں
 نے اس کو نہیں سمجھا۔
 بہاؤن، بہاء و آہما۔ البیت۔ گھر

کو سامان سے خالی کرنا۔
 ابتهاء (بہ) مانوس ہونا۔
 بھت (س) و بھت (ک) و بھت۔
 بھتا و بھتا۔ بگا بگا رہنا۔ حیرانی
 سے خاموش اور دم بخود ہونا۔
 بھتہ (ف) بھتا۔ کسی کو چانک پکڑ لینا۔
 ہ بھتا و بھتانا۔ کسی پر بہتان
 لگانا۔ تمت لگانا۔ صفت (بھتات
 و بھوت) جر۔ بھت۔
 بہتہ و باہتہ۔ کسی پر بہتان لگا کر
 اس کو بگا بگا کر دینا۔
 باہت الرجل۔ کسی آدمی کا بہتان لگانا۔
 البہیۃ۔ حیرانی۔ والبھت والبھتان
 جھوٹ، تمت۔
 البھوت۔ وہ جو افتراء و الزام سے سامع کو
 شدید حیران کر دے۔ جر۔ بھت۔
 البھت و البھتان۔ جھوٹ۔
 البھتر۔ پست قد۔ جر۔ بھتو۔
 البھترة۔ جھوٹ۔
 البھتہ۔ جگلی گائے۔
 بھت (ف) بھتا۔ ایہ۔ کشادہ روٹی
 سے پیش آنا۔
 بھجہ (ف) بھجاد ابھجہ۔ خوش کرنا
 مسرور کرنا۔
 بھجہ (س) بھجا۔ بہ۔ خوش اور مسرور
 ہونا۔ صفت (بھج و بھجج)
 بھجہ (ک) بہا جہ و بہا جانا۔ خوب
 صورت ہونا۔ صفت (بھجج)
 صفت (بھجج)
 بہجہ۔ خوبصورت بنانا۔
 باہجہ۔ خوب صورتی میں مقابلہ کرنا۔
 فخر کرنا۔
 ابھجہ و تباہجہ۔ امکان۔ کسی جگہ کا
 سرسبز و شاداب ہونا۔
 ابھجج و بھجج و تباہجج و استہجج

بہ۔ بہ۔ خوش اور مسرور ہونا۔ بھجج۔
 خوب صورت ہونا۔
 البھجج۔ خوب صورتی۔ سرسبز و شادابی
 سرور و خوشی اور باظہور خوشی۔
 البھجج۔ خوش۔ مسرور۔
 البواہد۔ بلائیں۔ سختیاں۔
 البھدل۔ بھوکا بچہ۔
 البھدلة۔ پستان کی جڑ۔
 بھوہ (ف) بھوا۔ غالب آنا۔ فضیلت
 میں سبقت لے جانا۔ فلاؤا۔ کسی پر
 بہتان لگانا۔ الحمل فلاؤا۔ بوجھ
 کے باعث کسی کا ہانپنے لگنا۔ الرجل۔
 اپنے ہمسروں سے فوقیت لے جانا۔
 القمر۔ چاند کی روشنی کا ستاروں کی
 روشنی پر غالب آنا۔ بھواد بھووا۔
 الشمس۔ سورج کا روشن ہونا۔
 بھو و انبھو۔ سخت دھڑکے سبب
 ہانپنے لگنا۔ صفت (بھو و بھووا)
 و انبھو۔ کسی بات کی کوشش میں کوئی
 کسر اٹھانہ رکھنا۔
 باہرہ مباحرہ و بھارا۔ فخر میں
 مقابلہ کرنا۔
 ابھو۔ عجیب کام کرنا۔ فقر کے بعد غنی
 ہونا۔ گرمی میں داخل ہونا (بھوؤا)
 النهار۔ دن کا بیچ۔ متلون الاخلاق
 ہونا۔
 ابھو۔ پوری پوری کوشش کرنا۔ جھوٹا دعویٰ
 کرنا۔ ہ۔ سچا عیب لگانا۔ السیف
 تلوار کے دو ٹکڑے ہونا۔
 ابھار اللیل و النهار۔ رات یا دن کا
 آدھا ہونا۔ علینا اللیل۔ رات
 کا دراز ہونا۔ واستھار اللیل۔ رات
 کا بہت تاریک ہونا۔
 تبھو۔ الٹاؤ۔ برتن کا بھر جانا۔ السحابہ
 بادل کا چمکنا۔

البھڑ۔ پاپنا کہتے ہیں: بھڑالہ: اس کے لیے بلاکت ہو۔

البھڑق۔ من المکان والنہان۔ جگہ اور زمانہ کا وسط۔

البھڑار۔ خوبصورتی۔ ایک خوشبودار پھول۔ جس کو عین البقرہ کہتے ہیں۔

بھڑارت۔ ابابیل۔ دُھنی ہوئی روٹی۔ سفید مچھلی۔

البھڑیۃ۔ موٹے سرین والی خریف عورت۔ بھڑا۔

البھڑ پیٹھ۔ کہتے ہیں: فلاں شدید البھڑ یعنی فلاں مضبوط پیٹھ والا ہے۔ گردن کی شہ رگ۔

والابھڑان۔ قلب سے نکلنے والی دو رگیں جن سے شراین شاخ درشاخ ہو گئی ہیں۔ اسی سے یہ قول ہے: مَا زَالَ يُرَاجِعُهُ الْأَلَمُ حَتَّى قَطَعَ ابھڑق یعنی اس کو دکھ برابر پہنچتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کو ہلاک ہی کر دیا۔

البھڑ شیر۔ الابھڑ۔ پزندوں کے وہ پرچہ خروانی اور کلی کے درمیان ہوتے ہیں۔ پہلے بڑے پروں کو قوادم کہتے ہیں، اس کے بعد والوں کو مٹناکب، اس کے بعد والوں کو

آباہرا ماسکل اخیر والوں کو کہتے ہیں بھڑق۔ الدماق۔ حق خون باطل کرنا۔ المکان۔ کسی جگہ کو نفاہ عام کے لیے کرنا۔ بھڑالہ دلیل۔ رسنا کا سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔

بھڑق۔ بھڑق کرنا۔ المرواق۔ عورت کا آراستہ ہونا۔ المکان۔ کسی جگہ کی چراگاہ کا نفاہ عام کے لیے ہونا۔ البھڑق۔ باطل، بدی۔ کہتے ہیں: لَوْ لَوْ بھڑق۔ مٹی رومی ہیں۔ کھوٹا درہم۔

مکان بھڑق۔ رفاہ عام کی جگہ، تھکن کی جگہ۔

بھڑق۔ بھڑق سے اگڑتے ہوئے چلنا۔ بھڑق۔ بھڑق۔ شجرہ۔ بالوں کو مندی سے رنگنا۔

بھڑق۔ مندی سے سرخ ہونا۔ البھڑق۔ ہم۔ برہمنوں کی عبادت۔

البھڑق۔ مندی۔ بھڑق (د)، بھڑق اور بھڑق۔ سختی سے ہٹانا۔ غالب آنا۔

البھڑق سختی سے ہٹانے والا۔ بھڑق (د)، بھڑق۔ علیہ۔ دلیری کرنا۔

بھڑق الیہ (د)، بھڑق۔ خوشی سے کسی کی طرف رخ کرنا۔ کسی کا مشتاق ہونا۔

بھڑق الیہ۔ لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ البکاء۔ رونے کے لیے تیار ہونا۔

عندہ۔ چھان بین کرنا۔ بھڑق و بھڑق۔ القوم۔ لوگوں کا جمع ہونا۔

البھڑق۔ مہ۔ ترگوگل اور گوگل ایک دھت کا پھل ہے رجل بھڑق۔ شکفتہ پیشانی والا آدمی۔

بھڑق (د)، بھڑق۔ پیاسا ہونا۔ البھڑق۔ پیاس۔

بھڑق تبھڑق۔ کپڑے اتار کر جوئے میں بازی پر لگانا۔ بھڑق القوم میں مالہم۔ نکالنا۔ علمدہ کرنا۔

البھڑق۔ بہت سخت۔ بھڑق (د)، بھڑق اور بھڑق۔ الحمل او الامو۔ بوجھل کرنا۔ مشقت کا سبب بننا۔

البھڑق حوضہ۔ حوض بھرنا۔ البھڑق۔ مؤنث۔ مشقت و اذیت کا سبب و باعث۔ مصیبت۔

البھڑق۔ طاقت سے زیادہ تکلیف دینا۔ البھڑق۔ مٹی رومی ہیں۔ کھوٹا درہم۔

بھڑق۔ مٹی رومی ہیں۔ کھوٹا درہم۔

بھڑق۔ مٹی رومی ہیں۔ کھوٹا درہم۔

بھڑق۔ مٹی رومی ہیں۔ کھوٹا درہم۔

بھڑق (د)، بھڑق۔ الدجل۔ سونا۔ صفت (بنا بھڑق)۔

البھڑق۔ بلا، بیماری۔ برص، جسم پر سفید داغ چھینپ۔

بھڑق الحجر۔ کائی سے مشابہ چٹانوں پر پھوٹنے والی ایک قسم کی گھاس۔

بھڑق بھڑق۔ فی العہل۔ جلدی کرنا۔ البھڑق۔ نازک اندام پر گوشت جو ان۔

شباب بھڑق۔ نئی جوانی۔ البھڑق۔ نازک اندام پر گوشت جو ان۔

شباب بھڑق۔ نئی جوانی۔ بھڑق (د)، بھڑق۔ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا

لعنت بھیجنا۔ وابھڑق۔ چھوڑنا۔ و استبھڑق۔ الوالی رعیتہ۔ والی کا رعایا کو آزاد چھوڑ دینا۔ بھڑق العاقۃ

اوٹنی کے تھن کھل کر بچہ کو دودھ پینے دینا۔ ابھڑق۔ الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بجز و انکساری دعا کرنا۔

بناہل۔ بعضہم بعضا۔ ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔

تبھڑقوا و بناہلوا۔ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔

ابھڑق۔ ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ البھڑق والی بھڑق۔ لعنت۔

البناہل۔ پس پیش کرنے والا۔ بغیر کسی کام کے آنے جانے والا بغیر لاپٹی والا کڈیریا۔ بے ہمتیار۔ ناقہ بناہل۔ وہ اونٹنی جس کے تھنوں پر کوئی بندش نہ ہو۔ جو۔

بھڑق و بھڑق۔ البھڑق۔ بہت ہنسنے والا۔ جامع القفائل سردار۔ جو۔ بھڑق۔

البھڑق۔ مٹی رومی ہیں۔ کھوٹا درہم۔ بھڑق بھڑق۔ بھڑق کرنا۔ ڈینگ مارنا۔ بھڑق بھڑق۔ بھڑق کرنا۔

بھڑق۔ بھڑق کرنا۔ بھڑق بھڑق۔ بھڑق کرنا۔

بھڑق۔ بھڑق کرنا۔ بھڑق بھڑق۔ بھڑق کرنا۔

بھڑق۔ بھڑق کرنا۔ بھڑق بھڑق۔ بھڑق کرنا۔

بھڑق۔ بھڑق کرنا۔ بھڑق بھڑق۔ بھڑق کرنا۔

<p>سیدھا کرنا۔ تانا۔ بَعَاۗہ وَّبَوَّۗا لَہٗ مَنۡزِلًا۔ اس نے اس کے رہنے کے لیے مکان تیار کیا۔ آبَاء۔ منہ۔ بھاگنا۔ بالمکان۔ اقامت کرنا۔ الشیءُ وِیَالشیءِ الیہِ وعلیہ لوٹانا۔ کوئی چیز واپس کرنا۔ ہ مَنۡزِلًا وِیَال مَنۡزِل۔ گھر میں اتارنا۔ القَاتِل بِالْقَتِیل۔ مقتول کے بدلہ میں قاتل کو قتل کرنا۔ تَبَوَّۗا۔ المکان و بہ۔ کسی جگہ اقامت اختیار کرنا۔ تَبَاوَّۗا۔ الشَّیْءَان۔ دو چیزوں کا مساوی ہونا لَا سْتَبَاءَ۔ المَنۡزِل۔ کسی مکان میں اقامت پذیر ہونا۔ القَاتِل بِالْقَتِیل۔ قاتل کو مقتول کے عوض قتل کرنا۔ الْبَاعۃُ وَ الِیۡئِئۃُ وَ المَبۡوۗا وَ المَبَاعۃُ گھر۔ مکان، مراٹے۔ الِیۡئِئۃ۔ حالت۔ کہتے ہیں "اِنَّہٗ حَسَن الِیۡئِئۃ" وہ اچھی حالت والا ہے۔ حَاجۃٌ مَّیۡئۃ۔ حاجت سخت و شدید۔ بَابِ (دِن) بَوَّیَّا۔ لہ۔ کسی کا دربان ہونا۔ بَوَّیَّب۔ الکتَاب۔ کتاب کو ابواب پر تقسیم کرنا۔ تَبَوَّیَّب۔ الرَّجُل۔ کسی کو دربان بنانا۔ البَاب۔ دروازہ۔ مِنَ الِکِتَاب۔ کتاب کا باب۔ ج۔ ابواب و یَبَاب۔ البَابِئۃ۔ فی الحَاسِبِ وَ الحُدُود۔ غایت انتہا، شرط۔ قَم۔ عادت۔ کہتے ہیں۔ "هٰذَا شَیْءٌ مِّنۡ بَابِئۃ" یہ چیز تمہارے لیے موزوں و مناسب ہے۔ ج۔ ہَا بَات۔ بَابَات الِکِتَاب۔ کتاب کی سطریں۔ الْبَوَّاب۔ دربان۔ الْبَوَّابِئۃ۔ پیشہ دربانی۔ دربانی کی اجرت۔</p>	<p>الْبَحَّانۃ۔ اچھی طبیعت کی عورت۔ گفتگو میں نرم۔ تَبَحَّس۔ نازعانداز سے چلنا۔ اتر کر چلنا۔ الْبَحَّس۔ شِیر۔ بَحَّادِن۔ بَحَّی (دس) وَ بَحَّوْرک، بَحَّاء۔ حسین و خوش شکل ہونا۔ ظریف ہونا۔ صفت (دبھی) مَوْرَث، بَحَّیۃ۔ بَحَّاه خوبصورتی میں غالب آنا۔ بَحَّی (دس) بَحَّی۔ البیت۔ ویران ہونا۔ خالی ہونا۔ بَحَّی۔ البیت۔ گھر کو کشادہ کرنا۔ بَاہَاۃ۔ فی الحُسَین۔ حُسن و خوبی میں کسی پر فخر کرنا۔ آبَہی۔ خوبصورت چہرہ والا ہونا۔ الاناء بتن خالی کرنا۔ الخیل۔ گھوڑے کو جنگ کے کام میں نہ لینا۔ ابْتَهی۔ بہ۔ فخر کرنا۔ تَبَاہُوا۔ یا ہم فخر کرنا۔ الْبَحَّو۔ گروں اور خیموں کے سامنے کا وہ مکان جو مسافروں اور مہمانوں کی فودگا ہو۔ ملاقات کا گھر۔ ج۔ اَجَّہَا وَ بَحَّو وَ بَحَّی۔ بَاۃُ یَبُوۗہ بَوَّاءُ۔ الیہ۔ لوٹنا۔ بَاۃ وَبَاۃ بہ۔ لوٹانا۔ بِالْحَقِّ او بِالذَّنْب۔ اقرار کرنا۔ بَلَغَانُ بَلَغَانِ بَوَّاء۔ بدلہ میں قتل کیا جانا۔ کہتے ہیں: دَمٌ بَوَّاء دَمٌ: خون، خون کے برابر۔ بُوۗہ بہ۔ یعنی ان میں سے ہو جا جو اس کے عوض میں مارے جائیں گے اور مہلک کا کلام بچیر کے لیے اسی سے ہے۔ بُوۗہ بِشِئۃ نعل کلّیب۔ یعنی کلّیب کے جوڑے کے تسمہ کے برابر ہو جا۔ بَوَّۗا۔ المکان۔ کسی جگہ اتارنا۔ ٹھہرنا۔ الرُّمَّعَ نَحْوہ۔ نیزہ کسی کی طرف</p>	<p>الْبَحَّالِیق۔ جھوٹی باتیں۔ بَحَّالِق۔ سستی۔ بلا۔ بَحَّہ۔ بالمکان۔ کہیں اقامت پذیر ہونا رہ پڑنا۔ الْبَحَّہ۔ ماں سے جدا کر کے چرانا۔ آبَحَّہ۔ الباب۔ دروازہ بند کرنا۔ الامر چھپانا۔ عَیۡن الامر۔ کسی کام سے بھٹانا۔ المکان۔ کسی جگہ کا بھی گھاس والی ہونا۔ وَبَحَّہ وَ اسْتَبَحَّہ۔ الامر علیہ۔ مشتبہ ہونا۔ دشوار و مشکل ہونا۔ اسْتَبَحَّہ۔ علیہ۔ خورچنے کی وجہ سے گفتگو پر قادر نہ ہونا۔ الْبَحَّہ وَ الْبَحَّہ وَ الْبَحَّام۔ گائے بیڑ بکری کے بچے۔ واحد الْبَحَّہ وَ الْبَحَّہ۔ الْبَحَّہ۔ وہ بہاد جس پر کسی ہمسرہ کا بس نہ چلے۔ چٹان۔ سخت و مشکل کام۔ ج بَحَّہ۔ الْبَحَّہ۔ مشکل امور۔ الْبَحَّیۃ۔ جو کی مانند ایک قسم کی نبات۔ الْبَحَّیۃ۔ سیاہ۔ کالا۔ فرس بَحَّیۃ۔ یک رنگ گھوڑا۔ لیل بَحَّیۃ۔ ساری تاریک رات۔ ج۔ بَحَّہ وَ بَحَّہ۔ الْبَحَّیۃ۔ برہنہ پایہ خشکی و تری کا علاوہ درندوں اور پہنوں کے۔ ج۔ بَحَّایۃ۔ الْبَحَّیۃ۔ برہنہ جس میں قوت گویائی نہ ہو۔ الْبَحَّہ۔ گونگا۔ ج۔ بَحَّہ۔ الْبَحَّام۔ انگوٹھا۔ مَوْرَث، کبھی مذکر بھی مستعمل ہوتا ہے۔ ج۔ آباہُہ وَ آباہِیۃ۔ المُبَّحَّہ۔ مفع۔ امر مَبَّحَّہ۔ انجان بات کلام مَبَّحَّہ غیر معروف کلام۔ طریق مَبَّحَّہ۔ بے دیکھا بھالا راستہ۔ حائِظ مَبَّحَّہ۔ وہ دیوار جس میں دروازہ نہ ہو۔ بَحَّت (دس) بَحَّنا۔ بہت خوش ہونا۔</p>
---	---	--

البوت - ایک پہاڑی گھاس ہے۔
 البوتقة والبودقة - کٹھالی۔
 بات دن، بوٹا و آبات و ابثات - الشئ
 وعن الشئ - بحث کرنا۔ کھود کرید
 کرنا۔
 بات المكان - کوئی جگہ کھود کر مٹی ملانا۔
 بات التراب - مٹی کو متفرق کرنا۔
 بات الرماد - راکھ بکھیرنا۔
 استبات - التراب - مٹی نکالنا۔ کتے
 ہیں "ترك دارهم حوث بوث"
 یعنی ان کے گھروں کو چوپاؤں کے
 کھروں اور ٹاپوں سے کھدوا کر ویران و
 خراب کر دیا۔
 باج دن، بوجا - المشرف لانا۔ کسی پر
 مصیبت آپڑنا۔ گرنا۔ نازل ہونا۔
 البرق - بجلی کا چمکنا۔ البعير
 اونٹ کا ٹھکانا۔
 الباج و تبوج - البرق - بجلی کا چمکنا۔
 الباجت علیہم الدواھی مصیبتوں
 کا ٹوٹ پڑنا۔
 الباج - دیکھیے لفظ باج۔
 الباجت - اختلاط۔
 البایج - ران کی ایک رگ کا نام۔ ج
 بواجج۔
 البایجت - مصیبت۔ ج۔ بواجج۔
 البایجت - کشادہ ریگستان۔
 باج دن، بوخا و بوخا و بوخا -
 الشئ - کسی شے کا ظاہر ہونا۔ الیہ
 بالسر - کسی کے سامنے بھیڑنا ہر کرنا۔
 آباخ - السر - بھیڑنا ہر کرنا۔ کھولنا۔
 شینغا - کوئی چیز جائز ٹھہرانا۔
 الی باحی - وہ جو اپنے اور دوسروں کے
 لیے معامی کے ارتکاب کو جائز اور
 مامورات کے ترک کو روار کھے۔
 استباح - الشئ - کسی چیز کو مباح بنانا

یا شمار کرنا۔ کسی پر اقدام کرنا۔ القوم
 قوم کی بیخ کنی کرنا۔
 الی باحی - منوعات کو کرنے اور مامورات کو
 چھوڑنے کی اجازت دینے والا۔
 الباخة - پانی یا اس کی بڑی مقدار۔
 نخلستان، گھر کا صحن۔ آنگن۔
 باخة الطريق - راستہ کا بیخ۔ ج۔ بوج۔
 البواح - کھلم کھلا۔ آشکارا۔ کتے ہیں۔
 "فعلہ بواحا" اس نے اس کو
 کھلم کھلا کیا۔
 بوخک - کلمہ ترحم ہے۔
 البوؤس - دل کی باتوں کو کھول کر رکھ دینے والا۔
 البوخی - پچھاڑا ہوا۔ کتے ہیں "توکم بوخی"
 بوج - آفتاب کے لیے علم ہے۔
 البیاحة - مچھلی کا جال۔
 المییحہ - جائز بڑانے والا۔ شیر۔
 المباحہ - جائز۔ روا۔
 باخہ دن، بوخا۔ ٹھکانا۔ کتے ہیں "عدا
 حتی باخہ" دوڑا یہاں تک کہ ٹھک گیا۔
 - الحرد والغضب والنار حرات
 کا سرد ہونا۔ غصہ کا فرو ہونا۔ آگ کا
 بجھنا۔ ربوؤخا، اللحم - گوشت
 کا خراب ہونا۔
 آباخہ - انار۔ آگ بجا دینا، اور اسی سے
 ہے یہ کلام "أبج عنک الظہیرة"
 اس قدر ٹھہر کہ دوپہر کی گرمی کم ہو جائے۔
 بادون، بوخا۔ ظاہر کرنا۔
 البود۔ کنواں۔
 باذیبوؤ بوؤا - محتاج ہونا بتواضع ہونا
 بار دن، بوؤا و بوؤا۔ ہلاک ہونا۔
 السوق او السلعة - کساد بازاری
 ہونا۔ العمل باطل ہونا۔ الارض
 زمین کا بے کاشت کے رہنا۔ وابتار
 الرجل - تجربہ کرنا۔ آزمانا۔
 بوؤ - الارض - زمین کو غیر مزروعہ چھوڑنا۔

آبارہ - ہلاک ہونا۔
 تبوؤ - نفسہ۔ اپنی جان ہلاکت کے باعث
 نوحہ کرنا۔
 البایز بے کاشت کی زمین۔ غیر مزروعہ
 زمین۔ ج۔ بوؤ۔ کتے ہیں "حایر
 باؤؤ" یعنی نہ کسی مرشد کی اطاعت کرتا
 ہے نہ کسی چیز کی طرف توجہ دیتا ہے۔
 البوؤ - ہلاک ہونے والا بے غیر۔ کتے ہیں
 "امراؤ بوؤ و قوم بوؤ" ہلاک
 ہونے والی عورت یا قوم۔ رذکر و مؤنث
 واحد جمع کے لیے کوئی فرق نہیں۔
 البوؤ من الارض - غیر مزروعہ زمین۔
 کاشت سے خالی زمین۔
 البوؤ - غیر مزروعہ خراب زمین، آزمائش،
 ہلاکت، کساد بازاری۔
 البوار - ہلاکت۔ کساد بازاری۔ دار
 البوار - جہنم۔
 البورق - سہاگا۔ سوڈا۔
 البوریج - دریائی مچھلی کی ایک قسم۔
 البوریقہ والبوریقہ - چٹائی۔ بواری۔
 چٹائی بیچنے والا۔
 الباز - باز۔ جو ایک شکاری پرندہ ہے۔ ج۔
 بیزان و البواز۔
 البوز والبوزة - دودھ اور شکر کی جانی
 ہوئی برف۔ آیس کریم۔
 باسہ دن، بوؤسلا۔ بوسہ لینا۔
 البوسینو۔ بلا سیر۔
 البوسیطة - ڈاک خانہ۔
 باش دن، بوؤشا و بوؤش و تبوؤش -
 القوم۔ بل جل کر شور مچانا۔
 البوش والبوش - مخلوط گروہ۔ شور کرنے
 والی جماعت۔ کتے ہیں "تو کھہ
 ہوؤشا بوؤشا" یعنی اس نے ان کو
 مخلوط چھوڑ دیا۔ او باش اسی کی جمع
 مقلوب ہے۔

<p>موشی میں دبا پھیلنا۔ اَبَاقٌ - علیہم الشد شر اور برائی پہنچنا - بلہ کسی پر ظلم کرنا۔ البوق - بگل - ترسی - زسنگا - ج - ابواق و بیقان و بوقان - کتے ہیں بجاء بالبوق و نفع فی البوق ڈنگے کی چوٹ اعلان کرنا - بے ہودہ اور فضول بکنا۔ البوقہ - بارش کی سخت بوچھاڑ - ج - بوق الباقۃ - گلدستہ - سبزی کا مٹھا - ج - باقات البائِق - من المتاع - بے قیمت سامان - کتے ہیں - متاع بائِق یعنی بے قیمت سامان۔ البائِقۃ - مصیبت - شر اور برائی - کتے ہیں۔ ”رَفَعْتُ عَنْكَ بَائِقَةَ خَلْدٍ“ یعنی میں نے تجھ سے خلد کی لائی ہوئی مصیبت کوٹال دیا - ج - بوائِق۔ البواق - بگل بجانے والا۔ المبوق - باطل کلام۔ البوقیصاء - ایک قسم کا درخت۔ باک - دن - بؤگا - المتاع - بیچنا یا خریدنا۔ الامر - کسی معاملہ کا مخلوط ہونا۔ القوم رایسہ - اختلاف آراء کی وجہ سے کسی نتیجہ پر نہ پہنچنا۔ العجل - کسی سے مزاحم ہونا۔ انباک - علیہ الامر - کسی پر کوئی کام مشتبہ ہونا۔ بال - دن - بؤلا و مبالا - پیشاب کرنا۔ بؤلہ و آبالہ - پیشاب کرانا۔ البال - دل - کتے ہیں - ما خطر الامر بیالی - یہ بات میرے دل میں نہیں کٹتی - حال - کتے ہیں - فلان رخی البال - فلان اسودہ حال ہے - فلان کاسف البال - فلان بڑے حال والا جس چیز کا اہتمام کیا جائے - کتے ہیں۔</p>	<p>مقدار جو تقریباً ۶ فٹ ہوتی ہے۔ کتے میں - طویل الباع و رجب الباع بخیل - عاجز - ج - ابواع و باعات و بیعان۔ البوع - مع - معنی باع۔ البوع - پاؤں کے انگوٹھے کے پاس کی ہڈی - دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی مقدار - اسی سے یہ مثل ہے - لا یعرف کوعہ من بوعہ یعنی وہ بالکل ہی بیوقوف و جاہل ہے۔ باعۃ الدار - گھر کا صحن۔ البیع - دور دور قدم رکھنے والا۔ کتے ہیں - فرس بیع - دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔ بوعاء الطیب - خوشبو کی مگ۔ بأغہ دن، بؤغاً - غالب آنا - برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے - ”انک لعالم لا تباع“ یعنی تم ایسے عالم ہو جس کا کوئی مقابل و ہمسر نہیں۔ تبوع - الدم بہ - خون کا ہوش کھانا۔ فلاناً علیہ - کسی پر غالب آجانا۔ البوعاء - گرو وغبار - بوعاء الطیب خوشبو کی مگ۔ باق دن، بوقاً و بؤوقاً - شر اور جھگڑا اٹھانا - القوم - بے وفائی کرنا۔ دغا کرنا - چوری کرنا۔ بائت البائقة القوم - قوم کو مصیبت پہنچنا۔ باق القوم علیہ - جمع ہو کر کسی کو ظلماً قتل کرنا۔ بأقۃ السقیئۃ - کشتی کا ڈوبنا۔ باق الشی - غالب ہونا - ظاہر ہونا - خراب ہونا۔ بوق - فی البوق - بگل بجانا۔ تبوق - جھوٹ بولنا - الوباء فی الماشیۃ</p>	<p>البوشی و البوشی - بت بال بچے رکھنے والا - محتاج۔ باصہ دن، بؤصاً - پیش قدمی کرنا۔ آگے بڑھنا - مند - کسی سے بھاگ کر پوچھنا۔ - فی الامید - اصرار کرنا۔ بوص - میدان میں سبقت لے جانا - الشی - کسی چیز کا صاف رنگ والا ہونا۔ انباص - منقبض ہونا - سکڑنا۔ البوص - دوری - والبوص رنگ و صورت - شکل - چوڑ - رشیم یا کتان ج - ابواص۔ البوصی - ایک قسم کی کشتی۔ طریق بائص - لمبا راستہ - دور کا راستہ۔ باص دن، بؤصاً - جھائیاں پڑنے کے بعد خوشرو ہونا - بالمکان - کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ باط دن، بوطاً - امیری کے بعد غریبی یا عزت کے بعد ذلت ملنا۔ البوطۃ - کٹھالی - کپڑے وغیرہ کی گول گل کاری - ج - بوط۔ باط دن، بوطاً - لاغری کے بعد موٹا ہونا۔ باع دن، بوعاً - بخشش دینے کے لیے ہاتھ پھیلانا - الفرس - گھوڑے کا لیے لیے قدم رکھنا۔ وتبوع - الحبل - دونوں ہاتھوں کو لیے کر کے رسی کو ناپنا۔ باع و تبوع - للمساعی - باع پھیلاتا۔ انباغ - العرق - پسینہ بہ پڑنا - الحیۃ سانپ کا اپنے بدن کو جت کے لیے پھیلاتا - الشجاع من الصف - بہادر کا صف سے نکلنا - ظاہر ہونا - الرجل الیہ - کشادہ روئی سے بڑھنا - انباغ لہ فی البضاعۃ - بیچتے وقت قیمت میں رعایت برتنا۔ الباع - دونوں بازوؤں کے پھیلانے کی</p>
---	---	--

”لیس هذا من باری: یعنی یہ وہ چیز نہیں جس کی میں پرواہ کروں“ امر ذوبال: ایک قسم بالغان کام۔
”ما بالک تمھاری کیا حالت ہے۔

البال: ویل مچلی:

البالة: شیشی۔ خوشبو کی ڈبیہ۔

البول: پیشاب۔

البول: رکا۔

البولة: لڑکی۔

بول العجوز: شراب۔

البوال: ایک بیماری جس میں پیشاب

بکثرت آتا ہے۔

البولة: بست پیشاب کرنے والا۔

المبولة: وہ چیز جو پیشاب لانے کا سبب ہو

المبولة: پیشاب کرنے کا برتن۔ ہاشتی۔

البوليصه او البولصند: رسید۔ ہندی

ج۔ بوالیص۔

البولیس: پولیس۔ اس کی عربی شوطی

یا جلواز ہے۔ ج۔ شوط۔

البوم والبومة: اُودند کروٹ ہردو

کے لیے مستعمل ہیں، ج۔ ابوام۔

بانه دن، بوٹا۔ فضل و زیادتی میں غاب

آنا۔

البون والبون: دوری فضل۔ دو چیزوں کا

آپس میں فرق۔ یا دو چیزوں کے درمیان

کی مسافت۔

البونة: چھوٹی بچی۔

البان: ایک قسم کا درخت ہے۔ پتے اس کے

بید کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اس کے

نیچے سے خوشبودار تیل نکالا جاتا ہے۔

واضاس کا بانہ ہے اس کی دساری کے

باعث قد کو اسی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

البوان والبوان: خیر کھڑا کرنے کا ستون

ج۔ ابونة و بون و بون۔

بالادف نوبها۔ للشيء۔ سمجھا کتے

یہ: فلجھت و ما جھت للامر:

میں نے معاملہ کو نہیں سمجھا۔ ہاھہ

الدار۔ گھر کا صحن۔ آنگن۔

البوہة: مونٹ (البوہ) اُتو۔ یا اُلو کے

مشابہ کوئی پرندہ۔ بے وقوف شخص۔

دوات میں ڈالنے کی دھنکی ہوئی خشک

اون۔ جب سیاہی سے تر ہو جائے تو

وہ لیتھ ہے۔

البو۔ اونٹنی کا بچہ۔ بھس یا گھاس بھری

ہوئی اونٹنی کے بچہ کی کھال جس کو اونٹنی

کے سامنے کر کے اس کا دودھ دوتے

ہیں۔

بوی یبوی بیٹا۔ اپنے فعل میں دوسرے

کی نقل اتارنا

البوی: تقلید، نقل، امید۔ طبیعت، الم،

نفرت۔

البیب: نابدان۔ محض کی تالی۔

البیاب: سقہ جو لوگوں کو پانی پلاتا پھرے۔

بات رضس، بیٹا و بیاتا و بیوتہ و

مبیٹا و مباتا۔ فی المكان کسی جگہ

شب باشی کرنا۔ رات گزارنا۔ فلانا

و بہ و عندہ۔ کسی کے پاس رات

کے وقت آنا۔ یا رات ہو جانا کہتے ہیں

”بات یفعل کذا: جب کوئی رات

میں کچھ کام کرے، جس طرح دن میں کام

کرنے والے کے لیے کہتے ہیں۔ ظل

یفعلہ کذا:۔

بات یبیت بیٹا۔ الرجل۔ نکاح کرنا۔

الرجل۔ نکاح کرنا۔

بیت۔ الشیء۔ رات میں کچھ کرنا یا سوچ

بچار کرنا۔ العدو۔ شب خون مارنا۔

البیت۔ گھر بنانا۔ رایہ۔ اپنی

رانے پر بوقت شب سوچ بچار کرنا۔

بیت۔ الشیء کسی شے کا اندازہ کیا جانا۔

آباتہ۔ رات گزارنے دینا شب باشی

کرنا۔ کہتے ہیں۔ آباتہ اللہ احسن

بیتہ۔ یعنی آباتہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ

اس کو اچھا کہے۔

استببات۔ رات کی خوراک میا کرنا۔

البیت۔ ج۔ بیوت و آیات۔ وجہ۔

بیوتات و ابابیت۔ بعض کہتے ہیں کہ

بیوتات اور ابابیت اشرف کے لیے

مخصوص ہے، اس کی تصغیر بیوت ہے۔

گھر، مکان، شرافت۔ بیت الرجل۔

آدمی کے اہل و عیال۔ بیت الشعر۔

دو مہر عوں سے مرکب منظوم کلام۔ بیت

القصیدہ۔ قصیدہ کا چیدہ شعر۔ یا

شاعر کی غرض کو ظاہر کرنے والا شعر۔

بیت المقدس یا البیت المقدس

ملک شام میں ایک پرانا مقدس شہر بیت

المال۔ حکومت اسلامیہ کا خزانہ۔

بیت العنکبوت۔ مکڑی کا جالا۔

البیت العتیق و البیت الحرام۔ کعبہ

خریف۔ کہتے ہیں۔ ہو جاری بیت

بیت۔ وہ میرا میا پروسی ہے کہ اس کا

گھر میرے گھر سے ملا ہوا ہے

البیات۔ شب خون مارنا۔

البیت البیتہ۔ خوراک روزی۔ کہتے

ہیں۔ لہ بیتہ کیلچہ۔ یعنی اس کے پاس

صرف ایک رات کی خوراک ہے۔

البائت و البیوت۔ رات گزارنا جو پانی۔ پانی

یا دودھ سرد ہو گیا ہو کہتے ہیں اسقنی

من بیوت السقاء۔ یعنی مجھ کو رات کا

دو ماہرہ مشکیہ میں رکھا ہوا سرد دودھ

پلاؤ۔ بیوت، وہ معاملہ بھی کہلاتا ہے

جس پر صاحب معاملہ رات پر غور و خوض

سوچ بچار کرتا رہے ہو۔

البیوت۔ ایسا معاملہ جس کی وجہ سے صاحب

معاملہ رات سوچ بچار میں گزارے۔

بیوت بیوتہ۔ مضبوط دانت۔

المبیت - بات مہنے کی جگہ بخت باشی کی جگہ۔
 المبیۃ - من النساء۔ گھروالی اور شوہر
 والی عورت۔
 المنستیۃ - فقیر۔
 بادعن، بیڈا، بیڈا، بیڈا، بیڈا، بیڈا
 ہلاک ہوتا۔ بادت الشمس بیوذا
 سورج کا ڈوبنا۔
 آباقہ - ہلاک کرنا۔
 بیڈا - یہ ہمیشہ آتے اور اس کے معمول چلنے کی
 طرف مضاف ہو کر آتا ہے اور سوائے،
 مگر کے معنی دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔
 "فلان کثیر المال بیڈا لہ بنجیل"
 فلان شخص بہت مال والا ہے مگر بے بخیل
 بیجہ تپیجھا - بے - چپکے سے بھید بتلانا۔
 اللحد - کاٹنا اور تقسیم کرنا۔
 البیاض والبیاض - ایک قسم کی چھوٹی پھلی۔
 البیاضۃ - پھلی کا جال۔
 البیضان - راز ظاہر کرنے والا۔
 البیضاء - بیابان۔ ج۔ بیڈا و بیڈاوات
 البیضاء - پیادہ فوج۔ مفرد بیادی۔ پیدل
 سپاہی۔
 البیضاء - جنگلی گدھی۔
 البیڈار - المخطی - گیہوں کا ڈھیر لگانا۔
 البیڈار - خرمن۔ کھلیان۔
 البیڈق - ایک فشکاری پرندہ
 البیڈق - سفر کا رہنا۔ پیدل چلنے والا اور
 اسی سے بیڈق الشطرینج بشرط
 کا پیادہ۔ ج۔ بیڈق۔
 البیرق - جھنڈا۔ ج۔ بیارق۔ بیرق
 دار۔ جھنڈا بروار۔
 البیرومون والبارامون - نعرانیوں کی
 عید میلاد سے پہلے کا دن۔
 البیزار - باز رکھنے والا۔ کاشتکار۔ ج۔ بیزارۃ۔
 البیڈرہ - کاشتکاری۔ باز رکھوالی۔
 بیٹش - اللہ و جہنم۔ اللہ اس کو خوبصورت

بنائے۔
 اباش الشجرة۔ درخت لگانا۔ اسکی جڑ بٹھانا۔
 البیش - ایک قسم کی زہریلی گھاس۔
 البیش - ج۔ آبیش، اس گڑھے کا بھی نام ہے
 جس میں پودہ لگایا جاتا ہے۔
 البیض والبیض - سخت، تنگی، کتے ہیں۔
 "وقعوا فی حیض و بیض" وہ سختی و
 تنگی میں پڑے۔
 باض رض، بیضا۔ الطائر۔ پرندہ کا انڈا
 دینا۔ صفت بالیض (مذکر و مؤنث ہر دو
 کے لیے) ج۔ بوايض - اور اسم مبالغہ
 بیوض - ج۔ بیض و بیض - باض
 الحر۔ گرمی کا سخت اور تیز ہونا۔ فلانا
 کسی پر سفیدی میں غالب ہونا۔ السحاب
 بادل کا برستا۔ بالمكان۔ کسی جگہ اقامت
 پذیر ہونا۔ بیضہ - سفید کرنا اور اسی
 سے ہے۔ تبیض الکتابۃ یعنی مسودہ کو
 صاف کر کے لکھنا۔ تبیض الآنیۃ۔ برتن
 پر قلعی کرنا۔ کہتے ہیں "تبیض اللہ
 وجہہ" اللہ اس کے چہرہ کو روشن کرے
 آیاضت المرأة - عورت کا گدھے بچے جننا۔
 بایضہ - سفیدی میں کسی سے بڑھنا۔
 ابتاض - خود پننا۔ القوم۔ قوم کو فنا کر دینا
 قوم کے میدان میں گھس پڑنا۔
 ابیض و ابیاض - سفید ہونا۔
 البیاض - سفیدی۔ دودھ۔ بیاض العین
 آنکھ کی سفیدی، بیاض البیضۃ، اندھے
 کی سفیدی۔ بیاض الجلد بے بال چڑا
 بیاض الوجہ - شہرت، نیک نامی۔
 بیاض النهار - دن کی روشنی۔ بیاض
 ایوم - تمام دن۔ بیاض الارض - عمارت
 سے خالی زمین۔ بیاض البطن - گدھے کی
 چربی۔ کہتے ہیں "فلان یلبس السوداء
 والبیاض" وہ سیاہ و سفید پہنتا ہے۔
 اور کبھی سواد کو فساد کے لیے اور بیاض کو

صلاح کے لیے مثال ٹھہراتے ہیں۔
 البیضۃ - البیض کا واحد انڈا۔ ج
 بیضات اور بیض کی جمع بیوض ہے۔
 خصیہ، خود۔ بیضۃ القوم۔ چوپال۔
 بیضۃ البلد - چودھری۔ فہر کا کھمبیا۔ گھام
 نسب والا۔ بیضۃ الریک - درخ کا انڈا
 نامکن الحصول شے کے لیے یہ مستعمل ہوتا ہے
 یا اس جگہ کے لیے جو ایک ہی مرتبہ پائی گئی ہو۔
 بیضۃ الحر۔ گرمی کی شدت۔ الحذر
 رطکی۔ العقور۔ آخری اولاد۔
 الابيض - مورت بیضاء - ج۔ بیض - سفید
 تلوار۔ الموت الابيض - اچانک موت
 والحیض الابيض - صبح کی پہلی شعاع۔ الیڈ
 البیضاء - نعمت و احسان۔ کہتے ہیں۔
 "آتیۃ فی بیضاء القیظ" میں اس
 کے پاس سخت گرمی میں آیا کلمتہ۔ فما
 رد علی بیضاء والاسوداء یعنی
 میں نے اس سے گفتگو کی مگر اس نے اچھا
 برا کوئی لفظ نہیں نکالا۔
 الیالی البیض تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں
 راتیں یعنی چاندنی راتیں، ایام البیض
 انھیں راتوں کے دن۔
 الابيضان، دودھ اور پانی یا دودھ اور چربی
 یا روٹی اور پانی۔ کہتے ہیں "ما رأیتہ منذ
 ابیضان" میں نے اس کو دو ماہ یا دو
 دن سے نہیں دیکھا۔ اور "هذا ابیض
 من ذاک" کہنا شاذ ہے کیونکہ قیاس کی رو
 سے اشد بیاضاً ہونا چاہیے۔
 البیاضۃ - بہت انڈوں والا۔
 البیضان - من الناس - گورے لوگ۔
 باظ رض، بیضا۔ لاغری کے بعد موٹا ہونا۔
 البیض - چھوٹی کے انڈے۔
 باع رض، بیجا و مبیجا۔ فلانا کتاباً او
 من فلان کتاباً کسی کو کتاب دے کر
 قیمت لے لینا دیکھنا، یا کسی سے کتاب لے

<p>اِسْتَبَانَ - الشَّيْءُ - واضح ہونا۔ الشَّيْءُ بِكَيْفِيَّةٍ شے کی وضاحت چاہنا بَيْنَ: طرف یعنی وسط درمیان۔ بَيْنَ بَيْنٍ۔ دونوں کلمے میں برقی ہیں، اچھے اور برے کے درمیان کھڑے ہیں۔ بینا و بینا نحن نعرب یعنی بین اوقات ہونے کا۔ گویا الف یا ما کو اوقات کے عرصے میں لاتے ہیں۔ الْبَيْنُ: جدائی، وصل، کتے ہیں۔ كَقَطْعَةٍ بینیہا: ان کے میل ملاپ میں فصل واقع ہو گیا، ان کا آپس کا تعلق ٹوٹ گیا۔ ذات الْبَيْنِ: نسب، قرابت، دوستی، عداوت فساد کتے ہیں۔ سعی فی اصلاح ذات بینیہا: یعنی ان کے حالات کی اصلاح میں کوشش کی۔ الْبَيْنُ: کونہ، گوشہ، دوز میزوں کے درمیان کا فاصلہ حد نظر تک زمین کا ٹکڑا۔ ج۔ بیوت۔ ترکی زبان میں بین کے معنی ہزار کے ہیں چنانچہ بین بائیں کے معنی ہیں، ہزار کا سوار۔ الْبَيَانُ: صم، فصیح گفتگو جو مافی الضمیر کو ظاہر کرے الْبَائِنَةُ: البائین کا مؤنث۔ دلہن کا ہمیر۔ الْبَائِنَةُ: گراکنواں۔ الْبَيْتَةُ: دلیل و حجت۔ ج۔ بَيِّنَات بَاةٌ بَيِّنَةٌ بَيِّنَةٌ: لہ: مطلع ہونا۔ واقف ہونا۔ جاننا۔</p>	<p>جلدی چلنا۔ نامعلوم جگہ کی طرف جانا۔ فی مالہ، اپنے مال کو تیزی سے اڑا ڈالنا۔ برہا د کرنا۔ الدار۔ گھر میں اترنا۔ الْبَيْقُورُ بے فیض آدمی۔ بے خبر شخص۔ الْبَيْكَارُ: پرکار۔ الْبَيْلَسَانُ وَالْبَيْلَسَانُ: ایک قسم کا درخت ہے جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔ الْبِيَارِستان و المارستان: شرفا خانہ، ہسپتال اس کے لیے عربی لفظ مُسْتَشْفًى ہے۔ بَانَ رَضٍ، بَيْنًا وَبَيْنًا وَبَيْنًا وَبَيْنًا: ظاہر ہونا واضح ہونا۔ صفت دیتے و بایں، ج اِبْتِئَاءٌ وَبَيْعًا وَآبِيَانُ۔ آبَانُ - الشَّيْءُ: واضح کرنا، ظاہر کرنا، کاٹنا، جدا کرنا۔ الشَّيْءُ: واضح ہونا، صفت دہینے، کتے ہیں۔ صَوْبَهُ فَايَانُ راسه من جسدہ: یعنی اس نے اس کو ماہر کر اس کے سر کو تن سے جدا کیا۔ بَيْنُ - الشَّيْءُ: واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ الشَّجَرُ درخت کا پتے لانا۔ الشَّيْءُ: کسی شے کو ظاہر کرنا واضح کرنا۔ الْبَيْتُ: لڑکی کا نکاح کرنا۔ بَايِنَةٌ: چھوڑ کر جدا ہونا۔ تَبِيْنُ - الشَّيْءُ: واضح کرنا۔ غور و تامل کرنا تَبَايِنًا: ایک دوسرے کو چھوڑنا، ایک دوسرے سے دور ہونا۔ تَبَايِنُ الشَّيْئَانِ: باہم متفاوت ہونا</p>	<p>کر قیمت دینا (خریدنا) صفت (با ثَم) ج باعۃ: صفت مفعولی۔ (صَبِيْعٌ، بَايَعَهُ صَبَايَعَةً: کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا۔ باہم معاہدہ کرنا۔ کتے ہیں "بَايَعُوهُ بِالْخِلَافَةِ وَبُؤْيَعُ لَهُ بِالْخِلَافَةِ": لوگوں نے اس کی خلافت پر بیعت کی۔ لوگوں نے اس کی خلافت کو مان لیا اور تسلیم کر لیا۔ اَبَاَعُ - الشَّيْءُ: چیز کو فروختگی کے لیے پیش کرنا۔ تَبَايَعًا: باہم خرید و فروخت کرنا۔ اِبْتَاعُ - الشَّيْءُ: خریدنا۔ اِنْبَاعُ - الشَّيْءُ: خرچ ہونا۔ فروخت ہونا۔ اِسْتِبَاعٌ: کسی سے کچھ بکواتا۔ الْبَيْعُ: فروختگی۔ خرید۔ الْبَيْعَةُ: عہد و پیمان۔ الْبَيْعَةُ: کلیسا، گرجا۔ یہودیوں کا عبادت خانہ ج۔ بِيْعٌ وَبَيْعَاتٌ وَبَيْعَاتٌ۔ الْبَيْعَةُ: بیچنے کا سامان۔ اسباب فروختگی۔ ج۔ بَيِّعَاتٌ۔ الْبَيْعُ وَالْبَيْعُ: بیچنے والا۔ خریدار۔ بَاغٌ يَبِيْعٌ بَيْعًا وَتَبِيْعٌ - الدَمُ - خون کا جوش مارنا الْبَيْعَةُ: ایک قسم کی گھاس کا نام ہے بَيْقُورٌ - ٹھکنا۔ ہلاک، ہونا۔ سر جھکا کر جلدی</p>
--	---	---

(۴۰۰)

ت

<p>۱۔ مبالغہ کے لیے جیسے علامتہ دہت جاننے والا ۲۔ قم کے لیے جیسے تاملہ دغا کی قسم، ۳۔ کبھی حرف محذوف کے بدلے میں آتی ہے جیسے زنادقہ۔ زنادیق کی جمع۔ ۴۔ افعال کے وسط میں بھی زائد کی جاتی ہے جیسے اقتل۔ ۵۔ کبھی اسماء کے آخر میں آتی ہے۔ جیسے۔</p>	<p>فروع میں علامت مضارع ہو کر جیسے تَذَهَبُ روہ جاتی ہے یا تو جاتا ہے، تَذَهَبِيْنَ رُوْحًا جاتی ہے، ۲۔ اسم کے آخر میں علامت تانیث بن کر۔ جیسے قائمہ۔ (کھڑی ہونے والی) ۳۔ جنس جمع کے واحد کے لیے جیسے شَجَرَةٌ (ایک درخت)</p>	<p>ت: کئی طرح استعمال ہوتی ہے۔ ۱۔ فعل ماضی کے آخر میں تکلم اور مخاطب کی ضمیر ہو کر جیسے ذَهَبْتُ (میں گیا یا گئی)۔ ذَهَبْتُ (تو گیا، ذَهَبْتُ (تو گئی)، وغیرہ۔ ۲۔ فعل ماضی کے صیغہ واحد غائب میں مؤنث کی علامت بن کر جیسے ذَهَبْتُ (وہ گئی) ۳۔ فعل مضارع مخاطب اور مؤنث غائب کے</p>
---	---	---

استتبعہ پیچھے چلانا۔ پیچھے چلنے کے لیے کہنا۔
التبع۔ تابع۔ عاشق۔ کہا جاتا ہے "تھو تبع"
الکوم: وہ فیاضی کا عاشق و ولدانہ ہے۔
التبع۔ بہت تابعداری کرنے والا۔
التبعا۔ ج۔ تبعات و التباعات، ج۔
تباعات۔ تافان۔ ڈنڈ۔ کہتے ہیں "ہذا
الفعل تبعۃ": اس کام پر برائی پہنچنے
والی ہے۔
تبع۔ بافتراہان میں کالقب۔ ج۔ التبایعہ و
تبع۔ سایہ نمند کی بڑی کمی۔ ج۔ تبعایعہ۔
التبیع۔ مددگار۔ پیروی کرنے والا۔ ج۔
تباع۔ و تبعایعہ۔
التبایعۃ۔ تابع کا مؤنث۔ خادمہ۔ نوکرانی۔
جانتی۔
التابعی۔ تابع اور تابعہ کی جانب نسبت، شروع
اسلامی میں وہ مسلمان جس نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات کی
ہو اور اسلام پر مہرا ہو، اور صحابی وہ مسلمان
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور
آپ ہی کی صحبت میں زندہ رہا ہو۔
التباع۔ تابع کا مصدر اور کبھی صفت بن کر آتا
ہے۔ جیسے "شہدنا ہون ایا ما تابعا"
یعنی پے درپے۔
الاتباع۔ م۔ کسی ایسے کلمہ کا لانا جو ما قبل کلمہ
کے ہموزن ہو۔ جیسے کثیر۔ بشیر۔
خبیث۔ نبیث۔
التبع۔ تمباکو۔
تبعہ دن، تیل و آبلہ۔ الحب او الدھو۔
بیمار کر دینا۔ عقل زائل کر دینا۔ صفت مفعولی
دمتبول و تیل،
تبل و تابل و توبل۔ الطعام۔ کھانے میں
سالہ ڈالنا۔
التبل۔ م۔ کینہ۔ دشمنی کہتے ہیں "بینہما
تبل"۔ ان دونوں میں دشمنی و عداوت ہے
ج۔ آتبال و تبول۔

التابل و التابل و التابل۔ مسالہ۔ کھانے
کو مزیدار بنانے والا چیزیں۔ جیسے کالی
مرچ، زیرہ، وغیرہ۔
التبال۔ مسالہ بیچنے والا۔
التوبال۔ من النحاس و الحديد۔ تانبے اور
لوہے کے ذرات جو کوٹنے میں گریں۔
تبین رض، تبنا۔ الدابة۔ جانور کو بھوسہ کھلانا
تبین رس، تبنا و تبنا نلہ۔ سمجھ دار و ذکی ہونا
صفت (تبین)
تبین۔ بھوسہ گودام میں رکھنا۔ الرجل۔
آدمی کا ہار یک بن ہونا۔
تبتین۔ جاگھیا پننا۔ لنگوٹ باندھنا۔
التبین۔ بھوسہ۔ واحد تبینۃ۔ ج۔ آتبان۔
الیتبج۔ بھوسہ کے رنگ کا۔
التبان۔ بھوسہ بیچنے والا۔
التبان۔ لنگوٹ۔ نیکر۔ جاگھیا۔
تبادن، تبوا۔ جنگ کرنا۔ لوٹنا۔
التتو۔ تاتاری لوگ۔ واحد تتوی، کہتے ہیں
"جاء القوم تتوی و تتوی": لوگ پے درپے
آئے، اس کی اصل و تتوی ہے۔
التتن۔ تمباکو۔
تجدون، تجرا و تجارة و تاجر و تاجر و
التجو۔ سوداگری کرنا۔
التجارة۔ سوداگری۔ خرید و فروخت، سرمایہ۔
التاجر۔ سوداگر عرب شراب بیچنے والے کو تاجر
کہا کرتے تھے۔ ج۔ تاجر و تجار و تجور
کہتے ہیں "بصاعة تاجرة": بازار میں بکنے
والا سامان۔ ج۔ تاجر۔
المتجر۔ سوداگری۔ سرمایہ اور ساسی سے ہے۔
"وصعده فی متجرا الحدرا بحة"
المتجرة منطی، کہتے ہیں "ارض متجرة"
تجارتی ملک۔ ج۔ متاجر۔
تحت۔ نیچے۔ یہ مزد و مضاف ہو کر آتا ہے اور
مضاف نہ ہو تو مبنی بر صمہ ہوتا ہے۔ مثلاً
کہتے ہیں "جاء من تحت": ج۔ تحوت۔

التحوت۔ کینے لوگ۔
التحتانی۔ تحت کی جانب منسوب نیچے کی چیز۔
تحتہ۔ من مکانہ۔ جگہ سے حرکت دینا۔
کہتے ہیں "فلان لا یتحتہ من مکانہ"
فلان اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔
التحتہ۔ حرکت، تسمہ کی حرکت کی آواز۔
اتحفہ۔ الشیء و بالشیء۔ و راتحفہ بہ
ہدیہ دینا۔ تحفہ پیش کرنا۔
التحفۃ و التحفۃ۔ ہدیہ۔ بڑھیا قیمت کی نشے
ہر وہ نشے جو بطور لطف و مہربانی کسی کو
پیش کی جائے۔ ج۔ تحف۔
تحم دن، تحما۔ الثوب۔ کپڑے پر پیل بوٹے
ڈالنا۔ کالضنا۔ اتحم۔ اتحما ما۔ سخت
سیاہ بننا یا سرخی مائل سفید ہونا۔ صفت (تحم)
التاح۔ جولاہہ۔
الاتح۔ سخت سیاہ۔
تخر دن، تخریخۃ۔ العجین۔ گندھے ہوئے
آٹے میں خمیر لٹھنا۔ اس کا ترش ہونا۔
تخا۔ العجین او الطین گندھے ہوئے آٹے یا
مٹی میں پانی بڑھانا تاکہ وہ نرم ہو جائیں۔
آتخ۔ العجین۔ گندھے ہوئے آٹے کا خمیر بنانا
اس کو نرم کرنے کی غرض سے اس میں زیادہ
پانی ڈالنا۔
التخ۔ خمیر۔ تلون کا عصارہ (دچھڑ)۔
التخت۔ تخت۔ تخت۔ تخت الملك۔ تخت شاہی۔
تخت المملكة۔ دارالسلطنت، طاقتور مکان۔ ج۔
تخت۔
التختۃ۔ زبان کی نکت۔ بکلا پن،
التختاسم و التختانی۔ بکلا۔
تخذہ دس، تختا۔ لیلہ حد مقرر کرنا۔
تخذہ رض، تختا۔ حد مقرر کرنا۔
تخیم دس، تخما و اتخہ۔ بدبھنی ہونا۔
اتخہ۔ الطعام۔ کھانے کا بدبھنی پیدا کرنا۔
تاخہ۔ ملکی ملک۔ ایک ملک کی سرحد کا
دوسرے ملک کی سرحد سے متصل و ملحق ہونا۔

التَّارِيزُ وَالْقُدْرُجُ - ایک خوبصورت پنہ جس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ جو۔ تدارج۔
 تَرْدَةٌ رَنْ مِنْ تَرْدٍ وَتَرْدٌ - العظْمُ - ہڈی کا کٹ کر گنا۔ عن قومہ۔ اپنی قوم سے جدا ہونا۔ معد ہونا۔ وتَرْدٌ - الرجلُ - آدمی کا مونا اور ڈھیلا ہونا۔ صفت رتات آتوۃ - دور کرنا۔ آتویدہ - ہاتھ کاٹنا۔
 التَّرْوِ - اصل - بڑا معمار کا سوت۔
 التَّرْوِي - من الایدی - کٹا ہوا ہاتھ۔
 تَرْوِبُ دَسِ التَّرْوِبَا - المکان - جگہ کا زیادہ مٹی والا ہونا۔ نشئی - کسی چیز کے مٹی لگنا۔ جگہ کا زیادہ مٹی والا ہونا۔
 بَدَسِ، تَرْوِبًا وَتَرْوِبًا - الرجلُ - محتاج ہونا۔ صفت رَسِبٌ وَتَرْوِبٌ - ج۔
 تَرَابٌ - اور اس سے ہے یہ قول: تَرِبَ بَعْدَ انْ تَرِبَ - وہ غنی و مالدار ہونے کے بعد محتاج - پیر ہوا۔
 تَرِبٌ وَتَرِبٌ - ما - ابر ہونا۔ تہی دست و محتاج ہونا۔
 تَرِبٌ وَتَرِبٌ - الشیءُ - مٹی ڈالنا۔
 تَارِبَةٌ - ہم عصر ہونا۔ دوست ہونا۔
 التَّرَابُ - ہم عصر ہونا۔ دوست، ساتھی - ج۔
 التَّرَابُ - اس کا استعمال اکثر مؤنث میں ہوتا ہے کہتے ہیں: ہذہ تَرِبٌ فَلَانَةٌ یہ عورت نکال کی ہم عمر ہے۔
 تَتَرَوَّبٌ - مٹی ہونا۔ خاک آلود ہونا۔
 التَّرَابُ - مٹی - ج۔ آتربۃ و تروبان۔
 التَّرِبُ وَالتَّرِبُ - مٹی۔
 التَّرِبَاءُ - مٹی، زمین کہتے ہیں: بیٹھنا ما بین الجرباء و الترباء - یعنی ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین جیسا فرق ہے۔
 التَّرِبَةُ - مٹی قبرستان - ج۔ تَرِبٌ - تَرِبَةٌ - الانسان - انسان کی قبر۔
 التَّرِبُ - فقیر و محتربۃ - خاک اٹانے والا۔

لحم تَرِبٌ - خاک لاگوشت مکان
 تَرِبٌ - بہت مٹی والی جگہ۔
 التَّرِبَةُ - ج۔ تَرِبٌ - ایک قسم کی گھاس - ج۔
 تَرِبَاتٌ - انگلیوں کے پورے۔
 التَّرِبِيَّةُ - سینہ کی ہڈی - سینہ کا بالائی حصہ۔
 تَرِبَةُ البعير - اونٹ کے سر کی جگہ۔
 ج۔ تَرَابٌ۔
 المَتْرِبَةُ - فقر و فاقہ کہتے ہیں: مسکینٌ ذُو مَتْرِبَةٍ - خاک آلود مسکین۔
 تَرْتَرَةٌ تَرْتَرَةٌ - جلدی جلدی اور بہت بولنا۔
 گفتگو میں نرم اور بدن میں ڈھیلا ہونا۔
 الشیءُ - خوب بلانا۔
 تَتَرَوَّرٌ - بل جانا۔
 التَّرَاتِرُ - سختیاں۔
 تَرَجٌّ دَسِ، تَرَجًا - الرجلُ - مشکل پانا۔
 تَرَجٌّ دَسِ، تَرَجًا - چھینا۔ پوشیدہ ہونا۔
 التَّرْوِجُ - مضبوط پٹھوں والا۔ موت: تَرْوِجَةٌ کہتے ہیں: رِيْمَةٌ تَرْوِجَةٌ - تیز و تند ہوا۔
 تَرَجْمَةٌ - الکلام - ترجمہ کرنا۔ صفت تَرَجْمَانٌ وَتَرَجْمَانٌ - ج۔ تَرَجْمَةٌ وَتَرَجْمٌ - الرجلُ - کسی شخص کے عادات و خصائل بیان کرنا۔ عند کسی کے معاملہ کو واضح کرنا۔
 کہتے ہیں: تَرَجْمَةٌ بالترکیۃ - اس نے اس کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا۔
 تَرَجْمَةٌ - الکلام - کلام کا مستنبہ ہونا۔
 التَّرَجْمَةُ - ترجمہ کسی شخص کی سوانح حیات - ج۔
 تَرَجْمٌ - ترجمہ کتاب - کتاب کا دیباچہ۔
 تَرَجٌّ دَسِ، تَرَجًا وَتَرَجْمٌ - ہمیں ہونا۔
 تَرَجْمًا وَتَرَجْمًا - ہمیں کرنا۔
 التَّرْوَجُ - غم، سنج، محتاجی فقیری - ج۔ اتواج
 التَّرْوَجُ - کم خیر والا۔ بہت غمگین۔
 التَّرْوَجُ - معمولی ملت دودھ دینے والی اونٹنی - ج۔ مَتَارِجُ
 تَرْدٌ رَنْ، وَتَرْدٌ دَسِ، تَرْدًا وَتَرْدًا وَتَرْدًا - الشیءُ - خشک ہونا۔ سوک جانا

سخت ہونا۔ مضبوط ہونا۔ الماع - پانی کا جم جانا۔
 تَرْدَةٌ رَنْ، تَرْدًا - پچھاڑنا۔
 التَّرْدُ - الشیءُ - کسی فتنے کو سخت کرنا۔ خشک کرنا کہتے ہیں: الجرجی یترد لحم الدابة: دور جانور کے جسم کو سخت کر دیتی ہے۔
 التَّرَارُ - قوی۔ سخت، اور اسی سے ہے یہ قول: "ان عجینکم لتارذ" تمہارا خیر سخت ہے۔
 خشک چیز جس میں روح نہ ہو۔ مردہ۔
 التَّرَوَانُ - اچانک موت۔
 تَرَسَةٌ - کسی کو ڈھال پہنانا یا دینا (و تَرَسٌ، ڈھال پہنا۔ ڈھال سے حفاظت کرنا۔ صفت تَرَسٌ، کما جاتا ہے: "لا یستوی الراجل و الفارس و الاکشف و التارس پیدل اور سوار اور بے ڈھال والا برابر نہیں ہوتے۔
 التَّرَسُ - البانہ - دروازہ بند کرنا۔
 التَّرَسُ - بالترس او غیرہ۔ ڈھال وغیرہ سے اپنی حفاظت کرنا۔
 التَّرَسُ - ڈھال - ج۔ التَّرَسُ وَتَرَسٌ و تَرَسٌ وَتَرَسَةٌ - تَرَسُ الشمس - سورج کی لکیہ۔ کہتے ہیں: غَابَ تَرَسُ الشمس؛
 التَّرَسُ وَالتَّرَسَةُ - ج۔ مَتَارِسٌ (و التَّرَسُ، ج۔ مَتَارِيسٌ - دروازہ کے پیچھے لگانے کا ڈنڈا۔ مورچہ۔ کھائی۔
 التَّرَسُ - ڈھال بنانے والا۔ ڈھال والا۔
 التَّرَاسَةُ - ڈھال بنانے کا پیشہ۔
 التَّرَسَانَةُ وَالتَّرَسَانَةُ - اسلحہ خانہ۔
 جہاز سازی کا کارخانہ۔
 تَرَسٌ دَسِ، تَرَسًا - بدخلق ہونا۔ صفت (تَرَسٌ) تَرَسٌ دَسِ، تَرَسًا - الشیءُ - چیز کا مضبوط ہونا۔ سیدھا ہونا۔ صفت (تَرَسٌ) تَرَسٌ وَتَرَسٌ - المیزان - ترازو کا سیدھا کرنا صفت مفعولاً (تَرَسٌ) کہتے ہیں: "اترص میزانک قالہ شاکل" اپنی ترازو ٹھیک کرنے کیونکہ اس کا پلاٹا اٹھا

ڈالنا۔

الْبَيْكَةُ - ازار بند۔ ناوا۔ ج۔ بیک۔

الْبَيْكَةُ - پانچامہ میں ازار بند ڈالنے کی سلائی۔

الْبَيْكَةُ - ازار بند بیچنے والا۔ یا بنانے والا۔

تَلَا - مادہ "و" میں تلاش کیجیے۔

تَلَاكَ تَلَاكَ تَلَاكَ - روند کر کھل دینا۔ ٹکڑے

ٹکڑے کرنا۔ السَّاعَةُ - گھڑی کا ٹک

ٹک کرنا۔

تَنَكَلَ - دیکھیے مادہ "و" ل۔

تَلَّهْ دَن، تَلَّهْ - پچھاڑنا۔ الشَّيْءُ الْيَدِي -

بھٹانا۔ دَفْعَ كَرْنَا - الْجِبَلِ فِي الْبَيْتِ -

کنویں میں رسی لٹکانا۔ الشَّيْءُ فِي يَدِي -

کوئی چیز ہاتھ میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے۔

"تَلَّهْ يَتَلَّهْ سَوْءٌ" اس نے اس

پر بُرے فعل کی تہمت لگائی۔ الیہ

کسی کے سامنے عاجزی کرنا۔ گڑا گڑانا۔

أَتَلَّ - الدَّائِيَةُ - جانور کو باندھنا۔ کھینچنا۔

التَّلَّالُ وَالتَّلَّالَةُ - گراہی۔

التَّلَّالُ - مِنَ الْأَرْضِ - ٹیلہ۔ ج۔ تلال و

تُلُولٌ - وَاحِدٌ تَلَّةٌ -

التَّلَّةُ - حالت دو التَّلَّةُ، بیٹنے کا طریقہ

یا اس کی حالت۔ گرنے کی حالت۔ اور

کہا جاتا ہے۔ "فِي خَلْقِهِ تَلَّةٌ" اس

کی رشت میں سستی ہے۔

التَّلَّيْلُ - ج۔ آتَلَّ وَتَلَّ وَتَلَّوَيْلٌ -

گردن۔ ج۔ تلی۔ پچھاڑا ہوا۔

الْمِثْلُ - وہ چیز جس سے کسی کو پچھاڑا جائے

کہا جاتا ہے۔ "رَمَحَ مِثْلُ" سیدھا

اور سخت نیزہ۔ قوی اور مضبوط آدمی

یا اونٹ۔

التَّلِّيُّ - ذبح کی ہوئی بکری۔

التَّلَّابُ - لَاتِلُتَابًا - الاصول۔ کام کا

درست ہونا۔ ایجاز۔ گدھے کا سر، و

سینہ اٹھانا کہتے ہیں۔ "قِيَاسٌ مُتَلَبِّبٌ"

ایکسی قسم کا قیاس۔ طریقی مُتَلَبِّبٌ

لمبا اور سیدھا راستہ۔

التَّلَبُّ - نقصان۔ ٹوٹا۔ کہتے ہیں۔ تَبَّالَهُ

وَتَلَّبًا - یعنی اللہ نقصان و ہلاکت اس

کے لازم کرے۔

الْمَتَالِبُ - ہلاکت کی جگہیں۔ غلام مویشی وغیرہ

کا گھر میں پیدا شدہ ہونا۔

التَّالِبُ - پہاڑی بکرا۔

التَّوَلَّبُ - گدھے کا بچہ۔ ج۔ تَوَالِبُ -

أُمُّ تَوَلَّبٌ - گدھی۔

تَلَدَ رَضَانٌ تَلُودًا - المَالُ كَالْأَبْلِ وَ

الْغَمُّ - پرانا مقبوضہ ہونا۔ صفت رَتَالِدًا

وَتَلَدٌ وَتَلَدٌ وَتَلَدٌ وَتَلَدٌ وَتَلِيدٌ،

اور اس کے خلاف ظارِفٌ وَطَرِيفٌ

ہے۔ دَن، وَتَلَدَ دَسٌ، فِي الْقَوْمِ -

وہاں مکان۔ قیام پذیر ہونا۔ اور کہتے

ہیں۔ "تَلَدَ فَلَاحٌ عِنْدَنَا" فلاں کے

محل یا پ ہمارے محل پیدا ہوئے۔

أَتَلَدَ - الرَّجُلُ - موروئی مال والا ہونا۔

مال حاصل کرنا۔ تَلَدَ - مال جمع کرنا۔

التَّلْدُ - عقاب کا چوزہ۔

التَّلْسُكُوبُ - دو زمین و جدید، اس کے

لیے عربی مَرَقَبٌ ہے۔

التَّلِيْسَةُ - خصیہ۔

تَلَّصَهُ تَلَّيْسًا - نرم و ہموار کرنا۔

تَلَعَ رَفٌ، تَلَعًا وَتَلُوعًا - النهار - دن

چڑھنا۔ المَضْحَى - چاشت کا وقت

ہونا۔ الرَّجُلُ أَوِ النَّجْبِيُّ - سربراہ

نکالنا۔

تَلَعَ دَسٌ، تَلَعًا - الأَفَاءُ - برتن کا بھرنا۔

تَلَعًا وَتَلَاوَعَةً - عُنُقًا - گردن کا

دراز ہونا۔ الرَّجُلُ - آدمی کا لمبی گردن

یا لمبے قد والا ہونا۔ صفت دَأْتَلَعُ وَ

تَلِيْعٌ

أَتَلَعُ وَتَعَالَعُ وَتَتَلَعُ - فِي وَشِيْتِهِ -

چلنے میں گردن لمبی کرنا۔

التَّلِيْعُ - ارد گرد بہت دیکھنے والا۔ اِنَاءٌ تَلِيْعٌ

بھرا ہوا برتن۔

التَّلَاعَةُ - بلند زمین، پست زمین۔ ج۔ تَلَعًا وَ

تَلَاعٌ وَتَلَعٌ -

تَلَعَتْ دَسٌ، تَلَعًا - ہلاک ہونا۔ فنا ہونا۔

التَّلِيْعُ - خوبصورت۔

التَّلِيْعَةُ - کشتی کا بادبان۔ ج۔ تَلِيْعَاتٌ -

أَتَلَعَهُ - ہلاک کرنا۔ برباد کرنا۔

التَّلِيْفَةُ - ہلاک ہونے والی چیز۔

الْمِتْلَافُ وَالتَّلَافُ - بہت تلف کرنے والا۔

الْمِتْلَفُ وَالمِتْلَفَةُ - تلف اور ہلاک ہونے

کی جگہ یا اس کا سبب۔ چٹیل میدان۔

تِلْكَ - مؤنث بعید کے لیے اسم اشارہ۔

التَّلْمَحُ - زمین میں ہل کی بنائی ہوئی نکیر۔ ج۔

اتلام۔

التَّلْمَحُ - لڑکا۔ کاشتکار رُسار رُسار کی لمبی

دھونکنی۔ ج۔ تلام۔

التَّلْمُودُ - یہودیوں کے احکام وین کی کتاب۔

تَلَمَدًا وَتَتَلَمَدًا - لفظین۔ کسی کا شاگرد

ہونا۔ تَلَمَدًا وَتَتَلَمَدًا - الولد - لڑکے

کو شاگرد بنانا۔

التَّلْمِيذُ - شاگرد۔ ج۔ تَلْمِيْذٌ وَتَلْمِيْذَةٌ -

التَّلْمِيْذَةُ وَالتَّلْمِيْذَةُ - حاجت۔

تَلِيْعَةُ دَسٌ، تَلِيْعًا - حِرَانٌ ہونا۔ المَشْيُ - چیز

کا تلف ہونا۔ تَلِيْعَةٌ وَتَلِيْعَةٌ - عند ہونا

کہتے ہیں۔ "رَجُلٌ تَلِيْعٌ الْعَقْلُ وَتَلَاوَعٌ"

العقل - ذہن کا عقل والا۔ کہوتی

ہوتی عقل والا۔

أَتَلَّهُ - المَشْيُ - تلف کرنا۔ برباد کرنا۔

تَلَاوَعٌ، تَلَاوَعًا - ج۔ تَلَاوَعًا -

چھوڑ دینا۔ کہا جاتا ہے۔ "تَلَاوَعًا"

تَلَاوَعًا - یعنی اس نے اپنی قوم کا ساتھ

چھوڑ دیا اور پیچھے رہ گیا۔ (تَلَاوَعًا)

الکتاب - کتاب پڑھنا۔

تَلِيٌّ دَسٌ، تَلِيٌّ - مَعْنَى الْعَهْدِ يَوْمٌ - مینہ کا

انجیہ۔ تعویذ ج۔ تمائمہ و تمائمات۔
 "اماطة التمامہ: کناہ ہے بڑے
 ہونے سے۔
 تمائم۔ تمائمہ۔ فی الکلام۔ جلدی جلدی ہونا۔
 اور بات کو واضح نہ کرنا۔ صفت رتمتام،
 موٹا تمائمہ۔
 تمائمہ (ن) تمائمہ و تمائمہ۔ کھجور کھلانا۔ اللہم۔
 گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ
 کے سکھانا۔
 التمر و التمر۔ الرطب۔ خشک کھجور ہونا۔
 النخلة۔ درخت خرما کا پھل دار ہونا۔ التمر
 القوم۔ بہت کھجوروں والا ہونا۔
 التمر۔ اللحم۔ گوشت کا خشک ہونا۔
 التمر۔ خرما۔ واحد تمر۔ ج۔ تمرات و
 تمر و تمران۔
 التمر۔ چابک کے سرے کی گڑھ۔
 التمر الیندی۔ اہلی۔
 التمار۔ خرما فروش، کھجوروں کا سوداگر۔
 التامیس۔ بہت کھجوروں والا۔
 التامور۔ کھجور کا گوشہ دیا ہوا۔
 التاموری و التاموری۔ انسان کا جانا۔
 "ما بالذاتامور او تومور" یعنی گھر
 میں کوئی انسان نہیں یا کوئی شے نہیں۔
 تموز و تموز۔ ماہ جولائی۔
 التماح۔ گھڑیاں۔ مگر ج۔ تمائمہ۔
 تہہ دس، تمائمہ و تمائمہ۔ الطعام۔ کھانے
 کا بدلہ دیا بد مزہ ہونا صفت (تہہ)
 تات۔ بینھنا۔ دو کے درمیان مقابلہ کرنا۔
 اندازہ کرنا۔
 اتج۔ المرض الصبی۔ بیماری کا بچہ کو بڑھنے
 سے روک دینا۔ صفت مغربی (تن)۔
 الرجل۔ دور ہونا۔
 التین۔ شخص مثل ہمسرہ۔ آتیمان۔
 التین۔ مچلی، اٹوھا۔ آسمان میں ایک جگہ کا نام۔
 التین۔ تینوں مکان۔ کسی جگہ اقامت کرنا۔

بقیہ جاتا رہا۔ اور کہتے ہیں "فلان بقیۃ
 الکوام و تلیۃ الاھوار" فلان شرفاء
 اور بزرگوں کی یادگار ہے۔
 التلوی۔ ایک قسم کی چھوٹی کشتی۔
 التالی۔ تابع۔ گویے کی آوازیں آواز ملانے
 والا۔

تہ (ن) تمائمہ و تمائمہ و تمائمہ و
 تمائمہ و تمائمہ و تمائمہ۔
 کامل ہونا۔ پورا ہونا۔ بالشیء و علیہ
 پورا کرنا۔ علی امریہ۔ کام انجام دینا
 جاری و نافذ کرنا۔ الی موضع کذا۔
 کسی جگہ پہنچنا۔ عنہ العین۔ تعویذ
 کے اثر سے نظر بد کو دور کرنا۔

تسمۃ و آتسمۃ۔ پورا کرنا۔ اپنی مدت تک
 پہنچانا۔ کہتے ہیں "تسمۃ علی الجریحہ"
 اس نے

تسمۃ المولود۔ بچہ پر تعویذ لگانا۔ آتسمۃ
 الی المحل۔ کسی جگہ کا قصد و ارادہ کرنا
 اور روانہ ہونا۔ آتسمۃ الخیل۔
 حائل کا جننے کے قریب ہونا۔ التسمۃ۔
 بیدر کامل ہونا۔

تتام۔ القوم۔ سب کا آنا۔

استتم۔ الشیء۔ پورا کرنا۔ الشیء کسی شے
 کی تکمیل چاہنا۔

اتسم۔ بڑی بڑی۔

التسم۔ کھانا۔

التمام۔ بتغلیف التاء والاغلب القوم
 کمال جس سے کوئی شے تمام کی جائے اور
 اسی معنی میں رتسم و رتسم و تمائمہ
 و تمائمہ ہیں۔ چاند کے پورا ہونے کی
 رات کہا جاتا ہے "یدار تمام و بدار
 تمام۔ لیلۃ التمام۔ جاڑے کی لمبی رات۔
 التمامہ۔ بقیہ۔

لاتیمہ۔ جس سے کوئی شے پوری کی جائے۔

التیم۔ مضبوط۔ پورے قدر و قیمت والا۔

ایک دن باقی رہنا۔
 اتلاہ۔ سبقت کرنا بچے کرنا۔ اتلاہ فلاکنا۔
 بچے چلانا۔ اتلاہ علی فلان۔ حوالہ کرنا۔
 تم کہتے ہو "اتلیت فلاکنا ذمۃ" یعنی میں
 نے فلاں کے ذمہ کر دیا۔ اتلیت حقی
 عندہ۔ یعنی میں نے اپنے حق میں سے
 اس کے پاس کچھ باقی رکھا۔

تلاہ و تلیۃ۔ بچے چلانا۔

تلی۔ الرجل۔ نند پوری کرنا۔ آخری سانس میں ہونا۔
 تلی۔ ہ۔ بچے چلانا۔ بچے پڑنا۔ کہتے ہیں۔

"تلیت حقی" میں اپنے حق کے بچے لگا۔

یہاں تک کہ میں نے اس کو پورا وصول کر لیا۔

الرجل۔ آدمی کا بہت مال جمع کرنا۔

حقلہ عندہ۔ اپنے حق کچھ باقی رکھنا۔

تتالت۔ الامور الخیل۔ ایک دوسرے

کے بعد آنا۔ بے درپے آنا۔ کہتے ہیں۔

"جاءت الخیل تتالیا" یعنی گھوڑے
 بے درپے آئے۔

تالاه۔ مابعداری کرنا۔ موافقت کرنا۔

استتلاہ۔ الشیء۔ بچے کرنے کو کہنا۔ ہ۔

انتظار کرنا۔

التالی۔ تابع۔ گھوڑوں میں چلتے نیر کا گھوڑا
 ج۔ تالیات۔

التالیۃ۔ موٹ تالی کا۔ ج۔ تالی۔

التالی۔ سر۔ تالی الخیل۔ گھوڑے کے

پچھلے حصے یعنی دم اور ٹانگ۔

التلاء۔ ذمہ۔

ایتلو۔ ہر وہ چیز جو کسی چیز کے پیچھے ہو۔ اوٹنی

کا دودھ چھڑایا ہوا بچہ۔ جو اس کو پیچھے

چلتا ہے۔ ج۔ اتلاہ۔ موٹ تلوۃ۔

التلو۔ ہمیشہ پیچھے چلنے والا۔

التلی۔ بہت مال والا۔ بہت قسمیں کھانیاں والا۔

التلاۃ۔ والتلیۃ۔ بقیہ۔ تلاً۔ تلاۃ
 الدین۔ قرآن کا بقیہ۔ کہتے ہیں۔

"ذہبت تلیۃ الشباب" یعنی جوانی کا

"لَا تَوَىٰ عَلَيْهِ" یعنی کسی نقصان وغارہ نہیں۔

الْوَاةُ الْوَاوَةُ - اللّٰهُ - ہلاک کرنا۔
الْمَوَاةُ - سب ہلاکت، باعث نقصان کہتے ہیں۔ الشَّيْءُ مَوَاةٌ - کچھ سی باعث نقصان و ہلاکت ہے۔ جہ۔ متاوی و مَوَايَاتُ -

التَّيَاكُرُ - عظیم عربی اس کی مثل ہے اور مولدین کے نزدیک مَسْرُوحٌ۔
تَاخَ رَضًا، تَيْجًا لَهُ - مقرر و مقدر ہونا۔
تِيَارٌ هُوَ نَاقِي مَشِيءٍ - چلنے میں جھکا۔
أَتَاخَهُ أَتَاخَةً - تیار کرنا۔ مقدر کرنا کہتے جاتے ہیں: أَتَاخَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْءُ الْمَتَاخَ وَالْمَتِيَاخَ - امر مقدر۔ فیصل شدہ امر۔

التَّيَاخُ وَالنَّيْحَانُ وَالنَّيْحَانُ وَالنَّيْحَانُ وَالْمَتِيَاخُ - بے جا داخل دینے والا۔ لا یعنی امور میں مشغول رہنے والا۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ مَتِيَاخٌ - ہمیشہ بلا میں مبتلا رہنے والا آدمی۔

تَاخَذَ رَضًا، تَيْجًا - لاکھی یا کچھ کی چھڑی سے مارنا۔
الْمَتِيَاخُ - لاکھی یا کچھ کی چھڑی سے مارنا۔
التَّيْدُ - تیری کہا جاتا ہے: تَيْدُكَ زَيْدٌ - زید سے تیری کر۔

تَابَرَنَ مِنْ تَيْجَانٍ - البصر سمندر کا مورچہ۔
التَّيْدُ - تیری کہا جاتا ہے: تَيْدُكَ زَيْدٌ - زید سے تیری کر۔
تَيْجَانٌ - تیری کہا جاتا ہے: تَيْدُكَ زَيْدٌ - زید سے تیری کر۔
تَيْجَانٌ - تیری کہا جاتا ہے: تَيْدُكَ زَيْدٌ - زید سے تیری کر۔

التَّيْمُ - تیرے غریب۔
تَابِيَةٌ - تیرے تائب۔
تَاوَهُ رَضًا، تَيْجًا - غلبہ کرنا۔ کہا جاتا

ہے: تَاوَهُ السُّهْدُ فِي الرَّمِيَةِ - تیرے پھینکنے وقت حرکت کر۔

التَّيَّازُ - پست قدم، سمجھت جوڑوں والا۔
تَاَسَ يَتَيْسُ - الجدی - بکرا بن جانا۔
تَيْسٌ - فرسہ - گھوڑے کو سدھانا۔
عَن كَذَا - باز رکھنا۔ روکنا۔
تَاَيْسَهُ - مافعت کرنا۔

تَتَاَيْسُ - الماءُ مَوْجِلٌ كَأَنَّ فِيهِ مَلِكًا -
وَأَسْتَيْسَتْ - العنزُ بَكْرِيٌّ كَأَنَّ بَكْرِيَّ كِي طَرَحَ هُوَ جَانًا -

التَّيْسُ بَكْرٌ، بَرْنٌ جَبَلِيٌّ بَكْرٌ - تَيْسٌ وَ أَتَيْسٌ وَ تَيْسَةٌ - حَبِيبَةُ التَّيْسِ - ایک قسم کی نبات۔

التَّيْسِيَّةُ التَّيْسِيَّةُ - بکرے جیسی طبیعت کہتے ہیں: فِي فِلَانٍ تَيْسِيَّةٌ وَ تَيْسِيَّةٌ -
التَّيْسُ - بکرے والا۔
الْأَتَيْسُ - بکرے جیسا۔

تَاَخَ رَضًا، تَيْجًا وَ تَيْجًا وَ تَيْجَانًا - الْقِي -
قے کا آنا۔ الماءُ - پانی کا بہ کر سطح زمین پر پھیل جانا۔ الیہ - جلدی کرنا۔ اور مشتاق ہونا۔ تَيْجًا - الطَّرِيقُ - راستہ طے کرنا۔ السَّعْنُ - رول کے کپڑے سے گئی اٹھانا۔

أَتَاخَ - مَا أَكَلَهُ - کھائی ہوئی غذا کی قے کرنا۔
الشَّيْءُ - لَوَانًا -

تَتَيْعٌ - دلی الشَّرُّ وَ تَتَايَعٌ - فِي الشَّرِّ -
برائی کی طرف پکنا اور تیزی کرنا۔ صفت تَتَيْعٌ وَ تَيْعَانٌ - السَّرِيعُ بِالْوَرَقِ -
ہوا کا تھے اڑانے جانا۔ تَتَيْعٌ فِي الْأَمْرِ -
کسی کام پر صبر کرنا۔ کہا جاتا ہے: بَاكَةٌ تَتَيْعٌ فِي الْأَمْرِ - وہ معاملات میں اپنے آپ کو بے سوچے چلنے والی دیتا ہے۔

تَاكَ رَضًا، تَيْجًا - احمق ہونا۔ صفت تَتَايَكُ
أَتَاكَ - الشَّعْرُ - يَالِ الْغَيْرَانَا -

تَيْكٌ بؤنٹ کے لیے اسم اشارہ۔ تصغیر اس کی تَيْكٌ ہے اور اس پر بڑے تَبِيءٌ داخل کر کے هَاتِيكٌ کہتے ہیں۔

تَامَةٌ رَضًا، تَيْجًا وَ تَيْمَةٌ - الْحَبُّ - غلام بنانا۔ ذلیل کرنا۔

التَّيْمُ - مہم - عشق کے سبب عقل کا فتور۔ غلام کہتے ہیں: هُوَ تَيْمٌ - اللّٰهُ - وہ اللہ کا بندہ ہے۔

الْيَيْمَةُ وَ الْيَيْمَةُ - وہ بکری جو گھر ہی میں چرائی جائے اور گھر ہی میں دوسری جائے۔
تيزود بکری جو بھوک کی حالت میں ذبح کی جائے۔

التَّيْمَاءُ - بیابان - ایک مقام کا نام بھی ہے۔

الْيَيْمُ - انجیر - درخت انجیر - واحصر تَيْمَةٌ -
الْمَتَانَةُ - انجیر کا باغ - انجیر بکثرت پیدا ہونے کی جگہ کہتے ہیں: اَرْضٌ مَتَانَةٌ -

بست انجیر والی زمین۔

التَّيْمَانُ - انجیر بیچنے والا۔ انجیر خشک کرنے والا۔
تَاَهُ رَضًا، تَيْجًا - ٹکڑے کرنا (تَيْجًا وَ تَيْجَانًا) -
رگڑتے پھرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت رَتِيَاةٌ وَ تَيْجَانٌ -

تَيْبَهُ وَ اتَاَهُ - گمراہ کرنا۔ ضائع کرنا۔

التَّيْبَةُ وَ التَّيْحَانُ وَ التَّيْبَةُ وَ التَّيْحَانُ -
مغرور۔ متکبر۔

الْيَيْبَةُ - مغرور۔ ڈینگ۔ گمراہی۔ چٹیل

میدان - جس میں چلنے والا بھٹک جائے

جہ - اَتَيْبَةٌ وَ اتَاوِيهٌ وَ اتَاوِيهٌ -

ارضٌ تَيْجَاءٌ وَ مَتَيْمَةٌ وَ مَتَيْمَةٌ -

وَمَتَيْهٌ وَ تَيْهٌ - وہ زمین جس میں

لوگ اکثر راستہ بھٹک جاتے ہیں۔

تَاوَهُ رَضًا، تَيْجًا - غلبہ کرنا۔ کہا جاتا

تَاوَهُ رَضًا، تَيْجًا - غلبہ کرنا۔ کہا جاتا

تَاوَهُ رَضًا، تَيْجًا - غلبہ کرنا۔ کہا جاتا

ث

<p>یَرَأَبُ الشَّأَى - وہ فساد کی اصلاح کرتا ہے۔</p> <p>ثَبَّتَ (ن) ثَبَاتًا - جم کر بیٹھنا۔ باوقار بیٹھنا۔ الامر۔ کام ختم ہونا۔ پورا ہونا۔</p> <p>ثَبَّتَ (ك) ثَبَاتَةً وَثْبُونَةً - بہادر ہونا۔ مستقل مزاج ہونا۔</p> <p>ثَبَّتَ (ن) ثَبَاتًا وَثْبُونًا - فی المكان۔ کسی جگہ ٹھہرنا۔ اقامت کرنا۔</p> <p>على الامر۔ کسی کام پر مداومت کرنا۔ ہمیشگی اختیار کرنا۔ صفت۔</p> <p>(ثَابِتٌ وَثَبِيْتُ وَثَبْتُ)</p> <p>الامر عندہ۔ ثابت ہونا۔ موکد ہونا۔ ثَبَّتَهُ وَآثَبْتَهُ - ثابت کرنا۔</p> <p>الحق۔ ولائل سے موکد کرنا۔</p> <p>رجسٹر میں نام درج کرنا۔ لکھنا کہتے ہیں طَعْنَهُ فَآثَبْتَهُ فِيهِ الرَّجْحُ - اس نے اس کو نیزہ مار کر چھید دیا۔</p> <p>آثَبْتَهُ وَثَابَتَهُ - الامر۔ کسی معاملہ کو کا حقہ جاننا۔</p> <p>اسْتَثَبْتَهُ وَتَثَبْتَهُ - فی الامر والوای۔ کسی کام یا رائے میں آسٹگی سے کام لینا۔ مشورہ کرنا۔ خوب چمان کرنا۔</p> <p>الثَّبَاتُ - ثابت ہونا۔ دلیل۔ ثَبَّتْ كَتَبْتُمْ فِي لِحَاكِهِ الْاِبْرَاقِيَّةَ - یعنی میں بغیر دلیل و حجت کے فیصلہ نہیں دیتا۔</p> <p>الثَّبَاتُ - برقع کے بند یا ڈوریاں۔ کجاوہ باندھنے کے تسمے۔</p> <p>الثَّبَاتُ - وہ بیماری جو بیمار کو حرکت نہ کرے۔ بہادر شہ سہار جس کا حملہ خطا نہ جاتا ہو۔</p>	<p>الثَّارُ وَالثَّوْرَةُ - خون کا بدلہ۔ جرم کا بدلہ۔</p> <p>جر آثار و آثار و آثار - کہتے ہیں۔</p> <p>هو ثَأْسٌ ك - یعنی وہ تمھارے رشتہ دار کا قاتل ہے۔ "ویا ثاراتُ فلان؟" اے فلاں کے قاتلو۔</p> <p>والثَّارُ المُنِيْمُ - خون کا وہ تسلی بخش بدلہ جس کے بعد طالب چین کی نیند سوتے۔</p> <p>ثَبَّطَ (س) ثَبَّطًا - اللحم - گوشت کا خراب ہونا۔</p> <p>ثَبَّطَ - الرجلُ - آدمی کو زکام ہونا۔ صفت۔ (مَثْبُوطٌ)</p> <p>الشو عا ط - زکام۔</p> <p>الثَّاطِلَةُ - بدبو دار کپڑا۔ اور اسی سے یہ مثل ہے ثَا طِلَةٌ مُدَّتْ بِمَاءٍ - یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے کہ ایک خرابی کے ساتھ دوسری اسی جیسی خرابی نمودار ہو جائے۔</p> <p>جر۔ ثَا ط -</p> <p>الثَّاطَاءُ - بیوقوف۔</p> <p>ثَوَّلَ وَثَثَلَ - جس کا تسمے والا ہونا۔</p> <p>الثَّوْلُولُ - مسہ۔ پستان کا سرا۔ یعنی۔</p> <p>جر۔ ثَا لِيلٌ -</p> <p>ثَأْسِي (ف) ثَأْسًا وَثَأْسِي - الشَّيْءُ - بھاڑنا۔ چیرنا۔ کمزور کرنا۔ خواب کرنا۔ "و اثأسی فی القیوم" لوگوں میں فساد کرنا۔ قتل کرنا۔</p> <p>ثَعَجَ (س) ثَعَجًا - الشَّيْءُ - چھدنا۔</p> <p>الثَّعْجِي - نشان زخم۔</p> <p>الثَّعْجِي - مصص کا جاتا ہے فلاں</p>	<p>ثَبَّابٌ (س) ثَبَابًا - وَثَبَّابٌ وَثَبَابٌ - جمائی لینا۔ صفت (مَثْبُوبٌ) و ثَبَابٌ الاخْبَاسُ - غمروں کی جستجو کرنا۔</p> <p>الثَّبَابُ وَالثَّبَابُ وَالثَّبَابُ - جمائی۔ ثَبَابًا - پیاسا رکھنا۔ پانی پلانا۔ الناسُ آگ بجھانا۔</p> <p>الغضب - غصہ ٹھنڈا کرنا۔</p> <p>عَنْ الامر - کسی کو کسی کام سے روکنا۔</p> <p>ثَأَجَتْ (ن) ثَأَجًا - الغلْمُ - بکری کا میانا۔</p> <p>الثَّوَجُ - بکری کی آواز۔</p> <p>ثَبَّ (س) ثَبَابًا - الثَّبَاتُ - نبات کا تر و شاداب ہونا۔</p> <p>الرجلُ او المكان - ٹھنڈا ہونا صفت۔ (ثَبَّ وَثَبَّ)</p> <p>الثَّادُ وَالثَّادُ - نمنک مٹی۔ تری شبنم ٹھنڈا۔ برا کام۔ نرم و شاداب نبات۔</p> <p>الثَّادَةُ - موٹی عورت۔</p> <p>الثَّادَاءُ - لونڈی۔ ما انا ابن ثاداء میں عاجز اور کمزور رائے والا نہیں ہوں۔</p> <p>الثَّادَاءُ - موٹاپا۔</p> <p>ثَأْسُ (ف) ثَأْسًا - القیل و بالقتیل - خون کا مطالبہ کرنا۔ قاتل کو قتل کرنا۔ صفت ثَأْسٌ - کہا جاتا ہے۔</p> <p>ثَأْرَةٌ بَكْدَا - اس نے فلاں کے ذریعہ خون کا بدلہ لے لیا۔</p> <p>ثَبَّرَ زَيْدٌ - زید سے خون کا بدلہ لیا گیا۔</p> <p>آثَارٌ وَآثَاسٌ - مِنْهُ - خون کا بدلہ لینا۔ اسْتَفْأَسَ - خون کا بدلہ لینے کے لیے فریاد کرنا۔ یا دو مانگنا۔</p>
---	--	--

کپڑے کے ایک طرف کو موڑ کر اس کو سینا (وَتَشْتَبِنُ) الشیء - جھولی میں رکھ کر لے جانا۔ پانچامہ کے نیچے میں رکھ لینا

الثَّبْنَةُ - ج - ثَبْنٌ و (الثَّبَان) ج - ثَبْنٌ - جھولی و امن و گودی جو کسی چیز کے لینے کے لیے پھیلائی جائے۔

الثَّبِينُ - پادر کا موٹا ہوا طرف۔ الثَّبْنَةُ - وہ قبیل جس میں عورت آئینہ وغیرہ رکھتی ہے ج - مَثَابِنُ۔

ثَبْنِي (ض) ثَبْنِيًّا - الشیء - جمع کرنا۔ ثَبْنِي - الشیء - جمع کرنا۔ تعظیم کرنا۔ اصلاح کرنا۔ تمام کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

”ثَبْنِي اللَّهُ لَهُ النِّعَمُ - اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتوں کے تودے لگا دیے۔“

علی الامر - کسی کام میں لگنا مشغول رہنا علی فلان - کسی کے خلاف مدد طلب کرنا۔

الثَّبَّةُ - حوض کا بیج۔ جماعت۔ سواروں کا گروہ۔

ج - ثَبَاتٌ و ثَبُوتٌ - الثَّبَاتِيَّةُ - بڑی جماعت۔ ج - آثَابِي - الثَّبِي - لوگوں کی بہت تعریف کرنے والا۔ ثَبْنٌ (ض) ثَبْنًا - اللُّحْمُ - بدبو دار ہونا۔

ثَبْرٌ (ض) سَبُوجًا - الماء - پانی کا بہنا۔ (سَبَا) الماء - پانی بہنا۔ انشَجْرٌ الماء - پانی کا بہنا۔ مطوٌّ ثَجَّاجٌ بہت برسنے والی بارش عین

ثَجُّوجٌ - بہت پانی والا چشمہ۔ الشَّجَّةُ - باغ جس میں حوض ہو۔ ج - ثَجَّابَاتٌ۔

منع کرنا۔ روکنا۔ باز رکھنا۔ (ثَبْرًا) ہلاک ہونا۔

ثَبْرَتٌ - (ض) ثَبْرًا - القَرْحَةُ - زخم کا کھل کر بہ پڑنا۔

ثَابِتٌ - ثَبْرًا أَوْ مَثَابَةً - علی الامر کسی کام پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا۔

ثَبْرًا - فَلَانًا بِالْشَّيْءِ - کسی کو کسی شے پر روک دینا - اللَّهُ فَلَانًا - ہلاک کرنا۔

تَفَاوَرُوا - ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ الثَّبْرَةُ - نرم زمین۔ زمین یا پہاڑ میں گرنا۔ المَثْبَرُ - مذبح۔ بوچرٹخانہ۔ عورت کے بچہ جننے یا اونٹنی کے بچہ دینے کی جگہ۔

المَثْبَرُ - محروم۔ روکا ہوا۔

الثَّبْرَةُ - کھلیان میں صاف کٹے ہوئے غلہ کا ڈھیر۔

ثَبْطَةٌ - (ض) ثَبْطًا و ثَبْطَةٌ -

عن الامر - کسی امر سے باز رکھنا۔ علی الامر - کسی کو کسی کام پر موقوف رکھنا۔

أَثْبَطَهُ - المرض - بیماری کا کسی کو چمٹ جانا اور اس کو نہ چھوڑنا۔

تَثَبَّطَ - عن الامر - کسی کام میں دیر لگانا یا اس سے رکتا۔

الْثَبْطُ - کمزور۔ بیوقوف۔

ج - اثْبَاطٌ و ثَبْاطٌ - ٹوٹنا۔

ثَبْطَةٌ - ثَبْنٌ (ض) ثَبْنًا و

تَثْبَاتًا - النِّهْرُ - نہر کا پانی بڑھ جانا اور اس کا تیز بہنا۔

العین - آنکھ کا تیزی سے آنسو بہانا۔

الثَّبْلُ و الثَّبَلُ - برتن میں نیچے باقی رہی ہوئی چیز۔

ثَبْنٌ (ض) ثَبْنًا و ثَبَانًا - الثَّوْبُ -

الاثبات۔ رجم۔ نفی کی ضد۔ الاثبات۔ قوم کے معتبر لوگ۔ مفرد ثَبْنًا کہا جاتا ہے فلان ثَبْنٌ مِنَ الْاَثْبَاتِ یہ ہجاز ہے جس طرح کہتے ہیں فلان حُجَّةٌ - جبکہ کوئی روایت میں ثقہ ہو۔

الثَّوَابِتُ - سیاروں کے علاوہ ستارے حرکت نہ کرنے والے ستارے۔ واحد ثابتہ۔

المَثْبُوتُ - منع۔ تمہوں سے بندھا ہوا۔

مریض مثبت۔ صاحب فراش بیمار

ثَبْرٌ (ض) ثَبْرًا و ثَبْرًا - الكلام

ٹھیک کلام نہ کرنا۔ بے ترتیب بولنا

الخط - بے ترتیب لکھنا۔ تحریر میں

غیر معروف طریقہ برتنا۔

ثَبْرٌ (ض) ثَبْرًا و ثَبْرًا - پاؤں کی انگلیوں پر بیٹھنا۔

ثَبْرٌ و ثَبْرٌ - الراعي بالعصا۔

گڈیے کا لاٹھی کو پیٹھ پر رکھ کر اس

کے پیچھے اپنے ہاتھ رکھنا۔

إثْبَاجٌ - السقاء - مشک کا بھر جانا۔

الرجل - آدمی کا موٹا اور ڈھینا ہونا۔

الثَّبَجُ - گاندھے اور پیٹھ کا درمیانی حصہ۔

ہر چیز کا درمیانی حصہ۔ بڑا حصہ۔ بلند

حصہ ج - اثْبَاجٌ و ثَبُوجٌ - کہا جاتا

ہے یرکبوں ثَبْرٌ هَذَا الْبَحْرُ -

وہ اس سمندر کے بڑے حصہ پر سوار

ہوئے و تَسَمَّتِ الْحُمْرُ اثْبَاجٌ

الاکام - گدھے ٹیلوں کی چوٹیوں پر

پرہ گئے۔

الْاَثْبَجُ - چوڑی پیٹھ والا کبڑی پیٹھ والا

رجل مَثْبَجٌ - بے ڈول لمبے قد

والا آدمی۔

ثَبْرٌ (ض) ثَبْرًا - لعنت کرنا۔ دھمکانا

ناکام کرنا۔ ہلاک کرنا۔ عن كذا

میدان کاروانے یعنی اٹھایا جاتا۔
 الثوب - جلی بارش
 الثوب - ہر ٹول کی چٹن
 الاثوب - بچے ہونے والا
 ارض (مٹروڈا و مٹروڈا)
 وہ زمین جس پر خوف سے بارش
 پڑتی ہو۔

الثوب - سریش۔
 ثوب (س) ثوباً - الرجل - طویل
 بنا۔ بغیر بالے دعوت میں بلانا۔
 (الثوبلۃ) مرغ کی گردن کے پر
 الثوبل - لومڑی۔ روبہ۔ الثوبول
 ایک قسم کی گھاس۔
 ثومہ (س) ثوماً و اثومہ۔
 دانت کو جڑے توڑنا۔
 ثومہ (س) ثوماً و اثومہ۔
 جڑے توڑنا۔ صفت۔ (الثوبل)
 موز۔ ثوما۔ ج۔ ثومہ۔
 الثومان ایک درخت ہے جس کو اورنگ
 اور بگری کہتے ہیں۔

الاشمان - باتوں کو مانہ موت۔
 ثرا۔ دن، ثراء و ثوی (س) ثری
 المرجل - آدمی کو بہت مال والا
 ہونا۔ ثرا۔ مالدار میں کسی سے
 وقیت لے جانا۔ ثرا۔ ثرا۔
 القوم الثی ثوم کو زیادہ

کیا۔
 اثنی - اثناء - بہت مالدار ہونا۔
 صفت۔ ثری و ثری۔
 مؤنث۔ ثراء۔
 الثراء و الثروة - مال کی زیادتی یا
 قوم کی کثرت۔
 الثویا۔ ہر دین ستاروں کا چمکا
 برج ثور کے گردن کے سات ستارے
 جھاڑ۔

الثوان - بہت مال والا۔
 ثوی (س) ثوی و اثنی۔ الثراب۔
 مٹی کا خشک ہونے کے بعد توڑ
 ہونا۔ صفت۔ ثری و اثنی،
 مؤنث ثریۃ۔ و ثریاء۔
 اثوت الارض۔ زمین کا نم ناک
 ہونا۔ اثنی المطر۔ بارش کا
 زمین کو نمناک کرنا۔

ثوی (س) ثوی، ثرا۔ المكان
 چھڑکاؤ کرنا۔
 الثوی - ثری۔ ثمالی۔ (والثراء)
 ثمالی مٹی۔ خیر۔ ج۔ اثناء۔
 کہا جاتا ہے یلبس الثوی
 بینہم۔ ان کے درمیان مٹی
 خشک ہو گئی۔ یعنی وہ دوست سے
 دشمن ہو گئے۔ فلان قریب
 الثوی - خیرے قریب ہے۔
 الثوی والغری من المال۔
 بہت مال۔ بھلا۔ ثویۃ بہت
 نیک۔

الثیاطۃ - کیمیا۔
 ثط (س) ثطاً - پانچ کرنا۔
 ثط (س) ثطاً - کرنا۔
 لا تفتح۔ الاکل من فتنہ والدم
 من الغنہ و حرجہ کھائی
 ہوئی تو اس سے شکنا اور خون ناک
 یازم سے بنایا جاری ہونا۔

ثعب۔ (س) ثعباً۔ الماء۔ پانی کو
 جاری کرنا۔ علیہم العارۃ۔
 لوٹ ڈالنا۔ اثنعب۔ الماء۔
 پانی کا نالی یا پرنالہ میں جاری ہونا۔
 الثعب۔ لادھی میں پانی کے بہاؤ کی
 جگہ۔ ج۔ ثعبان۔ ماء او
 دم۔ ثعب و ثعب (الثوب)
 بہتا ہوا پانی یا خون۔

الثعوب۔ پت۔
 الثعبۃ۔ خبیث قسم کا گرگٹ۔
 المثعب۔ نالی یا پرنالہ۔
 الثعبان۔ اڑوہا (مذکر و مؤنث)۔ ج۔
 ثعابین۔
 ثعط (س) ثعطاً۔ اللحم او الماء۔
 گوشت یا پانی کا بدبودار ہونا۔
 الثقفۃ۔ سوچنا اور چھٹنا۔

الثعطۃ۔ گدہ اٹھا۔
 ثعلت (س) ثعللاً۔ اسنانہ۔
 دانتوں کا ایک دوسرے پر نکلنا۔
 صفت۔ الثعل، مؤنث ثعللاء
 ج۔ ثعل۔
 الثعل۔ الامر۔ کسی کام کا سخت دشوار
 ہونا کہ اس کی انجام دہی کا راستہ
 نہ سوجھے۔

الثعیوف۔ ممالوں کا بہت ہونا۔
 زیادہ ہونا۔
 الثعل۔ اونٹ یا بکری یا گائے کے تن
 میں باکھ کی زیادتی۔ ج۔ ثعلول۔
 الثعل۔ مشک کے بدبودار ہونے پر
 اس میں پیدا ہونے والا کپڑا۔
 الثعلول۔ غضب ناک۔
 ثعالۃ۔ لومڑی (غیر منصرف)
 ارض (مٹھلۃ) وہ زمین جس میں
 لومڑیاں بکثرت ملیں۔

ثعلب و ثعلب۔ لومڑی کے مانند
 کرو و فریب کرنا۔
 الثعلب۔ لومڑی۔ یہ کرو فریب میں
 ضرب المثل ہے۔ لومڑی کے سچے
 مشورے کہ اس کے بال ہر سال
 گر جاتے ہیں اور اس لیے کاع
 الثعلب۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس
 میں بال چھڑ جاتے ہیں۔ مادہ ثعلبۃ
 اور زکو ثعلبان کہتے ہیں۔ اور

ثَعْلَبُ مذكر ومونث ہر دو کے لیے آتا ہے۔ ج۔ ثَعَالِبٌ وَثَعَالِ الثَعْلَبِ۔ نیزے کا وہ سرا جو پہل میں لگایا جاتا ہے۔
الثَعْلَبِيَّةُ۔ دم کی بڑی۔ سُرِين۔
عَنْبُ الثَعْلَبِ۔ کمر۔ کہا جاتا ہے مَكَانٌ وَمَثْعَلٌ وَارِضٌ مَثْعَلِيَّةٌ۔ بہت لومڑیوں والی جگہ یا زمین۔
ثَعْبٌ (ض، ثَعْبًا)۔ الشَّاقَا۔ بکری کو ذبح کرنا۔ ۵۔ بِالرُّمَيْحِ۔ کسی کو نیزہ بھونکنا۔
ثُعْبٌ (س، ثُعْبًا)۔ الْجَمْدُ۔ برف کا پگھلانا۔ الدَّمُ۔ خون کا بہنا۔
تَثْعَبَتُ لِسَةً بِالْأَمِّ۔ مسوڑے سے خون بہنا۔
الثُّغْبُ۔ ج۔ ثَغَابٌ وَآثَغَابٌ وَالثُّغْبُ، ج۔ ثُغْبَانٌ وَثُغْبَانٌ پھاڑ کے سایہ میں تالاب کہ دھوپ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کا پانی ٹھنڈا ہو۔
تَثْعَثُ۔ ثُغْثَةٌ۔ کلامہ۔ کلام کو مخلوط کرنا۔ گفٹگو کو خلط ملط کرنا۔ صفت (تَثْعَثُ وَتُغْثَاغُ) کہا جاتا ہے فَلَانٌ يُتَثْعَثُ فِي كَلَامِهِ۔ فلاں بے ترتیب اور گڑبڑ گفتگو کرتا ہے۔
ثُغْرُوفٌ (ثُغْرًا)۔ الْإِفَاءُ۔ برتن میں سوراخ کرنا یا اس کو توڑنا۔
سَسْتَهُ۔ وَاثْتِ نَكَالًا۔ اکھڑنا۔
الثُّلْمَةُ۔ رِخْزَةُ بَدْرُكَرْنَا۔ الجِدَارُ گرا دینا۔
الرَّجُلُ۔ کسی کے وَاثْتِ تَوْرُنَا۔
کہا جاتا ہے ثُغْرُهُمْ وَثُغْرُ عَلَيْهِمْ اس نے دوسے میں داخل ہونے کے

تمام راستے ان پر بند کر دیے۔
ثُغْرًا وَثُغْرًا۔ مِنْ كَيْلًا جَانَا۔
الصَّبِيُّ۔ بچہ کا وَاثْتِ لُوثُنَا۔ یا نکلنا۔
الثُّغْرُ۔ اگلے وَاثْتِ۔ مِنْ۔ سِرْحَدِ۔ پھاڑ یا وادی کی کشادگی۔ ج۔ ثُغْرُوسُ۔ کہا جاتا ہے۔ آمَسُوا ثُغْرُوسًا۔ وہ لوگ متفرق ہو گئے۔
الثُّغْرَةُ۔ رِخْزَةُ۔ ہنسلی کا درمیانی گڑھا آسان راستہ اور اسی سے ہے۔
هُوَ يَخْتَرِقُ ثُغْرًا الْمَجِيدِ۔ وہ بزرگی کے راستوں پر چلتا ہے۔
الثُّغْرُوسُ۔ ملک کی سرحدات پر خطرے کی جگہ۔
الْمَثْغُرُ۔ راستہ۔ وَاثْتِ کے ملک کی سرحد۔
الثُّغْرُوبُ۔ زرد وَاثْتِ۔
أَثْغَمَ۔ الْوَادِي۔ وادی کا درخت ثَغَامَةٌ پیدا کرنا۔ الرَّاسُ۔ سر کا سفید ہونا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کو غضب ناک بنانا۔ بَتْلَاةٌ بَدْمَعِي كَرْنَا۔
ثَغَامِيَّةٌ۔ بوسہ دینا۔
الثُّغْمُ۔ کاتنے والا کتا۔
الثُّغَامُ۔ ایک قسم کا سفید پھولوں والا درخت۔ واحد۔ ثَغَامَةٌ۔
الثَّاعِمُ۔ سفید۔
ثَغْتٌ (ن، ثَغَاءً)۔ الشَّاقَا۔ بکری کا میانہ۔ کہا جاتا ہے۔ مَا لَهُ ثَغَامِيَّةٌ وَلَا رَاغِيَّةٌ۔ اس کے پاس نہ بکری ہے نہ اونٹنی۔ وَاثْتِ بِالْأَسْرَاغِ وَلَا رَاغِ۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔
أَثْغَى۔ إِثْغَاءً۔ الشَّاقَا۔ بکری کو

میانے پر اکسایا۔ کہا جاتا ہے اَتَيْتُهُ هُمَا أَثْغَى وَلَا رَاغِي۔ میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھے نہ بکری دی نہ اونٹنی۔
الثُّغَامِيَّةُ۔ بھوک۔ اور قبیلہ کا خالی ہو جانا۔ کہتے ہیں۔ اَصَابَ الْحَجَّ ثَغَامِيَّةٌ۔ قبیلہ کو بھوک کی آفت پہنچی۔
ثَغَاءٌ (ف، ثَغَاءً)۔ الْقَدَسَا۔ ہانڈی کے جوش کو ٹھنڈا کرنا۔
الثُّغَاءُ۔ رَاثِي۔
ثَغَدَ۔ الْإِسْرَاعُ۔ زردہ کو لباس کے نیچے پہننا۔
الثُّغَامِيَّةُ۔ اوپر نیچے سفید بادل۔ (وَالْمَثَامِيَّةُ) کپڑوں کے استر واحد۔ مَثْمَدُ۔
أَثْغَرُ وَثَغْرًا۔ الْحَمَارُ۔ پیچھے سے چلانا۔ دُجْمِي بِنَانَا۔ یا کنا۔
اسْتَثْغَرَ۔ الْكَلْبُ بَدْنِيَّةً۔ کتے کا دم دبانا۔ الْمَضَارِعُ بَثْوِيَّةً۔ لُكُوٹ باندھنا۔
الثُّغْرُ وَالْثُغْرُ۔ زین کے پچھلے حصہ کا تسمہ۔ ج۔ الْثَغَامَا۔
ثَقْلٌ (ن، ثَقْلًا وَثَقْلًا)۔ الرَّفِي۔ چکی کے نیچے چڑھ رکھنا۔ الشَّيْءُ۔ یکبارگی بکیر دینا۔
أَثْقَلَ۔ الْحَمْرُ۔ شراب کا ٹھہرنا۔
الشَّرَابُ۔ تَلْحِطُ وَالْأَثْقَالُ۔
ثَقَالَةٌ۔ ہم نشینی کرنا۔
تَثْقَلُ۔ مجدو بزرگی میں کوتاہ ہونا۔ کہتے ہیں تَثْقَلُهُ عَرَقٌ سَوِيءٌ۔ اس کو کم نسلی نے شرف و بزرگی سے کوتاہ بنا دیا۔ اِسْتَهْ۔ بیٹھنا۔
الثَّقَالُ۔ آہستہ رفتار اونٹ، یا کوئی دوسرا جانور۔

الثقال۔ چمک کے نیچے والا چمکا۔
والثقال۔ چمکی کا پھلا پھاٹ۔
الثقل و الثقال۔ تپھٹ۔

الثافل۔ گوہر۔
الثفل۔ تپھٹ کھانے والا۔
ثَفَّتَ (ض) ثَفْتًا۔ المناقاة۔
اونٹنی کا گھٹنے سے مارنا۔
ثَفَّتَهُ و فَعَّ كَرْنَا. مارنا. ثَفَّنَ. الشَّيْءُ
لازم ہونا۔

ثَفَّتَ (س) ثَفْنَا. يَدَا - کام
کرنے سے ہاتھ سخت ہو جانا۔
أَثَفَّنَ. الْعَمَلُ يَدَا - سخت کر
دینا۔

ثَقَفْنَا کسی کے ساتھ ہم نشینی کرنا۔
ہم زانو ہو کر بیٹھنا۔ کسی کے ساتھ
چھٹے رہنا۔ یہاں تک کہ اس کی نیت
یا راز کا پتہ لگا لینا۔ علی کذا
بذکرنا۔

الثقنة۔ م۔ البعير۔ اذنتہ کے

بدن کا وہ حصہ جو بیٹھے وقت زمین
پر لگے اور وہ سخت ہو گیا ہو سکتے
ہیں۔ نخوی البعير علی
ثَقَاتِيهِ۔ یعنی اونٹ بیٹھ گیا۔

من الانسان۔ انسان کے زانو۔
من الخيل۔ گھوڑے کے زانو
کا باطنی حصہ۔ ج۔ ثَقِنَات
الثقنة۔ لوگوں کی جماعت کو
بھی کہتے ہیں۔

ثَقَانٌ، ثَقْوًا - تابع ہونا، پیچھے
جانا۔

أَثَفَى - الرجل - آدمی کا تین عورتوں
سے نکاح کرنا۔

(و ثَقَى) ہانڈی کو چولہے کے
پایہ پر رکھنا۔

المثقی۔ وہ شخص جو تین یا تین سے

زائد بیویوں کو دفن کر چکا ہو۔
المثقاة۔ وہ عورت جس کے تین یا تین
سے زائد شوہر مر چکے ہوں۔

ثَقَبَ (ن) ثَقْبًا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز میں
سوراخ کرنا۔ چھیدنا۔

(ثَقُوبًا) النَّاسُ۔ آگ کا روشن
ہونا۔ النجوم۔ ستارہ کا چمکنا۔

الطائر۔ پرندہ کا اونچا اڑنا۔
الناقاة۔ اونٹنی کا بہت دودھ

والی ہونا۔ رائیہ۔ کا
تافذ ہونا۔ الراححة۔

نوشبو پھیلنا۔
ثَقَبَ (ك) ثَقَابَةً۔ سرخی میں
آگ کے مشابہ ہونا۔ صفت۔

(ثَقِيبٌ) مؤنث ثَقِيبَةٌ۔
ثَقِيبٌ وَ ثَقِيبٌ۔ الشَّيْءُ۔ سوراخ
کرنا۔

ثَقَبَهُ الشَّيْبُ وَ ثَقَبَ فِيهِ الشَّيْبُ
بڑھا پاؤں ظاہر ہونا۔ کسی میں آثار پیری
کا ظاہر ہونا۔

ثَقَبَ وَ أَثَقَبَ۔ النَّاسُ۔ آگ جلانا۔
الثقوب۔ سوراخ۔ ج۔ أَثَقَبَ وَ
ثَقُوبٌ۔

الثقبة۔ چھوٹا سوراخ۔ ج۔ ثَقُبٌ
وَ ثَقُبٌ۔

الثقاب و الثقوب۔ آگ سلگانے کی
چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔ ان کو عوام
شخط یا لفظ کہتے ہیں۔ چھپٹیاں۔

الثقاب۔ فَا۔ راجع ثاقب۔ بات کی
تہ تک پہنچنے والی بات۔

عقل ثاقب۔ عقل کامل۔
حسب ثاقب۔ مشہور و معروف
حسب کہتے ہیں۔ تَحْنُ الثَّقَابُ

الناس النسابا۔ یعنی لوگوں میں
ہمارا نسب سب سے زائد، واضح

اور مشہور ہے۔
المثقَب۔ برا۔ کہتے ہیں۔ رجل
مَثَقَبٌ۔ یعنی باخبر تجربہ کار۔ عمدہ
رہنے رکھنے والا آدمی۔

المثقَب و المثقَب۔ بڑا راستہ
سخت اور دشوار راستہ۔ کہتے ہیں۔
هو طَلَأُ المَثاقِبِ۔ یعنی وہ بڑا
بہادر من چلا ہے۔

المثقَب۔ سوراخ کیا ہوا۔
ثَقَفَ (س) وَ ثَقَفَ (ك) ثَقْفًا وَ
ثَقْفًا وَ ثَقَافَةً۔ ذہین ہونا۔
ہوشیار ہونا۔ دانا ہونا۔ صفت۔

ثَقَفَ وَ ثَقَفَ وَ ثَقِفَ وَ ثَقِيفٌ
ثَقِفَهُ (س) ثَقْفًا۔ فتح مند و
کامیاب ہونا۔ کسی کو جا پکڑنا۔
ثَقْفًا وَ ثَقَافَةً وَ ثَقُوفَةً
الكلام۔ بات کو جلد سمجھ لینا۔
ثَقَفَهُ (ن) ثَقْفًا۔ مہارت میں بڑھنا
بالروح۔ نیزہ مارنا۔
ثَقَفَ۔ الروح۔ نیزہ کو سیدھا کرنا۔
الولد۔ لڑکے کو مہذب بنانا۔ تربیت
دینا۔ تعلیم دینا۔
ثاقفہ۔ ہتھیاروں سے باہم کھینکا۔
مہارت میں بڑھنا۔ محاسمت کرنا۔
جھگڑا کرنا۔ کہتے ہیں۔
ثاقفتہ فَثَقَفْتُهُ۔ میں نے اس پر
غلبہ کی کوشش کی۔ پس غالب ہو گیا۔
ثَقَاقِفًا۔ باہم جھگڑا کرنا۔ دانال میں ایک
دوسرے پر غالب آنے کی کوشش
کرنا۔
الثقاف۔ جھگڑا۔ تیزوں کو سیدھا کرنے
کا اوزار۔
امراة الثقاف۔ بہت ذہین عورت
الثقیف۔ بہت ہوشیار۔ بہت زیرک
و چالاک۔

ثقلٌ ثقیفٌ - بہت کھٹا سرکہ
 المثقل عرق شراب میں نیزہ
 ثقل دن، ثقلًا و ثقلًا - بھاری
 ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت۔ (ثقیل
 و ثقل و ثقل، ج ثقلاء
 و ثقل و ثقل -
 السمع - کچھ بھرا ہونا۔ کچھ اونچا
 سنا۔
 القول - کسی بات کا سنا ناگوار ہونا۔
 المواق - عورت کا حمل ظاہر ہونا۔
 ثقله دن، ثقلًا - وزن معلوم کرنے کے
 لیے ہاتھ میں اٹھانا۔
 ثقل دن، ثقلًا المریض - بیماری
 کا سخت ہو جانا۔
 ثقله - بوجھل کرنا۔ بھاری کرنا۔ الحرف
 تشدید و بنا علیہ کسی پر بھاری
 بوجھ دینا۔
 ثاقل - ثقیل کھانا کھانا یا کھانا۔
 أثقله - بھاری بوجھ لادنا۔ المریض
 بیماری کا سخت ہونا۔
 اثقلت المواق حمل کا بھاری ہونا۔ اور
 ولادت کا وقت قریب آنا۔ صفت
 مؤنث۔ (مُثْقِل و مُثْقَلہ)
 تتاقل - بکلف ثقل ظاہر کرنا۔ عندہ
 دیر لگانا۔ القوم - قوم سے
 مدد طلب کرنے کے باوجود اس کا
 مدد کے لیے نہ اٹھنا۔
 اتاقل - الی الدنیا۔ دنیا کی طرف
 جھکا۔ مائل ہونا۔
 استثقل - الشیء - چیز کا بوجھل ہونا
 الشیء - بوجھل پانا۔ بفلاں -
 کسی کا بوجھ محسوس کرنا۔
 الثاقل - بوجھل - صوصی ثاقل -
 سخت بیماری۔ دینا سر ثاقل -
 پورا دینا۔ ج ثواقل - کتے ہیں

اصبح ثاقلاً - اس کو بیماری نے
 بوجھل کر دیا۔
 الثقل - مسافر کا سامان اور اس کے
 نوکر چاکر۔ کتے ہیں للمسا فر
 ثقل کثیر - ہر چیز نفیس و قیمتی
 ہے۔ ج - الثقال -
 المثقلان - انسان اور جن۔
 الثقل - بوجھ۔ وزن، کتے ہیں
 اعطه ثقله - اس کو اس کے
 برابر دو۔ ج - اثقال -
 الأثقال زمین کے خزانے اور وہ اپنے
 مڑے۔ قرآن مجید میں ہے۔
 واخرجت الارض اثقالها -
 اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دیگی۔
 الثقل - گرانبھاری۔
 الثقلۃ و الثقلۃ و الثقلۃ
 و الثقلۃ و الثقلۃ - کل
 ساز و سامان، کتے ہیں ارتحلوا
 بثقلتھم یعنی وہ سہ اپنے کل
 ساز و سامان کے چل دیے۔
 الثقلة - پیٹ میں خوراک کی گرانی۔
 اونگھ کتے ہیں وجبات ثقلۃ
 فی جسدی میں نے اپنے بدن
 میں گرانی و سستی محسوس کی۔
 المثقال - توٹنے کے اوزان
 مثقال الشیء - چیز کا وزن یا چیز
 کی ترازو۔ ج - مثاقیل عرف
 میں مثقال ڈیڑھ درہم کے وزن کا
 ہوتا ہے اور کبھی اس سے کم اور زیادہ
 بھی ہوتا ہے۔
 ثقل دس، ثقلًا و ثقلًا - بچہ کو
 گم کرنا۔ کھونا۔ صفت (ثاقل و
 ثقلان، مؤنث ثاقل و ثاقلۃ و
 ثقلی - ج - ثاقل و ثقالی۔
 اثقل - الأم و کدھا۔ و اثقل

الولد أمه - بچے ماں کو گم
 کر دینا۔ اور ماں کے سامنے بچہ کا
 مرجانا۔
 العکول و المثلکال - بچہ کو بہت گم
 کرنے والی عورت۔ ج - مثاکیل
 کتے ہیں نساء الخذاق مثاکیل
 غازیوں کی عورتیں۔ بچہ کو گم کرنے والی
 ہوتی ہیں۔
 المثلکة - بچہ کے گم ہونے کا سبب۔
 کہا جاتا ہے۔ رحمہ للوالدات
 مثلکة - اس کا نیزہ ماؤں کے
 لیے بچوں کے گم کرنے کا سبب ہے۔
 ثقل دن، ثقلًا - الامر و الطریق -
 کسی معاملہ یا راستے کے لیے لازم
 ہونا۔
 الأثام - آثار کا کھوج لگانا لہ الامر -
 کسی معاملہ کو واضح طریق سے بیان
 کرنا۔
 و ثقل (س) ثقلًا بالمكان -
 کسی جگہ اقامت کرنا۔
 ثقل الطریق و ثقلتہ - راستہ کا
 درمیان۔
 ثقلۃ - کپڑوں کا نول۔ فوجوں کا مرکز
 لوگوں کی جماعت۔ چوپایوں کا گھڑما
 روڑ۔ گردن کا بند۔ جندا۔ ج -
 ثقل - کہا جاتا ہے۔ جہاں ثقل
 اسی جگہ ہوتا ہے۔
 ثقل دن، ثقلًا - البئر کو میں کی مٹی نکالنا۔
 الوعاء۔ برتن سے سب بچہ نکال لینا
 ثقلًا و ثقلًا، القوم قوم کو نکال
 کرنا۔
 البیت - گھر کو گرا دینا۔ کتے ہیں۔
 ثقل الله عرشہ اللہ نے ان
 کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔
 و ثقل عرشہ اللہ ان کی عزت

جائی رہی۔
 الثواب۔ مٹی گرا کر لڑوانا۔
 کل ذی حافر۔ لید کرنا۔
 اثلثہ اثلثاً۔ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے لیے حکم دینا۔
 الرجل۔ کسی کا بہت بھیڑوں والا ہونا۔
 قنہ۔ کسی کے وانت گر جانا۔
 تشلل۔ البیت۔ گھر کا دھیرے دھیرے منہدم ہونا۔
 انقل۔ گر جانا۔ زمین پر آرہنا۔
 الثلل۔ ہلاکت۔ دانوں کا گرنا۔
 الثلثہ۔ ہلاکت۔ ج۔ ثلل۔
 اثلثتہ۔ بھیڑوں کا ریڑھ اون کہتے ہیں کیسے جید اثلثتہ۔ بڑھیا اون کا کبل۔ کوئیں سے نکالی ہوئی مٹی۔
 ج۔ ثلل وثلال۔ اون اور بالوں کا مجموعہ۔
 اثلثتہ۔ انسانوں کی جماعت کہتے ہیں فلان لا یفوق بین اثلثتہ و اثلثتہ۔ یعنی فلاں بھیڑوں اور انسانوں کی جماعت میں تمیز نہیں کرتا۔
 اثلثتہ۔ صحرا میں ساریاں۔
 ثلثتہ (ض)۔ کھنڈیا۔ غیب لگانا۔ طلسمت کرنا۔ غیب کرنا۔ گالی دینا۔ وہتکارنا۔
 اثلثتہ۔ ایشیائی۔
 ثلثتہ۔ ایشیائی۔ ایشیائی کسی شے کا رخہ والی ہونا۔
 الجلد۔ کھال کا سکرنا۔
 ثلثتہ۔ بہت بڑھا ہونا اور دانوں کا گر جانا۔
 الثلب۔ بڑھاپے کی وجہ سے وانت گرنا اور ٹوٹ پھوٹ۔
 اثلاب۔

والثلوب۔ عیب۔ ذلیل۔ نصح ثلوب۔ لوطا ہوا نیزہ۔
 الاثلب والاثلب۔ مٹی یا پتھر کا چھرا۔ ج۔ اثلاب۔
 المثلب۔ عیب لگانے کا عادی۔
 المثلثتہ۔ عیب گالی کہتے ہیں ما عرفت فیہ مثلثتہ۔ میں اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتا۔
 ج۔ مثلاب۔
 مثلاب الامیر۔ کسی امر کی خامیاں۔
 ثلثتہ دن، ثلثتہ۔ اثلثتہ۔ کسی شے کا ایک بچائی لینا۔
 القوم۔ قوم کا ثلث ہال لے لینا۔ ان میں تیسرا ہونا۔
 ثلثتہ۔ الاثنین۔ دو میں شامل ہو کر ان کو تین کر دینا۔
 اثلثتہ۔ مثلث بنانا۔ المشوآب۔ کسی رقیق شے کو اس قدر پکانا کہ تیسرا حصہ رہ جائے۔
 اثلثتہ۔ تین مرتبہ کرنا۔
 اثلثتہ۔ القوم۔ تین ہونا۔ تیس ہونا۔ مثلاً۔
 کلوا تسعة وعشرين فاثلثوا یعنی وہ انیس تھے تیس بن گئے۔
 اثلثتہ۔ تین۔ مؤنث ثلاث۔ ذوالثلاث۔ تین لڑیوں والی رسم کہتے ہیں فعلہ ثلاثاً۔ اس نے اس کو تین مرتبہ کیا اثلثتہ۔ اونٹنی کا تیسرا بچہ کہتے ہیں سقی زرعۃ اثلثتہ۔ اس نے اپنی کہتی کہ تین دن میں ایک مرتبہ پانی پلایا۔
 الثلث و الثلث۔ ایک تھائی۔ ج۔ اثلثتہ۔ اور اسی معنی میں۔
 الثالثیت۔ ہے۔
 الثلاثاء والثلاثا و یوم الثلاثاء۔ منگل۔ اس کا تیسرا ثلاثاء ان

اور مع ثلاثاوات و ثلاثاوات واثالث۔ ہے۔
 الخط الثلثی۔ موٹے حروف والا خط اتوا ثلاثاً او مثلثتہ۔ وہ تین تین آئے۔ یہ غیر منصرف ہے اور اس میں مذکر مؤنث برابر ہیں۔
 الثلثان و الثلثان۔ ٹوکا پھوا۔
 الثلاثون۔ تیس (مذکر مؤنث)۔
 الثالوث۔ جو تین سے مرکب ہو۔ یعنی تثلثت۔
 المثلثتہ۔ تین لٹوں کا تانت۔ سارنگی کی تیسری تار۔
 ج۔ مثلث۔
 المثلثتہ و المثلثتہ۔ بادشاہ کے پاس چغلی خوری کرنے والا۔
 المثلثتہ۔ تین نقطوں یا حرکت والا حرف تین ضلعوں والی شکل۔
 المثلوث۔ تین سے مرکب، جس کا تیسرا حصہ لیا گیا ہو۔
 من الجبال۔ تین لڑیوں سے بٹی ہوئی رسی۔
 کساء مثلوث۔ اون پشم اور بالوں کا بنا ہوا کبل۔
 المثلوثتہ۔ تین چڑیوں کا بنا ہوا توشہ دان۔
 ثلجت (ن)۔ کھجوا و اثلجت۔ السماء۔ آسمان کا برف برسانا۔ کہتے ہیں۔
 ثلجتنا السماء یعنی آسمان نے ہم پر برف برسائی۔
 ثلجت (ن)۔ کھجوا۔ نفسی بہہ والیہ۔ جی کا کسی سے خوش ہونا۔
 ملتن ہونا۔
 ثلججہ۔ فوادہ۔ بیدالطبع ہونا۔
 صفت۔ (مطلوب) الفوادہ۔
 ثلجت الارض۔ و اثلجت۔ زمین پر برف پڑنا۔

<p>کے بعد واپس ہونا۔ وَتَشَوَّبَ الْمُصَلِّيَّ - فرض کے بعد نقل نماز ادا کرنا۔ آثَابٌ - إِثَابَةٌ - الرجلُ - صحت یاب ہونا الرجلُ - بدلہ دینا - ۵ جزاء ۵ - جزا دینا - الحوض - حوض بھرنا۔ تَشَوَّبَ - ثواب حاصل کرنا۔ إِسْتَبَابَ - المالُ - مال کو واپس مانگنا۔ الرجلُ - کسی سے بدلہ مانگنا۔ الثَّابِتُ - نما - بارش سے پہلے کی تند ہوا - من البحر - بھانگے کے بعد سندر کا بڑھتا ہوا پانی۔ الثَّوْبُ - لباس - کپڑا - ج - ثِيَابٌ و أَثَابٌ و أَثْوَابٌ - کتے ہیں طاہر الثیاب - پاک نفس آدمی۔ اچھے چال چلن کا آدمی - دَنِيسُ الثیاب - بدھاطن - بد اخلاق۔ الثَّوَابُ و الْمَثْوُوبَةُ و الْمَثْوُوبَةُ - اچھے اور برے اعمال کا خصوصاً اچھے اعمال کا - شہد و شہد کی مکھی۔ الثَّوَابُ - بزاز - کپڑے کا سوداگر - کپڑے والا الثیابی - کپڑوں کی حفاظت کا ذمہ دار۔ المثاب و المثابة - لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ - کوئیں کے ارگرد کے اونچے پتھر۔ الثَّوَابُ - مٹی ہونا اٹھانے کی ٹوکری۔ ثاخذت دن من، ثَوْبًا و ثِيَابًا - الاصْبَعُ فِي الْوَجْهِ و الرجل فِي الْوَجْهِ - انگلی کا درم میں یا پاؤں کا کپڑے میں دھنس جانا۔ ثامس دن، ثوساً و ثوزاناً و ثوساً جوش میں آنا - اور اسی سے ہے یہ کلام - ثارات الفتنۃ بینہما قتل و فساد ان میں بھڑک پڑا۔ الغبارُ و الدُّحَانُ - غبار یا</p>	<p>تثنية - یعنی اس نے بغیر استثناء کے قسم کھائی - کھائی کا راستہ کہتے ہیں - فَلَانَ طَلَاعُ الثیابا - فلاں شخص مشقتوں کو بہت برداشت کرنے والا ہے۔ تثنية الاشتراع - حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پانچویں کتاب۔ المُتَنَاجِجُ - من الالفاظ - دو حرفوں و الالفاظ۔ اثنتان مؤنث - ثنتان و اثنتان دو۔ الاثنتان و یوم الاثنین - پیر کا دن۔ الثانی - مؤنث - ثانیة - دوسرا۔ الثانیة - سیکنڈ - ج - الثوانی - الثنوی و الثنیاً - من الجزوس مذبح کا سراپاؤں - مستثنیٰ کی ہوتی چیز۔ المثنی - بربط باجر کا دوسرا تار - ولوی کا موڑ - ج - المثانی - المثانی قرآن کی آیتیں۔ مثانی الشئ - رسی وغیرہ کی لڑیاں۔ والمثانی من المثابة - جانور کے گھٹنے اور کہنیاں۔ المثناة - اون اور ہال وغیرہ کی رسی۔ کچی - لپیٹ۔ ج - مثانیة۔ ثَابٌ - دن، ثَوْبًا و ثَوْبًا - لوطا۔ الناس - لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ الماء - پانی کا حوض میں جمع ہونا۔ (ثوباناً و ثوباً) الثواب، المویض - بیمار کا صحت یاب ہونا۔ ثَوْبُهُ - من کذا - بدلہ دینا۔ ثَوْبٌ الداعی - کپڑے کو بلا کر اشارہ کرنا الرجل کسی کا جانے</p>	<p>فی مثیہ - چلنے میں جسم کو ایک جانب جھکانا۔ انثنی - و انثنی - مڑنا - دوہرا ہونا۔ عنه الثانی - پھر جانا - علیہ بالضرب - دوبارہ مارنا۔ تثانوا - علیہ - مہربانیاں ظاہر کرنا۔ استثنی - الشئ - مستثنیٰ کرنا۔ فَلَا تَأْوَعُ عَلٰی فُلَانٍ - کسی کو غیر کے حکم سے خارج کرنا۔ اثنونی - صدائے علی المہضوء - کسی کے سینہ میں بغض و عداوت بھری رہنا۔ اثنی - من الثبوت - بیچ - لپیٹ۔ کتے ہیں - اَرْسَلْتَهُ ثِنِّي كِتَابِي میں نے اس کو اپنے خط میں لپیٹ کر بھیجا - من الوادی - موڑ۔ من الليل - وقت - من الحیة کنڈل۔ ج - اثناء - اثناء الكلام - دوران کلام کہتے ہیں - جَاءُوا فی اثناء الامر - وہ کام کے درمیان میں آئے۔ الثنی - اعادہ کی ہوئی بات۔ ج - ثنیہ الثناء - اونٹ کے باندھنے کی دوہری رسی۔ الوا - (ثنا و مثنی) وہ لوگ دو دو آئے - غیر منصرف ہے اور مذکر و مؤنث کے لیے یکساں ہے۔ الثنی - ج - ثناء و ثنیان - وہ جانور جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں۔ الثنیة - سامنے کے اوپر بیچے کے دو دو دانت - استثناء - کتے ہیں ثلث یمینا لیس فیہا</p>
--	--	---

دھوئیں کا بلند ہو کر ہوا میں پھیل جانا۔
 الجواد۔ ٹڈیوں کا نمودار ہونا۔
 نفسه جی متلانا۔ الیہ و بہ
 کسی پر حملہ کرنا۔ کود پڑنا۔
 ثَمَّارَةٌ۔ مَثَاوِرَةٌ و ثَوَّاسَةٌ۔ حملہ کرنا۔
 ثَوْرَةٌ و آثارہ و استنارہ۔ اڑانا۔
 جوش دلانا۔
 ثَوَّسَ الْأَمْرَ۔ کسی معاملہ میں کھود کرید
 کرنا۔
 ثَوَّسَ الْكِتَابَ۔ معانی کتاب میں بحث
 کرنا۔
 تَشَرَّرَ۔ اڑنا۔ جوش میں آنا۔
 ثَوَّسَانٌ۔ شفق۔ و ثَوَّسَةٌ۔ شفق کی
 سرخی۔ اور اس کی سرخی کا انتشار۔
 و تَيَّرَةٌ و ثَوَّسَةٌ۔ الثورناخن
 کے بڑھک سفیدی کو بھی کہتے ہیں۔
 الثَوْرَةُ۔ گلے۔ کثرت۔ کہتے ہیں۔
 ثَوَّسَةٌ رَجَالٌ اَوْ سَهَابٌ۔
 لوگوں یا ریت کی کثرت۔ جوش و
 بیجان۔ بغاوت۔
 الثَّائِرُ۔ فَاثِرٌ کہتے ہیں۔ فَاثِرٌ ثَائِرٌ و
 فَاثِرٌ فَاثِرٌ۔ یعنی وہ غضب ناک
 ہو گیا۔ آپے سے باہر ہو گیا۔
 و س آیتہ تَائِرٌ الرَّائِسِ۔
 میں نے اس کو بڑھاپے کے سبب
 سفید سر یا بکھرے ہوئے بالوں
 والا دیکھا۔
 الثَّائِرَةُ۔ شہد۔ جیح۔ ج۔ ثَوَّارٌ۔
 المَثَوَّسَةُ۔ بہت بیلوں والی زمین۔
 قَمَاعٌ (ن) ثَوَّعًا۔ الماء۔ بنا۔
 ثَوَّلَتْ (س) ثَوَّلًا و ثَوَّلَتْ (ن)۔
 ثَوَّلًا۔ الشَّاعُ خَاصَّةً۔
 بکری کا دیوانی ہونا۔ الرجل۔ آدمی کا
 بیوقوف ہونا۔ صفت (القول)۔
 مَوْنٌ ثَوَّلًا۔ ج۔ ثَوَّلٌ۔

جج۔ اِثَابَةٌ۔
 تَشَوَّلَ۔ التَّحَلُّ۔ شہد کی کمیوں کا جمع
 ہونا۔ علیہ القوم۔ لوگوں کا
 کسی کو برا بھلا کہنا۔ اور زرد و کوب
 کرنا۔
 اِنْتِشَالٌ۔ اِنْتِشَالًا۔ علیہ الثَّوَابُ۔ کسی
 پر مٹی کا کرنا۔ کہتے ہیں اِنْتِشَالَ
 عَلِيَهُ النَّاسُ مِنْ كَيْلٍ وَجَهْدٍ۔
 لوگ اس پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے
 علیہ القولُ مذبان سے بے ساختہ
 بات نکل جانا۔
 الثَّوَلُ۔ شہد کی کمیوں کا جھنڈ۔
 الثَّوِيلَةُ۔ قبیلہ کے اجتماع کی جگہ۔ متفرق
 گھروں کے لوگوں کا اجتماع۔ کہتے ہیں
 آتَى ثَوِيلَةَ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں
 کی ایک جماعت آئی۔
 الثَّوْمُ۔ لَسَنٌ۔ الثَّوْمَةُ۔ ایک لسن
 تلوار کے دستہ کے کنارے کی
 آرائش۔ کہتے ہیں "سینی ثومتہ
 من فضة" میری تلوار کے دستہ
 کا کنارہ چاندی کا ہے۔
 تَتَاوَنَ۔ مکرو قریب کرنا۔ دھوکا دینا۔
 الثَّوَيْتِيُّ۔ نظروں میں لگانے کی خشکی۔ پلیٹھن
 ثَوِيٌّ۔ (ض) ثَوَاءٌ و ثَوِيَّةٌ۔ المکان و
 قیہ و بہ۔ کسی جگہ ٹھہرنا۔ آباد ہونا
 الرجل۔ آدمی کا مرنا۔
 ثَوِيٌّ۔ دفن کیا جانا۔
 ثَوَاهُ۔ تشویہ۔ فی المکان۔ کسی کو
 کسی جگہ ٹھہرانا۔ قیام کرنا۔
 آثَوِيٌّ۔ ٹھہرنا آثَوَاهُ۔ کسی کی مہمانی کرنا۔
 آثَوَاهُ فِي الْمَكَانِ۔ کسی کو کسی جگہ ٹھہرانا
 قیام کرنا۔
 تَشَوَّاهُ۔ مہمان بنا۔
 الثَّوَّةُ۔ گھر کا سامان۔ راستہ کے نشان کے
 پتھر۔ ج۔ ثَوِيٌّ۔

المَثَوِيُّ۔ منزل۔ ج۔ مَثَاوِدُ اَبُو الْمَثَوِيِّ۔
 مہمان اَبُو مَثَوَاةٍ۔ میزبان اُمِّ
 مَثَوَاةٍ۔ میزبان کی بیوی۔
 تَغَيَّبَتْ و تَغَيَّبَتْ۔ المرأة زوجها۔
 عورت کا موت یا طلاق کے سبب
 اپنے خاوند سے جدا ہو جانا۔ بیوہ ہو
 جانا۔ صفت (ثیب) و (الثیب)
 وہ عورت جو کنواری نہ ہو۔ شادی شدہ
 مرد یا عورت۔ مذکر و مؤنث دونوں کے
 لیے یکساں ہے۔ کہتے ہیں۔ رجلٌ
 كَثِيْبٌ۔ شادی شدہ مرد۔ اِمْرَاةٌ
 كَثِيْبَةٌ۔ شوہر سے جدا شدہ عورت۔
 كَثِيْبٌ۔ جو مؤنث کے لیے ہے اس
 کی جمع کَثِيْبَاتٌ۔ ہے۔ کہا جاتا ہے
 بَشْرٌ كَثِيْبٌ۔ وہ کنواں جس میں پانی
 جمع ہو۔

المَثِيْبُ۔ خاوند سے جدا شدہ عورت۔
 الثَّبِيْلُ۔ جھگی بکری۔
 ثَبِيْلٌ و تَثِيْلٌ۔ الرجل۔ دیدہ و دانستہ
 بیوقوف بنانا۔
 الثَّيْلُ و الثَّيْلُ۔ ایک گرہ دار بوٹی جو زمین
 پر پھیلتی ہے۔
 الثَّيْنُ۔ موتی نکالنے کی جگہ۔ موتی میں
 سوراخ کرنے والا۔ یا سوراخ کرنے
 کا ادنیٰ۔

جَاب (ف) جَابًا - مال کانا۔ گيرومٹی
بیچنا۔

الجَاب - گيرومٹی۔ اکھڑا جڈ آدمی۔ شیر
ج جَوُّوْب - کتے ہیں۔ فلان
جَاب الصَّبْر - فلاں شخص کاموں
میں پکا صابر ہے۔

جَابَةُ البَطْن - ناف۔
جَابُزَجَابُزَةً - بھاگنا۔

جَيْت (س) جَائًا - الرجل - اٹھنے یا
بوجھ اٹھانے میں سُست ہونا۔

جَيْت - جَائًا و جَوُّوْسًا - خوف زدہ ہونا۔
صفت۔ (مَجُوُوْت)

أَجَائَتْهُ - الحمل - بوجھ کا بھاری لگنا۔
الجَائَات - بدخلق سُست رفتار۔

جَائًا - جَائًا - بالابل - اونٹ کو
جئی جئی - کی آواز سے پانی پینے کو
بلانا۔

تَجَائًا - عن كذا - رکن باز رہنا۔
الْجَوُّوْجُو - من الطائر - والسفينة
پرند کا سینہ۔ جہاز کا اگلا حصہ۔

ج - جَائِي -
جَائِي (ف) جَائًا - من لگا کر پینا۔
الجَائِي - من لگا کر پینے والا۔

جَائِي (ف) جَائًا - الى الله -
بلند آواز سے دعا کرنا۔ گڑ گڑانا۔

الشَّوْس - بیل کا ڈکارنا۔
البنات - سبزی کا بڑھنا۔

الارض - لمی گھاس والی ہونا۔
الجَائِي - من - لمی اور شاداب گھاس۔

الجَائِي - من الغيث -
مضبوط آدمی۔

جَائِي (س) جَائًا - بالساء - اچھو
زیادہ بارش۔

جَائِي (س) جَائًا - بالساء - اچھو

لگنا۔ پھندا لگنا۔

الجَائِي - اچھو۔ حلق کا پھندا۔

جَائِي (ف) جَائًا - قلبه - غم یا خوف
سے دل مضطرب ہونا۔

البيد - متوجہ ہونا۔

الجَائِي - دل بستہ۔ کتے ہیں

رابط الجَائِي یعنی ہسار۔

دلیر ج۔ جَوُّوْش۔

المَائِيَّة - نفس۔

جَائِي (ف) جَائًا - الماء - پینا

جَائِي (ف) جَائًا - خوف زدہ

تَجَائِيًا - پھاڑنا۔ خوف زدہ

کرنا۔ جَائِي الشَّجَرَة - درخت

کو بڑے اکھیر دینا۔

انجائت - الشَّجَرَة - درخت کا بڑے

اکھیرنا۔

جَائِي (س) جَائًا - لنگرا ہونا۔

جَائِي (ف) جَائًا - الصوف - اون

کا جمع کرنا۔ الصوف

جمع ہونا۔

جَائِي (ف) جَائًا - يَجُو - (دونوں

غیر منصرف ہیں)

جَائِي (ف) جَائًا - الجرح - پیپ۔

الجَائِي - باجبرہ۔

جَائِي (ف) جَائًا - الفرس

گھوڑے کا سیاہی مائل سرخ ہونا۔

صفت رَجْوًا - مؤنث جَائًا

جَائِي (ف) جَائًا - الشيء - روکنا

چھپانا۔ الثوب - کپڑا سینا

علیہ۔ وانتوں سے کاٹنا۔

جَائِي (ن) جَائًا - كالنا - غالب ہونا۔

(جَائًا) النخلة - کھجور میں

پیوند لگانا۔ قلم لگانا۔ گاتھا دینا۔

جَائِي - الفرس - سفیدی کا گھوڑے کے

زانواہ را پڑی تک پہنچنا۔ صفت

(مَجَائِي) تیز چلنا۔

جَائِي - مُجَائِيَةً - وَجَائًا - غالب آنا

فخر کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

تَجَائِي - الرجلان - ایک دوسرے

کی بہن سے شادی کرنا۔

أَجَائِي - جِبِي - جِبِي - الشيء - کاٹنا

الجَبِي - گہرائیوں۔ گڑھا۔ ج۔ أَجَاب -

وجاب وجبہ۔

الجِبِي - جِبِي - زرہ۔

من السنان - بانس کا وہ حصہ

جہاں نیزہ کا پھل پیوست ہو۔ آنکھ

کے گرد کی بڑی۔ کمر سے ملا ہوا

پنڈلی کا حصہ۔ ج۔ جِبِي و

جِبِي -

الجِبِي والجِبِي - قحط۔ بعير

(أَجَب) کولان بریدہ اونٹ۔

جِبِي (ف) جِبِي و جِبِيًا و جِبِيًا و جِبِيًا

و جِبِيًا - البصر - نگاہ کا

کڑو ہونا۔ السيف - تلوار

کلاچٹ جانا۔ الرجل

خوف کے سبب باز رہنا اور واپس

آنا صفت رَجْبِيًا و جِبِيًا - یعنی

بزدل۔ جِبِيَات علیہ الحیة

سانپ نے سوراخ سے نکل کر اس

کو مرعوب و خوف زدہ کر دیا۔ حیاء

علی القوم - وہاں تک ان کے

سامنے نمودار ہوا۔

جِبِي (س) جِبِيًا - چھپنا۔ عند

بالرہنا اور ڈرنا۔

أَجَبًا - الشيء - چھپانا اجبات الارض

کسی زمین میں سرخ سانپ کی چھتری

کابکثرت ہوتا۔ اجباً علی القوم۔
کسی کا بلند جگہ سے اچانک نمودار ہونا
الجَبِّ۔ سرخ رنگ کی سانپ کی پھتری۔
ج۔ آجِبُوْا وَّجِبَاةٌ۔ گرو۔ پہاڑ
میں بارش کے پانی کا گڑھا۔ ٹیلہ
ارضٌ مُّجَبَّاتٌ۔ وہ زمین جس
میں سرخ سانپ کی پھتری بکثرت
پیدا ہو۔

جَبَّيْبٌ۔ الرجلُ۔ سفر کرنا۔ موٹا ہونا۔
الجَبَّيْبَةُ۔ چڑے کا تھیلا۔ ج۔
جہاجب۔ ڈھول۔ موٹی اور فریب
اونٹنی۔ ماءٌ (جَبَّجَاتٌ و
جَبَّاجِبٌ، بہت پانی۔
الجَبْتُ۔ بت۔ جادو۔ جادوگر۔ بے

خبر آدمی۔
جَبَّخَرٌ (جَبَّخَا۔ ٹکڑا کرنا۔ جَبَّخَرٌ
القَدَاحُ وَالكَعَابُ فِي الْقِمَاسِ
پانسہ پھینکا۔

الجَبَّخَالَةُ۔ میگزین۔ اس کے لیے عربی
مَسْحَةٌ ہے۔ بارود۔ کارتوس
جَبْدَةٌ (رض) جَبْدًا وَّاجْتَبَدَةً۔
کھینچنا۔ جَبْدُ الْعَنْبِ۔ پھوٹنا
اور خشک ہونا۔

جَبَادٌ۔ مبنی علی الکسرة۔ موت۔
جَبْدٌ۔ الکیل۔ ناپ لبالب بھریا۔
الجَبْدَةُ۔ بلند بلند اور گول زمین۔
ج۔ جَبَّيْدٌ۔

الجَبْدُ۔ غنیمت یا شگفتہ
جَبْرٌ (ن) جَبْرًا وَّجَبْرًا وَّجَبَارَةً۔
وَجَبْرًا الْعِظَمَ۔ ٹوٹی ہوئی
ہڈی درست کرنا۔

جَبْرَدُنْ، جَبْرًا وَّجَبْرًا وَّجَبْرًا
وَتَجَبْرًا وَّاجْتَبْرًا۔ شگفتہ ہڈی
کا درست ہونا۔
الْفَقِيْرُ غَنِيٌّ بِنَاجِبْرَةٍ عَلَيَّ عَلَيَّ

کسی کام پر مجبور کرنا۔
اجْبِرْهُ عَلَيَّ عَلَيَّ۔ مجبور کرنا۔ مذہب
جبریہ کی طرف منسوب کرنا۔
اجْتَبِرْ۔ وَاِسْتَجَبِرْ۔ فقر کے بعد غنی ہونا۔
تَجَبَّرْ۔ ٹکڑا کرنا۔ سرکش ہونا۔ صفت۔
جَبَّيْرٌ۔ گزری ہوئی حالت کا پھر
لوٹ آنا۔ النَّبْتُ۔ چر
جانے کے بعد سبزہ کا پھر آگ آنا۔
تَجَبَّرَ الْمَرِيضُ۔ مریض کا چنگا ہونا۔
الجَبْرُ۔ مصب شگفتگی کی درستی۔
غزور۔ مجبوری۔ قضاے الہی کے
وقوع کا کلی طور پر مجبورانہ اعتقاد
کرنا۔

الجَبْرَاءُ۔ بہادر آدمی۔
الجَبَارَةُ۔ ٹوٹی ہڈیوں کی اصلاح کا
پیشہ۔ (وَالجَبِيْرَةُ)
شگفتہ ہڈی پر باندھنے کی لکڑی یا
پٹی۔ ج۔ جَبَّيْرٌ۔

الجَبَّيْرُ۔ کنگن اور بازو بند
الجَبْرُوْتُ وَالجَبْرُوْتُ وَالجَبْرُوْتُ
قدرت۔ طاقت۔ عظمت جَابِرٌ۔
فَا۔ أَبُوْحَابِرٍ۔ روٹی۔ اُمُّ جَابِرٍ
ہولیسہ۔ الجَبَّاسُ۔ رائگان
ضائع۔ بے بدلہ۔ کہتے ہیں۔
ذَهَبٌ دَمُهُ جَبَّارًا۔ اس کا
خون رائگان گیا۔

وَاَتَا مِنْهُ خَلَاوَةٌ وَجَبَّاسًا
میں اس سے پاک و بری ہوں۔
الجَبَّارُ۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔
تسلط رکھنے والا۔ قہر و غضب والا
مغزور و سرکش۔ برج جوزا۔
کہتے ہیں۔ طلح الجَبَّارُ۔ یعنی
برج جوزا نے طلوع کیا۔

نَخْلَةٌ جَبَّارَةٌ۔ اس قدر لباً کجور کا
درخت کہ اس پر ہاتھ نہ پہنچ سکے۔

الجَبْرِيَّةُ وَالْمَجْبِرَةُ۔ وہ فرقہ جو
انسان کو مجبور محض مانتا ہے۔
جَبْرًا ثَيْلٌ وَّجَبْرِيْلٌ۔ ایک برگزیدہ
فرشتہ کا نام، جن کے ذمہ نبیوں کے
پاس وحی کا لانا تھا۔
جَبْرٌ (ن) جَبْرًا۔ کاٹنا۔
جَبْرَدُنْ، جَبَّارَةٌ۔ الخبزُ۔ روٹی کا
خشک ہو جانا۔ صفت۔ (جَبَّيْرٌ،
الجَبْرُ۔ بخیل۔ کنجوس۔
الجَبْرَةُ۔ ٹکڑا۔ کہتے ہیں جَبْرًا لہ
من مالہ جبْرَةٌ۔ یعنی اس
نے اس کو اپنے مال میں سے ایک
حصہ دیا۔
الجَبَّيْرُ۔ خشک روٹی۔
تَجَبَّرَ۔ فِي مَشِيَّةٍ۔ ٹکڑا کرنا
سے چلنا۔
الجَبْبُ۔ بزدل۔ کینہ۔ کند خاطر۔
فَاسِقٌ۔ چونا۔ رپچہ کا بچہ۔ ج۔
أَجْبَاسٌ۔
الجَبِّيْسُ۔ رپچہ کا بچہ
(وَالجَبُّوسُ وَالْأَجْبِسُ)
رذیلہ۔ ناکارہ۔
الْأَجْبِسُ۔ کمزور۔ بزدل۔
جَبَلُهُ (ض ن) جَبَلًا۔ اللہ۔ بنانا۔
پیدا کرنا۔ کہتے ہیں۔ جَلَهُ اللہُ
عَلَيَّ الْكُرْهُ۔ اللہ نے کرم و
شرافت اس کی فطرت میں رکھی
ہے۔
جَبَلُ التَّرَابِ۔ مٹی میں پانی ڈال کر
اس کا گارا بنانا۔
جَبَلُهُ۔ مختلف ٹکڑے کرنا۔
أَجْبَلَهُ۔ کسی کو بخیل بنانا۔
أَجْبَلٌ وَتَجْبَلٌ وَجَابِلٌ۔ المسافرُ۔
مسافر کا پہاڑ کی جانب جانا۔ پہاڑ
میں داخل ہونا۔ اس میں سکونت پذیر

الجُحَّة - انسان کا بدن - اس کا زیادہ

استعمال مردہ لاش کے لیے ہے -
ج - جُحْتُ. الجُحِيثُ. من النخيل

کھجور کا پودہ - واحد
(جُحِيثَةٌ) المَجْحُتَةُ -

والمجحات - گھاس کھودنے کی کھڑکی
اجتال - الطير - پرند کا پر جھاڑنا -

النبت - گھاس کا لمبا اور گنجان ہونا
- الرجل - آدمی کا غصہ ہو کر لڑائی

کے لیے تیار ہو جانا -
جَبَلْتُهُ - جُثْلًا - التَّوَيْحُ - ہوا کا

اڑنے جانا - بکیرنا -
جَبَل (س) وِجَل (ك) جَبَالَةٌ و

جَبُولَةٌ - الشجر والشعر درختوں یا
بالوں کا بکترت ہونا اور گنجان اور

سیاہ ہونا - صفت - (جٹل و جٹیل) -
الجُحَلَّة - چھوٹی - ج - جُحَلُّ -

الجُحَالَةُ - درخت کے بکے ہوئے پتے
الجُحِيلِيُّ وَالْجَاثِلِيُّ - لاک - پادری -

ج - جُحَالَقَهُ - جَمُّ (ن ص) جُمًّا و
جُثْمًا - اللیل - آدمی رات ہونا -

الرجل أو الطائر أو الحيوان آدمی
پرندہ یا جانور کا سینہ کو زمین سے

لگانا - صفت جَاتِمٌ - ج -
جُثْمٌ

الجاثوم والبقائم کا برس - رجل
(جٹم و جٹامہ و جٹم و جٹوم) -

بہت بیٹنے کا عادی - بہت سونے
والا -

الجثان - جسم شخص - المَجْتَمُ بیٹنے
کی جگہ - ج - مجاثم -

جثارن) جثوا و جثلی (من) جثيا -
و جثيا - دوزخ کو بیٹنا - پاؤں کی

انگلیوں کے بل کھڑا ہونا - صفت
رجاٹ، ج جُثِّي و جُثِي - مؤنث

جائیدہ -
جَاطِي - کسی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹنا -

أَجْثِي - ۵ - کسی کو زانو کے بل بیٹانا -
تجاثوا - باہم زانو پر بیٹنا -

الجُحُوَّةُ وَالْجُحُوَّةُ وَالْجُحُوَّةُ - پتھروں
کا ڈھیر - مٹی کا ڈھیر - ج - جُثِّي و

جُثِي -
جَحَجَجَ - المشي - کسی شے کی تہ کو پہنچ

کر اس کی طرف تیزی کرنا -
عن الامر - رک جانا - مڑ جانا -

الجَحَجَجُ وَالْجَحَجَجُ فَيَا مَنِي كِي طرف
جلد سبقت کرنے والا سردار - ج -

جَحَاجِحٌ وَجَحَاجِحٌ وَجَحَاجِحَةٌ
جَحَدَةٌ - (ن) جَحَدًا وَجَحُودًا

کفر کرنا - جُحَلَاتَا - (ن) حَقَّقَهُ
وَجَحَدَ بِحَقِّهِ جان بوجھ کر کسی

کے حق سے انکار کرنا - صفت
(جَاحِدٌ) جَحَدٌ (س) جَحَدًا

الشيء - کم ہونا - اللبثُ
نبات کا دراز نہ ہونا - الارضُ

زمین کا خشک ہونا - الرَّجُلُ
آدمی کا بے خیر ہونا - صفت -

(جَحَدٌ وَجَحَدٌ وَآجَحَدًا)
کتے ہیں عَامٌ جَحَدٌ - کم بارش

کا سال - ارضٌ جَحَدَةٌ - خشک
زمین -

لَا اَللَّهِ الْجُحُودُ - باصطلاح خمیلین - وہ
لام جو مانا - قیہ اور کان کے

بعد تاکید نفی کے لیے آتا ہے - جیسے
وما كان سبك ليرملك القرى -

خدا کا یہ شیرہ نہیں ہے کہ بستیں کو
ہلاک کرے -

جَحَدَرَةٌ - پھارنا - لڑھکانا -
تَجَحَدَرُ - الطائر - پر پھڑ پھڑا کر پرندے

کا اڑنا -

الجَحَدَرُ - پست قد -
جَحَدَلَةٌ - پھارنا -

جَحْرُ (ن) جَحْرًا وَنَجَحْرًا وَالْجَحْرُ الْعُضْبُ
و السُّيْحُ - گوہ یا درندے کا

سوراخ یا بھٹ میں داخل ہونا -
جَحْرَتِ الْعَيْنِ - آنکھ کا دھنس

جانا -
جَحْوُ الْعَيْزِ عَنَّا - بھلائی ہم کو نہیں

پہنچی -
أَجَحْرٌ وَجَحْرٌ - بل میں داخل ہونے پر مجبور

کرنا - وَاجْحَرَتِ السَّمَاؤُ - آسمان
کا بارش نہ برسانا -

أَجْحَرُ الْقَوْمِ - قوم کا قحط سالی اور شدت
میں پڑ جانا -

۵ - کسی کو تنگی میں ڈالنا -
۵ - الی کذا - مجبور کرنا -

اجْتَحَرَ - سوراخ بنانا -
تَجَحَّرَتِ الْعَيْنُ - آنکھ کا اندر کو دھنسنا -

اور اسی سے ہے عین (جحرا) -
گڑھے میں بیٹھی ہوئی آنکھ -

الجَحْرُ - گہرا گڑھا -
الجَحْرَةُ وَالْجَحْرَةُ - خشک سال -

الجَحْرُ - سوراخ - بھٹ - ج - اجْحَاسُ
وَجَحْرَةٌ و آجِحْرَةٌ -

الجَاحِرُ - قافلہ کے پیچھے رہ جانے والا -
الجواحر - وہ جانور جو اپنے گلہ یا ریوڑ سے

پھڑا کر پیچھے رہ جائیں -
الْمَجْحِرُ - چھپنے کی جگہ - پناہ کی جگہ -

ج - مَجَاحِرٌ - جَحْسٌ وَجَحْسٌ (ن)
جَحْسًا وَجَحْسًا - اَلْجَحْدُ -

چڑا چینا - کھر چنا -
جَاحَسٌ وَجَاحَسٌ - عن نفسه وعن غيره

بٹانا - دفع کرنا - کسی سے مزاحم
ہونا - مقاتلہ کرنا -

الجَحْشُ - گدھے کا بچہ - بچھیرا -

جحف جحاش و جحشان و جحشہ۔
 الجحشہ۔ گدھے کا مادہ بچہ۔ اون جو
 ہاتھ پر لپیٹ کر کاتی جاتی ہے۔
 الجحوش۔ نتھابچہ۔
 جحظت (س) جحوظا۔ عینتہ
 آنکھ کا ابھرے ڈھیلے والی ہونا۔
 کہتے ہیں رجل جاحظ العینین
 ابھری ہوئی آنکھوں والا آدمی۔
 جحظ۔ الیہ۔ کسی کو گھورنا۔ کسی کی
 طرف ٹکٹکی لگانا۔
 الجاحظان دونوں آنکھوں کے ڈھیلے۔
 جحفہ (ف) جھیلنا۔ ہالے جانا۔ برباد
 کرنا۔ ہ۔ برجلہ۔ لات مارنا۔
 جحفہ معہ ولہ علی غیرہ۔
 مائل ہونا۔ لہ الطعام۔ کھانا
 نکالنا۔
 جحف۔ الترحیل۔ آدمی کا بتلائے ہیضہ
 ہونا۔
 الجحف۔ السیل بہ۔ سیلاب کا کسی
 کو ہالے جانا۔
 الذہر بالناس۔ زمانہ کا لوگوں کو جڑ
 سے مٹانا۔ ہلاک کرنا۔
 فلان بعبدہ۔ کسی کا اپنے غلام
 کو طاقت سے اونچا کام سپرد کرنا۔
 الجحاف بطور استعارہ نقص فاحش
 میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔
 جاحفہ۔ مزاحمت کرنا۔ جاحف
 عنہ۔ مدافعت کرنا۔
 تجاحفوا۔ لاشی اور تلواروں سے لڑنا۔
 بالکوفہ۔ گیند کو بلے کے ساتھ
 ایک دوسرے سے چھیننا۔
 اجحفہ۔ پھیننا۔ جڑ سے اکھڑنا۔
 ہلاک کرنا۔
 ماء البثور۔ کونوں کا تمام
 پانی نکال کر خشک کر دینا۔

السيل الوادی۔ سیلاب کا
 وادی کو کھود کر ہالے جانا۔
 الجحفۃ والجحفۃ۔ حوض کے جواب
 میں بچا ہوا پانی۔
 السیل و الموت (الجحاف)
 عام تباہی مچانے والا سیلاب اور
 موت الجحاف۔ ہیضہ کے اسہال
 الجحوف۔ ہیضہ میں مبتلا آدمی۔
 الجحاف۔ جنگ۔ لڑائی۔
 المجحفۃ۔ مصیبت۔
 جحفله جحفلة۔ پھارنا پھینکنا۔
 دھمکانا۔ تنبیہ کرنا۔
 تجحفوا۔ جمع ہونا۔
 الجحفل۔ لشکر جزار۔ ج جحافل
 رجل جحفل۔ بڑی قدر کا آدمی
 بڑے مرتبہ و درجہ کا آدمی۔
 الجحفلة۔ کھولنے جانور کا ہونٹ۔
 جحله (ن) جحلا و جحله پھارنا
 الجحل۔ ج۔ جحول و جحلان۔ گرگٹ
 گوہ کا بچہ۔ گبریلہ۔ شہد کی مکھیوں کی
 ملکہ۔ ج۔ جحال،
 بڑی مشک۔ کہتے ہیں رجل جحل۔
 موٹا کشادہ پیشانی والا آدمی۔
 الجحال۔ زہر بڑی چٹان۔ پہاڑ
 ہر بڑی چیز۔ جحود (جحما)
 الناس۔ آگ بھڑکانا۔
 العین۔ آنکھ کھولنا۔
 عن الامر۔ کسی کام سے
 روکنا۔ باز رکھنا۔
 جحمت (س) جحما و جحما و جحمت
 (ن) جحوما الناس۔ آگ کا بھڑکانا
 جحمة۔ بعینہ۔ گھورنا۔ تیز نگاہ
 سے دیکھنا۔
 اجحمة عن الامر۔ رکتا۔ باز رہنا۔
 اجحمت الناس۔ آگ کا تیز بھڑکانا۔

تجحف۔ تنگ ہونا۔ جلنا۔
 الجاحم۔ فا۔ دہکتی ہوئی چنگاری۔
 من الحرب۔ سخت جنگ اور
 گھمسان کی لڑائی۔ کما جاتا
 ہے
 نار جاحمة۔ تیز آگ۔ عین جاحمة
 ٹکٹکی لگانے والی آنکھ۔
 الجحیم۔ دوزخ۔ گڑھے میں سخت
 دہکتی ہوئی آگ۔ سخت گرم جگہ۔
 جحمة۔ النار۔ آگ کی بھڑک۔ ج۔
 جحف۔
 الجحام۔ آنکھوں کا درم۔
 الاجحمة۔ سرخ آنکھوں والا۔ سوچی ہوئی
 آنکھوں والا۔
 الجحمرش۔ بہت بوڑھی عورت۔
 بد صورت عورت۔ موٹا خرگوش۔ ج۔
 جحما مر۔ تصغیر۔ جحیمہ۔
 جحن (س) جحنا۔ الصبئی۔ خوراک کی
 خرابی کی وجہ سے بچہ کا کمزور ہونا۔
 صفت (جحن)
 جحن (ن) جحنا و جحن و جحن
 فقر یا کنجوسی کے سبب بال بچوں کو
 روزی کی تکلیف میں ڈالنا۔
 اجحنہ۔ بڑی خوراک دینا۔
 الجحن۔ دیر میں جوان ہونے والا
 من النبات۔ کمزور اور چھوٹا پودا۔
 جحان، جحوا۔ چلنا۔ ہالساکان
 کسی جگہ رہنا۔
 اجتحا۔ جڑ سے اکھڑنا۔ بیخ کنی
 کرنا۔
 الجحوة۔ ایک قدم۔
 جحف (ن) جحفا۔ لیٹنا اور بدن کو
 ڈھیلا چھوڑ دینا۔ ایک جگہ سے
 دوسری جگہ منتقل ہونا۔
 بوجله۔ پاؤں سے خاک

اڑانا۔

جَحْرَف (س) جَحْرًا وَجَحْرًا - البئر۔
کوئیں کو کشادہ اور وسیع کرنا۔جَحْرَس (س) جَحْرًا - جَوْفُ البئر۔
کوئیں کا کشادہ ہونا۔تَجَحَّرَ - الحوصن - حوصن کا پانی
خشک ہو کر اس کی مٹی کا ترخ جانا۔

الجَحْرُ - بسیار غور۔ بزدل۔

جَحْفَ (ن ص) وَجَحْفًا (س) جَحْفًا
وَجَحْفِيًّا - اپنی حد سے زیادہ غر
کرنا۔ صفت (جَحْفَان)۔الجَحْفِيَّة - مص - بھاری لشکر۔ بہت متکبر
انسان کے پیٹ کی آواز۔ نفس و
روح کہتے ہیں۔ وقع ذلك في
جَحْفِيَّةٍ - یہ بات میرے
دل میں آئی۔جَحْفَان (س) جَحْوًا - الكوس - كوزه
کو اوندھا کرنا۔جَحْفِي وَتَجَحْفِي - الكوس - اوندھا ہونا
- الشيخ کبڑا ہونا۔ خمیدہپشت ہونا۔ اللَّيْلُ -
رات کا گذرنا۔جَدَّ (ن) جَدًّا - في عين القوم -
قوم کی نظروں میں بڑا ہونا۔جَدَّ (ن ص) جَدًّا - الثوب - کپڑے کا
نیا ہونا۔جَدَّ (س) جَدًّا - كاشاد (ن) -
جَدًّا (س) كوشش کرنا في الامر
ثابت کرنا۔ اہتمام کرنا۔ جلدی کرنا

- بله الامر - سخت ہونا۔

جَدَّ (س) جَدًّا - الشدح - او
الضراع - پستان یا تھن کا دودھخشک ہونا۔ صفت (جَدَّ) اور
اونٹنی کی صفت (جَدَّ) ،

کہتے ہیں "سنة جداء" - قحط کا

سال۔

جَدَّ (س) جَدًّا وَجَدًّا - صاحب
نصيب ہونا۔ صفت (مجدود) ،کہتے ہیں "جددت يا فلان"
تم خوش قسمت ہو۔جَدَّدَ وَاجَدَّ - الشيء - نیا کرنا اجد
ثوبًا - نیا کپڑا پہننا۔ اجدَّ الامر
کسی امر کی خوب تحقیق کرنا۔- في الامر کسی معاملہ میں
سنجیدگی اختیار کرنا۔ کوشش کرنا۔اجَدَّ الطريق - راستہ کا سخت و
ہموار ہونا۔ الرجل - کسی کا

سخت و ہموار زمین پر چلنا۔

جَادَّ - مجادَّة - في الامر - کسی
سے تحقیق کرنا۔استجدَّ - الشيء - نیا ہونا۔ الشيء
نیا کرنا یا نیا پانا۔ الثوب -

نیا کپڑا پہننا۔

الجَدُّ - مص داوا۔ نانا۔ ج۔ آجدادُ
وَجَدُّ وَجَدُّ وَدَّة - موزک
جدہ۔الجَدُّ - خوش قسمتی۔ بزرگی۔ عظمت۔ دولت
رزق۔ کنارہ نہر کہتے ہیں عَشْرَجَدًّا او عَشْرَ جَدًّا - وہ ٹوٹے میں
رہا یا ہلاک ہوا۔الجَدُّ - مص کوشش۔ سنجیدگی جلدی
پوری تحقیق کو پہنچا ہوا۔ فلان عالمجدُّ عالم - فلان چوٹی کا عالم ہے
وَعَظِيمٌ جَدًّا بہت بڑی عظمترکھنے والا۔ جَدًّا کا نصب مصدریت
کی وجہ سے ہے۔الجَدُّ - حصہ کہتے ہیں فلان ذو جَدِّ
في كذا - فلان اس معاملہ میں صاحبنصيب ہے۔ بہت پانی والا کنواں
کم پانی والا کنواں۔ صوا کے کنارےپر حقوڑا سا پانی۔ سمندر کا کنارہ۔ ہر
چیز کا کنارہ۔ (والجُدِّي)

بڑی قسمت والا۔

الجَدَّدُ - سخت و ہموار زمین۔ اسی سے
یہ مثل ہے۔ من سلك الجَدَّدأمن العثاس - جو سخت زمین پر چلتا
ہے وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے۔

باریک ریت۔ ج۔ آجداد۔

الجُدَّة - نہر کا کنارہ۔ کتے کے گلے کا پٹہ
کپڑے کا ٹکڑا۔وَجَدَّةُ الثوب - کپڑے کا نیا ہونا۔
الجُدَّة - نشان۔ طریقہ۔ کہتے ہیں ركبجُدَّة الامر وَجُدَّة من
الامر - اس نے رائے قائم کی

ج۔ جَدَّد۔

الجَادُّ - محنتی۔ سنجیدہ۔

الجَادَّة - الجَادُّ - كاموٹ۔ شاہراہ۔ سڑک
کایج۔ ج۔ جَوَادُّ۔الجَدَادُ وَالجَدَادُ - کھجور توڑنا۔
جَدَادَةُ التَّخْلِ وَغَيْرَ - کھجور وغیرہ کا جڑ

سے اکٹرا ہوا درخت۔

الجَدَادُ - موباف۔ آپس میں الجھے ہوئے
یا گتھے ہوئے ڈورے یا درخت کی

شاخیں۔

الجَدِيدُ - نیا۔ ایک قسم کا پرانا سکے۔
ج۔ جَدَّد۔الجَدِيدُ وَالجَدِيدُ - نصیب ورکنا ہوا
الجَدِيدَانِ وَالجَدَانِ - دن راتتشبیہ و لی شکل میں ان کا استعمال
ہے۔ تنہا دن یا رات کے لیے جدید

یا اجد نہیں کہہ سکتے۔

المُجَدَّدُ - مفع۔ من الاكسيية -
مختلف رنگ کی دھاریوں کا کپڑا۔جَدَّبَ (ن ص) جَدْبًا وَجَدَّبَ (ك)
جَدُّوبَةً وَتَجَدَّبَ - المکان

کسی جگہ کا بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جانا۔ صفت (جَدَب) وَأَجْدَب - جَدَب - جَدُوب و مَجْدُوب (جَدَب - فَلَانًا - کسی پر عیب لگانا۔ اَجْدَب - المکان - بارش نہ ہونے کی وجہ سے کسی جگہ کا خشک ہو جانا۔ القوم - قوم کا قحط زدہ ہونا۔ الارض - زمین کو خشک پانا۔ فَلَانًا - ممان داری نہ پانا۔ جَدَبٌ - کمزور کرنا۔ تَجَدَّب - عیب دار ہونا۔ الْجَدْب - مص - قحط سالی - عیب۔ کہتے ہیں مکانِ جَدْب قحط زدہ مقام۔ مَوْنُتُ جَدْبٌ - ج - جَدُوب - کہتے ہیں ارضوں جَدُوب و ارضوں جَدْب قحط زدہ زمینیں۔ الْجَدُوب و الْجَدِيْب - قحط زدہ ارض جَدْبَاء - قحط زدہ زمین المجداب - من الارضی - بنجر زمین ج - مجداب۔

الاجادب - وہ زمین جس میں کوئی روئیدگی نہ ہو۔ مکان (مَجْدُوب) قحط زدہ مقام۔

الجدث - قبر ج - اجداث و اجداث اجداث - قبر بنانا۔ الجدجد - سخت ہموار زمین - جبینگر۔ جَدَح - ج - جَدَحِد (ف) جَدْحًا وَاَجَّح وَاَجَّح - ستو گھولنا۔ جَدَح السويق في اللبن - ستو کو دودھ میں گھولنا۔ کہتے ہیں۔ جَدَح جَوِيْنٌ من سويق غيره - یعنی جوڑیں نے دوسرے

کے ستو کو گھولنا۔ چنانچہ اردو میں اس کے ہم معنی ضرب المثل مشہور ہے۔ "ملوانی کی دکان اور دادا جی کی فائتہ"۔ جَدَح - الْجَدَح - ستو وغیرہ گھولنے کا آلہ۔ ستارہ۔ المجداح - سمندر کا کنارہ۔ ج - مَجَادِح - مَجَادِيح السماء - نچتر۔ واحد - مَجْدَح - کہتے ہیں۔ ارسلت السماء مَجَادِيح الغيث - یعنی آسمان نے بارش کے نچتروں کو آزاد چھوڑ دیا۔ جَدَس - (ن) جَدَسًا و جَدَسًا و جَدَسًا - چمپک نکلتا۔ صفت (مَجْدُوس - و مَجْدَسًا - جَدَرَة (ن) جَدَسًا - لائق و مناسب بنانا۔ الجداس - دیواروں سے گھرنا۔ الرجل - کسی کا دیوار کی اوٹ میں ہو جانا۔ جَدَس و جَدَس (ن) جَدَارَة - جَدَسًا - لائق و جَدَسًا - و آجَدَسًا - المنبت - پودہ کا پھوٹنا۔ کونپل نکالنا جَدَس (ن) جَدَسًا - بکذا لائق و اہل ہونا۔ صفت۔ (جَدِيد) کہتے ہیں۔ ہو جدید بکذا او کذا۔ ج - جدیدون و جَدَسَاء - مَوْنُتُ حَیْرَة - ج - حَیْرَات و حَیْرَات جَدَسًا - وَاَجَّحِدَسًا - الحاطط - دیوار بنانا۔ اور اس پر پلاسٹر کرنا۔ الجَدَس - و الجَدَس - واحد۔ حَیْرَة و حَیْرَة - پھنسیاں چوٹ یا زخم کا نشان۔ الجدر - بالشیء - و له - لائق۔

مناسب۔ ج - حَیْرُون - المناسب - ج - حَیْرُون و الجَدَس - ج - حَیْرَان و (الجَدَس) ج حَیْرَان و جَدَسًا - دیوار۔ الجَدَس و الجَدَس - ایک قسم کی ریگستانی نبات۔ ج - حَیْرُون - واحد (حَیْرَة و حَیْرَة) الجَدَرِي و الجَدَرِي - چمپک المجدار - دھوکا۔ وہ نشان جو کھیت میں پرندوں اور جانوروں کے ڈرانے کے لیے گھڑا کیا جاتا ہے۔ المجدرة - لائق۔ کہتے ہیں۔ لائق مَجْدَرَة لان یفعل کذا وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ (اس میں مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب برابر ہیں) ارض مَجْدَرَة - بہت چمپک والی زمین۔ وہ ملک جس میں چمپک کی وبا پھیلی ہوئی ہو۔ المجدور - چمپک میں مبتلا۔ کم گوشت والا کہتے ہیں۔ انہ مجدور ان یفعل کذا۔ وہ اس کے کرنے کا اہل ہے جَدَع (ف) جَدَعًا - الالف و ما شاکلہ۔ ناک یا بونٹ وغیرہ کاٹنا۔ کہا جاتا ہے لا مَدَّ جَدَعٌ قَصِيْرٌ اَنْفُه - قصیر بینی ناک کسی خاص مصلحت سے کاٹی جَدَع فَلَانًا - کسی کو قید کرنا۔ باز رکھنا۔ الرجل عیالہ - کسی کا ہال بچوں کے نان نفقہ کو روک لینا۔ (وَجَدَع وَاَجْدَع) الْوَلَدُ بچہ کو بری خوراک دینا۔ جَدَع (س) جَدَعًا - خوراک کا برا ہونا۔ صفت (جَدَع) - التویل ناک کا کٹ جانا۔ صفت۔ (اَجْدَع)

جُدُل الانسان. انسان کے ہاتھ پیر کی کھوکھلی ہڈی۔

الجديلة - طريقه. طريقه. کتے ہیں "عمل علی جدیلتمہ" اس نے اپنے طریقہ پر کام کیا. قبیلہ. گوشہ. طرف. رائے کی سختگی۔

الاجدلی والجدل. شکرًا ساعد الجدلی. خوبصورت گٹھی ہوئی کلائی۔ ج. اجادل. دسرخ جَدَل۔ مضبوط زرہ. ج. جُدلی۔

الجدال. والجدلی والجدل و المجدال. بہت جھگڑاؤ۔

المجدل. محل. ج. مجادل.

المجدل. لوگوں کی جماعت۔

المجدول. بٹا ہوا. یا مضبوط بٹا ہوا۔

الجدول والجدول. چھوٹی نثر منطقی

قضیوں کی شکل اور حساب میں جدول

الضرب اسی سے ہے۔ ج. جد اول۔

کتے ہیں: استقام جدول القوم

قوم کا کام انتظام پذیر ہوا۔

جدمة (ن) جدما. کاٹنا. جدمت

الذخلة. درخت خرما کا پھل دار ہو

کر خشک ہونا۔ صفت (جدام)

الجدمة. پست قد آدمی۔

(والجدامة) وہ بالیاں

جو پہلی مرتبہ گاہنے میں نہ لویں۔

الجدمة. گھٹیا درجہ کے لوگ۔

انجدمة. کٹ جانا۔

جداد (ن) جدوا علیہ. کسی کو عطیہ

دینا. واجتدای واستجدای

فلاناً. کسی سے حاجت طلب کرنا۔

عطیہ اور بخشش مانگنا۔

أجدی. اجداء. عطیہ پانا۔

فلاناً. کسی کو عطیہ دینا۔

الامر. نفع دینا. کتے ہیں "ما

جدات علیہ. تنگی میں مبتلا کیا جانا اور اسی سے ہے یہ کلام: "وانتہ لمجدف علیہ العیش" وہ تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔

اجداف القوم. چلانا. شور مچانا۔

الجدفة. شور و شغب۔

(مجدوف) الیہ. چھوٹے ہاتھ والا۔

کے ہاتھ والا. بخیل مجدوف

الازار والقمیض. چھوٹے ازار

اور چھوٹے قمیض والا۔

المجداف. چوہ. مجدافا الطیر.

پرند کے دونوں بازو. ج. مجدایف

الجدافی والجدافاء. غنیمت۔

جدال (ن) جدلا. الجدل. رسی

بٹنا۔

جدال (س) جدلا. الرجل. آدمی کا

سخت جھگڑا ہونا۔

(جدال (ن) جدلا) الحب

دانہ کا خوشہ میں سخت ہونا۔

الوكد. بچہ کا قوت دار

اور سخت ہڈی والا ہونا۔

جدله (ن) جدلا وجدله

پھار دینا. زمین پر گما دینا۔

جدال الشعر. بالوں کو گوندھنا۔

جادل. جدالاً ومجادلة. جھگڑا

کرنا۔

تجادلا. ایک دوسرے سے جھگڑنا۔

تجدل والجدال. زمین پر پٹکا دینا۔

الجدال. مص. سخت مضبوط عضو.

ج. جدول۔

الجدال. جھگڑا. جھگڑے میں مہارت۔

الجدنة. ہاون کی موصلی. ہاون کا دستہ۔

الجدالة. زمین. جدالة الخلق

گٹھیلے بدن والا۔

ار بیرون. ج. جدول۔

جدع - کسی سے "جدعاً لك" کہنا یعنی اللہ تعالیٰ تجھ کو عیب وار کرے اور خیر تجھ سے روک دے۔

جادعة مجادعة وجداماً. گالی دینا. جھگڑا کرنا۔

تجادعاً. ایک دوسرے سے جھگڑنا۔

ایک دوسرے کو گالی دینا. اور اسی

سے یہ قول ہے: "تَرَكَتُ الْبِلَادَ

تَتَجَادَعُ أَقَابِعَهَا" میں نے

ملک کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہاں

کے شہر ایک دوسرے کو کھا رہے

تھے۔

الجدعة. کٹنے کے بعد عضو کا بچا ہوا

حصہ۔

جداع. بروزن قطار. سخت سال۔

کتے ہیں: اَحْجَفْتُ بِرَمِّ جَدَاعٍ

ان کو قحط سالی نے برباد کیا۔

المجدع. عضو کا ٹٹنے کا اوزار۔

جدف (ن) جدوفا الطیر. پرندے کا

کٹے ہوئے پروں سے اڑنا۔

الطیبي. برن کا چھوٹے

قدم سے چلنا۔ تیز چلنے میں آدمی

کا ہاتھ بلانا۔

جدف (ن) جدفا. الشئ. کسی شے

کو کاٹنا۔ الملاح السقينة. ملاح

کا کشتی کو چھوٹے کھینا۔ السماء

بالثلج. آسمان کا برف گرانا۔

جدف. نعمت کی ناشکری کرنا۔ کتے

ہیں: لا تجدوا بنعم الله

الله کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔

الملاح. ملاح کا چھوٹے

ڈونگا چلانا۔ علی الله. خدائے

تعالیٰ کے متعلق کفر اور توہین آمیز

باتیں کہنا۔

التجدیف. کلمہ کفر. ج. تجادیف

<p>گئے۔ الْجَاذِبُ - فا۔ کم دودھ کی اونٹنی۔ ج۔ جَوَاذِبُ وَجَذَابُ۔ الْجَذْبَةُ - دور کی مسافت۔ کہتے ہیں بینہ و بین المنزل جذبہ۔ اس کے اور گھر کے درمیان لمبی مسافت ہے۔ الْجَذَابُ - موت کے لیے اسم علم۔ الْجَاذِبِيَّةُ - کھینچنے کی طاقت و قوت الْجَذَابِيَّةُ - چھوٹی پڑیوں کا شکار کرنے کے لیے بالوں کا پھندا۔ جَذْرَةٌ دَن، جَذْسٌ أ - کاٹنا۔ جسٹ سے اکھڑنا۔ جَذْسٌ - الْعَدَادُ - عدو کا جذر حاصل کرنا۔ جَذْرَةٌ وَ أَجْدَسَاءُ - جسٹ سے اکھڑنا۔ اَنْجَذَسَ - جسٹ سے اکھڑنا۔ الْجَذْسُ وَالْجَذْسُ جُذْ جَذْسِ الْنبات - نباتات کی زمین میں پھیلی ہوئی جڑیں۔ ج۔ جُذُوسًا - خود میں مزب دیا ہوا عدو۔ مثلاً دس سو کا جذر ہے کیونکہ دس کو جب دس ہی میں مزب دیتے ہیں، تو سو حاصل ہوتے ہیں۔ جَذْسُ الْبَقْرِ - گائے کا سینگ۔ الْجَذْرِيَّةُ - وہ وراثت جو رباعیہ کے بعد ہو۔ الْمَجْذُوسُ - جذر کا حاصل مزب مثلاً سو دس کا مجذور ہے۔ الْجَوْذَسُ وَالْجَوْذَسُ وَالْجَوْذَسُ نيل گائے کا بچہ۔ ج۔ جَوَاذِسُ جَاذِسُ - الْمَجْذَسُ - بہت پست قد۔</p>	<p>الْجُذَاذُ وَالْجُذَاذُ وَالْجُذَاذُ تَوْرًا هَوَا مَكْرًا. سونے کا ڈلا۔ الْجَذَاذِقَةُ - ہر شے کی زیادتی۔ کہتے ہیں۔ جذاذتہ علیہ کذا۔ وہ اس سے اس قدر زیادہ ہے۔ الْجُذَاذَاتُ - کٹی ہوئی شے کے باریک ٹکڑے یا ریزے۔ کہتے ہیں۔ عِنْدِي جُذَاذَاتُ مِنَ الْفَيْضَةِ - میرے پاس چاندی کے ریزے ہیں۔ الْجُذَاذُ - کٹی ہوئی شے کا چھوٹا ٹکڑا۔ کہتے ہیں۔ ثَرَّتْ اِلَى الْعَصَمِ فَكَسَّرَتْهُ اَجْذَاذًا - میں بت کی طرف سمٹا۔ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ الْجُذَاذَةُ - ٹکڑا۔ الْاَجْذُذُ - ٹوٹا ہوا میزہ۔ جَذَاذُ جَذَابِيَّةٌ (مَنْ) جَذَابًا وَاجْتَذَابَهُ الْيَهُدُ - کھینچنا۔ جَذَابُ الشَّهْرَاءِ - مہینہ کا اکثر حصہ گزر جانا۔ جَذَابِيَّةُ النَّاقَةِ - اونٹنی کا دودھ کم ہونا۔ الْمَهْرُ عَنِ اُمِّهِ - بچیرے کا دودھ پھڑانا۔ جَاذِبَةٌ - الشَّيْءُ - کسی چیز کے بارے میں کش کش کرنا۔ تَجَاذَبَا - الشَّيْءُ - کسی چیز کے بارے میں باہم کش کش کرنا۔ تَجَذَّبَ - السَّيْرُ - دودھ پینا۔ الْمَجْذَبُ - كَمِنَحَ مَانَا - الْمَجْذَبُ فِي السَّيْرِ - تیز چلنا۔ دَوْرَتُكَ جَانَا - کہتے ہیں اَنْجَذَبَ بِهْمُ السَّيْرِ - وہ دور تک چلے</p>	<p>يَجْدِي عَنْكَ هَذَا - تم کو یہ نفع نہیں بخشنے گا۔ اَجْتَدَاةً - عطیہ دینا۔ الْجَدَا - ہمہ گیر بارش۔ عام بارش (الْجَدَاءُ) نفع بخش الْجَادِي - عطیہ مانگنے والا۔ عطیہ دینے والا۔ الْجَادِي - زعفران۔ الْجَدْوِي - عطیہ۔ الْاَجْدَايُ - زیادہ نفع بخش۔ الْجَدِيَّةُ - سختی۔ الْجَدْوَةُ - گلہ ریوڑ۔ جَدِي (ض) حَيْدِيًا - عطیہ مانگنا۔ اَجْدِي - اَجْدَاءُ - الْجَرْحُ - زخم کا ہنا۔ الْجَدِي - پہلے سال کا بکری کا بچہ۔ ج۔ اَجْدٍ وَجَدَاءً وَجَدِيَّانَ قطب کے پاس کا ایک ستارہ جس سے قبلہ کی شناخت کی جاتی ہے۔ اور اس کو جدی الفرقد بھی کہتے ہیں۔ آسمان کے ایک برج کا نام جو برج دلو کے متصل ہے۔ الْجَدِيَّةُ - زین یا پالان کے نیچے کی گدی۔ ج۔ جَدِي وَجَدِيَّاتُ - جَدُّ - دَن، جَذَا - کاٹنا توڑنا۔ جَدِّي سَيْرًا - وہ تیز تیز قدم چلا۔ جَدْدٌ - قوم سے اپنی پیروی چاہنا۔ مگر کسی کا پیروی نہ کرنا۔ الْجَدُّ - کٹنا۔ ٹوٹنا۔ تَجَدَّدٌ - ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔</p>
--	--	--

جَذَعٌ (ف) جَذَعًا - الدابة -
جانور کو بغیر چارہ کے روکے رکھنا۔
بین البعیرین - دو اونٹوں کا
ایک رسی میں باندھنا۔

الجذع - من البهائم مچھوٹا
بچہ۔

ج - جَذَاعٌ وَجَذَعَانٌ - اور

اسی سے ہے۔ جَذَعَانُ الْجِبَالِ

چھوٹے پہاڑ - نوجوان - اور کہتے ہیں

فَلَانٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ جَذَعٌ -

فلاں اس معاملہ میں نو آموز ہے۔

وَأَعَدَّتْ الْأَمْرَ جَذَعًا -

میں نے اس کام کو پھر شروع سے

کیا - کہا جاتا ہے۔ ذَهَبُوا

(جَذَعٌ مَذْعٌ) بنی برفچ - یعنی

وہ متفرق اور جدا جدا چلے

گئے۔

الجذع - درخت کا تنہ - ج -

جَذُوعٌ وَأَجْدَاعٌ - جَذَعٌ

الانسان - انسان کا دھڑلا ہونے

ٹانگوں اور سر کے علاوہ جسم

انسانی -

المجذع - والمجذع - بے اصل

اور بے ثبات شے۔

جَذَفَ (ض) جَذْفًا - وَأَجْدَفَتِ

الطائر - پرندہ کا تیز اڑنا۔

جَذَفَتِ وَأَجْدَفَتِ الْمَرْأَةُ -

عورت کا چھوٹے قدم سے چلنا۔

جَذَفَتْ وَجَذَفَتْ - الْقَارِبَ -

ڈونگے کو چھو سے کھینا۔

الشيء - کاٹنا۔

تَجَذَفَ - فِي مَشِيده تیز رفتاری

سے چلنا۔

المجذات - کشتی چلانے کا چھو۔

جَذَلٌ (س) جَذَلًا وَاجْتَذَلٌ -

خوش ہونا۔

صفت (جَذَلٌ وَجَذَلَانٌ)

ج - جَذَلَانٌ - مَرْنٌ - جَذَلَةٌ

جَذَلِيٌّ -

جذال - (ن) جَذُولًا وَاسْتَجَذَلٌ -

سیدھا کھڑا ہونا۔

اجذالہ - خوش کرنا۔

تَجَاذَلٌ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے

سے کینہ و دشمنی رکھنا۔

الجذال - من الشجرة - درخت

کا تنہ - ٹھنڈے - کہتے ہیں - عَادَ

الشيء الى جذالہ - چیز اپنی اصل

کی طرف لوٹ آئی - وہ لکڑی جو

خارش والے اونٹ کے کھلانے

کے لیے گاڑی جائے - جَذِيلٌ

اس کی تصغیر ہے اور اسی سے ہے

یہ کلام انا مجذيلها المحكك

میں کھلانے کی لکڑی ہوں - یہ مثل

اس کے لیے ہے جو قوی الرائے

اور پناہ دینے والا ہو - اور کہتے

ہیں - ہو جذال مال - وہ

مال کا بہترین منتظم ہے - ج -

جَذَالٌ وَأَجْدَلٌ وَجَذُولٌ

وَجَذُولَةٌ -

جَذَمَهُ (ض) جَذَمًا وَجَذَمَةٌ

جلدی سے کاٹنا - صفت - (جَذَمِيٌّ

وَأَجْذَمٌ -

جَذَمٌ - (س) جَذَمًا - کٹے ہوئے

ہاتھ یا کٹی ہوئی انگلیوں والا ہونا۔

جَذَمٌ - كورسى ہونا۔

صفت (أَجْذَمٌ وَعَجْذَمٌ

وَمَجْذَمٌ)

أَجْذَمٌ - عن الشيء - باز رہنا۔

عليه - پختہ ارادہ کرنا۔

في سيره - تیز چلنا۔

يَدَاةٌ - ہاتھ کاٹنا۔

أَجْذَمٌ - وَتَجَذَمٌ - کٹ جانا۔

الجذم - والجذم - جُذِمَ - تَمَّ

جذوم و أجذام)

الجذمة والجذمة - وہ جگہ

جہاں سے ہاتھ کاٹا ہو۔

الجذمة - لکڑا - چابک۔

الجذمة - لُذِئِنٌ -

الأجذام - ہاتھ کاٹا یا انگلیاں

کاٹا - مَرْنٌ - جَذَعِيٌّ يَأْجَذِمُ الْمَاءَ -

کہتے ہیں ہو أجذم الحجة -

یعنی اس کے پاس نہ تو دلیل ہے نہ

قوت گویائی و بیان۔

الجذامة - کٹی ہوئی کھیتی کا بقیہ حصہ۔

المجذام - والمجذامة - امور

میں قطعی و فوری فیصلہ دینے والا۔

رشتہ دوستی کو جلد ختم کر دینے

والا۔

جَذَادُنٌ (جَذَاؤٌ وَجَذَاؤٌ

وَأَجْذَى -

على الشيء - سیدھا کھڑا رہنا۔

تَجَاذَى - الْحَجَرُ - پتھر اٹھانا۔

الجذاة - بڑے درختوں کی جڑیں۔

ج - جَذَاءٌ -

الجذوة والجذوة والجذوة

دیکھتا ہوا انگارہ - یا جلتی ہوئی

چنگاری۔

ج - جَذِيٌّ - وَجَذِيٌّ وَجَذَاءٌ -

کہتے ہیں - فُلَانٌ جَذْوَةٌ شَرٌّ

فلاں شرفساد کی چنگاری ہے یعنی

شرفساد کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔

جَذِيٌّ (ض) جَذِيًّا وَأَجْذَى -

فُلَانًا عَنْهُ - کسی کو کسی شے سے

روکنا۔

تَجَاذَى - تَجَاذَى - کھسک جانا۔

الجدی والجدیة - من السجدة
 ذرخت کی جڑ۔
 جَدَّ - دن، جَبَّوْا و جَبَّوْا به۔
 کھینچنا، گھیٹنا۔ مجرور بنانا۔ ہانکنا۔
 جَبَّوْا الابل۔ اونٹ کو آہستہ
 ہانکنا۔
 الکلمة - کلمہ کو جر کی حرکت دینا۔
 علی نفسه جریدة۔ جرم کرنا۔
 گناہ کا مرتکب ہونا۔
 جَبَّسَ - بہ۔ زور سے کھینچنا، جھٹکا
 مارنا۔
 جَبَّسَہ - رسنا۔ کسی کو اس کی مرضی
 پر چھوڑ دینا۔ ٹال مٹول کرنا۔
 کہا جاتا ہے۔ "جَبَّسَہ الدَّيْنُ"
 اس نے ادائیگی قرض میں ٹال مٹول
 کی۔
 انجَبَّوْا - کھینچنا، گھیٹنا، جانا۔
 جَبَّوْا و اجَبَّوْا - البعير۔ اونٹ کا
 جگالی کرنا۔
 الفصیل - چھوٹے بچے کی زبان چرنا
 کہ وہ دودھ نہ پی سکے۔
 لِسَانُہ - بولنے سے روکنا۔ زبان
 بند کرنا۔
 اجَبَّسَہ - رسنا۔ کسی کو اس کی مرضی
 پر چھوڑ دینا۔
 اجَبَّسَہ الرمح - نیزہ کو زخم میں
 چھوڑ دینا۔
 اجَبَّسَہ الدَّيْنُ - قرض میں مہلت
 دینا۔
 اجَبَّسَہ و اجَبَّسَہ - الشئ - کھینچنا
 استَجَبَّوْا - الشئ - کھینچنا۔
 المال - مال تھوڑا تھوڑا لینا۔
 يغفلان - کسی کا مطیع و فرمانبردار
 ہونا۔
 الجَبَّوْا - مص - اور اسی سے ہے۔ کان

ذلك عام كذا و هلمَّ
 جَبَّوْا الى اليوم - یہ فلاں
 سال میں تھا اور آج تک ایسا ہی
 ہے۔ گڑھا۔
 جَبَّوْا الجبل - دامن کوہ۔۔ جَبَّوْا
 وغیرہ کا بھٹ۔ ایک قسم کا اعراب
 خواہ حرکت کی شکل میں ہو۔ یا
 حرف کی صورت میں۔
 الجَبَّوْا - کھینچنے کا طریق۔ خانہ بدوش
 لوگ۔
 والجَبَّوْا - جگالی۔
 الجَبَّوْا - جر کا اسم مرہ۔ مٹی کا گھڑا۔
 جر۔ جَبَّوْا و جَبَّوْا - بھول
 میں پگالی ہوئی روٹی۔ باٹی۔
 الجَبَّوْا - غلبہ ہونے کے لیے سورخ
 والا برتن۔ ہرن پکڑنے کے لیے
 لکڑی کا ٹھنڈا۔ عجر۔ جَبَّوْا۔
 کہا جاتا ہے۔ فعلت ذلك
 من جرآك و جَبَّوْا لك و
 جَبَّوْا لك و جَبَّوْا لك، یہ میں
 نے تمہاری وجہ سے کیا۔
 الجَبَّوْا - ایک قسم کی پھلی جس کو بام
 کہتے ہیں۔
 الجَبَّوْا و الجَبَّوْا - پرند کا
 پھٹا۔
 الجَبَّوْا - پانی بہنے کی جگہ۔
 سیلاب سے پیدا شدہ نالہ۔ یا
 چھوٹی ندی۔
 فی اصطلاح المولدین - ایک
 چھوٹی مندوچی جو کھنچ کر کھلے۔
 بئو جروس۔ گہرا کنواں۔
 قروس جروس۔ قابو میں نہ آنے
 والا گھوڑا۔
 امرأة جروس۔ چلنے سے اپاہج
 عورت۔

الجَبَّوْا - گناہ۔ کہتے ہیں۔ فعلت
 ذلك من جَبَّوْا تک - یعنی
 تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا۔
 الجَبَّوْا - بہت کھینچنے والا۔ کھار
 گھرا بنانے والا یا بیچنے والا۔
 حبش جَبَّوْا - بہت بڑا لشکر
 عام لوگ جَبَّوْا - چھوٹی مندوچی
 کو کہتے ہیں جو کھینچنے سے کھلتی ہے
 الجَبَّوْا - ایک زور رنگ کا بچھو
 جو اپنی دم کو گھیٹ کر چلتا ہے۔
 الاجَبَّان - انس و جن۔
 المَجَّوْا - پانی بہنے کی جگہ بشمیر۔
 المَجَّوْا - ککشاں۔ عام لوگ اس
 کو دراب التبانہ کہتے ہیں۔
 جَبَّوْا - دك، جَبَّوْا و جَبَّوْا
 و جَبَّوْا و جَبَّوْا۔
 علیہ - دلیر ہونا۔ جرأت کرنا۔
 صفت (جَبَّوْا) جر۔ اجَبَّوْا
 و اجَبَّوْا۔
 جَبَّوْا - تجویثا۔ جرأت دلانا۔
 دلیر بنانا۔
 اجَبَّوْا - جری اور دلیر ہونا۔
 استَجَبَّوْا - بناوٹی دلیر بننا۔ بتکلف
 دلیری دکھانا۔
 الجَبَّوْا - درندوں کے شکار کرتے
 کا مکان۔
 جَبَّوْا - الجَبَّوْا۔
 الجَبَّوْا - پھٹا۔ حلق۔ کھیل والا
 جَبَّوْا - (س) جَبَّوْا۔ کھیل والا
 ہونا۔
 صفت (جَبَّوْا و جَبَّوْا) و
 اجَبَّوْا - جَبَّوْا و
 جَبَّوْا و اجَبَّوْا۔ و
 جَبَّوْا۔
 جَبَّوْا السیف - تلوار کا رنگ آلود

ہوتا۔

جَوْبَةٌ - تجزیہ و تجزیہ - آمان
 تجزیہ کرنا۔ امتحان لینا۔
 أَجْرِبُ الْقَوْمَ - قوم کے
 اونٹوں میں کھجلی کی بیماری کا پھیل
 جانا۔ ج - کھجلی کی بیماری میں مبتلا
 کرنا۔
 الْجَوْبُ - عیب۔ برائی۔ تلوار کا
 زنگ۔
 الْجَوْبَاءُ - اجر ب کا مونٹ۔
 قحط زدہ زمین۔ ستاروں بھرا
 آسمان۔
 الْجَوَابُ - تلوار کا میان۔ چمڑے کا
 برتن۔ کوئیں کا جوف۔ نصیحتیں کی
 نقیل۔ ج - اجویبہ و جرب
 و جرب۔
 الْجَوَابُ - خالی کشتی۔
 الْجَوْبَةُ - سخت و تند آدمیوں، یا
 جانوروں کا گروہ۔ کھاؤ اور نکتے
 اہل و عیال۔
 الْجَوْبِيَاءُ - شمالی ہوا یا اس کی
 ٹنڈ۔
 الْجَوْبَانُ وَالْجَوْبَانُ -
 من السيف - میان۔ پرتلہ
 دھار۔
 من القميص - گریبان۔
 الْمُجْرِبُ - آزمودہ۔ امتحان لیا
 ہوا۔
 دَرَاهِمُ مَجْرِبَةٌ - کھربے درہم
 الْجَوْسَبُ - پانچابہ (فارسیہ)
 جرجوسب و جواسبہ۔
 جَوْسَبَةٌ جرابیں پہنندہ
 تجوسب۔ جراب یا پانچابہ پہنندہ
 الْجَوْبِيَّةُ - ایک قسم کی کھجلی۔
 تَجْرُثُمُ وَالْجُرْثُمُ - اوپر سے

نیچے گر کر سکر جانا۔ اور کانپنے
 لگنا۔

اجرنشم - اپنی جگہ جم جانا۔
 الْجُرْثُمُ وَالْجُرْثُمَةُ -
 من الشيء - جڑ۔ درخت کی جڑ میں
 جمع شدہ مٹی۔ ج - جَرَاثِيمُ -
 جُرْثُمَةُ اللَّحْلِ - چیونٹیوں کی
 بستی اور موجودہ زبان میں جراثیم
 (GERMS) کو کہتے ہیں۔
 جَوْرَسُ جَدَجًا - الخاتم فی
 اصبعہ - انگلی کا انگلی میں
 ڈھیلا ہونا۔ صفت (جودج)
 التَّجْرِبُ كَيْسِي كَأَسْتِ زَيْنِ مِی
 پلنا۔
 الْجُرْجَبَةُ - خرچی نما تھیلا۔ توشہ
 دان۔ ج - جُورَجُ -
 جَوْرَجُ - الجميل۔ اونٹ کا
 ببلانا۔
 الماء فی حلقہ - پانی کا حلق
 میں گڑگڑانا۔
 تَجْرُجُ - الماء - پانی کو غٹ
 غٹ پینا۔
 الْجَوْرَجُ - غلہ کے گاہنے کا
 آہنی آلہ یا مشین۔ حلق۔ ج -
 جَوْرَجُ -
 الْجَوْرَجُ - وَالْجَوْرَجُ - لُوْپَا۔ چنا
 الْجَوْرَجَا سَمَاءُ - بگی۔
 الْجَوْرَجِيُّ - پانی میں پیدا ہونے والی
 اور کھائی جانے والی ایک ترکاری
 جَوْرَحَةُ دَف، جَوْرَحًا - زخمی کرنا۔
 بلسانہ - کسی کا عیب و نقص
 بیان کرنا۔ کہتے ہیں: جودج
 الشَّهَادَةُ - اس نے گواہی کو
 باطل کر دیا۔
 الرَّجْلُ - کمانا۔

صفت (جارج) اور اسی سے ہے۔
 مَالَهُ جَارِحَةٌ - اس کا کوئی
 کمانے والا نہیں
 جَوْرَحُ (س) جَوْرَحًا - زخمی ہونا۔
 جَوْرَحَةٌ - بہت زخمی کرنا۔
 جَوْرَحُ الشَّهَادَةِ - شہادت کو
 روکیا۔
 الْجَوْرَحُ - الشَّيْءُ - کسی چیز کو کمانا۔
 الْإِسْمُ - گناہ کا ارتکاب کرنا۔
 اسْتَجْرَحُ - الشَّيْءُ - چیز کا فاسد
 ہونا۔
 الْجَوْرَحُ - زخم۔ ج - جَوْرُوحٌ و
 آجَوَاحُ -
 الْجَوْرَحَةُ - وہ چیز جس سے ختم کی
 شہادت اور اس کی دلیل کو باطل
 کیا جائے۔
 الْجَوْرَاحَةُ - زخم۔ ج - جَوْرَاحٌ و
 جَوْرَاحَاتُ - جراح کا پیشہ
 گناہ۔
 الْجَوْرَاحُ - وَالْجَوْرَاحِيُّ - زخموں
 کا علاج کرنے والا۔ زخموں کو چیرنے
 پھاڑنے والا۔ نرین۔
 الْجَوْرَاحَةُ - جارج کا مونٹ۔ پھسری۔
 شکاری۔ درندہ یا پرندہ یا کتا۔
 عضوانسانی - خصوصاً ہاتھ۔ ج -
 جَوَاسِرُ ح - جَوَاسِرُ حُ النَّهَاسِ
 کنایہ از مصائب روز اور اسی
 سے ہے۔ نعوذ باللہ من
 طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَجَوَارِحِ
 النَّهَاسِ - یعنی ہم دن رات کے
 مصائب سے اللہ کے ذریعے پناہ
 مانگتے ہیں۔
 الْجَوَارِحُ مِنَ الطَّيْرِ - شکاری
 پرندے۔
 الْمَجْرُوحُ - جَوْرَحٌ وَالْجَوْرِيحُ

<p>الجَوْدَقُ وَالْجَوْدَقَةُ - رُوِي. ج - جَوَادِق - جَوْدَق (ن) جَوْدَقًا - الجَوْدَقُ. زخم کا سوچ کر گلی دار ہو جانا۔ جَوْدَق - الشجرۃ - درخت کی گانٹھیں چھیلنا۔ أَجْرَذَةٌ - نکالنا۔ علیحدہ کرنا۔ ع - الیہ - مجبور کرنا۔ الجَوْدَق - جانور کی کوچ کا ورم۔ الجَوْدَق - ایک قسم کا پھول۔ ج - جَوْدَان - کتے میں تفرقت جَوْدَان بیتہ - اس کے گھر میں چوسے قلابازی کھا رہے ہیں یعنی اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ ارض جَوْدَق - بہت چوبوں والی زمین۔ المَجْرَد - آزمودہ کار۔ جَوْدَق (ن) جَوْدَقًا - کاٹنا۔ جڑ سے اکھڑنا۔ ع - الزمان - ہلاک کرنا۔ ع - بالمشتم - گالی دینا۔ کتے ہیں جَوْدَقًا عَلَى الْمَائِدَةِ جو کچھ دسترخوان پر تھا، وہ سب چٹ کر گیا۔ جَوْدَق (ن) جَوْدَقًا - ایسا کھاؤ اور پیو ہونا۔ کہ دسترخوان کو صاف کر کے اٹلے۔ جَوْدَقَات (ن) جَوْدَقًا - الاسر من - زمین کا بخر ہونا۔ صفت (جَوْدَقًا) ج - جَوَادِق - جَوْدَق - جَوَادِقًا - جَوَادِقًا - گالی کے مشابہ خوش طبعی کرنا۔ أَجْرَذَتْ - البعير - اونٹ کا دبلنا ہونا۔</p>	<p>خالی زمین۔ بال کا چھوٹا ہونا۔ الجَوْدَقَةُ - ننگاپن - عریانی۔ برہنگی۔ الجَوْدَقَةُ - پٹا پرانا کپڑا۔ الجَوَاد - طوسی - واحد (جَوَادَةُ) الجَوَادَةُ - لکڑی کی چھیلن۔ الجَوَادُ - پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی ٹہنی۔ واحد (جَوَادَةُ) الجَوَادَةُ - سواروں کا رسالہ۔ باقی ماندہ مال۔ جبر۔ اخبار۔ ج - جَوَادُ - الْأَجْرَد - بغیر نباتات والی زمین۔ بے بالوں والا۔ چھوٹے بالوں والا۔ موت جَوْدَقًا - ج - جَوْدَق - الْأَجْرَدُ مِنَ الْخَيْل - گھوڑوں میں آگے رہنے والا گھوڑا۔ لسن الجَوْدَق - بے جھاگ والا دودھ۔ صَخْرَةٌ جَوْدَقًا - پکنی چٹان۔ خمرَةٌ جَوْدَقًا - شراب صافی۔ والجَوْدَق - سواروں کا وہ رسالہ جس میں پیدل نہ ہوں۔ کتے ہیں "مَا رَأَيْتَهُ مِنْذُ اجودین" میں نے اس کو کل دو دن یا دو مہینے یا دو سال سے نہیں دیکھا۔ وشهرًا اجود - پورا مہینہ۔ سنة (جارود و جارودة) سنت قحط سالی کا سال۔ التجويدة - فوج کا دستہ۔ المتجود - دانتوں کو صاف کرنے کا برش۔ روٹی دھننے کا آلہ۔ الجَوَاد - قلعی گر۔ المتجود - بمعنی آجود۔</p>	<p>ج - جَوْدَقِي - زخمی۔ جَرْد (ن) جَرْدًا و جَرْدًا - العود - لکڑی چھیلنا۔ الجلد - کھال سے بال اتارنا۔ السيف - تلوار کو ننگی کرنا۔ القحط الارض - خشک سالی کا زمین کو چٹیل میدان بنا دینا۔ جَرْدَةٌ من ثوبه و جَرْدَةٌ ثوبه - کسی کو کپڑوں سے ننگا کرنا۔ جَرْدُ الْكِتَابَةِ - اعراب نہ لگانا۔ جراد الجريدية - پھینک دینا۔ جَرْد (ن) جَرْدًا - چٹیل ہونا۔ المكان - کسی جگہ ٹڈی کا گرنا۔ الفرس - گھوڑے کا چھوٹے بالوں والا ہونا۔ جَرْدَت - الارض - کسی جگہ کی کھیتی یا سبزی کو ٹڈی کا چر جانا۔ تَجْرَد - ننگا ہونا۔ الامر - کسی کام کے لیے فارغ ہو کر اس میں جدوجہد کرنا۔ الفرس - گھوڑوں میں گھوڑے کا آگے نکل جانا۔ أَنْجَرَد - ننگا ہونا۔ بنا السير - کسی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر چلتے رہنا۔ الثوب - کپڑے کا گھس کر بوسیدہ ہونا۔ أَجْرَد - القطن - روٹی دھنا۔ الجود - مص - مکان جود - بے سبزہ والی جگہ۔ الثوب الجود - پرانا، اور بوسیدہ کپڑا۔ ڈھال۔ بچا ہوا مال۔ ج - جَوْدَق - الجود - والجود - نباتات سے</p>
---	--	--

<p>اس کی جوس نکالنا۔ الجوش - یعنی لہ۔ اپنے بال بچوں کے لیے کانا۔ السٹی۔ کسی شے کو اچک لینا۔ الجاروش والجاروشة - غلہ ملنے کی ہاتھ کی چکی۔ ج۔ جواریش۔ الجوش - مص۔ سانپ کے کینچلی سے نکلنے وقت کی آواز۔ والجوش والجاروش۔ من اللیل۔ رات کا ایک حصہ۔ کتے ہیں۔ مضمی جوش من اللیل۔ رات کا ایک حصہ گذر گیا۔ ج۔ اجروش و جروش۔ جروشہ۔ الحب۔ دلا ہوا دانہ۔ کنگھی کرنے سے سر سے نکل ہوئی جوسی۔ الجواریش۔ جوارش (دوا) الجروش والجاروش۔ دلا ہوا غلہ۔ جرض۔ (س) جرضاً بریقہ۔ غم و رنج کے باعث بدقت تھوک نکلنا۔ ریقہ۔ تھوک ایک دم نکل لینا۔ کتے ہیں۔ فلان یعرض عليك ریقہ غیظاً۔ یعنی فلاں شخص تم پر مارے غصے کے دانت پیتا ہے۔ جرضہ (ن) جرضاً۔ گلا گھونٹنا۔ کہا جاتا ہے ہو جرض بنفسہ یعنی وہ قریب الموت ہے۔ آجرضہ۔ بریقہ۔ اچھو گنے کا سبب ٹھیرنا۔ پھندا گنے کا سبب بننا۔ الجرض والجویض۔ پھندا لگانے والا تھوک اور اسی سے یہ مثل ہے۔</p>	<p>اڑان میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دینا۔ الحادی۔ مدی لگانا۔ الجوس۔ گھٹی بجانا۔ (س) وانجوس۔ العلیج۔ زیور کی جھنکار نکلنا۔ بجنا۔ جومسہ۔ الدھڑ۔ تجربہ کار بنانا۔ جوس بسحہ۔ بدنام کرنا۔ تجوس۔ بولنا۔ گفتگو کرنا۔ نغمہ سرائی کرنا۔ اجوس۔ المال۔ مال کمانا۔ الجوس والچوس۔ آواز۔ پست آواز۔ الجوس۔ اصل۔ کتے ہیں ہو من خیر جوس۔ وہ شریف الاصل ہے۔ ج۔ اجواس۔ الجوس۔ گھٹی۔ گھریال۔ ج۔ اجواس۔ والجوس۔ کسی شے کا حصہ۔ کتے ہیں۔ مضمی جوس من اللیل۔ رات کا ایک حصہ گذر گیا۔ الجاروسہ۔ گھاس کھانے والا کپڑا۔ ج۔ جوارس۔ الجوارس۔ شد کی نکھیاں۔ الجروسہ۔ آزمودہ کاری۔ المجرس۔ تجربہ کار۔ کتے ہیں۔ ناقہ مجروسہ۔ سدھائی ہوئی اونٹنی۔ جرش (ن) جرشاً۔ الحب والقمح۔ فاندہ وار گیہوں ولتا۔ (س) وجرش الواس۔ سر کھلا کر</p>	<p>المکان۔ کسی جگہ کا قطعہ زمین۔ صفت (وجرشاً)۔ تجارش۔ القوم۔ آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینا۔ الارض (الجوس والجرس)۔ والجرس۔ نباتات و اگانے والی زمین۔ گھاس چرئی ہوئی زمین۔ ج۔ اجواس۔ کہا جاتا ہے۔ ارض جوس و ارض اجواس و ارضون اجواس۔ الجوس۔ عورتوں کا لباس۔ الجوس۔ لوہے یا چاندی کا ستون یا چھڑی۔ ج۔ اجواس و جوسہ۔ کہا جاتا ہے۔ طوت الحیة اجواسہا۔ سانپ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ و طوسی فلان اجواسہ فلان آدمی نے سستی کی۔ الجوس۔ قحط کا سال۔ جسم۔ انسان کا سینہ۔ اونٹ کی پیٹھ کا گوشت۔ الجوسہ۔ بلاکت۔ کتے ہیں۔ رماہ اللہ بجوسہ۔ اللہ اس کو ہلاک کرے۔ الجوسہ۔ گٹھا۔ بنڈل۔ ج۔ جوس۔ الجواس۔ تیز کاٹنے والی تلوار۔ المجرس۔ من الامکنہ۔ وہ جگہ جس کی گھاس کاٹ لی گئی ہو۔ جوس (ن) جوساً۔ بولنا۔ آواز سننا۔ الکلام۔ راگ سے پڑھنا۔ الشیء۔ کسی شے کو زبان سے چاٹنا۔ آجوس۔ الطاشو۔ پرندہ کی</p>
--	--	---

marfat.com

Marfat.com

<p>حال الجریض دون القریض - غم اور رنج - شعر خوان اور خوشی کے درمیان حائل ہو گیا۔ الجریض - غم زدہ۔ ج - جرضی - اور کہا جاتا ہے أَقَلَّتْ فِلاَن جَرِیضًا - یعنی فلاں مرنے والا ہے۔ الجَرَاضُ - والجَرِیاضُ والجَرَاضُ بہت نگیں۔ الجُرُضُ والجَوَاضُ والجُرُضُ بہت کھانے والا۔ پیٹو۔ ناقة (جُرُضٌ وِجُرُضٌ) موٹی اور فربہ اونٹنی۔ جَرَاعٌ (ف) جَرَاعًا - وِجَرَاعٌ (س) جَرَاعًا - وِجَرَاعٌ اجتراعًا۔ الماء - پانی یکبارگی پی جانا۔ جَرَاعُهُ - الماء - پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پلانا۔ تَجَرَاعٌ - الماء - پانی تھوڑا تھوڑا پینا۔ الغِیظ - عصب پینا۔ اجرعت الناقة - اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا - صفت۔ (مَجْرَعٌ) ج - مجارِع وَمَجَارِیح - الجُرْعَةُ - والجُرْعَةُ والجُرْعَةُ گھونٹ۔ الجُرْعَةُ - ج - جوع و جرعان و (الجوعاء) - ج - جوعاوات و (الأجرع) ج - آجارع - ریت کا وہ ہموار میدان جس پر کوئی سبزہ اور روئیدگی نہ ہو۔ جَوَفٌ دن، جَوْفًا و جَوَفٌ -</p>	<p>وَتَجَوَّفٌ وِاجْتَوَّفٌ - الشیء - پوری چیز یا اس کا اکثر حصہ لے جانا۔ الطین - پھاؤرہ یا سیلچر سے مٹی کھودنا یا کھرچنا۔ أَجَوَفٌ - المكان - کسی جگہ کا سیلاب زدہ ہونا۔ الجَوَفٌ - مص - بہت مال - مثلاً مولیشی - سونا - چاندی - وغیرہ۔ سرسبزی - اونٹ کی ران یا اس کے بدن پر لگا ہوا داغ۔ الجَوَفٌ - مص - ج - جوفہ و (الجَوَفُ) ج - آجَوَفٌ - نہر کا کنارہ جس کو پانی نے ڈھا کر کھوکھلا کر دیا ہو - اور اسی سے ہے یہ قول "فلاں یبنی علی جَوَفِ" ہاں لا یدری ما لیل من نہاسا - یعنی فلاں شخص دریا کے ڈھنچے والے کنارہ پر مکان بناتا ہے اور اس کو دن رات میں تمیز نہیں۔ الجَوَافٌ - مِنَ السَّیْلِ - ہر چیز کو بہالے جانے والا سیلاب۔ کتے ہیں - رجلٌ جَوَافٌ - تام کھانا ہرپ کر جانے والا آدمی۔ (— والجَوَافُ) ایک قسم کا پیمانہ۔ الجَارِفُ - فا - طاعون - ہرگیر تباہی مچانے والی موت۔ الجَارُوفُ - بہت کھانے والا۔ پیٹو - تیزی سے بہالے جانے والا۔ منوس - نامبارک - صفت۔ جاردوفہ۔ الجَرَافٌ - بہت تیزی سے بہالے جانے والا۔</p>	<p>المَجْتَوَّفُ - والمَجْتَوَّفُ - وہ شخص جس کو انقلاب زمانہ نے مال و متاع سے تہی دست کر دیا ہو۔ المَجْوَفُ وِالمَجْوَفَةُ - بھاڑو۔ سیلچر - پھاؤڑہ۔ جَوَفَةٌ - پھاڑنا۔ الشیء - حص سے کھانا۔ حیرل - جَوَلًا - المكان - جگہ کا سخت و کرخت ہونا۔ الجَوَلُ - کھوری - پتھریلی زمین۔ ج - آجَوَالُ - الجَوُولُ - پتھریلی زمین - ج - جَوَاوِلُ - الجَوِیَالُ - وِالجَوِیَالَةُ - شراب یا اس کا رنگ۔ جَوَمٌ - رض، جومًا۔ الشیء - کاٹنا - پورا کرنا۔ الناقة - اونٹنی کی اون کترنا۔ (— جَوَمًا وِجَوَامًا وِ جَوَامًا) النخل - کھجوریں کاٹنا۔ جَوَمٌ رض، جَوَمًا وِاجْتَوَمٌ - لاہلہ - اپنے اہل و عیال کے لیے کانا۔ جَوَمٌ - رض، جَوِمَةٌ وِأَجْوَمٌ وِاجْتَوَمٌ - الیہ وعلیہ - گلاہ کرنا۔ جَوَمٌ رض، جَوَمًا وِجَوَمًا وِجَوَمًا بونی کھجوریں کھانا۔ لَوْنٌ - رنگ کا صاف ہونا۔ جَوَمٌ - (ك) جَوِمَةٌ - بڑے جرم والا ہونا۔ جَوَمَةٌ - کاٹنا - جَوَمَةٌ وِتَجَوَمٌ علیہ - کسی کو جرم کے ساتھ مہتم کرنا۔</p>
---	--	--

کتے ہیں القی البعیر جرانہ
اونٹ بیٹا گیا۔

والقی فلان علیٰ هذا
الامر جرانہ۔ یعنی فلان
شخص اس امر کا نوکر و عادی ہو
گیا۔

ضرب الإسلام بجرانہ۔
اسلام نے اپنے قدم جمائے۔
ضرب الليل بجرانہ۔
رات آگئی۔

القی علیہ جرانہ۔ اس نے
اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔

المجون۔ کھلیان۔
رجل مجون۔ بہت کھانے والا۔
المجون۔ من السیاط۔ نرم اور
چکنا کوڑا۔

جرهد و اجرهد۔
فی السیر۔ تیز چلنا۔
الجرهد و اجرهد۔ پست
چلنے والا۔

آجرت اجراء۔ الکلبۃ۔
کتیا کاپڑوں والی ہونا۔

الجرود (بتثلیث الجیم)
بہر چھوٹی شے۔ حتیٰ کہ انار اور خرگوشہ
بھی۔ لیکن عموماً کتے اور شیر کے بچے
کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ ج۔

جرء۔ و آجر۔ جج۔
آجریہ۔

الجرؤة۔ (بتثلیث الجیم)
جرؤ۔ کاموٹ۔ کتے ہیں
ضرب علی الامر جرؤتہ۔
اس نے اس کام پر صبر و استقلال
دکھایا۔

(ضرب جرؤتہ عنہ)
اس نے صبر کر لیا۔

اخذہ بجوامیزہ۔ اس نے
سب کچھ لے لیا۔

الجرؤوق۔ موزہ۔ بڑا موزہ۔ جو
چھوٹے موزے پر پھینا جاتا ہے تاکہ
اس کو وصول اور گروسے بچائے
عام لوگ اس کو "کالوش" کہتے
ہیں۔

جون۔ دن، جرونًا۔ الثوب۔
کپڑے کا بوسیدہ اور پرانا ہونا۔
علی الامر۔ کسی کام کا عادی و
مشاق ہونا۔

کما جاتا ہے۔ جونت ید کا۔
علی العمل۔ اس کا نام تکام میں
مشاق ہو گیا۔

(جرؤنا، الحب۔ غلہ
پینا۔

آجدن۔ الحب۔ غلہ کھلیان
میں جمع کرنا۔
اجتورن۔ کھلیان بنانا۔
الجارین۔ سانپ کا بچہ۔ مٹے ہوئے
نشانات والا راستہ۔

من المتاع۔ مستعمل بریڈ
سلان۔
سقاء جارین۔ سوکھی اور
سخت چڑھے والی مشک۔

دساع جارینہ۔ نرم زرہ۔
ج۔ جواسر و حاسرنا۔
کمر۔ لہو پتھر کا برتن۔
ج۔ آجران و جران۔ د۔

والجرین۔ ج۔ جون۔
کھلیان۔ کھجور وغیرہ کے سکھانے
کی جگہ۔
الجران۔ من البعیر۔ اونٹ
کا گردن کے سامنے کا حصہ۔

ج۔ جون و آجرونہ۔

تجمع الزمان او المتاع۔
زمانہ یا ہارے کا گزر جانا۔

کتے ہیں عام مجرؤ۔ پراسال
الجرؤ۔ مع (س۔ والجرؤ)
گناہ۔ تصور۔ ج۔ جرؤو۔
آجوام۔

اور کما جاتا ہے لاجرؤ و لا
جرؤ۔ یعنی ضروری۔ یقینی۔ ناگزیر
سبھی قسم کے معنی دیتا ہے۔
اور کہتے ہیں لاجرؤ لافعلق
قسم خدا کی میں ایسا کروں گا۔

الجرؤ۔ مع۔ چھوٹی کشتی۔ ڈونگا۔
سخت گرم ملک۔
ج۔ جرؤو۔ الجرؤو۔ گرم
مالک۔ اس کے مقابلہ الصرود
ہے۔ یعنی سرد ملک۔ پہاڑی
سرد جگہیں۔

الجرؤ۔ جسم۔ رنگ۔ ستارہ۔
آسمان۔ ج۔ آجوام و جرؤ
و جرؤو۔

الجرام۔ والجرام۔ والجریم
خفک کھجور۔
الجریم۔ گناہگار۔ بڑے جسم والا۔
مؤنث۔ جریمۃ۔ ج۔
جرام۔

الجریمۃ۔ جسم۔ گناہ۔ تصور
گنہگاری۔
شجرۃ جریمۃ۔ کٹا ہوا درخت
جرؤمؤ و جرؤمؤ۔ الرجل بکرنا
سٹنا۔ لوٹنا۔ بھاگنا۔ جواب میں
غلطی کرنا۔

الجرامیز۔ من الحيوان۔
جانور کی ٹانگیں۔ کتے ہیں
قصة الثور جوامیزہ۔ بیل
نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں۔

کَلْبَةٌ (مُجْرٍ وَمُجْرِيَةٍ) پتوں والی کتیا۔
 جَرِي رَضٍ، جَرِيًا و جَرِيَانًا و جَرِيَةٌ۔
 المَاءُ۔ پانی کا بہنا۔
 کتے ہیں۔ سَوِيحُ الْجَرِيَةِ۔ تیز بہنے والی نہر۔
 الفرسُ۔ گھوڑے کا دوڑنا۔
 الامرُ۔ کسی معاملہ کا وقوع پذیر ہونا۔
 الی الشیء۔ کسی چیز کا قصد کرنا ارادہ کرنا۔
 جَرِي وَاَجْرِي۔ الماءُ۔ پانی بہانا۔
 اجوی له الحساب۔ کسی کا حساب رجسٹر میں درج کر لینا۔
 اجری علیہ الحساب۔ کسی کے ذمہ کچھ بقایا نکالنا۔
 جَرِي فُلَانًا۔ کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر بھیجنا۔
 اَجْرِي الامرُ۔ کام کو جاری اور نافذ کرنا۔
 اجوی الامرَ الی فلان۔ کوئی کام کسی کے سپرد کر دینا۔ یا کسی کی طرف منسوب کرنا۔
 اجوی الی الشیء۔ کسی چیز کا قصد و ارادہ کرنا۔
 اَجْرِي عَلِيهِ الرِّسْقُ۔ کسی کو رزق دینا یا مقرر کرنا۔
 اجری القصاصِ۔ قصاص لینا۔
 اجوی الکلمة۔ کلمہ کو منفرد کر دینا۔
 جَارَاهُ۔ کسی کے ساتھ چلنا۔
 تَجَارَسَا۔ ساتھ ساتھ چلنا کتے ہیں۔ الدَّيْنُ الرَّهْنُ

يَتَجَارَسَانِ۔ قرض اور رہن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی ہر دو ایک ہی طرح کے ہیں۔
 فِي الامرِ۔ کسی کام میں موافقت کرنا۔ کسی معاملہ میں متفق ہونا۔
 اِسْتَجْرِي۔ فُلَانًا۔ کسی سے چلنے کی خواہش کرنا۔ کسی کو وکیل بنانا۔
 الْجَرِي۔ ضامن۔ وکیل۔ مزدور۔ پیغامبر۔ کتے ہیں۔ ہو جَرِي لَهٗ۔ وہ اس کا ضامن ہے۔ ج اجریاء۔
 کہا جاتا ہے۔ من جَرَاكِ او من جَرَاكِ۔ یعنی تمہاری وجہ سے۔
 الْجَرَايَةِ۔ وظيفه۔ فوجی کا روزینہ۔
 (۔ وَالْجَوَاءُ وَالْجَوَاءُ) شباب و جوانی۔
 کتے ہیں۔ "جاسریۃ" بیکنے۔ الْجَوَايَةِ۔ بھری جوانی والی لڑکی۔
 الْجَوَايَةِ وَالْجَوَايَةِ۔ وکالت۔ الاجویا و الاجویاء۔
 طریق کار۔ خلق۔ طبیعت۔
 کہا جاتا ہے۔ جری علی اجرتاہ و اجرتیاء۔ وہ اپنی فطرت پر چلا۔
 الْجَوِي۔ وَالْجَوِيَّتِ۔ ایک قسم کی مچھلی۔ بام مچھلی۔
 الْجَوِيَّةُ۔ پوٹا۔
 الْجَارِي۔ فا۔ نمد جاہرا۔ وہ نہر جو نہ خشک ہو۔
 الْجَاسِرِيَّةُ۔ مونث۔ الجاری بچی۔ باندی۔ چھوکی۔ سورج۔ کشتی۔ سانپ۔

ج۔ جاریات و جواہر۔
 الْمَجْرِي۔ پانی بہنے کی جگہ۔ گزرگاہ۔
 ج۔ مَجَارِي۔
 الْمَا جَرِيَاتُ۔ حوادث و واقعات۔
 اس کی اصل مَا جَرِي ہے۔
 کتے ہیں۔ کانت بینہم و مناظرات و ماجریات یطول شرحہا۔
 جَزْ۔ (ن) جَزًا و جَزَسًا و اجْتَزَّ۔
 الصوفُ او العشب۔
 او النخل۔ اون یا گھاس یا کھجور کا ٹٹا۔ کترنا۔
 جَزَّ وَاَجَزَّ وَاَسْتَجَزَّ۔ الغنمُ او البُرُ او النخلة۔ کترنے یا کاٹنے کے وقت پر پہنچنا۔
 اَجَزَّ التَّمْرُ۔ کھجور کا خشک ہونا۔
 اَجَزَّ القَوْمُ۔ قوم کی بھیڑوں کا بال کتر ہوا یا ان کی کھیتی کا کٹا ہوا ہونا۔
 الْجَزَّةُ۔ کتری ہوئی اون۔
 ج۔ جَزَسًا و جَزَايَسًا۔
 الْجَزَسُ۔ استعمال میں نہ آئی ہونی اون۔
 الْجَزَائِنُ وَالْجَزَائِنَةُ۔ کٹنے کے وقت زمین پر گری ہوئی اون۔
 جَزَائِنٌ مِنَ اللیل۔ سات کا ایک حصہ۔
 الْجَزَائِنُ وَالْجَزَائِنُ۔ فصل کی کٹائی کاٹنے یا کترنے کے وقت۔
 الْجَزْوَسَةُ۔ من الغنم۔ وہ بھیڑ جس کی اون کتری جائے۔
 ج۔ جَزَسًا۔
 الْجَزِيْبَةُ۔ کترا ہوا۔ کاٹا ہوا۔
 الْجَزِيْبَةُ۔ اون کا گھما۔
 الْجَزَائِنُ۔ کترنے یا کٹنے کا کٹا ہوا۔
 الْمَجَزُ۔ کترنے کا کٹا ہوا۔

<p>الجزر - ذبح کرنا۔ مصل۔ ذبح کرنا۔ کھانا۔ الجزر - وہ جانور جس کا ذبح کرنا جائز ہو۔ واحد۔ جزرۃ۔ ذبح کی ہوئی چیز۔ جوز السباع - وہ گوشت جس کو درندے کھائیں۔ کتے ہیں تو کوھذا جزرۃ۔ یعنی ان کو بیابان میں قتل کیا۔ الجزر - وہ جگہ جہاں سے مدد جہاز لوٹے۔ والجزر - گاجر۔ الجزر والجزیر - ذبح کرنے والا۔ الجزر - ذبح کے لیے اونٹنی یا بکری ج۔ جزر و جزوات و جزائر۔ الجزرۃ - ذبح کیے ہوئے جانور کے اطراف۔ ہاتھ پاؤں سر۔ ان کو جزرۃ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ذبح کرنے والا ان کو ذبح کی اجرت میں لیتا ہے۔ ہر وہ شے جو ذبح کرنے والا ذبح کرنے کی اجرت میں لے۔ الجزرۃ - ذبح کرنے کا پیشہ۔ الجزیر - ج۔ جزائر و جزرۃ و جزرۃ۔ وہ قطعہ زمین جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ دو آب کے مالک۔ جزیرۃ العرب - عرب کا ملک جو جزیرہ کے مشابہ ہے۔ الجزائر - شمالی افریقہ میں ایک ملک۔ الجزائر الخالدات - بحر محیط (اللائک) میں بجانب غرب چھ جزیرے۔</p>	<p>الجزر والمجزر - عن الطعام۔ وہ کھانا جو سیر و آسودہ کرے۔ الجزرۃ - وہ نیل گائے، جو تر گھاس کھا کر بہت حد تک پانی سے بے نیاز ہو جائے۔ جزر ذب، جزرۃ۔ لہ من المال۔ کسی کو مال کا کچھ حصہ دینا۔ الرجل۔ آدمی کا اپنے کام کے لیے جانا۔ الطباء۔ ہر نیوں کا بھاڑی میں داخل ہونا۔ الجزر - مص۔ عطیہ۔ الجزدان۔ جزدان۔ بستہ۔ کیس نکلی۔ جزر (ن من) جزرۃ و جزرۃ و جزائر و جزائر۔ الغاق۔ بکری ذبح کرنا۔ جزر النخلۃ جزرۃ۔ کھجور کو کاٹنا۔ جزر دن من، جزرۃ۔ سمندر کا پیچھے ہٹنا۔ الماء۔ پانی کا خشک یا کم ہونا۔ الجزر۔ النخل۔ کھجور کا کاٹنے کے وقت کے قریب پہنچنا۔ السیف۔ بڑھے کے مرنے کا وقت قریب آ پہنچنا۔ فلاناً۔ کسی کو ذبح کرنے کے لیے بکری دینا۔ تجاسر۔ آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تجزروہم و اجتزروہم فی القتال۔ میدان کارزار میں دشمنوں کو درندوں کی غذا بنانا۔</p>	<p>جزر۔ ذب، جزرۃ۔ الشیء۔ چیز کو مختلف اجزا میں تقسیم کرنا۔ ایک جزو لینا۔ (و تجزوا و اجزوا) بالشیء۔ کسی چیز پر اکتفا کرنا۔ جزرۃ تجزیرۃ و تجزیرۃ۔ الشیء۔ تقسیم کرنا۔ جزرۃ و اجزۃ۔ بالشیء۔ تسل دینا۔ قانع بنانا۔ کہا جاتا ہے۔ جزرۃ الماشیۃ بالوطب عن الماء۔ جانور کو تر گھاس چرا کر اس کو پانی سے تسل دے دی۔ اجزأ عنہ۔ مستغنی ہونا۔ بے پروا ہونا۔ تجزأ۔ تقسیم ہونا۔ الجزر۔ مص۔ بعض۔ کفایت۔ کتے ہیں۔ "لک فی ہذا غناء و جزر" تمہارے لیے بس یہی کافی ہے۔ الجزر۔ چیز کا ایک حصہ۔ ج۔ اجزاء۔ اور اسی معنی میں جزر و جزرۃ بھی ہے۔ الجزرۃ۔ جزر طرف غسوب۔ کلی کی مند۔ الجزرۃ۔ کلیت کے مخالف۔ ج۔ جزئیات۔ الجزرۃ۔ چھری شال و ٹھہرہ کا دستہ۔ الجزرۃ و الجزرۃ و الجزرۃ و الجزرۃ و الجزرۃ۔ چیز کا کافی ہونے والا حصہ۔ بقدر کفایت حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ اجزأ مجزأ۔ فلان و فجزاہ و مجزأہ و مجزأہ۔ وہ فلاں کا قائم مقام و نائب ہوا۔</p>
--	---	--

المَجْزُوسَا - بوچڑ خانہ۔ جانور ذبح کرنے کی جگہ۔ عام لوگ اس کو مَسْدَحُ کہتے ہیں۔

جزع - (ف) جَزَعًا۔

الوادی - وادی کو عرض میں طے کرنا۔

لہ من مالہ جزعاً - اپنے

مال میں سے کسی کو ایک حصہ دینا۔

جَزِعَ - (س) جَزَعًا و جَزُوعًا۔

منہ - کسی چیز پر صبر نہ کر کے

غم و تکرار کا اظہار کرنا۔

علیہ - ڈرنا۔ خوف کرنا۔ یا

شفقت و مہربانی کرنا۔ سنت

رَجَزِعَ و جَزَاعٌ و جَزَعٌ۔

و جَزَاعٌ و جَزُوعٌ؛

جَزَعَهُ - کسی کا خوف و ہراس

دور کرنا۔ تسلی دینا۔ بے صبری

زائل کرنا۔

جَزَعُ الشَّيْءِ - کسی شے کے

ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الحوض - حوض کا پانی تھوڑا

ہو جانا۔

أَجْزَعَهُ - گھبراہٹ میں ڈالنا۔

أَجْزَعُ مِنْهُ جَزَعًا - اس

نے اس کا کچھ حصہ باقی چھوڑ دیا۔

أَنْجَزِعَ و تَجَزِعَ - کٹ جانا۔

ٹوٹ جانا۔

أَجْتَزَعَهُ - کاٹنا۔ توڑنا۔

الجبازیع - فَا - دو چیزوں کے

درمیان عرض میں رکھی ہوئی ٹکڑی

جس پر کوئی چیز رکھیں۔

الجبزوع - معص - سفید و سیاہ

مہرہ - واحد - جزعاً۔

الجزع - لوگوں کے رہنے کی جگہ

شہد کی مکینوں کا چھتہ۔

جزع الوادی۔

الجزع والجزع - رہٹ کا ڈھرا۔

الجزعة والجزعة - تقویٰ

چیز بقیہ۔

ج - جَزِعَ۔

الجزعة - چھری کا دستہ۔

الجزیعة - بھیڑوں کے رہوڑ کا

ایک حصہ۔

ج - جَزَائِعَ۔

الجزاع - بہت بے صبرا۔

ج - مَجَازِيحَ۔

المَجْزَعُ و المَجْزَعُ - من

الرکب - نیم پختہ کھجور۔ سفید و

سیاہ چیز حوض مجزوع۔ وہ حوض

جس میں تھوڑا سا پانی بچا ہو۔

جَزَفَ - (ن) جَزْفًا و اجْتَزَفَ۔

الشیء - چیز کا بے تولے ناپے

اٹکل سے بیچنا یا خریدنا۔

و دالجزاف، بتغلیث الجیم۔

و دالجزیف، اٹکل اور تخمینہ

کی بیع۔

کے ہیں۔ بیع جزیف و

بیع جزاف۔

جاستافہ مجاستافہ۔ اٹکل اور

تخمینہ سے بے تولے ناپے خرید و

فروخت کرنا اور اسی سے ہے۔

جاستاف فی کلامہ۔ بے تکی

اور بے اصولی باتیں کرنا۔

جاستاف بنفسہ۔ جان کو

خطرہ میں ڈالنا۔ جان پر کیلنا۔

الجزواف - شکاری۔

الجزوف - من الحوامل - ولادت

کی حد سے گذرنے والی۔

المجذفة - مچھلی پکڑنے کا

جال۔

جَزُول - (ک) جَزَالَةٌ۔

الشیء - بڑا ہونا۔ موٹا ہونا۔

المنطق - فصیح ہونا۔

صفت (جَزُول)

ج - جَزَالٌ و (جَزِيلٌ)

ج - أَجْزَالٌ و جَزَالٌ -

الرجل - مائب الراءے ہونا۔

جَزَلٌ (رض) جَزَلًا۔

الشیء - دو ٹکڑے کرنا۔

القتب غاسق البعیر۔

کجاوہ کا اونٹ کی پیٹھ اور گردن کو

کاٹ دینا۔ زخمی کر دینا۔

أَجْزَلُ الْعَطَاءِ و فِي الْعَطَاءِ

وَمِنَ الْعَطَاءِ يَفْلَأُنُّ و

عَلَيْهِ - کسی کو بخشش دینا۔ اور

بہت دینا۔

أَسْتَجْزِلُ - کسی چیز کو بڑا یا موٹا یا کسی

کلام کو فصیح پانا۔

أَسْتَجْزِلُ سَائِلَهُ - کسی کو

صاحب الرائے پانا۔

الجزل - موٹا۔ بڑا۔ بہت فیاض۔ اچھی

رائے والا۔ عمدہ الفاظ۔

الجزال و الجزال - کھجور کے پھل

اتارنے کا وقت۔ کہتے ہیں۔

هذا من الجزال - یہ کھجور کے

پھل اتارنے کا زمانہ ہے۔

الجزال و الجزیل - بڑی اور بہت

چھیننے

الجزال - کبوتر کا بچہ۔ ج۔

جوازینال۔

جَزَمَهُ (رض) جَزَمًا۔ کاٹنا۔

جَزَمَ الْحَرْفَ - حرف کو

ساکن کرنا۔

الفعل - فعل کے آخر کو ساکن

کرنا۔ یا حرف علت یا تشبیہ و جمع

وجزاء۔
 الاجزی۔ بہت کافی۔
 کہتے ہیں۔ "اللَّحْمُ السَّمِينُ
 أَجْزَى مِنَ السَّهْوِ"
 یعنی موٹے تیار گوشت دبے گوشت
 سے بہتر ہے۔
 جَسَّه (ن) جَسَّاً وَاجْتَسَّه۔ پتہ
 لگانے کے لیے ہاتھ سے چھونا۔ طوطا
 الأرض۔ زمین روندنا۔
 ۵۔ بعینہ۔ گھورنا۔ تیز نظر سے
 دیکھنا۔
 جَسَّسَ۔ وَتَجَسَّسَ وَاجْتَسَّسَ۔
 الاخیاس والاموس۔ خبروں
 یا کاموں کی تفتیش کرنا۔ ان کی دریافت
 میں لگنا۔
 الجیسس۔ ج۔ اجسہ (والجاسوس)
 ج۔ جواسیس۔
 والجسّاس۔ حالات دریافت
 کرنے والا۔ حالات کی تفتیش کرنے
 والا۔ جاسوس۔
 جواس۔ الانسان۔ انسان کے
 پانچ حواس۔
 واحد۔ جاسّۃ۔
 المجسّس والمجسّسة۔ چھونے کی جگہ
 سینہ۔ کہتے ہیں۔ فلان ضیق
 المجسّس۔ المجسّسة۔ یعنی فلاں تنگدل
 آدمی ہے۔
 المجسّسة۔ نبض۔ کہا جاتا ہے۔
 (جسّسہ حاسّرة) اس کی نبض
 گرم ہے۔ ج۔ مجاسّس۔
 المجسّسة۔ چھونے کا آلہ۔ ج۔
 مجاسّس ومجسّسات۔
 جسّات دن، جسّاً۔ وجسّواً
 وجسّاةً۔
 الب۔ دین العمل۔ کام سے

بعیر جازم۔ سیراب اونٹ
 ج۔ جواسنم۔
 الجزومة۔ دن رات میں ایک
 مرتبہ کھانا۔
 الجزومة۔ بھیڑوں کے ریوڑ کا
 ایک حصہ۔
 سقاء او اناء (مجزم)
 بھری مشک یا بھرا برتن۔
 جزی (ن) جزاء۔
 الرجل بکذا وعلی کذا
 کسی کو بدلہ دینا۔
 جزی فلاناً حقاً۔ کسی کا
 حق ادا کرنا۔
 جزاء الشیء۔ کسی چیز کا کسی
 کے لیے کافی ہونا۔
 (و۔ وجزی)
 الامر منه او عنده۔ قائم مقام
 ہونا۔ کہتے ہیں۔ "یجزی
 هذا من او عن ذاك"
 یہ اس کے قائم مقام ہے۔
 جازاه۔ وجزاه وجزاءً
 بدلہ دینا۔
 تجاسری۔ تجاسریا۔ دہنہ و
 بدیدہ علی فلان۔ کسی
 سے اپنا قرضہ طلب کرنا۔ قرض کا
 تقاضا کرنا۔
 اجتازہ۔ کسی سے بدلہ مانگنا۔
 الجزاء والجزاء والجزایة
 والمجازاة۔ کسی چیز کا بدلہ۔
 جائزایة کی جمع جزای۔
 کہتے ہیں۔ جزئک الجزای
 تم نے اپنے فعل کا بدلہ لیا۔
 الجزیة۔ زمین کا محصول اور ٹیکس
 جزئی سے لیا جاتا ہے۔ زمین کا
 خراج۔ ج۔ جزی وجزی

سے نون گرا دینا۔
 الیسین۔ قسم پوری کرنا۔
 کہتے ہیں۔ حلف یمیناً جزماً۔
 الامر۔ کسی امر کا قطعی فیصلہ کرنا
 مثلاً آپ کہیں۔ "امرتہ
 امراً جزماً میں نے اس کو
 قطعی حکم دیا۔
 هذا حکم جزم۔ (الذو
 اور قطعی حکم ہے۔
 جزم علی الامر۔ کسی امر
 کا بخت ارادہ کرنا۔
 جزم علیہ الشیء۔ کسی پر
 کوئی چیز واجب ٹھہرانا
 الرجل آدمی کا دن رات میں
 ایک ہی مرتبہ کھانا۔
 (و۔ وجزم)
 النخلة۔ کھجور کے پھلوں کا اندازہ
 لگانا۔ تخمینہ لگانا۔
 وجزم
 عنده۔ بزدل ہونا۔ عاجز ہونا۔
 علیہ۔ ساکت وغاموش ہونا۔
 القرابة۔ مشک کو بھرنے۔
 تجزم۔ العود۔ لکڑی کا پھٹنا۔
 ترخانہ۔
 انجزم۔ العظم۔ بڑی کا ٹٹ
 جانا۔
 الحرف۔ حرفت کا ساکن ہونا۔
 الجزم۔ مص کہتے ہیں۔ قلم
 جزم۔ برابر قلم والا قلم۔
 وامر جزم۔ قبل از وقت
 آجانے والا معاملہ۔
 الجزم۔ حصہ۔
 الجازم۔ نا۔ جزم دینے والا کلمہ۔
 مثلاً "لم" وغیرہ۔
 سقاء جازم۔ بھری ہوئی مشک

جَفَات نَفْسَهُ (ف)، جَشُوًّا
وَجَشًا وَجَفَاء. خوف یا غم
کے باعث جی متلانا۔
المكان۔ کسی جگہ کا خوب پودے اگانا
من المكان۔ کسی جگہ سے نکلنا۔
البحر۔ سمندر کا بیجان میں آنا۔
جَطًا۔ تَجِيئَةً۔ تَجَفًا۔ تَجَشُّوًّا
ڈکار لینا۔
اَجْتَفًا۔ البلاد۔ اَجْتَفَاتُهُ
البلاد۔ ملک کو ناموافق پانا یا
ملک کا ناموافق ہونا۔
الجَفَاء۔ ڈکار۔ واحد۔ جَشَاةٌ
وَجَشَاةٌ۔
جَشِبَ (ن)، وَجَشِبَ۔ (س)،
جَشِبًا وَجَشِبٌ۔ (ك)،
جشاپہ۔
الطعام۔ کھانے کا موٹا، اور
بد ذائقہ ہونا۔
صفت رَجَشِبٌ وَجَشِبٌ وَ
جَشِيبٌ وَجَشَابٌ وَجَشُوبٌ
وَجَشِبُ الرَّجُلِ۔ کسی کا
بد غذا ہونا۔ بری خدراک پر گزارہ
کرنا۔
الْمَجَشِبِ۔ موٹے جسم والا بہادر۔
جَشْرَدَن، جَشْرًا وَجَشْرًا۔
المواشی۔ مویشی کو چرانے کے
لیے جانا۔
وَجَشْرَ الْأَنَاءِ۔ برتن کو
خالی کرنا۔
جَشْرَدَن، جَشُورًا۔
الصَّبِيحُ۔ پوچھنا۔
الرجلُ۔ سفر کرنا۔
جَشِرًا۔ (س)، جَشْرًا وَجَشِرًا
آواز کا بیٹھنا۔ کھانسنہ۔
صفت آجشر۔ مؤنث۔

جشراء۔ ج۔ جَشْرًا۔
الجَشْرُ وَالْجَشْرَا۔ وہ مویشی
جو چراگاہ سے لوٹ کر شام کو گھر
پر نہ آئیں۔ وہ لوگ جو چراگاہ میں
رات گزاریں اور اپنے گھروں کی
طرف واپس نہ ہوں۔
الجَشَارِي۔ چروانا۔
الْوَجَشْرُ۔ حوض۔
ج۔ مَجَاشِرُ۔
جَشِيعٌ (س)، جَشَعًا وَتَجَشَّعٌ
بدرمز اور لالچی ہونا۔
صفت (جَشِيعٌ) ج۔ جَشِيعُونَ
وَجَشَاعِي وَجَفَعَاءٌ وَجَشَاعٌ
تَجَاشَعًا۔
المَاءِ۔ باہم تنگ کرنا اور پیاسا
رہنا۔
جَشِيمٌ (س)، جَشِيمًا وَجَفَامَةٌ
وَتَجَشَّمٌ۔
الامر۔ تکلیف و مشقت سے
کام کرنا۔ کہتے ہیں۔
جَشِيمَتُ الْبَيْتِ عَوَقِ الْقَرَابَةِ
یعنی میں نے تمہاری وجہ سے بڑی
مشقت برداشت کی۔
وَتَجَشَّمِ الرَّمْلِ۔ ریگستان کے
پیشتر حصہ کو عبور کیا۔
وَتَجَشَّمِ فَلَانًا مِنْ بَيْنِ
الْقَوْمِ۔ اس نے قوم میں سے
فلاں کو چنا اور اسی کی روش و
طریقے پر چلا۔
جَشِمَهُ وَاجَشَمَهُ۔
الامر۔ کام کرنے کی تکلیف دینا
کہتے ہیں۔ مہما تَجَشَّمَتِي فَا لِي
جَاشِمٌ۔ جس چیز کی تم مجھ کو
تکلیف دو گے، میں جمیلوں گا۔
الجَشْمُ وَالْجَشْمُ۔ بوجہ۔ بھاری

کام کہتے ہیں۔ اللقی علی
جَشْمَهُ۔ اس نے اپنا بوجھ مجھ پر
ڈال دیا۔
من البعير۔ اونٹ کا سینہ۔
الجَشْمُ وَالْجَشِيمُ۔ موٹا۔ بھاری۔
الجوشن۔ سینہ۔ زرہ۔
جوشن الليل۔ وسط شب۔
جَطُّ (من) جَطًا وَجَوِيصًا۔
سخت بندہ جانے کی وجہ سے
کراہنا۔
جَصَّصَ۔ البناء۔ گھر پر سفیدی
کرنا۔ گچ کرنا۔
الجرو۔ پتے کا آنکھیں کھولنا۔
العنقود۔ پھوٹنا۔
على العدو۔ دشمن پر حملہ کرنا۔
اَجْتَصَّ وَتَجَاصَّ۔ القوم۔ قریب
قریب ہو کر اکٹھا ہونا۔
الجَصَّ وَالْجَصَّ۔ گچ۔ چوڑ۔
الجَصَّاصُ۔ گچ والا۔ گچ بیچنے والا
الجَصَّاصَةُ۔ چونے کا کارخانہ۔
چونے کی بھٹی۔
الجَصِيسَةُ۔ پاس پاس رہنے والے
آدمیوں کا گروہ۔
جَصَّ (ن)، جَصًّا۔
عليه بالسيف۔ کسی پر تلوار
سے حملہ کرنا۔
جَعِبَهُ (ن)، جَعِبًا وَجَعَبَهُ
تَجَعِبًا وَجَعِبَاهُ، جَعِبًا
وَجَعِبَاءً۔ الٹ دینا۔ پھچاڑ
دینا۔
جَعَبَ الْجَعْبَةَ۔ ترکش بنانا۔
تَجَعَّبَ وَاجْعَبَ وَتَجَعَّبِي
پھچڑ جانا۔
تَجَعَّبِي الْجَعِيشِ۔ فوج کا
بھیڑ کر کے ایک دوسرے پر

<p>(اَبُو جَعَّاسٍ وَاُمُّ جَعَّاسٍ) بجو۔ اَبُو جَعَّانٍ - گنیر پلا۔ اُمُّ جَعَّانٍ - بڑا گنہ۔ الْجَاعِعَاتَانِ - جانور کے سرین کے وہ حصے جن پر دم ہلاتے وقت لگتی ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کوئی دابتہ علی جا عویتھا۔ الْجَعْوَاءُ - وَالْمَجْعَرُ - دُبرِ جَعَسَ (ف) جَعَسًا۔ الرَّجُلُ - آدمی کا پائٹھانہ کرنا۔ تَجَعَّسَ - گھن کھانا۔ فحش رکنا۔ جَعِظُ (س) جَعِظًا - بد نعت و تند مزاج ہونا۔ صَفْتٌ (جَعِظٌ وَجَعِظٌ) جَعِظَةٌ (ف) جَعِظًا وَجَعِظَةً - وَفَحٌّ كَرْنَا - بٹانا۔ جَعْفَةٌ (ف) جَعْفًا وَجَعْفَةً - بچھاڑنا۔ گرا دینا۔ جَعْفٌ - وَاجْتَعَفَ - الشَّجَرَةُ - درخت کو جڑ سے اکیرٹنا۔ أَنْجَعَفْتُ - الشَّجَرَةَ - وَرَحْتَ كَا جڑ سے اکیرٹنا۔ سَيْلٌ جَاعِفٌ وَجَعَانٌ - وہ بیخ کن سیلاب جو بہر بہیز کو کھود کر لے جائے۔ الْجَعْفَتُ - مَعْنَى - وَطَوْرِي رَوِي جِس میں سے کھنک نکالنے کے۔ الْبَعْفَتُ - رِيَا - نَدِي - بَسْتٌ وَوَدَّ دینے والی اونٹنی۔ جَعَلَهُ - (ف) جَعَلًا - بٹانا۔ پیدا کرنا۔ جیسے جَعَلَ اللَّهُ الظُّلُمَاتِ - رُكُنًا - تَهْدِيلُ كَرْنَا جیسے جَعَلَ الْحُسْنَ قَبِيحًا - گان کرنا۔ خیال کرنا۔ جیسے جَعَلَ</p>	<p>جَعَدَكَ، جَعَادَةٌ وَجَعُودَةٌ - الشَّعْرُ - بالوں کا گھونگھریالے ہونا۔ جَعَدًا - الشَّعْرُ - بالوں کو گھونگھریالے بنانا۔ تَجَعَّدَ - الشَّعْرُ - گھونگھریالے ہونا۔ وَتَجَعَّدَ الشَّيْءُ - کسی چیز کا سکڑ جانا۔ الْجَعْدُ - مِنَ الشَّعْرِ - گھونگھریالے بال - کہا جاتا ہے - هُوَ جَعْدُ الْيَدِ - وہ بخیل ہے۔ جَعْدُ الْقَطْ - وہ شخص جس کے حسب میں عیب اور کھوٹ ہو۔ ج - جَعَادٌ - تَرَابٌ جَعْدٌ - نناک مٹی۔ وَجْهٌ جَعْدٌ - گول - کم ملاحظت والا چہرہ۔ زَبْدٌ جَعْدٌ - تہ بہ تہ مکھن۔ اَبُو جَعْدَةَ وَ اَبُو جَعَادَةَ - اَبُو جَعَادَةَ - بھیڑیے کی کنیت جَعْدُونَ، جَعْرًا وَ اَنْجَعَرَ - السَّبْعُ - ورنہ کا پاخانہ کرنا۔ تَجَعَّرَ - کنویں میں اترتے وقت کمر سے رسی باندھنا۔ اس خوف سے کہ کہیں کنویں میں نہ گر جائیں۔ الْجَعْرُ - ورنہ کا پائٹھانہ۔ ج - جَعُوسٌ - الْجَعَّاسُ - وہ رسی جس کو کنویں میں اترنے والا اپنی کمر سے باندھ لیتا ہے اور اس کا دوسرا سرا کسی کھونٹے سے تاکہ وہ کنویں میں نہ گر جائے۔ جَعَّاسٌ - بَرْدُزْنٌ - قَطْمٌ - وَ</p>	<p>جڑھنا۔ اور آپس میں دھکا پیل کرنا۔ الْجَعْبَةُ - تَرَكُشٌ - ج - جَعَابٌ - الْأَجْعَبُ - بڑے پیٹ والا جو کام میں مٹھا ہو۔ مُونْتُ - جَعْبَاءُ - ج - جُعِبٌ - الْجَعْبَاءُ - سُرِينٌ - الْجَعَّابُ - تَرَكُشٌ بَنَانَةٌ وَالْأَلَا - وَالْجَعَابَةُ - تَرَكُشٌ بَنَانَةٌ كَالْأَلَا - الْجُعُوبُ - بِدَشْكَلٍ وَبَسْتٌ قَد - ج - جَعَابِيْبٌ - جَعْبَعَةٌ - الْبَعِيرُ - اوزٹ کو بٹھانے یا اٹھانے کے لیے حرکت دینا۔ بٹھانا۔ الْبَعِيرُ - اوزٹ کا بیٹھنا۔ بِالْغَرِيْبِ - مَقْرُونٌ سَخِيٌّ سَخِيٌّ سَخِيٌّ مطالبہ کرنا۔ فِي الْمَكَانِ - كَيْسِي جَدَّ غَيْرِ مَطْمَئِنِّ حَالَتِ میں بیٹھنا۔ تَجَعَّبَجَمٌ - وَرُو كَيْ سَبَبٌ زَمِيْنٌ پَر گر پٹنا۔ الْبَعْبَجَعَةُ - مَصٌ - اَكْطِي هُوْنِي والے اونٹوں کی آواز۔ چکی چلنے کی آواز اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے۔ اَسْمَعُ جَعْبَجَعَةً وَلَا أَسِي طَحْنًا - چکی کی آواز تو سنتا ہوں مگر آٹا نہیں دیکھتا۔ یہ کہاوت اس بزدل کے لیے ہے جو بھیکیں تو بہت مگر کچھ کر کے نہ دکھائے۔ یا اس کنبوس کے لیے جو وعدے تو بہت کرے مگر ایک وعدہ بھی پورا نہ کرے۔ الْبَعْبَجَاعُ - تَنَكٌ وَرَسْمَتٌ جَدَّ - میدان کارزار۔ قحط زدہ زمین۔</p>
--	---	---

الحق باطلاً۔ اس نے سچ کو باطل خیال کیا۔ مقرر کرنا۔ جیسے جعلہ حاصل کیا۔ اس نے اس کو ماکم مقرر کیا۔ لہ کذا علی کذا۔ شرط باندھنا۔ کرنے لگنا۔ شروع کرنا۔ جیسے۔ جعل یکتب۔ وہ لکھنے لگا۔ اور دینے کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے۔ اجعل لی لسان صدق۔ یعنی مجھ کو سچی زبان عطا فرما۔

جعل (س) جعلاً۔

الماء۔ پانی میں سیاہ کیڑوں کا بہت پیدا ہو جانا الغلام۔ لڑکے کا مٹاپے کے ساتھ پست قد ہونا۔

الرجل۔ آدمی کا جگر طالو ہونا۔

جاءلہ مباحلہ۔ رشوت دینا اجعل۔ کہ۔ کسی کام پر مزدوری مقرر کرنا۔

الماء۔ پانی میں سیاہ کیڑوں کی کثرت ہونا۔

اجعلہ جعلاً۔ مزدوری دینا۔

تجاعلوا۔ الشیء۔ مل کر کسی چیز کو بنانا۔

اجتعلہ۔ گھڑنا۔

الشیء۔ بنا نا۔ لینا۔ کہتے ہیں۔

الشیء فاجتعلہ۔ اس نے اس کو کوئی چیز دیا اور اس نے اس سے لے لی۔

الجعل۔ ج۔ جعلان۔ سیاہ

ہونا۔ سیاہ اور بد شکل آدمی یا

جگر طالو۔ گھبانا۔

ماء (جعل و جعل) بہت

سیاہ کیڑوں والا پانی۔

الجعل۔ ج۔ جعل و جعل۔ ج۔ آجعل و جعل۔ بتقلید الجیم۔ و جعل۔ ج۔ جعل۔ اجرت فوجی سپاہی کا وظیفہ یا اس کی تنخواہ۔

الجعل۔ وہ صافی جس سے پکڑ کر دیگر چولہے پر سے اتاری جائے۔ جعمہ (ف) جعمًا۔ جانور کے منہ پر مقوی پڑھانا کہ وہ کاٹنے کھانے سے رک جائے۔

جعمہ و جعمہ (س ف) جعمًا کھانے کی آستہانہ ہو۔ کھانے کی خواہش کرنا۔ کہتے ہیں۔

جعمہ إلى اللحم۔ وہ گوشت کا بہت زیادہ ہے۔

جعمہ و تجعمہ۔ فی الشیء۔ کسی چیز کی طرح کرنا۔

صفت (جعمہ و جعمہ) اجعمہ۔ الشجر۔ درخت کے پتے جڑ تک چر جانا۔

الشیء۔ کسی شے کی بیخ کنی کرنا۔ الجعمہ۔ بھوک۔

الجعمہ۔ وہ بھوکا جو ہر شے کو دیکھ کر کھانے کی خواہش کرے۔

المجعمہ۔ پناہ لینے کی جگہ۔

جعمہ۔ دن، جمعاً۔ البحر و نحوہ۔ مینگیاں وغیرہ کے ڈھیر لگانا۔

الجعمہ۔ جو کی شراب۔ الجعمو۔ ہاتھوں سے لگایا ہوا ڈھیر کیچڑ۔ پھرتی۔

الجعمہ۔ علم جغرافیہ۔ جفت (س) جفتاً و جفتاً۔ خشک ہونا۔ سوکنا۔

صفت (جفت و جفت) الارض۔ پھک دینا۔

کتے۔ جفت لہدہ۔ اس نے سفر و کوچ کو چھوڑ کر اقامت اختیار کر لی۔

جفت دن، جفتاً۔ المال۔ مال جمع کر کے چھپت ہو جانا۔

جفتہ۔ تجفیناً و تجفناً۔ خشک کرنا۔ سوکنا۔

جفت۔ القوس۔ گھڑے کو پا کر ہینا۔

تجفت۔ خشک ہونا۔

اجتفت۔ ما فی الأثناء۔ برتن کا سب کچھ چٹ کر جانا۔

الجفت۔ والجفت۔ والجفت۔ بڑی تعداد۔ لوگوں کی بڑی جماعت

کہتے ہیں۔ ثناء القوم جفتہ۔ قوم ساری کی ساری آئی۔

الجفت۔ ہر کھوکھلی چیز۔ پڑے بانس یا زرکل کی ٹلکی کی طرح۔ بوڑھا۔ کہا جاتا ہے۔

”هو جفت مال“ وہ مال کا منتظم ہے۔

الجفت۔ خشک و سخت زمین۔ الجفت۔ خشک گھاس۔

الجفت۔ سوکھی ہوئی چیز۔ التجفت و التجفت۔ رطاب

میں بچاؤ کے لیے زرہ کی مانند ایک آلہ۔ ج۔ تجفین۔

جفت دن، جفتاً۔ الشمر۔ دریا کا جھاگ اور کوٹا کرکٹ لانا۔

القدس۔ ہانڈی کا اچھان میں آنا۔

القدس۔ ہانڈی کو اونٹ پر دینا۔ جفت الرجل و جفت بہ

الارض۔ پھک دینا۔

أَجْفَأُ. به۔ کسی کو پچھاڑ دینا۔
 پک دینا۔
 السَّاقِطَةُ۔ اونٹنی کو چلا کر تھکا
 دینا۔
 البَابُ۔ دروازہ بند کرنا۔
 أَجْفَأَتٌ وَتَجْفَأَاتٌ۔ البلاد۔
 ملک کا بے برکت ہونا۔
 اجْتَفَأَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو اکھیڑ کر
 سیلاب کا پھینکا۔
 الجُفَأُ۔ کنارہ ٹائے دریا پر سیلاب
 کا پھینکا ہوا بے کار وہے فائدہ
 شے۔ خس و خاشاک۔
 کہا جاتا ہے۔ "ذَهَبَ جُفَاءً"
 یعنی رائیگان گیا۔
 جَفَجَفَ۔ الإِبِلُ۔ اونٹوں کو اس
 تیزی سے ہانکنا کہ وہ ایک دوسرے
 پر چڑھنے لگیں۔
 تَجَفَّفَتِ۔ العَطَاشُ۔ پرند کا انڈے
 سینا۔
 الثَّوْبُ۔ گیلے کپڑے کا خشک ہو کر
 کچھ نڈار رہ جانا۔
 الجَفَجَفُ۔ بلند زمین۔ پست
 زمین۔
 الجَفَجَفَةُ۔ نئے کپڑے کی
 کھڑکھڑاہٹ۔
 جَفَجَفَةُ المَرْكَبِ۔ لشکر کے
 چلنے کی آواز۔
 الجَفَا جَفُتٌ۔ ہیئت و لباس۔
 جَفَحَ (ن من) جَفْحًا۔ تکیر کرنا۔ فخر کرنا
 صفت (جَفَاخٌ)۔
 جَافَحَهُ۔ کسی کے مقابلہ میں فخر کرنا۔
 جَفَرٌ۔ (ن من) جَفْرًا وَتَجْفَرٌ۔
 وَاسْتَجْفَرٌ۔
 وَالدُّ الشَّاةُ۔ بکری کے بچہ کا
 بڑا ہونا۔ اور بڑے پیٹ والا ہونا۔

الشيء۔ کشادہ ہونا۔
 جَفَرٌ مِنَ المَرَضِ۔ بیماری
 سے نجات پانا۔
 جَفَرٌ مَا كَانَ فِيهِ۔ چھوڑنا۔
 جَفَرٌ صَاحِبَهُ۔ قطع تعلق
 کرنا۔
 الجَفْرُ۔ مَصٌ۔ کشادہ کنواں۔ ج
 جَفَسَا۔
 کہتے ہیں۔ فلان مِنْهَدُمُ
 الجَفْرُ۔ فلاں اپنی کوئی رائے نہیں
 رکھتا یعنی عقل سے عاری ہے۔
 وَقَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ جَفْرِ
 وَجَفْرِ كَذَا۔ میں نے اس کو
 اس کی وجہ سے کیا۔
 عِلْمُ الجَفْرِ۔ یہ ایک علم ہے۔
 جس میں اسرارِ حروف سے بحث ہوتی
 ہے اور اس کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ
 وہ اس کی مدد سے آئندہ حالات و
 واقعات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔
 الجُفْرَةُ۔ من الشيء۔ چیز کا
 بیچ۔ وسط شے۔
 من الارض۔ گول پھیل ہوئی زمین۔
 ج۔ جَفْرٌ وَجَفَسٌ۔
 الجَفِيئِرُ۔ محض کھڑی یا محض چڑے
 کا ترکش۔
 جَفِسَ (س) جَفْسًا وَجَفَسَةً
 بد معنی ہونا۔
 الجَفْسُ وَالجَفْسُ وَالجَفِيئِسُ
 کمزور کہینہ۔
 جَفِظَ (ن من) جَفِظًا۔
 الاناء۔ برتن بھرنے۔
 اجْفَظًا وَاجْفَظًا اجْفِظًا
 المَقْتُولُ۔ مردہ لاش کا
 پھولنا۔
 صفت (جَفِيظٌ)

بَجَفَعَهُ (ن من) جَفَعًا۔
 جَفَعَلْ (ن من) جَفَعْلًا۔ الطَّائِرُ۔
 پرند کو ہٹکانا۔ کہتے ہیں۔
 جَفَعَلَ القَنَاصُ الوَحْشَ
 عن مَرَا عِيهَا۔ شکاری نے
 وحشی جانوروں کو ان کی چراگاہوں سے
 بدکا دیا اور ڈرا دیا۔
 البَحْرُ السَّمَكُ۔ سمندر کا پھلی کو
 کنارہ پر ڈال دینا۔
 الرِّيحُ السَّحَابُ۔ ہوا کا ہادل کو
 اڑانے جانا۔
 ۵۔ کسی کو پچھاڑ دینا۔
 الطَّيْنُ۔ مٹی کو بیلچہ سے کھرچ لینا
 المَتَاعُ۔ سامان پر سامان
 رکھنا۔
 جَفَلٌ (ن من) جَفُولًا وَجَفَلًا
 وَاجْفَلٌ۔
 البَعِيرُ۔ اونٹ کا بدکنا۔ بھاگنا۔
 صفت (جَافِلٌ) وَ (جَفَالٌ)
 النِّعَامَةُ۔ شتر مرغ کا بھاگنا۔
 الرِّيحُ۔ ہوا کا تیز چلنا۔
 (—) وَ (نَجْفَلٌ وَتَجْفَلٌ)
 القَوْمُ۔ لوگوں کا تیز بھاگنا۔
 جَفَلَهُ۔ بدکانا۔ بھگانا۔
 تَجَفَّلَ۔ الدِّيكُ۔ مرغ کا گلے کے
 پروں کو پھیلانا۔
 الجَفَلُ۔ بارش کے بھد کا پانی
 سے خالی ہادل۔ شتر مرغ۔ جو ہر
 شے سے بندھے۔ باہمی کی لید۔
 کشتی۔ ج۔ جَفُولٌ۔
 الجَفَلَةُ۔ من الشجر۔ بہت
 پتوں والا درخت۔
 الجَفَلَةُ۔ اون کا گچھا۔
 الجَفَالُ۔ دودھ کی جھاگ۔ بہت اون
 کنارہ ٹائے دریا پر سیلاب کا ڈالا

ہوا خس و خاشاک۔

الجَفَالَةُ - من القدس۔ ہڈی
کا جھاگ جو چھپے سے نکالا جائے
ریحٌ رَجْفُولٌ، ج۔ جَفَلٌ۔
وَدَجْفَلٌ وَرَجْفَالٌ وَرَجْفَالَةٌ،
وہ تیز ہوا جو بادل کو اڑالے
جائے۔

الجَفَلِيُّ - عام دعوت۔ کہا جاتا ہے
"دُعِيَ فُلَانٌ فِي النَّفْسِ لَا
فِي الْجَفَلِيِّ" یعنی وہ خصوصی
دعوت میں بلا یا گیا نہ عمومی دعوت
میں۔

الجَفِيلُ - بہت۔ زراعت کا وہ برہما
ہوا حصہ جو کھیتی کو ہلکا کرنے کی
خاطر چھانٹ دیا جائے۔

الْجَفِيلُ - بزدل۔
الجَفَلِيُّ - بہت موٹی بوڑھی عورت۔
جَفَنَ (ن، جَفَنًا)۔

الناقة - اونٹنی کو ذبح کر کے
بڑے بڑے پیالوں میں کھلانا۔
نفسہ - اپنے نفس کو برائیوں
سے روکنا۔

(س) وَتَجَفَّنَ

الکوم - جڑ پکڑنا۔

الجَفَنُ - مہ۔ اوپر نیچے کا پھوٹا۔

تلوار کا میان۔ ج۔ أَجْفَانٌ وَ
جَفُونٌ وَ أَجْفَنٌ۔

الجَفَنُ - انگور کی جڑ یا اس کی
ٹہنیاں۔ واحد، جَفْنَةٌ۔

الجَفْنَةُ - بڑا پیالہ۔ وہ برتن
جس میں شراب بنائی جائے۔
چھوٹا کنراں۔

ج۔ جَفَنٌ وَ جَفَانٌ وَ جَفَنَاتٌ۔
ج۔ يَجْفُو جَفَاءً وَ جَفَاءَةً۔
یاب جگہ قرار نہ پکڑنا۔

علیہ کذا۔ کسی پر کچھ گراں ہونا
الشوب۔ کپڑے کا عمدہ بنا دینا اور
گاڑھا ہونا۔

جَنَبَهُ عَنِ الْقَرَائِشِ۔ قرار نہ
پانا۔

جَفَا۔ (ن، جَفَوًا وَ جَفَاءً وَ
جَفَاً)۔

صاحبہ۔ اعراض کرنا۔ بدسلوکی
سے پیش آنا۔

جَفَاةٌ۔ بد اخلاق بنا دینا۔

تَجَا فِی۔ عن مکانہ۔ قرار نہ
پانا۔

أَجْفَى۔ الخیل۔ گھوڑے کو تھکا
دینا اور چارہ نہ کھلانا۔

فُلَانًا۔ دور کرنا۔

تَجَا فِی۔ جگہ سے علیحدہ ہونا۔ الگ ہونا
کتے ہیں۔ تَجَا فِی التَّوَجُّهِ عَنِ
ظَهْرِ الْفَرَسِ۔ زمین گھوڑے کی

پیٹھ سے ہٹ گئی۔ "تَجَا فِی
جَنَبِهِ عَنِ الْقَرَائِشِ۔ اس کا پہلو

بستر سے دور رہا۔

أَجْتَفَى۔ الشیء۔ کسی چیز کو اس کی
جگہ سے ہٹانا۔ دور کرنا۔

أَسْتَجْفَى۔ اسْتَجْفَاءً۔

الشیء۔ کسی شے کو غلیظ و
موٹا پانا۔

ع۔ کسی سے دوری چاہنا۔

الْجَهْوَةُ وَالْجَفْوَةُ۔ اجڈ پن
کھڑا پن۔ بدسلوکی۔

الجَا فِی۔ موٹا۔

جَا فِی الْخَلْقِ۔ اچلے۔ بد اخلاق
ج۔ جَفَاةٌ۔ ٹوٹ جافیۃ۔

ج۔ جَا فِیَاتٌ وَ جَوَا فِی۔

جَفَى (ن، جَفِيًا)۔

الرجل۔ پھار دینا۔

(س) وَ أَجْتَفَى

النبات۔ ہدوسے کو جسٹ سے
اکھیڑ دینا۔

جَفَى۔ (ن، جَفَاً)۔

الطائر۔ پرند کا بیٹ کرنا۔

جَكَو (س، جَكَوًا)۔ بیچنے میں اصرار
کرنا۔

جَلَّ۔ (ض، جَلَّالًا وَ جَلَّالَةً)۔
بڑی شان والا ہونا۔ جہم میں بڑا ہونا
عمر میں بڑا ہونا۔

کتے ہیں۔ جَلَّ فُلَانٌ فِی عَیْنِی۔
یعنی فلاں میری نظر میں بڑے مرتبہ
والا ہو گیا۔

صفت (جَلِيلٌ)۔

ج۔ أَجْلَاءٌ وَ أَجْلَةٌ وَ جَلَّةٌ۔
وَرَجَلٌ وَ جَلٌّ وَ جَلَّالٌ وَ
جُلَّالٌ)۔

جَلَّ وَ تَجَالَّ۔ عن کذا۔ نفرت
کرنا۔ بیزار و بری ہونا۔ اپنے کو کسی
نقص سے بالا و برتر سمجھنا۔

تَجَالَّ عَلَیْهِ۔ بڑا بننا۔ دوسرے
پر اپنی بزرگی کا اظہار کرنا۔

(جَلَّ - جَلَّالًا وَ جَلَّلًا)۔
الفرس۔ گھوڑے پر جھول ڈالنا۔

جَلَّ (ن، ض، جَلَّوًا وَ جَلَّالًا)۔
اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے
ملک میں چلا جانا۔

صفت (جَالٌ) ج۔ جَالَّةٌ۔
جَلَّ (ن، ض، جَلَّالًا وَ جَلَّلًا) وَ أَجَلَّلَ
الْبَعْرَ۔ بیگیاں چننا۔ اٹھانا۔

الشیء۔ چیز کے بڑے حصہ کو
لینا۔

جَلَّلَ۔ الشیء۔ چیز کا عام ہونا۔
الشیء۔ ڈھانپ لینا۔

اور اسی سے ہے جَلَّلَ الْمَطَرُ

الآس من - بارش نے زمین کو
 ڈھانپ لیا۔
 الرجل - کسی آدمی کی تعظیم بجالانا۔
 اجلہ اجلاؤ - تعظیم کرنا۔
 عين العيب - عیب و نقص سے
 پاک کرنا۔
 الرجل - قوی ہونا۔ کمزور ہونا۔
 عمرو وسويد - عمر کا زید کو بہت
 دینا۔ کہا جاتا ہے۔
 آیت فلاناً فما اجلنی و
 ما اذقنی - میں فلاں کے
 پاس آیا تو اس نے مجھ کو نہ بہت
 دیا نہ تھوڑا۔
 تجل - بڑا بننا۔
 بالشوب - کپڑا اوڑھنا۔
 تجلته - غالب ہونا۔
 الجبل - مص - چینی - گلاب کا پھول۔
 خواہ سفید و سرخ ہو یا زرد۔
 واحد - جلہ - بادبان - ج۔
 جلول -
 الجبل و الجبل - جھول - ج۔
 جلال و اجلال -
 جبل الشی - چیز کا بڑا حصہ۔
 جبل البيت - خیمہ نصب کرنے
 کی جگہ۔
 والجبل - موٹا - بھاری۔
 کہتے ہیں - فعله من جلك
 اس نے اس کو تمھاری وجہ سے کیا۔
 الجبل - بہت۔
 کہتے ہیں - ماله دق و لاجل -
 یعنی اس کے پاس نہ تھوڑا ہے نہ بہت
 من المتاع - فرش و فرش
 اور چادریں۔
 رجل جل - بزرگ آدمی۔
 امر جل - بڑا معاملہ - سہل

و آسان امر -
 کہا جاتا ہے: فعله من
 جلك و من اجلاك و
 من تجلک - میں نے
 تمھاری خاطر اور تمھاری تعظیم کی
 بنا پر یہ کیا۔
 الجلة - بتثلیث الجید -
 بیگنی - کہتے ہیں: قوم جلة
 بڑے صاحب عزت لوگ - یہ
 جلیل کی جمع ہے۔
 الجلة - بڑا لوگرا - ج۔ جلال
 و جل -
 الجالة - اپنے وطن کو چھوڑنے
 والے لوگ۔
 الجلی - مؤنث - الاجل کی
 بڑا کام - امر عظیم - ج۔ جل -
 التجلة - بزرگی و عظمت۔
 المجلة - رسالہ - کاپی۔
 الجلالة - پلیدی کھانے والی
 گائے۔
 المجلل - فا - صحابہ مجلل - ہم
 گیر بارش برسانے والا بادل۔
 امر مجلل - عام معاملہ۔
 جلاء (ن) جلاء و جلاء -
 و جلاءة - پھاڑوینا۔ زمین
 پر ٹپک دینا۔
 جلاء بالشوب - پھینکنا۔
 جلبہ - (ن ص) جلباً و جلباً -
 ہانک کر لے آنا۔
 الرجل - جانا۔
 الجوح - زخم کا اچھا ہونا۔
 (د) و اجلب -
 القوم - قوم کو جمع کرنا۔
 جلبہ و اجلبہ - دھمکانا۔
 جلب و اجاب - لاهلہ - اہل

عیال کے لیے کمانا۔
 جلب و اجلب علی الفرس -
 چلا کر گھوڑے کو آگے بڑھانا۔
 جلب و اجلب الدم - خون
 خشک ہونا۔
 جلب و اجلب القوم -
 لوگوں کا شور و شغب مچانا۔
 جلب (د) جلباً - جمع ہونا۔
 جلب ان جلباً - علیہ - گناہ کرنا
 جلب - القوم - قوم کا چمچنا چلانا۔
 علی الفرس - گھوڑے کو ڈانٹنا
 ڈپٹنا۔
 (د) و اجلب -
 القوم - لوگوں کا لڑائی کے لیے ہر
 طرف سے سمٹ آنا۔
 انجلب - جانا۔
 اجلبہ - لانا۔
 استجلبہ - درآمد کرنے کی
 درخواست کرنا - کسی چیز کو حاصل کرنا۔
 یا سبب بنا۔
 الجذب - مص - گناہ - جرم۔
 الجلب - مص - وہ مال جو ایک شہر
 سے دوسرے شہر لے جائیں۔
 ج۔ اجلاب -
 (د) و الجلبہ - شور و غوغا
 غل شور۔
 الجلب - پانی سے خالی بادل جو بادل
 جو پہاڑ کی طرح نظر آتے۔ رات کی
 تاریکی۔
 جلب الرجل و جلبہ - گناہ
 کی کڑیوں۔
 الجلبہ - کھڑنڈ - تہ بہ تہ پتھر جن
 میں جانوروں کے لیے راستہ
 باقی نہ رہے۔ گھاس کے متفرق قطعے۔
 سبز کٹے دار درخت - بادل کا

<p>ادپر کے حصہ کو چرمانا۔ جَلِّح (س) جَلِّحًا۔ سر کے دونوں جانب سے بالوں کا گرنا۔ صفت۔ رَاجُلِح (ج)۔ جُلْح و أَجْلَح و جُلْحَان۔ موش۔ جَلْحَاء۔ الثوسا۔ بیل کا بے سینگوں والا ہونا۔ الارض۔ زمین کی گھاس کا چرنا جانا۔ القوسی۔ حفاظتی قلعوں کا باقی نہ رہنا۔ جَلِّحَت۔ الشَّجَرَةُ۔ درخت کا اوپر سے کھالیا جانا۔ الاسا۔ زمین کی گھاس کا چرنا جانا۔ جَلِّح۔ عَلَى الشَّيْءِ۔ زبردست پیش قدمی کرنا۔ فِي الْأَمْرِ۔ پختہ ارادہ کرنا۔ السَّبْعُ عَلَى الْقَوْمِ۔ زندہ کا کو پڑنا۔ حملہ آور ہونا۔ جَلَّحَتِ الْمَاشِيَةَ الشَّجَرَةَ۔ مویشی کا درخت کو اوپر سے چر جانا۔ جَالِحًا۔ کلم کھلا دشمنی کرنا۔ جَالِحٌ بِالشَّيْءِ۔ صاف اور کھلے طریقے سے کرنا۔ الْجَلْحَةُ۔ سر کے دونوں جانب بال گرنے کی جگہ۔ الْجَلْحُ۔ تباہ کن سیلاب۔ اَرْضٌ جَلْحَاءُ۔ بجز زمین جو ویدگ نہ اٹائے۔ بِنَقْرِ جَلْحَاءُ۔ بے سینگ کی گائے۔ قَرْيَةٌ جَلْحَاءُ۔ بے قلعہ والی آبادی۔ سَطُوحٌ جَلْحَاءُ۔ کھل چھتیں جن کے</p>	<p>جَلِّجَلِ الوتر۔ تانت کو مضبوط بنانا۔ الْبَعِيْرُ۔ اونٹ پر گھونگرو لٹکانا اونٹ کے چانچہ باندھنا۔ تَجَلَّجَدَتْ۔ قواعد البيت۔ گھر کی بنیادوں کا بل جانا۔ تَجَلَّجَلٌ فِي الْأَرْضِ۔ زمین میں وھنسا۔ الْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ۔ دل میں کسی خیال کا کھنکھانا۔ الْجَلَّجِلُ۔ گھونگرو۔ وَاحِدٌ جَلَّجِلٌ جَلَّجِلٌ۔ النَّفْسُ۔ وہ خیالات جو دل میں کھنکیں۔ كَتَبَتْ يَوْمَ تَجَلَّجَلِ نَفْسِي میں نے اس پر اپنے دل کی باتیں کھول دیں۔ الْجَلَّجِلُ وَالْجَلَّجِلُ۔ پھرتیلا تیز دست۔ کام میں چست۔ الْجَلَّجَلَةُ۔ مص۔ بادل کی گرج اور گرج۔ گھنٹی کی جھنکار۔ الْجَلَّجَلَانُ۔ دھننے کے دانے کشنیز تل۔ کھنجد۔ جَلَّجَلَانُ الشَّيْءِ۔ بڑی چیز جَلَّجَلَانُ الْقَلْبِ۔ سویدائے قلب۔ دل کا مرکز۔ كَتَبْتُ يَوْمَ جَلَّجَلَانِ الْقَلْبِ اَلِي قَمْعَ الْأَذْنِ۔ دل سے جہالت نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ الْمُجَلَّجِلُ۔ قوی سروار۔ دور تک پہنچنے والی آواز رکھنے والا۔ گرجنے کرنے والا بادل بے عیب ظریف۔ وَعَدَدٌ مُجَلَّجِلٌ۔ بڑی تعداد۔ جَلَّحَتِ رَفٌّ، جَلْحًا، الْمَاشِيَةَ۔ الشَّجَرَةَ۔ مویشی کا درخت کے</p>	<p>ایک ٹکڑا۔ پالان پر لگایا جانے والا چڑھ۔ جَلْبَةُ الْفَتَاوِ۔ کڑا کے کی سردی۔ چلنے کی سردی۔ ج۔ جَلْبُ۔ الْجَلْبُوبُ۔ لایا ہوا۔ کیچھا ہوا۔ کہتے ہیں۔ "عَبْدُ جَلْبُوبٍ" در آمدہ غلام۔ ج۔ جَلْبِيٌّ وَجَلْبَاءُ۔ "وَأَمْرًا جَلْبِيًّا وَجَلْبِيَّةً" کہیں سے لائی ہوئی عورت۔ ج۔ جَلْبِيٌّ وَجَلْبَائِبُ۔ الْجَلْبُوبَةُ۔ در آمدہ اسباب۔ وہ اونٹ جس پر سامان لادا جائے۔ اس میں واحد و جمع یکساں ہیں۔ الْجَلَّابُ۔ غلاموں کو تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے والا۔ الْجَلَّابُ وَالْجَلَّابُ۔ عرق گلاب میں شہد یا شکر سے تیار کیا ہوا شربت عرق گلاب۔ الْجَلْبَانُ۔ مڑ۔ چڑے کا تھیلا۔ کہتے ہیں "جَلْبَانُ وَجَلْبَانُ" شور مچانے والا آدمی۔ الْجَلَّابُ وَالْمُجَلَّبُ۔ چلانے والا۔ بکواسی۔ بدخلق۔ الْمَجْلَبَةُ۔ کسی شے کے حاصل کرنے کا سبب اور باعث۔ جَلْبِيَّةٌ۔ چادر یا قمیص پہنانا۔ تَجَلَّبُ۔ چادر یا قمیص پہنانا۔ الْجَلْبَابُ وَالْحَيْثَابُ۔ قمیص یا چادر ج۔ جَلْبِيَّةٌ۔ جَلَّتْ رَضٌ، جَلَّتَا وَاجْتَلَّتْ مَارَتَا جَلَّجَلُ الرَّجُلِ۔ بیچنا۔ زور سے آواز نکالنا۔ السَّحَابُ۔ بادل کا گرجنا۔ جَلَّجَلَةٌ۔ حرکت دینا۔</p>
---	--	---

<p>پالاک۔ ج۔ جَلْدًا ع و جَلَاد۔ وَجَلْدًا۔ الْجَلِيد۔ پالا۔ الجلاد۔ کھجور کے بڑے بڑے اور سخت درخت۔ بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں۔ الجلاد۔ کوڑے سے مارنے والا۔ تلوار سے مارنے والا۔ ہر نماز دینے والا۔ کھال نیچنے والا۔ المجلد۔ والمجلد۔ چڑے کا وہ ٹکڑا جس کو نوچ کرنے والی انہی منہ پر مارا کرتی تھی۔ کوڑا۔ ج۔ مجالدا و مجاليدا۔ عظم دمجلد، صرف کھال لگی ہوئی ہڈی۔ فوس مجلد۔ وہ گھوڑا جو کوڑے سے نہ ڈرے۔ اجلؤذ۔ اجلؤذا۔ تیز چلنا۔ الليل۔ رات کا دراز ہونا یا گذر جانا۔ بھم السیر۔ تیزی کے ساتھ چلتے رہنا۔ المطر۔ زمانہ بارش کے ختم کے بعد بھی برستار رہنا۔ الجلد۔ ج۔ مناجد۔ چھوڑنا۔ الجلدی والجلدی۔ پامی گرے کا خادمہ۔ کاری گری۔ ج۔ جلاؤی۔ الجلدی والجلود۔ مضبوط اور سخت۔ جلود من، جلود الرأس۔ سر پر پٹی باندھنا۔ الشیء الی الشیء۔ کسی چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ (ج۔ و جلؤذ)۔ السیکین۔ چھری کا دستہ باندھنا۔ وجلؤ الرجل۔ جلوی چلنا۔ تیز چلنا</p>	<p>جلده۔ (ک) جلدًا و جلادة۔ وجلؤدة و جلؤذا۔ مبرو استقلال اور قوت والا ہونا۔ جلد رس، جلدًا و جلیدًا و أجلد المكان۔ کسی جگہ پالا پڑنا صفت مفعولی۔ (جلؤذ) جلد۔ الكتاب۔ کتاب کی جلد باندھنا الجزوس۔ جانور کی کھال اتارنا۔ جالده۔ بالسيف۔ تلوار سے مارنا۔ أجلد۔ الیه۔ کسی کا محتاج بنانا۔ مجبور کرنا۔ تجلد۔ اظهار صبر کرنا۔ مضبوطی دکھانا۔ تجالدوا و اجتلدوا۔ بالسيف۔ باہم تلوار سے لڑنا۔ اجتلد الاناء۔ سارا پی جانا۔ الجلد۔ مص۔ مضبوط۔ قوی۔ ج۔ اجلاد۔ مؤنث۔ جلادة۔ و اجلاد الانسان و تجاليدہ) انسان کا جسم اور اس کے اعضاء کہتے ہیں: "ما الشبه اجلاد" فلان باجلاد آبیہ۔ فلاں کے اعضاء بدن اس کے باپ کے اعضاء سے کس قدر ملتے جلتے ہیں۔ الجلد۔ آسان یا نیلا گھبہ۔ کھال۔ (ج۔ و الجلادة) سخت و سخت زمین۔ الجلد۔ کھال۔ ج۔ اجلاد و جلؤذ و الجلادة) کھال کا ٹکڑا یا کھال کی قسم۔ ج۔ جلد۔ کہتے ہیں۔ من جلؤذ منا۔ وہ ہمارے ہی قبیلہ اور خاندان سے ہیں۔ الجلید۔ قوت والا۔ صابر۔</p>	<p>اطراف میں کوئی دیوار یا روک نہ ہو جس سے انسان گرنے سے بچے۔ سنة جالحة۔ قحط کا سال۔ ج۔ جوالج۔ الجوالج۔ روٹی کے مانند ایک شے جو بالنس کے سرے سے نکل کر اڑتی یا گرتی ہے۔ برف کے ٹکڑے جبکہ وہ ایک دوسرے پر گریں۔ المجالج۔ فا۔ شیر۔ (المجالج والمجلحة) جارے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ ج۔ مجالنج۔ المجالنج۔ وہ بربادی کے سال جو مال کو تباہ کر دیں۔ المجالج۔ پیٹو۔ بہت کھانے والا۔ طصائی سیرا۔ جلخ (ف) جلخا۔ السيل الوادی۔ سیلاب کا وادی کو پانی سے پر کر دینا۔ وادی کے اطراف کو کاٹنا۔ الشیء۔ کھینچنا۔ وراڈ کرنا۔ بہ۔ پچھاڑنا۔ جلخه بالسيف۔ گوشت میں سے کچھ کاٹ لینا۔ (ج۔ و جلخ) الموسی۔ اسرے کو تیز کرنا یا صیقل کرنا۔ أجلخ۔ الشیخ۔ بڑھے کا کمزور ہو کر ڈھیلے اعضاء والا ہونا۔ الجلخ۔ زبردست سیلاب۔ گہری وادی۔ جلده (من) جلدًا۔ بالسیاط۔ کوڑے مارنا۔ ع۔ علی الامو۔ کسی امر پر مجبور کرنا۔ بالأسمن۔ پچھاڑنا۔ زمین پر پٹکنا۔</p>
--	---	---

تَجَلَّزَ - يَلَا مَرُ - کسی کام کے لیے تیار ہونا۔ مستعد ہونا۔
 جَلَوَسٌ - بیدیں ییدی الامیر۔ امیر کے سامنے آنے جانے میں چستی دکھانا۔
 جَلَوُ - الیسنان۔ بھالے کے نیچے کا گول حلقہ۔
 الْجَلَّاسُ - کوڑے کے کنارے پر بندھا ہوا تسمہ۔ ج۔ جَلَّازٌ۔
 الْجَلَوْنَةُ - آمدورفت میں چستی پھرتی۔
 الْجَلَوَانُ - پولیس کا سپاہی۔ باوشاہ کے سامنے تیز تیز چلنے والا۔ ج۔ جَلَوْنَةٌ۔
 الْجَلَوْنُ - بڑے جسم والا۔ بہادر۔ الْمَجْلُونُ - محکم۔ مضبوط۔
 کہتے ہیں۔ فلان مجلوس العمل۔ فلان کام میں مضبوط و مشاق ہے۔
 جَلَسَ (رَضَ) جَلُوسًا وَ مَجْلَسًا - بیٹھا۔ صفت۔ (جَالِسٌ) ج۔ جُلُوسٌ وَ جُلَّاسٌ۔
 جَالَسَهُ مَجَالَسَةً - کسی کے سنگ ساتھ بیٹھا۔
 جَلَسَهُ وَ اجْلَسَهُ - بٹھانا۔
 تَجَالَسُوا - فِي الْمَحَاكِمِ - عدالتوں میں بیٹھ کر آپس میں بحث کرنا۔
 اسْتَجْلَسَهُ - بیٹھنے کو کہنا۔
 الْجَلْسَةُ - ایک بیٹھک۔
 الْجَلْسَةُ - بیٹھنے والے کی ہیئت۔
 الْجَلْسُ - بڑی سخت چٹان۔ بلند زمین۔
 جَمَلٌ جَلَسٌ - مضبوط اونٹ۔
 نَاقَةٌ جَلَسٌ - مضبوط اونٹنی۔
 شَهِدٌ جَلَسٌ - گاڑھا شہد۔
 الْجَلِيسُ - ج۔ جَلَسَاءٌ وَ جُلَّاسٌ۔
 رِجَالٌ وَ الْجَلِيسُ، ہم نشین۔

الْجُلْسَةُ - بہت بیٹھنے والا۔
 الْمَجْلِسُ - بیٹھنے کی جگہ۔ بیٹھنے والے۔
 اصحاب۔ کچھری۔ عدالت۔
 الْمَجْلِسَةُ - بیٹھنے کی جگہ۔
 جَلَطٌ - رَضَ، جَلَطًا - قسم کھانا۔
 جھوٹ بولنا۔
 الرَّأْسُ - سر موڑنا۔
 السَّيْفُ - تلوار سونٹنا۔
 الْجَلْدُ - کھال اتارنا۔
 يَسْلَحُهُ - بیٹھ کرنا۔
 الرَّجْلُ - البَعِيرُ - اونٹ کا تیز چلنا۔
 الشَّيْءُ - چیز کا پرانا ہونا۔ گھسنا۔
 جَالَطَهُ - ایک کا دوسرے سے فریب لکر کرنا۔
 اجْتَلَطَ - اچک لینا۔ جھپٹنا۔
 مَا فِي الْاِنَاءِ - پیالے میں جو کچھ ہے سب پی جانا۔ سب ڈکوس جانا۔
 الْجَلَطَةُ - وہی کی تھوڑی مقدار۔ یا بستر خون۔
 امْرَأَةٌ جَلُوطٌ - بے حیا عورت۔
 بے شرم عورت۔
 جَلِجٌ - (رَضَ) جَلَعًا - ہونٹوں کے بندھنے کی وجہ سے دانتوں کا کھلنا۔
 صفت (جَلِجٌ وَ اجْلَجٌ) مڑتے۔ جَلِجَةٌ وَ جَلَعَاءٌ۔
 جَلَعَتِ (رَضَ) جَلُوعًا - المِرَاةُ بے حیا ہونا۔ صفت (جَالِجٌ وَ جَالِجَةٌ)۔
 جَالِجٌ - القوم - لوگوں کا آپس میں جھگڑنا۔ اجد اول قول کہنا۔
 الرَّجْلُ - الشَّيْءُ - چیز کا کھل جانا۔
 مکشوف ہونا۔
 الْجَالِجُ - مسافر۔ بے حیا۔
 الْجَلْعَةُ - ہنسنے کے وقت دانت

کھنے کی جگہ۔
 کہتے ہیں۔ فلان لطيف الْجَلْعَةُ۔
 الْجَلْعَمُ - بے حیا۔
 اجْلَعَبْتُ وَ اجْلَعَدْتُ - لیٹنا۔ بستر پر دراز ہونا۔
 الْجَلْعَدُ - سخت و مضبوط۔ الْجَلَّاعِدُ - من الیہل - سخت مضبوط۔
 ج۔ جَلَّاعِدٌ۔
 جَلَعَهُ (رَضَ) جَلَعًا - بالسَّيْفِ - تلوار سے ٹکڑے کرنا۔
 جَالِجٌ - تلوار سے مقابلہ کرنا۔
 جَلَفَهُ (رَضَ) جُلْفًا - گھرنے۔
 کہتے ہیں۔ جَلَفَ الطين عَنِ الْحَجَرِ - اس نے مٹی کو پتھر سے کھرچ ڈالا۔
 الظَّفَرُ - ناخن بڑے اکھیرنا۔
 ۵۔ بالسَّيْفِ - گوشت کا ٹکڑا۔ تلوار سے کاٹ لینا۔
 ۶۔ الدهرُ - زمانہ کا کسی کو تباہ کر دینا۔
 جَلَفَ (رَضَ) جَلْفًا وَ جَلَّافَةً - اجڈ ہونا۔ اکھڑ ہونا۔
 جَلَفَ - الويلُ اَمْوَالِهِمْ نابود کرنا۔ تباہ کرنا۔
 تَجَلَّفَ - دہلا ہونا۔ کمزور ہونا۔
 اجْتَلَفَهُ - بڑے اکھیرنا۔ بیخ کنی کرنا۔
 ۵۔ الدهرُ - زمانہ کا کسی کو تباہ و برباد کرنا۔
 الْجَلْفُ - اکھڑ۔ اجڈ۔ بیوقوف۔ خالی۔
 مٹکا۔ برتن۔ سر جڈا کیا ہوا دھڑ۔
 روٹی کی کور۔
 ج۔ اجلاف۔ و جُلُوفٌ۔
 الْجَلِيفُ - کھڑا ہوا۔ اجڈ۔ اکھڑ نظام۔
 مڑتے۔ جَلِيفَةٌ۔
 کہا جاتا ہے۔ واصابتم جَلِيفَةً

(۱) جَلَوًا بِتَقْلِيْبِ الْجِيْدِ .
 و جَلَاءً وَاجْتَلَى .
 العروس علی زوجها . و لسن
 کا بناؤ سنگار کر کے اس کو اس کے
 خاوند کے پاس پیش کرنا .
 جَلَان (ن) رَجَلَى . الزوج عدوسَة
 ہدیہ . شب زفاف میں خاوند
 کا اپنی و لسن کو ہدیہ دینا .
 جَبَلِي (س) جَبَلَى . سر کے اگلے حصہ
 کے بالوں کا اڑ جانا .
 صفت . (اجلی) . مونث
 جَلَوَاء .
 جَبَهَاءُ جَلَوَاء . کشادہ پیشانی
 جَلَى . فلانا و عن فلانا الامر .
 کسی کی مصیبت کو رفع کرنا .
 جَلَى بِنظَرِهِ . نظر ڈالنا .
 کہا جاتا ہے "جَلَى البانئ" یعنی
 باز نے سر اونچا کر کے شکار کو
 دیکھا .
 عن مميوه . دل کی بات کی
 ترجمانی کرنا . ما في الضمير كذا ظاہر
 کرنا .
 جالی . فلانا بالامر . دوسرے
 کے سامنے کوئی امر ظاہر کرنا . کلم
 کھلا کرنا .
 آجلی . عن بلدہ . اپنے شہر سے
 نکلنا .
 اجلاہ عن بلدہ . کسی کو اس کے
 شہر سے نکالنا .
 الرجل منزله . کسی شخص کا
 اپنے گھر کو خوف کے باعث چھوڑ
 دینا .
 کہا جاتا ہے "اجلوا عن القتل"
 وہ مقتول کو چھوڑ بھاگے .
 تَجَلَى . تَجَلَّى . الشئ . چیز کا اچھی طرح

ظاہر ہونا .
 المكان . گھر پر چڑھ جانا .
 الشئ . کسی چیز کو گردن بند کر
 کے دیکھنا .
 تجالی . القوم . ہر ایک کا حال دوسرے
 پر کھل جانا .
 انجلی . ظاہر ہونا .
 کہتے ہیں "انجلی العمد عن قلبی"
 میرے دل سے غم دور ہو گیا .
 اجتلی . الشئ . دیکھنا .
 العمامة . پگڑی کو پیشانی سے
 اٹھانا .
 النحل . شد نکالنے کے لیے
 دھواں کرنا .
 استجلی . الشئ . ظاہر کرنے کو کہنا .
 العدوس . و لسن کا آراستہ ہو کر
 خاوند کے سامنے جانا .
 اجلوی . اجلیلاً . الرجل .
 کسی کا ایک شہر سے دوسرے شہر
 کو جانا .
 الجلا . سر کے بالوں کے گرنے کی ابتدا .
 سر . ظہور .
 ابن جلا . کھلی چیز صبح . چاند .
 الجلاء . مص . واضح اور کھلا امر .
 کہتے ہیں "اقتت جلاء یومی"
 میں نے پورے دن اقامت کی .
 الجلاء . سر .
 الجلوة . شب زفاف میں شوہر کا
 اپنی و لسن کو دیا ہوا ہدیہ .
 الجالیة . مونث . الجالی .
 وہ مسافر لوگ جو اپنے وطن کو چھوڑ
 آئے ہوں . ذمی لوگ . جزیہ جو
 ذمیوں سے لیا جاتا ہے اور اس
 کا استعمال ہر قسم کے خراج کے
 لیے بھی ہے .

ج . جوالی . مفرد . جالی .
 الجلی . واضح . صیقل شدہ .
 مونث . جلیتہ .
 عین جلیتہ . دیدہ بینا .
 جلیتہ . الامر . معاملہ کی منکشف
 شدہ حقیقت . یعنی خبر .
 الاجلی . روشن . واضح . خوبصورت
 چہرہ والا . وہ شخص جس کے سر کے
 اگلے حصے سے بال اڑ گئے ہوں .
 مونث . جلواء .
 کہتے ہیں . فجلتہ من اجلاک
 ین . اس کو تمہاری وجہ سے کیا .
 ابن آجلی . صبح .
 المجلی . سر کا اگلا حصہ جس سے بال گر
 گئے ہوں . ج . مجالی .
 المجلوة . جس کی طرف دیکھا جائے .
 جلی (ض) جلیا . السیف . تلوار
 کو صیقل کرنا .
 جلی . الامر . کسی امر کو ظاہر کرنا .
 الفوس . گھوڑے کا میدان میں
 آگے نکل جانا .
 الجلی . چھت کا روشن دان .
 المجلی . میدان میں آگے رہنے والا
 الجلیان . کشف و اظہار .
 جلا دن . ض . جموماً .
 الماء . پانی کا بکثرت جمع ہونا .
 العظم . بڑی کا بہت بڑا گوشت
 ہونا .
 البسوا . کنویں کا زیادہ پانی والا ہونا
 صفت . (جموم)
 الفراق . فراق کا قریب ہونا .
 القوم . لوگوں کا آرام پانا ، اور
 زیادہ ہونا .
 (۱) جَمَامًا وَجَمَامًا
 وَجَمَامًا

الکيل - لابل بھر کرنا پنا۔

الماء - پانی کو جمع ہونے دینا۔

المکیال - پیمانہ کو چوٹی تک بھرنا۔

وَأَجْمَ وَأَجْمًا -

الفرس - گھوڑے کو کوتل چھوڑ دینا۔

جَمَمَ المکیال - پیمانہ کو چوٹی تک

بھرنا۔

(- وَتَجَمَّعَ)

النبت - روئیدگی کا بکثرت بڑھ

کر زمین کو دھک لینا۔

صفت جَمِيمٌ - ج. أجماء -

أجم - الامر - حاضر ہونا۔ قریب

آنا۔

الفراق - جدائی کا وقت قریب آنا

الماء - پانی کو جمع ہونے دینا۔

الفرس - گھوڑے کو سواری میں

استعمال نہ کرنا۔ کوتل چھوڑنا۔

اور اسی سے ہے۔ أجمہ نفسک

یومًا او یومین - یعنی ایک دو

دن جان کو آرام دو اور چلو پھرو

نہیں۔

استجم - الماء - پانی کا بکثرت

جمع ہونا۔

الاس من - زمین کا نبات اگانا۔

البتور - کتوں کو پانی بھر جانے

کے لیے چھوڑ دینا۔

کتے ہیں: "انی لاستجم قلبی

بشي من اللہو - یعنی میں اپنے

دل کو کھیل کود سے ہلاؤں گا۔

الجَم - مص - بڑی تعداد۔

کتے ہیں: "جاء واوجا غفیرا

وجم الغفیر وجم الغفیرة

والجم الغفیر یعنی شریف

ورفیل سب ہی آئے اور بڑی

تعداد میں آئے کہ کوئی بھی باقی

نہ رہا۔

الجَم من الماء - پانی کا بڑا حصہ۔

ج. جمام وجموم۔

الجمام - بتثلیث الجیم و الجمم

پیمانہ کے لبوں سے اوپر کا ماپ۔

کتے ہیں: "جمام القدح ماء"

پانی سے بھرا پیالہ۔

الجَم - بڑی تعداد۔

الجَمَة - بہت پانی والا کنواں۔ پانی

جمع ہونے کی جگہ۔

کہا جاتا ہے: "استق من جمعة

البتور" زیادہ پانی والے کنویں سے

پانی لو۔

الجَمَة والجَمَة - چیز کا بیشتر اور

بہت سا حصہ۔

کتے ہیں: "جاؤا فی جمعة کثیرة"

وہ بڑی تعداد میں آئے۔

والجَمَة - سر کے بالوں کی کثرت

لو سے نیچے تک کے بال۔

ج. جَم -

الجَمّ والجَمّان - لابل بھرا ہوا پیمانہ

الأجم - بے سینگ والا بیٹھا۔

مؤنث جماء - ج. جم -

بغیر نیزہ کے لڑنے والا۔

الحصن الاجم - بندی نہ رکھنے

والا قلعہ۔

الجماء - بھرا ہوا۔

کہا جاتا ہے: "امراء جماء العظام"

بہت موٹی عورت۔

ارض جماء - ہموار زمین۔

کتے ہیں جاؤا وجماء الغفیر

وجم الغفیرة - والجماء

الغفیرة - وجماء غفیرة

وبجماء الغفیر الخ - یعنی

سب کے سب آئے۔

المجمّ والمجمّ - سینہ۔

کتے ہیں: "هو رجب الجمّ" وہ

فراخ سینہ اور فراخ دل ہے۔

الجمّانی والمجمّ - وہ شخص جس کے

سر پر بہت بال ہوں۔

جمّی دس، جمّاً علیہ - کسی پر

غصہ ہونا۔

تجمّاً فی ثیابہ - اپنے کپڑوں میں

لپٹنا۔

القوم - قوم کا جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔

الجمّ والجمّاء -

جمجم جمجمة و تجمجم -

الكلام - کلام کو صاف نہ کہنا۔

کہا جاتا ہے: "تجمجم شین

الامر" وہ کام سے بچ گیا یا پیچھے

ہٹ گیا۔

وجمجم شیناً فی صدرہ -

اس نے اپنے سینہ میں چھپائے رکھا

اور اس کا پتہ نہ لگنے دیا۔

الجمجمة - سر کی کھوپڑی۔ کلہری کا

پیالہ۔ زمین شور میں کھدا ہو کر ڈال۔

ج. جماجم -

جمجم (ف) جمجماً و جمجماً و

جمجماً -

الفرس - گھوڑے کا منہ زوری کرنا

اور سوار کے قابو سے باہر نکلنا۔

نازمان ہونا - عورت کا خاوند کو چھوڑ

جانا۔ خود سر ہونا۔

صفت مذکر ومؤنث - (جامع)

بہر جموامیر -

اور اسی سے ہے: "جحت المرأة"

زوجها" یعنی عورت خاوند کو چھوڑ

کر اپنے میکہ جا بیٹی۔

وجمجم الرجل - آدمی کا خود سر

ہونا۔ خود رائے ہونا۔

کہتے ہیں "تحت المفازة بالقوم"

بیابان نے قوم کو طاق کے گھاٹ اتار

دیا۔ وجمع بفلان مراد ہے۔ یعنی

وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچا۔

الجُمُوح - لڑائی میں شکست خوردہ

لوگ۔ بے پھل والا تیر۔

ج۔ جَمَوح و جَمَوح -

فوسن (جموح) سرکش اور منہ

زور گھوڑا۔

رجل جموح - خود سر آدمی۔

جَمَح (ن) جَمَحًا - تکبر کرنا۔

صفت۔ (جامح) ج۔ جَمَح و

(جَمُوح و جَمِين)۔

جَافِحَة - مقابلہ پر فخر کرنا۔

جَمَدَن، جَمَدًا و جَمُودًا -

الماء - پانی کا جم جانا۔

الدم - خون کا خشک ہونا۔

جمدت يداه - بنجیل ہونا۔

عینہ - آنکھ کے آنسو کا بند ہونا۔

صفت (جماد و جمود و جمید)

العین - مؤنث۔ (جمود)

آجمد - بنجیل ہونا۔ کم بھلائی والا ہونا۔

ماہ جمادی میں داخل ہونا۔

کہتے ہیں "آجمد حقة عليه" یعنی

اس نے اپنا حق اس پر واجب ٹھہرایا

ثابت کیا۔

آجمدہ و جمدہ - جمانا۔

جامدہ مجامدہ - پڑوسی ہونا۔ پاس

پاس ہونا۔ قریب قریب ہونا۔

کہتے ہیں "هو جامدای" میرا اور

اس کا گھر پاس پاس ہیں۔ گھر سے

گھر ملا ہے۔

الجمد والجمد - جما ہوا پانی۔ برف۔

(— والجمد والجمد)

سخت و بلند زمین۔

الجماد - ج۔ جماد - زمین۔

سنة جماد - بے بارش کا سال۔

ارمئ جماد - وہ زمین جس پر

بارش نہ برسی ہو۔

ناقہ جماد - سست رفتار

اونٹنی۔

کما جاتا ہے: "فلان جماد الکت"

یعنی فلاں بخیل اور کنبوس ہے۔ و

الجماد - ج۔ جمادات والجماد

ج۔ جوامد - غیر جاندار شے۔ جیسے

پتھر وغیرہ۔ والفعل الجماد - وہ

فعل جس کی گردان نہیں ہوتی۔ جیسے

یس و عسی۔ و

جماد لہ - بنی برکسرہ - بخیل

کے حق میں بددعا ہے یعنی خدا کرے

وہ ہمیشہ اسی حال پر رہے۔

جمادی - الأولى - والأخيرة -

قمری مہینوں میں پانچواں اور چھٹا

مہینہ۔

ج۔ جمادیات - عین جمادی -

وہ آنکھ جو آنسو نہ ٹپکائے۔

جمد رض (جموا و جمرو و آجمد

و استجمر - القوم علی امر -

لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ جمع ہونا۔

جمد - چنگاری دینا۔

جمد القوم علی امر - کسی امر

پر قوم کا جمع کرنا۔

جمد النخل - درخت خرما کا

بجھار کا ٹٹا۔ دجمار دیکھیے،

اللحم - گوشت کو انگارے پر

رکھنا۔

الاموال القوم - کسی امر کا لوگوں

کو اکٹھے ہونے پر مجبور کرنا۔

المراة شعوها - عورت کا

اپنے بالوں کی چوٹی گوند کر پیچھے ڈالنا

آجمد - تیز چلنا۔

اور اسی سے ہے "اجمد بین

یدیدہ" وہ اس کے ساتھ تیز

تیز چلا۔

الثوب - کپڑے کو دھونی دینا۔

الناسا - آگ تیار کرنا۔

الاموال القوم - کسی امر کا عام ہونا۔

المراة - عورت کا چوٹی گوندھ کر

پیچھے ڈالنا۔

تجمرو - الجیش - فوج کا دشمن

کی سرزمین میں گھر جانا اور نہ لوٹ

سکنا۔

بالمجمرة - انگیٹھی سے دھونی دینا۔

القبائل - قبیلوں کا اکٹھا ہونا۔

اجمرو و استجمرو - بالمجمرة -

انگیٹھی سے دھونی دینا۔

الجمرة - الجمر - کا واحد - انگارہ

کنکری۔ وہ لوگ جو آپس میں ایک

دل ایک جی ہوں۔

کما جاتا ہے "بنو فلان جمرة"

یعنی فلاں کی اولاد اتفاق و اتحاد کے

رشتہ میں جکڑی ہوئی ہے۔

ج۔ جموات -

الجماسا - جماعت - متفق لوگ۔

جماری و جماری - سب کے سب

گل۔

کہتے ہیں "جاء القوم جماری"

یعنی قوم کے سب لوگ آئے۔

جاء القوم (جماسا) سب کے

سب آئے۔

الجماسا - والجماسا - درخت خرما

کا گوند جو چرنی سے مشابہ ہوتا ہے۔

اس کا واحد جمارة و جامورة ہے۔

ج۔ جمارات و جامورات -

الجمید - قوم کے اکٹھے ہونے کی جگہ۔

ابن جمیر۔ تیرہ و تار یک رات
جمیر الشعو۔ بالوں کی گندھی
ہوئی چوٹی۔

الجمیرة۔ بالوں کی زلف۔
الجمیرة والجمیر۔ انگلیٹی عودسوز
ج۔ رجاء مر۔ حافر (جمیر)
و مجمر، سخت گمر۔

جمز (ض) جمزاً۔ تیز دوڑنا۔
صفت۔ رجسنا، جمزہ۔
کسی سے تمخر اور طٹھا کرنا۔

الجمزای۔ تیز چال۔ ڈکی۔
کتے ہیں۔ "یعد والجمزای" وہ
تیز دوڑتا ہے۔ حنا س جمزای
ڈکی چلنے والا گدھا۔

الجمزۃ۔ وہ پہلی جس میں دانہ ہوتا ہے
ج۔ جمز۔

الجمیز والجمیزای۔ گولر کا درخت
واحد۔ جمیزۃ۔

جمس و جمس دن، جموسا۔
السمن گمی کا جم جانا۔

الجماس۔ فا۔ نبات جامس۔
مرجانی ہوئی گھاس۔

دمر جمیس، خشک خون۔
الجمست۔ ایک قسم کا قیمتی پتھر

الجاموس۔ بھینس۔
ج۔ جوامیس۔

جمش۔ دن ص، جمشا۔
الرأس۔ سر موڈنا۔

اور اسی سے ہے۔
مکان (جمیش) روئیدگی سے

خالی جگہ۔
جمش الناقۃ۔ انگلیوں کے

پوروں سے اونٹنی کو دوہنا۔
جمشہ۔ چٹکی لینا۔ کھیل کھیلنا۔

الجمش۔ مص۔ آہستہ آواز

الجموش والجمیش۔ بال گرنے
کی مرکب دوا۔

جمع دف، جمعا۔ المتفرق۔
جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔

کتے ہیں۔ "جمعت الجمعة"
یعنی جمعہ کی نماز کھڑی کی گئی۔

جمع جم کرنا دشمنی بالذمہ کے لیے
ہے۔

المسلم۔ جمعہ کی نماز میں شریک
ہونا۔

جامعہ جامعۃ وجماعاً۔
علی کذا۔ کسی بات پر اتفاق کرنا

موافقت کرنا۔
جامعہ۔ عورت سے ہم بستری

کرنا۔
اجمع۔ القوم علی کذا۔ اتفاق کرنا

ماکان متفرقاً۔ متفرق اور
بکھری چیز کو یکجا کرنا۔

الامر و علی الامر۔ پختہ ارادہ
کرنا۔

الابل۔ اونٹوں کو اکٹھے ہانکنا۔
اجتمع۔ الغلام۔ لڑکے کا جوان و

قوی ہونا۔ طاقت ور ہونا۔
عورتوں کے لیے یہ مستعمل نہیں۔

د۔ و جمع، القوم۔
قوم کا یکجا ہونا۔ اکٹھا ہونا۔

الشیخ المتفرق۔ متفرق اور
بکھری چیز کا اکٹھا کرنا۔

الجمع۔ الشیخ۔ چیز کے اجزاء
یا افراد کا یکجا جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔

استجمع۔ لہ الامر۔ کام کا کسی
کی مشاورت کے مطابق تکمیل پانا۔

القوم۔ پوری قوم کا چلا جانا۔
البقل۔ سبزی ترکاری کا خشک

ہونا۔

القرس جویا۔ گھوڑے کا پوری
طاقت سے دوڑنا۔

الجمع۔ مص۔ لوگوں کی جماعت۔
ج۔ جموع۔ یوم الجمع۔

قیامت کا دن۔
جمع۔ الکف۔ مٹھی۔

کتے ہیں۔ "ضربتہ جمع کفنی"
میں نے اس کو کتے سے مارا۔ مٹھی بھر

چیز۔ ج۔ اجتماع۔
الجمعة۔ ہفتہ۔

کتے ہیں۔ "استاجر الاحبیر"
جامعۃ" یعنی اس نے مزدور کو

ہفتہ واری پر رکھا۔ جس طرح
مشاہرۃ۔ نا مانہ کے معنی میں

آتا ہے۔ اجتماع۔ دوستی۔
جمعة من تیر۔ مٹھی بھر کھجور۔

د۔ والجمعة، ہفتہ کا
ساتواں دن۔ ج۔ جمع و

جمعات۔
الجماعة۔ آدمیوں کا گروہ۔

ج۔ جماعات۔
الجماعات والجماعات۔ چٹنی

وغیرہ کا رجسٹر۔
الجماع۔ مص۔ جماع الشیخ۔ کسی چیز

کی جمع۔
کتے ہیں جماع الحیا الاحیة۔

یعنی خیماء کی جمع اخییة۔ آتی
ہے

والخمیر جماع الاثم۔ یہی خراب
ہر قسم کے گناہوں کو اپنے اندر جمع

رکتی ہے۔
قدراً جماع۔ بڑی دیک۔

الجامع۔ فا۔ جامع مسجد۔ جوامع۔
الکلاء۔ الجامع۔ وہ کلام جس

کے الفاظ کم ہوں مگر مطلب بہت ہو

<p>فی الطلب . طلب میں میاں رومی سے کام لینا۔ القوم۔ لوگوں کے پاس اونٹوں کی کثرت ہونا۔ تَجَمَّل۔ آراستہ ہونا۔ خوبصورت ہونا۔ مصائب زمانہ پر صبر کرنا اور ذلت ظاہر نہ ہونے دینا۔ حیا کونہ چھوڑنا۔ اور بری جزع فزع سے دامن کو بچائے رکھنا۔ پگھلی ہوئی چربی کھانا۔ فی الكلام۔ لطف و مہربانی سے گفتگو کرنا۔ استَجَمَل۔ البعید۔ اونٹ کا جوان ہونا۔ الشیء۔ کسی شے کو خوبصورت سمجھنا۔ الجَمَلُ۔ اونٹ۔ ج۔ جمال۔ وَأَجْمَالٌ وَجُمُلٌ وَجَمَالَةٌ۔ بتثلیث الجیم۔ وجہ۔ جمالات۔ بتثلیث الجیم۔ وجمائل۔ جمل کا اطلاق اونٹنی پر شاذ و نادر ہوتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں۔ شربت لبین جملی۔ میں نے اپنی اونٹنی کا دودھ پیا۔ جَمَلُ الْيَهُودِ۔ گرگٹ۔ جمل الماء۔ لمبی چونچ والا ایک آبی پرندہ۔ کما جاتاہ۔ اتخذ اللیل جَمَلًا۔ یعنی ساری رات چلتا رہا۔ الجَمَلُ وَالْجُمُلُ وَالْجَمَلُ وَالْجَمَلُ وَالْجَمَالَةُ۔ موٹی رسی۔ جَمَلُ الْجَمَلِ۔ حروف ابجد کا حساب جو اکثر تاریخیں نکالنے میں شاعر شعروں میں استعمال کرتے ہیں</p>	<p>ہو جائے اور بیٹھنے کے خوف سے لوگ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں امْرًا مُجْمِعًا۔ متفق فیہ امر۔ امْرًا مُجْمِعًا۔ قطعی معاملہ۔ الْمَجْمُوع۔ منع۔ وہ کتاب جس میں مختلف چیزیں جمع کی گئی ہوں۔ مثلاً اشعار و قصص وغیرہ۔ ج۔ تجامیع۔ نحو یوں کے نزدیک اس کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے۔ الْجَامِئِيَّةُ۔ ج۔ جامکیات و (الْجَوَامِكُ) ج۔ جوامیک۔ سول اور فوج کی تنخواہ۔ جَمَلٌ (ن) جَمَلًا۔ الشئیء۔ جمع کرنا۔ (— و اجمل) الشحہ۔ چربی پگھلانا۔ جَمَلٌ (ك) جَمَلًا۔ خوش صورت خوش سیرت ہونا۔ صفت (جمیل) مَوْنٌ۔ جَمِيلَةٌ۔ جَمَلٌ۔ خوبصورت بنانا۔ جَمَلُ الشَّحْمِ۔ چربی پگھلانا۔ الجیش۔ فوج کو دیر تک روکے رکھنا۔ جَامِلَةٌ۔ خوش معاملگی سے پیش آنا۔ تواضع کرنا۔ أَجْمَلُ الشئیء۔ جمع کرنا۔ بطور اجمال ذکر کرنا۔ کہتے ہیں۔ "أَجْمَلُ الْحَسَابِ وَالْكَلامُ ثُمَّ فَضْلُهُ وَبَيِّنُهُ" یعنی اس نے پہلے حساب و کلام کو مجملاً بیان کیا۔ پھر اس کی تفصیل کی۔ الشیء۔ خوب صورت بنانا۔ زیادہ کرنا۔ الشحہ۔ چربی پگھلانا۔ فی العمل۔ کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینا۔</p>	<p>ج۔ جوامع۔ اليومُ الجامع۔ جمع کا دن۔ قَدْ رُجِيَ مَعًا۔ ویک۔ ابو جَامِعٍ۔ دسترخوان کی کنیت الْجَامِعَةُ۔ مَوْنٌ الْجَامِعِ۔ تعلق طوق۔ قَدْ رُجِيَ مَعًا۔ بڑی ویک۔ الجمیع۔ لوگوں کی جماعت۔ جمع کی ہوئی شے۔ لشکر۔ تاکید کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ جَاؤُا جَمِيعُهُمْ وَهَسْبُكَ سَبَّ آتَى۔ سراپی جمیع۔ ٹھیک اور کھلی رائے الجمیعة۔ اجتماع۔ ج۔ جماع۔ أَجْمَعُ۔ یہ الفاظ تاکید میں سے ہے اور ہر اس شے کی تاکید کے لیے آتا ہے جس کا افتراق جشا یا کما جائز ہو۔ مثلاً کہتے ہیں۔ جَاؤُا أَجْمَعُهُمْ وَبَا جَمِيعِهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ۔ یعنی وہ سب کے سب آگئے۔ مَوْنٌ جَمَاءً۔ ج۔ أَجْمَعُونَ۔ الْمَجْمُوعِ۔ فا۔ کہتے ہیں۔ رَجُلٌ مَجْمُوعٌ۔ جوان۔ ومشی مجتمعا۔ یعنی وہ بدن کو سنبھالے ہوئے پوری طاقت سے تیز تیز چلا۔ الْمَجْمُوعِ۔ جمع ہونے یا جمع کرنے کی جگہ اکاڈمی۔ کہتے ہیں۔ "أَخَذْتُ مَحَبَّتَهُ بِمَجْمُوعِ قَلْبِي" یعنی اس کی محبت میرے دل کے ریشہ ریشہ میں پیوست ہو گئی۔ ارضی رَجْمَعَةً وَجُمُوعَةً وَجُمُوعَةً۔ وہ جگہ جس میں قافلہ اکٹھا</p>
--	--	---

اس کو حساب الالبجیدہ بھی کہتے ہیں۔
 الْجَامِل - فا۔ اونٹوں کا ریوڑ مع ان کے چرواہوں کے۔
 البنت - اونٹوں کا مالک۔
 الْجَمَال - اونٹ کا مالک یا ساربان۔
 ج۔ جَمَالَة
 الْجَمَال - خوبصورت یا خوبصورت سے زیادہ خوبصورت۔
 الْجَمَال - حسن۔
 کہتے ہیں "جمالک ان لا تفعل کذا" یعنی تمہارے لیے یہی زیبا ہے کہ ایسا نہ کرو۔
 الْجُمَّلَة - مجموعہ۔ وہ کلام جو مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہو۔
 ج۔ جُمَّل۔
 الْجُمَّل - لوگوں کا گروہ۔
 الْجَمِيل - احسان۔ نیکی۔ پگھلی ہوئی چربی۔
 الْجَمَلَاء - حسین عورت (اس کے لیے افعال کا صیغہ نہیں آتا۔ جس طرح دیمة ہطلاء میں اھطل کا صیغہ نہیں)۔
 الْجَمَان - موتی، واحد۔ جَمَانَة۔
 جَمَهْر - جَمَهْرَة - الشیء جمع کرنا۔ اکثر حصہ لینا۔
 علیہ الخبر۔ تھوڑی سی خبر دینا اور مقصود کو پوشیدہ رکھنا۔
 (۔ و تَجْمَهْر) القوم۔ اکٹھا ہونا۔
 کہا جاتا ہے "تجمہر علینا" اس نے ہماری حقارت کر کے ہم پر زیادتی کی۔
 الْجَمْهُوس - بہت ریت تہ بہ تہ۔ قوم کے شرفاء اور ذمی مرتبہ لوگ لوگوں کا گروہ۔ چیز کا اکثر حصہ۔

ج۔ جَمَاهِر۔
 الْجَمْهُورِی - جمہور کی طرف منسوب نشہ آور شراب۔
 الْجَمْهُورِیَّة - وہ قوم یا ملک جس کا صدر ایک مقررہ مدت کے لیے عام مخلوق کی رائے سے چنا گیا ہو رسی پبلک۔
 الْمَجْمُورَات - ایام جاہلیت کے سات چیدہ قصا جن کا مرتبہ سبج معلقات کے بعد شمار ہوتا ہے۔
 الْجَمَا وَالْجَمَا - ابھرا ہوا پتھر۔ جسم کا اٹھا ہوا حصہ۔ جیسے پستان۔
 جَمِی - (ض، جَمِیًا۔ الماء۔ پانی کا بہت ہونا۔
 تَجَمَّی - القوم۔ لوگوں کا اکٹھا ہونا۔
 جَمَاءٌ وَجَمَاءٌ وَجَمَاءَةٌ - الشیء - چیز کا حجم۔ جسم۔
 جَمَّ - (ن، جَمًّا وَجَمُّوْنَا - اللیل۔ الشیء وَعَلَيْهِ۔ ڈھانپنا۔
 چھپانا۔ د۔ جَمًّا وَجَمُّوْنَا وَجَمَّوْنَا،
 اللیل۔ رات کا تاریک ہونا۔
 (ض، جَمًّا) الجنین فی الرحمہ۔ بچہ کا رحم میں چھپ جانا۔
 جَمَّ (ن، جَمًّا وَجَمُّوْنَا۔ پاگل و دیوانہ ہونا۔ صفت و مجنون)۔
 ج۔ تَجَمَّی - چھپنا۔
 الاسرعی۔ زمین کا پھول اگانا۔
 النبت۔ سبزہ کا دراز اور گنجان ہونا۔
 الذباب۔ مکھیوں کا بہت بھینٹانا۔
 کہا جاتا ہے "جَمَّ الذباب بالروض" سبزہ کو دیکھ کر مکھیاں

مستی سے بھینٹا رہی ہیں۔
 آجَنّ عنہ۔ کسی سے چھپنا۔ پوشیدہ ہونا۔ آجَنّہ اللیل۔ رات کا کسی کو چھپانا۔ ڈھانپ لینا۔
 آجَبّ المیت۔ مردہ کو کفنانا و فنانا۔
 رَآجَنّہ وَجَنّہ۔ دیوانہ بنانا۔
 تَجَمَّنَ وَاسْتَجَمَّنَ - مجنون ہونا۔
 تَجَانَّ وَتَجَانَّنَ - بتکلف دیوانہ بنا۔
 آجَتَنّ۔ الشیء۔ چھپانا۔
 (۔ و اسْتَجَمَّنَ)۔ چھپنا۔
 وَاَسْتَجَمَّنَ فَلَئِنَا۔ کسی کو کھیل اور طرب کی طرف بلانا۔
 مَا آجَنّہ۔ وہ کس قدر مجنون ہے فعل تعجب ہے مگر شاذ ہے۔ کیونکہ یہ مفعول کے معنی میں ہے اور فعل تعجب فاعلی معنی دیتا ہے۔
 الْحِیْنُ وَالْحِیْنَةُ - جن۔ پری۔ دیو۔ واحد حِنّی۔ موتی چینیٹہ۔
 الْحِیْنَةُ - جنوں۔ دیوانگی۔
 الْحِیْنَةُ وَالْحِیْنُ مِنَ الشَّبَابِ - عنفوان جوانی۔ آغاز شباب۔
 مِنَ النبت۔ پودہ کی پھول چنّ اللیل۔ رات کی تاریکی۔
 حِنّ الناس۔ لوگوں کی بڑی جماعت کہتے ہیں "لا حِنّ بطنی الا لہم" یعنی اس امر میں کوئی ہوشیار نہیں۔
 الْجَانّ - فا۔ جن کا اسم جمع۔
 ج۔ حِنّان۔
 الْحِیْنَةُ - درختوں سے ہر اہر باغ۔ باغ ارضی ہو یا سماوی۔
 ج۔ حِنّان و حِنّات۔
 الْحِیْنَةُ - پردہ۔ ج۔ حِنّان۔
 (۔ و اَلْحِیْنُ وَالْحِیْنَةُ)۔

ہتھیاروں سے بچاؤ کی چیز ڈھال

جہ۔ مَجَانٌ۔

کہتے ہیں: "قَلْبٌ مَجْتَهٌ" یعنی اس نے حیا و شرم کو بالائے طاق رکھا اور خود لرٹے ہو گیا۔

وَقَلْبٌ لَهُ ظَهْرٌ الِیْجَنِّ۔ اس نے اس کی دوستی چھوڑ کر دشمنی اختیار کر لی۔

الْجَنُّنُ۔ قبر میت۔ کفن۔

جہ۔ اَجْتَانٌ۔

الْجُنَانُ وَالْجُنَانَةُ۔ ڈھال۔

الْجَنَانُ۔ دل۔ رات یا اس کی سخت

تاریکی۔ ایک مخفی امر۔

مَنْ كَلَّ شَيْءٌ۔ ہر شے کا جوف۔

جہ۔ اَجْتَانٌ۔

الْجُنُونُ وَالْجُنُونُ وَالْجُنَّةُ۔ دیوانگی۔

الْجَنِينُ۔ ہر پوشیدہ شے۔ قبر مدفون

بچہ جب تک رحم میں رہے۔

جہ۔ اَجْتَهٌ وَاَجْتُنٌ۔

الْمَجْتَهَةُ۔ جنون والی زمین۔ جنون۔

کہتے ہیں: "بِهَ مَجْتَهَةٍ" اس میں

دیوانگی ہے۔ چھنے کی جگہ۔

جَنِيٌّ (س) جَنَاءٌ۔ کبڑا ہونا۔

صفت (اَجْتَاءٌ)۔ مؤنث

جَنْتَاءٌ۔

جَنْتَاءٌ (ف) جَنْوَعًا وَاَجْتَاءٌ۔

اِجْتَاءٌ وَاَجْتَاءٌ مُجَانًا ج۔

وَاَجْتَاءٌ وَاَجْتَاءٌ تَجَانُوعًا

علیہ کسی کو مار سے بچانے کے

لیے اس پر اوندھا ہونا۔

جَنْبَهُ (ن) جَنْبًا۔ دفع کرنا۔

ہٹانا۔ دور کرنا۔ پہلو پر مارنا۔

کہتے ہیں: "ضَرْبَهُ فَجَنْبَهُ" اس

نے اس کے پہلو پر مارا۔

جَنْبَهُ الشَّيْءُ۔ کسی سے کوئی چیز

دور کرنا۔

(س) جَنْبًا وَمَجْنَبًا۔

الْبَعِيْرُ۔ اونٹ کو کول لے جانا۔

صفت مفعول (جَنْبٌ وَجَنْبٌ

وَمَجْنُوبٌ)۔ مؤنث جنیبہ۔

کہتے ہیں: "فَوْسٌ جَنْبٌ وَحَيْلٌ

جَنَابٌ۔ (س) جنو جا،

الريحُ۔ جنوبی ہوا کا چلنا۔

جَنْبٌ (ن) جَنْبًا وَجَنْبٌ (س) جَنْبًا۔

إِلَيْهِ۔ کسی کی طرف مائل ہونا۔

مشتاق اور بے چین ہونا۔

جَنْبٌ (ن) س۔ من جَنْابَةٌ۔

الرجلُ۔ ناپاک ہونا۔

جَنْبٌ۔ درد پہلو میں مبتلا ہونا۔ مؤنث

ہونا۔ صفت (مَجْنُوبٌ)

(س) وَاَجْتَبَ وَاَجْتَبَ

القوم۔ جنوبی ہوا لگانا۔

جَنْبَهُ وَتَجَنْبَهُ وَتَجَانِبَهُ

وَاَجْتَنِبَهُ۔ درد ہونا۔

جَنْبَهُ الشَّيْءُ۔ کسی سے کوئی چیز

دور کرنا۔

جَانِبَهُ۔ پہلو میں چلنا۔

اَجْتَبَهُ۔ دور کرنا۔

اَجْتَبَ الرَّجُلُ۔ کسی کا دور ہونا۔

اِسْتَجْتَبَ۔ جنب ہونا۔ ناپاک ہونا۔

الْجَنْبُ۔ مصدر جہ۔ اَجْتَابَ۔

وَجَنْوَبٌ۔ پہلو۔ طرف۔ جانب

کہتے ہیں: "قَعْدَتُ اِلَى جَنْبِ

فُلَانٍ وَاِلَى جَانِبِهِ وَجَانِبُهُ"

میں فلاں کے پہلو میں یا اس کی جانب

میں بیٹھا۔

جَارُ الْجَنْبِ۔ قریبی ہمسایہ۔

ذَاتُ الْجَنْبِ۔ مؤنث۔

الْجَنْبُ۔ مصدر جہ۔ لنگڑا پن۔

الْجَنْبُ۔ نافرمان۔ ماسفر۔ اجنبی

ناپاک۔ مجنبی۔ واحد تثنیہ۔ جمع

مذکر مؤنث۔ سب کے لیے یہی

مستعمل ہوتا ہے۔

الجاسر الجَنْبُ۔ اجنبی ہمسایہ۔

الْجَنْبُ۔ گوشہ نشین۔ کنارہ کش۔

اجنبی مسافر۔

الْجَنْبَةُ۔ گوشہ نشینی۔ جانب۔

الْجَنْبَةُ۔ من النبات۔ برودہ پروا

جو سبزی سے بڑا اور درخت سے

چھوٹا ہو۔

جہ۔ جَنْبٌ۔ جَنْبَتَا الْاَلْفِ و

جَنْبَتَا وَجَنْبَتَا۔ ناک کے

دونوں طرف۔

الْجَنْبَةُ۔ وہ چیز جس سے بچا جائے۔

الجانبُ۔ فا۔ جو مطیع و فرمانبردار

نہ ہو۔ مسافر۔ وہ گھوڑا جس کے

پاؤں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ ہو

جہ۔ جَنْابٌ۔ انسان کا پہلو۔

گوشہ۔ جانب۔ جہ۔ جَوَانِبُ۔

کما جاتا ہے۔ "هُوَ لَيْتُنُ الْجَانِبُ"

وہ تربیت پذیر ہے۔ مان لینے

والا ہے۔

هُوَ رَقِيقُ الْجَانِبِ۔ وہ لطیف

ہے۔

الْجَنْابُ۔ صحن۔ گوشہ۔ جو محلہ قوم کے

قریب ہو۔

کہتے ہیں: "اَخْصَبَ جَنْابُ الْقَوْمِ"

قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔

فُلَانٌ خَصِيبُ الْجَنْابِ او

جَدِيبٌ۔ فلاں سرسبز ہے یا قحط زدہ

ہے۔ جہ۔ اَجْتَبَهُ۔

الْجَنْابُ۔ جَانِبٌ۔ کا مصدر۔

کہتے ہیں: "فَوْسٌ طَوَّعَ الْجَنْابُ"

جلد رام ہونے والا گھوڑا۔

الْجَنْوَبُ۔ دکھن۔ دکھنی ہوا۔ جہ۔

<p>جمع شدہ لشکر۔ تَجَنَّدَ - فوجی سپاہی ہونا۔ لشکر میا کرنا۔ للا امر کسی کام کے لیے فارغ ہونا۔ الجُنْد - لشکر۔ فوج۔ ج - أَحْنَادٌ وَجُنُودٌ۔ واحد حندی۔ الجُنْد - شہر۔ ج۔ اَجْنَد اجناد الشام۔ دمشق۔ حصہ قنسرین۔ دن فسبیل الجُنْد - سخت زمین۔ مٹی سے مشابہ پتھر۔ الجُنْد اس - محافظ فوج۔ باڈی گارڈ۔ ج۔ جُنَادِ سَمَاءَ۔ جُنْد سَمَاءَ - کتاب۔ کتاب کے مٹے ہوئے حصے پر قلم پھیر کر حروف کو ابھارنا۔ روشن کرنا۔ الجُنْدَاب - والجُنْدَاب - ایک قسم کی بڑی۔ عام لوگ اس کو قبوط کہتے ہیں۔ ج۔ جُنَادِب۔ جُنْدَلَه - پھارنہ الجُنْدَال - بڑی چٹان۔ واحد جُنْدَلَه - ج۔ جُنَادِل۔ جُنْدَه - دھن، جُنْدَا - چھانا۔ جمع کرنا۔ جُنُودٌ - مرکز تابوت میں رکھا جانا۔ جُنُودٌ - المیت - میت کو تابوت میں رکھنا۔ الجُنَادِ سَمَاءَ - والجُنَادِ سَمَاءَ - میت۔ میت کا تابوت۔ میت کے دفن میں شریک ہونے والے لوگ۔ مجلس ماتم۔ شراب کی مہک۔ ج۔ جُنَادِ سَمَاءَ۔ الجُنَادِ سَمَاءَ - مردوں کے آگے آگے پڑھنے والا۔ الجُنَادِ سَمَاءَ - والجُنَادِ سَمَاءَ - تانبے کا</p>	<p>الیہ - مائل ہونا۔ أَجْنَعَهُ وَأَسْتَجْنَعَهُ - جھکانا مائل کرنا۔ تَجَّحَّجَ وَاجْتَنَحَ - ایک پہلو پر جھکانا۔ الجُنُحُ - کنارہ۔ پناہ۔ الجُنُحُ وَالْجُنُحُ - من الليل۔ رات کا ایک حصہ۔ جِنِحِ الطَّرِيقِ - راستہ کی ایک جانب۔ الْجَنَاح - پرند کا بازو۔ من الانسان - انسان کا ہاتھ۔ بغل - بازو اور پہلو۔ پناہ۔ اور اسی سے ہے "انا فی جناح فلان" میں فلاں کے سایہ عاطفت میں ہوں۔ کنارہ۔ چیز کا ایک حصہ۔ ج۔ أَجْنَحٌ وَاجْنِحَةٌ۔ کہتے ہیں۔ "رکبوا جناحی الطائر" یعنی وہ اپنے وطن سے بے وطن ہوئے۔ رکب جناحی النعامة - اس نے اس معاملہ میں بڑی کوشش اور عجلت سے کام لیا۔ وہو مقصود الجناح - وہ عاجز وناکار ہے۔ الْجَنَاح - گناہ۔ اور اسی سے ہے لَا جَنَاحَ عَلَیْكَ - تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ چیز کا ایک حصہ۔ الْجَانِح - فا۔ جانب۔ ج۔ جَوَانِح۔ الْجَوَانِح - پسلیاں۔ واحد الْجَانِحَةُ۔ جُنْدٌ - الْجُنُودٌ - فوج بھرتی کرنا۔ کہتے ہیں۔ "جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ"</p>	<p>جَنَائِبُ - الْحَنِيبُ - نمونہ کا بیمار۔ ہر مریض و فرما نبروار۔ الْحَنِيبَةُ - کوتل گھوڑا۔ الْجُنَابُ - پہلو میں چلنے والا ساتھی۔ الْأَجْنِبُ - ج۔ آجَائِبُ - نافرمان۔ الاجنب والاجنبی - مسافر۔ الْمَجْنِبُ - بہت خیر ہو یا شہر۔ کہتے ہیں۔ "إِن عِنْدَنَا خَيْرًا مَجْنِبًا وَشَرًّا مَجْنِبًا" ہمارے نزدیک بہت خیر اور بہت شر ہے الْمَجْنِبُ - پرودہ۔ ڈھال۔ الْمَجْنِبَةُ - فوج کا ہراول۔ الْمَجْنِبَتَانِ - من الجیش - فوج کا دایاں اور بائیں بازو۔ تَجَنَّثَ - الرجل - غیر قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرنا۔ علیہ - کسی سے محبت کرنا۔ مہربانی وشفقت کرنا۔ الطائر - پرند کا بازو پھیلا کر بیٹھنا۔ الْجُنْثَى - عمدہ لوہا۔ تلوار۔ ج۔ جُنْثِيَّةٌ۔ جَنَحَ (ف ن ض) جُنُوحًا - الیہ - مائل ہونا۔ السَّفِينَةُ - کشتی کا پتے پانی میں پہنچ کر زمین سے لگ جانا۔ اللَّيْلُ - رات کا آجانا۔ (ض) جَنَحًا، الطائر - پرندہ کے بازو پر مارنا۔ جَنَحَهُ - بازو مارنا۔ الرجل - کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا۔ أَجْنَحَ - وَاجْتَنَحَ وَأَسْتَجْنَحَ</p>
--	---	--

<p>الذهب۔ سونے کوکان سے نکالنا۔ (جَنَابِيَّةٌ) گناہ کرنا۔ صفت (جان، ج۔ جَنَابَةٌ و آجَنَاءٌ۔ وِجَنَاءٌ مؤنث۔ جَانِيَةٌ۔ ج۔ جَوَانِ وِجَانِيَّاتٍ۔ آجَنِيٌّ۔ الشَّجَرُ۔ درخت کا پکے ہوئے پھل لانا۔ اجنت الاسراض۔ زمین کا زیادہ پھل والی یا زیادہ پیداوار والی ہونا۔ زر خیز ہونا۔ جَانِيٌّ۔ جَانَانَةٌ و تَجَنِّيٌّ۔ علیہ۔ کسی کو ناکردہ گناہ سے مٹھ کرنا۔ (تَجَنِّيٌّ و آجَتَنِيٌّ) الثَّمَرُ۔ پھل چننا۔ تَوَدُّنًا۔ اجنتی ماء المطر۔ گھاٹ پر آکر پانی پینا۔ الجَنِيٌّ۔ چنا ہوا۔ خواہ وہ پھل ہو یا سونا یا شہد وغیرہ۔ ج۔ آجَنَاءٌ۔ و آجِنِ۔ ثمر (جِنِيٌّ) تازہ چنا ہوا پھل۔ ابھی کا توڑا ہوا پھل۔ الجَنَابَةُ۔ ہر چنی ہوئی شے۔ الجَنَابِيَّةُ۔ گناہ۔ قصور۔ ریشم کا کپڑا۔ المَجَنِّيُّ۔ مصدر میمی۔ وہ جگہ جہاں سے پھل چنا جائے۔ جس سے پھل توڑا جائے۔ جیسے درخت وغیرہ۔ ج۔ مَجَانِ۔ الجَنَابِيَّةُ۔ نقاد۔ کمرے کھوٹے میں فرق و تیز کرنے والا۔ ج۔ جَمَابِدَةٌ۔ الجَمَبِيَّةُ۔ شیرنی۔ جَمَجَهٌ۔ بالسبع۔ روکنے کے لیے لکارنا۔</p>	<p>بَعْوَةٌ۔ گھورنا۔ تیز نظر ڈالنا۔ جَنَسُ الطَّرِيقِ بِالنَّاسِ۔ لوگوں کی وجہ سے راستہ کا تنگ ہو جانا۔ جَنَفٌ (ض) جُنُوفًا و جِنْفٌ (س)، جَنَفًا۔ عن الطريق۔ راستہ سے الگ ہونا۔ (س) وَاَجْنَفًا فِي وَصِيَّتِهِ۔ اپنی وصیت میں ظلم کرنا۔ صفت۔ (رَجِيفٌ وَاَجْنَفٌ) جَانَفٌ۔ جنافا۔ اہلہ۔ غصہ میں آکر اپنے اہل و عیال سے قطع آتی کر لینا۔ تَجَانَفٌ۔ للاشم۔ گناہ کی طرف مائل ہونا۔ عن الطريق۔ راستہ سے ہٹ جانا۔ الجَنَفُ۔ ظلم۔ عدل و حق سے انحراف۔ الاَجْنَفُ۔ کبڑا۔ کوزہ پشت۔ مؤنث۔ جَنَفَاءٌ۔ ج۔ جُنْفٌ۔ اِلِجْنَفٌ۔ فطرۃ حق سے پھرا ہوا۔ جَنَقٌ (ض) جَنَقًا و جَنَقٌ۔ الحجر۔ پتھر کو گوچھن سے پھینکنا۔ المَنَجْنِيْقُ۔ گوچھن۔ فناخن۔ ایک مشین جس کے ذریعے لڑائی میں پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ ج۔ مَجَانِقٌ و مَجَانِيْقٌ و منجنيقات۔ الجُنْكُ۔ ایک قسم کا باجا۔ ج۔ جُنُوكٌ۔ جَنِيٌّ (ض) جَنِيًّا و جَنِيٌّ۔ الثَّمَرُ۔ درخت سے پھل چننا۔ کہتے ہیں: جَنِي الثَّمَرَةَ لَه و جَنَاهُ اَيًّا هَا (س) جَنِيًّا،</p>	<p>زنگار۔ الجِنْدِيَّةُ۔ زنجیر۔ جَنَسٌ (ض) جَنَسًا۔ الثَّمَرُ۔ سب کھجوروں کا پک جانا۔ جَنَسٌ (ض) جَنَسًا۔ الماء و نحوه۔ پانی کا جم جانا۔ جَانَسٌ۔ بہ۔ اس نے اس کو اس جیسا بنا دیا۔ جَانَسٌ۔ جَانَسًا و مَجَانَسَةٌ۔ مشابہ ہونا۔ ہم جنس ہونا۔ اور اسی سے ہے: "فلان مجانس ابتهائم"۔ فلاں چرپاؤں کے مشابہ ہے۔ یعنی باہم کی طرح عقل و تیز نہیں رکھتا۔ تَجَانَسًا۔ باہم ہم جنس ہونا۔ اور اسی سے ہے: "وهج التجانيس التانس"۔ یعنی ہم جنس ہونے سے آپس میں انسیت پیدا ہوتی ہے۔ الجِنْسُ۔ مختلف انواع پر صادق آنے والی ماہیت جیسے حیوانیت، کہ وہ انسان اور گھوڑے کے لیے جنس ہے۔ ج۔ آجَنَاسٌ۔ الجَنَسُ۔ جا ہوا پانی۔ الجِنِيْسُ۔ اپنی قوم میں شریف۔ اپنی جنس میں اصل۔ الجِنِيْسِيَّةُ۔ جنس کی حالت یا ماہیت۔ الجَنَاسُ۔ علم بدیع کی اصطلاح میں دو کلموں کا کٹا یا بعضاً مشابہ ہونا۔ جَنَسٌ (ض) جَنَسًا۔ اليه۔ کونا متوجہ ہونا۔ منہ۔ کسی سے گھبرانا۔ جَنِيْسٌ (ض) جَنَسًا۔ المكان۔ کسی جگہ کا خشک ہونا۔ قحط زدہ ہونا۔ جَنَسٌ۔ خوف سے ہماگنا۔</p>
--	--	--

<p>بالقول . آواز بلند کرنا . الصوت . آواز اٹھانا . الرجل . کسی کو بے پروہ دیکھنا . کسی کو دیکھنا اور آنکھوں میں بڑا معلوم ہونا . تعظیم کرنا . القوم . دیکھ کر زیادہ خیال کرنا . الشئ . کسی شے کو گھولنا اور اس کا اندازہ کرنا . الاسرف . ایک اجنبی ملک وزمین میں چلنا . الشئ فلانا . ہیئت جمال سے کسی کو عالم حیرت میں ڈال دینا . الامر . اعلان پانا . مشہور ہونا . السقاء . مشیزہ میں بلو کر مکھن نکالنا . جہرت . (س) جہرا . العين . سورج سے آنکھوں کا خیرہ ہو جانا . چندھا جانا . صفت (اجہر) مونت . جہراء . ج . جہو . جہرک ، جہارة . الصوت . آواز کا بلند ہونا . صفت (جہیر و جہد) — الرجل . کسی کا دیکھنے والے کی نظر میں ذلیغان و ذی عظمت ہونا . جاهرة . مجاہرة و جہاسا . بالشئ . کلمہ کھانا ظاہر کرنا . بالقراءة . پڑھنے میں آواز کو بلند کرنا . القوم بالامر . غلبہ کی کوشش کرنا . اجہد الامر و بہ . کسی امر کا اعلان کرنا . بالقراءة . پڑھنے میں آواز کو اٹھانا . بلند کرنا .</p>	<p>تجاهدا . واجتهدا . فی الامر . کسی امر میں کوشش کرنا اور پوری طاقت خرچ کر دینا . استجهد . فی الامر . کسی امر میں غور کرنا . الجهد و الجهد و المجهد . طاقت . استطاعت . کہتے ہیں . "بذل جهدا و مجهدا" . اس نے اپنی طاقت صرف کر دی . مشقت . قرآن پاک میں ہے . "آقتموا باللہ جہدا ایمانہم" . الجاہدا . فا . بے خوابی والا . کہتے ہیں . جہد جاہد . جیسے کہتے ہیں . لیل لائل و شعرو شاعر . الجہاد . سخت بے نبات والی زمین . ج . جہد . الجہاد . دین کی حفاظت کی خاطر اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جنگ . الجہدان . وہ شخص جس کو مشقت پہنچی ہو . الجہیدا . عمدہ چراگاہ . کہتے ہیں . مرعی جمیدا . الجہادی . انتہا . آخری حد . کہتے ہیں . جہاد ان تفعل کذا . تم زیادہ سے زیادہ ایسا کر سکتے ہو . الجہیدی . کوشش . پوری کوشش . کہا جاتا ہے . لا بلغن جہیدا فی الامر . میں معاملہ میں اپنی کوشش انتہا تک پہنچا دوں گا . جہر دن ، جہرا و جہاسا و جہرة . الامر . وبالامر اعلان کرنا .</p>	<p>رجهه . عنہ . ہازر ہونا . کہ جانا . المجہدة . شیر . جہد (ط) فی الامر . بہت کوشش کرنا . بالرجل . کسی کا امتحان کرنا . جہدہ المرض . بیماری کا کسی کو لا غر و بلا کرنا . جہد اللب . دودھ کا تمام مکھن نکال لینا . دس و اجہد . الطعام . کھانے کی خواہش کرنا . جہد و اجہد الدابة . جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لا دنا . اجہد البال . مال بکھیرنا اور فنا کر دینا . اجہد الحق . حق کا ظاہر ہونا . اجہد فیہ الشیب . کسی میں بڑھاپا اچھی طرح ظاہر ہو جانا . اجہد فی الامر . احتیاط کرنا اجہد علینا العدو . دشمن کا دشمنی میں پوری کوشش کرنا . اجہد الامر لزید . کام مکھن ہونا . جہد . پوری کوشش کرنا . نگیں ہونا لاغر ہونا . جہد . (س) جہدا . عیشہ . زندگی کا مکھ ہونا . گزران مشکل ہونا . جاہدا . مجاہدا و جہادا . پوری طاقت لگا دینا . کہا جاتا ہے "جاہدوا فی اللہ حق جہادہ" اللہ کے راستہ میں کوشش کا حق ادا کر دو . العدو . دشمن سے جنگ کرنا .</p>
---	---	--

الرجل وبيك بون صاحب جلال كذا باب هنا
تجاہر۔ بالامر۔ کھلے طور سے
ظاہر کرنا۔
إجْتَهَرَ القود۔ شمار میں بہت
جاننا۔ سمجھنا۔
الرجل۔ کلم کھلا دیکھنا اور برا
سمجھنا۔
البثور۔ کنویں کو صاف کرنا۔
الشيء فلاناً۔ بیت و جمال سے کسی
کو حیرت میں ڈال دینا۔
الجهر۔ مص۔ پوڑا ٹیلہ۔ زمانہ کا ایک
حصہ۔
کتے ہیں۔ "کلمتہ جہراً و
بالجہر" میں نے اس سے کھلا اور
صاف الفاظ میں بات کی۔
لقیتہ جہراً۔ میں نے اس سے
منہ در منہ ملاقات کی۔
الجهر۔ بیٹت حسن منظری۔ ظاہری
شکل و مشابہت۔
الجهاس۔ مص۔
کتے ہیں۔ "لقیتہ جہاساً"
میں نے اس سے منہ در منہ ملاقات
کی۔
الجهارة۔ مص۔ (— والجهورة)،
قد و منظر کا حسن۔
الاجهر۔ خوبصورت ہیئت والا۔ سورج
کی روشنی سے چندھیانے والا۔
موت (جہزاء) ج۔ جہر۔
جہوس۔ اٹھی ہوئی اور قوی آواز والا۔
ج۔ جہر۔
الجہیز۔ خوبصورت و جمیل بھلائی و
نیکی کے لائق۔
من اللبن۔ وہ دودھ جس میں
پانی کی آمیزش نہ ہو۔
کلام جہیز۔ بلند آوازی کی گفتگو۔

امراة جميرة۔ بلند آواز والی
عورت۔
کہا جاتا ہے "هو عفيف"
السويدة والجميرة۔ وہ ظاہر
و باطن کا پاکدامن ہے۔
الجہوسی۔ بلند۔ آواز کی صفت
بن کر آتا ہے۔ کتے ہیں۔
صوت جہوسی۔ بلند آواز۔
رجل جہوسی۔ بلند آواز والا
آدمی۔
المجهر والجهاس۔ عاوة کٹری
آواز سے بات کرنے والا آدمی۔
المجهر۔ خروبین۔
جہز (ف)، جہزاً و آجہز۔
علی الجریم۔ زخمی کو مار کر اس
کا کام تمام کر دینا۔
جہز۔ مہیا کرنا۔ تیار کرنا۔
المیبت۔ سب کے کفن و فن کا سامان
مہیا کرنا۔
العروس۔ دلہن کے جہیز کا
سامان تیار کرنا۔
تجهز۔ للسفر۔ سفر کا ضروری سامان
مہیا کرنا۔
(— واجهات)،
الامر۔ کسی امر کے لیے تیار ہونا۔
آماہ ہونا۔
الجهاس والجهاس۔ للمیبت
او للمسافر۔ او للعروس۔
گھریا مسافر یا دلہن کا احتیاجی
سامان۔
من جسم الانسان۔ وہ
اعضائے انسانی جن سے کوئی خاص
غرض ملحوظ ہے۔ مثلاً اعضاء تنفس۔
یا آلات ہضم۔ ج۔ آجہزہ۔
واجہزات۔

الجہزاء۔ بلند زمین۔
الجہیز۔ تیز رفتار گھوڑا۔
موت (جہیز و جہن) ناگمانی
موت۔
جہیزہ۔ یہ ایک عورت کا نام ہے۔
قطعت جہیزہ قول کل
خطیب۔ یہ ایک مشہور مثل ہے
اور اس کی اصلیت یہ ہے کہ ایک
مرتبہ چند مقررین نے دو قبیلوں کے
درمیان خون کے معاملہ میں صلح کرانے
کے لیے تقریبوں کا سلسلہ چھیڑ رکھا
تھا اور اولیائے مقتول کو دیت پر
راضی رکھنے کا مسئلہ سامنے تھا کہ
یک بیک جہیز نے خبر پہنچائی کہ
ولی مقتول نے قاتل کا کام تمام کر دیا
یہ خبر سنتے ہی لوگوں کی زبان سے یہ
جملہ نکلا۔ قطعت جہیزہ قول
قول کل خطیب۔ یعنی اب گفتگو
کی گنجائش ہی نہیں رہی کیونکہ قاتل
کے قتل کے بعد دیت و مقدار دیت کا
سوال ہی نہیں اٹھتا۔
جہش و جہش (س)، جہشاً
وجہوشاً و جہشاً۔
الیہ۔ روتے ہوئے یا رونا سا ہو کر
کسی سے فریاد کرنا۔
جہش (س)، جہشاً۔
منہ۔ کسی سے ڈر کر بھاگنا۔
آجہش۔ الیہ۔ یعنی جہش
بالبکاء۔ رونے کے لیے تیار
کرنا۔
آجہشت النفس۔ اٹھنا۔
آجہشہ۔ جلدی کرنا۔
الجہشہ۔ آنسو۔
(— الجاہشہ) لوگوں کا
گروہ۔

<p>جس پر وارغ نہ ہو۔ جَهْمٌ (ك) جہامۃ و جہومۃ تیوری پڑھانا۔ ترش رو ہونا۔ صفت (جہم) جَهْمٌ و جَهْمَةٌ (ن س) جَهْمًا و تَجَهَّمَهُ و تَجَهَّمَلَهُ۔ کسی سے ترش روئی سے پیش آنا۔ جب کوئی اپنی آرزو اور مراد میں ناکام رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں: — تَجَهَّمَهُ أَمَلَهُ۔ أَجْهَمَ۔ الْجَهْمُ۔ الْجَهْمُ۔ آسمان پر بے بارش والے بادلوں کا چھا جانا۔ أَجْتَهَمَ۔ رات کے آخری چوتھائی حصہ کی ابتداء میں داخل ہونا۔ یا اس میں چلنا۔ الْجُهْمَةُ و الْجَهْمَةُ۔ رات کے آخری حصوں کا شروع۔ الْجَهْمَةُ۔ دَيْكٌ۔ الْجَهْمُومُ۔ عاجز۔ کمزور۔ جَهَنَ (ن) جُهُونًا۔ قریب ہونا۔ الْجَهْنُ۔ ترش روئی۔ جَهْمٌ۔ دوزخ (غیر منصرف) جِہمی۔ (س) جہما۔ الْبَيْتِ۔ گھر کا اجڑنا۔ دیران ہونا۔ جَمِيٌّ۔ الْجُمُوحُ۔ زخم کو کشادہ کرنا۔ جَاهِيٌّ جَاهَاةً۔ فَلَانًا۔ فخر میں مقابلہ کرنا۔ أَجْمِيٌّ أَجْمَاءً۔ الطَّرِيقُ۔ راستہ کا واضح ہونا۔ السَّمَاءُ۔ آسمان کا بادلوں سے صاف ہونا۔ عَلِيَهُ۔ بخل کرنا۔ الطَّرِيقُ۔ راستہ کو واضح کرنا۔ الْبَيْتِ۔ گھر کو بے پردہ بنانا۔ الْأَجْمِيُّ۔ گنجا۔ (د) — وَالْمُجْمِيُّ،</p>	<p>کرنا۔ اور اسی سے ہے: رَأَيْتَ مِنْهَا مَجَامِلَةً ثُمَّ انْقَلَبْتَ مَجَاهِلَةً۔ میں نے پہلے ان کی طرف سے خوش معاملگی دیکھی پھر وہ بد معاملگی میں تبدیل ہو گئی۔ تَجَاهَلٌ۔ بناوٹی جاہل بننا۔ اسْتَجْهَلَهُ۔ کسی کو جاہل سمجھنا۔ جاہل شمار کرنا۔ حقیر جاننا۔ اسْتَجْهَلَتِ الرَّيْحُ الْقُصْنَ۔ ہولنے درخت کی ٹٹنی کو حرکت دی۔ الْجَهْمَلَةُ۔ نادانی۔ الْجَاهِلِيَّةُ۔ جمالت کی حالت۔ بت پرستی جو بلاد عرب میں قبل طہور اسلام رائج تھی۔ جاہلیت کا اطلاق عرب کے ان حالات پر بھی ہوتا ہے۔ جو اسلام سے پہلے عرب پر طاری تھے۔ الْجَهْمُولُ۔ ناتجربہ کار۔ جاہل۔ جہ۔ جُهْلًا۔ الْمُجْهَلُ و الْمَجْهَلَةُ۔ انگارے بنانے کی کڑی۔ کرینی۔ الْمَجْهَلَةُ۔ بے علمی کا باعث۔ بے علمی کی ترغیب۔ الْمَجْهَلُ۔ بے راستہ والا جنگل۔ بغیر نشان کا سیلابان۔ جہ۔ مجاہل۔ الْمَجَاهِلُ۔ نادانیاں۔ اس کا واحد جَهْلٌ ہے۔ اور اسی سے ہے: إِنَّا لَنَصْفَحُ عَنْ مَجَاهِلٍ قَوْمًا ہم اپنی قوم کی نادانوں سے درگزر کرتے ہیں۔ الْفِعْلُ الْمَجْهُولُ۔ وہ فعل جس کا فاعل نامعلوم ہو۔ نَاقَةٌ مَجْهُولَةٌ۔ وہ اونٹنی</p>	<p>الْجَهْمُوشُ۔ تیز رفتار۔ جَهْمَةٌ (ن) جَهْمَةً۔ غالب آنا۔ عن کذا۔ دور کرنا۔ منع کرنا۔ أَجْرَهْمَهُ۔ عن الامور۔ کسی کو کسی امر سے دور کرنا۔ الگ کرنا۔ ع۔ عن مکانہ۔ اٹھانا۔ فَلَانًا۔ پھسلانا۔ اجرت المرأة۔ عورت کا حل کو گرا دینا۔ جَاهِضَةٌ۔ باز رکھنا۔ جلدی کرنا۔ الْجَاهِضُ۔ تیز طبیعت۔ مُؤْتٌ۔ جَاهِضَةٌ۔ جہ۔ جَوَاهِضُ۔ الْجَهْمُونَةُ و الْجَهْمَاةُ۔ طبیعت کی تیزی۔ الْجَهْمُ و الْمَجْمُوعُ و الْجَمِيعُ۔ وہ بچہ جو قبل از وقت رحم سے گر جائے۔ الْجَهْمَاةُ۔ بڑھی مادہ حیوانات۔ الْيَجْمَاةُ۔ محل کرنے کی عادت والی عورت۔ جہ۔ جَاهِضُ۔ جَهْلٌ۔ (س) جَهْلًا و جَهَالَةً۔ نہ جاننا۔ ان پڑھ ہونا۔ عَلِيَهُ۔ جمالت کا اظہار کرنا۔ بیوقوف ہونا۔ ظلم کرنا۔ سخت کلامی کرنا۔ صفت۔ (جاہل) جہ۔ جُهْلٌ و جُهَالٌ و جُهْلَاءٌ وَجُهْلٌ و جُهْلٌ و جَهْمَةٌ۔ جَهْلُ الْحَقِّ۔ حق منافی کرنا۔ جَهْلَتِ الْقَدْسُ۔ ہانڈی کا بہت اُبلنا۔ جَهْمَلَهُ۔ کسی کو جمالت کی طرف منسوب کرنا۔ جَاهِلَةٌ۔ نادانی میں مقابلہ کرنا۔ بدسلوکی</p>
--	--	---

من البيوت - بغیر حیت والا مکتبہ
 مؤرخ - جہواء -
 خبائث مجہ - وہ خیمہ جس کا پردہ
 نہ ہو -
 سماء جہواء - کھلا آسمان -
 بیت جہوان - بے پردہ کامرکا
 جاب دن، جو با - و تجو ابنا -
 البلاد - ملک کو طے کرنا - عبور
 کرنا -
 جاب الثوب جو با - کپڑا کا ٹٹا -
 الصخرة - چٹان میں سماخ کرنا -
 یا اس کو تراشنا -
 جاب دن، جو با - وجوب -
 الثوب - گریبان بنانا -
 جوب الشیء - کسی شے کو بیچ
 سے کاٹنا -
 جادہ - مجاوبہ - گفتگو کرنا -
 جواب دینا -
 اجابہ اجابہ و اجابا و اجاب
 سوالہ و عن سوالہ والی
 سوالہ - جواب دینا -
 کتے ہیں: اجابہ الی حاجتہ
 اس نے خوشی سے اس کی حاجت
 روائی کی -
 اجابت الاسمن - زمین کا سبزہ
 اگانا -
 تجاوبوا ایک کا دوسرے کو جواب
 دینا - باہم گفتگو کرنا -
 اجاب - الثوب - کپڑے کا پٹنا -
 السحابہ - بادل کا کھل جانا -
 اجتاب - البلاد - شہروں کو عبور کرنا
 طے کرنا -
 الصخرة - چٹان کو تراشنا -
 البئر - کنواں کھودنا -
 القمیص - قمیص بنانا -

استجابہ واستجاب له
 استجابة - واستجوبہ و
 استجوب له استجوابا -
 جواب دینا -
 اللہ فلانا و لفلان و من
 فلان - اللہ تعالیٰ کا کسی کی
 دعا کو قبول فرما کر اس کی حاجت
 روائی فرمانا -
 الجوب - مصی - عورت کی قمیص -
 بڑا ڈول - انگلیٹی -
 ج - اجواب -
 (- و الجوب) ڈھال -
 الجوبہ - گڑھا - گھروں کے درمیان
 خالی زمین کا ٹکڑا -
 ج - جوب -
 الجواب - جواب - ج - اجوبہ
 و جوابات -
 الجابة - قبولیت -
 کتے ہیں: "اسماء سمعنا فاساء
 جابة" اس نے بڑے طریقے
 سے سنا اور بڑے ہی طریقے سے
 قبول کیا -
 الجواب - بہت پھرنے والا - حیرتی
 نے کہا ہے -
 تجواب افاق توامت سفرته -
 آفاق کو طے کرنے والا ہے - سفر اس
 کو پھینکتا رہتا ہے -
 الی حیثہ - جواب کی ہیئت و کیفیت -
 الجائب - فا - جانب العین - شیر -
 الجابۃ - پھیل جانے والی خیر
 عام خیر -
 کتے ہیں: "هل عندك من
 جابۃ خیر" یعنی کیا تمہارے
 پاس ایسی خیر ہے جو شہر و شہر
 چکر لگا رہی ہو -

المجوبة - جواب -
 الجواب - پھاڑنے کا آلہ -
 جاح دن، جو خا - سیدے راستہ
 سے ہٹ جانا -
 رجاحہ جو خا و جیاحہ و
 آجاحہ و اجتاحہ، بڑ
 سے اکیرنا، ہلاک کرنا -
 الجایحة - بلا - ہلاکت - بڑی آفت -
 سنة جایحة - خشک سال -
 ج - جائحات و جوالح -
 الاجوح - وسیع - کفادہ -
 مؤرخ - جو جاء - ج - جوح -
 الجوحة - سختی - مصیبت - آفت -
 جاح دن، جو خا - و جوح -
 السیل الوادی - سیلاب کا وادی
 کے کناروں کو بہا لے جانا -
 جو خہ - پھارنا - اکیرنا -
 تجوخ - گرہانا - اکیر جانا -
 تجوخت البئر - کنویں کا گر جانا -
 القرحة - زخم کا پھٹنا اور بہہ جانا -
 الجوخ - اونٹنی کپڑا - بانات -
 ج - اجواخ -
 الجوخة - اونٹنی کپڑے کا ٹکڑا - گڑھا -
 جاد دن، جودہ و جودہ - عمدہ
 ہونا - اچھا بنانا -
 (- و جودہ و اجودہ)
 الفوس - گھوڑے کا تیز رفتار ہونا -
 جادا دن، جودا - بخشش میں
 غالب ہونا -
 ۵ - الهوی - غالب ہونا -
 (- جودا)
 علیہ - بخشش کرنا -
 صفت - (جواد)
 بالمال - مال خرچ کرنا -
 بنفسہ - جان دینا -

کہتے ہیں۔ اِنِّیْ لِاَجَادِیْ لِقَائِکَ :
 میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں۔
 (جوداً۔ وجوؤداً
 العین۔ آگہ کا کثرت سے
 آسوبانا۔
 المطر۔ بہت بارش برسنا۔
 صفت۔ (جائداً) ج۔ جود
 چیدت۔ الاسض۔ زمین پر کثرت
 سے بارش ہونا۔
 جید الرجل۔ آدمی کا ہلاکت کے
 قریب ہونا۔ پیاسا ہونا۔
 جود۔ الشیء۔ خوبصورت بنانا۔
 عمدہ بنانا۔
 فی عدوہ۔ تیز روڑنا۔
 الفاسی۔ قاری کا تجوید سے
 پڑھنا۔
 جَاوِدًا۔ جَاوِدًا۔ فیاضی میں مقابلہ
 کرنا۔
 اَجَادًا۔ اچھا بنانا۔
 بالولد۔ فیاض بچہ کا باپ ہونا۔
 اجادہ النقد۔ کمرے کمرے
 کے زینا۔
 (جوداً۔ وجوؤداً)
 الشیء۔ عمدہ بنانا۔
 اجاد الرجل۔ کسی کو قتل کرنا۔
 اجیدت الاسض۔ زمین پر
 بکثرت بارش برسنا۔
 تَجَوَّدًا۔ عمدہ چیز پسند کرنا۔
 فی صنعتہ۔ اپنی کاریگری میں
 باریکی دکھانا۔ صنعت میں عمدگی
 سے کام کرنا۔
 تَجَاوَدًا۔ القوم۔ یہ غور کرنا کہ
 محبت کو رو سے کون بہتر ہے۔
 کہتے ہیں۔ ہم۔ یتجاودون
 الحدیث۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ

بمخاطب حدیث کون افضل ہے۔
 اِسْتِجَادًا۔ کسی کو عمدہ سمجھنا۔ اچھا
 شمار کرنا۔
 استجد الامیر۔ امیر سے
 بخشش مانگنا۔
 الجاد۔ باطل۔
 کہتے ہیں۔ "وقعوا فی ابی جاد"
 وہ لوگ باطل میں پڑے۔
 الجود۔ مص۔ الجود والمطر
 الجود۔ بہت بارش۔
 الجودۃ والجواد۔ پیاس۔
 الجواد۔ پیاس یا اس کی شدت۔
 الجیتدا۔ عمدہ۔ ج۔ چیا۔
 وجج۔ جیادات وجیایثدا۔
 قیاس پابنتا تھا کہ جمع جیاوید۔
 ہوتی مگرواؤ کو ہمزہ سے بدل لیا گیا
 ہے اور یہ شاذ ہے۔
 الجواد۔ سخی۔ و مذکر و مؤنث۔
 کہتے ہیں۔ "رجل جواد" و
 امراة جواد"
 ج۔ آجواد۔ و آجاید۔ و
 آجاوید۔ وجود و جودۃ
 وجوداء۔
 فرس جواد۔ تیز رفتار گھوڑا۔
 ج۔ جیاد و آجیاد۔ و
 آجاوید۔
 کہتے ہیں۔ "سیرت المیہ
 جواداً" میں اس کی طرف تیز
 رفتاری سے چلا۔
 سنا عقبۃ جواداً و
 عقبین جوادین و عقاباً
 جیاداً۔ یعنی ہم دور کی گھائی یا رو
 گھائی یا گھائیں بہ چلے۔
 الجواد۔ بہت سخی۔ بڑا فیاض۔
 الأجود۔ اسم تفضیل۔

مؤنث جواداء۔ (خلاف قیاس)
 ج۔ جود و آجاوید۔
 الجادی۔ زعفران۔
 التجاوید۔ عمدہ نفع بخش بارشیں
 (اس کا واحد نہیں)
 رجل او شاعر (موجید و
 وجواد) عمدہ کام کرنے والا آدمی۔
 یا اچھے شعر کہنے والا شاعر۔
 المجود۔ پیاسا۔ ہلاکت کے قریب۔
 جاس (ن) جوساً۔ عن الشیء۔
 کسی چیز سے ہٹ جانا۔
 کہتے ہیں۔ "جاس عن الطریق"
 وہ راستہ سے ہٹ گیا۔
 علیہ۔ کسی پر ظلم کرنا۔
 صفت۔ (جائداً)
 ج۔ جودۃ و جودۃ و جارة
 (جوساً) فریاد رسی چاہنا۔
 جوساً۔ ظلم کی طرف منسوب کرنا۔
 پچھاڑنا۔
 جوس البناء۔ گراوینا۔ ٹھکانا۔
 جاساً۔ مجاوساً و جواساً۔
 وجواساً۔ پڑوس میں رہنا۔
 المسجد۔ مسجد میں اسکان
 کرنا۔
 آجاء۔ اجارۃ۔ من العذاب۔
 عذاب سے چھٹکارا دلانا۔ پچھانا۔
 فلاناً۔ فریاد رسی کرنا۔
 عن کذا۔ ہٹا دینا۔
 المتاع۔ بغرض حفاظت برتن
 میں رکھنا۔
 تجوس۔ الرجل۔ پچھڑانا۔
 علی الفراش۔ لیٹنا۔
 البناء۔ منہدم ہونا
 کہتے ہیں۔ "تجوس جناء اللیل"
 یعنی رات کی تاریکی چھٹ گئی۔

تَجَاوَسَ - وَاجْتَوَسَ - الْقَوْمَ -
 ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا۔
 اسْتَجَّاسًا - فَلَانًا وَبِهِ - كَسِيءٌ
 فریادرسی چاہنا۔ پناہ لینا۔
 اسْتِجَارَةٌ مِنْ فُلَانٍ - پناہ
 چاہنا۔ دوماگنا۔
 اسْتَجْوَسَ - ظَالِمٌ پَانَا -
 الْجَوَّاسُ - كَرَّابَانِي -
 الْجَوَّاسُ - پڑوس۔
 کہا جاتا ہے۔ اقامت فی جوارہ
 وہ اس کے پڑوس میں اقامت پذیر ہوا۔
 امان و عہد پیمان۔
 کہتے ہیں۔ ہون فی جوارہ۔ وہ
 اس کے امن اور ذمہ داری میں ہے۔
 الْجَبَّاسُ - پڑوس۔ پناہ دینے والا۔
 پناہ گیر۔
 ج۔ جَبَّانٌ وَجَبَّيَّةٌ - وَجَوَّاسٌ
 وَأَجْوَارٌ وَجَارٌ النَّهْرُ -
 نیلوفر سے ملتی ہوئی ایک نبات۔
 الْجَارَّةُ - پڑوس۔ بیوی۔ سوت۔
 ج۔ جَارَاتٌ -
 الْجَوَّسُ - مَصٌ - ظَالِمٌ -
 الْجَوَّسُ - بہت کڑک اور گریج والی
 بارش۔
 الْمَجَّوَسُ - گرا۔
 مَالٌ جَوَّسٌ - بہت مال۔
 جَوَّسٌ بَهٌ - پائتاہ پناہنا۔ جراب
 پناہنا۔
 تَجَوَّرَبٌ - پائتاہ پناہنا۔
 الْجَوَّرَبُ - پائتاہ۔
 ج۔ جَوَّارِبٌ وَجَوَّارِبَةٌ -
 عوام اس کو الکسہ، اور
 القلشینہ کہتے ہیں۔
 الْجَارُوسُ - باجرہ۔
 جَانُّونٌ، جَوَّارٌ وَجَوَّوَسٌ -

وَجَوَّاسٌ أَوْ مَجَّاسٌ -
 المکان ویا المکان۔ کسی جگہ
 گزرنا۔ چلنا۔
 المکان۔ کسی جگہ سے گزر کر
 آگے بڑھنا۔
 الْبَيْعُ - بیع کا پورا ہونا۔
 (جَوَّاسٌ) -
 الامور۔ جائز ہونا۔ درست ہونا۔
 کہتے ہیں: جَزَّالَهُ ان يَفْعَلَ
 كَذَا: اس کے لیے ایسا کرنا جائز
 ممکن اور روا ہے۔
 الْمَدْرَاهِمُ - راجح ہونا۔
 الْمَسْمُومُ إِلَى الصَّيْدِ - تیرا شکار
 سے بچ کر نکل جانا۔
 عَنْ الصَّيْدِ - شکار کو پار کر کے
 نکل جانا۔
 جَوَّسٌ - الامور۔ مباح ٹھہرانا۔ جائز
 قرار دینا۔
 الْحَكْمُ - جائز سمجھنا۔
 رَأْيُهُ - جاری اور نافذ کرنا۔
 الْاِبِلُ - آگے سے ہانگنا۔ یہاں
 تک کہ سب گزر جائیں۔
 الْمَدْرَاهِمُ - راجح کرنا۔
 جَوَّسٌ - المکان۔ کسی جگہ سے
 آگے بڑھ جانا۔
 عَنْ الذَّنْبِ - گناہ سے دگنڈ
 کرنا۔
 الْوَجَلُ - کسی کو اجازت دینا۔
 أَجَّازٌ - أَجَّازَةٌ - الشَّيْءُ - جائز
 کرنا۔
 الرَّأْيُ - نافذ کرنا۔
 الْوَجَلُ - اجازت دینا۔
 أَجَّازَةٌ بِالْفِ دَسَاهِمٌ كَسِيءٌ كَو
 ایک ہزار درہم کا انعام بخشنا۔
 عَلَى اسْمِهِ - کسی کے نام کا ٹھپا

لنگنا۔
 الْمَوْضِعُ - کسی مقام سے آگے
 بڑھ جانا۔
 الْقَاضِيُ الْبَيْعِ - قاضی کا بیع کو
 نافذ کرنا۔
 أَجَّازَةٌ الْعَقْبَةُ - گھاٹی سے
 گزار دینا۔
 تَجَوَّسٌ - فِي الْأَمْرِ - کسی معاملہ میں
 برداشت کرنا۔ چشم پوشی کرنا۔
 فِي الصَّلَاةِ - نماز میں اختصار
 کرنا۔
 فِي كَذَا - بھڑی چیز پر اکتفا کرنا۔
 عَنْهُ - چشم پوشی کرنا۔ معاف
 کرنا۔
 فِي الْكَلَامِ - مجاز بولنا۔
 الْمَدْرَاهِمُ - کھوٹے درہم
 قبول کر لینا۔
 تَجَوَّسٌ - عَنْهُ - چشم پوشی کرنا اور
 معاف کرنا۔
 فِي الشَّيْءِ - افراط کرنا۔
 إِجْتَسَنَ - چلنا۔
 بِالْمَكَانِ - گزرنا۔
 مِنْ مَكَانٍ إِلَى الْآخَرِ - عبور کرنا
 اسْتَجَّازَ - اسْتِجَّازَةٌ - اجازت
 مانگنا۔
 الْأَمْرُ - کسی امر کو جائز سمجھنا۔
 الْجَائِزُ - فَا - نافذ۔ مباح۔ دو دیواروں
 کے اوپر رکھی ہوئی لکڑی۔
 ج۔ جَوَّارِبٌ وَجَوَّسَانٌ وَ
 جَبَّانٌ وَأَجْوَانٌ وَأَجْوَانَةٌ -
 الْجَائِزَةُ - الْجَائِزُ - کاموزٹ علیہ
 انعام بخشش۔ پال کا ایک گھونٹ۔
 ج۔ جَوَّارِبٌ - جَوَّارِبٌ الْاِسْتِعْاَسُ
 وَالْمَثَالُ - ایک شہر سے دوسرے
 شہر منتقل ہونے والے اشعار و امثال۔

الجَوَاطُ - تنگی اور بے مبری۔
 الجَوَاطُ - بکبر سے چلنے والا۔ اجڑا۔ اکڑ
 بسیار خور۔
 الجَوَاطُ - بمعنی جَوَاطُ - تا
 مبالغہ کے لیے ہے۔
 جَاعٌ - دن، جَوَعًا - وَمَجَاعَةٌ -
 بھوکا ہونا۔
 صفت - (جَائِعٌ، وَجَوَعَانٌ)
 مؤنث - جَائِعَةٌ وَجَوَعِيٌّ.
 ج - جِيَاعٌ - وَجُوعٌ -
 ایہ کسی کا مشتاق ہونا۔
 جَوَعَةٌ - تجویعًا وَاِجَاعَةٌ
 اجاعۃ - بھوکا رکھنا۔ خوراک
 روکنا۔
 کہتے ہیں - "أَجَاعَ قَدْسًا"
 اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں بھرا۔
 تجووع - بناوٹی بھوکا بننا۔
 استجَاعٌ استجَاعَةٌ - بھر گھڑی
 تھوڑا تھوڑا کھاتے رہنا۔ کوئی چیز کھانا
 لیکن سیر نہ ہونا۔
 الجوع والمجاعة - بھوک۔
 الجوع الكلبی او الجوع
 البقوی - معدہ کی وہ بیماری جس کی
 وجہ سے انسان کھانے سے کبھی سیر نہ
 ہو اور اگر سیر ہو جائے تو جلدی اس کو
 پھر بھوک لگ آئے
 کہتے ہیں - "عام مجاعة او
 مجوعۃ" - بھوک کا سال۔
 ج - مجاوع -
 الجوعۃ - اسم مرۃ - قبیلہ کا خالی
 ہو جانا۔
 جَوَفٌ (س) جَوْفًا - کھوکھلا ہونا۔
 ه - بالطعنة - پیٹ میں نیزہ
 مارنا۔
 آجافہ - الطعنة وبالطعنة۔

والی زمین۔
 کہتے ہیں - ارض مجازة -
 المَجِيْزُ - فا۔ ول - یتیم کی دیکھ بھال
 کرنے والا یا منتظم - گارجین - وہ
 غلام جس کو تجارت کی اجازت ہو۔
 جَاسٌ - دن، جَوَسًا وَاِجْتِاسًا
 اِجْتِاسًا -
 الشغ - کسی چیز کو بہت چاہنا۔ اور
 بہت اٹھانے سے تلاش کرنا۔
 (جَوَسًا وَجَوَسَانًا) -
 القوم بین البيوت والدور۔
 لوٹ کے لیے گھروں اور مکانوں کے
 ارد گرد گھومنا۔
 جاساہ - قوم میں گھس کر۔
 الجَوَاسُ - قوم میں گھس کر فساد برپا
 کرنے والا۔ شیر۔
 جَوَسْتَه - الناظر - ٹھنکی۔
 الجَوَسَقُ - محل۔
 ج - جَوَاسِقٌ وَجَوَاسِقِيٌّ -
 جَاشٌ (ن) جَوَشًا - رات بھر چلنا۔
 تَجَوَّشٌ - اللیل - رات کا کچھ حصہ
 گزر جانا۔
 فی الارض - داخل ہونا۔
 الجَوَشُ - معص - سینہ۔
 کہتے ہیں - "معنی جوش من
 اللیل" رات کا شروع یا رات کا
 کچھ حصہ گزر گیا۔
 الجَوَشْنُ - سینہ - زرہ۔
 من اللیل - وسط رات یا
 اس کا اگلا حصہ۔
 ج - جَوَاشْنُ -
 جَاظٌ (ن) جَوَظًا وَجَوَظَانًا -
 اکڑ اور بکبر سے چلنا۔
 جَوَظٌ - تنگ ہونا۔ بے صبر ہونا۔
 (وَتَجَوَّشٌ) کوشش کرنا۔

الجَوَسُ - معص - اخروٹ کا درخت۔
 اخروٹ - واحد - جَوَسَةٌ -
 الجَوَسَةُ - پانی کی ایک مرتبہ پینے کی
 مقدار - جوس ہندی - ناریل۔
 جَوَسٌ - الشی - چیز کا وسط - اور
 اکثر حصہ۔
 کہتے ہیں - "قطعوا جوسنة
 الفلاة" انھوں نے جنگل کا بیشتر
 حصہ طے کر لیا۔
 ومعنی جوسنا اللیل - رات کا
 اکثر حصہ گزر گیا - ج - آجَوَانُ -
 الجَوَسْنَاءُ - آسمان کے ایک برج کا
 نام ہے - وہ سیاہ بکری جس کے
 وسط میں سفیدی ہو۔
 الجَوَازُ - ص - پروانہ - راہ داری -
 غلام اس کو تذکوة السفر یا
 پاسپورٹ کہتے ہیں - ج -
 آجَوَانَةٌ -
 پانی کی اس قدر مقدار جو مسافر اپنے
 ہمراہ لے اور وہ ایک چشمہ سے دوسرے
 چشمہ تک اس کو کافی ہو۔
 الجویزة - کنارہ - گوشہ - وادی کا
 کنارہ - پانی کی ایک مرتبہ پینے کی
 مقدار -
 ج - جَوِيْزٌ وَجَوِيْزٌ -
 الاجازة - اذن - اجازت -
 اصطلاح محدثین میں روایت کی
 اجازت لفظاً یا کتابتاً -
 المجازن - وہ لفظ جو اپنے موضوع کے
 علاوہ کسی اور معنی میں کسی مناسبت
 سے استعمال کیا جائے -
 (و) والمجازة، راستہ -
 گزرگاہ -
 مجازن النهر - پل -
 المجازة - بست اخروٹ پیدا کرنے

<p>القوم۔ ارادہ سے بھیر دینا۔ منہم جولاً۔ پسند کرنا۔ اموالہم۔ لے جانا۔ إِنجَال۔ الغبار۔ غبار کا اوپر اٹھ کر پھیل جانا۔ استجال۔ استجالۃ۔ اموالہم اموال لے جانا۔ الجول۔ گھوڑوں یا چرواہوں کا گلہ۔ رَبِي۔ ج۔ آجول۔ د۔ والجول، وہ مٹی جس کو ہوا سطح زمین پر اڑاتی پھرے۔ الجال والجول۔ تجربا کنوس کی دیوار پھاڑ کا پہلو۔ جول القبر۔ قبر کا ارد گرد۔ کتے ہیں: مالہ جال او جول۔ اس کی نہ کوئی رائے ہے نہ مضبوط ارادہ۔ ج۔ جوال وجوال۔ وجوالۃ وجوالۃ واجوال۔ الجوالۃ۔ من الشئ۔ چیز کا بہتر حصہ۔ الجولان والحوالان۔ وہ مٹی جس کو ہوا ادھر ادھر گھماتی پھرے۔ الجولان۔ مص۔ مال کا چھوٹا اور روی حصہ۔ جولان الہموم۔ غموں کا آغاز۔ الجول والحوالۃ۔ بہت گھومنے والا۔ کہا جاتا ہے: "ہو جوالۃ جوالۃ" وہ بہت چکر لگانے والا اور مقلات میں پھرا ہوا ہے۔ الاجول۔ اسم تفضیل۔ یوم اجول۔ بہت گرد و غبار والادن۔ الاجوی۔ بہت چکر لگانے والا گھوڑا۔</p>	<p>جوق۔ دس، جوقاً۔ الوجہ۔ منکا ٹیڑھا ہونا۔ صفت (اجوق وجوق)۔ مؤنث۔ جوقاء۔ ج۔ جوق جوق۔ القوم۔ لوگوں کو جمع کرنا۔ علیہ۔ چلانا۔ شور مچانا۔ تجوقا۔ جمع ہونا۔ الجوق۔ ج۔ اجواق والجوقة۔ لوگوں کی جماعت۔ الاجوق۔ موٹی گردن والا۔ اجوق الفلق۔ ٹیڑھے جڑے والا۔ الاجوق۔ ٹیڑھے جڑوں والا۔ جال۔ دن، جولاً وجولاً وجولاً۔ وجولاناً وجیلاناً وجول تجوالاً۔ فی المكان۔ پھرنا۔ چکر لگانا گھومنا۔ جال الشئ۔ چیز پسند کرنا۔ جال القوم جولۃ۔ بھاگنے کے بعد پھر حملہ کرنا۔ جول الاسض۔ زمین میں بہت چکر لگانا۔ جاولہ مجاولۃ۔ ایک دوسرے کو دستکارنا۔ بٹانا۔ آجال۔ الشئ وبالشئ۔ گھمانا۔ السیف۔ تلوار سے کیلنا۔ اور اس کو ادھر ادھر گھمانا۔ کتے ہیں: "اجیل جائلتک" جس کام میں تو مشغول ہے اسے پورا کر۔ تجاول۔ القوم فی الحرب۔ ایک دوسرے کے مقابلے میں چکر لگانا۔ اجتال۔ اجتیالاً۔ گھومنا۔</p>	<p>پیٹ میں نیرو مارنا۔ الباب۔ دروازہ بھیر دینا۔ جوقہ۔ گھوکھلا کرنا۔ گرا کرنا۔ جوف میں جو کھمبے۔ سب نکال لینا۔ تجوق۔ گھوکھلا ہونا۔ (تجوقہ واجتافہ) جوف میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے: "اجتاف الوحشی کناسہ وتجوقہ" وحشی جانور اپنے بھٹ میں گھس گیا۔ استجاف واستجوف استجافۃ۔ الشیئ۔ وسیع وکشاوہ ہونا۔ الشیئ۔ گھوکھلا کرنا۔ الجوف۔ مص۔ پیٹ۔ من البیت۔ مکان کا اندرونی حصہ۔ ج۔ اجواف۔ الجوف مص۔ کشادگی۔ الجالف۔ فا۔ جوف تک پہنچنے والی چیز مؤنث۔ بالثفة۔ الجالفة۔ جوف تک پہنچنے والی نیزہ کی چوٹ یا ضرب۔ ج۔ جوالف۔ الاجوف۔ گھوکھلا۔ وسیع کو کہہ والا۔ مؤنث۔ جوقاء۔ ج۔ جوف الاجواف من الدلاء۔ بڑا ڈول۔ من القنا والشجر۔ اندر سے گھوکھلا۔ اندر سے خالی۔ الفعل الاجوف۔ وہ فعل جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ جیسے قال و باع۔ الاجوف۔ بڑے جوف والا۔ الاجوف۔ گھوکھلا۔ رجل راجوف واجوف۔ و مجوف، بزدل۔ المستجاف۔ وسیع جوف والا۔</p>
--	--	--

<p>جیوی۔ دس، جوسی۔ غم یا عشق کے باعث سوزش و جلن کا پیدا ہونا۔ الماء۔ پانی کا بدبودار ہونا۔ الشیء۔ ناپسند کرنا۔ جیویت نفسہ من البلد وعن البلد۔ ناموافق ہونا۔ جادی مجاواۃ۔ بالابل۔ پانی پر بلانا۔ اجتوسی۔ البلد۔ کسی شہر میں اقامت کو ناپسند کرنا (— واستجوی) الطعام۔ کھانے کو ناپسند کرنا۔ الجوی۔ مص۔ غم و عشق کے باعث پیدا ہونے والی سوزش و جلن سینہ کی ایک بیماری۔ بیماری کا کھنچ جانا۔ بتلائے سوزش عشق۔ الجواء۔ کشادہ وادی۔ زمین کا اندرونی حصہ۔ چرواہے کا تھیلا۔ وہ چیز جس پر ہانڈی رکھی جائے۔ الجوی۔ بدبودار۔ عاشق۔ سوزش عشق کا دکھی۔ الجوی۔ تنگ سینہ والا۔ مؤنث۔ جویۃ۔ الجیۃ۔ بدبودار پانی وغیرہ جمع ہونے کی جگہ۔ ج۔ جبئی۔ جاء یجئی ویجؤ مجیثا ومجیثۃ وجیثا وجیثۃ۔ آنا۔ بہ۔ لانا۔ جاءه وجاء الیہ۔ آنا۔ الشیء۔ کرنا صفت (جایی) مؤنث۔ جاییۃ۔ جآنی وجآیانی۔ کثرت آمد میں</p>	<p>بنانا۔ تجوۃ۔ بڑا ہونا۔ بتکلف بڑا بننا۔ الجاہ۔ والجاہۃ۔ قدر و شرف اور بلندی مرتبہ۔ الجوہر۔ مقابل عرض جو اپنے وجود میں اور کا محتاج نہ ہو۔ ہر وہ پتھر جس سے مفید چیز نکالی جائے۔ واحد۔ جوہرۃ۔ ج۔ جواہر۔ جوہر الشیء۔ چیز کی طبیعت یا اصلیت یا فطرت۔ جوہر السیف۔ تلوار کا جوہر۔ الجوہر الفرد۔ وہ چیز جو قابل القسام نہ ہو۔ ایٹم۔ الجوہر العلویۃ۔ افلاک ستارے۔ ارواح۔ الجوہری۔ جوہر کی جانب منسوب ضروری و لازم (عرضی کا مقابل) جوہر کا بنانے والا اور نیچے والا۔ جوی۔ تجویۃ۔ السقاء۔ مشک میں پیوند لگانا۔ الجو۔ آسمان و زمین کی درمیانی فضا۔ کشادہ وادی۔ کشادہ میدان۔ جؤ البیت۔ گھر کا اندرونی حصہ۔ جؤ الماء۔ زمین کا وہ قطعہ جو پانی کے لیے کھودا جائے۔ جؤ کل شیء۔ ہر شے کا اندرونی اور داخلی حصہ۔ ج۔ جواء۔ و أجواء۔ الجوانی۔ جؤ کی طرف منسوب۔ اس کا مقابل بتانی ہے۔ الجؤۃ۔ مشک کا پیوند۔ زمین کا سخت ٹکڑا۔ پہاڑ وغیرہ کا گڑھا۔ لوہے کا رنگ۔ گندم گوں رنگ۔</p>	<p>المجال۔ چکر لگانے کی جگہ۔ المجول۔ ڈھال۔ پازیب۔ تعویذ۔ ہار میں چاندی کا ہلال۔ کرتی۔ المستجیل۔ بے وقوف۔ جام۔ دن، جومًا۔ کچھ بھل یا بری چیز طلب کرنا۔ الجام۔ پیالہ۔ ج۔ جامات و أجوام و أجوم۔ وجوم۔ الجویۃ۔ جام کی تصغیر۔ جان دن، جونا۔ کالا ہونا۔ تجون۔ باب العروس۔ دلہن کے دروازے پر سفیدی کرنا۔ باب المیت۔ مردہ کا دروازہ سیاہ کرنا۔ الجون۔ مص۔ سفید۔ سیاہ۔ خالص سُرخ۔ وہ سبزی جو سیاہی مائل سبز ہو۔ دن۔ من الخیل والابل۔ بہت سیاہ گھوڑا یا اونٹ۔ ج۔ جون۔ الجونۃ۔ ڈوبتے وقت کی سورج کی ٹکیا۔ تار کول لگا ہوا مٹکا۔ کوئلہ۔ الجونۃ۔ عطاروں کی چمڑے کی ٹوکری۔ ج۔ جون۔ الجوناء۔ سورج۔ ہانڈی۔ سیاہ اونٹنی۔ الجونی۔ قطا پرندہ کی ایک قسم۔ جس کا سینہ اور بازو سیاہ ہوتا ہے۔ جاء۔ دن، جوہا۔ الرجل۔ بالمکروہ۔ ناپسند طریقے سے پیش آنا۔ جوہہ تجویھا و آجاہہ و إجاہہ۔ صاحب مرتبہ</p>
--	---	--

<p>الجائشۃ - نفس۔ الجیشۃ - جاش کا اسم قرۃ۔ ج۔ جیشات الجیش - شکر۔ ج۔ جیوش۔ الجیش - ایک قسم کی لمبی نبات کا نام ہے۔ الجیاش - متحرک مضرب۔ جاش رض، جیشنا و جیشنا تجیشنا - عنہ - مخوف ہونا۔ الگ ہونا - بچنا۔ جایضہ - شان و شوکت میں مقابلہ کرنا۔ الجیضۃ - دائیں بائیں جھکاؤ۔ الرجیض والرجیضی - متکبرانہ چال جاط رض، جیظا نا - تکبر سے چلنا۔ صفت۔ (جیظا ظ) بحملہ - بجاری بوجھ اٹھا کر چلنا۔ جافت - جیفا و جیفت و تجیفت واجتافت و الجافت - الجفتۃ - لاش کا ٹرمانا۔ بدبو دار ہونا۔ الرجیفتۃ - سڑی مروہ لاش۔ ج۔ رجیفت و آجیاف۔ الجیل - لوگوں کا ایک گروہ۔ قوم۔ صدی۔ ایک زمانہ کے لوگ۔ ج۔ آجیل و جیلان۔ الجیہل والجیہلۃ - انگارہ ہلانے کی لکڑی۔ کرینی۔ صفاۃ جیہل - بڑی چٹان۔ الجیہم - حروف ہجاء کا پانچواں حرف۔ (مذکر مؤنث) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔</p>	<p>جیور الحوض۔ کچ کرنا۔ چونہ کی استر کاری کرنا۔ جیور - حرف جواب ہے۔ نعم دہاں، کے معنی دیتا ہے۔ الجیور - کچ۔ چونہ۔ سیمنٹ۔ الجیاس - بے بجا چونہ۔ (و الجاشد) غصہ یا بھوک کے سبب سینہ کی سوزش۔ حوض تجیور - کچ کیا ہوا حوض۔ گہرا حوض۔ جاشت رض، جیشا و جیشنا نا و جیوشا۔ القدس - ہاتھی کا ابلنا۔ البحر - سمندر کا جوش میں آنا۔ الصدل - سینہ یا دل کا مارے غصہ کے ابل پڑنا۔ جوش میں آنا۔ الجراب بینصح لڑائی کا تیز ہوجانا العین - آنکھ کا آنسو بہانا۔ الوادی - مورچ مارنا۔ المیزاب - پرنا لہ کا خوب اچھی طرح بہ پڑنا۔ النفس - جی متلانا۔ نفس الجہان - بھانگنے کا ارادہ کرنا جیش - الجیوش - فوجوں کو جمع کرنا۔ تجیش - القوم - لوگوں کا جمع ہونا تجیشت نفسہ - دل متلانا استجاش - الجیش - فوج جمع کرنا۔ الامیر - امیر سے لشکر اور ملک مانگنا۔ القوم - لوگوں کی مدد لینے پر برا بھلا کہنا۔</p>	<p>مقابلہ کرنا۔ آجاءۃ - لانا۔ آئے کو لادم ٹھہرانا۔ الجیشۃ - ایک مرتبہ کی آمد۔ پیپ اور خون۔ ٹکڑا جس سے جوتے میں پیوند لگایا جائے۔ الجیشۃ - آنا۔ ج۔ جیات۔ جاب رض، جیبا - البلاد۔ ملک کو طے کرنا۔ القیمیص - قمیص کا گریبان کاٹنا۔ جیب - القیمیص - قمیص کا گریبان بنانا الجیب - من القیمیص - گریبان۔ دل و سینہ۔ ناصر الجیب - امین صادق۔ جیب الارض - زمین میں داخل ہونے کی جگہ۔ ج۔ جیوب۔ اور عوام کے نزدیک جیب اور جیبۃ - تھیل یا پاکٹ کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع جیاب ہے۔ جآح - یجیح - جیما و جائحة۔ اللہ القوم۔ جڑ سے اکیرٹنا ہلاک کرنا۔ جآح - یجیح جیحا۔ السیل الوادی۔ سیلاب کا وادی کے کناروں کو بہا لے جانا۔ جآد و جید یجلا جیدا - گروں کا لہا اور خوبصورت ہونا۔ ج۔ آجیاد و جیود۔ صفت۔ (آجید) مؤنث۔ جیداء و جیدائۃ۔ ج جود اور کبھی جید گروں کی صفت بن کر آتا ہے۔ کہتے ہیں۔ "عنق آجید"</p>
---	---	---

حَبَبَهُ (رض) حُبًّا وَحُبًّا - محبت کرنا
 — الشَّيْءَ - رغبت کرنا۔
 حَبَّ (رض) وَحَبَّبَ (ك) محبوب ہونا
 پیارا ہونا۔
 حَبَّبَهُ - الج - پیارا بنانا۔ محبوب
 بنانا۔
 کہتے ہیں: "حَبَّبَنِي آيَاهُ" اس
 نے مجھ کو اس کا محبوب بنایا۔
 حَبَّبَ الْقُرْبَةَ مَشْكُ بَهْرًا۔
 حَبَّبَ وَاحَبَّ السَّوْعَ كَيْفِيَّتِي كَا
 وَارِدًا بَهْرًا۔
 حَابَّهُ مَحَابَّةً وَحَبَابًا - باہم
 محبت و الفت کرنا۔ دوستی کا
 اظہار کرنا۔
 أَحَبَّهُ - بمعنی حَبَّهُ لیکن یہ حب
 سے زیادہ مستعمل ہے۔
 صفت فاعل رَجَبٌ مَحْبُوبٌ وَ
 مُحَبَّبٌ
 تَحَبَّبَ - اليه - کسی سے محبت و
 دوستی کا اظہار کرنا۔ تَحَبَّبَ مِنْ
 اثْرَابٍ - بھرنے سے منگے کے
 مانند پھول جانا۔
 تَحَابَّتْ - الْقَوْمَ - لوگوں کا ایک دوسرے
 سے محبت کرنا۔
 اسْتَحَبَّهُ - محبت کرنا۔ پسند کرنا۔
 کہا جاتا ہے۔ اسْتَحَبَّتْ الْكُفْرَ
 عَلَى الْإِيمَانِ - اس نے کفر کو ایمان
 پر فضیلت دی۔
 الْحَبُّ (ج) حُبُّوبٌ وَحَبَّانٌ - دانہ۔
 فاصد حبیبہ، ج۔ حَبَّاتٌ -
 حَبُّ الْغَمَامِ أَوْ رَجَبَةُ الْقَلْبِ
 دل کا دانہ یا روح - الْحَبَّةُ دُو
 بِلَاكٍ بِلَا بِلَاكٍ وَزَنُّهَا كَالنَّامِ هُوَ -

وینار کا سولہواں حصہ۔ الْحَبَّةُ
 الْخَضْرَاءُ - گندہ بروزہ کے
 درخت کا پھل۔ الْحَبَّةُ
 السَّوْدَاءُ - کلونجی۔
 الْمَحَبَّةُ - ایک مرغوب شے کی طرف
 طبیعت کا میلان۔
 الْحَبُّ - مَص - دوست، عاشق، محبوب
 ج۔ أَحْبَابٌ وَحَبَّانٌ وَحَبَبُهُ وَ
 وَحُبٌّ وَحُبُوبٌ۔
 الْحَبُّ - مَص - بڑا گڑا یا مٹکا۔
 ج۔ حَبَابٌ وَحَبَبُهُ وَأَحْبَابٌ
 الْحَبَّةُ - انگور کا بیج - محبوب - محبوبہ۔
 ج۔ حُبُّبٌ -
 کہتے ہیں: "هَذَا حَبَّبْتُكَ" یعنی وہ
 چیز ہے جس کا دل جانا آپ کو پسند ہے۔
 "وَلَعَمْرُكَ وَحْبَةٌ كَرَامَةٌ"
 جس طرح کہا جاتا ہے حُبًّا وَ
 كَرَامَةً۔
 الْحَبَّبُ - وائتوں کی برابر قطار۔
 (وَالْحَبَابُ) بَلْبَلٌ - حَبَّبٌ
 الْمَاءِ أَوِ الرَّمْلِ وَحَبَبُهُ
 پانی یا ریت کا بڑا حصہ۔
 الْحَبَابُ - انْتَارٌ - غایت۔
 کہتے ہیں۔ حَبَابُكَ إِنْ تَفْعَلْ
 كَذَا - یعنی تمہاری انتہائی کوشش
 یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔
 الْحَبَابُ - دُوسْتِي - محبت - سانپ
 أَمْرٌ حَبَابٌ - دنیا۔
 الْحَبَابَةُ - ایک سیاہ آبل کیڑا۔
 ج۔ حَبَابٌ -
 الْحَبِيبُ - حُبٌّ - محبوب۔
 ج۔ أَحَبُّهُ وَأَحْبَابُهُ وَأَحْبَابٌ -
 الْحَبَابُ - حَبٌّ - کا اسم مبالغہ۔ گیار

منگے اور گھڑوں کا بیچنے والا۔ یا
 بنانے والا۔
 الْحَبِيبُ - فَا - کہا جاتا ہے۔ امرأَةٌ
 مُحَبَّبَةٌ لِرَوْحِهَا وَحَبَبُهُ۔
 حَبَّبَهُ (رض) حُبًّا - بِالْعَصَاءِ -
 لَامِطِي سَمَارًا۔
 (وَأَحْبَبَ) -
 الْأَمْرُ - اچانک ظاہر ہونا۔ نزدیک
 آنا۔ ظاہر ہونا۔
 حَبَّبَ (س) حُبًّا وَحَبَّبَ (ف) -
 حَبَابًا -
 سوجے ہوئے اور پھولے ہوئے پیٹ
 والا ہونا۔ صفت (حَبَّبٌ)۔
 الْحَبَّبُ - مَص - سُدھ کا شکل کی پیٹ
 کی بیگیاں۔
 حَبَّبَ حَبَبَةَ الْمَاءِ - پانی کا
 آہستہ بہنا۔ ٹھوڑا بہنا۔
 - النَّارُ - آگ کا بھڑکانا۔
 الْحَبَابُ - پست قد۔ بد شکل۔ بد خلق
 ج۔ حَبَابٌ -
 الْحَبَابُ - أُمٌّ حَبَابٌ - جگور۔
 جگور کے دم میں چمکی ہوئی روشنی۔ اور
 اسی سے "نَارُ الْحَبَابِ" ہے جس
 کو صنعت و کزوری میں بطور مثل کے
 استعمال کرتے ہیں "نَارُ الْحَبَابِ"
 گھوڑے کے سم سے اڑنے والی چمکاری
 جب کسی قوم کی زمین پر پڑتا ہے۔
 الْمَحْبُوبُ - بَرِيٌّ فَذَاكَ لَيْسَ وَالًا -
 الْحَبَابَةُ - تَرْبُوزٌ - ج۔ حَبَابٌ -
 حَبَّاءُ - یہ کلمہ "حَبَّ" اور "حَبَّاءُ" اسم
 اشارہ سے مرکب ہے۔ مدرح کے لیے
 استعمال ہوتا ہے اور یہ اپنی حالت
 نہیں بدلتا۔

<p>محدود رکھنا۔ واحتبسہ روک رکھنا (لازم و متعدی) احتبس۔ الرجل۔ روکنا۔ قید کرنا۔ الحبس۔ حبوس۔ ورا الحبس۔ ج۔ تحابس۔ قید خانہ۔ جیل۔ الحبس۔ بچھونے کے اور پرکاپرہ۔ لکڑی یا پتھر کی ڈاٹ۔ ج۔ احباس۔ الحبس۔ واحد تحابس (الحبس) واحد۔ حبوس یا حبیس۔ پیادے۔ بروقت شدہ شے۔ الحبسۃ بگفتگو میں رکاوٹ و دشواری الحابسہ۔ الحابس کامونٹ۔ وہ اونٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر پر باندھ کر رکھے جائیں۔ الحباس۔ گھر پر باندھ کر رکھے جانے والے شریف النسل اونٹ۔ کارخیر میں وقف کی ہوئی چیز۔ یہ "حبیسۃ" کی جمع ہے۔ الحبیس۔ قیدی۔۔ من الخیل جہاد کے لیے وقف کیا ہوا گھوڑا۔ ج۔ حبس۔ دنیا سے کنارہ کش ہو کر گوشہ عزلت اختیار کرنے والا۔ ج۔ حبس۔ قید خانہ۔ عابدوں۔ زاہدوں کا گوشہ عزلت۔ ج۔ تحابس۔ حبش دن، حبشاً و حبساً و حبشاً و حبشاً و حبشاً و حبشاً۔ حبش و حبشاً و حبشاً۔ حبشاً۔ جمع کرنا۔ حبشاً۔ المرأة۔ عورت کا حبش بچہ بننا۔ حبش۔ القوم۔ لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ الحبشہ۔ ج۔ حبشات و الاحبوس والاحبوشۃ۔ ج۔ احابش۔ مختلف قبیلوں کے لوگوں کا گروہ۔</p>	<p>الحبر۔ مص۔ اثر۔ الحبرۃ۔ بتثلیث الحاء۔ دانتوں کی زردی۔ الحبرۃ و الحبرۃ۔ ایک قسم کی یعنی چادر۔ ج۔ حبرات و حبرات و حبر۔ الحبرۃ۔ درخت کی گانٹھ۔ الحبرۃ۔ خوشی نعمت۔ عمدہ راگ۔ الحبر و الحبر۔ من ایشاب۔ نیا و نرم کپڑا منقش چادر۔ حبر کی جمع حبر ہے۔ الحباس۔ ج۔ حبارات و الحبر۔ ج۔ حبوس۔ نشان۔ اثر۔ کتے ہیں۔ "مجلدۃ حبار الصر" اس کی جلد پر چھٹ کا نشان ہے۔ "فی یدہ حبار العیل" اس کے ہاتھ میں کام کا اثر و نشان ہے۔ الحبرۃ و الحبرۃ و الحبرۃ و الحبرۃ۔ دوات۔ ج۔ تحابس۔ الحبوسۃ۔ امامت۔ الحباری۔ سرخاب۔ ج۔ حبارات۔ الحبروس و الحبرید۔ سرخاب کا چمڑہ۔ ج۔ حبارید۔ جسہ (من) حساً و حساً۔ قید کرنا۔ عن الشیخ۔ منخ کرنا۔ الشیخ۔ پورے فریقہ سے حفاظت کرنا۔ الشیخ بالشیخ۔ ڈھانپنا یا احاطہ کرنا۔ المال علی کذا۔ مال وقف کر دینا۔ احبس و حبس۔ المال۔ مال کو اللہ کے راستہ میں وقف کر دینا۔ حابسہ۔ تحابسۃ۔ روکے رکھنا۔ حراست میں رکھنا۔ تحبس و احتبس۔ فی الکلام۔ کلام میں رک جانا۔ علی کذا</p>	<p>حبسۃ۔ کسی سے حبس کرنا۔ حبران، حبرا۔ الشیخ۔ زینت دینا۔ آراستہ کرنا۔ منقش کرنا۔ حبرۃ دن، حبرا و حبرۃ و احبرہ۔ خوش و مسرور کرنا۔ احبوت الارض۔ زمین میں پیداوار کا زیادہ ہونا۔ حبراس، حبراً و حبرا۔ خوش ہونا۔ (حبراً) الحبر۔ زخم کا اچھا ہونا اور کچھ اثر باقی رہنا۔ الاسنان۔ دانتوں کا زرد ہونا۔ الارض۔ زمین کا خوب پیداوار اگانا۔ خوب سرسبز ہونا۔ حبر۔ الدواقی۔ دوات میں روشنائی ڈالنا۔ الکلام و الخط او الشعر۔ کلام، خط یا شعر کو عمدہ بنانا۔ حبر۔ پسوں کے کاٹے کا نشان والا ہونا۔ تحبیر۔ مزین ہونا۔ عمدہ ہونا۔ السحاب۔ ابر کا ظاہر ہونا اور پھیل جانا۔ الحبر و الحبر۔ نیک عالم خوشی نعمت دینی پیشوا۔ الحبر الاعظم پوپ۔ یہودیوں کے نزدیک کاہنوں کا سردار۔ ج۔ احباس۔ وحبوس الحبر۔ روشنائی۔ خوبصورتی۔ نقش و نگار۔ دانتوں کی زردی۔ ج۔ حبوس۔ کتے ہیں فلان حسن الحبر و السبر۔ یعنی فلان اچھی بیشت و شکل والا ہے و فلان لبس لہ حبر۔ فلان کا کوئی مثل و نظیر نہیں۔ و ذہب حبرہ و سبرہ۔ یعنی اس کا حسن اور اس کی خوش روئی باقی رہی۔</p>
---	--	--

<p>الْحَبْشِيُّ وَالْحَبْشِيَّةُ - ملک حبش کا باشندہ۔ واحد (حَبْشِي)، ج. حَبْشَانٌ۔</p> <p>— الْحَبْشِيَّةُ - ملک حبش جو آجکل کی جغرافیہ میں "ابی سینیا" کے نام سے مشہور ہے۔</p> <p>الْحَبْشِيَّةُ - سخت سیاہ اونٹ۔ سیاہ رنگ۔ بڑے جثہ کی چیونٹی۔</p> <p>الْحَبْشِيَّةُ - عقاب۔</p> <p>الْحَبْشِيُّ - حبشی۔ ج. أَحَابِشٌ۔</p> <p>حَبْضٌ (ض)، حَبْضًا وَحَبْضِيٌّ (س) - دل کا سخت دھڑکنے کے بعد ساکن ہو جانا۔</p> <p>— الرَّجُلُ - مرجان۔</p> <p>السَّهْمُ - تیر کا تیر انداز کے سامنے ہی گر جانا اور سیدھا نہ جانا۔</p> <p>الْوَتْرُ - تار بجانا۔ آواز نکالنے کے لیے حرکت دینا۔</p> <p>حَبْضٌ (ن ض)، حَبْضًا - ماء البئر کنویں کا پانی گھسٹ، جانا۔</p> <p>حَقَّةٌ - حق تلف ہونا۔</p> <p>السَّهْمُ - تیر کا تیر انداز کے سامنے گر کر رہ جانا اور سیدھا نہ جانا۔</p> <p>الغلامُ - لڑکے کا لوگوں کے نیک گمان کے خلاف نکلنا۔</p> <p>أَحْبَضٌ - حَقَّةٌ - حق باطل کرنا۔</p> <p>البئرُ - کنویں کا پانی ختم کرنا۔</p> <p>الْحَبْضُ - رگ کی تیز دھڑکن۔ شدت کی حرکت۔ کہتے ہیں "ما به حَبْضٌ وَلَا نَبْضٌ" یعنی اس میں جس و حرکت نہیں۔</p> <p>الْحَبْضُ - دھن کی کمان۔ شہد نکالنے کی کڑی۔ ج. حَبَابِضٌ (مجاہدین)، رجل حَابِضٌ وَحَبَّاضٌ - کنجوس و بخیل آدمی۔</p>	<p>حَبْطٌ (س)، حَبْطًا وَحَبْطًا - عَمَلُهُ - عمل بے کار ہونا۔ خراب ہونا۔ برباد ہونا۔</p> <p>(— وَاحِبْطٌ، ماء البئر - کنویں کا پانی ہمیشہ کے لیے کم ہو جانا۔</p> <p>حَبْطٌ - دَمُ القَتِيلِ - مقتول کا خون رائیگاں جانا۔</p> <p>حَبْطُ البعيرِ حَبْطًا - حذوق نامی نبات کے کھلنے سے اونٹ کا پیٹ پھول جانا۔ صفت (حَبْطٌ) ج. حَبَاطٌ - اور اس شکایت کا نام حَبَاطٌ ہے۔</p> <p>أَحْبَطٌ - عَمَلُهُ - بیکار و باطل کرنا۔</p> <p>أَحْبَطُ الضَّرْبِ زِيدًا - چوٹ کا نشان چھوڑنا۔</p> <p>أَحْبَطَ عَنْهُ - روگردانی کرنا! عراض کرنا کہتے ہیں۔ "تعلق به ثم احبط عنه" یعنی پہلے اس کا تعلق اس سے ہوا پھر اس نے روگردانی کی۔</p> <p>الْحَبْطُ - مص - بدن پر زخم یا کوڑے کا لٹگان۔ مار کے سبب سوچن۔</p> <p>الْحَبْطِيُّ - موٹا و پست قدر غصے میں بھرا ہوا۔</p> <p>حَبَقَةٌ (ض)، حَبَقًا - مارنا۔</p> <p>حَبَقٌ (ض)، حَبَقًا وَحَبَاقًا - العنزُ - بکری کا گوز کرنا۔ اس کا زیادہ تر استعمال بکری اور اونٹ کے لیے ہے۔</p> <p>حَبَقٌ - المَنَاعُ - جمع کرنا۔ مضبوط کرنا</p> <p>أَحْبَقٌ - تابع دار ہونا۔ مطیع ہونا۔</p> <p>حَبَقُوا وَتَحَابَقُوا - علیہ۔ یوقونی کا برتاؤ کرنا۔ جہالت سے کام لینا۔</p> <p>الْحَبَقُ - پودینہ۔ واحد - حَبَقَةٌ - حَبَقٌ المَاءِ - زہری نعناع۔</p> <p>حَبَقٌ البَقْرِ - بالونہ۔</p>	<p>حَبَقٌ الفَتَى وَالْقَيْلُ - مرز بخروش الحَبَقُ وَالْحَبَقَةُ - کم عقل۔ کہتے ہیں رجلٌ حَبَقَةٌ - جاہل آدمی۔</p> <p>الْحَبَقُ - بے خیر آدمی۔</p> <p>حَبَكُهُ (ن ض)، حَبَكًا - ہاندھنا مضبوط کرنا۔ الحائِكُ الثوبِ - جولاہے کا کپڑے کو کاریگری سے بننا۔ عمدہ بننا۔</p> <p>حَبَكُهُ - مضبوط کرنا۔</p> <p>أَحْبَكُهُ - مضبوط کرنا۔ اچھے طریقے سے کرنا۔</p> <p>تَحَبَّكَ - مکر ہاندھنا۔ کپڑے میں لپٹنا۔</p> <p>أَحْتَبَكَ - الثوبُ - کپڑا عمدہ بننا۔</p> <p>بالاناس - ازار ہاندھنا۔</p> <p>الْحَبَكَةُ - ج. حَبَكٌ وَحَبَاكٌ - ج. حَبَكٌ - کر بند۔ پشکا۔ ریت کے ٹیلہ پر کا راستہ۔</p> <p>الْحَبِيكُ - بنا ہوا۔ مضبوط کیا ہوا۔</p> <p>الْحَبِيكَةُ - الْحَبِيكُ كالمؤنث - ریت کے ٹیلہ کا راستہ۔ ستاروں کے درمیان کا راستہ۔ ہالوں کے گچے کی ایک لٹ۔ لوسے کی زرہ۔ ج۔</p> <p>حَبَائِكُ وَحَبِيكٌ وَحَبِيكٌ - کہتے ہیں "والسماواتُ الحَبِيكُ" قسم ہے آسمان راستوں والے کی۔</p> <p>المَحْبِيكُ - ازار ہاندھنے کی جگہ۔</p> <p>حَبَكُو - الشئ - جمع کرنا۔</p> <p>تَحَبَكُو - فی طریقہ - حیران ہونا۔</p> <p>حَبَلُهُ (ن) حَبَلًا - رسی سے ہاندھنا</p> <p>الصَّيْدُ - شکار کو پھندے سے پکڑنا صفت (حابل)</p> <p>حَبَلٌ (س) حَبَلًا - المِرْأَقُ - حائل ہونا۔ صفت (حابلہ)۔ ج۔</p> <p>حَبَلَةٌ وَرَحْبَلِيٌّ - ج. حَبَالِيٌّ وَحَبَلِيَّاتٌ وَحَبَلَانَةٌ - من المَاءِ - بھر جانا۔ صفت</p>
--	---	---

(حَبْلَانِ)
 حَبْلَهَا وَأَحْبَلَهَا - معاملہ کرنا۔
 أَحْبَلَ النَّخْلَ - گاجھا دینا۔
 أَحْبَلَ الصَّيْدَ - شکار کو پھندے سے پکڑنا کہتے ہیں۔ "أَحْبَلَهُ الْمَوْتُ بِحَبْلِئِهِ" موت نے اس کو اپنے پھندے میں لے لیا۔
 (وَتَجَبَّلَ الصَّيْدُ) شکار کا پھندے میں پھنسا۔ الدَّابَّةُ جَانور کی ٹانگوں کا رسی میں پھنس جانا۔
 أَحْبَلَ - رسی۔ باندھنے کی چیز۔ ج۔
 حَبَالٌ وَأَحْبِلٌ وَحَبُولٌ وَآحْبَالٌ - ملاپ۔ عمد و عمدہ۔ ریت کا لمبا قطعہ۔ رگ بدن۔ جیسے جبل الذراع و جبل الوريد۔
 کہتے ہیں: "هُوَ عَلَى حَبْلِ ذِمَاعِكَ" وہ تم سے قریب ہے وَصَلَ زَيْدٌ حَبْلَ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ لَمْ يَلِكْ لَهَا شَاوِي عَمْرٍو سے کر دی۔ "وَهُوَ يَطْبُ فِي حَبْلِ فَلَانٍ" یعنی وہ اس کی مدد و اعانت کرتا ہے۔ "وَصَرَمَ حَبْلَهُ" اس نے تعلقات توڑ لیے۔
 الْحَبْلُ - حص۔ انگور کی بیل یا اس کی شاخیں۔ واحد حَبْلَةٌ - ج۔
 أَحْبَالٌ - بھر جانا۔ غم و غصہ حمل الجبل۔ بڑا ہوشیار عالم بڑا ممالک و مکار۔ ج۔ حَبُولٌ۔
 الْحَابِلُ - شکاری۔ جادوگر۔ کپڑے کا تانا۔
 اخلط الحابل بالنابل۔ یہ ضرب المثل اس وقت بولی جاتی ہے جبکہ کوئی معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہو۔ بعض کے نزدیک اس مثال میں "حابل" سے مراد تانا ہے اور "نابل"

سے بانا۔ بعض کہتے ہیں کہ حابل سے مراد پھندے سے شکار کرنے والا۔ اور کہا جاتا ہے۔ "وَأَسَى حَابِلٌ عَلَى نَابِلِهِ" یعنی اس کا اول آخر پر گھوم گیا۔ "وَأَسَى حَابِلُهُمْ عَلَى نَابِلِهِمْ" یعنی انھوں نے اپنے درمیان شر و فساد برپا کر لیا۔ وَحَوْلٌ حَابِلُهُ عَلَى نَابِلِهِ" یعنی اس نے اوپر کا نیچے کر دیا۔
 الْحَابُولُ - درخت پر چڑھنے کے لیے پھال کی رسی۔
 الْحَبَالُ - بھر جانا۔ کہتے ہیں۔ بہ حبال من الشراب۔
 الْحَبَالَةُ - پھندا۔ ج۔ حَبَائِلُ - الْأَحْبُولُ وَالْأَحْبُولَةُ - پھندا۔
 الْحَبَالَةُ - کسی چیز کا مناسب وقت بوجھ۔
 الْحَبَالُ - رسی بنانے والا یا بیچنے والا۔
 الْحَبْلَانُ - بھرا ہوا۔ غصہ و کینہ سے بھرا ہوا۔ مؤنث۔ حَبْلَانَةٌ -
 الْمُحْبَلُ - حل کی مدت۔
 الْمُحْبَلُ - رسی۔ شعراً مُحْبَلٌ - بڑے ہونے والے۔
 مُحْبَلٌ - الفوس۔ گھوڑے کی ٹانگ اور کمر کا جوڑ۔
 حَبْنٌ (ض) حَبْنًا وَحَبْنٌ - حَبْنًا - بڑے سوچے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت (حَابِنٌ وَحَبُونٌ وَأَحْبِنٌ) - علیہ کسی کے خلاف غصہ سے بھر جانا۔
 أَحْبَنَهُ الدَّاءُ - سوچے ہوئے پیٹ والا کر دینا۔
 الْحَبْنُ وَالْحَبِينُ - کینہ کا درخت۔
 أُمَّ حَبِينٌ وَالْحَبِينَةُ - گرگٹ کے

مشابہ ایک ہانور۔
 الْحَبْنُ - بندر۔ پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا۔ ج۔ حَبُونٌ -
 حَبَانٌ (حَبْوَانٌ) - نزدیک ہونا۔ کہتے ہیں: "حَبَوْتُ إِلَى الْخَمْسِينَ" میں پچاس سال کے قریب ہو گیا۔
 - الْوَلْدُ - بچہ کا سرین کے بل گھسنا۔
 - السَّفِينَةُ - کشتی کا چلنا۔
 "حَبَانًا حَوْلَهُ" - حفاظت کرنا اور منع کرنا۔ الشَّيْءُ لَهُ - پیش آنا۔
 - السَّهْمُ - تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔
 - كَذَا وَكَذَا - بغیر بدلہ کے دینا۔
 - عَنِ كَذَا - منع کرنا۔
 حَبَّاهُ - حفاظت کرنا۔ منع کرنا۔
 حَابِيٌ - محاباة و حَبَاءٌ -
 الْوَجَلُ - کسی کی مدد کرنا۔ طرفداری کرنا۔
 فِي الْبَيْعِ - بیع میں سہولت برتنا۔
 الْقَاضِيُ زَيْدًا فِي الْحُكْمِ - انصاف چھوڑ کر مائل ہونا۔ جھکا۔
 أَحْبَى - الواحی - تیر انداز کے تیر کا نشانہ خطا کر جانا کہتے ہیں "رَفِي فَا حَبِي" اس نے تیر پھینکا مگر نشانہ پر نہ لگا۔
 أَحْتَبِي - إِحْتِبَاءٌ - بالثوب - کپڑے میں لپٹ جانا۔ پاؤں پر بیٹھ کر ٹانگوں اور پیٹھ کو کپڑے سے باندھ کر سہارا لینا۔
 الْحَبَاءُ - وَالْحَبْوَةُ وَالْحَبْوَةُ - عطیہ۔
 نَحْشُشُ - الْحَبَاءُ - عورت کا سر۔
 الْحَبْوَةُ وَالْحَبْوَةُ - وہ کپڑا جس سے بیٹھنے کے وقت پیٹ اور ٹانگوں کو باندھ کر سہارا لیا جاتا ہے۔ ج۔
 حَبِيٌّ وَحَبِيٌّ -
 الْحَبِيٌّ وَالْحَبَا - گہرا بادل جو زمین کے نزدیک ہو۔

الْحَابِلِي - گردن تک اٹھے ہوئے کندھوں والا۔

حَتَّ (ن) حَتًّا - الشَّجَرِ - درخت کے پتے جھاڑنا۔ پھال اتارنا۔

الشَّيْءِ عَنِ الثُّوبِ - کپڑے پر سے کپھڑو وغیرہ نکل کر پھڑانا۔

عَنِ الشَّيْءِ - ہٹا دینا۔

الْوَدْقِ أَوِ الْقَشْرِ - پتے جھاڑنا یا پھال گزنا۔

تَحَاتَّ تَحَاتًّا وَاجْتَمَعَتِ الْجَتَاتُ - درخت سے پتے جھڑنا۔

شَعْرَهُ عَنِ رَأْسِهِ - سر کے بال گزنا۔

الْإِسْنَانِ - دانتوں کا کھوکھلا ہو کر گر جانا۔

الْحَتَّ - مَصَّ - مروہ ٹڈی۔

الْفَرَسِ - حَتَّ - تیز رفتار گھوڑا۔

حَتَّاتٌ - کتے ہیں: تروکھم۔

حَتَّابًا أَوْ حَتَّافًا - یعنی انھوں نے ان کو ہلاک کر دیا: وما فی

يَدِي مِنْهُ حَتَّ أَوْ حَتَّافًا: اس میں سے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔

الْحَتَّتْ - درخت کا ایک روگ جس سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

الْحَتَّاتُ - بکھری ہوئی چیز: چہرہ۔ ریزہ۔

الْحَتَّاتُ - شور و غل۔

الْحَتُّوتُ وَالْحَتَّاتُ - من النخْلِ - وہ کھجور کا درخت جس کا کچا پھل گر جائے۔

حَتَّى - یہ کئی طرح استعمال ہوتا ہے۔

(۱) بمعنی حرف انتہا جیسے اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا - یعنی میں نے پھل کو اس کے سر تک کھایا دگویا سر نہیں کھایا،

(۲) مضارع پر داخل ہو کر نصب دیتا ہے جیسے - اجتمع حتى

أَفُوشًا - یعنی کامیاب ہونے تک میں کوشش کرتا رہوں گا۔

(۳) علت یا وجہ بنانے کے لیے۔ جیسے - تَرَهَّبْتُ حَتَّى اتُّوبَ - میں نے توبہ کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کی۔

(۴) حرف عطف بمعنی واؤ۔ جیسے اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا - میں نے پھل کو اس کے سر کو کھالیا۔

(۵) حرف ابتداء جیسے فَوَ عَجَبًا حَتَّى كَلَيْبٌ لَسْبَتَنِي - بڑا تعجب ہے کہ کلب مجھے گال دینے لگے۔

حَتَّامًا - کب تک۔ اس کی اصلیت حتی ما ہے ما استفہامیہ کا الف حذف کر دیا گیا ہے۔

حَتَّنًا (ن) حَتَّنًا وَأَحْتًا - العُقَدَةُ - گرہ باندھنا۔

الشُّوبُ - کپڑا سینا۔

الْجِدَا سَمًا - دیوار مضبوط کرنا۔

الشَّيْءُ - لگانا دیکھنا۔

الْحِصْلُ - عن الدابة - بوجہ جانور پر سے اتار لینا۔

حَتَّحَتْ - جلی کرنا۔

تَحْتَحَتْ - الورد - جھڑنا۔

حَتَّدًا (س) حَتَّدًا - خالص الاصل ہونا صفت۔

حَتَّدًا (ض) حَتَّدًا - بالمكان - اقامت کرنا۔

حَتَّدًا - الشَّيْءِ - کسی شے کے خالص اور نفیس ہونے کی وجہ سے اس کو چن لینا۔

الْحَتَّدُ وَالْحَتَّدُ - من الشَّيْءِ - اصل و جوہر کہتے ہیں: عین حَتَّدًا

وہ چشمہ جس کا پانی ختم نہ ہوتا ہو۔

المَحْتَدُ - اصل - کہتے ہیں فلان کریم المَحْتَدُ - فلان کریم الاصل ہے۔

حَتَّرَ (ن) حَتَّرًا وَحَتَّرًا - باندھنا۔ اور مضبوط کرنا۔ تیز نگاہ سے دیکھنا۔

خَوْرًا كَمَا دِينًا - یا بخشش میں کمی کر دینا۔ حَتَّرَ لَهُ شَيْئًا - مقوڑا دینا۔

اهلہ - اہل و عیال کے نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ کما جاتا ہے وَاَحْتَرْتُ اليَوْمَ شَيْئًا - آج مجھ کو کچھ نہیں ملایا میں نے آج کچھ نہیں کھایا۔

أَحْتَرَّ - الشَّيْءُ - مضبوط کرنا۔

الرَّجُلُ - آدمی کا تقویٰ بھلائی اور بخشش والا ہونا۔ عَلِينَا الرِّسْقُ - رزق کم کرنا۔

اروک لینا۔ حَتَّرَ - نان نفقہ میں کمی کرنا۔

الْبَيْتَ - گھر کے گرد گھیرا بنانا۔

الْحَتَّرَ وَالْحَتَّرَ وَالْحَتَّرَ - تقویٰ چیز: تقویٰ بخشش۔

حَتَّارٌ - الشَّيْءِ - کفارہ۔ شے۔ گھیرا۔

حَتَّارِ الْأُذُنِ - کان کا کفارہ۔

حَتَّارِ الظُّفْرِ - ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔

حَتَّارِ المَنْخَلِ وَالْفَرْبَالِ - چھلنی کا گھیرا۔

الْحَتَّرَةَ - بچہ کا ایک بار دوسرا سنا۔

الْحَتِّيَّةُ - بعض کے نزدیک الحثيرة۔

وہ کمانا جو عمارت کے تیار ہونے پر کھلایا جاتا ہے۔

حَتَّرَشَ - حَتَّرَشًا - الجَوَادُ - ٹڈی کا کہنے میں آواز نکالنا۔

تَحْتَرِشَ - القَوْمُ - اکٹھا ہونا۔ جمع ہونا۔

الْحَتَّرُوشَ - چست لڑکا۔

الْحَتَّارِشَ - بچہ کی حرکتیں کہتے ہیں۔

ما احسن حَتَّارِشَ هَذَا الصَّبِيِّ اس بچہ کی حرکتیں کیسی پیاری، اور

بھلی ہیں۔

تَحْتَرَفُ - الشَّيْءُ - بکھرانا، کہتے ہیں۔

تَحْتَرَفُ الشَّيْءُ مِنْ يَدِي - چیز

میرے ہاتھ سے بکھر گئی۔

الْحَتْرَفَةُ - آنکھ کی سُرخی، خشونت۔

الْحَتْفُ - موت، کہتے ہیں مَاتَ حَتْفًا

انفہ او حتف فیہ - وہ

بغیر کسی کے مارنے کے اپنی طبعی موت

سے مرا، ج۔ حَتُوفٌ -

حَتَّكَ (ض) حَتَّكَ وَحَتَّكَ نَا وَ

تَحَتَّكَ - چمٹے اور تیز تیز قدموں

سے چلنا۔

الْحَتَّكَ وَ الْحَوَاتِكُ - شتر مرغ

کے بچے۔

حَتَّلَهُ (ن) حَتَّلًا - وینا۔

الْحَتْلُ وَالْحَاتِلُ - مثل، مشابہ۔

حَتَمَ (ض) حَتَمًا - الشَّيْءُ - مضبوط کرنا۔

- الشَّيْءُ عَلَيْهِ - واجب کرنا۔

- بِالشَّيْءِ - کسی چیز کا حکم لگانا۔

فیصلہ کرنا۔

تَحْتَمَ - بھاش بھاش ہونا، اظہار

شادمانی کرنا، دسترخوان کے بچے

ہوئے کو کھانا - الزجاج بعصته

علی بعض - شیشہ کا بعض بعض

پر گر کر چکنا چور ہو جانا۔ (-

والحتم) الأمر - فیصلہ کا ایسا

لازمی ہونا، کہ اس کا خلاف ناممکن

ہو، تعالم الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ -

اپنے اوپر لازم کر لینا، واجب کر

لینا۔

الْحَاقِمُ - فَا - حَاكِمٌ - کہتے ہیں، حتم

الْحَاكِمُ - بگذا حاکم نے اس چیز

کا فیصلہ دیا، کالا کوا۔

الْحَتْمُ - خالص کہا جاتا ہے ہوا الخ

الْحَتْمُ - وہ سگا اور حقیقی بھائی۔

وهذا ولد حتم - حقیقی

لڑکا ہے جس کے نسب میں کوئی شک

نہیں، فیصلہ، ج۔ حَتْمٌ -

الْحَتْمَةُ - سیاہی، الاحتم

سیاہ، کالا۔

حَتْنٌ (س) حَتْنًا - الْحَوُّ - گرمی کا

شدید ہونا۔

أَحْتَنُ - الرَّجُلُ - کسی کے سارے

تیروں کا ایک ہی جگہ پڑنا۔

تَحَاتَنَ - الْقَوْمُ - فِي الْأَمْرِ - کسی امر میں

سب کا برابر مساوی ہونا، کہا جاتا

ہے، تَحَاتَنَ الدَّمْعُ - یعنی آنسوؤں

کے دو دو قطرے گرے و تَحَاتَنَتِ

الْوَيَاحُ - مختلف الجہت ہوا میں

پے در پے چلیں۔

أَحْتَنُ - بِالْكَفْلِ - برابر ہونا۔

الْحَتْنُ وَالْحِثْنُ - مساوی، ایک

جیسا، ساکن، کہا جاتا ہے، ہما

يَحْتَنَانُ - وہ دونوں برابر ہیں۔

تَيَوْمَ حَاتِنُ - وہ دن جس کا اول آخر

گرمی میں برابر ہو۔

حَتَّيَا يَحْتُو حَتْوًا - بہت تیز دوڑنا،

حَتَّارِضٌ، حَتِّيًّا وَ أَحْتَاةٌ - سینا،

مضبوط کرنا، الحبل - رسی بٹنا،

فوس (دھتاق)، الخلق - مضبوط

ہاتھ پیر کا گھوڑنا۔

حَتَّارِضٌ، حَقًّا وَ حَقَّتْ تَحْتِيًّا -

وَ أَحَقَّ إِحْتَاةً وَ أَحَقَّتْ

إِحْتَاةً وَ إِسْتِحْتَاةً -

الرَّجُلُ عَلَى الْأَمْرِ - کسی کو کسی

امر پر اکسانا، براگیختہ کرنا۔

حَاقَهُ - براگیختہ کرنا، اکسانا، ابھارنا۔

تَحَاتَتْ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے

کو اکسانا۔

أَحَقَّتْ - براگیختہ، (لازم و متعدی)

الْحُقُّ - بھوسے کے رہنے، خفک

روٹی، چمکتا ہوا ریت۔

الْحَثِيثُ وَالْحَثْوَةُ - تیز کہتے ہیں،

”وَلِي حَثِيثًا“ - وہ تیزی سے

واپس پھرا۔

الْحَثَاثُ وَالْحِثَاثُ - تیزی، تھوڑی نیند۔

چمکی، کہا جاتا ہے مَا أَكْتَحَلُ فَلَانٌ

حَثَاثًا - اس نے ذرا سی نیند بھی

نہیں لی۔

حَثَفَ الْبَرَقُ - بجلی کا ہادل میں

کو نڈنا - فَلَانًا - کسی کو اکسانا،

براگیختہ کرنا - الْمِيلُ فِي الْعَيْنِ -

سرمدی سلاخی کو آنکھ میں بلانا۔

تَحْتَحَقُّ - الْقَوْمُ - تیار ہونا، آمادہ

ہونا۔

الْحِفْحِفَاتُ وَالْحِفْحِفُ - بہت جلدی

کرنے والا۔

حِثْرٌ (س) حِثْرًا - الْجِلْدُ - جلد کا

پھنسی دار ہونا - الْعَيْنُ -

آشوب چشم سے آنکھ کا متورم ہونا،

لُوْطٌ - پھوٹے والی ہونا - الْعَسَلُ -

شہد کا خراب ہونے کے سبب

فَانَهُ وَارَ هُونًا - صفت (حَاثِرٌ وَ

حَاثِرٌ) - الشَّيْءُ - کشادہ

ہونا، صفت (حَاثِرٌ وَ حَاثِرٌ)

حَاثِرٌ - الدَّوَاءُ - دوا کی گولی بنانا۔

أَحْتَرُ وَ تَحْتَرُ - النُّحْلُ - کھجور کا پھل لانا۔

الْحَتْرُ - مَعْنَى - تپھٹ، انگور کا دانہ جو

ابھی ظاہر ہوا ہی ہو۔

الْحَتْرُ - پھنسی والا، طعام حَتْرٌ - کھرا

ہوا کھانا جس میں کوئی نیرو برکت نہ ہو۔

فُوَادٌ حَتْرٌ - وہ دل جو یاد نہ

رکھ سکے۔

حَتْرَبٌ - الْمَاءُ - پانی کا کد ہونا، گدلا

ہونا - الْبَثْرُ - کنوئیں کا گدے

<p>الحجّة - حجّ کا اسم - سال - ذوالحجّة - قمری سال کا آخری مہینہ - ج - ذوات الحجّة - الحجّة - کان کی لو - الحجّة - بالی - کان کی لو - الحجّة - دلیل - حجت - ج - حجج - وحجج - الحجاج - ابرو کی بڑی - ج - حجج - واحجّة - وحجاج - حجاج الشمس - آفتاب کا کنارہ - الحجج - دلیل سے غالب آنے والا - وہ شخص جس کا زخم سلائی ڈال کر ٹوٹا جائے - المحجّ - حج کرنے کی جگہ - المحجّة - رات کو حج - ج - محاج - المحجاج - بڑا حج والا - زخم ٹوٹنے کی سلائی - المحجوج - دلیل میں ہارا ہوا - مطلوب مقصود - حج کرنے کی جگہ - حجاً - فاحجاً - بالشیء - خوش ہونا - عند الشیء - روکنا - حجی (س) - حجاً وحجاً - وتحتجاء - بالشیء - بخل کرنا - فریقت ہونا - الحجی - لائق - قابل - سزاوار - کہتے ہیں ہو حجی بکذا - وہ فلاں چیز کے لائق ہے - پناہ لینے والا - کہتے ہیں - هو حجی البسم - وہ ان کے پاس پناہ لینے والا ہے - المحجاء - جائے پناہ - حجّہ (ن) - حجاً وحجاً - وحجّہ چھپانا - پروہ کرنا - اندر آنے سے روکنا - حجّ بینھما - درمیان میں مائل ہونا - تنگ ہونا - کہتے ہیں - فلان یحجب الامیر - فلاں امیر کا</p>	<p>ڈالی ہوئی مٹی - الحشواء - بہت مٹی والی زمین - الحشی - مص - مٹی وغیرہ کا لیب - ج - حشیات - حجّہ (ن) - حجاً - دلیل میں غالب آنا - الجرح - زخم میں سلائی ڈال کر ٹوٹنا - ہ - قصد کرنا - کہا جاتا ہے - حجّ بنو فلان - فلاں - یعنی بنو فلاں نے فلاں کے پاس بہت آمدورفت رکھی - وحجّت فلاں - میں فلاں کے پاس بار بار آیا گیا - حجّہ الأماكن المقدّسة - مقامات مقدّسہ کی زیارت کرنا - صنت (حاج) - حجّاج و حججہ وحجّ - مروت حاجّة - ج - حاجّ - حجّ - علیہ - آنا - عن الامر - باز رہنا - رکنا - حاجّہ - حجّاجاً و محاجّہ - جگہ کرنا - حجّجہ تجججاً و حجّجہ لاججاً - ادائیگی حج کے لیے بھیجنا - تجاجت حاجت - آپس میں جگہ کرنا بہم جگہ کرنا - احتجّ - اپنے دعوے پر دلیل لانا - بالشیء - کسی چیز کو دلیل یا عذر بنانا - البیت - زیارت کرنا - استحجّ - دلیل و حجت طلب کرنا - الحاجّ - فاحجّ - مقامات مقدّسہ کی زیارت کرنے والا - اسم جمع بمعنی حجّاج - کہتے ہیں قدم الحاج حتی المشاة - حاجی لوگ آپہنچے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے بھی -</p>	<p>پانی والا ہونا - الحثوب - گدلا پانی - میدانی سبزی - حثل (س) - حثلاً - موٹے پیٹ والا ہونا - احثلت - الأقر و لدّها - ماں کا بچہ کو خراب بنادینا - صفت مفعولی - (حثیل) - الدهر فلاّنا - زمانہ کا کسی کو بد حال کر دینا - تباہ حال بنا دینا - الحثل - دودھ پلانے کی خرابی - تباہ حالی - الحثل - لاغر - کمزور - الحثلة - حوض میں تھوڑا بچا ہوا پانی - الحثال والحثالة - چاہل یا جو وغیرہ کا چھلکا - حثالة الدھن - تیل کا تپھٹ - الناس - گھٹیا روئیل لوگ - حثم (ن) - حثماً - لہ - دینا - الشیء - مٹا - رگڑنا - الحثمة والحثمة - چھوٹا ٹیلہ الجثمة ناک کی ٹنڈی - ناک کا بانسہ - ج - حثام - الحثمة - بند کے نزدیک پانی کے گرنے کی جگہ - حثان (ن) - حثوا و حثی (ض) - حثیا و تحثاء - التراب - مٹی ڈالنا - التراب - مٹی کا گڑنا - تھوڑا سا دینا - کہا جاتا ہے - حثانی وجہہ الرماد - یعنی اس نے اس کو شرمندہ و نادوم کر دیا - وحثانی وجہہ التراب - یعنی وہ اس سے سبقت لے گیا - استحثوا - ایک دوسرے کے چہرے پر مٹی پھینکنا - لحثا والحثی - بھوسہ کے رینے</p>
---	--	--

دریان ہے۔ تَحْتَجَبٌ وَاحْتَجَبَ۔
 چھپنا۔
 اسْتَحْجَبَهُ۔ کسی کو دربان بنانا۔ عاجب
 مقرر کرنا۔
 الْحَجَابُ۔ مص۔ ج۔ حُجُبٌ۔ پردہ
 دو چیزوں میں مائل ہونے والی چیز۔
 تعویذ۔
 حِجَابُ الشَّمْسِ۔ سورج کی روشنی۔
 حِجَابُ الْقَا۔ دل اور پیٹ کے
 درمیان مائل ہونے والا پردہ۔
 حَاجِبٌ۔ ج۔ حَوَاجِبٌ وَحَوَاجِبٌ
 ابرو۔ حَوَاجِبُ الشَّمْسِ۔ سورج
 کی شعائیں۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا کنارہ
 حَاجِبُ الشَّمْسِ۔ طلوع کے
 وقت سورج کا نظر آنے والا کنارہ۔
 الْحَاجِبُ۔ ج۔ حِجَابٌ وَحِجْبَةٌ۔ دربان
 الْحِجَابَةُ۔ دربانی کا پیشہ۔ دربان
 کی آسامی۔
 حَجَّحَجَّجٌ۔ بولنے سے رکا۔
 بِالْمَكَانِ۔ اقامت اختیار کرنا۔
 الرَّجُلُ۔ پچھلے پاؤں لوٹنا۔
 حَجْرَةٌ دَنٌ، حَجْرًا وَحَجْرَانًا۔ بتثلیث
 الحاء فی المصدرین۔ منع کرنا
 حَجْرٌ عَلَيْهِ الْقَاضِي۔ قاضی کا
 کسی کو مالی تصرفات سے روک دینا۔
 (حَجْرًا وَحَجْرًا) عَلَيْهِ الْأَمْرُ۔
 محروم کرنا۔ تاہا نزل مٹھرانہ۔
 حَجْرُ الْقَمَرِ۔ چاند کا بالہ والا ہونا۔
 الطَّيْنُ۔ مٹی کا سخت اور پتھر کے
 مانند ہونا۔
 أَحْجَرَةٌ۔ ڈھانپنا۔ چھپانا۔
 تَحْجَرُوا اسْتَحْجَرُوا۔ پتھر کی طرح ہونا
 الرَّجُلُ۔ مجھ بنانا۔ تَحْجَرُ
 عَلَي فُلَانٍ۔ کسی کو تنگ کرنا۔
 كَتَبْتُ تَحْجَرًا وَسَعَهُ اللَّهُ

یعنی جس چیز میں اللہ نے اس کو
 فراخی دی تھی اس کو اس نے اپنی جان
 کے لیے تنگ کر لیا۔ محروم کرنا۔
 اسْتَحْجَرُوا۔ علیہ۔ جرات کرنا۔ دلیر ہونا
 احْتَجَرُوا۔ مجھ بنانا۔ احْتَجَرُوا الشَّيْءَ۔
 کسی چیز کو اپنی گود میں لینا۔
 — بہ۔ پناہ لینا۔
 الْحَجْرُ۔ مص۔ ممانعت۔ رکاوٹ۔
 مِنَ الْعَيْنِ۔ آنکھ کا خانہ۔
 (وَالْحَجْرُ وَالْحِجَابُ) گود۔
 کہتے ہیں: "نَقَاءُ فُلَانٍ فِي حَجْرٍ
 فُلَانٍ" فلاں فلاں کی گود یا حفاظت
 میں پلا بڑھا۔ حرام۔ کہا جاتا ہے۔
 "هَذَا حَجْرٌ عَلَيْكَ" یہ تم پر حرام
 ہے۔ "وَحَجْرًا لَهُ" یعنی دفع
 ہو۔ عرب یہ جب بولتے ہیں کہ
 کوئی چیز ان کو سخت ناپسند و
 مکروہ ہو۔
 الْحِجْرُ۔ عقل۔ گھوڑی۔ ج۔ حُجُوسٌ
 وَحُجُوسَةٌ وَأَحْجَاسٌ۔
 الْحَجْمُ۔ پتھر۔ ج۔ أَحْجَاسٌ وَحِجَاسٌ
 وَحِجَارَةٌ وَأَحْجُسٌ۔ کہا جاتا ہے۔
 "الْقَمَّةُ الْحَجْرُ" کسی کو مشکت و
 دندان شکن جواب سے خاموش کر دینا
 کہتے ہیں "أَهْلُ الْحِجْرِ وَالْمَدَامِ" یعنی
 دیہاتی لوگ۔
 الْحِجْرَانُ۔ سونا چاندی۔ أَحْجَاسٌ
 الْخَيْلُ۔ وہ عمدہ گھوڑے جو نسل
 بڑھانے کے لیے رکھے جائیں (مبفرد
 مستعمل نہیں)۔
 الْحُجْرُ۔ ناخن کے گرو کا گوشت۔
 الْحَجْرَةُ۔ کنارہ۔ ج۔ حَجْرٌ وَحَجْرَاتٌ وَ
 حَوَاجِرٌ۔ کہا جاتا ہے "انْشَرَّتْ
 حَجْرَتُهُ" اس کا مال بہت ہو گیا۔
 الْحُجْرَةُ۔ مکہ۔ قبر۔ احاطہ مولیٰ۔ کنارہ

ج۔ حُجْرٌ وَحَجْرَاتٌ وَحَجْرَاتٌ
 وَحَجْرَاتٌ۔ حجرتا العسکر۔
 لشکر کا سیدھا اور الٹا بازو۔
 الْحَجْرُ وَالْحَجِيرَةُ۔ بہت پتھروں والی
 زمین۔
 الْحَاجِرُ۔ فَا۔ ج۔ حُجْرَانٌ۔ وہ بلند
 زمین جس کے پرچ میں پستی ہو۔ صحرا میں
 حاجیوں کے اترنے کی جگہ۔ د۔
 وَالْحَاجُودُ) پانی کو روکنے والا نہر
 کا پشتہ۔
 الْمَحْجَرُ وَالْمَحْجَرُ۔ مِنَ الْعَيْنِ۔ آنکھ
 کا خانہ۔ باغیچہ۔ ج۔ مَحَاجِرٌ۔
 الْمَحْجَرُ۔ گاؤں کا گردا گرد۔ حفاظت
 کی جگہ اور اسی سے ہے الْمَحْجَرُ
 الصَّحِيحُ۔ وہ جگہ جہاں وہاں
 بتلاشہ لوگ حفاظت و نگرانی
 میں رکھے جائیں تاکہ دوسرے تندرست
 و باکے شکار نہ ہوں۔
 الْحَنْجَرَةُ۔ حلق کی نالی۔ حلقوم۔
 ج۔ حَنَا جِيرٌ۔
 الْحَنْجُوسُ۔ حلقوم۔ حلق بگلا۔ چھوٹی
 ٹوکری۔ شیشی۔
 حَنْزَهُ (ن ص) حَنْزًا وَحَنْزَةً۔
 منع کرنا۔ روکنا۔ ج۔ حَنَا جِيرٌ۔
 دفع کرنا۔ بیٹھنا۔ درمیان میں آنا
 فاصلہ کرنا۔ علیہ المال او
 العقاد۔ مال یا جائیداد کو دوسرے
 کی بنا پر روک لینا۔
 أَحْجَزُوا وَالْحَجْزُ۔ ملک حجاز میں آنا۔
 الْحَجْزُ۔ رکا۔
 حَاجِزَةٌ۔ ایک دوسرے کو منع کرنا۔
 تَحَاجَزُوا۔ ایک دوسرے کو منع کرنا۔
 روکنا۔ دفع کرنا۔
 احْتَجَزُوا الشَّيْءَ۔ جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔
 بہ۔ محفوظ ہونا۔ باز رہنا۔ بالاناس

ازار کمر پر باندھنا۔ کمر بند سے کمر کسنا۔
 الشیءُ: کوئی چیز گوہ میں اٹھانا۔
 الرجلُ: کسی کا حجار میں آنا۔
 الحِجْرُ والحِجْرُ: بڑا قبیلہ۔ کنارہ۔
 الحِجْرُ: پاک دامن۔ پاک۔
 الحِجْرَانُ: عربستان کا ایک صوبہ جس
 میں مکہ معظمہ و مدینہ منورہ واقع ہے
 کمر بند۔ اونٹ کے پاؤں باندھنے کی
 رسی۔ گانے کی ایک سُر۔
 الحِجْرَةُ: ج۔ حِجْرٌ و حِجْرَاتٌ و
 حُجْرَاتٌ و حِجْرَاتٌ۔ ازار
 باندھنے کی جگہ۔ نیفہ۔ کہتے ہیں۔
 فلان طیب الحِجْرَةِ: فلاں
 پاک دامن و عقیف ہے۔ و شدید
 الحِجْرَةُ: بڑا ماہر۔ ”و هذا
 کلامٌ اخذُ بعضہ بحِجْرَةٍ
 بعضی“ یعنی اس کلام کا ایک حصہ
 دوسرے حصہ سے مربوط و منسلک
 ہے۔
 الحَاجِزُ: ج۔ حَوَاجِزُ۔ تلوار کی دھار
 برزخ۔ روک۔
 المَتَحَجِّزُ: ازار باندھنے کی جگہ۔
 حَاجِفُهُ حَاجِفَةٌ: مقابلہ کرنا۔ ہٹانا۔
 اِنْحَجَفَ: التجا کرنا۔ زاری کرنا۔
 اِحْتَجَفَ: الشیءُ۔ قبضہ میں لانا۔
 حاصل کرنا۔ نفسہ عن کذا۔
 ہٹانا۔ باز رکھنا۔ الحِجْفَةُ: بغیر
 لکڑی کے چڑے کی بنی ہوئی ڈھال۔
 سینہ۔ الجیف۔ پیٹ کی
 گڑگڑاہٹ۔ ج۔ حَجَفَ۔
 حَجَلٌ (ن ص) حَجَلًا و حَجَلًا ثًا۔
 ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پر چلنا۔
 المَقْتِدُ: دونوں پاؤں سے کودنا۔
 البعیو۔ اونٹ کو باندھنا۔
 حَجَلٌ حَجَلًا: بینہما۔ مائل ہونا۔

حَجَلَتْ (ن) حَجُولًا و حَوَجَلَتْ۔
 العین۔ آنکھ کا اندر کو دھنس جانا۔
 حَجَلٌ۔ العودس۔ دلہن کے لیے کمرہ
 آراستہ کرنا۔ دلہن کو آراستہ کمرے
 میں داخل کرنا۔ حَجَلَتْ المَرْأَةُ
 بنا نہا۔ عورت کا مندی لگانا۔
 العین۔ آنکھ کا اندر کو دھنسنا۔
 الرجلُ امرؤ۔ کسی کا اپنے کام
 کو مشہور کرنا۔ المَقْتِدُ۔ دونوں
 پاؤں سے کودنا۔
 حَجَلٌ و تَحَجَلٌ۔ گھوڑے کا ٹانگوں سے
 سفید ہونا۔ صفت دَمْحَجَلٌ و
 مَحْجُولٌ، اگر ٹانگوں میں سفیدی
 ہو تو اس کو حَجیل کہتے ہیں۔
 حَجَلَتْ المَرْأَةُ۔ عورت کو پازیب
 پہنایا جانا۔
 الحَجَلُ۔ واحد۔ حَجَلَةٌ۔ ج۔ حَجَلَانُ۔
 و حَجَلِی۔ چکور۔
 الحَجَلُ و الحِجَلُ و الحِجَلُ۔
 پازیب۔ بیڑی۔ گھوڑے کی ٹانگ میں
 سفیدی۔ ج۔ اِحْجَالٌ و حِجُولُ۔
 الحَجَلَةُ۔ مکان کے اندر دلہن کے لیے
 ڈالا ہوا پردہ۔ دلہن کے لیے آراستہ
 کیا ہوا کمرہ۔ ج۔ حِجَالٌ و حِجَلٌ۔
 عرب کہتے ہیں الحِجُولُ بِلُؤْبَاتِ
 الحِجَالِ۔ یعنی پازیب عورتوں
 کے لیے ہے۔
 الحِجَالُ۔
 الحَوَجَلُ و الحَوَجَلَةُ۔ شیشی۔
 ج۔ حَوَاجِلٌ و حَوَاجِلٌ۔
 المَحْجَلُ۔ من الخیل۔ وہ گھوڑا جس
 کی ٹانگوں میں سفیدی ہو۔
 یومٌ مَحْجَلٌ۔ مسرت و خوشی کا دن۔ کہتے
 ہیں۔ ”امْرَأَةٌ مَحْجَلٌ“ بہت
 مشہور بات۔ البعیو۔ اونٹ کے

منہ پر ہالی باندھنا۔
 حَجَمٌ (ن ص) حَجَمَةٌ۔ الحَجَامُ
 المویضُ۔ حجام کا بیمار کے پچھنے لگانا۔
 الحِیَئَةُ۔ سانپ کا ڈس لینا۔
 الصبیُّ ثدی امہ۔ بچہ کا اپنی
 ماں کی چھاتی کو چوسنا۔
 حَجَمَهُ۔ عن الشیءُ۔ منع کرنا۔
 حَجَمَ طَوْفَهُ عَنْهُ۔ کسی کی طرف سے
 نگاہ پھیر لینا۔
 حَجَمٌ (ن) حَجَمًا و اِحْجَمٌ۔ الشدی۔
 پستان کا ابھرنا۔ بلند ہونا۔
 اِحْجَمَتِ المَرْأَةُ لِلْمَوْلُودِ۔ ماں کا بچہ
 کو پہلی دفعہ دودھ پلانا۔ اِحْجَمَ عَنْ
 الشیءُ۔ ڈر کر پیچھے ہٹنا۔ رکنا۔
 اِحْتَجَمَ۔ پچھنے لگانا۔ الحِجَامَةُ۔
 پچھنے لگانے کا پیشہ۔
 الحِجْمُ۔ جسم کی مقدار۔ وہ ابھار جہاں
 کے پیرنے سے محسوس ہو۔ ج۔ حِجْمٌ۔
 الحِجَامُ۔ اونٹ کے منہ پر لگانے کی جالی
 جس کی وجہ سے وہ کانٹے سے بادر ہے۔
 الحَاجِمُ۔ ج۔ حِجَامٌ۔ و حِجْمَةٌ و الحِجَامُ
 پچھنے لگانے والا۔
 المَحْجَمُ۔ پچھنے لگانے کی جگہ۔ ج۔ حَاجِمٌ۔
 المَحْجَمُ و المَحْجَمَةُ۔ پچھنے لگانے کا
 ازار۔ سیگل۔ ج۔ حِجَامٌ۔
 المَحْجَامُ۔ ڈرنے کا ٹوکر۔ خفت کی وجہ سے
 پیچھے ہٹنے والا۔
 حِجْنٌ (ن) حِجْنًا و حِجْنٌ۔ المَعْوِدُ۔ کلاہی کر
 موڑنا۔ پیرھا کرنا۔ و اِحْتَجْنٌ
 الشیءُ۔ چیز کو کانٹے سے کھینچنا۔ کہتے
 ہیں۔ ”اِحْتَجْنِ المَالَ“۔ اس نے مال
 کو اکٹھا کیا اور اس نے پرگندہ مال کو جمع
 کر کے اس کی اصلاح کی۔ اِحْتَجْنِ
 علیہ۔ روکنا۔
 حِجْنٌ۔ حِجْنًا (س) بالمداس۔ گھریں اتنا

<p>حَدَّ (رض) حَدًّا وَحَدًّا وَحَدًّا - علیہ - غضبناک ہونا۔ حَدَّ - الارض - زمین کے حدود قائم کرنا۔ - ایہ ولہ - قصد کرنا۔ الامر - معلوم کرنا - علیہ۔ غضبناک وغصہ ہونا - الزمراء - بارش کی تاثیر سے کھیتی کا دیر سے اگنا۔ حَدَّ - دشمنی رکھنا۔ غضبناک ہونا۔ حَدَّتْ اَرْضَهُ اس ضی - میری زمین اس کی زمین کے متصل ہے۔ یعنی میں اس کا پڑوسی ہوں۔ اَحَدَّ - الیہ النظر - تیز نظر سے دیکھنا گھورنا۔ اَحَدَّتْ السَّرَاةُ - عورت کا خاوند کے غم میں سوگ منانا۔ صفت (مُحَدَّةٌ) وَحَدَّةٌ تَحَدَّدَ - بھرا۔ اکسانا۔ دھمکانا۔ تَحَادَّدَ - ایک دوسرے سے ناراض ہونا۔ باہم غضبناک ہونا۔ اَحْتَدَّ - قوی ہونا - علیہ - کسی پر غضبناک ہونا۔ اسْتَحَدَّ - دھارتیز کرنا۔ الحَدَّ - مص - دو چیزوں کے درمیان کی روک - کہتے ہیں "داہ حد داری" اس کا گھر میرے گھر کے پڑوس میں ہے والحد - چیز کی انتہا۔ الحد من السیف - تلوار کی دھار۔ من الشراب - شراب کا جوش۔ من الانسان - انسان پر طاری ہونے والی غضبی کیفیت - من کل شیء - تیزی - حد الشیء - جامع و مانع تعریف - پوری تحریف من - ج - حدود - وحدود اولیہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اور شرعی احکام الحد - مص - ممنوع چیز کہتے ہیں۔ هذا امر حداد - یعنی یہ ممنوع</p>	<p>اس جگہ تک۔ - ا کے رہا۔ ادم سے پہلے وہاں جم گیا۔ الشیء - قصد کرنا۔ احتجی - الشیء - چھپانا - تحاجوا۔ آپس میں ایک دوسرے پر پہیلی پیش کرنا۔ الحجی - عقل و سمجھ - ج - اَحْجَاء۔ الحجاء - کنارہ - گوشہ - ج - اَحْجَاء۔ الحجاء - وادی کا موڑ۔ زمین کا ابھرا ہوا اور اٹھا ہوا حصہ۔ پناہ کی جگہ - ج - اَحْجَاء۔ وَحْجًا - الشیء - چیز کا کنارہ۔ الحَجَاةُ - ج - حَجَا - بارش کے قطرات سے پیدا ہونے والا ببلہ۔ الحجی والحجی - لائق۔ الاحجیة۔ پہیلی۔ پستان - ج - آحاجی و آحاج - کلمہ (مُحْجِیةٌ) و مُحْجِیةٌ) رمز آمیز کلمہ۔ وہ کلمہ جس کے الفاظ ظاہری معنی کے مخالف ہوں کہتے ہیں "اللہ (لِحَجَاةٍ) ان یفعل کذا" یعنی اس کے لیے لائق و مزاور ہے کہ وہ ایسا کرے۔ حَدَّ (ن) حَدًّا وَحَدًّا - الدار - گھر کے لیے حد مقرر کرنا - المذنب - گناہگار پر حد لگانا۔ اور اس کو غیر تناک سزا دینا۔ الشیء عن الشیء - ایک شے کو ایک شے سے جدا کرنا۔ میز کرنا۔ املہ عنا الشر - اللہ نے رائی کو روک کر اس کو ہم پر سے ٹال دیا۔ حَدَّتْ (ن) حَدًّا وَحَدًّا - ا - المرأة - عورت کا سوگ منانا۔ صفت (حاق) ج - حَوَاد - حَدَّ حَدًّا وَحَدَّدَ - وَاَحَدَّدَ - السکین - چھری کو تیز کرنا۔ حَدَّتْ (ن) حَدًّا وَاحْتَدَّتْ - السکین - چھری کا تیز ہونا۔</p>	<p>کرنا۔ علیہ وہ۔ بخل و کجوسی کرنا۔ تَحَجَّنَ - مڑنا۔ ٹیڑھا ہونا۔ الْحَجْنُ وَالْحَجْنَةُ - ٹیڑھاپن۔ کجی۔ الْحَجْنَةُ - خود اپنے لیے پسند کی ہوئی اور مخصوص کی ہوئی چیز۔ الْأَحْجَنُ - ٹیڑھا۔ کہتے ہیں "مقوا حجن المخابل" ٹیڑھے چنگل والا شکر۔ مؤنث - حَجْنَاء - ج - حَجْنُ۔ الْحَجُونُ - سست۔ کہتے ہیں۔ سونا عَقَبَةُ حَجُونًا - ہم بھی مسافت والی گھائی پر چلے۔ الْحَجْنُ وَالْحَجْنَةُ - ٹیڑھے سر کا ڈنڈا۔ یا ہر مڑے ہوئے سروالی چیز۔ کہا جاتا ہے "هو حجن مال" وہ اونٹوں کا اچھا منتظم ہے۔ حَجْنُ الطائر - پرندہ کی چوہ۔ حَجَانٌ، حَجْوًا، حَجْرًا - بالمکان - اقامت کرنا۔ بالشیء - بخل کرنا۔ به حیرا - اچھا خیال کرنا۔ السو بھید رکھنا۔ حَجَاةٌ - قصد کرنا۔ اعتماد کرنا۔ منع کرنا۔ القوم - بدلہ دینا۔ الْأَمْرُ - محض گمان پر دعویٰ کرنا اور یقین نہ رکھنا۔ حجی (س) حجی بہ - فریفتہ ہو کر لازم ہونا۔ آحجاء - اَحْجَاء - بکذا - کسی کو لائق بنانا کہتے ہیں "ما اَحْجَاهُ بكذا" وہ اس کا کسی قدر لائق و مزاور ہے۔ حَاجَاةٌ - حَاجَاةٌ - چستان و پہیلی پیش کرنا۔ سمجھ یا عقل میں کسی پر غالب آنا کہتے ہیں "حاجیتہ فحوتہ" میں نے نریکی میں مقابلہ کر کے اس پر غلبہ حاصل کیا۔ تعجی - بالشیء - فریفتہ ہونا اور لازم ہونا۔ بالمکان - اقامت کرنا۔ کہتے ہیں۔ "تعجیتکم الی هذا المکان" میں</p>
---	--	--

امر ہے اس کا فعل روا نہیں۔ " و
 هذا خطر حداد۔" یہ خبر جمہوری اور
 بے بنیاد ہے۔ "و دون هذا
 حداد۔" اس کے ورے مانعت
 ہے۔ "و حداداً ان يكون هذا۔"
 خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔
 الحداد۔ حدت المرأة۔ کا مصدر ہے
 سیاہ مانتی لباس۔
 الحداد۔ تیزی والا۔ کہتے ہیں "رجل
 حداد۔" تیزی والا آدمی۔ اصلہ
 سکین حداد۔ تیز کاٹنے والی
 چھری۔ ج۔ اجداد۔ کہتے ہیں۔
 "حدادك ان تفعل كذا"
 تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم
 ایسا کرو۔
 الحدادة۔ بیوی۔ الحدادة۔
 لوہار کا پیشہ۔
 الحدید۔ لوہا۔ سخت لوہے کو ذکر اور
 نرم کو انٹی اور آئینت سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ "هو
 حدیدی" وہ میرا پڑوسی ہے۔
 "وداری حدیدة داس" میرا
 گھراس کے پڑوس میں ہے۔
 الحدید۔ ج۔ اجداء و جداد کاٹنے
 والا۔ کہتے ہیں۔ "سيف حدید"
 شمشیر بتاں۔ "رجل حدید"
 تیز فہم یا تیز مزاج آدمی۔
 الحدیدة۔ لوہے کا ٹکڑا۔ ج۔ حدائد
 و حدیدات و جج۔ حدائدات
 - حدیدة الحرب۔ بل کی پھار۔
 الحداد۔ لوہار۔ لوہا بیچنے والا۔ دربان
 واروغہ جیل۔
 الحدود۔ حدود میں گھرا ہوا۔ محروم۔
 خیر یا شر سے روکا ہوا۔
 حدائف، حداء۔ الشئ عنہ۔

پھیرونا۔ ہٹا دینا۔
 حدی (س)، حداء۔ بال مکان۔
 کسی جگہ جم جانا۔ الیہ۔ کسی
 سے پناہ لینا۔ الیہ و علیہ۔
 کسی پر مہربانی کرنا۔ اور اس کی
 یاری کر کے اس کو ظلم سے بچانا۔
 - علیہ۔ غضب ناک ہونا۔
 الحدافة۔ دوسروالی کدال۔ ج۔
 حداء۔ و حداء۔
 الحدافة۔ چیل۔ عوام اس کو حداییۃ
 کہتے ہیں۔ ج۔ جداء و جداء
 و جدان۔
 حدب (س)، حدباً و احدب۔
 الرجل۔ آدمی کا کبڑا ہونا۔
 صفت (حدب و احدب)
 مؤنث۔ حدبیتہ۔
 حدباء۔ ج۔ حدب و احداب و
 حدبات۔ حدب علیہ۔ کسی پر
 مہربان ہونا۔
 حدبہ و احدبہ۔ کبڑا بنانا۔ خمیدہ
 کرنا۔ حدب الشئ۔ کسی شے
 کو اونچا کرنا۔ ابھارنا۔
 تحدب۔ کبڑا ہونا۔ علیہ
 مہربان ہونا۔ بہ۔ تعلق رکھنا
 - المرأة۔ خاوند کے مرنے
 کے بعد عورت کا بچوں کے لیے بیٹھا
 رہنا اور دوسرا شوہر نہ کرنا۔
 احدوب و تحدب۔ کبڑا ہونا۔
 احدوب الرجل۔ لمبا، اور
 پیڑھا ہونا۔
 الحدب۔ مع۔ کبڑا پن۔ موج۔ تہر۔
 کھال کا نشان۔ زمین کی اونچی جگہ۔
 ایک قسم کی گھاس۔
 الحدباء۔ قوط کا سال بمشکل کام۔
 لاش

الحدبہ۔ کبڑا پن۔ پیٹھ میں کبڑی جگہ۔
 کہتے ہیں۔ "فی ظہرہ حدبہ۔"
 اس کی پیٹھ میں خمیدگی ہے۔
 - من الارض۔ بلند و سخت زمین۔
 الاحدب۔ تلوار۔ بازو میں ایک رگ
 کا نام ہے۔
 امر احدب۔ مشکل کام۔
 المحدب۔ ابھرا ہوا۔ کبڑا۔
 من الخطوط۔ ابھری ہوئی لکیریں۔
 حدث (ن)، حدوثاً۔ الامر۔
 کسی امر کا واقع ہونا۔ (ر۔ ث۔
 و حدوثاً) نیا ہونا۔ نوپید ہونا۔
 جب قدم کے ساتھ اس کا استعمال
 ہوتا ہے تو عین کلمہ پر صمٹ آتا ہے۔
 جیسے۔ "اخذنی ما قدم و ما
 حدث" یعنی مجھ کو نئے اور پرانے
 غموں نے آن لیا۔
 حدث۔ عن فلان۔ کسی سے کچھ
 بیان کرنا۔ روایت کرنا۔
 ۵۔ کذا و بکذا۔ خبرینا۔ بیان کرنا۔
 حادثہ۔ گفتگو کرنا۔ حادث السیف۔
 تلوار کو جلا دینا۔ صیقل کرنا۔ اور اسی
 سے ہے۔ کھنسل السیف خود
 بالصقال۔ مانند تلوار کے پھل کے
 جس کو صیقل سے جلا دی گئی ہو۔
 احدثتہ۔ ایجاد کرنا۔ پیدا کرنا۔
 احدث الرجل۔ پافانہ کرنا۔
 السیف۔ تلوار کو جلا دینا۔
 تحدث۔ بالشئ۔ وعن الشئ۔ کلام
 کرنا۔ خبرینا۔
 تحاد ثوا۔ آپس میں ایک دوسرے سے
 بات چیت کرنا۔
 استحدثتہ۔ پیدا کرنا۔ الخبیر۔ نیا
 پانا۔ رجل (حدث)، ملوک۔
 بادشاہوں کا قصہ گو۔

الْحَدُورَةُ وَالْحُدُورَةُ وَالْمَادُورَةُ
 آنکھ سے آنسوؤں کا بہاؤ۔
 الْحُنْدَارُ وَالْمُنْحَدَارُ وَالْحُدُورَةُ
 وَالْحِنْدَارَةُ - آنکھ کی سیاہی۔
 جر. حنادس - کہتے ہیں: "جَعَلْتَهُ
 عَلَى حُنْدُورَةٍ عَيْنِي وَحِنْدِيرَةٍ
 عَيْنِي" میں نے اس کو اپنا
 نصب العین بنایا۔
 الْحَيْدَسُ - شیر۔ پست قد۔
 الْحَيْدَرَةُ - شیر۔ بلاکت۔ کہتے ہیں:
 "رَمَاةُ اللَّهِ بِالْحَيْدَارَةِ"
 اللہ اس کو مصیبت و بلاکت سے
 دوچار کرے۔
 الْمُنْحَدَارُ - ڈھلوان مقام۔
 حَدَسَ (ن.ض) حَدَسًا - فِي الْأَمْرِ
 گمان کرنا۔ تخمینہ لگانا۔ وہم کرنا۔
 الشَّيْءَ بِرَجُلِهِ - رَوْنَدًا -
 زبیداً - پچھاڑنا - الشَّاةُ
 وبالشافِ - بکری کو ذبح کرنے کے
 لیے لٹانا - فِي الْأَرْضِ - بے
 پتہ پلنا - فِي السَّيْرِ - تیز چلنا۔
 حَدَسَ بِهِ الْأَرْضَ - زَمِينَ بِرُكْرَا
 دینا۔ ٹپک دینا۔
 تَحَدَسَ الْأَخْبَاسَ وَعَنِ الْأَخْبَاسِ
 چھپ کر اور خفیہ طور سے خبریں دریافت
 کرنے کی کوشش کرنا۔
 الْحَدَسُ - مَصْرٌ - دَانًا - تِيزَ فَهْمِي
 تیز فہمی۔
 حَبَسَ دَامَ حَدَسًا - زَمِينَ بِرُ
 پچھاڑا ہوا۔
 الْحَدَسِيَّاتُ - فَرَسَاتٌ مَعْلُومَاتُ
 سنی باتیں۔
 الْحَدَسُ - انشاء۔ غایت۔ کہتے ہیں:
 "بَلَّغْتُ بِهِ الْحَدَسَ فِي مِثْلِ
 كَيْفِ انشاء پینچ گئی۔"

الْمَحْدِسُ - مَعْصِيَةٌ كَتَبَتْ فِي: فَلَانٌ
 بعید المدحس: فلان کا مطلب
 بلند و بڑا ہے۔
 حَدَقَ (ن.ض) حَدَقًا - الْقَوْمُ بِهِ -
 کسی کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔
 حَدَقَهُ بَعِينَهُ - کسی کی طرف دیکھنا
 - ه - آنکھ کی سیاہی پر مارنا۔
 الْمَرِيضُ حَدَقًا - بيمار کا
 آنکھ کھول کر دیکھنا۔
 أَحَدَقَ - الْقَوْمُ بِهِ - لُكُوكَ كَأَسَى
 کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔
 أَحَدَقْتُ الْبُيُوتَ - باغ کا
 چارویواری میں گھیرنا۔
 حَدَقَ - الْيَدُ - گھور کر دیکھنا۔ تیز
 نظر سے دیکھنا۔
 حَدَقَ - بِهِ - کسی کو چاروں طرف سے
 گھیر لینا۔
 أَحَدَوْدَقَ - الْقَوْمُ بِهِ - اعاطه کرنا۔
 گھیرنا۔
 الْحَدَقَةُ - آنکھ کی سیاہی ج۔ حَدَقَ
 وَحَدَقَاتٌ وَأَحْدَاقٌ وَحَدَاقٌ -
 کہا جاتا ہے: "هُمُ فِي مِثْلِ حَدَقَةِ
 الْبَعِيرِ" یعنی ان کو خوب فراخی
 اور پانی کی فراوانی نصیب ہے۔
 "وَهُمْ دُمَاةُ الْحَدَقِ" یعنی وہ
 لوگ تیراندازی میں خوب ماہر ہیں۔
 وَتَكَلَّمْتُ عَلَى حَدَقِ الْقَوْمِ -
 یعنی میں نے کلام کیا اور قوم کی نظریں
 مجھ پر تھیں۔
 الْحَدَقُ - بِلِينٍ -
 الْحَدِيقَةُ - چارویواری والا باغ۔
 ج۔ حَدَائِقُ -
 حَدَلٌ (ن.ض) حَدَلًا وَحُدُولًا -
 عیبہ۔ کسی پر ظلم کرنے کے لیے
 شامل ہونا۔ عوام کہتے ہیں: "حَدَلُ"

السطح" اس نے سطح پر رو پھیرا۔
 حَدَالٌ (ن.ض) حَدَالًا - اِيكُ كَنْدَمِ كَا
 دوسرے سے بلند ہونا۔ صفت
 (أَحْدَالٌ) مُؤَنَّثٌ - حَدَالًا -
 ج. حَدُولٌ (شاذ) وَاحْدَالٌ
 ج. حَدَالِيٌّ - حَدَالٌ - عَلَيْهِ -
 ظلم کرنا۔
 تَحَادَلٌ - كَمَا نَظَرُ جَمْعًا
 الْحَدَالُ - اِزَارٌ بَانِدُ مَنِّ كِي جَلْدٌ - كَرُونُ كَا
 الْحَدَالُ - مَصْرٌ - كَتَبَتْ فِي: "أَنَّ لِحَدَالٍ"
 یعنی وہ عادل نہیں۔
 الْحَدَالُ - يَكُنَا - الْحَوْدَلَةُ - طِيلَةٌ
 حَدَمَهُ (ن.ض) حَدَمًا - تِيزَ كَرَمٌ كَرْنَا -
 - الدَّمُ - كَمْرًا سَرَخٌ كَرْنَا -
 اِحْتَدَمَ - النِّهَارُ - وَنَ كَأَسَى كَرَمٌ
 ہونا - الشَّرَابُ - شَرَابٌ كَا
 جوش تیز ہونا۔
 اِحْتَدَمَتِ الْقَدَمُ - نَمَلِي كَأَسَى
 اِبْنًا -
 تَحَدَّمَ وَاحْتَدَمَ - الرَّجُلُ - كَأَسَى كَا
 غصہ میں بہرک پڑنا۔
 اِحْتَدَمَ الدَّمُ - نُونُ كَا كَمْرًا
 سرخ ہونا۔
 الْحَدَمُ - وَالْحَدَامُ - آگ کی تیز بہرک
 سخت شعلہ زنی۔
 الْحَدَمَةُ - آگ کے بہرکے کی آواز۔
 الْحَدَامُ - غَيْظٌ وَغَضَبٌ - غَضَبٌ
 حَدَائِنٌ (ن.ض) حَدَاوًا وَحَدَاوًا - وَ
 حَدَاوًا - بِلِنْدًا وَزَمِي مَعْدِي كَانَا
 کہتے ہیں: "مَا أَمْلَحَ حَدَاوًا" اس
 کا حدی گانا کس قدر پسندیدہ ہے۔
 الْأَبْلَى - بِالْأَبْلِ - اَوْنُ كَا كَمْرًا -
 صفت (حَادٌ) ج۔ حَدَاوَةٌ -
 - الرَّيْحُ السَّحَابُ - ہوا کا باول کو
 چلانا - "حَدَاوَةٌ عَلَى كَذَا" بڑھتی ہوئی کرنا

<p>یا پھینک کر مارنا۔ الحَذْف - چھوٹی قسم کی بیٹریں۔ حذف البززع - کھیتی کے پتے۔ الحَذْف - ایک قسم کی بط۔ واحد حَذْفَةٌ۔ الحَذْفَةُ - پست قد عورت۔ الحَذْفَةُ - تھوڑی پیز۔ تراشہ۔ پس ماناہ خوراک۔ الحِذْقاس - والحِذْقوس - ج حَذْفِیو - جانب - انہو کثیر لڑائی کے لیے تیار کرنے والے۔ کتے ہیں "أشدُّ وحذافیرک" یعنی تبار ہوباؤ۔ "أخذہ او نالہ" بحدفاریہ و بحدفوریہ۔ بحدفافیہ: اس نے وہ سب لے لیا۔ حَذْق (رض) وحَذْق (س) حَذْقًا۔ وحَذْقًا وحَذْقًا وقًا وحَذْقًا وحَذْقًا - ماہر ہونا۔ صفت (حاذق) ج۔ حَذْقًا وحَذْقًا - الکتاب ساری کتاب پڑھ لینا۔ العمل کام میں ماہر ہونا۔ حَذْق (رض) حَذْقًا۔ الخَلْ سرکہ کا بہت ترش ہونا۔ حَذْق (رض) حَذْقًا۔ الخَلْ - الخَلْفَاة - چرچاہٹ کن حَذْقًا۔ ماہر بنانا۔ تَحَذَّق - ماہر ہونا و تَحَذَّق عیب مہارت ظاہر کرنا۔ اُنْحَذَّق - کٹ جانا کہتے ہیں۔ حذقت الحبل فانحذقت - میں لے رہی کو کاٹا تو وہ کٹ گئی۔ الحَذْقَةُ - ٹکڑا۔ ج۔ حَذْقًا۔ و حَذْقًا - (آخری جمع شاؤبے) الحاذق - نا۔ ج۔ حَذْقًا۔ و</p>	<p>حَذْف۔ حَذْف (س) حَذْفًا وحَذْفًا۔ (محدورہ) الرجل و من الرجل - پچنا۔ ہوشیار رہنا۔ چونکہ رہنا۔ صفت (حذو و حذو) ج۔ حذوون۔ و حذاری۔ حذوہ - ڈرانا۔ پچانا۔ متنبہ کرنا۔ چونکہ کرنا۔ حذوہ - ایک دوسرے سے محتاط رہنا۔ ڈرتے رہنا (و) و تحذو منه واحتذوہ - بچتے رہنا۔ ہوشیار رہنا۔ احد اس - غضبناک و متعصب ہونا۔ الحاذق - نا۔ مستعد و تیار۔ الحاذقہ - بہت محتاط بہت چونکہ۔ حذو - اسم فعل یعنی ڈرو۔ خوف کرو۔ کہا جاتا ہے "حذو اریک زیدًا" زید سے بار بار بچو۔ الحذاریات - ڈرانے والے۔ الحذریان - چونکہ۔ الحذوہ - باطل۔ الحذوہ - وہ چیز جس سے بچا جائے۔ پرہیز کیا جائے۔ الحذوہ - ڈر۔ گھبراہٹ۔ خوف ناک مصیبت۔ لڑائی۔ حذوہ (رض) حذوًا۔ گرانا۔ کاٹنا۔ ہا بالفصا والحقج۔ لاطی یا پتھر سے ماننا۔ حذو فی مشیة۔ چلنے میں قریب قریب قدم کھنا۔ حذوہ - الشیء - اچھے طریقہ سے کرنا۔ یعنی ہر غیر ضروری چیز کو ترک کر کے تمام عیوب سے پاک صاف کرنا۔ - شعورہ - زلف نکالنا۔ بالوں کو برابر کرنا۔ تحذوہ - بالو صاء۔ لاطی سے ماننا۔</p>	<p>د - واحتذی، اللیل والتھام رات کا دن کے بعد آنا۔ الحادی وحادی النجم۔ دو ستاروں کا نام۔ نچادی عشر میں حادی واحد کا مقلوب ہے۔ الحذاء - حادی کا مبالغہ ہے۔ اور "حادی" اونٹوں کو گا کر ہانکنے والے کو کہتے ہیں۔ الحذاء - شمال ہوا۔ الحوادی - ہر شے کے آخری حصے ہانگیں۔ الاحذوۃ والاحذیۃ - وہ گیت جو اونٹوں کو ہانکنے کے وقت گایا جائے۔ حادی (س) حذیا۔ بالمکان۔ کسی جگہ جم کر رہنا۔ تحذی۔ الرجل۔ کسی سے مقابلہ کرنا اور غالب آنا (و) وحذی الشیء - کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرنا۔ الحذیا - جگڑا۔ مقابلہ کہتے ہیں "ہو حذیا الناس"۔ وہ لوگوں سے مقابلہ کرنے والا ہے۔ "وانا حذیاک فی ہذا الامر" میں اس معاملہ میں تیرا مقابلہ کرنے والا ہوں۔ حذوہ (ن) حذوًا - جلدی کاٹ دینا۔ الحذوہ - ہاتھ یا دم کا ہلکا پن و حذوہ القلب - دل کی دکاوت یا تیز فسی۔ الاحذ - بچنے یا تیز دم والا۔ تیز۔ و بلا۔ امرٌ اجد۔ ناپسندیدہ امر سخت امر بے خصل۔ قلب احد۔ ذکی دل مؤنث حذوہ - کہا جاتا ہے۔ "ناقہ حذوہ" تیز رفتا۔ اونٹنی وقصیدہ حذوہ - مشہور و معروف قصیدہ و حاجت حذوہ - جلد روانہ ہونے وال اور نتیجہ اور حاجت۔ وغویمہ حذوہ - پختہ و مصمم ارادہ۔ ج۔</p>
---	---	---

الْحَرَابُ: نيزہ بردار یا نيزو بنانے والا۔
 الْحَرْبَةُ: جنگ کی بیشت۔
 الْحَرْبَاءُ وَالْحَرْبَاءَةُ: گرگ۔
 تلون مزاجی کے لیے یہ بطور مثل
 مشہور ہے۔ ج۔ حَوَارِي۔
 الْحَرْبَاءُ: زرہ کی میخ۔ پشت کا گوشت
 الْحَرْبُ: مص۔ ہلاکت۔ تباہی خرابی۔
 قَا حَرْبًا: افسوس۔ کیسا افسوس۔
 لمئے افسوس۔
 الْمِخْرَابُ وَالْمِخْرَابُ: جنگجو۔ لڑاکا
 بہادر۔
 الْمِخْرَابُ: گھر کا شروع کا حصہ۔
 اچھی جگہ۔ صدر مجلس۔ لوگوں کے
 جمع ہونے کی جگہ۔ کچھار۔ و
 محراب مسجد امام کی جگہ۔ قبلہ۔
 ج۔ مَحَارِبُ: کتے ہیں۔
 إِنَّهُ يَكُونُ الْمَحَارِبُ: یعنی
 وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ صدر
 مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے
 منازہ ہو۔

الْحَارِبُ وَالْحَارِبُ: اژدہا۔
 حَرَّتْ (ن) حَرَّتَا: الشئ - سخت
 منا

حَرَّتْ (س) حَرَّتَا: الرجل -
 کسی کا بد خلق ہونا۔

الْحَوْتُ: مصی۔ جانور کے چبانے کی آواز
 الْخَرِيْتُ: ایک قسم کی مچھلی۔

حَرَّتْ (ن) حَرَّتَا: الارض -
 زمین میں ہل چلانا۔ کہتی ہونا۔

حَرَّتْ (ج) حَرَّتَا:
 و حَرَّتَا: حَرَّتَا الْمَالَ -

مال لگانا جمع کرنا۔ الناس -
 آگ کرینا۔ السطحي -

کسی چیز کا اچھی طرح مطالعہ کرنا۔
 - الامر - کسی امر کو یاد رکھنے

بھڑک جانا۔ الخَبْنُ:
 روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 (- وَأَحْرَثَ وَأَحْرَثَ)
 - الدابة - جانور کو ٹھکانا۔ لاغر و
 دبلا کرنا۔ صفت مغولی (خَوَيْشَةُ)
 ج۔ حَوَائِثُ -

احترت - الارض - زمین جوتنا۔
 - المال - مال لگانا۔

الْحَرُثُ: مصی۔ کھیتی۔
 الْحَارِثُ - فا - ج - حُرَات -

المحارث و أبو المحارث - شیر
 کی کنیت۔

الْحَرِيشَةُ: ج - حَوَائِثُ - کماٹی۔
 الحرائث - کھیتی۔ کاشتکاری۔

المخارث - ج - مَحَارِثُ -
 و المخرات (ج مَحَارِثُ - بل -

آگ بلانے کی سیخ۔ کرینی۔
 حَرَجَ (س) حَرَجًا - الشئ -

تنگ ہونا۔ - الرجلُ
 مجرم ہونا۔ العینُ - آنکھ

کے وحنس جانے کی وجہ سے
 چندھیانا۔ - عليه الشئُ

حرام ہونا۔ الیہ - تنگ ہو کر
 پناہ لینا۔ الغار - غبار کا

تنگ مقام میں گھٹنا۔
 حَرَجَ (ن) حَرَجًا - انیابہ۔

غصہ سے دانت پیندہ۔
 حَرَجَهُ - تنگ کرنا۔ حَرَجَ

عليه - کسی سے کہنا کہ تو تنگی
 میں ہے۔

أَحْرَجَهُ: گناہ میں مبتلا کرنا جنگی میں ڈالنا
 تنگ جگہ کے لیے مجبور کرنا۔

- فإلنا اليه - مضطر کرنا۔
 اخرج عليه الامر - حرام کرنا

ناجائز ٹھہرانا۔

تَدْرَجُ - گناہ سے پینا۔

الْحَرَجُ: گناہ۔ گنے درختوں والی
 تنگ جگہ۔ مُرَدُّ لے جانے کا تختہ۔

حزمت۔ کتے ہیں۔ لا حرج عليك
 تمہارا کوئی قصور نہیں۔ یا تم پر کوئی

اعتراض نہیں۔ عرب کہتے ہیں
 "حَدَّثَ عَنِ الْبَحْرِ وَالْحَرَجِ"

سمندری حالات بیان کرو اور مبالغہ
 وغیرہ کا تم پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

الْحَرَجُ: گناہ۔ کوڑی۔ شکار میں سے
 کتے کا حصہ۔ درندوں کے شکار کے

لیے رسیوں کا پھندا۔ بکریوں کا ریوڑ۔
 ج۔ أَخْرَاجُ وَجَوَاجُ -

الْحَرَجُ: تنگ۔ لڑائی میں ثابت قدم۔
 گنے درختوں کی تنگ جگہ۔ وہ شخص

جو کسی معاملہ میں پیش قدمی کرنے سے
 خوف کھائے اور ڈرے۔

الْحَوْجَةُ: درختوں کا جھنڈ۔ بکریوں یا
 اونٹوں کا ریوڑ۔ ج - حَرَجُ وَ

حَرَاجَاتُ -
 الْحَوِيجُ: تنگ۔

المخرجات - من الليالي - بہت
 ٹھنڈی رات۔

المخرجات: تنگ کرنے والا۔ کتے ہیں
 "حَلَفَ بِالْمُخْرَجَاتِ" اس

نے تگل میں مبتلا کرنے والی قسمیں
 کھائیں۔

حَرَجَلُ: حَوْجَلَةٌ - لپہ ہونا۔
 نیزہ لڑنا۔ دائیں بائیں پاؤں لڑنا۔

الْحَوْجَلَةُ: مصی۔ لنگڑاپن۔
 (- وَالْحَوْجَلُ) گھوڑوں کا گلا

کہتے ہیں۔ "جَاءُوا حَوْجَلَةً"
 وہ اپنے گھوڑوں پر آئے۔

الْحَوْجَلُ وَالْحَوَاجِلُ - لبا۔ طویل
 حَرَجَمُ - الابل - اونٹوں کو ایک

حَرَقَ -

الْحَرَّاقُ - بہت کھاری پانی۔
 الْحَرَّاقَةُ - آگ پھینکنے والی کشتی یا
 جہاز، فائر شپ۔ تار پیٹو۔
 ج۔ حَرَّاقَاتٌ - عوام کے نزدیک
 "حَرَّاقَةُ" وہ چیز ہے کہ اگر اس
 کو کھال پر رکھیں تو چھالا پڑ جائے۔
 الْحَرُوقُ وَالْحَرُوقُ - سوختہ چشماق
 الْحَرِيقَةُ - زارت (س) وَالْحَرِيقَةُ،
 ایک قسم کا کھانا۔ اس کے لیے پانی
 ابال کر اس میں آٹا ڈالا جاتا ہے۔
 اور پھر اس کو تیار کیا جاتا ہے۔
 الْمَحْرَقُ - ریتی۔
 الْمَحْرَقَةُ - سوختنی قربانی۔ ہون۔
 ج۔ مَحْرَقَاتٌ -
 الْحَرِيقَةُ - زبان کی جڑ۔ ج۔ حَرَّاقِدٌ -
 الْحَرِيقَةُ - حلق کی گرہ۔
 حَرَقَ - فِي الْمَشْيِ - چلنے میں
 چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔
 الْكَلَامُ - جلدی جلدی بولنا۔
 الْحَرَقُوسُ - پسو کے مانند ایک کیرا۔
 چابک کا سرا۔ ج۔ حَرَّاقِيصٌ -
 الْحَرَقْفَةُ - سرین کی بڑی کا سرا۔
 ج۔ حَرَّاقِفٌ وَحَرَّاقِيْفٌ -
 الْحَرَقُوفُ - لاغر جانور۔
 حَرَكَ (ن) حَرَكًا - ادائیگی
 حق سے رکنا، کاغذ کے سرے
 کو بیمار کرنا۔ حَرَكَةٌ
 دونوں کندھوں کے درمیان مارنا۔
 حَرَكٌ - حَارِكَةٌ - دونوں کندھوں
 کے درمیان کاٹنا۔
 بالسيف - تلوار سے مارنا۔
 حَرَكٌ (س) حَرَكًا - پہلوانی کندھے
 کا کوزہ ہونا۔ صفت (حَرِيكٌ)
 مومنت (حَرِيكَةٌ)

حَرَكَ (ك) حَرَكًا - ہلنا۔ حرکت

کرنا۔

حَرَكَه - ہلانا۔ کہا جاتا ہے۔ حَرَكَتٌ

منی الامور۔ معاملہ نے مجھ کو

بے چین کر دیا۔

الْحَارِكُ - فلہ پیٹھ کا اوپری حصہ جو

دونوں کندھوں کے درمیان ہوتا

ہے۔

الْحَرَكَ - حرکت۔

الْحَرَكَ - ہلکا پھلکا۔ چست۔ تیز خاطر

کہتے ہیں۔ "هَلَامٌ حَرِيكٌ"

سبک و تیز خاطر لڑکا۔

الْمَحْرَاكُ - حرکت دینے کا آلہ۔ کرینی۔

الْمَحْرَاكُ - گردن اور سر کے جوڑ کی جگہ۔

حَرَمَهُ (دض) وَحَرَمَهُ (دس)

حَرَمًا وَحَرِيمًا وَحَرَمًا ثَا

وَحَرَمًا وَحَرَمَةً وَحَرِيمَةً

- الشئ - منع کرنا۔ روکنا۔ حَرَمَ

کرنا۔ صفت مفعول (محرورم)

حَرَمَ (دس) حَرَمًا وَحَرَامًا وَ

حَرَمَ (دك) حَرَمًا وَحَرَمًا

وَحَرَمَةً وَحَرِيمَةً وَحَرَامًا

- عليه الامر - حرام ہونا۔

حَرَمَ (دس) حَرَمًا وَحَرَامًا

- فِي الْفَمَارِ - جوٹے میں ہارنا۔

حَرَمٌ - الشئ - کسی شے کو حرام

کھانا۔ (د) وَحَرَمٌ - ماہ

حرام میں داخل ہونا۔ حَرَمَهُ

وَاحْرَمَهُ فِي الْقَمَاسِ - جوٹے

میں جیتنا۔ وَاحْرَمَ - حَرَمَ

میں داخل ہونا۔ احْرَمَ الشئ -

حرام کھانا۔

احْرَمَ - عن الشئ - رکنا۔ باز رہنا

احْرَمَ - منه - تخرمہ - کسی کی

ذمہ داری میں آکر محفوظ و مامون

ہونا۔

تَحْرَمُ - یہ۔ ایک سادہ زندگی گزارنا

اور آپس میں حرمت کا پختہ مضبوط

ہونا۔ "تَحْرَمْتُ بِطَعَامِكَ"

و مجا لسك" یعنی سادہ کھانا

کھانے اور بیٹھنے اٹھنے سے اب

تمہارا مجھ سے اس چیز کا لینا جائز

نہ رہا۔ جس کا پہلے لینا روا تھا۔

احْتَرَمَهُ - ڈرنا اور حرمت و عزت

کا لحاظ رکھنا۔ احْتَرَمَ الشئ -

محسروم ہونا۔ اور اس کلام

"لَا تَحْتَرَمُ فَتَحْتَرَمُ" میں ہر

دو معنی بیگ وقت ملحوظ ہیں۔

یعنی خوف نہ کرو۔ ورنہ خیر سے

تھی دست رہو گے۔

استحرم - الشئ - حرام سمجھنا۔

الْحَرَمُ - معن - حرام۔ ایسا واجبی

کام جس کا ترک کرنا ناجائز ہو۔

ج۔ حَرَمٌ - احرام کا زمانہ۔

الْحَرَمُ - معن - حج کا احرام۔ جیل

کا مخالف۔

الْحَرَمُ - معن - وہ شے جو محفوظ رکھی

جائے اور اسی کی طرف سے مداخلت

کی جائے۔ مقدس۔ ج۔

أَحْرَامٌ - الْحَرَمُ الاقصی

بیت المقدس۔

الْحَرَمَانُ - مکہ معظمہ و مدینہ منورہ۔

الْحَرَمَانُ - محسرومی۔

الْحَرَمَةُ وَالْحَرَمَةُ وَالْحَرَمَةُ

ذمہ۔ ہیبت۔ ہر وہ حق اللہ جس

کی رعایت لازمی ہو۔ اور اس

میں کوتاہی حرام ہو۔ حصہ۔ ہر وہ

یا حرمت شے جس کی بے حرمتی

منوع ہو۔ حَرَمَةُ الرَّجُلِ

بیوی۔ ج۔ حَرَمٌ وَحَرَمَاتٌ۔

<p>حُورٌ. دك، حُورٌ نة. بالمكان. کسی جگہ سے نہ بنتا۔ — العسل في الخلية. شہد کا چھتہ میں ایسا چھپنا کہ اس کا نکالنا دشوار ہو۔ وحور الفطن روتی وشنا۔ الحورن۔ وحننہ کی کمانی۔ الحوا۔ گھر کا صحن۔ کتے میں نزلت پخواہ۔ میں اس کے صحن میں اترا آواز۔ گرہ۔ ہرنوں کے چھپنے کی جگہ۔ جو آخواء۔ الخرء۔ لائق۔ کتے ہیں۔ بالحقوا ان يكون ذاك۔ الخرءة۔ رائی وغیرہ کے مزے کی تیزی۔ الخرءة۔ غصہ یا درد کے سبب حلق یا سینہ یا سر میں سوزش۔ بدبو کے ساتھ چرپراہٹ۔ حوسى رض، حویاً۔ الشىء۔ گھٹنا۔ کم ہونا۔ احوى۔ الشىء۔ گھٹانا۔ کم کرنا۔ ما آخواء بہ۔ وہ اس کے کس قدر لائق ہے۔ تَحْوِى۔ استعمال میں زیادہ مناسب ولائق کو طلب کرنا۔ دو چیزوں میں سے زیادہ بہتر کو طلب کرنا۔ — الامر۔ قصد کرنا اور فضیلت دینا۔ — بالمكان۔ ٹھیرنا۔ المحوى والمخرءة۔ لائق سزاوار کہا جاتا ہے۔ هذا الامر محوى او مخرءة لذلك او بذلك۔ یہ کام اس کے لائق ہے۔ الخرى۔ ج۔ حویون و آخویاء۔ مؤنث حوییة۔ ج۔ حوییات و حویایا۔ — وراخرى (</p>	<p>مَحْرَمٌ۔ قمری سال کا پہلا مہینہ۔ المحرم۔ جو چیز ذمہ میں ہو۔ جلداً محرم۔ بے رنگا چمڑا۔ سوط محرم۔ نرم نہ کیا ہوا کوڑا۔ اعدابی محرم۔ اُجڈ اکڑ۔ دیہاتی۔ المحرم۔ ناجائز کام۔ جسم۔ محایم اللیل۔ رات کے خطرات۔ المحرم۔ احرام باندھنے والا۔ صلح کرنے والا۔ وہ شخص جو کسی کی حفاظت و پناہ میں ہو۔ کتے ہیں — "لانه لحم عنك" یعنی اس کی تکلیف تم پر حرام ہے۔ المحرم۔ غیر و بھلائی سے مجرور۔ وہ شخص جس کا مال نہ بڑھے۔ وہ بد قسمت شخص جو کمانے سے عاجز ہو۔ المحرمة والمحرمة۔ ہر وہ شے جس کی بے حرمتی جائز نہ ہو۔ ج۔ محاسن۔ عام لوگ جیسی رومال کو "محرمہ" کہتے ہیں۔ حرم۔ فی الامر۔ اصرار کرنا۔ الجويد والحومد۔ رنگ و بو بدبو دار کچھڑ۔ حرمہ۔ لعنت کرنا۔ الحرمل۔ ایک قسم کی بوٹی جو صوفی کے کام آتی ہے۔ حون و حون دن ك، حورنا و حورنا و حورنا۔ البغل۔ خمر کا اڑ جانا۔ اچانک کھڑا ہو جانا صفت مذکر و مؤنث (حورون) ج۔ حون۔ و حون فی البیج۔ برابر قیمت پر پہنچنا۔ نہ کم نہ زیادہ۔</p>	<p>وحرمت الحرمة۔ حفاظت۔ الحویہ۔ مص۔ حرام شے جس کو سبب حرمت پھونہ سکیں۔ محرم کا کپڑا۔ حویہ الرجل۔ قابل حفاظت چیز اور اسی لیے بیوی کو حوریم کہتے ہیں۔ شاہی محل کے گرد اگر در کی جگہ وسیع۔ ہر وہ جگہ جس کی حفاظت واجب ہو۔ ج۔ حوم و آخویہ۔ الحوم۔ ایک شخص کی بیویاں۔ الاشهر الحوم۔ باحرمت چار مہینے یعنی ذوالقعدہ۔ ذوالحجہ۔ محرم۔ رجب۔ عرب کو ان مہینوں کی اس قدر حرمت منظور تھی کہ ان میں لڑائی بھڑائی قطعاً بند رکھتے تھے۔ الحریمۃ۔ مص۔ مرغوب چیز جو مال نہ ہو سکے۔ الحرام۔ خلاف حلال۔ ناجائز۔ ج۔ حوم۔ کتے ہیں۔ حوام اللہ لا افعل کدا۔ خدا کی قسم میں ایسا کرنے کا نہیں۔ جس طرح کتے ہیں۔ یمین اللہ لا افعل۔ احرام باندھنے والا۔ کہا جاتا ہے۔ رجل حرام و قوم حرام۔ احرام باندھنے والا۔ ایک آدمی یا احرام باندھنے والی قوم۔ دونوں جگہ واحد کی شکل میں آتا ہے۔ کیونکہ دراصل مصدر ہے۔ الشہر الحرام۔ ماہ محرم۔ البلد الحوام۔ مکہ معظمہ۔ المسجد الحرام۔ کعبہ شریف۔ الحرامی۔ حرام کا کرنے والا۔</p>
---	--	--

الْحَزُونَةُ - من الارض. سخت زمین
 الْحَزُونَةُ - سخت پہاڑ. ج. حَزُونٌ
 الْحَزُونُ - مصائب.
 الْحَزَانَةُ - بال بچے جن کے اہتمام میں
 انسان فکر مند رہتا ہے۔
 الْحَزُونَةُ - زمین کی سختی۔
 الْحَزُونَةُ - کرٹوں سے ڈالنے کی ایک
 نبات۔
 حَزَانٌ، حَزَوًا و حَزَى (ض)
 حَزِيًا و تَحْزِيًا - الشَّيْءُ -
 کسی چیز کا اندازہ کرنا۔ تخمینہ لگانا۔
 - الطير - سگھون لینے کے
 لیے پرندہ کو اڑانا۔
 حَزَانٌ، و حَزَى - السراب
 الشَّيْءُ - نمایاں کرنا۔ ظاہر کرنا۔
 أَحْزَى - أَحْزَاءٌ - الشَّيْءُ - بلند
 و نمایاں ہونا۔ بالشَّيْءُ - جاننا۔
 الحازنی - فا۔ قیافہ شناس اور
 اسی سے یہ قول ہے۔ "علی
 الحازنی هبطت"۔ یعنی میں
 واقف کار اور باخبر کے پاس پہنچا۔
 المَزْنَى و الحَزَاءُ - ایک نبات
 واحد - حَزَاةٌ - و حَزَاءَةٌ -
 حَسَهُ دَن، حَسًا - قتل کرنا۔
 بڑے اکیڑنا۔ جانور کے کھیرا
 کرنا۔ البرد الذرع - سردی
 کا کھیتی کو مار جانا۔ جلا دینا۔
 - اللحم - گوشت کو انگاروں
 پر بھوننا۔ الناس - پھنگلی کے
 لیے کباب وغیرہ پر آگ ڈالنا۔
 حَسَّ (ض) حَسًا و أَحْسَى
 الشَّيْءُ - و بالشَّيْءُ - معلوم کرنا۔
 محسوس کرنا۔ کہا جاتا ہے "حَسَّ
 و أَحْسَى منه خبرًا"۔ اس نے
 اس سے خبر معلوم کی۔

حَسَّ (ض) حَسًا و حَسًا -
 بالخبر - یقین کرنا۔ لفلان
 کسی پر دل دکھانا۔ کسی کے لیے نرم
 دل ہونا۔
 حَسَّه - معلوم کرنا۔
 تَحَسَّسَ - سنا۔ دیکھنا۔
 - الخبر - خبر معلوم کرنے کی
 کوشش کرنا۔ الشَّيْءُ - حواس
 سے پتہ لگانا۔ تَحَسَّسَ منه -
 خبر دریافت کرنا۔
 إِذْ حَسَّتْ - آسَنَانُهُ - و انتوں
 کا اکڑ جانا۔ یا کھر جانا۔
 إِحْتَسَسَ - الشَّيْءُ - چھونا۔
 بیخ کنی کرنا۔
 الحیس - مص - حرکت - ہلکی آواز۔
 کہتے ہیں "ما سمعتُ له حِسًا"
 میں نے اس کی آہستہ آواز نہیں
 سنی۔ آہٹ - بچہ کی ولادت کے
 بعد کا درد۔ حِسُّ الحی -
 تپ کے شروع کا احساس۔
 الحس - مص - جلد۔
 الحسنة و الحسنة - حالت۔
 کہتے ہیں "هو فی حسنة سوء"
 وہ اتر حال میں ہے۔
 الحاسنة - الحاسق - کاموں کی
 دریافت کرنے کی قوت - ج۔
 حراس -
 الحواس الخمس - اوراک کی پانچ
 قوتیں (سونگھنا۔ سنا۔ دیکھنا۔
 چکھنا۔ چھونا، حواس الارض -
 زمین کی پانچ آفتیں (سروی۔ اولے
 ٹڈی۔ ہوا۔ مویشی، کہا جاتا ہے
 هَرَّتْ بالقوم حواس - قوم پر
 سخت سال گذرے۔
 الحیسس - آہستہ و پخت آواز

حسب - مقتول۔
 حَسَّاسٌ - الحسب - بخار کے شروع
 ہونے کا احساس۔
 الحسب - حس ظاہری سے اوراک کی
 ہوئی شے - عقلی کا مخالف۔
 الحسب - ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جو
 خشک کی جاتی ہے۔ پتھر کے چھوٹے
 چھوٹے ٹکڑے۔ واحد الحسبہ،
 نخوست - بد خلقی۔
 الحسوس - سخت سال۔
 حساسات - ناپسندیدہ یا شرمندگی کی
 چیزوں کی وجہ سے القباضی کیفیت
 کا احساس و شعور۔
 المحسوس - حس ظاہری سے دریافت
 کیا ہوا۔ نامبارک - آس من
 محسوسہ ٹڈی یا اولوں سے
 تباہ شدہ زمین۔
 المحسبہ - کھیرا۔
 حَسَبَهُ (ن) حَسَبًا و حَسَابًا و
 حِسْبَانًا و حِسْبَانًا و حِسْبَانَةً
 و حِسَابَةً - گنا۔ شمار کرنا۔
 حَسَبَهُ (س ح) حِسْبَانًا و
 حَسْبَةً و مَحْسَبَةً - گنا
 کرنا۔ خیال کرنا۔
 حَسَبَ دِك، حَسَبًا و حَسَابَةً -
 شریف الاصل ہونا۔ منفعت
 (حسب) ج۔ حَسْبَاءُ -
 حَسْبَبَهُ - تکیہ دینا۔ المیتنا -
 کفنانا و فنانا یا پتھروں میں دفن
 کرنا۔ (د و آ حَسَبَهُ) اس
 قدر کھلانا یا دینا کہ کھلنے یا لینے
 والا کہے کہ بس۔ کہا جاتا ہے۔
 "اعطی فأحسب" یعنی اس
 نے بہت دیا۔ خوب دیا۔
 حَسَبَهُ مَحْسَبَةً و حَسَابًا -

<p>حسب کے لیے اللہ کافی ہے۔ الحُسْبَان - حساب۔ چھوٹے تیر۔ واحد۔ (حُسْبَانَةٌ) الحُسْبَانَةُ - کرک۔ بدلی۔ اولہ۔ (والمحسبۃ) چھوٹا تکیہ۔ حُسْبَانٌ - السِّلْد - اوزان وغیرہ کی جانچ پڑتال کرنے پر محاکم کی طرف سے مقرر کردہ شخص۔ السِّكْر حَسْحَسٌ - لک۔ کسی کے لیے درومند ہونا۔ دکھ محسوس کرنا۔ - اللحم گوشت کو انگاروں پر رکھ کر الٹنا۔ پلٹنا۔ تَحْسَحَسٌ - للقیام۔ اٹھنے کے لیے حرکت کرنا۔ ادباً الابلی۔ اونٹ کے بالوں کا متفرق و پراگندہ ہونا۔ حَسَدَاتٌ (ن ض) حَسَدًا و حَسَادَةٌ و حَسَدَاتٌ - فلاناً نعمة و علی نعمة کسی کی نعمت کے زوال اور خود اپنے لیے اس کے حصول کی تمنا کرنا یا آرزو رکھنا۔ صفت (حاسد) ج۔ حَسَادٌ و حَسَدَةٌ و حَسَدٌ - أَحْسَدَهُ - کسی کو حاسد پانا۔ تَحَاسَدًا - ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ ایک دوسرے کی زوال نعمت کا متمنی رہنا۔ الحَسُودُ - (مذکر مؤنث) وہ شخص جس کی طبیعت میں حسد ہو۔ ج۔ حُسُدٌ - الحَسَادُ - بہت حسد کرنے والا۔ المَحْسَدَةُ - حسد کا باعث و سبب حَسْرَةٌ (ن ض) حَسْرًا - البصر بینائی کا زور ہو جانا۔ نگاہ کا تھک جانا۔ الشیء - ظاہر ہونا۔</p>	<p>سے کافی ہے۔ "ذید صدیقی فحسبی او فحسب" ذید میرا دوست ہے اور وہ مجھ کو کافی اور دوسرے سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ الحَسَبُ - حَسْبٌ - کامیابی۔ مقدار تعداد۔ کہا جاتا ہے۔ "هذا بحسب ذاك" یہ اس کے برابر ہے۔ "اعمل علی حسب ما امرتک" میرے حکم کے مطابق عمل کرو۔ "وحسبما ذکرت" موافق اس کے جس کا ذکر ہوا۔ خاندانی شرافت۔ آباؤ اجداد کے محاسن و مفاخر۔ ج۔ أَحْسَابٌ - الحَسَبُ - شمار کیا ہوا۔ الحِسَابُ - مص۔ شمار۔ کافی کہتے ہیں "أَعْطَا عَطَاءً حِسَابًا" اس نے اس کو کافی دیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد۔ کہتے ہیں۔ "آتانی حسابٌ من الناس" جس طرح کہا جاتا ہے۔ "جاءنی عَدٌّ مِنْهُمْ" "دی رزق اللہ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی کی یا تنگی کے رزق پہنچاتا ہے۔ حِسَابُ الْجَمَلِ - حروف ابجد کا حساب۔ يَوْمَ الْحِسَابِ - قیامت کا دن۔ الحِسَابِيُّ - حساب دان۔ الحِسْبَةُ - مص۔ میت کو پتھروں میں پاکھن رے کر دینا کرنا۔ اجر و ثواب۔ ج۔ حِسْبٌ - الحَسِيبُ - خاندانی شرافت رکھنے والا۔ جانچ کنندہ۔ کہتے ہیں۔ "كفى بالله حسيباً" مجھ سے</p>	<p>حسابات کی جانچ کرنا۔ تَحَسَّبَ - قناعت کرنا۔ تکیہ لگانا - الخبر دریافت کرنا۔ - ۵ - پہچاننا۔ قصد کرنا۔ تَحَاسَبًا - آپس کا حساب صاف کرنا۔ ایک دوسرے کے حساب کی جانچ کرنا۔ إِحْتَسَبَ - الأُمُور - گمان کرنا شمار کرنا۔ - ما عند فلان - آزمانا۔ إِحْتَسَبَ عَلَيْهِ الأَمْرُ - نا پسندیدہ بات سے روکنا۔ منع کرنا۔ - ۵ - قناعت کرنا۔ عنه - رک جانا۔ دست کش رہنا۔ إِحْتَسَبَ ذَلْدًا لهُ - بڑی عمر کے بچہ کو کھو دینا۔ اگر چھوٹی عمر کا بچہ ضائع ہو تو کہتے - "افتطرطه" - عند الله خيرًا الله تعالیٰ سے ثواب و اجر کی امید لگانا۔ کہتے ہیں۔ "فلانٌ لا يُحْتَسَبُ بِهِ - فلان نا قابل اعتبار ہے اور کسی شمار میں نہیں۔ "فلانٌ استعطاني فأحْتَسَبْتُهُ" یعنی فلاں نے مجھ سے بخشش چاہی تو میں نے اس کو خوب دیا اور کافی دیا۔ الحَاسِبُ - فا - حساب دان۔ ج حَسْبَهُ - الحَسَبُ - مص۔ کافی ہونا۔ کفایت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ "حَسْبُكَ درهم" تم کو ایک درہم کافی ہے اور کبھی باء زائد کر کے کہتے ہیں۔ "يَحْسِبُكَ درهم" "و هذا رجلٌ حَسِبُكَ من رجلٍ" اور تمہارے لیے یہ آدمی اس آدمی</p>
---	---	---

الحَيْبِكَة - جانور کا دانہ۔ سببی۔
 (۱) والحسكة والحساکة،
 دشمنی۔ کینہ۔

الحسبک - پست قدم۔
 حَسَلٌ (ن) حَسَلًا - الشئ۔
 ذیل کرنا۔ الدابة۔ جانور کو
 تیز کرنا۔

حَسَلٌ - به۔ ذیل کیا جانا۔
 حَسَلٌ - بنفسه۔ اپنے آپ کو
 ذیل کرنا۔ وراثت گوارا کرنا۔
 تَحَسَّلَ وَاَحْتَسَلَ - گروہ کا بچہ
 شکار کرنا۔

الحسئل - گروہ کا بچہ۔ ج۔ حَسِيلَةٌ -
 وَاَحْسَالٌ وَاَحْسُولٌ و -
 حَسْلَانٌ - کہتے ہیں: لَا اَتِيكَ
 وَاَسِنُ الحسئل - یعنی میں تمہارے
 پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ گروہ کے
 دانت اس کے مرنے تک نہیں
 گرتے اس لیے ان سے پیشگی مراد
 لی جاتی ہے۔ سبت۔ کانصب
 نيزع الحافض ہے۔ اور تقدیر
 عبارتوں ہے۔ مداة بقاء
 سبت الحسئل - ابو حسئل۔
 وَاَبُو حَسِيلٍ - گروہ۔

الحسالة - جو ذیروہ کی بھوسی۔ چاندی۔
 چاندی کے ذرات۔ (۱) الحسيلة،
 قوم کے گھٹیا لوگ۔

الحسيل - گائے کے بچے مقصد
 و حَسِيلَةٌ - گھٹیا بچہ جو حَسَلٌ
 المَحْسُولُ - گھٹیا۔ روی
 حَسْبِي (ع) حَسْبِي مَا بِيَدِي
 كَالنَّاسِ - حَسْبُو العزقي۔
 رگ کاٹ کر اس کو داغ دینا تاکہ
 خون بہنا بند ہو جائے۔

الداء - بیماری کو دوائے

دور کرنا - حَسَمَهُ الشئ
 روکا۔ منع کرنا۔

الأحسوم - تجر بہ کار۔ فیصلہ کن آدمی۔
 الحسوم - نامبارک۔ منحوس کہتے ہیں۔
 "أَيَّامٌ حُسُومٌ وَأَيَّامٌ حُسُومِيَّةٌ"
 بصورت وصفت اصناف۔ یعنی
 نامبارک دن۔

الحسار - تیز کاٹنے والی تلوار۔
 - حَسَامُ السيف - تلوار کی
 دھار۔

المحسمة - کاٹنے کا ذریعہ۔ کہا جاتا
 ہے۔ "هَذَا مُحْسَمَةٌ لِلدَائَةِ"
 یہ بیماری کے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔
 حَسُنَ وَاَحْسَنَ (ن) حَسَنًا -

خوب صورت ہونا۔ صفت (حَسَن)۔
 ج۔ حَسَانٌ وَاَحْسَانٌ،
 ج۔ حَسَانُونَ وَاَحْسَانِينَ و
 حَسِينٌ، مؤنث حَسَنَةٌ و
 حَسَنَاءٌ ج۔ حَسَانٌ وَاَحْسِنَاتٌ
 اور مبالغہ کے لیے (حَسَنَانٌ،
 مؤنث حَسَنَانَةٌ)۔

حَسَنَةٌ - آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا
 حَسَنَةٌ - مُحَسَّنَةٌ - خوبصورتی

میں غالب آنا۔ لطف و مہربانی سے
 پیش آنا۔ خوش معاملگی کے ساتھ
 پیش آنا۔ کہا جاتا ہے: يَا بَنِي
 لَأَحْسَبَنَّ بِكَ النَّاسَ"
 میں لوگوں پر تمہارے معاملے کی وجہ
 سے لڑتا ہوں۔

أَحْسَنَ - نیک کرنا۔ کام کو اچھی طرح
 کرنا۔ الشئ - اچھا بنانا۔

اچھی طرح بنانا۔ کہتے ہیں: فَلَمَّا
 يُحْسِنُ القِرَاءَةَ - نَسْبَانُ
 عمدہ طریقہ سے پڑھتا ہے۔
 اليه دبه - نیک سلوک کرنا۔

نیکی کرنا۔

تَحَسَّنَ - خوبصورت ہونا۔ بگڑا
 آراستہ ہونا۔ مؤنث حَسَنَةٌ - کہتے ہیں۔
 "دَخَلَ الحَمَامُ فَتَحَسَّنَ" وہ
 حمام میں گیا اور مجامعت بنائی۔
 اِسْتَحَسَّنَهُ - اچھا جاننا۔

الحسُن - خوبصورتی۔ جمال۔ ج۔
 مُحَاسِنٌ - (خلاف قیاس)

المحاسين - بدن کی خوبصورت
 جگہیں۔ حَسَنٌ سَاعَةٌ - ایک

نبات ہے جو غروب سے ایک
 ساعت پہلے کھلتی ہے اور طلوع کے

بعد مڑ جھکا جاتی ہے۔ گویا ایک ست
 بہار دکھاتی ہے۔ سبت الحسُن

ایک قسم کی نبات جو درختوں پر
 لپی رہتی ہے اور خوبصورت پھول

لائی ہے۔ الحسُن ایک ہڈی
 جو کہنی سے ملتی ہے۔

الحسَن - مص کہنی کے پاس کی ہڈی۔
 بلند طیلہ الحسنان - سیدنا

حضرت امام حسن و سیدنا حضرت
 امام حسین رضی اللہ عنہما۔

الحسنة - نیک کام۔ بھلائی۔ نیکی۔
 فائدہ۔ ج۔ حَسَنَاتٌ -

الأحسن - حَسَنٌ کا اسم تفضیل۔
 ج۔ أَحْسَنٌ - مؤنث حَسْنِيٌّ

اور کہی سُنْدُ وَاذًا - اس کی تصغیر
 لاتے ہیں اور کہتے ہیں مَا أَحْسَنُ

ذِيْدًا - أَحْسَنُ القوم -
 قوم کے خوبصورت یا اچھے آدمی۔

الحسنى - اچھا کام۔ اچھا انجام۔ خدا
 تعالیٰ کا دھیان۔ کامیابی۔ شہادت

ج۔ حَسَنِيَّاتٌ وَاَحْسَنِيٌّ -
 الأسماء الحسنى - اللہ کے صفاتی
 ننانوے نام۔

<p>پرگھاس اگنا۔ أَحَشَّةٌ - گھاس کاٹنے میں مدد دینا۔ احشت اليد - ہاتھ کا شل ہو کر سوکھ جانا۔ احشت الناقلة او المرأة۔ بچہ کا ادھنی یا عورت کے پیٹ میں خشک ہو جانا۔ صفت (مُحَشٌّ) ، أَحَشَّةٌ عن حاجته۔ جلدی کرانا۔ أَحَشَّشٌ - الحشيش۔ گھاس کو تلاش کرنا اور جمع کرنا۔ اسْتَحَشَّشَ - الرجلُ - پیاسا ہونا۔ - الغصنُ - شاخ کا دراز ہونا - اليدُ - ہاتھ کا شل ہونا۔ - العظمُ - ہڈی کا ہاریک و پتلی ہونا۔ الحشيش - خشک گھاس۔ معرو (حَشِيشَةٌ) الحشاشه والحشاش۔ بیمار یا زخمی میں زندگی کا آخری سانس۔ کہا جاتا ہے حشاشك ان تفعل كذا زیادہ سے زیادہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ الحش والحش والحش والحش۔ بارغ۔ کھجوروں کا بھٹ۔ ج۔ حشوش الحشاش۔ گھاس کی گول۔ ہر چیز کا گوارہ ج۔ أَحَشَّةٌ الحشاش۔ گھاس کا بیج کوٹنے والا۔ یا بیجے والا۔ خشک پتھر والا۔ ج۔ حشاشون وحشاشة الأحشوش والحشوش۔ مال کے پیٹ میں خشک بچہ۔ المحش والحششة۔ بہت گھاس والی جگہ۔ ج۔ محاش۔ المحش۔ گھاس کاٹنے کی ذرا تلی۔ (والمحقة) آگ ہلانے کی</p>	<p>گھونٹ۔ ج۔ حَسَوَات۔ الحَسَوَةُ - ایک گھونٹ کا اندازہ۔ کہتے ہیں: "في الأثناء حَسَوَةُ" برتن میں ایک گھونٹ کی مقدار ہے۔ ج۔ أَحْسِيَهُ و أَحْسُوهُ و جج۔ أَحَاسٍ۔ المحسِيَّة - پی جانے والی شے۔ حَسِي (ص) حَسِيًّا و احسَى۔ کھوونا۔ الحسَى او الحسَى او الحسَى۔ دلدلی زمین۔ ج۔ أَحْسَاءُ و حَسَاءُ۔ حَسِي (س) حَسِيًّا و احسَى۔ آزمانا۔ حَشَّشَ (ن) حَشَّاشًا - العشب۔ گھاس کا ٹٹا۔ الناس۔ لکڑی سے ہلا کر آگ کو تیز کرنا۔ - الحرب۔ جنگ بھڑکانا - الفرس۔ گھوڑے کے آگے گھاس ڈالنا۔ اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے: "احشك وتروثني" میں تو تیرے سامنے گھاس ڈالتا ہوں اور تو مجھ پر لید ڈالتا ہے۔ یعنی تو نیکی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے۔ - المال۔ بڑھانا۔ زیادہ کرنا۔ الصيد۔ شکار کو دو طرفہ جانب سے گھیر لینا۔ - حشيت اليد۔ ہاتھ کا شل ہو جانا۔ الولد في بطن الناقلة۔ ادھنی کے بچہ کا پیٹ میں خشک ہو جانا۔ - الفرس۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ أَحَشَّشٌ - الكلاء۔ گھاس کو کٹنے کا وقت قریب آنا۔ - الأرض زمین کا بہت گھاس والی ہونا یا زمین</p>	<p>الحسنيان۔ کامیابی۔ غمناوت۔ کہا جاتا ہے۔ "حَسِينَاةٌ و حَسِينَاةٌ" ان يفعل كذا وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرے الحسُونُ ایک چھوٹا سا خوش صورت خوش آواز پرندہ۔ المحسَنان۔ بہت بھلائی کرنے والا۔ المحسِين۔ خوبصورت چیزیں۔ کہا جاتا ہے "ما أبدع تحاسنُ الطاووس و تزايبته" مور کی خوبیاں اور اس کی خوش منقاری کس قدر بھلی اور عجیب ہے۔ المحسنة حسن کا سبب۔ کہتے ہیں "هذا طعامٌ محسنةٌ للجسم" یہ کھانا جسم کے لیے سبب حسن و جمال ہے۔ حَسَانٌ (ن) حَسَوًا و تحسَى و احسَى - المرقق۔ شوربا مقوڑا مقوڑا پینا۔ الطائرُ الماء۔ پرندہ کا چونچ سے پانی پینا۔ حَسِي و أَحْسِي و حَسِي - الرجل المرقق کسی کو شوربا مقوڑا مقوڑا پلانا۔ تحاسيًا۔ ایک دوسرے کو شوربا پلانا۔ الحسو۔ والحسا والحساء والحسو ہر پی جانے والی رقیق اور ہلکی چیز اور اسی سے ہے یوم الحسو الطير۔ بہت چھوٹا کن۔ ایک قسم کی غذا جو آٹے اور پانی سے تیار کرتے ہیں۔ الحسو۔ بہت گھونٹ گھونٹ کر کے پینے والا۔ الحسوة۔ حسا کا اسم مرہ۔ ایک</p>
---	--	---

کیونکہ یہ دراصل مصدر ہے۔
الحَشْرُ - مِنَ الْأَسِنَّةِ - باریک نیزہ
ج۔ حُشْرٌ - یوم الحشر -
قیامت کا دن۔

الحَشْرَاءُ - معمولی درجہ کے لوگ۔
الحَاشِرُ - فاج حَاشِرُونَ و حَشَّاسٌ -
الحَشْرَةُ - دانہ سے لگا ہوا چھلکا۔
ج۔ حَشْرٌ -

الحَشْرَةُ - ج۔ حَشْرَاتٌ - کیڑے مکوڑے
یا چھوٹے چھوٹے جانور۔

الحَشْوَسُ - بڑے پیٹ والا۔ پھولے
ہوئے پھلوؤں والا۔ پاکیزہ ساخت
والا۔ کہتے ہیں "فَرَسٌ حَشْوَسٌ"
یعنی اچھی ساخت کا گھوڑا۔

المَحْشُورُ و المَحْشِيرُ - لوگوں کے جمع
ہونے کی جگہ۔

حَشْرَجٌ - حَشْرَجَةٌ - جان کنی کے
وقت سانس کا غرغرانہ۔ گنگرو
کا بولنا۔

الحَشْرَجُ - آبخورہ جس میں پانی ٹھنڈا
کیا جاتا ہے۔ پہاڑ کا گڑھا جس
میں صاف مقطر پانی بہا ہو۔
حَشْفَةٌ (مَنْ) حَشْفًا - الضرعُ -

پستان کا دودھ سے خشک ہو
جانا۔

أَحْشَفَتِ - النخلةُ - کھجور کا
خراب و رومی پھل لانا۔

ضَرْعُ الناقَةِ - اونٹنی کے
تھنوں کا سکرنا۔ سمٹنا۔

حَشْفَتٌ - عینک - آنکھیں چڑھیا
کر دیکھنا۔

تَحَشَّفٌ - پرانا بوسیدہ کپڑا پہننا۔
اِسْتَحَشَفْتُ - اذُنُ الْاِنْسَانِ -

کانوں کا خشک ہو کر سمٹ جانا۔
ضَرْعُ الْاُنْثَى - پستان کا

کا دودھ دوپٹہ والا۔ بہت
دائیں والا کھجور کا پتھا۔ مستعدہ
تیار۔ کہا جاتا ہے "فلانٌ حَافِئٌ"
حَافِئٌ: فلان اپنی خدمت و
کوشش میں چست و معنی سے۔

الحَشِيدُ - وہ شخص جو دوسرے کی مدد
کرنے میں مال صرف کرنے اور
کوشش کرنے سے دریغ نہ کرے۔
ج۔ حُشْدٌ - "عین حُشْدٌ"
پانی نہ ختم ہونے والا چشمہ۔

الحَشْوَدُ - وہ اونٹنی جو اپنے تھنوں میں
دودھ جلد جمع کرے۔

المَحْشُورُ - مُطَاعٌ - وہ جس کی خدمت
کرنے کے لیے لوگ چست ہوں۔
المَحْشِيرُ - مجلسیں۔

حَشْرَدَنْ (مَنْ) حَشْرًا - الناسُ -

جمع کرنا - ه عَنْ وَطَنِهِ -

جلا وطن کرنا - حَشْرُ الْجَنَعِ -

ایک جگہ سے دوسری جگہ نکان۔

الْعَوْدُ - گڑھی کو پھیل کر

پھل کرنا - السنة الشديدة

الماء - خشک سال کا مریضی کو

تباہ کر دینا - ہلاک کر دینا۔

حَشْرٌ و احتشیر - فی راسہ -

بڑے سرد والا ہونا - اسی طرح

حَشْرٌ فِي بطنہ - بڑے پیٹ

والا ہونا - اور دیگر اعضاء ہلاک کے

لیے بھی اس کا استعمال اسی طرح ہے

حَشْرٌ الْوَجْهِ - و حَشْرٌ كَامْرَا -

ہلاک ہونا۔

الحَشْرُ - مَنْ - مِنَ الْاِذَانِ

باریک کان - کہتے ہیں اذُن حَشْرٍ

و اذنان حَشْرٍ و اذنان حَشْرٍ

گویا حشر کا استعمال تشبیہ و جمع
میں بھی واحد ہی کی شکل میں ہے۔

حَشْرٌ نَحْفًا - الناسُ - آگ

جلانا - كُ بِسَهْوٍ - کسی جگہ

پیٹ میں تیر مارنا - كُ

بِسُوطٍ - پیٹ یا پهلہ پر کھڑا

مارنا۔

المِحْشَاءُ - مٹے کپڑے کی چادر۔ کبل

ج۔ مَحْشِيٌّ -

أَحْشَبَهُ - ناراض کرنا غضبناک کرنا۔

أَحْتَشَبُوا - جمع ہونا - اکٹھا ہونا۔

المَحْشَبَةُ - لوگوں کی جماعت۔

حَشَّحَشُوا و تَحَشَّحَشُوا - اٹھنے

کے لیے حرکت کرنا۔ حَشَّحَشَهُ

الناسُ - آگ کا جلانا -

تَحَشَّحَشَ الْقَوْمُ - متفرق ہونا

حَشْدَنْ (مَنْ) حَشْدًا -

الشيءُ - جمع کرنا - حَشْوَدًا

الراسُ - کھیتی کا پورا آگ آنا۔

الناقَةُ - اونٹنی کا تھن

میں دودھ جمع کرنا - الْقَوْمُ

پکار کا جلد جواب دینا۔

حَشْدٌ - الشيءُ - جمع کرنا۔

أَحْشَدُ و تَحَشَّدُ و تَحَا شَدٌ

و اِحْتَشَّدَ - الْقَوْمُ - ایک فریق

و مقصد کے لیے جمع ہونا۔ کہا جاتا

ہے: اِحْتَشَّدْنَا فِي الْوِجْيَاكَةِ

اس نے ہمانی میں فریق دل سے

کام لیا۔ و اِحْتَشَّدَ يَحْتَشِدِينَ

فِي كَذَا - اس نے فلاں کے لیے

تیار کیا۔

الْحَشْدُ - مَنْ - و المَحْشَدُ - جماعت

کہا جاتا ہے: عِنْدِي حَشْدٌ

مِنَ النَّاسِ - میرے پاس لوگوں

کی ایک جماعت ہے۔ ج۔

حَشْوَدٌ -

الحَاشِدُ - فاج - مستعدی سے اونٹنی

سکرانا۔ سہٹنا۔

الحشفت رومی کھجور کہتے ہیں۔

"احشفا و سوء کیلہ" یعنی

ایک تو کھجور رومی اور ناپ بھی

کم۔ یہ جملہ بطور منب المثل اس

وقت بولا جاتا ہے جبکہ کسی میں

وہ بری عادتیں بیک وقت جمع

ہوں۔ خشک پستان۔

الحشفة کہتی کٹنے کے بعد کہتی کے

بچے ہوئے دھانے۔ خشک خمیر۔

سندرمیں چھوٹا سا گول جزیرہ جس

پر پانی نہ چڑھ سکے۔

حشک (من) حشکا وحشوکا۔

- الفرع یمن کا دودھ سے

بھر جانا۔ السحابۃ۔ بادل کا

بہت پانی والا ہونا۔

الغخلۃ کھجور کا بہت پھل لانا۔

صفت (حاشیک)۔

الوادی۔ پانی کو باہر پھینک دینا

- القوم جمع ہونا۔ الریم

ہوا کا مختلف جہات سے پینا۔

- الناقة لبنہا۔ اونٹنی کا

دودھ اپنے تثن میں جمع کرنا۔

صفت (حشوک)۔

الناقة۔ اونٹنی کا دودھ دوہنا

بند کر دینا۔ اور اس کے تثنوں کا

دودھ سے بھر جانا۔ صفت معولی۔

دحشوکا۔

حشکت (من) حشکا۔ الدابة

جانور کا جو وغیرہ چبانا۔

حشک اللبن فی الضرع۔

تثن میں دودھ کا جلد جمع ہونا۔

أحشک۔ الدابة۔ جانور کو جو

وغیرہ کھلانا۔

تحشک۔ الضرع۔ تثن کا دودھ

سے بھر جانا۔

الحفکة۔ بارش کی بوچھاڑ۔

الحفکة۔ جماعت۔ کہتے ہیں۔

"جاؤوا بحفکرتھم" یعنی وہ

اپنی جماعت کے ساتھ آئے۔

الحشیکة۔ جس چیز کو جانور کھائے۔

مثلاً جو وغیرہ۔

الریاح الحواشک۔ مختلف جہت

سے چلنے والی ہوائیں۔ واحد

(حاشیکة)۔

الحشاکہ والمتشاک۔ وہ کلاہی جو

جانور کے بچہ کے منہ پر باندھی جاتی

ہے تاکہ وہ دودھ نہ پی سکے۔

حش (من) حشلا۔ الشی۔

حقیر جانا۔ ذلیل کرنا۔

الحشیل۔ ذلیل و حقیر ٹھے۔

حشمہ (من) حشما۔ ناپسندیدہ

بات سنا کر کسی کو غضبناک کرنا اور

دکھ پہنچانا۔ نخر مندہ کرنا۔

الشی۔ طلب کرنا۔ کہا جاتا

ہے "ما حشم الصيد" اس

نے لکار نہیں پایا۔ "وما حشمت

من طعامنا" اس نے ہمارا

کھانا نہیں کھایا۔

حشم (من) حشوما۔ ٹھکانا۔ لاغری

کے بعد موٹا ہونا۔ مندہ۔

منقبض ہونا۔

حشمہ (من) حشما۔ غضبناک ہونا۔

- حشما۔ غضبناک کرنا

حشمہ و آحشمہ۔ ناراض کرنا۔

غضبناک کرنا۔ شرمندہ کرنا۔

وحشمہ۔ اذیت پہنچانا۔

حاشمہ۔ غضبناک پر بھڑکانا۔ برا بیعت

کرنا۔

تحشم۔ من فلان۔ کسی سے شرم

و حیا کرنا۔ مذمت سے بچنا۔

أحشمت۔ مندہ و مندہ۔ غضبناک ہونا

منقبض ہونا۔ شرم کرنا۔

حشم۔ الرجل۔ آدمی کے لوکر

چاکر۔ انسان کے وہ قرابت دار

اور غلام یا پڑوسی جو اس کی خاطر

دوسروں پر غضب ناک ہوں۔ یا وہ

ان کی خاطر دوسروں پر خوشگین ہو۔

اہل و عیال۔ قرابت۔ ج۔

أحشام۔

الحشمة۔ شرم و حیا۔ انقباض۔

عینہ و غضب۔

الحشمة۔ عورت۔ قرابت۔ ذمہ داری

الحشیم۔ ذی عزت۔ پڑوسی۔ مکان۔

ج۔ حشما۔

حش (من) حشنا۔ السقاء۔

مٹک میں زیادہ دودھ رکھنے اور

اس کو بار بار نہ دھونے سے اس کا

بد بو وار ہو جانا۔

أحشمن۔ السقاء۔ بد بو وار کرنا۔

حاشینہ۔ آپس میں گالم گلوچ کرنا۔

تحشمن۔ میلا ہونا۔

الحشمن۔ معن۔ دودھ کی چکنائی کی وجہ

سے میل کھیل۔

الحشنة۔ کھیند۔

حشاد (من) حشاد۔ الویادۃ

بالقطن۔ کھیند میں ردول ہونا۔

- الرجل۔ کسی کے ساتھ لڑنا۔

حاشا۔

حاشا۔ ظرونی پھیر دینا۔

أحشی۔ احتشام۔ بھر جانا۔

کھا جاتا ہے "احتشمت الیمانة

بالحب" انار والوں سے بھر گیا

"واحتشمتی من الطعام" وہ کھانے

سے سیر ہو گیا۔ احتشمت الحواک

الْحَشِيَّةُ وَهِيَ عَدْوٌ كَالْحَشِيَّةِ

الْحَشِيَّةُ - مِنَ النَّاسِ وَالْأَبْلِ -
چھوٹے جن میں بڑے نہ ہوں۔

الْحَشَا - جَوَ كَمِ السُّلُوبِ كَالْحَشَا -
پہٹ کی اندرونی چیزیں۔ ج
أَحْشَاءُ - كَمَا جَاءَتْ فِي "أَنَا
فِي حَشَا فُلَانٍ" فِي فُلَانٍ كِي
پناہ میں ہوں۔ "فُلَانٍ خَيْرُهُمْ
حَشَاً - ان میں سے فُلَانٍ بِلِحَاطِ
مُحَافَظَتِ بَهْرَةٍ -

الْحَشْوُ - چھوٹے لوگ یا اونٹ۔ کلام
كَأَزْدِ حَصَّةٍ - رذیل لوگ۔ جس
سے کوئی چیز بھری جائے۔ مسالہ جو
بکری کے بچے کے پیٹ میں بھرا جائے۔
ج۔ المَحَاشِي -

الْحِشْوَةُ وَالْحِشْوَةُ - مِنَ الْبَطْنِ
انٹریاں۔ رومی چیز۔ کہا جاتا ہے۔
"هُوَ مِنْ حِشْوَةِ بَنِي فُلَانٍ"
وہ بنو فُلَانٍ کے رذیل لوگوں میں
شمار ہوتا ہے۔

الْحَشِيَّةُ - بھرا ہوا بستر۔ گدی کپڑا جو
عورتیں سرین پر باندھتی ہیں۔ تاکہ
قد سے موٹی نظر آئیں۔ ج۔ حَشَانِيَا
الْحَشْوِيُّ - فَضُولٌ كَلَامٌ كَرَنِيٌّ وَالْأَبْكَوَسِيُّ
الْمَحْشِيُّ - پِیٹ میں کھانے کی جگہ۔
الْحَشَاةُ - مِنَ الْبَطْنِ - اِمْقَارٌ
مُسْتَقِيمٌ -

حَشْوٌ (س) حَشْيٌ - الرَّجُلُ - ضَيْقُ
النَّفْسِ كِي بِيْمَارِي فِي بَطْنِ بِنْتِهَا -
- السَّقَاؤُ - مَشْكٌ كِي اِنْدَرُونِ
حَصَّةٍ فِي دَوْدِ حِي تَمْرٍ (يَا كَيْتُ ،
بِمِ جَانَا -

حَشْيٌ - الثَّوْبُ - كِطْرَةٌ كَالْحَشِيَّةِ
بِنَانَا - كِطْرَةٌ پَرِ كُوتِ لِكَانَا -

الِكْتَابُ - كِتَابٌ پَرِ حَاشِيَةِ لِكْتَابِ
صِفَتِ فَاعِلٍ (مُحَشِّشٌ) وَصِفَتِ
مَفْعُولٍ (مُحَشَّيٌّ) -

حَاشِيَةُ مَحَاشَاةٍ - زَيْدًا مِنْ
الْقَوْمِ - اسْتِثْنَاءُ كَرْنَا - خَارِجُ كَرْنَا
تَحَشَّيْتُ - فُلَانًا - اسْتِثْنَاءُ كَرْنَا
تَحَشَّيْتُ مِنْ الشَّيْءِ وَرَتَحَاشِيَّ

عَنِ الشَّيْءِ - بِيْمَارِي - دَوْرٌ رَهْنَا -
وَتَحَشَّيْتُ فُلَانًا - ذَمَّتْ سَعَةَ بِيْمَارِي
الْحَشْيُ - مَرَضٌ ضَيْقُ النَّفْسِ - پِیٹ
كِي اِنْدَرِ كِي چِيزِيں - مَثَلًا اَوْ جَبْرِي
تَلِي جَلْدٍ وَغَيْرِهِ - ج - أَحْشَاءُ -

حَاشَا - يَه كَلِمَةُ اسْتِثْنَاءٍ هِيَ
مُسْتَشْنِيَةٌ اَوْ مُسْتَشْنِيَةٌ مِنْ سَعَةِ بِلِحَاطِ
مَعْنَى تَنْزِيهِهِ خَارِجٌ كَرْتَا اَوْ رِنَا كَلِمَاتَا
هِيَ - جِيسے کہتے ہیں - "ضَرَبْتُ
الْقَوْمَ حَاشَا زَيْدًا" سَوَاءً
زَيْدٌ كِي فِي نِي قَوْمِ كُو مَارَا - چِنَا نِي
صَلَّى النَّاسُ حَاشَا زَيْدًا
كِنَا مَشِيكٌ نِي كِي كَرْنَا اس میں تَنْزِيهِهِ
كِي مَعْنَى نِي سِنْتِي -

الْحَاشِيَّةُ - كِطْرَةٌ پَرِ كِتَابِ وَغَيْرِهِ كِي
جَانِبِ كِنَارِهِ - اَهْلُ وَعِيَالٌ - اَوْ
خَامِنُ اِنْفِ لَوَكِ - حَاشِيَةُ كِتَابِ
جِي حَوَاشِي - كَتَبْتُ فِي رَجُلٍ
رَقِيقِ الْحَاشِيَّةِ - پَالِيوُ مَحَبَّتِ
وَالْأَدْمِيُّ - وَكَلَامُ رَقِيقِ الْحَوَاشِيَّةِ
نَوْمٌ كَلَامٌ -

الْحَشْيُ - مَوْتٌ - حَقِيَّةٌ - وَ
الْحَشْيَانُ - مَوْتٌ حَشْيَا
ضَيْقُ النَّفْسِ كِي بِيْمَارِي كَالْبِيْمَارِ -

حَصَّ دُنَّ - حَصَّانًا - الشَّعْرُ
بَالٌ مَوْنَدَانَا - الْجَلِيدُ النَّبْتُ
پَانِي كَانِبَاتِ كُو جَوَانِيَا - حَصَّيْتُ
مِنَ الْمَالِ كَذَا - مَالٌ فِي سَعَةٍ

حَصَّةٌ مَقْرَرٌ كَرْنَا - الشَّيْءُ
كَمَثَلَانَا - كَاثٌ لِيْنَا -

حَصَّ دَسٌ - حَصَّصْنَا - سَرَكِي بَالِ كَرْنَا
يَاكُمُ هُونَا - صِفَتِ - رَا حَصَّصْنَا
حَصَّصْنَا - الْأَمْرُ - ظَاهِرٌ هُونَا -
أَحْصَاهُ - حَصَّةٌ وَهِيَ - اِحْصَا الْمَكَانَ
كِي سِي جَكِ اِتَارْنَا -

حَاصٌ - مُحَاصَّةٌ - الْغُرْمَاؤُ - حَصَّ
تَقْسِيمٌ كَرْنَا - بَانْتٌ لِيْنَا -

تَحَاصٌّ - الْقَوْمُ الشَّيْءُ - آسِيسٌ فِي
كَمَثَلَانَا لِيْنَا - آسِيسٌ فِي تَقْسِيمِ كَرْنَا
لِيْنَا -

إِنْحَصَّ - الشَّعْرُ - بَالٌ كَرْنَا جَبْرِيْنَا
- اللَّحِيَّةُ - دَارِصِي كِي بَالُوں كَا
لُوطَا هُونَا - الذَّنْبُ - دَمٌ
كَكَثٌ جَانَا -

الْمَحْصَنُ - سَرَكِي بَالُوں كِي كِي - سَرَكِي
بَالُوں كَا چھوٹا ہونا -

الْحِصَّةُ حَصَّةٌ - ج - حِصَّصْنَا -

الْحِصَّ - زَعْفَرَانٌ جَوَقِي - ج -

حُصُوصٌ - وَ أَحْصَاصٌ -

الْحُصَاصٌ - دَوْرُنِي كِي تِيْزِي كَمَلِي - كُوْز -

الْحِصَاصَةُ - اِنْكَوْرِي لِيْنِي كِي بَعْدِ بِلِ
مِيں جو کچھ بچ رہے۔

الْمَحَاصَّةُ - سَرَكِي بَالِ كَرَانِي وَ اِي
بِيْمَارِي -

الْأَحْصَنُ - وَهُوَ شَخْصٌ جِسْ كِي سَرِ پَرِ بَالِ
كَمِ هُونِ - وَهُوَ شَخْصٌ جِسْ كِي سِيْنِي مِيں

بَالِ نِي هُونِ - مِنَ الْطَبِيْبِ

وَهُوَ پَرْنَدَه جِسْ كِي بازو كِي پَرِ كَرْنِي

هُونِ - مَوْنَتٌ - حَصَّاءُ -

يَوْمٌ أَحْصَنٌ - بِيْمَارِي كِي سَخْتِ سَرُوْدِنِ -

سَيِّفٌ أَحْصَنٌ - جَوهر نِي كَمَلِي وَ اِي تَلَوَارِ

سِنَةٌ حَصَّاءُ - وَهُوَ خَشْكٌ سَالِ

جِسْ مِيں رُوئِيْدِي نِي پِيَا ہونے۔

<p>رسی بٹنا۔ استحصد۔ القوم۔ لوگوں کا جھٹکا بٹنا۔ الزرع۔ کاشت کے کئے کا وقت قریب آپہنچنا۔ الحبل۔ مضبوطی ہوئی ہونا۔ الرجل۔ غضبناک ہونا۔ الحصاد۔ فصل کاٹنے والا۔ الحصاد۔ الحصاد۔ فصل کاٹنے کا موسم۔ الحصاد۔ کٹی ہوئی فصل۔ حصاد الشجرة۔ درخت کا پھل۔ کتے ہیں۔ "أخذوا حصاد الشجرة" انہوں نے درخت کا پھل لیا۔ حصاد۔ البقول البرية۔ وہ دانے جو حرکت کرنے سے جھڑ جائیں۔ الحصد والحصيد والحصيدۃ۔ کاشت کا کٹا ہوا حصہ۔ الحصيدۃ۔ فصل کی جڑیں جو کاٹنے پر درانتی سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ کھیتی۔ جہ۔ حصائد۔ وحصائد اللسان۔ وہ باتیں جو دوسروں کے بارہ میں کہی جائیں۔ الأحصد۔ مضبوطی ہوئی رسی۔ کڑے ہی کڑے ہو کر جانے والا درخت۔ حصب۔ حصباء دسراغ حصباء۔ سنگ پلوں والی مضبوط زرہ۔ شجرۃ حصداء۔ پست پتلے والا درخت۔ الحصد۔ درانتی۔ حصہ (ن ص) حصداء۔ منگی کرنا۔ گیر لینا۔ الشیء سارے لینا۔ القوم بفلان۔ منگی ڈالنا۔ البعید۔ اونٹ کی</p>	<p>الحصباء۔ کٹر مفرو۔ (حصیۃ) الحاصب۔ فا۔ کٹریوں کو اڑانے والی تیز ہوا۔ اولہ۔ اولہ برسانے والا بادل۔ جم۔ حواصب۔ المحصیۃ۔ بہت کٹریوں والی زمین۔ حصحص۔ حصحصۃ۔ حق کا بعد پر شیدگی کے ظاہر ہونا۔ الرجل۔ بیسی دانے کھیری کی طرح چلنا۔ الشیء فی الشیء۔ کسی چیز کو کسی میں مضبوطی سے بٹھانے کے لیے حرکت دینا۔ ہلانا۔ التراب۔ دائیں بائیں ہلانا۔ تححصص۔ زمین سے چھٹنا یا برابر ہونا۔ الحصصا ص والحصحص۔ مٹی۔ والحصحص۔ پتھر رجل (حصص وحصصو ص) امور کی باریکیوں کی ٹٹول کر کے ان کی معلومات ہم پہنچانے والا۔ حصد (ن ص) حصدًا وحصائدًا وحصاؤا واحصد۔ الزرع۔ کھیتی کو درانتی سے کاٹنا۔ اور یہ قول اسی سے ہے۔ "من زرع الشتر حصد السد امۃ" جس نے برائی بولی اس نے ندامت کائی۔ صفت (حاصد) جہ۔ حصدۃ۔ وحصاد۔ القوم بالسيف تلواریں سے قتل کرنا۔ حصد (ن ص) حصدًا۔ الحبل رسی کا مضبوط بٹی ہوئی ہونا۔ الزرع۔ زرہ کا مضبوط بناوٹ والی ہونا۔ أحصد۔ الزرع۔ کھیتی کی کٹائی کا وقت قریب آنا۔ الحبل۔</p>	<p>الحصیص۔ تعداؤ۔ گدھے یا اونٹ کے گرے ہوئے ہال۔ الحصیصۃ۔ مونڈ کر یا کھیر کر جمع کیے ہوئے ہال۔ حصاء۔ وحصوع (س) حصًا۔ الرضیح۔ شیر خوار بچہ کا خوب پیٹ بھوک و دہ پینا۔ عن الماء۔ پانی سے سیراب ہونا۔ حصبہ (ن ص) کٹری سے مارنا (و حصب المكان) کسی جگہ کٹر بچھانا اور اس سے فرش تیار کرنا۔ حصب فی الاسرین؟ جانا۔ عندہ۔ کسی سے بھاگنے میں تیزی کرنا۔ حصبہ عن کذا۔ دور کرنا۔ حصب (س) حصبًا وحصب خسرہ کے مرض میں مبتلا ہونا۔ صفت (مخضوب) حصب الوند۔ تانت کا کمان سے الٹ جانا۔ أحصب۔ الفرس فی عدوہ۔ گھوڑے کا دوڑنے میں کٹر اڑانا۔ عندہ۔ منہ پھیر کر چلا جانا۔ عن کذا۔ دور کرنا۔ تحصب۔ الحمام۔ کھوڑ کا صحرا کی طرف دانہ کی تلاش میں نکلنا و النا۔ تحاصبوا ایک دوسرے پر کٹر پھینکا۔ الحصب۔ پتھر۔ چھوٹی پتھریاں۔ کٹریاں ایندھن۔ الحصیۃ والحصیۃ والحصیۃ۔ خسرہ۔ الحصیۃ۔ کٹریوں کو اڑانے والی تند ہوا۔ "اس ص حصیۃ" بہت کٹریوں والی زمین</p>
--	---	--

<p>الحصیفہ ہر مضبوط شے جس میں کوئی نخل نہ ہو۔</p> <p>حَصَلَ دُنْ، حُصُولًا وَمَحْصُولًا۔</p> <p>الشیءُ۔ حاصل ہونا۔ ثابت ہونا</p> <p>باقی رہنا۔ کہا جاتا ہے۔ حاصل علیہ من حقی کذا۔ اس پر میرا اتنا حق باقی رہا۔</p> <p>لہ کذا۔ واقع ہونا۔</p> <p>عندہ کذا۔ پایا جانا۔</p> <p>علی الشیء۔ کسی چیز کو جمع کرنا۔</p> <p>اور اس کا مالک ہونا۔</p> <p>لی علیک کذا۔ ثابت ہونا۔</p> <p>واجب ہونا۔</p> <p>حَصَلَتْ (س) حَصَلًا۔ الدابة۔ جانور کا مٹی یا کھری کھانے سے پیٹ کے درمیان مبتلا ہونا۔</p> <p>حَصَلَ۔ الشیءُ أَوِ الْعِلْمَ۔ حاصل کرنا۔ الکلام۔ تقریر یا کلام کا خلاصہ کرنا۔ الدین۔ قرض جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔</p> <p>واحصل، النخل۔ کھجور کا نیم پختہ پھل والی ہونا۔ واحد (حَصَلَةٌ)</p> <p>تَحَصَّلَ۔ الشیءُ۔ اکٹھا ہونا۔</p> <p>ثابت ہونا۔ من المسئلة کذا۔ کسی مسئلہ سے دوسرا مسئلہ نکالا جانا۔</p> <p>الحاصل۔ فا۔ صاف پائی۔</p> <p>من کل شیء۔ ہر شے کا بقیہ۔</p> <p>عند المحاسبین۔ حاصل ضرب حاصل تقسیم۔ مخزون۔</p> <p>اور اسی سے ہے حاصل عین الماء۔ پانی کی شکل یا حوض۔ ج۔ حَوَاصِل۔</p> <p>الحَصَلُ وَالْحَصَالَةُ۔ کلیان سے</p>	<p>حَصِيرٌ الْحَصِيرُ۔ یعنی قید خانہ کی چٹائی نے بادشاہ کے پہلو میں نشان ڈال دیا۔ ج۔ حُصِرَ۔ وَ أَحْصِرَةٌ۔</p> <p>الْحَصِيرِيُّوَةُ۔ بویا۔ چٹائی۔ گھوٹے کے موٹھے اور پہلو تک کا گوشت۔ ج۔ حَصَائِرُ۔</p> <p>الْحَصْرَةُ۔ للجمال۔ گدیلا۔</p> <p>المُحْتَصِرُ۔ شیر۔</p> <p>حَصْرَمَةُ الْقَوْمِ۔ کمان کا سخت مضبوطی لئے کھا۔ الْحَبْلُ۔</p> <p>رسی کو مضبوط بنانا۔ الْقَرِيْبَةُ۔</p> <p>مشک کو بھرنا۔ الْقَلْحَةُ۔</p> <p>قلم کو تراشنا۔ تَحْصِرَمُ۔</p> <p>بخیل اور تنگ دل ہونا۔</p> <p>الْحَصِيرِمُ۔ کچے انگور یا گچا پھل۔ واحد (الْحَصِيرِمَةُ) سخت بخیل۔ پست قد۔ ہر چیز کا گھٹیا۔</p> <p>حَصَفَ دُنْ، حَصَافَةً۔ عمدہ رائے اور پختہ سمجھ والا ہونا۔ صفت (حَصِفَ وَ حَصِيفَ)</p> <p>حَصِفَ (س) حَصَفًا۔ کسی کو خشک کھلی کا لگنا۔</p> <p>حَصَفَهُ دُنْ، حَصَفًا۔ دور کرنا۔</p> <p>أَحْصَفَ۔ تیز دوڑنا۔ صفت (مُحْصِفٌ وَ مِحْصِفٌ وَ مِحْصَافٌ)</p> <p>أَحْصَفَهُ۔ دور کرنا۔ الامر مضبوطی و پختگی سے کرنا۔</p> <p>النسيب۔ مضبوط بنانا۔</p> <p>اسْتَحْصَفَ۔ الشیءُ۔ مضبوط ہونا۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا جمع ہونا۔ الدھر علیہ۔ زمانہ کا سخت ہونا۔ الْحَبْلُ۔ رسی کو مضبوط بنانا۔</p>	<p>پیٹ پر گدیلا باندھنا۔</p> <p>حُصِرَ۔ قبض ہونا۔</p> <p>حَصْرَسَ (س) حَصْرًا۔ بخیل ہونا۔</p> <p>گفت گو کرنے میں رکنا۔</p> <p>بالیسر۔ بھید پھپھانا۔</p> <p>الرجل۔ کسی کا دل پر دباؤ محسوس کرنا۔</p> <p>عن الشیء۔ شرم کر کے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ صفت۔ (حَصِرَ وَ حَصُورًا وَ حَصِيرًا)</p> <p>حَاصِرًا وَ أَحْصَارًا أَوْ مُحَاصِرَةً۔</p> <p>الْعَدُوَّ۔ دشمن کو گھیر لینا۔ گھیرا ڈال کر مک کو بند کر دینا۔</p> <p>أَحْصَرَهُ۔ عن السفر۔ سفر سے روکنا۔</p> <p>الموضع أَوِ الْبَوْلِ۔ مرض یا پیشاب کا کسی کو روک دینا۔</p> <p>أَحْصِرَ۔ قبض ہونا۔</p> <p>أَنْ حَصَرَ۔ تنگ ہونا۔ مشکل میں ہونا محصور ہونا۔</p> <p>احتصر۔ البعير۔ اونٹ پر گدیلا باندھنا۔</p> <p>الْحِصَارُ۔ تکیہ کے مانند چیز جس کو اونٹ کی پیٹھ پر ڈال کر اس پر سواری لیتے ہیں۔ وہ گدیلا جو زمین کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔</p> <p>الْحُصْرُ وَالْحُصْرُ۔ قبض۔</p> <p>الْحَصِيرُ۔ بویا۔ چٹائی۔ انسانوں کی قطار مجلس۔ پہلو۔ کہا جاتا ہے۔ "ذَابَةُ عَرِيضَةِ الْحَصِيرِ"۔</p> <p>چوڑے پہلوؤں والا جانور۔</p> <p>شانے سے مکرتک کا گوشت۔</p> <p>تنگ جگہ۔ قید خانہ۔ قیدی۔ راستہ۔</p> <p>وہ بادشاہ جو لوگوں کی نگاہوں سے اوچھل رہے۔ اور اسی سے ہے۔ "أَثَرُ حَصِيرِ الْحَصِيرِ فِي"</p>
--	--	--

غلہ اٹھانے کے بعد رہ جائیو اے
وانے۔
الحصیل۔ حاصل کیا ہوا مل۔ ایک قسم کی
نباتات۔
الحصیلۃ۔ تحصیل کا اسم۔ حاصل کردہ
بقیہ۔ کہا جاتا ہے ما حصیلتک
وما حصائلک۔ یعنی تمہارا حاصل
کیا ہوا کیا ہے۔ ج۔ حصائل۔
المحصول۔ حاصل۔ کہا جاتا ہے۔ هذا
محصول کلامہ۔ یہ اس
کے کلام کا نتیجہ ہے۔ وما لفلان
محصول ولا معقول۔ یعنی
فلان کے لیے کوئی رائے و تیز نہیں۔
حصن دن، حصانۃ۔ محفوظ ہونا۔
مضبوط و مستحکم ہونا۔ صفت۔
(حصین)
حصنت۔ حصنا و حصنا و
حصانۃ۔ المرأۃ۔ عورت
کا پاک و امن ہونا۔ صفت۔
(حصان) ج۔ حصن و حصانات
و حصین و حصینۃ) ج
حصان و حصانات و
(حصان)
حصنہ (رض) حصنا۔ مضبوط جگہ
میں محفوظ کرنا۔
حصن و حصن۔ مکان کسی جگہ
کو مضبوط کرنا۔
أحصن المرأۃ۔ عورت کی شادی کرنا
نکاح میں دینا۔ احصنت
المرأۃ۔ عورت کا شادی شدہ ہونا
پاک و امن ہونا۔ صفت (محصنۃ)
بفتح الصاد و احصن الرجل
مرد کا شادی شدہ ہونا۔ صفت
(محسن)
تحصن۔ اپنے لیے قلعہ بنانا۔

تَحَصَّنَتِ الْمَرْأَةُ۔ عورت کا
پاک و امن ہونا۔ الفرس
گھوڑے کا امیل ہونا۔
الحصن۔ پناہ۔ قلعہ۔ مضبوط جگہ۔ اختیار
ج۔ حصون و اخصان و
حصنۃ۔
الحصان۔ موتی۔
الحصان۔ امیل گھوڑا۔ زرگھوڑا۔
ج۔ اخصنۃ و حصن۔
الحصین۔ من الاماکن مضبوط
جگہ کہا جاتا ہے۔ دسغ حصین
مضبوط زرہ۔ و حصن حصین
مضبوط قلعہ۔
ابوالحصین۔ بصورت تصغیر۔ لوطی۔
المحصن۔ زنبیل۔ تالا۔ محل۔
حصا۔ دن، حصوا۔ روکنا
منع کرنا۔
حصی (رض) حصیا۔ الرجل بکبری
سے مارنا۔
حصی۔ کسی کے مشابہ میں پتھری پیدا ہو
جانا۔ صفت (محصی)
حصیت (رض) حصا۔ الارض۔ زمین
کا بہت کٹکری والا ہونا۔ صفت۔
(محصاة)
حصاه تحصیۃ۔ بچانا۔
أحصی۔ الشیء۔ شمار کرنا۔ گنا۔
سجد قابو میں لانا۔ کہا جاتا ہے۔
هذا امر لا احمیدہ۔ یہ ایسا
امر ہے جس کی میں طاقت نہیں
رکتا۔
تحصی۔ بچنا۔
الحصی۔ کٹکریاں۔ پتھریاں۔ واحد
(حصاة) ج۔ حصیات و
حصی و حصی و طرق الحصی۔
کمانت و ہامو کے اعمال میں سے

ایک عمل۔ والحصاة۔ عدو عقل
رٹے۔ کہتے ہیں۔ فلان ثابت
الحصاة۔ قلال عقلمند ہے۔
الحصی۔ بڑا عقلمند۔ ارض حصیۃ۔
بہت کٹکریوں والی زمین۔
حصی حصوی۔ بہت کٹکریوں والی ندی
ونہر۔
حصہ دن، حصنا و حصنہ۔
علی الامر۔ کسی کام پر اگسانا۔
ترغیب دینا۔
تحاصن۔ القوم۔ ایک دوسرے کو
اگسانا۔
أحصن۔ نفسہ۔ خود سے زیادتی کا
طالب ہونا۔
الحصن۔ چیز اس لفظ کا استعمال
نہی کے بعد ہوتا ہے، کہتے ہیں ما
عندی حصن ولا یحصن۔
میرے پاس کچھ نہیں۔ الحصن و
الحصینضی و الحصینضی۔ حصن
کا اسم مصدر۔
الحصی۔ دامن کوہ میں طے والا پتھر۔
الحصینضی۔ دامن کوہ۔ ج۔ اخصنۃ۔
و حصن۔ پست زمین۔ اہل
بیت کے نزدیک وہ لفظ ہے جو
"اوج" کے مقابل ہے۔
الحصینضیۃ۔ ملوکہ ہے۔ کہتے ہیں۔
"أخرجت الیہ حصینضی
وبضیعتی"۔ جو کچھ میری ملک میں
تھا وہ سب میں نے اس کے لیے
نکال کر رکھ دیا۔
الحصونی۔ دوری۔ آگ۔
حصب (رض) حصبا۔ و اخطب
۔ الناس۔ آگ میں کڑی لانا۔
حصب۔ ما ہمارا قرب راستہ اختیار
کرنا۔

<p>حکم دیتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے ”کلمتہ بحضرة فلان“ فلاں کی موجودگی میں میں نے اس سے بات کی۔ الحضر۔ تیز روڑ۔ احضر الفرس کا اسم۔ الحضر والحضر۔ لوگوں کے کھانے کے وقت کی تاک میں رہنے والا اور وقت پر آمو جو ہونے والا۔ طفیلی آدمی۔ الحضر۔ حاضر جواب۔ الحضر۔ سفر کا ارادہ نہ رکھنے والا۔ یا سفر کی استطاعت نہ رکھنے والا۔ الحضرة والحضرة والحضرة پہلو۔ نزدیکی۔ مکان کے سامنے کا صحن کہتے ہیں۔ ”فلان حسن الحضرة“ بھلائی کے ساتھ حاضر ہونے والا۔ ”وجمع الحضرة“ اس نے عمارت کے بنانے کے ارادہ سے اینٹ، پونہ وغیرہ جمع کر لیا ہے۔ الحضری۔ شہری۔ الحاضر۔ فا۔ شہر کا بننے والا۔ ج۔ حضر وخطاب وخصوس۔ حضرة۔ الحاضر۔ بڑا قبیلہ۔ یہ جمع ہے جس طرح (حاجہ) حاجیوں کے لیے۔ الحاضرة۔ الحاضر۔ کامنٹ۔ باقی کا کان۔ ج۔ حواضر۔ الحضيرة۔ لوگوں کی ہماہمت مقدمہ ہمیش زخم کا مواد۔ کبھوں کے خفق کرنے کی جگہ۔ ج۔ حضائر و حظیر۔ الحضر۔ لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ دستاویز۔ اقرار نامہ۔ ج۔ حاضر۔</p>	<p>حَضْرَةٌ وَحَضْرَةٌ وَأَحْضَرَهُ۔ کسی کو حاضر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ”أَحْضَرَهُ الشَّيْءُ“ کسی کے پاس کوئی چیز حاضر کرنا۔ احضر الفرس۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ حَاضِرَةٌ وَحَاضِرَةٌ وَحَاضِرًا۔ کسی کے ساتھ دوڑنا۔ مقابلہ کرنا۔ تروت سو بھا ہوا جواب دینا۔ حاضر الجواب۔ حاضر جواب ہونا تَحَضَّرَ۔ وَاِحْتَضَّرَ۔ حاضر ہونا۔ تَحَضَّرَ وَاِحْتَضَّرَ۔ الرجل۔ حاضر کرنا۔ احضر الفرس۔ گھوڑے کا دوڑنا۔ تَحَضَّرَ الْبَدْوِيُّ۔ شہری کی طرح بننا۔ تَحَضَّرَ الْمُهْجَرُ۔ غم لاحق ہونا اِحْتَضَّرَ۔ قریب المرگ ہونا۔ اِسْتَحْضَرَ۔ الشَّيْءُ۔ حاضر ہونا۔ حاضر چاہنا۔ الفرس۔ گھوڑے کو دوڑانا۔ الحضرة والحضرة والحاضرة۔ شہر آباد مقامات۔ گویا۔ البلد والبادوة والباوية کا مخالف کہا جاتا ہے۔ ”هذا من كلام الحاضرة ولما الى البوابة لفظوا به ولا عرفوه“ یہ شہریوں کا کلام ہے۔ اہل بادویہ نہ اس کو بولتے ہیں اور نہ اس کو جانتے ہیں۔ الحضارة والحضارة۔ شہر کی بودوباش الحضر والحضرة۔ حامری۔ موجودگی پہلو نزدیکی۔ صحن۔ حضرت کا لفظ اس ذمی مرتبہ آدمی کے لیے مستعمل ہوتا ہے جو مرجع فلاح ہو۔ مثلاً کہتے ہیں۔ ”الحضرة العالیة تأمر بكذا“ حضرت عالی ایسا</p>	<p>الحضب والحضب۔ کان کی آواز۔ دامن کوہ۔ پہاڑ کا پہلو۔ ج۔ احصاب۔ الحضب والحضب۔ لکڑی۔ ایندھن المحضب۔ آگ بلانے کی لکڑی۔ کرلین۔ حَضْبَرْدَن (حَضْبًا)۔ الناس۔ آگ بلانا۔ الشئ فی الماء۔ کسی شے کو پانی میں ڈلوانا۔ بھلان پکھاڑنا۔ بہ الاس من کسی کو زمین پر پٹک دینا۔ حَضْبَج۔ الکلام۔ کوتاہی کرنا۔ اِنْحَضْبَج۔ الرجل۔ غصہ سے آگ بگولا ہونا۔ الحضاج۔ جھکی ہوئی پیٹ اور نکلے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ الحضاج۔ بھری ہوئی بڑی مشک۔ المحضج۔ آگ بلانے کی لکڑی۔ المحضج۔ کپڑے دھونے کی موگری۔ امراة محضاج۔ پوڑے پیٹ والی عورت۔ حَضْرَدَن (حَضْرًا وَحَضْرًا)۔ موجود ہونا۔ حاضر ہونا۔ حَضْرًا)۔ شہر میں رہنا۔ حَضْرَس (حَضْرَدَن) حَضْرًا المجلس۔ مجلس میں حاضر ہونا۔ عن المكان۔ کسی جگہ سے منتقل ہونا۔ حَضْرَةَ الامر۔ دل میں کسی بات کا گزرنا۔ موت موت آجانا۔ الیہ۔ آنا۔ کہا جاتا ہے۔ حَضْرَتُ الامر۔ بخیر۔ یعنی میں نے ایک درست لائے کا خیال کیا۔ وحضرت الصلاة۔ نماز کا وقت آگیا۔ حَضْرَتُ امر آجانا۔ صفت۔ (مَحْضُوس)</p>
---	--	---

المحضر۔ حاضر ہونے والے لوگ۔ کہتے ہیں "فلان حسن المحضر۔ فلان غائب آدمی کو اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے" و كان ذلك بمحضر من فلان۔ اور یہ فلاں کی موجودگی میں ہوا۔ المحضوس۔ مفعول۔ "لبن محضوس" بہت خراب ہونے والا۔ المحضار في المحضير۔ من الخيل وغيرها۔ بہت تیز دوڑنے والا۔ ج۔ محاضير۔ المحتضر۔ شہری شہر میں آنے والا۔ المحتضر۔ قریب المرگ۔ کہتے ہیں۔ "اللبن محضر فخط اناك" دودھ کے لیے بہت آفت ہے اس لیے اپنے برتن کو چھپاؤ۔ حضر۔ في الكلام۔ کلام کے اعراب یا لفظوں کی حرکات میں غلطی کرنا۔ الشیء۔ طانا۔ لحاء الشجر درخت کی چھال اتارنا۔ القوس کمان کو مضبوط کسنا۔ الحضرمية۔ کلام میں لکنت۔ حضرت کی طرف فسوف۔ المحضرو۔ وہ مسلمان یا شاعر جس نے زمانہ جاہلیت و اسلام دونوں پائے ہوں۔ حضر (ن) حضرنا وحضنا۔ واحضن۔ الصبی۔ بچہ کو گود میں لینا۔ پرورش کرنا۔ چھاتی سے لگانا۔ حضرته عن كذا۔ الگ کرنا۔ دور کرنا۔ حضر (ن) حضرنا وحضنا و حضنا وحضونا واحضن الطير بيضه وعلی بيضه۔

پرنہ کا اٹھنے سینا۔ حضرت (ن) حضنا۔ المرأة او الفاء او الناقه۔ عورت یا اونٹنی یا بکری کے چھوٹے بڑے پستان یا سخن وال ہونا۔ صفت (حضون) احضن۔ الرجل وبالرجل۔ حقیر کرنا۔ احضن بحقه۔ کسی کو حق سے محروم کرنا۔ کسی کا حق مار لینا۔ الحضن۔ گود۔ اس قدر مقدار کہ گود میں آسکتے ہیں۔ اعطاء حضنا من القوم۔ اس نے اس کو ایک گود بھر کھجوریں دیں۔ کسی شے کا کنارہ۔ پہاڑ کی جگہ۔ کہتے ہیں۔ "عشش الطائر۔ في حضن الجبل"۔ پرنہ نے پہاڑ کی جگہ میں گھونسل بنایا۔ ج احضان وحضون الحضنة۔ حضن الطائر۔ کا اسم مصدر الحضنة۔ بچہ کو پالنے والی دایہ۔ ج حواضن۔ کہتے ہیں "حمامة حاضن و حمام حواضن"۔ الحضانة۔ دایہ گری۔ پرورش۔ پیالہ کی طرح کا ایک مٹی کا برتن۔ المحتضن۔ گود۔ حضارن، حضوا۔ الناس۔ آگ کو کر لینے سے بلانا۔ المحض و المحضاء۔ آگ پلانے کی لکڑی۔ حط (ن) حطاً۔ اترنا۔ نازل ہونا۔ حطاً وحطوطاً۔ السعير۔ بھاؤ کا اترنا۔ گزنا۔ سستا ہونا۔ حط (ن) حطاطاً۔ الميجير۔ اونٹ کا ایک جانب کیل گود پانا۔ (و) واحط، الوجه۔ چہرہ پر مہاسے نکلنا۔ حط (ن) حطاً واحطاً واحطاطاً۔

الشیء۔ چھوڑنا۔ رکنا۔ الحمل۔ جانور کی پیٹھ سے بوجھ اتارنا۔ کہتے ہیں "حط رحله"۔ اس نے اقامت کی۔ الجلد۔ چمڑے پر پہنا لیا کرنا۔ لوسے سے چمڑے پر نقش کرنا۔ انحط۔ اترنا۔ الناقه في سيرها۔ اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ السعير۔ بھاؤ کا گھٹنا۔ گنا۔ ارزانی ہونا۔ کہتے ہیں "الاسباع جاطة و محطلة"۔ بھاؤ سستا ہے۔ استخط۔ نیچے اترنے کی درخواست کرنا کہتے ہیں "استخط فلانا و نرته"۔ اس نے فلاں سے اپنا بوجھ اتارنے کی خواہش کی۔ من الثمن شیتا۔ کچھ قیمت گھٹانے کی درخواست کرنا۔ الحطة والحطيطی۔ استخطه و زبها کا اسم ہے۔ الحطيط۔ چھوٹا۔ الحطيطية۔ قیمت کا کمی۔ الحطاط۔ مہاسہ۔ دودھ کے جھاگ واحد (حطاطه) الحطاط۔ بیلو۔ الحطط۔ زہد نازک ابدان۔ الحطان۔ بکرا۔ الحطوط۔ تیز رفتاری سے اترنا۔ الاحط۔ نرم و چکنی پیٹھ والا۔ الحط۔ والحطة۔ اترنے کی جگہ۔ ٹہرنے کی جگہ۔ ج۔ محطاط و محطانات۔ المحطلة۔ ریلوے اسٹیشن۔ الحط والحطلة۔ چمڑے پر نقش کرنے یا پالش کرنے کے لیے لوسے یا لکڑی کا تیار کردہ آلہ۔

المَحْطُوطُ - مَفْعٌ - اَدِيمٌ مَحْطُوطٌ -

پالش کی ہوئی ادھوڑی۔

سيفٌ مَحْطُوطٌ - تیز کی ہوئی تلوار۔

حَطَّأَ دَفً، حَطَّأً - الارضَ به

زمین پر گرا دینا۔ پچھاڑ دینا۔

بَدَعَ عَن كَيْدَا - بَرَّأْنَا - جَمَعَانَا

بِالْمَشْيِ - بِسَيْكَا -

الْحَطِيئَةُ - بِشَكْلِ پست قد آدمی۔

الْحِطُّ - بَرْتَنٌ مِیْنِ بَچَا ہوا پانی۔ کہا

جاتا ہے۔ "حِطٌّ مِیْنِ تَمِیْرٍ"

کھجوروں کی اس قدر مقدار جو پیٹ

پر اٹھائی جاسکے۔

الْحِطِيُّ - مِیْنِ النَّاسِ - ذَلِیلٌ اَدَمِیٌّ -

کہا جاتا ہے۔ "ہو حطی بطنی"

وہ ذلیل ہے۔ "بطنی۔" تابع بن

کر آیا ہے۔

حَطَبٌ (مِیْنِ) حَطْبًا وَ اَحْطَبٌ

وَ اِحْتَطَبٌ لُکْرَیٌّ مِیْنَا -

صفت (حاطب) کہتے ہیں

"ہو حاطب لیل"۔ وہ کلام میں

رطب و یابس ملائے والا ہے۔

حَطْبَةٌ - لُکْرَیٌّ لَانَا - حَطْبٌ وَ

اَحْطَبٌ - الْمِکَانَ - بَہت لُکْرَیُّو

وَالِی جِیگہ ہونا۔ صفت (حطیب)

مُؤَنَّثٌ - (حَطِیئَةُ)

حَطْبٌ - بِہِ وَ عَلَیہِ - جَعَلِی کھانا

اَقْرَأَ ہَاہُنَا - "حَطْبٌ

فِی حَبْلِہِ" اس نے اس کی

مدد و اعانت کی۔ "وَ حَطْبٌ

عَلِیہِ بِخَیْرٍ" وہ اس کے پاس

بھلائی لایا۔

اَحْطَبٌ وَ اسْتَحْطَبٌ - الْکَرَمُ

اَنْگور کی بیل سے خا میں چھانٹنے کا

وقت آتا۔

الْحَطَبُ اَیْضًا - جِ اَحْطَابٌ

اَیْکَ لُکْرًا حَطْبَةٌ کَلَاتَاہِ

الْحَطْبُ - مُؤَنَّثٌ - حَطْبَةٌ (مِیْنِ)

وَ الْاَحْطَابُ) مُؤَنَّثٌ حَطْبَاءٌ

جِ - حَطْبٌ - بَہت دُہلا۔

الْحَقَّابُ - لُکْرًا بَارَ لُکْرَیٌّ مِیْنِ وَالَا -

الْحَطْوَبَةُ - لُکْرَیٌّ کَا کُفَّأ -

الْحَطَّابَةُ - لُحْطَابٌ کَا مِیْنِ

لُکْرَیٌّ مِیْنِ دَلِی -

الْمَحْطَبُ - لُکْرَیٌّ کَا مِیْنِ کَا آلہ -

کَلَاہِی -

حَطَّحَطَّ - الشَّیْءُ - اَتَرْنَا -

الرَّجُلُ - جَلِدَی کَرْنَا -

حَطَمَهُ (مِیْنِ) حَطْمًا وَ حَطَمَهُ

تَوَرَّنَا -

حَطَمَ (مِیْنِ) حَطْمًا - بڑی عمر والا ہونا۔

تَحَطَّمَ وَ اِنْحَطَمَ - لُتْنَا - کہتے ہیں

"تَحَطَّمَ الرَّجُلُ غِیظًا" وہ شخص

غصہ سے بھڑک اٹھا۔ "وَ

انحطم الناس علیہ" لوگوں

نے اس پر بھڑکی۔

الْحَطْمُ - ظَلَمٌ وَ بے درد چہرہ والا۔

وَ الْجُطْمُ - بَسیار خرد سب کچھ

چھٹ کر جانے والا۔

الْحِطْمَةُ وَ الْحِطْمَةُ وَ الْحِطَامُ

سوکھی ہوئی چیز کا ٹوٹا ہوا حصہ۔

حَطَامُ الدُّنْیَا - دُنْیَا کَا سَامَانٌ -

حَطَامُ البَیضِ - اَنڈے کا پھلکا۔

الْحَطَامُ - وَ الْحَطُومُ وَ الْمِیْنِ حَطْمٌ - شِیر

کہتے ہیں۔ "رِیْءٌ حَطُومٌ" سحت

تند ہوا جو ہر چیز کو توڑ مروڑ کر رکھ

دے۔

الْحَاطُومُ - بِالْمِیْنِ دُوا یَا غَنَا - (مِیْنِ)

وَ الْحِطْمَةُ وَ الْحِطْمَةُ) سحت

سَالٌ - خَشْکٌ -

الْحِطْمَةُ - تِیْرَاگٌ - دُورِخٌ - بَہت سے

اُونٹ و بکریاں۔

الْحِطْوَبُ - کَعْبَةٌ شَرِیْفٌ کَا کَنَارَہِ کِی

وِیْلُوَارٌ - رُکْنٌ زَمْرَمٌ اَوْرَ مَقَامِ اِبْرَاہِیْمِ

کَا دَرْمِیَانِ کِی جِگہ۔

الْحِطْمِیَّاتُ - وہ زریں جو حطم نامی

شخص کی طرف منسوب ہیں۔ بعض

کے نزدیک قتلہ دین کو توڑ دینے

والی زریں۔ اور بعض کے نزدیک

وہ زریں جو بھاری اور چوڑی ہوں

حَطَّ دَسٌ، حَطَّ وَ حَطَّ وَ اَحْطَّ -

نَیْبٌ وَ اَلَا ہونا۔ صفت (حظی)

وَ حِطِیظٌ وَ مَحْطُوظٌ)

الْحِطَّ - حَصہ - بَہرہ - حَصہ خَیْرٌ وَ فِضْلٌ -

کبھی شر کے حصہ کے لیے بھی بولا

جاتا ہے۔ مال واری۔ خوش قسمتی۔

سَعَادَتٌ - جِ - حُطُوظٌ وَ

حِطَّاطٌ وَ اَحْطَّ -

حَطَبٌ (مِیْنِ) حُطُوبًا وَ حَطَبٌ

(مِیْنِ) حَطْبًا - الرَّجُلُ مَرُوطًا

ہونا۔ پست قد، موٹے پیٹ والا

ہونا۔ صفت (حطب) مؤنث

حَطْبَةٌ -

الْحُطْبُ - پست قد، موٹے پیٹ والا

اَجْدٌ - اَکْرٌ - بَیْغِلٌ - تَنگ خَلْقٌ -

حَظْرَةٌ (مِیْنِ) حَظْرًا - الشَّیْءُ وَ

حَظْرٌ عَلَیہِ الشَّیْءُ - مَنَعٌ کَرْنَا -

رُکْنَا - الشَّیْءُ - مَحْفُوظٌ کَرْنَا -

یعنی غیر کے تصرف سے روک دینا۔

المَوَاشِی - مَرِیضٌ کُو بَاہِرہ

مِیْنِ بَند کَرْنَا - (مِیْنِ) وَ اِحْتِظُّرٌ،

اِنے لیے ایک بارہ یا اعاطہ تیار

کَرْنَا -

احْتَظُّرٌ - بَہ - بَیْغَا -

اَحْطُو دُورَہِ کَا لَیْہِ اِعَاظَہِ یَا بَاہِرہ

کَرْنَا -

الرجل وبه حوله - گھیرنا
 حَقَّةٌ بكذا اعاطه کر لینا۔
 حَقَّتْهُ الْحَاجَةُ - حاجت لائق ہونا
 حَقَّتْ رَضِي، حَقِيفًا - الشَّجَرَةُ
 او الْحَيْبَةُ - سرراہٹ ہونا۔
 حَفَّتِ الْاَرْضُ حُقُوفًا - زمین
 کا خشک ہونا - سَمَعُهُ -
 بہرا ہونا - اللحیة - داہمی
 کا پر اگندہ ہونا - حَفَّ
 الرجل - تیز نظر بد لگانے والا۔
 أَحَقَّ - احقاقًا - راسدہ - سر میں
 مدت تک تیل نہ لگانا -
 الرجل - کسی کو برائی سے یاد کرنا۔
 حَقَّفَ - القوم حوله و حَقَّقُوهُ -
 گھیرنا۔ اعاطہ کرنا - الرجل
 مصیبت زدہ و کم مال والا ہونا۔
 احتفت - القوم به - اعاطہ کرنا۔
 - النهب - کالٹا - الشئ -
 پھلکا اتارنا - کہا جاتا ہے - احتفت
 جميع ما في القديس - ہانڈی میں
 جو کچھ تھا وہ سب چٹ کر گیا۔
 استحف - المال - سب مال لے
 لینا۔
 الحاف - فا - تیز نظر بد لگانے والا۔
 سويق خاف - ترے کے ہونے متو۔
 سوکھا متو۔ خبذ حاف - بغیر
 سالن کے روٹی - محض روٹی -
 کہتے ہیں - "عائلة حاف دلا
 راف" - اس کے کاموں کا دیکھ
 بھال کرنے والا یہ اس کی خدمت
 کرنے والا کوئی نہیں۔
 الحفاف - مص - جانب - نشان قدم
 دیکھتے ہیں - "جاء على حفاف"
 وہ اس کے آثار قدم پر آیا۔ گنے
 کے سر کے گرد اگر د کے بال - ج

أَحْفَل - المكان - کسی جگہ کا
 بہت اندرائن والی ہونا۔
 الحِطْلُ و الحِطَال و الحِطُول
 اپنے اہل و عیال پر بہت کنجوسی سے
 خرچ کرنے والا۔
 حَطَّادِن، حَطَّوًا - آہستہ چلنا۔
 حِطِّي (س) حُطْوَةٌ و حِطْوَةٌ -
 و حِطَّةٌ - بالوسنق - رزق
 حاصل کرنا۔ (- واحتطی)
 صاحب مرتبہ ہونا۔ نصیب والا ہونا۔
 أَحْطَاه - نصیب والا بنانا -
 احطاه بالمال - مال کا حصہ دینا
 احطاه على فلان - ترجیح
 دینا۔ فرقت دینا۔
 الحِطْو - مص - حصہ۔
 الحِطِّي - رتبہ والا۔
 الحِطْوَةٌ - پھوٹا تیر۔ درخت کی جڑ کی
 چھٹی شاخ۔ ج۔ حِطَاء و حِطَوَات
 الحِطَّة - حصہ۔ مرتبہ۔ ج۔ حِطَاء و حِطَاء -
 الحِطْوَةٌ و الحِطْوَةٌ - مص - مرتبہ۔
 الحِطِّي - لوگوں کا پیارا۔
 الحِطِّيَّة - الحِطِّي - کالٹوں سے مالک
 کی پیاری ہونڈی۔ ج۔ حِطَّيَا۔
 الحِطِّيَا - آہستہ چال۔ کہا جاتا ہے
 مشئ الحِطِّيَا - وہ آہستہ چال
 چلا۔
 الحِطِّيَّة - بے پھل کا چھوٹا تیر۔
 الحِطِّي - جون۔ واحد (حِطَّاق)
 الحِطِّي - حصہ۔ ج۔ أَحْطَاء و
 جبر۔ آحاطہ۔
 حَفَّ دِن، حَقَّ و حَقَّافًا -
 الشئ - پھلکا اتارنا -
 اللحیة - داہمی ہونڈیا یا کترنا۔
 - الوجه - بال اگھیرنا۔ بعد کرنا
 حَفَّ دِن (ض) حَقًّا - القوم

بنانا۔
 حَظَرَ - حَظَرَ کے معنی ہیں۔ تشدید مبالغہ
 کے لیے ہے۔
 الحِطْض - درخت کی شاخ جس سے باڑہ
 بنایا جائے۔ ترکاٹا۔ کہا جاتا
 ہے۔ "وقع في الحِطْض الرطب"
 وہ ایسے معاملہ میں پھنسا جس کی
 اس میں طاقت نہیں۔ "وَأَوْقَدَ
 فِي الحِطْض الرطب" اس نے
 چغٹھوری کی - "وَجَاءَ بِالْحِطْضِ
 الرطب" وہ مال کثیر لایا یا بہت
 جھوٹ بولا۔
 الحِطْيِيرَةُ - ج۔ حِطَّائِر و الحِطَّار
 و الحِطَّار - ہر وہ شے جو تمھارے
 اور کسی چیز کے درمیان حائل ہو۔
 باڑہ - "وَأِنَّهُ لَنَكِدُ الحِطْيِيرَةَ"
 یعنی وہ کنجوس و بے خبر ہے۔
 حِطْيِيرَةُ القُدُس - جنت۔
 الحِطَّوْس - ممنوع۔ ناجائز۔ کہا جاتا ہے
 "الضروبان تبيح المحظورات"
 حِطْرَب - القوس - تانت کمان پر
 مضبوطی سے پڑھانا۔ الحبل
 رسی کو اچھی طرح بٹنا - السقاء
 مشک بھرنا۔
 حِطْرَب - بھر جانا۔
 حِطْل (ن ض) حِطْلًا و حِطْلَانًا -
 و حِطْلَانًا - علیہ - حرکت و
 تصرف سے روک دینا۔ (-
 حِطْلَانًا) المشئ - چلنے میں
 ٹھیرنا اور وقفہ کرنا۔ اور کہا جاتا
 ہے۔ "هُوَ يَحِطْلُ حِطْلَانًا"
 وہ غصہ والی چال چلتا ہے۔
 حِطْل (س) حِطْلًا - البعير -
 اونٹ کا بہت اندرائن کھانا۔
 صفت (حِطْل) ج حِطَالِي -

أَحْقَبَةٌ - اور کہا ہوتا ہے۔
"كَانَ الطَّعَامُ حَقًّا مَا
أَكَلُوا" کھانا جس قدر اچھونے
کھایا، اسی قدر تھا۔

الْحَقُّ - مصدب - وَالْحَقُّ، کنارہ
نشان قدم - کھوج - کتے ہیں
"جاء على حقه او على
حقيقه" یعنی وہ اس کے
نشان قدم پر آیا۔ وفلان
حقت على نفسه۔

الْحَقْفُ - مال کی کمی - کتے ہیں۔
"طعام حَقْفٌ: غوراً کھانا۔
ومعيشة حَقْفٌ: تنگ زندگی۔
الْحَقْفَةُ - گرے ہوئے مال
و غیرہ۔ بچا ہوا بھوسہ۔

الْحَقَّانُ - شتر مرغ کے بچے۔ واحد
حَقَّانَةٌ، نوکر پارک بھرا ہوا برتن
کتے ہیں "رثاء حَقَّانٍ" بھرا
بھارتن۔ حَقَّانُ النعام۔
شتر مرغ کے پر۔

الْحَقْفَةُ - پوری فیاضی۔ کپڑا پیننے کی
بھلاہے کی کڑھی۔ اونٹ کی مقدار
طوراک۔ الْحَقْفَةُ - گڑھے کے
گیارے کی زمین۔

الْحَقْفَةُ - عمدوں کی سوائی کی پاکی۔
تخت رواں۔ اسٹریچر۔
الْحَقْفُونَ - منع۔ محتاج۔
حَقْفٌ حَقَّاءٌ بھلا ہوا۔

الْحَقْفَةُ - ایک قسم کا پودا جس کی پھال
کو قدیم مصری کتابت کے کام میں
لیا کرتے تھے۔ واحد حَقْفَةُ۔
حَقْفَةُ (ن) حَقْفًا - ہلاک کرنا۔
گدون توڑنا۔ حَقْفُ الشَّيْءِ۔
کوٹنا۔

الْحَقْفُ وَالْحَقْفُ - ج۔ أَحْقَاتُ

وَرَا الْحَقَاتِ، ج۔ حَقَائِثُ
ایک قسم کا بڑا سانپ جو اذیت
نہیں پہنچاتا۔

حَقْفَتٌ - پندہ کی اڑان۔ یا تیر
پھینکنے کی سرسراہٹ۔ یا آگ
بڑھنے کی آواز۔

حَقْدٌ (رض) حَقْدًا وَحَقْوَدًا -
وَحَقْدًا أَنَا وَاحْتَقَدْتُ فِي
الْعَمَلِ - کام جلد کرنا۔
وَحَقْدَةٌ - خدمت کرنا۔

أَحْقَدٌ - الظليم شتر مرغ کا تیز
چلتا۔ الظليم شتر مرغ کو
تیز چلانا۔

الْحَقِيدَةُ - پوتا۔ ج۔ حَقْدَاءُ -
الْحَقِيدُ - خادم۔ تباہ۔ مددگار۔ پوتا۔

ج۔ حَقْدٌ وَحَقْدَةٌ - الْحَقْدَةُ
نقش و نگار کرنے والا۔

الْمَحْقَدُ - اہل کوٹان کی جڑ۔ کپڑے
کی گل کاری۔ ج۔ مَحْقَدٌ -
ا۔ وَالْمَحْقَدُ - جلندور کے

چارہ کھلانے کا برتن۔
الْمَحْقَدُ - پیانہ کرتے کا پیالہ۔ کپڑے
کا کنارہ۔

الْمَحْقَدُ - من الشیوٹ - تیز کالنے
والی تلوار۔

حَقْوَرٌ (رض) حَقْوَرًا وَاحْتَقَرٌ -
الاسحق۔ زمین میں گرنا کھودنا۔

حَقْرٌ التَّطْرِيقُ - راستہ پر چلنے
سے نشان لگانا۔ وَحَقْرًا لَشَيْءٍ -
تہ تک معلوم کرنا۔ العنزہ -
بکری کو دہلی کرنا۔

حَقْرٌ (رض) حَقْرًا وَحَقْرًا وَسِ
حَقْرًا وَحَقْرًا - دانتوں کی زردی
کے باعث ان کی جڑوں کا خراب
ہونا۔

أَحْقَرٌ - الصَّبِيُّ - بچہ کا دودھ
کے دانت گرنا۔ ج۔ بَثْرًا
کنواں کھونے میں کسی کی مدد کرنا۔

حَاقِرٌ - الیویووع - جنگلی چوہے کا
اپنے طالب پر سوراخ کو ملتیس کر
دینا۔ اور اسی سے یہ مثل مشہور
ہے: "فلان اردغ من یویووع
مخافہ۔

تَحَقَّرٌ - السَّيْلُ - سیلاب کا
زمین میں گڑھے ڈالنا۔

استَحَقَّرَ - النهر - نہر کے کندنے
کا وقت قریب آ پہنچنا۔

الْحَقْرُ وَالْحَقْرُ - فراخ کنواں -
دانتوں کی زردی کسی کھدی ہوئی جگہ
سے نکالی ہوئی مٹی۔ ج۔ أَحْقَارٌ -
ججہ۔ آخا حیر۔

الْحَقْرَةُ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

المخافہ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

المخافہ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

المخافہ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

المخافہ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

المخافہ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

المخافہ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

المخافہ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

المخافہ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

المخافہ - ج۔ حَقْرٌ وَالْحَقْفِيرَةُ
ج۔ حَقَائِرٌ - و۔ الحَقِيرِ
گرگھا۔ تیر۔

الْحَفَاصَةُ - جمع کردہ اشیاء۔ ذخیرہ۔
 الْحَفْص - مہن۔ چمڑے کا تھیلا۔
 جھوٹا گھر۔ شیر کا بچہ۔ ج۔
 أَحْفَاصٌ وَحُفُوصٌ۔
 الْحَفْصُ - بیروغیرہ کی کھلی۔
 الرَّحْفَصَةُ - چمڑے کا تھیلا۔
 حَفْصٌ (ن) حَفْصًا - العود
 لکڑی کو ٹیڑھا کرنا۔ موڑنا۔
 (و حَفْصٌ) الشَّيْءُ - کسی
 شے کو ہاتھ سے پھینکنا۔ ڈالنا۔
 - الأرض - زمین کو خشک کرنا۔
 - القوم - قوم کو اپنے پیچھے
 چھوڑ دینا۔ - الله عندہ تخفیف
 کرنا۔
 الْحَفْصُ - گھر کا سامان بولادنے کے
 لیے تیار کیا گیا ہو۔ گھر کا سامان
 اٹھانے والا اونٹ۔ وہ بورا جس
 میں قوم کا سامان ہو۔ بالوں کا خیمہ
 کمزور اونٹ۔ کہتے ہیں۔ "رَأْتُهُ
 لِحَفْصٍ عَلِيٍّ" وہ کم علم ہے گویا
 علم کو قلت کی بنا پر حفص سے
 تشبیہ دی ہے۔ اور اسی طرح کہا
 جاتا ہے۔ "نَعْمَ حَفْصُ الْعِلْمِ
 هَذَا" یعنی یہ علم کیا خوب جاننے
 والا ہے۔ ج۔ أَحْفَاصٌ وَ
 حَفَاصٌ۔
 حَفِظْتُ (س) حَفِظًا - الشَّيْءُ -
 ضائع ہونے اور تلف ہونے سے
 بچانا۔ خواب ہونے سے محفوظ رکھنا
 - الكتاب - کتاب کو زبانی
 یاد کرنا۔ - السِّرَّ - بھیجنا
 - المال - مال کی نگہبانی کرنا
 حَفِظَهُ - الكتاب - زبانی یاد کرنا
 ازبر کرنا۔
 حَافِظٌ حِفَاظًا - وَمَحَافِظَةٌ

سے پھینکنے والی کمان۔
 حَفِصٌ (ض) حَفْصًا - کھانا۔
 حَفِيفٌ - بستر پر تلملانا۔
 الْحَيْفُفُ وَالْحَيْفُفُفُ - وہ موٹا جس
 سے بھلائی کی امید نہ ہو۔ بلاوجہ راضی
 یا غصہ ہونے والا۔
 حَفَشَهُ (ض) حَفَشًا - پھلکا اتارنا
 - حَفَشَ السَّبِيلُ الْوَادِيَّ
 سیلاب کا وادی کو پانی سے بھر دینا
 - المطرُ الأرضَ - بارش
 کا زمین پر روئیدگی ظاہر کرنا۔
 فلانا - دھکا دینا۔
 السَّيْلُ - سیلاب کا پانی ایک
 جگہ جمع ہونا۔ - القومُ عليه
 قوم کا جمع ہونا۔ حَفَشَ فِي الْأَمْرِ -
 کسی کام میں کوشش کرنا۔
 الفرس - گھوڑے کا بار بار دوڑنا
 اور ہر بار پہلے سے اچھا دوڑنا۔
 حَفَشَ (س) حَفَشًا - السَّحَابَةُ
 بادل کا یکبارگی زور کی بوچھاڑ برسانا
 اور پھر رک جانا۔
 حَفَشَ وَتَحَفَشَ - الرجل
 خیمہ یا جھونپڑے میں رہنا۔
 الحَافِظَةُ - پانی کے بہاؤ کی جگہ۔ ج۔
 حَافِظَاتٌ وَحَوَافِظٌ۔
 الْحَفِيفُ - ٹوکری۔ جھونپڑا یا بالوں کا
 خیمہ۔ کوہان۔ بوسیدہ ٹھہ۔ ج۔
 أَحْفَاشٌ وَحَفَاشٌ -
 أَحْفَاشُ الْبَيْتِ - گھر کے
 سامان کی معمولی چیزیں۔
 أَحْفَاشُ الْأَرْضِ - سیسی چنگلی
 چوہا۔ گوہ وغیرہ۔
 حَفْصٌ (ض) حَفْصًا - الشَّيْءُ -
 جمع کرنا۔ - الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ
 اپنے ہاتھ سے چیز پھینک دینا۔

سے دست کش ہو گیا مگر اس کے
 بعد پھر اسی کام میں لگ گیا اور
 کہتے ہیں۔ "رَجِعَ فِي حَافِظَتِهِ"
 یعنی بوڑھا ہو گیا۔ "والتقى
 القومُ فَاقْتَتَلُوا عِنْدَ
 الْحَافِظَةِ" یعنی ہوں ہی کہ لوگ
 آپس میں ملے مصروف بہ پیکار
 ہوئے۔
 الْحَفْرِيُّ - ایک رتیلی نبات جو ہمیشہ
 سبز رہتی ہے۔
 الْحَقَّارُ - گھوڑے والا۔ اور اکثر گورکن
 کو حقار کہتے ہیں
 الْمَحْفَرُ وَالْمَحْفَرَةُ وَالْمَحْفَاسُ -
 گھوڑے کا آلہ۔ کدال۔
 الْمَحْفُوسُ - منع۔ زرد و انتوں والا۔
 حَفَزَهُ (ض) حَفْزًا - پیچھے سے
 دھکا دینا۔ کہا جاتا ہے۔ "حَفَزَ
 اللَّيْلُ النَّهَارَ" یعنی رات
 نے دن کو بٹا دیا۔ "و حَفَزُوا
 عَلَيْنَا الْخَيْلَ وَالرَّكَابَ" وہ
 گھوڑے اور سوار لے کر ہم پر چڑھ
 آئے۔ - ه بالرمح - کسی
 کونیزہ سے مارنا۔ - ه عن كذا
 دور کرنا۔ جلدی کرنا۔
 حَافِزٌ - زانو بٹھانا اور قریب ہونا
 تَحَفَزُوا وَاحْتَفَزُوا - زانو یا سر میں
 پر سیدھا بیٹھنا کودنے کے لیے
 تیار ہونا۔ کہتے ہیں۔ "احتفز
 في مشيه" اس نے چلنے
 میں کوشش کی۔
 الْحَفْرُ - مت کہتے ہیں۔ "جَعَلْتُ
 بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَفْرًا" میں
 نے اپنے اور تمہارے درمیان
 مت مقرر کی۔
 الْحَفُوزُ - مِنَ الْقَيْسِيِّ - تیر کو تیزی

على الأمر۔ کسی امر پر پھیلنا
 کرنا۔ نگہبانی کرنا۔ عنہ۔
 ممانعت کرنا۔ ہٹانا۔ کہا جاتا ہے
 "انہ لذو حفظ و ذو محافظۃ"
 وہ خود را اور ان بان کا آدمی ہے
 اَحْفَظْہ۔ غصہ دلانا۔
 تَحْفَظْ۔ عنہ ومنہ۔ بچنا۔
 — بہ۔ کسی کی یاد کرنے کی
 تکلیف دیا جانا۔ الکتاب۔
 کتاب کو تھوڑا تھوڑا یاد کرنا۔
 اِحْتَفَظْ۔ غضب ناک ہونا۔
 — بہ۔ یاد کرنا۔ الشیء
 وبالشیء لنفسہ۔ کوئی شے اپنے
 لیے مخصوص کرنا۔
 اِسْتَحْفَظْہ۔ حالاً اور سزا
 حال یا کسی بھید کے محفوظ رکھنے کی
 درخواست کرنا۔
 الحِفْظْ۔ مص۔ یاد۔ ہوشیاری۔
 الحَفِیظَۃ۔ نگہبانی۔ بچوں کی حفاظت
 کا تعویذ۔ ج۔ حَفَایْظْ۔
 اهل الحَفَایْظْ۔ محارم کی نگہبانی
 کرنے والے۔
 الحَفِیظَۃ و الحِفْظَۃ۔ لائق
 حفاظت شے کے لیے غصہ اور
 جذبہ محبت۔
 الحَافِظْ۔ قا۔ کسی شے کا ذمہ دار۔
 الطريق الحافِظْ۔ واضح سیدھا
 راستہ جو تم نہ سوچ سکتے ہیں۔
 رجل حافِظ العین۔ وہ شخص
 جس پر نہیں کاغلیہ نہ ہو۔ ج۔
 حُفَاط و حَفِیظَۃ و حَافِظُونَ
 الحَافِظ و الحَفِیظ من الملائکَۃ۔
 اعمال نامہ لکھنے والا فرشتہ۔
 والحَفِیظ۔ محفوظ۔
 الحَافِظَۃ۔ الحَافِظ کا مؤنث۔ قوت

حافظ۔ یاد کرنے کی طاقت۔
 المَحْفُوظَۃ۔ غصہ کا محرک کام۔ ج۔
 مُحْفِظَات۔ المَحْفُوظَات۔
 مصیبتیں۔
 حَقْلٌ (مِنْ) حَفْلًا۔ و حَفُولًا
 و حَفِیْلًا۔ الماء۔ پانی کا
 بکثرت جمع ہونا۔ النقوم
 لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ الدمع
 آنسو کا کثرت سے ہونا۔
 الوادی بالسیل۔ وادی کا
 سیلاب سے کناروں تک بھر جانا
 — السماء۔ آسمان کا زیادہ
 بارش برساتا۔ الشیء۔ میقل
 کرنا۔ کہتے ہیں: ما حفله وما
 حفل به: اس نے اس کی پروا
 نہیں کی۔
 حَقْلَہ۔ احتیاط سے اکٹھا کرنا۔ مزین
 کرنا۔ الشیء۔ میقل کرنا۔
 — الناقة۔ اونٹنی کو دوہنا
 بند کر دینا۔ تاکہ اس کے تھنوں میں
 دودھ جمع ہو جائے۔
 تَحَقَّلْ۔ اللبَن۔ دودھ کا تھنوں
 میں جمع ہونا۔ فلان۔ مزین
 ہونا۔ المجلس۔ مجلس کا
 لوگوں سے بھر جانا۔
 احتفل۔ القوم جمع ہونا۔ اکٹھا
 ہونا۔ المجلس۔ مجلس کا
 لوگوں سے بھر جانا۔ الوادی
 بالسیل۔ وادی کا سیلاب سے
 کناروں تک بھر جانا۔
 الطريق۔ راستہ کا واضح و
 نمایاں ہونا۔ الشیء۔ روشن
 ہونا۔ بالامیر۔ حسن
 انتظام سے کرنا۔ فی الامر۔
 مبالغہ کرنا۔ کہتے ہیں: ما احتفل

بہ۔ اس نے اس کی پروا نہیں
 کی۔
 الحَافِلْ۔ فا۔ ضرع حَافِلْ۔ دودھ
 سے براہن — واد حَافِلْ
 سیلاب سے بھری ہوئی وادی۔
 — جمع حَافِلْ۔ بڑی
 جماعت۔ ناقۃ اوشاق
 حَافِلْ۔ بہت دودھ والی اونٹنی
 یا بکری۔ ج۔ حَقْل۔ و
 حَوَافِلْ۔
 الحَافِلَۃ۔ الحَافِلْ کا مؤنث۔
 دائر حافلہ۔ خوب بھرا ہوا۔
 آباد گھر۔ سوق حافلہ
 بھرا ہوا بازار۔
 الحَفْلْ۔ مص۔ جماعت۔ گروہ۔
 کہا جاتا ہے: "عندہ حفل من
 النایس"۔ اس کے پاس ایک بڑی
 جماعت ہے۔ جمع حفل
 بڑی جماعت۔
 الحَفِیْلْ۔ بہت۔ جیسے جمع حَفِیْلْ۔
 بہت بڑی جماعت۔ مکان حَفِیْلْ۔
 بھری ہوئی جگہ۔ رجل حَفِیْلْ
 ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔
 الحَفَالْ۔ بڑی جماعت۔ بہت جمع شدہ
 دودھ۔
 الحَفَالَۃ۔ ہر چیز کا ردی حصہ۔ رفیل
 لوگ۔ جو چیز کھانے میں سے
 نکال کر پھینک دی جائے۔
 حَقَالۃ اللبَن۔ دودھ کے
 جھاگ۔
 الحَفَلۃ اسمرة۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَ
 لِلْامْرِ حَفَلَتَہُ۔ اس نے کام
 میں کوشش کی۔ و جَاوُوا
 حَفَلَتَہُم مِّنْ قِبَلِہُمْ۔ وہ
 سب کے سب آئے۔

حَقٌّ (ض) حَقًّا - علیہ ان یفعل
کذا۔ واجب ہونا۔ کہتے ہیں
"حَقٌّ لَكَ ان تَفْعَلَ كَذَا"
وَحَقَّقْتَ ان تَفْعَلَ كَذَا
یعنی اس کا کرنا تمہارے لیے سزاوار
ہے اور تم اس کے کرنے کے
لائق ہو۔

حَقٌّ (ض) حَقًّا وَحَقَّةً -
الامر۔ ثابت ہونا۔ واجب ہونا
— الحاجة۔ ضرورت کا سخت
ہونا۔

حَقٌّ (س) حَقَّقًا - الفرس۔ دوڑنے
میں گھوڑے کا اگلی ٹانگوں کی جگہ
پچھلے پاؤں رکھنا۔ صفت (أحق)
حَقَّقَهُ - تاکید کرنا۔ واجب کرنا۔
حَقَّقَ الْقَوْلَ او الظَّنَّ - کسی
قول یا گمان کی تصدیق کرنا۔

حَاقَهُ - مُعَاقَبَةً وَحَقَاقًا -
فی الامر۔ کسی امر میں جھگڑا کر
کے اپنی حقاری کا مدعی ہونا۔ کہتے
ہیں: ان له كذا وكذا لا
یحاقة فیہ احدٌ اس کے
لئے ایسا اور ایسا ہے۔ اس میں
کوئی اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔

أَحَقُّ - حق کہنا۔ أَحَقُّهُ - حق
مائل کر لینا۔ أَحَقُّ الْأَرْضَ -
کسی امر کو ضروری اور واجب ٹھہرانا۔
اور حق ثابت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
أَحَقُّ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ - یعنی قضا
کو اس کے ذمہ واجب کیا۔
أَحَقُّ الرَّعِیَّةَ - تیرا مال میری رعیت
وہم ہی مار ڈالنا۔

تَحَقَّقَ - الخبر۔ خبر کا پایہ ثبوت کو
پہنچنا۔ الرجل الأمر۔
یقین کرنا۔

کو بار بار دہرانا۔ ۵۔ اصرار
کرنا۔ خبر معلوم کرنے پر اکسانا۔
— الیہ فی الوصیة۔ وصیت
میں مبالغہ کرنا۔ بہ۔ عیب
لگانا۔ مشاربہ۔ مونچھیں
کترنے میں مبالغہ سے کام لینا۔
تَحَقَّقَ - فی الشیء - کوشش کرنا۔

— لہ۔ بہت عزت کرنا۔
تَحَاقِبًا - الی السُلطان فیصلہ
کے لیے بادشاہ کے پاس جانا۔
احتقی۔ ننگے پاؤں چلنا۔ سوتہ اتارنا۔
— البقل۔ سبزی کو اس کے
چھوٹے ہونے کی وجہ سے انگلیوں
کے پوروں سے اکھڑنا۔
القوة المرعی۔ چراگاہ میں
کچھ نہ چھوڑنا۔

استخفی۔ ۵۔ عن کذا۔ کسی
شخص سے کسی چیز کے متعلق مبالغہ
سے دریافت کرنا۔

الحفاء۔ کمر یا پاؤں کی گھاسی۔
الحفاية والحفوة والحفیة۔
بمعنی الحفاء۔

الحنفی۔ کسی چیز کے متعلق پورا پورا علم
رکھنے والا۔ عزت و اکرام و
اظهار خوشی میں مبالغہ کرنے والا۔
کسی شخص کے حالات بہت پوچھنے
والا۔ سوال کرنے میں اصرار کرنے
والا۔ جو۔ حَفْوًا۔

حَقَّهُ (ن) حَقَّهُ حق میں غالب آنا
— حَقُّ الْأَمْرِ - حق کو ثابت کرنا۔
— الخبر۔ خبر کی حقیقت تک
پہنچنا۔ العقد۔ گرہ
باندھنا۔ الرجل۔ وسط
سریا منڈھے کے گڑھے پر مارنا۔
— الطريق۔ وسط راستہ چلنا۔

الحَقْلُ۔ عام دعوت۔
المَحْفِلُ۔ مجلس۔ ج۔ محافل
— والمَحْفَلُ، جمع ہونے کی
جگہ۔ مُحْتَفَلُ الْأَمْرِ۔ معاملہ کا
بڑا حصہ۔

حَقَّنَ (ن) حَقَّنًا - الشیء - لپ
بھر لینا۔ لہ۔ لپ بھر دینا۔
احتقن۔ الشجرة۔ درخت کو جڑ
سے اکھڑنا۔ الشیء لِنَفْسِهِ۔
اپنے لیے لینا۔ مِنَ الشیء۔
بہت لے لینا۔ الرجل۔
دونوں ہاتھ زانو کے نیچے ڈال کر
اٹھانا۔

الحَفْنَةُ وَالْحَفْنَةُ - لپ کی مقدار
والحَفْنَةُ - گڑھا۔ ج حَفْنٌ -
حَفَادِنٌ، حَفْوًا - قَلَاتًا - دینا۔
— حَفَاةٌ مِنَ الشیء - منع کرنا
رکنا۔ حَفَاةٌ اللَّهُ بِهِ۔
عزت دینا۔ حفا البرق
بادل کے اطراف میں بجلی کا لگے
سے چلنا۔ شاربہ مونچھوں
کو خوب اچھی طرح صاف کرنا۔

حَفِنِي (س) حَفًّا - دیا وہ چلنے سے
پاؤں کا گھس جانا۔ ننگے پاؤں چلنا
صفت (حَفٌّ وَحَافٍ)
ج۔ حَفَاةً - الفرس۔
گھوڑے کا گھسے ہوئے کمر والا ہونا
— حَفَاةً وَحَفَاوَةً وَ
حَفَايَةً وَتَحَفَايَةً - و
احتقی۔ بہ۔ بہت اعزاز
اور خوشی کا اظہار کرنا۔ حَفِي
عنه۔ حالت بہت پرچھنا۔

حَاقَهُ مُعَاقَبًا - گفتگو میں جھگڑنا۔
أَحَقُّ بِالْحَفَاةِ - گھسے ہوئے کمر والا
جانور رکھنا۔ السؤال سوال

تَخَاتًا۔ حق کے لیے ایک دوسرے سے
جھگڑنا اور فیصلہ کے لیے جانا۔

إِنْحَقَّ۔ الرِّبَاظُ۔ رسی کا بندہ جانا
أَحْتَقَّ۔ الفُرْسُ۔ گھوڑے کا دبلا

ہونا۔ اَحْتَقَّتِ الطَّعْنَةُ بِهِ
نیزہ کی مزہب کا کسی کو فی الحال مار
ڈالنا۔ اَحْتَقَّ الْقَوْمُ۔

ہر ایک کا یہ کہنا کہ میرے پاس
حق ہے۔ النَّاظِقَةُ۔ اونٹنی
کا موٹی ہونا۔ اَحْتَقَّةٌ
الی کذا۔ یعنی اس کو ٹوڑ کیا اور
اس پر تنگی ڈالی۔

اسْتَحَقَّ۔ ضروری و واجب قرار
دینا۔ اسْتَحَقَّ الْمَدِينُ
قرض کی ادائیگی کا وقت قریب آ
پہنچنا۔ النَّاظِقَةُ۔ موٹی ہونا
الرجل۔ کسی کا گناہ کر کے
مستحق سزا ہونا۔

الْحَقُّ۔ مص۔ سچائی۔ راستی۔ یقین
انصاف۔ ثابت شدہ۔ نصیب
مال۔ ملک۔ ہوشیاری۔ فیصل شدہ
امر موت۔ جرحقوق۔ کہا
جاتا ہے۔ "هو حق بكذا" وہ
اس کے لائق ہے۔ "وَلِحَقِّ لَأ
اِتَيْتَكَ" بغیر تئیں کے یعنی قسم
ہے حق اللہ کی۔ میں تمہارے پاس
نہیں آؤں گا۔ وحقاً لا ایتک
بلا لام معتبرین۔ حقوق الداس
گھر کے منافع۔

الْحَقَّةُ۔ معن۔ حق۔ یہ لفظ حق سے
قاص ہے۔ کیونکہ اس سے حصہ
معین و مخصوص مراد ہوتا ہے۔ مثلاً
کہتے ہیں ہذا حق ہے۔ یہ میرا
مخصوص حق ہے۔ حقیقت امر
کہتے ہیں۔ وَقَفْتُ عَلَى حَقَّةٍ

ذَلِكَ الْأَمْرُ۔ میں اس امر کی
حقیقت تک پہنچی۔ مصیبت۔

الْحَقُّ۔ مونڈے کے سرے کا گڑھا۔

سَرِيحٌ كَأَسْرٍ۔ بازو کے اوپر کا حصہ

رَمِيحٌ كَأَوَّلِ مَكْرَاهٍ۔ یا پست زمین

مکڑی کا جالا۔ وحق الطيب

نوشہبر کی ڈھیر۔ جو۔ حَقَّاقٌ۔

الْحَقَّةُ۔ چھٹا برتن۔ مصیبت۔ عورت

الْحَقُّ۔ مِنَ الْإِبِلِ۔ چوتھے سال

والا اونٹ۔ نر ہویا مادہ۔ اور

اس کا یہ نام یوں پڑتا ہے کہ وہ

اس عمر میں بار برداری کے قابل

ہو جاتا ہے۔ وہ اونٹنی جس کے

دانت بڑھانے کے سبب گر

گئے ہوں۔

الْحَقَّةُ۔ حق و واجب۔

الْحَقِيقُ۔ لائق۔ سزاوار۔ کہتے ہیں

"هو حقيق ان يفعل كذا"

وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔

هو حقيق بكذا۔ وہ اس کے لائق ہے

والْحَقِيقُ عَلَى الشَّيْءِ۔ حریص

لاچی۔ جو۔ آھقَاء۔

الْحَقِيقَةُ۔ واجب الممانیت چیز۔ کہا

جاتا ہے۔ "هو حامي الحقيقة"

فهُوَ مِنْ حَمَاةِ الْحَقَائِقِ۔

وہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جس

کا دفاع اس کے لیے ضروری ہے

حق۔ وہ لفظ جو اپنے معنی میں شروع لہ

پر دلالت کرے۔ حقیقۃ

الشیء۔ چیز کا معنی اور اس کی

اصل۔ جو۔ حَقَائِقُ۔

الْحَاقُ۔ فا۔ وسط۔ بیچ۔ کہا جاتا

ہے۔ "سقط علی حاق راسہ"

اس کے بیچ سر پر گرا۔ وِحْتُهُ فِي

حَاقِي الْيَسْتَاءِ۔ میں اس کے

پاس وسط سر میں آیا۔ وركب

حَاقِي الطَّرِيقِ۔ وہ بیچ راستہ پر

چلا۔ کسی صفت میں کمال رکھنے

والا۔ کہا جاتا ہے رجل شجاع

حاق الشجاع۔ وہ بہادری و

شجاعت میں کامل ہے۔ وَاخْذَنِي

حَاقِ الْجُوعِ۔ مجھ کو سچی بھوک لگی۔

الْحَاقَةُ۔ الحاق کا مؤنث مصیبت

آفت۔ قیامت۔ کہا جاتا ہے۔

"هو رجل حاقه الرجل"

وہ مردانگی میں کامل ہے۔ و هو

شجاع حاقه الشجاع۔ وہ

بہادری میں کامل ہے۔

الْأَحَقُّ۔ اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ۔ لِنِذَاقُولِ

"هو احق من فلان" کا مطلب

یہ ہے کہ حق گو دونوں کو پہنچتا ہے

مگر وہ اس سے زیادہ حقدار ہے۔

کبھی خصوصیت کے معنی بھی دیتا

ہے جیسے۔ "زيد احق بماله"

یعنی زید ہی بلا شرکت غیرے اپنے

مال کا حقدار ہے۔

الْمُحَقِّقُ۔ مَفْعٌ۔ "كلامٌ مُحَقِّقٌ۔

محقق و مرتب کلام۔ ثوبٌ مُحَقِّقٌ۔

مضبوط بناوٹ کا کپڑا۔

الْمَحْقُوقُ۔ مَفْعٌ۔ لائق۔ قابل۔ سزاوار

کہا جاتا ہے۔ "هو محقوق بكذا"

وہ اس کے لائق ہے۔ "هو محقوق

ان يفعل كذا" وہ ایسا

کرنے کے لائق ہے۔

الْحَقَّانِي۔ حق کی طرف منسوب۔

جیسے ربانی۔ سب کی طرف منسوب۔

حَقْبٌ (س) حَقْبًا وَآخَقْبٌ

۔ المَطْرُ۔ بارش کا رک جانا۔

۔ الْعَامُ۔ سال کا بے بارش

والا ہونا۔ المعدن۔ معدن۔
 کا ختم ہونا۔ نائل فلان
 کسی کی مہربانی و فضل کا کم یا منقطع
 ہونا۔ الامر۔ معاملہ کا خواب
 ہونا۔
 اَحْقَبَہ۔ پیچھے سوار کرنا۔
 اَحْتَقَبَ۔ الاثم۔ مرکب گناہ
 ہونا۔ زیداً علی ناقتہ۔
 پیچھے سوار کرنا۔ د۔ واستحقب،
 الشیء۔ کسی چیز کا ذخیرہ کرنا۔
 کجاوہ یا پالان کے پیچھے باندھنا۔
 الحُقْبُ۔ ج۔ حِقَابٌ وِ الدُّحْبُ
 ج۔ اَحْقَابٌ۔ و اَحْقَبٌ۔
 انتی سال یا اس سے زائد کا زمانہ۔
 زمانہ۔ ایک سال یا بہت سے
 سال۔
 الحَقِیْبُ۔ اونٹ، کاتنگ، زیور لٹکانے
 کا عورت کا کر بند۔
 الحِقْبَةُ۔ مدت۔ سال۔ ج۔ حِقْبٌ
 و حَقُوبٌ۔
 الحِقَابُ۔ عورت کا کر بند جس میں وہ
 زیور لٹکاتی ہے۔ ناخن کے بڑ کی
 سفیدی۔ ج۔ حَقْبٌ۔
 الحَقِیْبَانُ۔ سوار کے پیچھے گھوڑے پر
 بندھنے والی چیز۔ مسافر کا خوراک
 وغیرہ رکھنے کا قبیلہ۔ ج۔
 حَقَائِبٌ۔
 الِاحْقَابُ۔ گورخر۔ مؤنث۔ حَقْبَاءُ
 حَقْدَرَضٌ، حَقْدَا و حَقْدَا و
 حَقِیْدَةٌ و حَقْدَا (س)، حَقْدَا
 و تَحَقَّدَ۔ علیہ۔ کینہ
 و بغض رکھنا۔ صفت (حاقدا)،
 ج۔ حَقْدَہ۔
 حَقْدَ المَطَرِ۔ بارش کا رک جانا۔
 المعدن۔ کان کا ختم ہو جانا

اور اس میں سے کچھ نہ نکلنا۔
 المناقۃ۔ اونٹنی کا چربی
 سے بھر جانا۔
 اَحْقَدَہ۔ کینہ و ربانا۔
 تَحَاقَّدَ۔ القوم۔ ایک دوسرے سے
 کینہ رکھنا۔
 احتقد۔ المطر۔ بارش کا رکنا۔
 علی فلان۔ کینہ رکھنا۔
 الحقد۔ ج۔ اَحْقَادٌ و حَقُودٌ۔
 و الدُّحْقِیْدَةُ، ج۔ حَقَائِدٌ۔
 ولی کینہ۔ پوشیدہ و شمنی۔
 الحَقُودُ۔ بہت کینہ رکھنے والا۔
 حَقْرَدَضٌ، حَقْرًا و حَقْرِیَّةٌ۔
 ع۔ حقیر سمجھنا۔ چھوٹا جانا۔
 حَقْرًا لشیء او الرجل۔ کم قدر
 ہونا۔ ذلیل ہونا۔
 حَقْرَدَسٌ، حَقْرًا و حَقْرَدَا
 حَقْرًا۔ ذلیل ہونا۔ صفت
 (حَقِیْرٌ و حَقِیْرٌ و حَقِیْرٌ)
 حَقْرَہ۔ ذلیل کرنا۔ کم قدر کرنا۔
 اَحْقَرَہ و اَحْتَقَرَہ و اَسْتَحْقَرَہ۔
 ذلیل سمجھنا۔ حقیر جانا۔
 تَحَاقَّرَ۔ اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔
 کہتے ہیں "تھاقرت الیہ نفسہ"
 ذلیل ہو گیا۔
 الحَقَارَةُ و الحَقَاةُ و الحَقَارَہ
 و المَحْقَرُہ۔ ذلت۔ کم قدری۔
 کہا جاتا ہے۔ "ہذا الامر مَحْقَرٌ"
 لك۔ یہ امر تم کو حقیر و ذلیل کر
 دے گا۔
 المَحْقَرَاتُ۔ چھوٹے چھوٹے۔ ادنی چیزیں
 الحَقِیْقَةُ و الحَقِیْقَاتَانُ۔ تیز۔ بعض
 کے نزدیک زرمینتر۔ مؤنث۔
 (الدُّحِیْقَطَانَةُ)
 حَقَفَت (ن)، حَقُوفًا۔ الغابی

ہرن کا ریت کے تودہ میں بیٹھنا۔ یا
 ہرن کا جسم کو ٹیڑھا کر کے اور موڑ کر
 بیٹھنا۔ الشیء۔ خمدار ہونا۔
 صفت۔ (حاقف)،
 اَحْقُوقَفَ۔ لمبا و ٹیڑھا ہونا۔
 الحِقَفَ۔ ریت کا لمبا اور بیچ دار
 قطع۔ ج۔ اَحْقَانٌ و حَقُوفٌ
 و حِقَانٌ و حِقْفَةٌ۔ ج۔
 حَقَائِفٌ۔
 المِحْقَفَ۔ کھانا پینا ترک کرنے والا۔
 حَقْلٌ (س)، حَقْلًا و حَقْلَةٌ۔
 البعیر او الفرس۔ اونٹ یا
 گھوڑے کا مٹی کھانے سے پیٹ کے
 ورو میں مبتلا ہونا۔
 حَاقَلَدَ۔ حَاقَلَةً۔ کھڑی کھیتی کو پکنے
 سے پہلے بیٹنا۔
 اَحْقَلَّتْ۔ الاسض۔ زمین کا قابل
 زراعت ہونا۔ اَحْقَلَّ الزرع۔
 کھیتی کا پتے نکالنا۔ الوجل
 فی الرکوب۔ سوار کا سواری
 کی پیٹ سے چلنا۔
 اَحْتَقَلَّ۔ اپنا کھیت لگانا۔
 الحَقْلُ۔ قابل کاشت زمین۔ سبز
 کھیتی۔ ج۔ حَقُولٌ۔ واحد
 (حَقْلَةٌ)
 الحَقْلُ۔ ہودج۔ ہاکی۔ (و الدُّحَقْلَةُ)۔
 گھوڑے یا اونٹ کے پیٹ میں مٹی
 ملا چارہ کھانے سے ورو۔
 الحَقْلَةُ۔ بتخلیث الحاء۔ باقی
 ماندہ دودھ یا پانی۔ روی کھجور کھجور
 کا بچا کچھا۔
 الحَاقِلُ۔ فا۔ کاشتکار۔
 المَحْقَلَةُ۔ بویا ہوا کھیت۔
 الحَقِیْمَانُ۔ آنکھوں کے دو بیرونی
 کونے۔

حَقْنَهُ (ن ص) حَقْنًا - روک لینا بند کرنا۔ اور اسی سے ہے۔
 "حقن بولہ" اس نے پیشاب کو روک لیا۔ دَمَهُ - خون کو گرنے سے بچایا۔ مَاءَ وَجْهِهِ ابرو کی حفاظت کرنا۔
 اللبِنَ - دودھ کو مکھن نکلانے کے لیے مشکیزہ میں جمع کرنا۔
 المرِيضُ - بیمار کا پیشاب رکنا۔
 حَقْنَهُ كَمَا اسْتَعْمَلَ كَرْنَا -
 الدَّمُ - خون کا زخم میں جمع ہونا۔
 الحُقْنَةُ - ہر وہ دوا جو بیمار کے مقعد سے فضلہ نکلانے کے لیے چڑھائی جائے۔
 الحَقْنَةُ - پیٹ کا درد۔ ج۔ اَحْقَانُ۔
 الحَاقِنُ - فا۔ پیشاب روکنے والا اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے۔
 "لَا رَأَى لِحَاقِنٍ" یعنی پیشاب روکنے والے کی رائے میں کوئی وزن نہیں۔ کیونکہ اس حالت میں وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔
 گویا ایسے مضطر شخص کے لیے یہ مثل بولی جاتی ہے جو خود اپنے امر کا مختار نہ ہو۔
 الحَاقِنَةُ - الحَاقِنُ کا مؤنث۔
 معدہ۔ ہنسیوں کا درمیانی حصہ۔
 ج۔ حَوَاقِنُ - اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے: "لَا لِحَقْنٍ حَوَاقِنُكَ بَدَا قَيْدُكَ" جو تہدید و دھمکی کے موقع پر بولی جاتی ہے۔
 الحَقِيْنُ - روکا ہوا۔ جمع کیا ہوا۔
 کہتے ہیں۔ "سَقَاهُ اللَّسْبَنَ الحَقِيْنُ" یعنی اس نے اس کو مشکیزہ میں رکھا ہوا دودھ پلایا۔

ج۔ حَقْنِي -
 الحَقْنُ وَالْحَقْنَةُ - حقن کی پیکاری
 الحَقْنُ - دودھ جمع کرنے کا مشکیزہ۔
 الحَقْنَانُ - پیشاب روکنے والا۔
 عام لوگ الحَقْنُ اور الحَقْنَانُ کو پانی کی ٹنگی یا حوض کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
 حَقَّاهُ (ن) حَقْوًا - کوکھ پر مارنا۔
 حَقِيٌّ - درد کر سے بیمار ہونا۔ گوشت کمانے سے درد شکم والا ہونا۔
 صِفَتُ (مَحْقُوٌّ وَ مَحْقِيٌّ) -
 تَحَقِيٌّ - درد کر کی شکایت رکھنا۔
 الحَقْوُ - کوکھ۔ ازار۔ پہاڑ کا کنارہ
 ج۔ حِقَاءٌ وَ أَحَقٌّ وَ أَحْقَاءٌ وَ حَقِيٌّ - کہتے ہیں۔
 "لَا ذِي حَقْوِيٍّ" اس نے اس سے فریاد سی چاہی۔
 الحِقَاءُ وَالْحَقْوَةُ - ازار یا ازار کے باندھنے کی جگہ۔ گوشت کھانے سے پیٹ کا درد۔
 حَكَّ (ن) حَكًّا - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ اَوْ عَلَيْهِ - رُكِّنًا - گھسنا۔
 الشَّيْءُ - پھلکا اتارنا۔
 وَ أَحَكَّ وَ أَحْتَكَّ (الكَلَامُ فِي صَدْرِهِ) - بات کا دل میں گھر کر جانا۔ کہتے ہیں: "مَا أَحَكَّ فِي صَدْرِي كَذَا" مجھ کو یہ بات نہیں چھی۔ حَكَّةٌ وَ أَحَكَّةٌ إِحْكَاكًا وَ أَحْتَكَّةً وَ اسْتَحْكَةً - سر کھلانا۔
 وَ أَحْتَكَّ بِالشَّيْءِ - کسی شے کے ساتھ لازم ہونا۔
 حَاكٌ - مَحَاكَةٌ وَ جِجَاكٌ - الرجلُ بِمُقَابَلَةٍ كَرْنَا بِرَابِرِي كَرْنَا تَحْكَكُ - یہ۔ کسی کے ساتھ برائی کرنے پر تیار ہونا۔ مثل ہے۔

"تَحَكَّكَتِ الْعُقُوبُ بِالْحِيَةِ" یعنی بچھوسانپ کو تکلیف دینے پر تیار ہوا۔ یہ مثل اس شخص کے حق میں بولی جاتی ہے جو اپنے سے زیادہ طاقتور سے مقابلہ کرے۔
 تَحَاكَا - ایک دوسرے کو کھلانا۔ آپس میں مقابلہ کرنا۔

الحِكَّ - حِكٌّ (و الحِكَاكُ) جانور کے کھلانے کے لیے درخت کا تنہ۔ کہتے ہیں: "فَلَانٌ حِكٌّ اَوْ حِكَاكٌ شَرٌّ" فلاں بہت شر انگیز ہے۔

الحُكُّ - ملا حوں کا قطب نما۔
 الحُكَاكَاتُ - وسوسے۔ شکوک۔ واحد (حُكَاكَةٌ)

الحُكَّكُ - سنگ مرمر کے مشابہ سفید پتھر۔ مونڈھے ہلاتے ہوئے چلنے والی عورت کے مانند رفتار۔

الحُكَّاتُ - نرم پتھروں والی زمین۔
 الحُكَّكُ - شری لوگ۔ برائی والے۔

اپنی حاجتوں کی طلب میں اصرار کرنے والا۔ واحد

الحِكَّةُ - حَكٌّ - کا اسم۔ غارش۔ کھجلی۔
 حِكَّةٌ الْاَلْفِ ناک میں سوزش و جلن جو ٹھنڈی ہوا سونگھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شک۔

الحَاكَةُ - وَاثُ - کہا جاتا ہے: "مَا بَقِيَ فِي فَمِهِ حَاكَةٌ" اس کے منہ میں کوئی واث نہیں بچا۔

الحُكَاكُ - لَوْرُكُ الْيَسَدِ - قلمی شورہ کھجلی دار ایک بیماری۔

الحُكَاكَةُ - كَهْرَجِنُ - کھرچ کر اتاری ہوئی

چیز۔
 الْأَحْكَانُ - ہم کفولوگ۔ کہتے ہیں۔
 "لست من آحکاکہ" تم اس کے مرووں میں سے نہیں ہو۔
 الْأَحْكَاءُ - جس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔ پُوپِلَا - تراشا ہوا کمر۔
 الْحَكَاكُ - بہت کھرچنے والا۔ بہت رگڑنے والا۔ امتحان کے لیے سونے کو رگڑنے والا۔
 الْمَحْكُوكُ - کسوٹی۔
 الْمَحْكُوكُ - مفع۔ الْجَذَلُ الْمَحْكُوكُ - تنہ جو خارش اونیٹ کے کھلانے کے لیے نصب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں: "انا جَذَلْتُهَا الْمَحْكُوكُ وَعَدَّ يَقْرُهَا الْمَرْجَبُ" یعنی میری رائے سے اس طرح شفا حاصل کی جاتی ہے جس طرح اونیٹ تنہ سے شفا حاصل کرتا ہے۔
 حَكَاءُ (ض) حَكَاءٌ وَأَحْكَاءٌ وَأَحْتَكَاةٌ - الْعُقْدَةُ - گرہ باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ کہا جاتا ہے: "إحتكأت العقدة" گرہ کا کسنا۔ مضبوط ہونا۔ کہتے ہیں: "إحتكأ الشيء في صدری" وہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اور اب مجھے شک نہ رہا۔
 الْحُكَاةُ وَالْحُكَاةُ - بڑا رگڑ۔
 حَكَرَهُ (ض) حَكَرًا - گھٹانا۔ ظلم کرنا۔ بری معاشرت رکھنا۔ زندگی بسر کرنے میں تنگی و مشقت ڈالنا۔
 حَكَرَ (ض) حَكَرًا - اصرار کرنا۔ صبر کرنا۔ جھگڑا ہونا۔ صفت اَحْكَو (ض) بالامو۔ اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ خود مختار و

خود سر ہونا۔ منگا فروخت کرنے کے لیے غلہ روک رکھنا۔
 حَاكِرَةٌ - حَاكِرَةٌ - جھگڑا کرنا۔ مقابلہ کرنا۔
 تَحَكَّرَ وَاحْتَكَّرَ - الشَّيْءُ - منگا بیچنے کے لیے روک رکھنا۔
 وَتَحَكَّرَ عَلَيْهِ - حسرت و افسوس کرنا۔

الْحَكْوُ - مصد۔ وَالْحَكْوُ مَقْوُورًا پانی یا کھانا۔ چھوٹا پیالہ۔

الْحَكْوُ وَالْحَكْوُ - منگا بیچنے کے لیے روکی ہوئی چیز۔ مقوور کھانا یا دودھ۔

الْحُكْرَةُ - غلہ کی بندش۔

الْحَاكُورَةُ - پائین باغ۔

حَكَشَ (ض) حَكَشًا - الْوَجَلُ

آدمی کا سکرنا۔ الشَّيْءُ -

جمع کرنا۔ الْوَجَلُ - ظلم کرنا

حَكَفَ (ض) حَكُوفًا - الْوَجَلُ

کسی کام میں سست و ڈھیلا ہو

جانا۔

حَكَلُ (ض) حَكَلًا وَأَحْكَلٌ وَأَحْتَكَلٌ

الامور علیہ۔ دشوار و

مشتبہ ہونا۔ غیر واضح ہونا۔

تَحَكَّلَ - جہالت سے اصرار کرنا۔

الْحُكَلُ - وہ چیز جس کی آواز سنائی نہ

دے۔ کہا جاتا ہے: "تَحَكَّلَ

كَلَامَ الْحُكَلِ" اس نے غیر مفہوم

کلام کیا۔

الْحَكَلُ - فی الفرس۔ گھوڑے

کے ٹخنوں کا ڈھیلا پن۔

الْحَكَلَةُ - کلام میں لکنت۔ کہتے ہیں

"فی لسانہ حَكَلَةٌ" اس کی

زبان میں لکنت ہے۔ جہالت کی

وجہ سے اصرار ہے۔

حَكَمَ (ض) حَكَمًا - وَحُكُومَةً بِالْأَمْرِ وَاللَّجَلِ - اد علیہ و بینہم۔ حکم دینا۔ فیصلہ دینا۔
 حَكَمَ (ض) حَكَمًا - وَالْإِسْمُ - کہا جاتا ہے: "أَحْكَمَهُ فَاحْكَمَهُ" اس نے اس کو واپس کیا، تو وہ واپس ہو گیا۔ الْفَرَسُ - گھوڑے کے منہ میں حکم لگانا۔
 ۵ - عَن كَذَا - منع کرنا۔ واپس کرنا۔

حَكَمَ (ض) حَكَمَةً - وَأَنَا بِنَا -

دورانِ اندیش ہونا۔ حاکم بنانا۔

حَكَمَهُ فِي الْأَمْرِ - فیصلہ کرنے

کے لیے کوئی معاملہ سپرد کرنا۔

عَن كَذَا - لُطْنًا أَوْ مَنَعًا -

حَاكَمَهُ جَهْلًا أَوْ كَرَاهًا - حَاكَمَهُ

إِلَى الْحَاكِمِ - حَاكِمًا كِلَيْهِ بَلَانًا -

أَحْكَمَ - الشَّيْءُ - مضبوطی سے

کرنا۔ أَحْكَمَتُهُ التَّجَارِبُ

تجربوں نے اس کو وانا بنا دیا۔

أَحْكَمَ السَّفِيهَةَ - برے کام

کے کرنے سے ہاتھ پکڑ لینا یا اس

کے نتیجہ بد سے اس کو واقف و

آگاہ کرنا۔ ۵ عَنِ الْأَمْرِ -

رُكْنَا - منع کرنا۔ الْفَرَسُ

گھوڑے کے منہ میں حکم لگانا۔

تَحَكَّرَ - فِي الْأَمْرِ - اپنی رائے سے

فیصلہ دینا۔ حکم نافذ ہونا۔ کسی امر

میں اپنی مرضی کے مطابق تصریح کرنا

إِحْتَكَمَ - فِي الْأَمْرِ - ثالث منظور کرنا

النَّاسُ إِلَى الْحَاكِمِ

لوگوں کا حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لے

جانا۔ عَنِ فُلَانٍ أَرَادَهُ

مُتَّفِقًا عَلَى تَطَلُّبِ كَذَا - فِي

الشَّيْءِ - اپنی خواہش کے مطابق کسی

پزیر میں تصرف کرنا۔ الامر۔
مضبوط ہونا۔
تَحَاكَمُوا۔ الی الحاکم۔ حاکم کے
پاس اپنا جگڑا لے جانا۔
استَحکم۔ الامر۔ مضبوط ہونا۔
- علیہ الکلام۔ کلام کا کسی کے
اچھی طرح سمجھ میں نہ آنا۔
الحکم۔ من فیصلہ ج احکام۔
الحکم۔ حکم جاری کرنے والا۔ حاکم۔
فیصلہ کرنے والا مفرد و جمع ہر
دو کے لیے استعمال ہوتا ہے،
- رجلٌ حکم۔ عمر رسیدہ
آدمی۔
الحکمة۔ انصاف۔ علم۔ بردباری
فلسفہ۔ حق کے موافق کلام۔ کام
کی درستی۔ ج۔ حکم۔
الحکمة۔ لگام کا وہ حصہ جو گھوڑے
کے دونوں جڑوں کے جانب ہو۔
- من الانسان۔ چہرے کا
سامنے کا حصہ۔ قد و منزلت۔
الحکومة۔ من گورنمنٹ۔
الحاکم۔ قاضی۔ گورنر۔ جج۔
ج۔ حکام و حاکمون
الحکیم۔ دانا۔ عالم۔ فلاسفر۔ ج
حکماء۔ مؤثر حکیمہ۔
- قصیدہ حکیمہ۔ دانائی و
حکمت سے بھرا ہوا قصیدہ۔
الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء
حسنیٰ میں سے ایک اسم۔
الاحکومة۔ حکم فی الامر۔ کا اسم۔
الحکمة۔ کھڑکی۔ ج۔ تحاکم۔
المحکم۔ منج۔ آزمودہ۔
والمحکم، اپنے نفس کے ساتھ
انصاف کرنے والا۔
حکی (من، حکایۃ۔ عندہ۔

الکلام۔ کسی سے کلام نقل کرنا
- الخبر۔ بیان کرنا۔
فلاناً۔ کسی سے مشابہ ہونا۔
الشیخ۔ مشابہ بنانا۔ حکمی
علیہ چغلی کھانا۔ العقدۃ
گرہ باندھنا۔
آحکی۔ اِحکاء۔ العقدۃ۔ گرہ
مضبوط باندھنا۔
حاکمی۔ حاکم۔ کسی کے
مشابہ ہونا۔ مانند ہونا۔
لاحتکی۔ لا احتکاء۔ الامر۔ کسی
امر کا مضبوط ہونا۔
الحکی۔ چغلی خورد مذکور ٹونٹ ہر دو
کے لیے،
حل (من، حلّ۔ العقدۃ۔ گرہ
کھولنا۔
انحلّت۔ العقدۃ۔ گرہ کا کھل جانا۔
حل (من، حلّ۔ حُلُولاً۔ علیہ
امر اللہ۔ خدا تعالیٰ کا حکم
واجب ہونا۔
حل (من، حلّ۔ حُلُولاً و حُلُولاً
- المکان و بالمکان
کسی جگہ اترنا۔ بہ فی
المکان۔ کسی کو کسی جگہ اتارنا۔
حل (من، حلّ۔ الشیخ۔ کسی
چیز کا حلال ہونا۔ الدین
ادا ٹیکے قرض کا وقت آ پہنچنا۔
المہین۔ قسم پوری کرنا۔
الرجل۔ اجرام سے نکلنا۔
حل۔ العجامد۔ بچھلایا جانا۔
- المکان۔ آباد ہونا۔
حل۔ (من، حلّ۔ پاؤں یا ٹخنوں
میں ڈھیلہ بن ہونا۔ صفت
داحل، ج۔ حل۔
حلّ۔ تجلیلاً و تجلیتاً۔ و

تَجَلَّأ۔ الشیخ۔ کسی شخصے کو
حلال قرار دینا۔ جائز ٹھہرانا۔
المہین۔ قسم کا کفارہ ادا
کرنا۔ حَلَلَهُ بِالْمَكَانِ
اتارنا۔
آحل۔ اِحلالاً۔ عمدہ بیثاق
سے آزاد ہونا۔ المحرم۔
محرم کا احرام سے نکلنا۔
اشهر حرام کے علاوہ مہینوں میں
داخل ہونا۔ بنفسہ۔ سزا
کا مستحق ہونا۔ احلہ
بالمکان او المکان۔ کسی جگہ
اتارنا۔ الشیخ۔ حلال کرنا
- علیہ الامر۔ واجب کرنا
- الناقة علی ولدھا۔ دودھ
جاری ہونا۔
انحلّ۔ کھل جانا۔
تَحَلَّلَ۔ فی یمینہ۔ شرطیہ قسم
کھانا۔ اپنی قسم میں مستثنیٰ کرنا۔
جیسے۔ "و اللہ لا فعلن ذلك
ان شاء اللہ۔ یا۔ الا ان
یکون کذا۔"۔
یمینہ۔ کفارہ ادا کر کے قسم
سے آزاد ہونا۔
تَحَلَّلَهُ۔ حلال کر دینے کو چاہنا۔
احلّ۔ المکان و بالمکان۔ کسی
جگہ اترنا۔ کہا جاتا ہے۔ لا حلّ
القوم و بالقوم۔ وہ قوم کے
پاس ٹھہرا۔
استحلّ۔ الشیخ۔ جائز سمجھنا۔ جائز
شمار کرنا۔ جائز ٹھہرنے کی اجازت
چاہنا۔
الحال۔ فا۔ ج حلّ و حُلُول۔
و حُلُول و الحلال۔۔ حال
کا اسم مبالغہ۔ گرہ کھولنے والا۔

کتے ہیں: "فَلَانٌ حَلَّالٌ لِلْعَقْدِ
كَافٍ لِلْمَهْمَاتِ" فلاں بہت
عقدہ کشا اور مشکلات کے لیے
کافی ہے۔

الْحِلُّ - مَص. حَلَّالٌ - جَائِزٌ. مَكْمَعَةٌ
كَيْ حَرَمٌ شَرِيفٌ سَيِّئٌ كَالْعَلَاةِ
كَيْ جَبَّ اِتْرَنَةٌ وَالْاَلَا. كَتَبْتُمْ
"مَا زِلْتُمْ حَلًّا بِهَذَا
الْبَلَدِ" فِي اِسْ شَهْرِ فِي هَيْمَشَةٍ
اِتْرَنَةٌ وَالْاَلَا هُوَ. وَالْاَشْهُرُ الْحَلُّ
"اَشْهُرُ حُرْمَةٍ" كَيْ عِلَاوَةٌ هَيْمَشَةٍ.

الْحِلُّ - نَشَانَةٌ. قِسْمٌ سَيِّئٌ بَرَايَةٌ.
الْحِلُّ وَالْحُلُّ - اِحْرَامٌ سَيِّئٌ
نَكَلْنِي كَالْوَقْتِ. كَمَا جَاءَتْ هِيَ -

"فَعَلَهُ فِي حِلِّهِ وَحُدُودِهِ"
اِسْنَانٌ اِسْنَانٌ كَوَالْحَرَامِ كَيْ حَالَتِ
فِي اِسْنَانٌ اِحْرَامٌ سَيِّئٌ نَكَلْنِي كَيْ
وَقْتٌ كَيْ.

الْحَلَّةُ - حُلُولٌ. سَيِّئٌ اِسْمٌ مَرَّةً.

تَرْكُلٌ كَالْبُرَاثَةِ كَرَا. (وَالْحَلَّةُ)
مَحَلٌّ. مَجْلِسٌ. جَمْعٌ هُوَ كَيْ جَبَّ.
— مِّنَ الشَّيْءِ كَيْ شَيْءٍ
كَيْ طَرَفٌ وَسَمْتٌ. ج. حِلُّ.

وَحِلَّالٌ. كَمَا جَاءَتْ هِيَ. "فِيهِ
حَلَّةٌ اَوْ حِلَّةٌ" اِسْنَانٌ فِي كَمْزُورِي
هِيَ — الْحِلَّةُ - اِتْرَنَةٌ كَيْ

هَيْمَشَةٍ. اِتْرَنَةٌ وَالْاَلَا قَوْمٌ جَمْعٌ كَيْ
تَعْدَادٌ زِيَادَةٌ هُوَ. كَمَا جَاءَتْ هِيَ -
"حَيْ حَلَّالٌ". اِتْرَنَةٌ وَالْاَلَا قَبِيلَةٌ
جَمْعٌ اِسْمٌ فِي كَثِيرٍ هُوَ -

الْحَلَّةُ - نِيَا كَيْطَرَا. كَيْطَرُوں كَالْبُرَا
بِهَيْمَشَةٍ. كَمَا جَاءَتْ هِيَ. "لَيْسَ
الْمَحَارِبُ حَلَّتْهُ وَبَرَّتْهُ"
لُطْنَةٌ وَالْمَلَّةُ لِي اِسْنَانٌ اِسْنَانٌ
اِسْنَانٌ بَهَيْمَشَةٍ زِيَادَةٌ تَنْ كَيْ. ج.

حُلُّ - وَحِلَّالٌ -

الْحَلَّالَةُ - جَمْعٌ.

الْحَلَّالٌ - جَائِزٌ وَحَلَّالٌ - اِحْرَامٌ سَيِّئٌ
نَكَلْنِي وَالْاَلَا. "السَّحْرُ اِحْرَامٌ حَلَّالٌ".

وَهُوَ عَجِيبٌ بَاتِيں جَمْعٌ سَيِّئٌ عَقْلٌ وَتَمَكُّ
رَهْ جَائِزٌ اَوْ شَيْطَانِي اِثْرَسَ وَهُوَ
پَاكٌ هُوَ.

الْحِلَّالٌ - حَلَّالٌ - كَمَا وَهُوَ كَا
سَامَانٌ - عَمُورَتُوں كَيْ اِسْنَانٌ سَوَارِي.

الْحَلِيلُ - حَلَّالٌ - خَاوَنَةٌ.
— وَالْحَلِيلَةُ - بِيوِي —

حَلِيلٌ - اِسْنَانٌ فِي سَامَانٌ سَمْتٌ
وَالْاَلَا. ج. اِحْلَاءٌ - مَوْتٌ

حَلِيلٌ وَحَلِيلَةٌ - ج. —
حَلَّالٌ.

الْاَحْلٌ - كَمْزُورَتَا نَكَلْنِي وَالْاَلَا. مَوْتٌ
حَلَّالٌ - ج. حُلٌّ -

الْاَحْلَالٌ - رِسْمٌ جَمْعٌ سَيِّئٌ فَرَاغَتٌ.
الْاَحْلِيلُ - پِيَشَابٌ نَكَلْنِي كَالسُّورَاخِ.

تَمَكُّ كَالسُّورَاخِ جَمْعٌ سَيِّئٌ وَوَدُوهُ
نَكَلْنِي هِيَ. ج. اَحْلَالٌ.

التَّحْلِيَّةُ - قِسْمٌ كَالْقَفَارَةِ. قِسْمٌ فِي
اِسْتِنَاةً.

التَّحْلِيلُ - بِمَعْنَى اِحْلَالٍ.
الْمَحَلُّ - اِتْرَنَةٌ كَيْ جَبَّ. مَطْرَبَةٌ كَيْ

جَبَّ. ج. مَحَالٌ.
مَحَلٌّ - الدَّيْنُ - قَرْضٌ كَيْ مَبَاوُ.

الْمُحَلُّ - فَا - رَجُلٌ مُّحَلٌّ
حَرَمٌ كَيْ اِسْنَانٌ وَرِي كَرَنَةٌ وَالْاَلَا.

بِي عَمْدٌ اِدْمِي.
الْمَحَلَّةُ - اِتْرَنَةٌ كَيْ جَبَّ.

الْمُحَلَّلُ - مَفْعٌ - مَاءٌ مُّحَلَّلٌ
اِسْنَانٌ كَيْ اِتْرَنَةٌ سَيِّئٌ كَمَا هُوَ

جَائِزٌ وَالْاَلَا پَانِي — مَكَانٌ
مُحَلَّلٌ. نَكَلْنِي كَيْ زِيَادَةٌ مَطْرَبَةٌ

كَيْ جَبَّ.

حَلَّالَةٌ (ف) حَلَّالٌ - بِالسُّيْفِ -

تَلَوَارٌ سَيِّئٌ مَارِنَا — هَا بِالسُّوْطِ
كُوْرَسَ سَيِّئٌ مَارِنَا — بِهَا الْاَرْضُ

زَمِيْنٌ پَرِ كَيْطَرَنَا — حَلَّالَةُ الشَّيْءِ -
كَيْ كُوْرَتُوں شَيْءٌ دِيْنَا — حَلَّالٌ

الْجِلْدُ - كَهْرَبِيَا - حَمِيْنَا —
حَلَّالَةٌ وَاحْلَاءٌ - كَيْ كَرَمٌ

لُكَا نِيَا اِسْنَانٌ لُكَا نَا — حَلَّالَةٌ
حَلَّالَةٌ - كَيْ كَيْ سَرْمِيَا اِسْنَانٌ

رُكْرُنَا. كَيْمَنَا.
حَلَّالٌ - (س) حَلَّالٌ - الْاِدْمِي

كَمَا اِتْرَنَةٌ وَوَقْتُ كَيْ كَيْ كَيْ
كَمَا كَا خَرَابٌ هُوَا. —

حَلَّالَةُ الشُّفَّةِ - هُوَتْ پَرِ اِسْنَانٌ
پَرِ حَانَا.

حَلَّالَةٌ - تَحْلِيًّا وَتَحْلِيَّةً -
عَيْنُ الْمَاءِ - پَانِي پَرِ اِتْرَنَةٌ سَيِّئٌ

رُكْرُنَا — هَا - الشَّيْءِ - كَيْ
كُوْرَتُوں شَيْءٌ دِيْنَا.

الْحَلُّو وَالْحَلَّالَةُ - سَرْمِيَا - كَيْ
كَيْ كَيْ كَيْ وَالْاَلَا اِتْرَنَةٌ هِيَ.

الْحَالِيَّةُ - بَرَا زِيَادَةٌ سَيِّئٌ
الْحَلَّالُ وَالْحَلَّالَةُ - تَحْلِيًّا وَتَحْلِيَّةً

كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
اِسْنَانٌ كَيْ سَيِّئٌ هِيَ.

التَّحْلِيُّ - كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
الْحَلَّالُ - كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ

كَا كَيْ كَيْ.
التَّحْلِيَّةُ - مَص. بُو كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ.

رَجُلٌ تَحْلِيَّةٌ - بُو كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ.
لُحْلَاءٌ وَاحْلَاءَةٌ - كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ

كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
حَلَّالٌ (ف) حَلَّالٌ وَحَلَّالٌ -

وَحَلَّالٌ - الشَّيْءِ - كَيْ كَيْ كَيْ

دوبنا۔ کہا جاتا ہے۔ حَلَبٌ
الدَّهْرَ أَشْطَرًا یعنی زمانہ کی
بھلی بری باتوں کو اس نے خوب
آزمایا۔ أَشْطَرٌ۔ اونٹنی کے
طن کے ہاکہ کو کہتے ہیں۔
کہتے ہیں۔ حَلَبَتْ بِالسَّاعِدِ
الْأَشَدِّ یعنی تم نے ایسے سے
مدولی جو کام کو بخوبی انجام دے
سکتا ہے۔ مَالَهُ حَلَبٌ وَ
لَا حَلَبٌ یعنی اس کے پاس
نہ اونٹنیاں ہیں نہ اونٹ۔
حَلَبَ الرَّجُلُ زَانُوَ كَيْلَ
بَيْطَانَا۔
حَلَبَتْ وَأَحْلَبَتْ الرَّجُلُ
دوسرے کے لیے دودھ دوہنا۔
عَلَبَتْهُ وَأَحْلَبَتْهُ۔ ناقتی
اونٹنی کو دودھ دوہنے کے لیے
دینا۔
حَلَبَ الْقَوْمَ حَلْبًا وَحُلُوبًا وَ
أَحْلَبُوا۔ کسی کی مدد کے لیے
قوم کا ہر طرف سے سمٹ آنا۔
حَلَبَ (س) حَلْبًا۔ الشَّعْرُ
بل کا کالا ہونا۔
حَالِبَةٌ۔ ساتھ مل کر دودھ دوہنا۔
ر۔ وَأَحْلَبَهُ، مَدُونًا۔
تَحَلَّبَ وَانْحَلَبَ۔ العَرَقُ
او الدَّمْعُ پینہ یا آنسو کا
بہ پڑنا۔ عَيْتَةٌ۔ آنکھ کا
آنسو بہانا۔ فَمَلَةٌ۔ منکا
شوک ٹھکانا۔ رال ٹھکانا۔
لَا حَلَبَ وَاسْتَحَلَبَ۔ دودھ
نکالنا۔ اِحْتَلَبَ النَّاقَةَ
اونٹنی کا دودھ دوہنا۔
اسْتَحَلَبَ الْقَوْمَ۔ قوم کا مدد
کے لیے جمع ہونا۔

الْحَلَبُ۔ مص۔ (وَالْحَلِيبُ، دودھ
ہوا دودھ۔ کہتے ہیں۔ مَشْرُوبٌ
حَلْبًا۔ میں نے تازہ دودھ
پیا۔ کھجور کی شراب۔ حلب
الکرم وحلب العصیرہ شراب۔
کہتے ہیں۔ ذَاتُوا حَلَبًا امْرَهُمْ
یعنی انھوں نے اپنے کام کا خمیازہ
بھگتا۔ وَدَمٌ حَلِيبٌ۔ تازہ
خون۔ کہا جاتا ہے۔ "ناقۃ"
حلبی" رکبی (وَحَلْبَانَةٌ)
رَكْبَانَةٌ۔ دودھ دینے والی
اور سواری دینے والی اونٹنی۔
الْحَلْبَةُ ایک بار دوہنا۔ گھوڑوں
کی ایک دفعہ کی دوڑ۔ کہتے ہیں۔
"هُوَ يَرْكُضُ فِي كُلِّ حَلْبَةٍ
مِنْ حَلَبَاتِ الْمَجْدِ" وہ
بزرگی و شرافت کی ہر دوڑ میں دوڑتا
ہے۔ الْحَلْبَةُ۔ گھوڑے جو
دوڑانے کے لیے مختلف طرفوں
سے جمع کیے جائیں۔ جِ حَلَبَاتِ
وَحَلَائِبِ۔
الْحَلْبَتَانِ۔ صبح و شام (ان دونوں
وقتوں میں دودھ دوہنے کی وجہ
سے ان کا یہ نام پڑا۔
الْحَلْبَةُ۔ مِثْقَلٌ۔
الْحَلْبَةُ۔ بکریوں کا ایک حصہ جو ریوڑ
سے الگ ہو جائے۔
الْحَالِبُ۔ فَا۔ دودھ نکالنے والا۔
ج۔ حَلْبَةٌ۔
الْحَالِبَةُ۔ مَعْنَى كَيْلِ رُكْبَانِ
ج۔ حَوَالِبِ۔
حَوَالِبِ الْبَيْتِ۔ پانی کی ستوں
یا سرین۔ اسی طرح حَوَالِبِ
الْعَيْنِ۔ یا۔ حَوَالِبِ الْاَلْفِ
وہ رگیں جن سے آنکھ کے آنسو یا

ناک کی ریزش نکلتی ہے۔
الْحَالِيَانِ۔ وہ دو رگیں جن سے پیشاب
گردہ اور مثانہ میں آتا ہے۔
الْحَلَابُ۔ دودھ دوہنے کا برتن۔
الْحَلَابُ۔ بہت دوہنے والا۔
"يَوْمٌ حَلَابٌ"۔ نناک دن۔
الْحَلُوبُ وَالْحَلُوبَةُ۔ من الابل
او الغنم۔ دودھ دینے والی
اونٹنی یا بکری۔ دوسری ہوئی۔
ج۔ حَلْبٌ وَحَلَائِبُ۔
الْحَلَائِبُ۔ جماعتیں۔ کسی کے معاونین و
مددگار پھیرے بجائی۔
الْحَلْبُوبُ۔ کالا رنگ۔ کہا جاتا ہے
"اسود حَلْبُوبٌ"۔ بہت کالا۔
الْحَلْبِلَابُ۔ عشق بیچہ کی بیل۔
الْحَلْبُ وَالْحَلْبَانُ وَالْحَلْبَابُ
وَالْحَلْبُوبُ۔ نباتات کے نام۔
کہتے ہیں۔ شَاةٌ (تَحْلَابَةٌ
وَتَحْلِبَةٌ وَتَحْلِبَةٌ۔ وَ
تَحْلِبَةٌ وَتَحْلِبَةٌ) گیا بھن
ہونے سے پہلے دودھ دینے
والی بکری۔
الْمَحَلْبُ۔ دودھ دوہنے کا برتن۔
ج۔ مَحَالِبُ۔
الْمَحَلْبُ۔ دودھ دوہنے کی جگہ
ج۔ مَحَالِبُ۔ ایک درخت
جس کے بیج سے خوشبو حاصل کی
جاتی ہے۔
الْمَحْلِبُ۔ فَا۔ کہا جاتا ہے۔ خَلَانٌ
مَحَلْبٌ مَحَلْبٌ یعنی فلاں کے
اونٹوں نے اونٹ اونٹنیاں دیں
اونٹنیوں کا دودھ دوہتا ہے۔
اور اونٹنیوں کو بیچنے کے لیے لے
جاتا ہے۔ کسی کا وہ مددگار جو اس
کی قوم کا نہ ہو۔

حَلَّتْ (ض) حَلَّتًا - الرأس - سر
 مونڈنا - الصوف چڑے
 سے اون اکھیرنا - الدين
 قرص ادا کرنا - ظہور
 الخيل - چمٹ کے رہنا -
 بسلجہ - پانچا نہ کرنا -
 الحلاتة - اون اکھیرتے وقت اس
 کا گرا ہوا حصہ -
 الأحلَّت - اکھڑے ہوئے بالوں یا
 اون والا - الحلیت یحج -
 اولہ - پالا -
 حلج (ن ض) حَلَجًا - الخُبْرَة -
 روٹی کا بیلن سے گول کرنا - اور
 بڑھانا - فی المشی - آہستہ
 آہستہ چلنا - فی القدو
 دوڑنے میں لمبے لمبے قدم رکھنا -
 القوم لیلتہم قوم کارات
 کو چلنا - کہا جاتا ہے - "بات
 القوم یحاجون لیلتہم"
 قوم رات بھر چلتی رہی -
 حلج القطن - روٹی دھن کر اس
 میں سے بنولے نکالنا - صفت
 (حلج) صفت مفعولی -
 (حلیج و محلوج) - الحبل
 رسی بٹنا - الرجل بالعصا
 لاٹھی سے کسی کو مارنا - تحلج
 الحلوج - بادل کا چمکنا -
 فی صدرہ - بات کا کٹکنا -
 احتلج - حق لے لینا -
 الحلجہ والحلجہ - مسافت -
 الحلجہ - دھنیے کا پیشہ -
 الحلوج - چکنے والا بادل -
 الحلج بہت کھانے والے -
 الحلج والمحلج - روٹی دھننے
 کا آلہ بیلن - ج - محالیج و

محالیج -
 المحلج وہ کڑی جس پر چرخی گھومتی
 ہے -
 المحلج والمحلجہ - وہ چیز جس
 پر روٹی دھنی جائے -
 حلحل - الشیء - ہلانا - ہلانا -
 القوم - قوم کو ان کی جگہ سے
 ہلانا - علیحدہ کرنا -
 تحلحل - عن مکانہ - اپنی
 جگہ سے ہٹ جانا - حرکت کرنا -
 المحلجل - اپنے قبیلہ کا سردار -
 بہادر - کامل - ج - حلجل
 (اور انھیں معافی میں تحلحل
 و ملحلح ہیں)
 حلزون (حلزاً) - الجلد والعود
 چڑے یا کڑی کو چھیننا -
 تحلزن - الشیء - باقی رہنا -
 القلب - دل کا درد مند ہونا -
 - للأمر - کسی امر کے لیے
 تیار ہونا - بالمكان - کسی
 جگہ اقامت کرنا -
 احتلزن - منہ حقہ - کسی سے
 اپنا حق لے لینا -
 الحلزن - بخیل - بدخلق - پست قد
 - أو ایک قسم کا غلہ - واحد
 (حلزۃ)
 الحلزون - ایک قسم کا آبی جانور -
 الحلزونۃ - فی عرف
 الحدادین والنجارین -
 لوہاروں اور بڑھئیوں کی اصطلاح
 میں وہ سوراخ جس میں ترمچدار
 کیل گھومتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے
 اور الٹی پھرنے کے بغیر نہیں
 نکلتی شکل یا خط حلزونہ
 وہ شکل یا خط جو گھومنے کی ہیئت

کالی پیپار ہونے -
 حلس (ض) حَلَسًا - البعیر
 اونٹ کو ٹاٹ یا کیل سے ڈھانپنا
 - الرجل بالشیء - بہت
 ترپیں ہونا - السماء - آسمان
 کا لگاتار ہلکی بارش برسانا -
 حلس (س) حَلَسًا وَتَحَلَسَ -
 - بالمکان - کسی جگہ جم کر رہنا -
 - للأمر - کسی کام کے لیے
 چکر لگانا - کہا جاتا ہے - "مَا
 تَحَلَسَ مِنْهُ شَيْءٌ" یعنی اس کو
 تَحَلَسَ شَيْئًا" یعنی اس کو
 اس میں سے کچھ نہیں ملا -
 أحلس - الرجل - مفلس ہونا
 - فلاناً فی البیع - خرید و
 فروخت میں کسی کو نقصان پہنچانا -
 - کسی سے عہد و میثاق
 کرنا - احلست السماء
 آسمان کا لگاتار ہلکی بارش
 برسانا - الارض - زمین کا
 سرسبز ہونا - أحلسه الخوف
 خوف لازم کرنا -
 حالسہ - چمٹ جانا - لگ جانا - لازم
 ہونا - حالس البعیر -
 اونٹ کو ٹاٹ سے ڈھانپنا -
 إحلس - سیاہی مائل سرخ ہونا -
 صفت (أحلس) مؤنث
 حلساء
 استحلست - الارض - زمین کا
 سرسبز ہونا - النبت - سبزہ
 کا زمین کو ڈھانپ لینا -
 اللیل - رات کا بہت تیرہ و
 تاریک ہونا - الخوف فلاناً
 خوف کا لازم رہنا -
 الحلس والحلس - ٹاٹ - ہر وہ کپڑا

جس میں "حلفاء" بولی بہت ہو۔
الْحَلْفَاءُ - وہ جگہ جہاں حلفاء گھاس
بہت اُگے۔

الْحَلْفُ وَالْحَلْفَانَةُ - بہت
قسمیں کھانے والا۔

الْحَلِيفُ - عہدہ پیمان کرنے والا۔

ساکھی۔ کہتے ہیں - "فُلَانٌ

حَلِيفُ الْجُودِ" فلاں بڑا

فیاض و جود و بخشش والا ہے۔

"فُلَانٌ حَلِيفُ اللِّسَانِ"

فلاں چرب زبان اور فصیح ہے۔

ج۔ حَلْفَاءُ۔

المُحْلِفُ - شک کی چیز جس کو ثابت

کرنے کے لیے قسم کی ضرورت پڑے

کہا جاتا ہے۔ "هَذَا عِلْمٌ"

محلف - یہ ایسا لاکا ہے جس کے

اقتلام میں شک ہے۔

حَلَقَ (رض) حَلَقًا وَتَحَلَّقًا۔

الو اس۔ سر مونڈنا۔

حَلَقَ (دن) حَلَقًا۔ الرجل۔

حلق پر مارنا۔ گلے پر ضرب لگانا۔

— الحوض۔ حوض بھرنا۔

الشيء۔ پھیلنا۔

السنة القوم۔ قحط سالی کا

قوم کو مصیبت میں ڈالنا۔

صفت (حلقی)۔ القوم

بعضہم بعضا۔ ایک دوسرے

کو قتل کرنا۔

حَلَقَ (رس) حَلَقًا۔ گلے میں

شکایت ہونا۔

حَلَقَ۔ الو اس۔ سر مونڈنا۔

— الطائر۔ پندہ کا ہول میں

اڑ کر چکر لگانا۔ القمیر

چاند کے ارد گرد حلقہ پڑنا۔

الشيء۔ کسی شے کو حلقہ کے مانند

جلدی کرنا۔ غضبناک ہونا۔

حَلَطَ (رس) حَلَطًا وَاحْتَلَطَ

عليه۔ کسی پر ناراض و غضبناک

ہونا۔ منہ۔ کسی سے تنگ ہونا

شک جانا۔ زرج ہونا۔

أَحْلَطَ۔ بمعنی حَلَطَ۔ ۵۔

غضبناک کرنا۔ بالمکان

اقامت کرنا۔ فی الیَمین

سرگرمی سے قسم کھانا۔

حَلَفَ (رض) حَلْفًا وَحِلْفًا وَ

حِلْفًا وَحِلْفًا وَحِلْفًا وَحِلْفًا

وَحِلْفًا۔ باللہ۔ اللہ

کی قسم کھانا۔

أَخْلَفَهُ وَحَلَفَهُ وَاسْتَحْلَفَهُ۔

قسم دینا۔

حَالَفَهُ۔ مَحَالَفَةٌ۔ معاہدہ کرنا۔

عہد و پیمان کرنا۔ حَالَفَ

فَلَانًا حَزَنًا۔ غم کا لازم ہونا۔

تَحَالَفُوا۔ باہم عہد و پیمان کرنا۔

الْحَلْفُ وَالْحِلْفُ وَالْأَحْلُوفَةُ

قسم۔

الْحَلِيفُ۔ مص۔ عہد و پیمان۔ دوستی

وہ دوست جو اپنے دوست سے

بیوفائی نہ کرنے کی قسم کھائے۔

ج۔ أَحْلَافٌ۔ کہتے ہیں - "فُلَانٌ

حَلِيفٌ كَذَابٌ" یعنی فلاں اس سے

جدا نہیں ہوتا۔

الْحَلْفَاءُ۔ ایک قسم کی بولی جس کے

اطراف کھجور کی شاخ کے مانند

تیز ہوتے ہیں اور وہ پانی کے بہاؤ

کی جگہ اگتی ہے۔ واحد

(حَلْفَةٌ وَحَلْفَاءُ)

الْحَلْفَاءُ۔ بہت چینی والی لونڈی۔

ج۔ حُلْفٌ وَحُلْفٌ۔ ارض

(حَلِيفَةٌ وَحَلِيفَةٌ) وہ زمین

جو زمین یا ہالان کے نیچے ڈالا

جاتا ہے پروہ کپڑا جو قیمتی فرش

کے نیچے گھر میں بچھایا جاتا ہے۔

ج۔ أَحْلَاسٌ وَحَلُوسٌ وَ

حَلِيسَةٌ۔

احلاس الخیل۔ وہ لوگ جو گھوڑوں

پر ہی سوار رہیں۔ اور کہتے ہیں

فُلَانٌ حَلِيسٌ بَيْتُهُ "فُلَانٌ

ہمیشہ گھر ہی میں رہتا ہے۔ عرب

کے نزدیک یہ ایک مذمت ہے

کہ گویا وہ گھر ہی میں رہنے کی

قابلیت رکھتا ہے۔ "وہو

حَلِيسٌ مِّنْ أَحْلَاسِ الْبِلَادِ" یہ

مدح و ستائش کے طور پر

استعمال ہوتا ہے یعنی وہ صاحب

عزت و قوت ہے۔ یا کہتے ہیں۔

"كُونُوا أَحْلَاسًا بَيْنَ تَكْمٍ" تم

ہمیشہ گھر ہی میں رہو۔

"هَذَا لَيْسَ مِّنْ أَحْلَاسِ

فُلَانٍ" یعنی یہ فلاں کا کفو نہیں

ہے۔ "وَرَفَضْتُ كَذَا وَ

نَقَضْتُ أَحْلَاسَهُ" میں نے

اس کو چھوڑ دیا۔

الْحَلِيسُ۔ عہد و پیمان۔ جوئے کا چوتھا

تیر۔ سروا۔ بہادر۔ ام جلس

گدھی۔

الْحَلِيسُ۔ عہد و پیمان۔

الْحَلِيسُ۔ بہادر۔ حلیس جو اپنی جگہ سے

نہ ٹلے۔ سیاہی مائل سرخ۔

الْحَلُوسُ۔ حلیس۔ لاپچی۔ ارض

(مجلسۃ) وہ زمین جس کو

گنے سبزہ نے ٹاٹ کی طرح ڈھانپ

لیا ہو۔

حَلَطَ (دن) حَلَطًا۔ قسم کھانا۔

فی الامر۔ امر کرنا۔ اور

بنانا۔ الاناء من الشراب۔
 برتن کا بھر جانا۔۔ الحوض
 حوض کا خشک ہو جانا۔۔
 عين الحيوان۔ آنکھ کا دھنس
 جانا۔ النجد۔ ستارہ کا بلند
 ہونا۔ صنع الناقة۔
 اونٹنی کا دودھ خشک ہو جانا۔
 اخلق۔ الاناء او الحوض۔ برتن
 یا حوض کو بھرنا۔
 تخلق۔ القوم۔ حلقہ بنا کر
 بیٹھنا۔ القمر۔ چاند کا
 تالہ میں آنا۔
 اخلق۔ الواس۔ سر موٹنا۔
 الخلق۔ مص۔ گلا۔ ج۔ اخلاق
 وخلق وخلق۔
 خلق الاسرى۔ زمین کی
 نابیاں اور وادیاں۔ کتے ہیں۔
 "اخذوا في خلق الطريق"
 انھوں نے تنگ راستے اختیار کیے
 الحلقة۔ ہر گول چیز۔ زرہ۔ رسی۔
 ج۔ خلق وخلقات۔ و
 خلقة القوم۔ قوم کا دائرہ۔
 کہا جاتا ہے۔ "سأله في خلقته"
 یعنی اس نے اس سے اس وقت
 سوال کیا۔ جبکہ وہ اپنے طلباء کے
 حلقہ میں گھرا ہوا تھا
 خلقة الحوض۔ حوض کا بھرنا۔
 خلقة۔ اباب او القوم۔ دروازہ
 کا حلقہ یا قوم کا دائرہ۔
 الخلق۔ بادشاہ کی انگوٹھی۔ بہت مویشی۔
 الخلق۔ بے بالوں والا۔
 الخلق وخلق۔ بینی علی الکر
 معدول از خالقة۔ موت۔
 لخلق۔ گلا۔
 الخلق والخلق۔ خلق کا درد۔

الخلق۔ نائی۔ حجام۔
 الخلاقة۔ مرنڈے ہوئے بال۔
 الخلاقة۔ نائی کا پیشہ۔
 الخالق۔ فا۔ ج۔ خلقة۔
 من الجبال۔ اونچا چٹیل پہاڑ۔
 کہا جاتا ہے۔ "جاء من حلق"
 وہ بلند جگہ سے آیا۔ "وہوی
 من حلق" وہ اونچی جگہ سے
 گرا۔ یعنی ہلاک ہو گیا۔
 صنع خالق۔ دودھ سے بھرا
 ہوا تھن۔ دودھ کی کمی کی وجہ سے
 پیٹ سے چمٹا ہوا تھن۔ ج۔
 خلق وحوالق۔
 الخالقة۔ الخالق کا مؤنث۔
 موت۔ بری بات۔ سخت سال۔
 ج۔ حوالق۔
 الخالق۔ موت۔
 الخالقة۔ من السبوف او
 الرجال۔ تیز تلوار۔ سخت آدمی
 الخلق والخلق۔ بلا و مصیبت
 الخالقة۔ لآحول ولا قووة
 إلا بالله۔ کہنا۔
 الخلق۔ مرنڈا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔
 "شعر حلیق ولحیة حلیق"
 مرنڈا ہوا بال۔ مرنڈی ہوئی داڑھی۔
 ج۔ (د خلق)
 المخلق۔ اُسترہ۔
 خلقه۔ گلا کاٹنا۔
 الخقوم۔ گلا۔ ج۔ خلاقیم۔
 حلیق (س) خلوقہ وخلق و
 خلوقا واخلولک واستخلق
 سخت سیاہ ہونا۔ صفت
 (خالک وخلق)
 الخک والخلق۔ سخت سیاہی
 الخکة والخلق والخلقاء و

الخلقاء والخلقاء والخلق
 ایک قسم کا جانور۔
 حلم (ن) حلمًا وخلقًا۔ فی
 نومہ۔ خواب دیکھنا۔ کتے ہیں۔
 "حلمه وحلمه" اس نے اس
 کو خواب میں دیکھا۔ حلم
 الصبی وراحمہ، لڑکے کا بالغ ہونا
 (خلقًا) الجلد۔ چمٹے میں سے
 کیڑے نکالنا۔
 حلم (ن) حلمًا۔ درگزر کرنا۔
 بر و بار ہونا۔ صفت (خلیم)
 ج۔ حلماء واخلام۔ مؤنث
 حلیمہ۔
 حلم (س) حلمًا۔ الجلد۔
 چمٹے کا خراب ہونا۔ اور اس میں
 کیڑے پڑنا۔ صفت۔ (خلیم
 وخلیم)
 حلمه۔ تحلیماً وخلقاً۔ بر و بار
 بنانا۔ حلم الجلد۔ چمٹے
 میں سے کیڑے نکالنا۔ القربة
 مشک بھرنا۔
 تحلم۔ بر و بار بنانا۔ الحلم۔
 بر و باری سے کام لینا۔ الرجل
 آدمی کا موٹا ہونا۔ تحلمت
 القربة۔ مشک کا پانی سے بھر جانا
 تحالم۔ بر و باری تکلف ظاہر کرنا۔
 الخلم واخللم۔ فی نومه۔
 خواب دیکھنا۔
 الخلم۔ صبر۔ آہستگی۔ بر و باری۔
 کبھی جہالت و بے وقوفی کے مقابلہ
 میں آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ و
 ان سفاه الشیخ لا یحلم
 بعدہ۔ عقل۔ ج۔ اخلام و
 خلوم۔ کہا جاتا ہے "تأمومهم
 اخلامهم"۔ یعنی ان کی

عقلیں ان کو اس کا حکم دیتی ہیں۔
 الحَلْم۔ مص۔ خواب۔ ج۔ اَحْلَام
 کہا جاتا ہے: هَذِهِ اَحْلَامُ نَائِمٍ
 یعنی یہ چھوٹی آرزوئیں۔
 الحَلْمَةُ۔ سرپستان۔ چڑے کا کپڑا
 ج۔ حَلْمٌ۔
 الحَلِيمُ۔ خدا تعالیٰ کے اسمائے حسنی
 میں سے ایک اسم۔ موٹائی کی چربی۔
 التَّحْلِيمَةُ۔ بہت کپڑوں والا۔ ج
 تَحَالِمٌ۔
 حَلَادُن، وَحَلُودُن، وَحَلِيٌّ
 (س، حَلَاوَةٌ وَحُلُوَانًا۔
 میٹھا ہونا۔ الفاکہۃ۔
 پھل کا پکنا۔ حلالہ الشیءُ
 لذیذ ہونا۔ صفت (حُلُوٌّ)
 کہا جاتا ہے: "حَلِيٌّ فِي عَيْنِي وَ
 بَعِيْنِي" میری آنکھوں میں وہ بھلا
 معلوم ہوا۔ حَلَامْنَه بِخَيْرٍ
 کسی سے بھلائی وغیر پانا۔
 حَلَاةُ (ن) حَلُوًّا وَحُلُوَانًا۔
 کچھ یا سب مہر کی وصولی کی شرط
 پر اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرنا۔
 وحلاہ کذا ادبکذا۔ دینا
 کہتے ہیں۔ "حَلَاةُ حُلُوَانَه" اس
 نے اس کو عوض و بدلہ دیا۔
 (وَحَلِيٌّ، الشَّيْءُ (تَحْلِيَّةٌ)
 شیریں بنانا۔
 حَالِيٌّ۔ مُخَالَاتَةٌ۔ الرَّجُلُ نَوْمًا
 طبعی کرنا۔
 اَحْلَاةٌ۔ اِحْلَاءٌ۔ کسی شے کو میٹھا
 پانا یا کرنا۔ کہتے ہیں: مَا يَمْرُؤُ
 وَلَا يُحْلِيٌّ یعنی وہ کرومی بیٹھی
 کوئی بات نہیں کرتا۔ یا اچھا برا
 کوئی کام نہیں کرتا۔
 تَحَلَّتْ۔ الْمَوَاتَةُ۔ عورت کا زیور

پہننا۔ کہا جاتا ہے: تَحَلَّتْ فُلَانٌ
 بما لیس فیہ۔ یعنی فلاں نے
 خود کو ایسی چیزوں سے آراستہ
 کیا کہ جو اس کے اندر نہیں ہیں۔
 تَحَلَّتْ وَاحْلُوْلِيٌّ وَاسْتَحَلَّتْ۔
 الشَّيْءُ۔ کسی شے کو شیریں پانا۔
 وَاَحْلُوْلِيٌّ الشَّيْءُ۔ چیز کا
 میٹھا ہونا۔
 تَحَالِيٌّ۔ مٹھاس ظاہر کرنا۔
 اَحْلُوًّا مِثْلًا شَيْرِيْنٍ۔ خوش مزہ
 لذیذ۔ خوبصورت۔
 الحُلُوَانُ۔ دلال کا بہن کی اجرت۔
 عطیہ۔ مہر۔
 الحَلَاةُ وَالْحَلَاوَةُ وَالْحَلَاوَاءُ
 وَالْحَلَاوِيٌّ۔ مِنَ الْقَفَا
 گدی کا درمیانی حصہ۔ ج۔ حَلَاوِيٌّ
 الحَلُوَاءُ وَالْحَلُوِيٌّ۔ حَلُوًّا۔ میٹھا پھل۔
 ج۔ حَلَاوِيٌّ وَدَالْحَلُوَانِيٌّ)
 حلو بنانے والا یا بیچنے والا۔
 اَحْلُوٌّ۔ مِنَ الرَّجَالِ۔ دیکھنے میں
 اچھا لگنے والا۔
 اَحْلِيٌّ۔ لذیذ شیریں۔ نَاقَةٌ
 حَلِيَّةٌ۔ پوری حلاوت والی۔
 حَلِيٌّ (مض) حَلِيًّا۔ الْمَرْأَةُ۔
 عورت کے لیے زیور بنانا۔ عورت
 کو آراستہ کرنا۔ سَوَارِنَا۔
 حَلِيَّتُ (س) حَلِيًّا۔ الْمَرْأَةُ
 عورت کا زیور پہننا۔ صفت۔
 (حَالٍ وَحَالِيَّةٌ) ج۔ حَوَالٍ
 کہا جاتا ہے: شَجَرَةٌ حَالِيَّةٌ
 پتوں والا اور پھل وار درخت
 حَلِيٌّ مِنْهُ خَيْرًا۔ کسی سے خیر و
 منفعت پانا۔
 حَلِيٌّ تَحْلِيَّةٌ۔ الْمَرْأَةُ۔ عورت کو
 زیور پہنانا۔ یا اس کے لیے زیور

بنانا۔ وَحَلِيٌّ الشَّيْءُ۔ چیز کو
 زینت دینا۔
 تَحَلَّتْ۔ مَزِيْنٌ وَآرَاسْتَهُ هُوْنَا۔ زیور پہننا۔
 اَحْلِيٌّ۔ وَهْ بَحْنِيَاں جُو بَحُوں كُو مَن
 مِيں نكلتي هِيں۔
 اَحْلِيٌّ۔ ج۔ حَلِيٌّ وَحَلِيٌّ۔ وَر۔
 اَلْحَلِيَّةُ (ج۔ حَلِيٌّ وَحَلِيٌّ۔
 (خلاف قیاس) زیور۔
 حَلِيَّةُ الْاِنْسَانِ۔ انسان کا
 رنگ و روپ اور ظاہری شکل و
 صورت۔
 اَحْلِيٌّ۔ خَشَكٌ۔
 حَقْدُن، حَمْنَا۔ التَّنُوْسُ۔ تنور کو
 گرم کرنا۔ الشَّمْحَةُ۔ چربی
 پگھلانا۔ الْمَاءُ۔ پانی گرم کرنا
 ۔ اَلْاَسْمَحَالُ۔ کوچ جلدی
 کرنا۔ حَقْدَ اللّٰه لَه كَذَا۔
 مقدر کرنا۔ الْاَمْرُ فُلَانًا۔
 کسی کو غم میں ڈالنا۔ کہتے ہیں۔
 "حَقْدَ حَمْتَه" اس نے اس کی
 طرح قصد کیا۔
 حَقْدُ۔ الْاَمْرُ۔ کسی امر کا فیصلہ کیا
 جانا۔ الشَّيْءُ۔ قَرِيْبٌ هُوْنَا
 ۔ الرَّجُلُ۔ آدمی کا بخار میں
 مبتلا ہونا۔ لَه كَذَا۔ مقدر
 کیا جانا۔
 حَقْدُ (س) حَمْمًا۔ كَالا هُوْنَا۔ سیاہ
 ہونا۔ الْمَاءُ۔ پانی کا گرم ہونا۔
 حَمْمٌ۔ الْغَلَامُ۔ لَدَاكُ كَا
 سبزہ والا ہونا۔ الرَّاسُ۔ سر
 پر مونڈنے کے بعد بال نکلنا۔
 الْمَكَانُ۔ کسی جگہ پر سبزہ آگنا
 ۔ الشَّيْءُ۔ كَالَا كَرْنَا۔
 الْمَاءُ۔ گرم کرنا۔ الرَّجُلُ
 کسی کا کوئلہ سے مزہ کالا کرنا۔

المراة - عورت کو طلاق کے بعد
متعہ کے کپڑے دینا۔
آحَمَهُ - اللہ - بخار میں مبتلا کرنا۔
- آحَمَهُ الشَّيْءُ - قریب ہونا۔
- المکان - کسی جگہ بخار بہت
پھیل جانا۔ الماء - گرم کرنا
- اللہ له کذا - مقدر کرنا۔
- الشَّيْءُ - کالا کرنا۔
- الامرُ فلاناً - غم میں ڈالنا۔
تَحَمَّمَ - سیاہ ہونا۔
اِحْتَمَّ - فکر مند ہونا۔ غم کی وجہ سے
نیند نہ کرنا۔ العین - بغیر
درو کے بیدار رہنا۔
اِسْتَحَمَّ - پانی سے نہانا۔ حمام میں
داخل ہونا۔ پسینہ والا ہونا۔
الحَمَّ - مص - حَمَّ الظَّهيرة -
دوپہر کے وقت شدت کی گرمی۔
کہتے ہیں۔ "مالہ حَمَّ عن
ذَک اومنه" اس کے لیے
اس سے کوئی چارہ نہیں۔
حَمَّ الشَّيْءُ - و حَمَّه (چیز کا بڑا حصہ)
الحَثِي - بخار۔ ج۔ حَثِيَّات
الحَمَّة - گرم پانی کا چشمہ۔
الحُمَّة - سیاہی۔ سیاہی و سبزی
کے درمیان رنگ۔ بخار۔ مقدر
نہیں لکھی ہوئی اور فیصل شدہ چیز۔
اور - حَمَّةُ الفراق - اسی سے
کہتے ہیں "عجلت بنا دیکم
حُمَّةُ الفراق" یعنی تقدیر میں
لکھے ہوئے فراقی نے تمہاری
مجلس کے ساتھ جلدی کی۔ ج۔
حُمَّةٌ و حَمَامٌ -
الحَمَم - حُمَّة - کی جمع۔ کوئلہ۔ راکھ
آگ میں ملی ہوئی ہر شے۔ واحد
(حُمَّة)

الحَمَّة - موت۔ پسینہ۔
الحَمَام - کبوتر۔ واحد (حَمَامَةٌ)
کہا گیا ہے کہ حَمَامَةٌ مذکر و
مونت ہر دو کے لیے مستعمل ہوتا
ہے کیونکہ اس میں تاء تانیث کی
نہیں بلکہ وحدت کے لیے ہے۔
اور بہت دفعہ حمام کا اطلاق
مفرد پر بھی کرتے ہیں۔ ج۔
حَمَائِمٌ و حَمَامَاتٌ -
حَمَامُ الزَّاجِلِ او الزَّجَالِ -
نامہ بر کبوتر۔ ساق الحمام
ورعی الحمام۔ دو قسم کی گھاس
کے نام۔ بیض الحمام۔ ایک
بڑے دانہ والا انگور۔
عنق الحمام۔ ایک قسم کا رنگ
جو سرخ و نیلے رنگ کے بیچ میں
ہوتا ہے۔
الحَمَام - موت۔
الحَمَام - گھوڑوں کا بخار۔ تشریف سوار
الحَمَامِي - ایک قسم کی گھاس۔ چمڑے
کی سرخی۔
الحَمَام - حَمَام - یہ زیادہ تر مونت
ہی مستعمل ہے۔ ج۔ حَمَامَاتٌ -
الحَمَامِي - حمام کا ناک۔ حمام کا
نگہبان۔
الحَامَّة - انسان کے خاص لوگ
مثلاً اہل و عیال وغیرہ۔ عمدہ
اونٹ۔
الحَمِيم - قریبی عزیز و رشتہ دار۔
دوست۔ ج۔ اِحْتَاءٌ - گرم پانی۔
ٹھنڈا پانی۔ چنگاری جس سے دھوئی
دی جائے۔ ج۔ حَمَائِمٌ -
الحَمِيم - گرمی۔ پسینہ۔ سخت
گرمی کے بعد بارش۔ کہتے ہیں۔
"هو حَمِيمٌ بالحاجة" وہ اپنی

عاجت پر عاشق ہے۔
الحَمِيمَّة - حمیم کا مونت۔ گرم پانی۔
گرم دودھ۔ عمدہ نسلی اونٹ۔
الْأَحْم - بہت خاص۔ بہت قریبی۔
سیاہ۔ سفید (معد) پھل نہ
رکھنے والا تیر۔ ج۔ حَمَّ -
المَحْم - پانی گرم کرنے کا برتن۔
المُحْم - قریب۔ نزدیک۔
المَحَام - ثابت۔
المَحْمُوم - بخار والا۔ تقدیر میں لکھا ہوا۔
کہا جاتا ہے "نزل به القضاء
المحموم" اس پر قضائے مقدر
کا ظہور ہوا۔ جس طرح "القضاء
المحتوم" بولا جاتا ہے۔
المُسْتَحَم - نہانے کی جگہ۔
الْبَحْمُوم - سیاہ۔ دھواں۔
حَمًا - (ف) حَمًا - البئر - کنویں
سے کیچڑ نکالنا۔
حَبِي (س) حَمًا و حَمًا - الماء
پانی میں کیچڑ ملا ہوا ہونا۔ صفت
(حَبِي)
أَحْمًا - البئر - کنویں میں کیچڑ ڈالنا۔
الحَمُّ و الحَمَّ - والحَمُّ و الحَمَّا
بغیر ہمزہ کے۔ عورت کا خسر۔ دیور
بیٹھ وغیرہ۔
الحَمَّا و الحَمَّاة - کیچڑ۔
حَمِت (س) حَمَّتًا - الجعنة - وغیرہ۔
انخوٹ وغیرہ کا خواب ہونا۔
حَمَّتْ دك، حَمُوْتَةٌ - الجعنة -
دن کا بہت گرم ہونا۔
تَحَمَّتْ - اللون او الطعم -
رنگ یا مزہ کا صاف اور خالص ہونا
الحَمَّتْ - مص - یوم حَمَّتْ - سخت
گرم دن۔ تَبَدَّ حَمَّتْ و حَمَّتْ
نہایت شیریں کھجور۔

الْحَمِيْتُ - مِنَ اللّوْنِ اَوِ الطَّعْمِ
خالص و صاف رنگ یا مزہ۔
کتے ہیں۔ "تمزحمیت و غسل
حمیت" خوش رنگ کھجور۔
خالص شہد۔ غصب حمیت
سخت غصہ۔

حَمِيْتٌ - العَيْنُ - آنکھ کا گڑھے
میں بیٹھنا۔ حَمِيْتُ الوجْهِ
غصہ وغیرہ کی وجہ سے چہرہ کا
رنگ بدلنا۔

حَمِيْتٌ - اليَدُ - تیز نظر سے دیکھنا۔
عینہ۔ گھور کر دیکھنا۔
تَحَمُّمٌ وَ تَحَمُّمٌ - البردِوْنُ
اَوِ الفَرْسُ - گھوڑے کا ہنہانا
تَحَمُّمٌ - سیاہ ہونا۔

الْحَمَّاجِيْمُ - پودینہ۔ مفرد (حَمَّاجِمٌ)
الْحَمَّاجِيْمُ وَالْحَمَّاجِيْمُ - ایک قسم
کا پرندہ۔ گاؤزبان۔ واحد
(حَمَّاجِيْمَةٌ - يَا - حَمَّاجِيْمَةٌ)

حَمْدَةٌ (مِنْ) حَمْدًا اَوْ مَحْمَدًا اَوْ
مَحْمَدًا اَوْ مَحْمَدَةً اَوْ مَحْمَدَةً
تعریف کرنا۔ ہ علی الامر۔
بدلہ دینا۔ الشَّيْءُ - تعریف

والا ہونا۔ کہا جاتا ہے حمداتُ
اليكَ اللهُ - یعنی تمہارے ساتھ
اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ یا تمہارا
شکر یہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی
ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بھی
شکر بجالاتا ہوں۔

حَمْدٌ - اللهُ - خدا تعالیٰ کی بار بار
تعریف کرنا اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
زبان پر لانا۔

أَحْمَدٌ - قابل تعریف و ستائش کام
کرنا۔ الشَّيْءُ - لائق ستائش
ہونا۔ الشَّيْءُ - مستحق تعریف

پانا۔ کسی کے فضل پر
راضی ہونا۔ کسی کا مستحق تعریف
ظاہر ہونا۔

تَحَمَّدٌ - بالشَّيْءِ عَلٰى فُلَانٍ - کسی
پر احسان جتانا۔ کہا جاتا ہے۔

"انہ يتحمدا الناس بفضله"
یعنی لوگوں کے سامنے اپنا قابل
تعریف ہونا ظاہر کرتا ہے۔

الْحَمْدُ - مص - تعریف۔ تعریف کیا ہوا
کہا جاتا ہے۔ "رجلٌ حَمْدٌ و
امراةٌ حَمْدَةٌ" تعریف کیا ہوا
مرد اور تعریف کی ہوئی عورت۔

حَمَادٌ - لَمْ يَمْحِمْ حَمْدًا لِه - اس کا
شکر ادا کرتا ہوں۔

الْحَمَادُ - غایت۔ انتہائی کوشش۔

کہا جاتا ہے۔ "حمادك اَوْ
حمادك تفعل كذا"
تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ
تم ایسا کرو۔

الْحَمَادُ وَالْحَمْدَةُ - بہت تعریف
کرنے والا۔

الْمَحْمَدَةُ - قابل تعریف کام۔ ج
مَحَامِدٌ -

الْمَحْمَدُ - بہت عمدہ خصلتوں والا۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف۔

الْحَمِيْدُ وَالْحَمِيْدُ - تعریف کرنے
والا۔ تعریف کیا ہوا۔ مؤنث
(حميدة)۔

حَمْدَانٌ حَمْدًا - کھال کھریا۔
الشَّاقَةُ - بکری کی کھال اتارنا۔

الرَّاسُ - سر موٹنا۔
حَمْرٌ (س) حَمْرًا - الفرسُ

گھوڑے کا بد معنی والا ہونا۔ بد بو دار
منہ والا ہونا۔ صفت (حمر)

الرجلُ - آدمی کا غصہ سے

بہتر اک اٹھنا۔
حَمْرٌ - الجِلْدُ - چمڑے کو خراب
رنگنا۔ الشَّيْءُ - کسی چیز کو
سرخ رنگ سے رنگنا۔ کسی
کو گدھا کہنا۔

أَحْمَرٌ - سرخ بچہ والا ہونا۔
الدابةُ - جانور کو چارہ دینا۔
یہا تک کہ منہ بد بو دار ہو جائے۔

أَحْمَرٌ - أَحْمَرًا سَا - سرخ ہونا۔
أَحْمَرًا أَحْمَرًا - بتدریج سرخ ہونا۔

أَحْمَرٌ - ما على الجلد - کھر چا جانا۔
الْحَمْرُ - ایک قسم کی رال جس کو عام
لوگ الحَمْرُ - کہتے ہیں۔ (۔)

والْحَمْرُ - ایک سرخ رنگ کا پرند
واحد (حَمْرَةٌ وَ حَمْرَةٌ)

الْحَمْرَةُ - سرخ رنگ۔ ایک قسم کی
وبائی بیماری جس میں بخار آتا ہے
اور بدن پر سرخ رنگ کے دانے
پیدا ہو جاتے ہیں۔

حشيشة الحمرة - ایک قسم کا
زہریلا پودا۔

الْحِمَارُ - گدھا۔ یہ اہلی (پالتو) بھی ہوتا
ہے اور وحشی جنگلی بھی۔ اسی لیے
جنگلی کو حمار وحش اور حمار
الوحش اور الحمار الوحشی
کہتے ہیں۔ ج حَمِيرٌ وَ أَحْمِيرَةٌ -
وَحْمُرٌ وَ حَمُورٌ وَ حَمْرَاتٌ
مؤنث حَمَارَةٌ - ج حَمَائِرٌ -

حجارة القدم - پشت قدم
— اذن الحمار و قعاء الحمار
ایک قسم کے دوپوے —
حمار الزرد - جنگلی سفید رنگ
سفید دھاریوں والا گدھا۔

الْحَمَارَةُ - گرمی کی تیزی۔ ج۔ حَمَارٌ -
الْحَمَارَةُ - گدھے والے واحد حَمَارٌ -

حَمَارَةُ القَدَمِ - پشت قدم
— اذن الحمار و قعاء الحمار
ایک قسم کے دوپوے —
حمار الزرد - جنگلی سفید رنگ
سفید دھاریوں والا گدھا۔

الْحَمَارَةُ - گرمی کی تیزی۔ ج۔ حَمَارٌ -
الْحَمَارَةُ - گدھے والے واحد حَمَارٌ -

حَمَارَةُ القَدَمِ - پشت قدم
— اذن الحمار و قعاء الحمار
ایک قسم کے دوپوے —
حمار الزرد - جنگلی سفید رنگ
سفید دھاریوں والا گدھا۔

الْحَمَارَةُ - گرمی کی تیزی۔ ج۔ حَمَارٌ -
الْحَمَارَةُ - گدھے والے واحد حَمَارٌ -

حَمَارَةُ القَدَمِ - پشت قدم
— اذن الحمار و قعاء الحمار
ایک قسم کے دوپوے —
حمار الزرد - جنگلی سفید رنگ
سفید دھاریوں والا گدھا۔

الْحَمَارَةُ - گرمی کی تیزی۔ ج۔ حَمَارٌ -
الْحَمَارَةُ - گدھے والے واحد حَمَارٌ -

<p>وسنُون آحَامِس . بہت سے سخت سال . سخت الحُمس . سخت جگہیں . الحَمِيس . بہادر . سخت . تنور . الحَمِيسَة . بھونا ہوا . حَمَشَة (ن) حَمَشًا . غضبناک کرنا جوش دلانا . حَمَشٌ - الشَّج - جمع کرنا - القوم - غصہ سے چلانا . حَمَشَت (ض) و حَمَشَت (ك) حَمُوشَةٌ - الساق پتلی کا باریک ہونا . حَمَش (ض) حَمَشًا و حَمَشَةٌ و تَحَمَش و اَحْمَش - و اسْتَحَمَش . غضبناک ہونا . حَمِش (س) حَمَشًا و حَمَشًا - الرجل - آدمی کا باریک پتلیوں والا ہونا - صفت (حَمَش و حَمِش و اَحْمَش) ج - حَمَش و حَمَش - کہا جاتا ہے "رجال حَمَش السُّوق" باریک پتلیوں والے لوگ . - و سوق حَمَش - باریک پتلیاں . حَمَشَة - غصہ دلانا . جوش دلانا . حَمَش الشَّج - جمع کرنا . الشَّج - چربی کو اس قدر پگھلانا کہ جلنے کے قریب ہو جائے . اَحْمَشَة - غضبناک کرنا - اَحْمَش النَّاس - آگ میں ایندھن ڈال کر اس کو بھڑکانا - القدر - ہانڈی کے نیچے بہت ایندھن لگانا . یہاں تک کہ ہانڈی جوش میں آجائے - الحرب - جنگ بھڑکانا</p>	<p>رائی کا زبان میں چرپراہٹ پیدا کرنا - الشَّفرة - پھری کو تیز کرنا . حَمَز (ك) حَمَازَةٌ - سخت ہونا . - الشَّرَاب - چرپراہٹ ڈالنے والی ہونا . الحَامِز - فَا - حَامِزُ الفُؤاد جوش مزاج خوش طبع . تیز فہم . الحَمِيز - سخت . ذکی . تیز فہم . ظریف . حَمَسَة (ض) حَمَسًا . مذہب یا لڑائی میں مضبوط ہونا . دلیر ہونا . صفت (حَمِيس) - حَمِيس الوعی - گھسان کی لڑائی ہونا . - الامر - کسی امر کا سخت ہونا . حَمَسَة (ض) حَمَسًا . غضبناک کرنا - اللحم گوشت بھونا حَمِيس (ك) حَمَاسَةٌ و حَمِيس (ض) حَمَسًا دلیر و بہادر ہونا . حَمَسَة و اَحْمَسَة - جوش دلانا . غضبناک کرنا - الدواء ونحوہ - دوا وغیرہ کو نیم گرم کرنا . تَحَمَس - جوش میں آنا . غضبناک ہونا . نافرمانی کرنا . سخت کرنا . اَحْمَس - جوش میں آنا . اَحْمَس القونان - باہم جنگ قتال کرنا . تَحَاصَس - القوم - ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا . الحَمَاس - سختی . ممانعت . جنگ . الحَمَاسَة - معاملہ میں سختی . بہادری . الأحمس - مذہب و جنگ میں سخت بہادر . مؤثر حَمَسَاء - ج حَمِيس و آحَامِس - سنة حَمَسَاء - سخت سال</p>	<p>حَمِيس جَمَال بَقَال - دوغلا گھوڑا . الأحمس - سرخ رنگ والا . ج . آحَامِس - سرخ رنگ میں رنگا ہوا . ج . حَمِر و حَمَرَان - سونا . زعفران . گوشت . شراب . کہتے ہیں "نحن من اهل الاسودين لا من اهل الاحمرين" یعنی ہم کھجور و پانی والے ہیں نہ گوشت و شراب والے - الموت الاحمر - قتل . خوزیزی . یا سخت موت سے کنا یہ ہے . الحَمَرَاء - الأحمس کا مؤثر . سخت سال . گرمی کی تیزی . الحَمَرَاء یا - القلعة الحَمَرَاء . غزناہ کا ایک مشہور تاریخی یادگار قلعہ جس کے اندر ایک عجیب الصنعت محل ہے . الحَمَرَاء - تین لکڑیاں ، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر اس پر دودھ کا مشکیزہ یا پانی کی صراحی وغیرہ رکھتے ہیں . اور اس کو الحَمَائِر بھی کہتے ہیں . الأحمروی - بہت سرخ . الحَمِر - گرمی کی سخت تیزی . بُرا شخص - غَيْث حَمِرٌ - ایسی تیز بارش جو زمین کو پھیل ڈالے . الحَمِرَة - ایک پندہ . الحَمِر - چمڑا چھیننے کا آلہ . کتبوس آدمی . ج . حَمَور - الحَمِر - دوغلا گھوڑا . الحَمُور سرخ . ایک قسم کا پندہ . بعض کے نزدیک جنگلی گدھا . دگور خر ، حَمُور (ض) حَمْرًا - الخذل اللسان</p>
---	--	---

<p>حَمَطَه (ض) حَمَطًا. چمکا اتارنا۔ حَمَطٌ۔ الکرہ۔ انکور پر درخت سے سایہ کرنا۔ النقی۔ چھوٹا کرنا۔ الرجل۔ کسی کو خفیف سا مارنا۔ اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے۔ "إِذَا ضَرَبْتَ فَلَا تَحِطُّ" جب مارو تو اچھی طرح مارو۔ کیونکہ کم مارنا ادب نہیں دیتا۔ الْحَمَاطَةُ۔ حلق میں سوزش و جلن۔ انجیر سے مشابہ ایک درخت۔ دل کا لفظ۔ بعض کے نزدیک دل کا خون۔ ج حَمَاطٌ وَحَمَائِطٌ۔ حَمِيقٌ (س) وَحَمِيقٌ (ك) حَمِيقًا۔ وَحَمِيقًا وَحَمَاقَةٌ۔ بیوقوف ہونا۔ صفت (دَاحِمِيقٌ) مؤنث حَمِيقًا۔ ج۔ حَمِيقٌ وَحَمِيقٌ وَحَمَاقٌ وَحَمَاقٌ۔ حَمِيقَةٌ۔ کسی کو بیوقوف کرنا۔ أَحْمِيقَةٌ۔ کسی کو احمق پانا۔ احمق المراة۔ عورت کا بے وقوف بچہ جننا۔ صفت (حَمِيقٌ وَحَمِيقَةٌ) حَامِقَةٌ۔ بیوقوفی پر مدد دینا۔ تَحَامِقٌ وَتَحَمِيقٌ۔ تکلف احمق بنا۔ إِنْحَمِقٌ۔ بیوقوف ہونا۔ السوق بازار کا ٹنڈا پڑنا۔ الثوب کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ إِسْتَحَمِقٌ۔ بیوقوف ہونا۔ ہ کسی کو بیوقوف شمار کرنا۔ الْحَمِيقُ۔ مص۔ عقل کی کمی اور خرابی بیوقوفی۔ خراب۔ نومة الحَمِيقِ۔ ظہر کے بعد کی نیند۔ الحَمِيقُ۔ بیوقوف۔ کم وارسی والا۔</p>	<p>ٹمکین اور کڑوے درختوں والی ہونا صفت۔ (مُحَمِصٌ) تَحَمِصٌ۔ الرجل۔ کسی کا ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا۔ الْحَامِصُ۔ فا۔ کہا جاتا ہے: هُوَ حَامِصٌ الْفَوَادِ۔ وہ بگڑے ہوئے اور خراب دل کا آدمی ہے۔ "وَحَامِصٌ الرَّئِيسُ"۔ کڑوے سانس والا۔ الْحَامِصَةُ۔ الحَامِصُ کا مؤنث۔ کسی چیز کی خواہش۔ معدہ میں کسی چیز کا خراب و فاسد ہو جانا۔ الْحَمِصُ۔ ٹمکین و تلخ پودا۔ واحد (حَمِصَةٌ) ج۔ حَمُوصٌ۔ الْحَمِصَةُ۔ کھانے کی خواہش۔ کہا جاتا ہے: فَوَادِ حَمِصٌ وَ نَفْسٌ حَمِصَةٌ۔ یعنی سنتے ہی کسی چیز سے نفرت کرنے والا دل یا نفس۔ الْحَمَاصُ۔ کاسنی سے مشابہ تپے رکھنے والی ایک گھاس۔ یہ ترش بھی ہوتی ہے اور کڑوی بھی۔ اس کو حَمِصَةٌ۔ بھی کہتے ہیں۔ واحد (حَمَاصَةٌ) حَمَاصُ الْكَبَّادِ۔ اترنج کا گودا۔ الإِحْمَاصُ۔ مص۔ پسندیدہ بات میں لگنا۔ دل چسپی کی گفتگو چھیڑنا۔ سختی کی چھوڑ کر تسخر کی طرف منتقل ہونا۔ الْحَمِصَةُ۔ ج حَمِصٌ وَرَا الْحَمِصِ وَإِلْحَمِصٌ، ٹمکین و کڑوے پودے بکثرت اگانے والی زمین۔ المُسْتَحَمِصُ۔ من اللبن۔ دیر میں بننے والا دودھ۔</p>	<p>الْحَمِيشُ۔ پگھلی ہوئی چسپنی۔ حَمِصٌ (ن) حَمِصًا وَحَمُوصًا۔ الْبَجْرُحُ۔ زخم کی سوجن اترنا۔ صفت (حَمِيصٌ)۔ الْوَرْمُ۔ ورم اترنا۔ الأَرْجُوْحَةُ۔ جھولے کا ٹھہر جانا۔ الدابة۔ جانور کا پسینہ سوکھ جانا۔ حَمِصٌ۔ الحَبْدُ۔ دانہ بھوننا۔ تَحَمِصٌ۔ الرجلُ۔ سمٹنا۔ اللحمُ۔ گوشت کا خشک ہونا۔ إِنْحَمِصٌ۔ الورْمُ ورم کم ہونا منہ۔ سکرنا۔ لاغر ہونا۔ الجَمِصُ وَالْحَمِصُ۔ چنا۔ واحد (حَمِصَةٌ وَحَمِصَةٌ) الْحَمِيصُ۔ بھوننا ہوا۔ المَحْمِصَةُ۔ دانے وغیرہ بھوننے کا آلہ۔ ہ۔ (لغت عوام) حَمِصٌ (ض) حَمِصًا۔ حَمِيصٌ (س) حَمِصًا وَحَمِصٌ (ك) حَمُوصَةٌ۔ کٹا ہونا۔ حَمِصٌ (ن) حَمِصًا۔ عنده۔ ناپسند کرنا۔ بد۔ خواہش کرنا و۔ وَأَحْمِصٌ وَحَمِصٌ الجمالُ۔ اونٹ کا ٹمکین و کڑوے پودے چرنا۔ حَمِصٌ وَأَحْمِصٌ۔ الابل۔ اونٹ کو ٹمکین و کڑوے پودے کھلانا۔ چرانا۔ کہا جاتا ہے۔ "حَمِصٌ لِنَارِي الْقَرِي"۔ س نے ہماری تھوڑی مہمانی کی۔ حَمِصٌ وَأَحْمِصٌ۔ الشئُ۔ کٹا کرنا۔ الشئُ عنده۔ پھیر دینا أَدْمَتِ۔ مکان۔ کسی جگہ کا بہت</p>
--	--	--

الْحَمَاقُ وَالْحَمَاقُ وَالْحَمِيقُ
والْحَمِيقِيُّ وَالْحَمِيقَاءُ -
پچھک کے مشابہ ایک بیماری۔
آکڑا کا کڑا۔
الْبَقْلَةُ الْحَمَقَاءُ وَبَقْلَةُ الْحَمَقَاءِ
خرفہ کا ساگ۔
الْحَمُوقَةُ وَالْحَمِيقَةُ وَالْأَحْمُوقَةُ -
بہت بیوقوف۔
الْمَحْمِقَاتُ - وہ راتیں جن میں اول سے
آخر تک چاندنی رہے۔
حَمَلٌ (مَنْ) حَمَلًا وَحُمَلَانًا -
الشَّيْءَ عَلَى ظَهْرِهِ - کسی شے کو
اپنی پیٹھ پر اٹھانا - الْعَضْبُ
غصہ ظاہر کرنا - عَلَى نَفْسِهِ
فی السَّيْرِ - چلنے میں مشقت
برداشت کرنا۔
حَمَلَهُ - عَلَى الْأَمْرِ - کسی کو کسی کام پر
بھڑکانا۔ اَكْسَانًا - حمل عنده
بروبار ہونا - الشَّيْءَ عَلَى الْآخِرِ
ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگانا۔
- الْمَرْأَةُ - عورت کا عامل
ہونا - الشَّجَرَةُ - درخت کا
بار آور ہونا - الْقُرْآنَ - قرآن
حفظ کرنا - الْعِلْمَ - روایت
کرنا۔ (حَمَلَةٌ) فِي
الْحَرْبِ عَلَيْهِمْ - حملہ آور ہونا۔
(حَمَالَةٌ) بِهِ - کسی چیز
کا ضامن ہونا۔ دَمَمٌ وَارٍ هُونًا -
حَمَلَهُ وَأَحْمَلَهُ - الْجَمَلُ - بوجھ
اٹھانے میں کسی کی مدد کرنا۔
حَمَلَهُ تَحْمِيلًا وَحَمَالًا - الشَّيْءَ -
اٹھوانا۔
تَحَمَّلَهُ تَحْمَلًا وَتَحْمَالًا - اٹھانا۔
- الْأَمْرَ - برواشت کرنا
- الْقَوْمَ - کوچ کرنا -

الرَّجُلُ - بہادر بننا۔
تَحَامَلٌ - فِي الْأَمْرِ وَبِالْأَمْرِ -
تکلیف دہ بات اپنے ذمہ لینا۔
- عَلَى فُلَانٍ - کسی پر ظلم کرنا
اور برواشت سے نائد کام کی
تکلیف دینا - عَنْهُ - اعراض
کرنا - الْيَدَ - متوجہ ہونا۔
- الشَّيْءَ فِي مَشِيْدِهِ - چلنے
میں گراں بار ہونا - عَلَى
نَفْسِهِ - باوجود مشقت کے
برداشت کرنا۔
إِنْ حَمَلَ - عَلَيْهِ - اِكْسَا يَجَانَا
إِحْتَمَلٌ - الشَّيْءَ - اٹھانا -
الْأَمْرَ - کسی امر کو صبر سے
برداشت کرنا - مَا كَانَ
مِنْهُ - معاف کرنا۔ دَرَكٌ كَرْنَا -
چشم پوشی کرنا - الْمَصْنُوعَةَ
کسی نیک سلوک پر شکر یہ ادا کرنا۔
أَحْتَمِلُ - غَضَبِنَاكَ هُونًا -
تُونَهُ - رنگ بدلنا۔
اسْتَحْتَمَلٌ - اٹھانے پر قادر ہونا -
فُلَانًا - اٹھانے کے لیے کہنا۔
الْحَمْلُ - پیٹ کا بچہ۔ دَرَخْتُ كَالْجَمَلِ
بِحَمَلٍ - جَمَالٌ وَأَحْمَالٌ وَحُمُولٌ -
الْحَمْلُ بوجھ - بار - جَمَلٌ وَ
حُمُولَةٌ - الْجَمَلُ - بوجھ یا
ہودج والے اونٹ - وَاحِدٌ
رَالْحَمُولِ،
الْحَمَلُ - بکری کا بچہ۔ جَمَلَانٌ
وَأَحْمَالٌ - بہت پانی والا بادل۔
موسم بہار کے برسوں میں سے
ایک برج - لِسَانُ الْجَمَلِ -
پارتنگ۔
الْحَمَلَةُ - معن - ایک دفعہ کا بوجھ۔
رَوَانِي كَالْحَمَلِ

الْحَمَلَةُ وَالْحَمَلَةُ - ایک جگہ سے
دوسری جگہ منتقل ہونا۔
الْحَامِلُ - فَا - جَمَلَةٌ - حَمَلَةٌ
الْقُرْآنَ - قرآن کو حفظ کرنے والے
اور اس کی روایت کرنے والے۔
مُوْتٌ حَامِلَةٌ - امواتہ حَامِلَةٌ
وَحَامِلَةٌ - پیٹ والی عورت - جَمَلٌ
حَوَامِلٌ -
الْحَامِلَةُ - انگور وغیرہ اٹھانے کی ٹوکری۔
- الْحَوَامِلُ - قدم ہاتھ - اور
قدم کے پٹے۔
الْحَمَالُ - دیت - تاوان - ٹیکس - جَمَلٌ
حَمَلٌ -
الْحَمَالَةُ - ضمانت - دیت - تاوان -
الْحَمَالَةُ وَالْحَمِيْلَةُ - جَمَلٌ - حَمَالٌ -
(مَنْ) الْمَحْمَلُ - جَمَلٌ - حَمَالٌ -
- عِلَاقَةُ السَّيْفِ - تلوار کی پیٹی۔
کہتے ہیں - هُوَ حَمِيْلُهُ عَلَيْنَا - وہ
ہم پر بار ہے۔
الْحَمَالَةُ - مزور کا پیشہ۔
الْحَمَالُ - قَلِيٌّ - مزور۔ بوجھ اٹھانے
والا۔ عام لوگ اس کو حَمَالٌ
کہتے ہیں۔ الْحَمَالُ - جَمَلَانٌ -
کتابوں اور اوراق وغیرہ کٹنے کا
پتیلہ، اس کے لیے فصیح لفظ
الْقَمَطَرُ ہے۔
الْحَمُولُ - ماہر ہونے والا۔ حَمُولٌ
الْبَحْرِ - سمندر کی نجات۔
الْحَمُولَةُ - بار بردار جانور۔ جَمَلٌ -
حَمُولَاتٌ -
الْحَمْلَانُ - بہرہ کیا ہوا بار برداری کا جانور
مزور کی اجرت۔
الْحَبِيْلُ - اٹھایا ہوا۔ اجنبی۔ ضامن۔
پیٹ کا بچہ۔ سبیلاب کا لایا ہوا
کوڑا کرکٹ۔ پھینکا ہوا بچہ، جس

سخت اندھیری رات - تاریکی -
 اندھیری - ج - حَنَادِس
 الحَنَادِس - ہر ماہ کی تین آخری
 تاریک راتیں -
 الحِنْدَ قُوْق - والحِنْدَ قُوْق
 والحِنْدَ قُوْق والحِنْدَ قُوْق
 ایک قسم کی گھاس یا سبزی کا نام
 ہے - ایک پاگل سادراز قامت
 آدمی -
 حَنْدَ (ض) حَنْدًا و زَمَكًا ذَا -
 اللحم - گوشت ہونا - پکانا
 صفت مفعولی - (حَنِيدًا)
 (حَنْدًا و حِنَادًا) -
 الفرس - گھوڑے کو پسینہ لانے
 کے لیے دوڑانا - صفت مفعولی -
 (مَحْنُوذٌ و حَنِيدٌ) -
 حَنْدَاتُهُ الشَّمْسُ - سورج کا کسی
 کو بھلس دینا -
 أَحْنَدَ - شراب میں زیادہ یا تھوڑا پانی
 ملانا - اللحم - گوشت کو پکانا -
 اسْتَحْنَدَ - دھوپ میں لیٹ کر پسینہ
 لانا -
 الحَنْدَةَ - سخت حرارت -
 حَنَادٌ - مٹی علی الکسر - سورج -
 الحَنِيدَ - گرم پانی - بھونا ہوا گوشت -
 سرد ہونے کی خوشبو دار چیز -
 الحِنْدِيْدُ - بہت پسینہ والا -
 حَنْدَ (ض) حَنْوًا - الحَنِيرَةُ
 محراب بنانا - دیوار میں خمدار جگہ بنانا -
 الحَنِيرَةُ - محراب - طاق میں خمدار جگہ -
 کمان - دھنیے کی کمان - ہر خمدار و
 ٹیڑھی چیز ج - حَنِيرٌ و حَنَائِدٌ -
 حَنِسَ (س) حَنْسًا - وسط مورکب میں
 ہادی سے ڈٹے رہنا -
 الحُنْسُ - خدا پرست - پرہیزگار لوگ -

حَنْقَهُ (ض) حَنْقًا - بٹانا - علیحدہ کرنا
 غصباتک کرنا - الصبَدَ -
 شکار کرنا - حَنْقَتِ الحِيَةَ فُلَانًا -
 سانپ کا کسی کو ڈسنا -
 أَحْنَشَهُ - شکار کرنا - عن الامر
 جلدی کرانا -
 الحَنْشُ - سانپ کی ایک قسم - ہر وہ
 جانور جس کا سر سانپ کے مشابہ
 ہو - مثلاً گرگٹ - چھپکلی وغیرہ - ج
 أَحْنَشُ و حَنْشَانٌ -
 حَنْطَانٌ (حَنْوَطًا و أَحْنَطًا -
 الزسغ - کھیتی کا کٹائی کے قابل
 ہونا - الشجر - درخت کے
 پھل پکانا -
 حَنْطَ (ض) حَنْطًا - الجِلْدُ - چڑے
 کا سرخ ہونا - صفت - (حَانِطٌ)
 حَنْطٌ و أَحْنَطٌ - المیت -
 مردہ کے خوشبو لگانا -
 تَحْنَطُ - مردہ پر خوشبو ملنا -
 اسْتَحْنَطُ - مرنے پر دلیری دکھانا -
 الحَانِطُ - فا - بہت گیہوں والا گیہوں
 والا پکے ہوئے پھل والا درخت -
 احمر حانط - گرا سرخ -
 الحِنْطَةُ - گیہوں - ج - حِنْطٌ -
 الحِنْطِيُّ - بہت گیہوں کھانے والا -
 پھولا ہوا -
 الأَحْنَطُ - بڑی اور گنی دار طبی والا -
 الحِنَاطَةُ - گیہوں بیچنے کا پیشہ - مردوں
 پر خوشبو لگانے کا پیشہ -
 الحِنَاطُ - مردوں پر حنوط لگانے والا -
 (و الحِنَاطِيُّ) گندم فروش -
 الحِنَاطُ و الحِنَوَطُ - ایک مرکب
 خوشبو جو مردوں کے جسم اور کفن
 پر لگائی جاتی ہے -
 الحِنْطِيُّ - پست قد -

الحِنْطِيُّ - وہ شخص جس کی خوراک گیہوں پر
 الحِنْطُ و الحِنْطَاوَةُ - بڑے سپٹ
 والا - پست قد -
 الحِنْطَبَاءُ و الحِنْطَبَاءُ - نر ٹڈی
 نر گبریلا -
 الحِنْطُوبُ - موٹی اور بھری عورت -
 الحِنْطَابُ - بد خو - پست قد -
 الحِنْطَلُ اندرائیں - اس کی تلخی
 مزہ مثل ہے -
 حَنْطَلَتِ - الشجرة - درخت کے
 پھل کا کڑوا ہوجانا -
 حَنْفَ (ض) حَنْفًا - جھکنا -
 رجله - پاؤں ٹیڑھا کرنا -
 حَنْفَ (س) حَنْفًا و حَنْفَ (ك)
 حَنْفَةً - ٹیڑھے پاؤں والا ہونا -
 صفت (أَحْفَ) مؤنث
 حَنْفَاءٌ -
 حَنْفَهُ - ٹیڑھے پاؤں والا کر دینا -
 تَحْنَفُ - حنفی ہونا - یا حنفی کا کام کرنا -
 کہتے ہیں - شافعی تَحْنَفُ شافعی
 حنفی ہو گیا - الیہ - مائل ہونا -
 الحَنْفَاءُ - کمان - اُسترو - گرگٹ - کچھوا -
 الحَنِيفُ - سیدھا - اسلامی احکام پر
 عمل پیرا - ہر وہ شخص جو دین ابراہیمی
 پر قائم ہو موصد - ج - حَنْفَاءٌ -
 الحَنِيفِيُّ - مذہب امام ابو حنیفہ رح کا
 پیرو - حنفی المذہب - ج - أَحْفَانُ
 و حَنْفِيَّةٌ -
 الحَنِيفِيَّةُ - فی الاسلام والادین -
 اسلام کی طرف میلان اور دین کے
 ساتھ تمسک -
 الحِنْفِشُ و الحِنْفِيشُ - ایک قسم کا
 زہریلا سانپ موٹے سرا اور باریک
 گردن والا - یہ جب غصہ میں آتا ہے
 گردن کی رگیں پھلا لیتا ہے - ج

آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید اور سیاہی کا بہت سیاہ ہونا۔
 صفت (حوراء) آنکھ والا۔
 (أخوَد) ج۔ حوس۔
 حوس۔ القوس۔ روئی کو بیلین سے پلنا۔ الثوب کپڑے کو سفید کرنا۔ ءالله۔ محروم کرنا حاورۃ محاورۃ وحوارۃ وحوارۃ۔ گفتگو کرنا۔ جواب دینا۔
 آحاد۔ إحادۃ۔ الجواب۔ جواب دینا اور اسی سے ہے۔
 یخرجواہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور کہا جاتا ہے۔ تطننت الطاحنۃ فما آحارت۔ چکی پیسنے والی نے چکی پیسی اور آٹا کچھ بھی نہیں دیا۔ آحارت الناقۃ اورٹنی کا کچھ والی ہونا۔ آحار البعید۔ اورٹ کو ذبح کرنا۔
 تحاور۔ القوم۔ ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کو جواب دینا۔
 إحوۃ۔ إحواراً۔ سفید ہونا۔
 احوۃ العین یعنی حورۃ آنکھ کا بہت سیاہی اور سفیدی والی ہونا۔
 استخارۃ۔ گفتگو کرنا۔
 الحوس۔ بلاکت۔ کسی نقصان۔ کہا جاتا ہے۔ "إنه فی حویہ و بویہ" وہ نہ کسی صنعت ہی میں ہے اور نہ کسی آمدنی میں۔
 الحور۔ گہرائی۔ تہہ۔ کہتے ہیں۔
 "بعید الحورۃ یعنی عقلمند و ما أصبت حوراً" میں نے کچھ نہیں پایا۔
 الحوس۔ مس۔ سفید پتے چڑے۔

سے رنگا ہوا چمڑا۔ گائے۔ چنار کا درخت۔ ج۔ آخوار۔
 الحوار والحوار۔ اونٹنی کا وہ بچہ جس کا دودھ ابھی نہ چھڑایا گیا ہو۔
 ج۔ آخوۃ و حیوان۔
 الحارۃ۔ گول چوک۔ شہر کا محلہ۔ کہا جاتا ہے۔ "ندلنا فی حارۃ بنی فلان" ہم بنو فلان کے محلہ میں فروکش ہوئے۔
 الحائر۔ فا۔ لاغر۔ وبلا۔
 الحائرۃ۔ الحائر کا مؤنث۔ ما هو الا حائرۃ من الحوارۃ۔ یعنی اس میں کوئی غیر و بھلائی نہیں۔
 الاخوۃ۔ سفید۔ نرم۔ ملائم۔
 الحوارۃ۔ سفید آٹا۔ کھرا مٹی۔ ہر سفید کرنے والی چیز۔
 الحوارۃ۔ نصیحت کرنے والا۔ و حوری رشتہ دار۔ مددگار۔ بعض کے نزدیک خاص البیار کے مددگار۔ اور اسی سے ہے۔ "الحوار یون" یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے مددگار و انصار۔
 الحوارۃ۔ الحوارۃ کا مؤنث۔ شہری عورت۔ ج۔ حوارۃ۔
 الحوس۔ چرخ کی چمڑا۔ وہ لکڑی یا لوہا جس پر چرخ گھومتی ہے۔ علم ہندسہ کی اصطلاح میں گہرے دونوں قطبوں کے ملانے والا سیدھا خط۔
 الحوس۔ روئی پکانے والے کابیلین۔ ہر وہ ٹکڑا جس پر کوئی چیز گھومے۔ ج۔ محاور۔ کہا جاتا ہے۔ "فلقت محاورۃ" یعنی اس کا معاملہ بگڑ گیا۔
 الحارۃ۔ واپسی کی۔ واپسی کی جگہ۔

کی ہم شکل ہڈی۔ و حارۃ الاذن کان کا گڑھا۔
 الحورۃ و الحورۃ۔ ہواب۔
 حفت (حوس) وہ موزہ جس کا استر سرخ چمڑے کا ہو۔
 حازدن حونا و حیارۃ و اختار۔
 إختیاراً۔ الشیء۔ اکتلی کرنا جمع کرنا۔ اپنے لیے مخصوص کرنا۔
 الابل۔ اورٹ کو نرمی سے ہانکنا (حاز حوزاً) الرجل آدمی کا آہستہ چال سے چلنا۔
 حوز۔ تحویناً۔ الابل۔ لیلۃ الحوض میں اورٹوں کو پانی کی طرف ہانکنا۔
 حاورۃ محاورۃ۔ سنگ سادہ۔ زندگی گزارنا۔ آپس میں میل ملاپ رکھنا۔ پاؤں سے ہانکنا۔ و حکارنا تحوس۔ کفارہ کش ہونا۔ علیحدہ ہونا۔
 الحیمۃ۔ سانپ کا کٹھن مارنا۔ کہا جاتا ہے۔ "دخل علیہ فما تحوّد لنا" وہ اس کے پاس آیا اور اس کے لیے علیحدہ نہیں ہوا۔
 تحاورتاً۔ الفریقان۔ دو فریقوں کا ایک دوسرے سے جھگڑنا۔
 الحارۃ الحارۃ۔ حنہ۔ کسی سے پھر جانا۔ ہٹ جانا۔ الیہ۔ قائل ہونا۔ القوم۔ قوم کا مرکز کو چھوڑ دینا۔ پسپا ہونا۔
 نسبت کھانا۔
 الحورۃ۔ کنارہ۔ طبیعت۔
 حوزۃ المملکۃ۔ سرحدوں کے مابین وسطی حصہ۔ ملک کا دارالخلافہ۔
 الحوز۔ ہمارے دیواری سے محفوظ کی ہوئی جگہ۔ حوز البدار۔ مکان

<p>میں سے لینا۔ اِحْتَوَشَ - القوم الصيد - شکار کو ایک کا دوسرے کی طرف بدکانا۔ بھگانا۔ اِحْتَوَشَ القوم الرجل وعلیه۔ قوم کا کسی کو گھیر کر اپنے درمیان میں لے لینا۔ الحَوْش - بارہ گھر کے ارد گرد کا صحن۔ الحَوَاشِيَّة - شرم و حیا کا سبب۔ رشتہ داری۔ الحَالِش - فا - حَائِشُ الشَّجَرِ - درخت کا گنجان اور گنا حصہ۔ - رجلٌ (حَوْشٌ) الفَوَادِ - تیز فہم آدمی۔ الحَوَيْثِي - من الكلام - نادر، اور غریب کلام۔ رجلٌ حَوَيْثِي - تنہائی پسند آدمی۔ لیلٌ حَوَيْثِي تاریک رات۔ حَاصٌ (ن) حَوْصًا ورجبًا نَسَةٌ - الثوب - کپڑے سینے میں دور دور ٹانگے لگانا۔ حَوْلَهُ - ارد گرد پھرنے۔ بینھما۔ تنگ کرنا حَوْصٌ (س) حَوْصًا - دنہا لہ چٹم کا تنگ ہونا۔ آنکھ کا پھلا حصہ تنگ ہونا۔ صفت (أَحْوَص) مؤنث حَوْصَاء - ج حَوْصٌ و أَحَادِص - حَاوِصَةٌ - آنکھ کے پھلے گوشے سے معنی دیکھنا۔ اِحْتَاَصَ اِحْتِيَاصًا - فی امرہ - اپنے کام میں احتیاط کرنا۔ الحَوْصُ - مص - حَوْشٌ کام روڑ - کہا جاتا ہے۔ لَا طَعَنَ فِي حَوْصِكَ یعنی جو تم نے سب سے۔ میں اس کو اومڑوں گا۔ اور جو تم نے درست کیا ہے میں اس کو بگاڑ دوں گا۔ وَمَا طَعَنْتَ فِي حَوْصِهِ - تم</p>	<p>للمشي - کسی شے کے لیے ورد مند ہونا۔ اِسْتَحْوَسَ اِسْتَحْوَسًا - رکنا۔ دیر لگانا۔ الأَحْوَسُ - بہادر۔ جری۔ جو کسی شے سے سیر نہ ہو۔ وہ شخص جو اپنی جگہ سے نہ ملے، جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ بیٹریا۔ ج۔ حَوْسٌ - الحَوْوَسُ - بہادر لوگوں کو بہت قتل کرنے والا۔ الحَوَاسَةُ نَمِيَّةٌ - مزدرت۔ حاجت (- والحَوَيْسَاءُ) قرابت رشتہ داری۔ حَاشٌ (ن) حَوْشًا - الابِلَ اونٹوں کو جمع کرنا اور بانگنا۔ (- وَاَحَاشٌ اِحَاشَةً و أَحْوَشٌ اِحْوَشًا وَاِسْتَحْوَشَ اِسْتَحْوَشًا) - الصيد شکار کو گھیر کر پھرنے کی طرف لانا۔ حَاشٌ وَاَحْوَشٌ وَاَحَاشٌ عَلَيْهِ الصَّيْدُ و اِحْوَشَهُ اِحْوَشًا - شکار کرنے میں کسی کی مدد کرنا۔ حَوَقَهُ - جمع جمع کرنا۔ حَوْشٌ الرجل - آدمی کا شجاع و بہادر ہونا۔ تیار ہونا۔ حَاوِصَةٌ - علی الامر - کسی کو کسی کام پر اکسانا۔ بر اکتیوت کرنا۔ تَحْوَشٌ - عنده - کنارہ کش ہونا۔ علیہ ہونا۔ منہ - شرم و حیا کرنا۔ اِحْمَاشٌ - جمع ہونا۔ عنده - نذر کرنا۔ لہ الصيد شکار کا خود آنا۔ تَحَاوَشُوا - علیہ - کسی کو اپنے بیچ</p>	<p>کے منافع جو اس کے ساتھ ملحق اور متصل ہوں۔ لیلۃ الحوز اونٹوں کو ہائی کی طرف لے جانے کی پہلی رات۔ اِحْوَذِي - اونٹوں کو بانگنے والا۔ قوم کو چھوڑ کر علیحدہ فروکش ہو گیا۔ سیاہ۔ اِحْتِزُّوا اِحْتِزُّوا - جگہ - کہتے ہیں۔ "هَذَا فِي حَيْزِ التَّوَاتُرِ" یعنی اس کا ثبوت تواتر کے درجہ میں ہے۔ الحَوَازِ - لڑائی۔ الحَوَيْزِ - ساتھی سے پوشیدہ رکھا ہوا ذخیرہ۔ الأَحْوِزِي - ماہر ہر کام میں پھرتیلا و چست۔ اچھا چلانے والا۔ اِحْوَانٌ - اِحْوَانٌ کا مبالغہ۔ اور اس سے ہے یہ قول: الاثم حَوَازِ الْكَلْبِ: یعنی گناہ دلوں پر پورا قابو ہا لیتا ہے۔ اور آخرنا پسندیدہ کام تک سر رو ہونے لگتے ہیں۔ حَاسٌ (ن) حَوْسًا - القوم قوم سے میل ملاپ کرنا۔ روزنا۔ ذلیل کرنا۔ الذئب اللحم - بیٹریا کا بکریوں میں گھس کر ان کو ترتر کر دینا۔ حَاسِمٌ المِائِةُ نَدْبِلُهَا - صفت کا دامن کیلئے ہونے چلنا۔ اِحْوَادُ الْاِحْوَابِ - قسائی کا کھال اتارنا۔ حَوْسٌ (س) حَوْشًا - دیر اور من چلا ہونا۔ صفت (أَحْوَس) - تَحْوَسٌ - دیری اختیار کرنا۔ فی الکلام - کلام کے لیے تیار ہونا</p>
---	---	---

دوسرے حال کی طرف ہرنا۔
 حال ہونا۔ القوس۔
 کمان کا ٹیڑھا ہونا۔ فلان
 الشیء۔ کسی چیز کی طرف دیکھ کر
 پتہ لگانا کہ وہ حرکت کرتی ہے
 یا نہیں۔
 الحال کیفیت۔ ہیئت۔ صفت
 دذکر موش، گرم راکھ، کال مٹی
 "حال متین الفرس" گھوڑے
 کی پیٹھ کا وسطی حصہ۔ ج۔
 آخوال و آخولة۔
 حالۃ۔ الشیء۔ چیز کی حالت۔
 ج۔ حالات۔ حالات
 الدھر۔ انقلابات زمانہ گردش
 ہونے ایام۔
 الحول بمعنی قدرت۔ قوت۔ کہا
 جاتا ہے "لا حول ولا قوۃ الا
 باللہ" نہ حرکت ہے نہ قوت مگر
 اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔
 ہوشیاری۔ دور بینی۔ سال۔
 ج۔ حوول و آخوال۔
 الحویلی۔ ایک سال کا بچہ۔ ج۔
 حوایج۔ اور اسی سے ہے۔
 "حوایج زہیر" وہ قصائد
 جن کے نظم کرنے، ترتیب دینے
 اور درست کرنے میں ایک سال
 کا عرصہ لگتا تھا۔
 الحول۔ ہوشیاری۔ دور بینی۔ تصرف
 پر قدرت۔ زوال و انتقال۔ کہا
 جاتا ہے "لا حول عنہ" اس سے
 نہیں بچ سکتے۔
 الحول۔ بھینگا پن۔
 حول و حویلی و حوال و حوایلی
 الشیء او الشیخی۔ چیز یا
 آدمی کا گروا گرو۔ کہا جاتا ہے۔

"قعد حوکه و حویہ و حوالہ
 و حوالیہ"
 الحوال و الحولان و الحولان
 تغیر و تبدیلی۔ انقلاب۔
 الحوایلی و الحول و الحویلی۔ حیلہ
 باز۔ بہت حیلہ گر۔
 الحوال۔ دو چیزوں کے درمیان مائل
 ہونے والی چیز۔
 حیال۔ الشیء۔ چیز کے سامنے یا
 مقابل۔ کہا جاتا ہے "قعد کل
 علی حیالہ" ہر ایک الگ
 الگ بیٹھا۔
 الحیلة و الحولة۔ ہوشیاری و دور بینی
 تصرف کرنے پر قدرت۔ ج۔
 حیل و حوول۔
 الحولة۔ جنب۔ امر منکر مصیبت
 کا جاتا ہے "رجل حولة"
 آدمی بڑا حیلہ باز ہے۔ "و هذا
 من حوایة الدھر" یہ عجائبات
 زمانہ میں سے ہے۔
 الحوای۔ بھینگا بڑا حیلہ ساز۔
 الحایل۔ رنگ بدلا ہوا۔ ایک سال
 کی عمر والا۔ بانجھ۔ کتے ہیں۔
 امرأة حائل و نخلۃ حائل۔
 ج۔ حوول و حوول و حیال و
 حوایلی۔
 الحایلیۃ۔ الحایل کا مؤنث۔ حیلہ
 کہا جاتا ہے "ما فیہ حایلیۃ"
 اس میں کوئی حیلہ نہیں۔
 الدنال۔ باطل۔ ٹیڑھا۔ غیر ممکن۔
 سراسر فساد کی بات۔
 المحول۔ یک سالہ بچہ۔
 الموحیل۔ من النساء۔ لڑکی کے
 بعد لڑکا یا لڑکے کے بعد لڑکی
 جننے والی عورت۔

الحالة۔ ہوشیاری۔ تصرف کی قدرت
 رہٹ۔ پیٹھ کا درمیان۔ ج۔
 حال و محاول۔ کہا جاتا
 ہے "لا محالة من الامر"
 مزوری امر یا خاک و شبہ سے پاک
 الحوال۔ بہت محال باتیں کہنے والا۔
 المستحیل۔ لغو باطل کلام۔ بھرا ہوا
 المستحیلة و المستحالة
 من القسی۔ ٹیڑھی کمان۔
 من الارض۔ ایک سال یا کئی
 سال پر وقت چھوڑی ہوئی زمین۔
 حامد رن، حوونا و حوومانا۔
 علی الشیء و حوولہ۔ ارد گرد
 پھرنا۔ الرجل۔ پیاسا ہونا
 صفت۔ (حائلم) ج۔ حووم۔
 مؤنث۔ حائلمہ۔ ج۔ حوایلم
 و حوایلم۔ حووما و حیامنا
 و حوومنا۔ حوول غرضہ و
 علیہ۔ اپنے مطلب کے ارد
 گرد پھرنا۔ اور اس کو طلب کرنا۔
 حووم۔ فی الامر۔ کام میں لگا رہنا۔
 الحووم۔ سر کو پکانے والی شراب۔
 حوومۃ۔ القتال ادا البصر ادا
 الرقل۔ وغیرہ لک۔
 لڑائی یا سنا یا ریت کا بڑا حصہ۔
 حوومۃ الموت۔ موت کا
 اچانک آنا۔
 حوومل۔ حووملۃ۔ پالی اٹھانا۔
 الحوومل۔ صاف سیلاب۔ ریہ بادل۔
 تحوون۔ الرجل۔ آدمی کا ذیل
 ہونا۔ بلاک ہونا۔
 حوی (س) حوی و احووی۔
 احووا و احوای و احوویا
 سبزی مائل سیاہ یا سیاہی مائل سرخ
 ہونا۔ صفت (احوی) مؤنث

بالمکان۔ چندوں کے لیے کسی جگہ اترنا۔ السحاب۔ بادل کلبے حرکت ہونا۔ کسی جانب متوجہ نہ ہونا۔
 الحیر۔ رکعت۔ باغ
 الحیر والحصیر۔ بہت اہل و مال کہا جاتا ہے۔ "لا اتمہ حیر دھرہ" میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔
 الحارۃ۔ محلہ۔
 الحائر۔ فا۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ کنارے اٹھی ہوئی نشیبی زمین ج۔ حوران و حیران۔
 الحارۃ۔ سیہی۔ ج۔ محایہ۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ الحارۃ تان سرین کے وہ دونوں گول سرے جن میں راتوں کے سرے گھومتے ہیں۔
 الحیار۔ بہت حیران۔
 الحیثیات۔ کاکب سیارہ۔ واحد (مقہیہ)
 المستحیر۔ صوا کے عرض میں راستہ جس کے ہائے خروج کا پتہ نہ لگے۔ جو جمل بے حرکت بادل جس کو ہوا نہ چلائے۔
 حاز (رض) حیرا۔ الابل۔ اونٹ کو نکلنا۔ چلانا۔
 تحیر۔ الشیء۔ کسی ایک ہی جگہ میں منحصر ہونا۔ الحیثۃ۔ سانپ کا کٹلی مارنا۔
 الحیر۔ دیکھئے ماوہ ج وز۔
 حاس (رض) حیرا۔ الشیء۔ ملانا۔
 الحیل۔ رسی مٹنا۔
 (و حیس، الجنی) حیس بنانا۔ کہتے ہیں "حیس حسیہ" ان کی بلاکت قریب آپہنچی۔

حاز (رض) حیرا و حیرا۔
 و حیرا و حیرا۔
 و حیرا۔ عن الطريق راستہ سے الگ ہونا۔ ہٹنا۔
 حیرا۔ گرہ پر کرینا۔ حیرا۔ السیر۔ تسمہ میں گرہ لگانا۔
 حیرا۔ تحایر و حیرا۔ ایک جانب ہونا۔ علیحدہ ہونا۔
 الحیر۔ چیز کا اٹھا ہوا اور ابھرا ہوا حصہ۔ پہاڑ کا نکلا ہوا کنارہ۔
 پہاڑی بکرے کے سینگ کی گرہ۔
 ج۔ حیر و حیرا و آحیرا۔
 (و الحیر، مثل و نظیر۔
 الحیرا۔ پہاڑی بکرے کے سینگ کی گرہ۔
 الحیرا۔ معبرانہ ہمال۔
 الحیرا۔ وہ نگر، پتھر جو جانور کے چلنے سے اڑتے ہیں۔
 الحیر۔ حاد کا اسم ظرف۔ الگ ہونے کی جگہ۔
 حاز (رض) حیرا و حیرا۔ و حیرا نا و حیرا۔ الماء پانی کا بند نہ ہونے سے چکر لگانا۔
 (الوجہ) آدمی کی نظر کا چکا چوند ہونا۔ راستہ کم کرنا۔
 فی امرہ۔ اپنے امر میں حیران ہونا۔ صفت (حیران) مؤنث حیرا۔ ج۔ حیرا و حیرا
 حیرا۔ حیرا میں ڈالنا۔
 حیرا۔ الماء۔ پانی کا جمع ہو کر چکر لگانا۔ امکان بالماء۔ کسی جگہ کا پانی سے بھر جانا۔
 (و استحار، حیرت میں پڑنا۔ استحار امکان و

حیرا۔ ج۔ حیرا۔
 حیرا (رض) حیرا و حیرا۔ الشیء۔ جمع کرنا۔ حیرا۔ تحیر۔ قبضہ کرنا۔
 تحیر۔ سکڑنا۔ گول ہونا۔
 الحیر۔ سانپ کا کٹلی مارنا۔
 (و حیرا۔ قبضہ کرنا۔
 الحیرا۔ الشیء و حیرا۔ جمع کرنا۔
 الحیرا۔ سانپ پر منتر پڑھنے والا۔
 مؤنث حیرا۔ ج۔ حیرا و حیرا و حیرا۔
 الحیرا و الحیرا۔ آواز۔
 الحیرا۔ استحقاق کے بعد مالک ہونے والا۔ چھوٹا حیرا۔
 الحیرا۔ پاس پاس گھروں کا مجموعہ۔ ج۔ حیرا۔
 الحیرا۔ الحیرا کا مؤنث۔ انگریزی چھوٹا حیرا۔ بھوسہ گھاس بھری ہوئی گدی۔ جو اونٹوں کے کوبان کے ادھر ادھر ڈالتے ہیں۔ ج۔ حیرا۔
 حیرا۔ اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے: الحیرا علی الحیرا۔ یہ مثل اس کے لیے بولی جاتی ہے جو اپنی موت کے لیے غمزدگوشی کرے۔
 الحیرا۔ سانپوں کا جمع کرنے والا۔
 حیرا۔ طرف مکان۔ بنی برصہ۔ یعنی کہاں۔ کہاں۔ چونکہ کہا جاتا ہے۔
 من هذه الحیرا۔ یعنی اس وجہ سے اور اس اعتبار سے۔
 حیرا۔ زمان کے لیے بھی آتا ہے۔
 حیرا (رض) حیرا۔ محتاج ہونا۔
 حیرا و حیرا۔ امکان کسی جگہ کا کانٹے لگانا۔

جُبُوب - کتے ہیں: اَصَابَهُمُ
الْخُبُّ - ان کو آندھی کے
جھونکوں اور موجوں کے تھپیڑوں
نے گھیر لیا۔

الْخُبُّ - پست زمین۔ درخت کی
چھال۔ ج۔ جُبُوب۔ اَخْبَاب
الْخُبَّة - بتثلیث الخاء۔
ریت کا لمبا قطعہ یا بدلی کی دھاری
پٹی کی طرح کپڑے کا ایک چھیتڑا
— الْخُبَّة - پانی کے جمع ہونے
کی جگہ۔ وادی کا نشیبی وسطی حصہ
گوشت کا دراز پارچہ —
قُوْبٌ (جِبَبٌ و خَبَابٌ و
اَخْبَابٌ) پھٹے پرانے کپڑے
تعداد اجزاء کی وجہ سے اس
کی صفت میں جمع لانا جائز رکھا
گیا ہے۔

الْخُبَّة - ریت یا بدلی کی دھاری
گوشت کا ٹکڑا۔ وادی کا درمیانی
حصہ۔ ج۔ خَبَابٌ۔

الْخَبَاب - دغا باز۔ فریبی۔
الْمَخْبَةُ - وادی کا وسطی حصہ۔
خَبَاء - (ف) خَبَاءٌ و خَبَاءٌ
الشَّعْ - چھپانا۔

خَابَاءٌ - کسی سے چہستان اور
پہلی کہنا۔

اِخْتَبَاءٌ - منہ۔ چھپنا —
الشَّعْ - چھپانا۔ کہا جاتا ہے
"اِخْتَبَاءٌ - لَهْ خَبِيْثًا" اس
نے اس سے کوئی شے پوشیدہ
رکھ کر اس کے بارہ میں اس سے
سوال کیا۔

الْخُبُّ و الْخُبِّيُّ - پوشیدہ۔ چھپائی
ہوئی شے۔
خُبُّ الْاَرْضِ - زمین کی نباتات۔

— خُبُّ السَّمَاءِ - بارش
کتے ہیں: "اَخْرَجَ خُبُّ السَّمَاءِ
خُبُّ الْاَرْضِ - آسمان کی بارش
نے زمین پر روئیدگی پیدا کی۔
ظاہر کی اور پودوں کو اگایا۔

الْخَبَاءُ - اونٹوں کی پشم یا اون یا
بالوں کا خیمہ۔ ج۔ اَخْبِيَّةٌ -
الْخَبِيْثَةُ - پوشیدہ رکھی ہوئی چیز۔
ج۔ خَبَايَا۔

الْخَابِثَةُ و الْخَابِيَّةُ - بڑا مٹکا۔
ج۔ الْخَوَابِي و الْخَوَابِي -
بُنْتُ الْخَابِيَّة - شراب

الْحَبَاةُ - بیٹی۔
الْمَخْبَاءُ - چھپنے کی جگہ۔
خَبَّتْ (ض) خَبَّتًا - ذکوہ -
چرچاسٹ جانا۔

اَخْبَتَ - الْقَوْمُ - قوم کا پست
اور فراخ زمین میں اتنا —
الى الله - خدا تعالیٰ کے سامنے
عاجزی کرنا۔

الْخَبْتَةُ و الْخَبْتَةُ - تواضع۔ فروتنی
عاجزی۔ پستی۔

الْخَبِيْثُ - حقیر۔ بری چیز۔ کتے ہیں
"هُوَ خَبِيْثُ النَّفْسِ" وہ شکستہ
دل آدمی ہے۔

خَبْتٌ (ن) خَبْتًا و خَبَاتًا و
خَبَاتِيَّةٌ - پلید و ناپاک ہونا۔
صفت (خبیث)۔ ج۔
خُبُّ و خَبَاءٌ و اَخْبَابٌ
— و خَبْتَةٌ - "خَبْتٌ
نَفْسُهُ - جی کا متلانا۔

بِالسَّوَادِ - زنا کرنا۔
خَبْتٌ (ن) خَبْتًا - روی ہونا۔
مکار ہونا۔ (د) و اَخْبَتَ
بروں کے ساتھ رہنا —

و اَخْبَثَةٌ - کسی کو برائی سکھانا۔
خراب کرنا۔ کسی کو برائی کی طرف
منسوب کرنا۔

خَبَثَهُ - غیث بنانا — الطَّعَامُ
کھانے کو ناگوار بنانا۔

تَخَابَثًا - برائی اور شرارت کو
ظاہر کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا
تَخَبَّثَ - بتکلف شرارت کرنا۔

اسْتَخْبَثَ - شرارت کرنا۔ خباثت
کرنا — کسی کو خبیث
پانا۔

الْخَبْتُ - من الحديد و نحوه
لوہے وغیرہ کا میل۔ سونے
چاندی لوہے وغیرہ کا کھوٹ۔

بے فائدہ چیز۔
خَبَاتٌ - برونن قظام —

خَبِيْثَةٌ سے معدول ہے۔ مرن
ند کی شکل میں عورت کو گالی
دینے کے لیے آتا ہے۔ مثلاً
کتے ہیں: "يا خَبَاتِ" اے
بدکار عورت۔

خُبُّ - خَبِيْثٌ سے معدول ہے۔
یہ مرد کو گالی دینے کے لیے صرف
ند کی شکل میں آتا ہے۔ مثلاً
کتے ہیں: "يا خَبْتُ" اے
بدکار مرد۔

الْخَبِيْثُ - بگس۔ روی۔ ناپسندیدہ
ہر حسام چیز۔ ہر خراب چیز۔
ج۔ خُبُّ و خَبَاءٌ -
اَخْبَاتٌ و خَبْتَةٌ - مؤنث۔
خبیثہ۔ ج۔ خَبِيْثَاتٌ
و خَبَاتِيَّتٌ

الْخَبَاتِيَّتُ - برے کام۔ وہ چیزیں جن
کو عرب ناپاک و بگس ہاں کر
نہیں کھاتے تھے۔ جیسے سانپ

<p>الخَبْرَانُ - بڑا توشہ دان۔ بیری کے درخت اگانے والی زمین۔ ج خَبَارِي وَخَبَارٍ وَخَبْرَاوَات - الخَبْرَةُ - مص۔ وہ بکری جس کو لوگ مختلف قیمتوں پر لیں۔ پھر اس کو آپس میں بانٹ لیں۔ ہر ایک کو اپنی ادا کردہ قیمت کے مطابق حصہ ملے۔ زیادہ خرید۔ اہل و عیال کے لیے خریدی ہوئی خوراک۔ کہتے ہیں۔ "اجتمعوا علی خبرتہ" وہ اس کے کھانے پر جمع ہوئے۔ سالن۔ الخَبَاسُ - نرم زمین۔ جڑیں۔ واحد خَبَاةٌ - الخَبِيرُ - واقف۔ آگاہ۔ دانا۔ کسان ج۔ خُبْرَاء - کھیتی۔ اونٹ کے بال۔ گرے ہوئے بال۔ واحد (خبیرہ) ج۔ خَبَايِرُ - الخَبِيرُ - اونٹ کے منہ کے جھاگ۔ الخَابُوسُ - ایک قسم کا درخت۔ راس العین اور فرات کے درمیان ایک ندی کا نام۔ المَخْبَرُ وَالمَخْبِرَةُ وَالمَخْبِرَةُ - وہ واقفیت یا آگاہی جو خبر یا تجربہ سے حاصل ہو۔ خَبْرٌ - رض، خبراً - الخُبْرُ - روٹی پکانا۔ القومہ - روٹی کھلانا۔ کہا جاتا ہے۔ "خبز تھمد و تھمد تھمد" میں نے ان کو روٹی اور کھجور کھلائی۔ خَبْرَةٌ وَتَخْبِرُهُ - مارنا۔ الخَبْرُ - المكان۔ جگہ کا پست ہونا۔ الخَبْرُ - الخَبْرُ - روٹی پکانا۔ الخَبْرُ - روٹی۔ خَبْرُ الخَبْرَابِ</p>	<p>آگاہ کرنا۔ خبردار کرنا۔ کہتے ہیں۔ "أخبره خبراً" یعنی جو چیز اس کے پاس تھی، اس کی اس نے اطلاع و خبر دی۔ خَابَرَهُ - بٹائی پر کھیتی کرنا۔ پروا کرنا۔ بقول بعض باہم گفتگو کرنا۔ اور بحث کرنا۔ تَخَابَرُوا - ایک دوسرے کو خبر دینا۔ تَخَبَّرُوا - الأمر - کسی امر سے اچھی طرح واقف ہونا۔ تَخَبَّرَهُ وَاسْتَخْبَرَهُ - کسی سے خبر دریافت کرنا۔ أَخْبَرُوا - الشيء - تجربہ کرنا۔ آزمانا۔ امتحان لینا۔ حقیقت حال سے واقف ہونا۔ لاهلہ۔ اپنے گھروالوں کے لیے کھانا لینا۔ الخَبْرُ - بڑا توشہ دان۔ بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ کھیتی پہاڑ میں پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بیری یا اراک کا درخت اور اس کے آس پاس کی گھاس واحد (خَبْرَةٌ) ج۔ خُبُوساً - الخَبْرُ - بڑا توشہ دان۔ بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ الخَبْرُ - مص۔ علم۔ تجربہ۔ آزمائش کہتے ہیں۔ "صدق الخبر" الخَبْرُ - تجربہ اور مشاہدہ نے سنی ہوئی خبر کی آں الخَبْرُ - رجل خبر ہونا۔ خبر کا جاننے والا اونٹ کے باخبر الخَبْرُ - خبری میں جو یا گیوں میں۔ الأخبار - شکار۔ شکار کا غلاظت کر خبیۃ۔ ن، حَقَّابُ - السنَامُ</p>	<p>گبریلا وغیرہ۔ الأَخْبَانُ - پیشاب۔ پاشا۔ الخَبِيثُ - بڑا خبیث۔ بڑا شرمیر۔ الخَبِيثِي - برائی۔ پلیدی۔ المَخْبِثَةُ - سبب فساد۔ مضر چیز کہتے ہیں۔ "الكفر مخبثه" لنفس المنعجہ - ناشکری محسن کے دل کو خراب و فاسد کرنے کا سبب بنتی ہے۔ خَبَجَهُ (ن، خَبَجًا) - بالعصاء - لاشی سے مارنا۔ الرجل - گوز کرنا۔ پادنا۔ الخَبْرُ وَالمَخْبَاجَا - احمق۔ الخَبْرُ وَالمَخْبَاجَا - پاد۔ گوز۔ خَبَخَبٌ - الرجل - ڈھیلے پیٹ والا ہونا۔ بے وقافی کرنا۔ تَخَبَّبَ - الشيء المضطرب ڈھیلہ ہونا۔ بَدَانَهُ - بدن کا موٹاپے کے بعد دبلا و لاغر ہونا۔ الحَرُّ - گرمی کی شدت کا کم ہونا۔ خَبَدَن، خَبْرًا - وَخَبْرَةٌ - الشيء - کسی چیز کو تجربہ سے جان لینا۔ آزمانا۔ خَبَرَدَن، خَبْرًا - الارض - کھیتی کے لیے زمین جوتنا۔ الطعَام - کھانے کو مرغن کرنا۔ خَبْرَدَن، وَخَبْرَدَن، خَبْرًا وَخَبْرًا وَخَبْرَةً وَخَبْرَةً وَخَبْرَةً وَخَبْرَةً - الشيء وہ۔ کسی چیز کی حقیقت و ماہیت سے واقف و باخبر ہونا۔ خَبْرَهُ وَآخْبَرَهُ - الشيء وَبالشيء - کسی کو کسی شے سے</p>
---	---	---

<p>الید۔ نیزہ سے دور پے مارنا۔ آخْتَهُ۔ حصہ کم کرنا۔ آخْتِ الرَّجُلِ۔ باپ کے چرچے اور ذکر پر شرمندہ ہونا۔ الْخَتَّتْ۔ بدن کی سستی۔ الْخَتِيْتِ۔ خیس۔ ناقص۔ خَتَاؤُهُ (ف) خَتْنًا۔ عن كذا۔ منع کرنا۔ روکنا۔ اخْتِئَاءٌ۔ خوف وغیرہ کی وجہ سے رنگ کا متغیر ہونا۔ مِّنْ فُلَانٍ۔ شرم، ڈر یا ذلت کے سبب سے کسی سے چھینا۔ لَهْ۔ دھوکا دینا۔ الشَّيْءُ۔ ایک لینا۔ مَقَانِرَةٌ (مُخْتَبِتَةٌ) وہ بیابان جس میں راستہ نہ ملتا ہو۔ خَتْرَةٌ (ض) خَتْرًا۔ بری طرح بے وفائی کرنا۔ صفت دخاتیر وَخَتَّاسٌ وَخَتِيرٌ وَخَتُّوسٌ وَخَتِيرٌ۔ دن (ض) خَتْرًا و خَتُّوسًا)۔ نَفْسُهُ۔ جی بگڑنا۔ خَتِيرٌ (س) خَتْرًا۔ زہر یا دوا پینے کی وجہ سے سُن اور بے حس ہو جانا۔ تَخَتَّرَ۔ سُت ہونا۔ ڈھیلا ہونا بیماری وغیرہ کی وجہ سے بدن کا سُت ہونا۔ خَتْرَةٌ۔ الشَّرَابُ۔ شراب کا کسی کے نفس کو خراب کر دینا اور لڑھیلا کر کے چھوڑنا۔ خَتْرَبَةٌ۔ کالٹا۔ پارہ پارہ کرنا۔ خَتْرَمٌ۔ خَتْرَمَةٌ۔ گہرا ہٹ کے سبب یا باٹ نہ کر سکنے کی وجہ سے خاموش رہنا۔</p>	<p>والا۔ خَبْنٌ (ض) خَبْنًا وَخَبَانًا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کو موڑ کر سینا۔ الشَّافِيُو۔ شاعر کا اپنے شعر میں فہن استعمال کرنا۔ (س) وَاحِبِنِ، الطَّعَامَ کھانے کو کپڑے کی تہ میں چھپانا۔ الْخُبْنَةُ۔ تہ کردہ دامن۔ خرداک جو کپڑوں کی تہ میں لی جائے۔ ج خَبْنٌ۔ اخْتَبَنَ۔ الشَّيْءُ۔ کپڑے کی تہ میں چھپانا۔ الخَبْنُ۔ فی العروض۔ باصطلاح عروضی سبب خفیف سے ساکن کو حذف کرنا۔ جیسے فَاعِلُنْ سے فَعِلُنْ۔ رجلٌ خَبْنٌ۔ سٹے ہوئے اعضاء والا آدمی۔ خَبَادِنٌ، وَخَبُوًّا خَبْوًا۔ خبت النَّاسُ اذِ الحَدَاةِ۔ آگ یا حرارت کا ٹھنڈی ہونا۔ بھند مندی پڑنا۔ کہا جاتا ہے: خَبَا لَهْبُهُ اس کے غصہ کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ فرو ہوا۔ اخْبِي۔ النَّارُ۔ آگ کو بھجانا۔ خَبِيًّا۔ الشَّيْءُ۔ چھپانا۔ اخْبِي وَخَبِي وَتَخْبِي وَ اسْتَخْبِي۔ الخَبَاءُ۔ خیمہ لگانا۔ اسْتَخْبِي الخَبَاءُ۔ خیمہ میں داخل ہونا۔ الخَبَاءُ۔ اون یا اونٹ کے بالوں کا خیمہ۔ ہالی میں جو یا گیہوں کے دانہ کا چھلکا۔ شکوہ کا غلاف ج۔ اخْبِيَّةٌ۔ خَتَّ (ن) خَتْنًا۔ السِّنَانُ</p>	<p>محبت نے اس کے دل کو تباہ کر دیا۔ يَدَا۔ ہاتھ کو مثل (خشک) کرنا۔ عن كذا۔ روکنا۔ منع کرنا۔ کہتے ہیں: خَبَلٌ عن فعل ابیه: اس نے اپنے باپ کے فعل سے کوتاہی کی۔ خَبِلَ (س) خَبَلًا وَخَبَالًا۔ پاگل ہونا۔ مجنون ہونا۔ صفت۔ (خَبِلٌ وَآخَبِلٌ) خَبَلَتْ۔ الیْدُ۔ ہاتھ کا خشک و بیکار ہو جانا۔ اخْتَبَلَهُ۔ عقل کو خراب کرنا۔ اخْتَبَلَتِ الدَّابَّةُ۔ جانور کا اپنی جگہ نہ ٹھہرنا۔ تَخَبَلَتْ الیْدُ۔ ہاتھ کا لاپرواہ و لہجہ ہونا۔ اسْتَخْبَلَهُ۔ الابل۔ کسی سے اونٹ عاریتہ مانگنا۔ الخَبْلُ۔ مص۔ قرص۔ ادھار۔ قتنہ۔ (س) والخَبْلُ، اعضاء کی خرابی فالج کا اثر۔ ہاتھ پاؤں کی کاٹ۔ ج۔ خَبُولٌ۔ الخَبْلُ۔ ایک پرندہ جس کی آواز آو کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ دَهْرٌ خَبْلٌ۔ بگڑا ہوا زمانہ۔ الخَبَالُ۔ فساد۔ نقصان۔ ہلاکت۔ زہر قائل کہا جاتا ہے: هُوَ خَبَالٌ عَلِيٌّ اهلہ: وہ اپنے اہل پر بوجھ ہے۔ الخَبَائِلُ۔ فساد و شیطانی جن کہتے ہیں: مَسَّةُ الخَبَائِلِ۔ اس کو جن نے پاگل کر دیا۔ الخَبَائِلَانُ بات و دن۔ الخَبْلُ۔ فا۔ اور خَبِيلٌ۔ بغیر الف لام، کے زمانہ کا نام ہے۔ الخَبْلُ۔ مجنون۔ تخر و دلا۔ درد کے باعث اچھی طرح نہ چل سکنے</p>
--	--	--

خَتَعَ (ف)، خَتَعًا وَخَتُوعًا.

— اللیلُ بالقوم۔ اندھیرے

میں رہبری کرنا — علی

القوم۔ اچانک آجانا۔ (—

وانختع) فی الاسرائیل۔ زمین

میں دور تک نکل جانا۔

الخَوْتُعُ والخَتِيعُ والخَتِيعُ۔

عمدہ راہبر — الخَوْتُعُ

خرگوش کا بچہ۔

الخَتَّاعُ۔ چمڑے کا دستانہ جو باز

پالنے والے اس کے پنجوں کے

تراش کے خوف سے ہاتھ میں

پنتے ہیں۔

خَتَلَهُ (ن من)، خَتَلًا وَخَتَلَانًا

— وَخَاتَلَهُ مُخَاتَلَةً۔

دھوکا دینا۔ کہتے ہیں: خَاتَلُ

الصَّيَّادُ شَكَارِي كَالِيسَةِ دَبِ

پاؤں سے چلنا کہ شکار کو آہٹ

نہ پہنچے۔ صفت (خَاتِلٌ وَ

خَتُولٌ)

تَخَاتَلُوا۔ آپس میں ایک دوسرے

کو فریب دینا۔

اخْتَتَلُ — لاسراس القوم۔

چوری سے سنا — اخْتَتَلُ

الرجل۔ فریب دینا۔

الْخِتْلُ۔ چھپنے کی جگہ۔ خرگوش کا

بل۔

الخَوْتُلُ۔ ظریف۔ دانا آدمی۔

الخِتَالُ۔ بڑا دھوکے باز۔ فریبی۔

مؤنث۔ خِتَالَةٌ۔

خَتَمَ (ن من) خَتْمًا وَخِتَامًا۔

— السَّمْعُ وَعَلَيْهِ۔ مہر لگانا۔

— الْعَمَلُ۔ کسی کام سے

فراغت حاصل کرنا — الْكِتَابُ

پوری کتاب پڑھ جانا — لِلْأَنْبَاءِ

برتن کو مٹی وغیرہ سے بند کرنا۔

کہا جاتا ہے: خَتَمَ عَلَيْكَ

بَابَهُ: اس نے تم سے اعراض کیا

اللَّهُ لَهُ بِالْحَيْرِ۔ اچھا انجام

کرنا — عَلَى قَلْبِهِ بے سمجھ

بنانا — الزَّرْعُ وَعَلَيْهِ

کھیتی کو پہلی بار سیراب کرنا۔

خَتَمَ بِمَعْنَى خَتَمَ مَبَالِغَةَ

سَاةٍ۔ یعنی اچھی طرح ختم کرنا۔

خَتَمَهُ۔ انگوٹھی پہنانا۔

اخْتَمَ — الْكِتَابُ۔ کتاب کا

خاتمہ پر پہنچنا۔

تَخَتَمَ۔ الْخَاتِمُ وَبِهِ۔ انگوٹھی

انگلی میں پہنا۔ کہا جاتا ہے۔

”تَخَتَمَ بِالْعَقِيقِ“ اس

نے عقیق کی انگوٹھی پہنی —

بِأَمْرِهِ۔ اپنے امر کو چھپانا —

عِنْدَهُ۔ غافل بن کر چپ رہنا۔

عَمَامَةٌ بَانْدُهْنَا۔ کہتے ہیں۔

”تَخَتَمَ بِعِمَامَتِهِ“ اس نے

اپنا عمامہ باندھا۔

اخْتَمَمَهُ۔ پورا کرنا۔

الخَتْمُ مہر۔ شہد۔

الخَاتِمُ۔ انگوٹھی۔ مہر۔ ج۔

خَوَاتِيمُ۔

الخَاتِمُ وَالْخَاتِمَةُ۔ ج۔ خَوَاتِمُ

وَخَتْمٌ۔ الخَاتِمَةُ۔ انگوٹھی

مہر ہر چیز کا انجام۔ گدی کا گڑھا

ٹانگوں کی تقوڑی سفیدی۔

الخَاتِمَةُ۔ الخَاتِمَةُ كَامُونَةُ۔ انجام

نتیجہ۔ اخیر۔ ج۔ خَوَاتِيمُ

وَخَاتِمَاتُ۔

الخَتْمُ۔ انگوٹھی۔

الخِتَامُ۔ مص۔ مہر لگانے کی لاکھ

یا ہر وہ چیز جس سے مہر لگائی جائے

ج۔ خَتْمٌ۔

المُخْتَمٌ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ وہ گھوڑا

جس کی ٹانگوں میں تقوڑی سی

سفیدی ہو۔

خَتَنَ (ن من) خَتْنًا — الشَّيْءُ۔

کاٹنا — الصَّبِيُّ۔ بچہ کی ختنہ

کرنا۔ صفت مفعولی۔ (خَتِينٌ

وَمَخْتُونٌ) — عَامٌ مَخْتُونٌ

خفک سال — وَخَتْنٌ

الرَّجُلُ۔ فریب دینا۔

خَتَنَهُ (ن من) خَتُونًا وَخَتُونَةً

وَخَاتِنَهُ۔ داماد بنانا —

وَخَاتِنُ الرَّجُلِ۔ دھوکا دینا۔

اخْتَتَنَ — الصَّبِيُّ۔ بچہ کا ختنہ

شدہ ہونا۔

الْخِتَانُ وَالْمَخْتَانَةُ۔ ختنہ۔

الْمَخْتَانَةُ۔ ختنہ کرنے کا پیشہ۔

الْخَتْنُ۔ عورت کی طرف سے رشتہ

وار۔ مثلاً سُرٌّ سَالًا۔ داماد

ج۔ اخْتَانٌ۔

الْخَتْنَةُ۔ الْخَتْنُ۔ کامؤنث۔

سال۔

الْخَاتُونُ۔ شریف زادی۔ بیگم۔

ج۔ خَوَاتِيمٌ (کلمہ عجمی ہے)

خَتَا يَخْتَوُا۔ خَعْوًا۔ غم یا بیماری

کی وجہ سے شکستہ دل ہونا۔

خَتَاهُ۔ روکتا۔

اخْتَقَى۔ المَتَاعُ۔ کپڑوں کو ایک ایک

کر کے فروخت کرنا۔

اخْتَتَى۔ اخْتِتَاءً۔ غم یا بیماری کے

کے باعث شکستہ دل ہونا۔

خَتَّتْ — الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔

اصلاح کرنا۔

اخْتَتَقَ۔ شرم کرنا۔

الْخُفَّاءُ۔ سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔

یا پانی کے اوپر کی خشک شدہ
کائی۔
الْحَقَّةُ وَالْحَقَّةُ - آگ سلگانے
کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا
گٹھا۔
خَثْرَدَن، خَثْرًا وَخَثْرُوسًا -
وَخَثْرَانًا وَخَثْرًا رَسَنًا
خَثْرًا وَخَثْرَدَنًا، وَتَخَثَرُوا
— اللبَنُ - دودھ کا گاڑھا
ہونا۔ وہی بنا۔ صفت۔ (خاش)
خَثْرَتٌ رَضٌ، خَثْرًا —
نفس الرجل۔ جی متلانا۔
مضطرب ہونا۔ کہا جاتا ہے۔
"استيقظ فلان خاشر
النفس" فلان شخص نیند سے
جاگا۔ ایسی حالت میں کہ اس
کی طبیعت سُست اور بد مزہ
ہوتی۔
خَثْرًا وَخَثْرًا — اللبَنُ -
دودھ کا گاڑھا کرنا۔ وہی بنا۔
أَخْثَرُ - الزيد - کمھن کو بغیر
بگھلائے پھوڑ دینا۔ مثل ہے۔
"ما يدرى أخثر أم
يؤيب" یہ ایسے شخص کے
لیے بولی جاتی ہے جو اپنے کام میں
مزدور و متعیر ہو۔
الْخَاثِرَةُ - جماعت۔
الْخَثَارُ - دسترخوان کا بچا کچا حصہ۔
الْخَثَارَةُ - چیز کا بقیہ۔ بچا ہوا گاڑھا
گاڑھا دودھ۔ کہا جاتا ہے۔
"ذهب صفوه بقيت
خثارتها" یعنی اس کا صاف
اور خالص حصہ ختم ہو گیا۔ اور
تپھٹ باقی رہ گئی۔
تَخْتَعَمُ - نون سے آلودہ ہونا۔

الْمُخْتَعَمُ وَالْمُخْتَعَمُ - شیر۔
الْمُخْتَعَمَةُ - اکٹھے ہو کر جانور کو
ذبح کرنا۔ اور مل جل کر کھانا اور
پھر اسی جانور کے خون میں خوشبو
ملا کر ہاتھ رنگنا اور آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ مدد
کرنے کا معاہدہ کرنا۔
الْخَثْلَةُ وَالْخَثْلَةُ - من البطن
پٹرو۔ کہتے ہیں: طَعَنَهُ فِي
خَثْلَةِ بَطْنِهِ اس نے
اس کے پٹرو میں نیزہ مارا۔ ج
خَثَلَاتٌ وَخَثَلَاتٌ الْمَخَثَلَةُ
موتی عورت۔
خَثِمٌ (س) خَثْمًا - چوڑی یا
موتی ناک والا ہونا۔ صفت۔
(خَثِمٌ وَأَخْتَمٌ) خَثِمَتٌ
اخلاف الناقة - اونٹنی کے
تھنوں کا بند ہونا۔
خَثْمٌ (ن) خَثْمًا - انفه
نک کو کچل دینا۔
خَثْمٌ - الشئ - کسی چیز کو
چوڑا کرنا۔
الْخَثْمَةُ - ناک کی چوڑائی یا موٹائی۔
خَثَبَةٌ (ن) خَثَبًا - بھٹانا۔ دفع
کرنا۔ الحب - لکڑی پھاڑنا
چیرنا۔ برجلہ - پاؤں
سے خاک اڑانا۔ بسلحہ
پاشخانہ کرنا۔ سَاعِدَةٌ
کلائی کا گٹھا ہوا ہونا۔
الْخَثْبَةُ - الجمل - اونٹ کا بیچ
کھاتے ہوئے جلدی چلنا۔
رِيحٌ (خَجْوَجٌ) - آندھی۔
سخت ہوا۔
خَجَاءٌ (ف) خَجَاءً - الرجلُ
گھر میں چھپ کے داخل ہونا۔

ن - الليل - رات کا اختتام پر
پہنچنا۔ ۵۔ مارنا۔
خَجِيءٌ (س) خَجَاءً - شرم کرنا۔
أَخْجَاءٌ ۵۔ سوال میں اصرار کرنا۔
تَخَاَجًا - دیر لگانا۔
الْخَجَاءَةُ - موٹا و سُست۔
بے وقوف۔
الْخَجْفُ وَالْخَجِيفُ - اوچھاپن۔
خَجَلٌ (س) خَجَلًا - شرم و حياء
سے مضطرب ہونا۔ صفت۔
(خَجَلٌ وَخَجَلَانٌ) —
الثوبُ - کپڑے کے نیچے کے
حصہ کا پھٹا ہوا اور فراخ ہونا۔
صفت (خَجَلٌ) - النباتُ
نباتات کا زیادہ اور گنجان ہونا۔
صفت (خَجَلٌ) - البعيرُ
اونٹ کا وزن سے بوجھل ہونا۔
— بامرء - اپنے امر میں
مشتبہ ہونا۔ — من كذا -
زرع ہونا۔ — في طلب الرزق
رزق طلبی میں سُست ہونا۔
خَجَلَهُ وَأَخْجَلَهُ - شرمندہ کرنا
- أَخْجَلُ النباتُ - پودہ کا لمبا
اور گنجان ہونا۔
الْخَجَلُ - مص - شرم - حياء
خَجِيءٌ (س) خَجِيءًا - الترابُ
برجلہ - پاؤں سے خاک
اڑانا۔
خَجِيءٌ (س) خَجِيءًا - شرم کرنا۔
خَدَّ (ن) خَدًّا - فيه الضربُ
چوٹ کا نشان چھوڑنا۔
الارضُ - زمین پھاڑنا۔
خَدَّدَ - تَخْدِيدًا - لَحْمُهُ
دبلا ہو کر گوشت کا مہری دار ہونا
— لَحْمُهُ - دبلا کرنا۔

<p>خَدَّرَ وَأَخْدَسَ الْعَضْوَةَ عَضْوًا كُوسُنٌ أَوْ رِبِيٌّ حَسْرٌ كَرْنَا — أَخْدَرُ بِالْمَكَانِ - كَسِي جُكْرٌ أَقَامَتْ كَرْنَا — مَعَ أَهْلِهِ أَيْ لَوْ كُنَّا كَمَا سَأَلْنَا قِيَامَ كَرْنَا - — الْأَسَدُ شِيرٌ كَمَا جَهَّازِي فِي رَهْنَا — الْأَسَدُ عَرِينُهُ جَهَّازِي كَمَا شِيرٌ كُوْجِيَانِيَا - تَخَدَّرَ وَأَخْتَدَّ سَا - مِجْنَانَا الْخَادِسُ - سَسْتُ - كَابِلٌ - حِيَابِنُ الْخَدْسُ - رَاكِي كَمَا لِي مَكَانَ كَمَا أَيْ كُوْشُهُ فِي لَكَا يَا هُوَا پَرْدُهُ - رَاكِي كَمَا رَهْنِي كَمَا خَامِي عِلْمُهُ جُكْرٌ - هِرَايَكُ مِجْنَانِي جِسْمِي پَرْدُهُ كَمَا جَانِي - شِيرِي كَمَا جَهَّازِي - رَاكِي كَمَا تَارِيكِي - جُجْرٌ - أَخْدَارُ وَ خُدُورٌ - جُجْرٌ - أَخْدِيدُ الْخَدَّرَ - عَضْوِي كَمَا بِي كَابِلِي سَسْتِي - اَنْدَمِيرِي تَارِيكِي رَاكِي - الْخَدِيرُ - بِي حَسْرٌ عَضْوِي وَآلَا - لَيْلٌ خَدْسَا - اَنْدَمِيرِي رَاكِي - مَكَانٌ خَدَّرٌ - مِجْنَانِي هُوِي تَارِيكِي جُكْرٌ - نَهَارٌ خَدَّرٌ - نَمَّاكُ وَآلَا - الْخَدَارُ - شِيرِي كَمَا جَهَّازِي - الْخَدْرَةُ - سَسْتُ تَارِيكِي - الْاَخْدَرُ وَالْاَخْدَارِي - اَنْدَمِيرِي رَاكِي - الْاَخْدَارِي - سِيَا بَاوَلُ - الْاَخْدَارِيَّةُ - عَقَابُ - الْاَخْدَرُ وَالْاَخْدَرِي وَالْاَخْدَرِي أَيْ قَسْمٌ كَمَا جَنْكَلِي كَمَا هُوُوَجٌ وَخُدُورٌ پَرْدُهُ پَرَا هُوَا هُوُوُو - الْاَخْدَارُنُقُ - نَرْكُوِي - بَعْضُ كَمَا</p>	<p>تَلَوَارٌ — طَلْعَتُهُ أَوْ حَرْبَةٌ خَدْبَةٌ وَخُدْبَاءٌ - وَهُ نِيْزُهُ يَا بَرِيحِي جِسْمِي كَمَا كَمَا سَسْتُ هُوَا كَمَا هُوُوُو - الْاَخْدَبَةُ - لِبَايُ - الْاَخْدَابُ - بَرَا جَهَّوُطَا - خَدَجَتُ (نَض) خَدَا جَا — وَأَخْدَجَتُ - الدَابَّةُ جَانُورٌ كَمَا أَوْ هُوُوَا بِي كَمَا كَرْنَا - صَفْتُ (خَادِجٌ وَخُدُوجٌ) صَفْتُ مَفْعُوْلِي - وَخُدِيْجٌ وَخُدُوجٌ وَخُدُوجٌ (أَوْ) خُدُوجٌ كَمَا جَمْعُ خُدُوجٌ وَخُدَا جُ وَ خُدَايُجُ - أَخْدَجُ الشَّيْءُ - مِجْنَانِي كَمَا نَقِصٌ هُوُوَا - كَمَا صَلَاتُهُ - بَعْضُ أَرْكَانِ نَمَّازِي كَمَا كَرْنَا - خَدَجَتُ - النَّاكَةُ - نَامَامُ بِي كَرْنَا - الْاَخْدَا جُ - نَقِصَانُ - خَدَّرَ (س) خَدَّرَا - الْعَضْوَةَ عَضْوًا كَمَا سَسْتُ هُوُوَا الْعَيْنُ - غَارِشٌ كَمَا سَبَبُ يَا تَبْنَكَا پَرُجَانِي سَسْتُ كَمَا جَهَّازِي هُوُوَا - الْاَخْدُ أَوْ الْاَخْدُ كَرْمِي يَا سَرُوِي كَمَا تَبْنَكَا هُوُوَا — النَّهَارُ وَآلَا كَمَا جِسْمِي وَآلَا هُوُوَا أَوْ تَبْنَكَا كَرْمِي وَآلَا هُوُوَا - خَدَّرَ (ن) خَدَّرَا - مِجْنَانِي هُوُوَا - — الطَّبِي - هِرْنٌ كَمَا كَمَا سَسْتُ مِجْنَانِي رَهْنَا - الْأَسَدُ فِي عَرِينَتِهِ - شِيرٌ كَمَا مَانَدِي رَهْنَا — بِالْمَكَانِ - أَقَامَتْ كَرْنَا (س) وَخَدَّرَ وَأَخْدَرُ الْبِنْتُ رَاكِي كَمَا پَرْدُهُ فِي رَهْنَا -</p>	<p>خَادَّةٌ - مَخَادَّةٌ - كَامٌ فِي مِزَامِ هُوُوَا - تَخَادَّأَ - أَيْ وَآلَا كَمَا مِزَامَتُ كَرْنَا - تَخَدَّدَ - لَحْمُهُ - دَبْلَا هُوُوَا كَمَا سَبَبُ كُوْشَتُ كَمَا جَهَّازِي وَآلَا هُوُوَا — الْقَوْمُ - لَوْ كُنَّا كَمَا فَرَقُوْنَا فِي بَرُجَانَا - الْاَخْدَ - پَانِي كَمَا نَهْرٌ - طَرِيْقَةُ - لِبَا كَمَا كَرْنَا - لَوْ كُنَّا كَمَا جَمَاعَتُ - جُ - أَخْدَاةٌ - وَخَدَادُ - وَخَدَانُ - الْاَخْدُ مِنَ الْوَجْهِ رَحْصَارُهُ - جُ - خُدُودُ - الْاَخْدَاةُ - لِبَا كَرْنَا - جُ الْاَخْدُودُ - لِبَا كَرْنَا - جُ أَخَادِيدُ - الْأَخَادِيدُ كُوْشِي كَمَا مَارُ كَمَا نَشَانَاتُ - أَوْ آسِي سَسْتُ - أَخَادِيدُ الْأَرَشِيَّةُ فِي الْبِنْتِ - كُنُوِي فِي رَسِي كَمَا كَرْنَا كَمَا نَشَانَاتُ - الْاَخْدَاةُ - سُوْتِي وَآلَا رَحْصَارُهُ كَمَا كَرْنَا - الْمَخْدَانُ دُونُوْنَا كَمَا كَرْنَا - خَدَبَ (ن) خَدَبَا - جَهَّوُطُ بُولْنَا - هُوُوَا بِالسَّيْفِ تَلَوَارٌ سَسْتُ مَارْنَا - هُوُوَا الْحَيَّةُ سَانِپُ كَمَا سَسْتُ - تَخَدَّبَ - وَآلَا پَانِي پَالُ چَلْنَا - الْاَخْدَبُ - لِبَايُ - كَمَا جَانَا سَسْتُ " فِي لِسَانِهِ خَدَبٌ " اس كَمَا زَبَانُ سَسْتُ أَوْ چَهَّازِي وَآلَا حَاكَمَتُ كَمَا كَرْنَا - بِلَكَا پَانِي - بِي وَآلَا الْاَخْدَبُ وَالْاَخْدَبُ - لِبَا - بِي وَآلَا - جَلْدِيَازُ - سِيْفٌ خَدَبُ - كَمَا كَرْنَا وَآلَا</p>
--	---	---

<p>دکھائی دے اور کبھی گم ہو جائے۔ ج۔ خُدَع۔ المُخْدَع والمُخْدَع۔ والمُخْدَعُ کوٹھڑی جو بڑے گھر کے اندر ہو ج۔ مَخْدَع۔ المُخْدَع۔ تجر بہ کار۔ بار بار دھوکا خوردہ۔ خَدَفَ (ض) خَدْفًا۔ تیز چلنا۔ — خدفت السماء بالثلج آسمان کا برف گرانا۔ واختدفت الشيء۔ اچک لینا۔ الخدفت۔ مص۔ کشتی کا پتوار۔ خَدَلَتْ (س) خَدَلًا وَخَدَّالَةً۔ و خَدُولَةً — الساقُ پنڈلی کا پڑ گوشت ہونا — ساق خدالہ۔ گوشت سے بھری موٹی پنڈلی۔ خَدَمَهُ (ض ن) خِدْمَةً۔ و خَدْمَةً۔ خدمت کرنا۔ صفت (خَادِم) ج۔ خَدَام و خَدَمٍ۔ مؤنث۔ خَادِمٌ و خَادِمَةٌ۔ أَخْدَمَهُ۔ کسی کو خادم دینا۔ خَدَمَ۔ الرجلُ امرأتًا۔ کسی کا اپنی عورت کو بازیب بنانا۔ تَخَدَّمَ۔ خادم بنانا۔ نوکر رکھنا۔ اِحْتَدَمَ۔ خود اپنی خدمت کرنا۔ — ہ۔ کسی سے خادم مانگنا خادم بنانا۔ اسْتَحْدَمَهُ۔ خادم بنانا — الرجل۔ کسی سے خادم مانگنا۔ الخدْمَةُ۔ وقت دن یا رات کا۔ الخدْمَةُ۔ بازیب۔ پنڈلی۔ لوگوں کا حلقہ۔ کہتے ہیں۔ "فَصَّنَ اللهُ خَدْمَتَهُمُ" اللہ ان کی جماعت</p>	<p>دھوکا کھانے کا بہانہ کرنا — القومُ۔ بعض کا بعض کو دھوکا دینا۔ اِنْخَدَعَ۔ دھوکا کھانا۔ دھوکے پر رضامند ہونا — بد۔ دھوکا کھانا — السوقُ بازار کا ماند پڑنا۔ ٹھنڈا ہونا۔ الخدَيْعَةُ۔ ج۔ خَدَائِعُ — (الخدَعَةُ وَالْمُخْدَعُ) دھوکے کا ذریعہ۔ مکر و حیلہ۔ الخدَعَةُ۔ بہت دھوکا کھانے والا۔ الخدَعَةُ وَالْمُخْدَعُ وَالْمُخْدَعُ بہت دھوکا دینے والا — سنةٌ خَدَاعَةٌ۔ کم پیداوار اور کم سرسبزی والا سال۔ الْخَادِعُ۔ فَا۔ طریق خَادِعُ۔ وہ راستہ جو کبھی دکھائی دے اور کبھی گم ہو جائے۔ دینارُ خَادِعُ۔ کم وزن دینار۔ الْخَادِعَةُ۔ مؤنث۔ بڑے دروازہ کی کھڑکی۔ مکان کی کوٹھڑی۔ الْأَخْدَاعُ۔ اسم تفضیل — الاخدعان۔ گروں کی ہر دو جانب دو پوشیدہ رگیں۔ کہتے ہیں۔ "لَا قِيَمَتَكَ اخْدَاعِكَ" میں تیرے تکبر کو مٹا دوں گا — فلانٌ شديدُ الْاِخْدَاعِ۔ فلان بڑا مکرش ہے۔ ج۔ أَخَادِعُ۔ الْخَيْدَعُ۔ ناقابل اعتبار دوست مقصد کے مخالف راستہ۔ چمکتا ہواریت۔ مکار بھیر یا۔ الْخُدُوعُ۔ بڑا فریبی — طریقُ خدوع۔ وہ راستہ جو کبھی</p>	<p>نزدیک بڑی کھڑکی۔ ج۔ خد ارتق خَدَشَهُ (ض) خَدَشًا وَخَدَشَهُ نوجنا۔ ٹکڑے ٹکڑے۔ عیب لگانا۔ خراش لگانا۔ اِبْخَدَشَ۔ مص۔ خراش۔ ج۔ خَدُوشٌ وَخِدَاشٌ وَاخْدَاشٌ خدوش۔ زیادہ خراش کرنے والا۔ چھیلنے والا۔ پسو۔ لکھی۔ خَادَشٌ وَالْمُخْدَشُ۔ بلی عَدَشٌ۔ گروں۔ انسان میں کٹنے کی جگہ۔ عَدَشٌ (ف) خِدَعًا وَخِدَعًا دھوکہ دینا۔ فریب میں لانا۔ — الضبُّ فِي حَجْرِهِ۔ سوسمار کا اپنے بل کے اندر جانا — المَطْرُ۔ بارش کا کم ہونا — الرجلُ۔ کسی کی دولت کا کم ہونا۔ عطیہ دینے سے رکنا۔ — السَّوْقُ۔ بازار کا ٹھنڈا ہونا۔ راجح ہونا۔ (ضد) — الاموسُ۔ مختلف ہونا۔ — الشمسُ۔ سورج کا غائب ہونا — الطريقُ۔ غیر معلوم ہونا — الشيءُ۔ خراب ہونا — الثوبُ۔ کپڑے کا موڑنا۔ تہہ کرنا — الرجلُ کسی کی رگ اُخْدَعُ کو کاٹ دینا۔ أَخْدَعَهُ۔ کسی کو دغا بازی پر اکسانا برا بیخبر کرنا — الشيءُ۔ چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ خَادَعَهُ مُخَادَعَةً وَخِدَاعًا وَاحْتَدَعَهُ وَتَخَدَعَهُ۔ دھوکا دینا۔ خادع العین آنکھ کی دیکھی بھالی بات میں شک ڈالنا — تَخَادَعُ۔</p>
---	--	--

<p>خَدَع مَدَع - وہ الگ الگ بچھا کر چلے گئے۔ الخَدَعَة - زمین وغیرہ کا ٹکڑا۔ الخَدِيعَة - ایک قسم کا کھانا، جو گوشت کے قیر سے بنایا جاتا ہے المُخَدَعَة - چھری۔ خَدَعَبٌ وَخَدَّ عَلَ البَطِيخِ وَمَخُوخ - خربوزے یا تربوز کی پھانگیں کرنا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا۔ خَدَفَ (ض) خَدْفًا - بالحصاة و نحوها - انگلیوں سے یا گویہن سے ککری وغیرہ پھینکنا۔ تَخَذَفَت - عیناہ بالدموع۔ آنکھوں کا تیزی سے آنسو بہانا۔ الخَدَافَة - چوڑا۔ سُرین۔ المُخَدَفَة - گویہن۔ غلیل۔ الخَدُوف - من الدواب - تیز رفتار جانور جو تیز رفتاری کی وجہ سے دوڑنے میں ککریاں اڑائے وہ جانور جو چلنے میں اپنے پاؤں پیٹ تک اٹھائے۔ ج خَدَفَ الخَدَفَان - تیز رفتاری۔ خَدَقَ رَنَ (ض) خَدَقًا - الداہية - جانور کو تیز چلانے کے لیے چھری وغیرہ چھوننا۔ — البازی - باز کا پیٹ کرنا۔ الخَدَق - گوبر لید۔ خَدَلَ رَنَ (ض) خَدَلًا وَخَدَلَانًا وَ خَدَلَانًا - فلاٹا و عنده۔ مذو چھوڑنا۔ صفت (خَاذِلٌ ، ج خَدَالٌ - صفت مفعول و خَدُولٌ ، - خَاذِلٌ</p>	<p>والاکیرا۔ واحد۔ خَدَاة۔ الخُدَيُوتُ - عزیز مصر کا لقب۔ کلمہ فارسی ہے بمعنی بادشاہ یا وزیر، سردار۔ خَدَدَنَ (ض) خَدِيدًا وَ أَخَدَّ - الجرح - زخم کا پیپ بہانا۔ خَدَأَ وَخَدِي (ض) خَدَأٌ - وَخَدَاءٌ وَخَدُوءٌ وَ اسْتَخَدَأَ آلَهُ - فروتنی کرنا۔ مطیع و فرمانبردار ہونا۔ أَخَدَعَهُ - ذلیل کرنا۔ تابع کرنا الخَدَأُ - نفس کی کمزوری۔ خَدَرَفَ - جلدی کرنا۔ ه بالسيف - جسم کے اطراف کی تلواریں سے قطع برید کرنا۔ الإِنَاءُ - برتن بھرنا۔ تَخَذَرَفَتَهُ - النوى - پھینک دینا۔ تَخَذَرَفَتَ - الثوبُ - کپڑا پھینکا۔ الخَدَرُوفَ - تیز رفتار۔ پھر کی۔ چکری۔ اس کو خرارہ بھی کہتے ہیں۔ اونٹوں کا گلہ جو دوسروں سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ ج۔ خَدَأَ إِيْفَ - کہتے ہیں۔ "تَرَكْتُ السِيوفَ رَأْسَهُ خَدَأَ إِيْفَ" تلواروں نے اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ — رَجُلٌ مُتَخَذِرِفٌ - اچھے اخلاق کا آدمی۔ خَدَعَ رَفَ (ض) خَدَعًا وَخَدَعٌ - — اللحم اذ القرع۔ گوشت یا کدو کی پھانگیں کرنا۔ بغیر جدا کیے ہوئے۔ تَخَدَعُ - کھٹنا۔ کہتے ہیں "ذَهَبُوا مَارَات. COM</p>	<p>میں بھوٹ ڈال دے۔ د۔ والخِدَامَة ، مضبوط چمڑے کا پٹہ جو اونٹ کے گٹے پر باندھا جاتا ہے۔ ج۔ خَدَمٌ وَ خَدَامٌ وَخَدَمَاتٌ - المُخَادِمِيَّة - نوکری۔ غلامی۔ المُخَدُومِيَّة - آقا۔ الخَدَام - خادم۔ نوکر۔ الخَدِيم - نوکر۔ غلام۔ المُخَدَم - پاؤں پر سفید داغ رکھنے والا گھوڑا۔ مُونٹ خَدَمَاءُ - المُخَدُوم - مفع۔ آقا۔ مولیٰ۔ کتاب مجذومہ "وہ مقبول کتاب جس کی لوگ شریں اور حاشیے لکھیں۔ المُخَدَم - والمُخَدَمَة - پازیب پہننے کی جگہ۔ تسمہ۔ پانچامہ کے کے نیچے کے حصہ پر باندھنے کی ڈوری۔ گیٹس۔ قوم۔ مُخَدَّمُونَ - بہت نوکر چاکر والے لوگ۔ خَادَنَهُ - مُخَادَنَةً - دوستی کرنا۔ ساتھی بننا۔ الخَدَنُ - دوست۔ ساتھی رنڈ کرو مُونٹ، ج۔ أَخَدَانُ الخَدِينُ - دوست۔ پیارا ساتھی۔ الخَدَانَة - یار باش آدمی۔ خَدَى (ض) خَدِيًا وَخَدِيَانًا - — الفرس او البعير۔ گھوڑے یا اونٹ کا تیز دوڑنا۔ أَخَدَى - أَخَدَاءٌ - تھوڑا تھوڑا چلنا۔ الخَد - جانور کے گوبر سے نکلنے</p>
---	---	---

<p>وال زمین۔ الخیرید۔ مص۔ سونے والے کا خراٹا۔ دو ٹیلوں کے درمیان نسبت زمین ج۔ آخرتہ۔ الخوار۔ بہت خراٹے لینے والا۔ مؤنث۔ خوارۃ۔ الخوارۃ۔ پھرکی۔ خبرئ (س) خرا و خراۃ و خراۃ و خروءا۔ پاشخانہ کرنا۔ لید کرنا۔ بیٹ کرنا کہا جاتا ہے۔ "خبرئ بینہم الضبع" یعنی ان کے درمیان دشمنی ہوگئی۔ الخروء۔ ج۔ خروء۔ (والخروء) پلیدی۔ پاشخانہ۔ بیٹ۔ لید۔ المخراۃ۔ والمخراۃ۔ پاشخانہ کی جگہ۔ ج۔ مخاری۔ خرب (س) خربا و خرابا۔ البيت۔ گھر کا ویران اور اجاڑ ہونا۔ صفت (خرب) مؤنث خربۃ (س) خربا، الوجل کسی کا پٹے ہوئے یا چھدے ہوئے کان والا ہونا۔ صفت (أخرب) مؤنث خرباء۔ ج۔ خوب۔ خوبہ (ض) خربا۔ ڈھانا۔ ہلاک کرنا۔ پھاڑنا۔ سوراخ کرنا۔ خوب (ض) خرابۃ و خرابۃ و خربا و خروبا۔ پھر ہونا۔ صفت (خارب) ج۔ خراب۔ خرب۔ البيت۔ گھر کو ڈھانا۔ تباہ کرنا۔ المزاۃ سوراخ کرنا۔ أخرب۔ البيت۔ ویران چھوڑنا</p>	<p>کاٹنا۔ الخذوم۔ ج خذوم۔ الخذیم۔ والمخذم۔ والمخذم۔ من السيوف۔ کاٹنے والی تلوار۔ الخذامة۔ کسی چیز کا ٹکڑا۔ المخذم۔ کاٹنے کا آلہ۔ پھری۔ تیز تلوار وغیرہ۔ خذ (د) خذوا و خذی رس، خذی۔ ڈھیلا ہونا۔ لحمہ۔ گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔ الاذن کان کا ڈھیلا ہونا۔ لٹکا ہوا ہونا۔ خذ واء۔ ڈھیلا کان۔ ڈھیلا کان والا۔ آخذی استخذی۔ تابع وار و فرما بردار ہونا۔ خو (د) ض) خرا و خروسا بلندی سے پستی میں گرنا۔ "خو اللہ ساچدا اللہ کے یے سجدہ کرتے ہوئے گزرا۔ لوچہ گرنا۔ الوجل مرنا۔ علیہ۔ انجان جگہ سے اچانک آپڑنا۔ آخرہ۔ اخراۃ۔ گرانا۔ کہا جاتا ہے۔ "ضربہ بالسیف فاخرہ" اس نے اس کو تلوار سے مار گرایا۔ انخر۔ ڈھیلا ہونا۔ الختر۔ کان کی جڑ۔ وہ قطع زمین جس میں سیلاب شگاف ڈال دے۔ ج خورہ۔ د۔ والخبری، چکی کا وہ سوراخ جہاں گیہوں ڈالے جاتے ہیں۔ الخروس۔ بلی کی آواز۔ پانی اور گڑھے</p>	<p>خذلت الطبیۃ۔ برقی کارپوز کو چھوڑ کر الگ پٹ مانا صفت (خازل و خذول) خذل۔ عنہ اصحابہ۔ کسی کو مدد دینے کی ترغیب دینا۔ ۔ کسی کو پھانسی، اور جنگ بند کرنے پر آمادہ کرنا۔ خاذلہ مخاذلۃ۔ مدد چھوڑنا۔ تخاذل۔ القوم۔ بعض کا بعض کی مدد کو چھوڑ دینا۔ باہم امداد ترک کرنا۔ رجلاہ پاؤں کا کمزور ہونا۔ الخذال۔ بہت مدد چھوڑنے والا۔ الخذالۃ۔ وہ شخص جس کی مدد ہمیشہ چھوڑی جائے۔ الخذول۔ بہت مدد چھوڑنے والا۔ رجل خذول الوجل وہ شخص جس کی ٹانگوں نے کمزوری یا کسی آفت یا شر کے باعث کام دینا چھوڑ دیا ہو۔ خدم (ض) خدما و خدم۔ الشئ۔ جلدی سے کاٹنا۔ خدم (س) خدمتا۔ مست ہونا۔ کٹ جانا۔ صفت۔ (خدایہ) خدم (س) خدمتا۔ تیز چلنا مکڑے مکڑے ہونا۔ أخدم۔ ذلت کا اقرار کرنا اور چپ رہنا۔ الشراب شراب کا کسی کو نشہ میں لانا۔ مست کرنا۔ تخدم۔ الشئ۔ مکڑے مکڑے ہونا۔ الشئ۔ کسی چیز کو تکلف سے کاٹنا۔ أخدم۔ قاطع ہونا۔ الشئ</p>
---	---	---

کی پتیاں بارتنگ کے مشابہ ہوتی ہیں۔ یہ سفید بھی ہوتی ہے اور سیاہ بھی۔
 اِخْوَانِيَّةٌ - سر جھکانا۔ زمین سے چمٹنا۔
 خَوَاتِمُ (ن) خَوَاتِمٌ - الاذُن - کان میں سوراخ کرنا۔ الارض زمین کے راستوں سے واقف ہونا۔
 خَوَاتِمُ (س) خَوَاتِمٌ - ہوشیار راہبر ہونا۔
 الخَوَاتِمُ وَالخَوَاتِمُ - سوئی وغیرہ کا سوراخ۔ کہا جاتا ہے: اضيق من خواتم الابرة۔ یا اجعل العود في خواتم الغاس۔ سینے کے پاس چھوٹی پسلی۔ ج۔ اَخْوَات - نوخودت ذئب خواتم تیز بھڑیا۔
 الخَوَاتِمُ - وہ ماہر و ہوشیار راہبر جو یا بان کے پوشیدہ راستوں سے بھی پوری واقفیت رکھتا ہو۔ ج۔ خَوَاتِمُ و خَوَاتِمَات - المَخْوَاتِمُ - صاف اور کھلا راستہ۔ المَخْوَاتِمُ - منع۔ وہ جہی کا کلن یا ناک یا ہونٹ یا پٹا ہو۔
 الخَوَاتِمُ - وہ محبت جس کی کوکھیں مٹی اور گوشت ڈھیلا ہو۔
 الخَوَاتِمُ - روی گھٹیا مسلمان۔
 خَوَاتِمُ الكَلَامِ - بے فائدہ کلام۔
 خَوَاتِمُ (رض) خَوَاتِمٌ و مَخْرَجًا - من موضعہ۔ باہر نکلا۔
 - في العلم - علم میں فائق و ماہر ہونا۔ یہ۔ نکالنا۔
 - عليه۔ کسی سے لڑنے

فی دینہ۔ ہم نے فلاں کے دن میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ ج۔ خَوَاتِمَات - الخَوَاتِمَةُ و الخَوَاتِمَةُ - ویران جگہ ج۔ خَوَاتِمَات و خَوَاتِمَات و خَوَاتِمَات - الخَوَاتِمَات - ویران۔ اجاڑ۔ ج۔ الخَوَاتِمَات و الخَوَاتِمَات - الخَوَاتِمَات و الخَوَاتِمَات - سوئی کا سوراخ۔ الخَوَاتِمَات و الخَوَاتِمَات - ایک قسم کا درخت۔ واحد (خَوَاتِمَات و خَوَاتِمَات) الخَوَاتِمَات - بھڑوں کے چھتے کے سوراخ۔ وہ سوراخ جن میں شہد کی مکھی شہد جمع کرتی ہے۔ مفرد (تَخْوَاتِمُ) (اصحیح الخَوَاتِمَات ہے) خَوَاتِمَات - خَوَاتِمَات - الكتاب او العمل۔ کتاب یا عمل کو خوب کر دینا۔ بگاڑ دینا۔ خَوَاتِمَات الخَط - خط کی بگاڑی ہوئی جگہیں۔ خَوَاتِمَات الدُّجَاة - مرغی کے کریدنے کے نشان۔ خَوَاتِمَات - الأَشْيَاء - چیزوں کو الگ الگ کرنا۔ المَتَال مال کو لے اڑنا۔ خَوَاتِمَات - چلنے میں جلدی کرنا۔ الشَّيْء - ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ العَمَل - بگاڑنا۔ الخَوَاتِمَات - پھاڑنا۔ الخَوَاتِمَات - پودوں کا ایک دوسرے سے متصل ہونا۔ الخَوَاتِمَات - ایک قسم کی گھاس جس

- المکان - خالی ہونا۔ تَخْوَاتِمَات - الدود الشَّجَرَات - کیڑے کا درخت کو کھا جانا۔ یا سوراخ کر دینا۔ اسْتَخْوَاتِمَات - الرجل آدمی کا مصیبت سے شکستہ حال ہونا۔ - الیہ - مشتاق ہونا۔ - السقاء - مشک کا سوراخ وار ہونا۔ الخَوَاتِمَات - ویران جگہ۔ پہاڑ کا باہر نکلا ہوا کنارہ۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے: "هو خَوَاتِمَات العظام" یعنی اس کی ہڈیوں میں گوا نہیں "هو خَوَاتِمَات الجوف" وہ خالی پیٹ اور بھوکا ہے۔ "هو خَوَاتِمَات الامانة" وہ امانتداری نہیں رکھتا۔ "رجلٌ يخرِبَان" بزدل آدمی۔ الخَوَاتِمَات و الخَوَاتِمَات و الخَوَاتِمَات - سرین کا گڑھا یا سوئی کا سوراخ۔ بقول بعض ہر گول سوراخ مثلاً کان کا سوراخ۔ ج۔ خَوَاتِمَات و اَخْوَاتِمَات و خَوَاتِمَات - الخَوَاتِمَات و الخَوَاتِمَات - گڈریے کا تھیلہ۔ دینی خرابی۔ الخَوَاتِمَات - چمپنی۔ عیب۔ لغزش۔ ہر وہ چیز جس سے شرم کی جائے مذہبی خرابی۔ کہا جاتا ہے۔ "هو صاحب خوبة" وہ دینی خرابی رکھتا ہے۔ اور اسی سے ہے "لحي الله ادنانا الى كل خوبة" اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو کہ اس نے ہم کو ہر مذہبی خرابی سے قریب کر دیا۔ "وما رأينا من فلان خوبة"

کے لیے نکلنا۔ الرعیة
علی الملک: رعایا کا بادشاہ
کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا۔
— الی فلان من دینہ:
قرض ادا کرنا۔ چکانا۔

خَرْجَه — مِنَ الْمَكَانِ — نکلنا
— الارض — کسی زمین پر
خراج مقرر کرنا۔ المسئلة۔
مسئلہ کی وجہ بیان کرنا۔
الولد فی الادب۔ بچہ کو
تربیت دینا۔ با ادب، اور
مہذب بنانا۔ العمل۔
ایک دوسرے کے مخالف
مختلف قسم کے کر دینا۔
الغلام اللوح۔ لڑکے کا تختی
کے کچھ حصہ پر لکھنا۔ اور کچھ کو
بے لکھے چھوڑ دینا۔ الراعیة
المرتع۔ کچھ حصہ چر لینا اور کچھ
بے چرا چھوڑ دینا۔

أَخْرَجَ — الشئ — نکلانا۔
الرجل۔ خراج ادا کرنا۔
الراعیة المرتع۔ کچھ حصہ چر لینا
اور کچھ بے چرا چھوڑنا۔

خَارِجَ — السید العبد۔ آقا
کا اپنے غلام سے ماہوار مقررہ رقم
کی ادائیگی کا معاملہ کرنا۔
تَخَارَجَ — الشركاء۔ شرکیوں کا
جائیداد کو آپس میں تقسیم
کر لینا۔

اُخْرِجَ — الشئ — نکلانا۔
استنباط کرنا۔ ایجاو کرنا۔
— فلاناً — کسی سے نکلنے کے
لیے کہنا۔

اُخْرِجَ دِاخْرَاجَ — الحيوان
جانور کا سیاہ و سفید رنگ والا

ہونا۔ صفت (أَخْرَجَ)
مؤنث خَرَجَاء۔

اِسْتُخْرِجَ — الشئ — استنباط
کرنا۔ کسی سے باہر نکلنے
کے لیے کہنا۔ المسئلة۔
مسئلہ کو حل کرنا۔۔۔۔۔
اِسْتُخْرِجَتِ الارضُ۔ زمین کا
کاشت وغیرہ کے لیے درست
کیا جانا۔

الخَرْجُ۔ خراج۔ خراج اور خراج
میں فرق کیا گیا ہے۔ یعنی خراج
وہ ہے جو انسان کے عوض میں
ہو۔ اور خراج اس سے عام ہے
— خرج۔ اول اول گھرتے

وقت کا بادل۔ ج۔ أَخْرَاجُ
الخَرْجَةَ۔ ایک دفعہ کا نکلنا۔
الخَرْجُ۔ خرجی۔ ج۔ خَرْجَةَ۔
الخَرَاجُ۔ مثلثة الخاء۔ زمین
کا محصول۔ ٹیکس۔ جزیرہ۔

ج۔ أَخْرَاجُ وَأَخْرَجَةَ۔
وجج۔ أَخَارِيجُ۔
الخَرَاجُ۔ پھوٹے پنھیاں۔ آبلے
واحد خَرَجَةٌ۔ ج۔
خَرَاجَاتُ۔ خَرَاجٌ وَخَرَاجٌ
وخرجة دلجة۔

بہت نکلنے والا اور داخل ہونے
والا۔ بڑا ہوشیار۔ حیلہ گر۔
الخَارِجُ۔ ہر شے کا ظاہر نکلنے والا۔
الخَارِجَةُ۔ الخَارِجُ کا مؤنث
ج۔ خَارِجَاتُ وَخَوَارِجُ
الخَوَارِجُ۔ ہانسی لوگ۔ جماعت
سے جدا ہونے والے لوگ۔

الخَارِجِي۔ بیرونی۔ وہ شخص جو
ذاتی قابلیت سے سرداری حاصل
کرے۔ اس کی سرداری قدیمی

خاندانی نہ ہو۔ وہ شخص جو خود
بہادر و شجاع ہو اور اس کا باپ
بزدل۔ وہ سبقت لے جانے
والا گھوڑا جس کے ماں باپ
ایسے نہ ہوں۔ بادشاہ سے
بغاوت کرنے والا۔ اور جماعت
سے نکل جانے والا۔ خوارج کے
مذہب کا معتقد۔

الخَارِجِيَّةُ۔ الخارِجِي کا مؤنث
وہ منصب جس کے ذریعہ دوسری
حکومتوں سے تعلقات رکھے
جائیں۔

الخُرُوجُ۔ مص۔ يومُ الخُرُوجِ
عید کا دن۔ يومُ القيامة۔
قیامت کا دن۔

المُخْرِجُ وَالْمُخْرِجَةُ۔ الخَارِجِي
تربیت یافتہ۔

المُخْرِجُ۔ نکلنے کی جگہ۔ بدن انسانی
میں پائخانہ کا مقام۔ ج۔

مُخَارِجُ۔ المَخَارِجُ۔ عند
القراء والصوفيين۔ من
میں حروف کے کھلنے کی وہ جگہیں
جن سے حروف آپس میں ایک
دوسرے سے ممتاز اور جدا
ہوتے ہیں۔

المُخْرِجُ۔ مفتح۔ نکلنے کی جگہ۔
خَرْخَرًا۔ النائمُ خَرَّخَرًا۔

— التمرُ والسنوُما۔ پیتے
یا بلی کا خرخر کرنا۔ آواز کرنا۔

تَخَرَّخَرًا۔ بَطْنُهُ۔ پیٹ کا موٹاپے
کے سبب ہلنا۔

الخَرَّخَرُ۔ پانی بہنے یا ہوا چلنے کی
آواز۔

الخَرَّخَارُ۔ کثرت سے ہتا ہوا پانی۔
خَرَدَاتُ (س) خَرَدًا وَتَخَرَدَاتُ۔

— الجارية لڑکی کا باکرہ ہونا
دو شیخہ ہونا۔
خِرَدٌ وَأَخْرَدٌ — الرجل۔ ویر
تک خاموش رہنا۔ کلام کم کرنا۔
ذلت کی وجہ سے شرم کرنا۔
— "أَخْرَدَ إِلَى الدَّهْوِ"
مائل ہونا۔
الْخَرِيدُ وَالْخَرِيدَةُ وَالْخُرُودُ
باکرہ لڑکی۔ شرمیلی اور زیادہ
خاموش رہنے والی لڑکی۔ ج۔
خَرَايِدٌ وَخُرْدٌ وَخُرْدٌ۔
— "صَوْتُ خَرِيدٍ" نرم
شرمیلی آواز — "لَوْ لَوْ
خَرِيدٌ" ناسفتموتی۔
الْخَرِيدَةُ — ناسفتموتی۔ ج۔
خَرَايِدٌ وَخُرْدٌ وَخُرْدٌ۔
الْخُرْدَةُ — (فارسی کلمہ ہے) چھوٹا
چھوٹا متفرق اسباب و سامان۔
الْخُرْدِجِي — خردہ بیچنے والا۔ معمولی
تاجر۔ بساطی۔
خُرْدَقٌ — الْعَمَلُ۔ کام کو
بگاڑنا۔ کلمہ عالیہ ہے اس کے
لیے فصیح خُرْدِيقٌ ہے۔
الْخُرْدَقُ — چہرہ۔ ج۔ خُرَادِقُ
(دخیل)
خُرْدَلٌ — الطَّعَامُ۔ اچھا
حصہ کھانا — اللَّحْمُ۔
گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے
کاٹنا۔
الْخُرَادِلُ۔ گوشت کے ٹکڑے۔
— لَحْمٌ (خُرَادِيلٌ) ٹکڑے
ٹکڑے کیا ہوا گوشت۔
الْخُرْدَلُ۔ رائی۔ واحد۔
(خُرْدَلَةٌ)
خُرْسَنٌ (ض) خُرْدَا — الْجِلْدُ

ستالی سے سینا۔
خُرْسَنٌ (س) خُرْسَنًا — کمزوری
کے بعد کسی امر کو درست، مضبوط
کرنا۔
الْخُرْسَنُ — ڈورے میں پروئے ہوئے
گھونگے سلیمانی منکے یا کوڑیاں۔
شیخے وغیرہ کے سوراخ دار
دانے۔ پتھر کے نگینے۔ واحد
(خُرْسَنَةٌ) — "وْخُرْدُ
الظَّهْرِ" ریڑھ کی ہڈی کے
منکے — خُرْدَاتُ الْمَلِكِ
بادشاہ کے تاج کے جواہر۔
الْخُرْدَةُ — سوراخ اور اس کا دھاگا
ج۔ خُرْسَنُ۔
الْخُرْدَانَةُ — موچی کا پیشہ۔ طائرُ
مُخْرَسَنٌ۔ وہ پرندہ جس کے
بازوؤں پر چتیاں پڑی ہوں۔
الْخُرْسَنُ — ستالی۔
خُرْسَنٌ (س) خُرْسَنًا۔ گونگا
ہونا۔ بے آواز ہونا —
أَخْرَسَهُ اللهُ۔ گونگا بنانا۔
— اخروست الارضُ
واستخروست۔ زمین کا
ناقابل زراعت ہونا۔
خُرْسَنٌ — عَلَى النَّفْسَاءِ زَجْرٌ كُو
اس کی خوراک دینا۔
تَخْرَسُ۔ بناوٹی گونگا بننا۔
تَخْرَسَتِ — النَّفْسَاءُ زَجْرٌ كُو
اپنے لیے کھانا تیار کرنا۔ اور
اسی سے یہ مثل ہے۔ "تَخْرَسِي
يَا نَفْسُ لَا مَخْرَسَةَ لَكَ"
یعنی تو اپنا کام خود ہی کر۔ کوئی
دوسرا کام کرنے والا نہیں۔
الْخُرْسُ وَالْخُرْسَانُ۔ بچہ کی
پیالی کا کھانا۔

الْخُرْسَةُ وَالْتَخْرُسَةُ — زچہ کا
قصوم کھانا۔ اچھوانی۔
الْخُرْسُ وَالْخُرْسُ — مٹکا۔
ج۔ خُرْسٌ — الْخُرْسُ۔
ناقابل کاشت زمین۔
الْخُرْسَانُ — مٹکا بنانے والا۔ یا بیچنے
والا۔
الْخُرْسُ — وہ زچہ جس کے لیے
اچھوانی تیار کی جائے۔
الْأَخْرَسُ — گونگا۔ ج۔ خُرْسٌ
وْخُرْسَانٌ وَآخِرًا — مَوْتٌ
خُرْسَاءٌ — لبنِ أَخْرَسٍ۔
جا ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے۔
"وَلَا بِي عَرَضًا أَخْرَسٌ
أَمْرَسٌ" یعنی اس نے مجھ سے
منہ موڑ لیا اور بات نہیں کی۔
الْخُرْسَاءُ — مصیبت۔ نہ گرجنے اور
چکنے والا ہادل۔
خُرْسُهُ (ض) خُرْسًا وَخُرْسُهُ۔
وْخَارَسُهُ۔ مُخَارَسُهُ وَ
خِرَاسًا وَآخِرًا — خِرَاسٌ
لگانا۔ کھرچنا — ه الذُّبَابُ
کھی کا کاٹنا۔
خُرْسٌ وَخُرْسٌ — الْغُصْنُ
ٹہنی کو ٹیڑھی چھڑی سے اپنی
طرف کھینچنا۔
خَارَسٌ — الْكَلْبُ۔ برا بھلا
کرنا۔ خُرْبٌ وَآخِرًا
لعبالہ۔ بال بچوں کے لیے
رزق طلب کرنا۔ کھانا۔
آخِرًا — الْجِرَاءُ — ایک
دوسرے پر حملہ کرنا۔ خَارَسُهُ
الشَّيْءُ — وَآخِرًا مِنْهُ
الشَّيْءُ۔ چھیننا۔ زبردستی لے
لینا۔

<p>لگانا — الرجل۔ جھوٹ بولنا۔ خَرَطَهُ دَن، وَخَرَطَهُ — الدواءُ دوا کا اسمال لانا۔ خَرَطْتُ دَس، خَرَطًا وَآخَرَطْتُ بکری یا اونٹنی کو خرط کی بیماری لاحق ہونا۔ خرط بال طعام کھانے سے پھندا لگانا۔ تَخَرَّطَ — فی الاموس۔ دلیری و خود سری کرنا۔ اِنْخَرَطَ — الجسمُ۔ جسم کا دبلا اور لاغر ہونا۔ "انخرطت الخرزة فی السلك" منکوں کا ڈورے میں پرویا جانا۔ انخرط فی المكان۔ جلدی سے داخل ہونا۔ من المكان۔ کسی جگہ سے نکلنا۔ فی الامر۔ کسی کام میں جہالت نادانی سے لگ جانا۔ الصقور۔ شکرے کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ بطن الانسان اسہال کی شکایت ہونا۔ کہا جاتا ہے: "انخرط علينا بالقبيح" وہ ہماری طرف فحش گوئی و بد زبانی کے ساتھ متوجہ ہوا۔ اخترط — السيف۔ تلوار سونٹنا۔ العقود۔ انگور کے بچے کو منہ میں رکھ کر بغیر دانے کے نکالنا۔ استخرط — فی البکاء۔ پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ الخراط خراد کا کام کرنے والا۔ کھرا دی۔ بڑا جھوٹا۔ الخرط۔ جسم کی کمزوری۔ ایک بیماری ہے۔ جب وہ جانور کو لگ جاتی ہے تو جابجا ہوا دودھ اس کے تھنوں</p>	<p>تَخَرَّصَ — واخترص — عليه۔ بہتان باندھنا۔ تمہمت لگانا۔ جھوٹ بولنا۔ توشہ دان میں رکھنا۔ الخرص — اندازہ۔ کہتے ہیں: "کم خرص ارضك" تمہاری زمین کا اندازہ اور تخمینہ کیسا ہے۔ توشہ دان۔ چھوٹا نیزہ۔ بھالا۔ مٹکا۔ ٹوکری۔ الخرص والخوص۔ جہ خوصان و خوصان۔ سونے چاندی وغیرہ کی انگوٹھی۔ جہ۔ آخراص و خواص۔ کھجور کی شاخ۔ الخروطي والخوص والخوص۔ شہد نکالنے کی لکڑی۔ جہ۔ آخراص۔ الخوصة۔ حصہ۔ زچہ کا کھانا۔ الخويص۔ ٹھنڈا پانی۔ درختوں کی جڑوں میں جمع شدہ پانی۔ تہر کی جانب۔ الخراس۔ جھوٹا۔ الخرص۔ نیزہ۔ جہ مخارص خرط دن ص، خرطاً۔ درخت کے پتے ہاتھ کے ساتھ کھینچ کر اتارنا۔ العنقود انگور کا خوشہ منہ میں رکھ کر بغیر دانے کے نکالنا۔ الشجرة درخت کے پتے کھینچ کر اتارنا۔ العود۔ خاد سے لکڑی کو برابر اور ہموار کرنا۔ الحديد۔ لوہے کو عمود کے مانند لمبا کرنا۔ الجواهر جواہرات کو تھیلے میں ڈالنا۔ جمع کرنا۔ البازی۔ باز کو شکار پر چھوڑنا۔ الرجل فی الامر۔ کسی کو کسی کام میں</p>	<p>تَخَارَشَت — الكلاب۔ کتوں کا ایک دوسرے پر حملہ کر کے ٹوچنا۔ بھاڑنا۔ الخرش۔ مکھی۔ واحد خرشہ۔ گھر کا رومی پرانا سامان۔ جہ خروش۔ الخراشة۔ برادہ۔ الخرشاء۔ سانپ کی کینچلی۔ انڈے کا چھلکا۔ غبار۔ خرشاء العسل۔ موم۔ وہ شہد جس میں مردہ مکھیاں پڑی ہوں۔ جہ۔ خراشی۔ خرشب — العمل۔ کام کو اچھی طرح نہ کرتا۔ ادھورا کام کرنا۔ الخرشفة۔ مختلط کلام۔ حرکت (۔) والی خرشاٹ، وہ سخت زمین جس پر چلنا دشوار ہو۔ الخرشوف۔ ایک قسم کا خاردار پودہ۔ الخرشوم۔ وادی یا ہموار زمین پر نکلی ہوئی پہاڑ کی چوٹی۔ بڑا پہاڑ۔ جہ۔ خراشیم۔ خرص دن ص، خرصاً۔ جھوٹ بولنا۔ فی الامر۔ تخمینہ لگانا۔ اندازہ لگانا۔ اٹکل سے کہنا۔ قیاس کرنا۔ کہتے ہیں۔ "خرص النخلة" اس نے درخت خرما پر کھجوروں کا تخمینہ لگایا۔ اٹکل سے اندازہ کیا۔ خرص دن، خراصة۔ الشئ درست کرنا۔ خرص دس، خرصاً۔ بھوکا ہونا۔ ٹھنڈا پانا۔ صفت (خرص و خارص،</p>
--	--	---

<p>خَرَفَاتُ (ان) خَرَفَاتُ وَخَرَفَاتُ وَ خَرَفَاتُ وَخَرَفَاتُ - الثمر - پھل چننا۔ خَرَفَاتُ - الارض - زمین پر خریفہ کی بارش برسا۔ صفت (مخرؤفة) - البقائم موسم خریف آجانا۔ یا چوپایوں کے چرنے کے لائق سبزہ آگ آنا خَرَفَاتُ - فساد عقل کی طرف کسی کو منسوب کرنا۔ خَرَفَاتُ: مخرؤفة و خرفا۔ موسم خریفہ میں کسی سے معاملہ کرنا۔ أخرفه - خراب و فاسد کرنا۔ اخوفت الشاة - بکری کا موسم خریفہ میں بچہ دینا۔ أخرف الرجل - موسم خریفہ میں داخل ہونا۔ الثمر - پھل توڑنے کا وقت قریب آ پہنچنا۔ أخترت - الثمر - پھل چننا۔ فی مکان - کسی جگہ موسم خریفہ میں اقامت کرنا۔ الخرف و الخراف - پھل چننے کا زمانہ۔ الخرفاة - بے عقلی کی ہنسی والی بات الخروف - بکری کا بچہ۔ ج خراف أخرفه و خرفان۔ الخرفاة - بکری کا مادہ بچہ۔ وہ کھجور کا درخت جس کا پھل توڑا جائے الخرفاة - چننا برا میوہ۔ الخرفاة - موسم گرما و سرما کے درمیان کا زمانہ۔ موسم خریفہ کی بارش نسبت کے لیے (خرفی و خرفی و خرفی) تازہ چنی ہوئی کھجور۔ الخرفاة - وہ کھجور کا درخت جس سے</p>	<p>کا ہونا۔ الخروعت القناة - پھٹنا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ خَرَفَاتُ (ك) خَوَاعَةٌ وَخَرَفَاتُ وَخَرَفَاتُ - نرم اور ڈھیلے جھڑوں والا ہونا۔ صفت۔ (خروج و خریج) خَرَفَاتُ - الثوب - کپڑے کو عصفر و کسم کے رنگ میں رنگنا أخترع - الشئ - بھارتنا۔ پیدا کرنا۔ نئی بات ایجاد کرنا اور اس سے المخرعة ہے۔ فلاناً - کسی کے ساتھ خیانت کرنا۔ کسی کو دھوکا دینا۔ المداباة - کسی کے جانور کو میکان کے طور پر چند دن کے لیے لینا اور پھر واپس کر دینا۔ الخروعة - مص - بیباکی۔ الخروج - ارزلی کا پودہ جس سے کسٹرائل بنتی ہے۔ واحد (خروعة) الخراع - اونٹنی کی دیوانگی۔ اونٹنی کی پشت کی شکستگی۔ الخروج و الخریج و الخروج من النساء - نرمی و نزاکت سے چھکنے والی عورت۔ ج۔ خوالع و خروء - عیش خروء - خوش حال زندگی۔ رجل خریج - کمزور آدمی۔ ناقہ خریج و مخرؤعة - دیوانی اونٹنی۔ خروف (س) و خروف (ك) خرفا۔ بڑھاپے کے سبب فاسد عقل ہونا۔ صفت (خروف) مؤنث (خروفہ)</p>	<p>سے نکلتا ہے۔ الخروط - متہ زور جانور۔ ج۔ خروط - بے عقلی اور نادانی سے کاموں میں دخل دینے والا۔ الخرواطة - خراد کے کام کا پیشہ۔ الخرواطة - برادہ۔ الخرویطة - قیلا۔ ملک کا نقشہ۔ المس - اس کا دوسرا نام خارطہ بھی ہے۔ عربی اس کی مضمور۔ یا مخطط۔ ہے۔ المخروط - وہ بکری یا اونٹنی جس کو خرط کی بیماری لگ جائے۔ ج مخاریط۔ المخرطة - خراد کرنے کا اوزار ج۔ مخارط۔ المخروط - مفع۔ تھوڑی وارطھی والا۔ لمبا چہرہ۔ عند اهل المساحة - مخروطی شکل والا تنگ کنواں۔ الخروطیط - منقش بازوؤں والی تیری۔ ج۔ خرواطیط۔ الخروطل - ایک قسم کا غلہ۔ الخروطوم - والخروطم - ناک ہاتھی کی سونڈ۔ جلد نشہ لانے والی شراب۔ انگور کا پانی جو پلنے سے پہلے نکلے۔ خرواطیط القوم - قوم کے سردار۔ خروطمہ - سونڈ پر مارنا۔ أخرونطمہ - ناک اونچی کرنا۔ غضبناک ہونا۔ تکبر کرنا۔ خروعة (ف) خروعا۔ بھارتنا۔ خروء (س) خروعا۔ الشئ ٹوٹنا۔ و۔ و الخروج و الخروء الرجل - سست ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ کمزور جسم</p>
--	--	---

ترکبوریں تولی جائیں۔

الْخُرَافَةُ - بیہودہ کلام۔ باطل بات

ج۔ خُرَافَات - چنا ہوا پھل

الْمُخْرَف - چھوٹی ٹوکری جس میں

عمدہ تازہ کبجوریں ڈالی جائیں۔

ج۔ مَخَارِف -

الْمَخْرَفَةُ - درخت خرما کی دو

قطاروں کے درمیان کا راستہ

ج۔ مَخَارِف - بڑھاپے کی

وجہ سے عقل کی خرابی۔

الْمَخَارِف - من الوجال - محروم۔

خُرْفَش - الشئ - ملانا۔

خُرُق (ن ص) خُرُقًا - الثوب۔

کپڑا پھاڑنا۔

فَلَانًا

بالرمح - کسی کے نیزہ مارنا۔

الْكَذِب - جھوٹ بات بنانا

الْمَفَاذِق - ریگستان عبور

کرنے۔

الْعَادَةُ - عادت و

رہم کو توڑنا۔

الْبِنَاء -

فی البناء - عمارت میں روشندان

رکھنا۔

الرَّيْح - ہوا کا

تیز چلنا۔

الْوَجَل - جھوٹ

بولنا۔

خُرُق (ن ص) خُرُقًا -

فی

الْبَيْت - لگاتار قیام رکھنا۔

خُرُق (س) خُرُقًا - خوف یا

شرم کی وجہ سے دہشت زدہ

ہونا۔

صِفَت (خُرُق) -

الْبَيْت - گھر میں لگاتار قیام

رکھنا۔

الْغَزَالُ - ادا بطائر

ہرن یا پرندہ کا اٹھنے یا اڑنے

سے عاجز ہونا۔

خُرُق (س) و خُرُق (ن) خُرُقًا -

بے وقوف ہونا۔ بے ہنر ہونا۔

صِفَت (أَخْرَق) -

خَرَقَهُ - پھاڑنا۔

الْوَجَل - بہت جھوٹ بولنا۔

أَخْرَقَهُ - دہشت زدہ کرنا۔

تَخَرَّقَ وَتَخَرَّقَ وَتَخَرَّقَ - پھٹنا۔

وَتَخَرَّقَ الْمَلِكُ

جھوٹ گھڑنا۔

تَخَرَّقَ فِي

الْكُوم - نیا منی وسیع پیمانہ پر

کرنے۔

تَخَرَّقَتْ وَتَخَرَّقَتْ

الرَّيْح - ہوا کا تیز چلنا۔

إِخْتَرَقَ - الارض - زمین میں ایک

طرف کو بغیر راستہ کے چلنا۔

القَوْم - قوم کے درمیان

چلنا۔

الْكَذِب - جھوٹ گھڑنا۔

الْخُرُق - مص - سوراخ۔

شکاف

چٹیل۔

بِأَبَان - بے آب و گیاہ

بِأَبَان - کفادہ و فراخ زمین

جس میں ہوائیں تیز چلیں۔

ج۔

خُرُوق -

الْخُرُق - ج۔

أَخْرَاقٌ وَخُرُوقٌ

خُرُوق (د) - الخُرُق (مبالغہ

کے طور پر، نیا منی۔

سخی۔

الْخُرُقِ وَالْخُرُقِ وَالْخُرُقَةَ - رائے

کی کمزوری۔

نہ مناسب استعمال

جہالت۔

بے وقوفی۔

سختی۔

نومۃ الخُرُق - چاشت

کے وقت کی نیند۔

یہ اس لیے

کہ اس وقت سونا بے وقوفی کی

نشانی ہے۔

الْخُرُقَةُ - کپڑے کا پھیلاؤ۔

دھبی۔

ج۔

خُرُق -

الْخَارِق - فا۔

عجیب۔

غیر معتاد۔

مقتضائے عادت کے خلاف۔

ج۔

خَوَارِق -

الخَرِيقُ وَالْخُرُوق - ٹھنڈی تیز

ہوا۔

الْخَرِيق - ہلکی ہوا۔

ج۔

خُرُوق - وادی کا کشادہ

خصہ۔ پانی کے بننے کی جگہ۔

الْخُرُقَاء - اخرق کا ٹونٹ۔

فراخ

زمین۔ تیز ہوا۔

الْمَخْرَق - بے آب و گیاہ بیابان۔

ج۔

مَخَارِق - مخارق بدن

کے منافذ کو بھی کہتے ہیں۔

مثلاً منہ۔

ناک وغیرہ۔

الْمَخْرَقَةُ - جھوٹ۔

گھڑت۔

الْمَخْرَاق - خوبصورت جسم والا۔

سخی

تجربہ کار۔

ج۔

مَخَارِيق -

المَخَارِيق - دھبوں سے بٹا ہوا وہ

کوڑا جس سے بچے کہلتے ہیں۔

الْمُنْخَرِق - تیز رفتار۔

الْمُنْخَرِقُ - گذرگاہ۔

مخترق

الرياح - ہواؤں کے چلنے کی

جگہ۔

کما جاتا ہے۔

”مکان

خاوی المخترق“ وہ جگہ جہاں

کوئی چلنے والا نہ ہو۔

آمدورفت

نہ ہو۔

خَرَمَهُ (ن ص) خَرَمًا -

شکاف ڈالنا

سوراخ کرنا۔

خَرَمَ الخُرُقَةَ - خرم الخزینة۔

توڑنا۔

ناک کی درمیانی ہڈی کا

چھیدنا۔

الْأَبْرَةُ - سوئی کا

ناک توڑنا۔

عَنْ الطَّرِيقِ

راستہ سے ہٹنا۔

کہتے ہیں۔

خَرَمَتَهُ الخَوَارِمُ - یعنی وہ مر

گیا۔

وَمَا خَرَمَتَ مِنْهُ

شَيْئًا - میں نے اس میں سے کچھ

بھی کم نہیں پایا۔

خَرَمَهُ (س) خَرَمًا - ناک کی ہڈی کا

چھیدنا۔

صِفَت (أَخْرَم) -

خَرَمَدَك (خَرَامَةٌ - شوخ و

بے باک ہونا۔

صِفَت (خَايِم

و خَوِيِم) -

خَرَم - الخوسنق - سوراخ کرنا۔

<p>دیکھنا۔ چالاک ہونا۔ صفت۔ (خازسا) خزرت (س) خذرا۔ عینہ۔ تنگ آنکھ والا ہونا۔ صفت۔ (آخزسا)۔ مؤنث۔ خذراء ج۔ خذسا۔ خذسا۔ الرجل بھاگنا۔ خذسا۔ الشیء۔ تنگ کرنا۔ تخازسا۔ تیز نظر سے دیکھنے کے لیے آنکھ کو سکیڑنا۔ الخزسا۔ آنکھ کی تنگی۔ ایک قوم جن کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور بحر خزر کے کنارہ پر رہتی ہے اور اسی سے بحر الخزر یعنی بحر کسپین۔ الخزرة۔ والخزرة۔ پیٹھ کا درد۔ الخزرة۔ سخت بھینگا پن۔ جس میں آنکھ کا ڈھیلا کنپٹی والے گوشہ کی جانب الٹ جاتا ہے۔ الخیزران۔ بانس۔ نیزے۔ نرکل ہرزم لکڑی۔ ایک ہندی درخت جس کی لمبی جڑیں زمین میں پھیلی ہوتی ہیں۔ واحد۔ خیزرانة۔ ج۔ خیاڑسا۔ الخیزوسا۔ نرکل۔ الخوزری والخیزومی۔ نازو انداز کی چال۔ الخزماج۔ جنونی ہوا۔ خزرت۔ فی مشیة۔ ہاتھوں کو اوپر نیچے ہلاتے ہوئے چلنا۔ خزما (ن) خذعا و تخزما۔ الشیء۔ کاٹنا۔ عن القوم پیچھے رہ جانا۔ خزما منه شیئا۔ لینا۔ تخزما عوا الشیء۔ آپس میں بانٹ لینا۔</p>	<p>خزائق۔ الخوزنی۔ بادشاہ کے کھانے پینے کی مجلس۔ نعمان اکبر ابن امر القیس کا محل، جو عراق میں تھا۔ ایک قسم کا پودا۔ خزرن، خذرا۔ الحائظ۔ دیوار پر کانٹے رکھنا تاکہ اس پر کوئی نہ چڑھ سکے۔ خز الثمر پخوسن۔ کھجور کا قدرے ترش ہونا۔ صفت (خاشا)۔ واختزة، بالوجه نیزہ مارنا کہا جاتا ہے۔ خذة و اختزة ببصوة۔ اس نے اس کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ الخز۔ ریشم۔ ریشم اور اون کا بنا ہوا کپڑا۔ ج۔ خذوسن۔ الخزس۔ نرگوش۔ ج خذان واخذة۔ الخزیز۔ بہت ہی خشک عوچ۔ (ایک کاٹا) الخزاز۔ ریشم کا سوداگر۔ المخذة۔ خرگوشوں کی جگہ۔ خزب (س) خزبا و تخزب — الجلد۔ کھال کا بغیر درد کے سوجنا۔ صفت (خزب) — الشاٹا۔ بکری کے تھنوں کا سوجنا۔ صفت (خزبة و خزبا)۔ الخیزب والخیزبان۔ نرم گوشت کا ایک ٹکڑا۔ (خیزبہ وخیزبانة) الخزبان والخازبان۔ مبنی علی الکسرة۔ باغ کی مکھیاں باغ کی مکھیوں کی بھینٹا ہٹ۔ خزسن (ن) خذرا۔ کنگھیوں سے</p>	<p>تخزم۔ ٹوٹنا۔ تخزمہ و اختزمہ۔ ہلاک کرنا۔ جڑ و بنیاد سے کھودنا۔ اخترمہ المرض۔ بیماری کا کسی کو دبلا و لاغر کر دینا۔ تخزمتہ و اختزمتہ المنیة۔ اس کو موت نے آن لیا۔ الخزوم۔ عتا۔ مزا۔ الخزم۔ انٹہ۔ ناک کا چھد جانا پھٹ جانا۔ کہتے ہیں۔ الخزم ذک القرن۔ یہ صدی ختم ہو گئی۔ الخزم۔ پہاڑ کی نکلی ہوئی ٹوک۔ ج۔ خزوم۔ الخزمان۔ جھوٹ۔ الخزمتہ۔ ناک میں چھدنے کی جگہ۔ الخزما۔ چھدا ہوا کان۔ عنزة خزما۔ عرض میں پھٹے ہوئے کان والی بکری۔ الخزومة۔ انسان کی ناک کا بانسہ یا دونوں نٹھنوں کا درمیانی حصہ۔ الخزم۔ مونڈھے کا کنارہ۔ شاہ روم کا لقب۔ الخزمان۔ اوپر کے جڑے کے پہر دو طرف دو سوراخ دار بڑیاں المخزم۔ پہاڑ کی ٹوک کا آخری سراج۔ ج۔ مخازم۔ مخازم اللیل۔ رات کی ابتدائی گھڑیاں۔ خزمتش۔ الکتاب۔ کتاب کو خراب کرنا۔ بگاڑنا۔ خزمتہ۔ بالسيف۔ تلوار سے مارنا۔ الخزوق۔ جوان خرگوش۔ ج</p>
---	---	---

موتی پرونا۔ (س و خزوم)
 البعير۔ اونٹ کی ناک میں
 چھلا ڈالنا۔ کہتے ہیں: خَزَمَ
 الف فلان: یا: جعل في
 الفه الخزامة: اس نے
 فلاں کی ناک میں ناکھ ڈال دی۔
 یعنی عاجز بنا دیا۔ اور تابع کر لیا۔
 خازمه مخازمة۔ الطریق۔ دو
 مختلف راستوں سے چل کر ایک
 جگہ آ کر ملنا۔
 تَخَزَمَ۔ الشون في رجله۔ کانٹے
 کا پاؤں میں چبھنا۔
 تَخَزَمَ۔ الجیشان۔ دو فوجوں کا
 ایک دوسرے کے مقابل آنا۔
 الخزوم۔ ایک درخت جس کی چھال
 سے رسیاں بٹتے ہیں۔
 الخزامی والخزام۔ ایک پودا
 جس کے پھول بہت خوشبودار
 ہوتے ہیں۔
 الخزامة۔ باریک چڑا جس سے
 دولت مندوں کو باندھتے ہیں۔
 جر۔ خزائم۔ الاخزوم۔ زر
 سانپ۔
 المخزوم۔ پہاڑی راستہ۔ جر
 مخازم۔ شراك مخزوم۔
 کٹا ہوا تسمہ۔
 خَزَنَ (ن) خَزَنًا وَاخْتَزَنَ —
 المال۔ مال جمع کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔
 — السر۔ بھید چھپانا —
 اللسان۔ زبان کو روکنا —
 اختزن الطريق۔ قریب ترین
 راستہ اختیار کرنا۔
 خَزَنَ (ن) خَزَنًا وَاخْتَزَنًا و
 خَزَنَ (س) خَزَنًا وَاخْتَزَنًا
 دك، خَزَانَةٌ — اللحم

تیر مارنا — خَزَقَ الطائرُ
 پرندہ کا بیٹ کرنا — الشئ في
 الارض۔ زمین میں کوئی چیز کاڑنا۔
 تَخَزَّقَ۔ وَاخْتَزَّقَ۔ پھٹ جانا۔
 جھد جانا۔
 اخْتَزَّقَ — السيفُ۔ تلوار کا میان
 سے نکلنا۔
 الخازق۔ فا۔ نیزہ کا پھل۔
 الخازوق۔ ایک نوکدار لمبا ڈنڈا
 جس کو مجرم کے مقعد میں داخل کر
 کے سولی دی جاتی تھی۔ جر
 خوازيق۔ مولدین نے اسی
 سے فعل (خَوَزَقَ) بنایا ہے۔
 المخزقة۔ برہمی۔
 خَزَلَ (س) خَزَلًا۔ پیٹھ کا ٹوٹنا۔
 صفت (اخْزَلٌ وَاخْزُولٌ)
 خَزَلَ (ض) خَزَلًا — الشئ — کاٹنا
 — عن حاجته۔ روکنا۔
 تَخَزَّلَ۔ کٹنا۔ بوجھل چلنا۔ سست
 چلنا۔
 انْخَزَلَ۔ گرانباری سے چلنا —
 في كلامه۔ رک جانا۔ بند ہونا
 — عن الجواب۔ جواب سے
 لاپرواہی کرنا — من المكان
 کسی جگہ سے علیحدہ ہونا۔
 اخْتَزَلَ — الشئ — کسی چیز کو کاٹنا
 — عيب لگانا —
 برأيه۔ اپنی علیحدہ رائے رکھنا۔
 — عن قومہ۔ قوم سے
 علیحدہ کرنا — الوديعۃ۔ امانت
 میں خیانت۔
 الخزلة۔ پیٹھ کی شکستگی۔
 الخزلة۔ مراد سے روکنے والا۔
 الخوزلي والخيزلي۔ سست چال۔
 خزوم (ض) خَزُمًا — الآلي

خَزَمَ — الشئ — کاٹنا — الشئ
 بينهم۔ تقسیم کر لینا۔
 انْخَزَمَ — الجبلُ۔ رسی کا بیچ
 سے کٹ جانا — الرجلُ آدمی
 کا بڑھاپے اور کمزوری کے باعث
 جھکنا۔
 اخْتَزَعَهُ لينا۔ عن القوم
 جدا کر لینا۔
 الخزاع۔ موت۔
 الخزعة ایک پاؤں سے لنگڑا پن۔
 الخزعة گوشت کا ٹکڑا۔
 الخزاعة کسی چیز کا ٹکڑا۔
 الخوزع بڑھیا۔
 الخوزعة رگ کا تودہ جو بڑے تودہ
 سے جدا ہو۔
 الخزوع۔ وہ جو لوگوں کے مالوں کو
 اڑالے۔
 الخزوعيل والخزوعيل و
 الخزوعيل۔ خوش طبعی کی باتیں۔
 کہانیاں۔ بیہودہ باتیں۔
 الخزوعيلة خوش طبعی۔ مذاق۔
 خَزَعَلَ — في مشيه۔ چلنے میں
 لنگڑانا — الماشي پاؤں کو
 جھاڑنا۔
 الخزعل۔ بچو۔
 الخزعالۃ۔ خوش طبعی۔ کھیل کود۔
 خَزَفَ (ض) خَزَفًا — في مشيه
 چلنے میں ہاتھ ہلانا — الثوب
 جھاڑنا — الشئ — چیرنا۔
 الخزف۔ واحد (خزفہ) ٹھیکری
 مٹی کے کپے ہوئے برتن۔
 الخزاف والخزفي۔ مٹی کے برتن
 بنانے یا بیچنے والا۔ کھار۔
 خَزَفَهُ (ض) خَزَفًا۔ نیزہ آہستہ
 مارنا — خَزَفَهُ بالسهم

استخسّته۔ رذیل یا کمینہ پانا۔ رذیل
یا کمینہ سمجھنا۔ حقیر ماننا۔
الخس۔ ایک مشہور سبزی —
خس الحمار و خس البقر۔
ووجنگلی گھاس کے نام۔
الخسّاس۔ ہر وہ شے جس کا لین دین
لوگ آپس میں کریں۔
الجسّاسۃ۔ مٹھڑا مال۔
الخسینۃ۔ الخسین کا مؤنث
ج۔ خسائس۔ خسائس
الاموس۔ حقیر باتیں —
شئ (خسائی و محسوس)
معمولی حقیر چیز — الخسّان
وہ ستارے جو غائب نہ ہوں۔
جیسے بنات النعش۔
خسّاء (ف) خسّاء۔ الکلب
کتے کو دھتکارنا۔ (خسّاء و
خسوعاً) البصر۔ نظر کا ٹھکنا۔
کزور ہونا۔ (و خسی) (س)
خسّاء و انخسّاء —
الکلب۔ دور ہونا۔ دھتکارا جانا
خاساً مخاساً و تخاساً
تخاسوؤاً۔ القوم۔ ایک
دوسرے کو پتھر مارنا۔
الخسیّ۔ گھٹیا اون وغیرہ۔
الخایسی۔ فاء من الخنازیر
والکلاب۔ دھتکارے اور ہکائے
ہوئے کتے اور سورجن کو لوگوں
کے پاس نہ پھینکنے دیا جائے۔
خسراً (س) خسراً و خسراً و
خسراً و خساراً و خساراً
و خساراً۔ گھٹا پانا۔ نقصان
اٹھانا۔ گمراہ ہونا۔ ہلاک ہونا۔
صفت (خاسر و خسیر و
خیسری)

ج۔ خزایا۔
خزوی (ض) خزّیا۔ شرمندگی
میں ڈالنا۔ رسوا کرنا۔ فضیحت
کرنا۔ بہت زیادہ رسوا کرنا۔
خازاہ مخازاۃ۔ شرمندگی میں ڈالنا۔
اخزّاء۔ اخزّاء۔ شرمندگی میں ڈالنا۔
ذیل کرنا۔ امانت کرنا۔ جب
کسی سے کوئی اچھا فعل سرزد ہوتا
ہے تو کہتے ہیں۔ "اخزّاه اللہ
ما اشعرہ" جس طرح کہتے
ہیں "قائلہ اللہ ما اشجعہ"
اس قسم کی دعاؤں میں معنی مراد
نہیں ہوتے۔
استخزّی۔ شرمندگی محسوس کرنا۔
الخزّی۔ ذلت۔ خواری۔ عذاب۔
دوری۔
الخزّیۃ و الخزّیۃ۔ مصیبت۔
آفت۔ وہ عادت جس سے
انسان کو ذلیل ہونا پڑے۔
المخزّاة۔ باعث شرمندگی و
ذلت۔
خسّ (س) خسّاسۃ۔ و
خسوسۃ و خسّۃ۔ رذیل
ہونا۔ وزن یا اندازہ میں کم ہونا
صفت (خسین) ج۔ خسّاس
و اخصّۃ۔
خسّ (س) خسّاً و خسّس۔
نصیبہ۔ حصہ کم کرنا۔
آخسّ۔ گھٹیا کام کرنا۔ رذیل کام
کرنا — رذیل پانا۔ حقارت
کرنا — آخسّ حقلہ۔ حصہ
کم کرنا۔
تخاسّوا۔ الشئ۔ کسی کو آپس
میں لینا دینا اور اس میں سبقت
کرنا۔

گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت
(خزّین)
اخزّان۔ محتاجگی کے بعد خوشحال
ہونا۔ مالدار ہونا۔
استخزّتہ۔ المال۔ مال جمع
کرنے کے لیے کسی سے درخواست
کرنا۔ استخزون المال۔
مال جمع کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔
الخزّانۃ و الخزّینۃ۔ ذخیرہ کرنے
کی جگہ۔ ج۔ خزّائین —
الخزّانۃ۔ خزّانچی کا پیشہ۔
الخزّان۔ فا۔ خزّانچی —
خازن الامیر۔ امیر کے مال
کی حفاظت کرنے اور اس کو
خرچ کرنے کا ذمہ دار۔ ج
خزّانۃ و خزّان —
الخزّان۔ زبان۔
الخزّانۃ و الخزّینۃ۔ خزّانہ۔ ذخیرہ
کیا ہو مال۔
الخزّان۔ زبان۔
المخزّان۔ ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ ج
مخازن۔ مخازن الطریق
منزل مقصود تک پہنچنے کے قریب
ترین راستے۔
خزّاء (ن) خزّوا۔ غالب آنا
سیاست کرنا۔ خواہش نسانی
سے روکنا۔ دشمنی کرنا —
خزّالہ ربّہ۔ جانور کو سدھانا۔
خزّی (س) خزّیاً و خزّی۔ ذلیل
ہونا۔ خوار ہونا۔ مصیبت میں
پڑنا۔
خزّیہ و خزّی منہ خزّایۃ
دخزّی شرم کرنا۔ صفت
(خزّی) مؤنث خزّیۃ۔ و
لخزّیان، مؤنث خزّیاء۔

خَسْرَ (ض) خَسْرًا وَخُسْرَانًا۔
 — المیزان۔ کم تولنا۔ کم
 کرنا۔ گھٹانا۔ المال۔ ضائع
 کرنا۔
 خَسْرَةٌ وَأَخْسَرَهُ۔ نقصان دینا
 گمراہ کرنا۔ ہلاک کرنا۔
 اخسر الرجل۔ کسی کا نقصان
 میں پڑنا۔ نقصان اٹھانا۔
 اخسر المیزان۔ گھٹانا۔ کم
 کرنا۔
 الخایسر۔ فا۔ کثرة خایسرة۔
 ناکام حملہ۔
 الخسرو والخسری۔ وہ شخص
 جو نقصان میں ہو۔ ج
 ختایسرة۔
 خسیع۔ خسعا۔ عنده کذا۔
 کسی سے کسی چیز کا دور کیا جانا
 خایسع القوم خسیعتهم
 قوم میں ادنیٰ درجہ کا آدمی۔
 خَسَفَ (ض) خُسُوفًا۔ المکان
 کسی جگہ کا دھنس جانا۔ القمر
 چاند کو گھن لگنا۔ العین
 آنکھ کا جانا رہنا یا گڑھے میں
 بیٹھ جانا۔ السقف ھجت
 کا گرنا۔ الشئ کم ہونا۔
 — الرجل۔ دبلا ہونا۔
 خَسَفَ فِي الْأَرْضِ۔ وَخَسِفَ
 بِلَهُ۔ زمین میں دھنس جانا۔
 (خَسَفًا)۔ الشئ۔ کاٹنا۔
 — العین۔ آنکھ پھوڑنا۔
 — اللہ الارض۔ اللہ تعالیٰ
 نے زمین کو مع اس کی اوپر کی
 چیزوں کے دھنسا دیا۔
 اللہ الارض بفلاں۔ اللہ
 تعالیٰ نے فلاں کو زمین میں دھنسا

دیا۔ البئر۔ پتھر کی
 سنگ لایخ زمین میں کنواں کھودنا
 جو ہمیشہ جاری رہے۔
 فلائا۔ کسی کو ذلیل کرنا اور
 ناگواری کی بات پر مجبور کرنا۔
 خَسَفَ۔ الشئ۔ فخسف ہو۔
 پھاڑنا اور پھٹ جانا لازم و
 متعدی،
 أَخَسَفْتُ وَالْخَسْفَتُ۔ عینہ۔
 آنکھ کا اندھی ہونا۔ الارض
 زمین کا مع اپنی اوپری چیزوں
 کے دھنس جانا۔ البئر۔
 کنویں کا منہم ہونا۔ بیٹھ جانا۔
 الخسف۔ مص۔ عیب۔ ذلت۔
 کہتے ہیں۔ "سَامَهُ خُسْفًا
 وَخُسْفًا" اس نے اس کو
 ذلیل کیا اور مشقت میں ڈالا۔
 — الخسف۔ کنویں کی سیر
 یا سوت۔
 الخاسف۔ فا۔ دھنسی ہوئی آنکھ
 دبلا۔ بیماری کی وجہ سے کمزور و
 لاغر۔ بھوکا۔ ج۔ خسفت۔
 الخسف والخسف۔ خسروٹ۔
 واحد خسفة، کہا جاتا ہے
 "باتوا علی الخسف" انھوں
 نے بھوکے رہ گزرات کاٹی۔
 "وشربنا علی الخسف" ہم نے
 بغیر کچھ کھائے ہوئے پیا۔
 الخسیف۔ ج۔ آخسفة وخسفت
 ودر۔ الخسوف، ج خسفت
 — من الآباس۔ کنواں جو چٹان
 میں کھودا جائے اور اس کا پانی
 بند نہ ہو۔ الخسیف من
 العیون۔ اندر کو دھنسی ہوئی
 آنکھ۔ من البنوق

بہت دودھ دینے والی اونٹنی،
 جس کا دودھ جاڑے میں جلا دیا
 ہو جائے۔ من السحاب۔
 وہ اٹھنے والا بادل جو پانی سے
 بھرا ہو۔
 الآخاسف والاخاسیف۔ نرم
 زمینیں۔
 خَسَقَ (ض) خَسَقًا وَخُسُوقًا
 السهم۔ تیر کا اچھی طرح نافذ
 نہ ہونا۔
 الخساق۔ بڑا جھوٹا۔ کہا جاتا ہے
 "هو ذو خسقات فی البیع"
 یعنی وہ بیع کو کبھی نافذ کرتا ہے اور
 کبھی فسخ کرتا ہے۔
 خَسَلَهُ (ن) خَسَلًا۔ رذیل بنانا۔
 جلا وطن کرنا۔ پھینک دینا۔ دور
 کرنا۔ الخسالة والخسالة
 رومی چیز۔
 الخسیل۔ حقیر۔ رذیل۔ ادنیٰ۔ ج
 خسال وخسائل۔
 الخسئل والخسائل۔ رذیل اور
 کمزور۔
 المخبسل والمخسول۔ رذیل۔
 حقارت کیا ہوا۔
 خاسی فحاساة و آخسی۔
 احساء و خسی تخسیة۔ ہ
 ایک دوسرے کے ساتھ اخروٹ
 سے طاق و جفت سے کھیل کھیلنا۔
 الخسا۔ طاق۔ ج۔ الاخاسی
 خس دن، خسا۔ فیہ داخل
 ہونا۔ السحاب۔ بادل کا
 تھوڑی بارش برسانا۔ زیدنا
 نیزہ مارنا۔ البعیر۔ اونٹ
 کی تاک میں کڑی ڈالنا۔
 ان خس۔ فیہ۔ داخل ہونا۔

— بین القوم۔ گھل مل جانا۔
 الخش۔ مص۔ تھوڑی بارش
 - دراز یا شکاف۔ کھدوی چیز
 پیادے۔
 الخش۔ ٹیلہ۔
 الخاش۔ فا۔ واحد (الخش)
 پیدل۔
 الخشاش۔ زمین کے کیڑے مکوڑے
 چھوٹے پرندے۔ پہاڑی سانپ
 اونٹ کی ناک میں ڈالنے کی
 لکڑی۔ واحد (خشاشة)
 غصہ کہا جاتا ہے۔ "حَرَكَ
 خَشَاشَةً" وہ غضبناک ہوا۔
 — خشاشا الشئ چیزوں کے
 دونوں کنارے۔ ج۔ آخشة
 الخشاش۔ برا۔ ردی۔ شجاع۔ بہادر
 الخشاء۔ گارے اور کنکر والی زمین
 ج۔ خَشَاوَات و خَشَائِي۔
 الخشاء۔ کان کے پیچھے ابھری ہوئی
 بڈی۔
 الخش۔ بہادر۔ جری۔ دل چلا۔
 دلیر گھوڑا۔
 خَشَب (ض) خَشَبًا۔ الشئ وبالشي
 ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ
 ملانا۔ خلط ملط کرنا۔ الشئ۔
 صاف کرنا۔ چھانٹنا۔
 السيف۔ صیقل کرنا۔
 واختشِب، بلا تفتیح محض آمد
 کے مطابق شعر کہنا۔
 اختشِب السيف۔ تلوار کو
 لکڑی جیسا بنانا۔
 خَشَب۔ الشئ۔ موٹائی میں لکڑی
 کی طرح ہونا۔
 تَخَشَب۔ چراگاہ میں سوکھی گھاس
 چرنا۔ السيف۔ تلوار کو

لکڑی جیسا بنانا۔
 اخشوشب لکڑی کی طرح سخت
 ہونا۔ فی عيشة۔ مشقت
 پر صبر کرنا۔
 الخشب۔ موٹی لکڑی۔ ج
 خَشَب و خَشِب و خَشَب
 و خَشَبَان۔
 الخشب و الاخشب۔ موٹا۔ کھورا
 — عيش خشب۔ ناپسندیدہ
 زندگی۔ تکلیف والی گذران۔
 الخشاب۔ لکڑی بیچنے والا۔ ج
 خَشَابَةٌ۔
 الخشباء۔ وہ سنگ لاج زمین جس
 میں پتھر، کنکر اور گارا ہو۔
 الخشيب۔ من السيوف ابھی کی
 ڈھالی ہوئی تلوار۔ صیقل شدہ
 تلوار۔ ردی۔ گھٹیا۔ صاف کی
 ہوئی چیز۔ من القيس
 تراشی ہوئی کمان۔ ج خَشِب
 و خَشَائِبُ۔ لمبے قد والا۔ ظالم
 کہتے ہیں۔ "جمل خشيب"
 موٹا اونٹ۔
 الخشوب۔ مخلوط نسل والا شخص
 جس کو اچھی تعلیم و تربیت نہ دی
 گئی ہو۔ اچھے طریقے سے کام نہ
 کرنے والا۔
 الخشاب۔ پست قدموٹا آدمی۔
 خَشَخَش۔ خَشَخَشَةٌ و
 تَخَشَخَش۔ السلاح او
 الحلی۔ ہتھیاروں یا زیورات
 کی جھنکار سنائی دینا۔ فلان
 بین الشجر او القوم۔ داخل
 ہو کر غائب ہو جانا۔
 الخشخاش۔ پوست کا پودا۔
 واحد (خشخاشة)

خَشَوَرْض، خَشْرًا۔ دسترخوان
 پر ردی چیز کا چھوڑنا۔
 الشئ۔ کسی شے سے اس کا
 ردی حصہ چن کر نکالنا۔
 خَشَرَس، خَشْرًا۔ بزدلی سے
 بھاگ جانا۔ حریص ہونا۔
 الخشار و الخشارة۔ ہر چیز کا ردی
 حصہ۔ دسترخوان کا بچا کھچا۔ وہ
 جو کاوانہ جس میں گودا نہ ہو۔
 رذیل لوگ۔
 خَاشِرَةٌ۔ الناس۔ رذیل لوگ۔
 واحد (الخاشر)
 خَشْرَمَت۔ الضبع۔ بچو کا کھلنے
 میں آواز نکالنا۔ چڑچڑ کرنا۔
 الخشوم۔ شہد کی مکھیوں یا بھڑوں
 کا دل۔ شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔
 شہد کی مکھیوں کی ملکہ۔ وہ نرم
 پتھر جس سے چونہ بناتے ہیں۔
 ج۔ خَشَارِمَةٌ۔
 الخشارم۔ موٹی آواز۔ بڑی ناک۔
 خَشَعَرَن، خَشُوْعًا۔ لہ فروتنی
 کرنا۔ عاجزی کا اظہار کرنا۔
 صفت (خاشع) ج
 خَشَع و خَشَعَةٌ و خَاشِعُونَ
 — ببصرہ۔ آنکھ نیچی کرنا۔
 — بصرہ۔ نگاہ کا پست ہونا
 — الصوت۔ آواز کا پست
 ہونا۔ الشمس۔ سورج کا
 ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 الورق پتے مرجھانا۔ الارض
 بارش نہ ہونے سے زمین کا
 خشک ہو جانا۔
 آخَشَعَه۔ عاجز کرنا۔ فروتنی پر
 برا لکھنا کرنا۔
 تَخَشَع۔ عاجزی دکھانا۔ خاکساری

دکھانا۔ دیکھنا۔ دیکھنا۔ دیکھنا۔
 دکھانا۔
 اِخْتَشَعُ۔ لہ۔ سر جھکاتے ہوئے
 کسی کے سامنے عاجزی کرنا۔
 اِخْتَشَعُ۔ فا۔ مکان خاشع
 وہ جگہ جس کی راہ نہ مل سکے۔
 — بَلَدَةٌ خَاشِعَةٌ۔ وہ
 شہر جس میں ٹھہرنے کی کوئی جگہ
 نہ ہو۔ — جَدَّ اسُّ خَاشِعٌ
 وہ دیوار جو گر کر زمین کے برابر
 ہو جائے۔
 اِخْتَشَعُ۔ مردہ ماں کے پیٹ کو
 بھاڑ کر زندہ نکالا ہوا بچہ۔
 اِخْتَشَعُ پست ٹیلہ۔ ج۔ خَشَعُ
 خَشَفَ (ن ص) خَشُوفًا۔ و
 خَشَفَانًا۔ ملک میں جانا اور
 غائب ہو جانا۔ رات میں چلنا۔
 الماءُ۔ پانی کا جم جانا۔
 البردُ۔ سردی کا تیز ہونا۔
 (و الخشفت) فی الشئ۔ داخل
 ہونا۔
 خَشَفَ (ض) خَشَافَةً۔ بالقوم۔
 ساتھ چلنا اور راہنمائی کرنا۔
 راہبری کرنا۔ (و خَشَفَا
 خَشَفَةً) برف پر چلنے سے
 برف کی آواز نکلنا۔ فی
 السیر۔ تیز چلنا۔
 خَشَفَ (س) خَشَفًا۔ البعير
 اونٹ کے پورے بدن کا خارش
 والا ہونا۔ صفت (اخشفت)
 مؤنث خَشَفَاء۔ ج خَشَفٌ
 خَشَفٌ۔ راہنمائی کرنا۔ راستہ
 دکھانا۔
 خَاشَفٌ۔ الی الشئ۔ برائی
 کی طرف جلدی کرنا۔ سبقت کرنا۔

کہا جاتا ہے: خَاشَفَ فِي
 ذمته، اس نے بد عمدی اور
 عمد شکنی میں جلدی کی۔
 خَاشَفَ السهم۔ تیر کا نشانہ
 پر آواز دینا۔
 اَخْشَفَتِ۔ الظبيَّةُ۔ ہرنی کا
 بچہ والی ہونا۔
 الخاشفت۔ فا۔ سيف خاشفت
 تیز تلوار۔ ماءٌ رخاشفتٌ
 و خشفتٌ، جما ہوا پانی۔
 الخشفت۔ بتثلیث الخاء۔ ہرنی
 کا نوزائیدہ بچہ۔ ج۔ خَشَفَةٌ
 (و الخشفت) سبز رنگ کی
 مکھی۔ واحد۔ (خَشَفَةٌ)
 الخشفتُ والخشفتةُ والخشفتةُ
 آواز۔ حرکت۔ آہٹ
 الخشفت۔ ذلت۔ الخشفت
 و الخشفت گھٹیا قسم کا اون
 الخشفت والخشيف۔ سخت
 برف۔ نرم برف۔
 الخشوف۔ معاملات میں دخل
 دینے والا۔ من الرجال
 رات کو سفر کرنے میں دلیر و بہادر
 — من السيوف۔ تیز تلوار۔
 الخشاف۔ چمگاڑ۔
 المخشفت۔ پانی جمنے کی جگہ۔ برف
 خانہ۔
 المِخْشَفُ۔ راہبر۔ معاملات میں
 دخل دینے والا۔ رات کو چلنے
 میں دلیر و بہادر۔ شیر۔
 خَشَلَهُ (ن) خَشَلًا وَخَشَلَهُ۔
 حقیر بنانا۔ ذلیل بنانا۔
 خشل الشراب۔ صاف کرنا۔
 خَشِلَ (س) خَشَلًا۔ الثوبُ
 کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

تَخَشَّلَ۔ ذیل ہونا۔ سر جھکانا۔
 روی چیز لانا۔
 الخشئل والخشئل۔ روی چیز
 — الخشئل ہر کھوکھلی جوف دار
 شے۔ خالی کیا ہوا انڈا۔ واحد
 (خشلة) کہا جاتا ہے۔ رجل
 (خشئل فئسل و خشل فئسل)
 کمزور آدمی۔
 خَشَمَهُ (ض) خَشَمًا۔ ناک کی
 جڑ توڑنا۔
 خَشَمَ (س) خَشَمًا وَخَشُمًا۔
 چوڑی ناک والا ہونا۔ الانف
 ناک کا بدبودار ہونا۔
 خَشَمَ (س) خَشَمًا وَخَشَمًا
 وَأَخْشَمَ وَتَخَشَّمَ۔ اللحمُ۔
 گوشت کا بدبودار ہونا۔
 خَشَمَهُ الشرابُ۔ شراب کا کسی
 کو مست و متوالا کر دینا۔
 الأخشَمُ۔ چوڑی ناک والا۔ بو
 محسوس نہ کرنے والا۔ انف
 اخشم بدبودار ناک۔ مؤنث
 خَشَمَاء۔ ج۔ خَشْمٌ۔
 الخيشوم۔ ناک کی جڑ جو خیا شیم۔
 — الخياشيم۔ ناک کے
 بیج کی رگیں۔ خیا شیم
 الجبال۔ پہاڑوں کی چوٹیاں۔
 کہتے ہیں۔ اشرف خيا شيم
 الجبال۔
 الخشام۔ بڑی ناک والا۔ اوپٹی
 چوٹی والا پہاڑ۔ شیر۔
 خَشَنَ (ن) خَشَنَةً وَخَشَانَةً
 وَخَشُونَةً وَمَخَشَنَةً۔
 سخت اور کھورا ہونا۔ صفت
 (خشن) ج۔ خَشَنَاتُ۔
 خَشَنَةً۔ سخت اور کھورا کرنا۔ کہا

جاتا ہے۔ "خُشِّنْ صَدْرَهُ" اس نے اس کو سخت غضبناک کیا۔
خَاشِنَهُ۔ سختی کا سلوک کرنا۔
تَخَشَّنَ۔ سخت کھردرا ہونا۔ سخت زندگی گزارنا۔ موٹا کھردرا ہونا۔
تَخَاشَنَ۔ بشکفت سختی برتنا۔
اسْتَخْشِنَ۔ الشیء۔ کسی شے کو موٹا یا کھردرا پانا۔
اخْشَوْشَنَ۔ سخت کھردرا ہونا۔
— علیہ صدرہ۔ غضب ناک ہونا۔

الْخَشِيْنَ۔ اکھر طبیعت کا۔
الْأَخْشَنَ۔ سخت و کھردرا۔ مؤنث۔
خَشْنَاءُ۔ ج۔ خُشْنٌ۔ کہتے ہیں "رجلٌ أَخْشَنٌ" بد حال آدمی" و هو أَخْشَنُ الْجَانِبِ یعنی وہ دشوار طاقت سے زیادہ ہے۔
— کتبیدہ خَشْنَاءُ بہت ہتھیاروں والا فوجی دستہ۔

خَشِيَّةٌ (س) خَشِيًّا و خَشِيًّا و خَشِيَّةٌ و خَشَاءٌ و خَشِيًّا نًا و مَخْشِيَّةٌ و مَخْشَاءٌ۔ ڈرنا۔ خوف کرنا۔

خَشَاءٌ تَخْشِيَّةٌ و خَشَاءٌ۔ ڈرنا۔ مرعوب کرنا۔
خَفَاءٌ۔ فلانًا۔ کسی سے خوف دلانا۔

تَخَشَّاهُ تَخْشِيًّا۔ ڈرنا۔ خوف کھانا۔
الْخَشِي وَالْخَاشِي وَالْخَشِيَانِ — وَالْخَشِيُّ۔ ڈرنے والا۔

مُرْتٌ خَاشِيَّةٌ و خَشِيَّةٌ و خَشِيَانَةٌ و خَشِيًّا۔ ج۔ خَشَايَا۔
الْخَشِي وَالْخَشِيُّ — من النباتِ خشك كحاس۔ کہتے ہیں "هذا المكان أخشى من ذلك"

یہ جگہ اس سے زیادہ خوف کی ہے۔
خَصَّ (ن) خَصًّا و خُصُوصًا و خُصُوصَةً و خُصُوصِيَّةً و تَخَصُّصًا و خِصِيَّةً و خِصِيَّةً۔
خِصِيَّةً و خِصِيَّةً۔
— فلاتا بالشیء۔ خصوصیت دینا۔ خاص کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
"خَصَّهُ بِالْوَدِّ" اس نے اسی سے محبت کی (خصوصًا) الشیء۔ خاص ہونا۔ الشیء لنفسه۔ کسی شے کو اپنے لیے مخصوص کرنا یا چن لینا۔

خَصَّ (س) خَصًّا و خُصُوصًا و خُصُوصَةً۔
مجلس ہونا۔ فقیر ہونا۔

خَصَّصَ۔ الشیء۔ خاص کرنا۔
— بالشیء۔ کسی کو کسی شے کے ساتھ خاص کرنا۔
اخْتَصَّ۔ محتاج و فقیر ہونا۔

بالشیء۔ خاص ہونا۔
بالشیء۔ خاص ہونا۔ اور اسی سے ہے "اللہ یختص برحمته من یشاء" اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ مخصوص کر لیتا،

تَخَصَّصَ۔ بالشیء۔ مخصوص ہونا منفرد ہونا۔ تَخَصَّصَ الرَّجُلُ خاص لوگوں میں سے ہونا۔

اسْتَخَصَّ۔ الشیء۔ مخصوص ہونے کی درخواست کرنا۔
الْخَصَّ۔ بانس یا لکڑی کی جھونپڑی۔

شراب بیچنے والے کی دکان۔
ج۔ أَحْصَاصٌ و خُصُوصِيٌّ و خِصَاصٌ۔ شہرہ (خص) ناقص مینہ۔

الْخَاصُّ۔ فا۔ عام کی بندیکت۔ تنہا۔

الْمَخَاصِيَةُ۔ عامتہ کی ضد۔ خود اپنے لیے خاص کی ہوئی چیز۔ خاصۃ الملك۔ بادشاہ کے مقرب لوگ۔
— خاصۃ النبات۔ بوٹی کی قوت و اثر۔ ج۔ خواص۔
— الخواص والخصان و الخصان) — من القوم قوم کے چیدہ اور بزرگ و برگزیدہ لوگ۔ کہتے ہیں "لأنما يفعل هذا خصان الناس" اس کو برگزیدہ لوگ ہی کرتے ہیں۔

الْمَخَاصِيَةُ۔ خاصتہ کی جانب نسبت ج۔ خاصیات و خصائص۔
الْأَخْصُ۔ افضل۔ کہتے ہیں "لم يكن في اطبائه اخص من هذين"

الْمَخَاصِيَةُ۔ انگور توڑنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے جو بیل پر رہ جاتے ہیں۔ تھوڑا۔ قلیل۔ ج۔ خِصَاصٌ۔

الْخُصُوصُ وَالْخُصُوصُ۔ علیحدگی خصوصیت۔ گویا عموم کا مقابل۔
الْإِنْخِصَارُ۔ ضد اطلاق۔ کہتے ہیں۔

"على الخصوص وخصوصاً یعنی خاص طور پر۔ مثلاً حریری کا یہ قول "لن يصقل الخاطر و ينشط الفاتر۔ کقاتله الہواجر و خصوصاً في شہری ناچر"

الْخِصَاصُ۔ مص۔ برقع یا دروازہ وغیرہ کا شکاف و سوراخ۔ کہتے ہیں "بد القمر من خصاص نعیم۔ چاند بادل کے درمیان سے ظاہر ہوا۔" و لمحتك من خصاص الباب: میں نے اس

کو دروازہ کی جھری سے دیکھا۔
 مکان وغیرہ میں شکات۔ واحد
 (خصاصۃ) کہا جاتا ہے
 "سَدَدٌ خِصَاصَةٌ فُلَانٍ"
 میں نے فلان شخص کی محتاجگی و
 تنگی کو فوراً کر دیا۔
 خَوَيْضَةٌ - الانسان۔ وہ شخص جو
 خدمت کرنے کے لیے مخصوص ہو۔
 خَصِيبٌ (رض) و خَصِيبٌ (س)
 خِصْبًا - المكان۔ کسی جگہ کا
 سرسبز ہونا۔ زرخیز و برا بھرا
 ہونا۔ صفت (خَصِيبٌ و
 خَصِيبٌ و مَخْصُوبٌ و
 مَخْصَابٌ)۔
 اَخْصَبَ - المكان۔ جگہ کا سرسبز
 ہونا۔ اللہ المكان۔ سرسبز
 کرنا۔ الشاة۔ بکری کا
 سرسبزی میں پہنچنا۔ القوم
 قوم کا سرسبزی پانا۔ کہتے ہیں
 "اخصب جناب القوم"۔ قوم
 کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔
 الخِصْبُ - سبز گھاس کی کثرت۔
 زندگی کی فراخی و خوش حالی۔
 ج۔ اَخْصَابٌ - کہتے ہیں۔
 "يَلِدُ خِصْبًا وَاَخْصَابًا"
 سرسبز و شاداب شہر۔ اس میں
 جمع بالغم کے لیے ہے۔ اور کہا
 جاتا ہے "ارض خِصْبٌ و
 ارضون خِصْبٌ و ارض
 خِصْبَةٌ وَاَخْصَابَةٌ۔
 الخِصَابُ - بہت پھل دار کھجور کا
 درخت۔ واحد۔ (خِصَابَةٌ)
 - (رجلٌ خَصِيبٌ) صاحب
 خیر و فیض آدمی۔
 خَصِرٌ - (س) خَصْرًا - اليوم

دن کا ٹھنڈا ہونا۔ الرجل
 اطراف اعضاء میں سردی سے
 تکلیف ہونا۔
 اَخْصَرَ - الْقَدَّ اَنَا مَلَهُ سُرَى
 کا انگلیوں کو ٹھنڈا کر دینا۔
 خَاصِرَةٌ مَخَاصِرَةٌ - کسی کا ہاتھ پکڑ
 کر چلنا۔ کسی کے پہلو میں چلنا۔ یا
 کسی کے کمر میں ہاتھ ڈال کر چلنا۔
 اِخْتَصَرَ - اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔
 - الكلام۔ کلام کو مختصر کرنا۔
 - الطریق۔ قریب ترین
 راستہ اختیار کرنا۔ فی
 الشئ۔ کسی شے سے فضول حصہ
 حذف کر دینا۔ الرجل۔ ہاتھ
 میں لاکھی وغیرہ لینا۔
 بالعصاء۔ چلنے میں لاکھی پر ٹیک
 لگانا۔
 تَخَاصَرَ - اپنی کمر پر ہاتھ رکھنا۔
 القوم۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر
 ساتھ ساتھ چلنا۔
 تَخَصَّرَ - اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔
 باليد خَصْرَهُ۔ لاکھی کو اپنے ہاتھ
 میں تھامنا۔
 الخَصِرُ - کمر۔ خَصْرُ الْقَدَمِ -
 پاؤں کے تلوے کا وہ حصہ جو زمین
 سے نہ لگے۔ ج۔ خِصُوس۔
 الخَصِرُ - ٹھنڈہ
 الخَصِرُ - ٹھنڈا۔
 الخِصَارُ - آزار۔
 الخَاصِرَةُ - من الانسان۔ پہلو
 ج۔ خَوَاصِرٌ۔
 المَخْصِرَةُ - ٹیک لگانے کی لاکھی یا
 چھڑی وغیرہ۔ وہ چھڑی جس کو
 بادشاہ تقریر یا خطاب کے وقت
 اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ج

مَخَاصِرٌ - مَخَاصِرُ الطَّرِيقِ -
 نزدیک کے راستے۔
 المَخْصَرُ - باریک کروالا۔ کہتے ہیں۔
 "هو مَخْصَرُ الْقَدَمَيْنِ"۔ وہ شخص
 جس کا تلوا زمین پر نہ لگے۔ بلکہ
 صرف پنچہ اور ایرٹری زمین پر لگے۔
 - رجلٌ (مَخْصُوسٌ) وہ شخص
 جس کی کمر میں درد ہو۔
 اِخْتَصَرَ - مَخْتَصِرٌ - اختصار۔ کا اسم
 تفضیل ہے اور شاذ ہے۔
 خَصَفَ (رض) خِصْفًا وَاَخْصَفَ
 وَاخْتَصَفَ - النحل۔
 جوتا سینا۔ جوتا دوہرا سینا۔ جوتے
 میں پیوند لگانا۔ الشئ علی
 الشئ۔ چپکانا۔ کہا جاتا ہے۔
 "هم يَخْصِفُونَ اِقْدَامَ الْقَوْمِ"
 باقدامہم۔ وہ لوگ قوم
 کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان
 کی حرف و بحر پر روی کرتے ہیں۔
 خِصْفٌ - بے۔ پیچھے کیا جانا۔
 لاحق کیا جانا۔
 خِصْفٌ - بد خلق و بد مزاج ہونا۔
 جو کچھ اپنے پاس نہ ہو کے تکلف
 میں کوشش کرنا۔ کہتے ہیں۔
 "خِصْفَهُ الشَّيْبُ" بڑھاپے
 نے اس کے آدھے بال سفید کر
 دیے۔
 الخِصْفُ - مص۔ جوتا۔
 الخِصْفُ - رنگ جو سیاہ و سفید
 رنگ سے مل کر بنتا ہے۔
 الخِصْفَةُ - کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی
 ٹوکری۔ گاڑھا کپڑا۔ ج خِصْفٌ
 و خِصْفٌ۔
 الخِصْفُ وَاخْصَفَهُ - پڑے کا
 ٹکڑا جس سے جوتے کو سیاہائے۔

<p>الْخُصْفَةُ - جوتے وغیرہ کا سوراخ۔ الْخِصَافُ - بڑا جھوٹا۔ مورچی۔ الْخِصِيفُ - راکھ۔ سلا ہوا جوتا۔ تازہ دودھ جو دہی سے ملا ہوا ہو۔ ر - والاخصف، سفید سیاہ سفید پہلوؤں والا گھوڑا یا بکری۔ الْمُخَصَفُ - ستالی۔ ج۔ مُخَاصِفٌ - شاةٌ مُخْصُوفَةٌ - سیاہ و سفید رنگ کی بکری۔ خَصَلٌ (ن) خَصَلًا - النخج - کاٹنا جد کرنا۔ ر خَصَلٌ (ن) خَصَلًا و خِصْلَانًا، - القوم قوم سے قاتق ہونا۔ فضیلت میں بڑھنا - خَصَلَهُ مَكَرًا کرنا - الشجر - درخت کو چھانٹنا۔ خَاصَلَهُ - خِصَالًا و مُخَاصَلَةً شرط باندھ کر تیر اندازی کرنا۔ أَخْصَلَ - الرامي - ٹھیک نشانہ پر مارنا۔ تَخَاصَلَ - القوم - تیر اندازی میں شرط باندھ کر مقابلہ کرنا۔ الْخِصْلُ - تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگنا۔ شرط جو تیر اندازی میں مقرر ہو۔ جس پر جو اکیلا جائے۔ کہتے ہیں " ا حوز خصلہ و اصاب خصلہ " یعنی وہ غالب ہوا۔ ج خُصُولٌ۔ الْخِصْلَةُ - عادت اچھی ہو یا بری۔ زیادہ استعمال اچھی عادت کے لیے ہے تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگنا۔ ج خِصَالٌ (ر) - وَالْمُخَصَّلَةُ، گچھا۔ کانٹے دار لکڑی۔ ترکڑی کا کنارہ ج۔ خِصْلٌ - الْخِصْلُ - لٹکے ہوئے درخت کا کنارہ۔</p>	<p>الْخِصْلَةُ - بالوں کا گچھا۔ بالوں کی چوٹی گوشت کا عضو۔ الْخِصِيْلَةُ - بالوں کا گچھا۔ بالوں کی چوٹی۔ وہ گوشت جس میں پٹھا بھی ہو۔ ج۔ خِصِيْلٌ وَخِصَائِلٌ۔ کہا جاتا ہے۔ " ا ر تعدت فَرَايَصُهُ وَاضْطَرِبَتْ خِصَائِلُهُ " اس کے شانہ کا گوشت لرزنے لگا اور پٹھے والا گوشت تھر تھرانے لگا۔ الْمُخَصَّلُ - کانٹے والی تلوار (مِقْصَلٌ میں ایک ضعیف نعت، الْمُخَعَالُ - وراثتی۔ خِصَمٌ (ض) خِصَمًا - جھگڑنے میں غالب آنا۔ خَاصَمَهُ - خِصَامًا و مُخَاصَمَةً - نزاع کرنا جھگڑا کرنا۔ ام (الخصومة) أَخْصَمَهُ - دلیل سمجھانا۔ کسی کے خلاف دلیل مہیا کرنا۔ تَخَاصَمَ و اِخْتَصَمَ - القوم ایک دوسرے سے نزاع کرنا۔ جھگڑنا۔ الْخِصْمُ - مع۔ مخالفت جھگڑا کرنے والا۔ تشبیہ، جمع اور مؤنث کے لیے بھی مستعمل ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے ہما و ہم و ہی خصمی۔ ج خُصُومٌ و خِصَامٌ و اِخْصَامٌ الْخِصْمُ - جانب۔ گوشہ۔ ج أَخْصَامٌ و خُصُومٌ۔ الْخِصِيمُ - مخالف۔ جھگڑا کرنے والا۔ ج۔ أَخْصَامٌ وَخِصَمَاءٌ وَخِصْمَانٌ۔ الْخِصْمُ - ج۔ أَخْصَامٌ وَخِصْمُونَ وَالْخُصُومُ - جھگڑا اور مخالف مد مقابل۔</p>	<p>الْخِصِي (ض) خِصَاءً - ۵۔ خِصِي کرنا۔ الْخِصِي - فوطوں میں درد والا۔ الْخِصِي - خِصِي نِکالا ہوا۔ آختہ۔ ج خِصِيہ و خِصِيَانٌ۔ الْخِصِيَّةُ - فوطہ۔ بیضہ۔ خِصِيہ۔ ج خِصِي - خِصِيہ الْبَحْرِ۔ و خِصِي الثَّلَبِ - و خِصِيَّةُ الْدَيْكِ و خِصِيَّةُ الْكَلْبِ۔ مختلف نباتات کے نام ہیں۔ خِصَصَ - الْجَارِيَّةُ - لڑکی کو سفید مہروں اور منکوں سے آراستہ کرنا۔ خَاصَّةً - مُخَاصَّةً - بیع بالعوض کرنا۔ تبادلہ کرنا۔ الْخِصَصُ - سفید مہرے۔ بے ہودہ گفتگو۔ کہا جاتا ہے۔ " منطق خِصَصُ " طرح طرح کے کھانے الْخِصَاضُ - روشنائی۔ قیدی کی بیڑی۔ کم حیثیت زریور۔ کتے یا بلی وغیرہ کے گلے کا پٹہ۔ " رَجُلٌ خِصَاضٌ وَخِصَاضَةٌ " احمق و بیوقوف آدمی۔ مکان (خِصِيض) پانی سے تر جگہ۔ خِصِبٌ (ض) خِصِبًا وَخِصْبٌ۔ الشیء - رنگنا۔ خِصِبٌ (ض) وَخِصِبٌ (س) خِصُوبًا وَخِصِبٌ - وَاَخْصِبُ - الشجر او املکان - درخت یا جگہ کا سرسبز ہونا۔ تَخِصِبٌ وَ اِخْتِصِبٌ - بِالْحِنَاءِ۔ رنگدار ہونا۔ رنگین ہونا۔ صفت۔ (خِصِيْب) ج۔ خِصِبٌ و (مُخِصِبٌ و مُخِصِبٌ) اِخْصُوبٌ - اِخْصِيْبًا - الشجر - درخت کا سرسبز ہونا۔</p>
---	--	---

<p>سبز ترکاری۔ بہت سرسبز و شاداب جگہ۔ الخضار۔ نئی سبزی۔ وہ دودھ جس میں پانی کا بہت حصہ ہو۔ الخضیر۔ سبز سبز ترکاری۔ الخضرة۔ ہر رنگ۔ سبز ترکاری نرمی و تازگی۔ کہتے ہیں: "غضن" فیدہ خضرة"۔ وہ ٹہنی جس میں نرمی و لچک ہو۔ ج۔ خضرد خضرة۔ "و خضرة" الدمن: وہ سبزہ جو کورے کرکٹ پر آگ آتا ہے۔ جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن بُرا۔ اس کے لیے یہ بطور کناہ استعمال کرتے ہیں۔ والخضرة۔ فی الوان الابل والخیل۔ ٹیلا جس میں سیاہی ملی ہوئی ہو۔ فی الوان الناس۔ گندم گونی۔ الخضاس۔ سبزی فروش۔ الخضارة۔ سبز ترکاریاں۔ الخضاری والخصیری۔ سبزی مائل زرد رنگ کا ایک پرندہ جس کو "اخیل" بھی کہتے ہیں۔ ج۔ خضاری۔ الخضراء۔ اخضر کا مؤنث۔ القبة الخضراء۔ آسمان ۔ وخضراء القوم۔ قوم کا بڑا حصہ۔ ج۔ خضراوات الخضراوات۔ ترکاریاں۔ میوے الاحضوان۔ گھاس اور درخت۔ کہا جاتا ہے: "ہو یخرف الاخضرین" الاحضار۔ سونا۔ گوشت۔ شراب۔ الاحضیر۔ کھٹی۔ آنکھ کی ایک بیماری المخضرة۔ سرسبز جگہ۔ خضرم۔ الاذن۔ کان کا کچھ</p>	<p>لکڑی۔ پھلوں کی پڑھوگی۔ نباتات کی کمزوری۔ خضد البدن کاہلی کے ساتھ بدن کا ٹوٹنا۔ اور درو کرنا۔ خضد السفر۔ سفر کی تکان۔ (۔ والمخضاد) اعضاء شکنی۔ الخضد والمخضود۔ اٹھنے سے عاجز۔ کمزور۔ کہا جاتا ہے۔ "رجلٌ مخضود" دلیل سے عاجز آدمی۔ الاحضد والمتخضد۔ جھکا ہوا ٹھنڈا۔ ٹوٹا ہوا۔ الیخضد۔ بہت کھانے والا۔ خضردس، خضرا۔ سبز ہونا۔ ۔ الوردع۔ کھیتی کا سرسبز شاداب ہونا۔ خضردن، خضرا۔ النخل کا ٹٹنا۔ اخضر۔ الرمی النبات۔ سیرابی کا نباتات کو سبز و شاداب کر دینا۔ خضرة۔ الشیء۔ سبز کرنا۔ خاضرة۔ مخاضرة۔ سبز پھل پکنے سے پہلے بیج دینا۔ اخضرد واخضرد۔ سبز ہونا۔ ہرا ہونا۔ واخضرد اللیل۔ سیاہ ہونا۔ اخضرد۔ الفاکھمة۔ سبز کچا پھل کھانا۔ العشب سبز گھاس کا ٹٹنا۔ اخضرد۔ نوجوان مرنا۔ الخضرد والخضرد۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے ساتھی کا نام جن کا ذکر سورۃ کہف میں آیا ہے۔ الخضرد۔ سبز۔ ہرا۔ سبز ٹہنی۔ کھیتی</p>	<p>الخضب۔ معن۔ درخت کی سرسبزی۔ بارش کے بعد نیا آگاہا سبزہ۔ ج۔ خضوب۔ الخضاب۔ رنگ۔ رنگ کرنے کی جگہ۔ الخضبة۔ بہت ہندی لگانے والی عورت۔ الخضوب۔ بارش کے بعد نیا آگاہا ہوا سبزہ۔ الخضیب۔ رنگا ہوا۔ کہتے ہیں۔ "کف خضیب و امرأة خضیب" رنگی ہوئی ہتھیلی۔ خضاب لگائی ہوئی عورت۔ ج۔ خضب۔ المخضب۔ کپڑے دھونے یا رنگنے کا برتن۔ لگن۔ خضخض۔ خضخضة۔ الماء و نحوه۔ پانی کو ہلانا۔ تخضخض۔ ہلنا۔ الخضاخض۔ من الاماکن بہت درختوں اور پانی والی جگہ۔ موٹا۔ بڑھاپٹ والا آدمی۔ (والخضخض) پچھوئی اور پڑھوئی کے درمیان کی ہوا۔ خضد رض، خضدا۔ العود۔ لکڑی کو بغیر جدا کیے ہوئے توڑنا موڑنا۔ الشجرة۔ درخت کے کانٹے صاف کرنا۔ الرجل کوئی ترچیز کھانا۔ مثلاً لکڑی کا جڑ وغیرہ۔ خضده۔ کاٹنا۔ تخضد وانخضد۔ العود لکڑی کا ٹٹنا۔ انخضدات الغمار۔ پھلوں کا پارہ پارہ ہونا۔ الخضد۔ ہر کاٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی</p>
--	--	---

<p>رَحِضْلٌ وَخَاضِلٌ (کہا جاتا ہے۔ "عیشِ خَضِل" عمدہ اچھی زندگی۔ شواءِ خَضِل اچھی طرح بھنا ہوا گوشت — سنانِ خَضِل خون سے ترنیزہ۔ خَضَلَّ وَ اَخْضَلَ — الشَّيْءُ - تر کرنا۔ نمناک کرنا۔ اخْضَالَ وَ اَحْضَأَلَ - تر ہونا۔ نمناک ہونا — الشَّجَرُ درخت کا بہت ٹہنیوں اور پتوں والا ہونا۔ الخَضَلُّ وَ الخَضَلُّ - صاف موتی۔ ایک قسم کے ٹہرے۔ واحد۔ (خَضَلَّة) الخَضَلَّة - تروتازگی۔ آسودگی۔ زندگی کا آرام۔ الخَضِيلَةُ - سرسبز شاداب اور ہرا بھرا باغ۔ المَخْضَلُّ وَ المَخْضَلُّ - آسودہ زندگی والا۔ خَضَمَ دَمْنٌ، خَفَمًا وَ اَخْتَضَمَ — الشَّيْءُ - کاٹنا۔ کتے ہیں۔ خَضَمَ لَهُ مِنْ مَالِهِ "اس نے اس کو اپنے مال میں سے دیا۔ خَضَمَ دَمْنٌ، خَضَمَ دَمْنٌ، خَضَمًا — الطَّعَامَ - پھل و پھل والوں سے کھانا۔ اخْضَمَ - لَهُ فِي الْعَطَاءِ - زیادہ دینا۔ زیادہ بخشنا۔ الخَضَمُ - بہت بڑا سمندر۔ سروار بڑا فیاض (عورت کی صفت میں یہ نہیں آتا، بڑا گروہ۔ تیز کرنے کی سلی — سیفِ خَضَم کاٹنے والی تلوار الخَضَامُ وَ الخَضَامَةُ - وہ چیز جو</p>	<p>الحَاجَةُ "یعنی حاجت نے مجھ کو بھاری سے سامنے عاجز و فروتن بنا دیا — الکبر فلا ئا۔ بڑھاپے کا کسی کو خمیدہ گردن بنا دینا۔ جھکا دینا۔ خَاضَعَهُ - کسی سے نرم گفت گو کرنا۔ تَخَضَعُ - وَ اَخْضَوْضَعُ - عاجز بننا۔ بناوٹی خاکساری ظاہر کرنا۔ اخْتَضَعُ - عاجز ہونا — الصَّقْرُ شکرے کا اپنے شکار پر جھپٹنا۔ — فِي سِيرَةٍ - تیز چلنا۔ الخَضْعُ - مص - گردن کی پیدائشی پستی۔ الاَخْضَعُ - ذلت پر راضی۔ وہی ہوئی گردن والا۔ الخَضْعَةُ - ہر ایک کا مطیع اپنے ہمسر کو مطیع کرنے والا۔ ج - خضع۔ الخَضْعَةُ وَ الخَضْعَةُ - تلواریں۔ کوڑے۔ تلواروں یا کوڑوں کی آواز کہتے ہیں۔ "سمعتُ للسياط خضعة" میں نے کوڑوں کے پڑنے کی آواز سنی۔ الخَضِيعَةُ - آواز جو جانور کے پیٹ میں سنائی دے۔ سیلاب کی آواز۔ الخَيْضَعَةُ - لڑائی کا شور۔ میدان جنگ اور اس سے اٹھنے والا غبار الخَيْضَعُ - من الرجال - ذلت پر راضی ہونے والا آدمی۔ خَضَفَ دَمْنٌ، خَضَفًا وَ خَضَفًا گوز کرنا۔ صفت۔ (خَضِيفٌ وَ خَضُوفٌ وَ خَضَافٌ) خَضِلَ دَمْنٌ، خَضَلًا وَ اَخْضَلَ وَ اَخْضَلَ - وَ اَخْضَوْضَلَ - تر ہونا۔ نمناک ہونا۔ صفت</p>	<p>حصہ کاٹ لینا۔ الخَضِيرُ - بہت پانی والا کنواں۔ بہت بڑا سمندر۔ کہتے ہیں۔ بحر خَضْرَمَ - بہت پانی والا سمندر "رجلٌ خَضْرَمٌ" بہت داد و دہش کرنے والا آدمی۔ (د - وَ الخَضَارِمْ) ج - خَضْرَمُونَ وَ خَضَارِمٌ وَ خَضَارِمَةٌ - فیاض مصیبتوں کو جھیلنے والا سروار۔ الخَضِيرُ - میٹھے اور کھاری کے درمیان کا پانی۔ گدھ کا بچہ۔ المَخْضَرُ - غیر مختون۔ وہ سیاہ فام جس کا باپ گورا ہو۔ گھٹیا حسب کا آدمی۔ وہ جس نے جاہلیت اور اسلام کے زمانے دیکھے ہوں۔ ناقۃٌ مَخْضَرَةٌ - وہ اونٹنی جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔ مَاءٌ مَخْضَرٌ - میٹھے اور کھاری کے درمیان کا پانی۔ خَضَعُ دَفٌ، خَضُوعًا وَ خَضَعًا وَ خَضَعَانًا - عاجزی کرنا۔ تواضع کرنا۔ فروتن ہونا۔ سرنگندہ ہونا۔ صفت (خَاضِعٌ) ج خَضَعٌ وَ (خَضُوعٌ) ج خَضَعٌ - لہ۔ کسی کا تابع و فرماں بردار ہونا۔ النَجْمُ سِتَارُهُ كَا دُوْبِنِ كَيْ قَرِيبٌ هُوْنَا - الرجلُ ساکن کر دینا۔ خَضَعٌ دَمْنٌ، خَضَعًا - الرجلُ جھکا ہوا ہونا۔ صفت (اَخْضَعُ) مؤنث۔ خَضَعَاءُ - خَضَعَةٌ - عاجز و مطیع کرنا۔ اللَحْمُ - گوشت کا ٹٹا۔ اَخْضَعُ - عاجز ہونا۔ عاجز کرنا۔ کہتے ہیں۔ اَخْضَعْتَنِي اَيْلِكَ</p>
--	---	---

انتہائی ڈاڑھوں سے کھائی جائے۔
 الخَصِيْمَةُ - سبز نباتات بہت نباتات
 والی زمین۔
 الخَصْمَةُ - درمیان۔ چیز کا بڑا حصہ۔
 الْمُخْضَمُ وَالْمُخْضَمُ - آسودہ
 زندگی گزارنے والا۔
 حَطَّ (ن) حَطًّا - بالقلم۔ لکھنا۔
 الخِطَّةُ لِنَفْسِهِ - نشان لگا کر
 اپنے لیے مخصوص کرنا۔ الشَّيْءُ
 قلم وغیرہ سے لکھنا۔ علی
 الشَّيْءِ - نشان لگانا۔ علامت
 ڈالنا۔ الغلامُ - لڑکے
 کے چہرہ پر سبزہ آنا۔ عذارہ۔
 رخسارہ پر بال نکلنا۔ القبر
 قیر کھودنا۔ الرياحُ الوملُ۔
 ہوا کا ریت پر دھاری بنانا۔
 فی الارض۔ زمین پر لکیر کھینچنا۔
 کہا جاتا ہے۔ "جاراہ فما حَطَّ
 غبارہ" اس نے اس کا مقابلہ
 کیا اور اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا
 کہتے ہیں۔ فلان یحط فی الارض۔
 فلاں اپنے معاملہ میں سوچ بچار
 کر رہا ہے۔ حَطَّ الطَّعَامُ وَفِي
 الطَّعَامِ - کھانا تھوڑا سا کھانا۔
 فی نومہ۔ نیند میں نراٹے
 لیتا۔
 حَطَّط - لکیریں کھینچنا۔ الخُطُوطُ
 نقش کرنا۔ البلادُ - ملک
 کے حدود مقرر کرنا۔
 اُخْتَطَّ - الوجہ او غیرہ۔ چہرہ
 وغیرہ کا دھاری دار ہونا۔
 الغلامُ - لڑکے کے رخساروں پر
 سبزہ آنا۔ الارض او الداسا
 اپنا معلوم ہونے کے لیے زمین یا
 گھر کی حد بندی کرنا۔ حُطِّتْ

معین کرنا۔ علامت لگانا۔
 الحَاظُ - فا۔ جاوگر۔
 الخَطُّ - تحریر۔ کتابت۔ لمباراستہ۔
 خط الاستواء۔ وہ خیالی اور
 موہومی خط جو زمین کو دو برابر کے
 شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم
 کر دیتا ہے۔ ج۔ حُطُوط۔
 وحُطُوطُ الکف۔ ہاتھ کی لکیریں۔
 الخَطُّ وَالْحَطُّ - راستہ۔ شاہراہ۔
 محلہ۔
 الخِطَّةُ وَالخِطَّةُ - آباد کاری کی سب
 سے پہلی مقبوضہ زمین۔ زمین کا وہ
 ٹکڑا جو کوئی اپنے واسطے مخصوص
 کرے۔ ج۔ حِطُّط۔ الخِطَّةُ
 کام۔ کہا جاتا ہے۔ "تِلْكَ
 حُطَّةٌ لِيَسْتَمِنُ بَالِي"۔
 یہ کام میری شان کا نہیں۔
 "وَفِي رَأْسِهِ خِطَّةٌ" اس
 کے دماغ میں کوئی خیال ہے۔
 خصلت۔ جمالت۔ مشکل معاملہ
 جس کا کوئی حل نہ سوجھے۔ ج۔
 حُطُّط۔ کہتے ہیں۔ "فلان
 یبنتی خطط المکارم" فلاں
 شخص کرم و بزرگی کے مدارج بنیاد
 قائم کرتا ہے۔
 الخِطِّيُّ - "خط" مقام کا نیزہ۔
 خطہ کمرین کے بندرگاہ پر ایک
 مقام ہے۔ جہاں تیز سے بہت
 بہتے ہیں۔ ج۔ حِطِّيَّة۔
 الخُطُوطُ - زمین پر پاؤں کا نشان
 چھوڑنے والا۔ عورت کے ابرو
 رنگنے کا طلاء۔
 الخَطَّاطُ - بہت لکھنے والا۔
 الخِطَّ - کپڑے پر نشان کرنے کے
 لیے جلابے کی لکڑی۔

المُحَطَّطُ - دھاری دار۔ خوبصورت۔
 حِطِّيٌّ (س) حِطَّاءٌ - غلطی کرنا۔
 فی دینہ۔ دین میں قصداً یا
 بلا قصد غلط راستہ پر چلنا۔
 (حِطَّاءٌ وَحِطَّاءَةٌ) گناہ کرنا
 تصور کرنا۔ صفت (حَاطِيٌّ) ج۔
 حِطَّاءَةٌ - مؤنث۔ حَاطِيَّةٌ
 ج۔ حَوَاطِيٌّ۔
 حَطَّاتٌ (ف) حَطَّاءٌ - القدرُ
 بزدلہا۔ ہانڈی کا جھاک پھینکنا۔
 حِطَّاءَةٌ - تَخْطِيئًا وَتَخْطِيئَةً
 غلطی کی طرف نسبت کرنا۔
 اَحْطَاءٌ - اَحْطَاءٌ وَحَاطِيَّةٌ - غلطی
 کرنا۔ الطریق۔ راستہ
 بھٹک جانا۔ الرجلُ - کسی کو
 غلطی میں ڈالنا۔ الواحی الغرض۔
 تیر انداز کا نشانہ خطا کرنا۔ تیر نشانہ
 پر نہ لگنا۔ فی عملہ۔ کام میں
 راہ صواب سے ہٹ جانا۔
 تَحْطَاءٌ وَتَحْطَاءَةٌ - غلطی کرنا۔
 تَحْطَاءَةٌ وَتَحْطَاءَةٌ - غلطی میں
 ڈالنا۔ السهمُ الرمیة۔
 تیر کا نشانہ خطا کرنا۔ نشانہ پر نہ
 لگنا۔ تَحْطَاءٌ لَهُ فِي الْمَسْئَلَةِ وَ
 بَهَا - کسی کی غلطی ڈھونڈنے کے
 ورپے ہونا۔
 الخِطَّاءُ - گناہ۔
 الخِطَاءُ وَالخِطَاءُ وَالخِطَاءُ - گناہ۔
 بعض کے نزدیک غیر ارادی گناہ
 غلطی۔
 الخِطَاءُ - بہت غلطی کرنے والا۔ بڑا
 خطا کار۔
 الخِطِيئَةُ - گناہ۔ بعض کے نزدیک
 ارادی گناہ۔ ج۔ حِطَّاءٌ وَ
 حِطِّيَّاتٌ۔

الحنظل۔ سبز وھاریوں والا اندرائن۔
 الاخطب۔ خطابت کا اسم تفضیل ہے۔ جس طرح کتابت سے "اكتب"۔ شعر سے "اشعر"۔ کتے ہیں۔ "کان اخطب اهل زمانه" وہ اپنے زمانہ میں سب سے بہتر مقرر و واعظ تھا۔
 خطر (د) ض۔ خطراً وخطیراً۔ فی مشیتہ۔ چلنے میں ہاتھوں کو اوپر نیچے کرنا۔ الدرہ۔ نیزہ کا ہلنا۔ بسیفہ اور محہ تلوار یا نیزہ کو فخر سے ہلانا۔
 بیدہ۔ چلنے میں ہاتھوں کو آگے پیچھے کرنا۔ خطراً وخطیراً۔ الجمل بذنبہ اونٹ کا اپنی دم کو بار بار اٹھا کر اپنی رانوں پر مارنا۔
 خطراً (د) ض۔ خطوراً۔ الامر لہ۔ کوئی امر کسی کو سوجھنا۔
 خطرت الحوادث۔ حوادث کا واقع ہونا اور پیش آنا۔
 خطر۔ الامر ببالہ وعلی و فی بالہ۔ کسی کو کوئی بات بھولنے کے بعد یاد آجانا۔
 خطر (د) ض۔ خطراً۔ وخطورة۔ بلند مقام۔ ذی قدر ہونا۔ صفت (خطیر) ج۔ خطور۔
 خاطر۔ مخاطرة۔ بنفسہ۔ اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ جان جو کھوں میں ڈالنا۔ علی کذا۔ شرط لگانا۔
 اخطور۔ الشئ۔ فی او علی او ببالہ یاد دلانا۔ قدر و مرتبہ میں کسی کے مثل ہونا۔ المال۔ مال

"ما خطبتک"۔ تمھاری کیا حالت ہے اور تم کو اس پر کس نے اکسایا۔ معاملہ۔ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ عام طور پر بڑے ناپسندیدہ معاملہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ ج۔ خطوب۔
 الخطاب۔ گفت گو۔ فصل الخطاب۔ فصاحت۔ خوش بیانی۔ فیصلہ جو قسم یا دلیل کے ساتھ دیا جائے۔ خطیب کا الحمد للہ کے بعد "اما بعد" کہنا۔
 الخطیبة۔ تقریر۔ وعظ۔ گفتگو۔ خطبة الكتاب۔ کتاب کا دیا چہ۔ الخطیبة۔ تیرہ رنگ جس میں سرخی زردی ملی ہوئی ہو۔ الخطب۔ منگنی کرنے والا مرد۔ عورت جس سے منگنی کی جائے۔ کہا جاتا ہے۔ ہو خطیبھا وھی خطیبة" ج۔ اخطاب۔ الخطیبة۔ مص۔ وہ عورت جس سے منگنی کی جائے۔ الخطاب۔ منگنی کرنے والا۔ بہت وعظ و تقریر کرنے والا۔ الخطابة۔ بہت تقریر کرنے والا۔ (مذکر و مؤنث)۔ الخطاب کا مؤنث۔ الخطیب۔ منگنی کرنے والا۔ خطیب پڑھنے والا۔ کتے ہیں۔ "رجل خطیب" یعنی خوش بیان واعظ۔ ج۔ خطباء۔ الخطیب۔ عورت کو پیغام نکاح دینے والا۔ ج۔ خطیبون الخطیبی۔ وہ عورت جس کو کوئی پیغام نکاح دے۔ منگیتر۔ الاخطب۔ شکر۔ من

خطب (د) ض۔ خطبة وخطبا وخطابة۔ وعظ کہنا۔ تقریر کرنا۔ لیکچر دینا۔ حاضرین کے روبرو خطیبہ پڑھنا۔ کتے ہیں۔ خطب القوم و فی القوم۔ اس نے قوم کو خطاب کیا۔ ان کے سامنے تقریر کی۔ خطب (د) ض۔ خطابة۔ واعظ و خطیب ہونا مقرر ہونا۔
 خطب (د) ض۔ خطبا وخطبة وخطیبی۔ الفتاة۔ منگنی کرنا۔ صفت (خطیب) کہا جاتا ہے۔ "خطب الفتاة علی فلان" اس نے فلاں کے لیے لڑکی کی منگنی کی۔ لڑکی کی نسبت فلاں سے کی۔
 خطب (د) ض۔ خطبا۔ الشئ۔ تیرہ مائل سرخ زرد ہونا۔ دھندلا رنگ کا ہونا۔
 خاطبه۔ خطاباً وخطیبة وخطیبتاً۔ باہم گفتگو کرنا۔ کتے ہیں۔ "خاطبه فی فلان" اس نے اس سے فلاں کے متعلق بات چیت کی۔ اخطب الصید فلاناً۔ شکار کا زد میں آنا۔ الخطیبة۔ گیہوں کا رنگ پکڑنا۔ الحنظل۔ اندرائن کا زرد ہونا۔ اور اس پر سبز وھاریاں پڑنا۔
 اخطب۔ الفتاة۔ لڑکی کی منگنی کرنا۔ القوم فلاناً۔ قوم کی کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کسی کو بلانا۔ علی المنبر۔ منبر پر خطیبہ دینا۔ الخطب۔ مص۔ حالت۔ کتے ہیں۔

کو شرط پر رکنا — المریعہ
بیمار کا خطرہ میں ہونا۔ صفت۔
(خطر)
تَعَطَّرِي - پھاندنا۔ تجاوز کرنا۔ کہتے
ہیں: "تخطرانی شتر فلان"
فلاں کا شتر مجھ سے تجاوز کر گیا۔
تَخَاطَر - القوم على الشيء - شرط
باندھنا۔
الخطرة - ایک بڑا پیمانہ (والخطی)
اونٹ کے سرینوں پر بیٹنگیوں کا
جما ہوا میل۔ بادل جو نظر کے
سامنے آئے۔
الخطرة - بہت پانی ملا ہوا دودھ۔
بہت سے اونٹ شاخ خضاب
کا ایک پودا۔ ج۔ اخطاس۔
الخطرة - قریب بہلاکت۔ ج
اخطار۔ کہتے ہیں: "دکبوا
الخطار" وہ خطروں میں پڑے
شرافت۔ بلندی۔ رتبہ۔ مثل۔ ہم
پلہ۔ اس کا استعمال ذی مرتبہ چیز
ہی میں ہوتا ہے جیسے "فی ظل
عیش خطیر مالہ خطرہ"
شرط جو گھوڑوؤں میں لگائی جاتی
ہے۔ ج۔ خطار وجہ خطہ۔
الخطرة - ایک مرتبہ۔ ایک بار۔
کہتے ہیں: "مالقیثہ الخطرة"
میں اس سے صرف ایک بار
ملا۔
الخطی۔ فا۔ دل میں کھٹکنے والا امر
یا تدبیر۔ خیال۔ کبھی دل اور نفس
پر بھی اس کا مجازاً اطلاق ہوتا
ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: "وقع
فی خاطری" میرے دل میں آیا
"وفلان سربیع الخطی" فلاں
تیز طبیعت ہے۔ "وجاش الشعر

فی خاطری" میرے دل میں شعر
کی آمد ہوئی۔ ج۔ خواطر۔
الخطار۔ الخطی کا اسم مبالغہ۔
— عطار۔ نیزہ مارنے والا۔
نیزہ۔ گوپین۔ زیتون کا خوشبودار
تیل۔ شیر۔
الخطارة - اونٹوں کا بارہ۔
الخطو۔ عالی مرتبہ۔ بلند مرتبہ۔ اتر کر
چلنے والا۔
الخطیر۔ بلند درجہ۔ شریف۔ مہار
رسی۔ ترمے۔ رات کی اندھیری
دھمکی یا ڈانٹ۔ شادمانی۔ ذی
قدر چیز کا مثل۔ کہتے ہیں۔
"لیس لہ خطیر" اس کا
کوئی مثل نہیں
المخاطر۔ خطرے۔ اس کا مفرد
نہیں ہے۔
خطوف و تخطوف۔ چلنے میں
تیزی کرنا۔ صفت (خطریف
وخطوف)۔ خطوفہ
بالسیف۔ تلوار سے مارنا۔
خطف (رس) خطفاً — الشيء۔
اچک لینا۔ البرق البصر۔
بجلی کا آنکھ کو چندھیانا یا اندھا کر
دینا۔ السمع۔ پورک سے سننا۔
خطف (رس) وخطف (رض) خطفاناً
جلدی چلنا۔ تیز چلنا۔ صفت۔
(خطیف وخطیف)
خطف۔ خطف کا مبالغہ۔ بہت
جلدی چھین لینا۔
أخطفہ۔ خطا کرنا۔ المرض
بیماری کا زور گھٹ جانا یا بالکل
چلا جانا۔ الرجل آدمی
کا کچھ بیمار ہونا۔ اور جلد اچھا
ہو جانا۔

تخطف و اختطف — الشيء۔
چھین لینا۔ کھینچنا۔ نکال لینا۔
الخطف و الخطف۔ لاغری۔ اور
پلوؤں کا ڈبلا پن۔
الخطفة۔ جھپٹا۔ عضو جبر۔
ورندہ جھپٹا مار کر جسم سے اتار لے
جائے۔ یا انسان کسی زندہ جانور
سے کاٹ لے۔
الخطیف۔ فا۔ زمین پر لگ کر نشانہ
پر لگنے والا تیر۔ ج۔ خواطف
أخطف۔ الحسنی۔ ڈبلا۔ لاغر۔
الخطوف۔ درانتی کی طرح کا ایک
اوزار جس کو جال میں باندھ کر بہن
وغیرہ کو پکڑتے ہیں۔
الخطاف۔ الخطیف۔ کا اسم مبالغہ
چور شیطان۔ ایک لمبے بازوؤں
والا۔ چھوٹے پاؤں والا سیاہ
رنگ کا پرندہ۔
الخطاف۔ آنکس کی طرح ایک قسم کا
ٹیڑھا لوہا۔ جس سے چیزیں اچک
لے جائیں۔ ج۔ خطا طیف
خطا طیف السباۃ۔ درندوں
کے جنگل۔
الخطفی و الخیطفی۔ تیز رفتاری۔
کہتے ہیں۔ "ہویشی الخطفی"
وہ تیز چال چلتا ہے۔
خطل (رس) خطلاً و أخطل۔
— فی کلامہ۔ بہت بیہودہ
گفتگو کرنا۔ — فی منطقہ
ادنیایہ۔ غلطی کرنا۔ جیسے
"اصالة الراي صانتی
من الخطل۔ رائے کی اصالت نے
مجھ کو خطا سے بچالیا۔
تخطال۔ فی المشی۔ ہلتے ہوئے
تکبرانہ چال چلنا۔

<p>لیے قریب کر دے۔ ج۔ خطی وخطوات وخطوات و خطوات۔ الخطوة۔ بمعنی خطوة۔ خطا کا اسم مرہ۔ — فی المساحة چھ قدم۔ ج خطوات وخطا۔ الخطیة۔ خطا۔ گناہ۔ خطا۔ یخطو۔ خطواً۔ لحمہ۔ گوشت کا گٹھا اور سخت ہونا۔ أخطی۔ الرجل۔ موٹا ہونا۔ أخطأ۔ موٹا کرنا۔ الخطی۔ گٹھے بدن والا۔ کہتے ہیں۔ "امراة خطیة بسیطة۔" گٹھے بدن کی عورت۔ الخیعل۔ بھڑیا۔ چھلاوہ۔ بغیر آستینوں کا قمیص۔ کہا جاتا ہے۔ "خیعلہ" اس نے اس کو بغیر آستینوں والی قمیص پہنائی۔ تخیعل۔ اس نے بغیر آستینوں کے قمیص پہنی۔ خف (من) خفاً و خفۃً و خفۃً۔ ہلکا ہونا۔ کم عقل ہونا۔ کم مال والا ہونا۔ — المطر بارش کا کم ہونا۔ — خفاً و خفۃً و خفوفاً۔ الی العدا تیزی کرنا۔ جلدی کرنا۔ القوم جلدی کوچ کر کے کم ہونا۔ خففت۔ الشیخ۔ ہلکا کرنا۔ الحوف۔ حرف کو شدید نہ دینا۔ — الثوب۔ کپڑے کو باریک بنانا۔ أخفت۔ حقوڑے اسباب والا ہونا۔ دقیق الحال ہونا۔ جمالت پر اکسانا۔ عیب لگانا۔ بدگوئی کرنا۔ تخففت۔ چمڑے کا موزہ پہننا۔ جلدی</p>	<p>إختطم۔ الخظام۔ نکیل ڈالنا۔ المخطم وایلخطم۔ ناک۔ الخطم۔ مص۔ ناک کا اکلا حصہ چونچ — من الدابة چوپایہ کی ناک اور منہ کے سامنے کا حصہ۔ الخظام۔ مہار۔ نکیل۔ کمان کی تانٹ۔ ج۔ خطم۔ الخاطم۔ فا۔ کہا جاتا ہے۔ "فلان خاطم امر بنی فلان" یعنی فلاں بنو فلاں کا راہبر پیشوا اور ان کے معاملات کا منتظم ہے۔ الخظام۔ اسم بالغہ۔ "مسک خطام" وہ مشک جو اپنی نوشبو سے ناک کو بھروے۔ الأخطم۔ لمبی ناک والا۔ سیاہ۔ موت۔ خطماء۔ ج۔ خطم۔ الخطی۔ ایک بوٹی جو دوئی کے طور پر کام آتی ہے۔ واحد۔ (خطیة) خطان) خطواً۔ قدموں کے درمیان کشادہ کر کے چلنا۔ خطا وخطی۔ الرجل۔ قدموں کو کشادہ کر کے چلنا۔ خطی۔ عنده الشیخ۔ کسی سے کچھ دور کیا جانا۔ تخطی۔ تخطیاً۔ اختطی الخظام — الی کذا۔ آگے گذر جانا۔ سبقت کرنا۔ الخطوة۔ چلنے کے وقت دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ۔ عوام اس کو اپنی اصطلاح میں فسخہ بولتے ہیں۔ مسافت۔ کہا جاتا ہے "قرب الله عليك الخطوة" اللہ تعالیٰ مسافت کو تمہارے</p>	<p>الخاطل۔ باطل۔ الخطل۔ مص۔ بے وقوفی۔ سبکی۔ سرعت۔ نہایت رومی لغو گفتگو۔ کہا جاتا ہے۔ "اری فی مشیتہ خطلاً" میں اس کی چال میں کمزوری پاتا ہوں۔ پریشان گفتگو۔ الخطل۔ بیہودہ گفتگو والا۔ احمق۔ سہم خطل۔ نشانہ کو خطا کرنے والا تیر۔ — ثوب خطل۔ موٹا کھردرا کپڑا جو درازی کے باعث زمین پر گھسے۔ ج أخطال۔ کہا جاتا ہے۔ "رجل خطل الیدین" کھردرے ہاتھوں والا آدمی۔ — "ورمح خطل" بے ڈول لمبا نیزہ۔ الخطل۔ تیزی سے نیزہ مارنے والا جیسے۔ "احوس فی الصیحاء بالرمح خطل" بہادر و دلیر لڑائی میں تیزی سے نیزہ مارنے والا ہوتا ہے۔ — خطل بالمعروف۔ بخشش دینے میں جلدی کرنے والا۔ الأخطل۔ لمبے اور ڈھیلے کانوں والا۔ بے ہودہ گفتگو کرنے والا۔ موت۔ خطلاء۔ ج۔ خطل۔ الخیطل۔ کتا۔ بلی۔ مصیبت۔ عطر فروش۔ ٹڈی دل۔ خطمہ (ض) خطماً وخطمہ۔ — بالخظام۔ نکیل ڈالنا۔ خطمہ بالکلام۔ کسی کو گفتگو میں خاموش کر دینا۔ مغلوب کرنا۔ خطم الرجل۔ ناک پر مارنا۔ د۔ خطیماً۔ وخطماً، القوس بالوتو کمان پر تانت پڑھانا۔</p>
---	--	---

<p>کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دینا۔ الخَفَفَات - وہ شخص جس کی آواز بھونکنے ناک سے نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے خَفَدَ رَنًا، خَفَدًا او خَفَدًا اَنَا - و خَفَدَ دَسًا، خَفَدًا ا - تیز چلنا۔ الخَفْدُ وَالخَفْدُود - چمکاوڑے مانند ایک پرندہ۔ خَفَرَدَنَ ضًا، خَفَرًا او خَفَرًا - - ع دیدہ و علیہ۔ پناہ دینا حفاظت کرنا۔ امن دینا۔ ع حفاظت کرنے کے عوض میں اجرت لینا۔ خَفَرًا بِالْعَهْدِ - عہد پورا کرنا۔ ایفائے عہد کرنا۔ (خَفَرًا او خَفُورًا) فلا نَا - کسی کے عہد کو توڑ دینا۔ کسی سے بے وفائی کرنا۔ خَفِرَتَ (س) خَفَرًا او خَفَارَةً - الحاریة - عورت کا بہت شرم کرنا۔ صفت (خَفِرًا و خَفِيرَةً و خَفَارًا)۔ خَفَرًا - کسی کو امن دینا۔ کسی کی حفاظت کرنا۔ شہر کے گرد دیوار بنانا۔ اخْفَرًا - کسی کے عہد کو توڑ ڈالنا۔ کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا۔ کسی کے ساتھ محافظ روانہ کرنا۔ تَخَفَرًا - بہ۔ پناہ دینا۔ پناہ لینا۔ محافظ ہونے کی درخواست کرنا۔ تَخَفَرَتِ - الحاریة - عورت کا بہت شرمیلی ہونا۔ الخَفَارَةُ - بتثلیث الخفاء - عہد۔ الخَفَارَةُ - جو کیدار کی تخواہ۔ الخَفَرَةُ - خَفَارَةُ کے معنی میں ہے کہتے ہیں۔ "ہو فی خَفَرَةَ اللہ"۔ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔ ہذا</p>	<p>الخَفُوف - بجز۔ خَفَارَتِ، خَفًا - الشیء - اکھیر کر زمین پر پلکانا۔ البیت گھر کو ڈھانا اور گرانا۔ القویة مشک کو پھاڑنا۔ خَفَتَ رَنًا، خَفُوتًا - الصوت آواز کا پست ہونا۔ صفت (خَافَتِ و خَفِيتِ) (د - خُفَاتًا) اچانک موت سے مراد۔ و خَفَتًا و خَافَتِ و تَخَافَتِ، بکلامہ و صوتہ۔ پوشیدہ رکھنا۔ پست کرنا۔ آہستہ کرنا۔ بالقرآءة پست آواز سے پڑھنا۔ خَافَتِ - پست آواز سے گفتگو کرنا۔ تَخَافَتِ - بتکلف ضعف و سکون کا اظہار کرنا۔ الخَفِيَتِ - ایک قسم کی نبات۔ الخَفِيَتَانِ - چلتے۔ ایک قسم کا لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے (دخیل)۔ الخَافِتِ - پانی سے خالی بادل۔ "زِدْعَ خَافِتٍ" کمزور پودا جو اونچا نہ ہوا ہو۔ خَفِيجَ دَسًا، خَفِجًا - البعير۔ اونٹ کا خفج کی بیماری میں مبتلا ہونا للخَفِيجِ - کمزور۔ سُست۔ الاَخْفِيجِ - خفج کی بیماری والا۔ طُرُوسِ پاؤں والا۔ عمود اَخْفِيجِ - طُرُوسِ ستون۔ الخَفِيجِ - گھٹنے کا پنے کی بیماری۔ خَفِخَتِ - خَفِخَةً - الخنزير اوالضبع۔ آواز کرنا۔ الرجلُ قبيصه الجد يداو القرطاس۔ نئے قیص یا کاغذ کو حرکت دینے سے اس کی</p>	<p>کرنا۔ تَخَافَتِ - ہلکا ہلکا ہونا۔ اسْتَخَفَّهُ - ہلکا جانا۔ جاہل سمجھنا۔ حق و راستی سے ہٹنا دینا۔ ع الغناء۔ گانے کا کسی کو طرب نغمات میں لانا۔ اسْتَخَفَّ بِهِ - حقیر جانا۔ الخِف - ہلکا۔ قہوڑی جماعت۔ کہتے ہیں: "خُوجِ فِي خِفٍ مِّنْ اصحابہ" وہ اپنے قہوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔ الخُفُّ - للبعير والنعام - اونٹ اور شتر مرغ کی ٹاپ۔ موزہ چرمی۔ ج۔ اَخْفَافٌ و خِفَافٌ کہتے ہیں: "خُفٌّ ضَاحِكٌ" پھٹا ہوا موزہ۔ جس میں قدم کا کچھ حصہ چمکتا ہو۔ الخُفُّ - قدم کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ سخت زمین۔ الخِفَّةُ - مص۔ جسم یا عقل یا عمل کا ہلکا پن۔ الخَفِيفُ - ہلکا۔ پھرتیلا کہتے ہیں۔ "وہو خَفِيفُ الرُّوحِ" وہ مہربان اور اچھی صحبت والا ہے۔ خَفِيفُ الْقَلْبِ - ذکی۔ خَفِيفُ الْعَقْلِ - بیوقوف۔ خَفِيفُ الظُّهُنِ کم اولاد والا۔ خَفِيفُ الْيَدِ پھرتیلا۔ خَفِيفُ الْحَارِضِينَ قہوڑی ڈالھی والا۔ ج۔ اَخْفَاوُ خِفَافٌ و اَخْفَافٌ - الخَفِيفُ - علم عروص کی اصطلاح میں ایک بحر کا نام ہے۔ الخِفَافُ - ذکی۔ تیز فہم۔ الخِفَافُ - چرمی موزے بنانے والا۔ یا بیچنے والا۔</p>
---	---	--

خفقتی۔ وہ میرا راہبر و محافظ ہے۔
 الخَفِيرُ۔ پناہ دیا ہوا۔ پناہ دہندہ
 حمایت و حفاظت کرنے والا۔
 ج۔ خُقْرَاءُ۔
 الخُقْرَةُ۔ پناہ دہندہ۔
 خَفَسَهُ (ن)، خَفَسًا۔ مٹھا کرنا۔
 ہنسی کرنا۔ خفس الطعام
 او الشراب۔ مٹھوڑا کھانا یا پینا۔
 — البِنَاءُ۔ عمارت منہدم کرنا۔
 خَفَسَ (ن)، خَفَسًا وَآخَفَسَ۔
 بہت بدزبانی کرنا۔
 انْخَفَسَ۔ الماءُ۔ پانی کا متغیر ہونا۔
 تَخَفَسَ۔ الرجلُ۔ لیٹنا۔
 شراب (مُخَفَسٍ) جلد مست
 کرنے والی شراب۔
 خَفَسَ (ن)، خَفَسًا۔ بہ۔
 پھینکنا۔ البِنَاءُ۔ عمارت
 ڈھانا۔
 خَفِسَ (س)، خَفَسًا۔ کمزور ہونا۔
 پیدا ہونے کی کمزور نظر والا ہونا۔ تنگ
 آنکھ والا ہونا۔ رتوندہ کی بیماری
 والا ہونا۔ صفت (خَفِسٍ)
 وَآخَفَسَ)
 خَفَسَ۔ البَدَنُ۔ بدن کا کمزور
 ہونا۔ البِنَاءُ۔ عمارت ڈھانا
 — الرجلُ۔ کسی کو پچھاڑ کر
 کچلنا۔ بالادِصِ۔ زمین سے
 چھٹنا۔
 الخَفَاشُ۔ چمگاؤ۔ ج۔ خَفَافِيشُ۔
 خَفَصَهُ (س)، خَفَصًا۔ پست
 کرنا۔ الصوتُ۔ آواز کو
 آہستہ کرنا۔ نرم کرنا۔ الكلمةُ
 کلمہ کو زبردینا۔ خَفَصَ
 الصوتُ۔ آواز کا آہستہ ہونا
 — بالمكانِ کسی جگہ اقامت

کرنا۔ الرجلُ۔ مرنا۔
 الابلُ۔ اونٹ کا آہستہ وزم
 رفتار سے چلنا۔
 خَفَصَ (ن)، خَفَصًا۔ العَيْشُ۔
 زندگی میں آسودگی، خوش حالی
 نصیب ہونا۔ صفت (خَفِيفُ)
 وَخَفِيفٌ وَخَافِيفٌ۔ و
 تَخَفُوفٌ)۔ خَفِيفٌ۔ الشَّيْءُ۔
 آسان کرنا۔ نرم کرنا۔ اسی سے
 ہے "خَفِيفٌ عَنْكَ" اپنے اوپر
 نرمی کرو۔
 تَخَفَّفَ۔ الامرُ۔ آسان ہونا
 انْخَفَفَ۔ ترقی کے بعد تنزل میں
 آنا۔ بلندی کے بعد پست ہونا۔
 — الصوتُ۔ آواز کا پست ہونا۔
 اخْتَفَفَ۔ السَّعْرُ۔ بھاؤ کا گزنا۔
 الخَافِيفُ۔ قا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم
 مبارک۔ کہتے ہیں "ہو خافض
 الطير و خافض الجناح" یعنی
 وہ صاحب وقار اور متمم الزج
 ہے۔
 الخَفِيفُ۔ م۔ د۔ والخَفِيفَةُ)
 زندگی میں آسودگی و فراخی۔ کہتے
 ہیں "ہو فی خَفِيفٍ مِنَ الْعَيْشِ"
 وہ آسودہ زندگی میں ہے۔
 خَفَعَهُ (ن)، خَفَعًا۔ بھوک وغیرہ
 کے سبب چکر کھا کر گر جانا۔
 خَفَعَهُ بِالسَّيْفِ۔ تلوار سے
 مارنا۔ خَفَعًا وَخَفَعَانًا)۔
 السُّتْرُ۔ پردہ کا ہلنا۔
 اخْفَعَهُ۔ الجَوْعُ۔ بھوک کا کسی
 کو چکا کر گرا دینا۔
 انْخَفَعَ۔ بے ہوشی کے قریب ہونا۔
 خَفَعَهُ (ن)، خَفَعًا۔
 بالسَّيْفِ۔ تلوار سے آہستہ

ضرب لگانا۔ النعلُ۔ جوتے
 کا چرانا۔ د۔ خَفَقًا وَخَفُوقًا وَ
 خَفَقَانًا)۔ الفؤادُ دل کا
 دھڑکنا۔ الروايةُ۔ جھنڈے
 کا ہلنا۔ البروقُ۔ بجلی کا
 کونزاد۔ خَفُوقًا، النجمُ
 ستارہ کا غروب ہونا۔ اللیلُ
 رات کا اکثر حصہ گزر جانا۔
 الطائرُ۔ پرندہ کا اڑنا۔
 الرجلُ فی البلادِ۔ ملک میں
 سفر کرنا۔ المكانُ۔ جگہ کا
 خالی ہونا۔
 اخْفَقَ۔ مضطرب ہونا۔ حاجت
 طلب کرنا لیکن ناکام رہنا۔ محروم
 ہونا۔ القومُ۔ قوم کے گوشہ
 کا ختم ہونا۔ براسدہ۔ اونگھ
 سے جھونکے کھانا۔ بشوبہ۔
 کپڑے کو حرکت دے کر اشارہ کرنا
 — النجمُ۔ ستارہ کا ڈوبنا۔
 الطائرُ۔ پرندہ کا بازو پھٹ
 پھٹانا۔ پچھاڑنا۔
 اخْتَفَقَ۔ العَلَمُ او السرابُ۔
 جھنڈے یا سراب کا ہلنا۔
 الخَفِيقَةُ۔ خَفِقَ کا اسم مرہ۔
 الخَفِيقَةُ۔ جس چیز سے مارا جائے۔ مثلاً
 تسمہ وغیرہ۔
 الخَرِيقُ وَالخَفِيقَةُ وَالخَفِيقُ وَ
 الخَفِيقَةُ۔ پتل کر کا گھوڑا۔
 خَفِيقَةٌ اور خَفِيقَةٌ۔ میں تا تائیت
 کی نہیں بلکہ بالآخر کی ہے۔ ج
 خَفِيقٌ وَخَفِيقَاتٌ وَخَفِيقَاتٌ۔
 الخَافِقُ۔ فا۔ "مکان خافق"
 انیس سے خالی مکان۔ رجلٌ
 خافق العين۔ دھنی ہوئی
 آنکھ والا۔

الْحَقَّاقُ - اسم مبالغہ - حَفَّاقُ
 القدم - وہ شخص جس کے قدم
 کا اگلا حصہ چوڑا ہو بہت حرکت
 کرنے والا۔
 الخَافِقَانِ - مشرق و مغرب۔
 الخَوَافِقُ - والخَافِقَاتُ - خافقہ
 کی جمع - جھنڈے۔
 خَوَافِقُ السَّمَاءِ - ہوا چلنے کی پاروں
 سمیں۔
 الخَفِيقُ - مصیبت - بہت تیز رو
 گھوڑا یا اونٹنی۔ وہ چوڑا وسیع
 بیابان جس میں سراب چمکتا ہوا
 دکھائی دے۔
 المَخْفِقُ - سراب والا ریگستان۔
 المَخْفِقُ - چوڑی تلوار۔
 المَخْفِقَةُ - مارنے کا کوڑا۔ بقول
 بعض لکڑی کا کوڑا۔
 مخافق - النجوم - ستاروں
 کے ڈوبنے کی جگہیں۔
 المَخْفُوقُ - مفع - مجنون۔
 الخَفْنُ - پیٹ کا ڈھیلا پن۔
 الخَيْفَانُ - ٹڈی - واحد (خَيْفَانَةٌ)
 الخَفَّانُ - ایک نرم پتھر۔ یہ لفظ عوام
 استعمال کرتے ہیں۔ اس کے
 لیے فصیح عربی "التَّخْفَةُ" ہے
 خَفَادِنٌ، خَفُؤًا وَخَفُؤًا -
 البرق - بجلی کا چمکتا - الشَّيْءُ
 ظاہر ہونا۔
 خَفِي (ض) خَفِيًا وَخَفِيًّا -
 الشَّيْءُ - ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "خَفِيَ الْمَطَرُ الْفَارَّ" بارش
 نے چوہے کو بل سے نکال دیا۔
 چھپانا۔ پوشیدہ کرنا (ض)
 خَفِي (س) خَفَاءً وَخَفِيَّةً
 وَخَفِيَّةً - پوشیدہ ہونا۔

غائب ہونا۔ صفت (خَافٍ
 وَخَفِيٍّ)
 خَفِيٌّ وَآخَفِيٌّ - الشَّيْءُ - چھپانا
 پوشیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
 "أَخَفِ عَنَّا" یعنی جو ہمارے
 بارے میں دریافت کرے، اس
 سے ہماری خبر مخفی رکھو۔
 واخفی الرجلُ - چھپنا۔ پوشیدہ
 ہونا۔ اخفی الشَّيْءُ - سرپوش
 ہٹانا۔
 تَخَفَى وَاسْتَخَفَى - چھپنا۔ پوشیدہ
 ہونا۔
 اخْتَفَى - الشَّيْءُ - ظاہر کرنا۔
 نکالنا۔ مِنْ فُلَانٍ - چھپنا۔
 البِئْرُ - کنواں کھودنا۔
 الخَفَاءُ - مص - پوشیدگی۔ کہتے
 ہیں: "برح الخَفَاءِ" معاملہ
 ظاہر ہو گیا۔ پردہ۔ چادر۔ جو
 لباس کو چھپائے پوشیدہ چیز۔
 ج۔ آخَفِيَّةُ -
 آخَفِيَّةُ الْكُرَى - آنکھیں۔ اخفیه
 الزهرة - کلی کے غلاف۔
 الخَافِي وَالخَافِيَاءُ - جن۔
 الخَفِي - لوگوں سے کنارہ کش ہونے
 والا۔ مخفی جگہ رہنے والا۔ کہا
 جاتا ہے: "رجلٌ خَفِيَ الْبَطْنُ"
 پچکے ہوئے پیٹ والا۔
 الخَافِيَّةُ - الخَافِي كَامُونُ
 پوشیدہ چیز۔ پوشیدگی۔ جن۔
 ج۔ خَوَافٍ - کہتے ہیں: "ارضٌ
 خَافِيَّةٌ" جنوں والی زمین۔
 الخَوَافِي - پرندے کے بازوؤں میں
 میں چھپے ہوئے پر۔ ضرب المثل ہے
 "ليس القوادم كالخوافي"
 سیخ کے پر چھوٹے پروں کے

مانند نہیں۔
 الخَفِيَّةُ - الخَفِي كَامُونُ - گنجان۔
 جھاڑی۔ پانی والا کنواں۔ ج
 خَفَايَا - كَخَفِيَّاتٍ - کہا جاتا ہے
 "بہ خفیه" اس پر کچھ
 دیوانگی کا اثر ہے۔
 المَخْتَفِي - فا - کفن چور۔
 خَفَّتْ (ض) خَفًا وَخَفَقًا - و
 خَفِيْقًا - القِدْرُ - ہانڈی کا
 جوش کھانا اور سنسانا۔
 "خَفَّ السَّيْلُ فِي الْاَرْضِ"
 سیلاب کا زمین میں گہرا گڑھا کر
 دینا۔ وَاخْفَتُ، الْبِكْرَةُ
 چرخے کے سوراخ کا فراخ ہونا۔
 الخَفَقَ - ج۔ آخَفَقَ وَخَفُوقَ -
 وَالْاُخْفُوقَ وَالْاُخْفِيْقَ -
 زمین کا شگاف۔ خشک تالاب۔
 خَافَانٌ - ترکوں کے بادشاہوں کا
 لقب۔ کہتے ہیں: "خَفَنَهُ
 الْقَوْمُ عَلَى الْفَسْرِه" لوگوں نے
 اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا
 خَلَّ (ن ض) خَلًّا وَخُلُولًا -
 لحمه - دبلا ہونا۔ گوشت کا
 کم ہونا۔ دن، خَلًّا - الشَّيْءُ
 سوراخ کرنا۔ الفَصِيلُ - زبان
 کو چیر کر دودھ سے روکنے کے
 لیے لکڑی ڈالنا۔ فی دعائہ -
 اپنی دعا میں مخصوص کرنا۔
 خَلَّ - اليه - محتاج ہونا۔
 خَلَّلَ - الْعَصِيْرُ - ترش ہونا۔
 سرکہ بننا۔ الْعَصِيْرُ
 سرکہ بنانا۔
 خَلَّالٌ كَرْنَا - خَلَّالٌ فِي دَعَائِهِ
 اپنی دعا میں مخصوص کرنا۔
 خَالَهُ مُخَالَةً - وَخَلَّالًا وَخَلَّالًا -

والخَلَائِةَ، وانتوں کا خلال۔
 الخِلَالُ والخَلَائِةُ۔ وانتوں میں
 پھنسنے ہوئے خوراک کے ریزے۔
 خِلَالُ الدِّيَارِ۔ ملک کا ارد
 گرد۔ گمروں کے درمیان۔
 کہتے ہیں: هُوَ خَلَا لَهْمٍ۔ وہ
 ان کے درمیان ہے۔
 الخَلَائِةُ والخَلَائِةُ والخَلَائِةُ
 سبھی دوستی۔
 الخَلِيلُ۔ خالص دوست۔ ج۔
 أَخِيْلًا وَاخِيْلَانًا۔ لاغر بدن
 والا۔ فقیر۔ مؤنث۔ خَلِيْلَةٌ
 ج۔ خَلِيْلَاتٌ وَاخِيْلَاتٌ۔
 — شیءٌ خَلِيْلٌ۔ چمدی
 ہوئی چیز۔
 الخَلَالُ۔ سرکہ فروش۔ سرکہ بنانے
 والا۔
 الأَخْلُ۔ محتاج۔ دوسرے سے زیادہ
 محتاج — رَجُلٌ مُخْلٌ۔
 فقیر محتاج آدمی۔
 خَلَاءٌ۔ خَلْوَاءٌ۔ اپنی جگہ سے
 نہ ملنا۔
 خَالَاءٌ۔ مُخَالَاءَةٌ۔ القوم۔
 ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز
 میں لگنا۔
 خَلْبَهُ دَنًا، خَلْبًا، بظفر۔
 ناخن سے خواش لگانا۔ زخمی کرنا۔
 — السَّبْعُ الغَرِيْبَةُ۔
 درندہ کا اپنے بھکاری کو چمکل سے
 پکڑنا — الفتى۔ جوان کے دل
 کو موہ لینا۔ فتنہ میں مبتلا کرنا۔
 خَلْبَهُ دَنًا، خَلْبًا وَاخِيْلَانًا و
 خَلَابَةٌ وَاخَالِبَةٌ مُخَالِبَةٌ
 وَاخَلْبَهُ وَاخْتَلَبَهُ۔ نرم
 کلامی سے کسی کو فریفتہ کرنا۔ صفت

کہتے ہیں: مَا لَهُ خَلٌّ وَلَا خَمْرٌ؛
 یعنی اس کے پاس نہ اچھی چیز ہے
 نہ بُری۔ نہ نیکی ہے نہ برائی۔
 ولست من هذا الامر في
 نخل ولا خمر۔ مجھ کو اس
 معاملہ کے نہ خیر سے مطلب ہے
 نہ شر سے کام۔ — امر الخَلِّ
 شراب۔
 الخَلِّ وَالخَلِّ۔ گہرا دوست۔ مؤنث
 خَلٌّ وَاخَلَّةٌ۔ ج۔ اخِلَالٌ۔
 الخَلَلُ۔ سُوسِيٌّ۔ فساد۔ رائے میں
 پرانگی اور انتشار۔ شکاف۔ درد
 ج۔ خِلَالٌ۔
 الخِلَلُ۔ دانتوں میں کھانے کے
 بقیہ ریزے۔ واحد (خِلَّةٌ)
 کہتے ہیں: هُوَ خِلَلُ القومِ۔
 وہ قوم کے درمیان ہے۔
 الخَلَّةُ۔ عادت۔ سوراخ۔ تھوڑا۔
 سرکہ۔ تھوڑی کھٹی شراب۔ حبت
 مفلسی۔ ج۔ خِلَالٌ وَاخِلَلٌ۔
 الخَلَّةُ۔ بلی پھلکی عورت۔
 الخَلَّةُ۔ وہ گھاس جس میں حلاوت
 و مٹھاس ہو۔ ج۔ خَلَلٌ۔ دوستی
 عادت۔ بیوی۔ سہیلی۔ دوست۔
 (واحد تنہیہ، جمع، مذکر، مؤنث
 سب کے لیے، کہہ سکتے ہیں۔
 هُوَ وَهِيَ وَهُنَّ خَلَّتِي۔
 الخَلَّةُ۔ دوستی۔ بھائی بندی۔
 چمڑے سے منڈھا ہوا تلوار کا
 میان۔ ہر نقش دار چمڑا۔ ج۔
 خَلَلٌ وَاخِلَالٌ۔
 الخِلَالُ۔ سوراخ کرنے کا آلہ۔ وہ
 لکڑی جو اونٹ کے بچہ کی زبان
 میں لگائی جاتی ہے کہ وہ دودھ
 نہ پی سکے۔ ج۔ أَخِلَّةٌ۔ د۔

دوستی کرنا۔ بھائی بندی کرنا۔
 أَخَلٌّ۔ محتاج ہونا۔ بالشیء۔
 کوتاہی کرنا۔ چھوڑنا —
 الوالی بالشفوس۔ حاکم کا
 سرمدات پر لشکر کم کر دینا۔
 بمرکزه۔ چھوڑ دینا —
 بقومہ۔ قوم سے غائب ہو جانا
 — بالوجل۔ پورا حق نہ دینا۔
 — بالامر۔ کسی امر کو بُرے
 طریقے سے انجام دینا۔ أَخَلَّهُ
 اللہ۔ خدانے اس کو مفلس و
 محتاج کر دیا۔ أَخَلَّ بالوجل
 محتاج ہونا۔
 تَخَلَّلَ — القوم۔ قوم میں مل
 جانا — بالرمح۔ پیالے
 نیزہ مارتا — المشى فيه
 گھستا۔ نفوذ کرنا۔ المطر۔
 خاص جگہ میں بارش برسنا۔
 — الرجل۔ دانتوں میں خلال
 کرنا۔
 اُخْتَلَّ — الامر۔ سُوسِيٌّ اور
 خراب ہونا — عقلہ۔
 عقل خراب ہونا — اليه
 محتاج ہونا — العَصِيْرُ
 سرکہ بنانا — العَصِيْرُ۔ سرکہ
 بنانا — لحمه دبلا ہونے
 کے باعث گوشت کا کم ہونا۔
 — الرجل۔ اپنے لیے
 سرکہ بنانا۔
 تَخَالَوَا۔ تَخَالًا۔ آپس میں
 دوستی کرنا۔
 الخَلُّ۔ مص۔ سرکہ ریگستانی
 راستہ۔ دبلی جسم والا۔ لاغر۔
 موٹا۔ بوسیدہ کپڑا۔ کپڑے کی
 پھٹن۔ ج۔ أَخَلَّ وَاخِلَالٌ۔

دَخَالِبٌ وَخَلُوبٌ وَخَلَابٌ
 وَخَلْبُوتٌ، مَوْتُ. خَالِيَةٌ
 وَخَلْبَةٌ وَخَلُوبٌ. وَ
 خَلَايَةٌ وَخَلْبُوتٌ.
 خَلِيَّتٌ (س)، خَلِيًّا - المَرَاةُ
 عورت کا بے وقوف ہونا۔ صفت
 (تخلباء)۔
 أَخْلَبٌ - المَاءُ - پانی کا کھینچنے والا
 ہونا۔ صفت (تخلب)۔
 اسْتَخْلَبَهُ - بظفرہ - خراش لگانا۔
 - الخَلْبُ - جگر کے اوپر کی
 جھلی۔ انگور کے پتے - ج۔
 أَخْلَابٌ (س) - وَايْلُ خَلْبٍ
 ناخن خصوصاً درندہ کے۔ ج۔
 تَخَالِبٌ - المِخْلَبُ - درانتی۔
 الخَلْبُ وَالخُلْبُ - کھینچنے کی پھور
 کے درخت کا گودا۔ کھجور کے
 درخت کی چھال اور اس کی بیٹی
 ہوئی رسی۔
 الخُتْبُ - بے بارش کا بادل۔
 وَالْبَرْقُ الخُتْبُ وَبَرْقُ
 الخُتْبُ - بے بارش کے بادل
 کی بجلی۔ اور "إِثْمَا انت كبرق
 خُتْبٌ" اس شخص کے حق میں
 کہا جاتا ہے جو وعدہ تو کرے مگر
 اس کو پورا کر کے نہ دکھائے۔
 الخَلْبِيُّ - فریب۔ دھوکا۔
 المِخْلَبُ - من الثياب -
 بہت نقش و نگار والا کپڑا۔
 الخَلْبُوبُ - فریبی۔ دھوکا دینے
 والا۔
 خَلْبَسَهُ او خَلْبَسَ - قلبہ۔
 فریفتہ کرنا۔
 الخَلَابِسُ - نرم بات۔
 الخَلَابِسُ وَالخَلَابِسُ وَالخَلَابِسُ

باطل اور جھوٹی باتیں۔
 الخَلَابِسُ - کینے۔ زویل لوگ۔
 خَلَجَ (ن ص) خَلَجًا - کھینچنا۔
 کھینچ کر نکالنا۔ بعینہ۔
 آنکھ مارنا۔ آنکھ سے اشارہ
 کرنا۔ الشئ - حرکت دینا۔
 - ه بالسيف - تلوار سے
 مارنا۔ الولد - بچہ کا دودھ
 چھڑانا۔ ه الامر - مشغول
 کرنا۔ کہتے ہیں "خَلَجْتَهُ
 اُمُودَ الدنیا - دنیا کے بکھیڑوں
 نے اس کو پھانس لیا۔
 خَلَجْتُ (ن ص) خَلَجًا وَخُلُوجًا
 وَخَلَجَانًا - العین - آنکھ کا
 پھڑکانا۔
 خَلَجَ (س) خَلَجًا - تکان یا چلنے
 سے بڑیوں کا درد کرنا۔
 الشئ - بگڑنا۔ خراب ہونا۔
 خَالَجَ - قلبہ امر - کسی امر کا
 دل کو فکر و سوچ میں الجھا دینا۔
 أَخْلَجَ - حاجبہ - ابروؤں کو
 مٹکانا۔
 تَخَلَجَ - حرکت کرنا۔ ہلکا۔ جھکنا۔
 - الشئ - کھینچنا۔
 تَخَالَجْتَهُ - المصنوم - کھینچنا۔
 کہتے ہیں "تَخَالَجَ فِي صَدْرِي
 شئ" - میرے دل میں کچھ خلجان
 ہوا۔
 اخْتَلَجَ - جھڑکانا۔ العین -
 پلکوں کا خود بخود پھڑکانا۔
 الشئ فی صدرہ - دل کو مشغول
 کرنا۔ دل میں خلجان ہونا۔
 الشئ - کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا
 - الولد - بچہ کا دودھ
 چھڑانا۔

أَخْتَلَجَ - من بينهم - مرنا۔
 الخَالَجُ - فا - موت۔
 الخَلَجُ - کانپنے والے بدن کے لوگ۔
 مشکوک النسب لوگ۔
 الأَخْلَجُ - رسی۔
 الخَلِيجُ - من البحر - کھاڑی۔ ندی
 چھوٹی کشتی۔ رسی۔ ج خُلْجَان
 وَخُلْجٌ - خلیج النهر۔
 دریا کے دونوں کنارے۔
 الأَخْلِيجُ - ایک قسم کی گھاس۔
 من الخیل - تیز رفتار گھوڑا۔
 خَلْخَلٌ - العظم - گوشت
 اتار کر بڑی کو صاف کرنا۔
 - المَرَاةُ - عورت کو پازیب
 پہنانا۔
 تَخَلْخَلٌ - الشئ - پوستہ اجزاء
 والا نہ ہونا۔ اجزاء کا ایک دوسرے
 کے ساتھ ملا ہونا نہ ہونا۔ من
 مکانہ - اپنی جگہ سے ہلنا۔
 - المَرَاةُ - پازیب پہنانا۔
 - الثوبُ - کپڑے کا
 بوسیدہ ہونا۔
 الخَلْخَالُ - ج۔ خلا خیل۔ و
 (الخَلْخَلُ وَالخَلْخَلُ) ج
 خَلَاخِلٌ - پازیب - ثوبٌ
 (خَلْخَالٌ وَخَلْخَلٌ)
 المَخْلَخَلُ - پنڈلی پر پازیب پہننے
 کی جگہ۔
 خَلَدَ (ن) خُلُودًا - ہمیشہ رہنا۔
 (خَلَدًا وَخُلُودًا) باوجود زیادہ
 عمر ہونے کے بڑھاپے اور کمزوری
 کا ظہور نہ ہونا۔ صفت۔
 (خَالِدٌ وَخَلْدٌ) وَمُخَلِدٌ
 وَمُخَلْدٌ) - الی المکان
 وبالمکان۔ کسی جگہ اقامت

کرنا — الی الارض۔ زمین سے چھٹنا۔
 خَلَدَ وَاخْلَدَ — الی المکان وبالملکان۔ اقامت کرنا۔
 — ہ۔ ہمیشہ کے لیے رکھنا۔
 — اخلد بصاحبہ۔ ہمیشہ ساتھ رہنا۔ اخلد الیہ مائل ہونا۔ جھکنا۔
 الخلد۔ ہمیشگی۔ دوام۔ بقا۔ چھوہند۔ ج (غیر لفظ سے) مناجذ۔
 الخلد۔ کنگن۔ بالی۔ ج۔ خلدہ الخلد۔ دل۔ ہمیشہ رہنے والا۔ الخلدۃ۔ بالی۔ کنگن۔ الخالد۔ فا۔ ابو خالد۔ کنا۔ الجزائر الخالدات۔ جزائر کناری۔ الخوالد۔ پہاڑ۔ پتھر۔ الخلر۔ ایک قسم کی نباتات۔ بعض کے نزدیک لوبیا یا ماش۔ خلص (ض) خلصاً و خلیصی — الشئی۔ جھپٹا مار کر چھین لے جانا۔
 اخلص۔ النبت۔ خشک اور تر گھاس کا ملا جلا ہونا۔ الراص سر کے بالوں کا کچھ حصہ سفید ہونا صفت (خلص و خلیص و مخلص) — اخلست الارض۔ زمین کا سبزہ اگانا۔ خالصہ مخالصۃ۔ جلدی کرنا۔ تخالص۔ القوم الشئی۔ ایک دوسرے سے چھیننا۔ کہا جاتا ہے۔ "ہما یتخالصان انفسہما" یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہیں۔

اختلص۔ الشئی۔ دھوکے سے چھین لینا۔ جھپٹا مار کر چھین لینا۔ القاری الحریکۃ۔ قاری کا حرکت کو پرنہ پڑھنا۔ اس کا مقابل اشباع۔ ہے۔ اس میں حرکت کو ایسا پڑھا جاتا ہے کہ بجائے حرکت کے حرف علت پیدا ہو جاتی ہے۔ الخلصۃ۔ جھپٹ۔ جھپٹی ہوئی چیز۔ مناسب فرصت۔ اور اسی سے یہ قول: الخلصۃ سریعۃ الفوت بطیئۃ العود۔ فرصت جلد ختم ہونے والی، اور دیر میں لوٹنے والی ہے۔ الخلیص والخلص۔ چوکنا بہادر۔ الخلامی۔ وہ بچہ جس کے ماں باپ میں ایک گورا ہوا اور ایک کالا۔ خلص دن، خلوصاً و خلاًصاً خالص ہونا۔ من الهلاک نجات پانا۔ محفوظ رہنا۔ الماء من الکدسا۔ پانی صاف ہونا۔ الی المکان و بالملکان۔ کسی جگہ پہنچنا۔ من القوم۔ جدا ہونا۔ خلص (س) خلصاً۔ اللحم۔ گوشت میں ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ خلصہ۔ من کذا۔ نجات دینا۔ خلص الشئی۔ چیز کو صاف کرنا۔ آمیزش سے پاک کرنا۔ خلاصہ لینا۔ خلص الرجل۔ مثل شے دینا۔ خالصہ مخالصۃ۔ فی العشرۃ او المودۃ۔ معاملہ میں صفائی برتنا۔ خالصہ الود۔

خالص دوستی کرنا۔ تخالصاً۔ ایک دوسرے کے ساتھ صفائی کا برتاؤ کرنا۔ خالص دوستی کرنا۔ اخلص۔ الشئی۔ خلاصہ نکالنا۔ چن لینا۔ ہ اللذ۔ عیوب سے خالی کرنا۔ الطاعۃ و فی الطاعۃ۔ طاعت میں ریاکاری نہ کرنا۔ له الحبت اد القول۔ محبت یا بات کو کھوٹ سے خالی کرنا۔ تخلص۔ منہ۔ نجات پانا۔ جدا ہونا۔ من کذا الی کذا منتقل ہونا۔ استخلصہ۔ چن لینا۔ پسند کرنا۔ الشئی منہ۔ واپس لینا۔ حاصل کرنا۔ الخلاص۔ مصد۔ و الخلاص کھوٹ سے خالی کیا ہوا (سونا چاندی، مکھن وغیرہ) الخلاصہ و الخلاصۃ۔ خالص گئی۔ پھر ہر اس چیز پر اطلاق ہونے لگا جو غیر کی آمیزش سے پاک ہو۔ اور اسی سے ہے۔ خلاصۃ الکلام۔ الاخلاص و الاخلاصۃ۔ تلخیص سے صاف کیا ہوا مکھن — کلمۃ الاخلاص لا الہ الا اللہ الخلیص۔ ہر سفید شے۔ الخلیص۔ ج۔ خلصاء و الخلیصان یار۔ مخلص دوست۔ "خلصان مفرد و جمع ہر دو کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: "ہو خلصانی و ہم خلصانی"۔

الخالص . فا . بے کھوٹ . صاف رنگ . کتے ہیں . " هَذَا ثَوْبٌ خَالِصٌ " یعنی یہ صاف رنگ کا کپڑا ہے . ج . خُلِّصَ . الخالصة . الخالص کا مؤنث . کہا جاتا ہے . " هُوَ خَالِصٌ " وہ میرا دوست ہے . " وَهَذَا الشَّيْءُ خَالِصٌ لَكَ " یہ چیز تمہارے لیے خالص ہے . الخُلُوص . کھجور سے تیار کی ہوئی ربڑ صاف گھی کے نیچے رہ جانے والی تلمچٹ . المخلص . فا . نجات دلانے والا . خَلَطَ رَضًا ، خَلَطًا وَخَلَطًا . الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ . ایک چیز کو دوسری سے ملانا . کہا جاتا ہے . " خَلَطَ المَرِيضُ " بیمار نے مضر چیز کھائی . " وَخَلَطَ فِي الكَلَامِ " اس نے بکواس کی . " خَلَطَ فِي الشَّيْءِ " خراب و فاسد کیا . أَخْلَطَ - الفرس . گھوڑے کا دوڑنے میں کوتاہی اور کمزوری دکھانا . خَالَطَهُ . مُخَالَطَةٌ وَخِلَاطًا . مخلوط ہونا . آمیزش کرنا . میل ملاپ کرنا ساتھ رہنا . الداء فلانًا . کسی میں بیماری کا اثر جمالینا . خَوَّلِطَ - فِي عقله . مضبوط الحواس ہونا . اِخْتَلَطَ - ملنا - الظلام . تاریکی کا سخت ہونا - الرجل . عقل خراب ہونا - الفرس . گھوڑے کا دوڑنے میں کوتاہی کرنا تَخَالَطُوا - آپس میں ایک دوسرے

کے ساتھ گتہ جانا . الخَلَطُ - مص . لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا اور چا پوسی کرنے والا . الخِلْطُ - طیر ہا تیر . طیر بھی کمان . احمق . کتے ہیں . " هُوَ خِلْطٌ بَيْنَ الخِلَاطَةِ " وہ صاف اور کھلا بیوقوف ہے . ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز سے ملے . ج . أَخْلَاطٌ - حرامی . کتے ہیں " رَجُلٌ خِلْطٌ مِلْطٌ " یعنی مخلوط نسب کا آدمی . الأَخْلَاطُ - ملی ملی قسمیں - اخلاط الجسد في عرف الاقدمين . بدن کے چار اخلاط خون . بلغم . سواد صفراء - واخلاط القوم . قوم کے اوباش بچے لوگ . الخِلْطُ - بیوقوف . الخُلْطَةُ - شرکت . الخِلَاطُ - آدمیوں اور جانوروں کا ملا جلا گروہ . الخِلَاطَةُ - عقل کی خرابی . حماقت . الخَلِيطُ - ج . خَلِيطٌ وَخَلِطَاءٌ . خلط ملط رکھنے والا . شریک وہ لوگ جن کا معاملہ ایک ہو . خاوند . ہمسایہ ساتھی . بھوسہ ملی ہوئی مٹی - خلیط الرجل . میل جول رکھنے والا . کتے ہیں " خَلِيطٌ مِنَ النَّاسِ " اوباش . الخُلِيطِيُّ وَالخَلِيطِيُّ . اوباش . کہا جاتا ہے " وَقَعَوَانِي خَلِيطِي " لوگ گڑ بڑی میں پڑ گئے . المخلط والمخلط . بہنم میل

جول رکھنے والا . جمل مختلط . موٹا فریب اونٹ جس کی چسبہ گوشت کے ساتھ مل گئی ہو . خَلَعَ رَفًا ، خَلَعًا - الشَّيْءُ . اتارنا - كَتَفَهُ او دَرَنَهُ . عضو کو اپنی جگہ سے ہٹانا . - القائد . قائد کو معزول کر دینا . المدابة جانور کو بندش سے آزاد کر دینا یا چھوڑ دینا - العذار . حیا کو خیر باد کہنا . اور اپنی خواہش کا بندہ بننا - عليه ثوبًا . کسی کو خلعت بخشنا - خَلَعَ الشَّجَرُ . درخت کا اپنے پرانے پتے جھاڑ کر نئے پتے نکالنا . خَلَعَ رَفًا خَلَعًا وَخَلَعًا - ابنہ . بیٹے کو عاق کرنا . صفت مفعولی (خَلِيع) - امرأتہ . مال کے عوض طلاق دینا . صفت مفعولی (خَالِع) ، اسم (الخُلْعَةُ) خَلِعَ - المبيت . میت کا کفن جدا کیا جانا . خَلَعَ رَفًا ، خَلَعَةً - خواہشات نفسانی کا بندہ بننا بے حیا ہونا . خَالِعٌ مُخَالَعَةٌ - الرجل زوجته او المرأة زوجها . مال معین کے عوض میں جدائی اختیار کرنا - وخالِع الرجل . جو اکیلنا خَلَعَهُ - الگ الگ کرنا . خالص کرنا . أَخْلَعَ - السنبل . بالی میں دانے آنا - الشجر . درخت کا نئے پتے نکالنا . تَخَلَعَ - فِي المشي . چلنے میں پیروں کو الگ الگ رکھنا -

کرنا۔ عن اصحابہ۔ ساتھیوں سے پیچھے رہ جانا۔ فلانا۔ کسی کو پیچھے سے پکڑنا۔ جانشین ہونا۔ کہا جاتا ہے "خلف له بالسيف"۔ پیچھے سے آکر تلوار کا گردن پروار کرنا۔ خلف له بخیر او شر۔ کسی کا پیٹھ پیچھے بھلایا برا ذکر کرنا۔

خَلْفَ (س) خَلْفًا۔ بائیں ہتھا ہونا۔ بھینگا ہونا۔ بے وقوف ہونا۔ خَلْفَتِ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کا حاملہ ہونا۔

خَلْفَ۔ الشَّيْءِ۔ پیچھے چھوڑنا۔ مؤخر کرنا۔ کسی کو خلیفہ بنانا۔ خَالَفَهُ خَلْفًا وَمُخَالَفَةً۔

مخالفت کرنا۔ خالف عن كذا۔ پیچھے رہنا۔ بین رجلیہ پاؤں کو آگے پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے خَالَفَنِي عَنْ كَذَا۔ جبکہ وہ اعراض کر رہا ہوا اور تم اس کا قصد کر رہے ہو۔ "خَالَفَنِي اِلَى كَذَا" جبکہ تم اعراض کرنے والے ہو اور وہ قصد کرنے والا۔ اَخْلَفَ۔ بوکا متغیر ہونا۔ خراب ہونا۔

— الثوب۔ کپڑے کی درستی کرنا۔ لاهلہ۔ اپنے اہل کے لیے پانی طلب کرنا۔ وعدہ او بوعده۔ وعدہ پورا نہ کرنا۔ — کسی کو وعدہ خلاف پانا۔ — الغیث۔ بارش کی امید بندھنے کے بعد اس کا نہ برسنا۔ — الشجرة۔ کائی ہوئی شاخ کے بعد درخت کا دوسری شاخ نکالنا۔ الطائر۔ پرندے کا پہلے پروں کے بعد دوسرے پر

خوف — الخيلع بے آستینوں کی قمیص۔ رجل الخيلع کمزور آدمی۔ المخلع۔ مفع۔ من الرجال۔ کمزور ڈھیلے جوڑوں والا۔ اکھڑے ہوئے جوڑوں والا۔ وہ شخص جس کا پورا بدن یا کچھ حصہ بدن کا بے حس و حرکت ہو۔

خَلْفَهُ (ن) خِلَافَةً وَخَلِيفَةً۔ جانشین ہونا۔ رَبُّهُ فِي قَوْمِهِ۔ جانشین بنانا۔

الرجل۔ بعد میں رہ کر کسی کا قائم مقام ہونا۔ (س) خَلْفًا وَخِلْفَةً۔

بَعْضُهَا بَعْضًا۔ ایک دوسرے کے قائم مقام ہونا۔ خَلْفًا وَخِلْفَةً۔

وخلوقًا، — الغلام۔ بے وقوف ہونا۔ صفت (خالف وخالفته)۔ عن خلق

ابیه۔ اپنے باپ کی عادت و خصلت سے بدلا ہوا ہونا۔ خُلُوفًا وَخُلُوفَةً، فَمُ

الصَّائِحِمِ روزه دار کے منہ کی بوکا متغیر ہونا۔ الطعام کھانے کے مزے یا بوکا متغیر ہونا۔ (ص) خَلْفًا۔

الرجل لاهلہ۔ اپنے گھر والوں کے لیے پانی لانا۔ البيت مکان کے پچھلے حصہ میں ستون لگانا۔ اباہ۔ اپنے باپ کے قائم مقام ہونا۔ کہتے ہیں۔

"خلف الله لك وعليك" خداتعالیٰ تم کو عوض و بدلہ دے گا۔ الثوب۔ کپڑے کی درستی

في الشراب۔ منہمک ہونا۔ تَخَالَعَ۔ الزوج والزوجۃ۔ خاوند بیوی کا ایک دوسرے سے مال پر ہدائی اختیار کرنا۔ ایک دوسرے کو چھوڑنا۔ القوم۔ باہم عہد توڑنا۔ اِنْخَلَعَ۔ اپنی جگہ سے ہٹ جانا اکھڑ جانا۔

اِخْتَلَعَ۔ الشَّيْءِ۔ کسی شے کو نکال لینا۔ کینچ لینا۔ اختلعا الرجل۔ کسی کا مال لے لینا۔

— اختلعت المرأة من زوجها۔ عورت کا اپنے خاوند کا مال دے کر طلاق لے لینا۔ اسم۔ (الخلع)

الخيلع۔ پوشاک جو انعام کے طور پر بخشی جاتی ہے۔ اتارا ہوا کپڑا۔ عمدہ مال۔ الخلعة۔ عمدہ مال۔ کمزوری۔

کہتے ہیں "فيه خلعة" اس میں کمزوری ہے۔

الخلاء۔ ایک قسم کی دیوانگی جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ الخلیع۔ عاق کیا ہوا بیٹا۔ عیاش معزول کیا ہوا۔ خبیث پکا جوئے باز۔ جہ۔ خَلْعَاء

بھیڑیا۔ بھوت۔ ثوب خلیع۔ بوسیدہ کپڑا۔ الخلیعة۔ بے حیائی۔ الخلیع کا مؤنث۔ خود مختار عورت۔

الخولع۔ احمق۔ آٹے سے تیار کیا ہوا کھانا۔ سرکہ میں جوش دیا ہوا گوشت جو سفروں میں ہمراہ لکھا جاتا ہے۔ بھیڑیا۔

والخیلع، دل پر چھا جانے والا

نکالتا۔ الغلام۔ لڑکے کا
جوانی کے قریب پہنچنا۔
لنفسہ۔ ایک چیز کھونے کے
بعد دوسری کو اس کا قائم مقام
بنانا۔ ہ پیچھے ہٹانا۔
الدواء فلاناً۔ دوا کا کسی کو
کمزور کر دینا۔ اللہ علیہ۔
کھوٹی ہوئی چیز کا عوض و بدلہ دینا۔
تَخَلَّفَ۔ عنہم۔ پیچھے رہنا۔
القوم۔ قوم کو پیچھے چھوڑ کر
آگے نکل جانا۔
تَخَالَفُوا وَاحْتَلَفُوا۔ آپس میں
اختلاف کرنا۔ ناموافق ہونا۔
اِحْتَلَفَ۔ جانشین ہونا۔ اپنے
پیچھے کرنا۔ پیچھے سے پکڑنا۔
واختلف الی المکان۔ کسی جگہ
بار بار جانا۔
اسْتَخْلَفَ۔ اپنا خلیفہ و جانشین
بنانا۔ فلاناً من فلان
قائم مقام کرنا۔ استخلف
الارض۔ زمین کا گرمی کی گھاس
اگانا۔
الخَلْفُ۔ مص۔ ایک گروہ کے بعد
ایک گروہ۔ اور اسی سے ہے۔
”هُؤُلَاءِ خَلْفُ سُوَيْدٍ“۔ یہ ان کے
حق میں بولتے ہیں۔ جو اپنے سے
زیادہ لوگوں کے ساتھ لاحق ہوں
ردی۔ مقولہ ضرب المثل ہے۔
”سکت النفا و نطق خلفاً“
ہزاروں باتوں سے تو خاموش رہا
اور جب مر خاموشی توڑی، تو
ردی بات منہ سے نکالی۔ کلہاڑی
کی دھار۔ کلہاڑا۔ بے خیر آدمی۔
پہلو کی سب سے چھوٹی پسلی۔
ج۔ خُلُوفٌ وَخَلْفٌ۔ پیچھے۔

بعد ازاں۔
الخَلْفُ۔ وعدہ کا ایفاء نہ کرنا۔ وعدہ
پورا نہ کرنا۔ خلاف۔ مفروض خلیف
کی جمع۔ ”قیاس الخلف“ منطق
کی اصطلاح میں ایک نقیض کے
امتناع سے دوسرے نقیض کے
تحقق پر استدلال کرنا۔
الخَلْفُ۔ مختلف۔ اونٹنی کے حق
کا سرا۔ گرمی کے موسم میں اُگنے
والی گھاس۔ ج۔ اَخْلَافٌ وَ
خِلْفَةٌ۔ الخُلْفَانُ۔ دو
مخالف صفات کی چیزیں۔ کہا
جاتا ہے۔ ”لہ ولدان خلفان“
اس کے دو مختلف الصفات
بچے ہیں۔ ایک عقل مند ہے دوسرا
بے وقوف۔ یا ایک دراز قامت
ہے دوسرا پست قد۔ کہتے ہیں
”ولدت الناقة خلفین“
اونٹنی نے ایک سال زربچہ دیا۔
اور ایک سال مادہ بچہ۔
ذات الخلفین۔ وہ کلہاڑی جس
کے دو برے ہوں۔ ج۔ ذوات
الخلفین
الخَلْفُ۔ بچہ۔ نیک بچہ۔ بدل عوض۔
کہتے ہیں۔ ”فی هؤلاء القوم
خلف ممن مضی“ یعنی اس
قوم میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے
انگلوں کے جانشین ہیں۔ کسی
کے بعد حاصل ہونے والے شے۔
کہتے ہیں۔ ”اعطاك الله
خلفاً من تلمیذہ“ اللہ تعالیٰ
تم کو صالح شدہ شے کا بدلہ و
عوض عطا فرمائے۔ نسل۔ ذریت۔
کہا جاتا ہے۔ ”هُوَ كِرَامٌ
خَلْفًا عَنِ سَلْفٍ“ یعنی ان کو
شرافت و بزرگی اپنے باپ و ادا
سے وراثت میں ملی ہے۔ ”وهُوَ
خَلْفٌ صَدِيقِ عَنِ اَبِيهِ“
وہ اپنے باپ کا اخلاق و صفات
میں سچا جانشین ہے۔
الخَالِفُ۔ فا۔ احمق۔ وہ جو ایک
شخص کے جانے کے بعد بیٹھا
رہے۔ ”نبیذٌ خالف“۔ خراب
شدہ انگور کا رس۔
الخَالِفَةُ۔ الخَالِفُ کا مؤنث۔
ایک جماعت کے گزرنے کے بعد
باقی ماندہ جماعت۔ مکان کے
پچھلے حصہ کا ستون۔ رجلٌ
خَالِفَةٌ۔ بیوقوف جھگڑا آدمی۔
بہت اختلاف کرنے والا۔ کہتے
ہیں۔ ”ما ادری ائی خالیفة ہو
وائی الخالیف ہو“ یعنی میں
نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔
الخَوَالِفُ۔ عورتیں۔ دیر سے سبزہ
اگانے والی زمینیں۔
الخِلَافُ۔ ناموافقت۔ بید کا
درخت۔ قیص کی آستین۔
المَسَائِلُ الخِلَافِيَّةُ۔ مختلف
فیہ مسائل۔
الخِلَافَةُ۔ امارت۔ امامت۔
جانشینی۔
الخِلْفَةُ۔ بیماری سے اشتہاء کا جاتا
رہنا۔ ج۔ خَلْفٌ
الخِلْفَةُ۔ آمدورفت۔ مخالفت۔ مختلف
کپڑے کا پیوند۔ گرمی کے موسم میں
اُلی ہوئی گھاس۔ وہ چیز جو سوار
کے پیچھے لٹکائی جائے۔ باقی ماندہ۔
کسا جاتا ہے۔ ”هُنَّ يَمَشِينَ
خِلْفَةً“۔ وہ سب کے بعد دیکھ
آ جا رہی ہیں۔ ”وجعل اللیل

والنهار خَلْفَةً“ یعنی رات و دن کو آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ ”وقوم خلفة“ اختلاف کرنے والے لوگ۔ ”وفی البئر خلفة“ من الماء۔ کنویں میں بجا ہوا پانی ہے۔ الخَلْفَةُ۔ مخالفت۔ بے وقوفی۔ عیب۔ کھانے کا آخری مزہ۔ الخَلِيفُ۔ دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ۔ پہاڑی راستہ۔ میعاد سے پیچھے رہنے والا۔ غلاف و عدگی کرنے والا۔ ج۔ خُلْفٌ وَخُلْفٌ وَخَلْفٌ الخَلِيفُ۔ وہ عورت جو اپنے بالوں کو پیچھے لٹکائے۔ الخَلِيفَةُ۔ جانشین۔ قائم مقام۔ سب سے بڑا بادشاہ۔ یہ مذکر ہے۔ کہتے ہیں۔ ”هذا خلیفة اُخری“ کبھی لفظ کا لحاظ کرتے ہیں۔ مؤنث مستعمل ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں۔ ”خلیفة اُخری“ ج۔ خُلْفَاءُ وَخَلَائِفٌ۔ بلحاظ اول عدد مذکر لاتے ہیں۔ ثلثة خلفاء۔ اور بلحاظ ثانی عدد کو مذکر و مؤنث ہر دو طریق سے لانا جائز ہے۔ کہہ سکتے ہیں ثلثة او ثلثات خَلَائِفٌ۔ الأَخْلَفُ۔ بائیں ہتھکا۔ بھینگا۔ کم عقل۔ سیلاب۔ زسانپ۔ المِخْلَافُ۔ بڑا وعدہ خلاف آدمی ج۔ مَخَالِيفٌ۔ المِخْلَافُ۔ صوبہ۔ اور اسی سے ہے۔ ”مخالیف الیمن“ یمن کے صوبے۔ المَخْلَفَةُ۔ وہ جگہ جہاں بید کے

درخت بہت ہوں۔ راستہ۔ مرحلہ منزل۔ خَلْفَهُ دُنْ، مَخْلَقًا وَخَلْفَةً۔ پیدا کرنا۔ عدم سے وجود میں لانا۔ — الکذب۔ جھوٹ گھڑنا۔ — الادیب۔ کاٹنے سے پہلے چمڑے کا اندازہ کرنا۔ — الشیء۔ ہموار کرنا۔ چکنا کرنا۔ ملامت کرنا۔ خَلِيقٌ دَسٌّ، خَلْقًا وَخَلْقٌ دِكٌّ، خُلُوقًا وَخُلُوقَةً وَخَلَاقَةً چکنا و نرم ہونا۔ خَلِيقٌ دُنْ، وَخَلِيقٌ دَسٌّ، وَخَلِيقٌ دِكٌّ، خُلُوقًا وَخَلْقًا۔ الثوب۔ کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ — خَلْقُ الشیءِ لَه۔ کوئی چیز کسی کے لیے لائق و سزاوار ہونا۔ — خلق الغلام۔ اچھے اخلاق والا ہونا۔ خَلْفَهُ۔ خَلُوقٌ؛ خوشبو لگانا۔ — العود۔ لکڑی کو ہموار و نرم کرنا۔ خَالِقُهُمْ مَخَالِفَةٌ۔ حَسَنُ خَلْقٍ كَسَائِدٍ مَعَاشِرَتُ كَرْنَا۔ آخِلَقٌ۔ الثوب۔ کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ — الشباب۔ جوانی کا ختم ہو جانا۔ — الثوب۔ کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ — الثوب۔ کسی کو بوسیدہ کپڑا پہنانا۔ کہا جاتا ہے: اخلقت له دیبا جتی۔ میں نے اس کو اپنے ایسے بھید سے باخبر کیا جس کے ظاہر ہونے سے مجھے عار ہے۔

تَخْلُقُ۔ ”خَلْقٌ“ خوشبو لگانا۔ — ”بغیو خَلْقَهُ“ بناوٹی طریق بنا۔ اور اسی سے ہے یہ قول۔ ”لیس التخلیق بالاخلاق“ کا لخلق؛ بناوٹی اخلاق طبعی عادات کے مثل نہیں۔ — واخلق الکذب۔ جھوٹ گھڑنا۔ اِخْلُوقُ۔ الثوب۔ کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ — الرسد۔ کندر کا زمین کے ساتھ برابر ہو جانا۔ — متن الفرس۔ گھوڑے کی پیٹھ کا چکنی ہونا۔ — الدار۔ گھر کا ویران ہونا۔ اجاڑ ہونا۔ یہ کبھی عسی کی طرح امید کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ ”اِخْلُوقَتِ السَّعَاءُ أَنْ تَمُطَّوْا“ امید ہے کہ بارش برس جائے۔ الخَلْقُ۔ مص۔ فطرت۔ لوگ۔ ہر چکنی چیز۔ الخَلْقَةُ۔ فطرت۔ ہیئت جبر خَلِيقِ الخَلْقِ وَالخَلْقِ۔ طبعی خصالت۔ طبیعت۔ مروت۔ عادت۔ ج۔ أَخْلَاقٌ۔ علم الاخلاق حکمت عملی کی ایک قسم کا نام ہے اس کو حکمت خَلْقِيَّةٌ بھی کہتے ہیں۔ الخَلْقُ۔ مص۔ بوسیدہ۔ (مذکر و مؤنث، کہتے ہیں۔ ”ثوبٌ خَلْقٌ“ وَجِبَةٌ خَلْقٌ۔ ج۔ أَخْلَاقٌ وَخُلُقَانٌ۔ نیز کہتے ہیں۔ ”ثوبٌ اخلاق و ثياب اخلاق“ الخَلِيقُ۔ بارش کے نشان والا بادل۔

الْخُلُقُ - بھلائی کا بڑا حصہ۔
 الْخُلُقُ - چکنا۔
 الْخِلَاقُ وَالْخُلُوقُ - ایک قسم کی
 خوشبو جس کا جزو اعظم زعفران
 ہوتا ہے۔
 الْخَلِيقُ - لائق۔ مناسب۔ کہتے ہیں
 "ہو خلیق بہ" وہ اس
 کے لائق ہے۔ کامل اخلاق والا۔
 ج۔ خَلَقَ وَخُلِقَاءُ -
 الْخَلِيقَةُ - طبیعت۔ مخلوق۔ وہ
 کنواں جو کھودا جا رہا ہو۔ ج۔
 خَلَّاقٌ -
 الْاِخْلَاقُ - زیادہ لائق۔ زیادہ
 مناسب۔ چکنا۔ فقیر۔ مؤثر۔
 خَلَقَاءُ -
 الْمُخْتَلِقُ - کامل و معتدل الاخلاق
 الْمُخْتَلَقُ - کریم الاخلاق۔ کہتے
 ہیں "هُوَ مُخْلَقَةٌ بِذَلِكَ وَ
 لِذَلِكَ" وہ اس کے لائق ہے۔
 الْخِلَاقِيْنَ - بڑی دیگ۔ ج۔
 خَلَّاقِيْنَ -
 خَلَّادِنَ، خَلُّوًا وَخَلَّاءُ -
 الْاِنَاءُ - برتن کا خالی ہونا۔
 الْمَكَانُ - جگہ کا رہنے والوں سے
 خالی ہونا۔ الرَّجُلُ - آدمی
 کا کسی جگہ تنہا ہونا۔ عَلَي الشَّيْءِ
 اِقْتِصَارُ كَرْنَا - بس کرنا۔
 عَلَي فُلَانٍ - کسی پر اعتماد کرنا۔
 - یہ۔ کسی کے ساتھ فریب
 کرنا۔ الشَّيْءُ - گذر جانا کہتے
 ہیں "فَعَلْتَهُ لَخَمِيْسٍ خَلْوَنَ
 مِّنَ الشَّهْرِ" میں نے اس کو
 مہینہ کی پانچویں تاریخ کیا۔
 عَنِ الْاَمْرِ وَهَنَهُ - کسی امر
 سے بری ہونا۔ بیزار ہونا۔

عَنِ الشَّيْءِ - بیچنا۔ بالشَّيْءِ -
 کسی شے کے ساتھ تنہا، اور
 منفرد ہونا۔
 خَلَّادِنَ، خَلْوَةٌ وَخَلُّوًا وَخَلَّاءُ -
 - یہ و معہ والیہ۔ کسی
 کے ساتھ تنہائی میں ملنا۔ اکٹھا ہونا
 کہا جاتا ہے "خَلَّاءُ الرَّجُلُ"
 بنفسہ۔ تنہا ہونا۔ منفرد ہونا۔
 خلوت میں جانا۔ الْاَمْرِ -
 کسی کام کے لیے فارغ ہونا۔
 کسی کام میں اپنے آپ کو لگا دینا
 - بِالْمَكَانِ - کسی جگہ کو لازم
 پکڑنا۔ بِاللَّهِ - دل کا تسلی
 حاصل کرنا۔ مَطْمَئِنٌ ہونا۔
 الْحُزْنَ - غم سے جدا ہونا۔
 صِفَتُ (خَالٍ) ج۔ خَلْوٌ -
 کہتے ہیں "افْعَلْ كَذَا وَخَلَّاءُ"
 ذمہ یعنی اس کام کے
 کرنے پر تم پر کوئی مذمت و
 ملامت نہیں۔
 خَلَّى - تَخْلِيَةٌ - الْاَمْرَ وَعَمَهُ
 چھوڑنا۔ مَكَانَهُ - مرنا۔
 - سَبِيْلَهُ - آزاد چھوڑنا۔
 - بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْمُبِيْعِ -
 سپرد کرنا۔ بَيْنَهُمَا - دونوں
 کو اکٹھا چھوڑنا۔
 خَالًا - مُخَالَاةٌ - چھوڑ دینا۔
 أَخْلَى اخْلَاءً - الْمَكَانُ - جگہ کو
 خالی کرنا یا خالی پانا۔ الْمَكَانُ
 خالی ہونا۔ ة و بہ و معہ
 کسی سے تنہائی میں ملنا۔
 فُلَانًا مَعَهُ - کسی کو کسی کے
 ساتھ تنہائی و خلوت میں ملنے دینا
 - عَنْهُ - چھوڑ دینا۔
 تَخَلَّى - کسی کے ساتھ خلوت میں

ہونا۔ مِنْهُ وَعَنْهُ - چھوڑنا
 - لہ کسی کام کے لیے فارغ
 ہونا۔ تَخْلِيَةٌ - اپنے لیے شہد
 کا چھتہ مہیا کرنا۔
 أَخْتَلَى - تنہائی و خلوت میں ہونا۔
 اسْتَخْلَى - کسی سے تنہائی
 میں ملاقات چاہنا۔ بِالْمَلِكِ -
 علیحدگی ملنا۔ الْمَكَانُ - کسی جگہ
 کا خالی ہونا۔
 الْخَلَاءُ - مَص - خالی جگہ۔ پائخانہ
 - مَكَانٌ خَلَاءٌ - خالی جگہ۔
 سوئی جگہ۔ کہا جاتا ہے "بَاتَ
 فِي الْبَلَدِ الْخَلَاءُ" اس نے
 سونے شہر میں رات گزاری۔
 "خَلَّوْكَ اِقْتَنِي لِحَيَاتِكَ"
 یعنی مکان میں ہمتا رہنا ہمتا رہی
 عیب پوشی کا زیادہ ضامن و
 ذمہ دار ہے۔ "وَاَنَا مِنْهُ خَلَاءُ"
 میں اس سے بری ہوں (یہ مفرد
 تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے
 لیے یکساں مستعمل ہوتا ہے)
 الْخَلْوُ - خالی (مذکر مؤنث ہر دو کے
 لیے، ج۔ أَخْلَاءُ - کبھی مؤنث
 کے لیے خلوة بولتے ہیں۔
 خَلَّاءُ - وَمَا خَلَّاءُ يَهْ كَلِمَةً اسْتِثْنَاءً
 ہے۔ بمعنی إِلَّا باعتبار فعلیت
 مستثنیٰ کو نصب دیتا ہے۔ جیسے
 "جَاءَ اتِّبَاعُ الْاَمِيْرِ خَلَّاءُ اِدْمَا
 خَلَّاءُ زَيْدًا" اور بصورت حرف
 جر، جر دیتا ہے۔ جیسے: خَلَّاءُ
 زَيْدٍ - "الْبِتَّةُ اِذَا خَلَّاءُ سَ
 پلے ما مصدریہ ہو تو اس کا فعل
 ہونا متعین ہے۔
 الْخَلْوَةُ - تنہا جگہ۔ مقام خلوت۔ ج
 خَلْوَاتُ -

الْخَلِيَّةُ - شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔
 ج - خَلَا بِا -
 الْخَلِيَّةُ - بڑی کشتی - شیر کی جھاڑی۔
 الْخَلِيْجُ - فارغ - بے فکر - جس کی بیوی
 نہ ہو - کہا جاتا ہے " انا خَلِيْجٌ
 مِنْهُ " میں اس سے بری ہوں
 ج - اَخْلِيَا وَ خَلِيُّوْنَ -
 الْخَلِيْجُ - شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔
 الْخَالِي - فا - کنور یا کنواری - ج - اَخْلَاءُ
 خَلِيٌّ (ض) خَلِيًّا - النبات - گھاس
 کاٹنا - الماشية - جانوروں
 کے لیے گھاس کاٹنا - الفرس
 گھوڑے کے منہ میں لگام لگانا
 - اللجام مِنَ الفرس -
 لگام نکال لینا - الشعير
 فِي المخللة - توبرے میں جو
 ڈالنا - المقدر - ہانڈی
 کے نیچے ایندھن لگانا - ہانڈی
 میں گوشت ڈالنا۔
 خَالِيٌ مُخَالَاةٌ - ہ - پچھاڑنا۔
 دھوکہ دینا۔
 اَخْلِي - المكان - کسی جگہ کا زیادہ
 گھاس والی ہونا - الدابة
 جانور کو گھاس چرانا۔
 اِخْتَلَى - العشب - گھاس کاٹنا۔
 اِنْخَلَى - الخَلِي - گھاس کاٹنا۔
 اِخْلَوِي - اِخْلِيَاءٌ - الرجل
 آدمی کا دودھ پینے میں ہمیشگی
 اختیار کرنا۔
 الْخَلِي - تر گھاس - ج - اَخْلَاءُ
 واحد (خَلَاةٌ)
 الْمِخْلِي - گھاس کاٹنے کا آلہ۔
 درانتی۔
 الْمِخْلَاة - توبرا - ج - مَخَالٍ -
 خَمَّ دَن (ض) خَمًّا - البيت

جھاڑو دینا - البئر - کنویں کو
 صاف کرنا - الناقاة - اونٹنی
 کو دوہنا - فلائا - کسی کی
 تعریف کرنا - کہا جاتا ہے " هو
 يَخْمُ ثِيَابَ فُلَانٍ " وہ فلاں
 کی مدح سرائی کرتا ہے (د -
 خَمًّا وَ خَمُوْمًا وَ اَخَمًّا)۔
 اللحم - گوشت کا بدبودار ہونا
 صفت (خَمٌّ وَ خَامٌ وَ مَخَمٌ)
 - اللبن - دودھ کا بگڑ جانا۔
 کہتے ہیں " فُلَانٌ لَا يَخْمُ فُلَانٌ
 اپنے کرم سے نہیں بدلتا۔
 خَمَّ - الدجاج - مرغیوں کا ڈربہ
 میں بند کیا جانا۔
 تَخَمَّ - دسترخوان کا بقیہ کھانا
 کھانا۔
 اِخْتَمَّ - البيت - گھر میں جھاڑو
 دینا - الشئ - کاٹنا۔
 الخمامة - کوڑا کرکٹ - خاک
 چاہ - کھانے کے بکھرے ہوئے
 ریزے۔
 الخم - مرغیوں کا ڈربہ - ج - خَمَّةُ -
 الخم - خالی باغ۔
 الخَمَّانِ وَالرَّخَمَّانِ وَالنَّخَمَّانِ
 رذیل لوگ - پرانا روی سامان۔
 ناکارہ درخت۔
 المِخْمَةُ - جھاڑو۔
 الخبيم - تازہ دودھ - تعریف کیا
 ہوا - سُت - قلب
 (مخمو) وہ جو حسد و کینہ
 سے پاک ہو۔
 خبيج (دس) خبيجا - بیماری یا تکان
 کی وجہ سے سست ہونا - اللحم
 گوشت کا بدبودار ہونا -
 دینہ اوخلفہ - اخلاق وغیرہ

کا خراب ہونا - فلائا - کسی کو
 برائی سے یاد کرنا۔
 خَمَّ خَمَّ - تاک میں بولنا۔
 الخمخم - ایک سمندری جانور۔
 الخمخم - ایک خاردار گھاس۔
 خَمَدَت (د) وَ خَمَدَت (س)
 خَمَدًا وَ خَمُوْدًا - النار
 آگ کی بھڑک کا ختم ہونا - اور
 چنگاریوں کا نہ بجھنا - الخشي
 بخار کے جوش کا ختم ہونا -
 المريض - بیمار کا بے ہوش ہونا۔
 مرنا۔
 اَخَمَد - الرجل - آدمی کا بے حرکت
 ہونا - خاموش ہونا - انقاس -
 مار ڈالنا یا دلیل کرنا - النار
 آگ کی ٹپٹ کو بجھانا۔
 الخمود - بجھانے کے لیے آگ
 کے دبانے کی جگہ۔
 خَمْرَةٌ (د) (ض) خَمْرًا - چھپانا۔
 - الشهادة - چھپانا۔
 الرجل - کسی کو شراب پلانا۔
 العجين - آٹے میں خمیر دینا۔
 - فلائا - کسی سے شرمانا۔
 خَمْرٌ (س) خَمْرًا - عند - چھپنا۔
 پوشیدہ ہونا - عند الخبز
 کسی سے خبر کا پوشیدہ رہنا المثل
 چیز کا بدل جانا۔
 خَمَّرَ - العجين - آٹے میں خمیر دینا
 - وجهه - چہرہ ڈھانپ لینا
 - بيته - گھر میں جھاڑ دینا۔
 خَامَرَةٌ مُخَامَرَةٌ - بیع میں دھوکا
 دینا - القلب - دل میں داخل
 ہونا - الشئ الآخر - ایک
 شے کا دوسری میں مل جانا۔
 الداء - بیماری کا اندر تک

اثر کر جانا۔ بیتہ۔ گھر
 میں جا رہنا۔ بہ۔ چھپنا۔
 اَخْمَرَ۔ چھپنا۔ لہ۔ کسی سے
 کینہ رکھنا۔ الشئ۔ چھپانا۔
 غافل کرنا۔ العجین
 آٹے میں خمیر دینا۔ الامر
 کسی امر کو پوشیدہ رکھنا۔
 چھپانا۔ الارض۔ زمین میں
 گھنی جھاڑی کا بہت ہونا۔
 الشئ۔ کسی کو کسی چیز کا تحفہ
 دینا۔
 تَخْمَرَتِ وَاخْتَمَرَتِ۔ المرأة
 عورت کا دوپٹہ اوڑھنا۔
 واختمد العجین۔ آٹے کا خمیر
 بوجانا۔ اختمد العصیر۔
 رس کا شراب میں جانا۔
 الخمر والخمرۃ۔ انگور کی شراب
 ہر نشہ آور شے۔
 الخمر۔ کینہ۔ دشمنی۔
 الخمر۔ لوگوں کی جماعت اور بھیڑ
 گھنی جھاڑی یا درخت۔ کتے
 ہیں۔ تواری الصيد عنی
 فی الوادی یعنی شکار وادی
 کی گھنی جھاڑی کی اوٹ میں مجھ
 سے چھپ گیا۔
 الخمر۔ زیادہ گھنی جھاڑیوں والی
 جگہ۔ رجل خمر۔ مست
 و مدبوش آدمی۔
 الخمر۔ شراب کی وجہ سے درد
 (۔) والخمر والخمرۃ لوگوں کی
 کثرت اور ان کی بھیڑ۔
 الخمر۔ اوڑھنی۔ دوپٹہ۔ پردہ۔
 جر اخمرہ۔ و خمر و خمر
 کہا جاتا ہے۔ ماشم خمارک
 یعنی سب کو کون سی چیز ایسی پیش

آئی، جس نے تیری حالت کو
 پلٹ دیا۔
 الخمیرۃ والخمیرۃ۔ خمیر۔
 الخمیر۔ خمیری روٹی۔
 الخمرۃ۔ خمیر کرنے کا برتن۔ شراب
 کی تلچھٹ۔ شراب کی تکلیف،
 اور اس کے باعث درد۔
 چھوٹی چٹائی۔ خمرۃ
 اللبن۔ وہ چیز جس کو دودھ
 میں ڈالنے سے جلد جم جائے۔
 جر۔ الخمر۔ (۔) والخمرۃ
 والخمرۃ۔ مست کر دینے والی اچھی
 خوشبو۔
 الخمری۔ من الالوان۔ سرخی مائل
 سیاہ۔
 الخمر۔ شراب فروش۔ والخمرۃ۔
 شراب بیچنے کی جگہ۔
 الخمر والمستخمر۔ بہت شراب
 پینے والا۔
 المخموس۔ شراب سے مست و
 مدبوش۔
 خمس (ن ض) خمساً۔ القوم۔
 پانچواں ہونا۔ قوم کے مال کا
 پانچواں حصہ لینا۔ المال۔
 مال کا پانچواں حصہ لینا۔
 الحبل۔ رسی کو پانچ لڑیوں
 سے بٹنا۔
 خمس۔ المفق۔ پانچ رکن والا
 بتانا۔ اور اسی سے ہے۔
 تخمیس۔ شعر کی اصطلاح میں
 یعنی دو مصرعوں والے شعر میں
 تین اور مصرعوں کا اضافہ کر کے
 اس کو پانچ بند کا کرنا۔
 الخمس۔ القوم۔ پانچ ہونا۔
 الخمس والخمس۔ پانچواں حصہ۔

جر۔ الخماس۔ کتے ہیں۔ ضرب
 الخماسا لاسداس؛ یعنی اس
 نے کرو فریب میں کوشش کی۔
 خمس و خمس۔ پانچ۔ پانچ۔
 (خمسة خمسة۔ نئے معدول)
 کتے ہیں۔ جاؤ الخماس و
 خمس۔ وہ پانچ پانچ ہو کر
 آئے۔ یہ مذکر و مؤنث کے لیے
 یکساں مستعمل ہے۔
 الخماسی۔ پانچ حرفوں والا۔ کہا
 جاتا ہے۔ جاریدۃ خماسیۃ۔
 پانچ سالہ لڑکی۔
 الخمسۃ۔ پانچ (مذکر کے لیے)
 مؤنث کے لیے خمس۔
 خمسون۔ پچاس۔
 الخمیس۔ ویوم الخمیس۔ جمعرات
 جر۔ اخیسہ و اخیساء۔
 الخمیس۔ شکر کو بھی کہتے ہیں۔
 کیونکہ وہ بھی پانچ حصوں پر تقسیم
 ہوتا ہے۔ دمع (خمیس و
 مخموس) پانچ گز کا نیزہ۔
 الخمس۔ پانچ ارکان والا۔ بوجھ
 اٹھانے کے لیے ایک لوہے کا
 اوزار۔
 خمس (ن ض) خمساً و خموساً۔
 الوجه۔ چہرہ پر خراش لگانا۔
 تپہڑ مارنا۔
 خمسہ۔ زیادہ خراش لگانا۔
 الخمیش۔ مع۔ خراش۔ جر خموش۔
 الخماسۃ۔ ہلکا زخم۔ ایسا زخم جس
 پر بدلہ مقرر نہ ہو۔ جر۔ خمسات
 الخموش۔ چھڑ۔
 خمس (ن ض) خمساً و خموساً۔
 والخمس۔ الجرح۔ زخم کا
 ورم جاتا رہتا۔

<p>خَمَصَ - خَمَصًا وَخُمُوصًا وَ خَمَصَةً - الْجُوعُ. بھوک کاسی کو ڈبے پیٹ والا کر دینا۔ ر - وَخَمِصَ دَس، خَمَصًا وَخُمُوصًا وَخَمَصَةً - البطن - پیٹ کا خالی ہونا۔ دُبلا ہونا۔ تَخَمَصَ - اللیل - رات کی اندھیری کام ہونا - عنہ بچنا۔ ایک طرف ہونا۔ الْمَخْمَصَةُ - بھوک۔ خَبِيسٌ وَخَمَصَانٌ وَخَمَصَانٌ الْحَثِي - خالی پیٹ۔ دُبے پیٹ والا۔ ج۔ خَمَاصٌ۔ مُؤْتٌ. خَبِيسَةٌ وَخَمَصَانَةٌ وَخَمَصَانَةٌ - ج۔ خَمَاصٌ خَمَصَانَاتٌ وَخَمَصَانَاتٌ۔ الْخَبِيسَةُ - الخبيص کا مؤنث سیاہ کنارے والا بچہ جو عورت مرد پھنتے ہیں۔ ج۔ خَمَائِصٌ۔ أَخْمَصٌ - القَدَمُ - تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے نکلے اس سے پورا قدم بھی مراد لیتے ہیں - أخمص البدن۔ جسم کا درمیان حصہ۔ ج۔ أَخْمِصٌ۔ الْمِخْمَصَةُ - مَم۔ پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا</p>	<p>صفت مفعول۔ (دخبط) خَمِيطٌ (دخ) خَمِيطًا - اللبن دودھ کو کسی برتن میں ڈالنا۔ تَخَمِيطٌ - تکبر کرنا۔ غضبناک ہونا۔ البحر - سمندر کا موجزن ہونا۔ الفحل - اونٹ کا بلبانا۔ الخَمِيطُ - مَم۔ بہر کھٹی یا کرطوی چیز ہر درخت کا تھوڑا پھل - ہر بے کانٹے والا درخت۔ الخَمِيطَةُ وَالخَمِيطَةُ - من اللبن دودھ کی بو - الخَمِيطُ - بھوننے والا۔ خَمَعَتِ (دخ) خَمَعًا وَخُمُوعًا۔ وَخَمَعَانًا - الصَّبْعُ - بھوکا نگڑی چال سے چلنا۔ الخَامِعَةُ - بھوک۔ ج۔ خَوَامِعٌ۔ الخَمَاعُ - نگڑاپن۔ الخَمْعُ - بھڑیا۔ چور۔ ج۔ أَخْمَاعٌ۔ الخَمِيعُ وَ الخُمُوعُ - بدکار عورت خَمَلٌ (دخ) خُمُولًا - ذکُورہ او صوتہ - ذکر یا آواز کا پوشیدہ یا کمزور ہونا۔ خَمَلٌ (دخ) خَمَلًا - البَسْرُ - کھجوروں کو نرم کرنے کے لیے گڑے وغیرہ میں ڈالنا۔ کہتے ہیں - "خَمَلُهُ اللہ" - اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت میں ڈالے۔ خَمِلَ - جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ أَخْمَلَهُ - گنم کرنا - اخملت الارض - زمین کا بہت گنجان درختوں والی ہونا۔ أَخْمَلٌ - القَطِيفَةُ - چادر کو رو میں دار بنانا۔ أخملت - الماشية - جانوروں کا اچھی گھاس والی زمین میں پرنا۔</p>	<p>الخَامِلُ - فَا - من الرجال۔ گنم آدمی۔ غیر مشہور شخص۔ بے قدر۔ ج۔ خَمَلٌ۔ الخَمَلُ - کپڑے کا رواں (دخ) وَالخَمَالَةُ وَالخَمِيلَةُ (شتر مرغ کے پر۔ الخَمَلَةُ - چادر۔ پشم دار کپڑا۔ الخَمَلَةُ - راز۔ پوشیدہ برائیاں پوشیدہ عادتیں۔ ج۔ خَمَلَاتٌ۔ الخَمَالُ - جوڑوں کا درو۔ (دخ) و الخَمَالِيُّ وَالخَمَلِيُّ وَالخَمَلِيُّ مَخْلَصٌ دوست۔ الخَمِيلُ - رو میں دار کپڑا۔ نرم خوراک گنم ابادل۔ واحد۔ (خَمِيلَةٌ) الخَمِيلَةُ - چادر۔ بہت گنجان، اور گنم درخت۔ بہت درختوں والی جگہ۔ پست و نشیبی زمین۔ ج۔ خَمَائِلٌ۔ المُخْمَلُ - پشم دار کپڑا۔ رو میں دار کپڑا۔ خَمَنَ (دخ) خَمَنًا وَخَمَنٌ - الشيء - تخمینہ لگانا۔ قیمت لگانا اندازہ کرنا۔ الخَامِنُ - گنم۔ غیر مشہور۔ الخَمَنُ - بدبو۔ الخَمَانُ - کمزور نیزہ۔ گھٹیا درجہ کا آدمی۔ کہتے ہیں - "ھم خمان الناس" وہ کم درجہ کے لوگ ہیں۔ الخَمَانَةُ - نیزہ کی کمزور چھڑ۔ خَمَنٌ (دخ) خَمِينًا - ناک میں رونا یا بولنا۔ یا ہنسنا۔ صفت (أَخْمَنُ) خَمَنٌ (دخ) خَمَانًا - المال - لینا قوم کی حریم میں داخل ہونا۔ أَخْمَهُ - عقل چھین لینا۔ صفت</p>
--	---	---

<p>الْخُنْدِيذُ لِيذٌ لَبِيٌّ سَخِيٌّ. پھاڑ کی اونچی چوٹی۔ اچھا شاعر۔ بہادر۔ سخی۔ بگولہ۔ ج۔ خندا لیبذ۔</p> <p>الْخُنْدُوعُ خَسِيْسٌ. خنز (س) خنزاً و خنزواً۔ اللحم۔ رشت کا بدبودار ہونا۔ صفت (خنز و خنز) الخنزوان و الخنزوانة۔ تکبر۔ الخنزوان۔ بندر نرسور</p> <p>الْخُنْزِيْرُ سُوْرٌ ج۔ خنزازیر۔ الخنزازیر۔ گلے کی گلیاں کنٹھ مالا۔ خنزیر البحر ایک قسم کی مچھلی۔ خنزیر الھندا خرگوش سے مشابہ اور اس سے قدرے چھوٹا و اغدار جلد کا جانور۔ خنزیر البئر کنویں سے پانی نکالنے کی چرخنی۔ الخنزرة۔ موٹائی۔ پتھر توڑنے کا ہتھوڑا۔</p> <p>خَنَسٌ دَنٌ ضٌ، خَنَسًا و خَنُوسًا۔ و خِنَاسًا۔ عنہ۔ پیچھے ہٹنا۔ ایک طرف ہونا۔ سکرنا۔ کہتے ہیں: "خنس الطریق عناء" یعنی ہم نے راستہ کو طے کر کے اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ بین اصحابہ۔ اپنے ساتھیوں سے چھینا۔</p> <p>خَنَسَةٌ دَنٌ ضٌ، خَنَسًا۔ پیچھے کرنا۔ ابھامہ۔ انگوٹھے کو سمیٹنا۔ کہتے ہیں: "اشار باس باع و خنس ابھامہ" یعنی اس نے انگوٹھے کو سمیٹ کر چار انگلیوں سے اشارہ کیا۔ القول۔ بری بات کہنا۔ الشئ عنہ۔</p>	<p>کے منہ کو پھاڑ کر اس کو باہر کی جانب موڑنا۔</p> <p>خَنَسَتْهُ. موڑنا۔ نرم کرنا۔ بیچڑا بنانا۔ اَخْنَبْتُ. دوہرا کرنا۔ لچکنا۔ تَخَنَّنْتُ وَاخْتَنَنْتُ. بیچڑا ہونا۔ خَنَاتٌ. مؤنث کا وصف ہے۔ اور صرف نداء میں مستعمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں: "يا خَنَاتُ! اے لچکنے والی۔ خَنَاتُ الثوبِ وَاخْنَاثُهُ. کپڑے کی تہیں۔ کہا جاتا ہے: "اطوا الثوبِ علی خناتہ" کپڑے کو اس کی تہ پر لپیٹو۔ واحد (خنت) الخنث۔ اخنث کا اسم۔ لچک زمی۔ الخنثی۔ بیچڑا۔ ج۔ خناتی و خنات۔</p> <p>المخنثات۔ بہت لچکدار۔ نرم۔ کہتے ہیں: "رجلٌ مخنثٌ و امرأةٌ مخنثَةٌ"۔ ج۔ مخنثیث۔</p> <p>المخنث۔ بیچڑا۔ ڈھیلے لچکدار اعضاء والا۔ الخنجرو الخنجرة۔ چھری یا بڑی چھری۔ کنار۔ خنخن۔ خنخنة۔ ناک میں بولنا۔ فی کلامہ۔ غیر واضح کلام کرنا۔ خنخانا۔ الخندب۔ بدخلق۔ الخندریس۔ پرانی شراب۔ الخندع۔ خسیس۔ الخندقی۔ شہر پناہ کے ارد گرد کھائی۔ ج۔ خندوق۔ و خندوق خندقة۔ کھائی کھوونا۔ تخندذ۔ بے شرم و دلیر ہونا۔</p>	<p>(مخنون) قیاس کی رو سے خنن ہونا چاہیے تھا۔ استخنت۔ البئر۔ کنویں کا بدبودار ہونا۔ الخنثة۔ گنگناہٹ۔ ناک کی آواز۔ الخنثان۔ آسودگی۔ زندگی کا آرام۔ الخنثان والخنثان۔ اونٹوں کا زکام۔ ناک کی بیماری۔ پرندوں کے گلے کی بیماری۔ المخن۔ لبا آدمی۔ المخنثة۔ گنگناہٹ۔ ناک کی آواز۔ ناک۔ گھر کا درمیان۔ صحن۔ واضح راستہ۔ راستہ کا آغاز۔ شروع۔ وادی کی تنگ جگہ۔ کہتے ہیں: "فلان مخنثة لفلان" وہ چیز فلاں کے کھانے کی ہے۔</p> <p>خَنِبٌ دَسٌ، خَنَبًا۔ زکام والا ہونا۔ سنگڑانا۔ ہلاک ہونا۔ کمزور ہونا۔</p> <p>اَخْتَبَ وَاخْتَبَبَ. ہلاک ہونا۔ کمزور ہونا۔</p> <p>تَخَنَّبَ. تکبر سے ناک چڑھانا۔ الخنّب۔ ناک کی بیماری۔ الخناب۔ لبا۔ بیوقوف۔ الخنابة۔ برائشان۔ برائی۔ الخنابة۔ والخنابة۔ تکبر الخنابتان۔ والخنابتان۔ ناک کے دونوں نٹھے۔</p> <p>خَنَثٌ دَسٌ، خَنَثًا۔ الرجل۔ بیچڑا ہونا۔ زنانہ صفت ہونا۔ صفت۔ (خنت) خنثہ دس، خنثا۔ ہنسی کرنا۔ مٹھا کرنا۔ السقاء۔ مشک</p>
---	---	--

چھپانا۔ فلانا و بہ۔ غائب
 کرنا۔ چھپانا۔ صفت (خانس)،
 ج۔ خنس۔
 خنس (س) خنسا۔ چھٹی اور
 سرے سے اٹھی ہوئی ناگ والا
 ہونا۔ صفت (آخنس) مؤنث
 خنساء۔ ج۔ خنس۔
 اسم۔ الخنس۔
 آخنسہ۔ عتہ۔ روکنا۔ پیچھے
 کرنا۔ کہا جاتا ہے: "آخنسٹ"
 عنہ بعض حقہ۔ میں نے
 اس کا کچھ حق روک لیا۔
 اوعار الطریق کھٹن راستوں
 کو عبور کر جانا۔
 نخنس۔ بہ۔ چھپانا۔ غائب کرنا
 الخنس۔ عنہ۔ پیچھے ہٹنا۔ سکرنا۔
 الخنس۔ ہرنیوں کے رہنے کی جگہ۔
 ہرنیاں۔ نیل گائے۔
 الخنس۔ سب ستارے۔ یا صرف
 سیارے۔ بعض کے نزدیک زحل
 مشتری۔ مرتج۔ زہرہ۔ عطارد۔
 الخنساء۔ نیل گائے۔ ایک مشہور
 شاعرہ کا لقب۔
 الاخنس والخنوس۔ شیر۔
 الخناس۔ شیطان۔
 الخنيس۔ قریبی۔ جیلہ باز۔
 الخنيس۔ لیسیم۔
 الخنسر والخنسری۔ نعمان
 میں پڑنے والا۔ ج۔ خناسیرہ۔
 الخنساس۔ ایک پودا جس کو
 ہنس راج کہتے ہیں۔
 الخنوص۔ مؤنث۔ الخنوصہ
 سور کا بچہ۔ ج۔ خنا نیص۔
 الخنصر والخنصر۔ چھنگلیا۔
 ج۔ خنصر۔ کہا جاتا ہے۔

" هذا امر تقعد عليه
 الخنصر۔ یعنی یہ قابل اعتبار
 معاملہ ہے۔
 الخنطل۔ بی۔ مصیبت۔ قطار
 ٹڈی دل۔
 خنم (ف) خنوعا۔ لہ و الیہ۔
 عاجزی و فروتنی کرنا۔ الی اللہ۔
 بغیر عمل کے تضرع و زاری کرنا۔
 بغلان۔ کسی کے ساتھ بیوفائی
 کرنا۔ الی الاموالستی
 برائی کی طرف مائل ہونا۔
 خنعه۔ کھاڑی سے کاٹنا۔
 اخنعتہ۔ الحاجة لہ و الیہ
 حاجت و ضرورت کا کسی کو ذلیل و
 پست کر دینا۔
 الخنم۔ ذلت۔
 الخنعة۔ عار۔ تہمت۔
 الخانع والخنوع۔ بدکار۔ شک
 پیدا کرنے والا۔ ج۔ خنعة
 وخنم۔
 خنن (ض) خنفا۔ البعیر۔
 اونٹ کا دوڑنے میں اپنا سر
 اپنے سوار کی طرف جھکانا۔ صفت
 (مذکر و مؤنث) (خنوف)
 ج۔ خنن (س) خنوقا)
 غضبناک ہونا۔ الرجل
 بانفہ تکبر کرنا۔ صفت (خائف)
 خنن (س) خنفا۔ صدرہ
 او ظہرہ۔ سینہ یا پیٹھ کی
 ایک طرف کا دوسری جانب سے
 مخالف ہونا۔ صفت (آخنن)
 ج۔ خنن۔
 الخنن۔ نشانات۔
 خنفس۔ عن القوم۔ قوم سے
 بدول ہونا۔ اس سے کنارہ کش

رہنا۔
 الخنفس والخنفس والخنفس
 والخنفساء والخنفساء
 گبریلا۔ ج۔ خنفس۔
 الخنفس۔ شیر۔
 خنقہ (ن) خنقا وخنقا و
 خنقہ تخینقا۔ گلا گھونٹنا۔
 کہتے ہیں: "خنقہ العبرة
 اسے رونے میں پھندا لگ گیا۔
 خنق الاناء۔ برتن بھرنا۔
 خنق السراب الجبل۔ سراب کا
 پہاڑ کو تقریباً ڈھانپ لینا۔
 خنق زید الاربعین۔ زید
 چالیس برس کے قریب پہنچ گیا۔
 اخنق۔ گلا گھٹنا۔
 اخنق۔ اپنا گلا گھونٹنا۔
 الخنق والخنیق۔ گلا گھونٹنا ہوا۔
 الخناق۔ ایک بیماری کا نام جس میں
 سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔
 الخناقیہ۔ پرندوں اور گھوڑوں کے
 حلق میں پیدا ہونے والی بیماری۔
 الخناق۔ وہ رسی وغیرہ جس سے
 گلا گھونٹا جائے۔ گرون۔ کہا
 جاتا ہے: "آخذہ بخناقہ"
 اس نے اس کو گرون سے پکڑ لیا۔
 الخناق۔ فہ۔ تنگ راستہ۔ گلی۔
 کوچر۔ خائق الذئب
 خائق القرو خائق الکلب
 مختلف نباتات کے نام ہیں۔
 الخناق۔ وہ جس کی عادت گلا گھونٹنے
 کی ہو۔
 المخنقة۔ بار۔ گلوبند۔ گلا
 گھونٹنے کی چیز۔ ج۔ خناق۔
 وخنیق۔
 المخنق۔ مفع۔ گلا گھونٹنے میں

رسی کی جگہ۔ گرون۔ کتے ہیں۔
 ”غلام مُخْتَقِ الْخَصْرِ“ پتلی کر
 والا لڑکا۔

المُخْتَقِ
 خَنَادِن، خَنَوًا وَخَفَى (س) خَنَى
 وَاخْنَى۔ علیہ فی الکلام
 کسی کے ساتھ فحش کلامی سے
 پیش آنا۔ اخنی الجواد۔
 ٹڈی کا بہت انڈے دینا۔
 المرعی۔ چراگاہ کا بہت۔
 گھاس والی ہونا۔ اخنی
 علیہ الدهور۔ زمانہ کا دراز ہو
 جانا۔ ہلاک کرنا۔ ظلم کرنا۔ بیوفائی
 کرنا۔ کتے ہیں۔ ”اخنی بہ“
 اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس
 کے ساتھ بد عہدی کی۔

الْمَخْنَى۔ بدزبانی۔ فحش گوئی۔
 خَنَى الدَّهْر۔ مصائب زمانہ
 واحد۔ (خَنَاءٌ)

خَاب۔ (دَن) خَوْبًا۔ غریب ہونا۔
 محتاج ہونا۔

الْخَوْبَةُ۔ بھوک۔ وہ زمین جس پر
 چارہ نہ ہو۔ یا وہ زمین جس پر
 بارش نہ برسی ہو۔

خَاتِ دَن، خَوْنَا وَخَوْنَا تَا۔
 الرجل۔ عمر رسیدہ ہونا۔ نقص عہد
 کرنا۔ وعدہ خلافی کرنا۔ المال۔
 مال کو کم کرنا۔ (د) وَاخْنَاتِ
 وَاخْنَاتِ، البازی علی
 الصيد۔ باز کا شکار پر جھپٹنا۔

خَاتِ دَن، خَوْنَا تَا۔ العقاب۔
 عقاب کا پروں سے سرسراہٹ
 کی آواز نکالنا۔

تَخَوَّتْ وَاخْنَاتِ۔ المال۔ کم
 کرنا۔ الشئ۔ کسی شے کو

اچک لینا۔ حدیث القوم۔
 بات سن کر یاد رکھنا۔ الشاق۔
 بکری کو دھوکے سے چراینا۔
 کہا جاتا ہے ”ہم یخنتا تون
 اللیل“ وہ رات کو راہزنی کرتے
 ہیں۔

الخَوَات۔ بہادر آدمی۔

تَخَوَّتْ (س) خَوْنَا۔ البطن
 پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔ کھلنے سے
 بھرا ہونا۔ صفت (اخوت)

مَوْتٌ (خَوْنَا)
 أَخَاخ۔ أَخَاخَةٌ۔ العشب۔ کم
 ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔

الْخَوخ۔ شغٹالو۔ آڑو۔ واحد
 (خَوخَةٌ)

المَخْوَحَةُ۔ روزن خانہ۔ روشن دان
 بڑے دروازہ کی کھڑکی۔

المَخْوَعَاءُ وَالْمَخْوَعَاءُ
 احمق بے وقوف۔

تَخَوَّدَ۔ الرجل۔ تیز چلنا۔ من
 الطعام شیئًا۔ کچھ کھانا پانا۔

تَخَوَّدَ۔ الغصن۔ شاخ کا جھکنا۔
 خَاوَذَةٌ مُخَاوَذَةٌ۔ الی الشئ۔

ایک کے بعد دوسرے کا آنا۔
 کہتے ہیں ”خاوذونا الی الماء“

یعنی ہم تولوٹ رہے تھے، اور
 وہ جا رہے تھے۔ خاوذہ

کسی کی زیارت کے لیے بار بار آنا
 ۔ خاوذتہ الحشی۔ بخارنے

اس کو بے وقت آن لیا۔
 خاوذ عنہ کسی سے علیحدہ

ہونا۔ کنارہ کش ہونا۔
 تَخَاوَذَ۔ القوم۔ آپس میں

عہد و پیمان کرنا۔
 تَخَوَّذَ۔ برابر لیتے رہنا۔ کہتے ہیں۔

”تَخَوَّذْنَا بِالزَّيَارَةِ“۔ اس
 نے ہم سے بار بار ملاقات کی۔
 الخُوذَةُ۔ خود۔ ج۔ خُوذَ۔
 خُوذَانُ۔ الناس۔ لوگوں کے
 خدمت گار۔

يَخْوِذُ۔ الحشی۔ بخار کا معلوم
 وقت پر آنا۔

خَارِدِن، خَوَارًا۔ البقر۔
 گائے کا ڈکارنا۔ آواز کرنا۔
 خَوْرًا، وَخَوْرًا (س) خَوْرًا
 کمزور ہونا۔ سست ہونا۔ ٹوٹنا۔
 قُوَّةُ المریض۔ بیمار کی طاقت
 گھٹ جانا۔

تَخَوَّرَ۔ کمزور ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔
 الارض۔ کثرت بارش سے

زمین کی مٹی کا نرم ہو جانا۔
 الرجل۔ کمزوری کی طرف
 نسبت کرنا۔

أَخَارَهُ۔ موڑنا۔ جھکانا۔ مائل کرنا۔
 کہتے ہیں۔ ”اخونا الابل“

الی مواضع کذا۔ ہم نے
 اونٹوں کو فلاں مقام کی طرف
 موڑ دیا۔

تَخَاوَرَتِ۔ الشیران۔ بیلوں کا
 ایک دوسرے پر آواز نکالنا۔

استخارہ۔ کسی کی طرف مہربانی کا
 خواہش مند ہونا۔ المنزل۔

منزل کو صاف کرنا۔
 الخوس۔ دو بلند مقامات کے درمیان

پست و نشیبی قطعہ زمین۔
 الخواسر۔ مص۔ گائے کی آواز۔

بکریوں، ہرنوں۔ اور تیرکی
 آواز پر بھی اس کا اطلاق ہوتا
 ہے۔

الخوار۔ بزدل۔ کمزور۔ ڈھیلا بیست

الخوار۔ بزدل۔ کمزور۔ ڈھیلا بیست

— فوس خَوَّار العنان۔
جلد تابع ہونے والا تیز رفتار
گھوڑا۔
الخَوَّارِیُّ۔ کابن۔ ج۔ خوارِیۃ
— (دخیل)
الخَوَّارِیُّ۔ گرجا میں مذہبی خادموں
کے قیام کی جگہ۔
خَاذَهُ (ن) خَوَّنَا۔ دشمنی کرنا۔
عداوت رکھنا۔
خَاسَتْ (ن) خَوَّسَا۔ الجیفة۔
لاش کا سڑنا۔ البضاعة۔
سامان کا ناقابل فروخت ہونا۔
— "خاس العہد وبالعهده"
بدعہدی کرنا۔ بالوعد۔
وعدہ خلافی کرنا۔ بفلاہ
کسی سے بے وفائی کرنا۔
خَوَّسَ۔ الشئ۔ کم کرنا۔
خَاسَهُ (ن) خَوَّنَا۔ بالرمح
نیزہ مارنا۔ الشئ۔ لینا۔
— الرجل۔ کسی کا بھیڑ میں
گھس جانا۔
خَوَّشَ وَتَخَوَّشَ۔ الشئ۔
کم کرنا۔ و تخوش الرجل
— آدمی کافر بہ ہونے کے بعد
لاغر ہونا۔
الخوش۔ پلو۔
الخوشان۔ ایک قسم کی ترش گھاس
واحد (خوشانہ)
المتخوش و المتخاوش۔ بھریدار
دلے پیٹ والا۔
خَوَّصَ۔ یخوص (س) خَوَّصَا
آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا۔ صفت
(اخوص) مؤنث (خوصاء)
ج خوص۔ الشاة۔ وہ
سفید جسم والی بکری جس کی ایک

آنکھ سفید ہو اور ایک سیاہ۔
خَوَّصَ۔ پہلے شریف لوگوں کا اکرام
کرنا اور پھر رذیلوں کا۔
التاج۔ تاج کو سونے کے
پتروں سے آراستہ کرنا۔ ہ
الشیب۔ کسی میں بڑھاپے کا
ظہور ہونا۔ کہتے ہیں۔ "خوص
ما اعطاک" یعنی وہ جو کچھ تم
کو دے لے لو۔ اگرچہ وہ تھوڑا
ہی ہو۔
خَاوَصَ وَتَخَاوَصَ۔ نیم وا شدہ
آنکھوں سے دیکھنا۔ النجوم
ستاروں کا مائل بغروب ہونا۔
— خَاوَصَ مُخَاوَصَةً
وَخَاوَصَ البیع۔ بیچنے میں
مقابلہ کرنا۔
أَخَوَصَ۔ النخل۔ درخت خرما
کا پتے نکالنا۔
تَخَوَّصَ۔ الشئ۔ تھوڑی ہونے
پر بھی لے لینا۔ العطیة۔
تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔
الخَوَّاصُ۔ کھجور کے پتوں کو فروخت
کرنے والا۔ اس عمل کو (۔
الینیاصۃ) کہتے ہیں۔
الخوص۔ کھجور کے پتے۔ واحد
(خوصۃ)
الخوصاء۔ گرم ہوا۔ کہتے ہیں۔
"خرجوا فی الظہیرۃ
الخوصاء" یعنی وہ دوپہر کی سخت
گرمی میں نکلے۔
خَاَصَ (ن) خَوَّصَا وَخِیَاصًا۔
— الماء۔ پانی میں گھسنا۔ داخل
ہونا۔ الثراب۔ ملانا۔
الغمرات۔ سختیوں میں گھس
پڑنا۔ فی الحدیث گفتگو

میں مشغول ہونا۔ الجواد فی
المیدان۔ گھوڑے کا میدان میں
کلیلیں کرنا۔ بالفوس۔ گھوڑے
کو پانی پر لانا۔ بالسیف۔ تلوار
کو زخم میں دھلانا۔ کہتے ہیں۔
"انہ یخوص المنایا" وہ اپنے
آپ کو خطرات میں جھونکتا ہے۔
"وہو یخوص اللیل" وہ
رات کو ہولناکیوں سے ٹڈر ہو کر
گھس پڑتا ہے۔
خَوَّصَ۔ الماء۔ پانی میں گھسنا
خَاوَصَ مُخَاوَصَةً وَ أَخَاَصَ
اخاَصَ۔ الفرس
گھوڑے کو پانی میں داخل کرنا۔
— اخاوص الماء۔ جانوروں
کو پانی میں داخل کرنا۔
تَخَوَّصَ۔ پانی میں بتکلف گھسنا۔
اخْتَاَصَ۔ الماء۔ پانی میں داخل
ہونا۔ گھسنا۔
تَخَاوَصَ۔ القوم فی الحدیث
لوگوں کا باہم گفتگو میں مشغول ہونا
الخوضۃ۔ خاص کا اسم مرہ۔
موتی۔
الخواص۔ بہت گھسنے والا۔
المخاَصۃ۔ پانی میں گھسنے کی جگہ۔
ج۔ مَخَاوَصَ وَ مَخَاَصَ وَ
مَخَاصَاتَ۔
تَخَوَّطَ۔ وقتاً فوقتاً آنا۔
الخوط۔ نرم ٹہنی۔ یا ہر شاخ۔
ج۔ خیطان
خَافَ یخافُ خَوْفًا وَخِيفًا وَ
مَخَافَةً وَخِيفَةً وَتَخَوَّفَ
ڈرنا۔ خوف زدہ ہونا۔ گھبرانا
مخاط ہونا۔ کہتے ہیں۔ "خافہ
وَخَافَ مِنْهُ وَخَافَ عَلَیْهِ"

<p>وہ دونوں ایک دوسرے کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ الخَالُ - خیر کا نشان۔ فوج کا جھنڈا۔ چیز کا مالک۔ کہتے ہیں: انا خال هذا الفرس۔ میں اس گھوڑے کا مالک ہوں۔ الخَوْلَةُ - ماموں ہونے کا رشتہ۔ الخُولَى - مال کا انتظام کرنے والا۔ ج۔ خَوْلٌ۔ الخَائِلُ - فا۔ الخَوْلُ کا واحد کہتے ہیں: "هو خائلٌ مالٌ" وہ مال کا مدبر و منتظم ہے۔ کبھی "خالٌ مالٌ"۔ بحذف الصنعة بھی کہتے ہیں۔ الخَوْلَةُ - ہرنی۔ الأَخْوَالُ - بہت سے ماموں رکھنے والا۔ رجلٌ مَخْوُولٌ و مَخْوُولٌ و مَخَالٌ شریف ماموں والا۔ خَامَتٌ (دن، خَوْمَاتًا - الارض)۔ کسی جگہ کا ناموافق صحت ہونا۔ أَخَامٌ - اخامةٌ - الفرس گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ الخَامٌ - سوتی کپڑا۔ ج۔ أَخْوَامٌ۔ خَانَةٌ (دن، خَوْنًا و خِيَانَةً و فِخَانَةً و خَانَةً) - فی کذا۔ امانت میں خیانت کرنا۔ خَانَةٌ سَيْفُهُ - تلوار کا اچٹ جانا۔ خَانَةُ الدَّهْرِ - زمانہ کا کسی کی حالت کو فراخی سے تنگی میں تبدیل کر دینا۔ خَانَتُهُ - خانتہٗ رجلاً - چلنے میں پاؤں کا کام نہ دینا۔ نہ چل سکتا۔ خَانَ الدُّلُوَ الرَّشَاءُ - ڈول کی رسی رسی کا ٹوٹ جانا۔</p>	<p>الخَوِّقُ - کشادگی۔ کھلی۔ الأَخْوَقُ - غارش والا۔ کانا۔ "مکانٌ مَخَاقٌ" - کشادہ جگہ۔ خَالٌ - يَخْوُلُ خَوْلًا و خِيَالًا۔ المَوَاشِي - مویشی کی نگہبانی کرنا۔ نگرانی کرنا۔ فَلَانٌ عَلَى أَهْلِهِ - اپنے اہل کے امور کا انتظام و انصرام کرنا۔ ان کے انتظام کے لیے کافی ہونا۔ خَالٌ يَخَالُ - خَوْلًا - تنہائی کے بعد غلاموں والا ہونا۔ خَوْلُهُ - الشَّيْءُ - عطا کرنا بخشنا۔ یا مالک بنانا۔ أَخْوَلٌ و أَخْوَلٌ - ماموں والا ہونا۔ أَخَالٌ - فِيهِ خَالٌ مِنَ الْخَيْرِ و أَخَالَه - فراست سے بھلائی کا پتہ لگانا۔ تَخْوَلٌ - فِيهِ خَالٌ مِنَ الْخَيْرِ و تَخَوَّلَ تَخْوَلًا و تَخَيَّلًا - بھلائی معلوم کرنا۔ تَخْوَلٌ - خَالًا - ماموں بنانا۔ - فَلَانًا كَسَى كِي تَنْكَبَانِي كَرْنَا - دیکھ بھال رکھنا۔ اسْتَخْوَلْتَهُم - نوکر رکھنا۔ خادم بنانا۔ اسْتَخْوَلُوا و اسْتَخَالُوا فِيهِم - ماموں بنانا۔ الخَوْلُ "خولی" کی جمع۔ غلام لونڈیاں۔ لفظ واحد ہے، جمع کے معنی دیتا ہے۔ کبھی واحد کے لیے (خائل) کا لفظ آتا ہے۔ الخَالُ - ماموں۔ ج۔ أَخْوَالٌ و أَخْوَالُهُ و خَوْلٌ و خَوْلَةٌ و خَوْلَةٌ۔ الخَالَةُ - خالہ۔ ج۔ خَالَاتٌ کہتے ہیں: "هنا ابنا خالمة"۔</p>	<p>(خَائِفٌ، ج۔ خَوْفٌ و خَيْفٌ و خَيْفٌ و خَائِفُونَ) - تخوف الحق۔ حق مار لینا۔ - تخوف الشيء - آہستہ آہستہ کم کرنا۔ تَخَوَّفَ عَلَيْهِ شَيْعًا - خوف کھانا۔ خَوْفَهُ دُرَانًا - الطريق راستہ کو خوفزدہ بنانا۔ أَخَافَهُ إِخَافَةً - دُرَانًا - احاف الطريق۔ راستہ کا گہرا ہٹ میں ڈالنا۔ خَاوَفَهُ - ڈرنے میں کسی سے مقابلہ کرنا۔ کہتے ہیں: "خَاوَفْتُهُ فُخْفَتُهُ أَخْوَفُهُ" ڈرنے میں میرا جب اس سے مقابلہ ہوا تو میں اس پر غالب رہا۔ یعنی میں اس سے زائد ڈرنے والا ثابت ہوا۔ الخَوَافُ - شور۔ الخَافُ - بہت ڈرنے والا۔ الخَاقَهُ - چڑے کا وہ لباس جو شہد نکالنے والے پہنتے ہیں۔ وہ شے جس کے ذریعہ پھلوں کو چنا جائے۔ الخَيْفَةُ - ڈرنے والے کی حالت۔ المَخْوَفُ - خوفناک۔ کہتے ہیں: "طريقٌ مَخْوَفٌ" خوفناک راستہ۔ خَوِّقْ (س)، خَوْقًا و اِمْتِخَاقًا - و تَخَوَّقَ - وسیع اور کشادہ ہونا۔ صِفَتُ (أَخْوَقٌ، مَوْثٌ خَوْقًا - ج۔ خَوْقٌ۔ أَخَاقَ إِخَاقَةً - زمین میں پھرنا۔ خَوْقَهُ - وسیع کرنا۔ کشادہ کرنا۔ تَخَوَّقَ - عنده - دور ہونا۔</p>
---	---	--

<p>ما عند فلان کسی سے سب کچھ لے لینا۔ الفرس۔ گھوڑے کی اگلی پچھلی ٹانگوں کے درمیان نیزہ مارنا۔</p> <p>الأخوی۔ بے عقل۔ مؤنث خيَاء وخوياء۔</p> <p>الخوی والخواء۔ خالی پیٹ ہونا۔ دو چیزوں کے درمیان خالی فضا۔</p> <p>خواء الفرس۔ گھوڑے کی اگلی پچھلی ٹانگوں کے درمیان کا فاصلہ۔</p> <p>الخوی۔ پست نرم زمین۔ الخوی خالی پیٹ ہونا۔</p> <p>خاب دمن، خيبة و تخيب۔ طلب میں ناکام ہونا۔ امید ٹوٹنا۔ کتے میں "خاب سعيه" اس کی کوشش ناکام رہی۔</p> <p>تخيبه و آخابه۔ ناکام کرنا۔ محروم کرنا۔ قلاح (خياب) آگ نہ دینے والی چھتاق۔</p> <p>الخيبة۔ ناکامی کا سبب و باعث خات دمن، خيتا و خيوثا۔ آواز کرنا۔ خاردمن، خيرا۔ صاحب خیر ہونا۔</p> <p>— الله لك في الامر۔ اس کام میں اللہ تمہارے لیے بہتری کرے۔</p> <p>خاردمن، خيرة و خيرة و خيرا و خيرا۔ الشئ علی غيرة۔ ایک شے کو دوسری پر فضیلت دینا۔ برتری دینا۔</p> <p>خاره۔ پسند کرنا۔ منتخب کرنا اور اسی سے ہے۔ "اللهم خولي" اے اللہ میرے لیے دونوں امروں میں سے بہتر انتخاب فرما۔</p> <p>خيرة و خايرة۔ فی الامرين</p>	<p>تاء مبالغہ کے لیے ہے۔ سُرین</p> <p>خوت الدار تخو خوا۔ منہدم ہونا۔ النجوم۔ بیخبر بارش ہوئے ستاروں کا غروب ہونا۔</p> <p>الخو۔ بھوک۔ کشادہ و فراخ وادی (والخو، شد۔ الخوة۔ فراخ زمین۔</p> <p>خوی دمن، خواء۔ البيت گھر کا گرنا۔ منہدم ہونا۔ خالی ہونا۔</p> <p>— رائد۔ نکسیر کا خون زیادہ نکلنے سے سر کا خون سے خالی ہونا (خوی و خواء)۔ الرجل بھوکا ہونا۔ الزند۔ چھتاق کا آگ نہ دینا۔ (خيا، النجوم۔ ستاروں کا بے بارش کے ہونا۔ غروب کے لیے جھکنا۔ (خوی و خواية) الشئ۔ اچک لینا۔</p> <p>خوی دمن، خيا و خويا و خواية۔ المكان۔ خالی ہونا۔</p> <p>خوی۔ تخوية۔ البعير اونٹ کا بیٹنے میں پیٹ کو زمین سے اونچا رکھنا۔ الطائر پرندہ کا اڑنے میں دونوں پاؤں کو لٹکانا۔</p> <p>آخوی اخواء۔ الزند۔ چھتاق کا آگ نہ دینا۔ النجوم ستاروں کا بے بارش کے ہونا۔ الرجل۔ بھوکا ہونا۔</p> <p>ما عند فلان۔ کسی کے پاس سے سب کچھ لے لینا۔</p> <p>وخوت، الماشية بموشی کا بہت قریب ہونا۔</p> <p>لاختوی۔ اختواء۔ بے عقل ہونا۔</p> <p>البلد۔ غم کو طے کر جانا۔</p>	<p>العهد۔ عہد توڑ ڈالنا۔ کتے میں "خانہ العهد" الامانة عہد میں پورا نہ اترنا یا امانت میں خیانت کرنا۔</p> <p>صفت (خائن) ج۔ خوان وخانہ و خونة (خوناً) جسم میں ضعیف اور نظر میں کمزور ہونا۔</p> <p>خونہ۔ کسی کی طرف خیانت کی نسبت کرنا۔</p> <p>خونہ و خون منه و تخونہ آہستہ آہستہ کم ہونا۔ خونہ و تخونہ۔ نگہبانی کرنا۔ دیکھ بھال کرنا۔ اور اسی سے ہے۔</p> <p>"كانت الحشی تتخونہ" اس کو بخار وقت پر آتا تھا۔</p> <p>"تخونہ الدهر" زمانہ کا کسی کی آسودگی کو سختی سے بدل دینا۔</p> <p>اخذتانه خیانت کرنا۔ المال مال کو چرانا۔</p> <p>استخانه۔ خیانت کا ارادہ کرنا۔ الخان۔ دکان۔ سرٹے۔ ج۔ خانات (دخیل) ترکوں میں بادشاہ کا لقب۔</p> <p>الخانة۔ الخائن کا مؤنث۔ الخانة۔ بہت خیانت کرنے والا۔ اس میں تاء مبالغہ کے لیے ہے۔ جس طرح "راوية" بہت روایت کرنے والا۔</p> <p>الخوان و الخوان۔ دسترخوان۔ عام لوگ اس کو "سفرقا" کہتے ہیں۔ ج۔ آخونہ و خون الخون و الخوانہ۔ بڑا خائن۔ الخوانہ۔ بہت خیانت کرنے والا۔</p>
--	---	--

و بین الامورین۔ دونوں اموروں میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دینا۔ "و خایره فی العلم فخره"۔ علم میں کسی سے سبقت لے جانا۔
 تَخَيَّرَهُ وَ اخْتَارَهُ۔ چن لینا۔ منتخب کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔
 استخار استخارَةً۔ بھلائی و غیر ملل کرنا۔ اللہ۔ کسی کا خدا تعالیٰ سے دعا کرنا کہ بہتر کام اس کے حق میں پسند فرمائے۔
 الخیر۔ ج۔ خیر۔ خیر۔ بھلائی چیز کا اپنے کمال کو پہنچنا۔ مال۔ ج۔ اخیار و خیار۔ بہت خیر والا۔ اور خیر۔ "أخیر" سے محضت ہو کر اسم تفضیل کا صیغہ بن کر بھی آتا ہے۔ اس کی مؤنث خیرة۔ آتی ہے۔
 خیر۔ النایس۔ سب مردوں سے بہتر۔ النساء۔ سب عورتوں سے بہتر۔
 الخیر۔ ثرائف۔ بزرگی۔ اصل ہیئت الخیرة۔ بہت خیر والی عورت۔ عمدہ چیز۔ ج۔ خیرات۔
 الخیرة۔ من الشئ او القوم۔ افضل۔ اعلیٰ۔
 الخیار۔ پسندیدگی۔ کہتے ہیں: "أنت بالخیار" تم جو چاہو، پسند کرو۔ خیارة الشئ۔ اعلیٰ چیز۔ الخیار۔ گڑھی۔ کیو۔ واحد (جیاتہ)۔
 خیار شیز۔ اطلاق۔
 الخیریتی۔ ایک پھولدار نبات۔ الخیریة۔ عمدگی۔ برتری۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک پرانا سکہ۔

الخیر۔ کریم۔ مؤنث (تخیرہ)۔
 الآخر۔ زیادہ اچھا۔ مؤنث خیری و خوری۔ ج۔ آخیر۔
 الخیری و الخودی و الخوری و الخیری۔ غیر میں مبالغہ کے معنی دیتے ہیں۔ رجل خیری۔ بہت خیر والا آدمی۔
 المختار۔ منع۔ کہتے ہیں: "أنت بالمختار" یعنی جو چاہو پسند کرو۔
 خاص (رض) خیساً۔ اللحم۔ گوشت کا بدبودار ہونا۔
 البیع۔ سرو بازاری ہونا۔
 الرجل۔ بھوٹ بونا۔ ذلیل ہونا یا کرنا۔ الرجل اولدابة کسی آدمی یا جانور کو مطیع و تابع مار کرنا۔
 خاص (رض) خیساً و خیساً نا۔ بالعهد۔ عہد شکنی کرنا۔ بیوفائی کرنا۔ وفا کرنا۔ بالوعد۔ خلاف وعدگی کرنا۔
 خیسہ۔ سدھانا۔ رام کرنا۔
 الخیس الجمل۔ اونٹ پر سواری لے کر اس کو سدھانا۔ رام کرنا۔ روکنا۔
 الخیس۔ غم۔ گمراہی۔ جھوٹ۔ خیر و بھلائی۔
 الخیس۔ گنہاں اور گناہ و رخت۔
 غیر کی جھاڑی۔ ج۔ آخیاس۔
 الخیسة۔ شہر کی جگہ۔ ج۔ خیس۔
 الخیس و الخیس۔ جانور کو سدھانے کی جگہ۔
 خاص (رض) خیساً۔ ما فی الوعاء۔ برتن کی چیز کو نکالنا۔
 الخیش۔ کتان کا بنا ہوا کھردرا کپڑا

ج۔ خیوش و آخیاش۔ واحد (خیشة)۔ کینہ آدمی۔
 الرخیاش کتالی کھورا کپڑا بیچنے والا۔ خاص (رض) خیساً۔ مٹوڑا ہونا صفت (خایش)۔
 خیس (س) خیساً۔ چھوٹی بڑی آنکھوں والا ہونا۔ صفت (آخیس)۔ مؤنث (خیساء) الخیس۔ مٹوڑی سی چیز۔ کہا جاتا ہے: "قلت۔ منه خیساً خایشاً" میں نے اس سے مٹوڑی سی چیز پائی۔
 الخیسی۔ مٹوڑی چیز۔ کہتے ہیں: "فی المرعی خیسی من العشب" چراگاہ میں گھاس مٹوڑی سی ہے۔ الخیصان۔ مٹوڑا مال۔
 خايط (رض) خیطاً۔ الثوب کپڑا سینا۔ صفت فاعل (خایط و خايط و خیاط) صفت مفعول۔ (مخیط و مخیوط)۔ الحیة سانپ کا زمین پر رینگنا اور اسی سے ہے: "هذا مخیط الحیة" یہ سانپ کے رینگنے کی جگہ ہے۔
 خايط الیہ خیطاً۔ کسی پر ایک ہی دفعہ گذر جانا۔ یا تیزی سے گذر جانا۔
 خیط۔ الشیب فی راسہ۔ سر میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا۔
 تخیط۔ راسہ بالشیب۔ سر میں بڑھاپا شروع ہونا۔
 اختايط و اختیط۔ الیہ۔ ایک ہی دفعہ گذرنا یا تیزی سے گذر جانا۔
 الخیط۔ ڈورا۔ دھاگا۔ ج۔ خیوط۔ وخیوط و آخیاط۔ من النعام او الجراد بشر مرغ

جگہ کا سبزہ سے ہرا بھرا ہونا۔
 اِخَالٌ عَلَيْهِ الشَّيْءُ۔ کسی شے
 کا کسی پر مشتبہ و دشوار ہونا۔
 تَخَيَّلْتُ۔ السَّحَابَةُ۔ بادل کا
 بارش کے نشانات لے کر ظاہر
 ہونا۔ الرَّجُلُ۔ تکبر کرنا۔
 — لَهُ اِنَّهٗ كَذَابٌ۔ سب سے ہونا
 اور وہم ہونا کہ وہ ایسا ہے۔
 فِيهِ الْخَيْرُ۔ کسی میں بھلائی کے
 نشانات معلوم کرنا۔ اسے فراست
 سے معلوم کرنا۔ علیہ۔ پسند
 کرنا اور فراست سے بھلائی کا پتہ
 لگانا۔
 تَخَالَ تَخَايَلًا وَ اِخْتَالَ۔ اِخْتِيَالًا
 اِذَا كَرِهْتَ اَلْحَدِيثَ۔ تکبر کرنا۔
 اسْتَخَالَ — السَّحَابَةُ۔ بادل
 کو دیکھ کر اس کو برسنے والا خیال
 کرنا۔
 الْخَالَ۔ ضرور برسنے والا بادل۔ بجلی
 تکبر بڑا پہاڑ۔ جھنڈا۔ نرم کپڑا۔
 سخی آدمی۔ تکبر گمان۔ وہم۔
 بے بیوی والا۔ کمزور دل یا کمزور
 جسم والا۔ چھوٹا ٹیلہ۔ گھوڑے کی
 لگام۔ کفن۔ بدن کا تیل۔ ج۔
 خَيْلَانٌ۔
 الْخَالَةُ۔ مغرور عورت۔
 الْخَيْلُ۔ مصل۔ گھوڑوں کا گروہ۔
 ج۔ خَيْلٌ وَ اَخْيَالٌ۔ الْخَيْلُ
 مجازاً سواروں کو بھی کہتے ہیں۔ کہا
 جاتا ہے: "اَتَى بِخَيْلِهِ وَ رَجُلُهُ"
 وہ سواروں اور پیادوں کو لے آیا
 الْخَيْلَانُ۔ ایک سمندری جانور جس کا
 نصف حصہ انسان کے مشابہہ
 اور نصف مچھلی سے ملتا ہوا ہوتا
 ہے۔

”ہم اخوة اخفاء او ہنو
 اخفاء“ ان کی ماں ایک ہے
 اور باپ الگ الگ۔ ماں کی طرف
 سے بھائی۔
 الْخَيْفَانُ۔ لوگوں کی کثرت۔ رنگ
 برنگ پریوں والی ٹڈی۔ ایک
 پہاڑی بوٹی۔ واحد (خَيْفَانَةٌ)
 خَالَ۔ يَخَالُ خَيْلًا وَ خَيْلًا وَ
 خَالَ وَ خَيْلَةً وَ خَيْلَةً وَ
 خَيْلَانًا وَ خَيْلُولَةً۔ وَ
 يَخْيَلُ وَ يَخَالُ الشَّيْءُ
 خیال کرنا۔ گمان کرنا۔ اور مضارع
 سے واحد مکمل کا صیغہ اِخَالَ
 و اِخَالَ ہے۔ میں گمان کرتا ہوں
 تَخَيَّلَ۔ تَخَيَّلًا وَ تَخَيَّلًا۔ علیہ۔
 تمہمت لگانا۔ شک کرنا۔ و۔
 تَخَيَّلَ تَخَيَّلًا۔ السَّحَابُ
 بادل کا گر جانا۔ چمکنا اور برسنے
 کے قریب ہونا۔ فِيهِ الْخَيْرُ
 کسی میں بھلائی کے نشان معلوم
 کرنا۔ عَنِ الْقَوْمِ۔ کمزور
 اور بزدل ہونا۔
 تَخَيَّلَ۔ اَلَيْهِ وَ لَهُ اِنَّهٗ كَذَابٌ
 تصور ہونا۔ ایک چیز کو وہم سے
 دوسری چیز خیال کرنا۔
 تَخَايَلَهُ۔ فُحْزُكَرْنِي فِي مَقَابَلِهِ كَرْنَا۔
 — خَايَلْتُ السَّحَابَةَ۔ بادل کا
 بارش کی امید دلانا۔
 اَخْيَلْتُ۔ السَّمَاءُ۔ بادل کا برسنے
 کے لیے تیار ہونا۔ النَّاقَةُ
 اونٹنی کے تھنوں میں دودھ ہونا
 (۔ وَاِخَالَ، الْقَوْمُ۔ اَيْسَ
 بادل کو دیکھنا جس سے بارش
 برسنے کی امید کی جائے) اَخِيلٌ
 وَاِخْتَالَ، الْمَكَانُ بِالنَّبَاتِ۔

کارپورٹ یا ٹڈی دل۔ جِ خَيْطَانُ
 الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ۔ صبح کی روشنی۔
 الْخَيْطُ الْاَسْوَدُ۔ رات کی
 تاریکی۔
 الْخَيْطُ مِنَ الرَّقْبَةِ۔ حَرَامٌ مَغْزُ۔
 کہتے ہیں: جَا حَشَى عَنِ خَيْطِ
 رَقْبَتِهِ۔ اس نے اپنے خون
 سے مدافعت کی۔
 خَيْطٌ بَاطِلٌ۔ ترمے۔ سوراخ کی
 شعاع میں دکھائی دینے والے
 ذرات۔
 الْخَيْطُ وَالْخَيْطِيُّ۔ مِنَ النِّعَامِ
 اَدَا الْجَوَادِ۔ شتر مرغ کا ریوڑ
 یا ٹڈیوں کا دل۔
 الْخَيْطَانَةُ۔ دَرَزِي كَا پَيْشِہ۔
 الْخَيْطَانُ۔ دَرَزِي
 الْخَيْطَانُ وَالْمَخِيطُ۔ سَوْنِي۔
 خَيْفٌ (س) خَيْفًا۔ اَيْكُنِيْلِي اَوْر
 دوسری سرگیں آنکھ والا ہونا۔
 صِفَتُ الْاَخْيَافِ، مَوْنُثُ
 خَيْفًا وَ۔ ج۔ خَيْفٌ۔
 خَيْفٌ۔ عَنِ الْقِتَالِ۔ لَاطَانِي سَ
 مِنْ مَرُونَا۔ الْقَوْمُ۔ كَسِي جَكَّةُ
 اَتْرَا۔ خَيْفَتُ الْمَوَاةُ
 باولادھا۔ اِخْيَانِي بَهَائِي
 كِي مَاں ہونا۔
 تَخَيَّفَ۔ الْوَاثَا۔ مُخْتَلِفُ رَنُكُو
 وَاَلَا ہونا۔
 الْخَيْفُ۔ پھاڑ کے دامن میں اوپنی
 نیچی زمین۔ پانی بہنے کی جگہ سے
 بلند جگہ۔ تھن کی کھال۔
 الْخَيْفَةُ۔ پھری بشیر کی جھاڑی۔
 الْخَيْفَانُ۔ كَشَادَةُ تَهْنُوں وَاَلِي۔ ج۔
 خَيْفَاوَاتُ وَ خَيْفٌ۔
 الْاَخْيَافُ۔ مُخْتَلِفُ لَوُكٌ۔ کہتے ہیں

<p>— تخیمت الريح الطيبة بالثوب وفيد. کپڑے میں خوشبو کا بس جانا اور کپڑے کا مکنا.</p> <p>الخیمہ۔ طبیعت. خصلت. تلوار کا جوہر۔</p> <p>الخمّام۔ وہ شے جس پر کاریگر کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ مثلاً وہ الماس جو صیقل نہ ہوا ہو۔ وہ پتھر جس کو سنگ تراش نے نہ تراشا ہو وہ چمڑا جس کو دباغ نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ وہ کپڑا جس کو دھو بی نے نہ چھوا ہو۔ روئی کا بنا ہوا کپڑا۔ جہ۔ اُخوام۔ الخمّامة۔ تروتازہ گھاس۔ جہ خام و خامات۔</p> <p>الخميمة۔ ڈیرہ۔ ہر وہ گسر جو اینٹ پتھر مٹی وغیرہ سے نہ بنایا گیا ہو۔ جہ۔ خیمہ و خيام و خيمات و خيم —</p> <p>الخيّام۔ اونٹ کی عماریاں ہوئے۔</p> <p>الخيّامہ۔ خیمہ میں رہنے والا۔ (— والخيمی، خیمہ فروخت کرنے والا۔ خیمہ بنانے والا۔ المخيمہ۔ خیمہ لگانے کی جگہ۔</p>	<p>المخايل۔ من السحاب۔ ہارش کی امیدوائے والے بادل۔ اور اسی سے ہے "ظہرات فيه مخايل" البحابة۔ اس میں شرافت کی نشانیاں نمایاں ہو گئیں — ارض متخيلة و متخيلة۔ کسی زمین کے پودوں کا اپنی مدت پر آ کر پھول لانا۔</p> <p>خام۔ يخيم خيمًا و خيمًا و خيومًا و خيومًا و خيامًا و خيمومة کسی جگہ اقامت کرنا — عنه بزول ہونا اور عجمی لوٹنا۔ القوم في القتال۔ جنگ میں کامیاب نہ ہونا — رجله۔ اٹھانا۔ خيمًا۔ خیمہ لگانا۔ خیمہ میں اقامت کرنا — ہا ملکان۔ اقامت کرنا — خيمت الكرمة۔ انگور کی بیل کا خیمہ کی طرح چھامانا۔ — خيمت البقر۔ گائے کا لپے تھان پر کپڑے رہنا — الريح في الثوب۔ کپڑے میں خوشبو سانا۔</p> <p>أخام أخامة و أخيم أخيامًا۔ الخميمة خيمه نصب کرنا۔ العرس گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ تخييم۔ المکان و بالمكان و فيه۔ کسی جگہ خیمہ نصب کرنا۔</p>	<p>الخيال۔ گمان۔ وہم۔ جہ اخیلة — و الخيالة، خواب میں دکھائی دینے والی صورت بشکل انسانی۔ خیال۔ و صوفا۔ یعنی کھیتوں میں نصب کی ہوئی وہ بناوٹی انسانی شکل جس کو دیکھ کر جانور اور پرندے ڈریں۔ اور اس کو انسان سمجھیں۔</p> <p>الخائل۔ متکبر۔ جہ۔ خالة۔ المخيلة و الخيالية۔ قوت خیالیہ۔</p> <p>الآخيل۔ مؤنث۔ خيلاء۔ جہ خیل و اخائل و المخیل۔ المخیول۔ بدن پر تل رکھنے والا۔ الآخيل۔ ایک بدشگون کا پرندہ۔</p> <p>الأخائل۔ متکبر۔ کہتے ہیں "رجل اخائل" الخيال۔ سوار۔ گھوڑوں والا۔ جہ الخيلاء و الخيلاء و الخيلة۔ خود پسندی۔ غرور۔ المخیلة و المخیلة۔</p> <p>و المخیلة و المخیلة۔ وہ بادل جس کے برسے کی امید ہو — انه لمخیل الخیر۔ اس سے نیکی کی امید ہے وہ نیکی کر سکتا ہے۔ "کلام مخیل" مشکل کلام۔</p>
--	--	---

د

<p>الدَّابُّ و الدَّابُّ۔ مص۔ عادت۔ شان۔</p> <p>الدَّابَّان۔ رات و دن۔ الدَّابُّ۔ تھکا ہوا۔</p> <p>دَابَّان (دَابَّان)۔ بوجھل ہونا۔</p>	<p>جانور کو تیز ہلکانا۔ ۵۔ دھتکارنا بکالنا۔</p> <p>أدَّابَهُ إِذْ أَبَا۔ تھکانا۔ ہم کو شش کا کسی کو حاجت مند و ضرورت مند بنانا کسی کام کو ہمیشہ کرنا۔</p>	<p>دَابَّان (دَابَّان) دَابَّان دَابَّان دَابَّان۔ — فی العمل۔ کوشش و مشقت سے کسی کام کو برابر کرتے رہنا۔ صفت ردَّابَّان و دَابَّان۔ ردَّابَّان و دَابَّان۔ الدابة</p>
---	---	--

نہر کا بہنا۔ کہتے ہیں: دَبَّتْ
عَقَارُہُہ: اس کی چٹخوڑیاں اور
ریشہ و انیاں چل پڑیں۔
آدَبٌ - العصبی: بچہ کو ہاتھ پیروں
پر چلانا — الی ارضہ
جدولاً۔ اپنی زمین کی طرف نہر
بہانا۔ کہتے ہیں: "آدَبْتُ البلاد"
اس نے ملک کو انصاف سے بھر
دیا۔ "وہویدب علینا
عقارہہ و یخویش علینا
آقارہہ: یعنی وہ ہم سے دشمنی کرتا
ہے اور اذیت پہنچاتا ہے۔
الدَّبُّ - ریچھ۔ ج۔ آذبابٌ دببۃٌ
مرفوع۔ دُبَّةٌ - الدَّبُّ الاکبر
والدَّبُّ الاصغر۔ بنات النعش
کبریٰ اور بنات النعش صغریٰ۔
قطب شمالی کے قریب چند
ستاروں سے ترکیب ہا کر دو ریچھ
کی سی صورتیں بن گئی ہیں۔ ایک
چھوٹی اور ایک بڑی۔ بین ستارے
نعش کے ہا یہ شرقی کے قریب
ہیں اور نعش کے چار ستارے
پلنگ کی صورت کے۔ یہ سب
مل کر سات ستارے ہوتے ہیں۔
یہ ساتوں قطب شمالی کے قریب
ہیں اور سب کے سب قطب کے
ارد گرد گھومتے ہیں۔ انہیں سات
سہیلیوں کا جھمکا بھی کہتے ہیں۔
کہتے ہیں: "دب فب فلان او
دبۃ فلان" اس نے فلان کا
طریقہ اختیار کیا۔
الدَّبَّةُ - تیل و غیرہ کا برتن۔ بط کی
شکل کی شیشہ کی بوتل۔ بہت
ریتل جگہ۔ ج۔ دباب۔ پھرہ کا
رُواں۔ ج۔ دب۔ کہتے ہیں۔

دَوَالَةٌ - لومڑی کا علم جنس ہے۔
الدَّالُّ والدَّائِلُ والدُّوْلُ و
الدَّائِلَانُ - گیدڑ۔ بھیڑیا۔ نیولے
سے مشابہ ایک جانور۔
الدُّوْلُ - مصیبت۔ ج۔ دالیل۔
کہتے ہیں: "وقع القومُ فی
دُّوْلٍ"۔ قوم ایک مصیبت و
پریشانی میں پڑ گئی۔
دَامَدَفٌ دَامَاً - الحائظ۔ دیوار
کو سہارا دینا — الموجل۔
آدمی پر کود کر سوار ہونا۔
تَدَامَّتْ - الماء۔ پانی کا ڈھانپ لینا۔
تَدَامَّتِ السماءُ - لگاتار برسنا۔
تَدَامَّتْ - علیہ المہومُ او
الامور۔ غموں یا کاموں کا کسی
پر ہجوم کرنا۔
الدَّامُ - مع۔ ہر ڈھانپنے والی شے۔
الدَّامَاءُ - سمندر
دَامِي يَدُ اُودُنٍ، يَدَامِي دَاوَا
وَدَايَا - الذَّبُّ لِلصَّيْدِ
بھیڑیے کا شکار کو دھوکا دینا۔
قریب میں لانا۔
الدَّامِي - سینہ کی پسلیوں کے ملنے کی
جگہ۔ ج۔ دَايَاتُ۔
ابن دَايَةَ۔ کوا۔
الدَّايَةُ - دانی۔ ج۔ دَايَاتُ۔
دَبَّتْ رَحْنٌ، دَبَّتَا وَدَبَّتَا - سانپ
کی طرح رینگنا یا بچھ کی طرح ہاتھ
پیروں پر گھسنا۔ کہتے ہیں: "هو
اکذب من دَبَّتْ وَدَبَّتْ" وہ
زندوں اور مردوں سے زیادہ جھوٹا
ہے۔ السُّقْمُ فی الجسمِ
او البلی فی الثوب۔ بیماری کا
جسم میں اور بوسیدگی کا کپڑے
میں سرایت کر جانا۔ المتداولُ

الثوبُ - کپڑے کا میلا ہونا۔
الثوبُ - کپڑے کو میلا کرنا۔
الدَّبُّثُ - سخت کینہ۔
الدَّاقَاءُ - چھوڑی۔ لونڈی۔ ہانڈی۔
ج۔ دَايْتُ - ابن دَايَاءُ - احمق
دَاوَاً - دَاوَاةٌ وَوَدَاةٌ بہت تیز
دوڑنا — فی اثرہ - کھوج
لگانے کے لیے کسی کے پیچھے
جانا۔ المشیءُ - ڈھانپنا۔ حرکت
دینا۔ سکون میں لانا۔ القومُ
بھیڑ کرنا۔ ہجوم کرنا۔
تَدَاوَاً - حرکت کرنا۔ ٹھہر جانا۔
المجور۔ پتھر کا لڑھکتا۔ القومُ
ہجوم کرنا۔ بھیڑ کرنا۔ عنہ۔
ماثل ہونا۔ جھکتا۔ فی مشیہ
چال اور رفتار میں لڑھکتا۔
عن فوسہ - گھوڑے سے گر جانا
الدَّادَاً والدَّادَاةً والدَّادَاةُ
والدَّادَاةُ - من اللیالی
سخت اندھیری رات۔ ج۔ الدَّادِي
الدار صینی۔ دار صینی۔
دَايَصٌ دَسٌ، دَاَصًا - اترنا۔
البعیرُ - اونٹ کا فرہ ہونا۔
پُرْگُوشَتٌ ہونا۔
دَاظَدَفٌ، دَاظَلَا - الاناء۔ برتن
بھرنے والا۔ الموجل۔ پیٹ بھرے
پرنہر روستی کھانا۔ غیلہ و غضب ہیں
لانا۔ گلا گھونٹنا۔ القرحۃُ
زخم کو دبا کر نچوڑنا۔
دَاظَدَفٌ، دَاظَلَا - موٹا ہونا۔
دَاَلٌ دَفٌ، دَاَلَا وَدَاَلَا وَدَاَلِي
سست چال سے چلنا۔ لہ
دَاَلَا وَدَاَلَا، دھوکا دینا۔
دَاَعَلَهُ مَدَاةً - دھوکا دینا۔ تیز
رفتاری میں مقابلہ کرنا۔

"لَيْسَ فِي الدَّارِ دُبِّي اَوْ دُبِّي"
گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا استعمال صرف نفی کی صورت میں ہوتا ہے۔
الدَّبَابُ - رواں - بالوں کی کثرت۔
گانے کا پہلا نوزائیدہ بچہ۔
الدَّبَابُ - تیز رنگنے والا۔ وہ کمزور جو چلنے میں رینگے۔ مؤنث۔
الدَّبَابَةُ - ایک آلہ ہوتا تھا۔ جس کو قلعہ کے محاصرہ میں استعمال کرتے تھے۔ آدمی اس میں داخل ہوتے اور اس کو قلعہ کی دیوار کے پاس رکھ دیا جاتا۔ پھر اس کے اندر کے لوگ دیوار میں سرنگ لگاتے اور اس کو برماتے ج۔ دَبَابَاتُ - الدَّبَابَةُ ٹینک یعنی مسلح جنگی موٹر
الدَّبَابُ - مص - ہر رنگنے والا چھوٹا کپڑا جو پانی میں کھینتا رہتا ہے۔
الدَّبَابُ وَالدَّبَابُ - چغل خور۔
گرا غار - ہر موٹی چیز۔
الدَّبَابَةُ - الداب کا مؤنث۔ ہر رنگنے والا جانور۔ سواری کا جانور۔ بار برداری کا جانور مذکر و مؤنث ہر دو کے لیے، اس میں تاء وحدت کی ہے۔ ج۔ دَوَابٌ - تصغیر (الدَّوَابَّةُ)
الدَّبَابُ - کدو۔ واحد (دَبَابَةٌ)
الدَّبَابُ - رواں۔ بالوں کی کثرت۔
الادَّبُ - بہت بالوں والا۔ مؤنث
دَبَابٌ - بہت بالوں والا اونٹ۔
المدَّبُ - جاری ہونے کی جگہ کہتے ہیں۔
مدب السيل ومدب النمل
سیلاب کے بننے کی جگہ اور چیونٹیوں کے رینگنے کی جگہ۔ ارض مدبّة وہ زمین جس میں رینگے بکثرت ہوں۔

دَبَابَةٌ، دَبَابَةٌ، لاشی سے مارنا۔
الشيء - حرکت سے ٹھہرنا۔ سکون پذیر ہونا۔
دَبَابَةٌ وَدَبَابَةٌ عَلَيْهِ - ڈھاکنا۔ چھپانا۔
دَبَجَهُ (دَن) دَبَجًا وَدَبَجَهُ - نقش کرنا۔
مزین کرنا۔ خوبصورت بنانا۔
الطيلسان - ریشمی کپڑا لگا کر زینت دینا۔
الديباج - وہ کپڑا جس کا تانا بانا ریشم کا ہو ج۔ دَبَابُجٌ وَدَبَابُجٌ۔
واحد (دَبَابُجَةٌ) - الديباجۃ چمڑ۔ کہتے ہیں۔ "فلان يصبون ديباجته" یعنی فلاں شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ کہتے ہیں۔ "فلان يبذل ديباجته" یعنی فلاں اپنی آبروریزی کرتا ہے۔
ديباجۃ الكتاب - کتاب کا دیا چمڑ۔
الديباجتان - ہر دور خسارے۔
الوجه - چہرہ کی جلد کا حسن۔
الدَّبَابُجُ - ديباج کپڑا بیچنے والا۔
المدَّبَجُ ریشمی کپڑے سے مزین کیا ہوا۔ بد شکل۔ ایک بد ہیئت آبی پرندہ
دَبَجَ - سر جھکانا اور پیٹھ پھیلانا۔
ذليل ہونا۔ فی بیتہ۔ اپنے گھر میں جھے رہنا۔
دَبَجَ - بمعنى دَبَجَ -
دَبَابٌ - دَبَابَةٌ - الحافِرُ على الارض - کھریاٹاپ کا زمین پر پڑ کر آواز دینا۔
الدَّبَابُ - طبل کو آواز کی مناسبت سے کہتے ہیں۔
ج۔ دَبَابُجٌ -
دَبَدَن (دَن) دَبَابًا وَدَبَابًا - النهار والصفى - دن یا گرمی

کا ختم ہو جانا۔ الوجل - مرنا پیچھے پھرنا۔ بوڑھا ہونا۔
التریح - ہوا کا پھوائی رخ پر چلنا۔
(دَبَابًا) السهم والهدف تیر کا نشانہ سے ہٹ کر گزنا۔
الكتاب - کتاب کا نقل کرنا۔
بالشيء - لے جانا۔
کسی کے پیچھے یا بعد آنا۔
الحديث عن فلان - کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات نقل کرنا۔ بیان کرنا۔
دَبَابٌ - پھوائی ہوا لگنا۔
دَبَابٌ (س) دَبَابًا - البعير - اونٹ کی پیٹھ میں کجاوہ کی وجہ سے زخم ہونا صفت۔ (دَبَابٌ)
دَبَابٌ - الامر - کسی امر میں سوچ بچا کرنا اور اس کے نتیجہ پر غور کرنا۔
اس پر توجہ کرنا اور انتظام کرنا۔
الحديث - کسی کی بات نقل کرنا۔
على هلاكه کسی کی ہلاکی کے لیے جیلہ سازی کرنا کوشش کرنا۔
دَابِرَةٌ مُدَابِرَةٌ وَدَبَابًا - مرنا۔
ہ۔ کسی سے دشمنی کرنا۔
أَدْبَرُ - البعير - اونٹ کی پیٹھ میں زخم ہونا۔
أَدْبَرُ - القتب - کجاوہ کا پیٹھ کو زخمی کر دینا۔
فلان - مرجانا - پھوائی ہوا میں داخل ہونا۔
عندہ - پیچھے پھرنا۔
ہ۔ پیچھے کرنا۔
أَدْبَرَتِ الدُّنْيَا - اقبال مندی کا ختم ہونا۔
الامر - ختم ہونا۔
تَدَابَرُ - الامر - کسی امر کے نتائج پر غور و فکر کرنا۔
تَدَابَرُ - القوم - آپس میں دشمنی رکھنا

کے پاؤں کا پھلا خار۔ ج
 دَآبِرُ
 الدَّابِرِيُّ - آخری وقت میں نماز۔
 الدَّابِرِيُّ - وہ چیز جو ایسے وقت میں
 آئے کہ اس کی ضرورت نہ رہے۔
 کہا جاتا ہے: "فَمَثَرُ التَّوَالِي الدَّابِرِيُّ"
 بری رائے وہ ہے جو وقت کے
 بعد سوچے۔ "وَجَاءَ دَابِرِيًّا"
 وہ آخر میں آیا۔
 المَدَابِرُ - ناکامیاب تیر والا۔
 المَقَابِلُ وَالمَدَابِرُ - شریف والدین
 والا۔ نجیب الطرفین۔
 المَدَابِرُ - زخمی۔ بہت مال والا۔
 دَابِسٌ - الشَّيْءُ - پوشیدہ کرنا۔
 چھپانا - الشَّيْءُ - چھپنا۔
 پوشیدہ ہونا - العَيْبُ -
 انگور کا خوب سیٹھا ہونا -
 العَصِيرُ المَغْلِيُّ - پھوٹے ہوئے
 رس کا جوش کھا کر گاڑھا ہونا -
 الرَّجُلُ العَصِيرُ - پکا کر گاڑھا
 کر دینا۔
 اَدْبَسَتْ - الارضُ - زمین کا سبزہ
 پھولنا۔
 اِدْبَسَتْ - اِدْبَسَاسًا - الفوسُ
 گھوڑے کا سرخی مائل بھورے رنگ
 والا ہونا۔ صفت (اِدْبَسُ)
 اِدْبَسُ - ہر سیاہی۔ بہت تعداد۔
 کہا جاتا ہے: "مَالٌ دَابِسٌ"
 بہت مال۔
 اِدْبَسُ - پکایا ہوا گاڑھا شیرہ۔
 الدَّابَسُ - شیرہ بنانے والا۔ یا
 بیچنے والا۔
 اِدْبَسُ - شہد۔ کھجور کا شیرہ۔
 الدَّبَسَةُ - سرخی مائل بھورا رنگ۔
 الدَّبَسُ وَالدَّبَسُ - گرز۔

وغیرہ سے جو ہا تا ہے ج دَبْرُ
 وَاذْبَارُ -
 الدَّابَارُ - ہلاکت۔
 الدَّبَارُ - کھیتوں کی نالیاں جنگلیں
 شکستیں۔
 الدَّبُورُ - پھپھوائی ہوا۔
 الدَّبِيرُ - مِنَ الرَّجُلِ - پیچھے۔ کہتے ہیں
 "هُوَ لَا يَعْرِفُ قَبِيلَهُ مِنْ دَبِيرِهِ"
 وہ آگے پیچھے کی تمیز نہیں رکھتا۔
 یعنی پکا جاہل ہے۔ گناہ۔ کہتے ہیں
 "عَرَفَ قَبِيلَهُ مِنْ دَبِيرِهِ"
 اس نے طاعت و معصیت میں
 تمیز کر لی۔
 الدَّبُورُ - شکل طریقہ ج۔ دبابیر۔
 الدَّبُورَةُ - پتھر تراشتے وقت اس
 کو برابر کرنے کا آلہ۔ فصیح لفظ
 "الصَّاقُورُ" سے۔
 الدَّبْرَانُ - چاند کی ایک منزل جو
 برج ثور کے پانچ ستاروں پر
 مشتمل ہے۔
 الدَّابِرُ (دب) تابع ہر شے کا آخر
 اصل۔ گذرا ہوا۔ کہتے ہیں -
 "آمَسِ الدَّابِرُ" یعنی گذرا ہوا
 کل۔ یہ تاکید کے طور پر ہے۔
 جیسے کہتے ہیں: "رَأَيْتَهُ بَحِيثِي"
 نشانہ پر نہ لگنے والا تیر۔ جوئے
 میں ناکامیاب تیر۔ کہتے ہیں۔
 "مَا بَقِيَ فِي الْيَكْتَانَةِ غَيْرُ
 الدَّابِرِ" یعنی ترکش میں سوائے
 دابرتیر کے کچھ نہیں رہا۔ یا کہا جاتا
 ہے: "قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ"
 اللہ ان کی تیغ کنی کرے۔
 الدَّابِرَةُ - الدَّابِرُ كَالْمَوْزِ -
 شکست۔ نحوست۔ انسان
 کی کوتاہی۔ کھر کا پھلا حصہ۔ پندہ

آپس میں اختلاف کرنا اور ایک
 دوسرے سے تعلقات کو توڑ لینا۔
 اسْتَدْبَرَهُ - پیٹھ دینا۔ اختیار کرنا
 جستجو کرنا۔ کھوج لگانا -
 الامْرُ - خلاف امید نتیجہ
 برآمد ہونا۔
 الدَّبْرُ - مص۔ شہد کی مکھیوں یا
 بھڑوں کا انبوه۔ واحد - (دَبْرَةٌ)
 ج۔ اَدْبُرُ وَ دَبْرُوسٌ - بہت
 مال۔ قوت۔ پہاڑ۔ سمندر میں
 جزیرہ نما قطعہ زمین جس پر جوار
 بھاٹا ہوتا ہو۔ کسی چیز کے پیچھے۔
 کہتے ہیں: "بَعَلَ كَلَامِي دَبْرُ
 اَذُنِّي" اس نے میری بات
 سے غفلت برتی اور اس پر توجہ
 نہیں دی۔
 الدَّبْرُ - بمعنى الدَّبْرُ - بہت مال
 یہ مفرد و جمع کے لیے یکساں مستعمل
 ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: "مَالٌ دَبْرُ
 وَاَمْوَالٌ دَبْرُ"
 الدَّبْرُ وَالدَّبْرُ - ہر چیز کا پھلا حصہ۔
 ج۔ اَذْبَارُ - دُبْرُ الصَّلَاةِ - نماز
 کا آخر۔ کہتے ہیں: "جَاءَ دُبْرُ
 الشَّهْرِ فِي دُبْرِهِ وَعَلَى دُبْرِهِ"
 وَاَذْبَارُ الشَّهْرِ فِي اَذْبَارِهِ"
 یعنی وہ مہینہ کے آخر میں آیا۔
 دُبْرُ الْبَيْتِ - مکان کا کونہ۔
 الدَّبْرَةُ - عاقبت جنگ میں شکست
 قابل کاشت قطعہ ارضی ج۔ دَبَارُ
 الدَّبْرُ - زخمی پیٹھ والا جانور۔ پیٹھ
 لگا جانور۔
 الدَّبْرَةُ - ضد قبلہ۔ کہتے ہیں: "لَيْسَ
 لِهَذَا الْاَمْرِ قَبْلَةٌ وَلَا دُبْرَةٌ"
 یعنی اس کی وجہ کا پتہ نہیں لگتا۔
 الدَّبْرَةُ - جانور کی پیٹھ کا زخم جو کجاوہ

ددا (د) ج۔ دواثر۔ السیف
تلوار پر زنگ چڑھ جانا۔
الشجر۔ درخت کا پتے لانا۔
الثوب۔ کپڑے کا میلا ہونا۔
الرجل۔ انسان پر بڑھاپے کے
آثار کا آشکارا ہونا۔

دثر۔ ہلاک کرنا۔ چادر سے ڈھانپنا۔
تدثر واد تدر۔ بالثوب۔ کپڑا
اڑھنا۔ کپڑے میں لپٹنا۔ صفت
(متدثر و متدثر) یہ اصل میں
مد تثر تھا۔ تار کو دال میں مدغم
کر دیا گیا۔ تدثر و تدر۔
گھوڑے پر کود کر سوار ہونا۔

اندثر۔ مٹنا۔ محو ہونا۔
ادثر۔ بہت مال جمع کرنا۔
تدثر۔ الرسد۔ نشان مٹنا۔
الداثر (د) ہلاک ہونے والا۔
الدثر۔ بہت۔ مال دثر۔ بہت
مال۔ واحد، تشبیہ، جمع میں ایک ہی
طرح استعمال ہوتا ہے کبھی اس
کی جمع دثوسا بھی لاتے ہیں ہو
دثر مال۔ وہ مال کا اچھا انتظام
کرنے والا ہے۔

الدثر۔ میل کچیل۔ کہتے ہیں۔ عسکر
دثر۔ لشکر جبار۔
الداثر۔ بدلنے سے ملے ہوئے کپڑے
کے اوپر کا گرم کپڑا۔ وہ کپڑا جس کو
سونے والا اوڑھ کر لیٹے۔
الدثور۔ الدثاری۔ سست،
کابل۔ غیر مشہور و معروف۔ بہت
سونے والا۔

الادثر۔ غافل۔
دثر (د) دجیجا و دججانا۔
القوم۔ آہستہ چلنا۔ البیت
گھر کی چھت کا ٹپکنا۔ د۔ دججا

آفتیں ٹوٹ پڑیں یا اس کی ماں نے
اس کو گم کر دیا (د۔ و د بیل،
اللحمۃ۔ بڑا لقمہ لینا۔ الشیء۔
انگلیوں سے جمع کرنا۔

دبیل (د) دس، دبل۔ فریب ہونا۔
الدبیل۔ طاعون مصیبت۔ اولاد کی
موت۔ پانی کی نہر۔ ج۔ دبول۔
الدبیلۃ۔ بڑا لقمہ۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔
کلباڑی کا سوراخ۔ ج۔ دبیل و
دبیل۔

الدبیلۃ والدبیلۃ۔ مصیبت
پیسٹ کی ایک بیماری۔ پیسٹ کی
گلی یا پھوڑا۔

الدبیل۔ کھاد۔
الدبول۔ وہ عورت جس کی اولاد مر
گئی ہو۔ ہلاکت و مصیبت۔

الدوبل۔ نرسور۔ پست قد گدھا۔
دربیت۔ الارض۔ چھوٹی ٹڈیوں کا
زمین کی کاشت کو کھا جانا۔ صفت
(مدبیت و مدبوکا)

ادبت۔ الارض۔ کسی زمین میں چھوٹی
ٹڈیوں کا بکثرت ہونا۔
الدابی۔ چھوٹی ٹڈی۔ جیونٹی۔ واحد
(دباق)

دنت (د) دقا۔ الصیاد بہ۔
شکاری کا کسی چیز سے شکار کرنا۔
دنت۔ چوٹ مار کر دکھ پہنچانا۔ ہٹانا۔
پتھر سے مارنا۔

دنت (د) دقا۔ السماء ہلکی
بارش برسنا۔

الدنت والدنتۃ والدنات ہلکی بارش
الدنتۃ۔ ہلکا خیف زکام۔
الدنوت۔ ہٹ جانے والا۔

دثر (د) دثوسا۔ الرسم۔
نشان کا محو ہونا۔ مٹنا۔ صفت

ج۔ دبایین۔

دبش (د) دبشا۔ الشیء چھلکا
اتارنا۔ الطعام۔ کھانا۔
الدبش۔ گھر کا سامان۔ روی سامان۔
مکان مذبوش۔ وہ جگہ جس کی
سبزی ٹریاں صاف کر گئی ہوں۔
سینل دباش۔ تباہ کن
سیلاب۔

دبغ (د) دض، دبغ و دبغ۔
دبغۃ۔ الجلد۔ چمڑا رنگنا۔
اندبغ۔ چمڑے کا رنگ ہوا ہوتا۔

الدبغ والدبغۃ والدبغۃ
الدبغۃ۔ چمڑا رنگنے کا سالہ۔
جلد دبغ۔ رنگا ہوا چمڑا۔

الدبغۃ۔ چمڑا رنگنے کا پیشہ۔
الدبغ۔ چمڑا رنگنے والا۔
المدغۃ والمدغۃ۔ چمڑا
رنگنے کی جگہ۔ وہ چمڑے جو رنگ

میں پڑے ہوں۔

دبتق (د) دبقا۔ الصائد الطیر۔
لاسہ سے پرندہ کا شکار کرنا۔
دبتق (د) دبقا۔ بہ۔ چمٹنا۔

دبتقۃ۔ لاسہ سے شکار کرنا۔
ادبتقۃ۔ چپکانا۔
تدبتق۔ الطیر۔ پرندہ کا لاسہ سے
شکار ہونا۔ الشیء۔ لیس
دار ہونا۔

الدبتق والدابوق والدبوقۃ
پرندہ کو شکار کرنے کا لاسہ۔

دبل (د) دبلا و دبولا۔ الارض۔
زمین میں کھا دڈالنا۔ الشیء۔
کسی شے کی اصلاح و درستی کرنا۔

دبلہ (د) دض، دبلا۔ بالعصا۔
لاٹھی سے لگاتار مارنا۔ کہا جاتا
ہے۔ دبلیتہ الدبول۔ اس پر

<p>الدَّجَالَةُ - زمین پر چھا جانے والا ایک بڑا گروہ۔ دَجَمَ دُنَّ، دَجَمًا - اللیل۔ رات کا تاریک ہونا۔ دَجَمَ (س)، و دَجَمَ دَجَمًا - غمگین ہونا۔ الدَّجْمُ - من الشیء کسی شے کی قسم۔ الدَّجْمُ - عشق کی تکلیفات و بے چینیوں کے ہیں: "أَخَذَتْهُ دُجْمُ العشق" اس کو عشق کی بیتابیوں نے گھیر لیا۔ "عَدِيدٌ دَجْمًا" موجزن تالاب۔ دَجَنَ دُنَّ، دَجَنًا و دَجُونًا - الیوم دن کا ابرو والا اور بارش والا ہونا۔ — اللیل۔ تاریک ہونا صفت (دَجَنًا) - مؤنث۔ دَجَنَاءُ - ج۔ دُجْنٌ۔ دَجَنَ دُنَّ، دَجُونًا - بالمكان - اقامت کرنا — الحَمَامُ و غَیْرُهَا کبوتر یا کتے وغیرہ کا مانوس ہونا صفت (دَجِنٌ) - مؤنث (دَجِنٌ) و دَجِنَةٌ - ج۔ دَوَاجِنٌ - کتے ہیں۔ "دَجَنُوا فِي لُؤْمِهِمْ" وہ کینگی کے عادی ہیں کہ لے نہیں چھوڑتے۔ أَدَجَنَ - القوم - بارش میں داخل ہونا — السَّعَاءُ - مسلسل برسنا۔ — المَطْرُ و الحَشِي - ہمیشہ رہنا۔ — اللیل - تاریک ہونا۔ دَاجِنَةٌ مَدَّاجِنَةٌ - مدہمت کرنا۔ دھوکا دینا۔ أَدَجَجَنَ - الیوم - دن کا بارش والا ہونا۔ الدَّجِنُ - بہت بارش چھا جانے والا سیاہ بادل۔ گٹا ٹوپ بادل۔</p>	<p>مشابہ ہوتے ہیں۔ دَجَدَجَ - اللیل - رات کا تاریک ہونا۔ دَجِرَ (س)، دَجِرًا - حیران ہونا۔ مدہوش ہونا۔ صفت (دَجِرٌ) و دَجِرَانٌ، ج۔ دَجِرَى و دَجَارَى۔ دَاجِرٌ مَدَّاجِرٌ - بھاگنا۔ الدَّجِرَانُ - بیل چڑھانے کے لیے نصب کی ہوئی لکڑی۔ واحد۔ (دَجِرَانَةٌ) الدَّيْجُودُ - اندھیری تاریکی۔ خاکستری رنگ کی سیاہی مائل مٹی۔ ج۔ دَيَا جَيُّو و دَيَا جُو۔ دَجَلَ دُنَّ، دَجَلًا - جھوٹ بولنا۔ (دَجَلٌ) البعير اونٹ پر قطران لگانا۔ بالمكان - ٹھہرنا۔ مقیم ہونا۔ و دَجَلٌ، الشَّيْخُ - ڈھانپنا۔ — الإِنَاءُ - برتن پر سونے کا پانی چڑھانا۔ گھٹ کرنا۔ اور اسی وجہ سے دَجَالٌ کو دَجَالٌ کہتے ہیں کیونکہ وہ غلاف باطن کا اظہار کرتا ہے۔ — الدَّجَالُ سونے کا پانی (دَجَلٌ) الارض۔ زمین میں کھاؤ ڈالنا۔ الدَّجَالُ - بڑا جھوٹا۔ ایک شخص کا نام جو آخر زمانہ میں ظہور کرے گا۔ ج۔ دَجَالُونَ و دَجَالَةٌ۔ دَجَلَةٌ - عراق کی دو بڑی نہروں میں سے ایک نہر۔ برعایت لفظ اس کو مؤنث لانا جائز ہے اور بلحاظ نہر مذکر۔ کبھی اس پر الف لام بھی داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ الدَّجَلَةُ۔ الدَّجَالُ - گوبر کھاؤ۔</p>	<p>السَّنْبَرُ - پرہہ چھوڑنا۔ لٹکانا۔ دَجَّجَهُ - ہتھیار بند ہونا۔ دَجَّجَتِ السَّمَاءُ - آسمان پر لہر چھانا۔ تَدَجَّجَ - پورا مسلح ہونا۔ ہتھیار بند ہونا کہتے ہیں۔ تَدَجَّجَ فِي مَنْكَبِهِ - وہ اچھی طرح ہتھیار پوش ہو گیا۔ الدَّاجِرُ - (ف)، الحاجر کی طرح یہ بھی مفرد و جمع میں یکساں آتا ہے۔ خادموں اور بوجھ اٹھانے والوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ج۔ دَاجِرُونَ و دَاجِرَةٌ۔ الدَّجَّةُ - سخت تاریکی۔ الدجاج - بتثلیث الدال والفاء اعلیٰ - مرغی۔ یہ پالتو بھی ہوتی ہے اور جنگلی بھی۔ الدجاج الہندی ایک بڑا پرندہ جس کو ملک شام میں دُجَاجٌ حَبَشِيٌّ اور مصر میں دجاج رومی کہتے ہیں۔ واحد (دجاجة) ج۔ دُجَجٌ۔ الدُّجَجُ - سخت اندھیری سیاہ پھاڑ۔ الدجاجة - عیال۔ دھاگے کی پیک یا اس کا گٹا۔ الدُّجُوجِي و الدُّيُوجُ - اندھیری رات۔ ج۔ دَيَا جِيُو۔ الدُّجَاجِيُّ - مرغی بیچنے والا۔ کالا۔ دُجَاجِيٌّ - سیاہ۔ المَدَّجَجُ و المَدَّجَجُ - پورا پورا مسلح۔ کامل ہتھیار پہنے ہوئے۔ کیونکہ وہ ہتھیاروں میں چھپ جاتا ہے۔ یہ ماخوذ ہے دَجَّجَتِ السَّمَاءُ سے۔ یعنی آسمان کو بادل نے چھپایا۔ سیہی کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے کانٹے ہتھیاروں کے</p>
---	---	---

ج۔ دَجْنٌ وَوَجَانٌ وَدُجُونٌ
وَأَدْحَانٌ۔ کتھرہیں۔ یومہ
دَجْنٌ وَیَوْمٌ دَجْنٌ۔ بہت
بارش والا دن۔ اسی طرح۔ لیلۃ
دَجْنٌ وَلَیْلَةٌ دَجْنٌ۔ بہت
بارش والی رات۔
الدُّجْنَةُ۔ تاریکی۔ ج۔ دُجْنٌ وَدُجْنَةٌ
وَالدُّجْنَةُ فِي أَلْوَانِ الْأَبْلِ۔
بہت بری سیاہی۔
الدُّجْنَةُ وَالِدُجْنَةُ وَالِدِجْنَةُ
تاریکی۔ بارش برسانے والا سیاہ
گھٹا ٹوپ بادل۔ ج۔ دُجْنَاتٌ۔
کتھے ہیں۔ یومہ دُجْنَةُ وَیَوْمٌ
دُجْنَةُ۔ بہت بارش کا دن۔
اسی طرح کتھے ہیں۔ لیلۃ دُجْنَةُ
وَلَیْلَةٌ دُجْنَةُ۔ اندھیری رات
الْأَدْحَانُ۔ تاریکی۔ لیلۃ مَدْحَانٌ
اندھیری رات۔
الدَّاجِنَةُ وَالْمَدْحَانَةُ۔ من السحاب
بہت بارش برسانے والا بادل۔
دَجَانٌ، دَجْوَاوٌ وَدُجْوَاوٌ۔ اللیل
رات کا تاریک ہونا۔ صفت
رَدَاجٍ، مَوْنَفٌ۔ دَاجِنَةٌ۔
الثوبُ۔ کشادہ ہونا۔
دَاجِيٌّ مَدَّاجَانٌ۔ ظاہر داری
برتنا اور پوشیدہ کینہ رکھنا۔ میانہ
روی کے ساتھ کسی کو روکنا۔
أَدْحِيٌّ إِذْجَاءٌ وَتَدْحِيٌّ تَدْحِيًّا وَ
إِدْحِيٌّ إِذْجِيًّا۔ اللیل
رات کا تاریک ہونا۔ آدْحِيٌّ
الْبَيْتِ۔ گھر پر پردہ لٹکانا۔
الدُّجْنَةُ۔ قمیص کا بٹن۔ ج۔ دُجَاتٌ۔
وَدُجِيٌّ۔
الدُّجِيَّةُ۔ تاریکی یا ابر کی تاریکی۔ شکاری
کے چھپنے کی جگہ۔ ج۔ دُجِيٌّ۔

الدَّاجِيٌّ۔ فَا۔ من العیش۔
آسودگی۔ نَعْنَةُ دَاجِيَّةٌ
بھر پور نعمت۔ لیل (دَجِيٌّ)،
اندھیری رات۔
الدَّيَّاجِيٌّ۔ اندھیریاں۔
دَحْرٌ (دَحْرٌ) دَحْرًا۔ الشَّيْءُ فِي الْأَرْضِ
کوئی شئی زمین میں چھپانا۔ الطَّعَامُ
بطنہ۔ پیٹ کا کھانے سے بھر کر
لٹک جانا۔ الرَّجُلُ دَحْرِيٌّ
پکڑ کر دھکیلنا۔ الْبَيْتُ فِي
الثَّرَى۔ گھر کو کشادہ کرنا۔
إِنْدَحْرٌ۔ اِنْدَحَارًا۔ بطنہ۔ پیٹ
کا فراخ ہونا یا پھولنا۔
الدَّحْدَحُ وَالِدَّحْدَحَةُ وَ
الدَّاحْدَاحُ وَالِدَّاحْدَاحَةُ
وَالِدَّاحِاحُ وَالِدَّاحِاحَةُ
پست قدم۔
دَحْرَةٌ (دَحْرٌ) دَحْرًا وَدُحْرًا وَ
مَدْحَرَةٌ۔ ہکالتا۔ دھتکارنا۔
دور کرنا۔ ہٹانا۔ صفت (دَاجِرٌ
وَدُحْوِسٌ) صفت مفعولی (مَدْحُونٌ)
دَحْرَجَةٌ۔ لڑھکانا۔ تَدْحَرَجَةٌ۔
لڑھکنا۔
الدُّحْرُوجَةُ۔ گریلے کی بنائی ہوئی
گولی۔ ج۔ دَحْرِيَّةٌ۔
الدَّحْرُ۔ سخت۔ مضبوط۔
دَحْسٌ (دَحْسٌ) دَحْسًا۔ بَیْنَ الْقَوْمِ
فساد برپا کرنا۔ الشَّيْءُ بَحْسًا۔
بہرنا۔
بِرَجْلِهِ۔ پاؤں سے کریدنا
الْجَزَارُ۔ قصابی کا کھال
اتارنے کے لیے ہاتھ کھال میں
گھسانا۔ الثوبُ فِي الْبُوعَاءِ
کپڑے کو برتن میں داخل کرنا۔
بِالشَّيْءِ۔ پوشیدگی میں برائی
کرنا۔ ایسے طریقے سے برائی کرنا کہ

دوسرا نہ جانتا ہو۔ د۔ وَاذْحَسَ
السُّنْبُلُ۔ بالی میں دانہ پڑنا۔
دَحْسَتٌ (س) دَحْسًا۔ مَضْبَعَةٌ۔
انگلی کا متورم ہونا۔ سو جانا۔ صفت۔
(مدحوس) انگلی۔ مَدْحُوسَةٌ۔
الْبِیَّحَاتُ۔ من الْبِیَّوَاتِ۔ آدمیوں
سے بھرا ہوا گھر۔
الدَّحَّاسُ وَالِدَّحَّاسُ۔ زمین کے
اندر رہنے والا زرد کیڑا۔ ج۔
دَحَّاسَاتٌ وَدَحَّاحِيْسٌ۔
الدَّاحِيسُ وَالِدَّاحِيسُ۔ انگلی کے
سرے پر ورم و سوجن۔
الدَّيْحَسُ۔ بہت۔
دَحْصٌ (دَحْصٌ) دَحْصًا۔ الْمَذْبُوحُ
بِرَجْلِهِ۔ مذبوح جانور کا پاؤں
ٹپکنا۔ الرَّجُلُ دَحْصِيٌّ
دلہا۔ جلدی کرنا۔
دَحْصٌ (دَحْصٌ) دَحْصًا وَدُحْصًا۔
الْحُجَّةُ۔ دلیل کو باطل کرنا۔
وَدَحْصَتِ الْحُجَّةُ۔ دلیل کا باطل
ہونا۔ الشَّمْسُ۔ سورج کا
مغرب کی جانب ڈھل جانا۔
دَحْصٌ (دَحْصٌ) دَحْصًا۔ مذبوح کی طرح
پاؤں ٹپکنا۔ يَجْلُهُ۔ پاؤں
پھسلنا۔ الْمَطْرُ الْيَتْلَاحُ۔
بارش کا زمین کو پھسلتی بنانا۔
عن الْأَمْرِ۔ کسی امر کی
تفتیش کرنا۔
أَدْحَصٌ۔ الرَّجُلُ بَحْصَانًا۔
الْحُجَّةُ۔ دلیل کو باطل کرنا۔
إِنْدَحْصٌ۔ الْبُرْهَانُ۔ دلیل کا باطل
اور غلط ثابت ہونا۔
الدَّحْصُ وَالِدَّحْصُ۔ من الْإِمْكِنَةِ۔
پھسلتی جگہ۔ ج۔ دَحْصَانٌ۔
الْمَدْحَصَةُ۔ پھسلانے والی جگہ۔
دَحْفَةٌ (دَحْفَةٌ) دَحْفًا وَادْحَفَةٌ۔ دور

<p>دَحَسَ فِيهِ . داخل ہونا۔ دَحَسَ دَس، دَحَسًا - الحافِرُ۔ گھر کا سوجنا۔ صفت (دَحَسٌ) الدَّحْسُ - جوان ریچھ۔ موٹا۔ گھیلے بدن کا آدمی۔ الدَّحْسُ - جانور کے گھر کا ورم۔ الدَّحْسُ - ایک سمندری جانور۔ عَدَدُ دَحَسٍ (دَحَسٌ) بہت تعداد۔ — دَرَجَةُ دَحَسٍ - قریب قریب حلقوں والی زرہ۔ الدَّحْسُ - گھنی گھاس۔ بڑی تعداد۔ کہتے ہیں " هُوَ دَحْسٌ اللَّحْمِ" وہ پر گوشت سے۔ کلام دَحْسٌ۔ بہت گنجان اور گھنی گھاس۔ الدَّوْحَسُ وَالدَّحْسُ - دیکھان کے پائے۔ دَخَلَ (دَن) دُخُولًا وَ مَدْخَلًا۔ الدَّارُ - گھر میں آنا۔ داخل ہونا۔ — یہ۔ اندر لانا — علیہ زیارت کرنا۔ ملاقات کرنا۔ دُخِلَ - فِي عَقْلِهِ أَوْ جَسَدِهِ - و (دُخِلَ) دَس، دَخَلًا - عقل یا جسم میں خرابی کا داخل ہونا۔ صفت۔ (مَدْخُولٌ) - علیہ امر فُلَانٍ - اندرونی خرابی رکنا — دَخَلَهُ - داخل کرنا۔ دَاخَلَهُ مَدْخَلَةً - العُجْبُ - خود پسندی پیدا ہو جانا — دَاخَلَهُ فِي أَمْرِهِ - دخل اندازی کرنا۔ أَدْخَلَهُ - إِدْخَالًا وَ مَدْخَلًا - داخل کرنا۔ تَدَاخَلَ - داخل ہونا۔ الشَّيْءُ - کسی شئی کا تھوڑا تھوڑا داخل ہونا۔ تَدَاخَلَ - داخل ہو کر ایک جی ہونا۔</p>	<p>لَيْلٌ دُخْمَسٌ - سخت تاریک رات۔ ج۔ دَحَامِسٌ - الدَّحَامِسُ - بہت گندم گوں موٹا آدمی۔ بہادر۔ دَحْمَلٌ - بہ۔ زمین پر لڑھکنا۔ دَحَايِدُ حَوَايِدُ حَي (دَن ف) دَحْوًا الْبَطْنُ - پیٹ کا بڑا ہو کر نیچے کی جانب لٹک جانا — اللَّهُ الْأَرْضُ - خدا تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا — الْحَجَرُ بِيَدِهِ - پتھر پھینکا۔ کہا جاتا ہے " دَحَا الْمَطْرُ الْخَصِي عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ" بارش زمین پر سے کنکریوں کو بھالے گئی۔ إِدْحَوِي - إِدْحَوَاءٌ - پھیلنا۔ دَحِي - يَدْحِي - دَن، دَحِيًا — الشَّيْءُ - پھیلانا۔ تَدَحِي تَدَحِيًا - الشَّيْءُ - پھیلنا۔ إِنْدَحِي — الْبَطْنُ - پیٹ کا کشادہ ہونا۔ الدَّحِيَّةُ - بندریا — الدَّحِيَّةُ فوج کا سرور۔ ج۔ دَحَاءٌ - الأُدْحِيُّ وَالْإِدْحِيُّ وَالْأُدْحُوَّةُ وَ الأُدْحِيَّةُ - ریت میں شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ۔ الدَّحْخُ وَالِدُحْخُ - دھواں۔ دَخْدَخُ - الرَّجُلُ - چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیز چلنا — عَنْهُ الشَّيْءُ - روکنا۔ تَدَخْدَخُ - الرَّجُلُ - دلگیر ہونا۔ دَحْرَدَن، وَدَحْرَدَس، دَحْرَاو دُحْرَاو - ذلیل ہونا۔ حقیر ہونا۔ أَدْحَرَهُ - ذلیل کرنا۔ دَحْسَ دَف، دَحْسًا - الشَّيْءُ فِي الرَّمَادِ - کسی شئی کو راکھ میں چھپانا۔</p>	<p>کرنا۔ ہکالنا۔ دھتکارنا۔ إِنْدَحَقَّ - اپنی جگہ سے نکل پڑنا۔ الدَّاحِقُ - فَا - اِحْمَقُ - غضبناک۔ الدَّحِيْقُ - دور۔ دور ہونے کی جگہ۔ دَحِيْقُ الْقَوْمِ - قوم کا ہکالا ہوا دھتکارا ہوا۔ مُنْدَحِقٌ - الْبَطْنُ - بڑے پیٹ والا۔ دَحَلْ دَن، دَحَلًا - بھاگ کر چھپنا۔ دور ہونا — الْبَيْتُ - کنوس کا ایک جانب میں کھودنا — ر — وَأَدْخَلَ، فِي الدَّخْلِ - کھوہ میں داخل ہونا۔ دَحَلْ دَس، دَحَلًا - ڈھیلے پیٹ والا۔ ہونا۔ صفت (دَحَلٌ) دَاخَلَهُ مَدْخَلَةً - دھوکا دینا۔ الدَّخْلُ وَالدَّخْلُ - کھوہ وہ گڑھا جو اوپر سے تنگ ہو اور اندر سے کشادہ۔ ج۔ دِحَالٌ وَادَّخَالٌ وَ أَدْخَلٌ وَدُخُولٌ وَدُخْلَانٌ - الدَّخْلَةُ - کنواں۔ الدَّحِلُ - دھوکا باز۔ فریبی۔ موٹا پست قد۔ ڈھیلے پیٹ والا۔ الدِّحَالُ - اتناغ۔ الْبَيْتُ الدَّخُولُ وَالدَّخْلَاءُ، اطراف سے پھسلا ہوا، اوپر سے تنگ کنواں۔ الدَّاحُولُ - ہرنوں کے شکار کے لیے نصب کی ہوئی لکڑی۔ ج۔ دَوَّاحِيْلٌ - اور اس طرح شکار کرنے والا شکاری۔ (الدَّحَالُ) دَحْنَهُ دَف، دَحْنًا - زور سے بٹانا۔ دھکیلنا۔ دَحْمَسٌ - اللَّيْلُ - رات کا تاریک ہونا۔ الدَّحْمَسُ مَا لِدَحْمَسٍ - ہر سیاہ شے۔ سخت سیاہ۔ کہتے ہیں۔</p>
--	--	--

— الشئ - ایک دوسرے میں داخل ہونا۔
 تَدَاخَلَتِ الْأُمُورُ - امور کا مشتبہ اور ملتبس ہونا۔
 ادَّخَلَ وَاِنْدَخَلَ - داخل ہونا۔
 الدَّخْلُ - معص. آمدنی. بیماری عیب. تمہت — دَخَلَ الرَّجُلُ - نیت. راز۔
 الدَّخْلُ - عقل یا جسم میں فساد و خرابی دھوکا. حسب نسب کا عیب۔ وہ لوگ جو اپنی غلط نسبت کسی قوم کی طرف کرتے ہوں۔
 دَخَلَتْهُ الرَّجُلُ وِدَخَلَتْهُ وِدَخَلَتْهُ - نیت. مذہب۔ راز کتے ہیں: هُوَ عَفِيفٌ الدَّخْلَةُ: وہ نیت کا پاک ہے۔
 الدِّخْلَةُ - راز۔ اسی سے ہے۔ فَرَشَتْهُ دِخْلَةٌ اَمْرِي: میں نے اپنے کام کا راز اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا — الدِّخْلَةُ مختلف رنگوں کی ترکیب سے ایک رنگ تیار کرنا۔
 المدَّخَلُ - لمبے چمٹے جسم اور گٹے بدن والا۔ درخت کی جڑ میں لگنے والی گھاس۔ ایک چھوٹا پرندہ۔
 ج۔ دَخَاخِيلُ دَخَلُ الرَّجُلِ وِدَخِيلًا وِدَخِيلًا - نیت. راز۔
 الدَّاخِلُ - فا۔ اندرانے والا۔
 الدَّاخِلَةُ - مؤنث۔ دَاخِلَةُ الارض - زمین کا پست حصہ۔ — الاثار - ازار کا بدن کو چھونے والا حصہ۔ اندونی حصہ اس کی ضد خَارِجَةٌ - یعنی بیرونی حصہ — الانسان

نیت و مذہب۔ راز۔ ج۔ دَخَاخِيلُ۔
 الدَّخَالُ - گھوٹے کی ایال۔ ہڈی کے جوڑوں کا آپس میں داخل ہونا۔
 الدَّخِيلُ - اپنے آپ کو غیر قوم کی طرف منسوب کرنے والا۔ ج۔ دَخَلَاءٌ - ہر بھی کلمہ جو عربی زبان میں داخل کر لیا گیا ہو۔ کتے ہیں۔ دَاخِلٌ دَخِيلٌ - بدن کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جانے والی بیماری — هُوَ دَخِيلٌ فَلَانٍ وہ شخص فلاں کے معاملات میں دخیل ہے — وِدَخِيلُ الرَّجُلِ نیت۔ راز۔ مذہب۔
 الدَّخِيلَةُ - من الشئ - چیز کا اندرونی حصہ — دَخِيلَةُ الْمَرْءِ انسان کی نیت۔ اندرونی خیال۔
 المدَّخَلُ - داخل ہونا۔ داخل ہونے کی جگہ۔ کتے ہیں۔ هُوَ حَسَنٌ المدَّخِلُ: وہ امور کو حسن انتظام سے چلاتا ہے۔
 المدَّخَلُ - مفعول۔ کینہ۔ رذیل۔ غیر قوم میں داخل ہونے والا۔
 المدَّخُولُ - وہ جس کی عقل میں فساد و خرابی ہو۔ دُخْلًا۔ عیب دار۔
 نَخْلَةٌ مَدَّخُولَةٌ - اندر سے کھولنا و رخت خرا — رَجُلٌ مَدَّخِلٌ مَرْتَابَتُهُ بَدَنُ كَأَدْمِي۔
 المدَّخَلُ وَاَلدِّخَالُ - بھیدی۔ رازدار۔ دَخَلُ الرَّجُلِ اس کی نیت۔ راز۔ امور میں دخیل۔
 الدِّخِيلُ - گوشت کے اندر کی جہلی۔ دَخَمَهُ يَدْخُمُهُ دَفًّ، دَخَمًا - کسی کو گھبرا کر بھٹانا۔
 دَخَسَهُ دَخْسَةً - دھوکا دینا۔

دَخِنَ (س) دَخْنًا - الطَّعَامُ و اللِّحْمُ و غَيْرَهُمَا۔ کھانے وغیرہ میں دھواں لگ کر اس کا دھوئیں کی بو دینے لگنا۔ صفت (دَخِنَ) — النَّارُ - آگ کا دھواں اٹھانا — خَلْفَهُ - بد عادت ہونا۔ بد خلق ہونا — وِدَخِنَ (ك) دَخْنَةً - دھوئیں کے رنگ کا ہونا صفت (ادَّخِنَ) مؤنث۔ دَخْنَاءُ دَخْنَتْ دِنًا (ص) دَخْنًا وِدَخْنًا وِدَخْنَتْ وَاَدَّخْنَتْ وَاَدَّخْنَتْ النَّارُ - آگ سے دھواں اٹھنا۔
 ادَّخِنَ الرَّذْعُ - کھیتی کے دالوں کا سخت ہونا۔
 دَخِنَ - الشئ - دھوئی دینا۔
 تَدَّخِنَ - دھوئیں کی بو دینا۔
 الدَّخْنُ - باجرا۔ کھٹی۔ واحد (دَخْنَةٌ) الدَّخْنُ - معص. دھواں۔ کینہ۔ فساد عقل، دین اور حسب میں گھوٹ۔ اور خرابی۔ کتے ہیں: لَسْتُ اَصَالُكَ عَلَى دَخْنٍ - میں اس کے مکر و فساد کی حالت میں اس سے معاملت نہیں کروں گا۔
 الدُّخْنَةُ - دھندلا مکانوں میں دھوئی دینے کی خوشبو۔
 اَبُو دُخْنِيَّةٍ - ایک قسم کا پرندہ۔
 الدُّخَانُ وَاَلدُّخَانُ - دھواں ج۔ اَدَّخِنَةٌ وِدَّخِنٌ وِدَّخِنٌ دَوَّاخِينٌ — مولدین کی اصطلاح میں تباکو اور سگریٹ کو کہتے ہیں۔
 الدَّاخِنَةُ - دھواں نکلنے کا روشندان۔
 ج۔ دَوَّاخِنٌ -
 الدُّخْتَانُ - دھوئیں سے ڈھانکی ہوئی چیز۔ مؤنث۔ دَخْنَانَةٌ۔

<p>نہیں پھیر سکتی۔ دَرَسٌ - الطریق۔ راستہ کا بیج۔ دَرْدُ البریج۔ ہوا کی سمت۔ کہتے ہیں۔ ہما علی دَرْدِ وَا حید یعنی وہ دونوں ایک ہی راہ پر گامزن ہیں۔ ان دونوں کی ایک ہی تجویز اور ایک ہی قصد ہے۔ الدَّرَارَةُ - تکلہ۔ التَّوَكُّبُ الدَّرِيّ بتثلیث الدال۔ چمکتا ہوا روشن ستارہ۔ فوس دَرْدِيّ۔ بہت تیز رفتار گھوڑا۔ دَرْدِيّ السَّيْفُ تلوار کی چمک دمک۔ آب و تاب الدَّرُوسُ۔ بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ حَوْبُ دَرُوسٍ۔ خوزیر جنگ۔ الدَّرِيْدُ۔ مص۔ روشن چراغ۔ تیز رفتار جانور۔ السَّنْدَةُ۔ دودھ کی فراوانی۔ الدَّرَامُ۔ بہت بننے والا۔ کہتے ہیں "تَمَاءٌ مِدْرَامٌ" بہت برسنے والا بادل۔ عین مِدْرَامُ بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔ دَرَأَةٌ رَفٌ، دَرْمَاءٌ دَرَأَةٌ۔ زور سے دھکیلا۔ ہٹانا۔ الشَّيْءُ پھیلانا۔ پھیلانا۔ السَّيْلُ علیہ۔ سیلاب کا کسی پر اُمنڈ پڑنا کہتے ہیں "دَرَأَ التَّوَجُّلُ" علینا۔ وہ شخص ہم پر اچانک ٹوٹ پڑا۔ دَرُوعًا، البَدْرُ چمکتا۔ النار۔ روشن ہونا۔ دَرَأَةٌ مِدْرَأَةٌ۔ ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ نرمی برتنا۔ نرمی کا سلوک کرنا۔ دھوکا کرنا۔ تَدْرَأُ تَدْرَاءُ۔ الصَّائِدُ فَخَارِي کاشکار سے چھپ کر اس کو دھکا دینا</p>	<p>ہونا۔ العُرُوْقُ۔ رگوں کا خون سے بھر جانا۔ دَسْرٌ (دس من)، دَسْرًا۔ وجہہ۔ بیماری کے بعد چہرہ پر رونق آجانا رنگ کا بحال ہونا۔ دَسْرٌ (دس من)، دَسْرِيْرًا۔ الفَمَّاسُ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ أَدَسٌ۔ اِمْلَخَزَلٌ۔ تکلہ کو زور سے گھمانا۔ الشَّيْءُ۔ حرکت دینا۔ علیہ الضَّرْبُ۔ پے در پے مارنا۔ الرِّيمُ السَّحَابُ ہوا کا بادل کو برسنے کے قابل بنادینا۔ کہتے ہیں: "أَدَّتْ لَكَ أَخْلَافَ الرِّزْقِ" یعنی اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی فراوانی سے نوازے ۔ النَّاَقَةُ۔ اونٹنی کا دودھ زیادہ ہو کر بہ پڑنا۔ السَّنْدَةُ۔ اللبنُ۔ دودھ زیادہ ہونا۔ ۵۔ بنے دینا۔ الرِّيمُ السَّحَابُ۔ ہوا کا بادل سے بارش برسانا۔ الدَّرُ۔ دودھ۔ دودھ کی زیادتی۔ روح اور کہتے ہیں: "يَلْبُو دَرْمَاءُ" اس کی خوبی اللہ ہی کے لیے ہے ولا دَسْرٌ دَسْرًا۔ خدا کرے اس کی بھلائی زیادہ نہ ہو۔ الدَّرُ۔ بڑے موتی۔ واحد (دَرْدِيّ) ج۔ دَرْدُ وِدْدَاتٌ۔ الدَّرُ۔ فا۔ بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ ج۔ دَرْدُ وِدْدُ وِدْدَامٌ۔ الدَّرُ۔ دودھ۔ دودھ کی زیادتی۔ دودھ کا بھاؤ۔ خون۔ کوڑا۔ ج دَسْرٌ۔ کہتے ہیں: "مَوَّعِي وَدَدِي" اس کو کوئی چیز اپنے ارادے سے</p>	<p>الدَّرْحُ۔ دھوئیں کی جگہ۔ الدَّرْحَةُ۔ انگلیشی۔ ج مَدَا اِيْلُجُ۔ الدَّرْحَةُ۔ دھواں نکلنے کی جگہ۔ الدَّرْحِيّ۔ تاریکی۔ لَيْلَةٌ دَرْحِيَاءُ، اندھیری رات۔ الدَّرُ۔ کھیل کود۔ اس کا لام کلمہ مانند غد کے واو کے محذوف ہے کبھی اس واو کو الف سے بدل کر ر الدَّرَا، کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ مَا أَنَا فِي دَرٍ وَلَا الدَّرُ مِيّ" میرا کھیل اور کود سے کوئی سروکار نہیں اور نہ میرے لیے یہ نمایاں شان ہے۔ الدَّرُ۔ وقت کہتے ہیں: "مَضَى دَرٌ مِّنَ الدَّهْرِ" زمانہ کا کچھ وقت گذر گیا۔ الدَّرَنُ۔ لہو و لعب۔ الدَّرَانُ۔ بے خیر آدمی۔ کند تلوار۔ شمشیر بَرَاں (صند) الدَّرِيْدُنُ و الدَّرِيْدَانُ۔ عادت الدَّرِيْبُ و الدَّرِيْبَانُ۔ چوکیدار نگہبان۔ سراول۔ راہبر۔ الدَّرِيْدَانُ۔ کھیل کود۔ دَسْرٌ (دس من) دَسْرًا۔ الدَّرِيْبُ دودھ زیادہ ہونا۔ الدَّرِيْبَانُ علیٰ اهلہا۔ اہل دنیا پر دنیا کی فراوانی ہونا۔ النَّاَقَةُ بَلْبِيْنَهَا۔ اونٹنی کا بہت دودھ دینا۔ دَرَّتْ حُلُوْبَتُهُ۔ اس کی آسودگیاں بڑھ گئیں۔ النَّبَاتُ۔ سبزہ کا پھولنا۔ اور گنجان ہونا۔ دَرَا و دَرْدَا، العَرَقُ لیسینہ بنا۔ السماء بالمَطَرِ۔ بارش کا برس پڑنا۔ السَّوَابِجُ۔ چراغ کا روشن ہونا۔ السُّوقُ۔ گرم بازاری</p>
---	---	--

— وَقَدَّرَ عَلَيْهِ. کسی کی طرف
 جبر و تشدد کا ہاتھ دراز کرنا۔
 اَدَّرَأُ — الصَّيْدَ وَ لِلصَّيْدِ
 نلکار کے لیے گھات میں بیٹھنے کی
 جگہ تیار کرنا۔
 تَدَارَأُ تَدَارَعًا — القَوْمَ — جھگڑے
 میں بات کو ایک دوسرے پر ڈالنا۔
 اِنْدَرَأُ — السَّيْلُ — سِيبَابِ كَا
 بیک بیک امنڈ پڑنا — الحَوِيْقُ
 آگ کا پھیل جانا — فَلَانٌ
 عَلَيْنَا. وہ ہم پر چانک نمودار ہو گیا۔
 اَلدَّرْعُ — نِيزَهٌ وَ غَيْرُهُ كِي جَهْرِي كِي كَبِي.
 مخالفت۔ کما جاتا ہے۔ "قَوْمَتُ
 دَرَعًا" میں نے اس کی کچی کو ٹھیک
 کر دیا — وَجَاءَ السَّيْلُ
 دَرَعًا. یعنی سیلاب آسمان جگہ
 سے اچانک بہ آیا۔
 اَلدَّرِيءُ وَ اَلدَّرِيءُ. روشن ستارہ۔
 اَلدَّرِيءُ. نامعلوم الاسم بڑے
 بڑے ستارے۔
 اَلدَّرِيءُ. نشانہ بازی کے لیے
 گول حلقہ شکار کو دھوکہ دینے کے
 لیے گھات کی جگہ۔
 اَلتَّدَارُءُ وَ اَلتَّدَارُءُ. وہ شخص جو
 عزت و شوکت کا مالک ہو۔ اور
 دشمن کو دفع کرنے والا ہو۔
 اَلْمَدَّرُءُ. بٹانے کا ذریعہ۔
 دَرِبٌ (دس) دَسًا وَ دَرِبَةٌ.
 ہوشیار اور ماہر کاری گر ہونا۔
 — بِالضَّمِّ. کسی چیز کا عادی اور
 ولداوہ ہونا۔ صفت (دَرِبٌ
 وَ دَرِبٌ) مُؤَنَّثٌ — دَرِبَةٌ
 وَ دَرِبَةٌ.
 دَرِبَةٌ. بِالضَّمِّ وَ فِيهِ وَ عَلَيْهِ
 کسی کو کسی چیز کا عادی بنانا —

تَدَرَّبَ. عادی ہونا — دَرَّبَ
 اَلجُنْدِيَّ. فوجی کا ہمکڑ چھنے کے
 بعد بھی اپنی جگہ ڈٹا رہنا۔
 اَدَّرَبَ. بجل بجانا — القَوْمَ
 دشمن کی سر زمین میں داخل ہونا۔
 اَلدَّرِبُ. گل کا کشادہ دروازہ۔
 بڑا دروازہ۔ راستہ۔ دَرْدِبٌ
 وَ دَرَابٌ.
 اَلدَّرِبَةُ. نصی۔ لڑائی اور ہر کام میں
 جرات و دلیری۔ کہتے ہیں "فِي
 اَلْعَفْوِ دَرِبَةٌ" عفو و درگزر
 بڑی دلیری کا کام ہے۔
 اَلدَّرُوبُ وَ اَلدَّرُوبُ. مِنْ
 اَلجَمَالِ وَ اَلشَّوْقِ. سدھایا ہوا
 اونٹ یا اونٹنی۔
 اَلدَّرُوبَةُ. لڑائی وغیرہ میں جرات
 و دلیری۔
 اَلْمَدَّرِبُ. قطع۔ تجربہ کار مصائب
 زمانہ چھیلے ہوئے — مِنْ اَلْاِبِلِ
 سدھایا ہوا اور گلیوں میں چلنے کا
 عادی اونٹ۔
 اَلدَّرِبَانُ وَ اَلدَّرِبَانُ. دربان
 جو۔ دَرِبَانَةٌ. (فارسی کلمہ)
 اَلدَّرِبَانِيْنُ وَ اَلدَّرِبَانِيْنُ
 وَ اَلدَّرِبَانِيْنُ. لکڑی یا لہجے
 کے ستون جو ایک نظام میں بنائے
 جاتے ہیں۔ اور ان پر چھت کا
 سہارا ہوتا ہے۔ جو۔ دَرِبَانِيْنَاتُ
 کھڑا۔
 اَلدَّرِبَانِيْنُ. سفیر۔ کاٹنے والا کتا۔
 دَرِبِيْنٌ دَرِبِيْنَةٌ. خوف سے
 خاموش ہو جانا۔
 دَسًا بَرْدًا (ض) دَسًا وَجًا وَ
 دَسًا جَانًا. اَلشَّيْءُ اَوِ اَلصَّبِي
 بڑے یا بچہ کا چلنا — اَلرَّجُلُ

سیر میں پرچڑھنا — القَوْمَ
 ختم ہو جانا۔ مرجانا۔ کہتے ہیں "هُوَ
 اَكْذَبُ مِنْ دَرِبٍ وَ دَرِبَةٌ" وہ
 زندوں اور مردوں میں سب سے
 زیادہ بھوٹا ہے — اَلرَّجُلُ
 لا ولد فوت ہو جانا — اَلْبِنَاءُ.
 منزلوں والا مکان بنانا — دَرَجًا
 وَ دَرَجًا وَ اَدْمًا بَرَّجًا، اَلثَّوْبُ اَوْ
 اَلكِتَابُ. کپڑے یا کتاب کو
 لپیٹنا۔ تہ کرنا — وَ دَسًا بَرَّجًا
 اَلْبِنَاءُ. عمارت کا زینہ بنانا۔
 سیر میں تیار کرنا — دَرَجَهُ
 اِلَى كَذَا. دھیرے دھیرے
 قریب ہونا — دَرَجَهُ اَلْاَمْرَ.
 تنگ دل کرنا۔
 اَدَّرَجَ الضَّمِّ فِي الضَّمِّ. ایک چیز
 کو دوسری میں داخل کرنا۔ کسی چیز میں
 لپیٹنا۔
 دَرِسٌ (دس) دَسًا جَا. اپنے راستے
 پر چلنا۔ ترقی کے مدارج طے کرنا۔
 کلام یا دین میں سچائی کے راستے
 پر چلے رہنا۔
 تَدَرَّجَ. اِلَى كَذَا. رفتہ رفتہ کسی
 چیز کی طرف بڑھنا۔
 اِنْدَرَجَ. القَوْمَ. قوم کا ختم ہو جانا۔
 — فِي كَذَا. داخل ہونا۔
 اِسْتَدْرَجَهُ. اِلَى كَذَا. قریب کرنا۔
 ایک دھیرے دوسرے دھیرے میں ترقی
 دینا۔ زمین پر چلنا۔ دھوکا دینا۔
 اَلدَّرَجُ. کھائی کا کاغذ۔ کہا جاتا ہے۔
 اَلدَّرَجَةُ فِي دَسًا بَرَّجًا اَلكِتَابِ.
 میں نے اس کو لپٹنے کے ساتھ
 بھیج دیا — فِي الضَّمِّ. روانی
 کے ساتھ بڑھتے کہتے ہیں "هُوَ وَ
 هُوَ دَرَجٌ بِدَوَكٍ" وہ تھارے

ہاتھ میں ہے۔ مفرد و جمع یکساں ہیں۔
 الدَّرَجُ - عورتوں کی خوشبو یا اور چیزیں رکھنے کی صندوقچی۔ جہ
 اَدْرَجُ وِدْرَجَةٌ۔
 الدَّرَجُ - لکھنے کے کام میں آنے والا کاغذ۔ راستہ۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کے لیے سفیر۔ جہ
 اَدْرَجُ وِدْرَجُ - کتے ہیں رَجَعْتُ اَدْرَجِي - میں جس راستہ سے آیا تھا اسی راستہ لوٹا۔ " و
 ذَهَبَ دَمَةٌ دَرَجًا وَاَدْرَجًا
 البیاض - اس کا خون راہگاہ گیا۔ یعنی قصاص نہ لیا گیا۔ " و خَلَبَهُ دَرَجًا الضَّبُّ - جس طرح وہ جاتا ہے جانے دو اسے اپنے حال پر چھوڑو۔
 الدَّرَجَةُ - جہ۔ دَرَجٌ۔ سیرھی۔
 دَرَجٌ السَّلْبِ سیرھی کا پایہ۔
 جہ۔ دَرَجَاتٌ - مرتبہ۔ درجہ رتبہ۔ دائرہ خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا۔ اس کے ۳۶۰ اجزاء میں سے ایک جُز۔
 الدَّرَجُ - فَا تَرَابٌ دَرَجٌ۔ ہر جگہ پھینے والا غبار۔ کتے ہیں۔ صَبِيءٌ اَرَجٌ: پاؤں پاؤں چلنے والا بچہ۔ " و قَبِيلٌ دَرَجَةٌ" بالکل تباہ ہو کر ختم ہو جانے والا قبیلہ۔
 الدَّرَجَةُ - جانور کی ٹانگ۔ جہ۔ دَرَجٌ۔
 الدَّرُوجُ - تیز چلنے والی ہوا۔
 الدَّرَجُ - بڑی مشقت کے کام جو انسان کو عاجز کر دیں۔ کتے ہیں۔ " دَقَعَ فِي الدَّرَجِ: وہ بڑی دشواری

کے کام میں الجھ گیا۔
 الدَّرَجُ - بہت پھرنے والا چغندر سیبی۔
 الدَّرَجَةُ - سائیکل عام لوگ اسے کتہا جتے کتے ہیں۔ اور اسے بَسْكَلَتٌ بھی کہا جاتا تھا۔
 الدَّرَجَةُ - محاصرہ کی مشین بمعنی۔ دَبَابَةٌ الدَّرَجُ - تیز زور وادہ ہر دو کے لیے یکساں لفظ آتا ہے۔ جہ۔ دَرَجٌ۔ واحد (دَرَجَةٌ) اس میں تار وحدت کی ہے نہ تانیف کی۔
 المَدْرَجُ - راستہ۔ مسلک۔ اسی سے ہے۔ " اَمْشِي فِي مَدَارِجِ الْحَقِّ" - حق کے راستہ چلو۔
 مَدْرَجُ الْقَمَلِ - چوٹیوں کے چلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ " هُوَ اَخْفَى مِنْ مَدْرَجِ الْقَمَلِ"۔ وہ چوٹیوں کے راستہ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔
 المَدْرَجُ - لپیٹی ہوئی کتاب یا خط جہ۔ مَدَارِجٌ۔
 المَدْرَجُ وَاَلْمَدْرَجَةُ - لپیٹی ہوئی کتاب یا خط جہ۔ مَدَارِجٌ۔
 المَدْرَجَةُ - جہ۔ مَدَارِجٌ۔ اَفْعَلٌ یا اَعْلَى تَحْرِيْرًا وَاَسْطَرًا اور زُرِيْعًا۔ کتے ہیں۔ " هَذَا اَلْاَمْرُ مَدْرَجَةٌ لِهَذَا" یہ اس امر کے لیے واسطہ ہے۔ راستہ۔ راستہ کا بڑا حصہ۔ وہ کاغذ یا کپڑا جس میں کوئی تحریر لکھی جائے۔ یا لپیٹی جائے مَدَارِجُ الْاَلْفَاظِ۔ ٹیلہ کے درمیان کے راستے۔ اَرْضٌ مَدْرَجَةٌ۔ وہ زمین جس میں بہت بکثرت طبعی

دَرَجَةٌ (ف) دَرَجًا۔ ہٹانا۔ دفع کرنا۔
 دَرَجٌ (س) دَرَجًا۔ بوڑھا ہونا۔ صفت مذکر و مؤنث ہر دو کے لیے (دَرَجٌ)۔
 دَرَجٌ (س) دَرَجًا۔ غضب ناک ہونا۔ صفت (دَرَجٌ) ہے وائتوں کا ہونا۔ پھپھلا ہونا۔ صفت۔ رَاَدْرٌ۔ مؤنث۔ دَرَجًا۔ جہ۔ دَرَجٌ۔
 اَدْرَجَةٌ۔ وائتوں کا گرانا۔ اسنانہ پھپھلا کر دینا۔
 الدَّرَجِيُّ - تلچھٹ۔
 دَرَجٌ - الرجل - طرف زورہ کی طرح بھاگنا اور پیچھے مڑ کر دیکھتے جانا۔ اِمْوَأَجٌ (دَرَجٌ) رات میں آنے جانے والی عورت۔
 الدَّرَجِيُّ - مصیبت۔ بہت بوڑھا۔ مرد یا بوڑھی عورت۔
 دَرَجٌ - الشَّبِيْرُ وَاَلْعَبِيْرُ البُسْرَقُ - آہستہ آہستہ منہ میں گھور جھاننا۔
 الدَّرَجَا - ڈھول کی آواز۔ ایک زور پھولوں اور خار دار پتوں والا بڑا درخت۔
 الدَّرَجُ - پھر کے وائت نکلنے کی جگہیں جہ۔ دَرَجٌ۔
 الدَّرَجُ - بھنور۔
 دَرَجٌ (س) دَرَجًا۔ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں پر قادر ہونا۔
 دَرَجٌ دَرَجًا - الغوب۔ کپڑا ہاریک سینا۔ الخِيَاطُ الدَّرَجِيُّ - درزی کا سینوں کو ہاریک سینا۔
 الدَّرَجِيُّ - نیوی نعمتیں اور لذتیں۔ دو کپڑوں کے درمیان کا سینوں۔ جہ۔ دَرَجٌ۔ بَنَاتُ الدَّرَجِيِّ - جوئیں اور ان کے انڈے۔

أَوْلَادُ دَرَزِيَّةٍ. جولاءے۔ درزی۔ کہنے
لوگ — أَدْرَزِيَّةٌ. دنیا
کی کنیت۔

الدَّرَزِيُّ. درزی۔ ابو محمد عبداللہ درزی
جس کی طرف طائفہ درزیہ منسوب
ہے اور اس کے افراد لبنان اور
حوران میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ج
دَرَزِيَّةٌ اور دَرُوزِيَّةٌ بھی کہتے ہیں۔
واحد دَرَزِيٌّ۔ عوام وال پر صنتہ
لگا کر دَرَزِيٌّ بولتے ہیں۔

دَرَسٌ رن، دَرُوسًا — الرس —
نشان مٹنا۔ صفت (دارس)
ج۔ دَوَّارِسٌ — الشئ —
کسی شے کا اثر ہاتار ہونا۔ د
دَرَسًا، الرس — نشان مٹنا۔
— الثوب، کپڑے کو بوسیدہ
کرنا — دَرَسٌ. بوسیدہ ہونا
— الناقۃ، اونٹنی کو سدھانا
د — دَرَسًا وِدْرَسَةً، —
الکتاب او العظۃ، کتاب یا علم
کو یاد کرنے کے لیے متوجہ ہونا۔
د — دَرَسًا وِدْرَسًا، المخطۃ
گیہوں کو گاہنا۔

دَرَسَهُ وَاَدْرَسَهُ — الکتاب
کتاب پڑھانا۔

دَرَسٌ. البعیر، اونٹ کو سدھانا۔
دَارَسَهُ مَدَارَسَةً وِدْرَسًا۔
ایک دوسرے کو پڑھ کر سنانا۔ باہم
پڑھنا — دَارَسَ الْبُكْتَبَ۔
پڑھنا۔ الذُّنُوبُ، گناہوں کا ارتکاب
کرنا۔

تَدَارَسَ — الطلبة الکتاب، مل کر
پڑھنا کہتے ہیں۔ تَدَارَسَ
الکتاب وَاَدْرَسَهُ، اس نے
کتاب پڑھی۔

الدَّرَسُ س — الرس — مٹنا۔
— الخبیر، خیر ناپید ہونا۔

الدَّرَسُ. مص. سبق۔ پوشیدہ
راستہ۔ ج۔ دَرُوسٌ۔

الدَّرَسُ والدَّرَسُ والدَّرِيسُ۔
بوسیدہ کپڑا۔ اونٹ کی دم۔ ج
أَدْرَسٌ وِدْرَسًا۔

الدَّرَسَةُ. ریاضت۔ ورزش۔
الدَّرَسُ. بست پڑھنے والا۔

المَدْرَسَةُ. طلبہ کے تعلیم پانے کی جگہ
کہتے ہیں! هذه مدرسة النعم
یہ جگہ پانے کا راستہ ہے۔

المَدْرَسُ. پڑھنے کی کتاب پڑھنے
کی جگہ۔

المَدْرَسُ. توراہ پڑھنے کی جگہ۔
المَدْرُوسُ. مفعول۔ پانا کپڑا۔

طریق مَدْرُوسٌ. چلتا ہوا
راستہ۔ فِرَاشٌ مَدْرُوسٌ۔
بچھا ہوا فرش۔ مجنون۔

دَرِصَتْ دَس، دَرَصًا، الناقۃ،
بڑھاپے کے سبب دانت ٹوٹی
اونٹنی، مؤنث، دَرِصَاءُ۔

الدَّرِصُ والدَّرِصُ. چمٹا۔ بی۔
خزگوش وغیرہ کا بچہ۔ ج۔ آدْرَاصٌ
وَدَرِصَةٌ وِدْرِصَانٌ۔ و
دُرُوسٌ وَاَدْرَوسٌ۔

الدَّرِصُ والدَّرِصُ۔ تیز رفتار اونٹنی۔
أَدْرَاصٌ جھنگلی چمٹا۔ بلا مصیبت
کہتے ہیں۔ وَقَعُوا فِي أُمِّ آدْرَاصٍ،
یعنی وہ ہلاکی میں پڑے۔

دَرِجٌ دَس، دَرَجًا۔ انقوس وغیرہ۔
گھوڑے کا سیاہ بدن اور سفید
سرو والا ہونا۔ صفت (أَدْرَجٌ)
مؤنث۔ دَرَجَاءُ۔ ج۔ دَرَجٌ۔

دَرَجٌ (ف) دَرَجًا۔ الشاة، بکری کی

کھال اس کی گردن کی طرف سے
اتارنا — الرَّقَبَةُ أَوِ الْيَدُ
گردن یا ہاتھ کا جوڑا اکھاڑنا۔

دَرِجٌ۔ الذرَجُ۔ کھیتی کا کچھ حصہ
کھا لیا جانا — المَاءُ۔ پانی کے
قریب کی ہر شے کو کھا لیا جانا۔

دَرَّعَهُ۔ زرہ پہننا — المِرْآةُ
عورت کو قمیص پہنانا — ۵۔

کسی کا گلا گھونٹنا — الشئ۔
ظاہر کرنا — الوجُلُ۔ چلنے
میں آگے بڑھنا۔

أَدْرَجٌ۔ الشهر۔ مہینہ کا آدھے سے
زیادہ حصہ گذر جانا۔ د — و

تَدْرَجٌ وَاَدْرَجٌ، زرہ پہننا۔
أَدْرَجٌ وَاَدْرَجٌ۔ اللیل۔ رات

کی تاریکی میں داخل ہونا۔ کسی چیز
کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا —
أَدْرَجَ المَاءُ۔ پانی کے قریب
سب چیز کھائی جانا۔

إِنْدَرَجٌ۔ فی السیر۔ چلنے میں آگے
بڑھنا۔ "إِنْدَرَجَ يَفْعَلُ كَذَا"
وہ ایسا کرنے لگا۔ العظْمُ
بڑی کا گوشت سے جدا ہونا —
البطن۔ پیٹ کا بھر جانا —
القَبْرُ مِنَ السَّحَابِ۔ چاند
کا بادل سے نکلنا۔

الدِرْجُ۔ زرہ۔ مؤنث ہے۔ کبھی مذکر
بھی مستعمل ہوتا ہے۔ ج۔ دُرُوجٌ۔

وَأَدْرَجٌ وِدْرَاجٌ۔ تصغیر۔ دَرِيجٌ
دِرْجٌ المِرْآةُ۔ عورت کا قمیص، کرتا یا

وہ کپڑا جو گھر میں پہنتی ہے۔ مذکر
ہے۔ ج۔ آدْرَاجٌ۔ اور دِرَاجٌ

اس چھوٹے کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس
کو کسٹن لڑکی گھر میں پہنتی ہے۔
الدِرْجُ۔ مِنَ العَشْبِ۔ تازہ گھاس۔

الدَّرْعُ وَالدَّرْعُ - قمری مہینہ کی
سولہویں سترہویں اور اٹھارویں
ماتیں۔

الدَّرْعُ - فا۔ زرہ پوش۔
الدَّرْعَةُ - چھلکے کی طرح کی ایک چیز
جس کو درخت خرما کے ارد گرد لگا
دیا جاتا ہے۔ ج۔ دَرَعٌ۔

الدَّرْعَاءُ - آدَرَعٌ کا مؤنث۔ مین
اللیالی۔ وہ راتیں جن میں چاند صبح
کے وقت نکلتا ہے۔ ج۔ دَرَعٌ۔
الدَّرْعِيَّةُ - زرہ کو چھیدنے والا نیزہ۔
ج۔ دَرَاعِيٌّ۔

الدَّرَاعَةُ - ج۔ دَرَارِيْعٌ و
الدَّرَاعَةُ، ج۔ مَدَارِعٌ۔
آگے سے کھلنے والا جُہبہ۔ یا کوٹ۔
علمائے یہود کے پسنے کا ایک کتافی
کپڑا۔ ماءٌ مُدْرِيْعٌ و مَدْرَعٌ،
پلنی کے آس پاس کی چراگاہ کو چر
لیا جانا۔ رَوْضَةٌ مُدْرَعَةٌ۔
وہ باغ جس کے ارد گرد کوکھا لیا
گیا ہو۔

المُدْرَعُ - مفع۔ ایک قسم کا جانور۔

المُدْرَعَةُ - فولادی جنگی جہاز۔

الدَّرْفُ - سیاہ۔ پناہ۔ جانب۔

الدَّرْفَةُ - عوام کی اصطلاح

میں دروازہ کا پٹ۔ اس کے لیے
فصح عربی "الغبنق" ہے۔

دَرَقِيٌّ وَاذْرَنْقِيٌّ - فی سببہ۔
تیز چلنا۔

دَرَقِيٌّ وَاذْرَنْقِيٌّ - فی المشی۔ تیز چلنا۔

دَرَقَةٌ - نرم کرنا۔

الدَّرَقِيُّ - مع۔ سخت چیز۔

الدَّرَقَاءُ - بادل۔

الدَّرَقَةُ - چڑھ کی ٹھال۔ ج۔ دَرَقٌ۔

الدَّرَقِيُّ - ایک میوہ کا درخت۔

ایک قسم کا میوہ (آرٹو) واحد
دَرَقَةٌ، شراب۔ الدَّرَقِيُّ
والدَّرَقِيُّ، تریاق۔

الدَّرَقِيْنَ - زرد آلو۔ شفتالو۔

الدَّرَقِيُّ - دودستے والا بڑا لوٹا۔
ج۔ دَرَقِيُّ (معتاب) عابدوں
اور زاہدوں کے پسنے کا ٹوپی اور جو
ان کو پہنتے ہیں، ان کو دَرَقِيُّوْنَ
کہتے ہیں۔

دَرَقَلٌ - الرجل - تیز گزر جانا۔

ناچنا۔ نانہ سے چلنا۔

الدَّرَقَلُ - ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

دَرَكٌ - المطر - بارش کا پے

درپے برسنا۔

أَدْرَكَ - الشيء - چیز کا اپنے وقت

پر پہنچنا۔ الثمر - پھل پکنا۔

الولد - بچے کا بالغ

ہونا۔ الشيء - لاحق ہونا۔

المسئلة - جان لینا۔ بشاریہ۔

خون کا بیلے لینا۔ الشيء

ببصرہ۔ دیکھنا۔

دَارَكَهُ مَدَارَكَهُ وَاذْرَكَهُ - لاحق

ہونا۔ الشيء - ایک کو دوسرے

کے پیچھے کرنا۔ الطعن - پے

درپے نیزہ مارنا۔

تَدَارَكَ - القوم - ایک کا دوسرے

سے آگے۔ اور اس میں إِذَا دَرَكَ

بولا جاتا ہے۔ الخطأ

بالصواب۔ غلطی کی درستی کرنا۔

خطا کی اصلاح کرنا۔ مَا قَاتَ

بِأَمْرٍ سَلَّ بِنْتِ بَاتِ كِ تَلَا فِي كِنَا

کہتے ہیں۔ تَدَارَكَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ

اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے

لے۔ "وَتَدَارَكَ الْقَوْمُ" اس

نے قوم کی تلافی کی۔

إِذَا دَرَكَهُ - مل جانا۔ لاحق ہونا۔

إِسْتَدْرَكَ - الشيء بالشيء - ایک

چیز کو دوسری چیز کے ذریعہ حاصل

کرنے کا ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

إِسْتَدْرَكَ النجاة بالفوار - اس

نے بھاگ کر نجات حاصل کرنے کا

ارادہ کیا۔ مَا قَاتَ - مافات کی

تلافی کرنا۔ الخطأ بالصواب

غلطی کی درستی اور اصلاح کرنا۔

عليه القول - کسی کی بات میں

غلطی نکالنا۔

الدَّرَكُ وَالدَّرَكُ - لاحق ہونا۔ حاجت

پانا۔ چیز کی انتہائی گہرائی۔ کہتے ہیں۔

بَلَّغَ الْعَوَّانُ دَرَكَ الْبَحْرِ

عُرْطَه زَن سَمْدَرُ كِي اِنْتَهَى كِرَانِي

میں پہنچا۔ یا کہا جاتا ہے۔ فوسن

دَرَكِ الطَّوْبِيَّةِ - بھاگے ہوئے

جالور تک پہنچنے والا گھوڑا۔ تاوان۔

چنانچہ کہتے ہیں۔ مَا لِي بِكَ مِنْ دَرَكٍ

تَعَلَى خَلَا صَدُ جَو تَا وَا ن تَمِ پَر قَا مِ بَو

اس کی ادائگی کا ذمہ دار میں ہوں۔

الدَّرَكَةُ - درجہ۔ درکہ اور درجہ میں

یہ فرق ہے کہ تنزل کی صورت میں

درکہ بولتے ہیں اور ترقی کے موقعہ

پر درجہ کہتے ہیں۔ ج۔ دَرَكَاتٌ۔

کہتے ہیں۔ الْجَمْعُ دَرَكَاتٌ و

النَّاءُ دَرَكَاتٌ

الإِدْرَاكُ - مع۔ قوت مددک۔ ادراک

کی قوت۔

دَرَاكٌ - اسم فعل بمعنى أَدْرِكُ -

الدَّرَاكُ - متصل۔ سبب دَرَاكٌ

متصل سبب

الدَّرَاكُ - مرغوب چیز کو ہانپنے والا۔

الدَّرِيكَةُ - بھگائی ہوئی۔

الإِسْتِدْرَاكُ - مع۔ پچھلے کلام سے

پیدا شدہ وہم کو دگرنا۔ "رجیل"
 مُدْرِكَةٌ: تیز اور اک والا۔ تاد
 مبالغہ کی ہے نہ تائیت کی۔
 مَدَايِكُ الشَّرِيحِ۔ جہاں جہاں سے
 احکامات شرعیہ کا پتہ لگے۔ مثلاً
 قرآنیہ اور احادیث نبویہ
 الْمُدْرِكَاتُ وَالْمُدَايِكُ۔ حواس خمسہ۔
 الْمُدْرِكَةُ۔ بھیڑ۔ انہ۔
 الْمُدَايِكَةُ۔ ایک قسم کا باجہ (مولدہ)،
 دَرَمٌ (دس) دَرَمًا۔ العَضْوُ
 گوشت کا ہڈی کو چھپالینا۔ صفت۔
 دَرِيمٌ وَدَايِمٌ وَدَرِيْمٌ
 وَأَدْرَمٌ۔ السَّاقُ
 ہموار ہونا۔ الْأَسْنَانُ
 دانتوں کا گرنا۔ گرنے کے قریب
 ہونا۔ الْبَعِيْرُ۔ اونٹ کا
 دانت گرانا۔

دَرَمَرَضٌ، دَرَمًا وَدَرَمًا وَ
 دَرَمَانًا وَدَرَامَةً۔ الْقَتْلُو
 الْأَرَبُ وَنَحْوَهُمَا۔ چھوٹے
 چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔ اور
 دَرَمُ الشَّيْخِ وَالصَّبِيءِ بھی کہتے ہیں
 دَرَمٌ۔ اظفارہ۔ ناخن کاٹنے کے
 بعد ان کو ہموار کرنا۔
 أَدْرَمٌ۔ الصَّبِيءُ نئے دانت نکلنے
 کے لیے بچکے دانتوں کا ہلنا۔
 صفت (ادرم) مؤنث۔ دَرَمَاءُ
 الدَّهْمَاءُ
 دَارَمٌ مُدَايِمَةٌ۔ بوجھل ہوتے
 ہوئے تیز چلنا۔
 الدَّرِيمَةُ۔ مؤنث۔ دَرِمٌ۔ خرگوش۔
 دَرَمٌ قَبِيْمَةٌ۔ چمکدار نرم زرہ۔
 الدَّارَمُ وَالِدَرَامَةُ۔ سیبی۔ خرگوش۔
 الدَّارَمُ۔ بد رفتار۔ پست قد۔
 مؤنث۔ دَرَامَةٌ۔ دَرَمٌ

مُدْرَمَةٌ۔ چمکدار نرم زرہ۔
 دَرَمٌ قَبِيْمٌ۔ خاموش رہنا۔ الشَّيْخُ
 چھپانا۔
 دَرَمٌ دَرَمَةٌ۔ خاکساری کرنا۔
 الدَّرَمِيُّ وَالِدَرَمِيُّ۔ سفید
 آٹا۔ میدہ۔
 دَرَمٌ وَدَرَمًا۔ الْبِنَاءُ۔ عمارت
 کو چمکدار کرنا۔
 الدَّرَمِيُّ۔ نرم و ملائم مٹی۔
 الْبَدْرَمِيُّ۔ غالیچہ۔
 دَرَمٌ (دس) دَرَمًا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے
 کا میلا ہونا۔ صفت (درن) و
 مَدْرَانٌ، مؤنث۔ دَرَمَةٌ وَ
 مَدْرَانٌ
 أَدْرَنٌ۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کو میلا کرنا۔
 الثَّوْبُ۔ کپڑے کا میلا
 ہونا۔ أَدْرَنْتِ الْمَائِيَّةُ
 مویشی کا پرانی گھاس چرنا۔
 الدَّرَنُ۔ میل کچیل۔ جِ أَدْرَانٌ۔
 وَأُمُّ دَرِنٍ۔ دنیا۔
 الدَّرَانُ۔ لومڑی۔
 الدَّرِينُ۔ پرانی خشک گھاس جس کو
 جانور نہ چریں۔ بوسیدہ کپڑا۔
 أُمُّ دَرِينٍ۔ قحط زدہ زمین۔
 الدَّرْنُوكُ وَالِدَرْنِيكُ۔ غالیچہ
 قالین۔ ج۔ دَرَانِيكُ۔
 دَرَّةٌ (د) دَرَاهِمٌ۔ اچانک
 آجانا۔ لَمْ يَدْرُوهُمْ
 مدافعت کرنا۔ حفاظت کرنا۔
 دَرَّةٌ عَلَي كَذَا۔ زیادہ کرنا۔
 دَارِهَاتُ الدَّهْرِ۔ مصائب زمانہ۔
 التَّدْرَةُ۔ دفع۔ مدافعت۔ کہتے
 ہیں "هُوَ ذُو تَدْرَةٍ" وہ اپنے
 دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑتا ہے
 الْمِدْرَةُ۔ سردار۔ قوم کا لیڈر۔ نمائندہ

ج۔ مَدَارِيَةٌ۔
 دَرَهْمَتِنِ۔ الْخَبَازِي۔ خبازی کا درہم
 کے مانند گول پتے نکالنا۔
 إِدْرَهْمٌ۔ عمر رسیدہ ہونا۔ بڑھاپے
 کے باعث دانتوں کا گرنا۔ صفت
 (مُدْرَهْمٌ)۔ الْبَصَرُ
 نظر کا کمزور ہونا۔
 الْبَدْرَهْمُ وَالْبَدْرَهْمُ وَالْبَدْرَهْمُ
 چاندی کا سکہ جس کا وزن ۱/۲ اونس
 ہوتا ہے (کلمہ یونانی ہے) ج۔
 دَرَاهِمٌ۔ مولدین کی اصطلاح
 میں دراہم کے معنی مطلقاً نقود
 کے ہیں۔
 الْمُدْرَهْمُ۔ مالدار۔ بہت درہموں والا۔
 الدَّرُوئِيَّةُ۔ زاہب۔ زاہد عابد۔ فارسی
 لفظ ہے جس کے معنی فقیر کے ہیں۔
 دَرِيٌّ (دس) دَرِيًّا وَدَرِيًّا وَدَرِيَّةً
 وَدَرِيَّةً وَدَرِيًّا نَا وَدَرِيًّا نَا۔
 وَدَرِيًّا وَدَرِيًّا۔ اور یہ آخری
 مصدر بکثرت استعمال ہوتا ہے۔
 الشَّيْخُ وَبِالشَّيْخِ۔ جیلہ سے
 جاننا۔ جاننا۔
 دَرِيٌّ (دس) دَرِيًّا وَتَدْرِيٌّ وَ
 إِدْرِيٌّ۔ الصَّيْدُ۔ شکار کو
 دھوکا دینا۔ دَرِيٌّ التَّاسُ
 سر میں کنگھی سے کھجانا۔
 دَرِيٌّ۔ مُدَارَاةٌ۔ ہ۔ باہم نرمی
 کرنا۔ دھوکا دینا۔
 أَدْرِيٌّ۔ الْوَجَلُ بَكْدًا۔ باخبر کرنا۔
 جتاناکتے ہیں۔ مَا أَدْرَاكَ وَهَذَا
 يُدْرِيكَ؟ یعنی تم نہیں سمجھتے۔
 الْمُدْرِيٌّ وَالْمُدْرَاةُ الْمُدْرِيَّةُ۔
 کنگھی۔ سینگ۔ ج۔ مَدَارُ
 وَمَدَارِيٌّ۔
 دَرَدَانٌ، دَرْدًا۔ دفع کرنا۔ ہٹانا۔

دَسَّ (ن) دَسًّا و دَسِيئِي -
 الشَّيْءُ تَحْتَ التُّرَابِ وَفِيهِ -
 کسی شے کو مٹی کے نیچے چھپانا -
 دَسَّ عَلَيْهِ - سازش کرنا -
 خفیہ جیلہ کرنا -
 دَسَسَ تَدَسِيئًا - بمعنی دَسَّ -
 چھپانا - دھنسانا - تشدید
 مبالغہ کے لیے ہے، کہا جاتا ہے -
 دَسِيئِي (الف سے آخری سین کو
 بدل کر) جیسے تَطَطَّى تَطَشَنَ
 سے -
 تَدَسَسَ - یہ اِلَى اَعْدَائِهِ -
 کسی کے دشمنوں کے ساتھ
 سازش کرنا -
 اِنْدَسَّ - دفن ہونا - دھنسانا -
 الدَّاسِيئَةُ - چھپا ہوا کمر پوشیدہ
 عداوت -
 الدَّاسَّاسُ وَ الدَّاسَّاسَةُ -
 سرخ رنگ کا چھوٹا سانپ، جو
 مٹی میں چھپا رہتا ہے -
 الدَّاسَّاسَةُ - سانپ کی چھتری -
 اور مثل ہے "العِزْقُ دَسَّاسٌ"
 یعنی باپ دادا کی عادتیں بیٹے
 پوتوں میں آکر رہتی ہیں -
 الدَّاسُّوسُ - جاسوس -
 الدَّاسِيئِسُ - وہ شخص جس کو خبریں
 لانے کے لیے چھوڑا جاتا ہے -
 مٹی میں چھپائی ہوئی چیز - بھول میں
 بھونی ہوئی شے - ج - دَسَسُ -
 الدُّسُّسُ - کاموں میں دکھاوا کرنے
 والے لوگ - ریاکار لوگ -
 اِلْدَسُّسُ - وہ آلہ جس سے زخم کی گہرائی
 کا اندازہ کیا جائے -
 الدَّسْتُ - جیلہ - دھوکا - مکان کا
 صدر مقام - مجلس - تکیہ - کاغذ -

لباس - صحر - ج - دَسُوْتُ -
 شطرنج کے کھیل میں بولتے ہیں -
 الدَّسْتُ لِي : میں جیت گیا -
 میں نے مات دے دی - الدَّسْتُ
 عَلَيَّ : میں ہار گیا - مجھ کو مات ہو
 گئی - عوام الدَّسْتُ کو دیکھ
 کے معنی میں لیتے ہیں -
 الدَّسْتَجَةُ - گٹھا - مٹھا - شیشہ کا
 بڑا برتن - ج - دَسَائِجُ -
 الدُّسْتُوسُ - مجموعہ قوانین - اجازت
 وزیر (قانون کی وجہ سے کہتے ہیں)
 وہ کتاب جس میں بادشاہ کے
 قوانین و ضوابط منبسط ہوں - فوجیوں
 کے ناموں اور ان کے وظائف وغیرہ
 کا رجسٹر - ج - دَسَائِيْرُ -
 الدَّسْتَانُ - موسیقی کی اصطلاح میں
 بربط کا تار - ج - دَسَائِيْنُ -
 دَسْرَ (ن) دَسْرًا - نیزہ مارنا -
 دَفْعُ كَرْنَا - السَّفِيْنَةُ
 رسی یا میخ وغیرہ سے کشتی کی درستی
 کرنا - الدَّسَارُ فِي الشَّيْءِ -
 زور سے گھسانا - الشَّيْءُ -
 میخ لگانا -
 الدَّسَارُ - جہاز وغیرہ کی درز بند کرنے
 کے لیے پرانی رسیوں کی سن -
 میخ - ج - دَسْرُ وَ دَسْرُ -
 الدَّسْرَاءُ - کشتی - ج - دَسْرُ -
 الدَّوَسْرُ - گیہوں میں ایک طرح قسم کا
 دانہ - بشیر - موٹا اونٹ - شاہ
 عراق نعمان بن منذر کی فوج کے
 دستہ کا نام -
 الدَّوَسْرُ وَ الدَّوَسْرِيُّ وَ الدَّوَسْرِيَّةُ
 وَ الدَّوَسْرِيَّةُ وَ الدَّوَسْرِيَّةُ -
 مضبوط - موٹا -
 دَسَمَ (ف) دَسَمًا - منہ بھر کے قے

کرنا - بِقِيئِهِ - قے پھینکنا -
 — الإِنَاءُ - برتن بھرنے -
 — العِزْقُ رُكَّ كَا كُوشْتِ
 میں چھپنا - الرَّحْلُ - بہت
 بخشش دینا - الشَّيْءُ - بٹانا -
 دَفْعُ كَرْنَا - البَعِيْرُ جَرَّتَهُ
 اونٹ کا جگالی کرنا -
 الدَّاسِيئَةُ - بہت بخشش - طبیعت
 بڑا پیالہ - عمدہ دسترخوان - قوت -
 ج - دَسَائِجُ - بَعِيْرُ (دَسَمَ)
 بہت جگالی کرنے والا اونٹ -
 المَدَّسَةُ - حلق میں کھانے کی نالی -
 دَسَقَ (س) دَسَقًا - الحَوْضُ
 حوض کا بھرنا - لِبَالِبُ هُونَا -
 اَدَسَقَ - الإِنَاءُ - برتن بھرنا -
 الدَّيْسَقُ - بھرا ہوا حوض - چاندی کا
 تھال یا خواجہ - صاف چاندی کا
 ہرزور - لمبا راستہ - بوڑھا آدمی -
 خوبصورتی - نور - سفیدی - سراب کی
 سفیدی اور چمک -
 الدَّوَسَكُ - شیر -
 الدَّسِكَةُ - بڑا گال - گرجا - ہموار
 زمین - وہ جگہیں جہاں شراب اور
 کھیل کود کی چیزیں ہیں - محل کی طرح
 کی عمارت جس کے گرد گرد مکانات
 ہوں اور ان میں مشاغل جمع
 ہوتے ہوں - ج - دَسَكَةُ -
 دَسَمَ (ض) دَسَمًا - البَارُورَةُ -
 بادل کا منہ بند کرنا - اِنْدَسَاكَ
 — البَابُ - دروازہ بند کرنا
 — الجَوْحُ - زخم میں پٹی رکھنا -
 — المَطْرُ الارْضُ - بارش
 کا زمین کو کچھ تر کر دینا -
 — البَعِيْرُ - اونٹ پر قطران
 وغیرہ ملنا - الأَثَرُ نَشَانُ

مثلاً

دَيْسَمٌ (س) دَيْسَمًا وَدَيْسَمَةٌ
چربی والا ہونا۔ صفت دَيْسَمٌ
وَأَدَيْسَمٌ مَوْثٌ دَيْسَمَةٌ وَ
دَيْسَمَاءٌ جِ دَيْسَمٌ وَدَيْسَمٌ
دَيْسَمٌ وَتَدَايَسَمٌ مِيلَا ہونا۔
ٹیالے رنگ کا ہونا۔
تَدَايَسَمٌ - الرَّجُلُ - چکناسٹ کی
چیز کھانا۔
دَيْسَمٌ - الشَّيْءُ - کسی چیز میں چربی
ڈالنا۔ سیاہ کرنا۔ الْمَطَرُ
الْأَرْضِ - بارش کا زمین کو تر
کر دینا۔
أَدَيْسَمٌ - الْقَارُورَةُ - بوتل کے منہ
پر ڈاٹ لگانا۔
الدَّيْسَمُ - مَص - طرف اور انتہائے
شے - کہا جاتا ہے - انا علی
دَيْسَمِ الْأَمْرِ - میں کام کے
اختتام پر ہوں۔
الدَّيْسَمُ - چکنائی گوشت کی یا چربی کی
چکنائی کا میلان۔
الدَّيْسَمَةُ - مَجْجُوا - مائل سیاہی۔
وَالدَّيْسَامُ - دَاك - کاک۔ کتے
ہیں - مَا هُوَ إِلَّا دَيْسَمَةٌ - یعنی
اس میں کوئی بھلائی نہیں۔
الدَّيْسَمُ - رِيحٌ بِالسَّاسِ كَالرَّيْحِ - لوطی
یا اس کا بچہ۔ گھاس۔ تاریکی سیاہی
کام میں ساتھی۔ مہربان۔
دَسَا - يَدُ سُوْدَسُوَا وَدَيْسِي يَدُ سِي
دَيْسِيَارِ (ف) نشوونما نہ پانا۔
- الرَّجُلُ - چھپنا۔
دَسٌ - الرَّجُلُ - خراب کرنا۔ گمراہ
کرنا۔ فَتَسَهُ - گمناں کرنا۔
کم بخت کرنا۔
دَشٌّ - (ن) دَشًّا - دیا تیار کرنا۔

الْحَبِّ - غَلَّةٌ كَرِيْمَةٌ - دلنا۔
الدَّيْسَمِيُّشُ - گیہوں کے مانند ایک غلہ
کا دلیا۔
الدَّوْشَقُ - بڑا مکان۔ فرہ اونٹ۔
الدَّوْشَقُ - فَرْشٌ - بچھونا۔
دَشْنٌ (ن) دَشْنًا - الشَّيْءُ - دینا
دَشْنٌ - الثَّوْبُ - پہلی بار پہننا۔
- الْمَعْبَدُ - کسی عبادت گاہ میں
برکت کے طور پر سب سے پہلے
نماز ادا کرنا۔
تَدَايَسَنٌ - الشَّيْءُ - لینا۔
الدَّايِسَنُ - فَا - الدَّايِسَنُ مِنْ
الثِّيَابِ - نیا کپڑا جس کو ابھی
کسی نے نہیں پہنا ہو۔
الدَّوْرُ - نیا مکان جس میں ابھی کوئی
نہیں رہا ہو۔
دَشَادُنٌ (دَشَاوًا) - لڑائی میں کود پڑنا۔
دَقْلَةٌ - قتل کرنا۔ دھتکارنا۔
دَعَّةٌ (ن) دَعَاً - سختی سے ہٹانا۔
أَدَعَى - الرَّجُلُ - کسی آدمی کے چھوٹے
چھوٹے بچے بہت ہونا۔
الدَّعَاعُ - چھوٹے چھوٹے بال بچے۔
الدَّعَاعُ - کبھور کے متفرق درخت۔
ایک جنگلی درخت کے دانے۔
سیاہ پر وار چھوٹیاں۔ واحد
دُعَاعَةٌ۔
دَعَبَةٌ (ن) دَعَبًا وَدَعَابَةً -
دفع کرنا۔ ہٹانا۔ مسخری کرنا۔ مذاق
کرنا۔
دَاعِبُهُ مَدَا عِبَةٌ - کھیلنا۔ خوش
طبعی کرنا۔
تَدَاعَبَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے
کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔
تَدَاعَبَ - عَلَيْهِ - ناز کرنا۔
الدَّاعِبُ وَالدَّاعِبُ - کھیلنے کو دینے

والا۔ ہنسی مذاق کرنے والا۔
الدَّعَابُ وَالدَّعَابَةُ - بہت خوش
طبعی کرنے والا۔ بہت ہنسی مذاق
کرنے والا۔ اس میں تاد مبالغہ کے
لیے ہے، تائید کی نہیں۔
الدَّعَابَةُ - خوش طبعی۔ ہنسی مذاق۔
الدَّعَابُ - أَحْمَقٌ - مَوْثٌ - دَعْبَاءٌ -
ج۔ دُعْتُ۔
الدَّعْبُ - بڑا کھلاڑی۔ اچھا گویا۔
نازک بدن جوان۔
الدَّعْبُوبُ - سیاہ چوٹی۔ ایک
سیاہ دانہ جو کھایا جاتا ہے۔
بہت چلنے والا راستہ۔ پست
قد کمزور آدمی جس کے ساتھ مذاق
کیا جائے۔ خوش اور حجت آدمی۔
مخنت۔ بیوقوف۔ لمبا گھوڑا۔
ليلة دَعْبُوبٌ - بری رات یا
سیاہ اور تاریک رات۔
الدَّعْبُوبُ وَالدَّعْبُوسُ - بیوقوف۔
کم خود۔
الدَّعْبِيلُ - مینڈک کے انڈے۔
(- وَالِدِ عِبْكَةٍ) طاقتور
اونٹنی۔
دَعَّتْ (ف) دَعَّتَا - سختی سے دھکیلنا
زور سے دھکا دینا۔
دَعَّتْ (ف) دَعَّتَا - پاؤں یا ہاتھ
وغیرہ سے مٹی کو باریک کرنا۔
دَعَفَ بِهِ الْأَرْضَ - کسی کو زمین
پر پٹک دینا۔
دُعِفَ - روتگے کھڑے ہونا۔
أَدْعَفَ - فِي الشَّيْءِ - برائی میں
زیادتی کرنا۔ الشَّيْءُ - باقی
رکھنا۔ چھڑانا۔
أَدْعَفَ - الشَّيْءُ - چیز کا روندنا جانا۔
پانمال کیا جانا۔

تَدَعَّثُ - صَدُوْرُهُمْ كَيْفَهُ
بغض رکھنا۔
الدَّعْثُ - معص - بیماری کی ابتداء۔
الدِّعْثُ - کینہ - بغض - بقیہ پانی۔
ج - اَدْعَاثٌ وِدْعَاثٌ -
دَعْتَرٌ - الحوض - حوض ٹوڑنا۔
- الارض - زمین کو روندنا
الدَّعْتَرُ - احمق۔
الدَّعْتُوْسُ - مِنَ الحَوْضِ اطراف
سے گرایا ہوا ٹوٹا ہوا حوض - گڑھا۔
- مِنَ النَّمْلِ بہت جانور۔
دَعَجَتْ (س) دَعَجًا - العَيْنُ آنکھ
کا بہت سیاہ اور بڑی ہونا۔
اَدْعَجُ سِيَاهٌ اور بڑی آنکھ والا۔
مَوْنٌ دَعَجَاءٌ ج - دَعَجٌ -
الدَّعْجَاءُ - قمری ماہ کی اٹھائیسویں شب
الدَّعْجَةُ - آنکھ کی سیاہی اور
فراخی - لیلٌ اَدْعَجٌ - تاریک
رات۔
الْمَدَّعُوْجُ - مجنون۔
دَعْدَعٌ - دَعْدَعَةٌ وِدَعْدَاعًا -
آہستگی سے دوڑنا - الجَفْنَةُ
برتن بھرنے والا - الْمَكْيَالُ -
پیمانہ کو بھلانا تاکہ اس میں چیز زیادہ
سملے۔
تَدَعْدَعٌ - بُوْرُھے کی طرح چلنا -
الشيء - بھرنے۔
دَعْدَعٌ وِدَعْدَعًا - یہ کلمہ گرنے
والے کے لیے بولا جاتا ہے - بمعنی
کھڑے ہو جاؤ۔
الدَّعْدَاعُ - معص - پست قد۔
دَعْدَرَسٌ دَعْرًا - العود - کڑی کا
دھواں دینا اور نہ چلنا - بوسیدہ
ہونا - صفت (دَعْرٌ) -
الدَّعْدُ - چھماق کا آگ نہ دینا۔

صفت (اَدْعُرُ)
دَعْرَانٌ، وِدَعْرَسٌ، دَعَارَةٌ -
- الرجل - کسی کا بدکار و
بد اطوار ہونا۔
تَدَعْرٌ - وَجْهَةٌ - چہرہ کا داغدار ہونا۔
الرجل - کسی کا بد اور شریر ہونا۔
الدَّعْرُ وِالدَّعْرَةُ وِالدَّعَارَةُ
وِالدَّعَارَةُ - شرارت - خیانت
بدی۔
الدَّعَارَةُ وِالدَّعَارَةُ - بد خوئی۔
الدَّاعِرُ فَا - شریر - بُرَا - بدکار۔
ج - دَعَارٌ مَوْنٌ - دَاعِرَةٌ -
الدَّاعِرَةُ - وہ کھجور کا درخت جس میں
قلم نہ لگ سکے - جو گا بھانہ دیا جا
سکے - ج - مَدَاعِرٌ -
الدَّعْرُ - کڑی کو کھانے والا کپڑا۔
كُنْ - وَاوَدَّ دَعْرَةٌ - رَجُلٌ
دَعْرٌ وِدَعْرَةٌ خِيَانَتٌ كَرْنٌ
وَالْأَدْمَى -
دَعْسٌ (ف) دَعْسًا - الشيء -
روندنا - الوعاء - بھرنے۔
- فُلَانًا - دَفْعٌ كَرْنًا - دھکا
دینا - وِدَعْسَةٌ - بِالرُّمْحِ -
نیزہ مارنا - الْمَرْأَةُ - عَوْرَتُ كُو
ذلیل و رسوا کرنا۔
دَاعَسَتْ مَدَاعَسَةً - آپس میں
نیزہ بازی کرنا۔
الدَّعْسُ - معص - نشان - طریقی
دَعْسٌ - بہت نشانات والا
راستہ۔
الْمَدَّعْسُ - امید گاہ۔
الْمَدَّعْسُ وِالْمَدَّعَسُ - بہت
چلنے والی سڑک - نیزہ - ج
مَدَّاعِسٌ وِمَدَّاعِيسٌ -
الْمَدَّعْسُ - نیزہ مارنے والا۔

دَعَصَهُ - (ف) دَعَصًا وَاَدَّعَصَهُ
قتل کرنا - دَعَصَهُ بِالرُّمْحِ -
نیزہ مارنا۔
دَاعَصَهُ - عَزَتْ مِیْنِ مَقَابِلِهِ كَرْنًا -
تَدَّعَصَ - اللَّحْمُ - گوشت کا سڑک
نیزہ نیزہ ہونا۔
الدَّعْصُ - ج - وِدَعَصَةٌ وَاَدَّعَاصٌ -
وِالدَّعِصَةُ - ج - وِدَعْصٌ -
ریت کا تودہ یا ٹیلہ۔
الْمَدَّاعِصُ - نیزہ۔
الدَّعْصَاءُ - نِزْمٌ اور دوسری جگہوں سے
زیادہ گرم زمین۔
دَعَقٌ (ف) دَعَقًا - الطریق -
راستہ کو بہت روندنا صفت مفعولی
دَدَعَقٌ وِدَدَعَقٌ وِمَدَّعَقٌ -
- الْعَارَةُ - سب طرف
لوٹ ڈالنا - الْمَاءُ - پانی
کو جاری کرنا - الرَّجُلُ - کسی
کو فوراً مار ڈالنا - (س) و
اَدَّعَقَ الخَيْلَ - گھوڑے کے
اڑنے لگانا - عَلِيْهِمُ الخَيْلُ -
لوٹ مار میں کسی قوم پر گھوڑوں سے
چڑھائی کرنا۔
دَدَعَقٌ (س) دَدَعَقًا - الطریق -
راستہ کا بہت روندنا ہونا بہت
چلتا ہوا ہونا۔
الدَّعَقَةُ - چڑھائی اور شور و غل
الدَّعَقَةُ - اَدْمُوْنٌ كَالْمَلِكِ - ہارن کی
نور چھائی۔
الْمَدَّعَقُ - پانی بننے کی جگہ - خَيْلٌ
مَدَّاعِقٌ - لوٹ مار میں دشمنوں کو
روندنے والے گھوڑے۔
دَعَكَ (ف) دَعَكًا - الثوب -
کپڑے کو نرم و ملائم کرنا -
الْخَصْمُ - مخالف کو نرم کرنا

تسکین دینا۔ الجلد۔
 چڑے کو ملنا۔ الشیء فی
 الخراب۔ مٹی میں لوٹانا۔ کہا جاتا
 ہے: دَعَاكَ بِالْقَوْلِ اس نے
 اس کو بات سے دکھ پہنچایا۔
 دَعَاكَ (س) دَعَاكَ۔ بے وقوف
 ہونا۔ صفت دَعَاكَ و
 دَاعِيكَ (مؤنث) دَاعِيكَ
 کہتے ہیں: فلان أحمق دَاعِيكَ
 فلاں بے قوف ہے۔
 دَاعِيكَ مَدَا حَكَّةً۔ کسی کے ساتھ
 سخت جھگڑا کرنا۔ طال مٹول کرنا۔
 تَدَاعَى۔ القوم۔ آپس میں
 خصومت کا سنگین ہونا۔
 تَدَاعَى فِي الْحَبِيبِ۔ لڑائی میں
 باہم زور آزمائی کرنا۔
 الدَّيْعُ۔ سخت جھگڑا۔
 الدُّعَى۔ گناہ۔ کمزور۔ ایک قسم کا
 پتندہ۔
 الدُّعَى۔ راستہ کا بڑا حصہ۔
 المَدَا عِلِّيُّ وَالْمَدَا عِلُّ۔ سخت
 جھگڑا۔ دشمن۔
 دَعَاكَ (رض) دَعَاكَ۔ دھوکہ دینا۔
 دَعَاكَ۔ ایک دوسرے
 کو دھوکہ دینا۔
 الدَّاعِلُ۔ پہلنے والا۔ دھوکہ دینے والا
 دَعَاكَ لَيْلًا۔ اللیل۔ رات کا تاریک
 ہونا۔ الشیء۔ کسی شے کے
 رنگوں کا منطوق ہونا۔ البهل۔
 کسی کا بار بار آنا جانا۔ الشیء۔
 کسی شے کو لڑھکانا۔
 الدَّعَلُجُ۔ بھری ہوئی گولی۔ گھنی اور
 گنجان نباتات۔ خوش رو نازک
 بدن جوان۔ تاریکی۔
 دَعَاكَ (س) دَعَاكَ۔ الشیء۔ جھک

جانے کے ڈر سے ٹیک لگانا۔
 سہارا لینا۔ ۵۔ بد کرنا۔ تقویت
 پہنچانا۔
 الدَّعْمُ۔ ستون سے سہارا لینا۔
 ٹیک لگانا۔
 تَدَاعَى۔ الامور فلا تانا۔ ہجوم کرنا۔
 الدَّعْمَةُ۔ ج دَعْمٌ و دَالِدِ عَامِي
 ج۔ دَعْمٌ۔ و دَالِدِ عَامِي ج
 دَعَائِمٌ۔ گھبراہٹوں۔ لڑائی کا
 کہا جوجھت کو سہارا دینے کے
 لیے کھڑا کیا جائے۔ الدَّعْمَتَانِ
 و الدَّعْمَتَانِ۔ چرخ کے ہر دو
 رُخ کے ڈنڈے۔ دَعَامَةٌ
 القوم۔ قوم کا سردار۔
 الدُّعْمِيُّ۔ بڑھی مضبوط سہارا دی ہوئی چیز
 راستہ کا بڑا حصہ۔ قَوْمٌ (أَدْعَمُ و
 دُعْمِي) سفید سینہ والا گھوڑا۔
 المَدَا عِلُّ۔ پناہ گاہ۔
 دَعْمٌ۔ المَاءُ۔ پانی کا سیاہ
 کیڑوں والا ہونا۔
 الدُّعْمُوسُ۔ پانی کا سیاہ کیڑا جو
 تالابوں میں پانی کم ہونے پر دکھائی
 دیتا ہے۔ عوام اس کو البَلْعُطُ
 کہتے ہیں۔ ج۔ دَعَامِيصُ و
 دَعَا مِيصُ۔
 دَعَمٌ (س) دَعَمًا۔ محل کرنا۔
 غرضی کرنا۔
 الدَّعِيمُ۔ شوخ۔ محول۔ ج۔ دَعِيمَةٌ
 دَعَائِمٌ دَعَا و دَعْوِي۔ ۵
 پکارنا۔ رغبت کرنا۔ بددعا ہونا۔
 ۵۔ الی الامیر۔ کسی کو کسی
 کام کی طرف چلاتا ہے۔ بہ۔
 حاضر ہونا۔ کے لیے کہنا۔
 دَعَا فُلَانًا و فُلَانًا۔ نام رکھنا
 المَيْتُ۔ میت پر رونا۔

دعا۔ دَعْوَةٌ و مَدْعَاةٌ کسی
 کو کھانے پر بلانا۔ (دَعَاةٌ)
 لے۔ کسی کے حق میں دلائل خیر
 کرنا۔ علیہ۔ کسی کے حق میں
 بددعا کرنا۔ الیہ۔ کسی
 چیز کی طرف بلانا۔
 دَعَاةٌ مَدْعَاةٌ۔ جھگڑا کرنا۔ ایک
 دوسرے سے پہلی یا چہستان
 کہنا۔ الخَائِطُ۔ دیوار کو
 گرانا۔
 أَدْعَاةٌ أَدْعَاةً۔ غیر باپ کی طرف
 منسوب کرنا۔
 تَدَاعَى تَدَاعِيًا۔ النَّائِمَةُ۔ بلند
 آوازی سے رونا۔
 تَدَاعَى۔ العَدُوُّ۔ دشمن کا متوجہ
 ہونا۔ القوم۔ ایک دوسرے
 کو بلانا۔ تَدَاعَى الشیء۔ کسی
 چیز کا دھوکے کرنا۔ تَدَاعَى
 الجَيْطَانُ۔ دیواروں کا پھٹ
 جانا۔ تَرُخُ جَانًا۔ القوم
 علیہ۔ قوم کا کسی سے دشمنی رکھنے
 میں متفق ہونا۔
 اِنْدَاعَى اِنْدَاعًا۔ الدَّعْوِيَّةُ۔ پکار
 کا جواب دینا۔ دعا قبول کرنا۔
 اِدْعَى۔ الشیء۔ حق یا باطل کا دعویٰ
 کرنا۔ بہ۔ اپنی طرف نسبت
 کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ میری ہے۔
 علیہ۔ قاضی کے پاس کسی
 کے خلاف مقدمہ کرنا۔ دعویٰ کرنا
 الی غَيْرِ اَيْبِهِ۔ باپ
 کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب
 ہونا۔ الشیء۔ تمنا کرنا۔
 اِدْعَى فِي الْحَوْبِ۔ جنگ
 میں اپنا نسب نامہ بیان کرنا۔
 اِسْتَدْعَاةٌ اِسْتَدْعَاةً۔ کسی کو پکارنا۔

— المشیء۔ طلب کرنا۔ لازم سمجھنا۔
 الدُّعَاءُ دَعَا كَامَصْرٍ جِ ادْعِيَةٌ
 الدَّعْوَةُ۔ پکار قسم۔ کہتے ہیں۔ ہو
 مَتَى دَعْوَةُ الرَّجُلِ۔ وہ مجھ
 سے قریب ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں۔
 مَهْمَى رَمِيَّةُ السَّهْمِ وَ
 مَزَجْرًا لَكَبٍ۔ وَلَهُمُ الدَّعْوَةُ
 عَلَىٰ غَيْرِهِمْ۔ یعنی دعا میں
 انہیں سے ابتدا ہے۔ وَكُنَّا فِي
 دَعْوَةِ فُلَانٍ۔ ہم فلاں کی منیات
 و مہمانی میں تھے۔ والدَّعَاوَةُ
 والدَّعَاوَةُ، الإِدْعَاءُ سے اسم۔
 الدَّعْوَى۔ مص۔ مقدمہ۔ دعویٰ۔
 ج۔ الدَّعَاوَى والدَّعَاوَى۔
 الدَّعَاءُ۔ بہت دعا کرنے والا۔
 الأُدْعِيَّةُ وَالْأُدْعُوَّةُ۔ جھگڑے
 کا موضوع۔
 الدَّيْعَى۔ لے پالک۔ متبنی۔ جس کی
 نسبت میں شبہ ہو۔ وہ جو اپنے
 آپ کو غیر باپ کی طرف یا غیر قوم
 کی جانب منسوب کرے۔ ج۔
 أَدْيِيَاءٌ۔
 الدَّاعِي۔ فَا۔ لوگوں کو اپنے دین و
 مذہب کی طرف بلانے والا۔ ج۔
 دُعَاةٌ۔ مؤنث۔ دَاعِيَةٌ۔
 ج۔ دَاعِيَاتٌ وَدَوَاعِيٌ۔
 الدَّاعِيَةُ (سبب)۔ ج۔
 الدَّوَاعِي۔ دَاعِي اللَّبَنِ وَ
 دَاعِيَتُهُ۔ وہ تھوڑا سا دودھ جو
 تھنوں میں چھوڑ دیا جائے تاکہ بقیہ
 دودھ آسانی سے دودھ سکیں۔
 دَوَاعِي الصَّدْرِ افکار و ہجوم۔
 دَوَاعِي الدَّهْرِ۔ زمانہ کی گردشیں۔
 المدَّعَاةُ۔ کھانے کی دعوت۔ سبب

دَعْدَعٌ دَعْدَعَةٌ۔ فُلَانًا بِكَلِمَةٍ
 کسی کو طعن دینا۔
 الدَّعْدَعَةُ۔ ریکہ گفتگو کرنا۔ گدگدی
 چلانا۔ غلٹا پاؤں کے ملنے یا بخل
 کو گدگدانا۔ عام لوگ گدگدی کو
 زَكْزَكٌ اور زَكْزَكَةٌ بولتے
 ہیں۔
 المدَّعْدَعُ۔ حسب و نسب میں
 کھوٹ رکھنے والا۔
 دَعْوَةٌ (ف) دَعْوًا۔ دفع کرنا۔ دھیکنا
 دَعْوَتِ الْمَرْأَةِ خَلْقُ الْعَبِيَّةِ
 عورت کا بچہ کے خلق کو انگلی سے
 دہانا۔ الأُمُّ ابْنَهَا۔ ماں
 کا بچہ کو دودھ سے سیر نہ کرنا۔
 دَعْوُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ۔ ایک
 شے کو دوسری میں غلط ملط کرنا۔
 طَانًا۔ ۴۔ کلا گھونٹ کر مارنا۔
 — فِي الْبَيْتِ۔ گھر میں داخل
 ہونا۔ علیہ کسی پر اچانک
 آنا۔
 دَعْوَةٌ (س) دَعْوًا۔ الرجلُ بِدَخْلٍ
 اور لثیم ہونا۔ صفت دَعْوَةٌ
 دَعْوَةٌ (س) دَعْوًا وَدَعْوَى۔
 علیہ۔ لوگوں پر اچانک
 پہنچ جانا۔
 اِنْدَاعُوٌّ۔ پہنچ جانا۔ علیہ۔
 یک بیک آ جانا۔
 الدَّاعِيَةُ۔ ذلیل۔ حقیر۔ بد فساد انگیز۔
 الدَّعْرَةُ۔ کسی شے کو اچک لینا۔
 المدَّعْرَةُ۔ گھسان کی لڑائی جس میں
 لوٹ مار ہو۔
 دَعَشٌ (ف) دَعَشًا وَادْعَشٌ۔ تازہ کی
 میں داخل ہونا۔ دَعَشٌ
 علیہ۔ اچانک ٹوٹ پڑنا۔
 ہجوم کہنا۔

دَاعَشَهُ۔ بھیڑ کرنا۔ حَوَلٌ
 الماء۔ پیاس میں پانی کے ارد گرد
 گھومنا۔ الماء۔ پانی کو تیزی
 سے پی جانا۔ فی الشَّيْءِ۔
 حرص کے باعث کسی سے کوئی چیز
 کر سے طلب کرنا۔
 تَدَاعَشَ۔ القومُ۔ وِدَاعُ شَوْوَلٍ
 لڑائی وغیرہ میں آپس میں گتھ جانا۔
 دَعِصٌ (س) دَعِصًا۔ کھانے یا غصہ
 سے بھر جانا۔
 دَاعِصٌ مَدَّ اَغْصَةً۔ فِي الْعَبَلِ
 کام میں تیزی برتنا۔
 اَدْعَصَهُ۔ غصہ سے بھر دینا۔
 اَدْعَصَهُ الْمَوْتُ۔ موت کا ایک
 یک آن لینا۔
 الدَّاعِصَةُ۔ کھنے کی چینی۔ عوام
 اس کو "صَاوِنَةُ الذُّكْبَةِ" کہتے
 ہیں۔ گٹھا ہوا گوشت۔ خالص صاف
 پانی۔ ج۔ دَوَاعِصٌ۔
 الدَّعِصَانُ۔ غصہ ناک۔
 دَعْفٌ (ف) دَعْفًا۔ النِّعَى۔ سختی
 سے پکڑنا۔ دَعْفَهُمُ الْخَرُّ۔
 گرمی کا سخت ہونا۔
 اَبْوَالُ الدَّعْفَاءِ۔ احمق۔
 الدَّعْفَلُ۔ ہاتھی یا بھیڑ کے کا بچہ۔
 بہت سے بچوں کا گھونٹنا۔
 آسودہ زندگی۔ عام دَعْفَلِيٌّ
 سر بہر سالی۔
 دَعْلٌ (ف) دَعْلًا۔ مہتم کے مانند
 داخل ہونا۔
 اَدْعَلٌ۔ الرجلُ کسی کا گھنے درختوں
 کے جھنڈ میں داخل ہو کر غائب
 ہو جانا۔ الارضُ۔ گھنے
 درختوں والی ہونا۔ یہ۔ کسی
 کے ساتھ خیانت کر کے اچانک

مارڈالتا۔ چھٹی کھانا۔ الشیخ۔ کسی چیز میں مخالفت اور اس کی مفید چیز ملانا۔
 الدَّغْلُ - ج۔ اَدْعَالٌ وِدْعَالٌ و الدَّغِيْلَةُ، گنجان درختوں کا بھنڈ۔ وہ چیز جو کسی کام میں داخل ہو کر اس کو خراب کر دے۔ وہ مقام جہاں ہلاکی کا خطرہ ہو۔ مکان (دَغْلٌ)، گھنے درختوں والا مقام۔ پوشیدہ جگہ۔
 الدَّاعِلَةُ - پوشیدہ کینہ۔ وہ لوگ جو کسی کی خیانت و عیب کی تلاش میں رہیں۔
 الدَّوَاغِلُ - آفتیں مصیبتیں (اس کا واحد نہیں)۔
 المدَّغْلُ - وادی کا درمیانی حصہ۔
 دَعْمَةٌ وِدَعْمَةٌ (د ن س)، دَعْمَانًا وِدَعْمَانًا - الحرُّ أو البرد۔ گرمی یا سردی کا لگنا۔ دَعْمَةٌ اَلْفَتْه - ناک توڑنا۔ دَعْمَةُ الْاِنَاءِ - برتن ٹوکانا۔
 اَدْعَمَ - الله فُلَانًا - اللہ اس کا کالا منہ کرے۔ ذلیل و رسوا کرے۔
 اَدْعَمَهُمَا الْحَرُّ أَوِ الْبَرْدُ - ان کو گرمی یا سردی لگی۔ القوس اَلْبَتَامُ - گھوڑے کے منہ میں لگام دینا۔ اَدْعَمَهُ الشَّيْءُ کسی شے کا کسی کو دکھ پہنچانا۔ ر۔ وَاَدْعَمَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ - ایک شے کو دوسری میں داخل کرنا۔ صرف کی اصطلاح میں ادغام بھی اسی سے ہے کیونکہ اس میں بھی ایک حرف دوسرے میں شامل کیا جاتا ہے۔
 اِدْعَامَةُ - القوس - اِدْعِيْمَانًا، گھوڑے کا منہ باقی جسم سے

زیادہ سیاری مائل ہونا۔ صفت (اَدْعَمُ)۔
 الدَّعْمَةُ وَاَلدُّعْمَةُ - گھوڑے کا رنگ جس کا منہ زیادہ سیاہی مائل ہو۔
 اَلْاَدْعَمَةُ - کالی ناک والا۔ ناک میں بولنے والا۔ خِنِيْنًا - ج۔ دُعْمَةُ الدُّغَامِ - طلق کا درو۔
 دَعْمَرَةٌ - دَعْمَرَةٌ - عیب لگانا۔
 - الشَّيْءُ - طَانًا - الرَّجُلُ بدخلق ہونا۔
 الدَّعْمِيَّةُ وَاَلدُّعْمِيَّةُ - طے طے اِحلاق والا۔
 الدَّغَامِيَّةُ - قوم کے ذلیل لوگ۔
 دَغْنٌ (د ن)، دَغْنًا وِدَغْنًا - آہستہ چلتا۔ لہ الامور۔ تیار ہونا ممکن ہونا۔ الطَّائِرُ - پرندہ کا پھوٹ پھوٹانا۔
 دَغْنٌ (د ن)، دَغْنًا - الشَّيْءُ - بڑے اکیڑنا۔
 دَغْنٌ وِدَغْنٌ - جلدی کرنا۔
 دَغْنٌ الْجَرِيْمَةُ وِدَغْنٌ وِدَغْنٌ - علیہ زخمی کو چھٹ پٹ مار ڈالنا۔
 دَغْنٌ - الرَّجُلُ - دغ بجانا۔
 اَدَغْنٌ - اِدْغَانًا - الطَّائِرُ - پرندہ کا اپنے پر پھوٹ پھوٹانا۔ اَدَغْنٌ علیہ الامور۔ کسی پر کاموں کا پے در پے آنا۔
 تَدَغْنٌ - الْقَوْمُ - بعض کا بعض کے پیچھے سوار ہونا۔
 اِسْتَدَغْنٌ - الطَّائِرُ - پرندہ کا زمین کے قریب ہو کر اُڑان کرنا۔
 الامور۔ کام کا درست ہونا۔ پورا ہونا۔ ممکن ہونا۔ الرَّجُلُ بِالْمَوْسِي - اُسٹے سے موڑنا۔

الدَّغْفُ - مع۔ ہر چیز کا پہلو کہتے ہیں۔
 "رَمَاهُ اللهُ بِذَاتِ الدَّغْفِ"
 اللہ اس کو ذات الجنب (منویا) کی بیماری میں مبتلا کرے۔ ر۔
 وَاَلدُّغْفُ، دُفٌ، دُفْلًا - ج دُفُوْفٌ۔
 الدَّغْفَةُ - ہر شے کا پہلو۔ دَغْفَتَا الطَّبْلِ دُحُولُ کے ہر دو رخ کے چمڑے جن پر بجانے کے لیے منزیں لگائی جاتی ہیں۔ پتوار۔ یہ کلمہ مولدہ ہے۔ اس کے لیے فصیح لفظ السُّكَّان ہے۔
 الدَّاقَةُ - فوج جو دشمن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھے۔ خا۔ بدوش لوگ۔
 الدَّقَاتُ - دغ بجانے والا۔ دغ بنانے والا۔
 الدَّقُوْفُ - کسی چیز پر چھٹنے کے وقت زمین سے قریب ہو جانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ عَقَابٌ دَقُوْفٌ۔
 دَرَفٌ يَدْفًا دَرَفًا وِدَرَفًا وِدَرَفًا۔ يَدْفُوْ - دَفَاعَةٌ (س ك)۔
 مِنَ الْبَرْدِ - گرم ہونا۔ گرمی پانا۔ یا محسوس کرنا۔
 دَقَّاهُ - گرم کرنا۔
 اَدَقَّاهُ - گرم کپڑا پہننا۔ بہت دینا۔ گرم کرنا۔
 - الْجَرِيْمَةُ - زخمی کو مار ڈالنا۔
 الْقَوْمُ - قوم کو جمع کرنا۔
 تَدَقَّاهُ وِدَقَّاهُ وَاِسْتَدَقَّاهُ - گرم کپڑا پہننا۔ گرم ہونا۔
 الدِّغْفُ - سمیت گرمی۔ ج اَدْفَاءٌ - اونٹوں سے پیدا شدہ بچے اور حاصل کردہ نفع عطیہ۔ دِفْعٌ الْحَائِطِ دیوار کی پناہ کہتے ہیں۔ اَقْعَدٌ فِي دِفْعِ الْحَائِطِ - وہ دیوار کی

الحِسَابِ وَغَيْرِهِ - حساب
وغیرہ میں گہری غور و فکر سے کام
لینا۔

أَدَقَّهُ - إِدْقَاثًا - باریک کرنا۔
الرجل - کسی کو بکری دینا۔ کہتے
ہیں "أَتَيْتُهُ فَمَا آدَقْنِي وَ
لَا أَجَلْنِي - یعنی میں اس کے
پاس آیا تو اس نے مجھ کو تھوڑا بہت
کچھ نہیں دیا۔ آدَقَ الرجلُ -
بخل سے حقیر چیز کا بیجا کرنا۔

دَأَقْتُهُ مَدَاقَةً - الحِسَابِ وَ
فِي الحِسَابِ - حساب کی غور و
تفصیل سے جانچ و پڑتال کرنا۔
إِسْدَقَ - إِسْدَقَاثًا - باریک ہونا۔
لُطِنًا - کھٹکھٹایا جانا۔

تَدَاقَى - الرَّجُلَانِ - آپس میں
باریکی میں مقابلہ کرنا۔
إِسْتَدَقَ - إِسْتَدَقَاثًا - باریک
یا پتلا ہونا۔ اور إِسْتَدَقَ
الِهَلَالُ - بھی اسی سے ہے یعنی
چاند باریک ہے۔

الدَّقْ - باریک۔ تھوڑا۔ اسی سے
ہے "أَخَذْتُ دِقَّةً وَجِلَّةً"
میں نے اس سے تھوڑا بہت
سب لے لیا۔ حَتَّى الدِّيْقِ
دق کا بخار۔

الدَّقَّةُ - ایک ضرب۔ ایک دفعہ
کا توڑنا۔
الدَّقَّةُ بَارِكِي - چھوٹا پن۔ کینگی۔
تپ دق کی حالت اور اسی سے
ہے۔ "دِقَّةُ المَعَانِي" معانی کی

باریکی۔
الدَّقَّةُ بَارِكِي خَاكٍ - مصالحو
نمک۔ دھنیا۔
الدَّقَاقُ - ہر شے کا چورا۔ آٹا۔ د۔

وَالدَّقَاقَةُ نِزْمٌ رِيْتٌ جِسٌّ كُوهُوَ
اِزْلِيٌّ "دَقَاقُ العِيْدَانِ وَ
دَقَاقُهَا" کڑی کی چھٹیاں۔
الدَّقِيْقُ - باریک۔ آٹا۔ دشوار فہم امر۔
تھوڑا۔ ج۔ اِدْقَةٌ وَ اِدْقَاءٌ -
مؤنث۔ دَقِيْقَةٌ -

الدَّقِيْقَةُ - الدَّقِيْقُ كَامُؤنث -
منٹ۔ ایک گھنٹہ کا ساٹھواں
حصہ۔ ج۔ دَقَائِقٌ - الدَّقِيْقَةُ
بکریاں کہتے ہیں۔ كَهْدَرِيْقَتِكَ
تمہاری کتنی بکریاں ہیں۔

الدَّقَاقُ - بہت کوٹنے والا۔ آٹا بیچنے
والا۔

الدَّقَاقَةُ - کوٹنے کا اوزار۔
المَدَقُّ وَ المَدَقُّ ج۔ مَدَاقِي
و المَدَقَّةُ، کوٹنے کا اوزار۔
کوٹنے کی موصلی یا دستہ۔

المَدَقَّةُ - باریک کوٹا ہوا گوشت
کیاب۔ عام لوگ اسے کوفتہ
کہتے ہیں۔

المَدَقُّوْقُ - دق کے بخار کا مریض۔
مُسْتَدَقٌ - السَّاعِدُ - کلائی کا
پہنچے سے ملنے والا باریک حصہ۔
ہر شے کا باریک اور پتلا حصہ۔

دَقْدَقَ دَقْدَقًا - النَّاسُ - آدمیوں
کا شور و غل مچانا۔ الدَّقَابُ
جانوروں کا اپنے سموں سے پٹ
پٹ کی آواز نکالنا۔

دَقْرُوسٌ، دَقْرَا - کھانے سے بھر
جانا۔ المَسْكَانُ - کسی جگہ کا
سرسبز و شاداب ہونا۔ النَّبَاتُ
سبزہ کا بکثرت ہونا۔

الدَّقْرُ وَ الدَّقْرَةُ وَ الدَّقِيْبَةُ - وَ
الدَّقْرِيُّ - نہایت خوش منظر۔
ہر ابھر باغ۔ لَدُنْ دَقْرَاءُ

سرسبز و شاداب اور تر زمین۔
الدَّقْرَانُ - وہ کڑی جس کو نصب کر
کے انگور کی بیل چسڑھائی جائے۔
وَاحِدٌ دَقْرَاكَةٌ

الدَّقْرَةُ - پہاڑوں کے درمیان بنجر
زمین۔

الدَّقْرَارَةُ - چغلی۔ بری عادت۔ جھگڑا
ج۔ دَقَارِيْرٌ - کہتے ہیں "جَاءَ
بِالدَّقَارِيْرِ" اس نے قبیح چھوٹی
باتیں کہیں۔ رجلٌ دَقْرَارَةٌ -
چغل خور آدمی۔

دَقَسَ دِنًا، دَقَسًا وَ دَقُوسًا - فِي
الْبِلَادِ - ملک میں گھس جانا۔
الْوَتْدُ فِي الأَرْضِ - میخ کا
زمین میں گرھانا۔ البِئْرُ - کنویں
کو بھرنا۔

الدَّقْسَةُ - گرگٹ سے چھوٹا چکبرا
جانور۔

دِقْعٌ دَسٌ، دَقْعًا - تھوڑے سے گزارہ
پر راضی ہونا۔ فقر و ذلت کے باعث
خاک نشین ہونا۔

أَدَقَعَهُ - فقیر بنانا۔ ذلیل کرنا۔ أَدَقَعَ
بِهِ وَ اليه فِي العَلْوِ وَ نَحْوَهُ
گالی دینے میں زیادتی سے کام لینا۔
أَدَقَعَ الرَّجُلُ - مٹی میں ملا ہوا ہونا۔

الدَّقْعُ - نمکین۔ تھوڑی روزی کا خواہاں
الأَدَقْعُ - مٹی۔ جَوْحَانٌ أَدَقْعٌ -
سخت بھوک۔

الدَّقَاعُ وَ الدَّقَاعُ وَ الدَّقْعُ
- دھیم کی زیادتی کے ساتھ، مٹی۔

الدَّقَاعُ - مٹی۔ بنجر زمین۔ کہا جاتا ہے
"رَأَيْتُ القَوْمَ صَقَعِي دَقْعِي"
یعنی زمین سے چٹے ہوئے۔

الدَّقْعَةُ - فقر و ذلت۔
المَدَقْعُ - مٹی سے لگا ہوا ذلیل۔

بھاگنے والا۔ دُبلان۔ جُتوہ
 مُذِجِع۔ سخت بھوک۔
 اِلْمُدْقَامُ۔ حریص۔ کمی پر راضی ہونے
 والا۔
 دَقَلَهُ (دَن) دَقْلًا۔ روک دینا۔ محروم
 کرنا۔ ناک یا منہ پر مارتا۔ (ر۔
 دُقُولًا) غائب ہونا۔ فیہ
 وَاظَلُّهُ بُونًا۔
 اَدْقَلُّ۔ اَلْفَحْلُ۔ کھجور کا خراب روی
 پھل لانا۔ اَلرَّجُلُ۔ آدمی
 کا چھوٹے اور کمزور بچہ والا ہونا۔
 الشَّامُ۔ بکری کا دہلی و
 کمزور ہونا۔ صفت (مُدْقَلُّ)۔
 الدَّقْلُ۔ روی اور ادنیٰ قسم کی کھجور۔
 بادبان کا ڈنڈا۔ کہا جاتا ہے۔
 اِنَّكَ اَطْوَلُ مِنَ الدَّقْلِ وَاَنْتَ
 تَنْتَعِرُ كَلَامَكَ فَتَمُرُ الدَّقْلُ۔
 میں دیکھتا ہوں کہ تم بادبانی ڈنڈے
 سے بھی زیادہ دیر باز ہو۔ اور گفتگو
 بھی روی و نازکارہ کرتے ہو۔
 الدَّقْلُ۔ جسم کی کمزوری۔
 الدَّقْلَةُ وَالِدَقِيْلَةُ وَالِدَقِيْلَةُ۔
 دہلی کمزور بکری۔ ج۔ دَقَالٌ و
 دَقَالِيْلٌ۔
 دَقْبَهُ (دَن) دَقْمًا۔ سینہ پر مار کر
 دھکا دینا۔ وَاَنْتَ تَوْرُنَا۔
 اَلْمَرْيِخُ عَلَيْهِ۔ ہوا کا آنا۔
 دَقْمٌ (دَن) دَقْمًا۔ سانس کے دانوں
 کا گزنا۔ صفت (دَقْمٌ وَاَدَقْمٌ۔
 اَدَقْمٌ۔ فَاة۔ اَخْمٌ) دانوں کو توڑنا۔
 الدَّقْمُ۔ سخت نم۔
 الدَّقْمَةُ۔ منہ کا اگلا حصہ۔
 دَقْنٌ (دَن) دَقْنًا۔ ٹھوڑی پر مگنا مارنا۔
 منع کرنا۔ محروم کرنا۔
 دَقْنٌ (دَن) دَقْنَا۔ اَلْحَارِطُ۔ دیوار کو

گرا کر زمین کے برابر کرنا۔
 اَلْاَسْمَانُ۔ زمین کی اونچ نیچ
 نکال کر اس کو ہموار کرنا۔
 اَلتَّرَابُ۔ مٹی کو کوٹ کر برابر
 کرنا۔ اَلْبَسْرُ۔ کنویں پر
 مٹی وغیرہ ڈال کر پلٹ دینا۔
 اَلتَّرَابُ عَلٰی الْمِيْتِ۔ میت
 پر مٹی ڈالنا۔ ۵۔ وَفِجْ كَرْنَا
 دھکا دینا۔ اَلدَّابَّةُ رَفِي
 السِّيْرِ۔ جانور کو چلا کر تھکانا۔ کتے
 ہیں۔ دَكَبَتِ اَلْحَمِيَّ الرَّجُلُ۔ بخار
 نے آدمی کو کمزور کر دیا۔
 دَكَبٌ۔ بیمار ہونا۔
 دَكَبٌ۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ۔ ایک چیز
 کو دوسری چیز سے ملانا۔ مخلوط
 کرنا۔
 اِنْدَكُ۔ ہموار ہونا۔ اَلرَّجُلُ۔
 ریت کا تہ بہ تہ ہونا۔ اَلسَّنَاهُ
 كُوْبَانُ كَالْبَيْطِ كَمَا يَرَابُ بُونًا۔
 تَدَاكُ۔ عَلَيْهِ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا
 بھیر کرنا۔ ہجوم کرنا۔
 الدَّكُ۔ مَضُ۔ ہموار زمین۔ ہموار جگہ
 ج۔ دَكُوْبٌ۔
 الدَّكُ۔ ج۔ دَكَلَةٌ۔ دِرَابُ الدَّكَاؤُ
 ج۔ دَكَاوَاتٌ۔ نرم مٹی کا ٹیلہ۔
 پست پناڑ جس کی اوپر کی سطح
 چوڑی ہو۔
 الدَّكَةُ اَزْ اَرْبَعٍ مَعَ قَطْعِ الْمِيْلَةِ
 ہے۔
 الدَّكَةُ۔ ہموار میدان۔ بیٹنے یا
 کرسی رکھنے کے لیے ایک چوڑی۔
 ج۔ دَكَاكٌ۔
 الدَّكَاكُ۔ دکان چوڑی۔ ج۔ دَكَاكِيْنٌ
 الدَّكَاكُ۔ بہت کوٹنے پینے والا۔
 بہت روندنے والا۔

اَلادْكُ۔ چوڑی پیٹھ والا اور پست قد
 گھوڑا۔ كُوْبَانُ مَدْرِكُنِي وَالْاَوْنُ
 اس کا اسم الدَّكُ ہے۔ ج۔
 دَكٌ وُدْكٌ۔ مُزَنٌ دَكَاؤُ
 — يَوْمَ دَكِيْنٌ۔ پھرادن۔
 — شَعْرًا وَاَحْوَالٌ دَكِيْنٌ۔
 پورا مہینہ یا سال۔
 اِلْمَدَاكُ۔ مضبوط۔ قوی ہیکل آدمی۔
 ہموار کرنے کا آلہ۔ اَمَّةٌ
 مِدْكَةٌ۔ وہ چھوڑی جو کام کرنے
 میں بہت مضبوط ہو۔
 دَكْبَاكُ۔ اَلْحَفْرَةُ۔ گڑھے کو مٹی
 سے بھرنا۔
 تَدَاكُكُتُ۔ اَلجِبَالُ۔ پہاڑوں کا
 گڑ گڑ ہموار ہو جانا۔
 الدَّكْدَكُ وَالِدِكْدِكُ ج۔ دَكَاوِكُ
 وَاَلدَّكْدَاكُ ج۔ دَكَاوِيْكُ
 سخت زمین۔
 دَكْسٌ (دَن) دَكْسًا۔ اَلشَّيْءُ۔ بھرنے۔
 مٹی کا ڈھیر لگانا۔
 دَكِسٌ (دَس) دَكْسًا۔ اَلشَّيْءُ۔ کسی
 شے کا تہ بہ تہ ہونا۔ ڈھیر لگانا۔
 اَدَكْسٌ۔ اَلْمَكَانُ۔ کسی جگہ کا سبزی
 لگانا۔
 الدَّكِيْسَةُ۔ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں کی
 جماعت۔ گروہ۔
 الدَّاِكِيُّ۔ فَا۔ چھینک وغیرہ سے
 شگون لینا۔ اَلدَّاِكِيُّ مِنَ
 اَلطَّبَايَا۔ پیچھے سے آنے والا بہن
 الدَّكَاكِيُّ۔ اَوَّلُهُ۔ اَلدَّوْكِيُّ۔ غیر۔
 چوپایوں اور بکریوں کا بڑا ریوڑ۔
 دَكَلٌ (دَن) دَكَلًا۔ اَلطَّبِيْنُ۔
 پانی کے لیے ہاتھ سے گانا جمع کرنا
 — اَلشَّيْءُ۔ روندنا۔
 دَكَلٌ: اَلدَّابَّةُ۔ جانور کو مٹی میں لوٹانا۔

تَدَاكُلٌ - مغرور ہونا۔ خود کو بڑا جاننا۔
 علیہ۔ ناز کرنا۔ مکہبرانہ
 سلوک کرنا۔ عنہ۔ دیر لگانا۔
 الدَّكَلَةُ - پتلا کارا۔ خود کو بڑا جاننے
 والے لوگ۔
 الأَدَاكِلُ - سیاہی مائل رنگ والا۔
 الدَّكِيْلُ - روند ہوا۔
 دَكَمَ دَنٌ دَكَمًا - الشَّيْءُ - بعض کو
 بعض پر کوٹنا۔ ءُ فِي صَدْرِهِ -
 سینہ پر مار کر ہٹانا۔ فَاؤُ او
 أَنْفَهُ - منہ یا ناک توڑنا۔
 دَكَمَهُ - فِي الشَّيْءِ - داخل کرنا۔
 ءُ فِي رَأْسِهِ - سر میں سینگ
 مارنا۔
 تَدَاكَمَ - القَوْمُ - ایک دوسرے
 کو ہٹانا۔ وکیلنا۔
 الدُّكْمَةُ - سیاہی مائل رنگ۔
 دَكَنَ دَنٌ دَكْنًا وَدَكْنًا - المتَاعُ -
 سامان کو ترتیب دینا۔ اور اوپر
 نیچے چننا۔ دَكَنَ الدُّكَانَ
 دکان لگانا۔ جانا۔
 دَكِنَ دَسٌ دَكْنًا - سیاہی مائل ہونا
 صفت رَا دَكْنٌ مَوْنٌ دَكْنًا
 ج۔ دَكْنٌ - الثَّوْبُ - کپڑے
 کا میلاٹھا ہونا۔
 الدُّكْمَةُ - سیاہی مائل رنگ۔
 الدُّكَانُ - دکان۔ بیٹھنے کی بیچ۔ چہترہ
 ج۔ دَكَاكِيْنٌ - دگر فارسی ہے۔
 الدُّكَايُ - دکان والا۔
 دَلَّهَ دَنٌ دَلَالَةً وَدُلُوْلَةً - و
 كَرِيْلِي - اِلَى الشَّيْءِ وَعَلَيْهِ -
 راہ نمائی کرنا۔ راستہ دکھانا۔
 د۔ دَلَّوْ دَلَالًا وَدَلَّوْ دَلَّوْ - دَسٌ
 دَلَّوْ نَارُوْخَرَهَ كَرْنَا - الْمَرْأَةُ
 عَلِي زَوْجَهَا - عورت کا اپنے شوہر

پر بناوٹی جرات دکھانا اور جموں
 مخالفت کرنا۔ الرجلُ -
 فخر و غرور کرنا۔ اپنی بخشش پر
 احسان جتانہ۔
 آدَلٌ إِذْلَالٌ - عَلَيْهِ - کسی کی محبت
 پر بہت اعتبار کر لینا۔ اور اسی سے
 ہے یہ قول " آدَلٌ فَا مَلَّ"
 جرات کرنا۔ عَلِي أَقْرَانِهِ
 اپنے ساتھیوں کو اوپر سے دبا
 لینا۔ الْبَايِزِيُّ عَلِي
 صید ہوا۔ باز کا اپنے شکار پر
 جھپٹا مارنا۔ کہتے ہیں " هُوَ
 يُدِلُّ بِهِ " وہ اس پر بھروسہ
 کرتا ہے۔
 آدَلٌ - بِالطَّرِيقِ - راستہ پہچاننا
 تَدَاكُلٌ - عَلَيْهِ - گستاخی و جرات
 کرنا۔ الْمَرْأَةُ عَلِي زَوْجَهَا -
 ناز و غمزہ کرنا۔
 إِندَلٌ - رَاسْتَهَ پَانَا - الْهَاءُ -
 پانی کا گرنا۔
 إِسْتَدَلَّ - عَلَيْهِ - نشان دریافت
 کرنا۔ پتہ دریافت کرنا۔
 إِسْتَدَلَّ بِكَذَا عَلَي الْأَمْرِ -
 کسی امر پر دلیل کرنا۔ یا نتیجہ نکالنا۔
 الدَّالَّةُ - مَوْنٌ - دَالٌ - ناز و غمزہ۔
 جرات۔ کہا جاتا ہے " لَهَ عَلَيْهِ
 دَالَةٌ " اس کو اس پر ناز ہے۔
 الدَّلُّ - مَعْنُ - اچھی نصیحت۔ حالت
 سکون و طینان۔
 الدَّلَاوِلُ - ناز و غمزہ۔ وبقار۔
 الدَّالُوْلَاءُ - ناز کرنا۔
 الدَّلَالَةُ - دلال کی مزدوری یا پیشہ
 راہبری اجرت۔
 الدَّلَالُ - نِيْلَامُ كَرْنَهَ وَالْأَدْوِي - دلال
 کرنے والا۔

الدَّرِيْلُ - ج۔ آدِلَةٌ وَآدِلَاءُ وَ
 (الدَّلَالَةُ) - ج۔ دَلَالِيْلُ -
 جس سے رُشد و ہدایت ملے۔
 دِلِيلٌ وَحِجْتٌ - الدَّرِيْلُ -
 رہنا۔ مُرْشِدٌ -
 الدَّلَّةُ - احسان۔ ناز و غمزہ۔
 الأَدَلُّ - احسان جتانے والا۔
 الدُّلِي وَالدَّلِيْلَةُ - کھلی سڑک۔
 واضح راستہ۔
 المِدَالُ - اپنے اوپر اور اپنے سامان
 پر بھروسہ رکھنے والا۔
 المِدَالُ بِالطَّجَاعَةِ - دیر۔
 جری۔
 الدُّبُّ - وَرَخْتٌ چنار۔ وَاحِدٌ
 (دُؤْبَةٌ)۔
 الدُّبَّةُ - سیاہی۔
 الدَّالِبُ - دہکتی ہوئی چنگاری۔
 الدَّوْلَابُ وَالدَّوْلَابُ - بہت۔
 محمد پر گھومنے والی چیز۔ ج۔
 دَوَّالِيْبٌ - ایہ کلمہ دخیل ہے
 المَذْكِبَةُ - بہت چنار کے درختوں
 والی زمین۔
 الدَّكْبُوْفُ - ایک قسم کی گھاس کا نام۔
 دَكْفُ دَمْنٌ، كَرِيْلِيًا - چھوٹے چھوٹے
 قدموں سے چلنا۔
 تَدَاكَلَفٌ - الْبِهْ - کوہٹنا جس پر
 اِنْدَلْتُ - الرَّجُلُ - ٹھوس رہنا۔
 اِدْلَفٌ - الشَّوْءُ - اچھا لگنا۔
 الدَّوْلَابِيُّ - تیز رو۔ کہتے ہیں " رَجُلٌ
 دَلَّوْ وَنَاقَةٌ دَلَّوْ " - ج۔
 دَلْتُ وَدَلْتُ -
 دَلَجَ دَنٌ دَلُوْجًا - کہیں سے پانی
 لے کر حوض میں ڈالنا۔ صفت۔
 (دَالِجٌ) - ج۔ دَلَجٌ -
 اَدْلَجَ اِدْلَجًا وَادْلَجَ اِدْلَجًا -

— القومہ تمام بات یا آخری
حصہ میں سفر کرنا۔ اسم الدَّجَّةُ
والدَّجَّةُ،
الدَّجَّةُ والدَّجَانُ والدَّجَّةُ آخری
رات کی گھڑی۔
الدَّوْلَجُ سرنگ (— والمدَّجَّةُ)
وحشی جانوروں کا بھٹ۔
المدَّجَّةُ۔ دودھ لے جانے کے لیے
گھڑی یا چمڑے کا بڑا برتن۔ ڈول۔
المدَّالَجُ۔ آخری رات میں چلنے کا عادی۔
دَلَحَ دَف، دَلُوْحًا۔ بوجھ کے سبب
آہستہ رفتاری سے چلنا۔ سستی
سے چلنا۔
تَدَّالِحَ الرَّجُلَانِ الشَّيْءَ۔ دو شخصوں
کا گھڑی پر بوجھ اٹھانا۔
الدَّالِحُ۔ ج۔ دَلَحَ وِدَّوَالِحُ و
الدَّالُوْحُ) ج۔ دَلَحَ۔ پانی سے
بہت بھرا ہوا بادل۔ قوس دَلَحَ۔
سوار کو نہ ستانے والا گھوڑا بہت
پسینہ والا گھوڑا۔
خَلِيحٌ دَس، دَلَحًا۔ موٹا ہونا۔
— الْإِنَاءُ۔ برتن کا بھر کر
پر پڑنا۔
الدَّالِحُ۔ موٹا۔ فریب کہتے ہیں۔ بعيرٌ
قَالِحٌ وَابِلٌ دَلَحٌ وَدَّالِحٌ۔
الدَّالُوْحُ۔ موٹا۔ ج۔ دَلَحَ۔
دَلْدَلٌ دَلْدَلَةٌ۔ اعضائے
اور آستہ۔ چلنے میں اعضائے بدن
یا سر کو ہلانا۔
تَدْدَلَلٌ۔ فی مَشِيئَةٍ۔ ہلنا۔ روکھڑانا۔
— الشَّيْءَ۔ ہلنا۔ ٹکٹے ہوئے
حرکت کرنا۔
الدُّدَلُّ والدُّدُلُّ۔ سیبی۔
الدُّدُلُّ۔ بڑا کام۔
الدُّدَالُ۔ اضطراب۔ قوم دَلْدَالٌ

نغزٹں بجام چلنے والی قوم۔
دَلَسَ۔ الْبَالِغُ بائع کا مشتری سے
فروخت کی جانے والی چیز کا عیب
چھپالینا۔ الْمَحْدِثُ۔ محدث
کا اپنے شیخ کا نام نہ لینا۔ بلکہ
اوپر کے شاہی کا نام ایسے نہج
سے لینا کہ گویا اس کو اس سے سماع
حاصل ہے۔
دَالَسَهُ مَدَّالَسَةً۔ دھوکا دینا ظلم کرنا
کہتے ہیں "هُوَ لَا يَدَّالِسُ و
لَا يُوَالِسُ" وہ نہ ظلم کرتا ہے
نہ خیانت۔
أَدَلَسَ۔ الْمَكَانُ۔ موسم گرما کے
آخر میں یا چر لینے کے بعد کسی جگہ
کا سرسبز ہونا۔
تَدَلَسَ۔ الرَّجُلُ۔ چھپنا۔
الطَّعَامَ مَقْوُورًا مَقْوُورًا کھانا۔
— الدَّابَّةُ۔ جانور کا
چراگاہ میں مقوڑی سی گھاس کو پورا
چرانا۔
إِنْدَلَسَ۔ الشَّيْءُ۔ پوشیدہ ہونا۔
الدَّلَسُ۔ دھوکا۔ فریب۔ الدَّلَسُ
والدَّلَسَةُ۔ اندھیرا۔
الدَّلَسُ۔ وہ پودا یا بونہ جو موسم گرما
کے آخر میں یا چر لینے کے بعد ہرا
ہو جائے۔ ج۔ آدَلَسَ۔
دَلَسَ دَن، دَلَيْصًا۔ چکنا۔ نرم
ہونا۔ صفت (دَلِيصٌ)۔ ج۔
دَلَاصٌ وِدَلِيصٌ) ج۔ دَلَسَ۔
دَلِيصٌ دَس، دَلَاصَةٌ۔ سامنے
ہونا۔ صفت (أَدَلَسَ) مؤنث
دَلْصَاءُ۔ ناپ دَلْصَاءُ
بڑھاپے کی وجہ سے وانت گر جانا۔
دَلَسَ۔ الشَّيْءَ۔ نرم کرنا۔ صاف
اور چمک دار بنانا۔ کہتے ہیں۔

دَلَسَ السَّيْلُ الْحَجْرَ۔ سیلاب
نے پتھر کو چمک دار بنا دیا۔
الدَّرَسُ۔ زره کو نرم و ملائم کرنا
— الْجَبِينُ۔ پیشانی کے
بال نوچنا۔
إِنْدَلَسَ۔ الشَّيْءَ مِنْ يَدِهِ۔ ہاتھ
سے چھوٹ کر گر جانا۔ الشَّيْءُ
مِنْ الشَّيْءِ۔ نکلنا۔
الدَّلِيصُ وَالِدَلِيصَةُ۔ ہموار زمین۔
الدَّلَاصُ۔ نرم۔ چمک دار۔ کہتے ہیں۔
دَلَسَ دَلَاصًا۔ نرم۔ چمکدار زره
الدَّلَاصُ۔ نرم کرنا۔ چکنا۔
دَلَّظَهُ دَمَن، دَلَّظًا۔ سینہ پر
مار کر دھکیلنا۔ بٹانا۔ "دَلَّظَ
فِي سَيْرِهِ"۔ جلدی چلنا۔
دَالَّظَةُ۔ مافعت کرنا۔
إِنْدَالَّظَ۔ الْمَاءُ۔ پانی جاری ہونے
لگا۔
دَلَعَ دَف، دَلَعًا وَاذَلَعَ۔ لِسَانَهُ
زبان نکالنا۔
دَلَعَ دَفَن، دَلَعًا وِدَلُوْعًا۔ و
إِنْدَلَعَ وَاذَلَعَ۔ لِسَانَهُ۔
زبان کا منہ سے باہر نکلنا۔
إِنْدَلَعَ الْبَطْنُ۔ پیٹ کا بڑھ کر
ڈھیلنا ہونا۔ السيفُ۔ تلوار
کا میان سے نکلنا۔
الدَّلِيحُ وَالِدَلُوْحُ۔ کشادہ اور فراخ
راستہ۔ نرم راستہ۔ ج۔
دَلَايِحٌ۔ والدَلُوْحُ مِنْ
النُّوْقِ۔ رفتاریں اونٹوں سے
آگے نکل جانے والی اونٹنی۔
الدَّلَايِعُ وَالِدَلُوْعَةُ۔ گونگا۔
المدَّالِحُ۔ ناز و نعمت میں پلا ہوا۔ اسم
الدَّلَايِعَةُ، یہ مولین کا کلام ہے۔
دَلْعَسَ وَالِدَلْعَسُ وَالِدِلْعَسُ۔

وَالِدِ لَعُوسٍ وَالدِّ لَعَّاسٍ وَ
الدَّلَّاعِيسُ - مِنَ الْجَمَّالِ
سدا ہوا اونٹ۔
الدِّ لَعَّانُ - لیس مار چکنے والی مٹی۔

(لغت عامیہ)
دَلَعَتْ (مَنْ) دَلَعًا وَدَلَعًا وَدُلُوقًا وَ
دَلِيقًا وَدَلَفَانًا - بیڑی پڑے
ہوئے کی طرح پھوٹے پھوٹے
قدموں سے چلنا - النَّاقَةُ
يَحْمِلُهَا - اونٹنی کا بوجھ لے کر
اٹھنا - الْجَيْشُ - لشکر کا
آگے بڑھنا - صفت (دَالِفٌ)
ج - دُلْفٌ وَدُلْفٌ -

أَدْلَفَ - لَهُ الْقَوْلُ - سختی سے کلام
کرنا - الْيَكْبَرُ - آہستہ چلانا
تَدَلَّفَ - إِلَيْهِ - چل کر نزدیک ہونا۔
إِنْدَلَفَ - عَلَيْهِ - کرنا۔
الدَّالِفُ - نشانہ کے قریب گر کر اچھٹ
جانے والا تیر۔

الدِّالِفُ - بہادر۔
الدَّلُوفُ - تیز اثران کا گدھ۔ فسربہ
اونٹ۔ بہت پھل دار کھجور کا درخت
ج - دُلْفٌ -

الدُّلْفَيْنُ - ایک قسم کی بڑی مچھلی۔ ج
دَلَّافَيْنُ - اس کے ہم معنی عربی
میں الدُّخْسُ ہے۔

دَلِقَ (مَنْ) دَلِقًا وَدَلِقًا - السَّيْفُ
مِنْ غَمْدِهِ - تلوار کو میان سے
نکالنا - دَلِقَ الْبَابُ - دروازہ
کو زور سے کھولنا - عَلَيْهِمُ
الْعَاسِقَةُ - لوٹ ڈالنا -
الْبَعِيرُ شَقِيقَتُهُ - اونٹ کا اپنے
منہ سے بیلے نکالنا۔ جھاگ نکالنا۔
د - دَلِقًا وَدُلُوقًا، السَّيْفُ
تلوار کا خود بخود نکل پڑنا -

الْخَيْلُ - گھوڑوں کا آگے پیچھے
نکلنا۔ صفت - (دُلِقٌ) - واحد۔
(دَالِقٌ وَدُلُوقٌ)

إِنْدَلِقَ - الشَّيْءُ - کسی چیز کا اپنی جگہ
سے نکلنا - السَّيْلُ عَلَيْهِ -
سیلاب کا کسی پر امنڈ آنا -
السَّيْفُ - تلوار کا خود بخود نکل
پڑنا - الْخَيْلُ - گھوڑوں
کا بہت تیزی سے نکل جانا۔

تَدَلَّقَ - السَّيْلُ عَلَيْهِ - سیلاب کا
ایک دم بہ پڑنا۔

إِسْتَدَلَّقَ - السَّيْفُ - تلوار کا
میان سے نکالنا۔

الدَّلِقُ - جسم میں بلی کے قریب قریب
زرورنگ کا ایک جانور جس کا
پیٹ اور گردن مائل بہ سپیدی
ہوتے ہیں - سَيْفٌ دَلِيقٌ وَ
دَالِيقٌ وَدُلُوقٌ - میان سے
آسانی سے نکلنے والی تلوار -
غَاذَةٌ دَلُوقٌ - سخت لوٹ۔
نَاقَةٌ دَلُوقٌ - بڑھاپے کے
سبب دانت ٹوٹی اونٹنی۔ ج
دُلِقٌ -

دَلِكٌ (مَنْ) دَلِكًا - الشَّيْءُ - رگڑنا۔

مٹنا۔ کھرچنا - هَذَا الدَّهْرُ -
زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا -
وَجْهَةٌ بِالطَّيِّبِ - چہرہ پر خوشبو
لگانا - الرَّجُلُ حَقِيقَةٌ - حق
نظمًا چھیننا - عَرِيْمَةٌ - قرض
خواہ کوٹانا۔ د - دَلُوكًا، الشَّمْسُ
سورج کا غروب ہونے کے لیے
جھکنا۔ صفت - (دَالِكٌ)
دَالِكٌ مَدَالِكَةٌ - العَرِيْمَةُ - قرضخواہ
کوٹانا۔

تَدَلَّتْ - نہاتے وقت بدن مٹنا۔

- بِالطَّيِّبِ - خوشبو لگانا۔
الدَّلِكُ - ڈھیلا پن۔ کہتے ہیں "بِئْسَ
رُكْبَتِيهِ دَالِكٌ" اس کے زانو
میں ڈھیلا پن ہے۔ غروب آفتاب
کا وقت۔

الدَّلُوكُ - لگانے کی خوشبو یا مٹنے کی
دوا وغیرہ۔

الدَّرِيكُ - تجربہ کار۔ چشیدہ روزگار۔
ج - دَلِكٌ - وہ خاک جس کو ہوا
اڑاتی پھرے۔ ایک پودا۔

الدُّدُوكُ - بڑا معاملہ۔ ج - دَالِيكٌ
الْمَدَالِكُ وَالْمَدَالِكَةُ - مٹنے کا آلہ۔
الْمَدَالُوكُ - مفع۔ البعير المدلوك

کمزور گھٹنوں والا اونٹ۔ وہ شخص جو
سفر سے تجربہ کار ہو گیا ہو۔

الْمَدَالِكُ - وہ شخص جو خود کو پھوری
باتوں سے بلند نہ کر سکتا ہو۔

دَلِكٌ (مَنْ) دَلِكًا وَدَلِكًا إِذْ لِيَمَامًا
چمک دار سخت سیاہ ہونا۔ صفت۔

دَالِمًا (مَنْ) مَوْتًا - دَلْمَاءٌ -
دَلِمَتِ الشَّفَةِ - ہونٹ کا ڈھیلا
ہو کر تک جاننا۔ إِذْ لَمَّا الدَّلِيلُ -

رات کا بہت تاریک ہونا۔

أَدَلِمَهُ - شَفَتَهُ - ہونٹ کو ڈھیلا کرنا
الدَّلِمَةُ - مام۔

الدَّلَامُ - سیاہی سیاہ۔ کہتے
ہیں "شَيْءٌ دَلَامٌ" کالا چیز

الدَّمَاءُ - قمری عیشہ کی عیسویں
رات۔

الأدلم - مِنَ الألوآن - کالا۔
الأدعم - سائب - لبا کالا۔

الدَّيْلَمُ - گردوں میں ایک قوم کا نام
مصیبت۔ جو من کے نزدیک

چیونٹیوں اور چھوٹوں کے جمع
ہونے کی جگہ۔ لشکر۔ زرتیتر۔

<p>الدَّالَةُ - مَهْرًا فَوْقَ - ذُو لِي - ج - ذَلِي وَذَلَوَاتُ - الدَّالِي - فَا - سِيَاهِ انْغُورِ الدَّالِيَّةُ - رِهْطٌ - زِمِينَ جِسْمِ كُوْدُولِ يَأْ رِهْطٌ سَيِّئًا جَاتَا هُو - انْغُورِ كِي بِل - ج - ذَوَالِي - (يَهْ مَوْلِدْ هِي) ذَلِي (دَس) ذَلِي - حِيرَانْ هُونَا - تَدَلِي - بَهْ - قَرِيبْ هُونَا - لَهْ ، كُوسِي كِهْ سَا مَنِي تَوَاضِعْ كَرْنَا - فَرُوتِي كَرْنَا - خَا كَسَارِي كَرْنَا - ذَمَّنْ (دَس) ذَمَّا - الشَّيْءُ بِالْحَبِيبِ أَوْ الْقَيْرِ وَنَحْوِهِمَا - رَنُكٌ يَأْ تَارِكُولِ لَتَحِيرُنَا - لَمْنَا - الْاَرْضُ زِمِينَ كُوْبَرَابِرْ كَرْنَا - الْيَزْبُوعُ حُجْرَةٌ - جَنْغَلِي چُوْبِي كَا اِپْنِي سُوْرَاخِ كُوْمِي وَغِيْرَهْ سِي بَرَابِرْ كَرْنَا - بَنْدْ كَرْنَا - الرَّجُلُ - كُوسِي كُو پَهِي طَرَحْ عَذَابِ دِيْنَا - مَارْنَا يَأْسِرْ كُچَلْنَا - الْقَوْمُ - نِيْزَهْ مَارْ كَرْ تَبَاهْ كَرْدِيْنَا - الرَّجُلُ - تِيْزْ چَلْنَا - ذَمَّنْ (دَس) ذَمَامَةٌ - حَقِيْرُو بَدِيْئِيْتْ هُونَا - صَفْتْ - (ذَمِيْمٌ) جَرْدَمَامٌ - مَوْنُثْ ذَمِيْمٌ وَدَمِيْمَةٌ - ج - ذَمَائِمٌ وَدَمَامٌ - ذَمَمَ - الشَّيْءُ - لَتَحِيرُنَا - أَدَمَ - الرَّجُلُ - بَدْزِيَانِي كَرْنَا - بِدَشْكَلِ بِيْنَا پِيْدَا هُونَا - الدَّمُّ وَالِدَمُّ وَالِدِمَامٌ - هَرَايَكِ چِيْزِ بُوْطَلَا كِهْ كَامِ مِيْنِ آئِي - الدَّمُّ - دَمْرُخُونِ مِيْنِ اِيَكِ لَعْنَتِ الدَّمَّةُ - جِيُونِي - جُونِ - مِيْنِ كِي - بَكْرِيُو كَابَاڑَا - بِلِي - پَسْتِ قَدِ - حَقِيْرِ الدَّمَّةُ - طَرِيْقِي كَرُوِيَا - ج - دَمَمَ - الدَّمِيْمُوْمُو وَالِدَمِيْمُوْمَةٌ - وَسِيْحِ</p>	<p>کے لیے کہینہنا - حاجتہ حاجت طلب کرنا - ذَلَاةٌ - زِمِي اُوْر مَدَارَاتِ كَا سَلُوْكِ كَرْنَا - كِيْتِي هِيْنِ "ذَلُوْتٌ بِفُلَانِ اِيْنِيَكِ" مِيْنِ نِي فُلَانِ كُو سَفَارَشِي بَنِيَا - "وَذَلَاةٌ بَعْرُوِيَا" اُوْر اِسْ نِي اِسْ كُو دُھُوْكِهْ مِيْنِ ڈَالَا - ذَلُوْتٌ بِالذَّلُوِي - مِيْنِ نِي ڈُوْلِ سِي پَانِي كِي سِيْنِيَا - ذَلَاكًا بِالْحَبْلِ مِنِ السُّطْحِ اِسْ نِي اِسْ كُو رَسِي كِهْ ذَرِيْعَهْ چِهْتِ پَرَسِي لُكَايَا - ذَالَاةٌ - كُوسِي كِهْ سَا مَنِي رَفْقِ وَزِمِي كَا سَلُوْكِ كَرْنَا - مَدَارَاتِ سِي پِيْشِ آئَا - اَدَلِي - اَدَلَاةٌ - ڈُوْلِ كُو كُنُوْسِ مِيْنِ لُكَا نَا - فِيْهِي - كُوسِي كِي بَدْگُوْنِي كَرْنَا - غِيْبَتِ كَرْنَا - بِقَوَابِيْتِهِي - رِشْتِي دَارِي كَا وَسِيْلِي پَرُوْنَا - بِحُجَّتِهِي - دِلِيْلِ پِيْشِ كَرِي كِهْ اِسْ سِي حُجَّتِ لَانَا - اِيْهِي بِعَالِ - دِيْنَا - اَدَلِي اِلِي فُلَانِ "كُوسِي كِهْ پَا سِي اِپْنَا جُكْرِيَا لِي جَانَا - تَدَلِي - الشَّجَرُ مِنَ الشَّجَرِ - وَرَحْتِ مِيْنِ بِلِ لُكْنَا - مِيْنِ الْخِيْلِ - كُوْمِي سِي اِپْنَا - رَذَلُوِي - بِاَدَلِيْلَاةٌ - جَلْدِي كَرْنَا - الذَّلُوِي - مَعِي - فُوْلِ - مَوْنُثْ هِي كِي ذَكْرِيُوْمِي لُكْنَا هِي سِي جَرِ - ذَلَاةٌ وَأَدَلِي وَوَدَلِي وَوَدَلِي وَذَلِي كِيْتِي هِي "اَلَّذِي ذَلُوْكُ فِي الدَّلَاةِ" يَعْنِي اُوْرُوْنِ كِي طَرَحِ تَمِ بِيْرَا اِپْنِي كُو شَشِ كَرِي كِهْ دِي كُوْمِي - اِيَكِ بِرَجِ اَسْمَانِي كَا نَامِ - اُوْرِي كَا دَارِخِ مَعِيْبِيْتِ -</p>	<p>بھٹ تیر - الدَّلِيْسُ وَالذَّلَامُ - نَخْتِ اَنْدِ حِيْرَا مَعِيْبِيْتِ - الدَّلِيْسُ - مَعِيْبِيْتِ - تَدَلَمَ - رَأْسُهُ - سَرَا چَانْدَلَا هُونَا - الدَّلِيْمِيُّ وَالذَّلَامِيُّ - جُكْ دَارِ رَأْسِ ذَلُوْمِي - چَانْدَلَا سَرِ - دَلِي (دَس) ذَلَهَا وَذَلَهَا وَذَلُوَهَا - وَتَدَلَهُ - عَشْقِ يَأْعَمُ كِي وَجْهِي سِي مَسْلُوْبِ الْعَقْلِ هُونَا - حِيرَانْ هُونَا - ذَلَهْ - رَفْ - ذَلَهَا - عَنَهْ - تَسْلِي پَانَا - ذَلَهَا - حِيرَانْ كَرْنَا - بَدْهَرَشِ كَرْنَا - الدَّالِيَةُ وَالذَّالِيَةُ - عَشْقِ وَغِيْرَهْ كِهْ بَاعْثِ كَزُوْرُوْلِ - سَرْگِشْتِي وَ دِيُوَانِي - كِيْتِي هِي - "ذَهَبَ ذَمُّهُ ذَلَهَا" اِسْ كَا نُونِ رَانِگَانِ كِيَا - الْمُدَلَّةُ - حِيرَانْ - كُھُوْنِي هُوْنِي عَقْلِ يَأْ دَلِ وَالْعَاشِقُ يَأْعَزُوْهْ - ذَلَهَتْ - الرَّجُلُ - جَلْدَا كِهْ بَرُحْنَا - الدَّلَهْتُ وَالذَّلَاهَةُ وَالذَّلَاهَاتُ دَلِيْر - آگِي بَرُحْنِي وَالَا - شِيْرِ - رَذَلَهْمَا - اللَّيْلُ - رَاتِ كَا سَحْبِ تَارِيَكِ هُونَا - الظَّلَامُ - اَنْدِ حِيْرَا كُھُپِ هُونَا - الرَّجُلُ بُوْرُحَا هُونَا - الدَّلَهْمُ - تَارِيَكِ - بُوْرُحَا زِيْطِي تِيْر - عَشْقِ سِي كُھُوْنِي هُوْنِي عَقْلِ وَالَا - الدَّلَهَامُ وَالذَّلَهْمَسُ - دَلِيْر - بِهَادِرِ شِيْرِ - الدَّلَهْمَسُ بِهْتِ تَارِيَكِ رَاتِ - ذَلَادَنْ - ذَلُوَادَلِي - الذَّلُو - ڈُوْلِ كُو كُنُوْسِ مِيْنِ ڈَالَا - نِكَا لَنِي</p>
--	--	--

بیابان۔ ج۔ دیا میلہ۔
 الدیمومۃ۔ بمعنی بیفکلی
 ایلمامۃ۔ ایک قسم کی دنداندار لکڑی
 جس سے کاشکار زمین کو ہموار
 کرتے ہیں۔
 المدامومہ۔ خون کی طرح سرخ۔ بہت
 موٹا۔ چربی دار۔
 دمفدک، دمافک۔ نرم خو ہونا۔
 دمفک (س) دمفا۔ امکان وغیرہ۔
 کسی جگہ یا چیز وغیرہ کا نرم اور
 ہموار ہونا۔
 دمف۔ المضجع۔ نرم کرنا۔
 امکان۔ نرم کرنا۔ کہ
 الحدیث۔ بیان کرنا۔ ذکر کرنا۔
 الدامث والدامث والدامث و
 الدمیث۔ نرم ریتلی جگہ۔ ج
 دماث و آدماث۔ اور اسی
 سے ہے "رجل دمف الاخلاق"
 نرم خو۔ خوش اخلاق آدمی۔
 الدماث۔ نرم چیزیں۔ واحد (دمیثہ)
 دمج (ن) دموجا و اندمج و ادمج۔
 فی الشیء۔ کسی چیز کا کسی شے میں
 مضبوطی سے گڑ جانا۔ دمج
 الامر۔ کام ٹیک و درست ہونا۔
 دمجہ۔ فی الشیء۔ داخل کرنا۔ گاڑنا۔
 دامجہ دماجہ۔ علیہ۔ مخالفت
 پر اتفاق کرنا۔
 ادبج۔ الشیء فی الثوب۔ کسی چیز کو
 کپڑے میں لپیٹنا۔ الحبل۔
 رسی کو خوب اچھی طرح بٹنا۔
 الکلامہ۔ کلام کو حسن ترتیب
 سے آراستہ کرنا۔ الفرس۔
 گھوڑے کو ڈبلا کرنا۔
 تدامج۔ القوم علیہ۔ ایک دوسرے
 کی مدد کرنا۔ اکٹھا ہونا۔

تدمج۔ فی بیابانہ۔ اپنے کپڑوں میں
 لپیٹنا۔
 الدامج۔ فا۔ تاریک۔ کہتے ہیں۔ لیل
 دامجہ۔ تاریک رات۔
 الدمیجہ۔ دوست۔ نظیر۔
 الدفجہ۔ طریقہ۔ کہتے ہیں۔ علی
 تلک الدمیجہ۔ اسی طریقہ پر۔
 الدماجہ والدماجہ۔ بہت مضبوط۔
 سیدھا۔
 المدامجہ۔ مفع۔ تیر کی چمڑ۔
 ایلمامجتہ۔ پگڑی۔
 دمخ۔ (ن) دمخا۔ بلند ہونا۔
 راسہ۔ سر پھوٹنا۔
 دمدم۔ دمدمۃ۔ علیہ۔ غصہ
 سے کلام کرنا۔ اللس
 علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان
 کو ہلاک کر ڈالا۔ الشیء۔
 کسی شے کو زمین سے چپکانا۔
 الدمدم۔ خشک گھاس۔
 الدمادم۔ نرم ٹیلے۔
 دمرون، دمورا و دمارا و دمارة۔
 ہلاک ہونا۔ (س) دمورا
 علیہ۔ بغیر اجازت کے داخل
 ہونا یا برے ارادہ سے اچانک آنا۔
 دامر۔ اللیل۔ رات بھر جاگنا۔
 دمرمہ و دممر علیہ۔ ہلاک کرنا۔
 قدامر۔ دمشق سے کچھ فاصلہ پر ایک
 بڑا شہر تھا۔ ایک قلعہ کا نام۔
 التدمری۔ لثیم۔ موٹا جنگل پر ہونا۔
 سخت گوشت۔ کہتے ہیں۔ ما
 فی الدار تدمری۔ گھر میں کوئی
 نہیں ہے۔
 دمسن (ن) دمسا و دموسا۔
 الظلام او اللیل۔ سخت تاریک
 ہونا۔ صفت (دامس)۔

الموضع۔ کسی مقام کا مٹ جانا۔
 دمسنہ (ن) دمسا و دمسه۔
 ڈھانپنا۔ چھپانا۔ دفن کرنا۔
 دمسن علیہ البترا و الخبر۔
 کسی سے بھید یا خبر کو پوشیدہ
 رکھنا۔ بینہما۔ اصلاح کرنا۔
 دمسن (س) دمسا۔ یداع۔ ماتہ
 کا گندگی میں بھر جانا۔
 دامس مدامسہ۔ الشیء۔ چھپانا۔
 پوشیدہ کرنا۔
 آدمس۔ اللیل۔ رات کا تاریک ہونا
 الشیء۔ چھپانا۔
 تدقس۔ لٹھڑنا۔ آلودہ ہونا۔
 اندمس۔ خانہ میں داخل ہونا۔
 الدمس۔ مع۔ دور سے دکھائی
 دینے والی شبیہ و صورت۔ رأیت
 دمسا۔ میں نے ایک صورت
 دیکھی۔
 الدمس۔ من الامور۔ بڑے کام
 کہتے ہیں "جاءنا بامور دمیس"
 وہ بڑے کام لے کر ہمارے پاس
 آیا۔
 الدامس والدیس۔ پوشیدہ۔
 الدماس۔ ہر چھپانے والی چیز۔ جو
 پاور مشکیڑہ پر ڈالی جائے۔
 الداموس۔ شکاری کے چھلے کی جگہ۔
 ج۔ دوا میس۔
 الدیماس والدیماس۔ خانہ۔
 حمام۔ قبر۔ ج۔ دیا میس۔ و
 دمامیس۔ لیل آدموس۔
 تاریک رات۔
 الدیامیس۔ تاریک سے خانے۔ اور
 اسی سے دیامیس رومیثہ
 ہیں۔
 الدمستق۔ یونانی سلطنت میں فوج کا

جریل۔ ج۔ دَمَاسِقُ۔
 دَمَشِقُ۔ الامر۔ کسی کام کو عجلت
 میں ختم کرنا۔ الشیء۔ زینت
 و آرائش دینا۔
 دَمَشِقُ۔ دمشق میں آنا۔
 دَمَشِقُ۔ الیَدَیْنِ۔ تیز دست
 پھرتیلا۔
 دَمَشِقُ دَمَشِقُ۔ شام کا دار الخلافہ
 نسبت کی صورت میں دَمَشِقُ
 بولتے ہیں۔ ج۔ دَمَاشِقَةُ۔
 دَمَصُّ (ن) دَمَصًّا۔ فی الشیء۔ جلدی
 کرنا۔ دَمَصَّتِ الْکَلْبَةُ بَجُودِهَا
 کتیا کا وقت سے پہلے بچہ جن دینا۔
 دَمِصُّ (س) دَمِصًّا۔ سر پر بالوں کا
 کم ہونا۔ ابرو کا سروں پر باریک
 اور درمیان سے موٹا ہونا۔ صفت
 (اَدَمِصُّ) مَوْنُثٌ۔ دَمِصَّاءُ
 ج۔ دَمِصٌّ۔
 دَمَعَتُ (ن) دَمَعًا و دَمِعَتُ (س)
 دَمَعًا و دَمَعَانًا و دَمُوعًا۔
 — الْعَیْنُ۔ آنکھ کا آنسو
 بہانا۔ دَمَعٌ الْإِنَاءُ۔ برتن
 کا بھر جانا۔
 اَدَمَعٌ — الْإِنَاءُ۔ برتن کا کناروں
 تک بھرو دینا۔
 اِسْتَدَمَعٌ۔ آنسو بہانا۔
 الدَّمْعُ۔ آنسو۔ ایک لفظ دَمَعَةٌ
 ج۔ دَمُوعٌ و اَدَمَعٌ۔ دَمَعَةٌ
 الْکَرْمِ۔ شراب۔ اِمْرَأَاتُ
 (دَمِيعَةٌ و دَمِيعٌ) جلد رو پڑنے
 والی اور بہت آنسوؤں والی
 عورت۔ ج۔ دَمِغٌ و دَمَاطٌ۔
 ورجلٌ دَمِغٌ۔ جلدی رو پڑنے
 والا اور بہت آنسوؤں والا مرد۔
 ج۔ دَمَعَاءُ و دَمِغٌ۔

الدَّمَاعُ۔ فا۔ مکانٌ دَامِعٌ۔
 مناک تر چکے۔ شَجَّةٌ
 دَامِعَةٌ۔ خون بہانے والا زخم۔
 الدَّمَاعُ۔ و رخت کے کاٹنے پر اس سے
 بننے والا رس یا مد۔ بیماری یا
 بڑھاپے کے سبب آنکھ سے بننے
 والا پانی۔
 الدَّمَاعُ و الدَّمُوعُ۔ بہت آنسو
 والا۔ مناک جس سے تری ظاہر ہو
 — یَوْمٌ دَمَاعٌ۔ پھوار والا دن
 — قَدَحٌ دَمَعَانٌ۔ لبالب بھرا
 ہوا پیالہ جس سے چیز ٹپکنے لگے۔
 المِدَامِعُ۔ آنسو بہنے کی جگہ۔ ج۔ مَدَامِغٌ
 دَمَعَةُ (ن) دَمَعًا۔ دماغ تک
 زخمی کرنا۔ صفت مفعول (دَمِيعٌ
 و مَدَمُوعٌ)۔ عَالِ الشَّمْسِ
 سورج کا دماغ کو تکلیف پہنچانا۔
 — هـ۔ غَالِبٌ أَنَا — الْحَقُّ
 الْبَاطِلُ۔ حق کا باطل کو مٹانا۔
 بے حقیقت کرنا۔
 دَمَغٌ۔ الْأَطْعِمَةُ بِالْأَسْمِ۔ کھانے
 میں چربی ڈالنا۔
 اَدَمَغَهُ۔ اِلَیْ کَذَا۔ کسی کا حاجت مند
 بنانا۔
 اَدَمَغٌ — الطَّعَامُ۔ کھانا نکلنا۔
 — الشیءُ۔ داخل کرنا۔
 شَجَّةٌ دَامِغَةٌ۔ زخم جو دماغ تک
 پہنچ جائے۔
 الدَّمَاعُ۔ سر کا بیجا۔ ج۔ اَدَمِغَةٌ
 اَمْرٌ الدَّمَاعِ۔ دماغ پر لپٹی
 ہوئی باریک جھلی۔
 دَمَقٌ (ن) دَمُوقًا۔ علیہ۔ بغیر
 اجازت داخل ہونا۔
 دَمَقٌ (ن) دَمَقًا۔ الشیءُ۔ چُرَانًا
 — فَاهُ۔ دانت توڑنا۔

وَدَمَقٌ وَاَدَمَقٌ، الشیءُ رَفِی
 الشیءُ۔ ایک شے کو دوسری میں
 داخل کرنا۔
 اِنْدَمَقٌ۔ علیہ۔ بغیر اجازت کے
 داخل ہونا۔ نکلنا۔
 الدَّمَقُ۔ برف ملی ہوئی سخت ہوا۔
 (یہ فارسی کلمہ ہے)
 الدَّمَاعُ۔ فا۔ دَمُوقٌ و الدَّمُوقُ
 مِنَ الْبُوجَالِ۔ بڑا بے فیض آدمی۔
 المُنْدَمَقُ۔ داخل ہونے کی جگہ۔
 الدِّمْقَسُ و الدِّمْقَاسُ۔ سفید ریشم۔
 دیباچ۔ ثوبٌ مَدَمَقَسٌ۔ ریشم
 سے بنا ہوا کپڑا۔
 دَمَكٌ (ن) دَمُوكًا۔ الْأَرْنَبُ
 خرگوش کا تیز دوڑنا۔ الشیءُ
 کسی چیز کا چکنا اور چمک دار ہونا۔
 (دَمَكًا)۔ الشیءُ۔ پیسنا۔
 — الرِّشَاءُ۔ رسی بٹنا۔
 الدَّامِکَةُ۔ مصیبت
 الدَّمُوکُ۔ تیز گذر جانے والا۔ کہتے
 ہیں۔ رَحَى دَمُوکٌ۔ تیز پیسنے
 والی چکی۔
 اِلْمَدَمَکُ۔ روٹی بڑھانے کا بیلن۔
 اِلْمَدَمَکُ۔ عمارت میں اینٹوں یا پتھروں
 کا رڈا۔ ج۔ مَدَامِکٌ۔
 الدَّمِکَمُکُ۔ بہت مضبوط۔ رَحَى
 دَمِکَمُکٌ۔ بہت پیسنے والی
 چکی۔
 دَمَلٌ (ن) دَمَلًا و دَمَلَاتًا و اَدَمَلٌ۔
 — (الاسمان)۔ زمین میں کھاد
 ڈال کر اس کو درست کرنا۔
 (دَمَلٌ (ن) دَمَلًا)
 الدَّمَلُ۔ پھوڑے کو اچھا کرنا۔
 دَمَلٌ و دَمَلٌ، بَيْنَهُمَا۔
 صلح کرانا۔

<p>کسی کو جلانا۔ دَمِي (س) دَمِي وَ دَمِيَا۔ الْجَوْحُ۔ زخم کا خون دیدینا۔ صفت (دمیہ) دَمِي تَدْمِيَةٌ وَأَدْمِي إِذْمَاءٌ۔ الْجَوْحُ زخم سے خون نکالنا۔ اَدْمِي الرجل۔ کسی کا خون بہانا۔ دَمِي يَفْلَانُ۔ راستہ آسان کرنا قریب کرنا۔ اِسْتَدْمِي۔ من عَرِيْمِيَه۔ قرضدار سے قرض برقی و نرمی وصول کرنا۔ الرجل۔ کسی کا سر جھکا کر ناک سے خون بہانا۔ اَلذَّبِيحُ خون لینا۔ الدَّارِمِي۔ فَا۔ جس کا خون بہتا ہو۔ وَ دَارِمِي الشَّفَةِ۔ غریب یا مانگنے کا حریص۔ الدَّامِيَّةُ۔ مَوْتُ الدَّارِمِي۔ وہ زخم یا چوٹ جس سے خون نکلے۔ الدَّهْ۔ اس کی اصل دَمِي اور بعض کے نزدیک دَمَوِي تھی۔ لام کلمہ حذف کیا گیا، کبھی اس کو میم سے بدل کر دَمٌ مشدود بولتے ہیں شنیہ دَمَانٌ وَ دَمِيَانٌ وَ دَمَوَانٌ ج۔ دَمَاءٌ وَ دَمِيٌّ۔ تَصْغِيرُ دَمِيٌّ نسبت کے لیے (الدَّارِمِيٌّ وَ الدَّامِيٌّ) دَمُّ الْاَخْوَانِ۔ ایک دعا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ كَرِيمٌ وَ دَمٌ خُونٌ كَادِمٌ۔ الدَّمَلَةُ۔ خون کا ٹکڑا۔ الدَّمِيَّةُ۔ پتل خون کی طرح سُرخ بُت۔ ج۔ دَمِيٌّ۔ الدَّمِيَاءُ۔ خیر و برکت۔ الدَّمِيٌّ۔ بہت سُرخ رنگ گھوڑا وغیرہ۔ وہ تیر جس پر خون خشک ہو</p>	<p>الدَّمْلُوكُ۔ چکنا اور گول پتھر۔ دَمْنٌ (س) دَمْنَا۔ الارض۔ زمین میں کھاو ڈالنا۔ دَمِنٌ (س) دَمْنَا۔ النخل۔ کھجور کا سیاہ اور بدبودار ہونا۔ علیہ۔ کسی سے کینہ رکھنا۔ دَمْنٌ۔ البعيرُ المکان۔ اونٹ کا کسی جگہ بیٹھ کرنا۔ باب فلان۔ کسی کے دروازہ کو نہ چھوڑنا۔ فلاناً۔ کسی کو رخصت دینا۔ اَدْمَنُ۔ الشئُ۔ ہمیشہ کرنا۔ کتے ہیں "رَجُلٌ مُدْمِنٌ خُبْرٌ" ہمیشہ شراب پینے والا آدمی۔ تَدْمَنُ۔ المکانُ أَوِ المَاءُ۔ کسی جگہ یا پانی کا اونٹ یا بکریوں کی بینگنیوں سے پلید ہونا۔ الدَّمْنُ۔ مع۔ کھجور کے درخت کی بدبو اور سیاہی۔ الدِمْنُ وَ الدَّمَانُ۔ گوبر کھاو۔ راکھ کھجور کی بو۔ کتے ہیں "هُوَ دَمْنٌ مَالٌ" وہ مال کا منتظم ہے۔ الدِمْنَةُ۔ گھر کے نشانات۔ حوض میں بقیہ پانی۔ گھورا۔ ج۔ دَمْنٌ وَ دَمْنٌ۔ خَضْرَاءُ الدِمْنِ وَ خَضْرَاءُ الدِمْنِ۔ گھورے پراگا ہوا سبزہ یہ دونوں مثالیں ان چیزوں کے لیے بولی جاتی ہیں جن کا ظاہر اچھا ہوا اور باطن خراب و ناکارہ۔ الدِمْنَةُ۔ پرانا بیٹھا ہوا کینہ۔ فِي قَلْبِهِ دِمْنَةٌ۔ اس کے دل میں پرانا کینہ ہے۔ دَمَةٌ (س) دَمَةٌ۔ الرَّمْلُ۔ ریت کا سخت گرم ہونا۔ دَمَهْتُهُ۔ الشمسُ۔ دھوپ کا</p>	<p>دَمَلٌ (س) دَمَلًا وَ اِنْدَمَلٌ وَ اِدْمَلٌ۔ الْجَوْحُ۔ زخم کا اچھا ہونا۔ دَامَلَهُ۔ مدارات کرنا۔ نرمی سے سلوک کرنا۔ تَدَمَلٌ۔ المکانُ۔ کسی جگہ کا کھاو سے درست ہو جانا۔ تَدَامَلٌ۔ القومُ۔ آپس میں صلح کرنا۔ الدَّمَلُ۔ مع۔ نرمی۔ الدَّمَلُ وَ الدَّمَلُ۔ پھوٹا۔ پھنسی۔ واحد۔ (دَمَلَةٌ) ج۔ دَمَاهِلٌ وَ دَمَاهِيلٌ۔ الدَّمَالُ۔ دریا کا بہاؤ میں لایا ہوا خس و خاشاک۔ سٹری ہوئی سیاہ کھجوریں۔ جانوروں کی بینگنیاں اور مٹی وغیرہ جو ان کے پاؤں میں روندی گئی ہو۔ کھاو۔ کتے ہیں "هَذَا دَمَالٌ ذَاكُ" یہ اس کا معنی ہے۔ الدَّمَالُ۔ زمین کو کھاو ڈال کر درست کرنے والا۔ دَمَلَجٌ دَمَلَجَةٌ وَ دَمَلَجًا۔ الشئُ۔ کسی شے کو اچھی طرح ڈھکانا۔ الدَّمَلُجُ وَ الدِمَلُجُ۔ ج۔ دَمَالِجٌ وَ (الدَّمْلُوجُ) ج۔ دَمَالِجٌ۔ بازو بند پہنی۔ کتے ہیں۔ "أَلْقَى عَلَيْهِ دَمَالِجَةً" اس نے اپنا بوجھ اس پر لا دیا۔ دَمَلَحَةٌ۔ لڑھکانا۔ دَمَلَقَةٌ۔ چکنا کرنا۔ ہموار کرنا۔ حَجْرٌ دَمَلَقٌ وَ دَمَلِيقٌ وَ دَمَلِيقٌ۔ چکنا پتھر۔ دَمَلَكٌ۔ الشئُ۔ چکنا کرنا۔ تَدَمَلَكٌ۔ چکنا ہونا۔ الشَّدِيٌّ۔ پستان کا گولائی میں ابرنا۔</p>
---	---	--

<p>الموت ہونا — الشمس سورج کا زرد پڑ کر ڈوبنے کے قرب ہونا — الامر — کام کا نزدیک ہونا۔</p> <p>أَدْلَفُ - المَرِيضُ - بیماری کی شدت کی وجہ سے بیمار کا قرب الموت ہونا — الشمس - سورج کا زرد پڑ کر غروب کے قرب ہونا۔ — المَرَضُ - بیماری کا کسی کو تباہ کر دینا — الشئ - قرب کرنا۔</p> <p>الدَّالْفُ - مص - سخت مَرَضٌ بیماری مَرَضٌ بیماری کا مَرِيضٌ - دمفرد جمع مذکر و مؤنث سب میں یکساں آتا ہے، کہتے ہیں: "كَادَتِ الشَّمْسُ تَكُونُ دَلْفًا" سورج ڈوبنے کے قرب ہے۔</p> <p>الدَّالِفُ - لمبی بیماری کا مَرِيضٌ - ج أَدْنَاؤُ - مؤنث دَلْفَةٌ - ج - دَلْفَاتٌ دَلْفَشٌ - ترچھی نگاہ سے دیکھنا کنکھیوں سے دیکھنا۔</p> <p>دَلِقَ (ن ض) دُلُوقًا - حریص ہونا۔ باریک امور نکالنے کا حریص ہونا۔ مؤنث (دَرْنِيقٌ) - ج - دُلُوقٌ - دَلِقَ - الوجہ - غم یا بیماری سے چہرہ کا نڈھال ہونا — لِلْمَوْتِ قرب الموت ہونا — العَيْنِ آنکھ میں گڑھے پڑنا - حلقے پڑنا — الشمس - سورج کا ڈوبنے کے قرب ہونا — الوجہ - مرنا — اليه النظر - کسی پر ٹٹکی لگانا - کسی کو گھورنا۔</p> <p>الدَّلْفَةُ - گیہوں میں ایک قسم کا دانہ ہوتا ہے الدَّلِقُ - احمق - بھروسہ - والدَّلِقُ درہم کا چھٹا حصہ - ج - دَوَالِقٌ و</p>	<p>اور غیر مفہوم و مبہم کلام بولنا — حَوْلَ الْمَاءِ - پانی کے گرو گھومنا۔ الدَّالِقُ - گنگنا ہٹ - بھنبھنا ہٹ۔ گنگلی کی وجہ سے سیاہ پودا۔ دَقْرَ الدِّيْنَارِ تَدَانِيْرًا - دینار بنانا - دَقْرَ الْوَجْهِ - چہرہ کا چمکنا۔ دَقِيْرٌ - بہت دیناروں کا مالک ہونا الدِّيْنَارُ - سونے کا ایک پراناسکہ۔ ج - دَنَانِيْرٌ - حَبِيْبَةُ الدِّيْنَارِ ایک قسم کا پودا۔</p> <p>دَلِيْسٌ (س) دَلَسًا و دَنَاسَةً - عِزَّةٌ أَوْ تَوْبَةٌ أَوْ خُلُقَةٌ - عزت و اخلاق کا عیب دار ہونا۔ اور کپڑے کا میلا ہونا - صفت۔ دَلِيْسٌ (ج) - آدَنَاسٌ و مَدَانِيْسٌ دَلَسَهُ - میلا کرنا - دَلَسَهُ سُوْءٌ خُلُقُهُ - اس کی بد خلقی نے اس کو عیب دار کر دیا۔ تَدَلَسَ - میلا کچھلا ہونا۔ الدَّلَسُ - مص - میل کھیل - ج - آدَنَاسٌ الْمَدَانِيْسُ - عیوب - میلی گندی جگہیں - کہتے ہیں: "هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنَ الْأَدْنَانِ وَالْمَدَانِيْسِ" وہ عیوب سے اپنا دامن بچاتا ہے۔ لَا كَعْدَفٍ دُلُوعًا و دَنَاعَةً - کہتے ہونا بے خیر ہونا - صفت دَدَانِعٌ و دَلْعٌ و دَلِيْعٌ و دَلِيْعَةٌ دَلِيْعٌ - بھوکا ہونا - ذلیل ہونا - کینہ ہونا۔ أَدَلْعٌ - نیکوں کی راہ چلنا - رَجُلٌ دَلْعَةٌ - بے خیر اور بے فیض آدمی - کہتے ہیں: "هُوَ مِنْ دَلِيْعِ النَّاسِ" وہ ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ دَلِيْعٌ (س) دَلْفًا - المَرِيضُ بیمار کا مرض کی شدت سے قرب</p>	<p>کیا ہو۔ دَقْرَ (ن) دَقْرًا و دَقْنًا - الدَّبَابُ - کھٹی کا بھنبھنا - (د - دَلِيْسًا) الرجل - گنگنا - غیر مفہوم کلام کہنا۔ دَقْرَ (س) دَقْرًا - کوزہ پشت ہونا۔ جھکی ہوئی کمر والا ہونا - صفت۔ دَادَنٌ (مؤنث) - دَقْرًا - ج - دَقْرٌ - بَيْتٌ آدَنٌ - پست مکان۔ آدَنٌ - بالمكان - کسی جگہ اقامت کرنا۔ الدَّقْنُ - بڑا مٹکا جوزین میں گر لھا کھود کر رکھا جاسکے - ج - دَقْنَانٌ - الدَّيْنَةُ - کلاہ۔ الدَّيْنَةُ - چوٹی کی طرح ایک جانور۔ دَنَارٌ (س) دَنُوٌّ أَوْ دَنَاعَةٌ - ذلیل و خیس ہونا - صفت - دَدِيْعٌ ج - آدَنَاءٌ و دَنَاءٌ - دَرِيْعٌ (س) دَنَاءٌ - الرجل - کبڑا ہونا صفت (آدَنَاءٌ، مؤنث) - دَنَائِيٌّ - آدَنَاءٌ - ادنی سواری پر سوار ہونا۔ دَنَائِيٌّ - دلی بنانا۔ تَدَنَائِيٌّ - کھٹکی پر اکسانا۔ الدَّيْنَةُ - برائی - نقص۔ الدَّبَابُ و الدَّبَابَةُ - پست قد - ہونا۔ دَجْرَ (ن) دِنَاجًا - الامر - کسی کام کو پختگی اور مضبوطی سے کرنا۔ دَجْرَ (ن) دُلُوحًا و دَجْرٌ - ذلیل ہونا - سر جھکانا۔ دَجْرَ (ن) دَنَخَانًا - بوجھ کی وجہ سے سست چلنا۔ دَجْرٌ - منکسر و فروتن ہونا - سر جھکانا۔ گھریں رہنا۔ الدَّجْرُ - فحش گو - بد زبان۔ دَدْنٌ دَدْنَةً - الدَّبَابُ - کھٹی کا بھنبھنا - الرجل - کسی کا گنگنا۔</p>
--	--	---

دَوَائِقُ (فارسی لفظ ہے)

دَنْقَسَ - ترچی نظر سے دیکھنا —
بینہم - فساد ڈالنا۔

دَنْكَسَ - رنی بیتہ۔ گھر میں چھپ کر
بیٹھنا اور لوگوں کی حاجتوں کے
لیے نہ نکلنا۔

دَنَا يَدُّو دَنَاوَا و دَنَاوَةً - لاشئ و
منه واليه - قریب ہونا۔

صفت (دَانِ) ج۔ دَنَاةٌ -

دَرِي يَدُنِي (س) دَنَا و دَنَايَةً -

گھٹیا اور روی ہونا۔ صفت

(دَرِي) ج۔ اَدْنِيَاءٌ -

دَنَاةٌ تَدْنِيَةً - نزدیک کرنا —

دَتِي فِي الْأُمُورِ - ہر چھوٹے بڑے

امر کے پیچھے لگنا۔

دَانِي مَدَانَاةٌ - الْقَيْدَ - بٹیری کو

سخت کرنا — بين الْأَمْرَيْنِ

دونوں امروں کے وسط میں ہونا۔

— الْأَمْرَ - نزدیک ہونا۔

قریب ہونا۔

أَدْنِي إِدْنَاءً - تنگ زندگی گزارنا۔

قریب ہونا۔ قریب کرنا۔ کسی کو کسی

کے نزدیک کرنا — السِّتْرَ -

پردہ لٹکانا۔

تَدْنِي - تھوڑا تھوڑا قریب ہونا کہتے ہیں۔

بَعِيدٌ يَتَدْنِي خَيْرٌ مِنْ قَرِيبٍ

يَتَبَعُدُ - وہ بعید جو تھوڑا تھوڑا

قریب ہوتا جائے اس قریب سے

بہتر ہے جو دور ہٹتا جائے۔

تَدَانِي - تَدَانِيًا - القوم - ایک دوسرے

کے قریب ہونا — تَدَانَتْ اِبْلَةُ

اَوْطُنَ كَاكُمُ هَوْنَا و كَمَزُورُ هَوْنَا -

اِدْنِي - قریب ہونا۔

اِسْتَدْنَاهُ - قریب آنے کی درخواست

کرنا۔

الدَّناوَةُ - مص. قرابت - کہتے ہیں۔

بَيْنَهُمَا دَنَاوَةٌ - ان کے درمیان

قرابت ہے۔

الأَدْنِي - دَرِي کا اسم تفضیل - ج

أَدَانِ وَاَدْنُونِ - مؤنث - دُنْيَا -

ج۔ دُنْيَى - الأَدْنُونِ - نسب میں

قریب ترین رشتہ دار لوگ۔

الدُّنْيَا - موجودہ زندگی - ج۔ دُنْيَى -

نسبت کے لیے دُنْيَوِي و

دُنْيَاوِي و دُنْيِي، کہتے ہیں - هُوَ

فِي دُنْيَا دَانِيَةً - وہ آسودہ زندگی

میں ہے - هُوَ ابْنُ عَجْرٍ دُنْيَى و

دُنْيَا و دُنْيَا و دُنْيَا و دُنْيَا - وہ

نسب سے متعلق ہونے والا چچا زاد

بھائی ہے۔

المُدْنِي - مفع. من الرجال - کمزور۔

نَاقَةٌ مُدْنِيَةٌ و مُدْنِيَةٌ - وضع حمل

کے قریب ہونے والی اونٹنی۔

دَهْشَهُ (ن) دَهْشًا - ہٹانا۔ دفع کرنا۔

دَهْدَمَ - اِلْبِنَاءَ - عمارت کو ڈھانا۔

گرانا۔

تَدَهْدَمَ - دُهَيْنًا - گرنا۔

دَهْدَه - و دَهْدِي - الحجر - پتھر

کو بڑھکانا۔

تَدَهْدَه و تَدَهْدِي - راحنا۔

الدُّهْدُودَةُ و الدُّهْدُودَةُ و

الدُّهْدِيَّةُ - گوبر کی گولی جس کو

گوبر پلاڑھکتا ہے۔

الدُّهْدَا و الدُّهْدَاءُ - چھوٹے

اونٹ۔ کہتے ہیں - مَا أَدْرِي

أَيُّ الدُّهْدَاءِ هُوَ - میں نہیں

جانتا وہ کون آدمی ہے۔

دَهْرَدَف، دَهْرًا - القوم و بالقوم

امرٌ مَكْرُودٌ - قوم کو مکروہ، و

ناپسند بات پہنچنا۔

الدَّهْرُ - لمبا زمانہ۔ دراز مدت —

دَهْرُ الْإِنْسَانِ - وہ زمانہ جس

میں انسان زندہ ہے۔ یہ "عمر"

کے ہم معنی ہے۔ مصیبت - انتہاء

عادت - کہتے ہیں - مَا ذَاكَ

يَدَّهْرِي - یہ میری عادت نہیں

مَا دَهْوِي بَكْدَا - یہ میری

غایت و انتہاء نہیں۔ غلبہ - ج

أَدَهْرُ و دَهْوَسَا - کہا جاتا ہے

"لَا آتِيَهُ دَهْرُ الدَّاهِرِينَ"

میں اس کے پاس کبھی نہیں

آؤں گا۔

الدَّهْرِي - مادہ پرست جو زمانہ کو غیر

مخلوق جانتا ہو۔

الدَّهْرِيَّةُ - عالم کو قدیم ماننے والا

فرقہ۔

الدَّهْرِي - بہت بڑھا - دَهْرُ

دَاهِرٌ و دَهْيَرٌ - (مبالغہ) یعنی

شدید و طویل۔

الدَّهَارُ و المَدَاهِرَةُ - غیر میعادی

معاہدہ کرنا۔

الدَّهَارِيَّةُ - پرانے زمانے - اس کا

واحد نہیں - مصائب زمانہ۔

مصیبتیں، آفتیں - دَهْوَسَا

دَهَارِيَّةٌ - لمبے زمانے - كَانِ

ذَلِكَ فِي دَهْرِ الدَّهَارِيَّةِ - یہ

پرانے زمانہ میں تھا۔

دَهْسُ دَسٍ، دَهْسًا - المكان -

کسی جگہ کا نرم ہونا - صفت

(أَدَهْسُ) مؤنث - دَهْسَاءُ -

ج۔ دَهْسٌ -

الأَدَهْسُ - سرخی مائل سیاہ۔

أَدَهْسُ - القوم - نرم زمین پر چلنا۔

الدَّهْسُ - نباتات کہ ابھی اس پر

سبزی غالب نہ ہوئی ہو۔ وہ زمین

کہ ابھی ابھی طرح اس پر
روئیدگی ظاہر نہ ہوئی ہو۔ ج
آدھاس۔
دھاسۃ الخلق۔ طبیعت کی نرمی۔
نرم مزاجی۔
دھش دس، دھشا و دھش۔
حیران ہونا۔ صفت (دھش و
مدھوش و دھشان)،
دھشہ و آدھشہ۔ حیران کرنا۔
مدھوش کرنا۔
دھق دق، دھقا۔ الکاس
پیالہ بھرنا۔ الماء۔ پانی کو
زور سے کرانا۔ الشی۔
کسی چیز کو توڑنا کا ٹٹا۔ ہ۔
مارنا۔
آدھق۔ الکاس۔ بھرنا۔ ہ۔
جلدی کرانا۔
آدھقت۔ الحجارة۔ پتھروں کا
آپس میں سختی سے پیوست ہونا۔
الدھق۔ شکنجہ جس میں مجرموں کی
پنڈلیاں ڈالی جاتی ہیں۔
الدهاق۔ من ابکؤس۔ بھرا ہوا
پیالہ۔ کاس دھاق۔ لبالب
پیالہ۔ ماء دھاق۔ بہت پانی۔
دھقن۔ القوم فلائنا۔ قوم کا کسی کو
رہنم بنانا۔ پودھری بنانا۔
تدھقن۔ پودھری یا رہنم ہونا۔
الدھقنة۔ سرداری۔ ریاست
الدھقان والی دھقان۔ پودھری
زیلدار۔ مبروار۔ ج۔ دھاقنة
ودھاقین۔ الدھقان۔ تاجر۔
دھق دق، دھکا۔ الشی۔ پیسنا۔
توڑنا۔ الأرض۔ روندنا۔
الدهلیز۔ ڈیورھی۔ لبائنگ راستہ
ج۔ دھلیز۔ آباء الدھلیز

لاوارث بچے جو زمین پر پھینکے ہوئے
اٹھالیے جائیں۔ گرے پڑے بچے۔
دھنہ دق، ودھنہ دس، دھنا۔
- الامو۔ اچانک آکرنا۔
دھنت۔ النار القدسا۔ آگ کا
بانڈی کو سیاہ کرنا
آدھنہ۔ کسی کو غمگین کرنا۔
ادھم۔ دل دھام۔ ادھیمام۔
- الفرس۔ گھوڑے کا سیاہ
ہونا۔
الدھم۔ بڑی تعداد۔ ج۔ دھوم۔
الادھم۔ سیاہ اور پرانے نشانات
و آثار۔ مونٹ۔ دھماء
ج۔ دھم۔ الادھم۔ بڑی۔
ج۔ آدھم۔
الدھم۔ ماہ قمری کی آخری تین راتیں۔
مخلوق۔ کہتے ہیں۔ آئی الدھم
ہو۔ وہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے۔
الدھمة۔ سیاہی۔
الدھماء۔ مونٹ۔ الادھم۔ بانڈی۔
لوگوں کا گروہ۔ قسری ماہ کی
انیسویں رات۔ ایک قسم کی
گھاس جس سے چمڑا رنگتے ہیں۔
حدیقۃ دھماء و مدھامۃ،
وہ باغ جس کی سرسبزی مائل بہ
سیاہی ہو۔
الدھیم والدھیماء و ام الدھیم
مصیبت۔ احمق بے وقوف۔
دھبج۔ الشیخ۔ بوڑھے کا بیڑی
ولے کی طرح آہستہ چلنا۔
- الخبزو۔ خبریں کچھ زیادتی
کر کے بیان کرنا۔
الدھبج والدھامبج۔ ہر بڑے جسم
والی شے۔ دو کوٹا، والا اونٹ
دھن دق، دھنا و دھنہ۔ الرأس

سر میں تیل یا خوشبو لگانا۔
الشی۔ کسی شے کو ترک کرنا۔ تیل
لگانا۔
دھنہ دھنا و دھنا دھنہ مدھانہ و
آدھنہ۔ دھوکا دینا۔ فریب دینا۔
منافقت کرنا۔ و آدھن
علیہ۔ باقی رکھنا۔ کہا جاتا ہے۔
"مَا آدھنتُ إِلَّا عَلٰی نَفْسِكَ"
اپنے سوا تو نے کسی پر کچھ باقی
نہیں رکھا۔
دھنت دق (ض) دھانا و دھانۃ
- الناقۃ۔ اونٹنی کا کم دودھ
والی ہونا
دھن۔ بمعنی دھن۔ تیل لگانا۔ ترک کرنا۔
تدھن و آدھن۔ تیل سے چکنا ہونا۔
الدھن۔ مص۔ تھوڑی بارش جو زمین
کو ترنہ کرے۔
الدھن۔ دھن کا اسم۔ دھن
الشی۔ کسی چیز کا تیل۔ ج
آدھان و دھان۔
الدھنۃ۔ تھوڑا سا تیل۔ "هُوَ طِبُّ
الدھنۃ"۔ وہ عمدہ خوشبو
والا ہے۔
الدھناء۔ بیابان۔ ریگستان۔ سرخ
گھاس۔
الدھان۔ تیل لگانے والا۔ تیل
بیچنے والا۔ تیلی۔
الدهان۔ ادھوڑی۔ پھلنے کی جگہ۔
وارنش۔ پینٹ۔
الدھین۔ تیل لگایا ہوا کمزور۔
المدھن۔ تیل لگانے کا آلہ۔ وارنش
کرنے کا برش۔ تیل کی شیشی۔
ج۔ مدھن۔
دھوس۔ الشی۔ کسی کو گڑھے میں
گرانہ۔ پھینکنا۔ دیوار گرانہ۔ لقب

<p>غالب ہونا۔ دَوَّخٌ - ایلاد۔ وِدَّيْنَهَا، ملک میں چکر لگا کر اس کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا۔ ملک پر غالب آکر اس کو اپنے قبضہ میں لے آنا۔ الرجل۔ کسی کو ذلیل و عاجز کرنا۔ الْوَجْعُ رَأْسَهُ۔ درد سر کا سر کو چکرا دینا۔ أَدَاخَهُ۔ ذلیل کرنا۔ الدَّوْحَةُ۔ چکر۔ دوران سر۔ اس کے یے فصیح لفظ الدَّوَارُ اور الھَدَامُ سے۔ لَيْلٌ دَائِحٌ۔ تاریک رات۔ دَادِيْدَا دَوْدَا وِدْوِيْدَا و أَدَا دَادَا۔ الطَّعَامُ۔ کھانے میں کیڑا پڑنا۔ صفت۔ مَدْفُودٌ۔ الدَّوْدَةُ۔ کیڑا۔ ج دَوْدُو وِدْيَانٌ دَوْدَةُ الْقَرْ۔ ریشم کا کیڑا۔ الدَّوَادُ۔ چھوٹے کیڑے۔ تیز رفتار آدمی۔ الدَّوْدِيْدُ دَوْدِي تَصْفِيْرٌ یعنی چھوٹا کیڑا۔ الدَّوْدَاةُ۔ جھولا۔ ہندو لاء۔ ج دَوَادِي۔ الدِّيْدَاةُ۔ تیرہوٹ۔ الدَّوَادِيْرُ وَالْدَّوْدِيْدَاةُ۔ منشی۔ کتاب کارین، دَوْرًا وِدْوَرَانًا۔ گھومنا۔ چکر کھانا۔ الدَّهْرُ زمانہ کا پلٹا کھانا۔ بدلنا۔ بالشئ وَعَلَيْهِ وَحَوْلَهُ۔ کسی شے کے گرد گھومنا۔ وِيْرٌ۔ بہ۔ سر کا چکرانا۔ دوران سر لاحق ہونا۔ دَوْدَةٌ۔ گول بنانا۔ د و بہ</p>	<p>بھی کہتے ہیں۔ اگر کھال بھی گرنے گئے، تو یہ بیماری "دَاءُ الْحَيْتَةِ" کہلاتی ہے۔ دَاءُ الْفَيْلِ۔ فیل پاکی بیماری۔ کہتے ہیں۔ "بہ دَاءُ الْغَيْبِ" یعنی اسے کوئی بیماری نہیں۔ "وَفَلَانٌ مَيِّتٌ الدَّاءِ"۔ فلاں شخص کو اگر ایذا پہنچائی جائے تو وہ پھر بھی کینہ نہیں رکھتا۔ الدَّيْحِيُّ۔ بیمار۔ دَاخِرٌ دَن، دَوَّجًا۔ خدمت کرنا۔ الدَّاجِلَةُ۔ فوج کے پیرو۔ خادم وغیرہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں۔ کہتے ہیں۔ مَا تَرَكْتُ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً۔ میں نے چھوٹی بڑی کوئی حاجت نہیں چھوڑی۔ دَاخِرٌ دَن، دَوَّحًا۔ الْبَطْنُ۔ پیٹ کا پھول کر لٹک جانا۔ الشَّجْوَةُ درخت کا بڑا ہونا۔ صفت دَائِحَةٌ۔ ج۔ دَوَائِحٌ۔ دَوَّحٌ۔ الْمَالُ۔ جدا کر دینا۔ الْبَطْنُ۔ پیٹ کا پھول کر لٹک جانا تَدَوَّحٌ وَاِنْدَاخٌ۔ الْبَطْنُ۔ پیٹ کا پھولنا اور لٹک جانا۔ اِنْدَاخٌ الشیءُ کسی چیز کا پھیلنا۔ چوڑا ہونا۔ الدَّوْحَةُ۔ بڑا پھیلا ہوا درخت۔ بڑا سائبان۔ ج۔ دَوَّحٌ۔ ج۔ اَدْوَاخٌ الدَّوْحُ۔ بڑا وسیع گھر۔ الدَّاحُ۔ بچوں کا خوش شکل ہونا۔ ریشم کا بٹا ہوا کنگن۔ الدَّاحَةُ۔ دنیا۔ الدَّوَّاحُ۔ بہت بلند۔ دَاخِرٌ دَن، دَوَّحًا۔ ذلیل ہونا۔ عاجزی اور فروتنی کرنا۔ ایلاد۔ ملک پر اپنا اقتدار جمانا۔ اور</p>	<p>نگلنا۔ تَدَّهْوَسًا۔ گڑھے میں گرنا۔ رات کا گذر جانا۔ دَهِيٌّ دَن، دَهِيًّا وِدَهِيٌّ۔ فَلَانًا کسی کو چالاک کی طرف منسوب کرنا عیب لگانا۔ مرتبہ گھٹانا۔ کسی کو مصیبت پہنچانا۔ دَهِيٌّ دَس، دَهِيًّا وِدَهَاءَةً وِدَهَاءً۔ چالاک اور ہوشیار ہونا۔ صفت دَاہِ، ج۔ دُهَاءَةٌ وِدَهِيٌّ، ج دَهْوَنٌ۔ وِد۔ دَاهِيَّةٌ، ج دَوَاہِ۔ اس میں تار مبالغہ کی ہے۔ کہتے ہیں۔ "رَجُلٌ دَاهِيَّةٌ و اِمْرَاةٌ دَاهِيَّةٌ" تَدَّهِيٌّ۔ چالاک و ہوشیار ہونا۔ دَاهِيٌّ مُدَاهَاةٌ وِدَهَاءٌ۔ الْقَوْمُ۔ ان پر مصیبت ڈالنا۔ تَدَاهِيٌّ۔ بتکلف ہوشیاری کرنا۔ الدَّهَاءُ۔ زیرکی۔ ہوشیاری۔ مکر و حیلہ۔ الدَّاهِيَّةُ۔ ناپسندہات۔ مصیبت بڑا معاملہ۔ ج۔ دَوَاہِ۔ دَاهِيَّةٌ دَهِيًّا۔ سخت مصیبت۔ دَوَاهِيٌّ الدَّهِيٌّ۔ حوادث الدھر۔ الدَّهِيٌّ۔ دانا۔ دوران ریشم۔ ج۔ أَدَهِيًّا وِدَهْوَاءً۔ دَاءٌ يَدَا دَن، دَاءٌ وِدَوَّعًا و أَدَوًا وِدَوَّعًا وِدَاوًا وِدَاوَةً بیمار ہونا۔ صفت دَاوِ و مُدِيٌّ۔ أَدَوَاةٌ۔ بیمار بنانا۔ الدَّاءُ۔ بیماری۔ ج آدَوَاءٌ۔ دَاءٌ الذُّئْبِ۔ بھوک۔ دَاءُ الثَّغْلِبِ وہ بیماری جس سے سر کے بال گر جاتے ہیں۔ اس کو "الْحَاصَّةُ"</p>
---	---	--

پاس بالوں کی بھنوری۔ گھوڑے کے بدن پر بالوں کی بھنوری۔ مصیبت۔ مہندسین کے نزدیک وہ ہموار سطح جس کو ایک گول خط گھیرے۔ اس خط کو محیط کہتے ہیں۔ مرکز دائرہ۔ دائرہ کے بالکل بیچ کا نقطہ۔ قطر دائرہ۔ وہ خط مستقیم جو دائرہ کو دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دے اور مرکز دائرہ پر گذرتا ہوا جائے۔ ج۔ دَوَائِرُ کہتے ہیں۔ دَاوَاتُ عَلَيْهِمُ الدَّوَائِرُ ان پر زمانہ کی آفتیں اور مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ الدَّيْرُ۔ عابدوں کی رہائش گاہ۔ خانقاہ۔ ج۔ اَدِيْرَةٌ دَدِيُوْرَةٌ وَاَدِيَارٌ۔ الدِّيْرَانِيُّ وَالِدِيَارٌ۔ دیر والا۔ خانقاہ والا۔ مَدَارُ الشَّيْءِ۔ جس پر کوئی چیز چکر کھائے۔ الامْرِ۔ کسی کا وارو مدار۔ المَدَارَةُ۔ ڈول کی ایک قسم۔ چرسی۔ المَدِيْرُ۔ گورنر۔ مینجر۔ منتظم۔ دَوْنٌ۔ القاوُنْ وَاَنْوَهٌ۔ ستار یا سارنگی وغیرہ کے تار کسناد فارسی کلمہ ہے، اس کے ہم معنی عربی لفظ بَعَثٌ دَبَطٌ ہے۔ دَاوَسٌ دَوَسٌ وَاَدِيَارٌ دَاوَسٌ۔ الشَّيْءُ۔ پاؤں سے روندنا۔ فُلَانًا۔ کسی کو ذلیل کرنا۔ السَّيْفُ۔ تلوار پر صیقل کرنا۔ د۔ وَاَدَاوَسُ الْمَوْرَعُ۔ فصل کو گانا۔ دَاوَسَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْقِتَالِ۔ لڑائی میں ایک

چاند کا ہالہ۔ ج۔ دَاوَاتٌ و دَوَسٌ۔ د۔ وَالِدِيْرَةٌ وَالتَّدْوِيْرَةُ)۔ مِنَ التَّوَمِلِ گول ریلی جگہ۔ دَاوَاتُ الْعَرَبِ عرب میں مشہور مقامات ہیں، جو ایک سو دس سے زائد ہیں۔ الدَّارِيُّ۔ عطر فروش۔ طاح جو پتوار کا نگہبان ہو۔ چوپایوں اور مویشیوں کا مالک۔ کہتے ہیں۔ مَا فِي الْمَكَانِ دَارِيٌّ اَوْ دُوْرِيٌّ اَوْ دِيَارِيٌّ اَوْ دِيُوْرِيٌّ یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے۔ الدَّوْرِيُّ۔ چڑیا۔ الدَّارِيَّةُ۔ ہمیشہ گھر میں رہنے والا۔ تارِ مبالغہ کی ہے۔ الدَّوْرُ۔ مص۔ حرکت۔ گردش۔ چکر۔ ج۔ اَدْوَارٌ۔ دفعہ۔ عِنْدَ الْاِطْتَاءِ۔ بخار کی باری موسیقی کے نزدیک دو یا دو سے زائد شعروں کا قطعہ۔ عِلْمُ الْاَدْوَارِ۔ فن موسیقی۔ دَوَارُ الشَّمْسِ۔ سورج کبھی۔ الدَّوَارُ وَالِدَاوَارُ۔ سر کا چکر۔ عام لوگ اس کو "دَوْنَةُ" کہتے ہیں۔ الدَّوَارِيُّ وَالِدَاوَارِيُّ۔ بہت پھرنے والا کہتے ہیں۔ الدَّوَارِيُّ يَالِاِنْسَانِ زمانہ انسان کے ساتھ لٹنے پٹنے والا ہے۔ الدَّوَارُ۔ ریت کا ایک گول ٹیلہ۔ منزل۔ الدَّوَارَةُ۔ پھکار۔ الدَّوَارَةُ وَالِدَاوَارَةُ۔ مِنَ التَّوَمِلِ سر کا گول حصہ۔ دَوَارَةُ الْبَطْنِ۔ بکری کا اوجھ۔ الدَّائِرَةُ۔ جو کسی چیز کو گھیرے ہوئے ہو۔ حلقہ۔ انسان کی پٹھانی کے

چکر دینا۔ دَاوْرًا مَدَاوْرَةً وِدَاوْرًا۔ کسی کے ساتھ پھرنا۔ علی الامْرِ کسی کام کو انجام دینا۔ الامُوْر کاموں کو انجام دینے کے لیے غور و فکر کرنا۔ اَدَارًا اِدَارَةً۔ الشَّيْءُ۔ گھومنا۔ دَوْبَهُ۔ گھمانا۔ چکر دینا۔ الشَّيْءُ۔ لینا۔ الامْرُ احاطہ کرنا۔ دَعَلِيْهِ۔ لازم کرنے کا ارادہ کرنا۔ دَعَلِيْهِ عَنِ حَقِّهِ۔ حق کو چھوڑ دینے کی خواہش کرنا۔ اَدِيْرٌ۔ بہ۔ سرچرانا۔ دوران سر لاسحق ہونا۔ تَدْوَسٌ۔ گول ہونا۔ تَدْيِرٌ۔ البُعْثَةُ۔ کسی قطعہ زمین پر گھر بنانا۔ رہائش اختیار کرنا۔ اِسْتَدَارَ اِسْتِدَارَةً۔ گھومنا۔ الشَّيْءُ۔ گول ہونا۔ الشَّيْءُ دَبَهُ۔ چکر دینا۔ کہتے ہیں۔ اِسْتَدَارَ بِمَا فِي قَلْبِي۔ اس نے میری دلی بات کا پتہ لگالیا۔ الدَّارُ مَوْزٌ ہے کبھی مذکر بھی آتا ہے۔ گھر مکان۔ ج۔ دَوْرٌ وِدِيَارٌ وَاَدْوَرٌ وَاَدْوِيْرَةٌ وِدِيَارَةٌ وَاَدْوَارٌ وِدَوَاتٌ وِدِيَارَاتٌ وِدَوَانٌ وِدِيَوَانٌ۔ الدَّارُ شہر قبیلہ۔ سال۔ زمانہ۔ دَارُ الْقَوَاسِ۔ آخرت۔ دَاوَانٌ۔ دنیا و آخرت۔ دَارُ الْحَرْبِ۔ دشمن کا ملک۔ الدَّارَةُ۔ محل۔ قبیلہ۔ پہاڑوں کے درمیان کی وسیع زمین۔ دائرہ۔

دوسرے کو پاؤں سے پامال کرنا۔
 روندنا۔
 الدَّيْسَةُ: گھنا جھگڑا۔ ج۔ دِيسٌ و
 دِيسٌ۔
 الدَّوَّاسَةُ: والدِيسَةُ: جماعت
 گروہ۔
 الدَّوَّاسُ: بہادر۔ شیر۔
 الدَّوَّاسَةُ: تاک۔
 المَدَّاسُ: جوتا۔ سلپرز۔
 المِدَّوَسُ: والمِدَّوَسُ: پالش
 کرنے کا آلہ۔ روندنے کی مشین۔
 ج۔ مَدَّوَسٌ و مَدَّوَسِيٌّ۔
 المَدَّاسَةُ: کھلیان
 دَوِّشَتُ (دس) دَوِّشًا: عَيْشَتُهُ:
 بیماری سے آنکھ خراب ہونا۔
 صفت۔ (دَاوِّشٌ) مؤنث۔
 دَوِّشَاءُ۔ ج۔ دَوِّشٌ۔
 دَاغٌ (دن) دَاوَّغًا: القَوْمُ: قوم
 میں بیماری کا عام طور سے پھیل
 جانا۔ الطَّعَامُ: غلہ کا
 ارزاں ہونا۔ دَاغَةُ الحَرِّ:
 گرمی کا کسی کو تباہ کرنا۔ بگاڑ دینا۔
 الدَّوَّعَةُ: بے وقوفی۔ سردی۔
 دَاغٌ (دن) دَاوَّغًا و دَاوَّغًا: الدَّوَّاءُ
 و نَحْوَهُ: دوا وغیرہ کو ملانا۔ مخلوط
 کرنا۔ پانی میں پگھلا کر گاڑھا کرنے
 کے لیے حرکت دینا۔ صفت۔
 (مَدَّوْفٌ و مَدَّوْفٌ و
 دَاغٌ)
 دَاغٌ (دن) دَاوَّغًا و دَاوَّغًا و دَاوَّغًا:
 دَوَّاقَةٌ: دُبلَا و لاغر ہونا۔
 بیوقوف ہونا۔ صفت (دَاغِيٌّ)
 الطَّعَامُ: پکھنا۔
 دَاغِيٌّ: القَوْمُ: بہ۔ قوم کا کسی
 کو گھیر لینا۔

لَا دَاغِيٌّ لَانْدِيَا قًا۔ بَطْنُهُ: پیٹ
 پھونکا۔
 الدَّوَّقَةُ: والدِوَّقِيَّةُ: خرابی
 فساد۔ حماقت۔
 الدَّوَّقِيُّ: بیوقوفی۔
 دَاغٌ (دن) دَاوَّغًا و مَدَّوَّقًا: القَوْمُ:
 مضطرب ہونا۔ بیمار ہونا۔
 الشَّيْءُ: کوٹنا۔ رگڑنا۔ پیسنا۔
 تَدَاوَّقَ: القَوْمُ: لڑائی یا فساد میں
 ایک دوسرے کو تنگ کرنا۔
 الدُّوْكَةُ: والدُّوْكَةُ: جھگڑا۔
 بشر۔ فساد۔
 المِدَّوْكُ: والمَدَّوْكُ: پینے یا
 رگڑنے کا پتھر۔
 دَاغٌ (دن) دَاوَّكَةً: الزَّمَانُ: زمانہ کا
 ایک حال سے دوسرے حال کی
 طرف بدلنا۔ کٹے ہیں " دَاغَتْ
 لَهُ الدَّوْكَةُ: اس کے لیے
 دولت اُلٹ پلٹ گئی۔ الوجَلُ
 فِي مَشِيئِهِ: چھوٹے چھوٹے
 قدموں سے تیز چلنا۔ بَطْنُهُ:
 پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔ لٹکنا۔
 الثَّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
 دَاغٌ دَاغَةً و دَاوَّغًا مشہور
 ہونا۔
 دَاوَّلَ مَدَّوْلَةً: اللّٰهُ الْآيَاتُ
 بَيْنَ النَّاسِ: اللّٰهُ تعالیٰ کا زمانہ کو
 لوگوں کے درمیان اول بدل کر
 لانا یعنی اگر ایک زمانہ آج ایک کے
 لیے ہے تو کل دوسرے کے لیے
 — المَاثِيُّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ
 کبھی ایک قدم پر آرام لینا اور
 کبھی دوسرے پر۔
 آدَالٌ إِدَالَةٌ: الشَّيْءُ: باری باری
 سے ایک کے بعد دوسرے کو

دینا۔ اللّٰهُ بِنِي فُلَانٍ مِنْ
 عَدُوِّهِمْ۔ غلبہ دلانا۔ فتح مندی
 نصیب فرمانا۔ اللّٰهُ زَيْدًا
 مِنْ عَمِيرٍ و۔ اللّٰهُ تعالیٰ نے
 زید سے دولت لے کر عمرو کو
 دے دی۔
 تَدَاوَّلَتْهُ: الْآيَاتُ: باری باری
 سے لینا۔ چنا چھ کتنے ہیں۔
 "تَدَاوَّلُوا الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ"
 انہوں نے چیز کو باری باری سے لیا۔
 اِنْدَالٌ: بَطْنُهُ: پیٹ کا ڈھیلا ہو
 کر زمین کی طرف لٹکنا۔ مَا
 فِي بَطْنِهِ: نکلنا۔ الشَّيْءُ:
 لٹکنا۔ القَوْمُ: قوم کا
 ایک جگہ سے دوسری جگہ
 منتقل ہونا۔
 اِسْتَدَالٌ: الْآيَاتُ: زمانہ کو اپنے
 موافق کر لینا۔
 الدَّوْكَةُ: مص۔ د۔ والدُّوْكَةُ:
 وہ شے جو لوگوں پر بدل بدل کر آتی
 رہے۔ آج کسی کے لیے ہو، اور
 کل کسی کے لیے۔ مال و غلبہ پر اسی
 لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارباب
 سیاست کے نزدیک بادشاہ و
 وزراء۔ حکومت۔ گورنمنٹ۔
 ریاست۔ ج۔ دَوَّلٌ و دَوَّلٌ۔
 — كَانَتْ كُنَا عَلِيٍّ الدَّوْكَةَ:
 ہم کو ان پر غلبہ نصیب ہوا۔
 والدَّهْرُ دَوَّلٌ: یعنی زمانہ کو ایک
 حال پر قرار نہیں بلکہ اول بدل کر آتا
 رہتا ہے۔
 الدَّالَةُ: شہرت۔ ج۔ دَالٌ۔
 الدَّوْكَةُ: مصیبت۔ ج۔ دَوَّلَاتٌ۔
 الْإِدَالَةُ: غلبہ۔ فتح۔ کتے ہیں۔
 "دَوَّالِيكَ" ایک کے بعد ایک

یعنی کام کو یکے بعد دیگرے کرو۔
مقصود تاکید ہوتی ہے۔ کہتے ہیں۔
"قَعَلْنَا ذَلِكَ دَوًّا لَكَ" ہم نے
اس کو باری باری سے کیا۔
دَامَ يَدُومُ وَيَدَامُ دَوًّا و
دَوًّا مَادًا يَوْمًا۔ ثابت رہنا
وراز مدت رہنا۔ جاری رہنا۔
— الشَّيْءُ يَطْمُرُ۔ گھومنا۔
— الدَّلْوُ۔ ڈول کا بھرنا۔
اور دَمَّتْ تَدْوُمًا۔ (بکسر العین
فی الماضي ومنها فی المضارع)۔
شاذ ہے۔ مَا دَامَ۔ افعال ناقصہ
میں سے ہے۔ کہتے ہیں۔ "لَا
يَجُوزِي الْإِصْلَاحُ مَا دَامَ فَلَانٌ
حَاكِمًا" یعنی جب تک وہ شخص
حاکم ہے اس وقت تک اصلاح
نہیں ہو سکتی۔ (— دَائِمًا)
السَّمَاءُ۔ آسمان کا لگاتار بارش
برسانا۔
دَائِمِيَّةٌ وَأَدِيمِيَّةٌ۔ سرچرانا۔
دَوِّمَتٌ۔ تَدْوِيمًا۔ الشمسُ۔
وسط آسمان میں سورج کا گھومنا۔
حَرَكْتُ كَرْنًا — الخَمْرُ
شَارِبَتَهَا۔ شراب کا شرابی کے
سر کو چکرا دینا — عَيْنُهُ
أَكْمَهُ كَالْحَلْقَةِ فِي بَهْرَانِ الشَّيْءِ۔
ترک کرنا — العِمَامَةُ
چوڑی سر کے گرد پھینا —
الطَّائِلُ۔ پزندہ کا ہوا میں چکر
لگانا — الزَّعْفَرَانُ فِي
الْمَاءِ۔ زعفران کو پانی میں رگڑ کر
گھسنا۔ — الْقِدْرُ۔ سرو پانی
کے چھڑکنے سے ہانڈی کے
جوش کو ٹھنڈا کرنا۔ —
بِالدَّوَامَةِ۔ لٹو سے کھینا۔

دَائِمَتٌ۔ السَّمَاءُ۔ لگاتار برسا۔
دَاوَمَ۔ عَلَى الْأَمْرِ۔ کسی کام پر ہمیشگی
اختیار کرنا۔ الشَّيْءُ۔ مہلت
سے کرنا۔ — فِيهِ۔ ہمیشگی
طلب کرنا۔
أَدَامَ إِدَامَةً۔ الشَّيْءُ۔ ہمیشہ رکھنا
— الْأَمْرَ۔ مداومت کرنا
أَدَامَتِ۔ السَّمَاءُ۔ لگاتار برسا۔
— الدَّلْوُ۔ ڈول بھرنا۔
— الْقِدْرُ۔ حقوڑا سا مرد
پانی چھڑک کر ہانڈی کا جوش ٹھنڈا
کرنا۔
تَدَاوَمَ۔ انتظار کرنا۔
إِسْتَدَامَ۔ اسْتِدَامَةً۔ الشَّيْءُ۔
مہلت دینا۔ — فِيهِ۔ ہمیشگی
طلب کرنا۔ — الطَّائِلُ۔ پزندہ
کا ہوا میں چکر لگانا۔ — عَرِيفَةٌ۔
نرمی کرنا۔
الدَّائِمَةُ۔ فَاللَّهُ تَعَالَى — مَاءٌ
دَائِمٌ۔ طمرا ہوا پانی۔
الدَّأْمَاءُ۔ سندر۔
الدَّوْمُ۔ معی۔ ہمیشہ رہنے والا
کھجور سے مشابہ ایک درخت۔ بڑے
بڑے درخت۔
الدَّوَامُ۔ دوران سر۔
الدَّوْمَانُ۔ پزندہ کا منڈلانا۔
الدَّيْمَةُ۔ جم کر برسنے والی بارش۔
جس میں بجلی اور گرج نہ ہو۔ ج
دَيْمٌ وَدَيُومٌ۔
الدَّوَامَةُ۔ لَتُو۔ ج۔ دَوَامٌ۔
الدَّيُومُ۔ دَامٌ۔ ہمیشہ۔
الدَّوَامُ وَالْمُدَامَةُ۔ شراب۔
مسلل بارش۔
الْمُدِيْمَةُ۔ جس کی ناک سے خون جاری ہو
الْمُدِيْمَةُ۔ جاں مسلل بارش ہو۔

الدَّوْمُ وَالْمُدَامَةُ۔ دَوْنِي يَا
کھگیر جس سے ہانڈی کا جوش بٹھایا
جائے۔
دَانَ يَدُوْنٌ كَدُوْنَا۔ خسیس ہونا۔
کمزور ہونا۔
دَقْنٌ۔ الدِّيُوَانُ۔ رجسٹر بنانا۔
— ۵۔ رجسٹر میں نام درج کرنا۔
أَدِيْنٌ۔ اذنی ہونا۔ ناچیز ہونا۔ کمزور ہونا۔
تَدَدَانٌ۔ مالدار ہونا۔ رجسٹر میں درج ہونا
دُوْنٌ۔ پست۔ نیچے۔ — "هُوَ دُوْنَهُ"
وہ اس سے درجہ میں پست ہے۔
آگے۔ — "مَشِي دُوْنَهُ" وہ
اس کے آگے چلا — هِنُ
دُوْنِ أَنْ يَفْعَلَ۔ بغیر اس کے کہ
وہ ایسا کرے۔
الدُّوْنُ۔ خسیس۔ حقیر۔ گھٹیا۔
"شَيْءٌ دُوْنٌ" حقیر گھٹیا چیز۔ کبھی
شریف کے معنی بھی دیتا ہے۔
"حَالُ الْقَوْمِ دُوْنُ فُلَانٍ"
قوم اس کے اور اس کے مطلوب کے
درمیان حائل ہو گئی۔
دُوْنَكَ۔ اسم فعل بمعنی خندلے۔ پکڑ
دُوْنَكَ زَيْدًا۔ زید کو پکڑ۔
الدِّيُوَانُ وَالْدِّيُوَانُ۔ کتابوں کا
مجموعہ۔ قصائد و دیگر اقسام نظم کی
کتاب۔ فوجی سپاہیوں کا وظیفہ
خواروں کا رجسٹر — ج۔
دَوَاوِيْنٌ وَدَيَاوِيْنٌ۔ پکھری
کولسل۔
دَوِيْنٌ۔ دُوْنُ كِ تَصْغِيرٍ۔
حَاةٌ دَنٌ دَوَّهَا۔ حیران ہونا۔
تَدَدَقَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی شے کا متغیر ہونا۔
— الْأَمْرَ۔ کسی کام میں لگ
جانا۔
دَوِيٌّ۔ جنگل میں چلنا۔

دَوِي (س) دَوِي - بیمار ہونا —
صدرہ۔ سینہ میں کینہ رہنا۔
دَوِي (ض) دَوِيًا۔ بھیٹنا بہت سناٹی
دینا۔

دَوِي تَدْوِيَةٌ - اللبَن - دودھ پر
باریک سی جھلی آنا - السحاب -
بادل کا گرجنا - الصوت - آواز
کی گنگنا بہت سناٹی دینا۔

دَاوِي مَدَاوَاةٌ - بیمار کا علاج کرنا۔
اَدْوِي اِدْوَاءٌ - بیمار کے ساتھ رہنا۔
ہ - بیمار کرنا۔ کہتے ہیں - فلانٌ
يُدْوِي وَيُدَاوِي - یعنی فلاں بیمار
کرتا ہے اور علاج کرتا ہے۔

تَدَاوِي - خود اپنا علاج کرنا۔
البدَوِي - مص - بیمار - احمق - اپنی جگہ
بیشتر رہنے والا۔ اصل میں مصدر رہنے
کی وجہ سے یہ واحد جمع مذکر مؤنث
میں ایک ہی طرح آتا ہے۔

الدَّوَاءُ والدَّوَاءُ والدَّوَاءُ - دوا۔
ج - اَدْوِيَةٌ -

الدَّوَاةُ - دوات - ج دَوِيٌّ ودَوِيٌّ، و
دَوِيٌّ ودَوِيَّاتٌ -

الدَّوَايَةُ - بالائی - جھلی - پھڑی۔
الدَّوِيٌّ - بیمار - خواب پیٹ والا - احمق -

اپنی جگہ جم جانے والا۔
الدَّوِيٌّ - آواز - بعض کے نزدیک خاص
بادل کی گرج - مَا فِي الدَّارِ دَوِيٌّ

ودَوِيٌّ - گھر میں کوئی نہیں ہے۔
مکان دَوِيٌّ - ناموافق صحت جگہ۔

دَاث يَدِيثُ دَيْثًا - نرم و آسان ہونا۔
دَيْثَةٌ - ذلیل کرنا - دَيْثُهُ الدَّهْرُ

نمانہ کسی کو تجربہ کار بنانا - طَرِيحٌ
مَدَيْثٌ - روندنا ہوا راستہ۔

دَاجِرٌ يَدِيحُ دَيْجًا ودَيْجَانًا تَحْوِرًا
چلنا۔ آہستہ چلنا۔

دَاخِرٌ (ض) دَاخِرًا - ذلیل ہونا۔
دَاخِرَةٌ - ذلیل کرنا۔

الدَّيْدَانُ والدَّيْدَانُ - عادت -
الدَّيْرُ - عبادت گزار مرد عورتوں کا مقام۔

ج - اَدْيِرَةٌ وَاَدْيَارٌ وَاَدْيُورَةٌ -
نجات کے لیے - دَدِيْرَاكِيٌّ -

الدِّيَارُ - دیر والا - گھر میں رہنے والا۔
دَاصٌ يَدِيصُ دَيْصَانًا - طیرھا ہونا -

عَنِ الطَّرِيقِ - راستہ سے ایک طرف
ہونا - دَاصَتِ الْغُدَّةُ بَيْنَ

الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ - غرود کا دبانے
سے حرکت کرنا۔

دَاصٌ (ض) دَايَصًا - لڑائی سے بھاگنا کینہ
ہونا۔

اِنْدَاصٌ - ہاتھ سے پھسلنا - بِالْمَقَرِّ
عَلَى فُلَانٍ - کسی پر اچانک شرو
برائی لانا۔

الدَّايِصُ - فا - چور - ج دَاصَةٌ -
الدَّيَاصُ - سخت پھٹوں والا۔

الدَّاصُ - پانی میں غوطہ لگانے کی جگہ۔
دَاقٌ يَدِيْقُهُ دَيْقًا - اکھڑنے کے لیے
ٹیرھا کرنا۔

الدِّيَكُ - مَرُغٌ - ج دِيُوْكٌ وَاَدْيَاكٌ و
دِيَكَةٌ -

بَيْضَةُ الدِّيَكِ - یہ اس چیر کے لیے بطور
مثال لاتے ہیں کہ جو ایک ہی بار ہوئی -
ہو اور دوبارہ نہ ہو - بڑا مہربان -

موسم بہار۔
اَرْضٌ مَدَاكَةٌ وَمَدْيَكَةٌ - بہت مرغن
والی زمین۔

دِيَكَسٌ - الرجلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا كَمَرٌ
میں چھپ کر بیٹھنا اور لوگوں کی حاجتوں
کے لیے باہر نہ نکلنا۔

دَانَهُ يَدِيْنُهُ - دِيْنَا - قرض دینا -
صفت فاعل (دَايِنٌ) - صفت

مفعول (مَدْيُونٌ) - الرجلُ -
قرض لینا - صفت - (دَايِنٌ) -
فُلَانًا - بدلہ لینا۔

دَانَهُ (ض) دَانِيْنَا - مالک ہونا - غلام بنانا۔
ناپسندیدہ بات پر ابھارنا - ذلیل کرنا
حکم دینا - خدمت کرنا - کسی پر احسان
کرنا - ودان الرجل - عزت دار
ہونا - ذلیل ہونا - اطاعت کرنا - نافرمانی
کرنا۔

دَانٌ (ض) دَانِيْنَا وِدِيَانَةٌ وِتْدَانِيْنَا -
— بِالْمَلِكَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ - دین اسلام
قبول کرنا۔
دَانِيْنَا - مذہب اختیار کرنے دینا - الشَّيْءُ
مالک بنا دینا۔
دَانِيْنَا مَدَانِيْنَا - فیصلے کے لیے حاکم کی
طرف لے جانا - ایک دوسرے کو قرض
دینا - ادھار دینا۔
اَدَانٌ اِدَانَةٌ - قرض لینا - ہ - کسی کو
قرض دینا۔
تَدَانِيْنَا - قرض لینا۔
تَدَانِيْنَا - القوم - ایک دوسرے سے قرض
مانگنا - ادھار پر لین دین کرنا۔
اِدَانٌ اِدِيَانًا وَاِسْتَدَانٌ اِسْتَدَانَةٌ
قرض لینا - اِدَانٌ الشَّيْءُ - قرض پر
کوئی چیز خریدنا۔
الدَّيْنُ - مص - قرض - مقررہ تک ادھار
موت - ج - دِيُونٌ وَاَدْيُونٌ -
الدِّيْنُ - مص - حساب - يَوْمُ الدِّيْنِ
اسی سے ہے - طَلَبٌ - قَدْرَتٌ - حُكْمٌ -
مذہب - طَلَبٌ - حالت - عادت - عِيْرَتٌ
تدبیر - نافرمانی - گناہ - مجبوری - پرہیز
گاری - فرمانبرواری - بدلہ - قہر و غلبہ
ذلت - ج - اَدْيَانٌ - کہتے ہیں -
"قَوْمٌ دِيْنٌ" - اطاعت شعار لوگ -
الدِّيَانَةُ - دین داری - طَلَبٌ وِمَذْهَبٌ -

<p>الدَّيْنُ - دین دار۔ دین کا پرستار۔ الدَّيْنَةُ - مؤجل قرض۔ اطاعت۔ عادت کہتے ہیں۔ "بَعَثْتُ دَيْنِيَّةً" - یعنی مہلت سے خریدنا۔ الدَّيْنُونَةُ - قضا۔ حساب۔</p>	<p>الدَّيَّانُ - قاضی۔ غلبہ والا۔ حاکم۔ حساب لینے والا۔ بدلہ دینے والا۔ الدَّيَّانُ - غلام بدلہ دیا ہوا۔ وہ جس سے حسد لیا گیا ہو۔ مؤثرت دَيْنِيَّةٌ - کہتے ہیں "لِفُلَانٍ دَيْنِيَّةٌ وَفِي دَيْنِيَّةٍ" - فلاں</p>	<p>کے پاس لوٹتی غلام ہیں۔ المَدَّانُ - قرض دار۔ المَدَّانُ - بہت قرض دینے یا لینے والا۔ مذکر و مؤنث کے لیے یکساں آتا ہے۔ ج۔ مَدَّائِيْنٌ۔</p>
--	---	---

ذ

<p>ذَا - یہ قریب کے لیے اسم اشارہ ہے۔ اس کا تشبیہ حالت رفعی میں "ذَانٌ" ہے اور حالت نصبی و جری میں "ذَيْنٌ" ج۔ اَوْلَادٌ۔ اور شاذ طریقہ پر اس کی تصغیر ذِيَا آتی ہے۔ اس پر "ہا" تشبیہ زائد کر کے "هَذَا" بولتے ہیں اور جب یہ مَا۔ يَمَنْ۔ استفہامیہ کے بعد واقع ہو تو اَلذِّيُّ کے معنی دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں مَاذَا فَعَلْتَ وَمَنْ ذَا فِي الدَّارِ اور "مَا" کے ساتھ یہ اسم استفہام ہوتا ہے۔ جیسے "لِمَاذَا تَرَكْتَهُ" ذَاكَ - یہ اسم اشارہ متوسط کے لیے ہے۔ جہاں تشبیہ کے ساتھ "هَذَا" اور حالت تصغیر ذِيَاكَ - ہوجاتا ہے اس کا تشبیہ حالت رفعی میں "ذَائِكَ" اور حالت نصبی و جری میں "ذَيْنِكَ" ج۔ اَوْلَادِكَ۔ ذَيْلِكَ - یہ بعد کے لیے اسم اشارہ ہے۔ تشبیہ ذَيْلِكَ ج۔ اَوْلَادِكَ - تصغیر کی صورت میں ذِيَا لِكَ - کہتے ہیں۔ ذَابِرٌ (ذَابٌ) ذَابًا - الشیءُ جرح کرنا۔ الدَّابَّةُ - جانور ہانکنا۔ ہ خوف دلانا۔ دھتکارنا۔ مذمت کرنا۔ الغَلَامُ - لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابَتُهُ البَرِيحُ - اس کو چاند طرف</p>	<p>سے ہوا لگی۔ الرجلُ - بہت زور سے آواز نکالنا۔ تیز چلنا۔ ذَيْبٌ - بھیڑیے سے ڈرنا۔ گھبرانا۔ بکریوں میں بھیڑیے کا گھس پڑنا۔ ذَيْبٌ (دس) ذَابًا ذُوْبٌ (دک)۔ ذَابَةٌ - مکاری اور خباثت میں بھیڑیے کی طرح ہونا۔ بھیڑیے سے خوف زدہ ہونا۔ اَذَابٌ - بھیڑیے سے خوف زدہ ہونا۔ الأَسْمُنُ - کسی زمین کا بہت بھیڑیوں والی ہونا۔ ذَابٌ، الغَلَامُ۔ لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابِيحٌ - گھانا۔ تَذَابٌ - شراکت و مکاری میں بھیڑیے کی طرح ہونا۔ الشیءُ - باری سے لینا۔ تَذَابٌ وَتَذَابٌ عَابِتٌ البَرِيحُ علیہ۔ ہوا کا کبھی ادھر سے آتا اور کبھی ادھر سے آتا۔ تَذَابٌ وَتَذَابٌ عَابِتٌ البَرِيحُ - کسی پر ہوا کا گھومنا۔ ہوا کا چاروں طرف سے آنا۔ الجَنُّ - جن کا کسی کو ڈرانا۔ تَذَابٌ وَتَذَابٌ عَابِتٌ - اللتاقاة۔ اونٹنی کو دوسرے کچھ پر مہربان بنانے کے لیے بھیڑیے جیسا کہ چھپنا۔ اسْتَذَابٌ اسْتَذَابًا - بھیڑیے کی طرح ہونا۔</p>	<p>الذَّأْبُ - مص۔ فحش۔ الذَّئْبُ - بھیڑیا۔ دَاءُ الذَّئْبِ - بھوک۔ ج۔ ذئَابٌ وَاذْوَابٌ۔ وَذُؤْبَانٌ - ذُؤْبَانُ العَرَبِ - عرب کے چورا اور فقیر لوگ۔ الذَّئْبَةُ - بھیڑیے کی مادہ۔ جانوروں کے حلق کی ایک بیماری۔ کجاوہ اور زین کے بر دو جانب کے درمیان کی فراخی۔ الذَّئْبَانُ - اونٹ کی گردن کے بال۔ اور ہونٹ کے بال۔ کاٹنے کے بعد جو اون بچے۔ الذَّؤَابَةُ - پیشانی کے بال۔ تلوار کا علاقہ ہر شے کا بلند حصہ یا چوٹی۔ اور اسی سے ہے۔ "هُوَ ذُؤَابَةُ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کا پیشوا ہے۔ وَعَلَوْتُ ذُؤَابَةَ الجَبَلِ - میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا۔ ذُؤَابَةُ الرَّجُلِ - کجاوہ کے آخر میں لگی ہوئی گھال۔ ذُؤَابَةُ النُّعْلِ - جوتے کا کٹا ہوا وہ تسمہ جو زمین پر قدم کے نیچے آئے اور مہکی کے وقت کہتے ہیں۔ "لَا قَاتِلِي فِي ذُؤَابَتِكَ" - ج۔ ذَوَائِبُ۔ اَرْضٌ مُذَابَةٌ۔ ذَبْرٌ (دس) ذَبْرًا - غضبناک ہونا۔ عنہ۔ ڈرنا۔ گھبرانا۔ نفرت کرنا۔ ناک چڑھانا۔ صفت (ذَبْرٌ وَذَابْرٌ)</p>
---	--	--

<p>ذَحَى رَضٍ، ذَحْيَا - الصُّوف - اَوْن وَصْنَا - كَوْنَا - الرِّيحُ القَوْمَ - قوم کو کھل ہوا لگنا۔ المَذْحَاةُ - وہ زمین جس پر درخت نہ ہوں ج - مَذَاحٌ - ذَخْرُونَ، ذَخْرًا - ضرورت کے وقت کے لیے ذخیرہ کرنا۔ اَذْخَرُوا ذَخْرًا - ذخیرہ کرنا۔ الذُّخْرُ ذَخْرًا كَمَا سَمِ - وہ شے جس کا ذخیرہ کیا جائے - ج - اَذْخَارٌ - الذَّاخِرُ - مَوْتًا - الذَّخِيرَةُ - ج - ذَخَائِرُ ذَخِيرَةٍ - خزانہ کہتے ہیں: اَعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ ذَخَائِرٌ عِنْدَ اللَّهِ - مومنین کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ ہیں۔ الذُّخْرُ - سَبْرٌ كَمَا سَمِ - ایک قسم کی خوشبودار گھاس - واحد - اَذْخِرَةٌ، ج اَذْخِرُ - المَذْخِرُ - ذخیرہ کرنے کی جگہ - ج - مَذَاخِرُ المَذَاخِرُ - جوف - رگیں - انٹریاں پیٹ کے نچلے حصے۔ ذَرْدَنٌ، ذَرْدًا - المِلْحُ نَمَكٌ جَمْرًا - - الحَبُّ فِي الارْضِ - زمین میں وانہ ہونا - الارضُ النَبَاتِ - زمین کا نبات اگانا - ذَرْدًا و ذُرُوسًا القَرْنِ او النَبَاتِ سِينَك یاسبزہ کا پھوٹنا - الشمسُ - آفتاب کا طلوع ہونا - اللَحْمُ - گوشت کا سُكْرَانًا - ذَرْدَسَنٌ، ذَرْدًا او ذُرْدًا - الرجلُ - سر کے اگلے حصہ کا سفید ہونا۔ الذَّرْدُ - چھوٹی چھوٹی نیاں - کرک - ہوا میں منتشر غبار۔ ذَرَاتٌ - فاصد ذَرَاتٌ، قَسَلٌ - الذَّرْدُ - آنکھ یا زخم میں چھڑکنے کی دوا۔</p>	<p>تَذَبَّلَ - فِي المَشِي - مَلِكٌ كَرِهْنَا - ناز سے چلنا۔ الذَّبَلُ - كَهْمَا كِي سِيطُ كِي بَدِي - آغاز جوانی۔ الذَّبَلُ - كَشْدُ كِي - پسر الذَّبَلَةُ - سِيكُنِي - الذَّبَلَةُ - پياس كِي وَجَرَسَ هُونُوں كِي خشکی۔ الذَّاِبِلُ - فَا - بَارِيكٌ - دُبَلَا - ج - ذُبُلٌ و ذُبُلٌ - الذَّاِبِلَةُ - مُوْتٌ - الذَّاِبِلُ - عَيْنٌ ذَّاِبِلَةٌ - نِيْمٌ بَارِ كَمُ - مَسْتَانٌ آكَمُ ج - ذَوَابِلُ - الذَّوَابِلُ - رِمَاحٌ (نیزوں) ك صفت بھی بن کر آتا ہے۔ کہتے ہیں: الرِّمَاحُ الذَّوَابِلُ - باریک نیزے - نفس نیزوں کو بھی ذَوَابِلُ کہتے ہیں۔ الذَّبَالَةُ وَالذَّبَالَةُ - ج - ذُبَالٌ - ذَبْرَدَنٌ، ذَبْرًا - سَفْرَسَ وَاپس آنا - المَاءُ - پانی پینا۔ ذَجَلَهُ دَنٌ، ذَجَلًا - ظَلَمَ كَرْنَا - ذَحَهُ دَنٌ، ذَحًا - تَهْمِرٌ مَارْنَا - الْحَطَبُ - لَكْرِي پھارنا - الفِلْقَلُ مرچ کوٹنا۔ ذَحَجَهُ دَنٌ، ذَحَجًا - جَمِينًا - حَرَكْتُ دِنَا - ذَحَجَتُهُ الرِّيحُ - ہوا کا کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا - المَرَاةُ يُوَلِّدُ كَا - عَوْرَتِ کا بچہ جنتا۔ ذَحْدَحٌ - چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیز چلنا - الرِّيحُ العَوَابُ - ہوا کا مٹی اڑانا۔ التَّوْحَلُ - خُونٌ كَا بَدَلُهُ - عِدَاوَتٌ - كَيْفِيَةٌ - ج ذُحُولٌ وَاذْحَالٌ - كَمَا جَاتَا هَبِي - "لِي عِنْدَهُمْ ذُحُولٌ -</p>	<p>ذَبَذَبَ - الشَّيْءُ المَعْتَقُ فِي السَّوَاءِ ہو میں لٹکی ہوئی چیز کا ہلنا۔ حرکت کرنا - الرجلُ كَسِي كَا مَرُوو، و حیران ہونا - ذَبَذِيَهُ كَسِي كُو مَرُوو و حیران چھوڑنا - ذَبَذَبَ أَهْلَهُ - اپنے اہل کی حمایت کرنا - العَلَقُ - مخلوق کو ایذا دینا - الشَّيْءُ - حَرَكْتُ دِنَا - تَذَبَذَبَ - حَرَكْتُ كَرْنَا - ہلنا۔ الذَّبَذِيَةُ - زَبَانٌ - ہوا میں حسرت کرنے والی چیز - وہ چیز جو پا لٹکی ك زینت کے لیے لٹکان جائے - ج ذَبَاذِبٌ - الذَّبَاذِبُ - لباس یا پا لٹکی ك سنجاف - یا پھندنا۔ المَذْبُذِبُ - پس و پیش کرنے والا۔ ذَبْرَدَنٌ، ذَبْرًا - الكِتَابُ - كِتَابٌ لَكُنَا - نَقَطَ لَكَا نَا - جلدی پڑھنا - الشَّيْءُ - جَانَا - اچھی طرح سمجھنا۔ ذَبْرَدَنٌ، ذَبْرًا وَ ذَبْرًا - اچھی طرح دیکھنا - العَبْرُ - خَرَجَانَا - جَمْعًا - - الشَّعْرُ - شَعْرٌ پڑھنا۔ ذَبْرَدَسٌ، ذَبْرًا - عَلَيْهِ غَصَبٌ هُونَا - ذَبْرٌ - الكِتَابُ - كِتَابٌ لَكُنَا - نَقَطَ لَكَا نَا - جلدی جلدی پڑھنا۔ الذَّبْرُ - مَعْنَى كِتَابٌ - ج - ذَبَارٌ - الْمِذْبَرُ - قَلَمٌ - ذَبَلٌ وَ ذَبَلٌ - دَنٌ، ذُبُولًا وَ ذَبَلًا - النَبَاتُ - پودہ کا مرجھانا - الْفَرْسُ - گھوڑے کا لاغر ہونا - لِسَانُهُ أَوْ سَفْتُهُ - زَبَانٌ یَا هُونُ كَا خشک ہونا کہتے ہیں: ذَبَلَتْهُ ذُبُولٌ - اس کو مصیبت پہنچی۔ أَذْبَلٌ - النَبَاتُ او الفَرْسُ - پودے کو پشمرہ یا گھوڑے کو لاغر کرنا۔</p>
---	--	--

خوشبو۔ ج۔ آذَرَّةٌ
 الذَّرِيَّةُ۔ ایک قسم کی خوشبو۔
 الذَّرِيَّةُ۔ تلوار کا جوہر۔
 ذَرِّيَّةٌ۔ الرجل۔ اولاد نسل۔ ج
 الذَّرَائِيُّ وَالذَّرِيَّاتُ۔
 الذَّرَارُ۔ غضب۔ غصہ۔
 الذَّرَارَةُ۔ ذرور خوشبو سے جو جھڑے۔
 الذَّرَّةُ۔ غلہ وغیرہ بکھیرنے پھرنے کا آلہ۔
 ذَرَأْتُ، ذَرَأٌ۔ اللَّهُ الْخَلْقُ۔
 اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو پیدا فرمانا۔
 الشَّيْءُ۔ زیادہ کرنا۔ الارض
 زمین میں کچھ بونا۔ (وَذَرِيَّتِي) (س)
 ذَرَعٌ، شَعْرَةٌ۔ بالوں کا بڑھاپے کی
 سفیدی سے سفید ہونا۔ صفت (أَذْرَأُ
 مَوْتٌ۔ ذَرَعَاءُ۔
 أَذْرَأَةُ إِذْرَاءٌ۔ غضبناک کرنا۔ ڈرانا۔
 ءُ بِالشَّيْءِ۔ جلیں بنانا شوقین بنانا۔
 ءُ إِلَى كَذَا۔ مجبور کرنا۔ الدَّمْعُ
 آنسو بہانا۔ الناقطُ۔ اونٹنی کا
 دودھ اتارنا۔ صفت (مُذْرِيٌّ)
 الذَّرْعُ۔ تھوڑی سی چیز کہتے ہیں۔ "يَكْفِيَنِي
 ذَرْعٌ مِّنْ حَبِيرٍ" مجھے تھوڑی سی نیکی
 کافی ہے۔ "وَهُمْ ذَرْعُ النَّارِ"
 وہ آگ کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔
 الذَّرَاعَةُ۔ بڑھاپے کی ابتدائی سفیدی جو
 کنپٹیوں پر چلتی ہے۔
 الذَّرِيَّةُ۔ بکھیری ہوئی چیز۔ حال ہی میں
 بیچ ڈال ہوئی زمین۔
 ذَرِبَ (س) ذَرَبًا وَذَرَابَةً وَذَرُوبَةً
 — السَّيْفُ۔ تلوار کا تیز ہونا۔
 صفت (ذَرِبْتُ) ج۔ ذَرِبْتُ
 النَّجْرُوحُ۔ زخم کا خواب ہو کر پھیل جانا۔
 — الرجلُ۔ کسی کا عجز کے بعد فصیح
 زبان ہونا۔ المَعْدَاةُ۔ معدہ کا
 خواب ہونا۔ درست ہونا (ضد)

ذَرِبَ (ن) ذَرَبًا وَذَرِبَ وَأَذَرِبَ۔
 — السَّيْفُ۔ تلوار کو تیز کرنا۔
 — أَذَرِبَ الرَّجُلُ۔ کسی کا تنگ
 گزارہ والا ہونا۔
 الذَّرِبُ۔ زبان کی خرابی۔ لا علاج بیماری
 زنگ۔ ج۔ أَذْرَابٌ۔
 الذَّرِبُ۔ جگر کی ایک بیماری۔ گرون کا غدود
 — رجلٌ ذَرِبٌ۔ زبان وراز
 آدمی۔
 الذَّرِبُ۔ موجی کی راہی۔ ج ذَرِبٌ۔
 لِسَانٌ ذَرِبٌ۔ فصیح و فحش گو زبان۔
 الذَّرْبَةُ۔ غدود۔ تیز و بد زبان عورت۔ ج
 ذَرِبٌ۔
 الذَّرَابُ۔ زہر۔
 الذَّرْبِيُّ۔ عیب۔
 الذَّرْبِيُّ۔ مصیبت۔
 الأَذْرَبِيُّ۔ آذربائیجان کی طرف خلاف
 قیاس نسبت۔
 المِذْرَبُ۔ زبان۔
 ذَرَحَ (ن) ذَرَحًا وَذَرَحَ۔ الشَّيْءُ
 فی الرِّيحِ۔ ہوا میں اڑانا۔
 الطَّعَامُ۔ کھانے میں ذراح
 نامی کپڑا ملا کر اس کو زہریلا کرنا۔
 ذَرَحَ اللَّبَنُ۔ دودھ میں پانی ملانا۔
 — الزَّعْفَرَانُ فِي الْمَاءِ۔ پانی میں
 تھوڑا زعفران ملانا۔
 الذَّرَاحُ وَالذَّرُوحُ وَالذَّرِيحُ
 وَالذَّرَاحُ وَالذَّرُوحُ وَالذَّرَحُ
 وَالذَّرُوحُ وَالذَّرِيحَةُ وَالذَّرُوحُ
 — وَالذَّرُوحُ۔ ایک قسم کا زہریلا
 پروار کپڑا۔
 الذَّرَاحُ۔ پانی ملا ہوا دودھ۔
 الذَّرِيحَةُ۔ ٹیلہ۔ ج۔ ذَرِيحٌ۔
 لَبَنٌ أَوْ عَسَلٌ مُّذْرَحٌ۔ جس دودھ یا
 شہد میں پانی زیادہ ہو۔

ذَرَّسَ۔ المِلْحَ أَوِ الْمَلْحَ۔ نمک یاد دہانہ
 بکھیرنا۔ چھڑکنا۔ بونا۔
 الذَّرَّارُ۔ باتونی۔ بکواس۔
 ذَرَعٌ (ن) ذَرَعًا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے
 کو ذراع سے ناپنا۔ ءُ کسی کے پیچھے
 سے ہاتھ سے گلا گھونٹنا۔ ذَرَعَهُ
 القِيْتُ۔ بے اختیار تھے آجانا۔
 ذَرَعٌ (ن) ذَرَعًا۔ وَذَرَعٌ (س) ذَرَعًا۔
 — عِنْدَ الرَّجُلِ وَالِيهِ سَفَارَشُ
 کرنا۔
 ذَرَعٌ۔ الرَّجُلُ۔ کسی کے پیچھے سے آکر
 ذراع سے گلا گھونٹنا۔ بالشَّيْءِ۔
 اقرار کرنا۔ فِي السَّبَاحَةِ۔
 تیرنے میں بازو پھیلانا۔ فِي الْمَشِيِّ۔
 چلنے میں بازوؤں کو حرکت دینا۔
 الرَّجُلُ۔ ڈراتے ہوئے یا خوش خبری
 دیتے ہوئے بازوؤں کو بلند کرنا۔ کتے
 ہیں۔ "ذَرَعِي نَيْشَانِ مِنْ خَيْرِهِ" مجھے
 کچھ خبری۔
 ذَرَعَهُ۔ لَنْ يَأْتَاكَ ذَرَعَهُ بَيْنَنَا۔
 وسیلہ بنانا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کو
 ہاتھ سے ناپ کر پیمانہ۔ صَاحِبَهُ
 فَذَرَعَهُ۔ قدم بڑھانے میں مقابلہ
 کرنا اور غالب نہ ہونا۔
 أَذْرَعُ الشَّيْءِ۔ ہاتھ سے پکڑنا۔
 ذَرَاعِيَهُ مِنْ تَحْتِ الْجَنَّةِ۔
 جہنم کے نیچے سے دونوں بازوؤں کو
 نکالنا۔ فِي الْكَلَامِ۔ بہت گفتگو
 کرنا۔
 قَذَرَعٌ۔ فِي الْكَلَامِ۔ بہت گفتگو کرنا۔
 — الشَّيْءِ۔ ہاتھ سے ناپنا۔
 لِأَوَّلِ الْمَاءِ۔ اونٹ کا پانی میں
 بازوؤں تک اتر جانا۔ يَذْرَعُهُ
 وسیلہ بنانا۔ الشَّيْءِ۔ لِبَاطِي فِي
 ہاتھ ہاتھ بھر پھٹنا۔

إِنذَرَعٌ - شروع ہونا - فی السیر -
کشاوہ چلنا -
تَذَارَعَتْ - الابلُ المفازة - جنگل
کا سفر طے کرنا -
إِسْتَذَرَعٌ - بالشیء - چھپنا اور وسیلہ
بنانا -
الذَّرَعُ - مص - ہاتھ کا پھیلاؤ - کہتے ہیں -
"أَبْطَوْتُ فَلَانًا ذَرَعَهُ" میں نے
فلاں کو اس کی طاقت سے اونچی تکلیف
دی - "وَأَبْطَوْنِي ذَرَعِي" یعنی
میری روزی کو بند کر کے مجھے لاغر
کر دیا - "وَضَفَّتْ بِالْأَمْرِ ذَرَعًا"
میں اس پر قدرت نہیں رکھتا - وَهُوَ
وَإِسْعُ الذَّرَعِ - وہ قدرت والا ہے
"وَهُوَ خَالِي الذَّرَعِ" اس کا دل نہیں
اور فکروں سے خالی ہے - "وَذَرَعُهُ
كَذَا" اس کا طول اتنا ہے -
الذَّرَاعُ - من الرجل - کہنی سے لے کر
درمیانی انگلی کے سرے تک کا حصہ -
دیہ مونت ہے کبھی مذکر بھی آتا ہے -
"ضَاقَ بِالْأَمْرِ ذَرَاعُهُ" اس کی
طاقت گھٹ گئی - "هُوَ لَكَ عَلَى
جَبَلِ الذَّرَاعِ" وہ تمہارے لیے
تیار اور حاضر ہے - "وَجَعَلْتُ
أَمْرَكَ عَلَى ذَرَاعِكَ" یعنی تم جو
چاہو کرو - ج - آذْرَعُ وَذَرَعَانُ -
والذَّرَاعُ مِنَ الْبَقْرِ وَالْعَنُقِ
گھٹے اور بکری کا دست - "وَمِنْ
الْحَيْلِ وَالْأَبْلِ" گھوڑے اور
اونٹ کی پٹلی کے ہاں ایک حصہ سے
اوپر کا حصہ - ایک پیمانہ جس کی لمبائی
۵۰ سے ۷۰ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے -
أَوْلَادُ ذِرَاعٍ وَأَوْلَادُ الذَّرَاعِ
کتے - گدھے -
الذَّرَعُ - مص - امید - جنگلی گائے کا بچہ -

ج - ذِرْعَانُ -
الذَّرَعُ - زبان دراز - رات و دن پھرنے والا -
اچھا سا کٹی - مونت - ذِرْعَةٌ - ج
ذِرْعَاتُ
الذِّرْعَاتُ - تیز کشاوہ قدم والیاں -
الذَّرْعَةُ - وسیلہ - ج - ذُرْعٌ -
الذَّرُوعُ - لمبے قدموں والا گھوڑا اور
اونٹ -
الذَّرِيعُ - تیز رفتار - سفارش کرنے والا -
مَمُوتٌ ذَرِيعٌ - پھینے والی یا جلد
آنے والی موت - وَقْتٌ ذَرِيعٌ
عد سے متجاوز قتل -
الذَّرِيعَةُ - وسیلہ - وہ اونٹنی جس کے پیچھے
شکاری بوقت شکار آڑ لیتا ہے - یا
چھپتا ہے - ج - ذَرِيعٌ -
الذَّرَعُ - بڑا نصیح - قَتَلَهُمْ أذْرَعٌ
قتل - اس نے ان کو بہت جلد اور
بری طرح قتل کر دیا -
الْمَذْرَاعُ - ج - مَذَارِيعٌ وَمَذَارِعٌ -
صحرا کے کنارے کے اطراف ، اور
دیہات - جانور کی ٹانگیں -
الْمَذْرَعُ - مفعول - جس کے سینہ پر نیزہ
وغیرہ مارا ہو اور اس کی ٹانگوں پر خون
بہ گیا ہو - آگے جانے والا گھوڑا -
- مِنَ الشَّيْوَانِ - جس بیل کی
پنڈلیوں پر سیاہ دلغ ہوں -
مِنَ النَّاسِ - جس کی ماں اس کے
باپ سے زیادہ شریف ہو -
ذَرَفٌ دَمٌ، ذَرَفَاوُ ذَرِيفًا وَ
ذَرَفَاوُ ذَرَفَانًا وَتَذَارِفًا -
الدَّمَعُ - آنسو بہنا - صفت -
رَذْرِيفٌ وَمَذْرُوفٌ - العَيْنُ
دَمْعَهَا - آنکھ کا آنسو بہانا -
ذَرَفَانًا، سُنْتُ حَالٌ سَ بَلْنَا -
ذَرَفٌ تَذْرِيفًا وَتَذْرِيفَةٌ وَتَذَارِفًا -

- الدَّمَعُ - آنسو بہانا -
الْمَمُوتُ کسی کو قریب الموت کر دینا -
- الشَّيْءُ - کسی کو کسی چیز پر مطلع
کرنا - عَلَى الْخَمْسِينَ - پچاس
سال سے بڑھ جانا -
إِسْتَذَارَفٌ - الشَّيْءُ - قطرہ قطرہ ٹپکانا -
- الضَّرْعُ - دودھ نکانے کے
لیے تیار کیا -
الذَّرَافُ - تیز رو -
الْمَذَارِيفُ - آنسو بہنے کی جگہیں - واحد
(مَذْرَفٌ)
ذَرَفٌ دَمٌ، ذَرَفَاوُ أذْرَفٌ -
الطَّائِرُ - پرندہ کا بیٹ کرنا -
المكان - ذَرَفٌ كَمَا سُكِّنَا -
الذَّرَفُ - مص - بیٹ -
ذَرَفٌ - الكلام - اس نے کلام کیا -
ذَرَايِدُرُو ذَمْرًا وَذَرِي يَذْرِي -
ذَرِيًّا وَذَرِيًّا تَذْرِيَّةٌ وَ
أَذْرِي إِذْسَاءً - الريحُ
التراب - ہوا کا خاک اڑانا - بکھیرنا
- الْجِنَطَةُ - گیہوں کو ہوا میں مٹ
کرنا - آذْرِي الشَّيْءُ - گرانا
بکھیرنا - أذْرَاهُ الْفَرَسُ مِنْ
قَطْمِرٍ - اس کو گھوڑے نے اپنی پیٹھ
سے گرا دیا - ذَرِي السَّاقِ - بکری
کی اون کتر کر اس کی پیٹھ پر تھوڑی سی اون
بطور نشانی چھوڑ دینا -
ذَرَايِدُرُو ذَمْرًا - الشَّيْءُ - ہوا
میں اڑنا -
ذَرَا - الطَّبِيُّ - ہرن کا تیز دوڑنا -
الی فلاں - قصد کرنا - فَوْهٌ -
دانت گرنا -
تَذَارِي - ہوا میں اڑ کر صاف ہونا -
المكان أو الجبل - کسی جگہ یا
پہاڑ پر چڑھنا - کہتے ہیں - تَذَارِي

من برد الشمال بصخرقة -

یعنی اس نے شمالی ہوا کی سوی سے
پٹان کی پناہ لی۔

استذری - پناہ لینا - بالشجر
ورخت کا سایہ لینا۔

الذری - گھر کا صحن اور اس کے اطراف۔

پناہ اور ہر وہ شے جس میں چھپا جا سکے

”التخذت الحائط ذری لی“ میں

نے دیوار کی پناہ لی۔ ”وانا فی ذری

فلاہن“ میں فلاں کی پناہ میں ہوں

”هو کویح الذری“ وہ کریم الطبع

ہے۔ جاری آنسو۔

الذری - وہ غلہ جس کا دوسا دن کیا جائے۔

الذراوة - ہوا میں اڑ کر گرا ہوا بھوسہ۔

ہوا میں اڑی ہوئی چیز۔

الذروة والذروة - چوٹی۔ اوپنی جگہ

ہر چیز کا بلند حصہ۔ ج ذری و ذری۔

الذروة - بڑھاپا۔

الذرة - کٹی۔ غلہ کی ایک قسم۔

المدری والمدراة - جلی جس سے

گیہوں وغیرہ کھولتے ہیں۔ ج۔

مدار۔

المدراون - سر کے دونوں پہلو۔ کمان

کے دونوں سرے۔ دونوں سرینوں کے

ہر دو طرف۔ کہتے ہیں: جاء ینقص

مدروئہ - یعنی وہ دھمکی دیتا

ہوا آیا۔

تذعینہ - الجحش جن کا کسی کو خوفزدہ کرنا۔

انذعب - الماء - پانی کا برابر ہتار ہنا۔

الذعبان - جوان بھیریا۔

ذعجہ دف، ذعجنا - زود سے وکیلنا

الذعاع - فرقی۔ واحد ذعاعة،

ذعذع - الضغ - پرانندہ کرنا۔ بکھیرنا۔

ذعذعہ - التوائیب - اسس کو

مصیبتوں نے جھڑھڑا دیا۔ السور۔

أو الخبز - بھیریا خیر کو پھیلانا۔ فاش

کرنا - الريح الشجر - ہوا کا

ورخت کو زور سے ہلا دینا۔

تذعذع - بکھرنا۔ پھیلنا۔

الذعذع - چغل خور۔ وہ شخص جو بھید

کو نہ چھپائے۔

ذعذع - النخل - ردی کھجور۔

تذعذعوا ذعذع - وہ لوگ ادھر

ادھر بھڑکے۔

ذعذعہ دف، ذعذعنا - ڈرانا۔ خوف زدہ کرنا۔

ذعذع - ڈرانا۔ صفت (مذعذع)

ذعذعہ دف، ذعذعنا - حیران ہونا۔ دہشت

زدہ ہونا۔

اذعذعہ - خوفزدہ کرنا۔

تذعذعہ - خوفزدہ ہونا۔

انذعذعہ - ڈرانا۔ گھبرانا۔

الذعذعہ - خوف و ڈر۔ امر ذعذعہ۔

خوفناک معاملہ۔

الذاعور - فاش کرنے والا۔ بیٹ۔ رجل

(ذاعور و ذعور و ذعور) اپنے

اندر عیوب کہنے والا آدمی۔ سرین۔ دبر۔

الذعور - ایک چھوٹا سا پرندہ جو اپنی

ڈم بہت زیادہ ہلاتا رہتا ہے۔

سنة ذعریة - سخت سال۔

الذعور - خوف زدہ۔ تمت اور بد کلامی

سے ڈرنے والی عورت۔

ناقة مذعور - دیوانی اونٹنی۔

ذعظہ دف، ذعظہ تیزی سے ذبح کرنا

اچانک مارتا۔ موت ذعظہ

و ذعوظ، جلد آنے والی موت۔

ذعظہ دف، ذعظنا - زہر پلانا۔

الطعام - کھانے میں زہر ڈالنا۔

ذعظہ دف، ذعظنا - مرنا۔

اذعظہ - اچانک مار دینا۔ جلدی مار دینا

انذعظہ - دل کا کٹنا۔ ٹوٹنا۔ سانس

بھوننا۔

الذعظہ والذعظہ - فوراً مار ڈالنے

والا زہر - حبة ذعظہ اللعاب

وہ زہر یا سانپ جس کا زہر فوراً مار

ڈالے۔

ذعظہ دف، ذعظنا - چلانا۔ چھیننا۔

ڈرانا - ذاعذعظہ۔ ملک

بیماری۔

ذعظہ دف، ذعظنا و اذعظہ - لذہ۔

تابع و مطیع ہونا۔ اذعظہ بالحقی

حق کا اقرار کرنا۔

المدعظہ - آسانی سے فرماں بردار ہونے

والا۔

ذعظہ دف، ذعظنا و ذعظنا - علی

الجریح - زخمی کو مار ڈالنا۔ فی

الامر - کسی امر میں جلد بازی سے

کام لینا۔ ذعظہ، الطاعون

فلانا - ہلاک کر دینا۔

ذعظہ و ذعظہ و اذعظہ - الجریح

و ذعظہ - علیہ ولہ - زخمی کو

مار ڈالنا۔ و ذعظہ چھاسنا

و اذعظہ - سواری کے بوجھ کو ہلکا

کرنا۔

ذعظہ دف، ذعظنا - واستذعظہ۔

استذعظہ - الامر - تیار ہونا

مکن ہونا۔

الذعظہ - تھوڑا سا پانی۔

الذعظہ - معی - ذعظہ علی الجریح

کا اسم۔ تھوڑی چیز۔ والذعظہ

زہر قاتل تھوڑا پانی۔ ج ذعظہ و

اذعظہ۔

الذعظہ والذعظہ - ہلکا تیز رو۔

ذعظہ دف، ذعظنا - الشح - بڑا ٹھنا۔

خواہ خوشبو ہو یا بدبو۔ عام طور پر بدبو

کے لیے مستعمل ہے۔ صفت ذعظہ

وَأَذْفَنُ مُؤْنَثٌ - ذَفْرَةٌ وَذَفْرَاءٌ
 — النَّبْتُ - سبزی کا زیادہ ہونا۔
 اسْتَذْفُوْا - بالامور - پکا ارادہ کرنا۔
 الذَّفْوُ وَالذَّفْرَةُ - بوکی تیزی - بدبو۔
 الذَّفِيْرَةُ - ایک قسم کی گھاس۔
 الذِّفْرِيُّ - کان کے پیچھے کی بڑی - جہ
 ذَفِيَّاتٌ وَذَفَارِيُّ وَذَفَائِرٌ -
 الذَّفْرَاءُ - ایک بدبو دار پودا۔
 ذَكْنَهُ دَنٌ، ذَكْنًا - مٹھوڑی پر مارنا۔
 — وَذَقْنٌ، عَلَيَّ يَدِيْهِ، أَوْ
 عَصَاهُ - اپنے ہاتھ یا لٹھی پر مٹھوڑی
 لگانا۔
 ذَاقَهُ مَذَاقِنَةً - تنگ کرنا۔
 الذَّقْنُ وَالذِّقْنُ - مٹھوڑی - جہ - آذَقَانٌ
 الذِّقْنُ - بہت بوڑھا۔
 الذَّاقِنَةُ - حلقوم کے کنارے پر کا ابھرا
 ہوا حصہ - ٹیٹھا۔
 الْأَذْقَنُ - لمبی مٹھوڑی والا - مؤنث ذَقْنَاءُ
 جہ - ذَقْنٌ۔
 ذَكَوْدُنْ، ذَكْوًا وَتَذَاكَرًا - اللّٰهُ
 اللّٰهُ تَعَالَى كِي بَاكِي وَبِزْرِكِي بِيَانِ كَرْنَا۔
 — الشَّيْءُ - يَادُ كَرْنَا -
 يَغْلَانِ حَدِيثًا - ذَكَرْنَا -
 الْأَمْرَ - اچھی طرح سمجھنا - اسْتَدْرَجَ
 اللّٰهُ - اللّٰهُ كَانَامَ لِيْنَا - حَقِّقْ
 فُلَانٌ - کسی کے حق کی حفاظت کرنا۔
 اور اس کو ضائع نہ کرنا۔
 ذَكَرْنَا - الْكَلِمَةَ - کلمہ کو نہ کر لانا۔
 ذَكَرْنَا الشَّيْءَ وَذَكَرْنَا بِهِ - يَادُ
 دَلَانَا - الْقَوْمَ - وَعَظَرْنَا -
 أَذْكَرَةٌ - الشَّيْءَ - يَادُ دَلَانَا -
 الْمَرْأَةُ - عَمْرَتٌ كَا أَوْلَادٍ زَيْرِيَّةً جَنَانًا -
 صفت - (مُذَكِّرٌ)۔
 ذَكَرَهُ مَذَاكِرَةً - فِي أَمْرِ - كَسِي بَاتٍ
 پُرْكَفَتُو كَرْنَا۔

تَذَكَّرَ - الشَّيْءَ - يَادُ كَرْنَا۔
 تَذَاكَّرُوا - فِي الْأَمْرِ - كَسِي مَعَالِمًا پُرْ
 بَاتٍ حَيْثُ كَرْنَا۔
 إِذْكَرُوا إِذْكَرُوا إِذْكَرُوا - الشَّيْءَ -
 يَادُ كَرْنَا۔
 اسْتَذَكَّرُوا - الشَّيْءَ - پُرْطَهْنَا - يَادُ كَرْنَا -
 اسْتَذَكَّرُوا الرَّجُلَ - كَسِي كِي اَنْكَلِي
 پُرْطُوْرًا بَانْدَهْنَا تَا كَمَ اس كُو كُوْنِي بَاتٍ يَادُ
 آجَانِي۔
 الذِّكْرُ - مَص - شَهْرَتٌ - كَتِي هِي - لَه
 ذِكْرٌ فِي النَّاسِ - اس كِي لوگوں ميں
 شَهْرَتٌ هِي - تَعْرِيفٌ - شَرَفٌ - نَمَازٌ
 وَدَعَارٌ - وَالذِّكْرُ مِنَ الرَّجَالِ
 مَضْبُوطٌ وَبِهَادٍ أَدْمِي - مِنَ الْقَوْلِ
 مَضْبُوطٌ بِخَنَتِ بَاتٍ - مِنَ الْمَطْرِ -
 مَوْسَلًا وَصَارَ بَارِشٌ - ذِكْرٌ
 الْمَيِّتِ - مَرْنِي وَالِي كَا نَامَ لُوگوں كِي
 دَبَانِ پُرْجَارِي رَهْنَا - ذِكْرٌ
 الْحَقِّ - چَك - جہ - ذِكْرٌ۔
 الذِّكْرُ - يَادُ وَاشْتِ -
 الذِّكْرُ وَالذِّكْرُ وَالذِّكْرُ - وَ
 الذِّكْرُ - بَهْت يَادُ كَرْنِي وَالَا -
 اچھے ماقظہ والا عمدہ يَادُ وَاشْتِ وَالَا -
 — وَالذِّكْرُ مِنَ الْحَدِيدِ
 اچھا سخت لوہا - رَجُلٌ ذِكْرٌ
 خُودَارِ أَدْمِي -
 مردوں سے مشابہت رکھنے والی عورت
 الذِّكْرَةُ - يَادُ -
 الذِّكْرُ - مَرْدٌ - مِنَ الْحَدِيدِ -
 اچھا عمدہ لوہا - مِنَ النَّحَاسِ -
 وہ سخت تانبا جو کوٹا نہ جاسکے -
 سَيْفٌ ذِكْرٌ - وہ تلوار جس كِي
 دھار عمدہ لوہے كِي اور پشت گھٹیا
 لوہے كِي ہو - مَطْرٌ ذِكْرٌ -
 سخت بارش - الذِّكْرُ مِنَ

النَّخْلِ - وہ کھوپڑی جو پھل نہ لائے۔
 جہ - ذِكْرٌ - وَذِكْرَةٌ وَذِكْرَانٌ
 وَذِكَارٌ وَذِكَاةٌ وَذِكْرَةٌ۔
 ذِكْرٌ - الْبَقْلُ - وہ ترکاریاں جو سخت
 اور تلخ ذائقہ ہو گئی ہوں۔ اس كِي ضد
 أَحْرَاسٌ ہي۔
 الذِّكْرِيُّ - يَادُ وَهَلِي - ذِكْرِي سَانِي يَاقَلْبِي -
 الذِّكْرَةُ - شَهْرَتٌ - كَلْمَا طِي كِي سِرِّي پُر
 لِكَا بُوْلُوْدَا كَا مَطْرَا - ذِكْرَةٌ
 السَّيْفِ - تَلْوَارِ كِي دھَارِ -
 الذِّكْرَةُ - ذَاكِرٌ كَا مَوْنَثٌ - قَوْتٌ
 حَافِظٌ۔
 التَّذْكِرَةُ - وہ چیز جس سے حاجت يَادُ
 آجَانِي - عِنْدَ الْمَوْلِدِيْنَ
 سَرِيْفِيْكِيٹ - پَاسِپُوْرٹ - ٹِكِيٹ - جہ
 تَذَاكِرٌ -
 الذِّكْرَةُ - مَرْدِي -
 الْمَذْكِرَةُ - لڑكے جِنِنِي وَالِي عَمْرَتٌ -
 يَوْمٌ مَذْكِرٌ - سَخْتٌ بُوْلُنَاكِ دَنٌ -
 طَوِيْقٌ مَذْكِرٌ - خُوْفُنَاكِ رَاسْتَه -
 دَاهِيَّةٌ مَذْكِرٌ - سَخْتٌ مَهِيْبَتٌ -
 الْمَذْكِرُ - زِيْرِي سَيْفٌ بُرَانِ - خُوْفُنَاكِ
 رَاسْتَه - بُوْلُنَاكِ دَنٌ -
 الْمَذْكِرَةُ وَالْمَذْكِرَةُ - مَرْدِ كِي
 مَشَابِهِ عَمْرَتٌ -
 الْمَذْكِرُ - لڑكے جِنِنِي وَالِي عَمْرَتٌ -
 ذَكْتٌ تَذَاكِرٌ وَذَكَاةٌ وَذَكَاةٌ - وَ
 اسْتَذَكَّتْ - النَّارُ - آگ كَا
 شَدْتٌ سِي بَرَاكِ پُرْطَانَا - الشَّمْسُ
 سُوْرَجِ كِي تَمَازِنَتِ كَا تِيْزٌ بُوْجَانَا -
 الْحَوْبُ - لڑائي كَا تِيْزٌ وَشَدِيدٌ بُو
 جَانَا -
 ذِكْرِي وَذِكْرِي وَذِكْرِي وَذِكْرِي وَذِكْرِي
 ذَكَاةٌ - تِيْزِ نَمِ بِنَانَا - صَفْتٌ - ذِكْرِي
 مَوْنَثٌ - ذِكْرِي - جہ - آذِكْرِيَاؤُ -

ذَكَائِدُ كَوْذَا وَذَكَاءٌ - الذُّبَيْحَةُ
جانور کو ذبح کرنا۔ (ذَكَاءٌ :
المسك) مشک کی خوشبو مسکنا۔
صفت۔ (ذَكَئِيٌّ)
ذَكَئِيٌّ - النَّارُ آگ جلانا۔ العُوبُ
جنگ کا آگ بھڑکانا۔ الذُّبَيْحَةُ
ذبح کرنا۔ الرجلُ - سن
سیدہ ہونا اور بدن میں بھاری پڑنا۔
أَذَكِيٌّ - النَّارُ آگ جلانا۔ الحربُ
جنگ کی آگ بھڑکانا۔ أَذَكِيٌّ
عليه العيون - اس نے اس پر
جاسوس بھیجے۔
أَسْتَذَكِيٌّ - اسْتَذَكَاءٌ - النَّارُ آگ
بھڑکانا۔ آگ کا بھڑکانا۔ جلنا۔
الذُّكَاؤُ ذہن کی تیزی۔ تیز فہمی۔
الذُّكَاؤُ سورج کے لیے اسم علم ہے۔
ابنُ ذُكَاؤُ - صبح۔
الذُّكُوَّةُ وَالذُّكِيَّةُ - ایندھن۔ آگ
سلگانے والی چیز۔
الذُّكَاؤُ - مص۔ دیکتا ہوا نگارہ (۔
والذُّكَاؤُ)۔ ذبح۔
المُدْرِكِيُّ وَالْمُدْرِكِيُّ - بہت بارش
برساتے والا بادل۔ - المُدْرِكِيُّ
مِنَ الخَيْلِ - وہ گھوڑا جو عمر میں بھی پورا
ہو اور طاقت میں بھی کامل۔ ج
المُدَّاكِيُّ وَالْمُدَّاكِيَّةُ -
ذَلَّ (رض) ذُلٌّ وَذِلَّةٌ وَذَلَالَةٌ وَ
مَذَلَّةٌ - ذلیل ہونا۔ خوار و رسوا
ہونا۔ صفت (ذَلِيلٌ وَذَلَالٌ)
ج۔ اِذْلَاءٌ وَ اِذْلَةٌ وَ اِذْلَالٌ -
(۔ ذُلٌّ وَ ذِلَّةٌ) - البعيرُ -
اونٹ کا جلد رام ہونا۔ صفت (ذَلُولٌ)
ج۔ اِذْلَةٌ وَ ذُلٌّ - کہتے ہیں۔
"ذَلَّتْ لَهُ القَوَائِي" اس پر قافیوں
کی آمد ہوئی۔

ذَكَوَةٌ وَ اِذْلَةٌ وَ اِستَذَلَّةٌ - ذلیل
کرنا۔ اِذْلَةٌ وَ اِستَذَلَّةٌ -
ذلیل پانا۔ وَ اِذْلٌ التَّجْلُ
سزاوار دولت ہونا۔ ساتھیوں کا ذلیل
ہونا۔
ذَلِيلٌ - التَّكْوُمُ - انگوٹھ کے خوشے لٹکانے
گئے یا برابر کیے گئے۔ النخلُ -
درخت خرما کے خوشوں کو لکڑی پر رکھا۔
تَذَلَّلَ - لہ۔ عاجزی اور فروتنی کرنا۔
الذُّبُلُ - مص۔ رحمت۔ نرمی۔ ج۔
أَذْلَالٌ - کہتے ہیں "دَعَا عَلِيٌّ
أَذْلَالِيهِ" اس کو اپنی حالت پر چھوڑو
— جَاءَ عَلِيٌّ أَذْلَالِيهِ - وہ
وہ اپنے طریقہ پر آیا۔ اُمُورُ
اللَّهِ جَارِيَةٌ أَذْلَالُهَا وَعَالَمُ
أَذْلَالِيهَا - اللہ تعالیٰ کے امور حسب
مواقع جاری ہیں۔ - اِذْلَالٌ
النَّاسِ - سب سے آخری لوگ۔
سب سے ادنیٰ لوگ۔
الذُّبُلُ - مص۔ تابع داری۔ سہولت
نرمی۔ تواضع۔ کہتے ہیں "ذُلُّ ذَلِيلٌ"
ذلیل کرنے والا یا بُری دولت۔
الذُّبُولِيُّ - نرم و خوش اخلاق۔ - طَرِيْقٌ
مَذَلَّلٌ - بہت چلتا ہوا راستہ۔
شَجَرَةٌ مَذَلَّلَةٌ - وہ درخت جس
کو ہر شخص پاسکے۔
ذَلَعٌ دَفٌّ، ذَلْعًا - ہونٹ پھٹنا۔
صفت (أَذْلَعٌ)۔ - الطَّعَامُ
کھانا کھانا۔
ذَلَعَتْ (دس) ذَلْعًا - شَقَّتْهُ - ہونٹ
الطَّنَا - صفت (أَذْلَعٌ)
تَذَلَّلَ - الشَّيْءُ - ڈھیلا اور مضطرب
ہونا۔
الذُّبُلُ وَالذُّبُلُ - کپڑے کا دامن
ج۔ ذَلِيلٌ - کہتے ہیں "مَشْمُورٌ"

ذَلَّ ذَلِكُ - دامن اٹھا۔
ذَلَعَتْ (دس) ذَلْعًا - اللَّفْتُ - ناک
چھوٹی اور ہموار ہونا۔
الذُّبُلُ - چھوٹی اور ہموار ناک والا۔ مؤنث۔
ذَلْعًا - ج۔ ذَلْعٌ -
ذَلَعٌ دَنٌ، ذَلْعًا وَ اِذْلَعٌ - الطَّائِرُ
پرنده کا بیٹ کرنا۔ ذَلَعُ اللِّسَانِ
زبان کا فصیح و تیز ہونا۔ (۔ وَ اِذْلَعٌ
وَ ذَلْعٌ) - السِّكِّينُ - چھرن
تیز کرنا۔ ذَلْعَةٌ وَ اِذْلَعَةٌ
ذَلْعَةٌ - کمزور اور دبا کرنا۔
ذَلَعُ الصَّبْتِ - گرہ کونکالنے کے لیے
اس کے سوراخ میں پانی ڈالنا۔
ذَلَعٌ (دس) ذَلْعًا - السِّيفُ أَوْ
اللِّسَانُ - تلوار یا زبان کا تیز ہونا۔
- السِّرَّاجُ - چراغ کا روشن
ہونا۔ الرجلُ - آدمی کا بے آرام
ہونا۔ - مِنَ العَطِشِ - پیاس سے
قریب المرگ ہونا۔
ذَلَعٌ (دس) ذَلْعَةٌ - اللِّسَانُ - زبان
کا فصیح ہونا۔
إِذْلَعٌ - تیز زبان ہونا۔
الذُّبُلُ - مص۔ ذَلَعُ الشَّيْءِ وَ
ذَلْعَتُهُ - کسی شے کی تیزی۔ ذَلْعٌ
اللِّسَانِ - زبان کا کنارہ۔ ذَلْعٌ
السِّفْرِ - تیر کا باریک حصہ۔
الذُّبُلُ وَالذُّبُلُ وَالذُّبُلُ وَالذُّبُلُ
وَالذُّبُلُ وَالذُّبُلُ - مِنَ
الْاِسْتِزَّةِ اِدْاِ اسْتِزَّةً - تیز زبان یا ہمالا۔
- لسانُ ذَلْعٌ طَلْقٌ وَ ذَلْعٌ طَلْقٌ
وَ ذَلْعٌ طَلْقٌ - تیز زبان فصیح و بلیغ۔
الذُّبُلُ - مِنَ كَلِّ شَيْءٍ - دھار۔ نوک۔ تیزی
- الأَحْرُفُ الذُّوْلِقِيَّةُ - وہ حروف
جن کا مخرج نوک زبان ہو۔
الْمُدْلَقُ - تیز نثارہ والا۔ پانی ملاوڑ۔

ذَلِي يَدَايَ - ذَلِيَا - الرُّطْبُ - تر

کھجور چننا۔

إِنْدَى - تر کھجور کا چننا جانا۔

كَذَى - تواضع و عاجزی کرنا۔

إِذْ كُوِّلِي - ذلیل ہونا۔ تابع ہونا۔ چھپ کر
تیزی سے نکل جانا۔

ذَمَّةٌ دَنٌ ذَمًّا وَمَدَمَةً - برائی

کرنا۔ عیب گیری کرنا۔ الألفُ۔

ناک سے ریزش ہونا۔

ذَمَّمَهُ - مذمت کرنے میں مبالغہ کرنا۔

ذَامَرٌ - عَيْشَةٌ - قناعت کے ساتھ

گذارہ کرنا۔

أَذَمَّهُ - قابل مذمت پانا۔ کسی کو پناہ دے

کر اپنی حفاظت میں لینا۔ الرُّجُلُ

قابل مذمت فعل کرنا۔ علیہ

ولہ۔ کسی کے لیے پناہ لینا۔

المَكَانُ - کسی جگہ کا قحط زدہ اور

بے برکت ہونا۔ - أَذَمَّ

بہتر۔ حقیر باننا یا مذموم حالت میں

چھوڑنا۔

تَدَانَتْ - القَوْمُ - ایک دوسرے کی

مذمت کرنا۔

تَذَمَّمَهُ - مِنَهُ - کسی سے بچنا۔ اور

اس کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھنا۔

کہتے ہیں۔ "إِنِّي أَتَذَمَّمُهُ مِنَ

القَوْمِ" میں اس قوم سے کنارہ

کش ہو کر دوسری قوم کی طرف چلا

جاؤں گا۔

اسْتَدَامَهُ - قابل مذمت ہونا۔ بہ

پناہ طلب کرنا۔ إلی فُلَانٍ -

کسی کے ساتھ قابل ملامت فعل کرنا

الدَّمْرُ - مَصٌ - مذمت۔ برائی۔ عیب۔

ج۔ ذَمُّوهُ - کہتے ہیں۔ "إِفْحَلْ

كَذَا خَلَاكَ ذَمُّهُ" ایسا کرو تم

ملامت سے بری ہو گے۔ ذم یعنی

مذموم بھی مستعمل ہے۔

بَسِيرٌ ذَمَّةٌ - کم پانی والا کنواں۔ یا زیادہ

پانی والا۔

الذَّمَةُ - کفالت۔ بہت دُبلّا۔ ہلاک

ہونے والا۔

الذِّمَامَةُ - حق۔ عزت۔ حرمت۔ ج

أَذَمَّةٌ -

الذِّمَامَةُ - کفالت۔ ذمہ داری۔

الذِّمَامَةُ - بقیہ۔

الذِّمَامَةُ - امان۔ حفاظت۔ ذمہ داری۔

ج۔ ذِمَّةٌ - اهل الذمّة

دارالاسلام میں جزیہ دے کر رہنے

والے غیر مسلم لوگ۔ ایک دوسرے

سے معاہدہ کرنے والی قوم۔ -

"أَنْتَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ" تم اللہ کی

امان و پناہ میں ہو۔

الذِّمِّيُّ - مسلمان بادشاہ کی غیر مسلم جزیہ

دینے والی رعایا۔

الذِّمِّيُّ - برا۔ منہ پر کی چھٹی۔ شبنم۔

رینٹ۔ بد مزہ پانی۔ - بَثْرٌ

ذَمِيمٌ - حقوڑے یا زیادہ پانی والا

کنواں۔ ج ذِمَامَةٌ -

المُذَمَّمَةُ - بے حرکت۔ عیب دار۔

المَذَمَّةُ - نقص۔ عزت۔ خود داری۔

"هُوَ يَحْفَظُ مَذَمَّتَهُ" وہ اپنے

حق و عزت کی حفاظت کرتا ہے۔

"أَذْهَبَ مَذَمَّتَهُ بِشَيْءٍ"

اس کو کچھ دے کر حق کی ادائیگی کرو۔

ذَمَّادٌ، ذَمَّاءٌ - الامور علیہ۔ کسی

پر کوئی امر شاق و بار ہونا۔

ذَمَّمَهُ - حقوڑا عطیہ دینا۔

ذَمَمَهُ دَنٌ، ذَمَمُوا - دھکی دینا۔

ذَمَمَهُ عَلَى الامور کسی امر پر ملامت

کر کے اکسانا۔ ابھارنا۔ الأَسَدُ

شیر کا دھاڑنا۔

ذَمَّرَ - الشَّيْءُ - اندازہ لگانا۔

الرجُلُ - کسی کے منڈھے کو چھونا۔

تَذَمَّرَ - کسی کام کے ہاتھ سے نکل جانے

پر اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ غصہ

ہونا۔ کہتے ہیں۔ "كَانَ يَتَذَمَّرُ عَلَى

ذَمِّهِ" وہ اپنے آقا پر بلند آوازی

سے ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ - علی

فُلَانٍ - کسی پر برا فروختہ ہونا۔ کسی

کو دھکی دینا۔ - وَتَذَمَّرَ

القَوْمُ - ایک دوسرے کو

جنگ پر بھڑکانا۔ ایک دوسرے کو

ملامت کرنا۔

الذِّمُّو وَالذِّمُّو وَالذِّمُّو وَالذِّمُّو

بہادر۔ ج۔ آذَمَارٌ -

الذِّمَارُ - ہر وہ جس کی حمایت و حفاظت

اور بچاؤ کسی کے ذمہ لازم ہو۔ حرم

خاندان۔ کہتے ہیں۔ "هُوَ أَمْنَعُ

ذِمَارًا مِنْكَ" وہ تم سے زیادہ

حفاظت کرنے والا ہے۔

ذَمَارٌ - اسم فعل۔ جنگ پر برا نیگتہ

کرنے کے لیے۔

الذِّمَارَةُ - بہادری۔ شجاعت۔

الذِّمِّيُّ - سخت طبیعت۔

المُذَمَّرُ - مفع۔ کندھا۔ گردن اور

اس کے گردا گرد کا حصہ۔ کہتے

ہیں۔ "بَلَّغَ الامور المذمومة معاملة

سنگین ہو گیا۔

ذَمَلٌ دَنٌ، ذَمَلًا وَذَمِيلًا وَ

ذَمُولًا وَذَمَلَانًا - البعيرُ -

اونٹ کا نرم اور آہستہ چال سے چلنا۔

ذَمَلٌ - البعيرُ - اونٹ کو آہستہ چلانا۔

- نَاقَةٌ رَدَمُولٌ، آہستہ چلنے

والی اونٹنی۔ ج۔ ذَمَلٌ -

الأذَمَلُ - برص والا۔

ذَمِيَةٌ دَسٌ، ذَمَمَهَا - الحَرُّ - گرمی کا

تیز و شدید ہونا۔ الرجل بالخصر کسی کا گرمی سے گھبرا اٹھنا۔
 ذَمِيحٌ دَسٌ، ذَمًا وَ ذَمَاءٌ۔ ہلنا۔
 ذَمِيحٌ دَسٌ، ذَمَاءٌ۔ بیماری کا مز میں ہونا
 قریب الموت ہونا۔ بدبودینا۔
 (ذَمِيحًا نًا، جلدی کرنا۔
 ذَمَّتْهُ الرِّيحُ تَذْمِيَةً ذَمِيًّا،
 تکلیف دینا۔
 أَذْمِي إِذْمَاءً۔ اس قدر مارنا کہ موت
 کے قریب ہو جائے۔
 اسْتَدْمَى۔ مَا عِنْدَكَ۔ پیچھے مڑ کر
 سب کچھ لے لینا۔
 الذَّمِي۔ بدبو۔
 الذَّمَاءُ۔ رتی حیات۔ کہتے ہیں: هُوَ
 أَطْوَلُ ذَمَاءٍ مِنَ الصَّبِيءِ۔ وہ
 سو مارے سے بھی زیادہ سخت جان
 ہے۔ کیونکہ اس کی روح بہت دیر میں
 نکلتی ہے۔
 ذَنٌّ رَضٌ، ذَرِينًا وَ ذَنَنًا۔ المَخَاطُ۔
 ناک سے رطوبت بہنا۔ کہا جاتا ہے
 "انَّه لَيَذِنُّ" وہ بڑھا پے یا
 بیماری سے کمزور ہے۔
 ذَنٌّ دَسٌ، ذَنَنًا وَ ذَنَنٌ۔ ناک کی
 رطوبت بہنے والا ہونا۔
 ذَنٌّ رَضٌ، ذَرِينًا۔ البرد۔ سردی کا
 سخت ہونا۔
 الذَّنَنُ۔ مَعِي۔ گندگی۔
 الأَذَنُ۔ وہ شخص جس کے ناک سے
 رینٹ بہتی ہو۔ مؤنث۔ ذَمَاءٌ۔
 ج۔ ذُنٌّ۔ مثل ہے: "أَنْفُكَ مِنْكَ
 وَإِنْ كَانَ أَذَنٌ" اس کے ساتھ اس
 شخص سے خطاب کیا جاتا ہے جو اپنی
 قوم کے ضعیفوں سے بیزار ہو۔
 الذَّنَانُ وَ الذَّنِينُ۔ ناک کی ریش۔
 رینٹ۔

الذَّنَانَةُ۔ حاجت۔ چیز کا بقیہ۔ کمزور۔
 ذَنَبَهُ (عَنْ) ذَنَبًا۔ کسی کا پیچھا کر کے
 اس کے نشانات قدم کو نہ چھوڑنا۔
 کھوج لگانا۔
 ذَنَبٌ۔ العِمَامَةُ۔ عامرہ کا شملہ چھوڑنا
 (الکتاب۔ کتاب کے ساتھ اس
 کا تسمہ شامل کرنا۔ الصَّبِيءُ
 گوہ کو دم سے پکڑنا۔ الجَوَادُ
 ٹڈی کا اڈے دینے کے لیے زمین
 میں دھنستا۔ الصَّبِيءُ۔ سو مار کا
 اپنے سو مار سے دم باہر نکالنا۔ اور
 سر اندر رکھنا۔
 أَذْنَبَ۔ الرجلُ۔ گناہ کا مرتکب ہونا۔
 تَذَنَّبَ۔ عليه۔ کسی پر ظلم و زیادتی کرنا۔
 جرم کی نسبت کرنا۔ الرجلُ
 پگڑھی کا شملہ لٹکانا۔ الطَّرِيقُ
 راستہ پکڑنا۔
 تَذَانَبَ۔ السَّحَابُ۔ بادلوں کا آگے
 پیچھے چلنا۔
 اسْتَذَنَّبَهُ۔ کسی کا پیچھا کرنا۔ کسی کو محرم
 پانا یا سمجھنا۔ الامْرُ۔ کام کا
 پورا ہونا۔
 الذَّنْبُ۔ گناہ۔ قصور۔ جرم۔ ج۔
 ذُؤُوبٌ۔ وجع۔ ذُؤُوبَاتٌ۔
 الذَّنْبُ۔ مِنَ الْحَيَوَانِ۔ دُم۔ ج۔
 أَذْنَابٌ۔ أَذْنَابُ الْمَنَائِسِ۔
 گھٹیا۔ نیچے طبقہ کے لوگ۔
 ذَنَبُ الْعَقْرَبِ۔ بچھو کا ڈنگ۔
 ذَنَبُ السَّوْطِ۔ کوڑے کا سرا۔
 کہتے ہیں: "ذَنَبٌ بِذَنْبِهِ" وہ رو
 پڑا۔ "ذَنَبٌ ذَنَبُ الْبَعِيرِ" وہ
 اپنے ناقص حصہ پر راضی رہا۔
 "ذَنَبٌ ذَنَبُ الرِّيحِ" وہ ایسی
 سبقت لے گیا کہ کوئی اس کو نہ پاسکا۔
 وَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ ذَنَبُ الصَّبِيءِ۔

میرے اور اس کے درمیان عداوت ہے۔
 الذَّنَابُ۔ وہ رسی جس سے اونٹ کی دم
 باندھی جائے۔ چیز کا پھلا حصہ۔ ج۔
 ذَنَابٌ۔
 الذَّنَابَةُ۔ قرابت (۔) وَ الذَّنَابَةُ
 وَ الذَّنْبَةُ۔ (۔) مِنَ الْوَادِي۔
 وادی کا سرا۔
 الذَّنْبَةُ۔ دُم۔ ذَنَابَاتُ الْمَنَائِسِ وَ
 ذَنَابَاتُهُمْ۔ گھٹیا درجہ کے لوگ۔
 الذَّنَابِيُّ۔ پرندہ کی دم۔
 الذَّنُوبُ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ لمبی اور گھنے
 بالوں کی دم والا گھوڑا۔ ذَنَابٌ
 وَ ذَنَابٌ وَ أَذْنِبَةٌ۔ قبر۔ دُنْبَرُ
 چکنی کا گوشت
 الذَّنْبِيُّ وَ الذَّنْبِيُّ۔ دم۔
 المِذْنَبُ۔ لمبی دم۔ تنگ نالہ یا ندی۔
 سَأَلَتِ الْمِذْنَابِثَ۔ نالے بہہ پڑے۔
 المِذْنَابَةُ۔ چمچ۔
 المِذْنَابُ۔ دم دار۔ اور نَجْمٌ مِذْنَابٌ۔
 اسی سے ہے۔ یعنی مدار ستارہ۔
 المِذْنَابُ۔ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْخَيْلِ۔
 سب سے پیچھے چلنے والا اونٹ یا
 گھوڑا۔
 ذَهَابٌ وَ ذَهَابٌ۔ موزن قریب کے لیے اسم اشارہ
 ہٹے تھپہ لگا کر هَذَاهُ وَ هَذَاهُ
 کہتے ہیں۔
 ذَهَابٌ رَضٌ، ذَهَابًا وَ ذَهَابًا۔ وَ
 مَذَهَبًا۔ چلنا۔ گزرنا۔ مرجانا۔
 الامْرُ۔ ختم ہونا۔ عَلِيٌّ
 الشَّيْءُ۔ بھول جانا۔ پہلے
 جانا اور اسی سے ہے: "ذَهَبَتْ
 بِهِ الْخَيْلُ" یعنی اس کے بگرنے
 اس کو رتبہ سے گرا دیا۔ فِي
 الْمَسْئَلَةِ إِلَى كَذَا۔ اس مسئلہ میں
 اس کی یہ رائے قرار پائی۔

ذَهْنٌ (ذہن) ذہن۔ الامور۔ کسی امر کو سمجھنا۔ تیزی ذہن میں کسی پر غالب رہنا۔ ذہن۔ ذہن واستذہن) الرجل عین الامور۔ کسی کو کوئی کام بھلا دینا۔ فراموش کرانا۔

ذُهَيْنٌ (ذہین) ذہن۔ الذی۔ سمجھنا۔ ذُهْنٌ (ذہن) ذہانہ۔ اچھے حافظہ والا ہونا۔

ذُهْنٌ۔ کند ذہن ہونا۔ ذَاهِنٌ۔ سمجھ میں دوسرے سے بڑھ جانا۔ الذُهْنُ۔ سمجھ۔ عقل قوت۔ حافظہ چربی قوت۔ اور اسی سے ہے "مَا يَرْجُلِي ذُهْنٌ" میرے پاؤں میں چلنے کی قوت نہیں ہے۔ ج۔ اذْهَانٌ۔

الذُهْنُ۔ سمجھ۔ زیرکی۔ ج۔ اذْهَانٌ رَجُلٌ۔ (ذہن و ذہن) ذکی و سمجھ دار آدمی۔ ذَهَانٌ ذہوا۔ بکبر کرنا۔

ذُو۔ صاحب۔ مالک۔ اس کا اعراب اسمائے ستہ تکبرہ کا سا ہے۔ اس کا تشبیہ۔ ذَوَانٌ اور جمع۔ ذَوُونٌ ہے کہتے ہیں "وَجَدْتُكَ ذَا صَبَاحٍ" میں نے اس کو بوقت صبح پایا۔ "وَجَاءَ مِنْ ذِي نَفْسِي" وہ مطیع ہو کر آیا۔ فقہاء کا قول ہے "ذُو الْيَدِ الْاُخْرَى" یعنی قبضہ کرنے والا زیادہ حق رکھتا ہے۔ "وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ ذِي قَبْلِي" اور یہ گزشتہ زمانہ میں تھا "ذُو الْأَسْمَاءِ" رشتہ دار۔ الذَوُونُ وَالذَوَاءُ شَانِئِينَ۔ ان کے ناموں کا آغاز لفظ ذُو سے ہوتا ہے۔ مثلاً ذَوَيْتٌ، ذَوْنُواس، ذُو رِيَاشِ وغیرہ۔

ذَهَبٌ (ذہب) ذہب۔ سونے کی کان میں بہت سا سونا پا کر حیران ہونا۔ اذْهَبَ وَذَهَبَ۔ الشئ۔ کسی چیز سونے کا پانی چسٹھانا۔ صفت فعلی۔ (ذہیب و مذہب و مذہب)۔

اذْهَبْ وَاذْهَبْ۔ بہ۔ لے جانا۔ البذْهَبُ۔ مص۔ سونا رکھی ٹونٹ بھی آتا ہے، ج۔ اذْهَابٌ وَذُهُوبٌ وَذُهْبَانٌ۔ ایک ٹکڑا۔ (ذہبہ) انڈے کی زردی۔ ج۔ ذَهَابٌ وَ اذْهَابٌ وَجج اذْهَبُ۔

الذَّهْبَةُ۔ ہلکی بازور کی بارش۔ ج۔ ذَهَابٌ وَ اذْهَابٌ۔ وجج اذْهَبُ۔ الذَّهْبُ۔ جانے والا۔ المذْهَبُ۔ اعتقاد۔ طریقہ اصل۔ اسلام کے مشہور مذاہب چار ہیں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔

الْمَذْهَبَاتُ۔ جاہلیت کے سات قصیدے جو مملقات کے بعد دوسرے درجہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ذَهْوٌ (ذہو) ذہوا۔ فوہ۔ کالے دانتوں والا ہونا۔ صفت۔ اذْهَوُ ذَهْلٌ (ذہل) ذہلا و ذہولاً۔ الشئ وعنه۔ بھول جانا۔ غافل ہونا۔ ذَهْلٌ (ذہل) ذہولاً۔ حیران ہونا۔ ہنگامہ بگا رہنا۔ اذْهَلْهُ۔ بھلا دینا۔ غافل کر دینا۔ الذَّهْلُ وَالذَّهْلُ۔ من اللیل۔

رات کا ایک حصہ۔ المذْهَلُ۔ بھولنے کی جگہ۔ ج۔ مَذَاهِلُ الذُّهُولُ۔ من الخیل آو الرجال۔ عمدہ گھوڑا۔ اچھا آدمی۔ ج۔ ذَهَالِيلُ۔

ذَاتٌ۔ مؤنث۔ ذُو۔ تشبیہ۔ ذَوَاتَانِ۔ ج۔ ذَوَاتٌ۔ اس کا اور اس کے تشبیہ و جمع کا اعراب انھیں کے مشابہ مطرو و تشبیہ و جمع اسماء کا سا ہوتا ہے۔

کہتے ہیں "لَقِيْتُ ذَاتَ يَوْمٍ او ذَاتَ لَيْلَةٍ او ذَاتَ مَسْرَةٍ" یعنی میں نے اس سے ایک دن یا ایک رات یا ایک مرتبہ ملاقات کی۔

وَكَانَ ذَلِكَ ذَاتَ الْعَوِيذِ" یہ گزشتہ سال تھا۔ "وَجَلَسَ ذَاتَ الْيَمِينِ" وہ سیدھی جانب بیٹھا۔ "وَلَقِيْتُكَ أَذَلَّ ذَاتَ يَدَيْنِ" میں سب سے پہلے اس سے ملا۔

"ذَاتُ الصَّدْرِ" فکر یا بھید و راز۔ "ذَاتُ الْيَمِينِ" سیدھی جانب "ذَاتُ الْبَيْنِ" حال۔ کہتے ہیں۔

"أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ" تم اپنی آپس کی حالت کو درست کرو۔ ذَاتُ شَهِيَّةٍ" کلمہ۔ کہا جاتا ہے "كَلِمَتُهُ خَمَارٌ ذَاتُ عُلَى" ذَاتُ شَهِيَّةٍ" میں نے اس سے گفتگو کی۔ تو اس نے جواب میں ایک کلمہ تک نہیں نکالا۔ "ذَاتُ الْيَدِ" ملکیت کہتے ہیں۔ "قَلَّتْ ذَاتُ يَدِي" اس کی ملکیت تنگ رہ گئی۔ کہتے ہیں "الْقَبِيحُ الذَّجَاجَةُ ذَاتُ بَطْنِيهَا" مرغی نے انڈا دیا۔ یا بیٹ کی۔ "ذَاتُ الْجَنْبِ" اطباء کے نزدیک نمونیا کی بیماری۔ ذَاتُ الْوَيْثَةِ۔ ذَاتُ الصَّدْرِ، ذَاتُ الْكَيْدِ۔ بیماریوں کے نام ہیں۔

الذَّاتُ۔ وہ چیز جو جانی چلے یا اس کی خبر دی جا سکے۔ جو ہر ہستی، نفس، ہر شے۔

الذَّائِقُ۔ ذات کی طرف منسوب۔

ذَابَ (ن) ذَوْبَانًا وَذَوْبًا — الثلج
 او السَّمْنُ — برف یا گھی کا پگھلنا۔
 — دَمْعَةٌ — آنسو بہنا۔
 الشَّمْسُ — سورج کی گرمی کا تیز ہونا۔
 — الرجلُ — عقل مند ہو کر بے عقل
 ہونا۔ ہمیشہ شہد کھانا۔ کہتے ہیں
 ”ذَابَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ“ میرا حق
 اس پر ثابت و واجب ہوا۔ و
 مَا ذَابَ فِي يَدَيَّ مِنْهُ خَيْرًا
 مجھے اس سے اور بھی فائدہ نہیں پہنچا۔
 وَذَابَ جِسْمُ الرَّجُلِ — آدمی لاغر
 و دبل ہو گیا۔

ذَوَّبَ — السَّمْنُ گھی پگھلانا۔
 الخَلَامَ — لڑکے کے گیسو بنانا۔
 آذَابَ إِذَابَةً — السَّمْنُ گھی پگھلانا
 — حَاجَتَهُ — اپنی ضرورت پوری
 کرنا۔ القَوْمُ أَمْرَهُمْ قوم
 نے اپنے امر کی اصلاح کی۔ علی
 العَدُوِّ — دشمن پر لوٹ ڈالنا۔
 اسْتَذَابَهُ — پگھلانے کی درخواست
 کرنا۔ الشَّيْءَ — باقی رکھنا۔
 حَاجَتَهُ — اپنی حاجت پوری کرنا۔
 الذَّابُّ — عیب۔

الذَّوْبُ — خالص شہد۔ ذَوْبُ الذَّهَبِ
 سونے کا پانی۔ پگھلا ہوا سونا۔ لهذا
 الكلامُ ذَوْبُ الرُّوحِ — یہ کلام
 روح پگھلانے والا ہے۔
 الذَّوْبَةُ — ذاب کا اسم مرہ۔ کہتے ہیں
 كَلَمَتْ مِنْهُ ذَوْبَةٌ یعنی
 اس سے حماقت ظاہر ہوئی۔ مال کا
 بچا ہوا حصہ۔

نَاقَةٌ ذَوْبٌ — موٹی اونٹنی۔
 الإذْوَابُ وَالْإذْوَابَةُ — پگھلا ہوا مکھن
 کہا جاتا ہے ”هُوَ عَلَى مِنَ الذَّوْبِ
 بِالْإذْوَابَةِ“ یعنی وہ مکھن ملے خالص

شہد سے زیادہ شیریں ہے۔
 المَذْوَبُ — کٹھالی۔
 المَذْوَبَةُ — چمچہ۔
 ذَاخِرٌ (ن) ذَوْبًا — جلدی کرنا۔
 المَاءُ — پانی پینا۔
 ذَاخِرٌ (ن) ذَوْبًا — تندی سے چلنا۔
 (— وَذَوَّحَ) الابلُ — اونٹوں
 کو متفرق کرنا۔

ذَادَهُ (ن) ذَوْدًا وَذِيَادًا — رفع کرنا
 و متکارنا۔ ”ذَادَ الْإِبِلَ عَنِ
 الْمَاءِ“ اس نے اونٹوں کو پانی پر
 سے بکال دیا۔ (— وَذَوَّدَ) عَنِ
 حَسْبِهِ — اپنے سب کی حفاظت
 و حمایت کرنا۔ صفت (ذَائِدٌ)
 ج۔ ذَوْدٌ وَذَوْدًا وَذَادَةٌ —
 آذَاهُ إِذَادَةٌ وَأَذُوْدُهُ إِذْوَادًا
 دفع کرنے پر کسی کی مدد کرنا۔
 الذَّوَادُ — بہت دفع کرنے والا۔
 المَذَادُ — چراگاہ۔

المَذْوَدُ — جانوروں کا تھان۔ جس سے
 کوئی چیز ہٹائی جائے بیل کا سینگ
 زبان۔

ذَاطَهُ (ن) ذَوْطًا — ایسا گلا گھوٹنا کہ
 زبان باہر نکل آئے۔ الإِنَاءُ
 برتن بھرنا۔

ذَوِطَ (س) ذَوْطًا — چھوٹی ٹھوڑی والا
 ہونا۔ صفت (أَذْوُطٌ)
 الذَّوْطَةُ — زرد پیٹھ والی مکاری۔ ج۔
 أَذْوَاطٌ —

الذَّوْطُ — ادنیٰ درجہ کے لوگ۔
 ذَاغٌ (ن) ذَوْعًا — مائلہ۔ مال و دولت
 کو بالکل ضائع کر دینا۔

آذَاعٌ إِذَاعَةٌ — القومُ بما في
 الحوضِ — قوم کا حوض کے سارے
 پانی کو چٹ کر جانا۔ الرجلُ

بمَالِهِ — اپنا مال لے جانا۔
 ذَاقَ (ن) ذَوْقًا وَذَوَاقًا وَمَذَاقًا —
 — الشَّيْءَ — کسی شے کو چکھنا۔
 العذابُ — عذاب بھگتنا۔
 الرجلُ وما عند الرجلِ — کسی
 کو آزمانا۔ جانچنا۔

أَذَاقَهُ إِذَاقَةً — چکھانا۔
 تَذَوَّقَ — الشَّيْءَ — تھوڑا تھوڑا چکھنا۔
 تَذَاقَ — القومُ الشَّيْءَ — چکھنا۔
 تَذَاقُوا الرِّمَاحَ — انھوں نے
 نیزوں کو سنبھالا۔

اسْتَذَاقَهُ — آزمانا۔ تجربہ کرنا۔
 لَهُ الْأَمْرُ — بآسانی دستیاب ہونا۔
 الذَّوْقُ وَالذَّائِقَةُ — قوت ذائقہ۔
 الذَّوْقُ وَالذَّوْقُ — طبیعت۔ کہتے
 ہیں ”هُوَ حَسَنُ الذَّوْقِ لِلشَّعْرِ“
 اس نے شعر کے لیے اچھی طبیعت پائی
 ہے۔ — الذَّوْقُ — مزہ۔

المَذَاقُ — مزہ۔
 ذَوِي دَمٍ وَذَوِي دَسٍ ذَوِيًّا —
 — النِّبَاتُ — پودہ کا مرجھانا۔
 سوکھنا۔

أَذَوِي إِذْقَاءً — مرجھا دینا۔
 الذَّوِي — بکری کے چھوٹے بچے۔
 الذَّوَاغُ — ترلوز، انگور وغیرہ جیسی
 اشیاء کا چھلکا۔

ذِي وَهْدِي — ٹوٹے فریب کے لیے
 اشارہ ہے۔

ذَيْتٌ ذَيْتٌ أَوْ ذَيْتٌ وَذَيْتٌ — بات
 یا کام کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ایسا
 ایسا یا اس طرح اور اس طرح۔
 کہتے ہیں ”قُلْتُ لَهُ ذَيْتٌ ذَيْتٌ“

میں نے اس سے ایسا ایسا کیا۔
 ”فَعَلْتُ ذَيْتٌ ذَيْتٌ“ میں نے
 ایسا ایسا کیا۔

ذَاجِرٌ دَضٌ ذَیْبًا - الماء - پانی پینا۔
 ذَایِبٌ هَذَا یَبٌ - مل کر پینا۔
 ذَیْبَةٌ - النخلَةُ - کھجور میں قلم نہ لگانا۔
 گاجانہ لگانا۔
 اذْآخِرُ اذْآخِرَةٌ - بالمکان کسی جگہ کے
 آس پاس گھومنا۔ ارد گرد چکر لگانا۔
 - بنی فلان۔ ذیل کرنا۔
 الذیخُ ویبرہطیا۔ زیادہ بالوں والا نر
 بچو۔ مؤنث ذیخة - عمدہ گھوڑا
 تکبر۔ ایک سرخ رنگ کا ستارہ۔
 ج۔ اذیاخُ و ذیوخُ و ذیخة -
 ذارہ ینذارہ ذیرا۔ ناپسند کرنا۔
 الذیرة - مٹی ملا ہوا گوبر۔
 ذاعٌ دَضٌ ذِیْعَاوٌ ذِیْعَاوٌ ذِیْعُوْعَةٌ
 و ذِیْعَانًا - الخبْرُ - خبر وغیرہ کا
 پھیلنا۔ کہتے ہیں: ذاعٌ فی جلدیہ
 الجربُ اس کی جلد میں کھجلی
 سب طرف سرایت کر گئی۔
 اذاعٌ اذاعَةٌ - الخبْرُ و بالخبْرُ غیر
 پھیلنا۔ شہرت دینا۔ الترد و پا
 لیتو۔ راز ظاہر کرنا۔ القوم ما
 فی الحوض و بما فیہ۔ قوم کا
 حوض کے سارے پانی کو پی جانا۔
 بالشئ لے جانا۔
 اذاعٌ - الخبْرُ - خبر کا پھیل جانا۔
 المذیاعُ۔ وہ شخص جو اپنے راز کو نہ چھپائے
 ج۔ مذایبُ۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ
 للذیاعِ و الذیاعِ و الذیاعِ
 مفسیاعٌ۔ فلان شخص رازوں کو

افشا کرنے والا اور اسباب کو
 کھولنے والا ہے۔
 الذیْفَانُ و الذیْفَانُ و الذیْفَانُ
 سم کا تل۔
 ذالٌ دَضٌ ذِیْلًا - الثوبُ - کپڑے
 کا لمبا ہونا۔ الطائرُ - پرندہ
 کا اپنی دم کو کھینچنا یا پھیلانا۔
 الناقۃُ بذئبہا۔ اونٹنی کا اپنی دم کو
 اپنی رانوں پر پھیلانا۔ الجاریۃُ
 راکہ کا دامن گھسیٹتے ہوئے ناز و انداز
 سے چلنا۔ الشئُ - ادنیٰ ہونا
 - حالہ۔ پست و فروتر ہونا
 - فلانٌ الی فلانٍ - گستاخی
 کرنا۔
 ذیلٌ - الثوبُ - کپڑے کو لمبا کرنا۔
 - الکتابُ - کتاب کے آخر میں
 کچھ لکھنا۔
 اذالٌ اذالَةٌ و اذیلٌ اذیالٌ -
 الثوبُ - کپڑے کا دامن والا ہونا۔
 الرجلُ ثوبہ - کپڑے کا دامن
 بنانا۔ دامن کو دراز کرنا۔ مالہ
 مال خرچ کرنا۔ کسی کی حقارت
 کرنا۔ قوسہ اذ عظامہ -
 گھوڑے یا غلام کی دیکھ بھال نہ رکھ
 کر اس کو لاغر و دہلا کر دینا۔
 المذاعُ قناعہا - عورت کا
 برقع کو ٹھکانا۔ الذامُ
 آسویہانا۔
 تذیلٌ - فی الکلامِ - بغیر جھکنے کے

بہت کلام کرنا۔ الجاریۃُ - راکہ
 کا دامن گھسیٹتے ہوئے ناز سے چلنا۔
 الفرسُ فی استئناہ۔ گھوڑے کا
 دوڑنے میں خوشی سے دم ہلانا۔
 تذایلٌ - خاکساری کرنا۔
 الذیلُ - چیز کا آخر۔ ذیل الثوبِ
 کپڑے کا دامن۔ ذیل الریحِ
 ریت پر ہوا کے نفانات۔
 ذیل الفرسِ - گھوڑے کی دم۔
 ج۔ اذیالٌ و ذیولٌ و اذیلٌ -
 اذیالٌ التائبِ و ذیولہ -
 ادنیٰ درجہ کے لوگ۔
 الذایلُ - فا۔ دامن والا۔ ذرعٌ
 ذایلٌ اذ ذائلہ - راز دامن والی
 زہر۔ کہتے ہیں۔ "طال ذیلہ"
 وہ خوشحال و مالدار ہو گیا۔
 الذیالٌ - لمبے دامن والا۔
 المذالۃُ - باندی۔ لونڈی۔ مثل ہے "ہو
 آخیلٌ من مذالۃ" وہ باندی
 سے زیادہ متکبر ہے۔
 ارضٌ متذیلہ - وہ زمین جس پر ہلکی سی
 بارش ہوئی ہو۔
 المذیالٌ - لمبے دامن والا مذکر و مؤنث
 دونوں کے لیے۔
 ذامہ دَضٌ ذِیْمَاوٌ ذَامًا - عیب لگانا۔ مذمت
 کرنا۔ صفت (مذایم و مذیوم)
 الذامُ و الذیمُ - عیب۔ مذمت
 نقص۔ برائی۔
 الذینُ - عیب۔

۲۰۰
س

رأبت الارض - سبزی کاٹنے کے بعد
 زمین کا سرسبز ہونا۔

الشیخ - جمع کر کے نرمی سے باندھنا۔
 - بینہم - صلح کرانا۔

رأب دف رأبا - الصدق - ترغیض
 کی مرمت کرنا۔ اصلاح کرنا۔

أَدَابَ رِثَابٍ - الصَّدْمَ - مرمت کرنا
درست کرنا۔
الرَّابُّ - مص - شکاف - پھٹن - ترخن۔
سرور - ج - رِثَابٌ - کفی بقلان
رَأْيًا لِأَهْلِيكَ - تمہارے کام کی
درستی کے لیے فلاں کافی ہے۔
الرَّوْبَةُ - کڑی کا ٹکڑا - وہ چیز جس سے
کسی چیز کی پھٹن درست کی جائے۔
گالٹھا وودھ - رات کی گزری ہوئی
گھڑی - ج - رِثَابٌ وَرِثَابَاتٌ -
الرَّابُّ وَالرَّابُّ - درست کرنے والا۔
پھٹی ہوئی چیز میں پیوند لگانے والا۔
رَأْبِلٌ رَأْبِلَةٌ - چلنے میں ایک طرف جھکنا۔
تَرَابِلٌ - القوم - چوری کا پیشہ اختیار کرنا۔
- علیہ - کسی پر غارت ڈالنا۔
شیر کا سا فعل۔
الرِّثَالُ وَالرِّثَالُ - شیر - بھیڑیا - ج
رَأْبِلٌ وَرَأْبِلٌ وَرَأْبِلَةٌ وَرَأْبِلَةٌ
الرَّائِبَةُ - صنوبر کا گوند۔
رَوْدَرُكَ، رَوْدَرَةٌ - الغُصْنُ - شاخ کا
بہت تراورنازک ہونا - صفت۔
رَوْدَرٌ
تَرَادَّتِ - الريح - ہوا کا ادھر ادھر
چلنا - تَرَادَّ الرَّجُلُ - بوڑھے
آدمی کا اٹھنے میں کانپنا - د - رِتَادٌ
الغلام - ماہے خوشی کے لڑکے کے
بدن کا ہلنا - الغُصْنُ - ٹہنی کا
جھکنا - العُنُقُ - گردن کا بیچ کھانا۔
رِتَادٌ وَتَوَاعَدٌ - الضحی - روشنی
پھیلانا - دن چڑھنا۔
رَأْدٌ وَرَأْدٌ - چاشت - آفتاب کے
بلند ہونے اور روشنی پھیلنے کا
وقت - کان کے نیچے جڑے کی اٹھی
ہوئی ہڈی۔
الرَّوْدُ - ہم عمر - ہذا رِثَدِي - یہ میرا

ہم عمر ہے۔ درخت کا پودا - ج - آدَا -
الرَّوْدُ وَالرَّوْدَةُ وَالرَّوْدُ وَالرَّوْدَةُ -
وَالرَّوْدَةُ - جمان حسین عورت۔
الرَّوْدُ - مزاج کی نزاکت - سہولت - نرمی۔
رَأْدٌ - پتلی پھرانا - تیز دیکھنا - صفت مذکر
(رَأْدٌ) صفت مؤنث رَأْدٌ
وَرَأْدَةٌ وَرَأْدَةٌ وَرَأْدَةٌ
- النِّبَاءُ - ہرنیوں کا دم ہلانا۔
- السَّحَابُ أَوِ السَّرَابُ -
بادل یا سراب کا چھکنا - الرجلُ
پڑھنے یا گفتگو میں حرف راء زیادہ
بولتا۔
رَوْدَسٌ - يَرُوْدَسٌ (ر) رِثَاَسَةٌ - رئیس
ہونا۔ سرور ہونا۔
رَأْسٌ (ر) رِثَاَسَةٌ القوم - قوم کا
سرور ہونا۔
رَأْسَهُ رَفٌ، رَأْسًا - سر پر مارنا۔
- السَّيْلُ الغُثَاءُ - سیلاب کا
کوڑا کرکٹ جمع کرنا۔
رِثَسٌ - سر میں تکلیف محسوس کرنا۔
رَأْسَهُ - رئیس بنانا۔
رِثَسٌ وَرِثَسٌ - رئیس ہونا۔
رِثَاَسَةٌ - گردن سے پکڑ کر زمین
کی طرف جھکا دینا - رِثَاَسٌ
الشيء - سر پر سوار ہونا۔
الرَّأْسُ - سر - ج - الرَّوْدُ وَرَوْدٌ وَ
رَوْدٌ وَرَأْسٌ - اس کا اطلاق ذات
جوانی پر بھی ہوتا ہے۔ مویشی میں زائد
کتے ہیں: أَرْبَعُونَ رَأْسًا
الغَلْوُ - چالیس کھوج - الرَّأْسُ
چیز کا سب سے بلند حصہ - قوم کا
سرور - رَأْسُ الشَّهِيدِ وَالْعَامِلِ -
عینہ کا پہلا دن یا نئے سال کا پہلا
دن - فَعَلَهُ رَأْسًا - اس نے اس
کو ابتداء میں کیا - وِلْدَةٌ عَلِيٌّ

رَأْسٌ أَخِيهِ - وہ اپنے بھائی کے بعد
پیدا ہوا۔ بھائی کی پیٹھ پر پیدا ہوا۔
- رُمَيْتٌ فَنَكَ فِي الرَّأْسِ -
میرے متعلق تمہاری رائے اس قدر
بری ہے کہ تم میری طرف دیکھ بھی نہیں
سکتے - هَذَا قَسْمٌ بِرَأْسِهِ -
یہ خود مستقل ایک قسم یا حصہ ہے۔
أَنْتَ عَلِيٌّ رَأْسٌ أَمْرِكَ - تم اپنے
کام کے سرے پر ہو۔
رِثَاَسٌ - السَّيْفُ - تلوار کا قبضہ۔
کہا جاتا ہے: أَنْتَ عَلِيٌّ رِثَاَسٌ
أَمْرِكَ - یعنی تو اپنے کام کے سرے
پر ہے۔
الرَّائِسُ - حاکم - ج - رَوْدَأْسٌ -
الرَّيْثِيُّسُ وَالرَّيْثِيُّسُ - قوم کا سرور۔
پیشوا - ج - رَوْدَسَاءُ -
الرَّيْثِيُّسُ - مضبوط سرورسی والا۔
الرَّوْدَأْسُ - واویوں کے بالائی حصے۔
اگلے بادل - واحد رِثِيَسَةٌ
الرَّأْسُ - سبزی بیچنے والا۔
الرَّأْسُ وَالرَّوْدَأْسِيُّ - بڑے سرو والا
مؤنث رَأْسَاءُ -
الرَّوْدَأْسُ - گھوڑوں میں سبقت لے جانے
والا گھوڑا - گھوڑوں میں دوسرے گھوڑوں
کے سر کو کاٹنے والا گھوڑا۔
الرَّوْدَسُ - رعیت - ماتحت - بڑے سر
والا - سر کے زخم جلا۔
رَأْفٌ رَفٌ، رَأْفَةٌ وَرَوْفٌ رَفٌ،
رَأْفَةٌ وَرِثَفٌ (ر) رَأْفًا -
وَرِثَفًا - بہ - بہت مہربانی
کرنا - صفت رَوْدَفٌ وَرَوْفٌ
وَرَأْفٌ وَرِثَفٌ وَرَأْفٌ
تَوَاعَدٌ فَوَا - ایک دوسرے پر مہربانی کرنا۔
رَأْفَهُ وَاسْتَعْرَافَهُ - مٹانا - راضی کرنا۔
رحم کرنے پر اکسانا۔

الرؤف - شراب
 استرأل - الرأل - شتر مرغ کے بچے کا
 مضبوط ہونا - النبات
 سبزہ کا دروازہ ہونا۔
 الرأل - شتر مرغ کا بچہ - مؤنث - رألة
 ج - رعال و آرؤل و رثلان و
 رعالة۔
 الرعوال - گھوڑے کے منہ کے جھاگ۔
 الرائل و الرادؤل - دانت کے پیچھے
 زائد نکلا ہوا دانت - بیڑھا دانت -
 نعامة مؤنث - پیچھے والی مادہ
 شتر مرغ۔
 رأم (ف) رأمآ - الحبل - رسی کو
 مضبوط بنانا - القدح - اصلاح
 کرنا - مرمت کرنا۔
 رآم (س) رأمآ و رآمآ - الجرح
 زخم کا انگوڑ بندھنا - الشئ -
 محبت کرنا، الفت کرنا - الناقة
 ولدھا - اونٹنی کا اپنے بچے پر مہربان
 ہونا - صفت رآئم و رآئمہ و
 رؤوم، ج - روالئم - کہا جاتا
 ہے - هو رؤوم للضیمة یعنی
 وہ ذلیل اور ذلت پر راضی ہو جانے
 والا ہے۔
 رأم رأمآ - الجرح زخم کو علاج
 کر کے اچھا کرنا - الحبل - رسی
 کو مضبوط بنانا - علی الامر
 مجبور کرنا - الناقة - اونٹنی کو
 دوسرے کے بچے سے محبت کرانا۔
 ترأمة - و ترأمة علیہ - رسم کرنا،
 مہربانی کرنا۔
 رآم - سفید ہونے - ج رأم و رأم
 مؤنث - رآمة
 التأم - لعاب۔
 الروالئم - چولہے کا پتھر۔

رأی - یرى - رأیا و رؤیة و
 رآة و رعایا - آنکھ یا بچے کی آنکھ
 سے دیکھنا، اس کا امر ہے۔
 کہتے ہیں - یا تری دیا هل تری
 کیا تو یہ خیال کرتا ہے، گمان کے معنی
 میں مضارع کا صیغہ مجہول ہی آیا ہے
 رآا - الشئ - دیکھنا - رأی
 میں ایک لغت۔
 رأی (ف) رأیا - الرجل بھیچے
 پر مارتا - الرند - چقاق سے آگ
 روشن کرنا - الرند - چقاق سے
 آگ روشن ہونا - الرایة -
 جھنڈا اکاڑنا۔
 رأیة ترئیة - اصل کے خلاف دکھانا
 رآیة مرآة و رعآء - خلاف
 حقیقت دکھانا، دکھاوا کرنا۔ سامنے
 ہونا - مشورہ کرنا۔
 رآی - رآءآء - صاحب عقل و رائے
 ہونا - چہرہ سے حماقت ٹپکنا، آئینہ
 میں دیکھنا، دکھاوا کرنا - بھیچڑوں کی
 شکایت رکھنا، بہت خوش منظر ہونا۔
 دیکھنے کے وقت پلکیں ہلانا - الرایة
 جھنڈا اکاڑنا - الحامل من غیر
 ذوات الحافیر و السبع - حامل
 کے تھنوں سے اس کا حمل وال معلوم
 ہونا - صفت رمرء و مرئیة
 رآة یریہ - رآة و رآء -
 الشئ - دکھانا - صفت مذکر (میر)
 صفت مؤنث (مریہ) کہتے ہیں
 "آرینی پڑاپک" مجھے مشورہ دو
 - و آری اللہ بفلان - قابل عبرت
 ظاہر دینا اور دشمن کی خوشی کا
 سامان مہیا کرنا۔
 ترأی و ترأی - فی المرآة - آئینہ
 میں دیکھنا - ترأی و ترأی لہ -

دیکھنے کے درپے ہونا - ترأی
 الناس - ایک دوسرے کو دیکھنا - کہا
 جاتا ہے - ترأینا فی الامر
 ہم نے معاملہ میں غور و خوض کیا۔ و
 ترأی ہدای فلان - وہ فلان کی
 رائے پر چلا۔ و "ترأی لی ان الامر
 کیت و کیت" مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ
 معاملہ ایسا ایسا ہے۔ و ترأینا
 الہلال - ہم نے بلال کو بہ تکلف
 دیکھا۔

رأی - الامر - سوچنا، شک کرنا،
 غور کرنا۔
 استرأی - ک - دیکھنے کی خواہش کرنا۔
 استرأی بالمرآة - آئینہ سے
 دیکھنا۔
 الرأی - رائے، اعتقاد - نصیحت، تجویز
 سوچ - ج - آراء و آراء۔
 الرئی و الرئی و الرواء و الرئی -
 شکل، منظر، چہرہ۔
 الرؤیا - خواب - ج - رؤی - کہا جاتا
 ہے - جاء جین جن رؤیا او
 رأیا یعنی وہ اس وقت آیا، جب
 ایسی تاریکی چھا گئی تھی جس نے دیکھنے
 سے باز رکھا۔
 الرؤیة - آنکھ یا دل کی نظر دیکھنے کی آنکھ
 ج - رؤی -
 الریة - نظر۔
 الریاء و رکھاوا - کہتے ہیں - ہم رآء
 الف - وہ ہزار معلوم ہوتے ہیں -
 قوم رآء - لوگ جو ایک دوسرے
 کے مقابل ہیں۔
 الریة - بھیچڑا - ج - رعآء و
 رعآء - نسبت کے لیے رؤی۔
 الترئیة - منظر یا حسن منظر۔
 الریاء - بہت دیکھنے والا۔

رَبْدًا (ن) رُبُودًا — بالمسكان
اقامت کرنا۔

رَبْدًا كَادَن رُبْدًا — منع کرنا۔ روکنا۔
رَبْدًا الْاِبِلَ — اونٹ کو بارڈ میں
باندھنا۔

رَبْدَاتٌ — الشَّاعَةُ — بکری کے تھن میں سیاہ
سفید واغوں کا ہونا

قَرَبَاتٌ — السَّمَاءُ — آسمان کا بادل والا
ہونا۔ الرجلُ — ترش رو ہونا۔ تیوری
چڑھانا۔ اللونُ — رنگ کا
متغیر ہونا۔

رَبْدًا رُبْدًا اِذَا وَاوَلْبَادًا اِذَا رُبْدًا اِذَا
خاکستری رنگ والا ہونا۔ الْاُرْبُدُ
خاکستری رنگ والا ہونا۔ عَامٌ
اُرْبُدٌ — قحط کا سال۔ مَوْنٌ
رَبْدًا اِذَا — الرُّبْدَاءُ — سخت و
سنگین۔ دَاهِيَةٌ رُبْدَاءُ
سنگین و کڑی مصیبت۔ الْمَوْبَدُ
اونٹ وغیرہ کا بارڈ۔ گھروں کے
پتھے کا میدان یا گھیر۔ کھجوروں کے خشک
کرنے کی جگہ۔

المُتْرَبْدُ — شير
رَبْدًا (س) رُبْدًا — چلنے میں تیز قدم اور
کام میں تیز دست ہونا۔ صفت۔
رَبْدًا) کتے ہیں۔ هُوَ رُبْدٌ
الْعَيْنَانِ — وہ تنہا شکست خوردہ سے
مؤنث (رَبْدَةٌ) — لَيْثَةٌ رِبْدَةٌ
کم گوشت والا موڑھا۔

اُرْبَدٌ — الثوبُ اِذَا حَبِلَ — کپڑے
یا رسی کو کاٹنا۔

الرِبْدَةُ وَالرِبْدَةُ — وہ پیٹھ جس سے
سنار زیور ساف کرتا ہے۔ کوڑے کا
پھدنا۔ روٹی کا گالاجوا اونٹ کے کان
یا گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے وہ
اونٹ جس سے اونٹ کی مالش کی جاتی

کمزور ہونا۔ کبھر جانا۔
الرِبْدِيُّ — مانع روک۔
الرِبْدِيُّ — دھوکہ۔ روک۔ مانع۔ ج
رَبَاتٌ۔
الرِبْيُثُ — روکا ہوا۔
رَبِيحٌ (ن) وَرَبِيحٌ (س) رَبَاحَةٌ —
کودن ہونا۔ بے وقوف ہونا۔ کند
ذہن ہونا۔
تَوْبِيحٌ — متغیر ہونا۔ کند ذہن ہونا۔
الرِبْجَانُ — ایک قسم کا پودا۔
رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا وَرَبَاحًا —
فِي تِجَارَتِهِ — تجارت میں نفع
حاصل کرنا۔
رَبِيحَةٌ — فائدہ مند کرنا۔ نفع حاصل کرنا۔
رَبِيحَةٌ مَرَابِحَةٌ وَارْبِحَةٌ —
عَلَى سِلْعَتِهِمْ — نفع دینا۔
اُرْبِيحُ الناقلة — صبح اور دوپہر اونٹنی
کو دوہنا۔
تَرَبِيحٌ وَاسْتَرَبِيحٌ — نفع طلب کرنا۔
الرَّابِحُ — خا۔ مال رَابِحٌ — نفع
دینے والا مال۔
الرَّبِيحُ — ج۔ اُرْبَاحٌ وَرَبَاحٌ وَ
الرَّبَاحُ) نفع۔ فائدہ۔ الرَّبِيحُ
تجارت کے اونٹ، اونٹ کے چھوٹے بچے
الرَّبَاحُ — شراب۔
الرَّبَاحُ وَالرَّبَاحُ — بندر۔ بکری کا بچہ۔
اونٹ کا بچہ۔ ج۔ رَبَابِيحٌ
مَشْجُورٌ (رَبِيحٌ) نفع بخش
تجارت۔
رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — البعيرُ — اونٹ کا
ریت میں چلنا دشوار ہونا۔
اُرْبِيحُ — الرجلُ — بیت کا تہ بہتہ ہونا۔
الرجلُ — کسی کا مصیبت میں پڑنا۔
تَرَبِيحٌ — الرجلُ — سست و ڈھیلا ہونا۔
الرَّبِيحُ — بڑا پالان۔

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — البعيرُ — اونٹ کا
ریت میں چلنا دشوار ہونا۔
اُرْبِيحُ — الرجلُ — بیت کا تہ بہتہ ہونا۔
الرجلُ — کسی کا مصیبت میں پڑنا۔
تَرَبِيحٌ — الرجلُ — سست و ڈھیلا ہونا۔
الرَّبِيحُ — بڑا پالان۔

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — البعيرُ — اونٹ کا
ریت میں چلنا دشوار ہونا۔
اُرْبِيحُ — الرجلُ — بیت کا تہ بہتہ ہونا۔
الرجلُ — کسی کا مصیبت میں پڑنا۔
تَرَبِيحٌ — الرجلُ — سست و ڈھیلا ہونا۔
الرَّبِيحُ — بڑا پالان۔

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — البعيرُ — اونٹ کا
ریت میں چلنا دشوار ہونا۔
اُرْبِيحُ — الرجلُ — بیت کا تہ بہتہ ہونا۔
الرجلُ — کسی کا مصیبت میں پڑنا۔
تَرَبِيحٌ — الرجلُ — سست و ڈھیلا ہونا۔
الرَّبِيحُ — بڑا پالان۔

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — البعيرُ — اونٹ کا
ریت میں چلنا دشوار ہونا۔
اُرْبِيحُ — الرجلُ — بیت کا تہ بہتہ ہونا۔
الرجلُ — کسی کا مصیبت میں پڑنا۔
تَرَبِيحٌ — الرجلُ — سست و ڈھیلا ہونا۔
الرَّبِيحُ — بڑا پالان۔

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — البعيرُ — اونٹ کا
ریت میں چلنا دشوار ہونا۔
اُرْبِيحُ — الرجلُ — بیت کا تہ بہتہ ہونا۔
الرجلُ — کسی کا مصیبت میں پڑنا۔
تَرَبِيحٌ — الرجلُ — سست و ڈھیلا ہونا۔
الرَّبِيحُ — بڑا پالان۔

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — البعيرُ — اونٹ کا
ریت میں چلنا دشوار ہونا۔
اُرْبِيحُ — الرجلُ — بیت کا تہ بہتہ ہونا۔
الرجلُ — کسی کا مصیبت میں پڑنا۔
تَرَبِيحٌ — الرجلُ — سست و ڈھیلا ہونا۔
الرَّبِيحُ — بڑا پالان۔

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — البعيرُ — اونٹ کا
ریت میں چلنا دشوار ہونا۔
اُرْبِيحُ — الرجلُ — بیت کا تہ بہتہ ہونا۔
الرجلُ — کسی کا مصیبت میں پڑنا۔
تَرَبِيحٌ — الرجلُ — سست و ڈھیلا ہونا۔
الرَّبِيحُ — بڑا پالان۔

عَلَى جَبَلٍ — پہاڑ سے جھانکنا۔

فِي الْأَمْرِ — کسی امر میں غور کرنا۔
لِلْقَوْمِ وَالْقَوْمِ — قوم کا نگہبان۔
وَرِيدَانٌ هُونًا — الشَّيْءُ — بلند
کرنا۔ الْمَالُ — حفاظت کرنا۔
اصلاح کرنا۔ لے جانا۔ کتے ہیں
”إِنِّي أَرَبَابُكَ عَنْ ذَلِكَ“
میں تمہارے لیے اس کو پسند نہیں
کرتا۔ ”مَادَرَبَاتٌ رِبَابًا“ میں نے
اس کو نہ جانا اور نہ اس کی پروا کی
”وَأَرَبَابُكَ“ اس کی حفاظت کرو۔
رَبَابَةٌ تَرَبِيحَةٌ — لے جانا۔
رَبَابًا مَرَابَاةً — پُرْخَدٌ وَخُوفٌ رِبِنَا
بچنا۔ نگرانی کرنا۔

رَبَابًا رِبَابًا — دیکھنا۔ دیدبان بننا۔
— الْمِرْيَاةُ — دیدبان کی جگہ
چڑھنا۔ — عَلَى الْجَبَلِ — پہاڑ پر
سے جھانکنا۔ کہا جاتا ہے ”رَبَابًا
الشَّمْسِ مَتَى تَغْرِبُ“ یعنی دیکھتے
رہو کہ آفتاب کب غروب ہوتا ہے۔
الرَّبِيحُ وَالرَّبِيحَةُ — فوج کا دیدبان
سکاوٹ۔ ج۔ رِبَابًا۔
الرَّبَابُ وَالرَّبَابُ وَالرَّبَابُ
وَالرَّبَابُ دیکھ بھال کرنے کی جگہ
پہرہ کا مینار۔ مچان۔ الْمَرَبَابُ
سیڑھی۔

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

رَبِيحٌ (س) رَبِيحًا — الشَّيْءُ — بند ہونا
رَبِيحَةٌ (ن) رَبِيحًا وَرَبِيحَةٌ —
عَنْ كَذَا — منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
تَرَبِيحٌ — دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
إِرْتَبِيحٌ وَارْتَبِيحٌ — القومُ — متفرق
ہونا۔ تَرَبَّرَ هُونًا — اَمْرُهُمْ

ہے۔ بوتل کا ڈھکن۔ ج۔ رِبْدٌ
وَرِبَادٌ وَرَبْدٌ۔
الرِبْدَةُ - بے خیر آدمی۔ گندگی۔
الرِبْدِيَّةُ - نیل گاؤں کا گلہ۔
رَبْدُوكَ (رَبَاذَةٌ) - چالاک و دانا ہونا۔
رَبْدٌ - الْقَوْبَةُ - مشک بھنا۔
رَبْدٌ - الشَّيْءُ - چیز کا تمام و کامل ہونا۔
- الرِبْدِيُّ - زیرک و دانا۔
رَبَسَهُ (رَبَسًا) - بیداریہ۔ دوہتر
مارنا۔ (رَبَسَ) - الْقَوْبَةُ
مشک بھنا۔
أَرَبَسَهُ إِرْبَاسًا - غضبناک کرنا۔
أَرَبَسَ - الْعُنُقُودُ - گچھے کا ایک
دوسرے میں گھس جانا۔ ٹھوس ہونا
پیوستہ ہونا۔
إِرْبَسٌ إِرْبَسًا - الرجلُ - ملک
میں جانا۔ فی امرہ۔ تصرف
کرنا۔ اَمْرُهُ - کام کوزور ہونے
کے باعث سب کا متفرق ہونا۔
الرَبْسُ - مص۔ ناپسند اور بری بات۔
بہت۔ کہتے ہیں۔ "جَاعَ بِمَا لِي رِبْسًا"
وہ بہت مال لایا۔
الرَبْسَاءُ - سخت مصیبت۔ ج۔ رِبْسٌ -
کہا جاتا ہے۔ "جَاعَ بِأَمْرٍ رِبْسًا"
وہ مصائب لایا۔
الرَبْسِيُّ - بہادر۔ مصیبت، دوہتر سے مارا
ہوا۔ یا مصیبت زدہ۔ ٹھوس۔
أَمْرُ الرَبْسِيِّ - سانپ۔ مصیبت۔
الرَبْسِيُّ - حقد کے مشابہ ایک سبزی
جس کا مزہ ترشی مائل میٹھا ہوتا ہے۔
أَرَبَسَ - الشَّجَرُ - درخت کا پتے لانا۔
بعض کے نزدیک درخت کا پھل لانا۔
الرَبْسِيُّ - مختلف رنگوں والا۔ مؤنث
رَبْسَاءٌ - أَرْضٌ رَبْسَاءٌ - مختلف
رنگوں کی گھاس والی زمین۔

رَبِضٌ (رَبِضًا) - کسی کے لیے برائی
یا بھلائی کا انتظار کرنا، کسی کو برائی
پہنچانے کے لیے موقع کی تاک
میں رہنا۔
تَرَبِضٌ - انتظار کرنا۔ عین الامر
کسی امر سے رک جانا۔ فی المكان
کسی جگہ رہنا۔ بِسِلْحَةٍ - مال
کی گرانی کا انتظار کرنا۔
رَبِضْتُ (رَبِضًا) رِبْضًا وَرَبُوضًا وَ
رِبْضَةً - الدَّابَّةُ - جانور کا
گھٹنوں پر بیٹھنا۔ رِبِضُ الْأَسَدِ
عَلَى قَرْنَيْتِهِ وَالْقَوْنُ عَلَى
قَرْنَيْتِهِ - دبوچ کر بیٹھنا۔
رَبِضٌ (رَبِضًا) رِبْضًا وَرَبُوضًا -
فلانًا او المكان - پناہ لینا۔
رَبِضَهُ - بالمكان - کسی جگہ روکے
رکھنا۔ - الرِّبَاةُ - جانوروں کو ان
کے بیٹھنے کی جگہ میں روکے رکھنا۔
أَرَبِضٌ - سورج کا سخت گرم ہونا، اونٹ
کو احاطہ میں لانا، کسی پر طاقت سے
زیادہ بوجھ لا دینا۔
تَرَبِضٌ - ضعف کی وجہ سے کسی جگہ پر
ٹھہرے رہنا۔
الرَّابِضُ فَاءٌ - (الرَّابِضُ) شیر
الرَّابِضَةُ - الرَّابِضُ کا مؤنث۔
بلند امور سے عاجز و قاصر۔ چھٹی ناک
والے کو کہا جاتا ہے۔ أَرَبِضُهُ
رَبِضَةٌ عَلَى وَجْهِهِ۔
الرَّبِضُ وَالرَّبِضُ - وَالرَّبِضُ -
وَالرَّبِضُ - بیوی، بہن، ماں۔
رَجُلٌ رَبِضٌ عَيْنُ الْأَسْفَارِ أَوْ
عَيْنُ الْحَاجَاتِ - وہ آدمی جو نہ
سفر کے لیے نہ حاجت روائی کے لیے
باہر نکلے۔
الرَّبِضُ - عمارت کی بنیاد۔ چیز کا زمین سے

چھپنے والا حصہ۔ چیز کا درمیان۔
الرَّبِضُ - مِنَ الْبَقْرِ - بیٹھی ہوئی گایوں
کا گلہ۔
الرَّبِضُ - بکریوں کا باڑہ۔ قوم کے رہنے
کی جگہ۔ شہر کا گرد و نواح۔ شہر پناہ،
آنتیں۔ کجاوہ کی رسی۔ ہر ایسی چیز
جس کی طرف پناہ لی جائے۔ یا آرام
لیا جائے، جیسے رشتہ دار، مال، گھر
وغیرہ۔ ج۔ أَرَبِضٌ۔
الرَّبِضَةُ وَالرَّبِضَةُ - بیٹھے رہنے
والا آدمی۔
الرَّبِضَةُ - لاشوں کا ڈھیر۔ لاش۔ آدمیوں
کا گروہ۔ بکریوں کا گلہ۔ بیٹھنے کی
بیٹھ۔
الرَّبِضُ - مِنَ الْقَرْمِي - آباد گاؤں۔
مِنَ التَّارُوقِ - فراخ زرہ۔
مِنَ الشَّجَرِ - بڑا درخت۔ ج۔
رَبِضٌ - قَرْبَةُ رَبُوضٌ - بڑی مشک
جس کا اٹھانا دشوار ہو۔
الرَّبِضُ - احاطہ میں اکٹھا کیا ہوا ریوڑ۔
مع پرواہوں کے۔ پیٹ میں آنتوں کے
جمع ہونے کی جگہ۔
الرَّبِضُ - جانوروں کے بیٹھنے کا احاطہ
ج۔ مَرَابِضٌ - وَالرَّبِضُ - پیٹ
میں آنتوں کے جمع ہونے کی جگہ۔
رَبَطَهُ (رَبَطًا) - رِبَطًا - مضبوط باندھنا۔
- اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ - اللہ تعالیٰ
نے اس کے دل کو قوت بخشی اور مہر
عطا فرمایا۔ (رَبَطًا) - جَاسُكًا
دل کا مضبوط ہونا۔
رَبَطٌ - رِبَاطًا وَرَبَاطَةً -
الامر - کسی امر پر ہمیشگی اختیار کرنا
- الْجَيْشُ - دشمن کی سرحد کے
پاس لشکر کا ہمیشہ پڑاؤ رکھنا۔
تَرَابِطٌ - الماعز فی المكان - کسی جگہ پانی

کا جمع ہو کر ٹھہر جانا۔

ارتبط - فرسًا - سرحد کی حفاظت کے لیے گھوڑے کو تیار کرنا - فی الحبیل - رسی میں بندہ کر لکنا۔

الرباط - مص - جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ دل - گھوڑا - قلعہ - وہ جگہ جہاں لشکر حفاظت سرحد کے لیے پڑاؤ ڈالے۔ ج - ربط -

الرباطات - فقراء کے لیے وقف کیے ہوئے مکانات - واحد الرباط - قرمن رباطہ - مرگیا یا بیماری سے صحت یاب ہو گیا۔

الرباط - فاء - راہب - عابد، زاہد، حکیم - دنیا سے کنارہ کش - رابط الجاش - بہادر - نڈر۔

الرباطة - تعلق، ملاپ، عہد نامہ۔ الربیط - بندھا ہوا - حکیم، درویش۔ ربط الجاش - بہادر۔

الربیطة - بندھے ہوئے جانور۔ الرباط - سانت کو باندھنے والا۔

الربط - بندھے ہوئے اور چارہ دیے ہوئے گھوڑے۔

المربط والمربط - جانوروں کے باندھنے کی جگہ - ج - مربط۔

المربط والمربط - تعلق، گانٹھ۔ وہ رسی جس سے جانور کو باندھا جائے۔

المربط - آپس میں تعلق رکھنے والی جماعت - فوجی چمکی - ج - مربطات۔

ربیع (ربیع) - رتبعہ - توقف کرنا، انتظار کرنا۔ کہتے ہیں - "ربیع علیک اذ علی نفسک اذ علی ظہوک"۔

ظہر و توقف کرو - بالمسکان - اقامت کرنا - عنہ - رکنا۔

علیہ - شفقت و مہربانی کرنا۔ - الوجیل - خوشحالی کا سال پانا۔

اپنی قوت کی جانچ کے لیے پتھر اٹھانا - ربیعہ - راضی کرنا -

الابل - اونٹوں کا چوتھے دن پانی پینا - ربعت علیہ

الحتی - چوتھے دن بخار آنا۔ - ربوعًا، الربیع - موسم بہار کا آنا۔

ربیع (ربیع) - ربعا - الحبیل - چار لڑیوں کی رسی بننا۔ چوتھے یا چالیسویں نمبر کو پورا کرنا۔ چوتھائی لینا۔

ربیع - القوم - موسم بہار کی بارش پانا - الوجیل - کسی کو چوتھیا آنا

چاروں کی باری سے بخار آنا۔ ربیع - البیت او الحوض - گھریا حوض کو چوکور کرنا۔

ربیع - الوجیل - بوجھ اٹھانے کی لکڑی کو بوجھ کے نیچے لگانا۔

ربیع - چوتھے سال میں داخل ہونا۔ - القوم - چار ہونا - فصل ربیع - میں داخل ہونا۔ چراگاہ یا

پانی والی سرسبز جگہ پر پہنچنا۔ اونٹوں کو پانی پر جانے کے لیے آزاد چھوڑ دینا - الربیع الوجیل - بڑھاپے میں بچہ پیدا ہونا۔

ربیع - الوجیل - چوتھیا بخار آنا۔ ربیع - فی جلوسہ - چار زانو ہو کر بیٹھنا۔ - ربیع - الوجیل - موسم بہار کے سبزہ کو چر کر اونٹ کا فریہ ہونا۔ بالمسکان - کسی جگہ موسم بہار گزارنا۔ - ربیع الحجرت - پتھر اٹھانا۔

ربیع - الوجیل - ریت کا تہ بہ تہ ہونا۔ تودہ لگنا - الغبار - غبار اٹھنا - البعیر للسیور - اونٹ کا چلنے کی طاقت پانا۔ - المشی -

طاقة رکھنا۔ الربیع - گھر گھر کا ارد گرد۔ عملہ اترنے کی جگہ۔ لوگوں کا گروہ۔ تابوت۔ ج۔ رباع و ربوع و ربیع و ربیع (ربیع) - درمیانہ قد کا آدمی کہا جاتا ہے۔ رجل ربیع و ربیع۔

الربیع و الربیع - چوتھائی۔ ج۔ رباع و ربوع۔

الربیع - آغاز موسم بہار میں پیدا ہونے والا اونٹنی کا بچہ۔ اگر موسم بہار کے آخر میں پیدا ہو تو اس کو ہبوع کہتے ہیں۔ کہتے ہیں - "ما لہم ربیع ولا ہبوع"۔ ج رباع و رباع۔ مؤنث۔ ربعة - ج۔ ربعات و رباع۔

الربیع - چوتھے دن اونٹوں کو پانی پلانا۔ حتی الربیع - چوتھیا بخار۔ الرباع - فاء۔ چوتھا۔ ربیع رباع۔

بہت سرسبز موسم بہار - ابل رباع - چوتھے دن پانی پینے والے اونٹ۔

رباع - چار چار۔ کہا جاتا ہے - اتوا رباع۔ یعنی وہ چار چار آئے۔ الربعة - (مذکورہ مؤنث ہر دو کے لیے) میانہ قد۔ ج۔ ربعات و ربعات عطر فروش کا ڈبہ۔ الرباع - خوش حالی۔ کہا جاتا ہے - "ہم علی رباع عینہ"۔ وہ اپنی خوشحالی پر ہیں۔

الرباع والرباع - اچھی حالت۔ سرداری۔ ملوک چیز جس سے انسان کی حالت اچھی ہو۔ الرباعیة - سامنے کے چار اونٹوں اور کچلیوں کے درمیان والا اونٹ۔ ج۔

دَبَاعِيَاتٌ -

الرَّبَاعِي - رباعی دانت گرا ہوا جانور۔

ج۔ دُبْعٌ وَدُبْعٌ وَدِبْعَانٌ -

وَدِبَاعٌ وَدُبْعٌ وَآسْرَبَاعٌ -

مؤنث۔ دَبَاعِيَّةٌ - ج۔ دَبَاعِيَّاتٌ -

الرَّبَاعِي - چار سے مرکب۔

الرَّبِيعُ - ج۔ اَرْبَعَةٌ وَدِبَاعٌ وَ

اَرْبَعَاءٌ - موسم بہار۔ موسم بہار

کی بارش یا سبزہ اور گھاس۔ ج۔

اَرْبَعَاءٌ وَدِبْعَانٌ - زمین کے

لیے پانی کا حصہ۔ ج۔ دُبْعٌ -

چوتھائی۔

الرَّبِيعِيُّ - مِنَ الْمَسَاكِينِ - موسم بہار

گزارنے کی اقامت گاہ۔

الرَّبِيعَةُ - طاقت آزمانے کے لیے

اکھایا جانے والا پتھر۔ باغ۔ لوسہ کی

خود۔ توشہ دان

الرَّوْبِعُ - کزور۔ کمینہ۔

الرَّوْبِعَةُ - پست قد۔ چار زانو بیٹھنے

والے کی بیٹھک۔ اونٹ کے بچوں کی

ایک بیماری۔

اَرْبَعَةٌ - چار۔ مؤنث۔ اَرْبَعٌ -

الرِّيَاحُ اَلْاَرْبَعُ - چار سمت

چلنے والی ہوائیں۔ ذَوَاتٌ

اَلْاَرْبَعُ - چوپائے۔

اُمُّ اَرْبَعٍ وَارْبَعُونَ - ایک قسم کا پترا

کن۔ ملال۔

لَا رِبْعَاءُ - بدھ کا دن۔ اس کا تشبیہ

اَرْبَعَاوَانٍ اور جمع اَرْبَعَاوَاتٌ

وَاَرْبَعَاوَاتٌ ہے۔

اَلْاَرْبَعَاءُ - گھر کا ستون۔

اَرْبَعُونَ - چالیس۔

الرَّبِيعُ - موسم بہار کی بارش۔ د۔

وَالْمُرْتَبِعُ - موسم بہار کی اقامت گاہ۔

الرَّبِيعُ وَالْمُرْتَبِعَةُ - وہ کڑی جس کے

سہارے سے جانور پر بوجھ لاوا

جاتا ہے۔

الرَّبِيعُ - موسم بہار میں بیابانے والی

اونٹنی۔

الرَّبِيعُ - چوتھیا بخار والا۔

الرَّبِيعُ - مریح۔ وہ شکل جس کے چاروں

ضلعے برابر ہوں۔ چار پاؤں والا۔ نگر۔

زمین کا ٹکڑا۔ حاصل ضرب جو کسی عدد

کو فی نفسہ ضرب دینے سے حاصل ہو۔

الرَّبِيعُ - وہ جگہ جس کی سبزی موسم بہار

کے شروع میں اُگے۔ غنیمت کا چوتھا

حصہ جو زمانہ بہ اہلیت میں سرور لیا

کرتا تھا۔ موسم بہار میں بچہ دینے والی

اونٹنی۔ (د۔ وَالْمُرْتَبِعُ وَالْمُرْتَبِعُ)

درمیانہ قد۔

الرَّبِيعُ - موسم بہار کے آئینہ کی بارشیں۔

الرَّبِيعُ - ایک قسم کا چوہا، جس کے اگلے

پاؤں چھوٹے اور پچھلے لمبے ہوتے ہیں۔

ج۔ رِبَاعِيَّةٌ -

رَبْعٌ رَفٌّ رِبْعًا - القومُ فِي النَحِيلِ

خوشحال اور آسودہ زندگی گزارنا۔

رَبْعٌ رَسٌّ رِبْعًا - عَيْشَةٌ - زندگی میں

فراخ حالی نسیب ہونا۔ الرجلُ

بَدَكَ رِبْعًا حَيًّا هَوْنَا - صِفَتُ رِبْعًا

رَبْعٌ رَفٌّ رِبْعًا - بہت ہونا۔

الرَّبِيعُ - زیادہ۔ وسیع۔

رَبْعَةٌ رَفٌّ رِبْعًا وَرَبْعَةٌ رِبْعَةٌ

سے باندھنا۔ ہا فی الامر۔ کام

میں ڈالنا۔ وَرَبْعٌ رِبْعًا - تقریر

کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

"رَبْعٌ رِبْعًا رِبْعًا اَثْنَاءَ حَبْلِهِ او

اَرْبَاعِهِ" - اپنے بکری کے بچوں کے

لیے رسی کا پھندا بنایا۔

تَوْبَقَةٌ - ٹکانا۔ کہا جاتا ہے۔ تَوْبَقَةٌ

الشَّيْءُ فِي عُنُقِي" - میں نے اس چیز

کو اپنی گردن میں لٹکایا۔

اُرْتَبَقَ - فِي الْجِبَالَةِ - پھندے میں پھنسا۔

لَتَكُنَا - فِي الْاَمْرِ كَيْسِي كَامٍ مِي پھنسا

الجنا۔ کہتے ہیں "اُرْتَبَقْتُ فِي حَبَالَتِهِ"

یعنی میں اس کی جال سازی میں پھنس گیا۔

الرَّبِيعُ - پھندوں والی رسی۔

الرَّبِيعَةُ - وَالرَّبِيعَةُ - رسی میں پڑا ہوا

پھندہ۔ ج رِبْقٌ وَرِبْقٌ وَرِبْقٌ

لَتَمَّ مِي "حَلَّ رِبْقَتَهُ" - اس نے

اس کی تکلیف ٹال دی۔ وَنَقَضُوا

الْحَبَالَ وَآكَلُوا الرِّبَاقَ - انھوں

نے اپنے عمدہ پیمان توڑ دیے۔

الرَّبِيعُ - پھندے میں بندھا ہوا پھنسا ہوا۔

الرَّبِيعَةُ - چربی والی روٹی۔

رَبَكَ رِبْكَ - كَيْسِي بَحِيْدَةً مِي پھنسا۔

صِفَتُ رِبْكَ وَرِبْكَ

اُرْتَبَكَ - فِي الْوَحْلِ - پیچڑ میں پڑنا۔

فِي الْاَمْرِ - كَيْسِي مِي اَيْسا پھنسا کہ

خِلاصِي نَفْرَتُهُ آتَمَّ - فِي كَلَامِهِ

گفتار میں رک رک جاتا۔ الصِيْدُ

فِي الْجِبَالَةِ - شَكَارُ كَا پھندے میں

پھڑپھڑانا۔ تَرْبِنَا - الْاَمْرُ - كَيْسِي مِي

کابھیچیدہ ہونا۔

اُرْبَاكَ اُرْبِيْكَ كَا - رَايْتُ رَايْتُ كَا

گڑبڑ ہوجانا۔ الرجلُ عِيْنُ

الامر۔ کام سے باندھنا۔ رُكْنَا -

الرَّبِيعَةُ - كَيْسِي وَوَدَّ مَلَكُنَا - کہتے

ہیں۔ رَمَاهُ بِرَبِيْعَةٍ - اس نے

اس کو ایک بھیچیدہ معاملہ میں پھنسا دیا

وَالرَّبِيْعُ وَالرَّبِيْعُ، نِيْرٌ كَجُورٍ

اور گھی سے تیار کیا ہوا کھانا، کبھی اس

میں پانی ملا کر پی جاتے ہیں۔

رَبْلٌ رَفٌّ رِبْعًا - الْقَوْمُ - قوم کا

بڑھنا۔ تعداد کا زیادہ ہونا۔ رِبْلٌ

الرَّبِيعُ - چراگا ہوں میں گھاس کا

وہ اپنے گھروالوں اور قبیلے کے لوگوں میں آیا۔ ران کی جڑ۔ یاران کے اوپری حصے اور پیٹ کے درمیان کا حصہ۔

دَتَّ (دس) رَتَّتَا - بھگانا، تھلانا۔

صفت مذکر اَرَّتَتْ، صفت مؤنث رَتَّتَتْ وَرَّتَتْ - ج۔ رَتَّتْ -

اَرَّتَتْ - اَرَّتَاتَا - اللہ - بھلا کرنا۔ بنا۔

الرَّتَّتْ - سخت۔ زسور۔ جنگلی سور۔ ج

رَتَّتَتْ - الرَّتَّتْ - رئیس پیشوا

ج۔ رَتَّتَتْ -

رَتَّتَتْ (دفع) رَتَّتَتْ - گلا گھونٹنا۔

العُقْدَةُ - گرہ سخت لگانا۔

فی المکان - اقامت کرنا۔

الرجل - چلا جانا۔

اَرَّتَاءً - رُكَّ رُكَّ کرنا۔

رَتَّبَ (دن) رَتَّبًا وَرَتَّبًا - الشَّيْءُ

جڑ کا اپنی جگہ بلا حرکت قائم و ثابت

رہنا۔ سیدھا کھڑا رہنا۔ کہتے ہیں

”رَتَّبَ فِي الصَّلَاةِ“ یعنی نماز میں سیدھا

کھڑا رہا۔

رَتَّبَتْ - قائم رکھنا۔ ترتیب دینا۔ درجہ

پر رکھنا۔

اَرَّتَبَ - سیدھا کھڑا ہونا۔ غنی کے بعد

سوال کرنا۔ الخلام الكعب -

نصب کرنا۔ کھڑا کرنا۔

تَرَّتَبَ - ترتیب میں ہونا۔ بلا حرکت و

جنبش کھڑا ہونا۔

الرَّتَّبَ - سختی۔ دشواری۔ ابھری ہوئی زمین

قریب قریب۔ چٹانیں جو ایک دوسرے

سے بلند ہوں۔ د۔ - والرَّتَّبَ

چنگلیا اور اس کے برابر والی انگلی

کے درمیان کا فاصلہ اور چنگلیا کے

برابر والی اور بیچ کی انگلی کے مابین

جگہ۔

رَبَا - يَرْبُو رِبَاءً وَرُبُوًّا - المالُ

مال کا زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ الرَّبِيَّةُ

ٹیلہ پر چڑھنا۔ د۔ - رُبُوًّا الفرسُ

بھولنا، گھوڑے کا بھاگنے سے سانس چڑھنا

د۔ - رُبُوًّا وَرُبُوًّا، الولدُ - بچہ

کانشو و ناپانا

رَبِي تَرَبِيَّةً - وَتَرَبِي - الولدُ -

بچہ کو پرورش کرنا۔ پالنا۔ مہذب بنانا

د۔ - رَبِي التَّفَاحَ بِالشُّكْرِ

سیب کا مرتبہ ڈالنا۔

رَبِي مَرَابَاةً - سود پر مال دینا۔

الرجلُ - کسی کے ساتھ حسن

سلوک کرنا۔

رَبِي - رَابَاءً - سود لینا۔ - الشَّيْءُ

بڑھانا۔ - - امید دلانا۔

عليه في كذا رَابَاءً

ادباً، زیادہ کرنا۔

الرَّبَا - زیادتی۔ سود۔ بیاج۔ نسبت

کے لیے ربوتی۔

الرَّبَاةُ - زیادتی۔ مہربانی۔ احسان۔

الرَّبِيَّةُ - ج۔ رَوَابٍ - د۔ و

الرَّبْوَةُ وَالرَّبْوَةُ وَالرَّبْوَةُ

ج۔ رُبِي دُرِيحُ - ٹیلہ۔

الرَّبْوَةُ - دس لاکھ۔

الرَّبْوَةُ - دس ہزار کے قریب کی جماعت

ج۔ رِبِي -

الرَّبِيَّةُ - حشرات الارض میں سے

ایک کیڑا۔

الرَّبَاةُ وَالرَّبَاةُ - ٹیلہ۔

الرَّبْوُ - ٹیلہ۔ چڑھا ہوا سانس۔ جماعت

ج۔ اَدْبَاءُ - الرَّبْوُ وَالرَّبْوَةُ

اطباء کے نزدیک جوف کی سوجن

ضیعت النفس۔

الرَّبِيَّةُ - گھر کے آدمی۔ چچا زاد بھائی

کہتے ہیں۔ ”جَاءَ فِي رِبِيَّةٍ قَوْمِي“

بکثرت ہونا۔

رَبِي وَرَبِي - المكانُ - کسی جگہ کا

خزاں کے پودے اگانا۔

رَبِي - بکروار ہونا۔ اور برائی کی تاک

میں رہنا۔

تَرَابِي - لوٹ ڈالنا۔ اور شیر کا سا کام

کرنا۔

تَرَبِي - موسم خزاں کی سبزی کھانا۔ شکار

کرنا۔ پر گوشت ہونا۔ جسمی

جسم کا بھولنا۔ الارضُ - زمین

کا خریف کی سبزی سے برا بھرا ہونا

خزاں کے آنے پر خشک ہو جانے

کے بعد سرسبز ہونا۔ تَرَبِي

القومُ - موسم خزاں کی سبزی چرانا۔

اَرَّتَبِلَ مَالَهُ - مال زیادہ ہونا۔

الرَّبِي - موسم خزاں کے پودے، یا

سبزیاں جو بغیر بارش کے رات کی

نمی سے نمو پاتے ہیں۔ ج۔ رُبُوًّا -

الرَّبِيَّةُ وَالرَّبِيَّةُ - رانوں کی جڑیں

ہر جگہ کا موٹا گوشت۔ ج۔ رِبَلَات -

الرَّبِي - چور جو تین تھالوں ڈالے۔

موٹا۔ فربہ۔ الرَّبَاةُ وَالرَّبِيَّةُ -

گوشت کی کثرت۔ - الرَّبِيَّةُ -

رطوبت، نعمت۔ زندگی کی آسودگی۔

الرَّبِي - دراز جو پیچیدہ نباتات۔ شیر

ج۔ رَبَابِي -

الرَّبِي - وہ زمیں جس میں خزاں کے موسم

میں جھاڑیاں یا درخت بکثرت ہوں۔

اَرَّتَبَه - بیجانہ دینا۔

تَرَبِي - جہاز کا کپتان بنا۔

الرَّبِي - الاسْبَابُ - الاسْبَابُ

بیجانہ۔

الرَّبِي وَالرَّبِي - جہاز کا کپتان

ج۔ رَبَابِيَّةٌ مَدَابِيحٌ وَرَبَابِيَّةٌ

کُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا بڑا حصہ۔

الرَّوْتَبَةُ - انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ
الرَّوْتَبَةُ - درجہ - مرتبہ - ج - رَتَبٌ
الرَّوْتَبُ - قائم و ثابت شے - دوام -
ہمیشگی - مٹی - وہ غلام جو برابر تین
آقاؤں کی غلامی میں رہ چکا ہو کہتے
ہیں "جَاؤُاْ اِثْرَتَبَا" وہ سب کے
سب آئے۔

الرَّوَاتِبُ - فا - عیش رَاتِبٌ - دائمی
عیش - تنخواہ - وظیفہ - پنشن - ج
رَوَاتِبٌ - الرَوَاتِبُ - سنن
مؤکدہ۔

الرَّوْتَبَةُ - اعلیٰ درجہ - درجہ - ج
مَرَاتِبٌ -

رَتَجَ دَن (رَتَجًا - الباب - دروازہ
بند کرنا - رَتَجَانَا، الصَّبِيءُ
بچہ کا چلنے لگنا۔

رَتَجَ (س) رَتَجًا - الخَطِيبُ - مقرر کا
تقریر میں رُک جانا - کلام دشوار ہونا۔

أَرْتَجَ - الباب - دروازہ کو مضبوطی سے
بند کرنا - الشَّجِرُ - برف کا پیہم کرنا
سرسبزی و ارزانی کا عام ہونا۔

الدَّجَاجَةُ - مرغی کا انڈوں
سے پیٹ بھر جانا - البحرُ - سمندر کا
جوش میں آنا۔

الرَّتَجُ وَاُذْتَجُ وَاُسْتُرْتَجُ -
علی الخطیب - خطیب و واعظ کا
تقریر میں بند ہو جانا۔

الرَّتَجُ وَاَلْوَتَا جُ - بڑا دروازہ پھانک
بڑا بند دروازہ جس میں کھڑکی نہ ہو -
يَكْتَفُ (رَتَجٌ) غیر نافذہ گلی -

مَالٌ رَوْتَجٌ - ناقابل حصول مال -
الرَوْتَا جَةُ - چٹان ج رَتَا رَجُ - د -
وَالْمَوْتَجُ - تنگ راستہ - ج
مَوَاتِجُ -

الرَوْتَا جُ - چٹھنی جس سے دروازہ بند کیا

جائے - کبھی۔

رَتَجَ دَن (رَتَجًا - العَجِيْنُ -

گندھے ہوئے آٹے میں پانی زیادہ ہونے
سے اس کا پتلا ہو جانا - بِالْمَكَانِ
کسی جگہ رہنا - عَنِ الْخَيْرِ - بھلائی
سے رکتا - پیچھے رہنا۔

الرَّتَجَةُ - سخت کھچڑ - دلدل - جِلْدٌ
أَرْتَجُ - سخت چڑا۔

رَتَوْتٌ - تار یا رابڑونے میں اکٹنا - ہکھلانا
رَتَجَ دَن (رَتَجًا وِرْتَا جًا وِرْتَا جًا -

ایسی خوشحال زندگی بسر کرنا کہ ہر مراد
پوری ہو - فِي الْمَكَانِ - کسی جگہ خورد
نوش کی پوری آسودگی و فراوانی کے
ساتھ رہنا - صَفَتْ - (رَاتَجٌ) ج

رَتَجٌ وِرْتَا جٌ وِرْتَا جٌ وِرْتَا جٌ
وِرْتَا جُونَ - رَتَجَ فِي مَالٍ
فلاں - اس نے فلاں کے مال میں
کھانے پینے میں خوب موج اڑائی۔

- فِي لَحْمِ فَلَانٍ - غیبت کرنا۔
أَرْتَجَ - القومُ - قوم کا سرسبز و شاداب
زمین میں پہنچنا اور مویشی چرانا۔

الارضُ - چرنے والے کو آسودہ و
سیر کرنا - الغَيْثُ بارش کا چارہ
اگانا - الدَّوَابُّ - مویشی کو چرنے
دینا۔

الرَّتْعَةُ - سرسبزی و شادابی کی کثرت -
اور اسی سے ہے یہ قول "أَسْمَنِي
القَيْدُ وَالرَّتْعَةُ - قید و آسودگی
نے مجھ کو فر بہ کر دیا۔

الرَّتِجُ - وہ آسودہ مال جو اپنی سب مراد پائے
الرَّتَا جُ مِنَ النَّاسِ - لوگوں کی کثرت -
الرَّتَا جُ - اپنے اونٹوں کو شاداب چراگا ہوں
میں لے جانے والا۔

الرَّتِجُ - آسودہ جس کو سب کچھ لے۔
الرَّتِجُ - چراگاہ

الرَّتِجُ - کھڑے کھڑے ہے، جیسے کھڑی،

الرَّتِجُ - کھڑے کھڑے ہے، جیسے کھڑی،

رَتَقَ دَن (رَتَقًا - الثَّوْبُ - کپڑے

کی پھٹن کو درست کرنا - جوڑنا -
الرَّتَقُ - پھٹن کی اصلاح کرنا - درست
کرنا - کہتے ہیں "هُوَ الرَّتَقُ وَالْفَاتِقُ"
وہ کام کی اصلاح کرنے والا ہے - و

رَتَقَ فَتَقَهُمُ - اس نے ان کے
درمیان صلح کرادی - الرَّتَقُ -
بند کرنا۔

الرَّتَقُ - جوڑ جانا۔
الرَّتَا قُ - دو کپڑے جن کے کنارے سے
گئے ہوں۔

الرَّتَقَةُ - انگلیوں کے درمیان کی کشادگی -
ج - رَتَقٌ -

الرَّتَوُقُ - عزت و شرف، بزرگی۔
رَتَكَ دَن (رَتَكَ دَرْتَكَ وِرْتَكَ نًا -
- البعيرُ - اونٹ کا چھوٹے چھوٹے
قدموں سے دوڑنا - پویا دوڑنا۔

أَرْتَكَ - البعيرُ - اونٹ کو پویا
دوڑانا۔

رَتَلَ دَن (رَتَلًا - الشَّيْءُ - اچھے
انتظام و ترتیب میں ہونا - صفت
رَتَلٌ)

رَتَلَ - الكلامُ - کلام کو اچھی طرح ترتیب
دینا - الرَّتَالُ - قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر
خوش اسلوبی سے پڑھنا۔

رَتَلَ - فِي الْقَوْلِ - ٹھہر ٹھہر کر اچھی
طرح بولنا کہتے ہیں "كَلَامٌ رَتَلٌ"
بہرہا کیلئے کلام۔

رَتَلَ دَن (رَتَلَ - خوبصورت، ہموار دانیت۔
الرَّتِيلُ - پڑھائی کے وقت آواز کو بہت
اور ہلکی کرنا - خوش آوازی سے پڑھنا
گانے یا پڑھنے میں خوش الحانی یا حسن
ادائیگی حروف کا لحاظ رکھنا۔

الرَّتَلُ - اچھی ترتیب والا، تسلانے والا۔
الرَّتِيلَاؤُ - کپڑے کھڑے ہے، جیسے کھڑی،

الرَّتِيلَاؤُ - کپڑے کھڑے ہے، جیسے کھڑی،

دُتِي - فِي ذُرْعِهِ - اس کا بازو کوٹ گیا۔
 الرُّتُوءَةُ - قَدَمٌ بَلَدٌ زَمِينٌ - لمحہ۔ حد نظر۔
 دَتُّ دَعْنٌ، دَفْأَتُهُ وَدُتُوءَاتُهُ - الثَّوْبُ
 کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ صفت دَتُّ (ج) دَتُّ
 دَتُّاتٌ۔
 اَدَّتْ اِرْتَاثًا - الثَّوْبُ - کپڑے کا پرانا و
 بوسیدہ ہونا۔ الثَّوْبُ - کپڑے کو
 بوسیدہ کرنا۔
 اَدَّتْ - زَخْمِي كُو مِيدَانِ جَنْگِ سِے اِیسی
 صَوْرَتِ مِی لایا جانا کہ اس مِی زَنْدِگِ
 كِی رَمَقِ باقی ہو۔ صفت (مُوتَتْ)۔
 الوَرَقُ - كَمْرًا كَهْطِیَا سَامَانٌ - ج - دَفْأَتُهُ
 كَتَبَتْ مِی - "كَلَامُهُ عَقْتُ دَتُّ"۔
 كَهْطِیَا - نَاكَارَه كَلَامٌ۔
 الاَدَّتْ - بوسیدہ۔ پرانا۔
 الوَرِثِیَّةُ - بوسیدہ، وہ زخمی جس مِی
 زَنْدِگِ كِی رَمَقِ باقی ہو۔
 الوَرِثِیَّةُ - كَمْرًا كَرْدِی سَامَانٌ ج - دَفْأَتُهُ
 وِی دَفْأَتُهُ - كَمْرًا كَرْدِی لُوكٌ۔
 دَفْأَتُهُ (دَفْأَتُهُ) دَفْأَتُهُ - اللبِنُ - دَوْدُه
 كُو كَا رُحَا كَرْنَا - دِهی جانا - الشَّيْخُ -
 بَالشَّيْخِ - طَانَا - عَضْبَةُ عَضْفِ
 كَا كَهْطَا هُونَا۔
 اَرْتَاثًا - وَ اَرْتَاثًا - دَوْدُه كَا كَا رُحَا هُونَا۔
 اَرْتَاثًا - دِهی رَايَه - رَايَه مِی كَر بَرِی
 كَرْنَا - اَرْتَاثًا عَلَیْهِمُ الْاَمْرُ۔
 كِی اَمْرًا كَر بَرِی هُونَا - اَرْتَاثًا
 الوَرِثِیَّةُ - دِهی پِیْنَا۔
 الوَرِثِیَّةُ - وَ الوَرِثِیَّةُ - حَاقَتِ وَ كَم نَهی
 دَل كِی كَمْرُوْرِی۔
 الوَرِثِیَّةُ - دِهی - بے دَقْوِی، مِی طَا
 هُوَا تَرِش دَوْدُه - رَجُلٌ
 دَمْرُوْرُوْرٌ كَمْرُوْرُوْلٌ - كَم فَم اَدْمِی۔
 دَفْأَتُهُ (دَفْأَتُهُ) اَرْتَاثًا - الْمَتَاعُ
 سَامَانٌ كُو تَرْتِیْبِ دِے كَر اَد پَرِیچَے مِی پِیْنَا۔

کھی وغیرہ۔ ج دَتُّیلاوات۔ ایک
 قسم کی نبات جس کے پھول سوسن
 کے پھول کے مشابہ ہوتے ہیں۔
 رَتْمَه دَعْنٌ، رَتْمًا - كُوْرْنَا - كُوْرْنَا۔
 - فِی بَنِي فِلَانٍ - كِی قَوْمِ یَا
 خَانِدَانِ مِی پَرُوْرِش پَانَا - كَمَا جَاتِلَهْ
 "مَا رَكَمَتْ بِكَلِمَةٍ" - وَه اِیك لَفْظٌ
 بَهی نَهی بُولَا (د - دَتْمًا) رَمَقِ
 كِے دَانِے سِے بے بوشی طَارِی هُونَا
 سُسْتِ هُو جَانَا۔
 اَرْتَمَ وَ تَرْتَمَ - وَ اَرْتَمَ۔
 یَا دَوَا شَتِ كِے لِیے اَنگِی پَر دِھَا كَا
 لِیْنَا۔
 الرُّتْمُ - اِیك قِسم كَا دَرِخْتِ جِس كَا رِیجِ
 مَسُوْرِ كِے مِشَابَه هُو تَا هے - وَ اَحَدٌ
 (دَتْمًا)۔
 الرُّتْمُ - مِی اِھُوَا تُوْرَش دَان - كَامِل حِیَا۔
 آہستہ كَلَامٌ - رَا سَتہ۔
 الرُّتْمُ - بوسیدہ۔
 الرُّتْمَةُ - ج - دَتْمٌ وَ دِی تَامٌ وَ
 (الرُّتْمَةُ) ج - دَتْمًا - وَ دِھَا كَا
 جُو كِی كَامِ كُو یَا دَوْلَانِے كِے لِیے اَنگِی
 مِی بَانَدِھَا جَاتَا هے۔
 الرُّتْمَةُ - آہستہ چَال وَ رَقْمَار - رَمَقِ كِے
 كَلَانِے سِے بے بوش ہونے والا۔ ج
 دَتْمِی - شَرُّ تَرْتَمَ - دَامِی شَرُّ
 دَتْنِ (دَن) دَتْنًا - الشَّحْرُ بِالْحَجِیْنِ
 كَنْدِے هُوئے آئے مِی چَر بِی طَانَا۔
 دَتْمًا یَزْكُوْرُهُ - دَتْمًا - وَ حِیَلَا كَرْنَا۔
 بَانَدِھَا - الْقَلْبِ - دَل كُو تَقْوِیْتِ
 وِیْنَا - هُو اِلَیْہ - طَا وِیْنَا -
 الدَّلُوْ - دُوْل كُوْرْمِی سِے كِی پِیْنَا
 آہستہ سِے نَا كَلَانِ - دَتْمًا وَ دَتْمًا
 بَرَا سِیْہ - سِے اِشَارَه كَرْنَا -
 الرُّجُلُ - قَدَمٌ رَكْمًا۔

رَثِي - لَهُ. شفقت اور رحم کرنا۔
 رَثِي يَرَثِي رِثَايَةً - عَنْهُ حَدِيثًا -
 یاد کرنا۔
 رَثِي يَرَثِي - رَثًا وَرَثِيًا - جوڑوں
 میں درد محسوس کرنا۔
 رَثِي وَرَثِي - رَوَّحَ مَحْسَنًا وَخَوِيًا
 شمار کرنا۔
 الرِّثَاءَةُ وَالرِّثَايَةُ - نوحہ کرنے
 والی عورت۔
 الرِّثِيَّةُ - جوڑوں کا درد (- و
 الرِّثِيَّةُ)
 الرِّثَاءَةُ وَالرِّثِيَّةُ - وہ اشعار وغیرہ
 جن میں میت کی خوبیاں بیان ہوں۔
 ج. مَرَاثٍ - وَالمَرَاثِي
 السَّبْعُ - عرب کے سات مشہور و
 معروف مرثیے۔ رَجُلٌ رَمَثَوِيٌّ
 کمزور عقل والا۔

رَجَّهَ (دَن) رَجًّا - حَرَكَةً دِينًا - ہلانا۔
 رَجَّهَ (دَن) وَرَجَّهَ رَجًّا - ہلانا۔ حَرَكَةً كَرْنَا۔
 أَرَجَّجَهُ - البَجْرُ - مَوْجَزٌ هُونًا - الكَلَامُ
 گفگلو کا ملتبس ہونا۔
 الرَّجَّةُ - حَرَكَةٌ - رَجَّةُ الْقَوْمِ -
 آوازوں کا اختلاط۔
 رَجَّاجٌ - العَنَبُ وَالتَّائِبُ - کمزور و لاغر
 بھیڑ بکریاں یا انسان۔
 أَرَجَاءٌ - الأَمْرُ - كَامٌ كَوْمُؤْخَرٌ كَرْنَا -
 أَرَجَاءَتِ الحَامِلُ - حَالَةٌ كَا
 وقت وضع حمل قریب ہونا۔
 الصَّيْدُ شَكَارِي كَا كَظْمٌ نَهْ پَانَا۔
 رَجَبٌ وَنَ، رَجَبًا - مِنْهُ شَرْمَانَا۔
 - رَجَبُهُ يَكَلِّمُ سِتِيَّ - كَسِيٌّ پَر
 بے کلام کی تمہت لگانا۔ رَجَبًا
 وَرَجُوبًا وَرَجَبًا، الوَجَلُ - كَسِيٌّ
 سے ڈرنا۔ کسی کی عزت کرنا۔
 رَجَبٌ دَسًا رَجَبًا - مِنْهُ - كَهْرَانَا مَطْنَا۔

- رَجَبُهُ - دُرْنَا - بِرَأْسِمْحَانَا۔
 رَجَبُهُ - دُرْنَا، تَعْلِيمٌ كَرْنَا - النُّخْلَةُ -
 کھجور کا درخت کمزور ہونے کے سبب
 اس کے نیچے ٹیک لگانا۔ اس کو
 سہارا دینا، کھجور کے ارد گرد کانٹوں کی
 باڑھ لگانا۔ اور اسی سے یہ مثل ہے
 "أَنَا جَذِيْلُهُمَا السَّحْكُ وَ
 عَذِيْلُهُمَا السَّرَجَبُ" - جَذِيْلٌ، جَذَلٌ
 کی تصغیر بمعنی تنہ۔ محکم وہ لکڑی
 جس میں خارش زدہ اونٹ اپنے بدن
 کو کھجاتا ہے۔ عَذِيْقٌ، عَذَقٌ کی تصغیر
 ہے بمعنی کھجور۔ اور مَرَجِبٌ جس میں
 پھل کے بوجھ کی وجہ سے ٹیکی وغیرہ
 لگادی جائے۔ یہ اس وقت کہتے
 ہیں جب اس کی رائے یا عقل سے
 مصیبت دور ہو۔

رَجَبٌ - الوَجَلُ - كَسِيٌّ كَارَجَبٍ مِي
 جانور ذبح کرنا۔
 تَرَجَّبٌ - دُرْنَا - خَوْفٌ زَوْهٌ هُونًا - -
 الوَجَلُ - كَسِيٌّ سَ دُرْنَا، تَعْلِيمٌ كَرْنَا۔
 رَجَبٌ - قَمْرِي سَالٌ كَا سَا تَوَالٍ مِهِيْنَةٌ - ج
 أَرَجَابٌ وَرَجُوبٌ وَرَجَابٌ
 رَجَبَانِ - رَجَبٌ وَشَعْبَانِ كَا دُو
 مینے۔
 الوَجَبَةُ - كَهْمُورِيٌّ ٹِكِي - شَكَارٌ كَرْنَا كَا
 مَچَانٌ يَا مَالَا۔
 الوَاجِبَةُ - انْگَلِي كَا جُوْرٌ - ج. رَوَاجِبٌ
 الأَرَجَابُ - آئِيْتِي - السَّرَجَبُ
 مَفْعٌ - خَوْفَتَاكُ مَعْظَمٌ۔
 رَجَّهَ (دَن) رَجًّا وَرَجَّهَ رَجًّا وَرَجَّهَ رَجًّا
 - المِيزَانُ - تَرَاوُكَا مَهْمَنَا -
 الوَاسِي - رَأْيٌ كَا غَالِبٌ آتَا - ه
 کسی سے زیادہ بوجھل بھاری بہر کم اور
 بڑو بار ہونا۔ ہ پیدہ ہ - ہ
 میں لکیر کسی کے بوجھ کا اندازہ لگانا۔

ر - رَجَّجَهُ (عَلِيمٌ وَرَبُّوْبَارٌ هُونًا -
 بوجھل ہونا۔
 رَجَّجَهُ - وَارْجَحَهُ - مَهْمَانَا - بوجھل
 کرنا۔ رَجَّجَهُ وَارْجَحَهُ لَهُ - كَسِيٌّ
 کو جھکتا ہوا دینا۔
 رَاجِحَةٌ - مَهْمَنَا مِي غَالِبٌ هُونَةٌ كَا لِي
 مقابلہ کرنا۔
 تَرَجَّجَهُ - الوَاسِي عِنْدَهُ - رَأْيٌ كَا
 غَالِبٌ هُونًا - فِي الْقَوْلِ - مَالٌ
 ہونا۔ الشَّيْءُ - ہلنا۔ الأَرَجُوحَةُ
 ہلے۔ جھولے کا جھکنا۔
 اَرْتَجَّجَهُ - فِي الأَرَجُوحَةِ - جھولے میں
 جھولنا۔ الأَبْلُ - آہستہ دوڑنے
 میں اونٹوں کا ہلنا۔
 الرَّجُجُ - مِي الحَفَانِ - مَهْرٌ هُونَةٌ
 بڑے پیالے۔ مِي الكِتَابِ
 شکر جوار۔
 الأَسْرُجُوحَةُ - ج. أَرَجِيْعٌ - وَر
 الرَّجَّاحَةُ وَرَجَّاحَةٌ، جھولا۔
 الأَدْرَجِيْعُ - بِيَابَانِ، آہستہ قدم دوڑنے
 میں اونٹوں کی جنبش۔
 رَجَدٌ دَن، رَجَادًا - غَلَمٌ كَا بَالِيُوْنٌ كُو
 کھلیان کی طرف لے جانا۔ صَفْتٌ
 رَجَّجَانِي
 رَجَدٌ رَجَدًا وَرَجَدًا وَرَجَدًا -
 کانپنا۔
 رَجَّجَهُ - بے آرام ہونا۔ مَهْمَنَا -
 رَجَّجَهُ - حَرَكَةٌ دِينًا - المَاءُ -
 کھو کر پانی نکالنا۔
 تَوَجَّجَهُ - حَرَكَةٌ كَرْنَا - بے قرار ہونا۔
 کانپنا۔ الشَّيْءُ فِي مَحَلِّهِ - جَمِيْرٌ كَا لِي
 جگہ آنا جانا۔
 الوَجَّجُ بے قرار۔ بے آرام۔ مَتَوَكَّرٌ -
 الوَجَّجُ - اِيْكٌ قَسْمٌ كَا كَاسٌ -
 الوَجَّجَةُ - حَوْضٌ مِي كَدَلِي پَانِي كَا لَبِي

لڑائی میں بے شمار گروہ، متوک۔
بے عقلی۔

رَجَزُونٌ رَجَزًا - رجز پڑھنا۔ صفت
رَجَزٌ وَرَجَزًا وَرَجَزَاتٌ،
- رَجَزٌ بِهِ۔ کسی کے سامنے رجز
پڑھنا۔

رَجَزٌ - صَاحِبُهُ - رجز پڑھنے میں
مقابلہ کرنا۔

تَرَجَزَ - رجز پڑھنا - الوَعْدُ - گرج
کی آواز مسلسل سنائی دینا۔ المَحَابُ
بادل کا پانی کی زیادتی کے سبب
دھیرے دھیرے حرکت کرنا۔

اِرْتَجَزَ - رجز پڑھنا - الوَعْدُ - گرج
کی آواز پیہم سنائی دینا۔ بَقْلَانِ
کسی کے متعلق رجز کے اشعار کہنا
- الرَّجَزُ فِي الْقِتَالِ - جنگ
میں رجز پڑھنا۔

تَرَا جَزًا - الْقَوْمُ - ایک دوسرے
کے مقابلے پر بحر رجز کے اشعار کہنا۔
الرَّجَزُ وَالرَّجَزُ - گندگی، عذاب
بتوں کی عبادت، بُت، الرَّجَزُ -
گناہ۔

الرَّجَزُ شَعْرُ الْبَحْرِ فِي سَائِلِ الْبَحْرِ
ایک بیماری جس سے اونٹ کے سر میں
کلپتے ہیں۔

الرَّجَزَةُ - عورتوں کی سواری کے لیے
اونٹ کی پاکی۔ وہ چیز جس سے
ہودج کو زینت دیں۔ وہ برتن یا
کپڑا جس میں پتھر وغیرہ بھر کر بوجھ کو
برابر کرنے کے لیے ایک طرف لٹکا
دیتے ہیں۔

الرَّجَزَةُ - بحر رجز کا قصیدہ - ج۔
اِرْجِزْ -

رَجَسَ دُنْ مِنْ رَجَسًا - البعير -
اونٹ کا آواز کرنا - السَّمَاءُ

بادل کا گرجنا۔ فَلَانًا عَنِ الْاَمْرِ
کسی کو کسی کام سے روکنا۔ (۱)۔
اِرْجَسْ، پانی کی گہرائی ناپنا۔

رَجَسَ (س)، وَرَجَسَ دِكْ، رَجَسَتْ
قیح کام کرنا۔ صفت - (رَجَسِي)
- اِرْتَجَسَتْ السَّمَاءُ بِاَدْلِ الْاَمْرِ
گرجنا۔ الہیاء - عمارت کے
بلنے سے آواز سنائی دینا۔

الرَّجَسُ وَالرَّجَسُ وَالرَّجَسُ
گندگی، پلیدی۔ الرَّجَسُ - قیح
کام۔ بُرے فعل پر عذاب۔ شیطان
کا دوسرا۔ خفیت۔ حرکت۔

الرَّجَسُ - سَمْدَرٌ - بَعِيرٌ اَوْ
سَحَابٌ رَجَسٌ - تیز آواز والا
اونٹ۔ بادل۔

الرَّجَسُ پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ۔
رَجَعٌ دُنْ رَجُوعًا وَرَجَعًا وَ
مَرْجَعًا وَرَجَعِي وَرَجَعَانًا۔

پھرنا۔ لوٹنا۔ (۱)۔ رَجَعًا وَرَجَعًا
وَمَرْجَعًا - الْكَلَامُ فِيهِ -
کلام کا کسی کو فائدہ پہنچانا۔ کہتے ہیں۔

"مَا هُوَ اِلَّا سَجْعٌ لَيْسَ فِيهِ
رَجْعٌ" یہ معنی صحیح ہے۔ جس میں
کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الْعَلْفُ

فِي الدَّابَّةِ - چارہ کا جانور میں فائدہ
دکھانا۔ کہتے ہیں۔ رَجَعٌ عَوْدًا
عَلَى بَدَايَتِهِ : وہ اپنے قدم واپس

ہوا۔ الشَّيْءُ عَنْهُ اَوْ اِلَيْهِ
پھرنا۔ واپس کرنا۔ رو کرنا۔ (۲)۔
رَجُوعًا وَرَجَعًا الطَّيْرُ - گرم

مقام سے گذر کر سو مقام میں پہنچنا۔
رَجَعٌ - فِي صَوْتِهِ - حلق میں آواز
گھمانا۔ (۳)۔ تَرَجَعٌ فِي الْمُصِيبَةِ،

مصیبت میں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ
رَاجِعُونَ، کہنا۔ رَجَعَتْ

الدَّابَّةُ۔ جانور کا قدم رکھنا۔
تَرَجَعَتِ النَّاَقَةُ۔ ایک اونٹنی کی
قیمت پراس جیسی دوسری اونٹنی خریدنا
رَاجَعَةٌ - فِي الْاَمْرِ - واپس ہونا۔

دوسرے سے بات چیت کرنا۔ ۵۔
الْكَلَامُ - كَلَامٌ كُوْدِهْرَانًا - الرَّجُلُ -
اپنی پہلی نیک یا بد عادت کی طرف لوٹنا۔

اِرْجَعَةٌ - رو کرنا۔ پھرنا۔ الدَّابَّةُ
جانور کا لید و گوبر کرنا۔ النَّاَقَةُ -
اونٹنی کا لاغر ہونا۔ لاغری کے بعد فرہ

ہونا۔ الرَّجُلُ فِي الْمُصِيبَةِ -
مصیبت میں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ
رَاجِعُونَ، کہنا۔ اللّٰهُ بَيَعَةٌ -
اللّٰهُ تَعَالَى كَأَنَّهُ سُوْدَاغْرٌ كُوْفَاذُهُ

مذہبانا۔
اِرْتَجَعَتِ - النَّاَقَةُ - ایک اونٹنی
کی قیمت پراس جیسی دوسری اونٹنی
خریدنا۔

اِرْتَجَعَتِ - اِلَى الشَّيْءِ - واپس کرنا۔
- اِرْتَجَعَتْ - واپس کرنا۔
- الْمَرْوَةُ جَلْبَانَهَا - عورت کا

اپنی چادر کو اپنے سر پر دوبارہ ڈال
لینا۔ اِرْتَجَعَتِ عَلَى الْغَرِيْبِ -
مطالبہ کرنا۔ کہتے ہیں : بَاءٌ خَيْلُهُ
فَارْتَجَعَتْ مِنْهَا رَجَعَةٌ صَالِحَةٌ -

یعنی اس نے اپنے گھوڑے نیچے
اور ان کی قیمت کو منافع کے کاموں
میں لگایا۔

تَرَا جَعٌ - الْقَوْمُ - اپنی اپنی جگہ
واپس ہونا۔ الْقَوْمُ الْكَلَامُ
بَيْنَهُمْ، قوم کا آپس کی گفتگو میں
الٹ پھیر کرنا۔

اِسْتَرَجَعَتْ - مِنْهُ الشَّيْءُ - کسی شے کی
واپسی چاہنا۔ دوی ہونی چیز کو
واپس لینا۔ فِي الْمُصِيبَةِ -

مصیبت میں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ
رَاجِعُونَ۔ کتنا۔ الحماہ فی
عنائہ۔ کبوتری کا گٹکنا۔
المرجع۔ مص خط کا جواب۔ بارش کے
بعد بارش۔ نفع۔ موسم بہار کی سبزی۔
تالاب۔ ج۔ رجاء ورجعان و
رجعان۔ الرجع۔ گوبر۔ من
الارض۔ زمین کا وہ حصہ جس میں سیلاب
دور تک پھیلا ہو۔ من الکتف
مونڈھے کا پچلا حصہ۔ رجع
الصدی آواز بازگشت۔
الرجیع۔ من الكلام۔ واپس کیا ہوا
کلام۔ گوبر۔ لید۔ تالاب۔ موسم بہار
کی نبات۔ اونٹ کی جگالی۔ ہرواپس
کی ہوئی شے۔ بوسیدہ کپڑا۔ پسینہ
دوبارہ گرم کیا ہوا ٹھنڈا کھانا۔
بعیر الرجیع۔ سفر سے تھکا ماندہ
اونٹ۔ اسی طرح ناقۃ الرجیعۃ
ج رجائع۔ دایۃ الرجیع
اسفار۔ وہ چوپایہ جو سفر میں بار بار
آیا گیا ہو۔
الراجع۔ فا۔ شوہر کے مرنے کے بعد
اپنے میکے میں جانے والی عورت۔ ج
دواجع۔
الرجعۃ۔ واپسی۔
الرجعۃ والرجعی والرجعان و
الرجوعۃ۔ خط کا جواب۔
المرجع۔ واپسی۔ کندھے کے نیچے کا حصہ
المرجوم والمرجوعۃ۔ خط کا جواب
گودنے کے نشانات جو دوبارہ تازہ
کیے گئے ہوں۔ ج۔ مرجع
کہا جاتا ہے۔ "لینس لهذا البیجر
مرجوع" یعنی اس بیج میں واپسی
نہ ہوگی۔
رجفہ دن، رجفا ورجفانا ورجوفا۔

ورجیفًا۔ زور سے حرکت دینا۔
الرجل۔ بخت بے چین ہونا
کسی خوف کی بنا پر بے کل ہونا۔
الارض۔ زمین کا زلزلہ میں آنا۔
القوم۔ قوم کا جنگ کے لیے تیار
ہونا۔ الرعد۔ رعد کا گرا گراانا
الاسنان۔ دانتوں کا گرنا۔
ارجف۔ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے بری
خبروں کو اڑانا۔ القوم بالشئ
وفیہ۔ گٹنا۔ الریح
الشجر۔ ہوا کا درخت کو ہلا دینا۔
انجفت وارجفت الارض۔ زمین
میں زلزلہ آنا۔ بھونچال آنا۔
ترجف وارتجف۔ سخت کانپنا۔
استرجف۔ راستہ۔ سر بلانا۔
الرجفۃ۔ بھونچال۔ زلزلہ۔ صدمہ۔
الراجف۔ فا۔ جوڑی کا بخار۔ جاڑے
سے آنے والا بخار۔
الراجفۃ۔ قیامت کے دن صور کی
پہلی بھونک۔
الاراجیف۔ بناوٹی جھوٹی خبریں۔
کتے ہیں۔ "اذا وقعت المخاوف
کثرت الاراجیف"۔ خطروں
کے زمانہ میں جھوٹی لغو خبریں زیادہ
اڑتی ہیں۔
رجل دن، رجلا۔ الفصیل
اونٹ کے بچہ کو ماں کا دودھ پینے
کے لیے آزاد چھوڑ دینا۔ الشاة
بکری کی ٹانگیں باندھنا۔ رجلاہ۔
ٹانگ پر مارنا۔
رجل دس، رجلا۔ پیدل چلنا۔
ٹانگ میں کوئی تکلیف لاحق ہونا۔
الدابۃ۔ ہانڈ کا ایک ٹانگ
میں سفیدی والا ہونا۔ الشعر
بالوں کا کچھ گٹکریا لے ہونا۔

الفصیل۔ اونٹ کے بچہ کا ماں کا
دودھ پینے کے لیے آزاد چھوڑنا۔
رجلاہ۔ مضبوط کرنا۔ تسلی دینا۔ بالوں
میں کٹکھی کرنا۔
ارجلاہ۔ ملت دینا۔ پیدل چلانا۔
الفصیل۔ اونٹ کے بچہ کو اس
کی ماں کے ساتھ دودھ کے لیے
آزاد چھوڑنا۔
ترجل۔ سواری سے اتر کر پیادہ چلنا۔
المراۃ۔ عورت کا مرد کی طرح
بننا۔ الشمس۔ سورج کا بلند
اٹنا۔ البئر و فی البئر۔
بغیر رسی وغیرہ لٹکانے ہوئے کنوئیں
میں اترنا۔ الزند۔ پاؤں کے
نیچے رکھنا۔
انجلاہ۔ دیکھی میں پکانا۔ الشاة۔
بکری کا پاؤں باندھنا۔ ہاؤں
سے پکڑنا۔ الزند۔ پاؤں کے
نیچے رکھنا۔ الکلاہ فی البیدیمتہ۔
فی البیدیمتہ کنا۔ بڈایہ۔ اپنی
رائے میں منفرود تنہا ہونا۔ الرجل
پیدل چلنا۔ النہام۔ ون پڑھنا
الفرس۔ دورفتاروں کے
درمیان گھوڑے کا آرام لینا۔
الرجل۔ مص۔ پیدل چلنے والا۔
شعر رجل۔ کچھ گٹکریا لے بال۔
الرجل۔ ج۔ ارجل۔ پاؤں۔ ج۔
ارجال۔ کسی چیز کا حصہ۔ ٹڈی دل۔
کتے ہیں۔ جماعت رجل و فاع
بہت بڑا شکر آیا۔ عمد زمانہ۔ کتے
ہیں۔ "کان ذلک فی رجل فلان"
یعنی یہ اس کے عمد اور صین حیات
میں تھا۔
الرجل۔ پانجام۔ سفید سادہ کاغذ فقیری
محتاجگی۔ آدمی کا پانخانہ۔ بہت سونے

والا آدمی. خوف. کتے میں۔ اَنَا
مِنْ أُمَّرِي عَلَى رَجُلٍ: میں اپنے
امر کے فوت ہونے سے خائف ہوں
پیش قدمی۔ رَجُلٌ الْبَحْرِ۔ کھائی
۔ رَجُلًا السَّهْمِ تیر کے ہر دو طرف
۔ رَجُلُ الْغَدَابِ وَرَجُلُ
الْجَوَادِ۔ دونبات ہیں۔ رَجُلُ
الْجَبَابِ وَرَجُلُ الْجَوْدَاءِ اور
رَجُلٌ قَنْطُورٌ: ستاروں کے
نام ہیں۔ کتے میں: هُوَ يُقَدِّمُ
يَجْلًا وَيُؤَخِّرُ أُخْرَى: کسی امر میں
متردد ہونا۔ پس و پیش کرنا۔
الرَّجُلُ۔ مرد پیدل چلنے والا۔ ج۔ رَجَالٌ
وَرَجَلَةٌ۔ وَرَجَلَةٌ وَارَاجِلُ
وَرَجَلَاتٌ۔
الرَّجْلُ۔ مَص۔ مِنَ الشَّعْرِ
کم گنکمر پائے بال۔ ج۔ أَرْجَالٌ وَ
رَجَالِي۔
الرَّاجِلُ۔ فا۔ پیدل چلنے والا۔ ج۔
مَجْلٌ وَرَجَالَةٌ وَرَجَالٌ وَ
رَجَالٌ وَرَجَالِي وَرَجَالِي۔ وَ
رَجْلَانٍ۔ کتے میں: جَاءَتْ
الْخَيْالَةُ وَالرَّجَالَةُ: سوارو
پادے سب کے سب آئے۔ وَأَعَارَ
عَلَيْهِمْ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ: اس
نے اپنے سواروں اور پیادوں سے
لوٹ ڈالی۔
الرَّجْلَةُ: خَرَفَ كَأَسَاكٍ۔ خَرَفَ كَاسَاكٍ
کے اگنے کی جگہ۔
الرَّجْلَةُ: چلنے کی طاقت۔ مردانگی۔ جانور
کے ایک ٹانگ کی سفیدی۔
الرَّجْلَةُ: عورت۔
الرَّجِيلُ۔ ج۔ أَرْجَلَةٌ وَارَاجِلُ
وَأَرَاجِيلُ۔ پیدل چلنے والا۔
ج۔ رَجُلِي وَرَجَالِي وَرَجَالِي۔

زیادہ چلنے پر قدرت رکھنے والا۔
كَلَامٌ رَجِيلٌ۔ فی البیدیرہ کلام۔
رَجُلٌ رَجِيلٌ: سخت مضبوط آدمی۔
۔ مَكَانٌ رَجِيلٌ۔ وہ جگہ جس کے
دونوں طرف دور ہوں۔۔ فرس
رجیل۔ رام سدھا ہوا گھوڑا۔ جس
کو پسینہ آئے۔
الرَّاجِيلُ۔ فشکاری لوگ۔
الرَّجُولَةُ۔ وَالرَّجُولِيَّةُ۔ وَ
الرَّجُولِيَّةُ وَالرَّجِيلِيَّةُ۔
مردانگی۔ مردی۔
الرَّجْلَانِ۔ پیادہ۔ ج۔ رَجَالِي وَ
رَجَالِي وَرَجْلِي۔ مَوْنٌ۔ رَجُلِي
ج۔ رَجَالٌ وَرَجَالِي۔
الرَّجْلُ مِنَ الدَّوَابِّ۔ ایک ٹانگ
میں سفیدی رکھنے والا جانور۔
رَجُلٌ أَرْجَلٌ۔ بڑے پاؤں والا
آدمی۔ مَوْنٌ رَجْلَاءٌ۔ ج۔ رَجُلٌ
کتے میں۔ هُوَ أَرْجَلُهُمْ: وہ
مردانگی میں سب سے زیادہ کامل ہے۔
الرَّجِيلُ۔ جانور کے ایک پاؤں کی
سفیدی۔ کنگھی۔ ج۔ مَوَاجِلُ
الرَّجِيلُ۔ مِنَ النَّسِيْبِ وَنَجْوَةٍ۔
وہ کپڑا وغیرہ جس پر آدمیوں کی تصویریں
منقش ہوں۔ شراب سے بھری
ہوئی مشک۔
رَجْمًا دُونَ رَجْمًا۔ پتھروں سے مارنا
سنگسار کرنا۔ لعنت کرنا۔ گالی
دینا۔ چھوڑنا۔ دستکارنا۔ ہمالنا۔
۔ الْقَبْرُ۔ قبر پر کتبہ نصب کرنا
نشان کا پتھر لگانا۔ الرَّجْلُ
گان سے بات کرنا۔ يَرْجُمُ
وہ دوڑتا ہوا آیا۔ رَجْمًا اِثْمَلُ
سے بات کرنا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔

بے جانے بوجھے بات کرنا۔ الْقَبْرُ
قبر پر نشان کا پتھر نصب کرنا۔
مَاجِمَةٌ مَرَّاجِمَةٌ۔ ایک دوسرے کو
پتھروں سے مارنا۔ عَن قَوْمِهِ۔
اپنی قوم کی حفاظت کرنا۔ هُ
فِي الْحَرْبِ اِدَا الْكَلَامِ اِدَا الْعَدُوِّ۔
لِطَائِي يَا كَفْتُ كُوِيَادُوْرُنِي فِي سِخْتِ
مقابلہ کرنا۔
تَرَّاجِمُوا۔ ایک دوسرے پر پتھراؤ کرنا۔
پتھر برسانا۔ بِالْكَلَامِ۔ ایک
دوسرے کے ساتھ کالم گلوچ کرنا۔
اَلْتَّجْمُ۔ الشَّيْءُ۔ تہ بہ تہ ہونا۔ ڈھیر
لگنا۔
الرَّجْمُ۔ مَص۔ دُوسْت۔ ہم جلیس و
ہم نشیں۔ جس سے رجم کیا جائے۔
ج۔ رَجْمٌ نَطِي۔ الرَّجْمُ نَطِي
بات۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ اِثْمَلُ
پتھر۔ صَارَ فُلَانٌ رَجْمًا۔ اس
کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتی۔
الرَّجْمُ۔ کنواں۔ تَنْوَرُ۔ قبر۔ ج۔ رَجْمًا
الرَّجْمُ۔ شہابیے۔ قبروں کے نشان کے
پتھر۔ مَفْرُودٌ۔ رَجْمًا
الرَّجْمَةُ۔ وَالرَّجْمَةُ۔ سَجْوًا كَابِطًا۔
قبر پر نشان کے لیے گاڑا ہوا پتھر۔
ج۔ رَجْمٌ وَرَجْمًا۔
الرَّجْمُ۔ رجم کیا ہوا۔ طعون۔
الرَّجْمُ۔ کنویں کی من۔ کنویں کا دہانہ۔
جس پر ڈول وغیرہ ڈالنے کے لیے
گڑا گڑھی نصب ہوتی ہے۔ پتھر وغیرہ
جورسی میں باندھ کر گہرائی معلوم کرنے
کے لیے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ وَاحِدٌ
رَجْمَةٌ۔
الرَّجْمَانُ۔ کنویں کے دہانے پر دو
لکڑیاں۔ جن پر گڑھی یا چرخی نصب
کی جاتی ہے۔

الرَّجْمُ - مِنَ الرَّجَالِ - مضبوط
 آدمی - فرسُ مَرَجْمٍ - سخت
 دور کا گھوڑا - حَدِيثٌ مَرَجْمٌ
 وہ بات جس کی حقیقت نہ کھلے۔

الرَّجْمُ - گویا مضبوط اونٹ۔
 المَرَجْمُ - نازیبا و قبیح گفتگو۔

رَجْنٌ دَنٌ، دَرَجْنٌ دَسٌ، وَرَجْنٌ دَكٌ،
 - رَجُونًا بِالْمَكَانِ - کسی جگہ رہنا۔
 اقامت کرنا۔ الحَيَوَانُ جانور
 کا گھروں میں بل جانا۔ مالوس و مالوف
 ہونا۔

رَجْنٌ دَنٌ، رَجْنًا وَرَجْنًا وَرَجْنًا
 - الدَّابَّةُ جانور کو چارہ کے لیے
 گھریں رو کے رکھنا۔ رَجْنٌ
 فلانًا - کسی سے شرم و حیا کرنا۔

ارْتَجَنَ - بِالْمَكَانِ - اقامت کرنا۔
 الزَّبْدُ مکھن کا پکانے سے صاف
 نہ ہونا اور بگڑ جانا۔ عَلَى الْقَوْمِ
 اَمْرُهُمْ - قوم پر ان کے کام کا عہدہ
 و گڑ بڑ ہونا۔

الرَّجِينُ - بسم قاتل۔
 الرَّجِينَةُ - جماعت۔

الرَّجُونَةُ - لُكْرًا - کہتے ہیں "هُوَ
 فِي مَرَجُونَةٍ" وہ اسی سسش و بیج
 میں ہیں کہ ٹھہریں یا کوچ کر جائیں۔
 رَجَبٌ دَمْنٌ، رَجَبًا - ہلنا۔ بِالشَّيْءِ
 کسی شے کو دانتوں سے تھامنا۔

أَرْجَبَهُ - الامر - کسی کام کو اس کے
 وقت سے پیچھے ڈالنا۔

رَجَادُنٌ، رَجَاءٌ وَرَجْوًا وَرَجَاةٌ وَ
 مَرَجَاةٌ وَرَجَاوَةٌ وَرَجَاةٌ
 امید دار رہنا۔ الشَّيْءُ - امید
 کرنا۔ خَوْفٌ كَرْنَا - الرَّجُلُ کسی
 سے امید باندھنا۔

رَجِيٌّ رَسٌ، رَجَاً - کلام سے رکن۔

رَجِيٌّ - عَلَيْهِ - کلام کا بند ہو جانا۔
 رَجِيٌّ وَتَدَجِيٌّ وَارْتَجِيٌّ - الشَّيْءُ -
 امید کرنا۔ رَجِيٌّ وَارْتَجِيٌّ فَلَانًا -
 کسی سے امید لگانا۔ وَارْتَجِيٌّ
 الشَّيْءُ - ڈرنا۔

أَرْجَى - الامر - مؤخر کرنا۔ الصَّيْدُ
 شکار کا کھودینا۔ نہ پانا۔

الرَّجَاةُ وَرَجَاءٌ - کنارہ۔ طرف۔
 ج - أَرْجَاءٌ - رَجْوًا بِالْمَثَرِ
 کنویں کے دونوں کنارے۔ الرَّجَاءُ
 چھوٹا حمل۔

الرَّجِيَّةُ - امید کی چیز۔ کہا جاتا ہے۔
 "لَيْسَ لِي فِي فُلَانٍ رَجِيَّةٌ" مجھے
 فلاں میں کوئی امید نہیں رہی۔

الرَّجِيَّةُ - ملتوی شدہ چیز۔
 الرَّجْحَةُ - کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا سانپ۔

الرَّوْحُ - گھر کی چوڑائی۔
 الأَرْضُ - چھپے لوگوں والا۔ مؤنث۔ رَحَاءٌ
 ج - رُحٌّ۔

رَجَبٌ دَسٌ، رَجَبًا وَرَجَبٌ دَكٌ،
 رُجْبًا وَرَجَابَةً - الْمَكَانُ
 جگہ کا وسیع و فراخ ہونا۔ صفت
 رَجَبٌ وَرَجِيْبٌ وَرَجَابٌ،
 رَجَبٌ - الْمَكَانُ - کشادہ کرنا۔

(- بے و مَرَجَبَةٌ) اچھا استقبال
 کرنا۔ خوش آمدید کہنا۔

أَرْجَبَ - الْمَكَانُ - جگہ کا کشادہ
 ہونا۔ الْمَكَانُ - وسیع کرنا۔
 کہتے ہیں "أَرْجَبُ يَأْوِلُ" بیٹے
 الگ اور دور رہو۔

تَرَجَبٌ - کشادہ ہونا۔
 الرَّوْحُ - وسیع کشادہ۔ مَكَانٌ رَجَبٌ
 فراخ جگہ۔ اَرْضٌ رَجِيْبَةٌ
 کشادہ زمین۔ رَجَبُ الصَّدْرِ -
 بڑے حوصلہ کا آدمی۔ بڑے دل والا

آدمی - رَجَبُ الفهم - زیادہ
 عقل والا۔ رَجَبُ الباعِ او الذراعِ
 فیاض - سخی۔

الرُّجْبِيُّ - سب سے چوڑی پسلی۔
 الرَّجْبِيَّانِ - بغل سے ملحق دو پسلیاں۔
 الرَّجْبَةُ - وَالرَّجْبَةُ - کشادہ زیادہ
 گھاس والی اور لوگوں کی فروگاہ زمین
 گھروں کے درمیان کھلی جگہ۔
 مِنَ الدَّارِ - گھر کا صحن۔ مِنْ
 الوَادِي - وادی کے ہر دو جانب
 پانی کے بہاؤ کی جگہیں۔ ج - رَجَابٌ
 وَرَجَبٌ وَرَجَبَاتٌ وَرَجَبٌ وَ
 رَجَبَاتٌ۔

الرَّجِيْبُ - بسیار خور۔ پیٹو۔
 الرَّحَابُ - خوش آمدید۔

رَحَابٌ - کشادہ کنارے۔ زمین یا شہر
 کی حد مفرد۔ (رَجِيْبَةٌ)
 المَرَحِبُ - کشادگی۔ آنے والے سے خوش
 آمدید کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

مَرَجَبًا يَكُ - آپ نے فراخی کو پایا
 - وَمَرَجَبَكَ اللهُ وَمَسْمَلَكَ -
 اللہ تعالیٰ تم کو کشادہ اور نرم زمین میں
 اتارے۔ أَهْلًا وَمَرَجَبًا -

یعنی تم اپنے اہل میں آئے۔ تم نے
 کشادگی پائی۔ لَمَّا دَلَّ لَكَ وَأَوْرَثَكَ
 بدو عالم کے موقع پر کہتے ہیں۔ "لَا
 مَرَجَبًا يَكُ"

تَحْرَسُ - مقصد کی تک نہ پہنچنا۔
 الشَّيْءُ عَنِ فُلَانٍ کسی سے کچھ
 چھپانا۔ بِالْكَلامِ - غیر واضح
 کلام کرنا۔

تَحْرَسُ - گھوڑے کا پیشاب کرنے
 کے لیے ٹانگوں کو پھیرنا۔
 الوَحْرُ وَالرَّحْرَاحُ وَالرَّوْحَانُ
 پوڑا کشادہ کم گرائی والا۔ عَيْشٌ

الوَاحِلُ. فَا. ج. رَاحِلُونَ وَرَحَلٌ
وَرَحَالٌ -
الوَاحِلَةُ. سواری کے لائق اونٹ
سفر و بار بھاری کے لیے طاقت ور
اونٹ یا اونٹنی. (مذکر و مؤنث ہر دو
کے لیے) تا مبالغہ کی ہے۔ ج۔
رَوَاحِلٌ -
الرَّحَالَةُ. چمڑے کا زین جس میں لکڑی
نہ لگی ہو۔ ج۔ رَحَائِلٌ -
الرَّاحِلُ. سفید پشت گھوڑا یا بکری۔
الرَّحَالُ. کجاوہ بنانے والا۔ بہت سفر
کرنے والا۔
الرَّحَالَةُ. بہت سفر کرنے والا۔
الرَّاحُولُ. کجاوہ۔
الرَّحْلَةُ. اس قدر مسافت جس کو
مسافر ایک دن میں طے کرے۔ مسافر
کے ایک دن کا سفر۔ ج۔ مَوَاحِلٌ -
الرَّحِيلُ. بہت سے سواری کے جانور
رکھنے والا۔ (سوالیہ رَحَلٌ) مِّنَ
الْجَمَالِ. مضبوط قوی اونٹ۔
رَحْمَةُ رَحْمَةٍ وَمَرْحَمَةٌ وَرَحْمًا
وَرَحْمًا. ترس کھانا۔ رحم دل ہونا۔
مہربانی اور شفقت کرنا۔ معاف کرنا۔
مغفرت کرنا۔
رَحِمَتْ (س) وَرَحِمَتْ (ك)
رَحْمًا وَرَحْمًا وَرَحَامَةً وَ
رَحِمَتْ. المداة. ولادت
کے بعد عورت کے رحم میں شکایت پیدا
ہوجانا۔ صفت (رَحْمٌ وَرَحْمَةٌ
وَرَحْمَاءُ)
نَحْمٌ وَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ. رَحِمَهُ
اللَّهُ. کنا
تَرَاحَمَ الْقَوْمُ. ایک دوسرے پر
رحم کرنا۔ ترس کھانا۔
اسْتَرَحَمَهُ. مہربانی کی التجا کرنا۔

پر نقش و نگار کرنا۔
رَاحِلَةٌ. کوچ کرنے میں مددینا۔
أَرَحَلَ. سواری کے جانور بکثرت رکھنا
— الدابة. جانور کا قوی پشت
اور لاغری کے بعد فریب ہو کر سفر کے
قابل ہونا۔ کسی کو سواری دینا
— الابل أو الناقة. اونٹ
یا اونٹنی کو سواری کے لیے سدھانا۔
تَرَحَّلَ. الْقَوْمُ عَنِ الْمَكَانِ. کسی
جگہ سے منتقل ہوجانا۔ فَلَانًا
کسی کے ساتھ نا پسندیدگی سے
پیش آنا۔
أَرْتَحَلَ. عَنِ الْمَكَانِ. کسی جگہ
سے منتقل ہونا۔ کوچ کرنا۔
الْبَعِيرُ. اونٹ پر کجاوہ کسنا۔
سوار ہونا۔ الامر. کسی امر پر
قابو پانا۔
اسْتَرَحَلَهُ. سواری کے لیے جانور مانگنا
سواری پر پالان ڈالنے کے لیے کہنا
خود کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا۔
الرَّحْلُ. مص. کجاوہ. پالان. منزل
قیام گاہ۔ سفر میں ساتھ رہنے والا
سامان۔ کہتے ہیں: حَقَطَ رَحْلَهُ
وَأَلْقَى رَحْلَهُ. یعنی فلاں رہ پڑا
اور اقامت گزین ہوا۔ جہر و حال
وَأَرَحَلَ حَيْرَهُ كَيْفَ بَنَى
غلبے۔
الرَّحْلَةُ. کوچ. سفر نامہ۔
الرَّحْلَةُ. جہت سفر سفر۔ عَالِمٌ
رَحْلَةٌ. وہ عالم جس کی طرف لوگ
کوچ کر کے آئیں۔۔ بَعِيرٌ ذُو
رَحْلَةٍ وَرَحْلَةٍ. قوی مضبوط
اونٹ
الرَّحِيلُ. کوچ، وہ اونٹ جس پر پالان
کسا ہوا ہو۔

رَحْوٌ وَرَحْرَاحٌ. فسراخ و
آسودہ زندگی۔
رَحَضَ (ف) رَحَضًا. الثوب. کپڑا
دھونا۔
رَحِضَ الْمَحْمُومُ. بخار والے کو
پسینہ آنا۔
أَرْتَحَضَ. الرجلُ. رسوا ہونا۔
شرمندہ ہونا۔
الرَّحَاضُ. بخار کے بعد پسینہ۔
الرَّحَاضَةُ. دھوون۔ وہ پانی جو دھونے
کے بعد گرے۔
الرَّحَضَاءُ. بخار کے اترتے وقت کا پسینہ۔
بدن کو شرابور کرنے والا پسینہ۔
الرَّحِيضُ. دھویا ہوا۔
الرَّحَاضُ. غسل خانہ۔ دھونے کی جگہ
وہ لکڑی جس سے کپڑا کوٹ کر دھویا جاتا
ہے۔ کپڑا دھونے کی موگڑی۔ پائخانہ
ج۔ مَرَّاحِيضٌ -
الرَّحَضَةُ وَالرَّحَاضَةُ. وہ برتن
جس میں وضو کیا جائے۔
الرَّحَاقُ وَالرَّحِيْقُ. شراب۔
حَسَبَ رَحِيْقٍ. بے کھوٹ حسب
— مِنْكَ رَحِيْقٌ. خالص مشک
رَحَلَ (ف) رَحَلًا وَرَحِيْلًا وَ
تَرَحَّلًا. عَنِ الْمَكَانِ. وطن
چھوڑ جانا۔ اِلَى الْمَكَانِ. کسی جگہ
منتقل ہونا۔ البعير. اونٹ کی
پیٹھ پر کجاوہ باندھنا۔ سوار ہونا۔
کہتے ہیں: رَحَلْتُ لَكَ نَفْسِي.
میں نے اس کی اذیت پر صبر کرنا۔
عُ بِالسَّيْفِ. کسی پر تلوار اٹھانا۔
— الْبِلَادَ. ملک میں چکر لگانا۔
ادھر ادھر پھرنا۔
رَحَلَهُ. کوچ کرانا۔ کوچ کرنے میں
کوشش کرانا۔ الثوب. کپڑے

<p>رُخَصَ - الشَّيْءُ كَيْفَ كُوسْتَا سَمَّيْنَا - الرُّخَصَةُ وَالرُّخَصَةُ - تَخْفِيفُ أَسَانِي - بَيْتِي كِي بَارِي - مَوْتُ رَخِيصٌ - جلد آنے والی موت - رَخَفَ (ن) رَخْفًا وَرَخِفَ (س) رَخَفًا وَرَخِفَ (ك) رَخَافَةً وَرُخُوفَةً - العَجِينُ - گندے ہوئے آٹے کا ڈھیلا ہونا - صفت - (رَخَفَ وَرَخِفَ) أَرَخَفَ - العَجِينُ - آٹے کو پتلا کرنا - آٹے میں پانی زیادہ کرنا - الرَّخْفُ وَالرَّخْفَةُ - پتلا کھن - پتلا آٹا - ج - رَخَافٌ - الرَّخْفَةُ وَالرَّخْفُ - نرم پتلا پتھر - الرِّخْلُ وَالرِّخْلُ وَالرِّخْلَةُ - بھیر کا ماوہ بچہ - ج - أَرِخْلٌ وَرِخَالٌ وَرِخَالٌ وَرِخْلَانٌ وَرِخْلَةٌ - الرِّخْلُ - بھیر کے ماوہ بچے بہت رکھنے والا - رَخِمَ (ن) رَخْمًا وَرَخِمَ رَخَامَةً - الصوتُ اَوِ الْكَلَامِ - آواز یا کلام کا باریک وزم ہونا - صفت (رَخِيْمٌ) الجَارِيَةُ - نرم کلام والی ہونا - صفت (رَخِيْمَةٌ وَرَخِيْمٌ) رَخِمْتُ (ن) رَخْمًا وَرَخِمًا - و رَخِمَةٌ - الدَّجَائِجَةُ الْبَيْضُ وَعَلَى الْبَيْضِ وَرَخِمْتُ عَلَى الْبَيْضِ - مرغی کا انڈے سینا - صفت (رَخِمَ وَرَخِمَ وَرَخِمَ) مُرْخِمَةٌ رَخِمْتُ (ن) رَخْمًا وَرَخِمَةً وَرَخِمَةٌ - الْمَرْأَةُ وَلِدَهَا كَيْلًا - لاڈ پوار کرنا - وَرَخِمَةٌ رعم و مہربانی کرنا - رَخِمَ تَرَخِيمًا - الشَّيْءُ - دُم کاٹنا -</p>	<p>آمیزش کرنا - رَخِمَ (ن) رَخْمًا - العَجِينُ - گندے ہوئے آٹے میں پانی زیادہ ہو جانا - أَرَخِمَ - فی الامر - مبالغہ کرنا - العَجِينُ - گندے ہوئے آٹے میں پانی زائد کر دینا - رَزَخِمَ - الرجلُ - ڈھیلا ہونا - مضطرب ہونا - الرَّخِيْمُ - سہولت و نرمی - الرُّخْمُ - ایک خیالی بڑا جانور - واحد رُخْمَةٌ (شَطْرِبُجٌ) کا ایک ٹہرہ - ج - رِخَاخٌ وَرِخَاخَةٌ - عَلِيْسٌ رِخَاخٌ - زندگی کی آسودگی و فراخی - ارضٌ رِخَاخٌ نرم زمین - الرَّخِيْتُ - زین - ج - رُخُوْتُ - الرَّخْوَنُ وَالرَّخْوَانُ - پتلا گارا - تَرَخَّشَ وَارْتَخَّشَ - مضطرب ہونا - الرُّخْشَةُ - اضطراب - رَخَصَ (ك) رَخَصًا - الشَّيْءُ - چیز کا ستا ہونا - صفت (رَخِيصٌ) (- رَخَاصَةٌ وَرُخُوَصَةٌ) نرم و نازک ہونا - صفت (رَخِيصٌ) وَرَخِيصٌ) مَوْنُثٌ - رَخَصَةٌ ج - رَخَائِيصٌ - رَخَصَ - السَّعْرُ - بھاؤ مندا کرنا بھاؤ گھٹانا - لہ کذا و فی کذا - مانعت کے بعد اجازت و رخصت دینا - أَرَخَصَهُ - ستا کرنا بست پانا، یا خریدنا - تَرَخَّصَ - فی الامر - کسی امر میں رخصت پر عمل کرنا - فی کذا - اجازت دیا جانا - اپنے حق میں سے جو ممکن ہو لینا - پھر نہ لینا - أَرْتَخَصَهُ - ستا جانا - یا خریدنا -</p>	<p>الرَّيْحَةُ وَالرَّيْحَةُ - مَوْنُثٌ - بچہ دانی - رشته داری - ذوالرَّيْحِ - قربت والا - رشته دار - ج - أَرْحَامٌ - الرَّوْحَامُ - رحم کی ایک بیماری - الرَّوْحَمَةُ وَالرَّوْحَمِيُّ وَالرَّوْحَمُ - نرم دلی - ترس - جو احسان و مغفرت کا سبب ہے - الرَّحْمُوتُ - بڑی رحمت دہربانی - الرَّوْحَمُ وَالرَّوْحَمُ - مہربانی کر نیوالا - الرَّوْحِيْمُ - رحم کرنے والا - رحم کیا ہوا - ج - رَحْمَاءٌ - الرَّحِيْمُ - خدا تعالیٰ کا اسم مبارک - الرَّوْحَانُ - مہربانی کرنے والا - اسمائے حسنیٰ میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے - الرَّوْحَمَةُ - رحمت - ج - مَرَايِمٌ - الرَّوْحَمُ - مہربانی کیا ہوا - (س) و الرَّوْحُومُ، وفات پایا ہوا - رَحَا - يَرْحُو رَحْوًا وَرَحِيًّا يَرْحِي رَحِيًّا وَتَرَحَّى - الْحَيَّةُ - سانپ کا کنڈلی مارنا - رَحَا الرَّحِي - چکی چلاتا - الرَّحِي (مَوْنُثٌ) تشبیہ رَحْوَانٍ و رَحِيَانٍ - ج - أَرْحَاءٌ وَأَرْحِيَّةٌ وَأَرْحِيٌّ وَرَحِيٌّ وَرَحِيٌّ وَأَرْحِيٌّ - الرَّحِي - سینہ - لڑائی کا گھمان - سردار قوم - دائرہ - بدلی - وہ قبیلہ جو نہ تو اپنی جگہ سے ٹلے اور نہ گھاس پانی کی طلب میں کہیں جائے - ج رَ أَرْحَاءٌ - الرَّوْحِيٌّ - چکی بنانے والا - الرَّوْحِي گھمان کی لڑائی - رَخَمَ (ن) رَخْمًا - پاؤں سے روند کر ڈھیلا کرنا - المَشْرَابُ - پانی کی</p>
---	---	--

اسی سے غمخیزوں نے ترخیم المناوی کو
لیا ہے۔ نرم آواز کرنا۔ الدَّاجِجَةُ
مرغی کا انڈوں پر بٹھانا۔

الرَّخْمُ - مص. گدھ۔ واحد (رَخْمَةٌ)
ج۔ رُخْمٌ۔ نرمی و محبت۔ گارھا
رودھ۔

الرَّخَامُ - سنگ مرمر ایک ٹکڑا۔ رُخَامَةٌ
الرَّخَاظِي - نرم ہوا۔ نسیم۔
الرَّخْمُ - مِنَ النَّجِيلِ۔ وہ گھوڑا جس
کا سر سفید ہو اور باقی جسم سیاہ۔
مُزَنٌ۔ رُخْمَاءُ۔ ج۔ رُخْمٌ۔
الْمُتْرُخُومُ وَالْبَيْرُخْمُ وَالْبِيْرُخُومُ
نرگدھ۔

رَخِي (س) رَخَاوِرُخُوَّةٌ۔ وَرَخُو
دك، رَخَاوَةٌ۔ نرم ہونا۔ آسان
ہونا۔ آسودہ زندگی والا ہونا۔ صفت
(رَخُوٌّ وَرَخُوٌّ وَرَخُوٌّ)

رَخَانٌ (و رَخِي (ف) وَرَخِي (س)
وَرَخُوْرِكُ، رَخَاءٌ۔ العَيْشُ
زندگی کا آسودہ فراخ و خوشگوار ہونا
صفت (رَايِحٌ وَرَخِيٌّ)

رَاخَاةٌ مُرَاخَاةٌ۔ دور کرنا۔ کتے
ہیں۔ "خَلْتُ الْفَرَّاسَ يُرَايِحِي
الْأَجَلَ" میں نے خیال کیا کہ بھاگنا
موت کو دور کرتا ہے۔ الشَّيْءُ
نرم کرنا۔ الْعُقْدَةُ۔ گرہ کھولنا۔
رَاخَتِ الْمَرْأَةُ۔ عورت کا
بچہ جننے کے قریب ہونا۔

أَرَخِي إِرْخَاءً۔ الشَّيْءُ۔ ڈھیلا
کرنا۔ الْفَرَسُ وَالْفَرَسِيسُ۔
گھوڑے کی رسی وراڑ کرنا۔ أَرِيحُ
لَهُ الْجَبَلَ۔ کام کرنے میں اس کو
آزادی دو۔ السُّتْرُ۔ پردہ
چھوڑنا۔ أَرَخِي عِمَامَتَهُ۔ وہ
مطلن اور مومن ہوا۔ ذَابَتْهُ

جانور کو آزاد نہ چلنے دینا۔
رِقَاهَا لِنَاقَةٍ۔ اونٹنی کی نکیل کو
ڈھیلا چھوڑنا۔

رَخِي - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ۔ ملانا۔ خلط
ملط کرنا۔

تَرَاخِي تَرَاخِيًا۔ عنده۔ دور ہونا۔
پچھے ہٹنا۔ دیر کرنا۔ کتے ہیں۔
"تَرَاخَتِ السَّمَاءُ" یعنی بارش
برسنے میں دیر ہوئی۔

تَرَاخِي الْفَرَسِ۔ گھوڑے کا دوڑنے
میں سست و کاہل ہونا۔

أَرَتَخِي وَأَسْتَرَخِي۔ ڈھیلا ہونا۔
نرم ہونا۔ "أَسْتَرَخَتِ حَالَهُ"

اس کی حالت سختی و تنگی کے بعد بھی
و خوش گوار ہو گئی۔

الرَّخَا - زندگی کی آسودگی و فراخی۔
الرَّوْحَا۔ وہ نرم ہوا جو کسی چیز کو نہ ہلانے
الْأَرْحِيَّةُ۔ بہرہ چیز جو لٹکانی جائے۔
ج۔ أَرَاخِي۔

الْمِرْخَاءُ۔ تیز دوڑنے والا جانور۔ ج
صَرَاحٌ۔

رَدَّاهُ (ن) رَدًّا وَمَرَدًّا وَمَرَدُودًا
وَرَدِّيًّا۔ عَن كَذَا۔

پہرنا۔ واپس کرنا۔ رَدَّ فُلَانًا۔
خطا کا رٹھرانا۔ الباب۔ دروازہ

بند کرنا۔ عَلَيْهِ الشَّيْءُ۔ کسی کی
کوئی چیز پھیر دینا۔ قبول نہ کرنا۔

الْيَدِ جَوَابًا۔ کسی کی طرف جواب
بیجنا۔ كَالِي بَيْتِهِ۔ گھر

کی طرف لوٹا دینا۔ کہا جاتا ہے: مَا
يَرُدُّ هَذَا عَلَيْكَ شَيْئًا۔ یہ چیز

تم کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچائے گی۔
الشَّيْءُ۔ ایک شخص کو ایک حالت

سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا۔
رَدَّ الْقَوْلَ تَرَدُّدًا۔ بات کو

بار بار دہرانا۔

رَدَّدَ - الْقَوْلَ۔ یعنی ردّ القول۔
رَادَّهُ الشَّيْءَ۔ واپس کروینا۔

كَافِي الْكَلَامِ۔ بحث کرنا۔
أَرَدَّ - الْبَحْرُ۔ سمندر کا موجزن ہونا

الرَّجُلُ۔ کسی کا غصہ سے پھول
جانا۔ الشَّائَةُ۔ بکری کا تھن والی

ہونا۔ صفت (مُهِرَدٌ)
تَرَدَّدَ - رد ہونا۔ فِي الْأَمْرِ

کسی امر میں متردد ہونا۔ شک و شبہ میں
پڑنا۔ الْيَدِ۔ کسی کے پاس بار بار

آنا۔ د - وَتَرَادَّ فِي الْجَوَابِ
جواب میں زبان کا لڑکھڑانا۔

تَرَادَّ - الْبَيْعِ۔ فسخ پر آپس میں
رضامند ہونا۔ تَرَادَّ الْمَاءُ۔

پانی کے بہاؤ کے مقام میں کسی روک
کی وجہ سے پانی کا پیچھے ہٹنا۔ ٹھیل

کھانا۔
أَرْتَدَّ - الشَّيْءَ۔ رد کرنا۔ واپسی چاہنا

عَلَى آثَرِهِ أَوْ عَنِ طَرِيقِهِ
اپنے قدموں پر لوٹنا۔ عَنِ دِينِهِ

دین سے پھر جانا۔ عَنِ هَيْبَتِهِ
ہبہ کو واپس لے لینا۔ لُوطًا لِيُنَا۔

— إِلَى الصَّوَابِ۔ صواب کی
جانب لوٹ جانا۔

أَسْتَرَدَّ - الشَّيْءَ۔ واپس کرنے کا سوال
کرنا۔ واپسی چاہنا۔ كَالِ الشَّيْءِ۔

کسی سے کسی شے کی واپسی کا سوال
کرنا۔ مطالبہ کرنا۔ الْهَيْبَةُ۔

ہبہ کو واپس لوٹا دینا۔
الرَّجْدُ۔ مص۔ زبان کی لڑکھڑاہٹ۔

بِكَلَابِنٍ۔ نباتات کی بہتات "ضَيْعَةٌ"
کثیرتۃ الرَّجْدِ۔ بڑی زرخیز جاندو
— شَيْءٌ رَدَّ - روی چیز۔
أَمْرٌ رَدَّ - طریقہ فریعت کے

خلاف کام۔ یدرہم رد۔

کھوٹا درہم۔

الرد۔ چیز کی ٹیسی یا سہارا۔

الردی۔ طلاق دی ہوئی عورت۔

الردۃ۔ خوشروئی کے ساتھ کچھ بدروئی۔

الردۃ۔ اذیت۔ ٹھوڑی کا پچکنا۔

بیابنے سے پہلے تھنوں کا دودھ سے

بھر جانا۔ پہاڑ کی گونج۔ شریعت

الابدی ردۃ۔ اونٹوں نے دوسری

بار پانی پیا۔

الرداد۔ الرداد۔ واپسی۔

الردید۔ وہ بادل جو پانی برسا چکا۔

الرداد۔ رد تکرار۔

الارد۔ زیادہ نفع بخش

الوادۃ والمرودۃ۔ فائدہ کہتے ہیں۔

لارادۃ اولامردۃ فیہ۔

اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

المرد۔ فاء۔ زمانہ دراز تک سفر میں

رہنے والا۔ یا عرصہ تک بغیر بیوی کے

رہنے والا۔ ناراض۔ زیادہ پانی پی

جانے والا اونٹ۔ ج۔ مراد۔

المرد۔ من التخیال۔ بہت رد کرنے

والا۔ بہت حملہ آور۔

المردود۔ مفع۔ مص۔ عرصہ تک

سفر میں رہنے والا۔ دیر تک بغیر بیوی

کے رہنے والا۔

المردودۃ۔ مؤنث مردود۔ مطلق

عورت۔ استرا۔

المردد حیران۔

ردادف، ردا۔ الحائظ۔ دیوار

کو ٹیک لگانا۔ الرجل۔ کسی

کی مدد کرنا۔ رداۃ بحجیر۔

پتھر مارنا۔

رددک، رداۃ۔ خراب ہونا۔

صفت۔ ردی۔ ج۔ آردیاء

وآردعائ۔

آردا۔ بد کام کرنا یا بری چیز پر پہنچنا۔

ع۔ خراب کرنا۔ المینتو۔

پردہ لٹکانا۔ الحائظ۔ دیوار

کو تھم لگانا۔ فلانا۔ کسی کو تسکین

دینا۔ اپنی حالت پر برقرار رکھنا۔

کا علی مائتۃ۔ کسی کو سو سے

زیادہ دینا۔

تراداع۔ القوم۔ ایک دوسرے کی

مدد کرنا۔

الردع۔ مددگار۔ مدو۔ بوجھ کے ایک

طرف کا بھاری حصہ جو جانور پر

لا دیں۔ ج۔ آرداع۔

تردیکہ۔ مہربانی اور ملاحظت کرنا۔

الردی۔ غیر نافذہ گلی یا راستہ۔

الاردیت۔ ۲۲ صاع کا ایک بڑا پیمانہ

جس سے غلہ وغیرہ ناپتے ہیں۔ نر

نالی۔ ج۔ آرادیت۔

الاردیتہ۔ بڑی پختہ اینٹ۔ حوض

وغیرہ سے پانی نکلنے کی نالی۔

ردحرف، ردحفا۔ برقرار رہنا

ثابت قدم رہنا۔ الشی۔

زمین پر ہموار پھیلتا۔ (وآردح)

الہیت۔ گھر کو گاڑھے گارے سے

لیپنا۔ ڈرنا۔

ردح۔ الشی۔ زمین پر پھیلا کر ہموار

کرنا۔

الردح۔ مص۔ ہلکا درد۔

الردح۔ لمبا عرصہ۔

الرداح۔ لشکر جبار تاریکی بڑا درخت

بڑا پیالہ۔ من الکباش۔ بڑی

چکتی والا دنبہ۔ ج۔ ردمح۔

الرداحت والرداحت۔ بجو کے

شکار کے لیے تیار کردہ مکان۔

الموتدح۔ وسعت۔

ردحرف، ردحفا۔ راستہ۔

سرتوڑنا۔

ردسی (نض) ردسا۔ القوم۔

پتھر سے مارنا۔ الحائظ۔ دیوار

کو گرانا۔ ڈھانا۔ الرجل۔ کسی

کو ذلیل کرنا۔ الارض۔ زمین کو

ہموار کرنا۔ بالشی۔ کسی شے کو

لے جانا۔ الحجوب بالحجیر۔ پتھر

سے پتھر کو توڑنا۔

رادسہ۔ ایک دوسرے کو پتھر سے مارنا

تردس۔ من مکانہ۔ اپنی جگہ سے گرنا

المردس والمرداس۔ پتھر توڑنے

کا ہتھوڑا۔ سر۔ وہ پتھر جو کنویں میں پانی

معلوم کرنے کے لیے ڈالا جائے۔

ردعہرف، ردعا۔ عن کذا۔

روکنا۔ ہٹانا۔ کا بالشی۔ کسی کو

کسی شے کے ساتھ لپیٹنا۔ آلودہ

کرنا۔ اخذۃ فردع۔ یہ

الاسض۔ اس نے اس کو لے کر

زمین پر پٹک دیا۔ السہم۔ تیر

کے پھل کو بیٹھ جانے کے لیے زمین

پر مارنا۔

ردع ردعۃ۔ سم جانا اور چہرے کا

رنگ زرد پڑ جانا۔ ردع۔ یہ۔

پچھاڑا جانا۔

ردعۃ۔ بالزعفران۔ زعفران میں

لت کرنا۔ تردع۔ لت پت

ہونا۔

ترادع۔ القوم۔ ایک دوسرے کو

باز رکھنا۔

ارتدع۔ باز رہنا۔ بالظیب

خوشبو میں لت پت ہونا۔ السہم

تیر کا نشانہ پر لگ کر ٹوٹنا۔

الودع۔ مص۔ گردن۔ زعفران، جسم میں

خوشبو کا اثر۔

قَمِيصٌ رَادِعٌ - وہ قمیص جس میں خوشبو کا اثر ہو۔

الرَّوْدَانُ - کیچڑ پانی۔

الرَّوْدَانُ - جسم میں خوشبو کا اثر۔ بیماری کا دوبارہ ظہور۔

الرَّوْدِيْعُ - بچھا ہوا۔ ثَوْبٌ

رَدِيْعٌ - زعفران میں رنگا ہوا کپڑا۔

سَهْمٌ رَدِيْعٌ وَمِدَّةٌ - پھل

گراتیر۔

الرَّبْوَدُ - ناکام واپس ہونے والا بست

پست قد۔ خوشبو کا اثر رکھنے والا۔

رَدَعَتْ (ف) رَدْعًا - السَّمَاءُ

آسمان کا زمین کو صاف تر کرنے کے

لائق پانی برسانا۔ بلکی بارش برسانا۔

رَدَعٌ بِهٖ الْاَسْضُ - زمین پر

گرانا۔

اَرْدَعُ الْمَكَانُ - جگہ کا بہت کیچڑ والی

ہونا۔ صفت (رَدَعٌ) اَرْدَعٌ

کیچڑ میں پڑنا۔

الرَّدْعُ وَالرَّوْدَانُ - کیچڑ۔ گارا۔

الرَّدْعَةُ وَالرَّدْعَةُ - سخت کیچڑ۔

ج۔ رَدْعٌ وَرَدْعٌ - وِرْدَانٌ

وَرْدَعَاتٌ - مَاءٌ رَدْعَةٌ

مٹی ملا پانی۔

الرَّدِيْعُ - بچھا ہوا۔ بیوقوف۔

الرَّوْدَانُ - گلے اور ہنسی کی ہڈی کے

درمیان کا حصہ۔ خوش منظر باغ۔ ج۔

فَرَادِعٌ

رَدَقَهُ (ن) وَرَدِيْعٌ لَهُ (س) رَدَقًا

پیچھے ہونا۔ رَدَقًا وَرَدِيْعٌ لَهُ

کسی کے پیچھے سوار ہونا۔ رَدِيْعٌ

أَمْرًا الْقَوْمُ - کوئی امر پیش آنا۔

رَادَقَهُ - ردیف بنتا۔ " دَايَةٌ لَا

تَرَادِفٌ - وہ جانور جو دوسرے سوار

کو نہیں بٹھاتا۔

اَرْدَفَ - پے در پے ہونا۔ ہ۔ کسی

کو اپنے ساتھ سوار کرنا۔ اَرْدَفَ

الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَعَلَيْهِ - کسی چیز کو

کسی چیز کے پیچھے لگانا۔ " اَرْدَفْتُ

الْخَيْلَ عَلَى خَيْلِي " میں نے

اپنے گھوڑے کے پیچھے ایک گھوڑے

کو لگایا۔ اَرْدَفْتُ لَهُ - کسی کے

پیچھے آنا۔

تَرَادَفَ - آپس میں ایک دوسرے کی مدد

کرنا۔ ایک دوسرے کی پیروی کرنا۔

ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا۔

تَرَادَفَتِ الْجَلِمَاتُ - کلمات کا

معنی میں آپس میں مشابہ ہونا۔

اَرْتَدَقَهُ - پیروی کرنا۔ اَرْتَدَقَ

الْحَدُو - دشمن کو پیچھے سے پلٹ لیا۔

ہ۔ کسی کو اپنے پیچھے سوار کرنا۔

تَرَدَّقَهُ - کسی کے پیچھے سوار ہونا۔

اِسْتَرَدَّقَهُ - کسی سے پیچھے سوار ہونے

کے لیے سوال کرنا۔

الرَّوْدُ - ایک سوار کے پیچھے دوسرا سوار

پیرو۔ کام کا نتیجہ۔ ہر شے کا آخر۔

فِي الْجَاهِلِيَّةِ - ایام جاہلیت میں بادشاہ

کا وہ مقرب ہم جلیس جو بادشاہ کے

لڑائی میں چلے جانے کے بعد نیابت

کے فرائض انجام دیتا اور جب فوج میدان

جنگ سے واپس پھرتی تو مال قیمت کا

چوتھا حصہ لیتا۔ ج۔ اَرْدَاةٌ

الرَّوْدَانُ - رات و دن۔

الرَّوْدُ - جانور کا پٹھا۔

الرَّوْدِيْعُ - سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔

ج۔ رِدَاةٌ وَرَدَقَاءٌ - سر واقع

کے قریب ایک ستارہ کا نام۔ فوجی

اصطلاح میں وہ سپاہی جس کو فراغت

دے دی جائے۔ اور بوقت ضرورت

اس کو بلا لیا جائے۔ نیز فوج۔

الرَّوَادِفُ - سُرینیں۔ پیچھے رہنے والی

قوم۔

الرَّوَادِفَةُ - بادشاہ کی نیابت۔

الرَّوَادِفِيُّ - مدکار۔ " جَاءُوا رِدَاةً "

وہ لیے بعد دیگرے آئے۔

رَدَدَكَ - آراستہ کرنا۔ خوبصورت کرنا۔

الرَّوْدَانِيُّ - خوش رو لڑکا۔ مَوْنٌ

رَدَدَكَ

رَدَمَ رَضٍ رَدْمًا - الثُّلَمَةُ أَوْ

الْبَابَ - رخنہ یا دروازہ کو بند کرنا۔

القَوْسَ كَيْسَخِ كَرْمَانَ سَے آواز نکالنا

۔ البَعِيرُ - اونٹ کے کچھ چبھونا۔

رَدَمَدَنٌ رَدْمًا - الشَّيْءُ - ہنا۔

السَّحَابُ - بادل کا برابر چھایا رہنا۔

الْحُثِيُّ عَلَيْهِ - بخار کا ہمیشہ چڑھا

رہنا۔ الشَّجَرَةُ - درخت کا خشک

ہونے کے بعد سبز و ہرا ہونا۔

اَرَدَمَ السَّحَابَ - بادل کا ہمیشہ چھایا

رہنا۔ الْحُثِيُّ عَلَيْهِ - بخار کا

مسل چڑھا رہنا۔

رَدَمَ - الثَّوْبَ - کپڑے میں پیوند لگانا۔

الْنَّاقَةُ عَلَى وَكَيْدِهَا - اونٹنی

کا اپنے بچہ پر مہربان ہونا۔

تَرَدَّمَ - ثَوْبَهُ - کپڑے میں پیوند لگانا۔

الْثَوْبَ - کپڑے کا بوسیدہ و پرانا

ہونا۔ الْخُصُومَةُ - دشمنی کا

کھینچ جانا۔ ہ۔ کسی کے پیچھے لگ

کر اس کی حقیقت کا پتہ لگانا۔ النَّاقَةُ

عَلَى وَكَيْدِهَا - اونٹنی کا اپنے بچے کے

اوپر مہربان ہونا۔ الْقَوْمُ الْأَرْضِ -

قوم کا زمین کی پیداوار کو بار بار کھالینا۔

الرَّوْمُ - مص - گری ہوئی دیوار کا طبع۔

کمان کی آواز۔ ر۔ وَالرَّوْدَانُ وَ

الرَّوْدَانُ - بے خیر چیز۔

الرَّوْمُ - روک بندش۔ ج۔ رَدَمٌ

الرَدِيمُ - من الثياب - پرانا کپڑا
الارْدَمُ - ماہر علاج - ج - اَرْدَمُونَ
الْمُتَرَدِّمُ - جس پر ہند لگائیں - کہتے
ہیں: هَلْ غَادَرَ السُّعْرَاءُ مِنْ
مُتَرَدِّمٍ - کیا اگلے شعرائے کلام
میں کوئی (رخسہ) کمی و خامی چھوڑی ہے
کہ پھلے اس کو پورا کر دیں؛ یعنی نہیں
ہر پہلو پر وہ کہہ چکے ہیں اب مجال
سخن نہیں۔

رَدَن (ض) رَدْنَا - الاشياء چیزوں
کو ترتیب سے اوپر نیچے پننا -
المرأة - عورت کا نکلے پر کا تنا -
النا - آگ جلانا۔

رَدَن (س) رَدْنَا - الجلد کھال
پر جھریاں پڑنا - سکرنا۔

رَدَن وَاَرْدَن - القميص کرتے
میں آستین لگانا - اَرْدَنْتِ الْحَقِي
بخار کا کچھ مہانا - اَرْدَنْتِ الْمَرْأَةُ
عورت کا نکلہ بنانا۔

الرُّدْنُ - آستین کی جڑ - آستین ما شادہ
حصہ - عرب اس میں درہم و دینار
رکتے تھے، اس لیے محاورہ ہو گیا۔
"ثَقَنَ رُدْنُهُ" یعنی وہ مال دار ہو
گیا - ج - اَرْدَانُ -

الرُّدْنُ - مص - ہتھیاروں کے ایک
دوسرے پر گرنے کی آواز۔

الرَّادِي - فأ - زعفران - احمرو
(رَادِي) زردی ملا ہوا سرخ۔

الرُّدْنُ - ایک سرخ رنگ ریٹم۔

الرُّدْيَنِي - نیزہ - رُدْيَنَةُ عورت
کی طرف منسوب ہے جو اپنے نیزے
بنایا کرتی تھی۔

الرُّدُونُ - تھلا۔

الرُّدُونُ - تاریک - عَوْقُ مَرْدُونٍ
بہرہوار پسینہ - خَيْطُ مَرْدُونٍ

لایا ہوا ڈورا۔
رَدَا (ف) رَدَّهَا - فلانًا بِحَجْرٍ -
سنگسار کرنا - البیت گھر کو
بڑا کرنا - رَدَّه - الرجل بہادری
یا سخاوت یا کسی اور خوبی کے باعث
قوم پر سرداری کرنا۔

الرُّدَّةُ - پہاڑ یا چٹان میں گڑھا جس میں
بارش کا پانی جمع ہو جائے - سب سے
بڑا گھر - گھر کی سب سے زیادہ کشادہ
جگہ - ج - رَدَّةٌ وِرْدَاةٌ وِرْدَةٌ -

رَدِي (ض) رَدِيًا وِرْدِيًا -
الشيء - ترٹنا - ع - دھکا دینا -
ع بِحَجْرٍ - پتھر مارنا - الفوس

گھوڑے کا زمین پر سم مارنا - الجارية
لڑکی کا ایک پاؤں پر ایک اچک کر
چلنا - فلان - جانا - ما ادری

أَيْنَ رَدِي - میں نہیں جانتا، وہ
کہاں گیا - فِي الْبَيْتِ - کنویں
میں گزنا - فلان - اونچے پہاڑ

پر سے گزنا - عَلَى الْخَمْسِينَ
مِنْ عُمُرِهِ - اپنی عمر میں پچاس سال
سے زائد ہونا۔

رَدِي (س) رَدِي - ہلاک ہونا - گزنا۔
رَدِي - الرجل - ہلاک کرنا - چاور

اور ٹھانا - كُفِي الْبَيْتِ - کنویں
میں گزنا۔

رَادِي - مَرَادَاة - الرجل - پھلانا
مدارات سے پیش آنا - عَيْنِ
القوم - کسی قوم کی جانب سے
دوسروں پر پتھر برسانا۔

تَرَدِي - چاور اور ٹھانا - تَرَدِي
فِي الْبَيْتِ - کنویں میں گزنا۔

اِرْتَدِي - چاور اور ٹھانا - تلوار لٹکانا -
اِرْتَدَتْ الْجَارِيَةُ - لڑکی کا
ایک پاؤں پر ایک اچک کر چلنا

اور کھیلنا۔
الرَّدَاةُ - چادر - عبا - ياجبة - حميل - تلوار
کمان، عقل، نادانی، باعث زینت۔
باعث عیب - رَدَاةُ الشَّبَابِ -
جوانی کی بہار و نکھار - رَدَاةُ
الشمس - سورج کی روشنی - هُوَ
عَمْرُ الرَّدَاةِ - وہ بہت داد و دہش
والا ہے - وخفيف الرَّدَاةِ - کم
قرض اور کم عیال والا - ج - اَرْدِيَّةُ
الرَّدَاةُ - پوشش، اوپر اوڑھنے کا
کپڑا۔
الرَّدَاةُ - چٹان - ج - رَدِي -
الرَدِي - ہلاک ہونے والا۔
الرَّدَاةُ - لڑائی کا پکرنا - والرَّدَاةُ
بڑی چادر - ازار - پتھر توڑنے کا پتھر
ج - مَرَادِي -
الرَّدَاةُ - گھوڑوں یا اونٹوں یا ہاتھیوں
کی ٹانگیں - زمین پر سم مارنے والا
گھوڑا۔
الرَّدَاةُ - مَرَادِي -
الرَّدَاةُ - مَرَادِي - مَرَادِي -
رَدَّتْ (ن) رَدَّذَا وَاَرَدَّتْ -
السَّمَاءُ - آسمان کا پھوار برساتا -
اَرَدَّتْ الْقَرِيْبَةَ - مشک بہہ پڑنا۔
الرَّدَاةُ - پھوار۔
رَدَّلَ (ك) وِرْدَل (س) رَدَّالَةٌ و
رَدَّوْلَةٌ - حقارت کے قابل ہونا۔
تبع ہونا - برا ہونا - صفت (رَدَّل) ج
اَرْدَالٌ وِرْدَالٌ وِرْدُولٌ و
رَدَّوْنٌ وِرْدِيْلٌ ج رَدَّالٌ وِرْدَالٌ
رَدَّلَهُ (ن) رَدَّالًا وَاَرَدَّلَهُ - رَدَّلَ
نا پسند کرنا - حقیر سمجھنا - برا فعل کرنا۔
کینوں کو اپنا ساتھی بنانا - حقیر کرنا - ناپسند
کرنا - برا سمجھنا - الدَّرَاهِدُ
دراہم کو کھوٹے بتا کر واپس کر دینا۔
اِسْتَرَدَّلَهُ - حقیر سمجھنا۔

الرُّذَالُ: حقیر و کمینہ (ذ) والرُّذَالَةُ: چیز کا روی و ناکارہ حصہ۔ رُذَالَةُ: کُلُّ شَيْءٍ: ہر چیز کا ناقص حصہ۔
 الرُّذِيكَةُ: بڑائی، کمینہ پن۔ ج۔
 الرُّذُلُ: اسم تفضیل، گھٹیا، روی۔ ج۔
 الرُّذُلُ: و الرُّذُلُونَ: الرُّذُلُ: رذیل ساتھیوں والا۔
 رَذْمٌ (ذ ض) رَذْمًا و رَذْمَانًا و رَذْمَةٌ (ذ س) رَذْمًا و رَذْمَةً: الرِّثَاءُ: برتن کا بھر کر چھلک جانا۔ صفت (رذم)۔ و الرذم: الخسین من عمرہ: عمر میں پچاس سے زائد ہونا۔
 الرذم و الرذمان: من الناس بکھری ہوئی جماعت، چھوٹی جماعت۔ الرذام و الرذم: ضعیف یا کمزور جس میں کوئی مروت نہ ہو۔
 الرذوم: بننے والا، چھلکتا ہوا البرزخ پیالہ۔ ج۔ رذم و رذم۔
 رَذِيٌّ (ذ س) رَذَاوَةٌ و رَذِيٌّ: بیماری سے نڈھال ہونا۔ صفت (رذی)۔ ج۔ رذاعة: موت۔ رذیة: ارذاعة: نڈھال کر دینا۔ پھینکنا۔ صفت مفعولی (مُورذی) الرذی: کمزور۔ ذبل۔
 رَذَتْ (ذ ض) نَذًا: الجَرَادَةُ: مڈھی کا انڈے دینے کے لیے دم کو زمین میں چھبونا۔ السماء: آسمان کا گرجنا۔ ع: نیزہ مارنا۔ الباب: دروازہ میں کندی لگانا۔ السهم في الحائط: تیر کو دیوار میں گاڑنا۔
 رَذَّ: الورق: کاغذ پر پالش کرنا۔ الامو: کسی امر کو ٹھیک کرنا۔ الرذ: السهم في الحائط: تیر کا

دیوار میں گاڑنا۔ البخیل: عند المسئلة: سوال کے وقت بخیل کا کنجوسی کرنا۔ اور دینے سے رکنا۔
 الرذ: چاول۔
 الرذ و الرذی: دور کی آواز۔ پیٹ کی گڑگڑاہٹ۔ بادل کی گرج، آواز۔
 لوسے کا کنڈا جس میں تالا لگایا جاتا ہے۔ کھونٹی، جس کو گھوڑے وغیرہ باندھنے کے لیے زمین یا دیوار میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ ج۔ رذاد و رذات و رذذ۔
 الرذقة: پیٹھ کا درد۔ الرذاز: سیسہ الرذاز: چاول بیچنے والا۔ چاولوں کا سوداگر۔
 الرذیذ: کپکپی، لہڑ، نشانہ میں پیوستہ نیزہ۔ چھوٹے اولے، لمبی آواز۔
 الرذیذ: رنگ کے کام میں آنے والی ایک قسم کی گھاس۔ رذیذ الرعد: گرج کی آواز۔
 المرذس: من الطعام: چاول سے تیار کیا ہوا کھانا۔
 المرذقة: چاول اگنے کی جگہ۔ یا وہ مقام جہاں چاول جمع کیا جائے یا بکترت پیدا ہو۔
 نذآف، نذآ و رذآ و مرذقة: الرجل مالة: کچھ حاصل کرنا۔ کم کرنا۔ کم دینا۔ هو یزذع: وہ فیاض و سخی ہے۔ (ذ) و رذی، (ذ س) نذآ و رذآ: الرجل کسی سے کچھ بھلائی حاصل کرنا۔ رذآ الشیء: کم کرنا۔ رذآ الشیء: کم ہونا۔ الرذع: ج۔ الرذاع و الرذیة و الرذیة: ج۔ نذایا: بڑی مصیبت۔

المُرذاء: کریم، فیاض، سخی۔ ج۔
 مَرزُوتٌ - المَرزُوتون: وہ قوم جس کے چیدہ انھماں مرچکے ہوں۔ رذیہ (ذ ن)، نذبا: چھٹے رہنا۔
 الرذیب: چھوٹا مضبوط۔ جھم والا۔
 المَرذیة: والمَرذیة: ج۔ مَرزِبُ (الرذیة) لوسے کی سلاح۔
 المَرزِب: پرناہ لمبی کشتی۔ ج۔ مَرزِبُ المَرزِب: اہل فارس کا رئیس یا صوبہ دار۔ ج۔ مَرزِبَةٌ: والمَرزِبَةُ: صوبیداری کا عہدہ۔
 رذح (ذ ف)، رذحا و رذوحا و رذاحا: الجمل: اونٹ کا لاغری یا تھکن کی وجہ سے زمین پر گر کر دراز ہو جانا اور نہ اٹھ سکتا۔ صفت۔ (رذح) ج۔ رذح: الرجل: کمزوری کی وجہ سے ہاتھ سے چنیر چھوٹ جانا۔ الرجل بالرمح: کسی کو نیزہ مارنا۔ (ذ) و رذح: العنب گرے ہوئے انگور چننا۔ (رذح) و ترذح: حالہ۔ بد حال ہونا۔ رذح: الناقة: اونٹنی کو لاغر کرنا۔ رذح: رذاحی و رذحی و رذح و رذاح: کمزور لاغر اونٹ۔
 المورذح: ہموار زمین۔
 المورذح: والمورذحة: وہ کھڑی جس پر انگور کی بیل رکھی جاتی ہے۔ تاکوہ زمین سے اونچی رہے۔ ج۔ مَرزِح: المورذح: من الإبل: بہت لاغر کمزور اونٹ جو حرکت نہ کر سکے۔ ج۔ مَرزِح: رذح (ذ ف)، رذحا: بالرمح نیزہ مارنا۔
 الرذق: لوگوں کی صف۔ کھجوروں کی قطار۔

الرِّزْقُ - رزق اور ان کے گروا گرو
کی زمینیں۔ ج۔ رِزْقَاتُ
وَرِزْقٌ -
أَرْزَغَ - الماءُ - پانی کا کم ہونا۔ المکانُ
کسی جگہ کا کیچڑ والی ہونا۔ الْمُحْتَفَرُ
کھودنے والے کا تری تک پہنچنا۔
- المطرُ الارضُ - بارش کا صرف
زمین کو تر کر دینا۔ الرجلُ کسی
کو عیب سے آلودہ کرنا۔ رِزْقِي
فلانٍ - بہت ایذا دینا۔ حقارت کرنا
عیب لگانا۔ طعن کرنا۔
رَأَزَعَهُ - دھوکا دینا۔ فریب دینا۔
أَسْتَرَزَعَهُ - کمزور جاننا۔
الرِّزْقَةُ - پتلا کیچڑ۔ دلدل۔ ج۔ رَزَّخَ
وَرِزَاغٌ - الرِّزْقُ - رطوبت
نَدَفَ رِزْقًا وَنَدَفَ وَأَرْزَفُ
- الینہ۔ آگے بڑھنا۔ الجملُ
اونٹ کا بلبلانا۔ دَوْرَانُ - رَزْفٌ
الامرُ - قریب ہونا۔ أَرْزَفَ
الناقةُ - اونٹنی کو چلانا۔ أُرِفَ
القومُ - قوم کو جھٹ پٹ شکست
دے دینا۔ نَاقَةٌ رَزْوَفٌ - لمبی
ٹانگوں اور کشادہ قدم رکھنے والی
اونٹنی۔
رَزَافَاتُ - البلدُ - شہر کے قریب کی جگہیں
رَزَقَهُ (ن) رَزَقًا - کسی کو رزق پہنچانا
روزی دینا۔
رِزْقِي - روزی پانا۔ خوش قسمت ہونا۔
أَرَزَقَهُ - کسی سے رزق طلب کرنا۔
الجُتْدُ - قوج کا رسد پانا۔
أَسْتَرَزَقَهُ - روزی مانگنا۔
الِرِزْقُ - روزی۔ ج۔ أَرَسَاتِي
بارش۔ الرِّزْقِيُّ الحَسَنُ - بلا محنت
و مشقت ملنے والی روزی۔ (د) و
الرِّزْقَةُ - ج۔ رَزَقَاتُ - سپاہیوں

کی رسد
الرِّزْقِيُّ کمزور۔ ایک قسم کا لمبا سفید انگور
شراب۔
الرِّزْقُ - روزی دینا۔ یہ صرف ذات باری
کے لیے مخصوص ہے۔
المُرْتَزِقُ - مفع، جس سے فائدہ اٹھایا
جائے۔
المُرْتَزِقَةُ - اپنی رسد پانے والے لوگ۔
المُرْتَزِقُ مَنُوشِ بخت۔
رَزَمَ (ن) رَزْمًا - الشيءُ - جمع کر کے
باندھنا۔ بالشیء - پکڑنا۔
عَلَى عَدَاوَةٍ - دشمن پر غالب آکر
اس کو دبا بیٹھنا۔ الرجلُ -
مِزَا - الأُمْدَبَةُ - جننا۔
رَزَمَ (ن) رَزْمًا وَرَزَامًا -
البعيرُ - اونٹ کا لاغری کے باعث
اٹھ نہ سکتا۔ صفت (رَزَامِيٌّ)
ج۔ رَزَامٌ - (د) سَرَزَمَةٌ
الشتاءُ - موسم سرما کا سرد ہونا۔
رَزَمَ - الثيابُ - کپڑے جمع کر کے ان کی
گٹھری باندھنا۔ القومُ - قوم کا
کسی جگہ جم جانا اور نہ ٹلنا۔
رَزَمَ - بَيْتَهُمَا - جمع کرنا۔ اکٹھا
کرنا۔ فِي المَطَاعِمِ - باری
باری کی قسم کے کھانے کھانا۔ الدَّارُ
گھر میں بہت دیر رہنا۔
أَرَزَمَ - الوعدُ - شدت سے گرجنا
یا کرکنا۔
أَرَزَمَتِ - الناقةُ - اونٹنی کانچے
کے لیے آواز نکالنا۔
أَرَزَمَ الرِّزْمًا - غضب ناک ہونا۔
الرِّزْمَةُ - دن میں ایک مرتبہ کھانا۔
الرِّزْمَةُ - کپڑوں وغیرہ کی گٹھری۔ ج
رِزْمٌ -
الرِّزْمَةُ - بچہ کی آواز۔ کرخت آواز۔

بچہ پر پیار آتے وقت منہ کھولے بغیر
اونٹنی کی حلق سے نکالی ہوئی آواز۔
کتے ہیں۔ "أَخْيَرُ فِي رَسْمِيَّةٍ لَا
دَسْمَةَ فِيهَا" یہ اس کے حق میں کہا
جاتا ہے جو وعدہ کرے مگر اس کو پورا
کر کے نہ دکھائے۔ جو چاہو سی کرے
مگر خیر و بھلائی نہ پہنچائے۔ غیثُ
(رِزْمٌ) وہ بارش جس کی گرج ختم
نہ ہو۔
الرِّزْمَةُ - سخت آدمی۔ ج۔ رِزْمٌ -
الرِّزْمِيُّ - شیر کی دھاڑ، جھاگ۔
الرِّزْمَةُ - والرِّزْمَةُ - گرجنے والا
شیر اپنے شکار پر گھومنے اور غرغرنے
والا شیر
الرِّزْمَةُ - وہ رسی وغیرہ جس سے گٹھری
باندھی جائے۔
رِزْنٌ (ن) رِزْنَةٌ - الشيءُ - چیز کو
اٹھا کر اس کے وزن کا اندازہ کرنا۔
بالمکان - اقامت کرنا۔
رِزْنٌ (ن) رِزْنَةٌ - سنجیدہ ہونا۔
بھاری ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت (رِزْنِيٌّ)
مؤنث (رِزْنٌ) رِزْنَةٌ نہیں
بولا جاتا۔
رِزْنٌ - الرجلُ - کسی کا دوست ہونا۔
اور ساتھ اترنا۔
تَرَزَّنَا - ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔
تَرَزَّنَ - فِي الامْرِ او فِي مَجْلِسِهِ -
سنجیدہ اور سہی رٹے والا ہونا۔
الرِّزْنُ والرِّزْنَةُ - وہ بلند جگہ جس میں
پانی رکنے کے لیے نشیب ہو۔ ج۔
رِزْنٌ وِرْسَانٌ وَاَدْسَانٌ -
الرِّزْنُ بکنارہ۔
الرِّزْنَةُ - پانی رسنے کی جگہ۔ دلدلی زمین۔
ج۔ رِزْنَانٌ -
الرِّزْنَةُ - سخت لکڑی والا ایک درخت،

جس سے چھڑیاں بناتے ہیں۔
 الرِّسْنُ يَنْسُجُ. ساکن، پختہ رائے والا۔
 الرُّوزُوكَةُ. روشن دان۔ ج۔ رَوَايَةُ.
 رَزِي (رض) رَزِيًّا۔ فلاں کسی کا
 احسان قبول کرنا۔
 اَرَزِي اِرْزَاءً۔ الیہ۔ وَاَرَزِي
 الیہ ظَهْرًا۔ سہارا لینا۔ پناہ
 لینا۔
 رَسَّ (رن) رَسًّا۔ البَثْرُ۔ کنواں کھودنا
 — الشَّيْءُ۔ دھنسانا — لَهُ
 الخَبْرُ۔ خبر بیان کرنا۔ المَلِيَّتْ
 مِيت كودفن کرنا — خَبْرَهُمْ
 خَبْرَ مَطْلُومٍ كَرْنِي كِي كوشش کرنا —
 يَبْنِيهِمْ مَطْلُومًا، فساد ڈالنا۔
 رَسَدَ (د) رَسًا وِرْسِيًّا وَاَرَسَّ
 — السَّفْعُ فِي جَسَدِهِ۔
 بیماری کا کسی کے جسم میں اثر جمالینا۔
 رَأْسُهُ مُرَاسَةً۔ بالامہ۔ کام مل
 کر شروع کرنا۔
 تَرَأَسَ۔ القَوْمُ الخَبْرُ۔ ایک دوسرے
 کو پوشیدگی میں خبر سنانا۔
 اِرْتَسَى۔ الخَبْرُ فِي النَّاسِ خَبْرًا لَوَّكُونَ
 میں پھیل پڑنا۔
 الرِّسْنُ۔ مَصٌّ۔ پھران کنواں۔ علامت
 معدن۔ چیز کی ابتدا، بخار کی ابتدا۔
 رَسَّ الخَبْرُ۔ محبت کا آغاز۔ اس
 کا بقیہ، اس کا اثر۔ بَلَّغْنِي رَسًّا
 مِنَ الخَبْرِ۔ مجھے خبر کا کچھ حصہ معلوم
 ہوا۔
 الرِّسْنَةُ۔ مضبوط ستون۔
 الرِّسْنَةُ وَالْأُسْ سُوْسَةُ۔ لُوبِي۔
 الرِّسْنِيُّ۔ مَصٌّ۔ ثابت۔ عاقل، غیر
 صمغ خیر۔ رِيحٌ رَسِينِيَّةٌ۔ نرم
 ہوا۔
 الرِّسْنِيُّ۔ طِيلِدٌ۔ موٹی بوند کی بارش۔

رَسَبَ وَرَسَبَ (ن ك) رُسُوبًا۔
 وَرَسَبًا۔ الشَّيْءُ فِي المَاءِ۔
 پانی کی تہ میں چلا جانا۔ العَيْنُ
 آنکھ کا اندر کو بیٹھ جانا۔
 اَرَسَيْتَهُ۔ نیچے اترا۔
 الرُّؤْسُوبُ وَالرُّسُوبُ۔ مِنَ الرِّجَالِ۔
 علیم، برویار۔
 الرُّسْبُ وَالرُّسْبُ وَالرُّسُوبُ وَ
 المِرْسَبُ۔ مِنَ المِيسُوفِ۔ اندر
 گھس جانے والی تلوار۔
 الرُّؤْسَبُ۔ مِصْبَتٌ۔
 رَسَمَ (س) رَسْمًا۔ کولہوں اور رانوں کا
 لاغر ہونا۔ صفت۔ (اَرَسَمَ)
 مَوْنٌ۔ رَسْمًا۔ ج۔ رَسَمٌ۔
 اَرَسَمَهُ۔ لاغر کرنا۔ دہلا کرنا۔
 رَسَمَ (ن) رَسْمًا۔ اپنی جگہ گرہانا
 رَسَمَ الخَبْرُ فِي الصَّحِيفَةِ۔
 سیاہی کتاب میں جم گئی۔ رَسَمَ
 العِلْمُ فِي القَلْبِ۔ علم دل میں رچ
 گیا۔ فَلَانَ رَسَمَ العِلْمُ۔ فلان
 پختہ علم والا ہے۔ العَدِيدُ۔
 تالاب کا پانی زمین میں جذب ہو جانا۔
 بیٹھ جانا۔
 اَرَسَمَهُ۔ گھاڑنا۔ ثابت کرنا۔
 تَرَسَمَ۔ فِي التَّقِي۔ تقویٰ میں
 مارخ القدم ہونا۔
 رَسَعٌ۔ رَسْعًا۔ العَضُوبُ خَرَابٌ
 اور ڈھیلا ہونا۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ
 کے پپڑوں کا آپس میں چمکانا۔
 الصَّبِيُّ وَغَيْرُهُ۔ نَظَرٌ بِسَعْفَانَتِ
 کے لیے بچہ کے ماتھے یا پیر میں سرہ
 باندھنا۔
 رَسَعٌ۔ رَسْعًا پپڑوں کا خراب ہونا۔
 صفت (اَرَسَعُ)۔ عَيْنُهُ
 آنکھ کے پپڑوں کا خراب ہونا۔ صفت

(رَسَعًا)۔ بہ الشَّيْءُ۔ چمکانا۔
 رَسَعٌ۔ آنکھ کے کونے کا خراب ہونا۔
 جم کر رہنا۔ الشَّيْءُ۔ چمکانا۔
 المَسِيرُ۔ ایک تسمہ کو چمکر دوسرا
 تسمہ اس میں داخل کرنا۔
 الرِّسَاعَةُ۔ ج۔ رَسَائِعٌ۔ تلوار وغیرہ
 کے پرتیلے کے نچلے حصے میں گندھے
 ہونے لگے۔
 الرُّسُوعُ۔ کمان کے وسط کے گندھے
 ہونے لگے۔
 رَسَعٌ (ن) رَسْعًا۔ البَعِيرُ۔ اونٹ
 کی اگلی ٹانگوں کے گٹے میں رسی باندھنا
 رَسَعٌ۔ المَطَرُ۔ ٹخنوں ٹخنوں بارش
 ہونا۔ العَيْشُ۔ وسیع کرنا۔
 الكَلَامُ۔ کلام کو ترتیب دینا۔
 رَسَعَتِ كِشْتِي فِي كِنْفِ كِرْدَانِ
 اِرْتَسَعٌ۔ عَلَي عِيَالِهِ۔ اہل و عیال پر
 دل کھول کر خرچ کرنا۔
 الرُّسْعُ وَالرُّسْعُ۔ گھا، پہنچا، ج۔
 اَرَسَاعٌ وَاَرَسَعٌ۔
 الرِّسِيْعُ۔ مِنَ العَيْشِ۔ خوشحال زندگی۔
 — مِنَ الطَّعَامِ۔ بہت خوراک۔
 الرِّسَاعُ۔ وہ رسی جو جانور کی اگلی ٹانگ کے
 گٹے میں باندھ کر کھونٹے سے باندھتے
 ہیں تاکہ وہ چل پھرنے کے
 المَرَسَعُ۔ مِنَ الأَرَابِ۔ کمزور و خام
 رائے۔
 رَسَفَ (ن ض) رَسْفًا وِرْسِيًّا وَ
 رَسْفَانًا۔ پاؤں بندھے ہوئے کی
 طرح چلنا۔
 اَرَسَفَ۔ الذَّابَّةُ بِنَدَمِ هُوْنِي پائوں
 والے جانور کو ہکانا۔
 اِرْتَسَفَ۔ الشَّيْءُ۔ بلند ہونا۔
 رَسِلَ (س) رَسَلًا وَرَسَالَةً۔
 الشَّعْرُ۔ بالوں کا لٹکانا۔ البَعِيرُ۔

اونٹ کا نرم رفتار ہونا۔
رَسَلٌ - فِي الْقَوَائِدِ - خوش الحالی سے
پڑھنا، آہستہ آہستہ درستگی سے
پڑھنا۔
رَأَسَلَهُ - فِي وَعَلَى بِالْأَمْرِ - ایک دوسرے
سے خط و کتابت کرنا۔ رَأَسَلَهُ
الْجَنَاءَ - گانے میں مقابلہ کرنا۔
أَرْسَلَهُ - بِجَنَابٍ - چھوڑنا۔ أَرْسَلُ
الْقَوْلَ - بات کو آزادی سے کہنا،
بلا قید بولنا۔ فَلَانًا عَلِمَهُ -
کسی کو کسی پر مسلط کرنا۔ أَرْسَلُ
بِهِ إِلَيْهِ - پیغام کے ساتھ کسی کو
کسی کے پاس بھیجنا۔ قَوْلَهُ
مَثَلًا - اپنے قول کو ضرب المثل بنانا۔
تَرَسَّلَ - نرمی کرنا، آہستگی کرنا۔
أَنْشَأَ الرَّسَالَاتِ - رسالت کا دعویٰ
کرنا۔ فِي الرَّكُوبِ - اپنی
ٹانگوں پر کپڑے ڈال کر جانور کی پشت
پر پھیلانا۔ فِي الْعُقُودِ - اپنے
پاؤں پر اور ارد گرد کپڑے لٹکا کر چارزانو
بیٹھنا۔
تَرَأَسَلَ - الْقَوْمَ - آپس میں خط
و کتابت کرنا۔
إِسْتَرَسَلَ - الشَّعْرَ - بالوں کا سیدھا
ہونا اور ٹکنا۔ الشَّيْءَ - نرم ہونا
۔ اليه کسی کے ساتھ مہربانی کا
برتاؤ کرنا۔ بے تکلفی سے پیش آنا۔
۔ فِي الْكَلَامِ - لمبی گفتگو کرنا۔
الرَّسْلُ - نرمی، آسودگی، دودھ، گھوڑے
کے بازو کا طرف۔ ج۔ رَسَالٌ -
الرَّسَالُ - اونٹ کی ٹانگیں۔
الرَّسْلُ وَالرَّسْلَةُ - آہستگی، نرمی
کہتے ہیں۔ عَلَى رَسْلِكَ يَا رَجُلٌ
یعنی آہستہ و باوقار رہو۔
الرَّسْلُ - آدمیوں کا گردہ۔ ہر چیز کا گلہ

ج۔ أَرْسَالٌ -
الرَّسْلَةُ - کابلی بستی، آسودہ زندگی۔
الرَّسَالَةُ وَالرَّسَالَةُ - پیغام، پیغامبری
ج۔ رَسَائِلٌ وَرَسَالَاتٌ -
الرَّسُولُ - بھیجا ہوا۔ فرستادہ۔ پیغامبری۔
تیر اندازی وغیرہ میں موافق۔ ج۔
رُسُلٌ وَرُسُلٌ وَرُسُلًا -
الرَّسِيلُ - بھیجا ہوا۔ پیغامبر، پیغامبری پیغام
بھیجنے والا۔ تیر اندازی وغیرہ میں موافق
گھوڑوں میں دوڑنے والا گھوڑا۔
کشادہ، سائڈ، بیٹھا پانی ج۔ أَرْسَلُ
وَرُسْلٌ وَرُسْلًا -
الرَّسْلَةُ - منکوں کی لمبی مالا۔ ج۔
مُرْسَلَاتٌ - المُرْسَلَاتُ - ہوائیں
فرتے، گھوڑے۔
الرَّسَالُ - چھوٹا تیر۔ پیغامبر۔ ناقہ
مُرْسَالٌ - نرم رفتار اونٹنی۔ ج۔
مَرَايِيلُ -
رَسَمَ (رَن) رَسْمًا - الْمَنْظَرُ الْيَدْيَارُ -
مٹا کر نشانی باقی رکھنا۔ لہذا کذا۔
حکم دینا۔ عَلَيَّ كَذَا - لکھنا۔
الْكِتَابَ - لکھنا۔ نَحْوَكُ -
کسی کی طرف تیز جانا۔ كَالْأَسْفَفِ
پادری کو گرجے میں کوئی درجہ دینا۔
اسم۔ "الرَّسَامَةُ" رسم (رض)
رَسِيمًا - البعيو - نشانات
قدم کا باقی چھوڑنا۔ تیز چلنا۔
رَسَمَ - الثوبَ - کپڑے کو دھار پلار
بنانا۔ وَأَرْسَمَ، الناقَةَ -
اونٹنی کو چلا کر اس کے نشانات قدم
ڈلوانا۔
تَرَسَمَ - الدارَ - مکان کے نشانات
کو غور سے دیکھنا۔ الشَّيْءَ - یاد کرنا
۔ الباني والمخاض - عمارت بنانے
یا کھودنے کے لیے زمین دیکھنا۔

إِرْسَمَ الْأَمْرَ - حکم بجالانا۔ کہتے ہیں۔
رَسَمَلَهُ كَذَا فَاِسْرَسَمَهُ -
اس نے اس کو ایسا حکم دیا اور وہ بجا
لایا۔ يَلَهُ تَعَالَى - تمکیر کتنا۔
اور دعا کرنا۔ الرجلُ - گرجہ کے
کسی منصب پر پہنچنا۔
الرَّسْمُ - مکان کے مٹے ہوئے نشانات
زمین میں دبا ہوا کنواں، کسی چیز کا خاکہ
علامت، مجاز۔ ج۔ رَسُومٌ و
أَرْسَمٌ - معاملة، ٹیکس۔
الرَّوَيْسُ - فا۔ جاری پانی۔
الرَّسْمُ - چلنے کی خوبی۔
الرَّاسُومُ - ج۔ رَوَايِسُهُ وَرَوَايِسُهُ
ج۔ رَوَايِسُ - مہر۔ مٹکے وغیرہ پر مہر
لگانے کی چیز۔ کنواں لکڑی جس سے
کھلیان میں گیہوں کے ڈھیر پر مہر لگائی
جاتی ہے تاکہ اس میں چوری نہ ہو سکے۔
- الرَّوَيْسُ - علامت۔ نشان۔
مصیبت۔
الرَّسُومُ - مفع۔ خط۔ سرکاری پروانہ۔
سرکلہ۔ ج۔ مَرَايِسُهُ وَمَرَايِسُهُ -
الرَّسَامُ - نقاش۔
رَسَنَ (رَن) رَسْنًا وَرَسْنًا -
الدَّابَّةَ جانور کے سر میں رسی ڈالنا۔
رَسَنَ وَرَسَنًا - الدَّابَّةَ جانور
کو چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا۔ چنانچہ
کہتے ہیں: رَسَنِي بِرَسْنِيهِ عَلَى غَارِبِهِ
یعنی اس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا اور
اس کو اپنی مرضی کا مختار بنا دیا۔
أَرْسَنَ الْمُعْتَمِدَ - پھیرے کا رام ہو کر
اپنی گردن میں رسی ڈلوالینا۔
الرَّسْنُ - جانور کے گلے میں ڈالنے
کی رسی۔ ج۔ أَرْسَانٌ وَأَرْسَانٌ -
الرَّسِينُ وَالرَّسِينُ - من
الدَّابَّةِ - رسی باندھنے کی جگہ۔ ج۔

مَرَايِسُنْ -

رَسَادُنْ، رَسَوَا و رَسُوَا - ثابت ہونا
استوار ہونا۔ صفت دَسَايِسُنْ
مُوْت رَايِسِيَّةٌ - جہ۔ رَوَايِسُنْ
وَلَايِسِيَاتٌ - رَسَتْ السَّفِيْنَةُ
جہاز کا نگرانداز ہونا۔ رَسَا بَيْنَ
الْقَوْمِ - صلح کرانا اور اختلاف کو مٹا
دینا۔ عِنْدَ حَدِيْثَا - کسی سے
حدیث بیان کرنا۔ لَدَى الْحَدِيْثِ
حدیث کا ایک حصہ کسی سے بیان
کرنا۔

رَاسِيٌّ - تیرنے میں مقابلہ کرنا۔

رَاسِيٌّ اِرْسَاوُ - الشَّيْءُ - ثابت و
استوار ہونا۔ السَّفِيْنَةُ - کشتی
کو نگرانداز کرنا۔ الْوَتْدَ فِي
الْاَرْضِ - کھونٹے کو زمین میں ٹھونکنا
گاڑنا۔

الرَّسُوُ - حدیث کا ایک ٹکڑا۔
الرَّاسِيُّ (فَا) بڑی ہونے کی وجہ سے
ایک جگہ رہنے والی بڑی دیگ۔

الرَّوَايِسِيُّ - مضبوط پہاڑ۔
الرَّسِيٌّ - بندرگاہ۔ جہ۔ مَرَايِسُنْ -

الرَّسِيٌّ - منع۔ اَللّٰهُ سَمَاعَةٌ كَا قَوْلِ هِيَ
يَسَاءُ لَوْ تَلَقَّ عَنِ السَّاعَةِ آيَاتٌ
مُّرْسَاَهَا - یعنی لوگ آپ سے
پوچھتے ہیں کہ قیامت کب وقوع
پذیر ہوگی۔

الرَّيْسَاةُ - کشتی یا جہاز کا نگر۔ جہ۔
مَرَايِسُنْ - کہتے ہیں۔ اَنْتَقَى
مَرَايِسِيَّةً - یعنی وہ رہ پڑا۔

اَلْقَبْ السَّمَابِ مَرَايِسِيَّتَا - بادل
جہ اور خوب برسا۔

رَشْدُنْ، رَشَا و تَرَشَاتَا -
المَاءُ - پانی چمکانا، بکھیرنا۔
السَّمَاوُ - آسمان کا پھوار برساتنا۔

الرَّطْبَةُ رَغْمٌ كَا كَشَاوَهُ بُوْرِكُ بَيْلِ كِر
خون بہانا۔ الشَّوَاؤُ - بھونے
ہونے گوشت سے چربی و چکنائی کا
ٹپکنا۔ الرُّسُ - گھوڑے کو
ووڑا کر اس کا پسینہ نکالنا۔

تَرَشَشٌ - عَلَيْهِ الْمَاءُ - پانی کے
چھینٹے پڑنا۔ بہنا۔

الرَّشِيٌّ - پھول۔ جہ۔ رَشَاشٌ - الم
ناک چوٹ۔

الرَّشَاشُ - پانی خون وغیرہ کا چھینٹنا۔
الرَّشَاةُ - پانی وغیرہ چھڑکنے کا آلہ۔

جہارا۔

رَشَاوُنْ، رَشَاوُ - الرُّطْبِيُّ - ہرنی
کے بچے کا مضبوط ہو کر ماں کے ساتھ
چلنا۔

الرَّشَاوُ - ہرن کا ہر ایک بچہ جو چلنے لگے۔
جہ۔ اَرَشَاوُ -

رَشَجَ رَفٌ، رَشِيًا و رَشِيَاتَا و
اَرَشَجَ و اَرَشَجَ - الْاِنَاءُ
برتن کا ٹپکنا۔ رَسَا - الجَسَدُ
جسم کا پسینہ والا ہونا۔ و رَشَجَ
الرُّطْبِيُّ رَشِيًا - ہرنی کا ذوق
بہترنا۔ كَمَا يَرَشَجُ لَهُ يَشِيءُ -

اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔
رَشَحَتِ النَّااقَةَ وَاوَدَّهَا رَشِيًا
وَأَمْرٌ رَشَحْتُهُ وَاوَدَّ رَشَحْتُهُ -
ادنیٰ کا اپنے بچے کی دُوم کی جڑ کو گرانا
اور دھکیلنا اور خوردگ رک کر اس
کے ساتھ ہونے کا انتظار کرنا۔ صفت
(رَايِسِيٌّ و مَرَايِسِيٌّ و مَرَايِسِيٌّ)

رَشَجَ - پسینہ سے تر ہونا۔
رَشَجَ - المال - مال کا اچھا انتظام کرنا

الْوَلَدُ - بچہ کو پالنا اور اس کو
تربیت دینا۔ هُوَ يَرَشَجُ
لَوْلَايَةِ الْعَهْلِ - اس کو ولی عہدی

کی تربیت دی جا رہی ہے۔
الرُّطْبِيُّ وَاوَدَّهَا - بچنے کے بعد ہرنی
کا اپنے بچہ کو چمکانا۔ النَّااقَةُ
وَلَدَهَا - بمعنى رَشَحْتُهُ -
الرُّطْبِيُّ النَّبِيْتُ - بارش کا بہات کو
بڑھانا۔ اَلْاَنَاءُ -

تَرَشَجَ - وَلَدُ النَّااقَةِ - بچہ کا اپنی ماں
کے ساتھ چلنے کے قابل ہونا۔
الرُّطْبِيُّ - ہرنی کا چھینٹنے کے بعد اپنے
بچہ کو چمکانا۔ الْمَاءُ - پانی کا پتھروں
سے رَسَا - الرَّجُلُ لِلْاَمْرِ -
کسی کا کسی کے لیے تربیت یافتہ ہونا۔ قابل
و لائق ہونا۔

الرَّشِيٌّ - مص۔ پسینہ۔
الرَّاشِيٌّ - فَا - پتھروں سے رسنے والا
پانی۔ مِنَ الْفُضْلَانِ - ماں
کے ساتھ چلنے کے قابل بچہ۔ وہ پہاڑ
جس کا نچلا حصہ تر ہو۔ زمین پر ریگنے
والا کھڑا۔ جہ۔ رَوَايِسِيٌّ -

الرَّيْسَاةُ و الرُّشَاةُ - زمین نیچے
ڈالنے کا نوگیر۔
الرَّاشِيٌّ - بہت تیز فہم۔
رَشَدَ رَنْ، رُشْدًا و رَشَادًا - و
رَشَدًا (س) رَشْدًا - ہدایت پانا۔
راہ راست پر چلنا۔ اَمْرًا -
ہدایت یافتہ ہونا۔

رَشَدَهُ وَاوَدَّ رَشَدَهُ - الی کذا۔
وَعَلَيْهِ وَاوَدَّ - ہدایت کرنا۔
رَشَدًا الْقَاضِي - سیدی راہ چلاتا
اسْتَرَشَدَنَ - لِاَمْرٍ - راہ راست
پر ہونا۔ رَشَدًا - ہدایت طلب کرنا۔
الرُّشْدُ - مص۔ ہدایت براسگی۔ رَشِيٌّ
پر برقراری۔

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - مص۔ پسینہ۔
الرَّاشِيٌّ - فَا - پتھروں سے رسنے والا
پانی۔ مِنَ الْفُضْلَانِ - ماں
کے ساتھ چلنے کے قابل بچہ۔ وہ پہاڑ
جس کا نچلا حصہ تر ہو۔ زمین پر ریگنے
والا کھڑا۔ جہ۔ رَوَايِسِيٌّ -

الرَّيْسَاةُ و الرُّشَاةُ - زمین نیچے
ڈالنے کا نوگیر۔
الرَّاشِيٌّ - بہت تیز فہم۔
رَشَدَ رَنْ، رُشْدًا و رَشَادًا - و
رَشَدًا (س) رَشْدًا - ہدایت پانا۔
راہ راست پر چلنا۔ اَمْرًا -
ہدایت یافتہ ہونا۔

رَشَدَهُ وَاوَدَّ رَشَدَهُ - الی کذا۔
وَعَلَيْهِ وَاوَدَّ - ہدایت کرنا۔
رَشَدًا الْقَاضِي - سیدی راہ چلاتا
اسْتَرَشَدَنَ - لِاَمْرٍ - راہ راست
پر ہونا۔ رَشَدًا - ہدایت طلب کرنا۔
الرُّشْدُ - مص۔ ہدایت براسگی۔ رَشِيٌّ
پر برقراری۔

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرُّشْدَةُ - جائز خدای۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِّرُشْدَةٍ - وہ حلال زاوہ ہے

الرَّشِيدُ - سیدھی راہ چلنے والا۔ ہدایت یافتہ، ہدایت کرنے والا۔
 الرَّشَادُ وَالرَّشْدُ - ایک قسم کا پودا۔
 الرَّشَادُ - چٹان مٹی بھر کا پتھر۔ ج۔
 الرَّشَادُ -
 الرَّشِيدُ - سیدھے راستے۔
 الرَّشِيشُ الرَّشِيشَةُ - الشَّيْءُ جِزْرٌ كَادُّهِلًا هُونًا - اونٹ کا ٹھیک بیٹھنے کے لیے سینے سے زمین رگڑنا۔
 الرَّشِيشُ - المَاءُ - بہنا۔
 تُحْبِزُ أَوْ عَظْمٌ رَشْرِيشٌ وَرَشْرَانٌ - نرم روٹی یا بڑی۔
 الرَّشْفُ (ن ص) رَشْفًا وَسَرِيئًا وَرَشْفَانًا - و رَشْفَانًا - رَشْفَانًا رَسًا، رَشْفًا وَرَشْفَانًا - المَاءُ وَنَحْوَهُ - ہونٹوں سے چوسنا۔
 الرَّشْفُ - برتن میں جو کچھ ہے سب پی جانا۔
 الرَّشْفُ وَرَشْفٌ وَرَشْفَةٌ وَرَشْفَانٌ - الماء بہت چوسنا۔
 الرَّشْفُ وَالرَّشْفُ - حَوْضٌ كَأَقْوَرًا سَابِجًا بَرِيئًا - حَوْضٌ رَشْفٌ پانی سے خالی حوض۔
 الرَّشْفُ - پانی چوسنے کا آلہ۔ ج۔
 الرَّشْفُ - المَرَاثِفُ -
 الرَّشْفَةُ (ن) رَشْفًا - بالسَّهْمِ تِيرَانًا - بِبَصِيرَةٍ - گھوڑنا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔
 الرَّشْفَةُ - كَلْبُ بِلْسَانِهِ طَعَنَ وَتَشْنِيعُ كَرْنَا - آيَاتِكَ رَشْفَاتِ اللِّسَانِ - زبان کی طعنہ زنی سے بچو اور پرہیز کرو۔
 الرَّشْقُ (ن) رَشْقَةً - الغَلَامُ عمدہ اور پاکیزہ قد والا۔ چابک دست ہونا۔ پھرتیلا ہونا۔ صفت۔ (رَشِيقٌ) ج۔ رَشْقٌ -

رَشْفَةً مَرَاثِفَةً - ہمراہ چلنا۔ ایک دوسرے کو تیر مارنا۔
 الرَّشْقُ - القَوْمُ - ایک دوسرے پر تیر مارنا۔
 الرَّشْقُ - فِي الْأَفْسِ - تیز ہونا۔
 الرَّشْقُ - النَّظَرُ إِلَيْهِ - تیز نظر سے دیکھنا۔
 الرَّشْقُ - القَوْمُ بِبَصِيرَةٍ - نظر جما کر دیکھنا۔
 الرَّشْقُ - النَّظِيرَةُ - ہر فی کا گردن وراڑ کر کے تیز نظر سے دیکھنا۔
 الرَّشْقُ - سِيدْهَا تِيرٌ يَهَيْكَلُ - الرَّشْقُ - تيز تير پھینکنے والی کمان۔
 الرَّشْقُ وَالرَّشْقُ - قَلَمٌ كِي آوَار - ج۔
 الرَّشْقُ -
 الرَّشْقُ - سِيدْهَا كَهْرًا - جَيِّدٌ أَرَشَقُ سِيدْهَا كَهْرِي كَرُون - الرَّشِيقُ - نازک اندام۔ خوبصورت۔
 مِنَ اللَّفْظِ أَوْ الْحِطِّ - خَوْشٌ كَلَامٌ يَأْخُوشُ خَطًا -
 الرَّشْمُ (ن) رَشْمًا - بَيِّنَةٌ الرَّشْمَةُ - غلہ کے انبار پر مہر لگانا۔ (رَشْمًا) لکھنا۔
 الرَّشْمُ (ن) رَشْمًا - كَهْلَةٌ كِي خَوْشِبُو پھر کھلنے کی خواہش کرنا۔ صفت۔
 (أَرَشْمًا) - أَرَشْمُ الشَّجَرِ وَرَحْتَ كَابِتِي لَانَا - الارض۔
 زَمِينٌ كَابِتِي لَانَا - البوق۔
 بَجَلِي كَابِتِي لَانَا - المَائِيَّةُ جَانُو كَابِتِي لَانَا - جَرَانَا - وَرَشْمًا الرَّشْمُ - پہلے پہلے چھوٹنے والا سبزہ۔
 الرَّشْمُ - جَمْرٌ كِي سِيَابِي - ج۔
 الرَّشْمُ - زَمِينٌ پَرِيَارَشِ كَابِتِي لَانَا -
 الرَّشْمُ - دَاغٌ وَار - كَتْنَا - مِيْنُ الغَيْبِ - تھوڑی ہارش۔ غَامٌ

أَرَشْمًا - وہ سال جو بخوبی فراخی و ارزانی کا نہ ہو۔
 الرَّاشِمُ وَالرَّاشِمُومُ - کہان تختی جس سے غلہ کے انبار پر مہر لگاتے ہیں۔
 الرَّاشِمَةُ - بَجْوُ كِي سِيَابِي -
 الرَّشْنُ (ن) رَشْنًا وَرَشُونًا - نَاخْوَانَةٌ مَهَانٌ بِنَا - الكَلْبُ فِي الرَّشْنِ - کتے کا برتن میں سر ڈالنا۔
 الرَّشْنُ وَالرَّشْنُ - پانی نکلنے کا دھانہ۔
 الرَّاشِنُ - فَا - بِن بَلَاءِ مَهَان - وَطِيْفَةٌ جُو كَارِيكِرُ كِي شَارِدُو كُو دِيَا جَاتَا بِي - عَوَامٌ اس کو "حُلْوَان" بولتے ہیں۔
 الرَّوْشَنُ - رَوْشَنَان - ج۔ رَوَائِشِنُ - رَشَاءُ (ن) رَشْوًا - رَشْوَةٌ وَبِنَا - رَائِشِي - مَرَاثِفًا - فَلَانَا - رَشْوَةٌ وَبِنَا - مَدُو كَرْنَا -
 أَرَشِي - الدَّلُو - دُولٌ مِيْن رَسِي دَالِنَا - الشَّجَرُ - وَرَحْتَ كِي لَهْنِيَا -
 دَرَاژ ہونا - القَوْمُ فِي دَمِيهِ - کسی کے خون میں شریک ہونا۔
 الرَّشِي - الرَّجُلُ - کسی کے ساتھ نرمی برتنا۔
 الرَّشِي - رَشْوَةٌ لِيْنَا - مِيْنَهُ رَشْوَةٌ - رَشْوَةٌ وَبِنَا -
 الرَّشِي - فِي حُكْمِيهِ - فَيَصْلُرُ پَر رَشْوَةٌ طَلِبُ كَرْنَا - الغَيْبُ -
 اَوْرَطُ كِنِي كِي دَوُو دِي سِي كِي خَوَابِشِ كَرْنَا - مَا فِي الصَّرِيحِ - مَقْنٌ سِي دَوُو دِي كَالِنَا -
 الرَّشْوَةُ وَالرَّشْوَةُ وَالرَّشْوَةُ - رَشْوَةٌ - ج۔ رَشْوَةٌ وَرَشْوَةٌ -
 الرَّشْوَةُ - عَامٌ رَسِي يَأْخُصُ دُولٌ كِي رَسِي - ج۔ أَرَشِيَّةٌ - كَتِي مِيْنُ اتَبِيحِ الدَّلُو رَشَاءُهَا - يَعْنِي دُولُ كِي مِيْنُ رَسِي كُو جَلْنِي دُو - يِه وَبَان بُولْتِي مِيْنُ جَمَالِ اِيك كُو دُو سَرِي كِي اِتْبَاعِ

کرانی مقصود ہو۔

الرَشَاقُ - ایک پروا کا نام ہے۔

الرَشِيقُ - اونٹ کا بچہ۔

الرَشَاءُ - ڈول کی رسی۔

رَصَقَ (ن) رَصًا - الشَّيْءُ - ایک کو دوسرے

سے ملانا۔ چمٹانا۔

رَصَصَهُ - بمعنى رَصَّهُ - سیسے کی قلعی

کرنا۔ الرجلُ - کسی کا سوال میں

اصرار کرنا۔

تَرَصَّصَ - وَاِرْتَصَقَ - پیوستہ ہونا۔ جڑنا۔

تَرَاصَقَ - القَوْمُ - ایک دوسرے سے

جڑنا۔ ملنا۔

الرَّصَاصُ - سیمہ۔ واحد رَصَاصَةٌ

و (الرَّصَاصِي) سیمے کے رنگ

والا۔

الرَّوَصِيُّ - دانتوں کی پیوستگی۔

الرَّصِيصُ - ایک دوسرے کے ساتھ

بٹا ہوا ٹوٹ۔ رَصِيصَةٌ - ج

رَصَائِصُ -

الرَّصَقُ - پیوستہ اور جڑے ہوئے دانتوں

والا ہونا۔ ٹوٹ۔ رَصَاءٌ - ج۔ رَصَقَ

- بَيْنَانٌ مَرَّ رَصَوًّا - مضبوط

عمارت۔

الرَّصِيصَةُ - ایک قسم کی کلاہ۔

الرَّصَاصَةُ - بخیل۔ جاری چشمے کے

اوردگرو کے پتھر۔

رَصِقَ (س) رَصِقًا - قریب قریب سرین

ہونا۔ صفت (رَصِيقٌ)

رَصِقَ - فِي الْأَمْرِ - بمعنى رَصِقَ -

رَصَدَهُ (ن) رَصَدًا - وَسَاقَدًا -

انتظار کرنا۔ گھات میں بیٹھنا۔

رَصِدَ الْمَكَانَ - کسی جگہ بارش کی بوجھاڑ

پڑنا۔ صفت (مَرَّ رَصَوًّا)

رَاصِدَةٌ - نگرانی کرنا۔ گھات میں بیٹھنا۔

أَرَصَدَ - الرَّقِيْبُ - رقیب کو راستہ

میں گھات لگانے کے لیے کھڑا کرنا۔

لَهُ نَقِيْبًا تَيَّارًا - مہیا کرنا۔

لَهُ تَحِيْرًا أَوْ نَشْرًا - بلہ دینا۔

الْحِسَابَ - پیش کرنا۔ ظاہر کرنا۔

شمار کرنا۔

أَرْتَصِدَكَ وَتَرَصَّدَكَ - نگرانی کرنا۔

تَرَصَّدَكَ - گھات میں بیٹھنا۔

تَرَاصَدَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے

کے گھات میں بیٹھنا۔

الرَّاصِدُ - فَا - نگہبان۔ شیر۔ گھات

میں بیٹھنے والا۔ ج۔ رَصَدٌ و

رَصَدٌ -

الرَّصَدُ - راستہ۔ قہوڑی بارش یا گھاس

ج۔ أَرَصَادٌ - گھات میں بیٹھنے والے

لوگ (واحد جمع، مذکر، مؤنث سب

کے لیے یکساں آتا ہے) کبھی جمع میں

أَرَصَادٌ بھی کہتے ہیں۔

الرَّصَدُ - بارش کا جھلا۔ بارش کی

بوجھاڑ۔ ج۔ رَصَادٌ -

الرَّصَدُ - توار کے پتلے کا حلقہ شیر

وغیرہ کے شکار کرنے کا گڑھا۔

الرَّصَوْدُ - پانی پینے کے لیے انتظار کرنے

والی اونٹنی۔

الرَّصِيْدُ - گھات میں رہنے والا۔

الرَّيْصَادُ - راستہ۔ وَالْمَوْصِدُ

گھات میں بیٹھنے کی جگہ۔ ج۔ مَوَاصِدُ

وَمَوَاصِدُ الْحَيَاتِ

سانپوں کے چبھنے کی جگہیں۔

رَصَرَصَ - الْبِنَاءُ - عمارت کو مضبوط

کرنا۔ فِي الْمَكَانِ - کسی جگہ

کھڑنا۔ رہنا۔

الرَّصْرَاصَةُ - سخت زمین۔ جاری چشمے

کے اوردگرو کے پتھر۔

رَصَعَةٌ (ف) رَصَعًا - پیدہ۔

قہر مارنا۔ بِالرُّمِيْحِ - زور سے

نیزہ مارنا۔ رَصَعَهُ الْبِنَانُ فِي

الْمَطْعُونِ - نیزہ کے بھالے کو زخمی کے

اندر غائب کر دینا۔ - الْحَبَّ -

دانہ کو دوپتھوں کے درمیان کوٹنا۔

- رَصَوْعًا بِالْمَكَانِ - کسی جگہ

اقامت پذیر ہونا۔

رَصَعَرُ (س) رَصَعًا - بِالشَّيْءِ -

چپکنا۔ بِالطَّيْبِ نَوْشَبَرِ

مہک جانا۔

رَصَعَهُ - الشَّيْءُ - اندازہ کرنا۔ بننا۔ کہتے ہیں۔

«رَصَعَهُ الطَّائِرُ عُنُقَهُ بِالْقَضْبَانِ»

پرنڈے نے اپنے گھونسلے کو تیلیوں سے

بٹنا اور چنا۔ الذَّهَبَ بِالْجَوَاهِرِ

سونے میں ہیرے موتی جڑنا۔

العِقْدَ بِالْجَوَاهِرِ - ہار میں جواہر

پرونا۔

أَرَصَعَكَ - بِالرُّمِيْحِ - زور سے نیزہ

مارنا۔

أَرْتَصَعَهُ - الْحَبَّ - دانہ کو دوپتھوں

کے درمیان کوٹنا۔ بلہ۔ چپکنا۔

- أَسْنَانُهُ - دانتوں کا پیوستہ و

برابر ہونا۔

تَرَصَّعَ - جڑاؤ ہونا۔ خوش ہونا۔ چست ہونا

الرَّصِيْعَةُ - کوٹے ہوئے دانے۔ لگام کی

گرہ۔ زین یا تلوار کا حلقہ۔ یا گول زیور

بوزینت کے لیے لگاتے ہیں۔ ج۔

رَصَائِعُ -

الرَّاصِعُ - لاغر سرین والا۔ طَعْنُ

أَرَصَعُ - پورا چھدا ہوا نیزہ۔

رَصَفَ (ن) رَصْفًا - الْحِجَارَةَ

ایک دوسرے سے جوڑنا۔ اور نیچے

پتھر رکھنا۔ الْمُصَلِي قَدَمَيْهِ

أَوْ بَيْنَ قَدَمَيْهِ - نمازی کا اپنے

قدموں کو قریب قریب رکھنا یا ایک

کو دوسرے سے ملانا۔ کہتے ہیں۔

”هَذَا الْأَمْرُ لَا يُرْصَفُ بِكَ“ یہ کام تمہارے لائق نہیں۔
 رَصِفَ دَكَ، رَصَافَةٌ - الْعَمَلُ مضبوط ہونا۔
 رَصِفْتُ دَسًا، رَصْفًا وَرُصِفْتُ رَصْفًا - آسنائے۔ دانتوں کا پیوستہ و ہموار ہونا۔
 أَرَصَفْتُ - شَرَابٌ وَغَيْرُهُ فِي سِوَا طَرِيحِي حَشِي كَاهَانِي طَانَا۔
 تَرَصَّفْتُ وَتَرَاصَفْتُ وَإِرْتَصَفْتُ - الْحِجَارَةُ بِتَمْرٍ كَا أَيْكٍ دُوسرے سے بالترتیب ملا ہوا ہونا۔
 الْقَوْمُ فِي الصَّفِّ - لُكُوكَا صَفِّ فِي أَيْكٍ دُوسرے سے مل کر کھڑا ہونا۔ آسنائے۔ دانتوں کا برابر و ہموار ہونا۔
 الرَّصْفُ - پَانِي كِي بِنِي كِي جِگہ میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے پتھر ندی میں پتھروں کا فرش۔ واحد۔
 رَصَفَةٌ - الرَّصَفَتَانِ - گھٹنے کی ہڈیوں کے پٹھے۔ گھٹنے۔
 الرَّصْفُ - پَانِي كَا بِنْد - پِشْتہ - مَاءُ الرَّصْفِ - سِوَا طَرِيحِي چٹان پر گرنے والا پانی۔
 الرَّصَافُ - گھوڑے کا پٹھل پہلو کی ہڈیاں۔
 ج - رَصِفْتُ وَرُصِفْتُ۔
 الرَّصِيفُ - نَلِيْر - دُوسْت - عَمَلُ رَصِيفُ - مَضْبُوط كَام - الرَّصِيفُ پتھروں سے فرش کیا ہوا راستہ (مولد) الرَّصَافَةُ - پٹھا جو چھڑ میں تیر کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ جوانب شہر کا سبزہ زار۔ عام طور سے بغداد کے ایک محلہ کو کہتے ہیں۔
 الرَّصُوفَةُ - اسْتِقْلَالِ ثَابِتِ قَدَمِي۔

الرِّصَافَةُ - بِتَمْرٍ۔
 رَصَنَ دَن، رَصْنَا - الْأَمْرُ كَيْسِي أَمْرٌ كُوْلُوْرَا كَرْنَا مَضْبُوط كَرْنَا - الدَّابَّةُ جَانُوْر كِي دَارِغ لُگَانَا - كَا بِلَسَانِي كَالِي دِيْنَا۔
 رَصَنَ دَكَ، رَصَانَةٌ - الْعَقْلُ وَغَيْرُهُ - سَجِيْدَه هُونَا مَضْبُوط هُونَا ثَابِتِ قَدَمِ رِهْنَا مَفْت (رَصِيْنُ) رَصَنَ - الشَّيْءُ مَعْرِفَةٌ - حِيْزُ كُو بَخُوِي سَجْمْنَا جَانْنَا - رَصِيْنُ لِيْ هَذَا الْخَبْرُ مِيْرِي لِيْ اس خبر کی تحقیق کرو۔
 أَرَصَنَ - پِكََا كَرْنَا - كَل كَرْنَا۔
 الرَّصَنُ - اَيْكٍ پُوْرَه كَا نَام هِي۔
 الرَّصِيْنُ - اِيْنِي سَاتِي كِي مَاجِت كِي لِي كَرْنِي وَالا دَكِي - دَرُوْمِنْد۔
 الْمِرْصَنُ - جَانُوْرُو كُو دَارِغ دِيْنِي كَا لُوْبَا۔
 رَصَانُ (رَصَوَا) - الشَّيْءُ مَضْبُوط كَرْنَا پِكََا كَرْنَا۔
 أَرَصِي - بِالْمَكَانِ كَيْسِي جِگہ رِهْنَا - جَم كَر رِهْنَا۔
 رَصَدُ (دَن) رَصْنَا - كُوْطْنَا - وَلْنَا۔
 رَصَصَ - الشَّيْءُ - خُوْب كُوْطْنَا يَدَلْنَا۔
 تَرَصَصَ - كُوْطْنَا جَانَا - دَلَا جَانَا۔
 أَرَصِي - بُوْجَلِ وَسَسْتِ رِفْتَارِ هُونَا تِيْزِ دُوْرْنَا - فِي الْأَرْضِي - جَانَابِ التَّعْبِ الْعَرَقِ - مَكَانِ كَا پِيْنِي كُو بھاریا۔
 اِرْتَصَّ - الشَّيْءُ - لُوْطْنَا - الْأَرْضِي جَم كَر بِيْطْنِي وَالا۔
 الرَّصِيْنُ - كُوْطْنَا بُوَا - وَالا بُوَا۔
 الرَّصَانُ - لُوْطِي بُوُوِي حِيْز كِي كُوْطِي۔
 الرَّصِيْنَةُ وَالدَّرِيْنَةُ - وَالرَّصِيْنُ - كُوْطِي نَكَلِي بُوُوِي اُوْرُوُوِي مِي جِگہ بُوُوِي كُوْرِي - الرَّصِيْنَةُ - كُوْطِي

يا مَنِي كَا اَلِي۔
 رَصَبَ (دَن) رَصْبًا وَارْصَبَ - الْمَطَرُ - بَارِش كَا زُوْرِي سِي سِنَا۔
 السَّمَاءُ - آسْمَان كَا بَارِش بَرَسَانَا۔
 رَصَبَ وَتَرَصَّبَ - اَلِي سِيْنِي - تَمْرُوكِ چُوْرَسْنَا۔
 الرَّاصِبُ - فَا - مِيْنِ الْمَطَرِ - مَوْسَلَا دَهَارِ بَارِش - زُوْر كِي بَارِش۔
 الرَّصَابُ - چُوْرَسَا بُوُوِي تَمْرُوكِ - شَهْد كَا لَعَابِ اُوْرَا س كَا جِهَاگ - مَشَك كِي كِيْرِي دَرِيْزِي - بَرَفِ اُوْر شَكْر وَغِيْرَه كِي طُكْرِي - اُوْلِي - مَاءُ رَصَابِ - مِيْطْهَا پَانِي۔
 الْمَرَاضِبُ وَالمَرَاضِيْبُ - خُوْش مَزِه تَمْرُوكِ۔
 رَصَمَ (دَن) رَصْمًا - النَّمْسُ اُو الْحَصِي - كُوْطِي يَا كَلَكْر تُوْرْنَا - رَاسُهُ بِالْحَجَرِ - سَرُوكُو پَتْمَرِي كِيْلْنَا۔
 تَرَصَّمَا - الْحَصِي - كَلَكْرِي كَا تُوْرْنَا - الْخَبْرُ - رُوْطِي كَا تُوْرْنَا۔
 اِرْتَصَّمَا - مِيْنِ الْأَمْرِ - عَدْر كَرْنَا۔
 الرَّصْمُ - مَعِي بَخُوْرِي نَخَشَش كَمَا بَاتَا۔
 بَلَقْنَا رَصْمًا مِيْنِ الْخَبْرِ مِيْنِي مَعْمُوْلِي بَاتِ مَعْلُوْمِ بُوُوِي۔
 الرَّصْمُ - شَكَلِي - الرَّصْمِي - لُوْطِي بُوُوِي كُوْطِي۔
 الرَّصْمَةُ - تُوْرْتِي وَوَقْتِ پَتْمَر كِي سِي سِي اُوْر جَانِي وَلا كُوْطِي - تَمْرُوكِي بَارِش - جِهَارِصَاخ۔
 الْمِرْصَاخُ - وَه پَتْمَرِ جِس مِي كُوْطِيَاں تُوْرِي جَانِي۔
 رَصَمَ (دَن) رَصْمًا - النَّمُوِي اُو الْحَصِي - تُوْرْنَا - كَتِي هِي - رَصَمَ لَه مِيْنِ مَالِيهِ رَصْمَةً - اس نے

اپنے بہت سے مال میں سے کچھ تھوڑا سا دیا۔ القیوس۔ میٹھوں کا ایک دوسرے کو سینگ سے مارنا۔ رَضَعَ لِلْحَقِّ۔ حق مان لینا، حق پر یقین لانا۔ رَضَعَتْ۔ ایک دوسرے کو پتھر سے مارنا۔ بادل ناخواستہ دینا۔ مَنَّهُ الشَّيْءَ۔ کسی سے کچھ پانا۔ حاصل کرنا۔

أَرْضَعَمُ۔ لِلرَّجُلِ۔ زیادہ میں سے کم دینا۔

تَرَضَعُ الْقَوْمُ بِالْحِجَابَةِ۔ ایک دوسرے پر پتھر برسانا۔

تَرَضَعُ الْجِصِّيُّ كِنَكْرِي كَالْوِطْنَا۔ الخبز۔ روٹی توڑ کر کھانا۔

الخبز۔ خیرن کر اس پر یقین نہ لانا۔ الرَضْعُ۔ تھوڑی بخشش، غیر یقینی خبر۔ الرَضِيعُ۔ بچہ کی گھٹلی۔

الرَضِيعَةُ وَالرَضَاخَةُ۔ تھوڑی بخشش۔

الرَضَاخَةُ۔ ج۔ مَرَضِيحُ الرَضِيعَةِ وہ پتھر جس سے یا جس پر توڑا جائے۔

رَضَدَانٌ رَضْدًا۔ المتاع۔ سامان کو چننا۔ ترتیب سے رکھنا۔

رَضْرَضَةٌ۔ پوری طرح نہ توڑنا۔ تَوَضَّرَقُ۔ الخبز۔ پتھر کا ٹوٹنا۔

بغیر ٹھہرے لڑھکنا۔ الرَضْرَاضُ۔ چھوٹی باریک لکیریاں۔

پر گوشت آدمی مرنے۔ رَضْرَاضَةٌ رَضِعَ دَسٌّ وَرَضَعَهُ دَسٌّ رَضَعًا وَرَضَعًا وَرَضَعًا وَرَضَعًا وَرَضَعًا

رَضَاعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعًا۔ الوالد أمه۔

بچہ کا ماں کا دودھ پینا۔ صفت (رَضِيعٌ) ج۔ رَضِعٌ۔ رَضِعَ دَسٌّ رَضَاعًا۔ نسیم ہونا۔ کیسہ ہونا۔ صفت

رَضِيعٌ۔ ج۔ رَضِعٌ۔

رَضَعَتْ۔ رَضَاعًا وَرَضَاعَةً۔ دودھ شریک بھائی کے ساتھ دودھ

پینا۔ ابنتہ۔ بچہ دودھ پلانے والی کو دینا۔ الطفل۔ بچہ کا

اپنی ماں کا دودھ پینا۔ جبکہ وہ حاملہ ہو۔ أَرْضَعَتْ۔ دودھ پلانا۔ أَرْضَعْتُ الْمَرْأَةَ۔ دودھ پیتے بچے والی

ہونہ صفت (مَرَضِعٌ) اس میں تاؤ تائیت کی نہیں لگاتے کیونکہ یہ صفت

اناٹ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ البتہ جب بچہ پستان منہ میں لیتا ہے تو

عورت کو مَرَضِعَةٌ کہتے ہیں۔ ج۔ مَرَضِعَاتٌ وَمَرَضِعٌ

اِسْتَرَضَعُ۔ دودھ پلانے والی کو تلاش کرنا۔ الرَضْعُ۔ کینگی۔ کھجور کے چھوٹے چھوٹے

پودے۔ واحد (رَضَعَةٌ) الرَضِيعُ۔ فا۔ دودھ والی۔ کینہ۔

کنجوس۔ لوگوں سے سوال کرنے والا۔ الرَضِيعَةُ۔ الرَضِيعُ۔ کامونٹ۔

الرَضِيعَتَانِ۔ بچہ کے سامنے کے دو دانت۔ ج۔ رَوَاضِعُ۔

الرَضِيعُ۔ ج۔ رَضَعَاءُ۔ الرَضِيعُ ج۔ رَضِعٌ۔ خیر خواہ بچہ، کینہ دودھ

شریک بھائی۔ الرَضَاعَةُ۔ بچھوائی اور دکھنی ہواؤں کے

درمیان کی ہوا۔ الرَضِيعَةُ۔ اپنے بچے کو دودھ پلانے

والی عورت۔ المَرَضِيعَةُ۔ کینہ۔ رَضَعَهُ دَسٌّ رَضَعًا۔ داغ لگانا۔

رَضَعَتِ اللَّبْنُ دُودَهُ كُورَمٍ پتھر سے گرم کرنا۔ اللحم۔ گوشت

کو گرم پتھر پر بھوننا۔ رَضَعَهُ۔ غصہ دلا کر آگ بگولا کرنا۔ الرَضِيعُ۔ گرم پتھر۔ واحد (رَضَعَةٌ)

”هُوَ عَلَى الرَّضْعِ“ یعنی وہ رنجیدہ ہے۔ گھٹنے کی بڑیاں۔

الرَضْفَةُ۔ گرم پتھر سے کیا ہوا نشان۔ ج۔ رَضْفٌ وَرَضْفَاتٌ۔

الرَضِيفُ۔ گرم پتھر۔ (رَضِيفَةٌ) گرم پتھر سے گرم کیا ہوا دودھ۔

الرَضِيفُ وَالْمَرَضُوفُ۔ گرم پتھر پر بھونا ہوا گوشت۔

الرَضِيفَةُ۔ داغ لگانے کا آلہ۔ رَضَمَ دَسٌّ رَضَمًا۔ الاسف

زمین جوتنا۔ البیت۔ گھر کو بڑے بڑے پتھروں سے بنانا۔ صفت۔

(رَضِيمٌ وَمَرَضُومٌ)۔ المتاع۔ سامان کو ترتیب سے رکھنا۔ تہ بہ تہ

چننا۔ الشئ۔ توڑنا۔ عليه الصخر۔ ڈالنا۔

(رَضَمًا وَرَضَمَانًا)۔ فی المشئ۔ سست چلنا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑنا۔ بالمکان۔ اقامت

پذیر ہونا۔ اِرْتَضَمَ المَتَاعُ۔ سامان کا تہ بہ تہ ہونا

الرَضْمُ وَالرَضْمُ وَالرَضَامُ۔ عمارت میں اوپر تلے چنے ہوئے بڑے بڑے پتھر۔ رَضَمًا وَرَضَمًا وَرَضَمًا

رَضَاكَ يَرْضُو رَضْوًا۔ خوشنودی اور پسندیدگی میں بڑھ جانا۔

رَضِيٌّ۔ دس، ورضی ورضی ورضوانا ورضوانا ورضوانا۔ عندہ

علیہ۔ راضی ہونا۔ خوش ہونا۔ صفت (رَاضٍ) ج۔ رَضُونٌ و

(رَضِيٌّ) ج۔ اَرْضِيَاءٌ وَرَضَاةٌ ورضان) ج۔ رَاضُونَ وَرَضَاةٌ

رَضِيٌّ الشئ۔ ورضی بہ ورضیہ۔ پسند کرنا۔ قناعت کرنا۔

صفت مفعول (مَرْضِيٌّ وَمَرْضُوءٌ) کتے ہیں "رَضِيَ اللهُ عَنْ فُلَانٍ" اور رَضِيَ بِهِ "یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس کو ثواب سے نوازے۔"

رَضِيَتْ مَعِيْشَتُهُ - اس کی زندگی خوشگوار ہے۔

رَاضِي رِضَاءً وَمَرْضَاةً - الرجل کسی کی رضامندی طلب کرنا۔ پسندیدگی میں مقابلہ کرنا۔

أَرْضَى وَرَضَى - الرجل کسی کو راضی کرنا۔ عطیہ دے کر راضی کرنا۔ خوش کرنا۔

تَرْضَى - الرجل کسی کی خوشنودی چاہنا۔ تَرْضَى - القومُ الشئَ کسی شے کو قوم کے سارے افراد کا پسند کرنا۔

إِرْتِضَاءً - لِحُدْمَتِهِ أَوْ لِصُحْبَتِهِ کسی کو اپنی خدمت یا سنگ کے لیے پسند کرنا۔

اسْتَرْضَاةً - کسی کی رضامندی طلب کرنا۔ وَأَسْتَرْضَيْتُهُ - میں نے چاہا کہ وہ مجھے خوش کرے۔ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ (رضی) پسندیدہ مرد یا عورت (مفرد) تشبیہ، جمع مذکر مونث سب کے لیے یکساں آتا ہے۔)

عَيْشَةٌ رَاضِيَةٌ خوشگوار زندگی۔

رَضْوَى - مدینہ طیبہ اور یثرب کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے۔ نسبت کے لیے رَضْوَى۔

الرِضَاءُ - خوشنودی۔ الرِضْوَةُ - رضامندی۔

الرَضِيٌّ - عاشق، لاغر، پھریرا۔ أَرْضٌ - اَرْضَاظًا - بیوقوف ہونا۔ چھیننا۔ چلانا۔ شور مچانا۔ فِي مَقْعِدِهِ

جم کر بیٹھنا۔ اسْتَرَطَلَهُ - بے وقوف جاننا۔ سمجھنا۔ الرَطِيظُ شغل، چیخ پکار۔ بے وقوفی بے وقوف۔ ج۔ رَطَاظُ الرَطَاظُ بے وقوف لوگ، جمع ہی ہے اس کا واحد نہیں۔

رَطَأُ (رَف) رَطَأٌ - القوم - قوم کو ناپسندیدہ امر میں الجھا دینا۔ اسْتَرَطَأَ - الرجلُ - احمق ہونا۔ الرجلُ - احمق جاننا۔

الرَطَأُ - حاقق۔ الرَطِيظُ - احمق۔ ج۔ رَطَاءٌ - مونث۔ رَطِيئَةٌ وَرَطَاءٌ۔

رَطَبُ (رَن) رَطَابَةٌ - البُسْرُ - بسر کھجور کا پختہ ہونا۔ رُطْبٌ بنا۔

رَطَبُ (رَن) رَطْبًا وَرُطْبًا - الدَابَّةُ جانور کا تر چارہ چرانا۔ رَطْبَةٌ وَرَطْبَةٌ تازہ پختہ کھجوریں کھلانا۔

رَطِبُ (رَس) وَرَطِبُ (رَك) رَطْوِيَّةٌ وَرِطَابَةٌ - تر ہونا۔ نرم ناک ہونا۔ نرم و نازک ہونا۔ رَطِبُ البُسْرُ پختہ ہونا۔

رَطِبَ وَارْتَبَ - الثَوْبُ وَنَحْوَهُ - تر کرنا۔ رَطِبَ القومُ - پختہ رطب کھجوریں کھلانا۔ وَارْتَبَتِ الارْضُ زمین کا پختہ کھجوروں والی ہونا۔

أَرَطَبَ النَخْلُ - کھجوروں کے پکنے کا موسم آنا۔ أَرَطَبَ القومُ - قوم کے درختائے خرما کا پختہ کھجوریں لانا۔

تَرَطَّبَ - نناک ہونا۔ بھیگنا۔ تر ہونا۔ چنانچہ کہتے ہیں "تَرَطَّبَ لِبَنَاتِي بِذِكْرِكِ" میں تمہارے ذکر میں رطب اللسان ہوں۔

الرُّطْبُ وَالرُّطِيْبُ - تر، نناک

نرم۔ ملائم، نازک ٹہنی یا پروغیرہ۔ عَيْشٌ رَطِيْبٌ خوشحالی کی زندگی۔ الرُّطْبُ وَالرُّطِيْبُ - سبز گھاس تازہ سبزی۔

الرُّطْبُ پختہ تازہ کھجور۔ واحد (رَطْبَةٌ) ج۔ رَطَابٌ وَارْتَابٌ۔ رَطَسَهُ (رَن) رَطَسًا - تھپڑ مارنا۔ إِرْطَسْتُ عَلَيْهِ الحِجَارَةُ کسی پر پتھر کا تہ بہ تہ ہونا۔

رَطَلُ (رَن) رَطَلًا - الشئُ - ہاتھ میں لے کر وزن کا اندازہ کرنا۔ الرجلُ دوڑنا۔

رَطَلُ - الشَّعْرُ - بالوں میں تیل لگا کر ان کو نرم کرنا۔ اور ان میں کٹھی کرنا۔ - الشئُ کسی چیز کا رطل پیمانہ سے وزن کرنا۔ وَارْتَطَلُ، الرجلُ وُصِلَ كَانُونَ وَالآبُونَ۔

رَاطَلُ - رطلوں سے بیچنا۔ الرُّطَلُ وَالرِّسُّ كَطَلُ - ایک وزن بارہ اوقیہ کا، شام میں پانچ پونڈ کا اور صحر میں پونے سولہ اونس کا۔ ج۔

أَرَطَالُ - الرجلُ - صِحَّ الرِّجَالِ احمق سست۔ کمزور۔ بوڑھا۔ لاغر اعضاء۔ قریب البلوغ لڑکا، سبک و تیز رفتار کھجور۔

الرِّطَلَةُ - تیز رفتار کھجور۔

الرُّطَالُ - مِنَ الرِّجَالِ - نرم، لمبا۔ رَطْبَةٌ (رَن) رَطْبًا - کھجوریں ڈالنا۔ یا ایسی مشکل میں پھنسانا کہ خستلا می و شواری ہو۔

رَطَبٌ وَارْتَبٌ - فِي تَعْوِدِهِ - جم کر بیٹھنا۔ وَارْتَبَ الرجلُ - خاموش رہنا۔

رُطِبٌ - البَعِيْرُ - اونٹ کو قبض ہونا۔ تَرَطَّبَ - پاشخانہ روکنا۔

کیچڑ میں گرنا، یا کسی پیچیدہ کام میں پھنسنا۔ فی الامر۔ کسی امر میں الجھنا۔ علیہ الامر۔ کسی پر کوئی امر مشتبہ ہونا۔ گڑبڑ ہونا۔ الشیء۔ وحصیر لکنا۔ امر آقا۔ مَرطُومَةٌ۔ وہ عورت جس پر برائی کی تمت ہو۔
رَطَنَ لَهُ رِن، رَطَانَةٌ وَرِطَانَةٌ وَرَاطِنَةٌ وَرُطَانَةٌ۔ عجمی زبان میں بات کرنا۔
تَدَاطَنَ۔ القوم۔ وَتَرَاطَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ۔ باہم عجمی زبان میں بات چیت کرنا۔
الرُّطِينِيُّ۔ غیر مفہوم کلام، کہتے ہیں "مَا رُطِينَاكَ هَذِهِ"۔ یہ تمہاری کیا بڑ ہے۔
رَعَّتْ دَن، رَعَا۔ الرِّيحُ۔ ہوا کا ٹھیرنا۔
الرَّوَاعُ۔ رُوَيْلُ لُوك۔
الرَّوَاعَةُ۔ شتر مرغ۔ بے عقل، گے ہوئے دل کا آدمی۔
رَعَبٌ (ف)، رَعْبًا وَرُعْبًا۔ ڈرنا۔
الرَّجُلُ۔ ڈرانا۔ د۔ رَعْبًا، الْإِنَاءُ أَوِ الْحَوْضُ۔ برتن یا حوض کو بھرنا۔ السَّامُ وَتَحْوَجُ۔ کو بان وغیرہ کے لیے لیے ٹکڑے کاٹنا رَعَبٌ۔ تَرَعِبْنَا وَتَرَعَابًا۔
الرَّجُلُ۔ کسی کو ڈرانا۔ الْإِنَاءُ برتن بھرنا۔ السَّامُ۔ کو بان کے لیے لیے ٹکڑے کاٹنا۔ اِرْتَعَبٌ ڈرنا۔
الرَّغِبُ۔ جادو کا منتر۔
الرُّعْبُ وَالرُّعْبُ۔ خوف۔ ڈر۔ تیر میں پیکان لگانے کی جگہ۔ ج۔ رَعْبَةٌ۔

الرُّعْبِيُّ۔ خوف زدہ۔ ڈرا ہوا۔ کہتے ہیں رَجُلٌ رَعِيْبٌ الْعَيْنُ وَمَوْعُوبٌ الْعَيْنُ۔ وہ بزول آدمی جو ہر چیز کو دیکھتے ہی ڈر جائے۔ موٹا۔ چربی دار۔ الرَّحَابُ۔ جادوگر۔ مقفی نثر ہونے والا۔ الرَّعَابِيَّةُ۔ لوگوں کو بہت ڈرانے والا۔ الرُّعْبِيُّ۔ بزول۔ ج۔ رَعَابِيْبٌ (۔) وَالرُّعْبِيَّةُ وَالرُّعِيْبُ، - مِنَ الْجَوَارِي۔ نرم و نازک اندام لڑکی۔
الرُّعْبِيُّ۔ موٹا۔ چربی سے بھرا ہوا۔ التُّرَعِيْبَةُ۔ کو بان کا ٹکڑا۔ ج۔ تَرَاعِيْبٌ رَعْبَلٌ۔ اللَّحْمُ۔ گوشت کے پاپے بنانا، تاکہ آپیخ کے اثر سے اچھی طرح پک جائے۔ التُّوْبُ۔ کپڑا پھاڑنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کا بیوقوف عورت سے شادی کرنا۔
الرُّعَيْلُ۔ مِنَ النِّسَاءِ۔ بے وقوف عورت۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والی عورت۔ جَمَلٌ رَعِيْلٌ۔ موٹا اونٹ۔
الرُّعْبِيَّةُ وَالرُّعْبِيَّةُ۔ پرانا کپڑا۔ ج۔ رَعَابِلٌ وَرَعَابِيْلٌ۔
الرُّعْبِيَّةُ وَالرُّعْبِيَّةُ۔ مِنَ الرِّيَاحِ ایک رخ سے نہ چلنے وال ہوا۔
الرُّعْبِيَّةُ۔ پھٹا ہوا چیترا۔ گوشت کا پارچہ۔
رَعَّتْ دَن، رَعَا وَرَعِيْتُ دَن رَعْنَا۔ العنز۔ بکری کا کنارہ گوش سے سفید ہونا۔
تَرَعَّتْ وَارْتَعَّتْ۔ المَرَاةُ۔ عورت کا بالی پہننا۔
الرَّعْتُ وَالرَّعْتُ۔ رنگین شہم جو ہر دھج کے اوپر لٹکانے میں مختلف رنگ کے

پھندے جو پاکی کے اوپر لٹکتے ہیں۔ رَعْتُ الرُّمَانِ۔ شگوفہ انا۔
الرَّعْشَةُ وَالرَّعْشَةُ۔ کان کی بالی مرغ کی کلفی، مرغ کا تاج۔ ج۔ رَعَاتٌ جج۔ رَعْتُ۔
الرُّعْشَاءُ۔ وہ بکری جس کے دونوں کانوں کا کٹا ہوا حصہ ٹکتا ہو۔
رَعَجَةٌ دَن، رَعَجًا وَرَعَجًا وَرَعَجَةً۔ غنی کرنا۔ بے کل و بے چین کرنا۔
رَعِيْعٌ الرَّبْقُ۔ بجلی کا لگنا، چمکانا۔
الرُّعِيْعُ الرَّجُلُ۔ مال و مویشی کا کسی کے پاس بہت ہونا۔
رَعِيْعٌ دَس، رَعَجًا۔ الْمَالُ أَوِ الْعَدَدُ۔ مال و مویشی کا بہت ہونا۔ الْوَادِي الْوَادِي۔ وادی کا بھر جانا۔
الرُّعِيْعُ الرَّجُلُ۔ کانپنا۔ کہتے ہیں۔ "خَرَجُوا وَأَلْهَمُوا رَعِيْعًا" یعنی وہ ٹھٹھیں مارتے نکلے۔
الرُّعِيْعُ۔ بہت مویشی۔
رَعَدٌ دَن، رَعْدًا وَرَعْدًا۔ السَّحَابُ۔ بادل کا گرجنا۔ کہتے ہیں "رَعْدِي فَلَائِتٌ وَبَرَقٌ" یعنی فلاں نے مجھ کو دھمکی دی۔ "و رَعَدَتِ الْمَرَاةُ دَبْرَقَتْ" عورت کا بناؤ سنگھار کر کے سامنے آنا۔
الرُّعْدُ۔ الرَّجُلُ۔ کسی کو گرج سے تکلیف ہونا۔ گرج سنا۔ زیدًا دھمکی دینا۔ هُ الْخَوْفُ لِرِزَاوِنَا کپکپا دینا۔
الرُّعْدُ۔ کپکپی میں مبتلا ہونا۔ لرزہ محسوس کرنا۔
تَرَعَدٌ۔ حرکت کرنا، کانپنا۔
الرُّعْدُ۔ کانپنا، اضطراب کرنا۔
الرُّعْدُ مَص۔ بادل کی گرج کہتے ہیں "جَاءَ بِذَاتِ الرَّعْدِ وَالصَّلِيلِ" وہ

<p>میں پریکان لگانے کی جگہ بنانا۔ پریکان کی جگہ توڑ دینا۔ رَعَطَهُ - عَنِ كَذَا - سست بنانا۔ جلدی کرانا۔ الوَتَد - کیل کو اکھیڑنے کے لیے بلانا۔ الرُعَط - تیر میں پریکان لگانے کی جگہ۔ ج أَرَعَاظ - کتے میں "کُسِرَ عَلَيْهِ" أَرَعَاظِ النَّبَالِ - وہ اس پر بہت غضبناک ہوا۔ رَعَفَ (ف ن) رَعْفًا - الفَرَسُ النَّجِيلُ - گھوڑے کا اور گھوڑوں سے آگے نکل جانا۔ رَعَفَ (س) رَعْفًا - الدَّمُ - ناک سے نکسیر کا خون بہہ پڑنا۔ نکسیر پھوٹنا۔ ر - وَرَعَفَ (ف ن) رَعْفًا وَرَعْفًا - الرَّجُلُ - نکسیر پھوٹنا۔ رَعَفَ بِهِ الْبَابُ - اچانک اندر آ جانا۔ أَرَعَفَهُ - جلدی کرانا۔ الْقَرِيْبَةُ - مشک کو بھر کر ابال دینا۔ الْقَلَمُ قلم میں سیاہی زیادہ لگا لینا۔ أَرَعَفَ وَأَسْتَرَعَفَ - آگے بڑھنا۔ سبقت کرنا۔ وَأَسْتَرَعَفَتْ الْحَصَى رَجُلَهُ - لکڑیوں نے اس کے پاؤں کو خون آلودہ کر دیا۔ الرَعَفُ - نیزوار بننے کی بھرتی۔ الرُعَاظُ - نکسیر بہت بارش۔ الرُعَاظُ - وہ شخص جس کو نکسیر پھوٹنے کی بڑی شکایت ہو۔ بہت آگے بڑھنے والا۔ الرُعَاظِيُّ - بہت فیاض۔ الرُعَاظُ - فَا - ناک کا کنارہ۔ ہاڑکی چوٹی اور گھوڑوں سے آگے نکل جانے والا گھوڑا۔ ج - رَعَاظُ - الوَاعِظُ نیزے۔ الرُعُوفُ وَالرَّاعُوفُ -</p>	<p>تَرَعَسَ وَارْتَعَسَ - کانپنا۔ لرزنا۔ الرُعُوسُ - خوشی یا نیند کی وجہ سے سر ہلانے والا۔ نَاقَةٌ رَاعِسَةٌ چست اونٹنی۔ الرُعَيْسُ - چلنے میں ڈمک گانے والا۔ کانپنے والا۔ الرُعَسُ - خیس آدمی۔ رَعَشَ (س) رَعَشًا وَارْتَعَشَ - کانپنا لرزہ پڑنا۔ مَفَتَ رَعَشٌ وَ رَعِيشٌ أَرَعَشَهُ وَرَعَشَهُ - کپکپا دینا۔ لرزہ ڈال دینا۔ عاجز کرنا۔ الرَعِيشُ وَالرَّعِيشُ - بزدل۔ جلد باز۔ الرُعِيشَةُ - عجلت۔ جلدی۔ الرُعَاشُ - مرض کے باعث انسان کو لاحق ہونے والی کپکپی۔ نَاقَةٌ رَعُوشٌ - وہ اونٹنی جس کا سر بڑھا پے کی وجہ سے ہے۔ الرُعَشَاءُ - مِنَ النَّمَامِ - تیز رفتار شتر مرغ۔ مِنَ السُّوقِ - تیز رفتاری کی وجہ سے جھوم کر چلنے والی اونٹنی۔ الرُعُوشُ وَالرُّعُوشُ - سفید کبوتر جو اونچی اڑان بھرتا ہے۔ الرُعُوشُ - کانپنے والا۔ بزدل۔ جلدی کرنے والا۔ رَعَصَ (ف) رَعَصًا وَارْعَصَ - الشيءُ - حرکت دینا۔ ہلانا۔ کھینچنا۔ - عَلَيْهِ جَلْدًا - کھال کا پھڑکنا تَرَعَصَ وَارْتَعَصَ - مَرَجَ كَهَاتَا - ہلنا حکرت - عَلَيْهِ جَلْدًا - کھال کا پھڑکنا۔ الْجَدِيُّ - بکری کے بچہ کا خوشی سے پھدکنا۔ اچھلنا۔ رَعَطَ (ف) رَعَطًا - السَّمُّ - تیر</p>	<p>لڑائی لایا۔ الرُعْدَةُ وَالرَّعْدَةُ - کپکپی جو خوف وغیرہ سے لاحق ہو۔ لرزہ۔ الرُعَادُ - بہت بولنے والا۔ بہت گرجنے والا بادل، ایک قسم کی پھلی جس کے چھوٹے سے بدن کانپنے لگتا ہے۔ الرُعَادَةُ - بہت بولنے والا۔ الرَّاعِدَةُ - گرجنے والا بادل۔ مَصَلَفٌ تَحْتَ الرَّاعِدَةِ - اس شخص کو کہتے ہیں جو فضول نہا کبواسی ہو۔ کام کی بات نہ کہتا ہو۔ ج - رَوَاعِدُ - ذَاتُ الرَوَاعِدِ - مصیبت۔ رَعْدَدَ - اصرار کے ساتھ مانگنا۔ تَرَعَّدَ - کپکپی پڑنا۔ الرُعْدِيدُ وَالرَّعْدِيدَةُ - بزدل۔ بہت کانپنے والا۔ نَبَاتٌ رَعْدِيدٌ - نرم و نازک نبات۔ ج - رَعَادِيدٌ - رَعْرَعُ - المَاءُ - پانی کا سطح زمین پر لہریں مارنا۔ الفَرَسُ - گھوڑے پر اس کو سدھانے کے لیے سوار ہونا۔ - عَالِدًا - اگانا۔ تَدْرَعُ - الصَّبِيُّ - بچہ کا بڑھنا۔ جوان ہونا۔ المَاءُ أَوْ السَّرَابُ - پانی یا سرب کا جنبش و حرکت میں ہونا۔ السِّنُّ - وانت کا ہلنا۔ الرُعْرَعُ وَالرَّعْرَعُ وَالرُّعْرَعُ - خوبصورت قد و جوانی والا۔ ج - رَعْرَعٌ وَرَعَارِيْعٌ وَالرُّعْرَعُ - بزدل، لمبا نرکل۔ رَعَسَ (ف) رَعَسًا - کانپنا۔ ٹھکن وغیرہ سے کمزور چال چلنا۔ ر - رَعَسًا وَرَعَسَانًا - رَأْسَهُ سر کو بڑھا پے کے سبب ہلانا۔ أَرَعَسَهُ - کپکپا دینا۔ لرزادینا۔</p>
---	---	--

وَالرَّاعُونَ وَالرَّاعُونَ -
 مِنَ الْبَيْتِ - کنویں کا پتھر جس پر کھڑے
 ہو کر پانی نکالیں۔
 الرَّعُونَ - بلی بارشیں۔
 الْمَرَاعَةُ - ناک اور اس کے آس پاس
 کی جگہ۔ فَعَلَتْهُ عَلَى الرَّعْرِ
 مِنْ مَرَاعِيهِ - میں نے اس کو
 اس کی مرضی کے خلاف کیا۔
 الْمُسْتَرَعِفُ - آگے رہنے والا گھوڑا۔
 رَعَى دَفْرًا رَعَاً وَرَعِيْقًا - بَطْنُ
 الدَّابَّةِ - دوڑتے وقت جانور کے
 پیٹ سے آواز نکلنا۔
 رَعَلَ دَفْرًا رَعْلًا - الشَّيْءُ شَكَاةً
 فَرَاخَ كَرْنَا - فُلَانًا - زور سے
 نیزہ مارنا۔
 رَعِلَ دَسْرًا رَعْلًا - بیوقوف ہونا۔
 النَّبَاتُ - پودے کی شاخوں کا لٹکنا
 اور لمبا ہونا۔ صفت (الرَّعْلُ)
 رَعْلٌ - الضُّكُومُ - انگور کی بیل کا
 بھونٹنا۔
 ارَعَلَهُ - زور سے نیزہ مارنا۔
 اسْتَوْعَلَتْ - الغنم - بکریوں کا
 آگے پیچھے چلنا۔ اسْتَوْعَلَ
 الرَّجُلُ - کسی کا جنگ میں سب
 سے آگے آگے چلنا۔
 الرَّعْلُ - احمق۔ مؤنث۔ دَعْلًا -
 ج۔ رُعْلٌ بِلْبِيٍّ اور رُعْلٌ بِلْبِيٍّ شَاخٌ
 واهل نبات۔
 الرَّعْلُ - پہاڑ کی نکل ہوئی چوٹی۔ کپڑے۔
 الرَّعْلُ - شہد کی نر مکھی۔ الرَّعَالُ
 ناک کی ریورس۔
 الرَّعَالَةُ - حاقق۔
 الرَّعْلَةُ - شتر مرغ، خاندان، عیال
 گھوڑوں یا گایوں کا گلہ۔ بری قسم کی
 کھجور کا درخت۔ کونیل، ایک پودے

کا نام۔ ج۔ رِعَالٌ وَارْعَالٌ -
 وَارْعِيْلٌ - آرَاعِيْلٌ -
 الرِّبَاسُ أَوِ السَّمَابُ - ہواؤں کے
 پیلے جھونکے یا ابتدائی باد۔
 الرَّعْدَةُ - انگورو وغیرہ کی کونیل۔ ج۔
 رُعْلٌ - ریمان و آس وغیرہ سے
 تیار کردہ تاج۔
 رَعِيْلٌ - آگے رہنے والا گھوڑوں کا گلہ،
 اور ریور یا آدمیوں کا گروہ یا پرندوں
 کا ٹولہ۔ ج۔ رِعَالٌ -
 الْمُرْعَلُ - عمدہ مال۔
 الْمُسْتَرَعِلُ - گلہ سے نکلا ہوا جانور۔
 رَعَمَدَنٌ رَعْمًا - الشَّيْءُ - نگہبانی
 کرنا۔ الشَّمْسُ - سورج کے
 ڈوبنے کا انتظار کرنا۔
 رَعَمْتُ دَفْرًا وَرَعَمْتُ دَكًا
 رَعَامَةً - وَارَعَمْتُ -
 الشَّاقَةُ - بکری کا بہت دہلا ہونا اور
 اس کی ناک سے ریزش ہونا۔ صفت
 (رَعُومٌ)
 رَعَمَ - الشَّاقَةُ - بکری کی ناک کی
 ریزش صاف کرنا۔
 الرَّعَامُ - نظر کی تیزی۔
 الرَّعَامُ - رینٹ، ناک، رطوبت۔ ج۔
 ارَعِمَةٌ -
 الرَّعَامَةُ وَ الرَّعَامِي - ایک قسم کا درخت
 الرِّعْمَةُ - جہنم - اُمْدِرَعْمَةُ - بھجور۔
 الرَّعُومَةُ - نفس۔
 رَعْنٌ رَنٌّ رَعْنًا وَرَعْنٌ دَسْرًا رَعْنًا -
 وَرَعْنٌ دَكٌّ رَعُونَةٌ - بیوقوف
 ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ بے احتیاط ہونا۔
 کلام میں بے وقوف اور طیش والا ہونا۔
 صفت (ارَعْنٌ)
 رَعْنَتُهُ دَنٌّ رَعْنًا - الشَّمْسُ
 دھوپ سے دماغ کا متاثر ہونا اور

بیہوش ہونا۔
 الرَّعْنُ - مص - پہاڑ کی چوٹی، بلند پہاڑ۔
 ج۔ رِعَانٌ وَرَعُونٌ -
 الرَّعْنُ - چوٹی والا۔
 الرَّعُونُ - تیز حرکت کرنے والا، یا بہت
 حرکت کرنے والا۔ رات کی تاریکی۔
 رَعَابِدُ رَعُونًا وَرَعُونَةً - اپنی
 جہالت و غلطی سے باز آنا۔ اسم۔
 (الرَّعَوِيُّ وَ الرَّعِيَا)
 ارَعَوِيٌّ ارَعَوَاءٌ - مِنَ الْجَهْلِ
 جہالت سے رکنا۔ باز رہنا۔ صفت
 (مَرَعِيٌّ) رجوع کرنا۔
 رَعِيٌّ يَرَعِي رَعِيًّا وَرَعِيَّةً وَ
 مَرَعِيٌّ - المَاشِيَةُ الكَلَاءُ
 مویشی کا گھاس چرنا۔ المَاشِيَةُ
 مویشی کو گھاس چرانا۔ النُّجُومُ -
 ستارے دیکھنا۔ الرَّعِيُّ
 رَعِيَّتَهُ رَعِيَّةً - اپنی رعایا پر سیا
 رانی کرنا۔ انتظام ملکت انجام دینا۔
 - عَلَيْهِ حِرْمَتٌ كَالْحَافِظِ كَرْنَا -
 - الْأَمْرُ - حفاظت کرنا۔
 رَاعِيٌّ مَرَاعَاةً - النُّجُومُ - ستاروں
 کو دیکھنا۔ الامر - حفاظت کرنا۔
 نتیجہ و انجام پر نظر رکھنا۔ الرَّجُلُ -
 کسی کے حق پر نگاہ رکھنا۔ رَاعِيٌّ
 الارضُ - زمین کا بہت چراگاہ والی ہونا۔
 رَاعِيَّتُهُ سَمْعِيٌّ - میں نے اس کی
 طرف کان لگایا۔ هُوَ لَا يَرَاعِي إِلَى
 قَوْلِ أَحَدٍ - یعنی وہ کسی کی بات
 پر دھیان نہیں دیتا۔ الْجِمَارُ
 الحُمْرُ - گدھے کا اور گدھوں کے
 ساتھ چرنا۔
 ارَعِيٌّ ارَعَاةً - المَاشِيَةُ - مویشی
 کو چرانا۔ المَكَانُ - کسی جگہ کو
 چراگاہ بنانا۔ عَلَيْهِ - کسی پر

<p>رَعْمَةٌ - ذیل کرنا اور رعما رعما کرنا أَلْفٌ : خاک آرو کرنا - کہا جاتا سے کہ رَعْمَ اللّٰهُ أَلْفٌ - اللّٰهُ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے۔ فَلَانٌ أَلْفٌ - فروتنی کرنا۔ رَاعِمَةٌ - باہم غضبناک ہونا۔ ایک دوسرے کو چھوڑنا اور آپس میں دشمنی کرنا۔ غصہ سے علیحدگی اختیار کرنا۔ أَرَعَمَكَ - ذیل کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناپسندیدہ کام پر بھڑکانا۔ اکسانا۔ الذَّلُّ - گرو آلود کرنا۔ أَرَعَمَ أَهْلَكَ - اپنے اہل کو ناخوشی سے چھوڑ دینا۔ اللُّقْمَةُ مِنْ فَيْلِكَ - منہ کے لقمہ کو مٹی میں ڈالنا۔ - أَلْفٌ أَلْفٌ - ذلیل کرنا۔ تَرَعَّمَ - علیہ۔ غضبناک ہونا۔ تَرَعَمْتُ الرَّجُلَ - میں نے اس کے خلاف طبع کام کیا۔ الرَّعْمُ وَالرُّعْمُ وَالرُّعْمُ - ناپسندیدگی۔ جبر۔ ذلت۔ مٹی۔ آتی علی رعینہ۔ وہ اپنی خلاف مرضی آیا۔ الرَّاعِمُ - فا۔ رَاعِمُ الأَنْفِ - ذلیل۔ ج۔ رُعْمُ الأَنْفِ - الرَّعَامُ - مٹی۔ یا مٹی اور ریت ملی ہوئی۔ الرَّعَامُ - رینٹ، ناک کی رینٹس۔ ج۔ أَرَعَمَكَ - الرَّعَامَةُ - حاجت۔ ضرورت۔ "لی عِنْدَ ذَٰلِكَ رِعَامَةٌ" - فلاں کے پاس میری حاجت ہے۔ الرَّعِيمُ و الرَّعْمُ - ج۔ مَرَاعِمُ و الرَّعَامِي - ناک۔ الرَّعَامُ - منع۔ بھاگنے کی جگہ۔ جانے کی جگہ۔ قلعہ۔ جائے پناہ۔ الرَّعَامُ - غضبناک کرنے والا۔ غصہ میں لانے والا۔ مَوْتٌ - مَرَعَامَةٌ -</p>	<p>شعب کرنا۔ رَعَفَ دَفٌّ رَعْفًا - العَجِينِ گندھے ہوئے آٹے کا پیڑہ بنانا۔ البعير - اونٹ کو لقمہ دینا۔ أَرَعَفَ - چلنے میں تیزی کرنا۔ الیہ تیز نظر سے دیکھنا۔ الرَّعِيفُ - گندھے ہوئے آٹے کا پیڑہ۔ روٹی چھاتی۔ ج۔ أَرَعِفَةٌ و رَعْفٌ و رَعْفٌ و رَعْفَانًا و تَرَاعِيفٌ - رَعْلٌ دَفٌّ رَعْلًا - الولدُ أُمَّةُ بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ أَرَعَلَ - الرَّجُلُ - خطا کرنا۔ بسکنا۔ گمراہ ہونا۔ الیہ۔ مائل ہونا۔ الرَّسْعُ - کھیتی کے خوشوں میں واہ پڑنا۔ الشَّيْءُ حَيْزٌ كَوْبٌ جَلَّ رَعْنًا - الجَدِيُّ أُمَّةُ - بکری کے بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ الأُمُّ وَكَدَّهَا - ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا۔ - المَكَانُ - کسی جگہ غل گھاس اگانا۔ المَاءُ - پانی بہت کرانا۔ الرَّعْلُ - ایک تلخ گھاس۔ ج۔ إِذْعَالٌ - الرَّعْوَلُ - اپنی ماں کا دودھ پینے والا بکری کا بچہ۔ کہتے ہیں "هُوَ رَعْدٌ" رَعْوَلٌ "وہ سب کچھ کھالینے والا اور ہر چیز کو غنیمت سمجھنے والا ہے۔ الأَرَعْلُ - مِنَ العَيْشِ - آسودہ زندگی۔ رَعْمَةٌ دَفٌّ رَعْمًا - کسی کو مطلوب و مقہور کرنا۔ رَعْمَ الشَّيْءِ - کسی شے کو ناپسند کرنا۔ رَعَمَدَسٌ و رَعَمَدَنٌ رَعْمًا و رَعْمًا - أَلْفٌ يَلِيهِ - ذلیل ہونا فروتنی کرنا۔ صفت ر رَاعِمٌ الأَنْفِ - ج۔ رُعْمُ الأَنْفِ - و رَعْمَةٌ - ناپسند کرنا۔</p>	<p>اپنی ماں کا دودھ پینا۔ الرَّعْتَاءُ - پستان میں دودھ کی آمد کی رگیں۔ المَرَعْتُ - انگلی میں انگشتری پہننے کی جگہ۔ رَعِدَ دَسٌ رَعْدًا - و رَعْدٌ دَكٌ رَعَادَةٌ - عَيْشَةٌ - زندگی کا خوشحال و بامزہ ہونا۔ عیش کی صفت رَعْدٌ و رَعْدٌ و رَعِيدٌ - ہے۔ أَرَعَدَ - القَوْمُ - خوشحال ہونا اور آسودہ زندگی گزارنا۔ مَوَاشِيَهُمْ قوم کا اپنے مویشی کو آدھی سے چرنے دینا۔ أَلْفٌ عَيْشَةٌ - اللّٰهُ اس کی زندگی کو آسودہ حال بنائے۔ أَرَعَادَ - رائے میں متروک ہونا۔ دودھ کا قدرے گاڑھا ہونا اور لورا نہ جمانا۔ اسْتَرَعَدَ - العَيْشُ - زندگی کو آسودہ پانا۔ الرَّعْدُ - (مذکورہ مَوْتٌ، واحد و جمع) فراخ زندگی گزارنے والا۔ الرَّعِيدَةُ - ایک قسم کا کھانا جو دودھ اور آٹے سے تیار کیا جاتا ہے۔ المَرَعْدَةُ - باغ۔ رَعْرَعٌ - فراخ عیش ہونا۔ دَعْرَعَتِ الإِبِلِ - اونٹوں کا ہر روز جب چاہیں پانی پر جانا۔ الامر - کسی معاملہ کو چھپانا۔ رَعَسَهُ دَفٌّ رَعْسًا و أَرَعَسَهُ - اللّٰهُ مَا لَأَوْ كَدًا - الشُّكَاكِيُّ کو مال اور اولاد بہت دینا۔ اسْتَرَعَسَهُ - نرم سمجھنا۔ الرَّعِيسُ - نعمت۔ برکت۔ نمونہ۔ ج۔ أَرَعَسَ - المَرَعِسُ - مِنَ العَيْشِ - فراخی کی زندگی۔ رَعَشَ دَفٌّ رَعَشًا - علیہ۔ شور و</p>
---	---	---

رَعْنٌ دُونَ رَعْنًا - نیشہ۔ طع کرنا۔
 لالچ کرنا - لَيْبٌ۔ کان لگانا۔
 ارْعَنْهُ۔ طع و لالچ دلانا۔ ارْعَنْ
 الامْرَ۔ آسان و سہل کرنا۔ الیہ
 کان لگانا۔ ارْعَنْ بَعْلًا۔ کسی کی
 اطاعت کرنا۔
 الارْعُنُّ۔ والارْعُونُ۔ آرگن۔ ایک
 قسم پاجہ کا نام ہے۔
 رَعَادٌ، رَعَاؤُ - البعيرُ أو النعامُ
 أو الضبیحُ۔ اونٹ کا بیلانا یا شتر
 مرغ اور بچو کا بیچنا چلانا۔ الصبیحُ
 بچہ کا بہت رونا۔ الرَعْدُ۔
 بادل کا زور سے کڑکنا، گرجنا۔
 رَعَادٌ، ارْعُوا و ارْعَى تَرْغِيَةً و
 ارْعَى ارْعَاءً - اللبَنُ و
 نَحْوُهُ۔ دودھ وغیرہ میں جھاگ اٹھانا۔
 کہتے ہیں: "ارْعَى الرَّجُلَ وَازْبَدًا"
 آدمی غصہ سے چیخا اور اس نے دھمکی
 دی: "أَيْتَهُ كَمَا اتْعَى وَلَا ارْعَى"
 میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھ کو
 نہ بکری دی۔ نہ اونٹنی۔ ک۔ کسی
 کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا۔ و ارْعَى
 حَلَانًا۔ کسی کو غضب ناک کرنا۔
 ارْعَى - اللبَنُ۔ دودھ سے جھاگ
 اتارنا۔ الرِغْوَةُ۔ جھاگ پینا۔
 الرِغْوَةُ - ج۔ رُغِي و رُغِي و الرِغَايَةُ
 والرِغَايَةُ والرِغَاوَةُ - و
 الرِغَاوِيُّ والرِغَاوِيُّ - مِن
 اللبَنِ۔ دودھ کے جھاگ۔
 الرِغِيَّةُ۔ اونٹنی، کہتے ہیں: مَا لَهُ
 تَرْغِيَةٌ وَلَا رِغِيَّةٌ۔ یعنی نہ اس
 کے پاس بکری ہے نہ اونٹنی۔
 الرِغَاوَةُ۔ کف گیر۔
 المَرْغِيُّ۔ مہم کلام۔
 رَفَّ دُونَ رَفًّا - بہت کھانا۔ ک۔

کسی کی خدمت کرنا۔ احسان بھلائی
 کرنا۔ ہر قسم کی خدمت کرنے میں کوشش
 کرنا۔ النامُ یہ۔ لوگوں کا کسی
 کو گھیر لینا۔ بہ۔ اکرام و عزت
 کرنا۔ البَيْتُ۔ گھر کے لیے
 اگنی بنانا۔ الی کَذَا۔ خوش
 ہونا۔ رَفَّتْ عَيْنُهُ۔ آنکھ کا
 پھڑکننا۔ البروقُ۔ بجلی کا چمکنا۔
 کوندنا۔ شَفَقْتِيهِ۔ ہونٹ
 چوسنا۔ اللبَنُ۔ دودھ ہر دن
 پینا۔ تَوْبَةٌ۔ دوسرا کپڑا لگا کر
 اس کو نیچے سے کشادہ کرنا۔
 الدَّائِيَةُ۔ جانور کا بھوسہ کھلانا۔
 رَفَّ (ض) رَفًّا و رَفِيْقًا و ارْتَفَّ -
 النَّبَاتُ۔ سبزہ کا بلند ہونا۔ رَفَّتْ
 الْعَيْنُ۔ آنکھ کا پھڑکننا۔ رَفَّتْ
 الْبُرُقُ۔ بجلی کا کوندنا۔ رَفَّتْ
 لَوْنُهُ۔ رنگ کا چمکنا، تھمتانا۔
 ارْفَّ - ارْفَاقًا - الطَّائِرُ۔ پرندے
 کا اپنے بازوؤں کو پھیلاتا۔
 الرِّفْقُ - مہن۔ اگنی یا مچان۔ ریت کی
 باریک ٹوک۔ مویشی کا گلہ یا ہرندوں
 کا ٹولہ۔ بکریوں کا بارڈہ، زم و ملائم کپڑا۔
 ج۔ رِفْوَةٌ و رِفَاقٌ -
 الرِّفَاقُ۔ اونٹوں کا گلہ، ہر روز کا پینا۔
 کہتے ہیں: أَخَذْتَهُ الرِّفْقَ رِفَاقًا
 اس کو ہر روز بخار آیا۔
 الرِّفْقُ والرِّفْقَةُ۔ بھوسہ، بھوسہ کا
 چورا۔
 الرِّفَاقُ۔ بھوسہ کا چورا۔
 الرِّفِيفُ۔ چھت۔ فراخ سالی۔
 رَفِيْفٌ۔ رَفِيْفٌ الرِّفَاقُ۔ اچھے
 اخلاق والا نوجوان۔
 الرِّفَاقُ۔ مبالغہ، زیادہ چمک دار۔
 کہتے ہیں: تَغَرَّرَ رِفَاقٌ۔ یعنی چمکدار

وانت۔
 رَفًّا رَفًّا الثَّوْبُ۔ کپڑے کی پھٹن کو سینا
 رفو کرنا۔ ک۔ کسی کو خوف سے
 تسکین دینا۔ مدودینا۔ بِنَاكُهُمْ
 صلح کرانا۔ السِّفِيْنَةُ کشتی یا جہاز
 کو کنارے کے قریب کرنا۔
 رَفَّاهُ۔ تَرْفِيَةً و تَرْفِيَةً۔ کسی کو
 مبارک باد دینا۔ اور بِالرِّفَاقِ و
 البَيْنِینِ۔ کہنا۔ ان الفاظ سے شادی
 شدہ کو دعا دی جاتی ہے۔ یعنی تم
 دونوں کے درمیان اتفاق و اتحاد رہے
 اور تم کو اولاد نصیب ہو۔
 ارْفًا - اِلْيَهِ۔ قریب ہونا۔ پناہ لینا
 - الشَّيْءُ اِلَيْهِ۔ قریب کر دینا۔
 الرَّجُلُ۔ کنگھی کرنا۔ السِّفِيْنَةُ
 کشتی کا کنارے سے قریب ہونا۔
 ارْفَاةٌ و رَافَاةٌ۔ مدارات سے پیش
 آنا۔ مدو کرنا۔
 تَرَفًّا - القَوْمُ۔ علی الشَّيْءِ۔ آپس
 میں اتفاق کرنا۔ باہم مدو کرنا۔
 الرِّفَاقُ۔ اتفاق۔
 المُرْفَاةُ و المِرْفَاةُ۔ مِنَ الْبَحْرِ۔
 بندرگاہ۔ ج۔ مَرَاغِي۔
 رَفَّتْ (ض) رَفًّا۔ الشَّيْءُ۔ توڑنا۔
 کھٹنا۔ ر۔ و ارْفَتَّ و تَرَفَّتْ
 لَوْنًا۔ کھٹنا۔ العَطْفُ۔ چورا
 چورا ہونا۔ الحَبْلُ۔ رسی کٹ جانا۔
 الرِّفْقُ۔ بھوسہ۔ ہر چیز کو توڑنے والا۔
 الرِّفَاقُ۔ چورا۔ ریزہ۔ ہر ٹوٹی چیز۔
 بوسیدہ۔
 رَفَّتْ رَفًّا و رَفَّتْ (س) رَفًّا۔
 و ارْفَتَّ۔ فی کلامہ۔ فحش گوئی کرنا۔
 الرِّفْقُ۔ مص۔ فحش کلام۔
 رَفَّحَهُ۔ نئی شادی والے کو مبارک باد
 دینا۔

رَفْعٌ - عَيْشٌ رَافِعٌ - آسودہ زندگی۔

الرَّفُوحُ - مصائب۔

رَقْدَةٌ (رض) رَقْدٌ أَوْ رَقْدَةٌ - دینا۔

عطیہ بخشنا۔ مدد دینا۔ رَقْدَ الْحَالِطِ

دیوار کو سہارا دینا۔ ایک لگانا۔ رَقْدَ

الدَّائِئَةِ وَعَلَيْهَا أَرَقَدَ لَهَا۔

جانور کے لیے پالان بنانا، اس پر

پالان ڈالنا۔

رَأَقَدًا - مدد دینا۔

رَقْدَةٌ - تعظیم کرنا۔ سردار بنانا۔

تَرَاقَدَ - القوم - باہم مدد کرنا۔

أَرَقَدَ - المال - مال لگانا۔ حاصل کرنا۔

أَسْتَرَقَدَ - بخشش چاہنا۔ مدد طلب کرنا۔

الرَّفْدُ - مص - حصہ بڑا پیالہ کہتے ہیں۔

"أَرِيقُ رَفْدَةٍ"

الرَّفْدُ - بخشش۔ مدد۔ بڑا پیالہ۔ ج۔

أَرَقَادٌ وَرَفُودٌ۔

الرَّفْدَةُ - لوگوں کا گروہ۔ ج۔ رَفْدٌ۔

الرَّوَادِفُ (دفا) بادشاہ کی عدم موجودگی میں اس

کا جانشین۔ قائم مقام۔ ج۔ رَفْدٌ۔

الرَّوَادِفِ - دجلہ و فرات۔

الرَّوَادِفَةُ - پل کے اوپر چھت کی لکڑی۔ عوم

اس کو وصلہ کہتے ہیں۔ ج۔ رَوَافِدُ

الرَّوَادِفَةُ - زخم کی پٹی، زین۔ زین یا کجاوہ

کے سہارے کی چیز۔ نَاقَةٌ رَفُودٌ

وہ اونٹنی جو ایک ہی بار دودھ سے

بڑا پیالہ بھر دے۔ ج۔ رَفْدٌ۔

الرَّفْدُ وَالْمَرْفَدُ - مدد۔ ج۔

مَرَادٌ۔

الرَّفْدُ - بڑا پیالہ۔ ج۔ مَرَادٌ۔

الرَّفْدُ - بکریاں جو موسم سرما و گرما میں

لگاتار دودھ دیں۔

رَفْرَفٌ - الطائر - پرند کا پڑ پڑانا۔

الشيء - آواز کرنا۔

الرَّفُوفُ - لکڑی وغیرہ کی الگنی یا چمان جس

پر لکڑی چیزیں رکھتے ہیں، خمیرہ کا واسی

زرہ کے کنارے، زرہ کا ٹکٹے والا

حصہ۔ درخت یا پودے کی ٹکٹے والی

شاخ۔ ہرزائد موڑی ہوئی شے۔

فرش، بچھونا، تکبیر۔ ریشمی باریک کپڑا

کپڑے کا ٹکڑا جو پروں اور خیموں

کے زیریں حصے میں سیا جاتا ہے۔

ج۔ رَفْرَفٌ۔

الرَّفُوفُ - ایک قسم کا پرند۔

رَفْسَةٌ (رض) رَفْسٌ أَوْ رَفْسَةٌ سِينَةٌ

پر مارنا۔ البعير۔ اونٹ کے

پاؤں باندھنا۔ اللَّحْمُ وَنَحْوَهُ۔

گوشت وغیرہ کا قیمہ بنانا۔

الرَّفَاسُ - اونٹ کے پاؤں میں باندھنے

کی رسی۔ الرَّفْسَةُ - سینہ پر لات

مارنا (نَاقَةٌ رَفُوسٌ) وہ اونٹنی

جولات مارے۔

رَفْسٌ (رض) رَفْسًا - خوب کھانا پینا۔

الرَّقْمُ - گیوں کو بیلیج سے اٹھا کر

لے جانا۔ الشيء - کوٹنا۔ د۔

رَفُوسًا (رض) رَفُوسًا - کٹا ہوا۔

رَفْسٌ (رض) رَفْسًا - چوڑے کانوں والا

ہونا۔ صفت (الرَّفْسُ) - مؤنث

رَفْسَاءٌ - ج۔ رَفْسٌ

رَفْسٌ - رَجَبِيَّةٌ - دالھی میں کنگھا کرنا۔

الرَّقَاشُ - بیلیج سے غلہ کا ڈھیر لگانے والا۔

الرَّفْسِيُّ - مص - بیلیج کشتی کا چپو۔

الرَّفْسَةُ - بیلیج۔

رَفَصٌ - تَرَفَصُوا الرِّمَاءَ - گھاٹ پر

باری باری سے اترنا۔ ہر آنے والے کو

رَفِيفٌ کہتے ہیں۔

أَرَقَصَ - السَّعْرُ - ہواؤں کا چلنا۔ گرانی ہونا۔

الرَّفِيفَةُ - پانی پینے کی باری۔

رَفَصٌ (رض) رَفَصًا وَرَفَصًا - الشيء

پھینکا۔ چھوڑنا۔ صفت (رَفِيفٌ)

ج۔ رَافِضُونَ وَرَفِضَةٌ - و

رَفَاضٌ (رض) رَافِضٌ (الْإِبِلُ -

اونٹوں کو چراگاہ میں متفرق چھوڑ

دینا۔ وَرَفِضٌ وَرَفِضٌ -

الوَادِي - وادی کا کشادہ ہونا۔

رَفِضَتَانِ رَفُوضًا - الْإِبِلُ -

اونٹوں کا چرواہے کے سامنے تشریف

ہو کر چرنا۔ جَدًا جَدًا چرنا۔

تَرَفِضٌ - بکھڑا۔ متفرق ہونا۔ ٹوٹنا۔

الدَّمْعُ - آنسوؤں کا بہنا۔ ٹپکنا۔

أَرَقَصَ الدَّمْعُ - آنسو بہنا۔ ٹپکنا۔

الْجَرْمُ - زخم کا پھٹ جانا۔ پیپ بہانا

الشيء - متفرق ہونا۔ اور اسی سے ہے

أَرَقَصَ النَّاسُ عَتَهُ - لوگ اس کو چھوڑ

کر ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔

الرَّوَجِيُّ - درویش۔

الرَّوَجِيُّ - الوَادِي - وادی کا

کشادہ ہونا۔

الرَّفِضُ - مص - ج۔ رَفَاضٌ -

وَالرَّفِضُ - ج۔ أَرَفَاضٌ - اونٹوں یا

ہرنیوں کا بکھرا ہوا گلہ و ریوڑ چیز کا بکھرا

ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز کہتے ہیں۔ رَفِي

الرَّفِيفَةُ رَفِيفٌ مِمَّنْ مَاءٌ - مشک

میں تھوڑا سا پانی ہے۔

الرَّافِضَةُ - لڑائی وغیرہ میں اپنے پیشوا و

رہنما کو چھوڑ دینے والا گروہ۔ ج۔

رَوَافِضٌ - اسی سے ان کا یہ قول

ہے: "لَا خَيْرَ فِي الرَوَافِضِ" - یعنی

روافض میں بھلائی بالکل نہیں ہے۔

کی ایک جماعت۔ نسبت کے لیے۔

(رَافِضِيٌّ)

الرَّفَاضُ - پریشان راستے۔

الرَّفَاضُ - مِنَ الشَّيْءِ - چیز کے ٹکڑے

ہونے۔

الرَّفِيفُ - علوہ علوہ بکھرا ہوا گھاس

پھینکا۔ چھوڑنا۔ صفت (رَفِيفٌ)

Marfat.com

Marfat.com

رُفُوضُ النَّاسِ - لوگوں کے گروہ۔
 رُفُوضُ الْأَرْضِ - غیر ملوکہ زمین۔
 حَتَّى - بننے کے بعد چھوڑی ہوئی زمین۔
 السَّرْفِيزُ - چھوڑا ہوا پسینہ۔ ٹوٹا ہوا نیزہ۔
 المَرْفِيزُ - مِنَ الْوَادِي - سیلاب بننے کی جگہ سے مَرَاْفِيزُ۔
 رَفَعَهُ (رَف) رَفَعًا - الشَّيْءَ - اٹھانا۔
 - فَلَا نَأْتِي عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْمَجْلِسِ - کسی کو مجلس میں آگے بڑھانا۔ الْكَلِمَةَ - کلمہ پر رفع کی علامت لگانا۔ الشَّيْءَ - لینا۔
 الشَّيْءُ فِي حِزَانَتِهِ - چھپانا۔
 الْجَمَلُ فِي السَّبْرِ - چلنے میں تیزی کرنا۔ الْقَوْمُ - ملک میں بڑھتے چلے جانا۔ الْجَمَلُ - اونٹ کو تیز ہانکنا۔ الْحَدِيثُ - حدیث کی سند بے قائل تک پہنچانا۔ رَفَعًا وَرَفَاعًا وَرَفَاعَةً - الْقَوْمُ الْمَرْفُوعُ - لوگوں کا فصل کو کٹائی کے بعد کھلیان میں لے جانا۔ د۔
 رَفَعًا وَرَفَاعًا، زَيْدًا لَمْ يَلِ الْحَاكِمُ - فیصلے کے لیے حاکم کے پاس لے جانا۔ هُ إِلَى السُّلْطَانِ بَادِشَاهِ كَيْ يَسَلِّمَ لَمْ يَلِ الْوَالِي - ہذا اَمْرٌ يَرْفَعُ الرَّاسَ - یہ امر سر بلندی نصیب کرتا ہے یعنی مجدو بزرگی کا سبب بن جاتا ہے فُلَانٌ لَا يَرْفَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ - یعنی فلاں بہت سرفر کرتا ہے۔
 رَفَعَهُ دَك، رَفَعَهُ وَرَفَاعَةً - تدریس بلند ہونا۔ بلند درجہ والا ہونا۔ صفت (رَفِيعٌ) وَرَفَعَهُ رَفَاعَةً - بلند آواز ہونا۔ الثَّوْبُ - کپڑے کا باریک ہونا۔ صفت (سَرَفِيعٌ)

رَفَعَهُ لَهُ - الشَّيْءَ - دور سے دیکھنا۔
 رَفَعَهُ - بلند کرنا۔ رَفَعَهُ الْقَوْمُ - قوم کو لڑائی سے دور کرنا۔
 رَأْفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ - حاکم کے سامنے کسی کی شکایت کر کے حاضر کرانا۔ هُ - کسی سے تعلقات قطع کر لینا۔ يَهْجُ - رحم کرنا۔
 تَرَفَعَهُ - اپنی برتری جتانا۔ غرور کا اظہار کرنا۔ الشَّيْءَ - اَوِ الرَّجُلَ - بلند کرنا تَرَأْفَعًا - ایک دوسرے کو بلند کرنا، اٹھانا۔
 - الْخَصْمَانِ إِلَى الْحَاكِمِ - دو خصموں کا حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لے جانا۔
 اِرْكَفَعَهُ - بلند ہونا۔ السَّيْعَةُ - بھاؤ کا چڑھنا۔ النَّهَارُ - دن کا لمبا ہونا۔ دِنٌ يَرْفَعُنَا - مِنْ بَيْنِهِمُ الْخِصَامُ - جھگڑا رفع دفع ہونا۔
 اسْتَرْفَعَهُ - الشَّيْءَ - اونچا کرنے کی درخواست کرنا۔ اٹھانے کو کہنا۔
 الْيَخْوَانُ - دسترخوان کا کھانے سے خالی ہو کر اٹھانے جانے کے قریب ہونا۔
 الرَّافِعُ (رَف) بَرَقَ دَافِعٌ - چکنے والی بجلی۔
 الرَّفْعَةُ - مص - قدم و منزلت کی بلندی۔ الرَّفَاعُ وَالرَّفَاعُ - کہیتی میں دانہ کا موٹا پڑنا۔ کئی ہوئی فصل کو کھلیان میں لے جانا۔
 الرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعَةُ - مِنَ الصَّوْتِ - آواز کی بلندی اور کھٹکی۔
 الرَّفِيعَةُ - حاکم کے روبرو پیش کیا ہوا معاملہ۔
 الْمَرْفُوعُ - مفعول۔ ایک قسم کی تیز دوڑ۔ مِنَ الْكَلَامِ - بلند آواز کی

گفتگو۔ وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ عِنْدَ الْمُحَادِثِينَ - وہ حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر پہنچتی ہو۔ الرَّفْعُ وہ چیز جس سے اٹھایا جائے۔
 رَفَعَهُ دَك، رَفَاعَةً - الْعَيْشُ - زندگی کا فراخ و خوشگوار ہونا۔ صفت (رَافِعٌ وَرَفِيعٌ وَارْفَعٌ) اَرْفَعَهُ - لَهُ الْمَعَاشُ - وسعت و فراخی دینا۔
 تَرَفَعَهُ - آسودگی و خوشحالی سے زندگی بسر کرنا۔ الرَّفْعُ - ج - اَرْفَعُ وَرَفَاعٌ - وادی کا بہت بڑا حصہ، بہت مٹی والی زمین طرف گوشہ - ج - اَرْفَاعٌ وَرَفُوعٌ - جسم میں جمع ہونے کی جگہ جو ارباب بھوسہ اَرْفَاعُ النَّاسِ - کہنے گھٹیا لوگ۔ اَرْفَعُ وَالرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعِيَّةُ - زندگی کی آسودہ حال و خوشگوار سی۔
 الْمَرَاْفِعُ - مائتوں اور راتوں کی بڑی داس کا واحد نہیں۔
 رَفَعَهُ دَن رَفَعًا - نفع پہنچانا۔ مدد کرنا۔ کہنی پر مارنا۔ النَّاقَةُ - اونٹنی کا بازو یا دھنا۔ الْعَمَلُ - کام کو مضبوطی سے کرنا۔
 رَفِقٌ وَرَفِيقٌ دَن كِي وَرَفِيقٌ دَسِي رَفِيقًا وَمَرْفِيقًا وَمَرْفِيقًا - وَرَفِيقًا - يَهْ وَلَهُ وَعَلَيْهِ - نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔
 رَفِيقٌ دَسِي رَفِيقًا - الْبَعِيدُ - اونٹ کا پہلو سے ملتی ہوئی کہنی والا ہونا۔ صفت (رَافِقٌ) رَفِيقٌ دَك، رَفَاعَةً - الرَّجُلُ - رفیق و ساتھی ہونا۔
 رَافِقُهُ - ساتھی بنا۔ اَرْفَعُهُ - نرمی کا سلوک کرنا۔ نفع دینا۔

تَرَفَّقَ - بہم - نرم برتاؤ کرنا - علیہ
سہارا لینا۔

تَرَفَّقَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کا
ساتھی ہونا۔

ارْتَفَقَ - کسنی یا تکیہ پر ٹیک لگانا۔ مدد
چاہنا۔ الاناؤ۔ برتن کا بھرننا۔

- القوم - سفر میں سنگ ساتھ ہونا۔
بہم - نفع اٹھانا۔

اسْتَرْفَقَهُ - ساتھ چاہنا۔ نفع چاہنا۔
مہربانی طلب کرنا۔

تَمَرَّفَقَ - کسنی پر آرام لینا۔ کسنی پکڑنا۔

الرِّفْقُ - مص - نرم برتاؤ۔ مہربانی کا
سلوک وہ چیز جس سے مدد لی جائے۔

الرِّفْقُ - مص - نرم، آسان، آسان، امر
رِفْقُ الْبَيْتِ - یہ کام آسانی سے

حاصل ہونے والا ہے۔ الرِّفْقُ -
دودھ کی نالیوں میں خرابی۔

الرِّفْقَةُ وَ الرِّفْقَةُ وَ الرِّفْقَةُ وَ
الرِّفْقَةُ - ساتھیوں کی جماعت۔

ج - رِفَاقٌ وَ رِفْقٌ وَ رِفْقٌ وَ
أَرْفَاقٌ -

الرِّفْقَةُ - نرمی، مہربانی، حسن سلوک۔
الرِّفَاقُ - اونٹ کے بازو بانٹنے کی رسی۔

ج - رِفْقٌ -
الرِّفِيقُ - ساتھی، مہربان۔ ج - رِفْقَاءُ

الرِّفَاقُ وَ الرِّفِيقُ - کہی۔ وہ چیز
جس سے سہارا لیں۔ ج - مَرَفِيقٌ -

الرِّفِيقُ - وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے
اور اسی سے ہے مَرَفِيقُ الدَّارِ

گھر کے منافع یعنی لوازمات خانہ جیسے
کنواں، باورچی خانہ، پائخانہ وغیرہ۔

مَرَفِيقُ البِلَادِ - اہل ملک کی نفع
اندوزی کی چیزیں۔

الرِّفْقَةُ - چھوٹا تکیہ۔
الرِّفْقُ وَ الرِّفِيقُ - تکیہ لگانے کی

جگہ، آرام گاہ۔

الرِّفْقُ - پھرا ہوا، ثابت۔

رَقْلٌ دَن، رَقْلًا وَ رَقْلًا وَ رَقْلًا تَا -
دامن گھسیٹتے ہوئے تکیہ سے چلنا، ہاتھ

ہلاتے ہوئے چلنا۔ صفت مذکر۔
رَقِيلٌ، صفت مؤنث (رَقِيلَةٌ)

رَقْلٌ دَن، رَقْلًا تَا وَ رَقْلٌ دَن،
رَقْلًا تَا - بد لباس اور کام میں

بے سلیقہ ہونا۔ صفت رَأَقِلٌ
وَ رَقِيلٌ، مؤنث رَقْلَاءُ -

أَرَقِلٌ - دامن گھسیٹنا۔ ناز سے چلنا۔
رَقِيلَةٌ - کپڑوں کو لٹکانا۔

رَقْلَةٌ - تعظیم کرنا اور سردار بنانا۔ مالک
بنانا۔ ذلیل کرنا۔ الأَرَادُ - ازار

لٹکانا اور ناز سے چلنا۔
تَرَقَّلَ - تکیہ سے ناز کی چال چلنا۔

تَرَقَّلَ - علیہ۔ سردار اور رئیس ہونا۔
الرِّقْلُ - دامن۔

الرِّقْلُ - مص - مِنَ البَيْتِ - کنویں کی
گہرائی میں تھوڑا سا پانی۔

الرِّقْلُ - لمبے دامن والا لمبی دم کا گھوڑا۔
بہت گوشت والا۔ کشادہ کپڑا۔

آسودہ زندگی۔
الرِّقَالُ - مِنَ الرِّجَالِ - دامن

گھسیٹتے ہوئے ناز سے چلنے والا مرد
یا عورت۔

رَقَّةٌ دَن، رَقَّاهَا وَ رَقَّاهَا وَ رَقَّاهَا
زندگی کا خوشگوار و ہامزہ ہونا۔ صفت

(رَقَّاهَا وَ رَقَّاهَا)
رَقَّهَتِ الإِبِلُ - اونٹوں کا ہر روز جب

چاہیں پانی پر آنا۔ صفت رَقَّاهَا
ج - رَقَّاهَا -

رَقَّاهَا دَن، رَقَّاهَا وَ رَقَّاهَا وَ
رَقَّاهَا - العَيْشُ - زندگی کا

خوشگوار و آسودہ ہونا۔ صفت رَقَّاهَا
رَقَّاهَا

وَرَفِيقَةٌ،

رَقَّةٌ وَ أَرْقَةٌ - الرَّجُلُ - کسی کو
فراخ و آسودہ حال بنانا۔ رَقَّةٌ عَنْهُ

مہلت دینا۔ أَرْقَةٌ وَ رَقَّةٌ -
التَّوَابِعُ الإِبِلِ - اونٹوں کو حسب مرضی

پانی پر آنے دینا۔ أَرْقَمَتِ الإِبِلُ -
اونٹوں کا پانی کے نزدیک رہنا۔ أَرْقَهُ

القَوْمُ - قوم کے مویشی کا حسب مرضی
بھرانہ پانی پر آنا۔

رُقِيَةٌ - عَنْهُ - کسی کی تنگی اور رنج کو
دور کیا جانا۔

أَرْقَةٌ وَ تَرْفَةٌ وَ اسْتَرْفَةٌ - آرام
لینا۔

الرِّفْقُ - مص - چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت۔
الرِّفْقَةُ - رحم۔ مہربانی۔

رَفَارٌ رَفْوًا - الثَّوْبُ - کپڑے کی
درستی۔ مرمت کرنا۔ رَفْوًا - صفت

رَفْوًا - صفت مفعولی۔
رَفْوًا - کسی کے خوف کو

فرو کرنا، کسی کا فاقہ دور کرنا۔
رَفِيٌّ تَرْفِيَةٌ - العَرِيْسُ - شادی

شدہ کو میاں بیوی میں میل ملاپ اور
اولاد کی دعا دینا۔

رَأْفِيٌّ رِفَاءً وَ مَرَأْفَةً - الرَّجُلُ -
موافقت کرنا۔

أَرْفِيٌّ - اليه - کسی سے پناہ لینا۔
تَرَفِّيٌّ - القَوْمُ وَ عَلَى الأَمْرِ - کسی امر

پر باہم موافقت کرنا۔
الرِّفَاءُ - اتقاق و اتحاد۔

الأَرْفِيُّ - لمبے اور ڈھیلے کانوں والا مؤنث
دَرَفْوًا - ج - رَفْوًا -

رَفِيٌّ رِقَّةً - پتلا ہونا - لَهْ - کسی پر
رحم کرنا۔ تَرَسٌ كَهَانًا - وَجْهَةٌ - شرم

و حیا کرنا۔ الرَّجُلُ - بد حال و
کنگال ہونا۔ رَفَّتْ عِظَامُهُ -

بورھا اور سن رسیدہ ہونا۔
رَقِي (رض) رَقَا - العَبْدُ - غلام ہونا
یا رہنا۔

رَقَقَهُ - پتلا کرنا۔ رَقَقَ اللَّفْظَ -
لفظ نرمی سے نکالنا۔ الْكَلَامَ
پاکیزہ گفتگو کرنا۔ مَشِيئَةُ نِزْمِ
رفتار سے چلنا۔ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ -
فساد ڈالنا۔

أَرَقَى - الشَّيْءَ - پتلا کرنا۔ الْوَاعِظُ
قَلْبُهُ - واعظ کا کسی کے دل کو نرم
کر دینا۔ الرَّجُلُ - کم مال والا
ہونا۔ الْعَيْبُ - انکسور کا باریک
پھلکے والا اور زیادہ رس والا ہونا۔
الْعَبْدُ - غلام کا مالک ہونا۔

تَرَقَّقَى - الشَّيْءَ - پتلا ہونا۔ لَهُ
کسی پر ترس کھانا، رحم کھانا۔
اسْتَرَقَى - الشَّيْءَ - پتلا ہونا۔ الْعَبْدُ
غلام کا مالک ہونا۔ اللَّيْلُ رَاتٍ
کا اکثر حصہ گزر جانا۔ الْمَاءُ - پانی
کا پایاب ہونا۔

الرَّقِي - مص - غلامی، پتلی شے، لکھنے
کے لیے پتلی کھال، سفید کاغذ کا تختہ
درخت کے پتے یا جانور کے لیے
آسانی سے حاصل ہونے والی شاخیں
الرَّقِي - لکھنے کے کام کا پتلا چمڑا۔ کاغذ
کا سفید تختہ۔ پتلا۔ مگر پچھلے سے مشابہ
ایک آبی جانور۔ چاتل یا زکچوا۔ جہ
رَقَوِي -

الرَّقِي - وَالرَّقِي وَالرَّقِي - نرم
کشادہ زمین۔

الرَّقِي - كزوری، پتلا پن، باریکی، کھانے
کا پتلا پن۔

الرَّقِي - پانی سے بھر کر خشک ہو جانے
والی زمین۔ جہ۔ رِقَاقٌ -

الرَّقِي - رحمت، نرم، باریکی

رِقَّةُ الْعَيْشِ - زندگی کی آسودگی
الرِقَاقُ - صحرا، بیابان، نرم مٹی کی ہموار
زمین۔ یا وہ زمین جس کا پانی خشک
ہو گیا ہو۔

الرِقَاقُ - پتلا۔ پتلی روٹی۔ واحد
(الرِقَاقَةُ) نرم مٹی والی ہموار
کشادہ زمین یا وہ زمین جس کا پانی
خشک ہو گیا ہو۔

الرَّقِيْقُ - پتلا۔ اِرْقَاءُ - مُنْثُ (رَقِيْقَةٌ)
جہ رِقَاقٌ - رَقِيْقُ الْمَعَانِي - نفیس

مطلب والا۔ "عَيْشٌ رَقِيْقٌ"
الْحَوَائِشُ - خوشحال اور آسودہ زندگی
"رَجُلٌ رَقِيْقٌ الْحَالِ" - کنگال آدمی
"لَفْظٌ رَقِيْقٌ" - آسان و شیریں لفظ

الرَّقِيْقُ - غلام (واحد و جمع کے لیے
یکساں آتا ہے) کبھی اس کی جمع اِرْقَاءُ
لاتے ہیں۔ مُنْثُ کے لیے رَقِيْقٌ یا
رَقِيْقَةٌ بولتے ہیں۔ رَقِيْقُ الْأَلْفِ
ناک کا نرم حصہ۔ الرَّقِيْقَانِ - ناک
کے نچھنوں کے کنارے۔

مَرَاقِي - الْبَطْنِ - پیٹ کا نرم و پتلا حصہ
المَوْقِي - چھری پتلی روٹی۔

الرِقَاقُ - بیلن۔
المُسْتَرَقِي - رقیق، پتلا۔

رَقَاءُ رَفِ رَقَاءٌ وَرَقْوَاءٌ - الدَّمْعُ
أَوِ الدَّمُ - آنسو کا خشک ہونا یا

خون کا رگڑنا۔ رَقَاءٌ - بَيْنَهُمْ
صلح کرانا، فساد ڈالنا۔ فِي الدَّرَجَةِ
سیرھی پر چڑھنا۔

أَرْقَاءُ - الدَّمْعُ أَوِ الدَّمُ - خون یا
آنسو کو خشک کرنا۔

الرَّقْوَاءُ - خون بند کرنے والی چیز قوم کے
درمیان صلح کرانے والا۔

الرَّقَاقُ - وَالرِقَاقُ - سیرھی، زمین۔
رَقِيْقَةٌ - دُنُورٌ وَرَقِيْقَةٌ وَرَقِيْقَةٌ

رَقِيْقَةٌ - دُنُورٌ وَرَقِيْقَةٌ وَرَقِيْقَةٌ

وَرَقْبَانَا - وَرَقْبَةٌ وَرَقْبَةٌ
نُكْرَانِي

کرنا، نگہبانی کرنا۔ انتظار کرنا۔ ڈرانا۔
- النَجْمَةُ - ستاروں کی دیکھ بھال

کرنا۔ كَرُونٌ - میں رسی ڈالنا۔
رَاقِبَةٌ - نگہبانی کرنا۔ رَاقِبُ اللَّهِ فِي
أَمْرِهِ - خدا سے ڈرنا۔

أَرَقِبَهُ - الدَّارَ - مکان وغیرہ تازیت
سے دینا۔ أَرَقِبَهُ الرُّقْبِي - کسی کے
لیے رقبی کرنا۔

تَرَقَّبَهُ وَارْتَقَّبَهُ - انتظار کرنا۔ اِرْتَقَّبَ
الْمَكَانَ - پڑھنا۔

تَرَقَّبَا - ایک دوسرے کی نگرانی کرنا، نگہبانی
رکھنا۔

الرَّقَبُ - گردن کی موٹائی۔
الرُّقْبِي - گھر وغیرہ۔ کسی کو اس شرط پر دینا

کہ اگر دینے والا پلے جائے تو گھر لینے
والے کا ہے اور اگر لینے والا پلے مرے تو

گھر دینے والے کے قبضہ میں پھر لوٹ آئے
الرُّقْبَةُ - احتیاط، بجاؤ، نگہبانی، خوف۔

کہتے ہیں: "وَرَقْبٌ مُجَدِّدٌ عَنِ الرُّقْبَةِ"
جبکہ کسی کے آباؤ اجداد مجدد زندگی کے

مالک نہ ہوں۔

الرُّقْبَةُ - گردن یا اس کے پچھلے حصہ (گدی
جہ۔ رِقَابٌ وَرَقَبَاتٌ وَرَقَبَةٌ

وَأَرْقَبٌ - غلام، کہ ہوا اشرف بول
کرکل مرو لیا ہے۔

الرُّقْبَةُ - پچھلے حصہ کے لیے گراہ۔
جس طرح رُقْبِيَّةٌ، شیر کے شکار کے

لیے تیار کردہ گڑھے کو کہتے ہیں۔
الرُّقْبُ - مُنْثُ رَقَبَاءُ - وَالرُّقْبَانُ

وَالرُّقْبَانِي - موٹی گردن والا۔
الرُّقْبِيَّةُ - میراث کے لیے اپنے شوہر کی

موت کا انتظار کرنے والی عورت۔ وہ
عورت جس کا بچہ مر گیا ہو یا وہ جس کی

عورت جس کا بچہ مر گیا ہو یا وہ جس کی

<p>رَقَصْدَن، رَقَصَا - ناچنا۔ العِرْقُ رگ کا اچھلنا۔ الرَّقَاز - ناچنے والا۔ رَقَشَةُ دَن، رَقَشَا - نقش کرنا۔ الكَلَامُ - لکھنا، سجانا۔ رَقَشَ - الكَلَامَ - لکھنا سجانا۔ گھڑنا۔ - الصَّحِيفَةَ - سطرین کرنا۔ الرَّجُلَ كَسَى بِرَعْتَابٍ كَرْنَا - الرَّجُلُ جَعَلِي كَهَانَا - تَرَقَّشَ - مزین ہونا۔ سجانا۔ أَرْتَقَشَ - حَسَنَ وَزِينَتٍ وَكَهَانَا - الجَيْشَ شکر کا لڑائی میں مل جانا۔ آپس میں گتھ جانا الرَّاقِشَ - سیاہ و سفید نقطوں والا نمونہ رَقَشَاءُ - الرَّقَشُ وَالرَّقِيشَةُ - ایک رنگ جس میں ٹیلا لاپن اور سیاہی ہو۔ الرَّقَشَاءُ - كَوْرِيَا لِسَانٍ - ایک کیڑا۔ اونٹ کے منہ کے جھاگ۔ الرَّقَشُ - سانپ۔ رَقَصَ دَن، رَقَصَا - ناچنا، اضطراب کرنا۔ - النَّبِيذُ - نمین کا جوش میں آنا۔ - فِي الْكَلَامِ - تیزی سے بولنا۔ رَقَصَا وَرَقَصَا وَرَقَصَانَا - الجَمَلُ - اونٹ کا دوڑنا۔ رَقَصَهُ وَارَقَصَهُ - بچانا۔ أَرْتَقَصَ - السَّعْرُ - بھاؤ کا چڑھنا۔ تَرَقَّصَ - الشَّيْءُ - چیز کا جلدی جلدی اور بڑے نیچے ہونا۔ الرَّقَاصُ - بہت ناچنے والا۔ اور اسی سے ہے "رَقَاصُ السَّاعَةِ" گھڑی کا لنگر (پینڈولم) الرَّقَاصَةُ - ناچنے والی۔ عربوں کے ایک کھیل کا نام۔ - بجز زمین - بِشَعْرٍ مَرَقَصُ - بچا دینے والا شعر یعنی اپنی خوبی بیان سے سننے والے کو وجد میں</p>	<p>عَلَى فَلَانٍ - قوم کا کسی کے خلاف مددینا۔ أَرَقَدًا - أَرَقَدَا - جلدی کرنا۔ أَسْتَرَقَدَ - نیند کا غلبہ ہونا۔ الرَّقْدَةُ - نیند۔ أَصَابَتْنَا رَقْدَةٌ مِنْ الْحَرِّ - تقریباً دس روز کی گرمی ہم کو پہنچی۔ الرَّقْدَةُ وَالْيَرَقُودُ - بہت سونے والا۔ الرَّقُودُ - ہمیشہ سونے والا۔ - إِمْرَأَةٌ رَقُودٌ الضَّحَى - چاشت تک سونے والی عورت، یعنی بہت خوش حال و آسودہ حال عورت۔ الرَّقْدَانُ - بکری کے بچہ وغیرہ کی کھیل۔ الرَّقَاوِدُ - بڑا مٹکا۔ ج۔ رَوَاقِيدُ التَّرْقِيدُ ایک قسم کی چال۔ تَرْقِيدُ البَيْضِ - مرغی کے نیچے اٹڑے رکھنا۔ المُرْقِدُ - خواب گاہ۔ ج۔ مَرَاقِدُ - المُرْقِدُ خواب آور دوا۔ صاف کھلا راستہ۔ رَقْرَقَ - المَاءُ - پانی پھرنے لگنا۔ العَيْنُ آنکھ سے آنسو بہانا۔ الخَمْرُ شراب میں پانی ملانا۔ الطَّيْبُ فِي الثَّوْبِ - کپڑے میں خوشبو لگانا۔ تَرَقَّرَقَ - المَاءُ - پانی کا بکے بکے بہنا۔ جھکنا، آنا جانا۔ العَيْنُ آنکھ کا آنسو بہانا۔ الدَّمْعُ آنکھ کا آنسو سے ڈبل جانا۔ الشَّمْسُ آفتاب کا گھومتا ہوا دکھائی دینا۔ الرَّقْرَاقُ - چکنے والا۔ مِنْ الدَّمْعِ آنکھ میں ڈبل جانے والا آنسو۔ مِنَ السَّحَابِ - آنے جانے والا بادل۔ الرَّقَارِقُ - دای یا سمند کا رقیق پانی۔ باریک کپڑا۔ آبدار تلوار۔</p>	<p>اولاد نہ جیتی ہو۔ أَمَّا الرَّقُوبُ - مصیبت۔ الرَّقِيبُ - ج۔ رُقْبَاءُ - نگہبان، محافظ نظر۔ رَقِيبُ الجَيْشِ - دیدبان۔ پس ماندگان، چچا زاد بھائی، جوئے کے تیروں میں سے تیسرا تیر، ایک ستارہ کا نام۔ ج۔ رُقْبٌ وَرَقِيبَاتٌ ایک نہایت زہریلا سانپ۔ هُوَ رَقِيبٌ لِنَفْسِهِ - وہ خود ہی اپنے کردار کا باریخ کنندہ ہے، دوسروں کو ملامت کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ الرَّقَابَةُ - وہ نوکر و خادم جو مالک کی غیر موجودگی میں اسباب کی نگرانی کرے۔ المَرْقَبُ وَالمَرْقَبَةُ - نگرانی کرنے کی ادبھی جگہ، نگرانی کا برج، فوجی چوکی۔ ج۔ مَرَاقِبُ - المَرْقَبُ - ستاروں اور اجرام فلکیہ کی دیکھ بھال کے لیے آلہ۔ دور بین۔ رَقَحَ - مَالَهُ سَالٌ كَأَجْحَا انْتِظَامٌ كَرِيهًا لَلرَّقَحِ - لِعِيَالِهِ - اپنے عیال کے لیے کمانا۔ أَرْتَقَحَ - زیادہ ہونا۔ الرَّقَاحَةُ - کمانی، تجارت۔ کہتے ہیں "هُوَ رَاقِحٌ أَهْلِيهِ" وہ اپنی عیال کے لیے کمانے والا ہے۔ الرَّقَاحِيُّ - تاجر، سوداگر۔ رَقَدَ دَن، رَقَدَا وَرَقَدَا وَرَقَادًا - ہونا۔ صفت (رَقَدَ) ج۔ رَقُودٌ وَرَقْدٌ - المَرُوقُ - بازار کا سرو پڑنا۔ - الحَرُّ كَرِي كَالْغُنَابِ - عَنِ الْأَمْرِ - کام سے غافل ہونا۔ عَنِ الضَّيْفِ - مہمان کی خبر گیری نہ کرنا۔ أَرَقَدَ - سُلَانًا - أَرَقَدَ بِالْمَكَانِ - اقامت کرنا۔ تَرَاقَدَ - سوتا ہوا ظاہر ہونا۔ القَوْمُ</p>
---	--	--

لا۔ نہ والا۔

رَقِطًا - رَقِطًا - سیاہ پر سفید یا سفید پر سیاہ نقطے والا ہونا۔

رَقِطًا - عَلَى الثَّوْبِ - کپڑے پر روشنائی کے چھینٹے دے کر اس کو داغدار کرنا۔

تَرَقِطًا - تَرَقِطًا وَارْتَقِطًا - اِرْقِطًا طًا - وَاِرْقِطًا طًا - اِرْقِطًا طًا - سیاہ

سفید دھبوں والا ہونا صفت (اِرْقِطًا) مؤنث۔ رَقِطَاءٌ - ج - رُقُطٌ -

الرَّقِطَةُ - سیاہ پر سفید یا سفید پر سیاہ داغ۔

الرَّقِطَاءُ - فتنہ و فساد۔

رَقَعَنَ (رَقَعًا) - الثَّوْبَ - کپڑے پر پیوند لگانا۔

رَقَعَنَ الثَّوْبَ بِسَهْمِهِ - نشانہ پر تیر مارنا۔ ذَنْبَهُ بِالسُّوْطِ - کوڑا دم پر مارنا۔

رَقَعَنَ الرَّجُلَ - تیز چلنا۔ الرَّجُلُ - سوجو کرنا۔ الشَّيْخُ - بڑھے کا پھیلنے سے سہارا لے کر اٹھنا۔

رَقَعَنَ رَقَاعَةً - احمق و بے شرم ہونا صفت (رَقِيعٌ وَارْقَعٌ وَ مَرَقَعَانٌ)

رَقَعَنَ تَرَقِيعًا - الثَّوْبَ - کپڑے پر پیوند لگانا۔ کتے ہیں رَقَعَنَ دُنْيَاہُ بِأَخْرِيَتِهِ - اس نے دنیا کی درستی آخرت سے کی۔

رَقَعَنَ الخَمْرَ - شراب کا عادی بننا۔ اِرْقَعَنَ الثَّوْبَ - کپڑے کا قابل مرمت ہونا

پیوند کے قابل ہونا۔ الرَّجُلُ - حماقت و بے وقوفی ظاہر کرنا۔

تَرَقَعَنَ - البِلَادَ - ارضانی کے زمانہ میں ملک میں گمانی کرنا۔

اسْتَرَقَعَنَ - الثَّوْبَ - کپڑے کا قابل مرمت ہونا۔

الرَّقْعُ - اگلوں کے نزدیک ساتوں آسمان۔

الرَّقْعَةُ - نشانہ پر تیر کے لگنے کی آواز۔

الرَّقْعَةُ - کاغذ کی لکھی ہوئی پرچی، تحریر کا پرزہ۔ کپڑے کا پیوند۔

رُقْعَةُ الشُّطْرَانِجِ - شطرنج کی بساط۔ رُقْعَةُ الغُرْمِ - نشانہ۔ رُقْعَةُ الارْضِ - قطعہ زمین۔

رُقْعَةُ الشَّيْءِ - چیز کی اصل و حقیقت۔ ج - رُقْعٌ وَرِقَاعٌ - کتے ہیں۔ فِي هَذَا الْجَمَلِ رُقْعَةٌ مِّنَ الْجُرْبِ - اس اونٹ میں خارش کا آواز ہے۔

الرَّقْعَاءُ - اِرْقَعُ كالمؤنث - بَقْرَةٌ رَقْعَاءٌ - مختلف رنگوں والی گائے۔

الرَّقِيعُ - آسمان، پہلا آسمان۔ ج - اِرْقَعَةٌ - جُوعٌ يَرْقَعُ سحت بھوک۔

الرَّقْعَةُ - کپڑے میں پیوند لگانے کی جگہ۔ کتے ہیں۔ "لَا اَرِي فِيهِ مَرْتَقَعًا" - اس میں عیب گیری، با

اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں پاتا۔ اِرْقَلْ جلدی چلنا۔ المفاازة - بیابان کو طے کرنا۔ عبور کرنا۔

الرَّقْلَةُ - لمبی کھجور۔ ج - رَقَالٌ وَرَقْلٌ - الرَّاقُولُ - درخت خرمالہ پر پڑنے کی رسی۔

الرَّقَالُ وَالمُرْقِلُ وَالمُرْقِلَةُ - مِّنَ الابِلِ - تیز رفتار اونٹ۔ ج - مَرَاقِيلٌ وَمَرَاقِلٌ وَمَرَقِلَاتٌ - رَقْمَدَن، رَقْمَا وَرَقْمًا - لکھنا۔

الکِتَابَ - کتاب پر اعراب و نقطے لگانا۔ رَقْمًا الثَّوْبَ - کپڑے پر دھاریاں ڈالنا۔ البَعِيدُ - اونٹ کے داغ لگانا۔ الخُبْرُ - روٹی پر نقش بنانا۔ کتے ہیں "فَلَانٌ يَدُقُّ عَلَى المَاءِ" - یعنی فلاں

شخص کاموں میں غضب کی سمجھ رکھتا ہے۔

الرَّقْمُ - مہن نقش و نگار و الادھاری دار کپڑا یا ادھاری دار چادر۔ مَر - ج - اِرْقَامٌ وَرَقُومٌ - الازرقام

الہندی سیٹہ۔ ہند سے۔

الرَّقْمُ وَالرَّقِيمُ وَبِنْتُ الرَّقِيمِ مصیبت۔

الرَّقْمَةُ - باغ۔ وادی کا پہلو۔ وادی میں پانی کے اکٹھے ہونے کی جگہ۔ خبازی۔

الرَّقِيمُ - کتاب، لکھا ہوا۔

الازرقم - ایک بہت زہریلا سانپ۔ سیاہ سفید داغوں والا سانپ۔ ج - اِرْقَامٌ مادہ رَقْمَاءٌ - کہلاتی ہے

بہ رَقْمَاءٌ - قَلَمٌ - الرَّقْمُ وَالرَّقْمَةُ - رقم کارنگ۔

الرَّقْمُ - کلمہ، قلم نقش کرنے کا آلہ داغ لگانے کا آلہ۔ ج - مَرَاقِمٌ - المَرَقُومُ - مفع "کِتَابٌ مَرَقُومٌ" واضح

لکھی ہوئی کتاب۔ "کِتَابٌ مَرَقُومٌ" القَوَائِمُ - وہ ہیں جس کی ٹانگوں پر

سیاہ دھاریاں یا داغ ہوں۔ اَرْضٌ مَرَقُومَةٌ - تھوڑے پودوں والی زمین۔

رَقْمَتُ (رَقْمًا) - الحِجَارِيَّةُ سُرُّكِي كَا ہندی لگانا۔

رَقْمَتٌ - لکھنا۔ رَقْمَنَ الْکِتَابَ - کتاب کو مزین کرنا۔ سجانا۔ قَرِيبٌ قَرِيبٌ

سطح میں کرنا۔ الخَطُّ - نقطے لگانا۔ (ب - وَاَرَكْنٌ) الحِیْتَةُ - واڑھی

پر خضاب لگانا۔ اِرْقَنَ وَتَرَقَّنَ وَارْتَقَنَ وَ اسْتَرَقَّنَ خضاب لگا ہوا ہونا۔

(ہندی یا زعفران سے) الرَّقِيقُ وَالمَرَقُونُ - لکھا ہوا۔

الرِّقَانُ وَالمَرَقُونُ وَالأَرْقَانُ

ہندی یا زعفران۔

الرَّقْوَةُ وَالرَّقْوَةُ - ریت کا گول ٹیلہ۔

رَقِي (رض) رَقِيًا وَرَقِيًا - الجَبَلُ

وفیہ والیہ - پہاڑ پر چڑھنا۔

ارُقِي عَلَى ظِلْعِكَ - یعنی اپنے نفس

پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اور

طاقت کے مطابق چڑھو۔

رَقِي رَضًا، رَقِيًا وَرَقِيًا وَرَقِيَّةً -

عُ دَعَلِيَّةً - نفع رسانی یا ضرر رسانی

کے لیے ٹوکنا یا منتر کرنا۔

رَقَاهُ تَرْقِيَةً - اٹھانا۔ چڑھنا۔

ارْتَقِي - ارْتِقَاءً وَتَرَقَّى تَرَقِيًا -

الجَبَلِ وَنِيَهُ وَالْيَهُ - پہاڑ پر

چڑھنا۔ فِي السِّلْمِ سِيْرِي كَيْ

وَنُزُولٍ عَلَى رُجُلِهِ - بہ الامْرُ

کسی امر کی انتہا کو پہنچنا۔ تَرَقَّى

الرَّجُلُ - بنسلی کی بڑی پر مارنا۔

تَرَقَّى اَمْرُهُمْ اِلَى الْفَسَادِ - پہنچ جانا۔

اسْتَرْقَاهُ - منتر یا جادو کرنے کو کہنا۔

تَعْوِذًا لَمْ يَكُنْ - کسی کے لیے منتر

والے کو طلب کرنا۔ تَعْوِذًا لَمْ يَكُنْ

والے کو تلاش کرنا۔

الرَّقِيَّةُ - منتر، افسوں، تَعْوِذُ - ج. رُقِي

وَرُقِيَاتٌ وَرُقِيَاتٌ -

الرَّاقِي غَا - منتر کرنے والا۔ تَعْوِذًا لَمْ يَكُنْ

وَالا - ج. رَقَاهُ وَرَقَاهُونَ -

مَوْتٌ - رَاقِيَةٌ - ج. سَوَاقِي -

تا اس میں بالغ کی ہے، مَوْتٌ اور

نذکر کے لیے رَاقِيَةٌ کہتے ہیں۔

الرَّقَاءُ - بھارتیوں اور تَعْوِذًا لَمْ يَكُنْ

مَہر - پہاڑ پر بہت چڑھنے والا۔

الرَّقْوَةُ - بنسلی کی بڑی۔

الرَّقِي - وَالرَّقِيَّةُ وَالرَّقِيَّةُ -

سیرھی کا پایہ - ج. مَرَاقِي -

الرَّقِي - چڑھنے کی جگہ۔

رَكَّ دَعْنُ رَكَاوِرِكَةً وَرَكَاكَةً

مُزَوَّرٌ هُوَ - پتلا ہونا۔ الرَّجُلُ كَمِ عِلْمٍ

وَعَقْلٍ هُوَ -

رَكَّ دَعْنُ رَكَا - الشَّيْءُ - ایک دوسرے

پر چھینا۔ رَكَّ الْأَمْرَ فِي عُنُقِهِ -

کوئی کام کسی کے گلے ڈالنا۔ الشَّيْءُ

بِمَيْدِيهِ - چیز کو ہاتھ سے دبا کر اس کا

تجم پہنچانا۔

رَكَّكَ - وَأَنْتَ السَّحَابُ - بادل کا

تھوڑی اور ہلکی بارش برسانا۔

أَرَكَّ - کسی جگہ کا پھوار سے سیراب ہونا۔

أَرَّتَكَ - کانپنا۔ فِي الْأَمْرِ - کسی امر

میں شک کرنا۔

اسْتَرْكَيْتُ - کسی کو کمزور پانا۔ یا سمجھنا۔

الرَّكِيُّ وَالرَّكِيَّةُ - ج. رِكَاكٌ وَأَرَكَاكٌ

وَالرَّكِيَّةُ وَالرَّكِيَّةُ - ہلکی بارش

نہی نہی بوندوں کی بارش۔

الرَّكَاكُ وَالرَّكِيَّةُ - عقل ورانے کی

مُزَوَّرِي -

الرَّكِيَّةُ - ج. رِكَاكٌ وَرَكَاكَةٌ -

عقل ورانے میں کمزور۔ ڈھیلا ڈھالا

کم ہمت۔ الرَّكِيَّةُ - مِنْ

الْكَلَامِ بِحُسْبَا كَلَامٍ - رَجُلٌ

رَكِيَّةٌ الْعِلْمِ - کم علم آدمی۔

رَكِيَّةٌ الرَّسْمِ - چھدری

سناوٹ کا کپڑا۔

الرَّكَاكَةُ - رند کو موت کمزور عقل۔ ج.

رَكَاكٌ -

الرَّكَاكَةُ - ضَعْفٌ -

رَكِيَّةٌ (دس) رَكِيَّةٌ وَرَكِيَّةٌ -

الدَّائِبَةُ وَحَلَى الدَّائِبَةُ سَوَارٌ

ہونا۔ البَحْرُ - سمندر میں سفر

کرنا۔ الطَّرِيقُ - راہ۔ تہ پر

چلنا۔ اِثْرَةٌ - کسی کا بیچھا کرنا۔

- هَوَاهُ - خواہش کا تابع ہونا۔

- دَاسَةٌ - بے سوچے لا پرواہی سے

کسی کام کو کر گزرنانا۔

الذَّنْبُ - کسی گناہ کا مرتکب ہونا۔

الذَّنْبُ - اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا

- رَكِيَّةُ السَّيِّئِينَ مَقْرُوضٌ هُوَ

رَكِيَّةٌ (دس) رَكِيَّةٌ - بڑے زانو والا ہونا۔

موتے گھٹنے والا ہونا۔

رَكِيَّةٌ (دس) رَكِيَّةٌ - گھٹنے پر مارنا۔

رَكِيَّةٌ - گھٹنے میں درد والا۔

رَكِيَّةٌ - الشَّيْءُ - بعض کو بعض پر رکھنا۔

ترتیب سے رکھنا۔ چھینا۔ هُ الْفَرَسَ

سوار کرنا۔

أَرَكَبَهُ - سواری دینا۔ الْمُهْرُ -

بچھیرے کا سواری دینے کے قابل ہونا۔

تَرَكَّبَ - ترکیب پانا۔

أَرَكَبَهُ - سوار ہونا۔ الذَّنْبُ - گناہ

کرنا۔ الْأَمْرُ - بے دھڑک گھس

پڑنا۔ الدَّيْنُ - قرض زیادہ لینا۔

تَرَكَبَ - تہ بہ تہ ہونا۔

الرَّكَبُ - اونٹ یا گھوڑوں کے سوار جن

کی تعداد دس یا دس سے زائد ہو۔ ج.

الرَّكَبُ وَرَكَابٌ -

الرَّكَبَةُ - رَكِيَّةٌ الدَّائِبَةُ کا اسم۔

سوار ہونے کی ایک قسم۔

الرَّكَبَةُ - گھٹنا۔ زانو۔ ج. رَكِيَّةٌ وَ

رَكَبَاتٌ وَرَكَبَاتٌ وَرَكَبَاتٌ -

الرَّكَبَاتُ - سوار کے پیر رکھنے

کی جگہ۔ ج. رَكِيَّةٌ - الرَّكَبَاتُ -

سواری کے اونٹ۔ فَا حِدْرًا حَلَاكَةً

ج. رَكِيَّةٌ وَرَكَبَاتٌ وَرَكَبَاتٌ -

رَكَبَاتُ السَّحَابِ - ہوائیں۔

الرَّكَبَاتُ - بہت سوار ہونے والا۔ (دس)

وَالرَّكَبَاتُ (سواری کا اونٹ سواری

ج. رَكَبَاتٌ - طَرِيقٌ رَكَبَاتٌ -

بہت چلتا ہوا راستہ۔

الرَّكَابُ - بہت سوار ہونے والا مؤنث
رَكَابَةٌ

الرَّكَابُ - فا - سوار - ج - رَكَابٌ
وَرَكَابٌ وَرَكُوبٌ وَرَكْبَةٌ وَ
رَكْبٌ - وَرَكْبَةٌ - مؤنث
رَاكِبَةٌ - ج - رَوَاكِبٌ - پہاڑ
کی چوٹی، مسافر -

الرَّكِيْبُ - بڑی ہوئی چیز جیسے نگ
انگوٹھی میں، دو سواروں میں سے پھلا
سوار - سوار، کھیتی - نَخْلٌ رَكِيْبٌ
نہر وغیرہ کے کنارے پر کھجوروں کی
قطار -

الرَّكِيْبُ - موٹے بڑے گھٹنے والا
الرَّكِيْبُ - مص - سواری، خواہ تری کی
یا خشکی کی - ج - مَرَاكِبٌ -
الرَّكِيْبُ - منع - اصل - " قَلَانٌ
كَوَيْمُ الرُّكْبِ " فلاں کریم
الاصل ہے - الجھل الرُّكْبِ -
نہ جانتے ہوئے اپنے کو جاننے والا
سمجھنا -

الرُّكُوبُ - منع - سواری - ج - مَرَاكِبٌ -
رَكْعَةٌ - رَكْعَةٌ وَرَكْعَةٌ - عَلَى
الشَّيْءِ وَرَكْعَةٌ - کسی سے سہارا
لینا ٹیک لگانا - (رَكْعَةٌ) - إِلَيْهِ
کسی کی طرف جھکتا - مائل ہونا -

الرَّكْعُ - عَلَيْهِ - سہارا لینا - هُ
إِلَيْهِ - ٹیک لگانا - کہتے ہیں -
أَرَكْعْتُ إِلَيْهِ ظَهْرِي - میں نے
اس سے اپنی پیٹھ ٹکائی -

الرَّكْعُ - فِي المَعِيْشَةِ - وسعت معیشت
کے لیے تصرف کرنا - فِي الدَّارِ -
گھر میں فراخی و کشادگی کرنا -
بِالمَكَانِ - کسی جگہ ٹھہرنا - اقامت
کرنا -

الرُّكْحُ - پہاڑ کی نکل ہوئی نوک - پہاڑ

کا پہلو - بنیاد - گھر کا صحن - ج -
أَرْكَاحٌ -

الرُّكْحَةُ - گھر کا صحن - ج - رُكْحٌ
الرُّكْحَاءُ - سخت اٹھی ہوئی زمین

رَكَدَنٌ، رَكُوْدٌ - المَاءُ أَوْ الرِّيْحُ -

پانی یا ہوا کا ٹھہرنا - المِيْزَانُ
ترازو کا برابر ہونا - عَصِيْرٌ

العَيْبُ - انگوڑے کے پتوں کا جوش
ٹھنڈا ہونا - العَكْرُ وَالشُّفْلُ

تلچھٹ کا بیٹھ جانا - الشَّمْسُ
سورج کا سر پہ آکر ٹھہرنا معلوم ہونا -

کہتے ہیں " رَكَدَتْ رِيْحُهَا " -
یعنی ان کی حکومت جاتی رہی -

الرَّكِيْدُ - فا - ٹھہرا ہوا بے حرکت -
الرُّكُوْدُ - بھرا ہوا پیالہ - ہمیشہ دودھ دینے

والی اونٹنی -

الرَّكِيْدُ - ٹھہرنے کی جگہیں -
رَكْرَكٌ - رَكْرَكَةٌ - الشَّيْءُ - کمزور

ہونا - الرَّجُلُ - بزدل ہونا -

رَكَدَنٌ (ض) رَكْنًا - الرُّمْحُ وَنَحْوُهُ -
نیزہ وغیرہ کو زمین میں گا لانا - دفن کرنا

الرُّكُوْقُ - رگ کا پھرنے کا حرکت
کرنا -

رَكَزٌ - بمعنی رَكَزٌ -
أَرْكَزٌ - المَعْدِنُ - کان کا دھات

والی ہونا - الرَّجُلُ - کسی کا
کان ہونا -

أَرْكَزٌ - العِدْقُ - رگ کا حرکت کرنا -
الشَّيْءُ - چیز کا اپنی جگہ جھننا -

عَلَى العَصَا - لاطھی پر سہارا
لینا - ٹیک لگانا -

الرُّكْزُ - وصی آواز - آہٹ - وانا -
فیاض آدمی -

الرُّكْزَةُ - ہوشیاری، حکمت، دانائی -
نجات عقل - کہتے ہیں " كَلَمْتُهُ "

الرُّكَاْسَةُ وَالرُّكَاْسَةُ - زمین میں گاڑی

فَمَا رَأَيْتُ كَذَلِكَ رَكْزَةً - میں نے
اس سے بات چیت کی تو اس کو ٹھوس

عقل کا نہیں پایا - الرُّكْزَةُ - جڑے
اکھیرا ہوا کھجور کا درخت -

الرُّكْزَةُ - زمین کے اندر دفن کیے ہوئے
جواہر - ج - رَكَزٌ -

الرُّكَاْسُ - زمین کے اندر قدتی گڑی ہوئی
دھاتیں - واحد - (رَكْزَةٌ) - ج -

أَرْكَسَةٌ وَرَكْسَانٌ -
الرُّكْسَانُ - دائرے کے بیچ کا نقطہ - جس

سے محیط دائرہ تک سب خطوط برابر
نکلیں، آدمی کے رہنے کی جگہ - دار

السلطنت - ج - مَرَاكِسٌ -
مَرَاكِسُ الأَسْنَانِ - دانت اگنے کی
جگہیں -

رَكْسٌ (ن) رَكْسًا - الشَّيْءُ - الٹ دینا -
الرُّكْسِيُّ - اونٹ کے رکاس

باندھنا -

أَسْرَكْسَةٌ - اونڈھا کرنا - الشَّيْءُ -
چیز کو پہلی حالت کی طرف لوٹانا -

الثَّوْبُ فِي الصَّبِيْحِ - کپڑے کو رنگ
میں دوبارہ ڈھونڈنا - الجَارِيَةُ

رول کی کے پستان ابھرنا - ظاہر ہونا -
تَرَاكْسٌ - الشَّعْرُ - بالوں کا تہ بہ تہ ہونا -

أَرْكَسٌ - اونڈھا ہونا - تکلیف سے نجات
پاکر پھر تکلیف میں پڑنا - بھیر کرنا -

فِي مَكَانِهِ - اپنی جگہ اقامت کرنا -
ٹھہرنا -

الرُّكْسُ - گندگ - مِنَ النَّاسِ
لوگوں کی جماعت - گرنے کے بعد مرمت

کی ہوئی عمارت - پُل -
الرُّكَاْسُ - وہ رسی جو اونٹ کی نیکیل میں

باندھ کر اس کے گھٹنے میں باندھ دیتے
ہیں -

الرُّكَاْسَةُ وَالرُّكَاْسَةُ - زمین میں گاڑی

ہیں -

الرُّكَاْسَةُ وَالرُّكَاْسَةُ - زمین میں گاڑی

<p>رُكُنٌ (ن) وَرُكْنٌ (س) رُكُونًا — النَّيْبُ — کسی کی طرف مائل ہونا جھکانا۔ کسی پر بھروسہ کرنا۔ آرام لینا۔ رُكُنٌ رُكْنٌ رُكَاةٌ وَرُكُونَةٌ — باوقار ہونا۔ سنجیدہ ہونا۔ رُكْنَةٌ — باوقار و سنجیدہ بنانا۔ أَرْكُنٌ — النَّيْبُ — کسی پر بھروسہ و اعتماد کرنا۔ تُرْكُنٌ — مضبوط ہونا۔ باوقار ہونا۔ الرُّكْنُ — جس سے قوت حاصل کی جائے۔ عزت، قوت وغلبہ، بڑا معاملہ — مِنَ الشَّيْءِ — جُزْءُ شَيْءٍ — مضبوط پہلو۔ کہتے ہیں: "فَلَانٌ رُكْنٌ مِّنْ أَرْكَانِ قَوْمِهِ" یعنی وہ اپنی قوم کے شرفاء میں سے ہے۔ رُكْنٌ الرَّجُلِ آدمی کی قوم۔ ج۔ أَرْكَانٌ وَأَرْكُنٌ — الأَرْكَانُ — اربعہ عناصر، یعنی آگ، ہوا اور پانی و مٹی۔ الرُّكْنُ — چوہا۔ جھگی چوہا۔ الرُّكْنِيُّ — ثابت قدم، سنجیدہ۔ باوقار۔ الرُّكْنِيُّ مِّنَ الْجِبَالِ — اونچے اطران و پہلوؤں والا پہاڑ۔ الأَرْكُونُ — رئیس سردار۔ بڑا کسان۔ مُزَوَّرٌ دِيُونَانِي كَلِمَةٌ ج۔ أَدَاكِنَةٌ المُزَوَّنُ — ٹب، لگن۔ ج۔ مَوَازِينُ — رُكَاةٌ (ن) رُكْوَاةٌ — الأرض — زمین کھودنا۔ — الخوضُ — حوض کو مرت کر کے تیار کرنا۔ الأمرُ — کام کو دست کرنا، اس کی اصلاح کرنا۔ الشَّيْءُ — چیز کو باندھنا۔ الأمرُ — پیچھے ڈالنا۔ مؤخر کرنا۔ الحَمْلُ عَلَى الْبَعِيرِ — بوجھ کو دو چند لادنا۔ بِالْمَكَانِ — اقامت کرنا رہنا۔ عَلَى فُلَانٍ — کسی کی بدگوئی کرنا۔ أَرْكِي — أَرْكَاءُ — الأرض — زمین کھودنا۔</p>	<p>محتاج و بد حال ہونا۔ اوندھا ہونا۔ ظہور کھانا۔ كَرَعَةٌ وَأَرْكَعَةٌ — جھکانا۔ رکوع کرنا۔ الرَّوَاكِعُ — فَا — سر جھکانے والا۔ ج۔ رَاكِعُونَ وَرُكْعٌ وَرُكُوعٌ — الرُّكْعَةُ وَالرُّكْعَةُ — زمین کا گڑھا۔ ایک رکعت۔ رُكْلَةٌ (ن) رُكْلًا وَرُكْلَةٌ — لات مارنا۔ جانور کے اڑ مارنا۔ رُكَلَتِ الْخَيْلُ الأَرْضَ — گھوڑے کا زمین پر ٹاپ مارنا۔ رَاكِلٌ — صَاحِبَةٌ — ایک دوسرے کے لات مارنا۔ تَرَكَلٌ — القَوْمُ — ایک دوسرے کے لات مارنا۔ تَدَكَّلَ الحَافِرُ بِالمُسْحَاةِ وَعَلَيْهَا — پاؤں سے زمین میں دھنسانا۔ الرُّكْلُ — گدنا۔ الرُّكْلَةُ — سبزی کا گٹھا۔ الرُّكْلُ — راستہ۔ جانور کو اڑ لگانے کی جگہ۔ ج۔ مَرَاكِلٌ — الرُّكْلُ — سوار کا پاؤں۔ رُكْعَةٌ (ن) رُكْعًا — الشَّيْءُ — ڈھیر لگانا۔ تہ بہ تہ کرنا۔ تَرَكَمُوا وَارْتَكَمُوا — الشَّيْءُ — ڈھیر لگنا۔ "تَرَكَمَ لِحَدِّ فُلَانٍ" یعنی فلان فرہ ہو گیا۔ الرُّكْعَةُ — تہ بہ تہ بادل۔ الرُّكْمَةُ — کیچڑ کا ڈھیر۔ الرُّكْمُ — تہ بہ تہ بادل یا ریت وغیرہ۔ قَطِيعٌ سُرٌّ كَامٌ — بڑا ریوڑ۔ مَرْتَكَمٌ — الطَّرِيقُ — شاہراہ۔ الرُّكُومُ — مفتح۔ سَمَاتٌ مَّرْكُومٌ — تہ بہ تہ بادل۔ تَاقَةٌ مَّرْكُومَةٌ مَوْلَى أَوْثَنِ</p>	<p>ہوئی میخ، کیل وغیرہ۔ الرُّكَيْسُ — اوندھا، کمزور۔ رُكْضٌ (ن) رُكْضًا — دوڑنا۔ پاؤں پلانا۔ — رُكْضًا — الرُّكْضُ بِرُجْلَيْهِ گھوڑے کو دوڑانے کے لیے اڑ لگانا۔ — الرُّكْضُ بِجَنَاحَيْهِ — ہنکے کا بازو پھڑ پھڑانا۔ هُنْدٌ — تیزی سے بھاگ جانا۔ النُّجُومُ — ستاروں کا چلنا۔ القَوَسُ — تیر اندازی کرنا۔ الأَسْمَانُ أَوْ الثَّوْبُ — زمین یا کپڑے کو پاؤں سے ملنا۔ رُكْضٌ — القَوَسُ — گھوڑے کا دوڑایا جانا۔ صفت۔ رُكُوضٌ رَاكِضٌ مُدَاكِنَةٌ — گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کرنا۔ تَرَكَضٌ — القَوْمُ — ساتھ ساتھ دوڑنا اِرْتَكَضَ — حرکت کرنا۔ بے قرار ہونا۔ — الجَنِينُ — بچہ کا اپنی ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا۔ پھرنا۔ الرُّجْلُ فِي أَمْرٍ — اپنے معاملہ میں تصرف کرنا۔ خَيْلُهُمْ الْيَهُ — دوڑانا۔ القَوْمُ فِي الْمَيْدَانِ — دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔ الرُّكُضَةُ — حرکت، دھکا۔ الرُّكُوضُ — تیز۔ الرُّكُوضُ — بہت دوڑنے والا۔ الرُّكُوضُ — وہ چیز جس سے آگ سلگانی جائے۔ — مِنَ القَوَسِ — کمان کا کنارہ۔ ج۔ مَرَاكِضُ — مَرَاكِضُ الخَوْضِ — حوض کے کنارے جن سے پانی آکر ٹکرائے۔ رُكْعٌ (ن) رُكْعًا وَرُكُوعًا — سر جھکانا۔ بدن خم کرنا۔ إِلَى اللَّهِ — اللہ کے سامنے پست ہونا۔ الرَّجُلُ</p>
---	--	---

الْحَوْضُ - حوض کو تیار کرنا۔
 الْأَمْرُ - مؤخر کرنا۔ علیہ برائی
 بیان کرنا۔ بالیہ کسی سے پناہ
 لینا۔ مائل ہونا۔ لَمْ يَجُنْدًا
 کسی کے لیے لشکر تیار کرنا۔
 رَاكِي - عَلَى الْأَمْرِ کسی امر پر بھروسہ
 کرنا۔ اعتماد کرنا۔
 تَدَكَّى وَارْتَكَى - علیہ کسی پر اعتماد
 کرنا۔ بھروسہ کرنا۔
 الرَّكْوَةُ - چھوٹی کشتی۔ ڈونگا۔ وہ برتن
 جو کوہو کے نیچے رس جمع کرنے کے
 لیے رکھا جاتا ہے، چڑے کا تھیلا۔
 جھاگل۔ ج۔ رِكَاءٌ وَرَكْوَاتٌ -
 التَّرْكِيَةُ - پانی والا کنواں۔ ج۔ رَكَيَا
 وَرَكِيٌّ -
 الْمُرْتَكِي - وَالْمُرَاكِي - دیرپا، ثابت۔
 الْمَرْكُوتُ - کنویں کا چوبچھ۔ کھیل۔
 رَمَّ دُنْضًا رَمًا وَمَرَمَةً - الْبِنَاءُ
 أَوِ الْأَمْرَ دَرَسْتَ كَرَمًا مَرَمْتَ كَرَمًا -
 السَّهْمَ بَعَيْنِهِ - تیر کو دیکھ
 کر اس کو برابر کرنا۔ الْبَهِيمَةُ
 چوپایہ کا ٹہنیوں کو منہ سے پکڑ کر کھانا۔
 الشَّيْءُ - کھانا۔
 رَمَّ دُنْضًا رَمًا وَرَمِيمًا -
 الْعَظْمَ - ہڈی کا بوسیدہ ہونا۔
 مَفْتٌ رَمِيمٌ - ج۔ أَرَمَاءُ
 وَرَمَامٌ - رَمَّ الْحَبْلُ رَسِيًّا
 لُطْنًا -
 أَرَمَ - الْعَظْمَ - ہڈی کا بوسیدہ ہونا۔
 پُرْمَغْرٌ ہونا۔ گوڑے والی ہونا۔ أَرَمَ
 إِلَى اللَّهْوَبِ - کھیل کود کی طرف
 مائل ہونا۔ الْقَوْمُ - لوگوں کا
 خاموش ہونا۔
 رَمَّ - الْبِنَاءُ - عمارت کو درست کرنا۔
 اس کی مرمت کرنا۔

تَرَمَّمَ - الشَّيْءُ - کسی چیز کی اصلاح کے
 پیچھے لگنا۔ الْعَظْمَ - ہڈی گوشت
 سے صاف کرنا۔
 ارْتَمَّتْ - الْبَهِيمَةُ - چوپائے کا
 ٹہنیوں کو چرنا۔ ارْتَمَّ مَا عَلَى
 الْحِوَانِ - دسترخوان کا سب کچھ
 کھانا۔ چٹ کر کے اسے صاف کر دینا۔
 اسْتَرَقَّ - الْبِنَاءُ - عمارت کا مرمت
 کے قابل ہونا۔ الرَّجُلُ - مرمت و
 اصلاح کے لیے بلانا۔
 السَّرَقُ - مَصٌّ - کہتے ہیں "مَا لِي مِنْهُ
 حَمْدٌ وَلَا رَمْدٌ" میرے لیے بغیر اس
 کے چارہ نہیں۔ "مَا لَهُ حَمْدٌ وَلَا
 رَمْدٌ" اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔
 السَّرَقُ - تَرْمِيٌّ - گودا۔ کہتے ہیں "جَاءَ
 بِالطَّحْمِ وَالسَّرَقِ" یعنی وہ رطب و
 یابس خشکی تری، مٹی و پانی یا مالِ لَبَلِ
 و مالِ کثیر لے کر آیا۔
 الرَّقْدُ - غَمٌّ - جماعت۔
 السَّرْمَةُ - بوسیدہ رسی کا ٹکڑا۔ ج۔
 رَمَّ - کہتے ہیں "أَعْطَلَا الشَّيْءُ
 بِرُقْمَتِهِ" اس نے اس کو سب
 کچھ دیا۔
 السَّرْمَةُ - پرانی رسی کا ٹکڑا۔ پر دار۔
 جیونٹی۔ بوسیدہ ہڈی۔ ج۔ رَمَّ
 وَرَمَامٌ -
 السَّرَامَةُ - مِنَ الْجَوَارِي - سلیقہ دار
 ماہر رُطِّي - ج۔ رَمَّ - حَبْلٌ
 (رَمَامٌ وَرَمَامٌ وَرَمَمٌ) بوسیدہ
 رسی۔
 السَّرْمِيمُ وَالسَّرْمَامُ - بوسیدہ۔
 السَّرْمَامَةُ - بقدر ضرورت گزارہ۔
 السَّرْمَةُ وَالسَّرْمَةُ - کُفْرًا جَانُورًا
 ہونٹ۔
 رَمَاءٌ دَفٌّ رَمًا وَرَمُوعًا - بِالْمَكَانِ

اقامت کرنا۔ الْخَبْرُ - گمان کرنا
 اندازہ کرنا (وَأَرَمَاءُ) عَلَى
 الْبِهَائِيَّةِ - زیادہ ہونا۔
 أَرَمَاءُ الْبِيَّةِ - قریب ہونا۔
 مَرَمَاتُ الْأَحْبَابِ - جھوٹی بے بنیاد
 خبریں۔
 رَمَثَةٌ (دُنْضًا) - اصلاح کرنا۔ درستی
 کرنا۔ مَاتَمَّةٌ سے پوچھنا۔ چرانا۔
 الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - ایک شے کو دوسری
 شے سے ملانا۔ مخلوط کرنا۔
 رَمَثٌ (رَسٌ) رَمَثًا - الْبَعِيدُ - رَمَثٌ
 درخت کے پتے کھانے سے بیمار ہونا۔
 الْأَمْرُ - مخلوط و بے ترتیب ہونا۔
 رَمَثٌ - عَلَى الْبِهَائِيَّةِ - سو پر زائد ہونا۔
 سو پر بڑھنا۔ رَمَثٌ (رَمَثٌ)
 الْحَالِيبُ فِي الصَّمْرَجِ - تھنوں میں
 کچھ دووڑھ باقی چھوڑنا۔ رَمَثٌ
 الشَّيْءِ - چیز کو زرم کرنا۔
 السَّرْمَثُ - ایک قسم کی تلخ و شورگھاس
 جس کو حَمَضٌ بھی کہتے ہیں۔ پٹھے
 پرانے کپڑے پہنا ہوا آدمی۔ پیٹھ کا
 کمزور۔
 الرَّمَثُ - تھن میں بچا ہوا دووڑھ۔ دیا کے
 عبور کے لیے کڑیوں کا تختہ۔ زیادتی۔
 فضیلت۔ بوسیدہ رسی۔ ج۔
 أَرَمَاتٌ وَرَمَامٌ -
 الرَّمَثَةُ - دووڑھ کے بعد تھنوں میں بقیہ
 دووڑھ۔
 الرَّمَمَاءُ - وَالرَّمَمَةُ - رَمَثٌ گھاس
 اگانے والی زمین۔
 رَمَجٌ - دَمَجًا - الطَّائِرُ - پندہ کا
 بیٹ کرنا۔
 رَمَجٌ - الْكَاتِبُ - لکھنے کے بعد خواب
 کر دینا۔ لکھے ہوئے کو بگاڑنا۔
 الرَّامِجُ - فَا - زندہ پندہ جو باز وغیرہ کے

شکار کے لیے بال سے ہاندہ کراس کو
بطور طعمہ استعمال کیا جاتا ہے۔
الرَّمَّاحُ۔ نیزے کی گریں اور پوریاں۔
رَمَحَهُ رَفًا، رَمَحًا۔ نیزہ مارنا۔ رَمَحَتْهُ
الدَّابَّةُ۔ جانور کالات مارنا۔
رَمَحَ السَّبْرُقُ۔ بجل کا بگے سے
چلنا۔
تَرَامَحَ۔ القَوْمُ۔ لوگوں کا ایک دوسرے
کو نیزہ سے مارنا۔
الرَّمْحُ۔ نیزہ۔ رِمَاحٌ وَأَرْمَاحٌ۔
کتے ہیں۔ كَسَرُوا أَيْتَهُمْ رَمَحًا۔
ان کے درمیان شرف و فساد بھڑک پڑا۔
”رَمِينَا بِيَوْمٍ كَفَلَّ السُّمُوحِ“
لجے اور مصیبت کے دن سے ہمارا
پالا پڑا۔ ”وَهُمْ عَلَى بَنِي فُلَانٍ
كُرْمُوحٍ وَاحِدٌ“۔ وہ لوگ بنی فلان کے
خلاف ایک جی اور متحد ہیں۔ ”وَ
أَخَذَتِ الْإِبِلُ رِمَاحَهَا“ یعنی
اونٹنیاں دودھ دینے لگیں، اور
انھوں نے خود کو ذبح ہونے کے خطرہ
سے بچالیا۔ السُّمُوحُ۔ فقر و فاقہ۔
الرَّمِيحُ۔ نا۔ نیزہ والا۔ تَوْرَرَامِحٌ
دوسینگ والا بیل۔ السَّمَائِكُ
السُّمُوحُ۔ ایک ستارہ کا نام ہے۔
الرَّمَّاحُ۔ نیزہ بنانے والا۔ نیزہ لینے
والا۔ ج۔ رَمَاحَةٌ۔ الرَّمَّاحَةُ
مِنَ الْقَيْسِيِّ۔ زور سے نیزہ پھینکنے
والی لکان۔
الرَّمَّاحَةُ۔ نیزہ سازی کا پیشہ۔ دَابَّةٌ
رَمَّاحَةٌ وَرَمُوحٌ۔ بہت کائے والا
جانور۔
أَرْمَحُ۔ الرَّجُلُ۔ نرم و ذلیل ہونا۔
الرَّمْحُ۔ گنجان درخت۔
رَمَدٌ رَمَدٌ، رَمَدًا وَرَمَادًا۔ ٹھنڈ
سے ہلاک ہونا۔ رَمَدٌ رَمَدًا

القَوْمُ۔ قوم کو تہس نہس کر دینا
رَمَدَتِ دَسٌ، رَمَدًا۔ العَيْنُ۔ آنکھ کا
آشوب کرنا۔ الرَّجُلُ کسی کی
آنکھ کا دکھنا، آشوب کرنا۔ رَمَدًا
عَيْشُ القَوْمِ۔ قوم کا ہلاک ہونا۔
رَمَدَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو ہلاکت میں
ڈالنا۔ رَمَدَتِ النَّاقَةُ۔ اونٹنی
کا تھن والی ہونا۔
أَرْمَدٌ۔ فقیر و محتاج ہونا۔ القَوْمُ۔
قوم کا قحط زدہ ہونا۔ قوم کے مویشیوں
کا تباہ و برباد ہونا۔ العَيْنُ
آنکھ کا دکھنا۔ أَرْمَدًا کسی کو
راکھ کر ڈالنا۔ تباہ و برباد کر دینا۔
إَرْمَدٌ۔ الشَّيْءُ۔ راکھ جیسا رنگ والا
ہونا۔ العَيْنُ۔ آنکھ کا آشوب
کر آنا۔ فُلَانٌ۔ شتر مرغ کی
طرح دوڑنا۔
الرَّمَدُ۔ آشوب چشم۔ آنکھ کی دکھن۔
الرَّمِيدُ۔ آشوب چشم والا۔ مِثْلُ المِيَاهِ
مَتَغِيرِ بِالنِّجَابِ۔ مِثْلُ
کچھلا کچھلا۔ مَوْتٌ۔ رَمِيدَةٌ۔
الأَرْمَدُ۔ آشوب چشم والا۔ خاک تری
رنگ والا۔ تَوْبٌ أَرْمَدٌ۔ میلا
کپڑا۔ مَوْتٌ رَمَدَاءٌ۔ الرَّمَدَاءُ
شتر مرغ۔ ج۔ رَمَدٌ۔
الرَّمَادُ۔ راکھ۔ ج۔ أَرْمَدَةٌ۔
”هُوَ يَنْفَعُ فِي الرَّمَادِ“۔ وہ
راکھ میں پھونکتا ہے، یعنی بے فائدہ و
بے نتیجہ کام کرتا ہے۔
الرَّمَادَةُ۔ ہلاکت۔
الرَّمَادِيُّ غَاكْسَتْرِي رَمَادِي۔
الرَّمِيدَاءُ وَالرَّمِيدُ۔ آشوب چشم
والا۔ الرَّمِيدُ۔ بھول میں بھنا ہوا
رَمَدٌ۔ حالت درست کرنا۔

تَرَمَّرَ۔ کلام کرنے کے لیے منہ ہلا کر
غاموش رہنا۔
رَمَزَ رَمَازًا، رَمَازًا۔ البیہ۔ اشارہ
کرنا۔ هُ بِكَذَا۔ اگسانا، بھڑکانا۔
الْقَوْبَةُ۔ مشک بھرننا۔
رَمَزَ رَمَازًا، الرَّمَازِيَّةُ۔ ہرن چھلانگ
مارنا۔ ذوق بھرننا۔
رَمَزَكَ، رَمَازَةً۔ بہت حرکت کرنا۔
عقل مند ہونا۔ شریف ہونا۔
تَرَمَّرَ وَارْتَمَرَ۔ تیار ہونا۔ مِثْلُ
الضَّرْبَةِ۔ چوٹ سے بلبلا جانا۔
القَوْمُ۔ اٹھنے کے لیے یا خصوصیت
کے لیے اپنی جگہ کسمانہ۔
أَرْمَازًا، أَرْمَازًا۔ الرَّجُلُ۔ اپنی
جگہ سے ہٹ جانا۔ اپنی جگہ جمے رہنا
رَمَدٌ، مَنْقَبُضٌ ہونا۔ متحرک ہونا۔
تَرَامَرَ۔ القَوْمُ۔ ایک کا دوسرے کی
طرف اشارہ کرنا۔
الرَّمَزُ وَالرَّمَازُ وَالرَّمَنُ۔ اشارہ۔
ج۔ رَمُوزٌ۔
الرَّمِيضُ۔ گرم، معطم، اسیل، عقل مند۔
بہت حرکت کرنے والا۔ ”رَجُلٌ
رَمِيضٌ الفَوَادِ“۔ تنگ دل آدمی۔
الرَّمَازَةُ۔ دُور، زانیر۔ رَمِيضٌ۔ بڑا شکر۔
الرَّمَامُ۔ مِثْلُ الرَّمَامِ۔ مضبوط پوری
قوت والا اونٹ۔
رَمَسَ رَمَسًا، رَمَسًا۔ ڈھانپنا۔ دفن کرنا۔
الرَّمَسُ۔ خمر کو چھپانا۔ القَبْرُ
قبر پر مٹی برابر کرنا۔ هُ بِالْحَجْرِ۔
کسی پر پتھر پھینکنا۔ صفت مفعول۔
رَمِيضٌ وَرَمُوسٌ
أَرَمَسَ۔ المِيَّتَ۔ میت کو دفنانا۔
أَرَمَسَ۔ فِي المَاءِ۔ پانی میں ڈوبنا۔
الرَّمَسُ۔ مِثْلُ الرَّمَسِ۔ مِثْلُ الرَّمَسِ۔
قبر کی خاک، آہستہ و دھیمی آواز۔ ج

<p>بدھ۔ گھوڑے کا کوونا۔ الرَّمَضُ۔ مص۔ گرمی کی جلن۔ خریف سے پہلے کی بارش زمین پر ہے۔ الرَّمَضُ۔ مِنَ السَّحَابِ وَالْمَطَرِ۔ گرمی کے آخر اور خریف کے ابتداء کی بارش یا بادل۔ رَمَضَانُ۔ قمری مہینوں میں نواں مہینہ۔ ج رَمَضَانَاتٌ وَرَمَاضِيٌّ وَأَرْمَاضٌ وَأَرْمِضَةٌ۔ الرَّمَضَاءُ۔ گرمی کی تیزی۔ دھوپ کی تیزی کی وجہ سے گرم زمین۔ الرَّمِيضُ وَالرَّمِيضَةُ۔ مِنَ النِّصَالِ۔ تیز بھالا۔ رَمَطَةٌ (رَمَضٌ) رَمَطًا۔ عیب لگانا۔ طعن و تشیع کرنا۔ رَمَعَرَفٌ (رَمَعَانًا) أَلْفَةٌ۔ غصہ یا بڑھاپے کی وجہ سے ناک کا اپنا۔ صفت (رَمِعٌ)۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ کا آنسو بہانا۔ رَمِيدٌ۔ ماتھے سے اشارہ کرنا۔ دَاسَةٌ۔ سر ہلانا۔ رَبٌّ رَمَعًا وَرَمَعَانًا (الْوَجَلُ) تیز چلنا۔ رَمِعٌ وَأَرَمَعٌ۔ السَّاقِي۔ ساق کی پھٹی یا پیٹ میں درد ہونا۔ رَمِعَتِ النَّوْأَةُ بِالتَّصْبِي عورت کا بچہ جنم توقوع۔ غصہ سے کانپنا۔ لَمِنَا۔ الرَّامِعُ۔ فا۔ سر ہکا کرنا۔ طمانہ والا۔ سر کو اوپر نیچے کرنے والا۔ الرَّمَعَةُ بِحَمَلٍ۔ کہتے ہیں۔ رَمَعَةٌ مِنْ نَبَاتٍ كَمَا سِ كَاجٍ حَصْر۔ الرَّمَاعَةُ۔ دُبر۔ بچہ کا تالو جو حرکت کرتا رہتا ہے۔ الرَّمَاعُ۔ کرکا درد۔ پیٹ کا درد جس سے چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ الرَّمْعُ۔ پھر کی۔ سفید چمکی ہوئی کنکریاں۔</p>	<p>سے دیکھنا۔ الدَّجَاجَةُ مرغی کا بیٹ کرنا۔ صفت (رَمُوسٌ)۔ السَّبَاعُ۔ درندہ کا بچہ جنم۔ رَمِصَتْ (س) رَمَصًا۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ سے کچھ بہنا۔ صفت (رَازِمِعٌ) مؤنث رَمَصَاءُ۔ ج۔ دُمِعٌ۔ رَمِصَ الرَّجُلُ۔ کچھڑ والی آنکھوں والا ہونا۔ الرَّمِصُ۔ آنکھ کا کچھڑ۔ رَمِصٌ (س) رَمِصًا۔ النَّهَارُ دن کا بہت گرم ہونا۔ الشَّمْسُ۔ ریت وغیرہ پر تیز دھوپ کا پڑنا۔ رَجُلُهُ گرم زمین سے کسی کا پاؤں جلنا۔ الطَّائِدُ۔ شدت پیاس سے پردے کے جوف کا گرم ہونا۔ عَيْنُهُ۔ گرم ہو کر جلنے کے قریب ہونا۔ لِلْأَمْرِ۔ غصہ میں آگ بگولا ہونا۔ رَمِصٌ (ن ض) رَمِصًا۔ النَّصْلُ۔ پھل کو دو پتھروں کے درمیان لکھ کر کوٹنا تاکہ وہ باریک ہو جائے۔ رَمِصٌ وَ أَرَمِصٌ (الغَنَمُ) بکریوں کو سخت گرم زمین میں چرانا۔ وَرَمِصٌ الصَّوْمَ روزه کی نیت کرنا۔ رَمِصٌ الرَّجُلُ۔ کسی کا تھوڑا سا انتظار کر کے چل پڑنا۔ وَأَرَمِصٌ الشَّيْءُ۔ جلانا۔ أَرَمِصٌ الرَّجُلُ۔ کسی کو دکھ دینا۔ أَرَمِصٌ الْحَرُّ۔ القَوْمُ۔ گرمی کا تیز ہو کر تکلیف پہنچانا۔ الْأَمْرُ فَلَا نَا کسی کو غصہ سے آگ بگولا کر دینا۔ تَرَمِصٌ۔ الصَّيْدُ۔ سخت گرم جگہ میں شکار کرنا۔ تَرَمِصَتْ نَفْسُهُ۔ جی متلانا أَرَمِصٌ۔ مِنَ الْحَزَنِ۔ غم سے جل جانا۔ لِفُلَانٍ۔ کسی کے لیے غمزہ ہونا۔ كَيْدًا۔ خراب ہونا۔ الْفَرَسُ</p>	<p>رَمُوسٌ وَأَرَمَاسٌ۔ الرَّوَامِسُ۔ رات کو اڑنے والے پرندے رات کو نکلنے والا جانور صفت (رَامِسٌ) (وَالرَّوَامِسَاتُ) نشانات کو مٹا دینے والی ہوائیں۔ الرَّامُوسُ۔ قَبْرِ ج۔ رَوَامِيسُ۔ الرَّمُوسُ۔ قَبْرِ كَيْدٍ۔ رَمِشٌ (ن ض) رَمِشًا۔ الشَّيْءُ۔ کسی شے کو انگلیوں کے سروں سے کھڑنا۔ رَمِشَتِ الْغَنَمُ۔ بکریوں کا تھوڑا سا چرنا۔ بِالْحَجِيرِ۔ کسی کو پتھر مارنا۔ بِيَدِهِ۔ ماتھے سے چھونا۔ أَرَمِشٌ۔ الشَّجَرُ۔ درخت کا پتے لانا۔ پھل دار ہونا۔ الرَّجُلُ۔ ضعف کی وجہ سے کسی کی طرف بہت دیکھنا۔ فِي الدَّمَاعِ۔ تھوڑے آنسو بہانا۔ الرَّمِشُ۔ پلکوں کی سرخی اور ساتھ ساتھ پانی کا رَسَا۔ پلکوں کے بالوں کا آپس میں چھٹنا۔ الرَّمِشُ۔ مص۔ پھولوں کا دستہ۔ رَمِشٌ الْعَيْنُ۔ آنکھ کی پلک۔ الرَّمِشُ۔ سفیدی جو جوانوں کے ناخنوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ الرَّمِشُ۔ خوب صورت ساخت والا۔ مؤنث۔ رَمِشًا۔ ج رَمِشٌ۔ ر۔ وَالرَّمِشُ۔ چند ہی آنکھوں والا۔ الرَّمِشُ۔ مختلف رنگ والا۔ أَرَمِشٌ رَمِشًا۔ بہت گھاس والی زمین۔ الرَّمِشُ۔ دیکھتے وقت آنکھوں کو بہت ٹکانے والا۔ ج۔ مَوَامِيشُ۔ رَمِصٌ (ن) رَمِصًا۔ اللَّهُ مُصِيبَتُهُ۔ مصیبت کو ٹالنا۔ بَلِيغٌ مَصْلُحٌ کرنا۔ الشَّيْءُ۔ ڈھونڈنا۔ ٹوٹنا۔ إِلَيْهِ۔ کسی کی طرف پست نگاہ</p>
---	--	--

ج۔ پیرامیج۔ کتھیں۔ تَدَكْتُهُ
 يَفْتُ اليَوْمُ۔ میں نے اس کو
 اس حال میں چھوڑا کہ وہ غم اور صدمہ
 سے پورے چھوڑ رہا تھا۔
 المُرْمَعَةُ۔ بیابان۔
 رَمْعُ (رَمْعًا)۔ الشَّيْءُ۔ چڑے
 وغیرہ کو ہاتھ سے ملنا۔
 رَمْعٌ۔ رَأْسُهُ۔ سر میں تیل لگانا۔
 الکَلَامُ۔ گفتگو میں جھوٹ سچ ملا
 کر اس کو چھٹی کرنا۔ الطَّعَامُ
 کھانے کو سالن سے ترک کرنا۔
 رَمَقَةُ (رَمَقًا)۔ نَفْرُ ذَا النَّا۔ دیر
 تک دیکھنا۔
 رَمَقٌ۔ دیر تک دیکھنا۔ الکَلَامُ۔
 کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔
 الحَمَلُ۔ کسی کام کو اچھی طرح نہ کرنا
 — بِالْشَّيْءِ۔ کسی چیز سے کسی کے
 آخری سانس کو بچالینا۔
 رَامَقٌ مُرَامَقَةٌ۔ الحَمَلُ۔ کسی کام
 کو اچھی طرح نہ کرنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی
 شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کے
 ساتھ خاطر و بدلات سے پیش آنا۔
 تَرَمَقٌ۔ المَاءُ أَوِ اللَّبَنُ۔ پانی یا
 دودھ تھوڑا تھوڑا پینا۔
 إِرْمَقٌ وَإِرْمَاقٌ۔ الشَّيْءُ۔ کمزور ہونا
 پتلا ہونا۔ إِرْمَاقُ الرَّجُلِ۔ لائوی
 سے ہلک ہونا۔ إِرْمَقُ الطَّرِيقِ۔
 راستہ ہلکا ہونا۔ عَيْشٌ
 رَمِيقٌ وَرِمَاقٌ۔ تنگ گذران۔
 — الرِّمَاقُ نِفَاقٌ وَوَشْمِيٌّ كِي وَجْهٍ سِ
 تہجی نظر سے دیکھنا۔
 الرَّمِيقُ۔ زندگی کے آخری سانس۔
 مِنَ العَيْشِ۔ وہ کم سے کم گزارہ
 جس سے آخری سانس باقی رہ سکے۔
 ج۔ أَسْمَاقٌ۔

الرَّمِيقُ۔ بکریوں کا گلہ فارسی رومہ سے
 (معرّب ہے)
 الرُّمَقَةُ وَالرُّمَاقُ وَالرِّمَاقُ۔ مِنَ
 العَيْشِ۔ بہت قلیل گزارہ جس
 سے انسان صرف زندہ رہ سکے۔
 قوت لایوت۔
 الرَامِيقُ وَالرَّمِيقُ۔ فقیر، حاسد۔ ج
 ج۔ رُمِيقٌ۔ رَجُلٌ رُمِيقٌ۔ کمزور
 آدمی۔
 المُرْمِيقُ وَالْمُرْمِيقُ۔ العَيْشِ
 تنگ گذران والا آدمی۔
 المُرَامِيقُ۔ بَدِ خَلْقٍ۔ بے مہر۔
 اليَوْمِ مَوْقٌ۔ کمزور نظر والا۔
 رَمَكٌ۔ دَمُوكَا۔ بِالْمَكَانِ۔ اقامت
 کرنا۔ رہنا۔ الرِّبْلُ عَلَى المَاءِ
 اونٹوں کا پانی پر پڑاؤ کرنا۔
 أَرْمَكَةٌ۔ بِالْمَكَانِ۔ کسی کو کسی جگہ ٹھہرانا۔
 إِزْمَكٌ۔ إِزْمَاكًا۔ دہلا پتلا ہونا۔
 البَعِيرُ۔ اونٹ کا خاکستری رنگ
 کا ہونا۔ صفت۔ أَرْمَكٌ۔ مَوْنٌ
 دَمَكَاؤٌ۔ ج۔ رُمَكٌ
 اسْتَرْمَكٌ۔ القَوْمُ۔ حسب میں کھوٹ
 رکھنا۔ عیب دار ہونا۔
 الرَامِكُ وَالرَامِكُ۔ ایک قسم کی خوشبو
 الرَّمَكَةُ گھوڑی، یا وہ گھوڑی جو نسل
 چلانے کے لیے رکھی جائے۔ ج۔
 رَمَكٌ وَرِمَاكٌ وَرَمَكَاتٌ
 وَأَرْمَاكٌ۔ رَجُلٌ رَمَكَةٌ۔
 کمزور آدمی۔
 الرَّمَكَةُ۔ اونٹوں کا خاکستری رنگ۔
 رَمَلٌ (رَمَلًا)۔ رَمَلًا۔ الطَّعَامُ۔ کھانے
 میں ریت ملانا۔ النَّسِيجُ۔ باریک
 بننا۔ السَّرِيرَةُ۔ تخت کو جواہر
 وغیرہ سے سجانا۔ آراستہ کرنا۔
 الشُّوبُ بِالْدَمِ۔ کپڑے کو خون میں

لتھیرنا۔ رَمَلًا وَرَمَلَانًا وَ
 مَرْمَلًا۔ کندھوں کو ہلاتے ہوئے رَمَلًا
 رَمَلَةٌ۔ المَرْدَأَةُ مِنَ زَوْجِهَا۔ عورت
 کا راندو بیوہ ہونا۔ النَّسِيجُ۔ باریک
 بننا۔ الکَلَامُ۔ کلام کو گھٹیا بنانا۔
 — الخَطُّ۔ لکھے ہوئے پر خشک کھنے
 کے لیے ریت ڈالنا۔ الشُّوبُ
 کپڑے کو خون میں لتھیرنا۔
 أَرْمَلٌ۔ القَوْمُ۔ قوم کی خوراک یا توشہ
 کا ختم ہو جانا۔ فقیر ہونا۔ زَادَهُمْ
 توشہ ختم ہونا۔ المَرْدَأَةُ۔ عورت
 کا بیوہ ہونا۔ الحَبْلُ۔ سی دراز
 کرنا۔ السَّرْفُ۔ تیر کا خون سے
 لتھیرنا۔ النَّسِيجُ۔ باریک بننا۔
 تَرَمَلَتِ۔ المَرْدَأَةُ۔ عورت کا بیوہ ہونا۔
 تَرَمَلٌ وَارْتَمَلٌ۔ بِالْدَمِ۔ خون
 سے لتھیرنا۔
 السَّمَلُ۔ ریت۔ رَمَلَةٌ اس سے
 خاص ہے۔ ج۔ رِمَالٌ وَأَرْمَلٌ۔
 علم رمل۔ ایک علم ہے جس میں ریت پر
 لکھیں کھینچ کر آئینہ کے حالات معلوم
 کرتے ہیں۔ أَرْمَلٌ مَالٌ۔ بَجْوُ۔
 السَّمَلُ۔ تھوڑی بارش۔ زیادتی نیل گائے
 کی ٹانگوں میں دھاریاں۔ علم عروض میں
 ایک بحر کا نام ہے۔ فن موسیقی میں
 ایک راگ۔
 السَّمَلَةُ۔ زمین کا ریت کا قطعہ۔
 الرَّمَلَةُ۔ کالی دھاری۔ ج۔ رَمَلٌ وَ
 أَرْمَالٌ۔
 الأَسْمَلُ۔ مفلس، مسکین۔ رنڈوا۔ ج۔
 أَرْمَلٌ وَأَرْمَلَةٌ۔ مَوْنٌ أَرْمَلَةٌ
 عَامٌ أَسْمَلٌ۔ کم بارش اور نفع
 والا سال۔
 الأَرْمَلَةُ۔ محتاج۔ کمزور لوگ۔
 الرَّمَالُ۔ ریت نیچنے والا۔

<p>رَنَّتْ وَأَرْنَتِ الْقَوْسُ - کمان کا آواز کرنا۔ رَنَّ وَأَرَنَّ وَأَسْرَتَتْ يَكْذِبًا - کھیل کود کرنا۔ رَنَّتْ - القوس۔ کمان سے آواز نکلوانا۔ تَرْنِينًا - تَرْنِينَةً چیننا۔ چلانا۔ الرَّنَّةُ - مطلق عام آواز، یا خاص کمان وغیرہ کی آواز۔ الرَّنِينُ - مطلق آواز یا غمگین آواز۔ الرَّنُّ - تھوڑا پانی۔ گرمی کے موسم میں پانی میں بولنے والا ایک جانور۔ الرُّنِّي - تمام مخلوق۔ رَنًّا - فا۔ آواز کرنا۔ إِلَيْهِ - کسی کی طرف دیکھنا۔ فِي مَشِيهِ - سُست چلنا۔ الرَّنْبُ - خرگوش۔ مرنٹ و مذکر دونوں کے لیے۔ یہ جانور بڑی میں ضرب المثل ہے ایک قسم کا زبرد۔ ج۔ آر اِنْب۔ (والرَّنْبُ) چھوٹی دم کا ایک جنگلی چوہا۔ الرَّنْبَةُ - اَرْنَبٌ کا واحد۔ ناک کا سر۔ کتے ہیں۔ جَدْعُ فُلَانٍ اَرْنَبَةٌ فُلَانٍ - فلاں نے فلاں کی ناک کاٹ ڈالی، یعنی بہت ذلیل و رسوا کیا۔ ج۔ أَرْنَبٌ - "لَيْبِجٌ مُؤَرَّنَبٌ" و مُؤَرَّنَبٌ - وہ کپڑا جس کی بناوٹ میں خرگوش کی اونٹنی ہوتی ہو۔ أَرْنَبٌ مُؤَرَّنَبَةٌ وَمُؤَرَّنَبَةٌ مُؤَرَّنَبَةٌ - وہ زمین جس میں خرگوش بہت ملیں۔ رَنَحَةٌ - تَرْنِيحًا - کمزور ہونا۔ الرَّيْحُ الغُصْنُ - ہوا کا ٹہنی کو جھکانا۔ کتے ہیں۔ فَضْرَبْتَهُ حَتَّى رَنَحْتَهُ میں نے اس کو اس قدر مارا، کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔</p>	<p>ہونا۔ کتے ہیں۔ مَا زَالَ الشَّرُّ يَتْرَاهِي بَيْنَهُمْ - شران کے درمیان برابر جاری رہا۔ الرَّنِي - اَرْتِمَاءٌ - پھینکا جانا۔ الصَّيْبَةُ شُكْرٌ بِرْتِمَارًا - اَرْتِمَتْ بِهِ الْبِلَادُ - جلاوطن کرنا۔ ملک سے باہر نکال دینا۔ تَرَّتْ - تیر پھینک کر شکار کرنا۔ الرَّهِي - پتھر پھینکنے کی آواز۔ الرَّمَاءُ - زیادتی۔ سود۔ الرَّمِيَّةُ - زیادتی، کہا جاتا ہے۔ هُوَ صَاحِبُ رَمِيَّةٍ - یعنی وہ باتوں میں زیادتی کرتا ہے۔ "فِي هَذَا رَمِيَّةٌ عَمَّا قِيلَ لِي" - جو مجھ سے کہا گیا تھا، اس میں اس سے زیادتی ہے۔ جو ہمیشہ خطا کرتا ہوا اور اتفاق سے اس سے صحیح ٹھیک کام سرزد ہو جاتے تو کہتے ہیں۔ "رَمِيَّةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ" الرَّاهِي - فا۔ ج۔ رَمَاءٌ وَرَامُونَ - تیر مارنے والا۔ ایک ستارہ کا نام۔ الرَّهِيُّ - بہت سخت بارش برسانے والا بادل۔ ج۔ اَرْمَاءٌ وَارْمِيَّةٌ وَ رَمَايَا - الرَّمِيَّةُ - تیرے شکار کیا ہوا۔ ج۔ رَمَايَا - الرَّمِي تیر پھینکنے کا آلہ۔ ج۔ مَرَامٌ الرَّمِيَّةُ - چھوٹا کمزور تیر۔ کھڑ۔ الرَّمِي - مصدری۔ تیر پھینکنے کی جگہ۔ ج۔ مَرَامٌ - "هَذَا الْكَلَامُ يُعِيدُ الرَّمِي" - یہ کلام دور رس ہے۔ "لَهُ هَمَّةٌ قَصِيَّةٌ الرَّمِي" - اس کا ہمت دور تک پہنچنے والا ہے۔ رَنَّ دَض، رَنِيْنَا - وَأَسْرَنَ - بلند آوازی سے رونا۔ رَنَّ وَأَدَقَّ إِلَيْهِ - کسی کی طرف کان لگانا۔</p>	<p>الرَّمِيَّةُ - چھوٹی بیڑی۔ الرَّمِيلُ وَ الرَّمِيلُ شِيرُ الرَّمَانُ - انار کا درخت۔ انار۔ واحد رَمَانَةٌ، الرَّمَانَةُ - ناف اور اس کے آس پاس پیٹ کا حصہ۔ الرَّمَانَةُ - انار اُگنے کی جگہ۔ رَمَهُ دَس، رَمَهَا - اليوم - دن کا سخت گرم ہونا۔ رَهِي دَض، رَمِيًا وَرَمَايَةً - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - پھینکنا۔ المَكَانُ - کسی جگہ کا قصد کرنا۔ اِنَّهُ لَهُ مَدُورًا - رَمَاكَ يَكْذِبًا - کسی پر عیب لگانا۔ تَمَّتْ لَكَانَا - کتے ہیں "رَهِي بِجَبَلِهِ عَلَى غَارِيهِ" - اس نے اس کی رسی اس کے کندھے پر رکھ دی، یعنی اس کو آزاد چھوڑ دیا، کہ جو چاہے سو کرے۔ رَهِي عَلَى الْخَمْسِيْنَ بِجَاسٍ پر زیادہ ہو گیا۔ المَالُ - مال بہت ہونا۔ "رَهِي بِهِ عَلَى السَّبَدِ" - کسی کو کسی شہر پر والی اور حاکم بنانا۔ الرَّهِي - اَرْمَاءٌ - الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ - پھینکنا۔ وَانَا - عَنْ قَرْمِيهِ گھوڑے کی پیٹھ سے گرامینا۔ الرَّهِي عَلَى الْخَمْسِيْنَ - بچاس سے بڑھنا۔ زائد ہونا۔ اَرْمَتْ يَدَهُ الْبِلَادُ - وطن سے نکال دینا۔ رَامَاكَ مَرَامًا وَرَمَاءً وَتَدْمَاءً - ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ دور کرنا ایک دوسرے پر تیر مارنا۔ تَرَاهِي تَرَامِيًا - القَوْمُ - ایک کا دوسرے پر تیر مارنا یا پتھر برسانا۔ الْأَمْرُ - تاخیر ہونا۔ السَّحَابُ بادلوں کا ایک دوسرے سے ملنا۔ تَرَاهِي - الشَّيْءُ - کسی چیز کا لگاتار</p>
--	--	--

رُجِحَ - عَلَيْهِ - غشی طاری ہونا -
 بھاگنے یا خوف یا غم کی وجہ سے
 سست و کمزور ہو کر خمیدہ ہو جانا۔
 صفت (مُرَجِحٌ)
 تَوَجَّحَ وَإِسْتَجَّحَ - نشر و غیرو کی وجہ
 سے جھک جانا - عَلَيْهِ - کسی پر
 فخر کرنا۔
 السَّافِحُ - دوران سر - چکر۔
 المُرْتَحَةُ - جہاز کا اگلا حصہ۔
 دَنَجَ (دَن) رَنَجًا - سست ہونا۔
 رَنَجَهُ - خوار و ذلیل کرنا۔
 تَوَجَّحَ - بہہ - کسی چیز سے چمٹنا، لٹکنا۔
 السَّرْدُ - ایک قسم کا خوشبودار پودا جو
 آس کے مشابہ ہوتا ہے - کھجور کی
 پتیوں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی گون۔
 رَنَجَ (دَف) رُنُوعًا - لاغر و دبلنا ہونا۔
 - لَوْنُهُ - رنگ کا متغیر ہونا۔
 - الدَّابَّةُ - جانور کا سر سے
 مکھیاں اڑانا - الرَّجُلُ - کھیلنا۔
 رَجَع - رَأْسَهُ - اپنے سر کو بلانا۔
 المَرْتَعَةُ - کھیل میں آوازیں - کشادگی۔
 باغ، اذانی و فراخی۔
 الرَّفَّ - الرَّجُلُ - تیز چلنا -
 البَعِيرُ - اونٹ کا چلتے ہوئے
 سر بلانا - النَّاقَةُ بِأَذُنَيْهَا -
 اونٹنی کا تھکن کی وجہ سے کان پھیلے
 کرنا۔
 الرَّائِفُ - مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا
 کنارہ - سرا۔
 الرَّائِفَةُ - ناک کا کنارہ - کان کی نرم
 ہڈی کا کنارہ - سرین کا وہ حصہ جو
 بیٹھے وقت زمین پر لگتا ہے -
 مِنَ النُّجُجِ - آستین کا سرا - جہ
 رَوَائِفُ - "عَلَوَاتُ رَوَائِفِ الْأَكَامِ"
 وہ ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔

رَنَقَ (دَن) رَنَقًا وَرُنُوقًا - وَرَنَقُ
 (دَن) رَنَقًا - المَاءُ - پانی کا
 گدلا ہونا۔ صفت (رَنَقٌ وَرَنِقٌ
 وَرَنَقٌ)
 رَنَقَ - المَاءُ - پانی کو مکر کرنا۔ گدلا
 کرنا۔ پانی کو صاف کرنا۔ القومُ
 بِالْمَكَانِ - کسی جگہ اقامت کرنا۔
 مَهْرَنًا - الطَّائِرُ - پرندے کا
 بغیر اڑنے کے بازوؤں کو پھٹھانا۔
 النُّومُ فِي عَيْنَيْهِ - نیند کا آنکھوں
 میں بھرا نا۔ جَنَاحُ الطَّائِرِ -
 بازو ٹوٹنے سے پرندے کا کرنا۔
 عَيْنَاهُ - بھوک وغیرہ سے نگاہ
 کا پست ہونا۔ جِسْمُهُ أَوْ
 رَأْيُهُ - کمزور جسم یا رائے ہونا۔
 السَّفِينَةُ - کشتی کا اپنی جگہ گھومنا
 اور نہ چلنا۔ الرَّجُلُ - حیران
 ہونا۔ المَعِينَةُ وَنَتْنُ - موت کا
 قریب ہونا۔ کہتے ہیں: "رَنَقٌ وَلَا
 تَعَجَلْ" - مٹھرو، انتظار کرو۔ جلدی
 نہ کرو۔ النَّظَرُ إِلَيْهِ - کسی کو دیر
 تک دیکھنا۔
 أَرَنَقَ - المَاءُ - پانی کو مکر کرنا۔
 اللِّوَاءُ - حملے کے لیے جھنڈے کو
 جنبش دینا۔ اللِّوَاءُ - جھنڈے
 کا بلنا۔
 تَرَنَّقَ - المَاءُ - پانی کا گدلا ہونا۔
 السَّرْنَقُ - بھوٹ۔ گدلا پانی۔
 الرَّفْقَاءُ - مِنَ الطَّيْرِ - انڈے سینے
 والا پرندہ۔ عام لوگ اس کو قسرقیتر
 کہتے ہیں۔ "أَرْضُ رَنَقَاءُ" - بنجر
 زمین - جہ۔ رَنَقَاتٌ -
 الرَّفْقَةُ - مٹی ملا ہوا پانی یا حوض میں تھوڑا
 سا بچا ہوا گدلا پانی - جہ۔ دِيَانَتُ -
 الرَّوْنَقُ - چمک دمک، حُسن و زیبائش۔

التَّرْنُوقُ وَالتَّرْنُوقُ وَالتَّرْنُوقَاءُ -
 نہروں کا کیمچر پانی کے ہاؤ میں خشک
 شدہ مٹی۔
 رَنَمَ (دَس) رَنِيمًا وَرَنَمًا وَتَرَنَمًا -
 خوش آوازی سے گانا۔ الرَّنَمُ وَ
 الرَّنْمَةُ - گیت، راگ، آواز۔
 الرَّنَجُ - خوش آوازی سے گانے والیاں۔
 ہوشیار چھوکریاں۔
 رَنَانٌ، رُنُوزًا - وَرَنَانًا - إِلَيْهِ -
 کسی کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنا۔
 الرَّجُلُ - دل کی مشغولی اور خواہش
 کے غلبہ کے ساتھ کھیل کود میں لگنا۔
 (دَن) وَتَرَانِي عَيْنَهُ (کسی سے غافل ہونا۔
 رَنَى - تَدْرِينَةً - گانا۔ إِلَيْهِ -
 مشتاق ہونا۔ وَأَرْنِي، الْحَسَنُ
 فَلَانًا - حُسن کا کسی کو تعجب میں ڈال
 کر دیکھنے پر اکسانا۔ أَسْرَانَاهُ إِلَى
 الطَّاعَةِ - کسی کو طاعت پر لگانا۔
 اور پھر اس کا طاعت پر ہمیشگی اختیار
 کرنا۔
 رَانَاهُ - سلوک کرنا۔ مدارات کرنا۔
 مقابلہ کرنا۔ لَهُ شَرَفٌ يُدْرَانِي
 الْكَوَاكِبُ - وہ شرف میں ستاروں
 سے مقابلہ کرتا ہے۔ یعنی ستاروں سے
 زیادہ لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف
 کھینچتا ہے۔
 تَرَانِي - مجیب کی طرف مسلسل دیکھنا۔
 الرَّنَا - مص - وہ خوبصورت چیز جس کو دور
 تک دیکھا جائے۔
 الرَّنَاءُ - خوبصورتی۔
 الرَّنَاءُ - اچھی آواز۔ طرب۔
 الرَّنَاءُ وَالتَّرْنُوءُ - خوبصورت چیز کی
 طرف بہت خوشی سے دیکھنے والا۔
 رَهَبٌ دَس، رَهَبَةٌ وَرُهْبَانًا وَرُهْبَانًا
 وَرُهْبَانًا وَرُهْبَانًا وَرُهْبَانًا -

<p>رہس (ف) رھسا۔ الشیء۔ سخت روندنا۔ ترھس۔ الشیء۔ چیز کا بلنا۔ مضطرب ہونا۔ ارھس۔ القوم۔ لوگوں کا بھیڑ کرنا۔ ارھست رجلاً الدابة۔ جانور کی ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ الوادی۔ وادی کا بھرنا۔ الجواد ٹڈیوں کا دل بادل ہونا۔ ارھش۔ الرجل۔ رزنا۔ کانپنا۔ القوم۔ قوم میں جنگ پھڑپھڑنا۔ القوس کمان کا زرم اور ڈھیلی ہونا۔ الفرس گھوڑے کے کھروں کا آپس میں ٹکرانا۔ ترھش۔ کرم و سخاوت سے کام لینا۔ الناقة اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔ الرھش۔ جانور کی اگلی ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ الرھیش۔ من التواب۔ باریک کرنے والی مٹی۔ کمزور۔ پتلا۔ کم گوشت، باریک پھل۔ پتلا۔ ہلکا تیر۔ ناقہ رھیشہ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔ الراھشان۔ جانور کے بازوؤں کے اندر کی دو رگیں۔ الرھشہ۔ کرم و سخاوت۔ جیا۔ الرقاہش۔ جانور کے بازوؤں کے اندر کی رگیں۔ ہاتھ کی پھیلی کے ظاہر کی رگیں واحد (راھش و رھشہ) رھص (ف) رھصاً۔ الشیء۔ زبردستی پھڑپھڑنا۔ الصید۔ شکار کو کمزور و سست کرنا۔ ہ۔ ملامت کرنا۔ جلدی کرانا۔ الحایط۔ دیوار پر پھلاڑھ رکھنا۔ الفوس۔ گھوڑے کے کھروں کی زخمی کرنا۔ ارھص۔ الحایط۔ دیوار پر پھلاڑھ رکھنا۔ الشیء۔ بنیاد ڈالنا ثابت</p>	<p>ارھج۔ غبار اڑانا۔ بین القوم بعض کو بعض پر بھیڑکانا۔ السماء آسمان کا برس پڑنا۔ الرھج و ارھج۔ اڑایا ہوا غبار۔ والرھج۔ فتنہ و فساد۔ شور و شغب۔ پانی سے خالی بادل۔ واحد (رھجہ) الرھوجہ۔ ایک قسم کی چال۔ رھد (ف) رھدا۔ بہت باریک پینا۔ رھد۔ بڑی حماقت و بے وقوفی کرنا۔ رھادۃ۔ العیش۔ زندگی کی خوشحالی۔ الرھودیۃ۔ مہربانی۔ نرمی۔ الرھید۔ نرم و نازک۔ ارزاں۔ امر مڑھود۔ غیر محکم کام۔ رھدن۔ دیر لگانا۔ فی مشیہ۔ چلنے میں گھومنا۔ الرھدن والرھدن والرھدن بزدل۔ احمق۔ چڑیا کی طرح ایک پرندہ ج۔ رھادین و رھادینہ۔ الرھدون۔ بہت چھوٹا۔ رھوہ۔ رھوہ۔ مائیداتہ۔ فیاضی و سخاوت سے دسترخوان کو پھیلانا، فراخ کرنا۔ ترھوہ۔ السراب۔ سراب کا برابر چکنا۔ جسم۔ آسودہ حالی کی وجہ سے جسم کا سفید و نرم و نازک ہونا۔ الرھوہ۔ مص۔ چہرہ کی چمک دمک نوشرونی۔ جسم رھوہ و رھوہ و رھوہ۔ نرم و نازک اور سفید جسم۔ طست رھوہ و رھوہ چوڑا اٹھلاطت۔ رھو (ف) رھو و رھو انا۔ ترو کی حالت میں حرکت کرنا۔ ارھو۔ الامر۔ خوشی سے جھومنا۔</p>	<p>ڈرنا۔ خوف کھانا۔ رھب۔ الجمل۔ اونٹ کی بیٹھ کا کمزور ہونے کی وجہ سے اٹنے کی کوشش کر کے پھر بیٹھ جانا۔ رھبت الناقة سفر کا اونٹنی کو تھکا دینا۔ صفت مذکر و مؤنث (رھب) ج۔ رھاب۔ ارھب۔ تھکے ماندے اونٹ پر سوار ہونا۔ آستین لمبی کرنا۔ آس رھبہ۔ خوفزدہ کرنا۔ ترھب۔ رھب ہونا۔ عبادت کرنا۔ ہ۔ دھکی دینا۔ استرھبہ۔ خوف دلانا۔ الرھب۔ باریک پتلا پھل۔ من الایلی۔ سفر سے تھکا ماندہ اونٹ ج۔ رھاب۔ الرھب۔ آستین۔ الرھبۃ والرھبۃ والرھبۃ۔ ڈر۔ خوف۔ الرھبانۃ والرھبانۃ۔ راہوں کا طریقہ۔ الراھب۔ فا۔ شیر لوگوں سے کنارہ کش ہو کر گرجا میں عزت نشین ج۔ رھبان۔ مؤنث راھبہ۔ ج۔ راھبات و رقاھب۔ الرھبان۔ بہت خوف کرنے والا۔ ج۔ رھابین و رھابینہ و رھابون۔ مؤنث۔ رھبانہ۔ ج۔ رھبانات۔ الرھبان۔ راھب۔ ج۔ رھابین۔ مؤنث رھبانہ۔ ج۔ رھبانات۔ الرھبوت والرھبوتی۔ سخت خوف۔ المرأھب۔ ہولناکیاں، خوفناکیاں۔ الرھیب۔ خوفناک شیر۔ رھیل۔ غیر مفہوم کلام کہنا۔ تدھیل۔ تیز چال چلنا۔ الرھیل۔ غیر مفہوم کلام۔</p>
---	--	--

کرنا۔ ۱۰ اللہ۔ کسی کو بھلائی کی
کان بنانا۔ الغرین۔ گھوڑے
کے گھڑ کو زخمی کرنا۔
دَاهِصٌ - غَرِيْمَةٌ - قَرْنَدَارُ كَ الْغَرِيْمَةِ
نگرائی کرنا۔
تَوَاهِصَتِ - الصُّخُوْرُ - چٹانوں کا آپس
میں بیوستہ ہونا۔
الرَّهِيصُ - مِنَ الْحَائِطِ - دیوار کا پہلا
ردہ چننے کی مٹی۔ الرَّهَاصُ -
مٹی کا رابندنے والا۔
الرَّهِيصَةُ - الْغُوْرَةُ - کے سُم کا زخم۔
الرَّهِيصُ - مِنَ الْخَيْلِ - زخمی گھڑ والا۔
خُفَّ الرَّهِيصُ - اَوْنُ كَ الْبَطْرِ -
زخمی گھڑ۔ اَسَدُ الرَّهِيصُ - اپنی
جگہ سے نہ ٹلنے والا شیر۔
الرَّوَاهِصُ - مِنَ الْحَجَارَةِ - گھڑ کو زخمی
کرنے والے پتھر۔ مَسْبُوْرٌ جِي - ہوئی
چٹانیں۔ وَاحِدٌ دَاهِصَةٌ
الرَّهِيصَةُ - دَرَجَةٌ - رَتْبَةٌ - پائینگاہ۔ ج
مَرَاهِصُ -
رَهَطٌ (دَف) رَهَطٌ - اللَّقْمَةُ - بڑا
لقمہ لینا۔ بہت کھانا۔
رَهَطٌ - بہت کھانا۔ بڑا لقمہ لینا۔ گھوڑے
کی پیٹ پر سوار ہونا۔ گھڑ سے باہر نہ
نکلنا۔
الرَّهَطُ - الْقَوْمُ - قوم کا جمع ہونا۔
اکٹھا ہونا۔
الرَّهَطُ وَ الرَّهَطُ - آدمی کی قوم و قبیلہ
تین سے دس تک کا گروہ، جس میں
غور نہ ہو۔ اس کا واحد نہیں۔ ج
أَرْهَطُ وَ أَرْهَاطٌ - جِج -
أَرَاهَطُ وَ أَرَاهِطٌ - رَهَطٌ
طرف اگر عدد کی اضافت کریں تو اس
سے اشخاص و افراد مراد ہوتے ہیں۔
جیسے کہ ہیں: عَشْرُونَ رَهَطًا

یعنی بیس اشخاص۔ نَحْنُ ذُو رَهَطٍ
یعنی ہم اکٹھے ہیں۔ الرَّهَطُ - دُشْمَنُ
الرَّهَاطُ - گھڑ کا سامان۔
الرَّهَطُ وَ الرَّهَطَاءُ وَ الرَّهَاطُ
مِنْ حُجْرَةِ الْبُرُوجِ - جنگلی
پھوسے کا وہ سوراخ جس سے وہ مٹی
نکالتا ہے۔ ج۔ رَهَاطِي -
رَهَفَ (دَف) السَّيْفُ - تلوار کو باریک
کرنا۔ پتلی کرنا۔
رَهْفَ دِكْ، رَهَافَةٌ وَ رَهْفًا -
باریک و پتلا ہونا۔ صَفَتُ (رَهِيْفٌ)
أَرْهَفَ - السَّيْفُ - تلوار کی دھار کو
پتلی اور تیز کرنا۔ أَرْهَفَ بِالْكَلامِ
فی البدیہہ کہنا۔
الرَّهِيْفُ - پتلا۔ پتلی کی ہوئی دھار۔ دھار
والی تلوار۔
الرَّهْفُ - مَفْعٌ - سَيْفٌ مَرْهَفٌ
تیز باریک دھار کی تلوار۔ فَرَسٌ
مَرْهَفٌ - چپکے ہوئے پیٹ اور
قرب قرب پسیوں والا گھوڑا۔
اور یہ عیب ہے۔ مَرْهَفٌ
الْجِسْمُ - بُلْبُلٌ - پتلے بدن والا۔
رَهَقَ (دَس) رَهَقًا - بے وقوف ہونا۔
صَفَتُ (رَهِيْقٌ) - ہلکا ہونا۔ ظلم کرنا
بداعمال ہونا۔ جھوٹ بولنا۔ جلدی
کرنا۔ السَّفَرُ - سَفَرٌ كَ الْقَرِيْبِ وَ
نَزْوِيْكٌ ہونا۔ کہتے ہیں: رَهَقْتِ
الْكَلْبُ الصَّيْدَ - کتوں نے شکار
کو چالیا۔
رَهَقَهُ - کسی کو برائی سے متہم کرنا۔
رَاهَقٌ - الْغُلَامُ - لڑکے کا بلوغ
کے قریب پہنچنا۔ صَفَتُ (مَرَاهِقٌ)
کہتے ہیں: صَلَّى الصَّلَاةَ مَرَاهِقًا
وقت کے ختم کے قریب نماز پڑھی۔
أَرْهَقَهُ - ظَلَمًا - ظلم میں مبتلا کرنا۔

دُ اِثْمًا کسی کو گناہ پر اکسانا۔
رَهَقَهُ - کسی کو تکلیف دینا۔
تکلیف دہ کام لینا۔ رَهَقَهُ - پالینا۔
طاقت سے اونچے کام پر اکسانا۔
الصَّلَاةُ - نماز کو آخر وقت تک
مؤخر کرنا۔ زَيْدٌ اِنَّ تَصَلِّيَ
نماز پڑھنے میں جلدی کرنا۔ کہتے ہیں:
"لَا تَرْهَقْنِي لَا اَرْهَقَكَ اللهُ"
تم مجھ پر سختی نہ کرو، تم پر اللہ سختی نہ
کرے گا۔
الرَّهَقُ - مَصٌ - گناہ، تہمت، کم عقلی۔
جہالت۔ آدمی کو ایسے کام پر لگانا جو
اس کی طاقت سے اونچا ہو۔
الرَّهَقِي - ایک قسم کی دوڑ۔
الرَّهَاقُ وَ الرَّهَاقُ - قَرِيْبٌ - تَقْرِيْبًا
"كَانُوا رَهَاقًا مَاءَةً" - وہ تنوکے
قرب تھے۔
الرَّهِيْقُ - شَرَابٌ -
الرَّهِيْقَانُ - زَعْفَرَانٌ -
الرَّهَقُ - قَتْلٌ كَ لِيَةِ الْغَرْتَارِ - سخت
تکلیف میں پھنسا ہوا۔
الرَّهَقُ - مَفْعٌ - کم عقل، جاہل، خراب
شرارت سے متہم، سخی، فیاض۔
رَهَكَ (دَف) رَهَكَ - الشَّيْءُ - چیز کو
باریک پینا۔ صَفَتُ مَفْعُوْلًا رَهِيْكٌ
وَمَرْهُوْكٌ - بِالْمَكَانِ اِقَامَتًا
کرنا۔ رہنا۔
رَهَكَ - چلنے میں سست اور ڈھیلا ہونا۔
الرَّهَكُ - مَصٌ نِيْكٌ عِلٌ -
الرَّهَكَةُ - كَوْرِي -
رَهَلٌ (دَس) رَهَلًا - ڈھیلا اور پھولے
ہوئے گوشت والا ہونا۔ صَفَتٌ -
(رَهَلٌ)
رَهَلَةٌ وَ اَرْهَلَةٌ - الْمَوْمٌ - نیند کا
سست و ڈھیلا کرنا۔

تَرَهَّلٌ - ڈھیلا ہونا۔

الرَّهْلُ - پتلا پتلا بادل۔

الْمُتَرَهِّلُ - ڈھیلے بدن والا۔ اَرَهَمْتُ السَّمَاءَ - آسمان کا نرم ہلکی بارش برسانا۔

الرَّهْمَةُ - ہلکی پیچم بارش۔ ج۔ رَهْمٌ وَرَهَامٌ -

الرَّهَامُ وَالرُّهُومُ - دہلی بکری۔

الرُّهَامُ - غیر شکاری پرندہ۔ بڑی تعداد۔

الرُّهْمُ - زیادہ زرخیز۔ ارضائی کی جگہ۔

الرُّهْمُ مَرِيمٌ - ج۔ مَرَاهِمٌ -

رَهْنٌ (رَهْنًا) - الشَّيْءُ فَلَانَا وَعِنْدَ فَلَانٍ - گروی رکھنا، دائم

و ثابت رہنا۔ اور اسی سے ہے۔

”نِعْمَةٌ أَللَّهُ رَاهِنَةٌ“ - اللہ کی نعمت دائم و قائم ہے۔ الشَّيْءُ -

ہمیشہ رکھنا۔ بِالْمَكَانِ اِقَامَتْ كَرْنًا - رُهُونًا (لا غرور و بلا ہونا۔

صفت در راہین)

رَاهِنَةٌ رِهَانًا وَمَرَاهِنَةٌ - عَلَيَّ الْعَيْلُ - دوڑانے کے لیے شرط

لگانا۔ عَلَيَّ كَذَا - شرط لگانا۔

أَرَهَنَهُ - الشَّيْءَ - کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا۔ اَرَهَنَ فَلَانًا -

گمزدہ کرنا۔ پیشگی لینا۔ فِي السِّلْعَةِ گراں کرنا۔ بہت قیمت مانگنا۔

لِيَصْفِيهِ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ - ہمان کے لیے کھانا پینا ہمیشہ مہیا رکھنا۔

أَرَهَنَ الْمَيْتَ الْقَبْرَ - میت کو قبر میں رکھنا۔

تَرَاهَنَ - القومُ - آپس میں شرط باندھنا۔

أَرَهَنَ - الشَّيْءَ مِنْهُ - گروی لینا۔

بِالْأَمْرِ - کسی بات پر مقید ہونا۔

أَسْتَهِنُ - الشَّيْءَ - گروی طلب کرنا۔

مِنْ مَانِكَا -

الرَّاهِنُ - فَا - تیار۔ ہمیشہ رہنے والا۔

مضبوط۔ ہمیشہ رہنے والی خوراک۔

دُبلَا -

الرَّهْنُ - مَضُ - گروی۔ کسی شے کی بندش

وروک۔ گروی رکھی ہوئی شے۔

ج۔ رِهَانٌ وَرِهُونٌ وَرِهَيْنٌ وَرُهْنٌ - کہتے ہیں: اِنِّي لَكَ

رَهْنٌ بِكَذَا - یعنی میں تمہارے لیے اس کا ضامن ہوں۔

الرَّهَانُ - مَضُ - خَيْلُ الرَّهَانِ - شرط لگانے کے گھوڑے۔ کہتے ہیں۔

”هُدَا كَفَرَسِي رِهَانٌ“ - وہ گھوڑوں کے دو گھوڑوں کی طرح ہیں۔

(یعنی دونوں متساوی ہیں)

الرَّهَيْنُ - گروی رکھا ہوا۔ کسی کے عوض

میں روکی ہوئی شے۔ ”أَنَا رِهَيْنٌ بِأَعْمَالِي“ - میں اپنے اعمال میں قابل

مواخذہ ہوں۔

الرَّهِيْنَةُ - گروی رکھی ہوئی چیز۔ ج۔

رِهَانٌ - کہتے ہیں: ”أَنَا رِهِيْنَةٌ بِكَذَا“ - میں اس کا اس میں ماخوذ

ہوں یا اس کا ضامن ہوں اور ممدار ہوں۔

”وَكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ“ - ہر نفس اپنے کمائے ہوئے

کے ساتھ گروی ہے۔

الرُّهْنُ - ہر وہ شے جو کسی چیز کے عوض روکی جائے۔ الرُّهْنُ

بِالْأَمْرِ - مقید۔ كُلُّ الْمُرِيءِ بِالْمَوْتِ مُرْتَهِنٌ - یعنی ہر آدمی

موت کے ساتھ مقید ہے۔

الرُّهْنَانِجُ وَالرَّاهِنَانِجُ - ملاحوں

کا چارٹ یا نقشہ جس کی رو سے وہ سمندر میں راہ دیکھتے ہیں۔

رِهَانٌ (رِهَانًا) - زمی کرنا۔ زم رفتار

چلنا۔ جَاءَتِ الْعَيْلُ رُهُونًا -

گھوڑے ہلکی چال سے آئے۔ وَأَرَكٌ

عَلَى نَفْسِكَ - اپنے نفس پر زمی

کرو۔ الْبَحْرُ - سمندر کا سکون پذیر

ہونا۔ بَيْنَ زَجْلِيْنِ - دونوں

پاؤں کھونا۔ الطَّائِرُ پرنندہ کا

بازو پھیلانا۔

رَاهِيٌّ مَرَاهِيٌّ - الرَّجُلُ - قریب ہونا۔

جمع ہونا۔ باہم حاکم کرنا۔ اَرَهَى

الرُّهَاءَ - کشادہ جگہ میں آنا۔ رہو

پرنندہ کے کھانے پر ہمیشگی کرنا۔

لَهُمُ الطَّعَامُ - کھانا ہمیشہ تیار

رکھنا۔ عَلَيَّ نَفْسِي - زمی برتنا۔

کہتے ہیں: ”أَرَهَيْتُكَ لَكَ“ - میں

نے تم کو اس پر قادر کیا۔

تَرَاهِيٌّ - القومُ - آپس میں زمی کا

سلوک کرنا۔

أَرَهَيْتُ - القومُ - آپس میں مل جانا۔

ولیا تیار کرنا۔

الرُّهْوُ - سارس۔ کنگ۔ ج۔ رِهَاءٌ

(- وَالرُّهْوَةُ) آدمیوں کا گروہ۔

بلندیا پست جگہ۔ يَتَرُ رُهْوًا -

چوڑے منہ کا کنواں۔ ثَوْبٌ

رُهْوٌ - باریک کپڑا۔ غَاسِقَةٌ

رُهْوٌ - لگا تار لوٹ۔

الرُّهَاءُ - مِنَ الْأَمَاكِنِ - فراخ و کشادہ

جگہ۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا

ہموار حصہ۔

الرَّاهِيٌّ - مِنَ الْعَيْشِ - آسودہ زندگی۔

الرَّاهِيَّةُ - مَوْتٌ (الرَّاهِيٌّ) شہد کی

کھی

الرَّهِيَّةُ - کوٹے ہوئے گھوں اور دودھ

سے تیار کیا ہوا دلیا۔

الرُّهْوَانُ - پست زمین۔ زم پیٹھ کے

گھوڑے کو بھی رُهْوَانٌ بولتے ہیں۔

الرُّهَاءُ - جوانب و اطراف۔

المُدْهِی - مِنَ الخَيْل - تیز رفتار گھوڑا۔
 جو ظاہر تیز نہ معلوم ہوتا ہو، لیکن
 مقابلہ کے وقت ہول سے باتیں کرتا ہو
 ج۔ المَرَاہِی۔
 رَهْوَك - الرَّجُلُ - چلنے میں ڈھیلے جوڑوں
 والا ہونا۔ القَوْمُ - مضطرب
 ہونا۔
 الرَّهْوَكُ - موٹا بکری کا بچہ یا بہرن۔
 رَهِيًّا - کمزور دست ہونا۔ خراب رائے والا
 ہونا، بڑھاپے یا سخت محنت سے آنکھوں
 کا گڑھے میں بیٹھنا۔ السَّحَابُ
 بادل کا برسنے کے لیے تیار ہونا۔
 تَرَهِيًّا - مضطرب ہونا۔ بمقرر ہونا۔ بلنا۔
 فِي أَصْرٍ - کام میں کاہلی کرنا۔
 السَّحَابُ - بادل کا برسنے کیلئے تیار ہونا۔
 رَوَّأَتْ رَوِيًّا وَتَرَوِيَّةً - فِي الْأَمْرِ -
 کسی کام کے انجام و نتیجہ پر غور کرنا۔
 أَرَوَاءٌ - إِرْوَاءٌ - الْمَكَانُ - درخت
 کا بکھرت ہونا۔
 الرَّوِيَّةُ وَالرَّوِيَّةُ - غور و فکر۔
 الإِرْوَاءُ - تامل و فکر اور سوچ بچار کرنا۔
 السَّاءُ - حرف را۔ سمد کا جھاگ۔
 ایک درخت کا نام۔ واحد رَاَعَةٌ،
 رَابِ دَن، رَوْبَانُ وَرَوْبَانُ - اللَّبَنُ -
 دودھ کا جھنا۔ صفت رَوَائِبُ،
 کہتے ہیں رَابَ دَمَلًا، اس کی
 ہلاکت کا وقت قریب آپہنچا۔
 السَّجَلُ - متحیر ہونا۔ جھوٹ بولنا۔
 عقل میں خلل آنا۔ سست ہونا۔
 رَوِيَّتٌ - الدَّابَّةُ - جانور کا تھک جانا۔
 رَوْبٌ وَرَابٌ - اللَّبَنُ - دودھ کا
 جھاگہ دی کرنا۔
 الرَّائِبُ - فَا - دہی۔ الرَّائِبُ
 مِنَ الْأُمُورِ - وہ امور جو شبہ و
 شک سے پاک ہوں، مشتبہ امور (مرد)

الرَّابُ - قدر۔ کہتے ہیں: هَذَا رَابٌ
 كَذَا، یہ اتنی مقدار ہے۔ اندازہ۔
 الرَّوْبُ - دہی۔ کہتے ہیں: مَا
 عِنْدَهُ شَوْبٌ وَلَا رَوْبٌ - اس
 کے پاس نہ شہد ہی ہے اور نہ دہی۔
 دجا ہوا دودھ،
 الرَّوْبَةُ وَالرَّوْبَةُ - وہ چھاچھ جو
 دودھ جمانے کے لیے تھوڑی سی اس میں
 ملائی جاتی ہے۔ ضامن۔ دودھ کا بقیہ۔
 الرَّوْبَةُ - حاجت۔ مفلانٌ لَا يَقُومُ
 بِرُؤْيَةِ أَهْلِهِ - فلاں اپنے اہل
 کی حاجت روائی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
 گذران کا ذریعہ۔ محتاجی۔ حیرانی،
 دودھ زیادہ پینے سے کسل و سستی۔
 الرَّوْبَةُ مِنَ اللَّحْمِ - گوشت کا
 ٹکڑا۔ مِنَ اللَّيْلِ - رات کا
 حصہ۔
 الْأَرُوبُ - اونگھنے والا۔ جیران سست۔
 ج۔ رُوبِيٌّ۔
 الرَّوْبِيٌّ - چلنے کی وجہ سے سست ہونے
 والے لوگ۔ واحد رَائِبٌ وَ
 رَوْبَانٌ، يَسْقَاءُ مَرُوبٌ - وہ
 مشک جس میں ضامن ڈال کر دہی
 جایا جائے۔
 الْمِرْوَابُ - دودھ جمانے کا برتن۔
 رَابٌ دَن، رَوْبَانُ - الفَرَسُ - گھوڑے کا
 لید کرنا۔
 الرَّوْبُ - لید۔ ج۔ أَرَوَاتٌ -
 الرَّوْبَةُ - رَوْبٌ کا واحد۔ ناک کی
 چمک کا کنارہ۔ کہتے ہیں: فَلَانٌ يَعْضِبُ
 بِلِسَانِهِ رَوْبَةَ أَنْفِهِ، یعنی فلاں
 بہت زبان دراز ہے۔ چوہنج۔
 الْمَرَاثُ وَالْمَرُوثُ - مِنَ الْفَرَسِ -
 لید کا مخرج۔
 رَابٌ دَن، رَوْبَانٌ وَرَابٌ - الْأَمْرُ -

جلدی ہونا۔ السِّلْعَةُ - سامان کا جلد
 فروخت ہونا۔ الدَّرَاهِمُ - رواج پکڑنا
 - الطَّعَامُ - کھانے کا پک کر تیار ہونا۔
 "أَحْضَرْنَا مَا رَابِحٌ" - جو کچھ دستیاب
 و میسر ہو، ہمارے لیے لاؤ۔ رَابِحَةٌ
 الرِّيبُ - ہوا کا نام معلوم سمت سے
 چلنا۔

رَوَّجٌ - الشَّيْءُ - دیکھ۔ جلد کرنا۔
 السِّلْعَةُ وَالذَّرَاهِمُ - رابح کرنا۔
 - فَلَانٌ كَلَامَهُ - کسی کا اپنے کلام
 کو مزین کر کے اس کی حقیقت کو چھپانا۔
 مبہم کرنا۔

تَرَوَّجٌ - حوض کے گرد اگر دوپہرنا۔ صفت۔
 (رَوَّاجٌ)

الرَّوَجَةُ - جلدی، سرعت۔

رَاَحٌ دَن، رَوْحًا - شام کے وقت آنا یا

جانا یا کام کرنا۔ وقت کی قید کے بغیر

مطلق جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔

رَوَّاحًا وَرَوْحًا، الْقَوْمُ وَالْيَوْمُ وَ

عِنْدَهُمْ - قوم کے پاس شام کے

وقت جانا۔ (رَوْحًا، الْيَوْمُ

دن کا تیز ہوا والا ہونا۔

رَاَحٌ يَرْبِحُ رَيْحًا - الشَّيْءُ - کسی

چیز کی بُو پانا۔

رَاَحٌ يَرَاَحُ رَيْحًا - الْيَوْمُ - دن

کا تیز ہوا والا ہونا۔ الْبَيْتُ - گھر

کا ہوادار ہونا۔ کہتے ہیں: افْتَحَ

الْبَابَ حَتَّى يَرَاَحَ - یعنی دروازہ

کھول کہ ہوا آئے۔ الرَّوِيحُ الشَّيْءُ -

ہوا لگنا۔ الْقَوْمُ الرِّيبُ - لوگوں

کا ہوا میں داخل ہونا۔

رَاَحٌ يَرَاَحُ رَاَحَةً - لِلْمَعْرُوفِ -

نیکی کرنے کی طرف خوشی سے جلدی کرنا

- يَدُهُ لِلْأَمْرِ - سُبُكٌ ہونا۔

- الشَّجَرُ - موسم گرما کے بعد درخت

کاپتے لانا۔ الشیء۔ بُوپانا۔
 "رَاحٌ مِنْكَ مَعْرُوفًا" اس نے
 تم سے بھلائی حاصل کی۔
 رَاحٌ يَرَاخُ رَوَاحًا أَوْ رَاحَةً وَ
 رِيَاخَةً وَأَرْوَحًا أَرِيحَةً —
 لِلْأَمْرِ۔ کسی کام کی طرف خوشی سے
 متوجہ ہونا۔
 رَاحَتْ تَرَاخُ رَاحَةً — الْإِبِلُ۔
 اونٹوں کا شام کے وقت واپس آنا۔
 رَوْحٌ يَرَوْحُ۔ رَوَاحًا۔ کشادہ ہونا۔
 رِيحٌ۔ ہوا لگنا۔ صفت مَدْرُوحٌ وَ
 مَرِيحٌ۔
 رَوْحٌ — الْقَوْمُ۔ شام کے وقت قوم
 کے پاس جانا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کو
 آرام دینا۔ الْإِبِلُ۔ اونٹوں کو
 بوقت شام اپنے باڑے میں لانا۔
 بِالْجَمَاعَةِ۔ تراویح باجماعت
 پڑھنا۔ قَلْبُهُ۔ کسی کے دل کو
 بیدار کرنا۔
 الدَّهْنُ۔ تیل کو خوشبودار بنانا۔
 عَلَيْهِ بِالْمَرْوَحَةِ کسی کو پنکھا
 جھلانا۔
 أَرَاخَ إِرَاخَةً — الْقَوْمُ۔ قوم کا
 ہوا میں داخل ہونا۔ ہ کسی کو رحمت
 میں رکھنا۔ عَلَى فُلَانٍ حَقَّقَهُ۔
 کسی کا حق واپس دے دینا۔
 الْإِبِلُ۔ اونٹوں کو بوقت شام
 باڑہ میں لانا۔ الْمَعْرُوفُ۔
 بھلائی پانا۔ الشیء۔ بُوپانا۔
 الْمَاءُ أَوْ اللَّحْمُ۔ پانی یا
 گوشت کا بدبودار ہونا۔ السَّجَلُ۔
 کسی کا سانس لینا۔ شام کے وقت
 میں داخل ہونا۔ مرنا۔ کہتے ہیں۔
 "أَرَاخَ فَأَرَاخَ" یعنی اس نے مر
 کر سکھ میں ڈالا۔

أَرْوَحَ۔ الْمَاءُ۔ پانی کا بدبودار ہونا۔
 الشیء۔ بُوپانا۔ عَلَيْهِ حَقَّقَهُ
 کسی کا حق واپس دینا۔
 رَاوَحَ۔ بَيْنَ الْعَمَلَيْنِ۔ باری باری
 سے دو کاموں میں مشغول ہونا۔
 بَيْنَ رَجُلَيْنِ۔ باری باری سے
 دونوں پاؤں پر آرام لینا۔
 تَرَوَّحَ۔ شام کے وقت چلنا یا کام کرنا۔
 الْقَوْمُ۔ شام کے وقت قوم
 کی طرف جانا۔ الشَّجَرُ۔ موسم
 گرما کے بعد درخت کا پتے لانا۔
 النَّبَاتُ نَبَاتٌ كَادِرًا زَبُونًا —
 الْمَاءُ۔ پانی کا اپنے قریب کی چیز کے
 اثر سے ہودار ہونا۔ بِالْمَرْوَحَةِ۔
 پنکھا جھلانا۔
 تَرَاوَحَ۔ الرَّجُلَانِ الْأَمْرَ۔ دو آدمیوں
 کا کسی کام کو باری باری سے کرنا۔
 إِرْتَاخَ۔ خوش ہونا۔ چست ہونا۔
 اللَّهُ لَهُ بِرَحْمَتِهِ۔ اللہ کا کسی
 کو بلا و مصیبت سے چھڑانا۔ کہتے ہیں
 "هُمَا يَرْتَوِحَانِ عَمَلًا" وہ
 دونوں کام کو باری باری سے کرتے
 ہیں۔
 إِسْتَرَاخَ۔ إِسْتَرَاخَةً۔ آرام پانا۔
 إِلَيْهِ۔ تسلی و سکون پانا۔
 اسْتَرَوْحَ اسْتَرَوْحًا۔ آرام پانا۔
 الشیء۔ کسی شے کو سونگھنا۔
 الْغُصْنُ۔ ٹہنی کا بولے سے حرکت کرنا۔
 الصَّيْدُ۔ شکار کا انسان کی
 بُوپانا۔ الشَّجَرُ۔ درخت کو
 ہرا کرنا۔
 الرَّايِحُ۔ فا۔ ج۔ رَوْحٌ۔
 الرَّاحُ۔ مص۔ شراب۔ خوشی۔ نشاط۔
 الرَّاحَةُ۔ مص۔ آرام۔ واحد الرَّاحُ،
 بتفصیلی۔ کف دست۔ صحن۔ کہتے ہیں۔

"تَرَكْتُهُ عَلَى أُنْفِي مِنَ الرَّاحَةِ"
 یعنی میں نے اس کو بالکل تھی دست
 چھوڑا۔ کپڑے کی تہہ۔ ج۔ رَاحَاتٌ۔
 الرَّوْحُ۔ آرام۔ بَاوَسِيمُ۔ انصاف۔ مدد
 خوشی۔ رحمت۔ يَوْمٌ سَبَّوْحٌ۔
 خوشگوار دن۔
 الرَّوْحَةُ۔ سَاحٌ كَالسَّمْرِ۔ ج۔
 رَوَّحَاتٌ۔ كَيْلَةٌ رَوَّحَةٌ۔
 خوشگوار رات۔
 الرَّوْحُ۔ جان (مذکورہ نمونہ) نفس۔ هُوَ
 خَفِيفٌ السَّوْحُ۔ وہ پاکیزہ ہے۔
 وحی۔ اللہ کا حکم و امر۔ قرآن۔ پیغام
 خداوندی۔ جبرائیل علیہ السلام۔
 الرَّوْحُ الْأَعْظَمُ۔ اللہ تعالیٰ۔
 رَوْحُ الْمُقْلَاسِ۔ اقامت ثلاثہ کا
 تیسرا اقنوم۔ نسبت کے لیے رَوَّحَانِي
 ج۔ أَرَوَّاحٌ۔ اگلے حکم، اس و آخ
 پارے وغیرہ کو بولتے ہیں، یا بعض
 جڑی بوٹیوں، پھولوں اور دانوں کے پھوڑ
 کو بھی کہتے ہیں۔
 الْأَرَوَّاحُ الْجَبِيثَةُ۔ شياطين۔
 الرَّوَّاحُ دُونَاكُونَ کے درمیان کی چوڑائی
 اور وسعت۔
 الرَّوَّاحُ۔ مص۔ شام یا سورج ڈھلنے کے
 وقت سے رات تک اس کا مقابل۔
 "صباح" ہے۔ کہتے ہیں۔ "أَفْعَلُ
 ذَلِكَ رَوَّاحٌ وَقَبَّاحٌ" میں یہ صبح
 و شام کرتا ہوں۔ ر۔ الرَّوِّيْحَةُ وَ
 الرَّوَّاحَةُ وَالرَّوَّاحَةُ وہ خوشی بولتے ہیں
 سے پیدا ہو۔
 الرِّيْحُ۔ ہوا۔ دُونَتْ، ج۔ أَرِيَّاحٌ
 وَأَرَوَّاحٌ وَرِيَّاحٌ وَرِيْحٌ وَجِبِ
 أَرَاوِيْحٌ وَأَرَايِيْحٌ۔ ب۔ اچھی چیز
 رحمت۔ مدد۔ قوت۔ غلبہ۔ ہوائیں
 چار ہیں: الجنوب دکنی۔ الشمال

اتری۔ الصبا۔ پروائی۔ الدبؤد
پھواری۔
الریحۃ۔ ہوا۔ بو۔
الریحان۔ ہر خوشبودار پودا۔ روزی۔
معیشت۔ ج۔ دیا چین۔
الریحانۃ۔ پھولوں کا گلستانہ۔
الریح۔ من الایام۔ تیز یا ابھی ہوا
والادن۔
الرائحۃ۔ مؤنث رائحہ۔ بو۔ ج۔
نائیحات وروایح۔ الروایح
شام کے وقت کی بارش یا بادل۔ کتے
ہیں۔ "مالک ساریحۃ ولا رائحۃ"
یعنی اس کے پاس مویشی بالکل نہیں۔
الردوح۔ وہ شخص جس کی ٹانگوں کے درمیان
فراخی ہو۔ مؤنث روائح۔ ج۔
روح۔ روح الاریحہ، واسح، کشادہ۔
الاریحی۔ وسیع الاخلاق آدمی۔
الاریحیۃ۔ انسان کی وہ نیک عادت
جو اس کو اچھے افعال اور فیاضی پر
ابھارتی ہے۔
التراویح۔ ترویجہ کی جمع۔ اس
کے معنی مطلقاً بیٹھنے کے ہیں۔ پھر
شب ہائے رمضان میں ہر چار رکعت
نماز کے بعد آرام لینے کے لیے نشست
پر اس کا اطلاق کرنے لگے۔ تراویح
کی پوری بیس رکعت نماز کو بھی تراویح
کہتے ہیں اور اسی طرح چار رکعت کو
ترویجہ۔
المراحہ روانہ ہونے کی جگہ۔ واپس
آنے کی جگہ۔
المراح۔ مویشی کے رہنے کی جگہ۔ اونٹوں
گایوں اور بکریوں کا بارہ۔
المروح والمرویحہ جس کو ہوا لگے۔
یوم مروح۔ عمدہ ہوا کا دن۔
المروح والمرویحۃ۔ پنکھا۔ ج۔

مراوح۔
المروحة بیابان۔ ج۔ مراوح۔
المروحہ۔ مع۔ دھن مروحہ۔
خوشبودار تیل۔
المستراح۔ پانہ۔
رأد یروؤد۔ رودة اور یادا۔
الشیء۔ طلب کرنا۔ الارض
کسی زمین میں چراگاہ و پانی وغیرہ کی
تلاش کرنا تاکہ وہ پڑاؤ وغیرہ کے لیے
مناسب رہے۔ قومۃ مدعی
أو منزل۔ قوم کے لیے چراگاہ یا
منزل کی تلاش کرنا۔
رأد یروؤد رودة نأ وریاداً۔ کسی
شے کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا۔
رأدت رودة اور رودة نأ۔ المروحة
عورت کا اپنے ہمسایوں کے گھر زیادہ آنا
جانا۔ الریحہ۔ ہوا کا نرم چلنا۔
المایشیۃ۔ مویشی کا چرنا۔
رأدۃ مروادۃ وریاداً۔ چاہنا
"رأدۃ عن وعلی نفسہ"
دھوکا دینا۔ گناہ کی ترغیب دینا۔
علی کذا۔ ارادہ کرنا۔
رودة۔ طلب و جستجو پر اکسانا۔
أرادۃ ارادۃ۔ الشیء۔ چاہنا۔ خواہش
کرنا۔ رغبت کرنا۔ علی الامر۔
کسی امر پر اکسانا۔ براگیختہ کرنا۔
أرود۔ ارودا اور مروودا اور مروودا
لغویاً اور ویداء۔ رودة۔
فی السیر۔ نرم رفتار سے چلنا
آہستہ چلنا۔
ارتاد الریاداً۔ الشیء۔ طلب کرنا۔
استراد۔ فرماں بردار ہونا۔ مطیع ہونا۔
لأمری اللہ حکم خداوندی کے
سامنے جھک جانا۔ اس کی طرف لوٹ
جانا۔ الدابة۔ جانور کا چرنا۔

الرجل۔ ادھر ادھر پھر کر روزی کی
تلاش کرنا۔
الرائد۔ فاج۔ رادۃ و رواد۔ و
رائدون۔ باسوس۔ وہ شخص جس
کو قوم چارہ پانی کے تلاش کرنے کے بھیج
دیتی ہے۔ چکی کا دستہ۔ رائد
العین۔ آنکھ میں کھٹکنے والا حس و
خاشاک "ھورائد الوساد" وہ
علم کی بے کلی کی وجہ سے غیر مطمئن ہے۔
الراد۔ بمعنی الرائد۔
الیرید۔ طلب تلاش۔
الرادۃ السرایدۃ۔ والسوادۃ۔ وہ
عورت جو ہمسایوں کے گھروں میں بہت
چکر لگائے۔
الرود۔ مص۔ کتے ہیں۔ "أمش علی
الرود" بکے چلو۔
رودید۔ ارود۔ کا مصدر صغریٰ ہے۔ کتے
ہیں "رودیداً" آہستہ۔ "ورودیدک
زید اور رويد زید" زید کو
مہلت دو۔ "وسار و اسیرا رويداً"
یعنی وہ نرمی سے یا آہستہ آہستہ چلے۔
الارود۔ اپنے کام میں آہستگی کرنے والا۔
کتے ہیں۔ "الدھر ارود ذو
غیر" یعنی زمانہ چپکے چپکے اپنا کام
کرتا ہے۔ پتہ نہیں لگتے دیتا۔
الیرود۔ نرم کی سلاخی چرخنی کا دھرا۔ میخ
لگام کے طلقہ کا لوہا۔ ج۔ مروود۔
المواد۔ والمستراد۔ چراگاہ میں اونٹوں
کی آمد و رفت کی جگہ۔
الروند و الیروند و الساروند۔
ریوند یعنی (غیر معروف کلمہ ہے)
راز۔ رونا۔ الحجز۔ پتھر کو اٹھا کر اس
کے وزن کو جانچنا۔ اندازہ کرنا۔
الوجل۔ آزمانا۔ الیدیناس
وزن کا پتہ لگانے کے لیے اس کو تولنا۔

<p>کسی جگہ کا بکثرت باغات والی ہونا۔ السَّوْضُ - مع قسم قسم کے باغات سے سرسبز جگہ۔ الرَّوْضَةُ - باغ۔ ج۔ رَوْضٌ وَرِيَاضٌ وَ رَوْضَاتٌ وَرِيَّانٌ - وَرَوْضَاتُ الْجَنَّاتِ - باغات کی پر بار جگہیں۔ الرَّوْضَةُ - حوض میں بچا ہوا پانی۔ الرَّيْضَةُ - الرَّوْضَةُ میں ایک لخت الرِّيَاضَةُ - جسمانی ورزش۔ بری حالت سے اچھی حالت کی طرف تبدیلی۔ نفسانی اخلاق کی اصلاح و درستی، عبادت و مراقبہ کے لیے عزت گزینی و گوشہ نشینی۔ الْعِلْمُ الرَّيَاضِيُّ وَالْجُلْدُ الرَّيَاضِيَّاتِ - علم حساب، الجبر، جامیٹری وغیرہ علوم۔ الرَّيْضُ - وہ جانور جس کو سدھانا شروع ہی کیا ہو۔ اَمْوَرٌ رَيْضٌ - غیر حکم کام۔ کم تدبیر سے کیا ہوا کام۔ الْمَرَاضُ - نرم، پست زمین۔ سخت جگہ جو پانی کو روک لے۔ ج۔ مَرَايِضٌ وَ مَرَاضِلٌ - اَرْضٌ مُسْتَرَوِضَةٌ اچھی نباتات اگانے والی زمین۔ نَاطِئٌ يَرُوْطُ وَيَرِيْطُ - رُوْطًا وَ يَرِيْطًا - بِالْمَكَانِ كَيْسِي جگہ پناہ لینا۔ رَاعٌ يَرُوْعُ رَوْعًا وَ رَوْعًا - مِنْهُ كَيْسِي سے ڈرنا۔ صفت۔ (رَالِعٌ وَرَوْعٌ) - فِي يَدَايِ كَذَا - ہاتھ میں مضبوط ہونا۔ رَاعُهُ الْأُمُو - ڈرانا گھبرا دینا۔ تعجب میں ڈالنا۔ رَاعٌ يَرُوْعُ وَيَرِيْعُ سَوَاعًا - لوٹنا۔ واپس ہونا۔ أَدَاعَهُ وَرَوْعَهُ - گھبرا دینا۔ ڈرانا۔ تعجب میں ڈالنا۔</p>	<p>رَاعٌ يَرُوْعٌ - رَوْضًا وَرِيَاضَةً وَ رِيَاضًا - الْمُهْرُ - بچھیرے کو سدھانا۔ رام کرنا۔ چلنا سکھانا۔ صفت (رَائِيضٌ) ج۔ رَاِضَةٌ وَرَوَايِضٌ وَرَوْضٌ وَرَائِيضُونَ - صفت مفعولی (مَرَوْضٌ) - مَوْنٌ مَرَوْضَةٌ - رَوْضٌ - الْمُهْرُ - بچھیرے کو خوب سدھانا۔ الرَّجُلُ كَيْسِي كَابَاغِدٍ میں رہنا۔ الْمَطَرُ الْأَسْرَضُ - بارش کا زمین کو باغ و بہار کر دینا۔ رَاوِضَةٌ عَلَى الْأَمْرِ كَيْسِي كَوْكَيْسِي كَامٍ پہلا پھسلا کر لگانا۔ أَرَاضٌ - إِرَاضَةٌ - سیراب ہونا - الْقَوْمَ - سیراب کرنا - الْمَكَانَ - كَيْسِي جگہ باغات بکثرت ہونا۔ الْأَسْرَضُ - زمین کو باغ و بہار بنا دینا۔ الْحَوْضُ حَوْضٌ كِي تہ کا پانی سے ڈھلکنا۔ أَرَوْضٌ - الْمَكَانُ كَيْسِي جگہ کا سبزہ سے ٹھسک جانا اور بکثرت باغات والی ہونا۔ الْأَرْضُ مِنْ الْمَطَرِ - زمین کا بارش سے تر ہونا۔ تَرَاوِضٌ - الْقَوْمُ - فِي الْأَمْرِ - لَوَكُ کا کسی امر میں آپس میں مناظرہ کرنا۔ - فِي الْبَيْعِ أَوِ الشَّرَاءِ - خَسْرِي وَ فَوْحٌ فِي أَيْسٍ فِي جَهْلَانَا - إِرْتَاضٌ - الْمُهْرُ - بچھیرے کا سدھ جانا۔ إِرْتَاضَتِ الْقَوَا فِي الصَّعْبَةِ لِلشَّاعِرِ شَاعِرٌ كُو مشکل مشکل قافیے سوچے۔ اسْتَرَاضٌ اسْتِرَاضَةٌ - كَيْسِي جگہ کا پانی سے سیراب ہونا۔ وادی یا تالاب میں پانی کا گھرننا۔ کشادہ ہونا - النَّفْسُ خَوْشٌ هُونًا - الْمَكَانُ -</p>	<p>الْأَرَاضِي - زمین پر قیام کر کے اس کی اصلاح کرنا۔ قابل کاشت بنانا - مَا عِنْدَهُ - طلب کرنا۔ چاہنا۔ صفت رَائِيضٌ - ج۔ رَاِضَةٌ - رَوْزٌ - الْكَلَامُ أَوِ الْوَايِ - کلام یا رائے پر آہستہ آہستہ سوچ بچار کرنا۔ رَاِزًا - كَيْسِي كُوَايَا - الرَّائِيضِيُّ - "رے" شہر کی طرف منسوب الرَّازُ - مہاروں کا سردار۔ ج۔ رَاِزَةٌ الرَّيَاِزَةُ - معماری۔ الْمَرَاِزُ وَالْمَرَاِزَةُ - وزن و مقدار۔ الْمَرَاِزُ - دونوں پستان۔ الرَّوْزُ نَاهِدٌ - فِارِسِي لَفْظٌ سَمَكٌ هُوَ رَوْزٌ بِمَعْنَى وَنٍ أَوْ نَاهِدٌ بِمَعْنَى كِتَابٍ هُوَ رَوْزَانِجٌ - كِيلِنْدَرٌ - جَنْتَرِي - رَاسٌ يَرُوْسٌ رَوْسًا - مُتَكَبِّرَانَةٌ چال سے چلنا۔ بہت کھانا۔ الْمَسِيْلُ الْغُنَاءُ - سِيْلَابٌ كَا كُوَا كَرَكْطُ پہلے جانا۔ اسْتَرَاِسٌ - كَهَانَا مَكْنَا - السَّرُوْسُ - مَعْنَى آدَمِي - رُوْسٌ سُوُو بَرَا شَرِيْرٌ آدَمِي - عَيْبٌ - بَسِيَارٌ خَوْرِي - الرَّوَاِسُ - الْأَدْوِيَّةُ وَادِيُوِي كِي چُوِيَا رَوَاِسُ السَّمَابِ - اَكْلَةٌ بَادِلٌ - رَاشٌ يَرُوْشٌ - رَوْشًا - بِهْتٌ كَهَانَا - - الْمَرَوْضُ - مَرَضٌ كَا كَيْسِي كُو کمزور و ناپاقت کر دینا۔ الرَّاشُ - مِنَ الْجَمَالِ أَوِ الرَّوَاِحِ کمزور اونٹ یا نیزہ۔ یہ رَاشٌ کا مخفف ہے۔ مَوْنٌ - رَامَشَةٌ - الرَّوْشُ - عَقْلٌ كِي كَيْسِي - الْأَرُوْشُ - كَمِ عَقْلٌ - مَوْنٌ - رَوْشًا رَاعٌ وَنٌ رَوْضًا - بِوَقُوْفِي كِي بَعْدُ سمجھ دار ہونا۔</p>
--	---	--

رَوْعٌ - رَوْعًا - خوش کن ہونا۔ سمجھ دار ہونا
 اَرْوَعُ اِرْوَاعًا - الراعی بالفتح
 چرواہے کا بکریوں کو ڈالنا۔ لکارنا۔
 اِرْتَاعٌ وَتَرَوْعٌ - مِنْهُ وَكَذَلِكَ - ڈرنا
 - اِرْتَاعٌ لِلْخَبِيرِ - خبر سے خوش
 ہونا۔

الرَّوْعُ - خوف - ڈر۔ لڑائی۔
 الرَّوْعَةُ - ڈر حسن و جمال کا حصہ۔
 الرَّوْعُ - دل کا سیاہ داغ یا اس میں
 ڈر کی جگہ۔ ذہن و عقل۔ کہتے ہیں۔
 " اَفْرِغْ رَوْعَكَ " یعنی سکون و
 اطمینان قلب ہاتھ سے نہ دو۔

الرَّوْعُ - اَرْوَعٌ - کا اسم
 اَلرَّوْعُ - حسن یا بہادری کی وجہ سے
 تعجب میں ڈالنے والا۔ ہوشیار۔ ذکی
 ج۔ رَوْعٌ - وَاَرْوَاعٌ - مؤنث۔
 رَوْعًا - قَلْبُ اَرْوَعٌ - ڈر پرک
 دل۔ رَوْعُ الْقَلْبِ - ہوشیار۔
 ذکی۔ چرکنے دل والا آدمی۔

الرَّائِعُ - فا۔ اپنے حسن یا شجاعت سے
 لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والا۔ حیران کرنے
 والا۔ ج۔ رَائِعُونَ وَرَوْعٌ - مؤنث
 رَائِعَةٌ - ج۔ رَوَائِعٌ وَرَوْعٌ -
 کلام رَائِعٌ - خوش کن کلام۔
 رَائِعَةُ الشَّيْبِ - بڑھاپے کا آغا
 رَائِعَةُ السَّهَارِ اَو الضَّحَى - دن
 یا چاشت کا بڑا حصہ۔

المُرْوَعُ - بہت خوف زدہ۔ تیز فہم۔
 باریک بین۔
 دَاغٌ دَنٌ رَوْعًا وَرَوْعَانًا - الصَّيْدُ
 شکار کا ادھر ادھر جانا۔ الرَّجُلُ
 کسی کا مکر و فریب سے راستہ سے
 الگ ہونا۔ بچ بچ کر چلنا۔ اِلَى
 صَدَا - چپکے سے کسی طرف مائل ہونا۔
 - عَلَيَّ بِالضَّرْبِ - مارنے کے

لیے ٹوٹ پڑنا۔
 رَقَعٌ - اللُّقْمَةُ فِي الدَّمِيمِ - رقمہ کو
 چکنائی میں خوب بھگوننا۔ الٹ پلٹ
 کر کے چکنائی کو اس میں جذب کرنا۔
 رَاوَعَهُ مَرَاوَعَةً - کشتی لڑنا۔ دھوکا

دینا۔ رَاوَعَهُ عَلَى الْأَمْسِ - ورغلانا
 پھسلانا۔ رَاوَعُ الْقَوْمُ - ایک
 دوسرے کو فریب سے طلب کرنا۔
 اِرَاعَهُ اِرَاعَةً وَارْتَاعَهُ -
 اِرْتِيَاعًا - مکر و فریب سے طلب
 کرنا۔ کہتے ہیں: اِرْتَاعُ الْعُقَابِ
 الصَّيْدِ - عقاب نے اپنے شکار کے
 پیچھے ادھر ادھر چکر کائے۔ " اِرَاعَهُ
 عَلَى أَمْرٍ وَعَنْ أَمْرٍ " - ہلا پھسلا کر
 مانگنا۔ تَرَوْعٌ - الْجِمَارُ - گدھے کا
 مٹی میں لڑنا۔

تَرَاوَعًا - ایک دوسرے کو فریب دینا۔
 آپس میں کشتی لڑنا۔
 الرَّائِعُ - فا۔ طَرِيقٌ رَائِعٌ - طیرھا
 راستہ۔

الرَّوَاعُ - وَالرَّوَيْعَةُ - مکر و فریب۔
 الرَّوَاعُ - بہت جلد گر۔ فریبی، لوطی۔
 الرَّوَيْعُ - سرسبزی۔
 الرَّوَيْعَةُ وَالرَّوَاعَةُ - کشتی لڑنے کا
 اگھاڑہ۔

رَافٌ يَرَوُّ - رَوْفًا - بے حرکت ہونا۔
 الرَّوْفَةُ - رحمت۔

رَاقٌ يَرُوقُ - رَوْقًا - الشَّرَابُ -
 صاف ہونا۔ علیہ۔ فضیلت میں
 کسی سے زائد ہونا۔

رَاقٌ رَوْقًا وَرَوْقَانًا - الشَّيْءُ -
 کسی چیز کا پسند آنا۔ خوش کرنا۔ تعجب
 میں ڈالنا۔

رَوْقٌ يَرُوقُ رَوْقًا - اوپر کے لیے
 دانتوں والا۔

رَوْقٌ - الشَّرَابُ - صاف کرنا۔ رَوْقٌ
 بِضَاعَتَهُ - ایک سامان بیچ کر اس
 سے اچھا سامان خریدنا۔ رَوْقٌ وَ
 اَرَوْقٌ وَارِزَاقًا - اللَّيْلُ - رات
 کا تاریکی پھیلانا۔

رُوقٌ - البَيْتُ - گھر کا سا بن تیار
 کیا جانا۔

رَاوَقَةٌ مَرَاوَقَةٌ - ایک دوسرے کے
 مقابل برآمدے رکھنا۔ کہتے ہیں: هُوَ
 مَرَاوِقِيٌّ - اس کا برآمدہ میرے
 برآمدے کے سامنے ہے۔ اَرَاقٌ
 اِرَاقَةٌ - المَاءُ - پانی بہانا۔ ڈالنا
 - دَمَهُ - خون بہانا، یعنی قتل کر
 دینا۔

الرَّائِقُ - فا۔ ج۔ رَوْقٌ وَرَوْقَةٌ -

الرَّوْقُ - مصر۔ سینگ۔ - مِنْ

البَيْتِ - سائبان۔ - مِنْ

الشَّبَابِ - جوانی کا آغاز اور اس کی

بہار۔ - مِنْ الْخَيْلِ - اچھی ساخت

کا خوبصورت گھوڑا۔ - مِنْ اللَّيْلِ -

رات کا ایک حصہ۔ - مِنْ السَّبَابِ

سائبان کی طرح چھایا ہوا بادل۔ -

مِنْ الْمَاءِ وَنَحْوَهُ - صاف۔ -

رَوْقُ الْفَرَسِ - وہ نیزہ جو گھوڑے

کے کانوں کے درمیان رکھا ہو۔ ایسی

حالت میں گھوڑے کو (اَرَوْقُ) کہتے

ہیں۔ - السَّرَاقُ - خالص محبت۔ چیز

کی زیادتی۔ بارش۔ عمر۔ پردہ، نیمہ،

جماعت۔ سردار۔ بہادر۔ جسم۔ شکاری
 کی جگہ ج۔ اَحْمَاقٌ - کہتے ہیں۔
 " دَاهِيَةٌ ذَاتُ رَوْقَيْنِ " - بڑی
 مصیبت۔ " وَدَعَى بِأَوْرَاقِهِ عَلَى
 الدَّابَّةِ " - مہ جانور پر سوار ہوا۔
 " أَلْقَى بِأَوْرَاقِهِ عَنِ الدَّابَّةِ " -
 وہ سواری سے اتر پڑا۔ " أَلْقَى أَوْرَاقَهُ "

وہ تیز دوڑا۔ یا اطمینان کے ساتھ کسی جگہ اقامت کی۔ "وَصَرَبَ رَوْقَهُ يَمْزِلُ كَذَا" فلاں جگہ اتر کر نیمہ زن ہوا۔ وَالْقَتِ السَّحَابَةُ أَوْ رَاقَهَا بادل بہت زود سے برس پڑا۔
 الرِّوَاقُ وَالرِّوَاقُ برآمدہ، سائبان۔ یا گھر سے آگے چھت سے نیچے تک چھوڑا ہوا پردہ۔ ج۔ اَرْوَقَةٌ وِ رِوَاقَاتُ وِرْوَاقُ۔ اَلْعَيْنُ۔ ابرو۔ رِوَاقُ اللَّيْلِ رات کا اگلا حصہ۔
 الرَّاوُوقُ صاف یا چھلنی، وہ برتن جس میں شراب صاف کی جائے۔ پیالہ۔
 رَيْقُ الشَّبَابِ آغاز جوانی و حسن جوانی جوانی کی رونق۔ کہتے ہیں "كُنْتُ فِي رَيْقِ زَمَانِي" میں اپنے زمانہ کی ابتداء میں تھا۔ و رَيْقُ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا بہتر حصہ۔
 الرَّاوُوقُ اوپر کے دانوں کا لمبا ہونا۔ جو عیب شمار ہوتا ہے۔
 الرَّاوُوقَةُ بہترین حسن و جمال۔
 الرَّاوُوقَةُ رائق کی جمع۔ برگزیدہ لوگ۔
 عِلْمَانُ رَوْقَةٍ حسین لڑکے دو احد جمع، مذکر، مؤنث، سب میں یکساں مستعمل ہے۔
 الرَّاوُوقُ سینگ والا۔ اوپر کے لمبے دانوں والا۔
 المَّرْوَقُ صاف کیا ہوا۔ بَيْتُ مَّرْوَقٍ سامنے پردہ چھوڑا ہوا مکان۔
 رَدَلٌ۔ القَرَسُ گھوڑے کی رل ہونا۔
 رَدَلُ الخُبْزِ روٹی کو گھی میں بھونا۔
 السَّوَالُ گھوڑے کی رال۔ ج۔ رَقَاوِيلُ المِرْوَالُ بہت رال گرانے والا۔
 دَامَ دَنٌ دَوْمًا و مَرَامًا۔ الشَّيْءُ

ارادہ کرنا۔ صفت (رَائِحَةٌ) ج۔ رُؤْمٌ و رُؤَامٌ۔
 رَوْمٌ۔ ٹھہرنا۔ فَلَانَا و پہ۔ خواہش دلانا۔ ارادہ کرانا۔ رَائِحَةٌ۔ کے بعد دیگرے چیزوں کا ارادہ کرنا۔ تَرَوَمٌ۔ پہ۔ ٹھٹھا کرنا۔
 الرَّمَامُ۔ ایک درخت۔
 الرَّمَامَةُ۔ چشمہ۔ جو بہے۔
 الرُّومُ و الرُّومُ۔ کان کی لو۔
 الرُّومُ و الأَسْرَوَامُ۔ بحر متوسط کے شمال میں رہنے والے لوگ۔ عیسائیوں کے ایک فرقہ کا نام۔ بحر الروم۔ بحر متوسط، جس کو بحر ابینی بھی کہتے ہیں۔
 رُومَةٌ و رُومِيَةٌ۔ دنیا کا مشہور اور قدیم ترین شہر جو اٹلی کا دارالسلطنت ہے۔ نسبت کے لیے رُومَانِيٌّ۔
 المَرَامُ مقصد۔ مطلب۔ ج۔ مَرَامَاتُ دَانَ بَرْدُونَ رُومًا۔ الأمر۔ سخت ہونا۔ رَأَيْتُ الكَلْبَةَ۔ رات کی بول کا سخت ہونا۔ الرُّومُ۔ سختی۔ ج۔ رُؤُونٌ۔
 رُؤْنَةٌ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کی سختی اور اس کا بڑا حصہ۔
 الأَرُونَانُ۔ سخت۔ دشوار۔ الأَرُونَانُ و الأَرُونَانِيٌّ۔ ہر چیز کی سختی و تیزی۔ مثلاً سردی و گرمی۔ خوشی غمی وغیرہ کی۔ مؤنث۔ اَرُونَانَةٌ و اَرُونَانِيَّةٌ۔
 مَرُونٌ۔ پہ۔ مغلوب۔
 رَاكِدٌ رَوْهَا و رَوَاهَا۔ الماء۔ پانی کا سطح زمین پر لہریں مارتا۔
 رَوِيٌّ رِوَايَةٌ۔ الحدیث۔ حدیث نقل کرنا۔ بیان کرنا۔ صفت (رَاوٍ) ج۔ رَوَاةٌ و رَاوُونَ۔ الحَبْلُ۔ رسی بٹنا۔ الرَّحْلُ۔ کجاوہ کو اونٹ

پر رسی سے باندھنا۔ القَوْمُ۔ قوم کے لیے پانی لانا۔ طلب کرنا۔
 رَوِيٌّ رِوَاوِيٌّ و رَوِيٌّ۔ مِثْنُ المَاءِ۔ پانی سے سیراب ہونا۔ صفت (رَوِيٌّ) مؤنث رَوِيَّةٌ۔ ج۔ رِوَاءُ الشَّجَرِ۔ درخت کا سرسبز ہونا۔
 رَوِيٌّ تَرَوِيَّةٌ۔ سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔ الشَّعْرُ۔ شعر کی روایت کرنے پر آمادہ کرنا۔ النِّبَاتُ پودے کو پانی پلانا۔ رَوِيٌّ فِي الأَمْرِ۔ کسی امر میں سوچ بچار کرنا۔
 أَرَوِيٌّ إِرْوَاءٌ۔ فَلَانَا۔ الشَّعْرُ۔ سیراب کرنا۔ پیاس بھانا۔ شعر کی روایت پر آمادہ کرنا۔
 تَرَوِيٌّ تَرَوِيَّةٌ۔ سیراب ہونا۔ غورو فکر کرنا۔ الحدیث۔ حدیث کی روایت کرنا۔ نقل کرنا۔ القَوْمُ۔ قوم کا سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔
 إِرْوِيٌّ إِرْوَاءٌ۔ مِثْنُ المَاءِ۔ سیراب ہونا۔ الحَبْلُ۔ رسی کا بٹنا۔ مَفَاصِلُهُ۔ جوڑوں کا سخت اور معتدل ہونا۔
 الرِّوِيٌّ۔ سیرابی۔ نعمت کی فراخی و فراوانی۔
 الرِّوِيٌّ۔ سیراب کرنے والا بہت پانی۔
 الرُّوِيُّ۔ سیرابی۔ زرخیزی۔ الرُّوِيَّةُ۔ عمدہ خوشبو۔ عَيْنٌ رَوِيَّةٌ۔ بہت پانی والا چشمہ۔ کہتے ہیں۔ "مِنْ أَيْنَ رَأَيْتَ كُهُ" یعنی تم پانی کہاں سے لاتے ہو۔
 الرُّوِيَّةُ۔ پانی پینے کی طرف کا پھیر پھل۔
 رِيَّةُ البَحْرِ۔ ایک سمندری جانور۔
 الرُّوِيٌّ۔ مِثْنُ الشَّرْبِ۔ پوری سیرابی۔ کہتے ہیں۔ "شَرِبْتُ شَرِبًا رَوِيًّا" میں نے خوب رچ کر پانی پیا۔ مَاءٌ

رَوِيٌّ - بہت اور سیراب کرنے والا پانی۔ الرَوِيٌّ - زور سے بارش برسانے والا بادل۔ تندرست، سالم العقل اور صحیح البدن۔ پلانے والا۔ قافیہ کا حرف۔

الرَوِيَّةُ - مؤنث الرَوِيَّةُ - امور میں غور و فکر حاجت۔ قرض وغیرہ کا بقیہ۔

الرَيَّانُ - سیراب۔ سرسبز ٹہنی۔ مؤنث۔ رَيَّانٌ - ج۔ رِيَّاءٌ - وَجْهٌ رَيَّانٌ - پُرگوشت چہرہ۔ فُلَانٌ رَيَّانٌ مِّنَ الْعُلُوِّ فُلَانٌ بہت علم والا ہے۔

الرِيَّاءُ - ج۔ اَرْوِيَّةٌ (الرَمْوِيَّةُ) ج۔ مَرَاوٍ وَمَرَاوِيٌّ - جانور پر سامان باندھنے کی رسی۔

الرَوَاءُ - میٹھا پانی۔

الرَوَاءُ مَنُوشٌ مَنْظَرِيٌّ - چہرہ کی آب و تاب۔

الرَوِيَّةُ - حدیث یا شعر کا راوی۔ تا مبالغہ کے لیے ج۔ رَوَايَا۔ وہ جانور جس پر پانی لا کر لایا جائے۔ پانی لانے کی مشک۔

الرَوِيَّةُ وَالرَوِيَّةُ - پہاڑی بکری پتلی (مذکورہ مؤنث) ج۔ اَرَاوِيٌّ وَاَرَاوِيٌّ رَابِعَةٌ يَرْبِيَّةٌ - دُيُبَا - کسی کو شک یا تہمت میں ڈالنا۔ کسی سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھنا۔

اَرَابِيَّةٌ اَرَابِيَّةٌ - شک میں ڈالنا۔ تہمت لگانا بے قرار کرنا۔ الرَّجُلُ اَوْ اَلْاَمُوٌّ قَابِلٌ شَكٌّ هَوْنًا اَرَابِيَّةٌ مِّنْهُ اَمْرٌ اس نے اس کے ساتھ بدگمانی کی اور تہمت کا یقین نہیں کیا۔

تَرَيَّبٌ - تَرَيَّبًا - مِّنْهُ - خوفزدہ ہونا ڈرنا۔ يَلِي - کسی سے کوئی شک میں ڈالنے کی بات کہنا۔

اِرْتَابٌ اِرْتَابًا - مِّنَ الشَّيْءِ - کسی چیز میں شک کرنا۔ يَفْلَانٌ - کسی پر تہمت لگانا۔

اِسْتِرَابٌ اِسْتِرَابَةً - شک میں پڑنا کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔

الرَوِيَّبُ - تہمت، شک، حاجت۔ ضرورت گروش، بے اعتقادی۔

الرَوِيْبَةُ - شک، تہمت، بے صبری، بے کلی ج۔ رَوِيْبٌ - اَمْرٌ رَيَّابٌ - ڈرنے والا معاملہ۔

رَاثٌ يَرِيْثُ - رَيِّثًا وَتَدِيْثٌ - دیر کرنا۔ تاخیر کرنا۔

رَيِّثٌ - تھکا۔ الشَّيْءُ نَزَمٌ کرنا۔ اَرَاثَةٌ - اِسْرَاثَةٌ - دیر کرنا۔ اِسْتِرَاثَةٌ اِسْتِرَاثَةً - دیر کرنے والا پانا یا سمجھنا۔

الرَوِيْثُ - زمانہ کی مہلت کا عرصہ یا مقدار، دیر۔ کہا جاتا ہے۔ "وَقَفْتُ رَيِّثًا صَلِيْنَا" وہ ہمارے نماز پڑھنے تک ٹھہرا رہا۔

الرَوِيْثُ - سُسْتُ - دیر کرنے والا۔ رَجُلٌ مَرِيْثٌ الْعَيْنِ - کمزور نظر کا آدمی۔

رَاخٌ يَرِيْخُ رَيِّخًا وَرِيْخَانًا - وَ رَيُّوْخًا - ذلیل ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ رَيِّخَةٌ - سُسْتُ کرنا۔ کمزور کرنا۔

رَاْسٌ يَرِيْسُ رَيِّسًا وَرَيِّسَانًا - متکبرانہ چال چلنا۔ الشَّيْءُ - کسی شے کی پوری حفاظت کرنا۔ الْقَوْمُ - غالب آنا۔ برتری حاصل کرنا۔

الرَوِيْسُ - قوم کا سردار۔

رَاْسٌ يَرِيْسُ - رَيِّسًا - مال و سامان جمع کرنا۔ کھلانا۔ پہنانا۔ روٹی کپڑا دینا۔ مدد کرنا۔ غنی بنانا۔ کَمَا لًا - کسی کو مال دینا۔ مِّنْ حَالِهِ - کسی کے حال کی اصلاح کرنا۔ کہتے ہیں "فُلَانٌ لَا يَرِيْسُ وَلَا يَرِي" فلاں نہ نقصان دہ ہے

بہ نفع رساں۔ وَلَا تَرِيْسُ عَلَيَّ - میرے کلام میں دخل نہ دو۔ د۔ و اَرَاْسٌ وَرَكِيْسٌ (السَّهْمَةُ تِيرٌ مِّنْ بَرِّ لُكَاْنَا - رَكِيْسٌ السَّقْمُ فَاوْنَا - بیماری کا کسی کو کمزور کر دینا۔

اِرْتَاْسٌ - السَّهْمَةُ تِيرٌ مِّنْ بَرِّ لُكَاْنَا - و تَرَكِيْسٌ، اَسْوَدٌ عَالٌ هَوْنَا۔

الرَوِيْسُ - پزندے کے پر۔ واحد رَوِيْسَةٌ ج۔ رِيَّاشٌ وَرِيَّاشٌ - الرَوِيْسُ - فَاخْرًا لِبَاسٍ - سامان و اسباب۔ مال، سرسبزی، معاش۔

الرَوَاْسُ - پزندے کے پر ج۔ اَرِيَّاشٌ - جَمَلٌ رَاْسٌ - کمزور اونٹ۔ رَجُلٌ رَاْسٌ - مالدار آدمی۔ رَمَحٌ رَاْسٌ - کمزور نیزہ۔ طَيْرٌ رَاْسٌ - پر نکلا ہوا پزندہ۔ مَوْنُثٌ (رَاْسَةٌ) - كَلَاءٌ رِيْسٌ وَرِيْسٌ - بہت پتوں والی گھاس۔

الرَوِيْسُ - کان یا چہرے پر کے گھنے بال۔

الرِيَّاشُ - لباس فاخرہ اور عمدہ سامان سرسبزی۔ معاش، مال۔

الرَوِيَّاشُ - تیروں پر پر لگانے والا۔

الرَوَايْسُ - فَا - رشوت کا دلال۔ پر لگا ہوا تیر۔

الرَوِيْسُ - کانوں یا چہرے پر بہت بال رکھنے والا۔ مَوْنُثٌ (رَوِيْسَاءُ) - ج۔ رِيْسٌ - رَجُلٌ اَرِيْسٌ - مال و لباس والا۔

الرَوِيْسُ وَالْمَرِيْسُ - مِّنَ السَّهْمِ - پر لگایا ہوا تیر۔ وَالْبُرْدُ الْمَرِيْسُ - وہ چادر جس پر پروں کی تصویریں بنی ہوں۔ الْمَرِيْسُ بہت بالوں والا۔ کم گوشت والا۔ کمزور پشت والا۔

الرَوِيْسُ - مِّنَ الرِّجَالِ - سقاہی اعزاز کا پر پگڑی میں رکھنے والا۔

الرَوِيْطَةُ - ایک پاٹ کی چادر۔ ہر چادر نما

ہر چیز کا اول اور عمدہ حصہ۔
 الرِّيحُ - ج. آریاق و ریاق و الرِّيقَةُ
 تنویر - کتے ہیں "رئی علی الریق" میں نے ابھی تک کچھ کھایا یا نہیں، یعنی نہار منہ ہوں۔ "شربت علی الریق و علی ریق النفسی أو ریقہ النفسی" میں نے نہار منہ پیا۔
 الریق - بقیہ جان۔ قوت۔
 الرائق - فا۔ خالص، نہار منہ والا۔
 تھی دست، روکھی روٹی۔ نہار منہ پیا جانے والا پانی۔
 الریق - نہار منہ والا۔
 دال یریل ریل - الصبی - بچہ کے منہ سے رال ٹپکنا۔
 الریال - رال، چاندی کا بڑا سکہ۔
 راء یریم - ریمما - حمل البعیر۔ اونٹ کے بوجھ کا جھکنا۔ امکان وینہ۔ کسی جگہ سے جدا ہونا۔ یہ مکان کسی جگہ اقامت کرنا۔ رہنا۔
 عنہ دور ہونا۔ کتے ہیں۔ "رام یفعل کذا" وہ ایسا کرتا رہا۔ اس کا عمل "کان" جیسا ہوتا ہے۔
 ریمما و ریمانا، الجرح - زخم کا بھرا ہوا۔ مندمل ہونا۔
 ریم - یہ - چھوڑ دیا جانا۔
 ریم - تریمما - بالمکان - اقامت کرنا۔ علی کذا - بڑھ جانا۔
 السحابہ - بادل کا ہمیشہ پھیلا رہنا۔
 الریح - مص - فصل و زیادتی۔ پہاڑی قبر قبر کا درمیان۔ دن کا آخری حصہ تاریکی پیدا ہونے تک۔ وقت کا لمبا عرصہ۔ سیرھی کا درجہ۔ والویجہ خالص سفید ہرنی۔
 ران یرین رینا و رینا - الشیء کلاتا و علیہ وید - غالب آنا۔

برج - ج - ریاع و ریوع و آریاع۔
 الریعة - بلند زمین۔ اکٹھی جماعت۔
 الریعان - من کل شیء - ہر چیز کا اول اور عمدہ حصہ۔ "أس من مریعة" زر خیز زمین "مطر مریع" سرسبز و خوشحال لانے والی بارش "ناقة ریعاة و مویاع" بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔
 راف یریف ریفا و ریف آریافا۔
 و تریف - سرسبز زمین میں آنا۔
 راف الماشیة - مویشی کا سبزہ چرنا۔
 راف - مؤیفة - للظنہ - شک کے قریب ہونا۔
 آراف آرافة و آریف آریافا - مکان کسی جگہ کا سرسبز ہونا۔
 الراف - شراب۔
 الریف - سبزہ زار پانی کے قریب کی زمین۔ ج۔ آریاف و ریوف۔
 الریف - کھانے پینے کی فراخی و فراوانی۔ مکان ریف - سرسبز جگہ۔
 راق یریق ریقاً - الماء علی وجه الأرض - پانی کا سطح زمین پر بہنا۔
 السراب - سراب کا چھلکا۔ حرکت کرنا۔ (ر - ریقاً و ریوقاً) بنفسیہ - جان دینا۔
 ریقہ - السراب - صاف شراب پلانا۔
 آراق - إراقہ - الماء پانی گرانا۔
 تریق - السراب - سراب کا چھلکا۔ حرکت کرنا۔
 الریق - مص - باطل، پانی، بغیر سالن کے روکھی روٹی۔ م الریق والریقوتی

کڑا۔ کفن۔ ج۔ ریط و ریاط۔
 راع یریع ریعا و ریوعا و ریاعا۔
 و ریعا - الشیء - نشوونما پانا زیادہ ہونا۔
 الزرع کیتی کا بڑھنا۔ رب ریعا، السراب سراب کا حرکت کرنا۔
 عنہ و الیہ - واپس آنا۔
 فلان لا یریع کلامک - یعنی فلاں تمہاری بات نہیں مانتا۔
 ریع - القوم - جمع ہونا۔ الطعام۔ بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔ الطعام۔ بڑھانا۔ زیادہ کرنا۔
 آراع آراعہ - الزرع - فصل کا بڑھنا۔
 القوم - قوم کی فصل کا نشوونما پانا۔
 الإبل - اونٹوں کا بکثرت بچے دینا۔
 تریع - کلہنا - مضطرب و حیران ہونا۔
 الماء - پانی کا جاری ہونا۔ السراب سراب کا چھلکا۔ بھٹنا۔ القوم۔ لوگوں کا جمع ہونا۔
 یداک بالجوڈ - بخشش کا ہاتھ کھولنا۔
 استراع استراعة - حیران ہونا۔
 یداک بالجوڈ - سخاوت کی داد دینا۔
 الریح - مص - سراب کی حرکت۔ خوف۔
 من کل شیء - ہر چیز کا اصل اور بہتر حصہ۔
 من الضحی - چاشت کے وقت کی روشنی۔
 من الدرع - دامن و آستین کی زیادتی۔
 الریح ہر چیز کی زیادتی۔
 کتے ہیں "لینس لہ ریع" اس کے لیے پیلاوار نہیں۔
 الریح - بلند ٹیلہ۔ اونچی جگہ۔ پہاڑی کشادہ راستہ۔ وادی کی بلندی سے پانی بننے کی جگہ۔ گرجا۔ کبوتروں کا

<p>آرِبِي إِزْيَاءُ - الرَّايَةَ - جَنْدًا - رَيْبِي - الرَّايَةَ - جَنْدًا بِنَانَا الرَّايَةَ - جَنْدًا - عِلْمٌ - اس کی کنیت اُمُّ الْحَرْبِ ہے۔ یہ لو اسے بڑا ہوتا ہے۔ ج۔ الرَّوْحِي - ملک فارس میں ایک شہر ہے نسبت کے لیے ر الرَّوْحِي - خوش منظر خوش شکل - عَيْنٌ رَيْبِيَّةٌ - بہت پانی والا چشمہ۔</p>	<p>موشی والی ہونا۔ صفت (مُؤَيِّنُونَ) الْوَانُ - موزہ نما جوتہ۔ الرَّوَيْنُ - میل کچیل۔ زنگار۔ الرَّيْبَةُ - شراب۔ رَاةٌ - يَرْيِبُهُ - رَيْبَانُ الرَّجُلُ - آمدورفت کرنا۔ رَيْبِيَّةٌ تَرْيِبَانَا - الرَّجُلُ - آمدورفت کرانا۔ تَرْيِبَةٌ - السَّرَابُ - سراب کا کبھی چکنا کبھی بجھنا۔</p>	<p>کتے ہیں: رَانَ هَوَاكُ عَلَى قَلْبِي اس کی خواہش اس کے دل پر چھا گئی۔ غالب آگئی۔ جی کا بگڑنا۔ متلانا۔ رَانَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَيَبِي - موت کا آجانا۔ رَيْنٌ - رِبِي - ایسی سخت مشکل میں پڑنا، کہ چھٹکارے کی شکل نظر نہ آئے، مرنا غم میں پڑنا۔ أَرَانُ إِرَانَةٌ - الْقَوْمُ - قوم کا ہلاک شدہ</p>
---	---	--

ز

<p>الرُّوْفُ - جلدی کرنا۔ مَوْتُ رُوْفٍ - جلدی کی موت۔ رُفٌّ رُفٌّ، زَاكَانًا - مشک کرپنا۔ تَزَاعَكَ تَزَاعُوكًا - مَنُةٌ - شرمانا۔ رُفٌّ رُفٌّ، زَاكَانًا وَرُوْمًا - جلدی مرجانا۔ خوب ڈٹ کے کھانا۔ رُفٌّ - گھبرانا۔ رُفٌّ رُفٌّ - رُفٌّ رُفٌّ - سردی کا کسی کو کپکپا دینا۔ رُفٌّ رُفٌّ - ایسی بات منہ سے نکالنا جس کے حق و باطل کا پتہ نہ ہو۔ کہتے ہیں: مَا زَاكَانًا بِحَرْفٍ: اس نے ایک حرف منہ سے نہیں نکالا۔ رُفٌّ رُفٌّ، زَاكَانًا وَرُوْمًا - زَاكَانًا وَرُوْمًا - بہت گھبرانا۔ زَاكَانًا بِحَرْفٍ - چلانا۔ آواز دینا۔ رُفٌّ رُفٌّ، زَاكَانًا وَرُوْمًا - گھبرانا میں ڈالنا۔ رُفٌّ رُفٌّ - عَلَى الْأَمْرِ - کسی کو کسی امر پر مجبور کرنا۔ الْجَوْحُ - زخم اچھا ہونے تک علاج کرنا۔ الْمَوْتُ الرُّفُّ - المناک موت۔ جلدی کی موت الرُّفُّ - آنکھ، حسب کہتے ہیں: رُفٌّ رُفٌّ</p>	<p>ڈرانا۔ گھبرانا۔ الرُّوْفُ وَالرُّوْفُ - گھبرانا۔ لَيْكَةُ مَرُوْدَةٌ - ڈراؤنی رات۔ رُفٌّ رُفٌّ، وَرُوْمًا رُفٌّ رُفٌّ وَرُوْمًا وَرُوْمًا - اسرار إِذَا رُفٌّ رُفٌّ - الْأَسَدُ - شیر کا دھاڑنا۔ صفت رُفٌّ رُفٌّ رُفٌّ رُفٌّ - الْفُحْلُ - سائل کا آواز کو گڑ گڑانا۔ الرُّفُّ - جنگل، جھاڑی، باغ، ایک بار کی دھاڑ سے من الایلی و القوم۔ اونٹوں اور بکریوں کا گنجان ریوڑ۔ رُفٌّ رُفٌّ - سر اور دم اٹھائے ہوئے جلدی چلنا۔ رُفٌّ رُفٌّ - الشَّيْءُ حکرت دینا۔ رُفٌّ رُفٌّ - ڈر کر چھپ جانا، پہلوؤں کو ہلاتے ہوئے چلنا۔ رُفٌّ رُفٌّ - رُفٌّ رُفٌّ کرنا۔ الشَّيْءُ - حرکت کرنا۔ ادھر ادھر ہلنا۔ رُفٌّ رُفٌّ، زَاكَانًا - جلدی کرنا۔ رُفٌّ رُفٌّ - إِذَا رُفٌّ رُفٌّ - آدھ مرے کو بالکل مار ڈالنا۔</p>	<p>رُفٌّ رُفٌّ، زَاكَانًا - ٹوٹنے کے پینا۔ الرُّفُّ رُفٌّ - زمانہ کا پھرنا۔ الرُّفُّ - الرُّفُّ رُفٌّ - موشی کو ہانکنا۔ رُفٌّ رُفٌّ بوجھ کھینچنا۔ رُفٌّ رُفٌّ - رُفٌّ رُفٌّ رُفٌّ رُفٌّ، الرُّفُّ رُفٌّ - پانی کی مشک کو دور کر کے آنا۔ رُفٌّ رُفٌّ - الرُّفُّ رُفٌّ - کپڑے کا روئیں دار ہونا۔ الرُّفُّ رُفٌّ - کپڑے کا روواں نکالنا۔ الرُّفُّ رُفٌّ وَالرُّفُّ رُفٌّ - کپڑے کا روواں۔ کہتے ہیں: "ذَهَبَتْ الْأَيَّامُ بِتَضَارِيهِمْ وَنَفَضَتْ بِشَبْرِكِهِمْ" زمانہ اس کی رونق لے اڑا اور اس کے روئیں کو جھاڑ دیا۔ یعنی اس کا زمانہ پھانا ہو گیا۔ رُفٌّ رُفٌّ - الشَّيْءُ - کسی چیز پر پارہ کی قلعی کرنا۔ الرُّفُّ رُفٌّ وَالرُّفُّ رُفٌّ - پارہ۔ رُفٌّ رُفٌّ، رُفٌّ رُفٌّ - بِيَهُمْ رُفٌّ رُفٌّ رُفٌّ رُفٌّ - ایک دوسرے کے برخلاف اکسانا۔ رُفٌّ رُفٌّ، رُفٌّ رُفٌّ - رُفٌّ رُفٌّ رُفٌّ رُفٌّ</p>
---	---	---

کسی چیز کا بہت مفید ہونا۔ بیری وغیرہ کا شکوہ نکالنا۔
 تَزِيدُ - الشَّدْقُ - باچھ کا جھاگ نکالنا۔ الرَّجُلُ - کسی کا غیظ و غضب میں آنا۔ اور دھمکی دینا۔
 الزَّبْدَةُ - مکھن لینا۔ الشَّيْءُ - چیز کا خلاصہ لینا۔ نکلنا۔ الِيجَمِينُ - قسم کھانے میں جلدی کرنا۔
 الزُّبْدَةُ وَالزُّبْدُ - مکھن۔ ج۔ زُبْدٌ - زُبْدَةُ الشَّيْءِ - چیز کا بہترین حصہ۔
 کہتے ہیں: "اِخْتَلَطَ زُبْدُهُ بِمَخَارِثِهِ" یہ ضرب المثل اس وقت بولتے ہیں، جب اپنے معاملہ میں حیران ہو جائے۔
 الزُّبْدُ - داد و دہش۔
 الزُّبْدُ - ج۔ اَزْبَادُ وَالزَّبِيدَةُ (ج زَبْدٌ - پانی کا جھاگ۔ دھاتوں کا میل۔ مثل ہے: "صَوَّرَ الْمَحْضُ الزُّبْدُ" یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے کہ ظنی خبر کے بعد سچ بات ظاہر ہو جائے۔
 الزَّبَادُ - ایک بلی کے مانند جانور سے حاصل کردہ خوشبو۔
 الزُّبَادُ - ایک قسم کا پودہ ہے۔
 زُبَادُ اللَّبَنِ - غیر مفید چیز۔ مثل مشہور ہے: "اِخْتَلَطَ الْخَائِرُ بِالزُّبَادِ" یعنی اچھی چیز رومی چیز سے مل گئی۔
 الزُّبْدِيَّةُ - مٹی کا پیالہ۔ ج۔ زُبَادِيٌّ - المَزْبَدُ - مکھن نکالنے کا آلہ۔ ج۔ مَزَايِدُ - المَزِيدُ - فا۔ جھاگ پھینکنے والا۔ يَخْرُجُ مَزِيدٌ - مثلاً طم سمندر جو جھاگ مارے۔
 المَزْدَبِدُ - مکھن والا۔
 زَبْدَةُ رَفِضٍ (ض) زَبْدٌ - عَنِ الْأَمِيرِ - کام سے روکنا۔ منع کرنا۔ السَّائِلُ سَائِلٌ كَوَجْهٍ كُنَا - الرَّجُلُ - کسی کے

الزَّبْدُ - بالوں کی زیادتی اور لمبائی۔
 الزَّبَابَةُ - ایک قسم کا بہرا چوہا جو چوری میں ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں: "أَسْرَقُ مِنْ زُبَابَةٍ"۔
 الزَّبِيْبُ - خشک انگور یا سوکھی انجیر۔ اس کے بیچنے والے کو "زُبَابٌ" کہتے ہیں۔ سانپ کے منہ کا زہر۔
 الزَّبِيْبَةُ - زبیب کا واحد۔ ہاتھ کی پھنسی۔ منہ کے جھاگ۔ سانپ کی آنکھوں کے اوپر کے دو سیاہ نقطے، اسی لیے سانپ کو "ذَاتُ الزَّبِيْبَتَيْنِ" کہتے ہیں۔
 الْأَزْبُ - کانوں اور چہرہ پر بہت بالوں والا مونٹ۔ زَبَاءٌ - "عَاثُ آذُنٌ" زیادہ پیداوار کا سال، مثل ہے: "كُلُّ آذُنٍ لَفُوسٌ" یعنی وہ اونٹ جس کے چہرے پر بہت بال ہوتے ہیں، چمکیل ہوتا ہے۔ "رَاهِيَةٌ زَبَاءٌ" بڑی مصیبت۔
 الزَّبِيْبِيُّ - کش مش بیچنے والا، کشمش۔ خشک انگور کی شراب۔
 المَزْبُ وَالْمَزْبَبُ - بہت مال والا۔ زَبْدَةُ دُنٍ (ض) زَبْدٌ - مکھن کھلانا۔ السَّقَاءُ - مشک کے دودھ کو پلو کر مکھن نکالنا۔
 زَبْدُ رَضٍ (ض) زَبْدٌ - السَّوْقُ - سَقُو میں مکھن ملانا۔ لَسَا - کسی کو مکھن دینا۔ زَبْدٌ - اللَّبَنِ - دودھ کا مکھن لانا۔ شَدَقَةُ - باچھ کا جھاگ نکالنا۔ القَطْنُ - روئی کو دھن کرکاتنے کے قابل بنانا۔
 أَرْبَدٌ - البَحْرُ أَوَالِقَدْرٌ أَوَالْقَمُ - سمندر یا ہانڈی یا منہ کا جھاگ لانا۔ نکالنا۔ کہتے ہیں: "أَرَعَى الرَّجُلُ وَأَرْبَدٌ" یعنی اس کا غصہ بھڑک پڑا۔ اور اس نے سخت دھمکی دی۔ الشَّيْءُ -

فِي زَبِيْبِهِ - لوگوں نے اس کے حسب میں عیب نکالے۔
 الزَّبِيْبُ - بہت خوفزدہ۔
 الزَّامَةُ - حاجت۔ بہت کھانا یا پینا۔ ہوا۔ کرخت آواز۔ کلمہ۔ "مَا يَحْصِيهِ زَّامَةٌ" یعنی وہ اس کی ایک بات میں بھی مخالفت نہیں کرتے۔
 الزَّامَةُ مِنَ الطَّعَامِ - کھانے کا بقدر کفایت ذخیرہ۔
 الزُّوَانُ - گیہوں سے مشابہ ایک دانہ، جو گیہوں میں پیدا ہوتا ہے، اور خواب آور ہے۔ واحد (زُوَانَةٌ)۔
 زَأَى رَفِضٌ زَأِيًا - تکبر کرنا۔
 أَرَأَى - فَلَانًا بَطْنَةً - زیادہ شکم پُری کا کسی کو حرکت پر قادر نہ رکھنا۔
 زَبْتُ رَفِضٌ زَبِيًّا - کانوں اور چہرہ پر زیادہ بالوں والا ہونا۔ الشَّمْسُ - سُوْرَجُ کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 زَبْتُ رَفِضٌ زَبِيًّا - القَبِيْبَةُ - مشک بھرنا۔
 - الحَمَلُ - بوجھ اٹھانا۔
 زَبِيْبٌ - الشَّمْسُ - سُوْرَجُ کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ العِنْبُ - انگور کو خشک کر کے زبیب بنانا۔ الرَّجُلُ زیادہ بولنے سے منہ سے جھاگ آنا۔
 کہتے ہیں: "يُكَلِّمُ فَلَانٌ حَتَّى زَبِيْبٌ فَمَلٌ"۔
 أَرَبْتُ إِزْبَابًا - العِنْبُ - انگور کو سکھانا۔ الشَّمْسُ - سُوْرَجُ کا غروب ہونے کے لیے جھکنا۔
 تَزَبَّبَ - العِنْبُ - انگور کا زبیب بننا۔ خشک ہونا۔ الرَّجُلُ - کسی کا غصہ سے بھر جانا۔ فِي الْكَلَامِ - زیادہ بولنے سے باچھ سے جھاگ نکالنا۔
 إِزْدَبَّتْ إِزْبَابًا - القَبِيْبَةُ - مشک کا بھرنا۔

<p>في الْجِبَالَةِ - جال میں چھنا۔ چھینا۔ الزَّابُوقَةُ - مِنَ الْبَيْتِ - گھر کا گوشہ۔ کونا۔ الْأَسْبَقُ - وہ احمق جو اپنی بے وقوفی سے اپنی داڑھی کے بال نہ چاکے۔ الْمَذْبُوقَةُ - الزَّبِيْقَةُ - نوچی ہوئی داڑھی۔ زَبِيلٌ رَضٍ زَبِيلٌ وَزَبِيلٌ - الارض۔ زمین میں کھاوڑان۔ (ر۔ وَاذْذَبِلَ) الشَّيْءُ - اٹھانا۔ الزَّابِلُ وَ الزَّابِلُ - پست قدم۔ الزَّبَالُ وَ الزَّبَالُ - وہ چیز جس کو چھوٹی اپنے منہ میں اٹھائے۔ کہتے ہیں: "مَا أَصَابَ مِنْهُ زُبَالًا" اس نے اس سے کچھ نہیں پایا۔ الزَّبِيلُ - کھاوڑ گوبر۔ لید۔ الزُّبَيْلَةُ - لقمہ۔ الزُّبَيْلَةُ - تھوڑا پانی۔ مَا فِي الْبَيْتِ زُبَالَةٌ - کنویں میں تھوڑا پانی نہیں ہے۔ الزَّبِيلُ - ج۔ زَبِيلٌ وَ زَبِيلَانٌ - دو الزُّبَيْلُ، ج۔ زَبَابِيلٌ وَ الزُّبَيْلُ، وَ الزُّبَيْلُ، ج۔ زَبَابِيلُ، ٹوکرا۔ برتن۔ گوشہ دان۔ الْمَزْبَلَةُ وَ الْمَزْبَلَةُ - کورا کرکٹ جمع ہونے کی جگہ۔ ج۔ مَزَابِلُ - زَبْنَةٌ (ض) زَبْنًا - بٹانا۔ ٹکر لگانا۔ ایک طرف کرنا۔ کہتے ہیں: "زَبْنٌ عَنَّا مَعْرُوفَةٌ" اس نے اپنی بھلائی ہم سے روک لی۔ زَبْنُ الثَّمَرِ - پھل کو درخت پر فروخت کر دینا۔ أَدْبَنَ - بَيْنَهُ عَنِ الطَّرِيقِ - راستہ سے ایک طرف مکان بنانا۔ زَابِنَةٌ مَذَابِنَةٌ - ایک دوسرے کو بٹانا دھکیلنا۔</p>	<p>آراستہ و پیراستہ کرنا۔ الزَّبِيرُ ج۔ گلکاری و مینا کاری کی زینت۔ ہر خوبصورت چیز۔ سونا۔ سرخ۔ پتلا بادل۔ ج۔ زَبَارِجُ الزَّبْرَجْدُ - ایک قیمتی پتھر جو نمرود کے مشابہ ہوتا ہے۔ زیادہ مشہور سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ ج۔ زَبَارِجُ - زَبْرَقٌ - الثَّوْبُ - کپڑے کو سرخ یا زرد رنگ میں رنگنا۔ زَبْزَبٌ - غضبناک ہونا۔ لڑائی میں شکست کھانا۔ الزَّبْزَبُ - بلی نما ایک جانور۔ ایک قسم کی کشتی۔ ج۔ زَبَابِزٌ - زَبْطٌ رَضٍ زَبْطٌ وَ زَبْطٌ - الْبَطُّ - بلیخ کا چلانا۔ الزَّبَاطَةُ وَ الزَّبَاطَةُ - بلیخ۔ تَذْبَعٌ - بدخلق ہونا۔ غصے والا ہونا۔ جھگڑا ہونا۔ الزَّبِيْعُ - غصہ و جھگڑا۔ الزَّوْبِعُ - خفیہ پست قدم۔ الزَّوْبَعَةُ - بگولہ۔ اس کو آم زَوْبَعِيَّةٌ وَ ابُو زَوْبَعِيَّةٌ بھی کہتے ہیں۔ ج۔ زَوَابِعُ - الزَّوَابِعُ - مصیبتیں۔ الزَّبِيَاغَةُ - جوتی یا موزے کا کنارہ۔ زَبْعَرٌ - ایک خوشبودار درخت۔ الزَّبْعَرِيُّ - بدبو۔ موٹا۔ چہرے اور ابرو پر زیادہ بالوں والا۔ مادہ گہرے۔ زَبَقٌ (ف) زَبَقًا - شَعْرَةٌ - بال اکیرنا۔ ك فِي الْمَسْجِنِ - قید کرنا۔ تنگی میں ڈالنا۔ ك فِي الشَّيْءِ - داخل کرنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - ملانا۔ خلط ملط کرنا۔ الْقَفْلُ تالا کھولنا۔ الْمَرْأَةُ بِوَلَدِهَا پھینک دینا۔ الزَّبِقُ - فِي الْبَيْتِ - گھر میں جانا۔</p>	<p>پتھرا رتا۔ الْبَيْتَاءُ - عمارت پر عمارت اٹھانا۔ الْبَيْتُ - کنویں کو پتھروں سے بنانا۔ عَلَيْهِ مَبْرَكًا (ر۔ وَ زَبْرًا وَ أَنْدَبًا) الْبِكْتَابَتُ کتاب لکھنا۔ زَبْرَدِكٌ زَبَا سَةٌ - بڑے جسم والا ہونا صفت (زَبْيُ) أَنْزَبُ - الرَّجُلُ - آدمی کا بہادر ہونا۔ بڑے جسم والا ہونا - الْكَبْشُ - موٹا کرنا۔ إِزْبَارًا إِزْبَارًا - الْكَلْبُ - کتے کا اپنے بال کھڑے کرنا۔ الشَّعْرُ بال کھڑے ہونا۔ الرَّجُلُ كَسَى کاشٹ و فساد کے لیے تیار ہونا - النَّبَاتُ أَوْ الْوَبْرُ - نبات یا اونٹ کے بالوں کا اگنا۔ الزَّبْرُ - عقل۔ قوی۔ مضبوط۔ پتھر۔ تحریر، کلام۔ الزَّبْرُ - کتاب۔ ج۔ زَبْرٌ - عقل۔ کہتے ہیں: "مَا كُنَّا زَبْرًا" الزَّبْرُ - بہت قوی۔ الزَّبْرَةُ - لوسے کا بڑا ٹکڑا۔ کاندھا اور پیٹھ۔ شیر کی ایل۔ اہرن۔ ج۔ زَبْرٌ وَ زَبْرٌ - الزَّبْرُ - فرشتہ۔ گروہ، کتاب۔ ج۔ زَبْرٌ - حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام پر نازل شدہ کتاب۔ الزَّبِيرُ - مکتوب مضبوط آدمی۔ مصیبت۔ ظریف، ہوشیار آدمی۔ کیچڑ۔ الْأَزْبَرُ - بڑے جوڑے کندھوں والا۔ ایذا رسانی۔ مونس۔ زَبْرَاءُ - ج۔ زَبْرٌ - التَّزْبِيرَةُ - زَبْرٌ كَامِصٌ - تحریر، کتابت الْمَزْبِيرُ - قلم۔ أَرْضٌ مَزْبِيرَةٌ - بہت بھروسے والی زمین۔ زَبْدَجٌ - الشَّيْءُ - چیز کو خوبصورت بنانا</p>
---	---	--

إِنزَبْنَ - القوم - ایک طرف ہٹنا۔ کنارہ پر ہونا۔

تَذَنَّتْ - غالب آنا۔

الزَّبْنُ - بَيْتٌ مِّنْ بَيْنِ كَهْرُونَ سے ایک جانب ہٹا ہوا گھر۔ مَقَامٌ زُبْنٌ - تنگ مقام جہاں انسان کھڑا نہ ہو سکے۔

الزَّبْنُ - گوشہ۔ کنارہ

زُبْنَتَا - الناقية - اونٹنی کی دونوں ٹانگیں۔

الزُّبَيْنَةُ - سخت، سرکش انسان یا جن۔

سپاہی - جہ - زُبَانِيَّةٌ

الزُّبَانِيَّةُ - سپاہی۔ وہ فرشتے جو دوزخیوں کو دوزخ کی طرف دھکیلیں گے۔

الزُّبُونُ - مِّنَ التَّوْقِي - دوہتے وقت بہت زانو پھٹکانے والی اونٹنی۔

حَرْبُ زُبُونٌ - سنگین جنگ۔

السُّبُونُ - کندہن۔ بیوقوف۔

الزُّبُونَةُ وَالزُّبُونَةُ - گردن۔

زُبَانِي - العَقْدَبِ - بچھو کا ڈنک جہ - زُبَانِيَاتٌ

زُبَانِيَا - العَقْدَبِ - بچھو کے سینگ۔

المُزَابِنَةُ - اُكْلٌ وَانْدَاةٌ كِ

زَبِي رَضٍ زَبِيًّا وَازْدَبِي - اٹھالے جانا۔

ہانکنا۔ زَبَاةٌ بَشِيرٌ - کسی پر برائی کا الزام لگانا۔ تَمَّتْ لَكَانَا

أَزْبَاهُ - أَزْبَاءٌ - اٹھانا۔ رَبِّي فُلَانَا

ہانکنا۔ اللَّحْمُ - شكار کے گڑھے

میں گوشت بکھیرنا۔

زَبِي وَتَزَبِي - الزُّبَيْةُ - شكار کے لیے

گڑھے میں چھینا۔ مالے بیٹھنا۔

الزُّبَيْةُ - دزدوں کے شكار کے لیے گڑھا

سوئی پکانے یا گوشت بھوننے کا گڑھا

وہ پشتہ جس پر پانی نہ چڑھے۔ جہ۔

ذَبِي كَتَبْتُمْ بِلَغِ السَّيْلِ

الذُّبِيُّ - معاملہ سنگین ہو گیا۔

الرُّسُيُّ - سُرْعَتٌ، نَشَاطٌ - ایک قسم کی

چال۔ برائی۔ بڑا معاملہ۔ جہ۔ أَزَابِيٌّ

زَجْرَةٌ (ن) زَجْرًا - دوڑنا۔ کسی کو

نیزے کے پچھلے سرے کے لوہے سے

مارنا۔ زَجْدٌ بِالرُّمْحِ - نیزہ مارنا۔

بِالشَّيْءِ - کوئی چیز پھینکنا۔

زَجْرَةٌ رَضٍ زَجْرًا وَازْدَجْرٌ - حَاجِبَةٌ

ابرو کا دراز اور باریک ہونا۔ صفت

(أَزَجْرٌ) مَوْنَتٌ زَجَاءٌ - جہ۔

زُجْرٌ

زَجَجٌ - الحَاجِبُ - ابرو کو دراز اور

باریک کرنا۔ المَوْضِعُ - کسی جگہ

کو درست کرنا۔ ہموار کرنا۔

أَزَجْرٌ - الرُّمْحُ - نیزے کے پچھلے سرے

پر لوہا لگانا۔ نیزے کے پچھلے سرے

سے لوہا نکالنا۔

الزُّجْرُ - نیزے کے پچھلے سرے کا لوہا۔

مَثَلٌ هُوَ "جَعَلَ الزُّجْرَ قُدَامَ

السِّنَانِ" یعنی اس نے ادنیٰ کو اعلیٰ

پر فضیلت دی۔ کہنی کا سرا۔ تیر

کا پھل۔ جہ۔ زَجَاجٌ وَازْجَجَةٌ

وَازْجَجَةٌ

الزُّجَاجُ وَالزُّجَاجُ وَالزُّجَاجُ - شَيْثٌ

(زَجَاجَةٌ) شَيْثٌ كَالْمَكْرَاهِ شَيْثٌ

كَابْرَتِنِ

الزُّجَاجِيُّ - شَيْثٌ يَبْحِنُ وَاللَّ - وَ

الزُّجَاجِيُّ - شَيْثٌ بَانِي وَاللَّ

الزُّجَاجِيُّ - شَيْثٌ گری کا پیشہ۔

الزُّجَجْرُ - پھل لگے ہوئے چھوٹے نیزے

سیدھے ہوئے گڑھے۔

الْمَزَجْرُ - پھوٹا نیزہ۔ برہمی۔

تَجْرَدٌ زَجْرًا - عَن كَذَا - منع

کرنا۔ روکنا۔ ڈانٹنا۔ چلا کر ہکانا۔

دھتکارنا۔ الزُّجْرُ السَّجَابُ

ہوا کا بادل کو اٹھا کر لانا۔ الْكَلْبُ

وَبِالْكَلْبِ - کتے کو ڈانٹنا۔ دھتکارنا

الطَّيْرُ - پرندہ کو فال شگون

لینے کے لیے اڑانا۔ اگر پرندہ سیدھی

جانب اڑتا تو اس کو نیک فال جانتے۔

اور اگر اٹھی جانب پرواز کرتا تو اس کو

بدشگونی خیال کرتے۔ زَجَبْرٌ

الرَّجُلُ - کہانت کرنا۔

أَزْدَجْرَةٌ - منع کرنا۔ روکنا۔ چلا کر ہکانا

دینا۔ (وَأَنْزَجْرٌ) - رک جانا۔

تَزَاجِرُ - الْقَوْمُ عَنِ الشَّرِّ - ایک

دوسرے کو برائی سے روکنا

الزُّجْرُ - مصدر (وَالزُّجْرُ) ایک

بڑے جسم کی مچھلی۔ جہ۔ زَجُوسٌ

الزَّاجِرُ - فَا - زَأَجْرًا لِلنَّسَانِ - ضمیر

أَبُو زَاجِرٍ - کتے کی کینیت۔

الزَّجَّاسُ - بہت ڈانٹنے والا۔ نَاقَةٌ

زَجُوسٌ - بغیر ڈانٹے ہوئے دودھ

نہ دینے والی اونٹنی۔

الْمَزَجْرُ - ڈانٹنے کی جگہ۔

الْمَزَجْرَةُ - جس چیز سے ڈانٹا اور بھگایا

ہلے۔ کہا جاتا ہے۔ "ذَكَرَ اللهُ

مَزَجْرَةَ الشَّيْطَانِ" یعنی اللہ کا

ذکر شیطان کو بھگانے والا ہے۔

زَجَلٌ (ن) زَجَلًا - وَهَبٌ - تیر مارنا۔

بٹانا۔ بِالرُّمْحِ - نیزہ مارنا۔

الْحَمَامُ - بُوْتْرٌ كُوْدُوْرٌ كِ لِي رُوَانِ

کرنا۔ حَمَامُ النَّاجِلِ وَالزُّجَالِ -

پیغام رساں کبوتر۔

زَجَلٌ (س) زَجَلًا - نُوْمَسٌ هِنَا - گانا۔

شور و غوغا کرنا۔ صفت (زَجَلٌ وَ

زَاجِلٌ) الْقَوْمُ - کھیل کود

کرنا۔

الزَّجَلُ - شَعْرٌ اِيْكَ قِسْمٍ - سَحَابٌ

ذُو زَجَلٍ - گرجنے والا بادل۔

الزَّجَلَةُ - لوگوں کا شور و غل۔ ج۔

زَجَلَاتٌ

الزَّجَلَةُ - لوگوں کی جماعت۔ ہر چیز کا

ٹکڑا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان

کی کھال۔ ج۔ زَجَلٌ - مَسَافَةٌ

زَجُولٌ - بی مسافت۔

الزَّاجِلُ وَالزَّاجِلُ - رسی کے سرے

پر باندھنے کا لکڑی کا حلقہ۔ نیزے کے

نچے حصہ کے لیے کا حلقہ۔ فوج کا

سرور۔ ج۔ زَوَاجِلٌ -

الزَّجَالَةُ - چھوٹے نیزے سے مارنے

والے لوگ۔

الْمِزْجَلُ وَالْمِزْجَالُ - چھوٹا نیزہ۔

بہیگا۔

الْمِزْجَلُ - کبوتروں کی روائی کی جگہ۔

زَجَبٌ (ن) زَجَبًا - کانٹا پھوس کرنا۔

خفیہ بات سنانا کہتے ہیں سکتے

فَمَا زَجَمَ بِخَوْفٍ - وہ چپ رہا۔

اور ایک حرف نہیں بولا۔

الزُّجْمُ - ایک قسم کا پرندہ۔

الزُّجْمَةُ وَالزُّجْمَةُ - آہستہ

بات۔

زَجَانٌ (ن) زَجَوًّا وَزَجِيًّا - تَزْجِيَّةٌ

وَأَزْجِيٌّ إِزْجَاءً وَإِزْجِيٌّ -

کے ہیں: کَيْفَ تَزْجِيٌّ أَيَّامًا

تم اپنا زمانہ کیسے گزارتے ہو۔

”زَجِيٌّ فَلَانٌ حَاجِتِي“ - فلان

نے حاجت روائی میں مجھ کو سہولت

پہنچائی۔ أَزْجِيٌّ الْأَمْرُ - کسی امر

کا موخر کرنا۔ أَزْجِيٌّ الْيَدَانَهُ -

دراہم کو رواج دینا۔

زَجَانٌ (ن) زَجَوًّا وَزَجَوًّا وَزَجَاءً -

الْأَمْرُ - کامیاب ہونا۔ آسان

ہونا۔ الْخِرَاجُ - خراج کا

بہولت جمع ہونا۔ فَلَانٌ -

ہنسی کا بند ہونا۔

تَزْجِيٌّ تَزْجِيًّا - یہ۔ اکتفا کرنا۔

قناعت کرنا۔

الْمُزْجِيٌّ مَقْرُوبٌ يَارُدِّيٌّ يَزِيْرٌ - مُؤْنِكٌ

مُزْجَاةٌ -

الْأَسْجِيٌّ - اسم تفضیل۔ کہتے ہیں۔

”فَلَانٌ أَزْجِيٌّ مِنْ فَلَانٍ بِهَذَا

الْأَمْرِ“ - یعنی وہ فلان سے زیادہ

نافذ کرنے والا ہے۔

الْمُزْجِيٌّ كَمُزْوَرٍ -

زَجَلَةٌ (ن) زَجًا - جلدی سے بٹانا یا

کھینچنا۔ عَنِ مَكَانِهِ - جگہ سے

علیحدہ کرنا۔ ایک طرف کرنا۔

زَحَبٌ (ن) زَحَبًا - إِلَيْهِ - قَرِيبٌ

ہونا۔

زَحْرٌ (ن) زَحْرًا وَزَحْرًا وَ

زَحْرًا - پیمپش کی شکایت ہونا۔

تکلیف یا درد سے آہ بھرنا۔

زَحْرَتٌ بِهَذَا أُمَّةٌ اس کی ماں

نے اس کو جنا۔ زَحْرَةٌ بِالرُّمْحِ

نیزہ مارنا۔

زَحِيرٌ - پیمپش میں مبتلا ہونا۔

زَاخِرَةٌ - دشمنی کرنا۔

الزُّحَارُ وَالزُّحَيْرُ - پیمپش۔

الزُّحْرُ وَالزُّحَارُ وَالزُّحْرَانُ - بخیل

زَحْرَةٌ - عَنِ مَكَانِهِ - دور کرنا۔

بٹانا۔

تَزْحُزْحُ - دور ہونا۔ بٹنا۔

الزُّحْرُ - دوری۔ کہتے ہیں: هُوَ

بِزَحْرٍ مِنْهُ - یعنی وہ اس سے

دور ہے۔

الزُّحْرَانُ - دور۔

زَحْفٌ (ن) زَحْفًا وَزَحْفَانًا

وَزَحْفَانًا - گھٹنوں یا سرین کے بل

دھیرے دھیرے گھٹنا۔ الدَّهْرُ

چلنا۔ کہتے ہیں: زَحَفَ الْعَسْكَرُ

إِلَى الْعَدُوِّ؛ لشکر دشمن کی طرف

بسبب کثرت دھیرے دھیرے بڑھا۔

الشَّيْءُ كَسِيَ شَيْءًا كَوَيْلًا

کھینچنا۔ الْبَعِيرُ - اونٹ کا

ٹھکنا۔ صفت مذکر (زَاخِفٌ وَ

زَاخِفَةٌ) تا مبالغہ کے لیے۔

صفت مؤنث (زَاخِفَةٌ) ج۔

زَوَاحِفٌ وَزَحُوفٌ) ج۔ زَحْفٌ

الزُّحْفُ - السَّمُّ تِيرًا كَانَتْ

دورے کرنا اور پھرا چٹ کرنا نشانہ پر

لگنا۔ صفت (زَاخِفٌ) ج۔

زَوَاحِفٌ -

أَزْحَفَ - انتہائی مقصد تک پہنچنا۔

هُوَ طَوْلُ السَّفْرِ - سفر کی درازی

کامی کو تھکا دینا۔ الْبَعِيرُ

اونٹ کا ٹھکنا۔ الرَّجُلُ تَهَكَّ

ہوئے اونٹ یا گھوڑے والا ہونا۔

أَزْحَفَ بَنُو فُلَانٍ - بڑا لشکر

بٹنا۔

زَاخِفْنَا هُمْ - ایک دوسرے کی طرف

آہستہ آہستہ بڑھنا۔

تَزَحَفَ وَأَزْوَحَفَ - إِلَيْهِ - چلنا۔

تَزَاخَفَ - الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ

لڑائی میں ایک دوسرے کی طرف

بڑھنا۔ قَرِيبٌ هُونًا -

الزُّحْفُ - دشمن کی طرف بڑھنے والا

لشکر جرار۔ ج۔ زُحُوفٌ -

الزُّحْفَةُ - قَرِيبٌ قَرِيبٌ تَحْتِ سَفْرِ كَرْنِ

والا۔ دُورٌ جَانِ وَاللَّامُ

الزُّحْفُ - علم عروض کے سبب خفیف یا

سبب ثقیل کے تغیر کا نام۔

الزُّحْفَاتُ - بہت کچھ کرنے والا۔ مؤنث

زَحْفَانَةٌ -

زمین پر چلنے والی طہی۔ وَالذَّخَانَاتُ
مِنَ الْحَيَوَانَ - زمین پر رہنے والے

جانور
الْمَرْحِفُ - گھٹنے کی جگہ۔ مَزَاجِفُ
السَّحَابِ - بادل کا قطرہ گرنے کی
جگہ۔ بَعِيرٌ مَزْحَافٌ - ٹھکنے کا
عاوی اونٹ - جر۔ مَزَاجِفٌ و
مَزَاجِيفٌ -

زَحَكَ (ف) زَحَكًا - بالمکان -
اقامت کرنا۔ مِنْهُ قَرِيبٌ هُوْنَا
- عَنْهُ دُورٌ هُوْنَا - الْبَعِيرُ
اونٹ کا ٹھکنا۔

أَزْحَكَ - الرَّعْبُلُ - ٹھکی ہوئی سواری
والا ہونا۔

زَاَحَكَةٌ - عَنْ نَفْسِهِ - دور کرنا۔
تَزَاَحَكَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے
دور ہونا۔ نَزْدِيكٌ هُوْنَا رَضْدٌ
زَحَلَّ (ف) زُحُولًا - عَنْ مَكَانِهِ -
دور ہونا۔ کنارہ کش ہونا۔ صفت
(زَاَجِلٌ وَزُحَلٌ)

زَحَلَّ (ف) زَحَلًا - ٹھکنا۔
أَزْحَلَهُ - إِلَيْهِ - مجبور کرنا۔
أَزْحَلَهُ وَزَحَلَهُ - دور کرنا۔
تَزَحَّلَ - عَنْ مَكَانِهِ - ایک طرف
ہونا۔ دور ہونا۔

زُحَلٌ - ایک ستارہ کا نام ہے جو بلندی
و دوری میں منرب المثل ہے۔

الزُّحَلَةُ - کاموں سے کنارہ کش آدمی۔
قَرِيبٌ قَرِيبٌ تَمَكُّ سَفَرٌ كَرْنٌ وَالآ -
اپنے سوراخ میں دم کی طرف سے گھسنے
والا جانور۔ مَسَافَةٌ زُحُولٌ - دور
کی مسافت۔

الزُّحَلِيلُ - تیز الگ رہنے والا۔
ر - وَالزُّحُولُ، تَنَكُّ يَهْلِي
والی جگہ۔ لَزُحُولٌ - بگے پھلے

جسم والا۔

الْمَزْحَلُ - تنہائی کی جگہ۔

زَحَلْتُ - الشَّيْءُ - کسی چیز کو لٹھکانا۔
کنارہ پر کرنا۔ الْإِنَاءُ - برتن
بھرنے۔ زَحَلْتُ فِي الْكَلَامِ
بولنے میں تیزی کرنا۔

تَزَحَّلْتُ - لَطَعْنَا - ایک طرف ہونا۔
تَزَحَّلْتُ الشَّمْسُ - سورج کا
ڈوبنے کے لیے بھگنا یا دوپہر کو سر پر
سے ڈھلنا۔

الزُّحْلُوفَةُ - پھلنی ڈھلوان جگہ۔ ج۔
زَحَالِفٌ وَزَحَالِيفٌ -

الزَّحَالِفُ - چوٹی سے مشابہ چھوٹے
چھوٹے کیڑے۔

زَحَلِقٌ وَزَحَلِكٌ - پھلنا۔ تَزَحَلِقُ
و تَزَحَلِكُ پھلنا۔ رینگنا۔
زُحْلُوقَةٌ وَزُحْلُوكَةٌ - پھلنے کی جگہ
لپے تختے کا جھولا۔ جس کے دونوں
جانب بیٹھ کر جھریں۔

زَحَمَةٌ (ف) زَحَمًا وَزَحَامًا - دبانا۔
تنگی کرنا۔ تنگ جگہ میں دھکیلنا۔
بھیڑ کرنا۔

زَاَحَمَةٌ تَنَكُّ كَرْنَا - زَاَحَمَ الْخَمْسِيْنَ
پچاس کے قریب پہنچنا۔

أَزْدَحَمَ وَتَزَاَحَمَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے
پر تنگی کرنا۔ ایک دوسرے کو دھکیلنا
- الْأَمْوَاجُ - موجوں کا آپس میں
ٹکرائنا۔

الزُّحْمُ - بھیر کرنے والے لوگ -
الزُّحْمَةُ - بھیر۔ تنگی۔

الزُّحَامُ - يَوْمُ الزُّحَامِ - قیامت کا
دن۔

الْمَزْحَمُ - بہت بھیڑ کرنے والا۔
زَحْمًا - الْقَرْبَةُ - مشک بھرنے۔

زَحْنٌ (ف) سُسْتُ ہونا۔ دیر لگانا۔

عَنِ الْمَكَانِ - کسی جگہ سے
بٹھانا۔ دور کرنا۔

تَزَحَّنَ - دیر کرنا۔ سستی کرنا۔ عَنْ
مَكَانِهِ - حرکت کرنا۔ عَلَى الشَّيْءِ -
وَعَنْهُ - ناپسندیدگی کے ساتھ کرنا
رَجُلٌ زَحْنٌ - پست قدم۔ مَوْنٌ
زُحْنَةٌ -

الزُّحْنَةُ - سخت گرمی۔ قافلہ مع اپنے
سازو سامان کے۔ کہتے ہیں: لَهْمٌ
زُحْنَةٌ إِنْ كَرْنَا لِيَوْمِ كَامِ بِي
الزُّحْنَةُ - واوی کاموڑ۔

زَخْرٌ (ف) زَخَاً - غضب ناک ہونا۔
بالإِطْلَاقِ - اونٹوں کو تیز چلانا۔
دفع کرنا۔ گڑھے میں دھکیلنا۔

زَخْرٌ (ف) زَخَاً وَزَخِيمًا - الْجَمْدُ -
چنگاری کا تیز چمکنا۔

الزَّخْ - كَيْدٌ أَوْ غِيْشٌ - الزَّخَةُ - كَيْدٌ
غِيْشٌ - (وَالْمَزْخَةُ وَالْمَزْخَةُ)
بیوی۔

زَخْرَفٌ، زَخْرًا وَزَخُورًا وَتَزَخَّرًا
- الْبَحْرُ - دریا کا چڑھنا اور
موجزن ہونا۔ الْوَادِي - واوی

کالی اور پانی سے بھری ہوئی ہونا۔
- النَّبَاتُ - نباتات کا لیا ہونا

- الْقَوْمُ - جنگ یا روانگی جنگ
کے لیے قوم کا جوش میں آنا۔

الْحَرْبُ أَوِ الْقِتَادُ - لَطَائِي يَا
ہاڑھی کا جوش مارنا۔

مَوْبَا كَرْنَا - آراستہ کرنا۔ خوش کرنا۔
- بِمَا عِنْدَهُ - فخر کرنا۔

زَاخْرَةٌ - فخر میں دوسرے پر غالب آنا۔
تَزَخَّرُوا - الْبَحْرُ أَوِ الْوَادِي - دریا یا

واوی کا چڑھنا۔ موج مارنا۔
تَزَخَّرُوا - فخر کرنا۔

الزَّاخِرُ (ف) كَرِيمٌ - نِيَاضٌ - خوش

بہر ہوا۔ چھلنے والا۔ زَوَاخِرُ
الوادی۔ وادی کی گھاس۔
زَخَّارٌ۔ زخار کا اسم مبالغہ۔ نبات
(زَخُورٌ وَزُخَارِيٌّ وَزَخُورِيٌّ)
لباگنجان پودا۔ کہتے ہیں: قَدْ
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخَارِيَّتَهَا
یعنی زمین کی نباتات وراز و طویل ہو
گئی۔ کلام زَخُورِيٌّ۔ متکبرانہ
تہدید سے بھری ہوئی گفتگو۔
زَحْرَفَةٌ۔ خوبصورت بنانا۔ آراستہ و
پیراستہ کرنا۔ الکلام۔ کلام کو
جھوٹ سے آراستہ کرنا۔
تَزَحْرَفُ – الرَّجُلُ۔ مزین ہونا۔
آراستہ ہونا۔
الزُّخْرُفُ سونا۔ چیز کی خوبصورتی۔
زُخْرُفُ الْكَلَامِ۔ جھوٹ سے
سجایا ہوا کلام۔ زُخْرُفُ الْأَرْضِ
زمین کی سبزیوں کے رنگ۔ ج۔
زُخَارِفٌ – الزُّخَارِفُ كَشْتِيَا
پانی پر اڑنے والے کیڑے۔ زُخَارِفُ
الْمَاءِ۔ پانی کے راستے۔
زَخَفَ (ف) زُخْفًا وَزُخْفِيًّا۔ تکبر
کرنا۔
زَخَفَ – فِي الْقَوْلِ۔ بہت بولنا۔
تَزَخَفَ مَزِينٌ هُونًا۔ خوبصورت ہونا۔
الْمِزْخَفُ۔ متکبر۔ فخر کرنے والا۔
زُخْمَةُ (ف) زُخْمًا بِنْتِيٍّ سِوَيْكِنَا۔
زُخْمُ (س) زُخْمًا وَأَزْخَمُ –
اللَّحْمُ۔ گوشت کا بدبودار ہونا۔
صفت (زُخْمُ)
أَزْخَمُ – الْحَمْلُ۔ بوجھ اٹھانا۔
الزُّخْمَةُ۔ بدبودار سڑا ہوا
گوشت۔
الزُّخْمَاءُ۔ بدبودار عورت
الذدب۔ حصہ۔ ج۔ آذَابُ۔

زَدَسَ۔ لوٹنا۔ آذَسَ۔ لوٹانا۔
الْأَذْدَانُ۔ دونوں شانے۔ جَاءَ
يَضْرِبُ أَزْدَرِيَّةً۔ یعنی وہ
تھی دست آیا۔
أَزْدَسَ مَدَنِيًّا۔
أَزْدَفَ – اللَّيْلُ۔ رات کا تاریک
ہونا۔
زَدَانُ (د) زَدَا – الصَّبِيُّ الْجَوْنُ
وَبِالْجَوْنِ۔ بچہ کا اخروٹ کو گڑھے
میں پھینک کر کھیلنا۔
أَزْدَى إِزْدَاءً – فَادَهُ پھینچانا۔
زَدَنُ (ن) زَدَا – الْقَيْصُ۔ کرتے
میں گھنٹی لگانا۔ الشَّيْءُ جَمْعُ
کے باندھنا۔ الْمَتَاعُ۔ سامان
جھاڑنا۔ الرَّجُلُ بِكَلَانَا وَهَتَا
زَدَّةً بِالرَّمْحِ۔ نیزہ مارنا۔
الشَّعْرُ۔ بال اٹھانا۔ نُوچْنَا –
عَيْنُنَا۔ آنکھ تنگ کرنا۔
زَسَّ (س) زَدَا – الرَّجُلُ كَهْدِي
لگانا۔ اپنے مخالف پر سختی کرنا عقل
و تجربہ کا بڑھنا۔
زَسَّ (ض) زَسِيًّا – سَنَانُ الرَّمْحِ
نیزہ کے پھل کا چمکنا۔ الْعَيْنُ
آنکھ کا چمکنا۔
أَزَسَّ – الْقَيْصُ قَيْصٌ فِي بَن
لگانا۔
زَرَّرَ – الثَّوْبُ۔ بٹن لگانا یا بنانا۔
تَوَسَّرَ – الْقَيْصُ قَيْصٌ فِي بَن
لگانا۔
الزَّسُّ۔ گھنٹی۔ بٹن۔ ج۔ آزَرَّ –
وَزُرُّوسٌ دَلُّ كَيْ نِيحِي كِي جَهْوِي
بڈی۔ گڑھا جس میں بازو کی یا ران
کی بڈی گھومتی ہے۔ خیمہ کی لکڑیوں
میں سے ایک لکڑی۔ زَرَّ السَّيْفُ
تلوار کی دھار۔ زَرَّ الشَّيْءُ۔ وہ

بہتر جس سے اس کا قیام ہو۔ ہو
زَرَّ مَالٌ۔ وہ مال کی اصلاح کا واقعہ
کار ہے۔ وَأَعْطَاهُ الشَّيْءَ بِزَرَّةٍ۔
اس نے اس کو تمام چیز دے دی۔
جَاءَ فُلَانٌ بِزَرَّةٍ۔ وہ خود آیا۔
الزَّرَّةُ۔ کاٹنے کا نشان۔ عقل۔
الزَّرَاةُ۔ کتے یا اونٹ یا گدھے وغیرہ
کی مکھی۔
الزَّرَاةُ۔ ہر پھینکی ہوئی دیوار سے چمٹ
جانے والی چیز۔
الزَّرَّاسُ وَالزَّرِيْدُ۔ مریح الفہم
تیز خاطر۔ جِمَارٌ مَزْرٌ۔ کاٹنے
والا گدھا۔
زَرَّ أَمْرًا زَرًّا قَدِ وَازَرِ تَمَامًا وَ
إِزْرًا قَدِ إِزْرًا تَمَامًا۔ کلامتہ او
دَمَّةٌ أَوْ بَوْلَةٌ۔ کلام خون یا پیشاب
کا بند ہونا۔ رکتا۔
زَرَبَ (ن) زَرَبًا۔ المَوَاشِي۔ مویشی
کو بارہ میں بند کرنا۔ لِلغَنَمِ
بکریوں کے لیے بارہ بنانا۔
زَرَبَ (س) زَرَبًا۔ الْمَاءُ۔ پانی کا بہنا۔
إِنزَسَبَ۔ بارہ میں داخل ہونا۔
أَزْسَبَ – اللَّبَاتُ۔ پودہ کا زرد ہونا
سبزی مائل سرخ ہونا۔
الزَّرْبُ۔ داخل ہونے کی جگہ۔ شکاری
کے گھات کی جگہ (ب) وَالزَّرْبُ
مویشی کا بارہ۔ ج۔ زُرُوبٌ۔
الزَّرْبُ۔ پانی کے بہنے کی جگہ۔
النَّارُوبُ۔ عوام لمبی تنگ گلی کو کہتے
ہیں، اس کے لیے فیصح لفظ الرَّقْبُ
ہے۔
الزَّرْبِيُّ وَالزَّرْبِيَّةُ۔ مسند اور گدی
تکیے۔ مِنَ النَّبَاتِ۔ زرد یا
سبزی مائل سرخ پودہ۔ ج۔ زَرَابِيُّ
الزَّرْبِيَّةُ۔ جی حضوری لوگ۔

الزَّرْبِيَّةُ - بارہ - شیر کی جھاڑی - شکاری
کے چھپنے کی جگہ - ج - زَرَابٌ و
زَرَابِيٌّ -
المِزْسَابُ - پرنالہ - ج - مَزَارِيْبُ -
زَرْبِنَةٌ - دھوکا دینا -
الزَّرْبُونُ - انگور کی بیلین - واحد
(زَرْبُونَةٌ) سرخ رنگ، شراب
الزَّرْبَجُ - مست - متوالا -
زَرْبٌ (دس) زَرْحًا - ایک جگہ سے
دوسری جگہ ہٹنا -
الزَّرِيحُ - فَا - چست و چالاک - ج -
زَّرِيحٌ -
الزَّرْوَحُ وَالزَّرْوَحَةُ - چھوٹا ٹیلہ -
ج - زَّرَاوِحٌ -
المَزْيِيحُ - پست زمین -
زَرْدَاةٌ (دس) زَرْدَا - گلا گھونٹنا -
الذَّرْعُ - زرہ پہننا - کہتے ہیں -
"هُوَ زَرْدَعِيْنَةٌ عَلَى صَاحِبِهِ"
وہ اپنے ساتھی پر غضب ناک ہوا -
اور اس کے ساتھ ترش روی سے
پیش آیا -
زَرْدَاةٌ (دس) زَرْدَا وَاوَزْدَاةٌ و
تَزْرَدٌ - اللُّقْمَةُ لِقْمَةٌ كَوْتِيْرِي
سے نکلنا - کہتے ہیں - "تَزْرَدٌ
الْيَمِيْنُ" اس نے گناہ سے نڈر ہو
کر فوراً قسم کھالی -
الزَّرْدُ - جالی دار بھی ہوئی زرہ - ج -
زَرْدٌ - جَمَارُ الزَّرْدِ - گور خر -
الزَّرِيْدُ - جلدی نکلنے والا -
الزَّرَادُ وَالْمِزْرَدُ - اونٹ کا گلا
گھونٹنے کی رسی -
الزَّرَسُ اس - گلا گھونٹنے والا - زرہ بنانے
والا -
الزَّرَادَةُ - زرہ سازی کا پیشہ -
الْمِزْرَدُ - گلا -

المِزْرَسَةُ - مفع - آخِذٌ بِمِزْرَدِيَّةٍ -
اس نے اس کو بہت تنگ کیا -
زَرْدِيَّةٌ و زَرْدَمَةٌ - گلا گھونٹنا -
الطَّعَامُ - کھانا نکلنا -
الزَّرْدَمَةُ - نکلنے کی جگہ - ہوا کی نالی -
زَرْدٌ - الزَّرْدُوْرُ - زرزور پرندہ
کا آواز نکالنا - الرجلُ ہمیشہ
زرزور پرندہ کھانا - یا المکان -
اقامت کرنا -
الزَّرْدُوْرُ - وَالزَّرْدُوْرُ - چڑیا سے
بڑا ایک پرندہ، بعض بالکل کالا ہوتا
ہے اور بعض چمکرا - ج - زَرْدَاوِيْدُ
و زَرْدَاوِيْدُ -
الزَّرْدَاوِيْدُ وَالزَّرْسَاوِيْدُ - سریع الغم
ذکی - ج - زَرْدَاوِيْدَةٌ -
الزَّرْدُوْرِيٌّ - جو زرزور پرندہ کے رنگ
کا ہو -
زَرَطٌ (دس) زَرَطًا - اللُّقْمَةُ - لِقْمَةٌ
نکلنا -
زَرَعٌ (ف) زَرَعًا وَاوَزَعٌ - زمین
میں بیج بونا - الارضُ - زمین
ہوتی، اس میں بیج ڈالنا - زَرَعٌ
اللَّهُ النَّبَاتُ - اگانا - بڑھانا - کہتے
ہیں "زُرِعَ لَهُ بَعْدَ شَقَاوَةٍ"
اس نے محتاجگی و فقر و فاقہ کے بعد
دولت و خوشحالی پائی -
زَارِعٌ مَزَارَعَةٌ - بونا - فُلَانًا
کسی کو بٹانی پر کھیت دینا -
أَزْرَعٌ - الزَّرْعُ - کھیتی کا پتے
نکالنا - فصل کاٹنا - القومُ -
کھیتی کرنے پر قادر ہونا -
تَزْرَعٌ - إِلَى الشَّرِيْ - برائی کی
طرف تیزی کرنا -
الزَّرِيْعُ - فَا - ج - زَارِعُوْنَ و زَرَاْعٌ
ایک کتے کا نام - اس لیے کتوں کو

أَوْلَادُ زَارِعٍ کہتے ہیں -
الزَّرْعُ - کھیتی - بیج - اولاد - ج -
زَرُوْعٌ -
الزَّرْعَةُ - بیج - (دس) وَالزَّرْعَةُ
وَالزَّرْعَةُ وَالزَّرْعَةُ (کھیتی کے
قابل زمین - کہتے ہیں - مَا فِي هَذِهِ
الْأَرْضِ زَرْعَةٌ - اس زمین میں
کھیتی کے قابل کوئی جگہ نہیں -
الزَّرَاعَةُ - کاشت کاری - کھیتی -
الزَّرِيْعَةُ - بوئی ہوئی چیز - کھیتی -
الزَّرَاعُ - بہت بیج بکھیرنے والا - بہت
بونے والا - چغل خور - کیونکہ وہ بھی کینہ
کا بیج دلوں میں بوتا ہے - ج -
زَرَاْعُوْنَ و زَرَاْعَةٌ -
الزَّرَاْعَةُ - کشت زار - ج - زَرَاْعَاتُ
الزَّرِيْعُ - صرف بارانی کھیت -
الزَّرِيْعُ - وہ نہاتات جو کھیت کٹنے
کے بعد گے ہوئے بیجوں سے اُگ
آئے -
الْمِزْرَعَةُ وَالْمِزْرَعَةُ - کھیت - ج -
مَزَارِيْعٌ -
الْمِزْرَعُ - کھیت -
زَرَفٌ (دس) زَرَفًا - کوٹنا - فِي
الكَلَامِ - کلام میں زیادتی کرنا -
جھوٹ بولنا - زَرَفًا و زَرَفًا
الْبِيْدُ - نزدیک ہونا - دیر لگانا -
جلدی کرنا (دس)
زَرَفٌ (دس) زَرَفًا - الجَرْمُ - زخم
کا اچھا ہونے کے بعد پھر ہرا ہونا -
زَرَفَةٌ - علیحدہ کرنا - دور کرنا -
المغنى - زیادہ کرنا - فِي
الكَلَامِ - کلام میں زیادتی کرنا -
جھوٹ بولنا - القومُ - قوم کے
فرقے فرقے کر دینا - الومح فِيهِ -
نیزہ بھونکنا - کہتے ہیں - زَرَفٌ

<p>ذَرُوقَةٌ. بولتے ہیں۔ الْأَزْرَاقَةُ. خارجوں کا ایک بہت متعصب فرقہ۔ واحد۔ (الْأَزْرَاقِيُّ) الْمُذْرَاقِيُّ. برہمی۔ چھوٹا نیزہ۔ مِنَ الْأَبَاغِيرِ. پیچھے کی طرف بوجھ ٹھلنے والا اونٹ۔ ج۔ مَزَارِيقُ. الْمُزْرَقَةُ. گہرا نیلا۔ گہرا آسمانی۔ ج۔ ذَرَّاقِحُ. الْمُزْرَاقِحُ. بہت سے سانپ۔ ذَرَّاقٌ (دس) ذُرَّاقًا. بدخلق ہونا۔ ذَرَمَةٌ (دس) ذُرْمًا وَذَرَمَةٌ وَآزْرَمَةٌ. کاٹنا۔ کہتے ہیں: ذَرَمْتُ بِهِ أُمَّةً. اس کی ماں نے اس کو جنا۔ "ذَرَمَةٌ" الدَّهْرُ. زمانہ نے اس کی خیر کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ذَرَمَ (دس) ذُرْمًا. الشَّيْءُ. چیز کا منقطع ہونا۔ إِذْرَمَةٌ. نکلنا۔ إِذْرَسَ آقَدًا. غضبناک ہونا۔ سکرنا۔ الذَّرِمُ. ذیل۔ تھوڑے جتنے والا۔ بخیل۔ تنگ حال۔ الْأَسْرَمُ. منقطع۔ بتی۔ الذَّرِيمُ. تھوڑے جتنے والا۔ ذیل۔ الذَّرْنَبُ. ایک خوشبودار پودہ، جس کو رَجُلُ الْجَبَّادِ. بھی کہتے ہیں۔ برہمی سعفران۔ نیل گائے۔ الذَّرْنِيخُ. ہڑتال۔ ذَرْنَقٌ. ذَرْنَقَةٌ. الارض۔ زمین کو چھوٹی نہر سے پانی پلانا۔ فَلَائِنَا الْبِهَائِسُ. کسی کو لباس پہنانا۔ تَذَرْنَقُ. یا لَثِيَابُ. کپڑے پہنانا۔ الذَّرْنُوقُ. چھوٹی نہر۔ پانی کی نالی۔ الذَّرْنَقَةُ. زیادتی۔ پوری پوری خوب صورتی۔ الذَّرْنِيقُ. ہڑتال۔</p>	<p>کو گھورنا۔ الناقَةُ الدَّخْلُ. اونٹنی کا کجاوہ پیچھے ڈال دینا۔ ذَرِقٌ (دس) ذَرَقًا. الرجلُ. اندھا ہونا۔ عینتہ۔ آنکھ کا نیلا ہونا۔ الشيءُ. چیز کا نیلگوں ہونا۔ أَزْرَقْتُ. عینتہ نحوی۔ آنکھ کا پھرنا اور سفیدی ظاہر ہونا۔ الناقَةُ حَمَلَهَا. اونٹنی کا کجاوہ کو پیچھے کی جانب ہٹانا۔ إِذْرَسَاقٌ. إِذْرَسَاقًا وَإِذْرَسَاقٌ إِذْرَسِيْقًا. نیلا ہونا۔ آسمانی رنگ کا ہونا۔ إِذْرَسَاقٌ. پیچھے ہٹنا۔ چت لیٹنا۔ السَّهْمُ. تیر کا گھٹنا اور آ رہا ہونا الذَّرِقُ وَالذَّرِقَةُ. آسمانی رنگ۔ الذَّرِقَةُ. تعویذ کا مرہ۔ الذَّرِقُ. ایک شکاری پرندہ۔ ج۔ ذَرَّاسِقٌ. گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ تیز نظر والا۔ الْأَسْرَاقُ. نیلگوں۔ مَوْنُثٌ. ذَرَقَاءُ ج۔ ذُرُقٌ. الْأَسْرَاقُ. باز۔ تَصَلُّ أَسْرَاقٌ. چمکتا ہوا تیر کا پھل مَاءٌ أَزْرَقٌ. صاف پانی۔ عَدُوٌّ أَزْرَقٌ. سخت دشمنی۔ اس لیے کہ رومیوں اور دینیوں کی آنکھیں نیلی ہوتی تھیں اور ان کے اور عرب کے درمیان سخت عداوت تھی لہذا وہ ہر شخص دشمن کو یہ کہنے لگے۔ الذَّرَقَاءُ. مَوْنُثٌ. أَسْرَاقٌ. ج۔ ذُرَّاقٌ. شراب، آسمان۔ الذَّرِيقُ وَالْبُورِيقُ. چڑیا سے تھوڑے بڑا ایک پرندہ۔ الذَّرِيقَاءُ. دودھ اور زیتون میں بھگویا ہوا کھانا۔ ایک بلی کے مشابہ جانور۔ الذَّرَاقَةُ. ایک پککاری۔ عوام اس کو</p>	<p>علی المستین۔ وہ ساٹھ سے تجاوز ہو گیا۔ أَزْرَفَ. آگے بڑھنا۔ جلد کرنا۔ الْجَوْحُ. زخم کا اچھا ہونے کے بعد پھر ہرا ہوجانا۔ الناقَةُ. اونٹنی کو تیز کرنا۔ الرجلُ. زرافتہ جانور خریدنا۔ إِنْدَرَفَ. القومُ. قوم کا گھاس پانی کی تلاش میں جانا۔ السَّيْفُ. ہوا گذر جانا۔ الشيءُ. گھس جانا۔ آ رہا ہونا۔ الذَّرَاقَةُ وَالذَّرَاقَةُ وَالذَّرَاقَةُ وَالذَّرَاقَةُ. ایک کھروالا جانور ہے اس کی اگلی ٹانگیں لمبی، پچھلی چھوٹی گردن گھوڑے کے مانند۔ مگر اس سے لمبی، اور کھڑی، کھال چیتے کی طرح چتی دار، قد کی درازی میں اونٹ کے برابر سر پر دو چھوٹے سینگ۔ ج۔ ذَرَّاقِيٌّ وَذَرَّاقِيٌّ وَذَرَّاقِيٌّ. الذَّرَاقَةُ. بہت چھوٹا۔ الذَّرَاقَةُ وَالذَّرَاقَةُ. دس یا بیس افراد کی جماعت۔ ج۔ نَدَاقَاتُ. الذَّرَاقَةُ وَالذَّرَاقَةُ. وہ جگہ جہاں کھیت کے لیے پانی نکالا جائے۔ الْمُذْرَافُ وَالذَّرُوفُ وَالذَّرُوفُ. — مِنَ الْمَوْتِ. تیز رفتارا اونٹنی۔ ذَرْفَنٌ. شَعْرَةٌ. بالوں کو حلقہ دار بنانا۔ الذَّرْفَيْنُ. حلقہ۔ ج۔ ذَرَّافَيْنِ ذَرَّقٌ (دس) ذَرَقًا. الطَّائِرُ پرندہ کا بیٹ کرنا۔ "ذَرَقْتُ عَيْنُهُ" نحوی۔ اس نے میری طرف نکلیوں سے دیکھا۔ ذَرَّقٌ. الطَّائِرُ. پرندہ کو چھوٹے نیزے سے مارنا۔ الرجلُ. بے ہوش کسی</p>
---	---	---

الزُّعْرَةُ - ایک پرندہ جو ہمیشہ اضطراب و حرکت میں رہتا ہے۔
 الزُّعْرَانُ - نوجوان لوگ۔
 الزُّعْرُوسُ - ایک سرخ پھل والا درخت۔
 اس کے پھل کی گٹھلی گول بڑی ہوتی ہے اور گودا کم ہوتا ہے۔ واحد (زُعْرُوسٌ) رجلٌ زُعْرُوسٌ۔
 بدخلق کم خیر آدمی۔ ج۔ زَعَارِيرُ۔
 زَعْرَعَةٌ زَعْرَعَةٌ - زور سے بلانا۔
 - الإبل في السير - اونٹ کو ہلکانا۔
 تزَعْرَعُ - حرکت میں آنا۔ ہلنا۔
 الزُّعْرَعَةُ - ج۔ زَعَارِعُ (وَالزُّعَارِعُ) مصائب زمانہ۔ رِيحٌ زُعْرَعٌ و زُعْرَعٌ و زَعْرَاعٌ و زَعَارِعٌ و زَعْرَاعَاتٌ) آندھی۔ ہوا کا طوفان جَرِيٌّ زُعْرَعٌ - تیز دوڑ۔
 زَعَطَرَفٌ، زَعَطَا - گلا گھونٹنا۔
 الزَّاعِطُ - فا - موت زَاعِطٌ - ناگہانی موت۔
 زَعْفَةٌ رَفٌ، زَعْفَا و زَعْفَةٌ و أَرْدَعْفَةٌ - فَرَامَا و النَّا - زَعْفُ الجَرِيْمِ و أَرْعَفٌ عَلَيْهِ زحی کا کام تمام کر دینا۔ زَعْفٌ المَحْدِيثُ - بھولنے سے کام لے کر حدیث میں زیادتی کرنا۔ مَسْحٌ زَعَاْفٌ - سم قاتل۔ مَوْتٌ مَزْعِفٌ - ناگہانی موت۔ اچانک موت۔ سببٌ مَزْعِفٌ - جلد ہلاک کرنے والی تلوار۔ المَزْعُوفُ ہلاکت کی جگہیں۔ خطرناک جگہیں۔
 زَعْفَرَةٌ - زعفران میں رنگنا۔ الطَّعَامُ کھانے میں زعفران ملانا۔
 تَزْعَفَرُ - زعفران سے خوشبودار ہونا۔
 زعفران میں لٹھڑانا۔ بسنا۔

الزُّعْبُ كَيْدٌ، بَسْتَةٌ قَدٌ - موٹا۔ مَوْنٌ زُعْبَاءٌ - ج۔ زُعْبٌ - سَبِيلٌ زَاعِبٌ و زُعُوبٌ - وادی کو بھردینے والا سیلاب۔
 الزُّعُوبُ - بَسْتَةٌ قَدٌ، كَيْدٌ - زُعْبَقٌ - القَوْمُ - قوم کو متفرق کرنا۔
 پراگندہ کرنا۔ الشَّيْءُ - چیز کو جدا جدا کرنا۔ بکھیرنا۔
 تَزْعَبُقُ - الشَّيْءُ مِنْ يَدَي - چیز میرے ہاتھ سے بکھر گئی، متفرق ہو گئی۔
 زُعْبَلٌ - موٹے بدن اور پتلی گردن والا ہونا۔
 الزُّعْبَلُ - موٹے پیٹ اور پتلی گردن والا اڑوٹا۔ گرگٹ ڈول۔ ج۔ زَعَابِلٌ۔
 زَعَجَةٌ رَفٌ، زَعَجًا و زَعَجٌ - بے قرار ہونا۔ جگہ سے ہٹانا۔
 و متکارنا۔ زَعَجٌ - الرجلُ - کسی کا چلانا۔ أَرْعَجَةٌ إِلَى المَعْصِيَةِ - گناہ کی طرف لے جانا۔
 إِنزَعَجٌ - بے قرار و بے چین ہونا۔ ہٹنا۔
 الزُّعْجُ - بے قراری بے چینی بے آرامی المَزْعَاجُ - ایک جگہ نہ ٹھہرنے والی عورت۔
 زَعْرَدَسٌ زَعْرًا و زَعْرًا و أَرْعَارٌ - شَعْرَةٌ اَو رِيْشَةٌ - بالوں یا پروں کا کم یا بکھرا ہوا ہونا۔ و زَعْرٌ - الرجلُ - آدمی کلبے خیر ہونا۔
 الزَّعَارَةُ و الزَّعَارَةُ - بد خوئی، تند مزاجی۔
 الزُّعْرُ و الأَزْعَرُ - کم یا بکھے ہوئے بالوں والا۔ مَوْضِعٌ زَعْرٌ و أَرْعَرٌ - کم سبزی والی جگہ۔
 مَوْنٌ - زَعْرَةٌ و زَعْرَاءٌ -

زَرِي رَضٌ، زَرِيًا و زَرِيًا و زَرَايَةٌ و مَزْرِيَةٌ و مَزْدَاةٌ و أَرَزِي و تَزْرِي - عَلَيْهِ عَمَلُهُ - کسی کام پر عتاب کرنا۔ عیب لگانا۔
 أَرَزِي بِالْأَمْرِ - کسی امر میں سستی کرنا۔ أَرَزِي بِهِ و أَرَزَاةٌ - بدگوئی کرنا۔ حق کم کرنا۔
 زَارَاةٌ مَزَارَاةٌ - ایک دوسرے پر عتاب کرنا۔
 أَرْدَرِي و اسْتَرَزِي - هُ - حقیر جاننا۔ ذلیل سمجھنا۔
 الزُّرْمِيَّةُ - ناکارہ۔ ذلیل۔
 المِزْرَاءُ و لوگوں کو حقیر جاننے والا۔ لوگوں کا عیب گیری۔
 زَطْرَنٌ، زَطَا - الزُّبَابُ - مکھی کا بھنبھانا۔
 زَعَبٌ رَفٌ، زَعْبًا - الإِنَاءُ - برتن بھرننا۔ العِدْبَةُ - بھری مشک اٹھانا۔ القِرْبَةُ - مشک کا پانی نکالنا۔ السَّيْلُ - سیلاب کا وادی کو بھردینا۔ الوَادِي وادی کا بھر جانا۔ الشَّيْءُ - چیز کو کاٹنا۔ لَهُ مِنَ المَالِ - (زَعْبًا و زَعْبَةً و زَعْبَةً) مال کا ایک حصہ دینا۔
 زَعَبٌ رَفٌ، زَعْبًا - الغُرَابُ - کوئے کا کائیں کائیں کرنا۔
 تَزْعَبٌ - غیظ و غضب میں آنا۔ خوش ہونا۔ چست ہونا۔ رَفِيٌّ أَكْلُهُ - اوبشریہ۔ زیادہ کھانا پینا۔
 القَوْمُ المَالُ - قوم کے مال کو آپس میں بانٹ لینا۔
 أَرْدَعَبٌ - الشَّيْءُ - کاٹ لینا۔
 الزُّعْبَةُ و الزُّعْبَةُ و الزَّاعِبُ - مال کا ایک حصہ۔

الزُّعْفَرَانُ - زعفران کیسز زَعَا فِرُّو
 زَعْفَرَانُ الْحَدِيدِ - لوسے کا
 زنگ -
 زَعْفَقُ - الزُّعَافِقُ - جیل بدخلق
 سہم زَعَافِقُ -
 زَعَقُ (ف) زَعَقًا - چینا - چلانا -
 - هُوَ زَعَقَ بِهِ - ڈرنا -
 بِالذَّابَّةِ جَانور کو زور سے لکارنا
 لُكِنَا - الرِّيحُ التُّكَابُ - ہوا
 کامٹی اڑانا - هُوَ الْعَقْرَابُ - کسی
 کو بچھو کا ڈسنا - الْقِدْرُ - ٹانڈی
 میں بہت نمک ڈالنا -
 زَعَقَ (ك) زَعَاكَةً - الماء - پانی کا
 سخت کر لیا ہونے کی وجہ سے پینے
 کے قابل نہ ہونا -
 زَعِقَ (س) زَعَقًا - خوش و شادمان
 ہونا - (و) زَعِقَ وَ أَنْزَعِقَ
 الرَّجُلُ - رات میں ڈرنا -
 أَنْزَعِقَ الْفَرَسُ - گھوڑے کا
 آگے بڑھنا اور تیز چلنا -
 أَزَعَقَهُ - ڈرانا - خوف زدہ کرنا -
 السَّبْرُ چلنے میں جلدی کرنا -
 الْقِدْرُ - ٹانڈی میں نمک زیادہ
 ڈالنا -
 الزُّعْبِيُّ - رات میں ڈرنے والا - وہ جو
 خوشی نے ساتھ خوف بھی رکھتا ہو -
 الزُّعْقَةُ - بیخ - پکار -
 الزُّعَاقُ - نہ پیا جاسکنے والا کڑوا پانی -
 الزُّعَاقُ - مِنَ الْخَيْلِ - بہت اور تیز
 چلنے والا - وہ جو جانوروں کو مانگے اور
 ان کے پیچھے پیچھے چلاتا جائے -
 الزُّعَيْقِيُّ - خوفزدہ -
 زَعِيلٌ (س) زَعَلًا - شادمان ہونا -
 - مِنَ الْمَرْضِيِّ وَغَيْرِهِ - اکتانا -
 مضطرب ہونا -

أَزَعَلَهُ - خوش کرنا - مِنْ مَكَانِهِ -
 جگہ سے ہٹانا -
 تَزَعَّلَ - شادمان ہونا -
 الزُّعِيلُ وَالزُّعْلَانُ وَالْإِشْمَاعِيلُ -
 شادمان -
 زَعَمَدِنٌ زَعَمًا وَزَعَمًا وَ
 زَعَمًا وَ مَزَعَمًا - کوئی سچ یا
 جھوٹ بات کہنا - سکتی یا جھوٹی
 باتوں میں اس کا استعمال بیشتر ہوتا
 ہے - (و) زَعَامَةٌ عَلَى الْقَوْمِ -
 قوم کا امیر و سرور ہونا -
 زَعَمَدِنٌ زَعَمًا - بِالْمَالِ -
 کفیل و ضامن ہونا - اللَّبَنُ -
 دودھ کا خوشگوار ہونا -
 زَعَمَدِسٌ زَعَمًا - فِيهِ - لالچ کرنا -
 أَزَعَمَ - الْأَمْرُ - ممکن ہونا -
 اللَّبَنُ - دودھ کا خوشگوار ہونا -
 - الْيَهُودُ - کسی کا مطیع و فرمانبردار
 ہونا - عَلَى الْقَوْمِ - کسی قوم کا
 سرور اور پیشوا ہونا - الْأَرْضُ
 زَمِينٌ فِي سَبْزِي كَالْبَهْمَانِ - هُوَ كَلَانَا
 أَزَعَمَهُ الْمَالُ - مال کا کفیل و
 ضامن بنانا -
 زَاعَمَهُ - بھیر کرنا -
 تَزَعَمَ - جھوٹی جھوٹی باتیں کہنا -
 تَزَاعَاهُ - الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ -
 ایک دوسرے کی مدد کرنا - آپس میں
 غیر وثوقی باتیں بنانا -
 الزُّعْمُ - مِنَ الشَّوَاءِ - بہت چربی
 والا کہ آگ کی حسرت ملتے ہی چربی
 ٹپکنے لگے -
 الزُّعْمَةُ - زَعَمًا كَالسَّمْرِ - ج -
 زَعَمَاتٌ -
 الزُّعَيْبِيُّ - جھوٹا - سچا - (ضد)
 الزُّعَامَةُ - شرافت - مرداری - ہمتیار -

ذره - مال کا زیادہ یا بہتر حصہ - گائے
 الزُّعُومُ - گفتگو میں رکنے والا - گفتگو
 میں عاجز -
 الزُّعَيْمُ ضامن - کفیل - جواب دہ -
 سرور - رئیس - ج - زَعَمَاءُ -
 الْمَزَعَمُ - لالچ کی جگہ - کہتے ہیں "هَذَا
 أَمْرٌ مَزَعَمٌ" یہ ایک غیر وثوقی
 بات ہے - اس میں ہر ایک اپنا خیال
 ظاہر کرتا ہے - هَذَا أَمْرٌ فِيهِ
 مَزَاعِمٌ اس بات میں جھگڑے
 ہیں -
 زَعْنَفَتٌ - الْمَاشِطَةُ الْعَرُوسُ -
 مشاطہ کا دلہن کو آراستہ کرنا -
 الزُّعْنَفَةُ وَالزُّعْنَفَةُ - پستہ قد
 مرد یا عورت - ہر چیز کا حصہ - اطراف
 بدن - مٹھلا ہاتھ - پیر - چیز کا وہی حصہ -
 کپڑے کا ایک ٹکڑا یا لباس کا دامن -
 مصیبت - ج - زَعَائِفُ
 الزُّعَائِفُ - پھلی کے پر - مخلوط کردہ
 جو ایک نسل سے نہ ہوں -
 زَعَائِدُ عَوَا زَعَوًا - منصف و عادل
 ہونا -
 زَعَبٌ (س) زَعَبًا وَ زَعَبٌ وَ زَعَابٌ
 - الصَّبِيُّ أَوْ الْقَوْحُ - بچہ یا چوزہ
 کاروان نکلا - صفت - (زَعَبٌ)
 زَعَبٌ - الْكُرْمُ - انگرک بیل میں پتے
 آنے لگنا -
 الزُّعْبُ - پروں یا بالوں کے روئیں -
 واحد (زَعْبَةٌ)
 الزُّعَابِيُّ وَالزُّعَابَةُ - بہت چھوٹے روئیں
 بہت نرم پر یا بال - کہتے ہیں "مَا
 أَصَبْتُ مِنْهُ زَعَابَةً" میں نے
 اس سے روئیں برابر بھی کچھ نہیں لیا -
 الْأَزْعَبُ - روئیں دار - مونث - زَعْبَاءُ
 ج - زَعْبٌ - ہٹ تیز کا چوزہ -

الزُّغْبَةُ: گھری۔
 الزُّغْبُ: پستہ قد۔ بخیل۔
 زَغْبَرٌ - الثوبُ: کپڑے کا روئین دار ہونا۔
 الزُّغْبَرُ وَالزُّغْبَرُ وَالزُّغْبَرُ: رُواں۔
 أَخَذَ الشَّيْءَ بِزَغْبِيهِ: اس نے ساری چیز لے لی۔
 الزُّغْبَرَةُ: چھوٹے پر صحیح لفظ الزُّغْبُ ہے۔
 زَغْدَرٌ (زَغْدًا) - السِّقَاءُ مُشْكٌ: کو پھوٹنا۔ فَلَانًا: کسی کا حلق دبانا۔ البعيرُ: اونٹ کا بہت بیلانا۔ الثمرُ: دریا کا پڑھنا۔
 بِالْكَلامِ: کلام سے اکسانا۔ بھڑکانا۔
 إِزْدَعَبَتْ - المَرْأَةُ وَلَدَهَا: عورت کا بچہ کو دودھ پلانا۔
 الزُّغَيْدُ وَالزُّغَيْدَةُ: مکھن جو مشک دبانے سے پھوٹ کر نکلے۔ نَهْرٌ زَغَارٌ: بہت پانی والی موج زن ندی۔
 زَغْرَدٌ (زَغْرَدًا) - الشَّيْءُ: کسی چیز کو چھین لینا۔ غصب کرنا۔ الشَّيْءُ: چیز کا کثرت سے ہونا۔ البَحْرُ: پڑھنا۔ موجزن ہونا۔
 الزُّغْرُ - مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کی زیادتی۔ کثرت۔
 زَغْرَبٌ - هِنَا: الزُّغْبُ بہت پانی۔ زَغْرَبَةٌ: بہت پانی والا کنواں۔
 زَغْرَدٌ - زَغْرَدَةٌ: البعيرُ: اونٹ کا آواز کو حلق میں گڑ گڑانا۔ اسی سے ہے۔ زَغْرَدَةُ النِّسَاءِ: مسرت میں عورتوں کے منہ سے جو آواز نکلے۔
 زَغَارِيْدٌ: زَغَارِيْدٌ۔
 زَغْدَغٌ - الكلامُ: رکیک گفتگو۔

الشيءُ - پھپھانا۔ بالوجل۔ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ تمسخر و ہنسی کرنا۔
 الزُّغْرُغُ: سُبُک وچست آدمی حسب نسب میں مطعون۔
 الزُّغْرُغُ: پستہ قد۔ حقیر۔ ایک پرندہ۔
 الزُّغْرُغِيَّةُ: بعض عجم کی زبان۔
 زَغْفٌ (رَفٌ، زَغْفًا) - المَاءُ: پانی کا بہت ہونا۔ فِي حَيْدٍ يُشَاهِدُ: بات لمبی کرنا اور اس میں بھوٹ ملانا۔
 كَتَمْتُمْ هُنَّ: زَغْفٌ كَلَامًا كَثِيرًا: اس نے لمبی گفت گوئی۔ وَزَغْفٌ لَنَا مَا لَا كَثِيرًا: اس نے ہم کو بہت مال دیا۔ بِالرُّمُجِ: نیزہ مارنا۔
 إِزْدَغَفَتْ - الشَّيْءُ: زیادہ لینا۔ سلا لے لینا۔
 الزُّغْفُ: لمبی کشادہ زرہ۔ برس کچ آسمان پر پھیلا ہوا بادل۔ دَسْمَعٌ زَغِيْفٌ: کشادہ مضبوط کڑیوں والی زرہ۔
 الزُّغْفُ: کڑی کے باریک باریک ٹکڑے۔ چھپٹیاں۔ درخت کی نازک شاخیں۔
 الزُّغَاؤُ: بہت بولنے والا۔
 الزُّغْفَةُ وَالزُّغْفَةُ: کشادہ مضبوط زرہ۔
 المِزْغَبُ: حلی، لالچی۔
 زَغْلٌ (رَفٌ، زَغْلًا) - المَاءُ: پانی بار بار گرانے۔ المَشْرَابُ: کلی کرنا۔
 - الصَّبِيُّ أُمَّةٌ: بچہ کا دودھ پینا۔
 أَرْغَلَ: چوزہ کو بھگا دینا۔ بِالدَّامِ: زخم کا خون بہانا۔
 الزُّغْلُ: دھوکا۔

الزُّغْلِيُّ: دھوکا دینے والا۔
 الزُّغْلَةُ: کلی کا پانی جو منہ سے پھینکا جائے ایک مرتبہ پانی گرانے کی مقدار۔
 الزُّغْلُولُ: بچہ۔ چست پھر تیرا آدمی۔ ج۔
 زَغَالِيْلٌ:۔
 تَزَعَّمٌ - الجَمَلُ: اونٹ کا اپنے جھاگوں کو جیڑوں میں پھرانا۔
 تَزَعَّمٌ - السَّحْلُ: آدمی کا غصہ سے بولنا۔
 الزُّغُوْمُ وَالزُّغُوْمُ: بھلا۔ ایک کر بولنے والا۔
 زَفٌّ (رَفٌ، زَفًّا وَزَفُوْفًا وَزَفِيْفًا): تیز دوڑنا۔ الیسی۔ تیز۔ ہوا کا آہستہ چلنا۔ زَفًّا وَزَفِيْفًا، الطَّائِرُ: پرندہ کا پر پھیلا کر اترنا۔
 زَفٌّ (رَفٌ، زَفًّا وَزَفِيْفًا) - العَرُوسُ: الی سزاؤں کے۔ دولہن کو دولہا کے پاس بھیجنا۔ السَّبْرُقُ: بجلی کا چمکنا۔
 أَرْفٌ - العَرُوسُ: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔ الراجلُ: تیز دوڑنا۔
 - تیز دوڑنا۔
 إِزْدَفٌ - الحَمَلُ: بوجھ اٹھانا۔
 إِسْتَرْفَةٌ - السَّيْلُ: سیلاب کا بہا لے جانا۔ السَّيْرُ: سُبُک بنانا۔
 الزَّفُّ: چھوٹے چھوٹے پر۔
 الزَّفَفُ: پرندہ کے گنے، ایک پر ایک چمکے ہوئے روئیں۔
 الزَّفَّةُ: زَفٌّ کا اسمِ مَرَّةٌ بِحَثَّةٍ زَفَّةٌ أَوْ زَفْتِيْنٌ: میں اس کے پاس ایک یا دو بار آیا۔
 الزَّفَّةُ: شکر۔ دستہ۔
 الأَرْفُ: تیز رفتار۔ باریک اور گنجان پروں والا۔
 الزَّفُوْفُ: شتر مرغ۔ تیز اونٹنی۔

زَفِيفٌ - تیز۔

المِزْفَةُ - پاکی۔

زَفَّتْ رَنَ، زَفَّتَا - الإِنَاءُ - برتن بھرنا۔

- الرَّجُلُ - ناراض کرنا۔ منع کرنا۔

وہتکارنا۔ تھکانا۔ کہتے ہیں "زَفَّتْ

الحديث في أذن الأحمم - یعنی

بہرے کے کان میں بات ڈال دی۔

زَفَّتْ - السَّفِينَةُ - کشتی پر زفت

لٹنا۔

الزَّفْتُ - بل۔

زَفَدَنَ، زَفَدَا - الإِنَاءُ - برتن بھرنا۔

- فَرَسُهُ شَعْبِيًّا - گھوڑے کو

بہت بھوکھلانا۔

إِزْدَقْتِ - المَالُ - سب مال لے لینا۔

زَفَرْتُ رَمْنًا، زَفَرَا - زَفِيرًا -

النَّاسُ - آگ کے بھڑکنے کی آواز

سنائی دینا - الاسْمُ - زمین

کاسبزہ اگانا - زَفَرُ الرَّجُلِ -

لباسانس لینا - الجِنَارُ - گدھے

کا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگنا۔ و زَفَرُ

الشَّيْءِ زَفْرًا - اِطْأَانًا - الماءُ

پانی کھینچنا۔

إِزْدَقَرُو - الشَّيْءُ - اِطْأَانًا -

الزَّفَرُ - بھاری بوجھ۔ مشک۔ مسافر

کاسامان۔ گروہ۔ دستہ۔ فوج۔

ج۔ اَذْفَارٌ -

الزَّفَرُ - درخت کے نیچے لگانے کی

تھوٹی۔

الزَّفَرُ - شير - بہادر۔ سمندر۔ بہت

پانی کی نہر۔ فیاض۔ سخی۔ سردار۔

مشکیں اٹھانے میں خوب مضبوط۔

بہت بخشش۔ دستہ فوج۔

الزَّفِيرُ - مصیبت۔ گدھے کی آواز کا

آغاز۔ آخر کو شہین کہتے

ہیں۔

الزَّفْرَةُ وَالزَّفْرَةُ - لباسانس۔

گرم سانس۔ زَفْرَةُ الدَّائِبَةِ -

و زَفْرَتُهَا - جانور کا پھولا ہوا پہلو

زَفْرَةُ الشَّيْءِ - سُرْفَرَتُهُ -

اردوس فرس آزفر۔ بڑے

پہلوؤں والا گھوڑا۔ ج۔ زَفْرٌ -

الزَّافِرَةُ - جماعت۔ دستہ فوج۔

مصیبت۔ پر کے علاوہ تیر کا باقی

حصہ۔ کندھا اور اس کا گردا گرد۔

مکان۔ بڑا سردار۔ زَا فِرَةُ

الرَّجُلِ - آدمی کے اقارب و اعوان

و انصار۔ زَا فِرَةُ البِنَاءِ -

عمارت کا تھم۔ ج۔ زَوَافِرُ

الزَّوَا فِرُ - پسلیاں۔ فَرَسٌ

شَدِيدٌ الزَّوَا فِرُ - مضبوط

پسلیوں والا گھوڑا۔ پانی کی مشک

لانے والی لوندیاں۔ انگوروں کی بیل

کو اٹھانے کے جھگڑے کا شہ تیر۔

زَوَا فِرُ المَجْدِ - بزرگی کے اسباب

علی۔

المَزْفَرُ - والمَزْفَرُ - لباسانس۔

سانس لینے کی جگہ۔

المَزْفَرُ - مِنَ الدَّائِبِ - مضبوط

جوڑوں والا جانور۔

زَفْرَتٌ - الرَّجُلُ - تیز چلنا۔ اچھی

چال چلنا۔ الطَّائِرُ - پرندہ کا

پر پھیلا کر نیچے اترنا۔ الرِّيحُ

المَجْبُوشُ - ہوا کا گھاس کو

حرکت دے کر اس میں سے سائیں

سائیں کی آواز نکالنا۔ المَرْكَبُ

سواری کے چلنے سے آواز سننا

دینا۔

الزَّفْرَةُ وَالزَّفْرَاتُ وَالزَّفْرَافَةُ

پہیم تیز چلنے والی ہوا۔ الزَّفْرَاتُ

شتر مرغ۔ ہلکا۔

زَفَنَ رَمْنًا، زَفْنَا - ناچنا۔ زور کا دھکا

دینا اور لات مارنا۔

الزَّفَنُ - بھت کے اوپر کا چھپر۔ النَّا قَةُ

الزَّافِنَةُ وَالْمَزْفُونُ - لشکر کی

اونٹنی۔

الزَّقَانُ - نہیے والا۔

الإِزْفَانَةُ - حرکت۔ رجلٌ إِزْفَانَةٌ

حرکت کرنے والا آدمی۔ حرکت کرنے

والا۔

الزَّبِزْفُونُ - ایک سفید پھول اور بے

پھل کا درخت۔ نَّا قَةُ زَبِزْفُونٌ

تیز رفتار اونٹنی۔

زَفَى رَمْنًا، زَفِيًا وَزَفِيَانًا - زَفَتِ

القَوْسُ - مکان کا آواز کرنا۔

الرَّيْحُ السَّحَابِ وَالتُّرَابِ وَنَحْوَهُ -

ہوا کا بادل اور مٹی وغیرہ کو اڑانا۔

الرجلُ بِنَفْسِهِ - جان دینا۔

أَزْفَى - الشَّيْءُ - کسی شے کو ایک جگہ

سے دوسری جگہ لے جانا۔ اور اسی

سے ہے: "أَزْفَيْتُ العَرُوسَ"

یعنی میں دلہن کو سسرال لے گیا۔

الزَّافِي - ہلکا۔ تیز رفتار۔

الزَّقِيَانُ - ہلکا پن۔ ہلکا۔ نَّا قَةُ

زَقِيَانٌ - تیز رفتار اونٹنی۔

المَزْفِيُّ وَالْمَزْفِيُّ وَالْمَزْفِيُّ - ڈرایا

ہوا۔

زَقَى رَمْنًا، زَقَا - الطَّائِرُ - پرندہ کا

بیٹ کرنا۔ فَرَّخَهُ - چوزہ

کا چوگا دینا۔ المَجْبُوشُ - مینڈے

کی کھال اتارنا۔

زَقَقَ - المَجْبُوشُ - کھال اتارنا۔

الجِلْدُ - چمڑے کے بال کاٹنا۔

الزَّقَى - مشک۔ لِقَى المَدَادِ -

لوہار کی دھونکنی۔ بھی۔ ج۔ أَزْقَاقٌ

وَزِقَاقٌ وَزِقَاقٌ وَآزِقٌ -

الزُّقُّ - شراب - جر - زَقَقَهُ.

الزَّقَقَةُ - جھوٹے بچوں کو چوکا دینے والے
کبوتر - جھوٹے بچوں کو پیار کرنے
والے۔

الزُّقَاقُ - کوچہ - گلی - تنگ راستہ - جر
أَزَقَهُ وَزَقَانٌ -

الزُّقَاقُ - وَبِحُرِّ الزُّقَاقِ - جبرالٹر
کی آبنائے۔

الزُّقَّةُ وَالزُّقُّ - پن ڈبی نامی ایک
آبی پرندہ - الزُّقَاقُ - مشک
بنانے والا۔

زَقَبَ (ن) زَقِبًا - الْجُرْسُ فِي
حُجْرَةٍ - چوہے کا اپنے سوراخ
میں داخل ہونا - وَزَقَبَهُ فِي
الْحُجْرَةِ - داخل کرنا لازم و
متعدی)

زَقَبَ - الْمَكَاءُ - مکار پرندہ کا آواز
کرنے۔

إِنْزَقَبَ - الْجُرْسُ فِي الْحُجْرَةِ -
چوہے کا سوراخ میں داخل ہونا۔

الزُّقْبُ - تنگ راستہ - نزدیکی - کہتے ہیں
”رَمَيْتُهُ مِنْ زُقْبٍ“ میں نے اس
کو نزدیک سے مارا۔

زَقَمَ (ن) زَقَمًا وَزَقَامًا -
الْقِرْدُ - بندر کا چڑچڑ کرنا۔

زَقَقَ - زَقَقَهُ وَزَقَقَا -
الطَّائِرُ - پرندہ کا بیٹ کرنا۔

چھاننا - قَرَحَهُ - چوڑے کو چوکا
دینا - الصَّبِيُّ - بچہ کو کدانا -

الرجل - مسکرانا - ہلکی ہنسی
ہنسانا - ہلکا ہونا۔

الزُّقَاقُ - آہستہ چلنے والا - ایک قسم
کی چوٹی۔

نَقَعَ زُقْعًا وَزُقَاعًا - السَّيْلُ
مرغ کا بانگ دینا - گلڑوں کو مل کرنا۔

الجمار - گدھے کا زور سے
گوز کرنا۔

زَقَفَ (ن) زَقْفًا وَتَزَقَفَ وَ
أَزْدَقَفَ - الشَّيْءُ - کسی شے کو

یک بیک چھین لینا یا اچک لینا۔
اسی سے ہے ”تَزَقَفَ الْمَكْرَةَ“

بِالصُّوْجَانِ - یعنی اس نے ہاکی
سے گیند چھین لی۔ تَزَقَفَ وَ

أَزْدَقَفَ اللَّقْمَةَ - لقمہ نکلنا۔
الزُّقْفَةُ - ہلکی ہوئی چیز ہر چھینی ہوئی چیز

زَوْقَلٌ - پگڑی کے سب لگانا - نَاقِلُ
العِمَامَةِ - عامہ کے نیچے سے نکلے
ہوئے بال۔

زَقَمَهُ (ن) زَقَمًا وَاسْمٌ دَقَمَهُ -
لقمہ نکلنا۔

أَزَقَمَهُ - الشَّيْءُ - کوئی چیز نکلوانا۔
زَقَمَهُ - تھوڑا کھلانا۔

تَزَقَمَهُ - لقمہ لینا - نکلنا۔ تھوڑا کھانا۔
اللسان - دودھ بہت پینا۔

الزُّقُومُ - تھوڑا درخت - جسم کے
ایک درخت کا نام - مہلک خوراک۔

ایک خود رو گھاس - جس کا پھول چھبلی
کے پھول کے مشابہ ہوتا ہے۔

الزُّقْمَةُ - ایک دفعہ کا نکلنا - طاعون۔
زَقَنَ (ن) زَقْنًا - الْحَمْلُ

بوجھ اٹھانا۔
أَزَقَنَهُ - اٹھانے میں مدد دینا۔

زَقَا - (ن) زَقُوا وَزَقَاءٌ وَزُقِيًّا
وَرُقِيًّا وَزُقُوا وَزُقِي رَضٍ

زُقِيًّا - الطَّائِرُ - پرندہ کا
چھاننا - صفت مذکر (زَاقِي) جر

زَوَاقٍ - صفت مؤنث (زَاقِيَةٌ)
جر زَوَاقٍ - الصَّبِيُّ - بچہ

کا بہت رونا۔
الزُّقِيَّةُ - درہوں یا اور چیزوں کا ڈھیر

الزُّقْبَةُ - لقمہ۔

الزُّقِيَّةُ - چمچ۔

زَكَّ (ن) زَكًا وَزَكَاةً وَزَكِيًّا -
الشَّيْءُ - دوڑنا - بوجھ کمزوری

کے قریب قریب قدم رکھنا -
زَكَاةً، الْعِلَامُ - دوڑنا -

القربة - مشک بھرنے -
يَسْلُجُهُ - بیٹ کرنا - زَكَّهُ

الماءُ - آسودہ وسیع کرنا - عَلِي
فَلَانٍ - کسی پر غضبناک ہونا۔

زَكَّ - الرجل - بوڑھا ہونا - بیماری
سے کمزور ہونا۔

أَزَقَّ - عَلَى الْأَمْرِ - کام پر اصرار کرنا۔
بَدَا يَهْ - رائے میں اکیلا ہونا

تَزَكَّكَ - ہتھیار اٹھانا۔
أَزْدَكَ - الزَّمْعُ - کھیت کا

سیراب ہونا۔
الزُّكُّ - فاختہ کا چوڑہ۔

الزُّكَّةُ - ہتھیار - الزُّكَّةُ - غم و غصہ
زَكَوَةٌ (ن) زَكَاةً - مازنا - زَكَاهُ

الدَّرَاهِمُ - نقد دینا، یا جلدی
نقد دینا - زَكَوَةٌ حَقَّةٌ - کسی کا

حق ادا کرنا - الْيَهْ - کسی کی پناہ
لینا۔

أَزْدَكَ - حَقَّةٌ مِنْهُ - اس نے اس
سے اپنا حق لے لیا - رَجُلٌ زَكَوَةٌ

وَرَجُلٌ زَكَوَةٌ - نقد
روپے ادا کرنے والا آدمی - مالدار۔

الزُّكَاةُ - ہائے پناہ۔
زَكَبَ (ن) زَكَبًا وَزَكُوبًا -

الإناة - برہن بھرنے - الْمَرْأَةُ
عورت کا ایک ہی درد میں بچہ جن

دینا۔
إِنْزَكَبَ - الْبَحْرُ - سمندر کے پانی کا

پست زمین میں یا گڑھے میں داخل ہونا
الزُّكْبَةُ - لقمہ۔

ذَلَّ (ض من) زَلَّ و زَلَّوْا و زُلُوْا
و زَلَّوْا و مَزَلَتْ و زَلَّوْا و
زَلَّوْا و زَلَّوْا و زَلَّوْا و زَلَّوْا
الْحَقِّ اَو الصَّوَابِ بِحَقِّ و صَوَابٍ
بِهَرَبَةٍ عَمْرُؤُا - زندگی کا گذرنا۔
ذَلَّ زَلَّوْا و زُلُوْا، جلد گذر
جانا و زَلَّ زُلُوْا، المِدْرَهْمُ
درہم کا کم وزن ہونا۔ صفت۔
ذَلَّ (ذال)۔ ج زَوَّالٌ - (ذال
ذلالاً) کمزور اور ہلکے سرین والا
ہونا۔ صفت (آسنال) مؤنث
ذَلَّوْا و ج زَلَّوْا۔
أَزَلَّتْ - پھسلنا، لغزش کرنا۔
استنزلتہ - پھسلنا۔ لغزش کرنا۔
الزُّلُّ - پھسلنے کی جگہ (مذکر و مؤنث)
الزُّلُّ - گناہ کا ارتکاب۔ پھسلنے کی جگہ۔
(مذکر و مؤنث) فِي مِيزَانِهِ ذَلُّ
اس کی ترازو میں نقصان ہے۔
الذَّلَّةُ - ذَلَّ کا اسم مرفوع۔ ایک مرتبہ
گنا۔ گناہ۔ ولید دہن - خوراک جو
دوست یا رشتہ دار کے دسترخوان
سے اٹھائی جائے۔ ج۔ ذَلَّاتٌ -
الذَّلَّةُ - صاف پتھر۔ واحد ذَلَّ
الذَّلَّةُ - احسان۔ دمہ۔ مَاءٌ
رِزَالٌ و زُلُوْلٌ و زَلِيلٌ و
زُلَّالٌ (صاف بیٹھا، حلق سے
جلد اتر جانے والا پانی۔
الزُّلَالُ - بہت پھسلنے والا۔ الزَّلِيلُ
فالودۃ - ہلکی رفتار۔
الآسْنَالُ - تیز رفتار۔ ہلکے سرین والا۔
مؤنث ذَلَّوْا۔ ج۔ ذَلَّوْا۔
الْمَزَلَّةُ و الْمَزَلَّةُ پھسلنے کی جگہ۔
ج۔ مَزَالٌ -
الْمَزَالُ - فا۔ بہت نیکی یا سلوک
کرنے والا۔

يُذَكِّرُنُ الْأَنْفِيْنَ - یہ لشکر دو
ہزار کے قریب ہے۔ ذ۔ قریب ہونا
ہم نشین ہونا۔
أَذَكَّنَتْ - الْأَمْرُ - کسی کو کوئی امر
جتانا۔ سبحانا۔ الشَّيْءُ - صحیح
گمان ہونا۔
الزَّكَائَةُ و الزَّكَائِيَةُ - گمان کی درستی و
سچائی۔ رَجُلٌ زَكِيٌّ - اچھی یادداشت
کا آدمی۔
زَكَائِدُ كُوزٍ كَأَنَّ وَ زَكُوًّا و زَكِيٌّ
(س) ذَكِيٌّ - الذَّرْعُ - فصل کا
بڑھنا۔ الرَّجُلُ نِيكٌ و صَالِحٌ
ہونا۔ خوش حال زندگی گزارنا۔ ذکی
ہونا۔ الارضُ - زمین کا عمدہ
ہونا۔ هَذَا لَا يَذُكُّوْا بِكَ - یہ
تمہارے لائق نہیں۔
ذَكِيٌّ - بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔ پیاسا ہونا۔
ذَالٌ - ذَالٌ اللّٰهُ بڑھانا۔ پاک کرنا۔
اصلاح کرنا۔ زَكَاةٌ لِيْنَا - ذَكِيٌّ
مَالَةٌ - مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔
نَفْسًا - اپنی تعریف کرنا۔
أَزَكِيٌّ - الزَّرْعُ - کھیتی کا بڑھنا۔
ذَالٌ اللّٰهُ - بڑھانا۔
تَذَكَّى - صدقہ دینا۔ ذکی ہونا۔
الشَّيْءُ - بڑھنا۔ زیادہ ہونا
الزَّكَاءُ - جنتِ عدو۔ آخِنًا هَذَا
أَمْ زَكَاةٌ - یہ طاق ہے یا جنت۔
الزَّكَاءُ - جہز کا عمدہ حصہ۔ زکوٰۃ۔ صدقہ
پاکیزگی۔ ج۔ زَكَاةٌ و زَكَاةٌ -
الزَّكِيُّ - فا۔ اچھی نشوونما پانے والا
ج۔ زَكَاةٌ -
الذَّكِيُّ - عمدہ نشوونما پانے والا۔ ج
أَزْكِيَاءٌ - مؤنث ذَكِيَّةٌ -
أَسْمَانٌ ذَكِيَّةٌ - عمدہ زرخیز
زمین۔

ذَكَتَ دَنٌ، لَكْنَا و أَذَكَّتْ و ذَكَتْ
- الإِنَاءُ - برتن بھرنا۔
أَذَكَّتْ - الْمَرْأَةُ بِغَلَامٍ - عورت
کا لڑکا جتنا۔
ذَكَرَ دَنٌ، ذَكَرًا و ذَكَرًا - الإِنَاءُ
برتن بھرنا۔
ذَكَرًا و تَذَكَّرًا - الإِنَاءُ - برتن
بھرنا۔
الزُّكُوَّةُ - شراب وغیرہ رکھنے کے لیے
چمچے کا برتن۔ ج۔ ذَكَرٌ -
ذَكَرٌ - الشَّيْءُ - بوڑھے کا
بسیب کمزوری قریب قریب قدم
رکھ کر چلنا۔
تَذَكَّرَكَ - ہتھیار اٹھانا۔
ذَكَمَةُ دَنٌ، ذَكَمًا و أَذَكَمَةُ زَكَامٍ
میں مبتلا کرنا۔ الْقَدْبَةُ - مشک
بھرنا۔ ذَكَبْتُ بِهِ أُمَّةً - جتنا
ذَكَمَةُ زَكَامٍ کی شکایت والا ہونا۔
صفت (مَزُكُوْمٌ)۔
الزُّكَمَةُ - زَكَامٍ - اولاد۔ کہتے ہیں۔
لِفُلَانٍ ذَكَمَةُ سُوءٍ - فُلَانٌ كِ
برسی اولاد ہے۔
الزُّكَمَةُ - أَهْلٌ - اکثر آدمی۔ آخری بچہ۔
ذَكِيْنٌ (س) ذَكْنًا - الْأَمْرُ - کسی
امر کو سمجھ لینا۔ تازہ جانا۔ گمان کرنا۔
کہتے ہیں۔ ذَكَبْتُ أَنَّ رَجُلًا
سُوءٍ میں نے جان لیا کہ وہ بُرا
آدمی ہے۔ وَنَهَتْ عَدَاوَةً
کسی کی عداوت کا پتہ لگانا۔
ذَكَوْنَا، أَلَيْسَ - پناہ لینا۔ بل
چل جانا۔
ذَكْنٌ - گمان کرنا۔ عَلَيْهِ - مشعبہ
ہونا مشکوک ہونا۔
ذَكَتَهُ - ایک دوسرے کے قریب
ہونا۔ کہتے ہیں۔ هَذَا الْجَيْشُ

زلزلہ (س) زلزلہ۔ یہ کسی کے ساتھ
چھٹنا اور جدا ہونا۔

الزَّلْبَةُ۔ لقمہ۔

الزَّلْبَةُ جلیبی۔

زَلَجَ (د) زَلَجًا وَزَلَجًا وَزَلَجَانًا۔
تیزی سے چلنا۔

زَلَجَ (د) زَلَجًا وَزَلَجًا۔ البَاب
دروازہ کو چھنی سے بند کرنا زَلَجَ

(ن) زَلَجَانًا۔ فَلَانًا۔ آگے ہونا
زَلَجَ (س) زَلُوجًا وَزَلَجًا۔ پھلنا۔

اسی سے ہے۔ مَزُوجٌ۔ ج۔
مَزُوجٌ۔ وہ گاڑی جو برف پر

بغیر پیچھے کے چلے۔ زَلَجَ الْكَلَامُ
میں فہم۔ بات کامنہ سے

نکل جانا۔ الْمَاءُ عَنِ الْخَنْجَرَةِ۔
پانی کا حلق کی نالی سے پیٹ میں اتر

جانا۔
زَلَجَ۔ الْكَلَامُ۔ بات کو لوگوں میں

مشہور کرنا۔ عَيْشَةُ۔ قَوْلِي سِي
روزی پر زندگی گزارنا۔

زَلَجَ۔ الشَّيْءُ۔ پھلنا۔
الْيَبِيدُ۔ بنیاد پھینے پر اصرار کرنا۔

مکان زَلَجَ وَزَلَجًا وَزَلَجًا۔
پھلنے کی جگہ۔

الزَّلَجُ۔ فا۔ معائب سے نجات پانے
والا۔ بہت چینے والا۔ سَمُّرٌ

زَلَجٌ۔ زمین سے رگڑ کھا کر جانے
والا تیر۔

الزَّلُوجُ۔ تیزرو۔ سَمُّرٌ زَلُوجٌ۔
کان سے پھلنے والا تیر۔ قَدْحٌ

زَلُوجٌ۔ ماتہ سے پھلنے والا پیالہ۔
الزَّلَجُ۔ چکنی چٹانیں۔ نَاقَةٌ

زَلَجِي وَزَلِيحَةٌ۔ تیزروا وٹنی۔
الزَّلَجُ وَالْمَزَلَجُ۔ چٹھنی۔
المَزَلَجُ۔ تھوڑا۔ بخیل۔ قوم میں اجنبی آدمی

بے مروت آدمی۔ ہر چیز کا ردی حصہ۔
زَلَجَ (د) زَلَجًا وَزَلَجًا۔ الشَّيْءُ۔

چکھنا۔
الزَّلَجُ۔ باطل۔

تَزَلَجَ۔ عندئذ۔ پھلنا۔
زَلَجَةُ۔ علمدہ کرنا۔

تَزَلَجَتْ۔ وَاذَلَجَتْ۔ علمدہ ہونا۔
الزَّلَجَةُ۔ کچھو (سلفاقہ سے عرف

ہے)۔
زَلَجَ (س) زَلَجًا۔ فرہ ہونا۔

زَلَجَ (د) زَلَجَانًا وَزَلَجَانًا۔
الرَّجُلُ۔ بچنے میں آگے بڑھنا۔

رَجُلٌ۔ پاؤں پھلنا۔
زَلَجَ (د) زَلَجًا۔ فَلَانًا

المُؤَمِّجُ۔ نیزہ بھونکنا۔ رَامَسَةٌ
سر زخمی کرنا۔

أَزَلَجَ۔ البَاب۔ دروازہ کو میز لاجہ
سے بند کرنا۔

تَزَلَجَ۔ پھلنا۔ مکان زَلَجٌ وَزَلَجٌ
پھلنے کی جگہ۔

الزَّلُوجُ۔ تیزرو۔ يَهُودٌ زَلُوجٌ۔
پھلنا کنواں۔

الزَّلَجَةُ۔ بچوں کے پھلنے کی جگہ۔
زَلَجَ (س) زَلَجًا۔ بے قرار ہونا۔

الزَّلُوجُ وَالزَّلُوجُ۔ خاسکی
اسباب۔ آنے کا راستہ۔

زَلَزَلَ زَلْزَلَةً وَزَلْزَالًا وَزَلْزَالًا۔
وَزَلْزَالًا۔ اللَّهُ الْأَرْضَ

ہلانا۔ بھونچال لانا۔ خوف زدہ
کرنا۔ زَلْزَالًا۔ الإِبِلُ۔ اونٹ

کو سختی سے ہانکنا۔
تَزَلَزَلَتْ۔ الْأَرْضُ فِي زَلْزَلَةٍ

میں آنا۔ زمین میں بھونچال آنا۔
الزَّلْزَالَةُ۔ بھونچال۔ ج۔ زَلْزَالٌ
الزَّلْزَالُ۔ مصائب و خطرات۔

الزَّلْزَالُ۔ ماہر نقارچی۔ سبک جوان۔
الزَّلْزَالُ۔ سامانِ نعمانہ۔ خاسکی اسباب۔

الزَّلْزَالُ۔ خورش بلیع و سبک۔ سبکی۔
لِطَائِنٌ مَجْزُؤًا۔

زَلَجَ (د) زَلَجًا۔ الشَّيْءُ۔ دھوکے
سے بھین لینا۔ رَجُلٌ۔ پاؤں

جلانا۔ الْمَاءُ مِنَ الْبَيْتِ۔
کنویں سے پانی نکالنا۔ رَامَسَةٌ۔

سر بھاڑنا۔ زَلَعْتُ لَهُ مِنْ
مَالِي زَلْعَةً۔ میں نے اپنے مال

میں سے ایک حصہ دیا۔
زَلَعْتُ (س) زَلْعًا وَزَلْعًا وَ

تَزَلَعْتُ۔ قَدَمُهُ۔ پاؤں کا
اوپر یا اندر سے پھلنا۔ كَهْفٌ

ماتہ کا اوپر سے پھلنا۔ المَجْرَمُ
زخم کا خراب ہونا۔ تَزَلَعُ رِيْشَةٌ

پروں کا پھلنا۔
زَلَعْتُ (د) زَلْعًا۔ الشَّمْسُ

سورج کا ٹکنا۔ النَّاسُ مَالِكٌ
بلند ہونا۔

أَزْلَعَهُ۔ فِي الشَّيْءِ۔ کسی چیز کی لاپٹ
دلانا۔

أَزْدَلَعَهُ۔ الشَّيْءُ۔ دھوکے سے کسی
چیز کو بھین لینا۔ حَقْلَةٌ مَن

کات لینا۔ الشَّجَرَةُ۔ درخت
کاٹنا۔

الزَّلْعَةُ۔ غراب زخم۔
الزَّلْعُ۔ بھٹی ہوئی ریشوں والا۔

الزَّلْعُ۔ چھوٹی کٹیوں کی ایک قسم۔
المَزْلَعُ۔ بچھے ہوئے پاؤں والا۔

زَلَعْتُ (د) زَلْعًا۔ النَّجْمُ۔ ستارہ
کا ٹکنا۔ النَّاسُ۔ آگ کا

بلند ہونا۔
تَزَلَعْتُ۔ رَجُلٌ۔ پاؤں پھلنا۔
اس کے لیے تَزَلَعْتُ کتنا افضل ہے۔

إذْ لَعَبْتَ - الفَرْخُ: پھوڑے کے پر نکلنا۔
— الشَّعْرُ: بالوں کا مونڈنے کے بعد نکلنا۔

ذَلَفَ (دَن) ذَلْفًا وَذَلْفًا وَذَلِيفًا وَتَذَلَفَ وَإِذْ ذَلَفَ: آگے ہونا۔

قَرِيبٌ هَوْنًا: ذَلَفَ (دَن) ذَلْفًا وَكَلَفَ - الشَّيْءُ: آگے کرنا۔ ذَلَفَ فِي الْكَلَامِ: زیادہ کرنا۔

أَسْرَفَهُ: قَرِيبٌ كَرَانًا - الْأَشْيَاءُ: اکٹھا کرنا۔ الدَّيْلُ الْقَوْمَ: رہبر کا قوم کو آگے بڑھنے پر ابھارنا۔
الذَّلْفُ وَالذَّلْفُ وَالذَّلْفُ: نزدیکی قَرَبٌ: درجہ۔ رتبه۔ قدر و منزلت۔
الذَّلْفُ: بارغ۔

الذَّلْفَةُ: نزدیکی۔ درجہ۔ مرتبہ۔ رات کا ایک حصہ۔ بڑا پیالہ۔ ج۔ ذَلَفٌ وَذُلْفَاتٌ وَذُلْفَاتٌ: بعض کے نزدیک۔ الذَّلْفُ رات اور دن کے اوقات۔

الذَّلْفَةُ: بھراؤنی سیبی۔ کپڑے دھونے کا طشت۔ بڑا پیالہ۔ چکنا پتھر۔ سخت یا بھاری ہوئی زمین۔ بارغ۔ ج۔ ذَلَفٌ۔

الْمَزْلَقَةُ: گاؤں جو کشت زار اور بیابان کے درمیان ہو۔ ج۔
مَزَالِفٌ - الْمَزَالِفُ: مرحلے کوچ کی جگہیں۔ واحد (مَزْلَقَةٌ)۔
ذَلِفْتُ (دَس) وَذَلِفْتُ (دَن) ذَلْفًا - الْقَدَمُ: قدم پھلنا۔
بَسَكَ يَبْسُكُ: کسی جگہ سے اکتا کر ہٹ جانا۔

ذَلَفَ (دَس) ذَلْفًا وَذَلْفًا وَآذَلَفَهُ: پھلانا۔ عَنِ مَكَانِهِ: کسی جگہ سے ہٹانا۔ دَوَّرَ كَرَانًا: دَاسَلَهُ۔

سرمونڈنا۔ ذَلَقَ الْمَوْضِعَ: کسی جگہ کو پھلنی بنانا۔ ذَلَقَ بَدَنَهُ: بدن پر تیل لگانا۔ آذَلَفَهُ وَذَلَفَهُ: بہت بصر۔ کسی پر تیز غصہ کا نظر ڈالنا۔

أَذَلَقْتُ - الْغَرَسُ: گھڑی کا وقت سے پہلے بچہ گرانا۔

تَذَلَّقَ - أَيَسَانُورًا: کہہ رہے ہیں چمک دک نظر آئے۔

الذَّلِقُ وَالذَّلِقُ وَالذَّلِقُ وَالذَّلِقَةُ: پھلنی جگہ۔

الذَّلِقُ: جلد غضبناک ہونے والا۔
الذَّلِقَةُ: چکنی صاف چٹان۔ آئینہ ناقہ "ذَلُوقٌ" تیز روا و تثنی عَقَبَةُ ذَلُوقٌ: دور دراز گھائی۔

الذَّلِيقُ: استقاط کا بچہ۔
الذَّلِيقُ: ایک قسم کا شفتالو۔ واحد (ذَّلِيقَةٌ)۔

الذَّلِقُ: نئے نئے ہونے والوں والا آدمی۔

الذَّلِيقُ: دروانہ کی چٹھنی۔ قبل از وقت بچہ گرانے والی گھڑی۔

الْمَزْلَقُ وَالْمَزْلَقَةُ: پھلنے کی جگہ۔
ذَلَمَ (دَن) ذَلَمًا: خطا کرنا۔

الذَّلَامَةُ: برتن بھرنا۔ الذَّلَامَةُ: ناک کا لٹا۔ العَطَاءُ: بخشش کم دینا۔

ذَلَمَهُ: نرم کرنا۔ ہموار کرنا۔
الرَّحَى: چکی گھمانا اور کناروں سے لینا۔ العَطَاءُ: بخشش مٹوڑی دینا۔ عَذَاءٌ: بڑی خوراک دینا۔

إِذْ ذَلَمَ - الشَّيْءُ: کاٹنا۔ جڑ سے اکھڑانا۔

ذَمَّتْ (دَن) ذَمًّا: القَرْبَةُ: منگ کا بھڑنا۔ نَابُ البَعِيرِ: اونٹ

سراونچا کر کے لے جانا۔

إِسْرًا لَعَمًا - إِزْلِيمًا: الشَّيْءُ: سیدھا کھڑا ہونا۔ القوم: قوم کا جلد کوچ کر جانا۔

إِذْ لَقَمْتُ الضُّحَى: پاشت کے وقت کاروشن ہونا۔

الذَّلَامُ: بچے پر کاتیر سج۔ آذَلَامٌ: فال لینے کے تیر جن سے جاہلیت میں

عرب تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک گھاس۔ الزُّلْمَةُ وَالزُّلْمَةُ وَالزُّلْمَةُ: شکل اور قد و قامت۔ کہتے ہیں "هُوَ الْعَبْدُ ذُلْمَةٌ": وہ غلام کی طرح

معلوم ہوتا ہے۔

الذَّلْمَةُ: بھیڑ بکری کے کان کا کٹا ہوا حصہ جو لٹکتا رہتا ہے۔

ذَلُمْتُ لَوْ مَادَعَامِي لَعَفْتُ، فِصْحٌ لَفْظِ البُلْبُلِ: ہے۔

الْمَزْلُومُ: پستہ قد۔ سبک خوش طبع (الْمَزْلُومُ وَالْمَزْلُومُ) مِنَ السَّهَامِ: عمدہ ساخت کا تیر۔

الْمَزْلُومُ وَالْأَزْلَمُ: کن کن۔

الذَّلْمَاءُ: سفکرہ کی مادہ۔ پہاڑی بکری۔ ذَلَمَ (دَن) ذَمًّا: کس کر باندھنا۔

الذَّلْمَةُ: مشک بھڑنا۔ ذَمَّ البَعِيرُ بِأَنْفِهِ: ناک میں مکھن کی وجہ سے اونٹ کا سراٹھائے رکھنا۔

الذَّلْمَةُ: بڑا سبب۔ سراٹھانا۔ بِأَنْفِهِ: بکھر کرنا۔ گردن کٹی کرنا۔

القوم: رفتار میں قوم سے آگے بڑھ جانا۔ وَذَمَّ الْجَمَالَ: اونٹوں کے نیل ڈالنا۔ ذَمَّ النَّعْلَ: جوتا میں تسمہ لگانا۔

الذَّلْمَةُ: جوتا میں تسمہ لگانا۔ الذَّلْمَةُ: المتخلة: بھیڑے کا بکری کے بچہ کو سراونچا کر کے لے جانا۔

ذَمَّتْ (دَن) ذَمًّا: القَرْبَةُ: منگ کا بھڑنا۔ نَابُ البَعِيرِ: اونٹ

سراونچا کر کے لے جانا۔

ذَمَّتْ (دَن) ذَمًّا: القَرْبَةُ: منگ کا بھڑنا۔ نَابُ البَعِيرِ: اونٹ

کے دانت پھوٹنا۔ زَمِيمًا ،
 الزُّنْبُوسُ۔ بھڑکا بھینٹانا۔
 أَرَقَّ۔ النُّحْلُ۔ ہونا میں تسم لگانا۔
 زَاقَرٌ۔ مُرَامَةٌ۔ تکبر کرنا۔ زَاقَمْتُمْ
 فَلَانًا۔ مقابلہ کرنا۔
 لَنْزَقَ۔ باندھا جانا۔
 لَزْدَقَ۔ تکبر سے سراونچا کرنا۔
 الزُّنْبُ السَّخَلَةُ۔ بھیڑیے کا
 بکری کے بچہ کو سراٹھا کر لے جانا۔
 الزِّمَامُ۔ جس سے کوئی چیز باندھی جائے
 باگ۔ لگام۔ نکیل۔ مہار۔ ج۔
 أَرَقَّةٌ۔ زِمَامُ النُّعْلِ۔ جوتے
 کا تسم۔ زِمَامٌ قَوْمِهِ۔ اپنی
 قوم کا پیشوا اور چودھری۔ "هُوَ
 زِمَامُ الْأَمْرِ" وہ چیز جس پر
 کام کا دار و مدار ہو۔ "أَلْفُوا رِقِي"
 یدیع زِمَامُ الْأَمْرِ یعنی لوگوں
 نے کام کی باگ اس کے ہاتھ میں دے
 دی اور اس کو مختار کل بنا دیا۔
 الزَّامُ۔ فَا۔ رَجُلٌ زَاقَرٌ۔ گھرانے
 والا آدمی۔ ج۔ زَمَمٌ۔ کہتے ہیں۔
 "دَارِي مِنْ دَارِهِ زَمَمٌ" میرا
 گھر اس کے گھر کے نزدیک ہے۔
 "وَجِئِي زَمَمٌ بَيْتِي" میرا چہرہ
 اس کے گھر کے مقابل ہے۔
 الزُّمَامُ۔ اونچی گھاس۔ الْأَزْمِيمُ
 سینے کے آخر کا پاند۔
 زَمْتٌ دَكٌ زَمَانَةٌ وَتَزَمْتُمْ مَعَزٌ
 اور باوقار ہونا۔ صفت زَمِيئَةٌ
 ج۔ زَمْتَاءٌ وَرَزَمِيئَةٌ
 زَمْتَةٌ دَفٌ زَمْتًا۔ گلا گھوٹنا۔
 زَمَجَرٌ دَفٌ زَمَجًا۔ القَرْبِيَّةُ۔ مشک بھرنے
 — عَلِيَّهِمْ دَعْوَتٌ بَلَّ جَاهُ
 آکر کھانا۔
 زَمَجَرٌ دَفٌ زَمَجًا۔ غضبناک ہونا۔

صفت (ز م ج)
 الزُّمَجَجُ۔ سرخ رنگ کا ایک شکاری پرندہ
 ج۔ زَمَامِيْبُ۔ زَمَجَجُ الْمَاءِ
 ایک مچھلی خور آبی پرندہ۔
 الزُّمَجَجِيُّ۔ پرندہ کی دم کی جڑ۔
 زَمَجَجَةٌ۔ الظَّلِيمُ۔ شتر مرغ کی چوخی
 "أَخَذَهُ بِذَأْمَجَجِهِ" اس نے تمام
 کا تمام ہی لے لیا۔
 الْمَزْمَجَجُ۔ غضبناک۔
 زَمَجَرٌ زَمَجَرَةٌ۔ بہت شور مچانا۔
 (وَتَزْمَجَرُ) الْأَسَدُ شِرْكَ
 دھاڑنا۔ دھونکنا۔
 (زَمَجَرٌ) آواز کرنا۔
 الزَّمَجَرَةُ۔ بانسری۔ ہر چیز کی آواز۔
 ج۔ زَمَاجِرٌ وَزَمَاجِيرٌ۔
 الزُّنْمُجُ وَالزُّوْمُجُ۔ کمینہ، پست قدم
 بد شکل سیاہ رنگ، شریہ۔
 الزَّامِجُ۔ بھوڑا۔
 زَمَخَرٌ دَفٌ زَمَخًا۔ تکبر کرنا۔ صفت
 (زَامِجٌ) ج۔ زَمَخٌ۔
 زَمَخَرٌ۔ التَّمْرُ۔ غصہ میں جیتے کا
 دھاڑنا۔ العَشْبُ شُكْرُفٌ
 والا ہونا۔ بڑھنا۔ (وَأَزْمَخَرُ)
 الصَّوْتُ۔ آواز کا تیز ہونا۔
 تَزْمَخَرُ۔ التَّمْرُ۔ جیتے کا غصہ سے
 روکننا۔ دھاڑنا۔
 الزَّمَخَرُ بَرِيٌّ بَانَسِرِيٌّ۔ گنجان و گھنا
 درخت۔ (رَجُلٌ زَمَخَرٌ) بلند نشان
 کا آدمی۔ (وَالزَّمَخَرِيُّ) کھوکھلی
 بڑی۔
 زَمَخَرَةٌ۔ الشَّبَابُ۔ بھری جوانی۔
 — الشَّجَرُ۔ درخت کا گنجان ہونا
 زَمَرٌ دَفٌ زَمَرًا وَزَمِيْرًا۔ بانسری
 بجانا۔ بِالْحَدِيثِ۔ بات پھیلانا
 (وَزَمَرًا) القَرْبِيَّةُ۔ مشک

بھرنے۔ فَلَانًا بِفُلَانٍ۔ کسانا
 بھڑکانا۔
 زَمَرٌ دَفٌ زَمَرَانًا۔ الکلبی۔ ہرن
 کا ڈر کر بھاگنا۔ چکنا۔ (وَزَمَرًا)
 النِّعَامُ۔ شتر مرغ کا آواز کرنا۔
 زَمَرٌ دَفٌ زَمَرًا۔ تھوڑے بالوں والا
 ہونا۔ بے مروت ہونا۔
 زَمَرٌ۔ بانسری بجانا۔ القَرْبِيَّةُ۔
 مشک بھرنے۔
 (وَزَمَرًا)۔ غصہ سے سرخ آنکھوں والا ہونا۔
 اسْتَزَمَرُوا۔ الرَّجُلُ عِنْدَ الصَّوَانِ
 ذلت کی وجہ سے منقبض ہونا۔
 الزَّمَرُ۔ (وَالزَّمَرُ) آواز
 ج۔ زَمُوسٌ۔
 الزَّمَرُ بَانَسِرِيٌّ بجانے والا۔ غِنَاءٌ
 زَمَرٌ۔ اچھا گانا۔ کم بالوں یا اون
 والا۔ کم مروت والا۔ مَوْنٌ زَمَرَةٌ
 عَطِيَّةٌ زَمَرَةٌ۔ تھوڑی بخشش۔
 الزَّمَارُ۔ شتر مرغ کی آواز۔
 الزَمِيرُ۔ کرخت آواز۔
 الزَّمِيرُ۔ پست قدم۔ ج۔ زَمَاسٌ
 (وَالزَّمُوسُ) حسین لڑکا۔
 غِنَاءٌ زَمِيرٌ۔ اچھی راگ۔
 الزَّمِيرُ وَالزَّمِيرُ۔ ایک قسم کی مچھلی۔
 الزَّمَارُ۔ بانسری بجانے والا۔
 الزَّمَارَةُ بَانَسِرِيٌّ۔ زَمَارَةُ التَّارِيحِيَّةِ
 ایک نایت۔
 الزَّمَرَةُ۔ گروہ۔ جماعت۔ فوج۔ ج۔
 نَمَرٌ۔
 الزَّمَرُ۔ جماعت۔ خوبصورت لڑکا۔
 الزَّمَارَةُ وَالزَّمُورَةُ۔ مروت کی کمی۔
 الزَّمَارَةُ۔ بانسری بجانے کا پیشہ۔
 الْمِزْمَارُ۔ بانسری۔ (وَالزَّمُوسُ)
 وَالْمِزْمُوسُ۔ گیت۔ ج۔ مَنَامٌ
 مِزَامِيرٌ حَادِدٌ۔ حضرت داؤد

علی نبینا وعلیہ السلام کی دعا۔ اسی کے مجموعہ کو زبور کہتے ہیں۔
 الزمرد و الزمرد۔ ایک گہرے سبز رنگ کا پتھر۔ واحد (زمرد)۔
 زمرد۔ الیوغاء۔ برتن کو اچھی طرح بھرنے کے لیے پلانا۔
 زمزم۔ زمزمۃ۔ الشیء۔ دور سے آواز کی گنگناہٹ سنانی دینا۔
 النار۔ آگ کے بھڑکنے کی آواز سنانی دینا۔ المغنی۔ گویے کا سر سے گانا۔
 زمزمۃ بکھری ہوئی شے کو جمع کرنا۔ الشیء۔ حفاظت کرنا۔
 تزمزم۔ الجمل۔ اونٹ کا بڑبڑانا۔ تزمزمت بہ شفتاک۔ ہوتوں کا پلنا۔ ماء زمزم و زمزم و زمزم و زمزم۔ بہت پانی، کچھ کھا راپانی۔ تمل پانی۔ زمزم۔ کعبہ شریف کے نزدیک ایک کنویں کا نام۔
 الذمزمۃ۔ بادل کی گرج۔ آگ کے بھڑکنے کی آواز بشیر کی دھاڑ۔ جم زمزم۔
 الزمزم و الزمزم۔ من الابل۔ عمد اونٹ۔ اونٹوں کا ریوڑ یا گلہ۔ جم زمزم۔
 الزمزمۃ۔ اونٹوں یا آدمیوں کا گروہ۔ جم زمزم و زمزم۔
 زمزم (س) زمعاً۔ منہ لہ جیران ہونا۔ خوف سے مہبوت ہونا۔
 زمع (ف) زمعاً و زمعاً۔ الارنب۔ خرگوش کا تیز چلنا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔
 ازمع۔ زمع۔ الامر و علیہ و بہ۔ پختہ ارادی کے ساتھ کسی پر جمے رہنا۔
 و ازمع الکرہ۔ انکور کی بیل کا

گرہ دار اور کھدرا ہونا۔ زمعہ الزموس۔ بھڑکا بھنبھنا۔
 ازمعت الارنب۔ ہلکا پھلکا ہونا اور تیز چلنا۔
 الزمق۔ چھوٹی تنگ نالیاں۔ رذیل لوگ۔ انکور کی شاخوں کی گریں۔ کمزور سیلاب۔ انگلیوں کی زیادتی۔ بے قراری۔ کام کے شروع کی کپکپی۔ جم۔ ازماع (س) و الزماع (س) پختہ ارادہ۔
 الزمعة۔ ٹکڑا۔ کہتے ہیں ارض فیہا زمعة من النبت یعنی زمین میں گھاس کا قطعہ ہے۔
 الزمعة۔ جم۔ زمع و زماع۔ ہرن یا بکری وغیرہ کے پاؤں کے پچھلے رخ میں لٹکے ہوئے بال۔ جم۔ ازماع۔ چھوٹا ٹیلہ۔
 الزمعی۔ خسیس۔ جلدی غصہ میں آ جانے والا۔
 الزمعم۔ بے ڈنک والی بھڑ۔ وہ شخص جو اپنی ضروریات میں پھرت نہ ہو۔
 الزمیع۔ بکے ارادہ والا۔ باور۔ اچھی رائے والا۔ (س) و الزموم (س) تیز رفتار۔
 الاشمع۔ ہوشیار۔ دانا، چالاک۔ ناپستام۔ جم۔ اناوم۔ رجل ازمع۔ ناپیدا ٹنگلی والی آدمی۔
 المزمع۔ ثابت قدم پختہ ارادہ والا آدمی۔
 ذمق (ن من) زمقنا۔ القفل۔ تالا کھولنا۔ اللحیة۔ وارحی نوچنا۔ صفت زمیقۃ و مزموزۃ، کہتے ہیں ما اغنی عنک زمقۃ اس نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔

ذمک (ن) زمکا۔ چپ رہنا۔
 و ذمک، القزبہ۔ مشک بھڑنا۔
 زمکۃ علی۔ اس نے اس کو بھڑکا کر مجھ پر سخت غضب ناک کر دیا۔
 ازمک۔ سخت غضب ناک ہونا۔
 الزمک۔ سخت غصہ۔ ایک دوسرے میں گھس جانا۔
 الزمکۃ۔ من الرجال۔ جلد غصہ ہو جانے والا۔ احمق۔ پستہ قد۔ جم۔ الزمکون۔
 الزمکی و الزمک۔ پزندہ کی دم یا اس کی جڑ۔
 ذمک (ن من) زمکا۔ الا عربہ۔ لنگڑے کا ایک طرف جھکے ہوئے دوڑنا۔
 ذمک (ن) زملا و زملا و زملا۔
 الدابکۃ۔ خوشی کی وجہ سے لنگڑاتے ہوئے چلنا۔ (س) و ذمک۔ القوس۔ کمان کا آواز کرنا۔
 ذملا۔ الرفیق۔ ساتھی کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھانا۔ الرجل۔ پیروی کرنا۔ الشیء۔ اٹھانا۔
 زمل۔ الشیء۔ چھپانا۔
 الشیء بتوبہ او فی توبہ۔ کپڑے میں لپیٹنا۔
 زمل۔ الرفیق۔ ساتھی کو محل کے ایک جانب سوار کرنا۔
 تزلزل و ازلزل و ازلزل۔ بتوبہ لپیٹنا۔
 الزمل۔ ردیف۔ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ بوجھ۔
 الزمل و الزملۃ و الازملة۔ بال بچے۔
 الزمل و الزمل و الزمیل و الزمیلۃ و الزمل و الزمال و الزمالۃ

فارسی کلمہ ہے۔ اس کے لیے التابض کا کلمہ وضع کیا گیا ہے۔
 الزنباعة۔ موزے یا جوتے کی ٹوک۔
 الزنبیقی۔ سفید سوس یا چھیلی۔ واحد۔
 الزنبقة۔ چھیلی کاتیل۔ پانسری۔
 ج۔ زنباق۔ ام زلیق۔ شراب۔
 الزنباق۔ ایک قسم کا پودا۔
 الزنبیل۔ پستہ قد آدمی۔
 تزنج۔ مفک کر چلنا۔ مغرور یا مہال چلنا۔
 الزنجرة۔ منگل۔ تنگ عالی۔
 زنجرس (دس) زنجاء۔ پیاس سے آنٹوں کا سکرنا۔
 زانجاء۔ اچھا یا برا بدل لینا۔
 تزنج۔ علیہ۔ دست دہازی کرنا۔
 الزنج و الزنج۔ جہنی۔ واحد (زنجی)۔
 ج۔ زنج۔
 الزنجبیل۔ خراب۔ سوئم۔
 زنجبر۔ اگے بٹھے کا ناخن۔ اٹھل کے ناخن سے لکھنا۔
 الزنجار۔ تانے کا زنگار۔
 الزنجیر و الزنجیرة۔ جوانوں کے ناخنوں کی سیفی۔ ناخن کا کٹا ہوا حصہ۔
 الزنجف و الزنجفرة۔ شکر۔
 زنجہ (دس) زنجاء۔ تعریف کرنا۔ دفع کرنا۔ معاملہ میں تنگی کرنا۔
 زانجاء۔ ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔
 زنج و تزنج۔ الماء پالی بار بار پینا۔
 و تزنج الرجل۔ کھل کر گفتگو کرنا، اپنے آپ کو مرتبہ سے زیادہ ظاہر کرنا، قرض یا کسی اور معاملہ میں تنگ کرنا۔
 زنج (دس) زنجاء۔ الدهن۔ متغیر ہونا۔ خواب ہونا۔ صفت۔ (زنج)۔
 زنج (دس) زنجاء۔ القراء۔

چیمڑی کا چمٹ جانا۔
 زانجاء۔ ایک دوسرے کو دفع کرنا۔
 تزنج۔ بکھر کرنا کھل کر بات چیت کرنا۔
 زنج۔ پھینچنا۔ نولے لینا۔
 زندان (دس) زنداء۔ الائناء۔ برتن بھرنا۔ الناس۔ چتاق سے آگ نکالنا۔
 زند (دس) الرجل۔ آدمی کا پیاسا ہونا۔
 زند۔ جھوٹ بولنا۔ چتاق سے آگ نکالنا۔
 السقاء۔ مشک بھرنا۔
 فی الامر۔ تنگ دل ہونا۔ علی اہلہ۔ اپنے اہل پر تنگی ڈالنا۔
 زند۔ الشیء۔ زیادہ ہونا۔
 الرجل فی رجوعہ۔ آدمی کا پھر لوٹ کر تیار ہونا۔
 تزند۔ غضبناک ہونا۔ جواب نہ دے سکتا۔ کہتے ہیں: سائتہ مسؤلہ تزند۔ میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکا۔ فی امر صکدا۔ تنگ دل ہونا۔
 الزند۔ ماتے کا گٹھا۔ چتاق کی اوپر کی کڑی۔ نیچے والے کو (الزند) کہتے ہیں اور ہر دو کو (الزندان) کہتے ہیں۔ ج۔ زناد و آزند و آزند۔ کہتے ہیں: فلان داری الزند۔ فلان کا بیاب و ہمارا ہے۔ فلان کا ہے الزند۔ فلان ناکام ہے۔ ہمما کزندان۔ وہ دونوں برابر ہیں، اور یہ حساست و دانت میں مساوات کے لیے بولا جاتا ہے اور بس۔
 المزند۔ تنگ، بخیل، کنجوس، متبنی۔ کم چھڑا کپڑا۔ عطاء۔ مزند۔

تھوڑی بخشش۔
 تزندق۔ بے دین ہونا۔ بد اعتقاد ہونا۔ صفت (زندیق)۔ ج۔ زنادیق و زنادیق۔
 الزندق۔ باطن میں کفر ظاہر میں ایمان۔ رجل زندق و زندقی۔ بہت کنجوس، کمی چوس۔
 زند (دس) زنداء۔ الائناء۔ برتن بھرنا۔ الغلام۔ لڑکے کو جینو پھنانا۔
 زندر۔ اہل پھینچنا۔ گھر کر دیکھنا۔
 تزندر۔ زنا پھینچنا۔ جینو پھینچنا۔ باندھنا۔
 الشیء۔ باریک ہونا۔
 الزنار۔ ج۔ زنائیر و الزنار۔ جینو۔ الزنائیر۔ چھوٹی نگریاں۔
 زلف (دس) زلفا و زلف۔ غضبناک ہونا۔
 زلق (دس) زلقا و زلق۔ الغرس۔ گھوڑے کے جڑے کے نیچے تسمہ لگانا۔ البغل۔ بخر کی ٹانگوں میں پائے بند باندھنا۔ د۔ و زلق و زلق۔ علی اولادہ۔ فقرا بخل کے باعث اولاد پر طرح میں کنجوسی کرنا۔
 الزلق۔ نیزے کی ٹوک۔ گھوڑے کا پھلا۔ جہاں تسمہ باندھتے ہیں۔ ج۔ زلق۔
 الزلق۔ تنگ کو چھ۔
 الزناق۔ رسی یا تسمہ جو گھوڑے کے پھلے جڑے کے نیچے باندھا جاتا ہے۔
 بخر کا پائے بند۔ گلوبند (ایک نیرود)۔ ج۔ زلق۔
 الزناق۔ گھوڑے کے جڑے کے نیچے کی رسی کا حلقہ یا کڑی۔
 الزینق۔ محکم مضبوط۔ رای زینق۔

صائب رائے۔

المزنونق۔ بند پیشاب والا۔

ذَنَمٌ۔ لہذا الخصم۔ مقابلہ کے لیے بھیجا۔

الزئمة۔ کان کا حصہ جو کاٹا جاتا ہے۔ اور لگتا رہتا ہے۔ حلق کے نیچے کا لگتا ہوا گوشت، نشان، علامت۔

الزئحة۔ من الجمال۔ یعنی الزئح۔

موت۔ زئماء۔ ج۔ زئم۔

الزئم۔ من الجمال۔ یعنی الزئم۔

موت۔ زئماء۔ ج۔ زئم۔

الزئام۔ مصیبت۔

الزئيم۔ ليم، كيم، منبولابيطا۔ (۔)

والمزئح۔ قوم میں آجائے والا

ابنی آدمی جس کی قوم محتاج ہو۔

ذئان، زئوا۔ تنگ ہونا۔ صفت

ذئی، ذئی تزئیة۔ علیہ۔

تنگی کرنا۔

ذئی رض، ذئی وزئاء و زئانی

مذائاة و زئاء۔ زئان کرنا۔

صفت (ذئان) ج۔ زئاة۔ صفت

موت (ذئان) ج۔ ذئان۔

ذئی۔ کسی کی طرف زئان نسبت

کرنا۔ کسی کو زئانی کہنا۔

أزئاء، إزئاء۔ زئان پر آسانا، بھارتا

الزئاءة۔ بہت زئانکار۔ بندریا۔

ذئ۔ واہ۔ خوب، بہت اچھا۔

زهد و زهد (س ف) و زهد

ذک، زهدا و زهدا۔ فی

الشیء و عنہ۔ بے رغبتی سے

کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اس سے ہے

”زهد فی الدنیا“ یعنی اس

نے دنیوی خواہشات کو ترک کر کے

اپنے کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔

صفت فاعل زاهد، صفت

مفعول (مزهوؤ) فیہ و عنہ۔

زهد زهدا۔ النخلۃ۔ درخت

خواب پر پھولوں کا اندازہ لگانا۔

زهدا۔ فی الشیء و عنہ۔ پرہیز

کرنا۔ رغبت ترک کرنا۔

تذهد۔ عبادت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا۔

تذاهد۔ القوم۔ فلاناً کسی کی

حقارت کرنا۔

إزهد۔ الشیء۔ محو خیال کرنا

حقیر شمار کرنا۔ کہتے ہیں۔ ”خذ

زهداً ما یکفیک“ بقصد

کفایت لو۔

الزهد و الزهادة۔ کسی شے سے

بے رغبتی، روگردانی۔

الزهد۔ زکوة۔ ج۔ زهاد۔

ارض زهاد۔ پانی جانے

وال زمیں۔

الزاهد۔ فا۔ آخرت کی محبت میں

تارک دنیا۔ تنگ خو۔ ج۔ زهد

وزهاد و زاهدون۔

الزهد۔ کم۔ حقیر موت۔ زهدا

”هو زهد العین“ وہ قانع

ہے۔ وہ تھوڑے پرہیز کرتا ہے۔

ج۔ زهدان۔

الزهد۔ بہت بے رغبتی کرنے والا۔

المزهد۔ کم مال والا۔

زهد (س ف) زهورا۔ السراج

أو القنور أو الوجہ۔ چراغ یا

چاندیا چہرے کا چکنا۔ روشن ہونا۔

الشیء۔ صاف رنگ ہونا۔

الزئد۔ چمقنا سے آگ نکلنا۔

کہتے ہیں ”ذہوت بک و نادی

او ناری“ تمھاری وجہ سے مجھ کو

قوت و عزت نصیب ہوئی۔

زهد (س) زهدا و زهدون،

زهورۃ۔ الرجل۔ حسین و

بارونق ہونا۔

أزهر۔ النبات۔ پودہ کا شکوفہ دار

ہونا۔ الناس۔ آگ جلانا۔

إزهد۔ روشن ہونا۔ چکنا۔

بالامر۔ حفاظت کرنا۔ دل میں رکنا

إزهد و إزهار۔ النبات۔ پودہ

کا شکوفہ نکالنا۔ کلی کرنا۔

تأهد۔ السراج و نحوہ۔ چراغ

وغیرہ کا چکنا۔ روشن ہونا۔

الزهد و الزهر۔ کلی شکوفہ۔ واحد

(زهرۃ و زهرۃ)

زهرۃ الدنیا دنیا کی رونق و خوبی۔

دنیا کی ظاہری ٹیم ٹام۔ ج۔ أزهر

و أزهار و زهور۔ وجہ

أزهر و أزهیر۔ زهر

النور۔ تاش رکلمہ موکہ)

الزهد و الزهرۃ۔ حاجت مند

الزهر۔ ماہ قمری کی پہلی تین راتیں۔

الزهرۃ۔ خوبصورتی، حس و جمال۔

الزهرۃ۔ ایک سیاہ ستارہ۔

الزهر۔ فا۔ خوشنما پودہ۔ چک دار

رنگ والا۔ أهد زاهیر۔ گرا

سرخ۔

الزهریۃ۔ نازکی چال۔

الأزهر۔ روشن، صاف رنگ والا۔

چکے چہرہ والا۔ چاند۔ جنگلی پیل موتی

زهداؤ۔ ج۔ زهد

الأزهران۔ سورج و چاند۔

الزهار۔ بہت چکنا۔

المزهر۔ ساری۔ ج۔ مزاهر

المزهر۔ فا۔ مہان کے لیے آگ

جلانے والا۔ مہان نواز۔

زهرۃ۔ الشیء۔ کھوٹا بنانا۔

زهنق۔ الرجل۔ بہت ہنسنا۔

زَهَقَتْ الْأُمُّ وَلَدَهَا۔ ماں کا بچہ کو اچھالنا۔ کدانا۔
 الزَّهْقُ۔ لٹیر کینہ۔
 زَهَفَ (ف) زَهْوَقًا۔ الرَّجُلُ۔ ذیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ جھوٹ بولنا۔
 الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْمَوْتِ۔ قریب المرگ ہونا۔
 زَهِفَ (س) زَهْفًا۔ لِلشَّيْءِ۔ جلدی کرنا۔ چستی کرنا۔
 أَزْهَفَ۔ إِلَيْهِ الطَّعْنَةُ۔ قریب کرنا۔ أَزْهَقْتُ الطَّعْنَةَ مَوْتِ كَيْ قَرِيبٍ بِهِنَا دِينًا۔ أَزْهَفَ عَلَيَّ الْجَرِيحُ۔ حملہ کر کے زخمی کا کام تمام کر دینا۔ الرَّجُلُ۔ جھوٹ بولنا۔ خیانت کرنا۔ چغلی کھانا۔
 شَرِكِي طَرَفٍ جَلَدِي كَرْنَا۔ خَلَاْنَا۔ ذیل کرنا۔ کسی کے ساتھ برائی کرنا۔
 هَلَاكُ كَرْنَا۔ الشَّيْءُ۔ ڈھیلا کرنا۔ جلدی کرنا۔ لے جانا۔ خراب کرنا۔
 - عَ بِالشَّيْءِ۔ برائی پر ورغلانا۔
 - بِمَا طَلَبْتَهُ۔ پورا کرنا۔
 بِالشَّيْءِ۔ تعجب کرنا۔ الْخَبْرُ۔ خبر میں زیادتی کرنا۔ لَهُ حَدِيثًا۔ جھوٹ کتنا۔ إِلَيْهِ حَدِيثًا۔ کسی کی طرف ردی بات کی نسبت کرنا۔
 لَانْزَهَفْتُ۔ الدَّابَّةُ۔ ماروغیرہ کی وجہ سے کودنا۔
 تَزَهَفْتُ۔ عَنهُ۔ اعراض کرنا۔
 اَزْهَفْتُ۔ إِلَى الْمَوْتِ۔ موت کے قریب ہونا۔ عَنهُ اعراض کرنا۔
 الشَّيْءِ۔ مائل ہونا۔ انحراف کرنا۔ جلدی کرنا۔ ہلاک کرنا۔ عَ الدَّابَّةُ۔ جانور کا کسی کو گرا دینا۔
 الشَّيْءِ وَيَدَهُ۔ لے جانا۔ الْعَدَاوَةُ وَيَهْمًا۔ دشمنی اختیار

کرنا۔ الْحَمْلُ۔ بوجھ اٹھانا۔
 - خَلَاْنَا۔ شر میں پڑنا۔ کلام میں زیادتی کرنا۔ فِي كَلَامِهِ۔ سختی کرنا۔ آواز اونچی کرنا۔
 زَهَقَ (ف) زَهْوَقًا۔ الْعَظْمُ۔ ہڈی کا گوڑے دار ہونا۔
 باطل کا مٹنا۔ زَهَقًا وَزَهْوَقًا النَّفْسُ۔ روح کا جسم سے خارج ہونا۔ الرَّاحِلَةُ۔ سواری کا آگے بڑھنا۔ سبقت کرنا۔ الشَّيْءُ۔ باطل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ السَّهْمُ۔ تیر کا نشانہ سے گذر جانا۔
 أَزْهَقَ۔ الْعَظْمُ۔ ہڈی کا مغز سے پڑ ہونا۔ الْإِنَاءُ۔ برتن بھرننا۔
 - الْبَاطِلُ۔ باطل کو مٹا ڈالنا۔ السَّهْمُ۔ تیر کا نشانہ سے آگے گذارنا۔ النَّاقَةُ السَّرِيحُ۔ اونٹنی کا زین کو آگے سرکا کر گردن پر ڈال لینا۔ فِي السَّيْرِ۔ چلنے میں جلدی کرنا۔
 زَاهَقَ۔ الْحَقُّ الْبَاطِلُ حَقًّا كَ باطل کو نیست و نابود کر دینا۔ الْإِنَاءُ۔ برتن الٹ دینا۔
 لَانْزَهَقَ۔ آگے بڑھنا۔ لَانْزَهَقْتُ الدَّابَّةُ۔ ماروغیرہ کی وجہ سے جانور کا اچھلنا، کودنا۔
 الزَّهْقُ۔ پست زمین (وَالزَّاهِقُ) گڑھا۔
 الزَّاهِقُ۔ فَا۔ موٹا فرہ جانور۔ بہت لاغر و بلا جانور (مَدْرُ) شکست خوردہ۔ مِّنَ السِّهَامِ۔ تیر کا نشانہ سے گذر کر اس کے پیچھے کرنا۔
 - مِّنَ الْمِيَاهِ۔ تیز بہنے والا پانی۔ ج۔ زَهَقٌ وَزَهْقٌ۔ د۔ وَالزَّهْوَقُ) ہلاک ہونے والا۔

باطل، گمراہ کنواں۔ الزَّهْقُ۔ پھرتیلا۔
 الزَّاهِقَةُ۔ الزَّاهِقُ۔ کاموٹ۔ يَسْرُ زَاهِقَةً۔ گمراہ کنواں۔
 الزَّهَاقُ وَالزَّهَاقُ۔ مقدار۔ تقریباً "عِنْدِي زَهَاقٌ مِائَةٌ دِينَارًا" میرے پاس تقریباً سو دینار ہیں۔
 الْأُذْهُوقَةُ۔ تیزی میں تعجب انگیز۔ ج۔ أَزَادِيْقُ۔
 الْمُذْهَقَةُ۔ بطلان و ہلاکت کا سبب۔
 زَهَلَ (ف) زَهْلًا۔ عَنِ الشَّيْءِ۔ دور ہونا۔
 زَهَلَ (س) زَهْلًا۔ الشَّيْءُ۔ سفید و چکنا ہونا۔
 الزَّاهِلُ۔ مطمئن دل والا۔ الزُّهْلُولُ۔ چکنا۔ ج۔ زَهَالِيلُ۔
 زَهَلَقَ۔ الشَّيْءُ۔ چکنا و سفید کرنا۔
 کہتے ہیں: "زَخَلَقَ لَهُ الْحَدِيثُ" اس نے اس کو نرم گنت گو سے محاط کیا۔
 الزَّهْلَقُ۔ چکنا۔ تیز، ہلکا پھلکا آدمی۔
 تَنَدَّ هَوًا۔ تہی میں ٹو کی جگہ۔ ج۔ زَهَالِقُ۔
 الزُّهْلُوقُ۔ موٹا۔ فرہ۔ زَهْمٌ رَنٌ) نَهْمًا وَأَزْهَمَ۔ الْعَظْمُ۔ ہڈی کا گوڑے سے بھرا ہونا۔
 زَهَمَهُ۔ عَن كَذَا۔ روکنا۔ باز رکھنا۔
 زَهَمَ۔ الرَّجُلُ۔ کسی سے بہت باتیں کہنا۔
 زَهَمَ (س) زَهْمًا۔ بدبھنی میں مبتلا ہونا۔ صفت (زَهْمَانٌ) بہت چکنا۔ چربی دار ہونا۔ صفت (زَهْمٌ) موٹ (زَهْمَةٌ)۔

ذَاهِمَةٌ - آپس میں دشمن رکھنا۔ ایک دوسرے سے ہدا ہونا۔ نزدیک ہونا۔
 (ضد) الزُهْمَةُ - بدبو، مٹیند۔ چربی۔ ایک قسم کی خوشبو۔
 الزُهْمَةُ وَالزُّهُومَةُ وَالزُّهْمُ - مٹے ہوئے گوشت کی بدبو۔
 زَهَادٌ (زُهَوًا وَزُهْوًا وَزُهَاءً) - چمکنا۔ روشن ہونا۔ بڑھنا۔ نمایاں۔
 - النَّخْلُ - کھجور کا دراز ہونا۔
 البُسْرُ - کچی کھجور کا رنگ پکڑنا۔
 - الغَلَامُ - لڑکے کا جوان ہونا۔
 النَّبَاتُ - نبات کا پھل دار ہونا۔
 الشَّاةُ - بکری کا جننے کے قریب پہنچنا۔
 الیویج - ہوا کا چلنا۔
 الرَّجُلُ - کسی کا جھوٹ بولنا۔
 التَّكْبُرُ - جھوٹ بولنا۔
 زَهَادٌ زُهَوًا - فُلَانًا - حقیر و خفیف جاننا۔ سمجھنا۔
 الْكِبْرُ - فُلَانًا - تکبر کا کسی کو خود پسند بنانا۔
 زَهَا السِّرَاجُ - چراغ روشن کرنا۔
 الیویجُ النَّبَاتُ - ترسبزہ کا ہوا کی وجہ سے لہلہانا۔
 الْأَمْوَاجُ السَّفِينَةُ - مروجوں کا کشتی کو اٹھانا۔
 فُلَانٌ - بالسَّيْفِ - تلوار کا چمکانا۔
 هَلَانًا - فُلَانًا بِالْعَصَا - لاکھی سے مارنا۔
 السَّرَابُ الْأَكْمَةُ يَزْهَاهَا - نمایاں کرنا، اور یزْهُوهُ - نہیں کہا جاتا۔
 زُهِيٌّ - الرَّجُلُ يَكْدَا - تکبر کرنا۔
 آزُهِيٌّ - تکبر کرنا۔
 النَّخْلُ لِمَا هُوَ - بونا۔
 البُسْرُ - رنگ پکڑنا۔
 زُهِيٌّ - البُسْرُ - رنگ پکڑنا۔
 زَهَتْ الْمَرْوَجَةُ الیویج - پکے

کا ہوا کو بلانا۔ جنبش دینا۔
 إِزْدَاهِيٌّ - الرَّجُلُ - مغرور بنانا۔
 حَقَارَتٌ - دیکھنا۔
 عَلَيَّ - الْأَمِيرُ - مجبور کرنا۔
 وَوَلِيَهُ حَقَارَتٌ - کرنا۔
 الزُّهَاءُ - مقدار۔ اندازہ۔ تقریباً۔
 زُهَاءٌ مِائَةً - تقریباً سو۔
 الزُّهُوُّ - فخر، زور و تکبر۔ باطل و جھوٹ۔
 عِلْمٌ، تَرَوَاتُزٌ، بِنَاتٌ - سرخی مائل کھجور۔
 (وَالزُّهَاءُ) تَرَوَاتُزٌ - خوبصورتی۔
 زُهَاءٌ الدُّنْيَا - دنیا کی زینت و نشان و شوکت۔
 الزُّهُوُّ - سرخی مائل کھجور۔
 الزَّاهِيٌّ - فَا - چمکانا، پر رونق چہرے والا۔
 مُرْتَفِعٌ - الْمُزَوَّيْهِ - الْمُزْهُوُّ - متکبر، مغرور۔
 زَاءٌ يَزُوُّ زَوْجًا - بہ الدہا زمانہ کا پلٹ جانا۔
 زَابٌ يَزُوُّ سَتْرًا وَبَا - چمکے سے بھاگ جانا۔
 الْمَاءُ - پانی کا بہنا۔
 زَابِرٌ زَوْجًا - بَيْنَهُمْ بَطْرًا كَانَا فساد ڈالنا۔
 زَوَّجَهُ - امْرَأَةً أَوْ بِامْرَأَةٍ أَوْ لِامْرَأَةٍ - کسی کا نکاح کرنا۔
 الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ وَالْيَدُ - طَانًا۔
 زَاوَجَهُ - ایک دوسرے سے میل جول رکھنا۔
 ایک دوسرے کے قریب ہونا۔
 (وَأَزْوَجَ) بَيْنَهُمَا - قریب کرنا۔
 تَزَوَّجَ - امْرَأَةً أَوْ بِامْرَأَةٍ نِكَاحٌ - کرنا۔
 فِي قَوْمٍ - کسی قوم میں نکاح کرنا۔
 تَزَوَّجَهُ النُّومُ - اس کو نیند آگئی۔
 إِزْدَوَّجَ وَتَزَاوَجَ - الكلامُ - ایک

حصہ کا دوسرے حصے سے جمع یا وزن میں مشابہ ہونا۔
 القوم - آپس میں شادی بیاہ کا برتاؤ کرنا۔
 الذَّاجِرُ - پھٹکڑی (فارسی کلمہ ہے)۔
 الزَّوْجُ - خاوند۔ بیوی۔ ساتھی، جوڑا۔
 اسْتَشْرَيْتُ زَوْجِي نِعَالًا - میں نے جوتی کا جوڑا خریدا۔
 ہر شے کی قسم۔
 ج۔
 أَرْوَجُ وَزَوْجَةٌ وَجِبْ أَرْوِجُ۔
 الزَّوْجَةُ - بیوی۔
 ج۔
 الزَّوْجُ - شادی بیاہ۔
 زَاخٌ يَزُوخُ زَوْجًا وَزَوْجًا - عَنِ الْمَكَانِ - دور ہونا۔
 ہٹ جانا۔
 حَلَا جَانًا - الْعِلَّةُ زَائِلٌ ہونا۔
 زَوْجًا - اَكْلًا - منتشر کرنا، اکٹھا کرنا (ضد)۔
 أَرْأَحَهُ - جگہ سے دور کرنا۔
 ہٹانا۔
 الْأَمْرُ - کام کا پورا کرنا۔
 کہتے ہیں أَرْحَتْ عِلَّتَهُ فِي مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ - میں نے اس کی حاجت روائی کی۔
 إِزْدَاخَ - زَائِلٌ ہونا۔
 زَادَ يَزُوذُ زَوْدًا - توشہ لینا۔
 سفر خرچ مہیا کرنا۔
 أَرْأَدَهُ وَزَوَّدَ توشہ دینا۔
 سفر خرچ دینا۔
 إِزْدَادًا وَاسْتِزَادًا - الرَّجُلُ تَوَشَّهَ مَالًا۔
 تَزَوَّدَ - توشہ لینا۔
 کہتے ہیں تَزَوَّدَ مِنَ الْأَمْرِ كَمَا بَأَى عَامِلِهِ - امیر کی جانب سے ایک خط اس کے عامل کے پاس لے گیا۔
 تَزَوَّدَ مَتِي طَعْنَةً بَيْنَ أَذْنَيْهِ - اس نے اپنے دونوں کانوں کے درمیان مجھ سے نیزہ کا زخم کھایا۔
 الزَّادُ - زاوراہ۔ توشہ، ذخیرہ۔

ج۔ اَزْوَدَةٌ وَاذْوَادٌ۔

الْمَزْوَدُ وَالْمَزَادُ وَالْمَزَادَةُ۔ توشہ

وان۔ ج۔ مَزَاوِدٌ۔ عادت۔

نَفَاضَةُ الْمَزَاوِدِ۔ توشہ وان میں

بچے کچے ریزے، ٹکڑے جن کو مسافر آ

کر بھاڑ دیتا ہے۔ یہ خشک کے لیے

مضبوث ہے۔

زَارَةً يَزْفِدُهُ زِيَادَةٌ وَمَزَارًا وَزَوْرًا

وَزَوْرًا وَزَوَارَةً وَزَوَارَةً۔

ملاقات کرنے کے لیے لے جانا۔ صفت

رَدَائِيں ج۔ زَائِيُونَ وَزَوْرٌ وَ

زَوَارٌ۔ مؤنث زَائِيَةٌ۔ ج۔ زَوْرٌ

وَزَوْرٌ وَزَائِيَاتٌ۔

زَارِ زَوَارًا۔ الْفَرَسُ۔ گھوڑے کو زیار

سے باندھنا۔

زَوْرٌ يَزْوَرُ۔ زَوَاسًا۔ مائل ہونا۔

ٹپڑے سینہ والا ہونا۔

زَوْرٌ۔ جھوٹ کو مزین کرنا۔ آراستہ کرنا۔

الْكَلَامُ۔ باطل کرنا۔ جھوٹ کی

طرف منسوب کرنا۔ الشَّهَادَةُ

گواہی کو باطل کرنا۔ نَفْسُهُ۔ جھوٹ

وہبتان کی علامت لگانا۔ عَلَيْهِ

کسی پر جھوٹ باندھنا۔ عِنْدُ۔ کسی

سے پھینا۔ فَكَلْنَا عَلَى نَفْسِهِ۔

کسی پر تممت باندھنا۔ الشَّيْءُ۔ کسی

کو اچھا کرنا۔ وَرَسْتُ وَطَيْبُكَ كَرْنَا۔

الشَّيْءُ لِنَفْسِهِ۔ کسی شے کو اچھا سمجھ

کر اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ الزَّائِدُ

ملاقات کی عزت کرنا۔ الْقَوْمُ

صَاحِبَتَهُمْ۔ بھلائی کرنا۔ نیک سلوک

سے پیش آنا۔

آذَانُهُ۔ ملاقات کے لیے اکسانا۔ هُ

الشَّيْءُ۔ چلانا۔

تَزْوَسَ۔ جھوٹ برلنا۔ الشَّيْءُ۔ کسی

چیز کو پسند کر کے اپنے لیے خاص کر لینا۔

تَزَاوَدَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کی

ملاقات کو جاننا اور اَزْوَرًا وَزَوَارًا،

عَشَّةٌ۔ علیحدہ ہونا۔ منحرف ہونا۔

اسْتَزَارَتْ۔ ملاقات کے لیے کہنا۔

الزَّوْسُ۔ سینہ کا درمیان سے بالائی حصہ۔ یا

سینہ کی پڈیوں کے جوڑ کی جگہ۔ وَفَرَسٌ

عَرِيضٌ الزَّوْرُ۔ چوڑے سینہ والا

گھوڑا۔ أَلْقَى زَوْرَهُ۔ اقامت کرنا۔

الزَّوْرُ۔ پختہ ارادہ، عقل، وہ خیالی شکل جو

خواب میں نظر آئے۔ زیارت کرنے والا۔

رواحد، تشنیہ، جمع، مذکر و مؤنث سب

کے لیے یکساں ہے، سردار۔ رُئِيسُ۔

الزَّوْسُ۔ عقل، جھوٹ، باطل، اللہ کے ساتھ

شریک ٹھہرانا۔ قوت۔ رُلْنِي۔ سردار،

رُئِيسُ، کھانے کا مزہ۔ کپڑے کی طائنت و

صفا، ناگ گانے کی مجلس۔

الزَّوْرُ۔ کچی، سینہ کے اوپری حصہ کی

خمیدگی۔

الزَّيْرُ۔ مٹکا، کتان۔ ایک ٹکڑا (زَيْرَةٌ)

باریک تانت، عادت۔ بغیر نیت بد عورتوں

سے بات چیت کرنے کا دلدادہ۔ ج۔

أَزْوَارٌ وَأَزْيَارٌ وَزَيْرَةٌ

الزَّيْرِيَّةُ۔ دو لڑکیاں جن سے سالوتری گھوڑے

کے ہونٹوں کو دبا کر گھوڑے کو قابو میں لاتا

ہے اور اپنے کام پر قادر ہوتا ہے۔

وَالزَّوَارُ، ہر اصلاح اور بچاؤ کی

چیز، سینہ بند اور تنگ کے درمیان کی

رسی۔ ج۔ أَزْوَرَةٌ

الزَّيْرُ۔ خضب ناگ۔

الزَّائِعَةُ۔ اونٹوں کا ریڑ، بانس وغیرہ کی

پانی رکھنے والی جھاڑی۔ وَالزَّوَارِدَةُ

وَالزَّوَادَةُ وَالزَّادُودَةُ، پوٹا۔

زَاوِدَةُ الْقَطَاةِ۔ بھٹ تیر کا وہ

حصہ جس میں وہ پانی اپنے بچوں کے لیے

لے جائے۔

الزَّوْرُ۔ سمنہ، نثار۔ سمنہ سفروں کے لیے

تیار کیا ہوا اونٹ۔ وَالزَّوَيْدُ

الزَّوَيْدُ، قوم کا سردار و رئیس۔

الزَّوْرَةُ۔ ایک ملاقات۔ دوری

الزَّوْرُ۔ ٹپڑے سینہ والا۔ بیک سے پتلے

سینہ والا۔ مائل، تر چھی نظر سے دیکھنے والا۔

مؤنث زَوْرَاءُ۔ ج۔ زَوْرٌ کتھے ہیں

”قَوْمٌ عَنِ مَوَاقِفِ الْحَقِّ زَوْرٌ“

حق کے موقعوں سے منحرف قوم۔

الزَّوْرَاءُ۔ گہرائیوں، کمان، پیالہ، چاندی کا

برتن۔ شہر بغداد۔ فَسْلَةٌ زَوْرَاءُ

دور کا جنگل۔ كَلِمَةُ زَوْرَاءُ۔ پوچ

اور پھر بات۔ مَنَارَةٌ زَوْرَاءُ۔

کچ منارہ۔

الزَّوَارُ وَالزَّوْسُ۔ بہت زیارت

کرنے والا۔

الْمَزَارُ۔ زیارت۔ ملاقات، زیارت کی

جگہ۔ ج۔ مَزَارَاتٌ۔ اولیاء کی

زیارت گاہیں۔

الزَّوْرُقُ۔ چھوٹی کشتی، ڈونگا۔

الزَّوْسُ۔ کینہ، غلام۔ الْأَزْوَشُ۔ متکبر۔

زَوْرٌ۔ بڑا القہ بنانا۔

زَاعَ يَزْوَعُ زَوْعًا۔ فُلَانًا۔ روکنا۔

آگے دھکیں۔ الدَّابَّةُ۔ جانور کی لگام

کو ہلا کر اس کو تیز چلانا۔ الشَّيْءُ۔

موڑنا۔ لِهْ مِنَ الْبَطِيخَةِ۔ کسی

کے لیے خریدنے کی ایک قاش تراشنا۔

ر۔ وَتَزْوَعُ، اللَّحْمُ۔ گوشت

کا بٹھے سے اتر جانا۔

زَوْعٌ۔ الْإِبِلُ۔ اونٹوں کو منتشر کرنا۔ پراگندہ

کرنا۔

الزَّوْعَةُ۔ لوگوں کا ایک گروہ۔ مِنَ

الْبَطِيخَةِ وَنَحْوَهَا۔ خریدنے وغیرہ کی

قاش یا پھانک۔ مِنَ التَّنْبَتِ۔

گھاس کا خفک ہونے والا قطعہ۔ ج۔ زَوْعٌ

المزولة: و صوب گھری۔ ج۔ مزاول۔
 ذام یزوم ذوما۔ منا۔
 الزام۔ چوتھائی۔ زام من النهار
 دن کا چوتھائی۔ وزامان من النهار۔
 دن کا نصف۔
 الزامة۔ جماعت، گروہ۔ ج۔ زامات۔
 الزوم۔ عوام کے نزدیک کسی چیز کا پھڑا ہوا
 عرق یا شیرہ۔ اس معنی کے لیے فصیح لفظ ہے
 المشغ ہے، وہ پانی جس کی طرف دھرایا جا، اس کیلئے بھی صحیح لفظ ہے۔
 الزویم۔ ڈھیر، ہر جمع شدہ شے۔
 زومل۔ الیل۔ اونٹوں کو بلکنا۔
 الزوملة۔ مص۔ لہے ہوئے گدھے۔
 کہتے ہیں: "هو ابن زوملتها" وہ
 اس کا جانتے والا ہے۔
 الزان۔ بد معنی۔
 الزون والزون والزون۔ بت یا
 مندر۔
 الزونة۔ زینت، عقل مند عورت۔
 زوی یزوی زویا وزیاء۔ المشی۔
 ایک طرف کرنا، بٹانا۔ روکنا۔ جمع کرنا
 قبضہ کرنا۔ المال۔ مال وغیرہ اکٹھا کرنا
 عنہ السیر۔ راز پوشیدہ رکھنا۔
 چھپانا۔ عنہ حطة۔ کسی کا حق
 روک لینا۔ الذہر القوم۔ زمانے
 کا قوم کو بربادی کے گھاٹ اتارنا۔
 زوی و تزوی و تزوی۔ گوشہ نشین
 ہونا۔ تزوی و تزوی۔ سکونا
 منقبض ہونا۔ زوی الکلام۔ کلام کو
 دل میں سوچنا۔ انزل القوم
 بعضهم الى بعض۔ قوم کا یکجا
 ہونا۔ سٹھا، باہم نزدیک ہونا۔
 الزاویة۔ گھر کا کونہ۔ ج۔ شوا یا۔
 بڑھیوں کی اصطلاح میں دو مستقیم ضلعوں
 کا ایک آرجن کے میلان پر زاویہ قائمہ
 پیدا ہوتا ہے۔

زولاً، حرکت کرنا۔ فلان یزول
 فی الناس۔ فلاں لوگوں میں بہت
 گھومتا پھرتا ہے۔
 زالت دن، ذوالاد و ذوالاولانا
 و ذوالا۔ الشمس۔ سورج کا
 ڈھلنا۔ الخیل یرکبا ینھا۔
 گھوڑوں کا اپنے سواروں کو لے کر اٹھانا۔
 اور اسی سے ہے: "زیل ینعشہ"
 اس کی نعش اٹھائی گئی۔ زال زائل
 الظل۔ دوپہر ہوگئی۔ زال او
 زیل زویلہ و زوالہ۔ پہلو کا
 ڈر سے کانپنا۔
 آزالہ و زوالہ و ازالہ۔ بٹانا۔ ایک
 طرف کرنا۔ آزال اللہ زوالہ۔
 خدا اس کو ہلاک کرے۔ زول الشی۔
 کسی چیز کو لانا۔
 زاولة۔ کوشش کرنا۔ قصد کرنا۔ تلاش کرنا۔
 تزاول۔ الشی۔ کسی شے کو لانا۔ الغلام
 بہت ظریف ہونا۔
 تزاول۔ القوم۔ باہم کوشش کرنا۔
 انزال۔ عنہ۔ جدا ہونا۔
 ازول ازولاً۔ الشی۔ زائل ہونا۔
 الزول۔ مص۔ تعجب، عجیب۔ سیر
 زول۔ عجیب سیر۔ شتوہ
 زولة۔ عجیب سردی۔ الزول
 وجود، فیاض، سخی، مہربانک و خوش طبع،
 بہادر۔ بلا۔ ج۔ انزال۔
 الزوال۔ مص۔ سورج کا سر پر سے ڈھلنا۔
 الزائل۔ فا۔ لیل زائل النجوم۔
 لمبی رات۔
 الزوال۔ بہت حرکت کرنے والا۔
 الزائیل۔ الزائل کامونٹ۔ زندہ چیز
 متحرک چیز۔ ج۔ زوائل۔ الزوائل
 ستارے، عورتیں، شکار۔
 الزویل۔ حرکت، جانب۔

الزاعة۔ پولیس کے آدمی۔
 الزوع والزوع۔ کڑی۔
 زاع یزوع ذوعاً۔ المشی۔ جھکانا
 الناقة۔ اونٹنی کو ٹیکل سے کھینچنا۔
 (ذوعاً و ذوعاً، مائل ہونا، ظلم
 کرنا۔ البصر۔ نگاہ میں خلل آنا۔
 ازاغہ ازاغہ۔ جھکانا۔
 الزاع۔ کوز۔
 زافت تزوف و نواف۔ الحمامة۔ کبوتر
 کا بازو دم پھیلا کر زمین پر کھینچنا۔
 الطائر فی الہوا پندہ کا ہوا میں
 پکر کاٹنا۔ الرجل۔ کسی کا ڈھیلے
 اعضاء کر کے چلنا۔ الماء۔ پانی کا
 بلبلے دار ہونا۔ د و تزواف، اعضاء
 میں جستی پیدا کرنے کے لیے جسمانی
 درزش کرنا۔
 الزوف چلنے میں ڈھیلے ہیں۔
 الزوفی و الزوفاء۔ باریک پتے والی
 ایک نبات۔
 ذوق۔ الکلام۔ کلام کو اچھا پسندیدہ
 اور مزین بنانا۔ البیت۔ گھر پر
 نقش و نگار کرنا۔ الیذہم۔ درہم
 پر پارہ کا طبع کرنا۔
 الزواق۔ لونڈی کی زینت۔
 الزوقہ۔ وہ جو گھروں کو زینت دیں اور
 نقش و نگار سے آراستہ کریں۔
 الزاوق و الزووق۔ پارہ۔
 ذاک یزوک ذوکا و ذوکانا۔ خاتون
 کو حرکت دینا اور ٹانگوں کو نیچے سے کھولنا۔
 مغروانہ چال سے چلنا۔
 تذاوک تزاوکا۔ شرم و حیا کرنا۔
 الزوک۔ مص۔ کوسے کی چال۔
 نال یزول ذولاً و ذوالاً و ذولاناً و
 ذولاً و ذولاً و ذولاً۔ جاتا
 رہنا۔ پھر جانا۔ الگ ہونا۔ ہلاک ہونا۔

تَزَيَّبَ - لَحْمُهُ - گوشت کا اکٹھا ہونا۔
 الزَّبَّ - ہوا کی تیزی۔ رَجُلٌ زَبٌّ و
 اَزْبٌ - مضبوط آدمی۔
 الأَزْبُ - شاہوں۔ پسند قد۔ چھوٹے
 چھوٹے قدم رکھنے والا۔ کینہ منہ بولا بیٹا۔
 اجنبی، ناپسندیدہ امر۔ مصیبت، دشمنی
 بہت پانی۔ خوشی، سبھی، جنوبی ہوا۔
 الإزْبُ - شدید، بخیل۔
 الزَّبُّ - پارہ۔
 زَاتٌ يَزِيْتُ زَيْتًا وَزَيْتٌ - الطَّعَامُ
 کھانے میں زیتون کا تیل ڈالنا۔ الشَّيْءُ
 کسی چیز پر تیل لگانا۔ القَوْمُ - قوم
 کو زیتون کا تیل کھلانا یا بطور توشہ دینا۔
 اَزَاتٌ اِزَاتَةٌ - بہت تیل والا ہونا۔
 اِنْدَاتٌ اِنْدِيَاتٌ - روغن زیتون ملنا۔
 اِسْتَنْزَاتٌ - روغن زیتون مانگنا۔
 الزَّيْتُ - ۵۔ زیتون کا تیل۔ ج۔
 زَيْوَةٌ (الزَّيَّاتُ) تیلی۔ تیل کا
 بیچنے والا۔ زیت کا اطلاق ہر تیل پر بھی
 ہوتا ہے۔ خواہ کسی چیز سے نکالا جائے۔
 الزَّيْتُونُ - زیتون کا درخت۔ زیتون کا پھل
 واحد زَيْتُونَةٌ
 الزَّيْتُونِيُّ - زیتون کے رنگ کا۔
 الْمَزِيَّتُ وَالْمَزِيوْتُ - جس میں تیل
 ڈالا گیا ہو۔
 الزَّيْبُجُ - معاروں کا دھاگا جس سے وہ دیوار
 کو بابر کرتے ہیں۔ علم ہیئت میں اس
 جدول کا نام ہے جس سے سیاروں کی
 حرکات کا پتہ لگاتے ہیں۔ ج۔ زَيْجَاتُ
 وَزَيْجَةٌ (دخیل کلمہ ہے)
 نَاحٌ يَزِيحُ زَيْحًا وَزَيْوَحًا وَ
 زَيْوَحًا وَزَيْحَانًا وَانْزَاخٌ -
 دور ہونا۔ چلے جانا۔ نَاحٌ اِلَيْسَامٌ -
 نقاب کھولنا۔ دور کرنا۔
 اَنَاحَهُ - دور کرنا۔ لے جانا۔

المزاح - غلط کی جگہ، تنہائی کی جگہ۔
 نَاحٌ يَزِيحُ زَيْحًا وَزَيْحَانًا - ظلم کرنا
 نا انصافی کرنا۔ الگ ہونا۔
 اَنَاحَهُ - ہٹانا۔ الگ ہونا۔
 تَزَيَّحَ - ذلیل ہونا۔
 زَادٌ - يَزِيدُ زَيْدًا اَوْ زَيْدًا اَوْ زِيَادَةً
 وَمَزِيدًا اَوْ زَيْدًا اَنَا - بڑھنا۔ زیادہ
 ہونا۔ الشَّيْءُ - بڑھانا۔ فُلَانٌ
 زیادہ دینا۔
 زَيْدَةٌ - بڑھانا۔
 زَايِدَةٌ فَزَادَةٌ - بڑھنے میں مقابلہ کرنا
 اور غالب آنا۔
 تَزَيَّدَ - السَّعْرُ - بھاؤ کا بڑھنا۔ اونچا
 ہونا۔ نَرخٌ كَاغْرَانٌ ہونا۔ الرَّجُلُ
 فِي حَدِيثِهِ - بات کو بڑھا کر بیان
 کرنا۔ فِي الشَّيْءِ - بڑھانے میں
 تکلف کرنا۔
 تَزَايَدَ - فِي حَدِيثِهِ - بات میں مبالغہ
 کرنا۔ تَزَايَدُوْا فِي السِّلْعَةِ - ایک
 دوسرے سے بڑھ کر بولی بولنا
 لَزْدَادٌ - زیادہ ہونا یا کرنا۔ زیادہ مانگنا۔
 (لازم و متعدی)
 اِسْتَزَادَ - زیادتی چاہنا۔ قاصر سمجھنا اور
 شکایت کرنا۔
 الزَّايِدُ - فَا - مُؤنثٌ - تَزَايِدَةٌ - ج۔
 زَوَائِدُ - الزَّوَائِدُ مِنَ الْاَسْنَانِ -
 کچلیوں کے قریب کے دانت۔
 الزِّيَادَةُ - مَعْنَى - بڑھائی ہوئی چیز۔ ج۔
 زِيَادَاتٌ وَزِيَايِدٌ -
 الزَّيْدُ وَالزَّيْدُ - زیادتی۔ بڑھاؤ، کتے
 ہیں: هُوَ زَيْدٌ عَلَى مَائَةٍ - وہ
 سو سے زائد ہیں۔
 الْمَزِيْدُ - مَعْنَى وَمَفْعٌ - کتے ہیں۔ - لَا
 مَزِيْدَ عَلَى هَذَا الْاَمْرِ - یعنی اس
 امر پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔

المَزَادَةُ - توشہ دان۔ چمڑے کے ٹکڑوں سے
 بنی رکھنے کے لیے تیار کردہ تھیلہ یا
 ڈوپٹی۔ ج۔ مَزَادٌ وَ مَزَايِدٌ -
 الِيزِيوُ - ایک قسم کا کپڑا جو زیز زیز کی آواز
 نکالتا ہے اور درختوں پر ملتا ہے۔
 الزَّيْزِيُّ وَالزَّيْزَاءُ وَالزَّيْزَاءُ وَالزَّيْزِيَّةُ
 چھوٹا ٹیلہ یا کرخت زمین، پریا اس کے
 اطراف۔ ج۔ الزَّيْزِيَّةُ -
 الزَّيْزِقُونَ - ایک قسم کا پودا۔
 نَاطِقٌ يَزِيْطُ زَيْطًا وَزَيْطًا - چھینا اور
 بہت جھگڑنا۔
 زَاغٌ يَزِيغُ زَيْغًا وَزَيْغَانًا وَزَيْغُوغَةً
 ٹیڑھا ہونا۔ مائل ہونا۔ البَصْرُ - نگاہ
 کا ٹھکنہ۔
 زَيْغَةٌ - ٹیڑھا کرنا۔ کبھی کو درست کرنا۔
 اَزَاغَةٌ - عَنِ الطَّبِيْقِ - راستہ سے
 بھٹکانا۔ بدرہہ کرنا۔ الرَّجُلُ - کبھی
 میں ڈالنا۔
 تَزَايَغٌ - آراستہ ہونا۔ مزین ہونا۔ تَزَايَغٌ
 مائل ہونا۔
 الزَّايِغُ - فَا - ج۔ زَاغَةٌ وَ زَايِغُونَ -
 الزَّاعُ - ایک چھوٹا کوا جس کے پیٹ اور
 پیٹھ پر کچھ سفید بال ہوتے ہیں۔ یہ گندگی
 خور نہیں ہوتا، اسی کی ایک قسم ہے جس کو
 الزَّاعُ الْجَبِيْنِيُّ کہتے ہیں۔ یہ مردار
 خوار ہوتا ہے۔ ج۔ زَيْغَانٌ -
 الزَّيْغُ - مَعْنَى - حق سے انحراف۔ ٹھک۔
 زَاغَتْ رَحَى (زَيْغًا) - الدَّرَاهِمُ - کھوٹے
 ہونا۔ زَاغٌ - زَيْغًا - الدَّرَاهِمُ -
 کھوٹے بنانا یا سمجھنا۔ الحَايِطُ - دیوار
 پھانڈنا۔ ر۔ زَيْغًا وَ زَيْغَانًا
 ٹھک کر چلنا۔ البَعِيْرُ - ڈگلاتے
 ہوئے تیز چلنا۔
 زَيْفٌ - الدَّرَاهِمُ - کھوٹے بنانا یا ظاہر
 کرنا۔ الرَّجُلُ - کسی کی تحقیر کرنا۔

<p>تَزَيْنَ تَزِينًا وَارْتَيْنَ ارْتِيَانًا وَ ارْدَانًا اِرْدِيَانًا وَسِنَانًا ارْتِيَانًا وَارْتِيَانًا لِرْتِيَانًا آراستہ ہونا۔ بازینت ہونا۔ الزَّائِنُ۔ فا۔ اِمْرَاةٌ زَائِنَةٌ۔ سنوری ہوئی عورت۔ الزَّيْنُ۔ صص۔ آراستگی۔ خوبصورتی۔ ج۔ ارْتِيَانٌ۔ زَيْنُ الدِّيَكِ۔ مرغ کی کلغی۔ الزَّائِنَةُ۔ بد معنی۔ الزَّيْنَةُ۔ آراستگی زینت کی اشیاء۔ اَمْرَاةٌ الزَّيْنَةُ۔ جلد یا ناخن یا بالوں کے امراض۔ الزَّيَانُ۔ خوبصورت۔ الزَّيَانُ۔ ہر وہ شے جس سے زینت حاصل کی جائے۔ المزَيْنُ۔ حجام۔ نائی۔ زَيَاةٌ۔ تَزْيِيَةٌ۔ پوشاک پہنانا۔ تَزْيَاةٌ۔ پوشاک پہنا، آراستہ ہونا۔ بزئی القوم۔ قوم کا لباس پہنا۔ اليزي بیت شکل پوشاک پہنے ہوئے کی شکل أَقْبَلُ بَزِيَّ الْعَدَبِ۔ وہ عرب کے لباس میں آیا۔ جَاءَ نَارِيَّ عَرِيْبٍ۔ وہ ہمارے لباس عجیب لباس میں آیا۔ ج۔ اَزْيَاءٌ۔</p>	<p>ازَالَةُ إِزَالَةٌ وَأَزَالٌ۔ عَن مکانہ۔ جگہ سے ہٹانا۔ زَيْلَةٌ۔ متفرق کرنا۔ زَايِلَةٌ۔ باہم دگر جدا کرنا۔ تَزَايَلُوْا وَتَزَايَلُوْا۔ متفرق ہونا۔ جدا ہونا ۔ عَنَهُ۔ شرمانا۔ الذَّيْلُ۔ ہر دو رانوں کے درمیان کا فاصلہ الْأَزْيَلُ۔ دونوں رانوں کے درمیان کا فاصلہ۔ رَجُلٌ مِزْيَلٌ وَمِزْيَالٌ خوش طبع، ہنرمند، ذہین۔ زَامِرِيْزِيْهِ وَزِيَامٌ زِيْمًا۔ بفلان فَأَسْكَنَتْهُ۔ ایک لفظ بول کر خاموش کر دینا۔ تَزَيَّمَتِ۔ الخَيْلُ وَغَيْرَهَا۔ گھوڑوں وغیرہ کا متفرق ہونا۔ پرانگندہ ہونا۔ اللَّحْمُ۔ گوشت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ یا گتھا ہوا ہونا۔ الزَّيْمَةُ۔ گوشت وغیرہ کا ٹکڑا۔ ج۔ زَيْحٌ زَانَةٌ يَزِيْنَةُ زَيْنًا۔ زینت دینا۔ الشيءُ۔ خوبصورت بنانا۔ آراستہ کرنا۔ زَيْنَةٌ تَزِيْنًا وَأَزَانَةٌ إِزَانَةٌ وَ أَزِيْنَةٌ أَرِيَانًا۔ زینت دینا۔</p>	<p>الْبِنَاءُ۔ عمارت کا بلند ہونا۔ تَزَيَّفَتِ۔ الدَّرَاهِمُ۔ کھوٹے ہونا۔ الزَّائِفُ۔ فا۔ شیر۔ مِنَ الدَّرَاهِمِ کھوٹا درہم۔ ج۔ زَيْفٌ وَزَيْوْفٌ۔ الزَّيْفُ۔ دیوار کا چھجہ۔ کنگرہ۔ ج۔ زِيَاةٌ وَأَزِيَاةٌ وَزَيْوْفٌ الزَّيَاةُ۔ مشک کر چلنے والا۔ شیر۔ مُونثٌ۔ زَيَاةٌ۔ زَيْقٌ۔ الثوبُ۔ کپڑے میں گوٹ لگانا۔ تَزَيَّقَتْ۔ المَرَاةُ۔ عورت کا بننا سنورنا سرمد لگانا۔ الزَيْقُ۔ مِنَ الثوبِ۔ کپڑے کی گوٹ۔ دیوار برابر کرنے کے لیے معمار کا دھاگا۔ زَالِكٌ (رض) زَيْكَانًا۔ ناز و نخرہ سے چلنا الزَيْلُ۔ چھوٹے جواہر جو بڑے جواہر کے گروا گرو بڑے ہوئے ہوں۔ زَالَةٌ يَزَالَةٌ وَيَزِيْلَةٌ زَيْلًا۔ عَن مَكَانِهِ۔ جگہ سے ہٹانا۔ مَا زِلْتُ أَفْعَلُ۔ میں کرتا رہا۔ مَا زِلْتُ بَزِيْدٍ وَمَا زِلْتُ زَيْدًا حَتَّى فَعَلُ۔ میں زید کے ساتھ لگا رہا حتیٰ کہ اس نے کر دیا۔</p>
---	---	--

س

<p>زخم کا کھل جانا۔ پھٹ جانا۔ صفت (سَيْدٌ) أَسَادٌ۔ اِسَادًا۔ ساری رات چلند کتے ہیں۔ أَسَعَدَ يَوْمَهُ اِسْعَادًا مَنْ أَسَادَ لَيْلَتَهُ اِسَادًا۔ جو ساری رات چلا اس نے اپنے دن کو مبارک بنایا۔ السَّوَادُ۔ کھاری پانی پینے سے پیدا شدہ بیماری۔</p>	<p>السَّوَابُ۔ بڑی مشک۔ بہت پانی پینے والا۔ سَاعَةٌ (د) سَاعًا۔ گلا گھونٹنا۔ سَاعَةٌ۔ گلے کا پلو۔ سَادَةٌ (د) سَادًا وَ سَادًا۔ گلا گھونٹنا۔ سَيْدٌ۔ کھاری پانی کے پینے سے بیمار پڑنا۔ صفت (سَيْدٌ) سَيْدٌ (د) سَادًا۔ پینا۔ الجَزْحُ</p>	<p>السَّيْنُ۔ فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ سَابَةٌ (د) سَابًا۔ گلا گھونٹنا۔ السَّقَاءُ۔ مشک کو فراخ کرنا۔ چوڑی کرنا۔ وَسَيْبٌ (د) سَابًا۔ مِنَ الشَّرَابِ۔ سیراب ہونا۔ آسودہ ہو کر پینا۔ السَّابُ۔ بڑی مشک۔ ج۔ سَوَّابٌ السُّوَابُ۔ مال کا اچھا منتظم۔</p>
---	---	---

<p>(ر۔ سُبْحَانَا) سُبْحَانَ اللَّهِ کتا۔ سَبَّحَ - تَسْبِيحًا - نماز پڑھنا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ کتا۔ اللَّهُ وَرَبُّهُ - خدا تعالیٰ کی پاک بیان کرنا۔ خدا تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا۔ اسْبَحْ - تَبْرَأَ - السَّبْحَةُ - سَبَّحَ كَالْمَرَّةِ - کھال کے کپڑے السَّبْحَةُ دَعَا - قَضَيْتُ سُبْحَتِي میں نے اپنی دعا پوری کر لی۔ نقل نماز۔ تسبیح۔ سُبْحَةُ اللَّهِ - اللہ تعالیٰ کا جلال۔ ج۔ سَبَّحَ وَسُبْحَاتُ - سُبْحَاتُ وَجْهِ اللَّهِ - انوار الہی۔ سُبْحَانَ - مص۔ کتے ہیں "سُبْحَانَ اللَّهِ" یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب و برائی سے پاک بیان کرتا ہوں۔ "وَسُبْحَانَ مَنْ كَذَّبَ" تعجب کے لیے ہے "و أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا فِي سُبْحَانِكَ" یعنی جو کچھ تمہارے نفس میں ہے، اس کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ التَّسْبِيحَةُ - مص۔ کلام تسبیح۔ ج۔ تَسَابُحٌ - السَّابِحُ - فَا - سَابِحُونَ وَسَابِحٌ وَ سَبَّحَاءُ - مؤنث سَابِحَةٌ ج سَابِحَاتٌ وَسَوَابِحٌ - السَّوَابِحُ مِنَ الْخَيْلِ - تیز دو گھوڑے۔ و السَّابِحَاتُ - کشتیاں، شاہے۔ السَّابِحُ - بڑا تیراک۔ السَّبْوُحُ - بمعنی سَابِحٌ ج۔ سَبَّحَاءُ قُرْبَى سَبْوُحٌ - رفتار میں ادھر ادھر نہ ہلنے والا گھوڑا۔ السَّبْوُحُ وَالسَّبْوُحُ - صفات باری تعالیٰ میں سے ہیں۔ تَوْبٌ مُسَبِّحٌ - مضبوط کپڑا۔ الْمُسَبِّحَةُ وَالسَّبَّاحَةُ - انگشت شہادت</p>	<p>ہونا۔ الْجِلْدُ کھال کا نرم ہونا - الْوَجْدُ - چہرہ کا لمبا ہونا۔ اسْتَبْت - ہفتہ کے دن کو منانا۔ السَّبْتُ - مص۔ سینچر شنبہ، ج۔ اسْبَتٌ وَسُبُوتٌ - السَّبْتُ - بہت سونے والا۔ عمدہ گھوڑا۔ دلیر لڑکا۔ چالاک آدمی، زمانہ (ر۔ السَّبْتَةُ) زمانہ کا ایک عرصہ۔ السَّبْتُ - رنگی ہوئی کھال، ادھوڑی۔ السَّبَاتُ - نیند یا اونگھ، زمانہ۔ چالاک آدمی "ابْتَسَبَات" دن رات السَّبْتَانُ - بیوقوف۔ السَّبْتَاءُ - بیابان۔ السَّبْتِيُّ - بہادر، آگے بڑھنے والا پیتا۔ ج۔ سَبَانَتْ وَسَبَاتِي - مؤنث سَبْنَاءُ - السَّبْنَاءُ - زبان وراز عورت۔ السُّبَيْتُ - فَا۔ وہ شخص جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے بل محل نہ سکے۔ نہ آنکھیں کھولے۔ الْمَسْبُوتُ - مفع۔ میت یا بے ہوش۔ كَسْبِيحٌ - سیاہ کبل اور کھنا۔ سیاہ چادر یا گڈڑی پننا۔ السُّبَيْحَةُ - سیاہ چادر یا گڈڑی۔ ج۔ سُبَيْحٌ - السَّبِيحُ - سیاہ نکلے۔ السَّبَابِحُ - سیاہ کبل یا گھیم بیچنے والا۔ سَبَّحَ (ف) سَبَّحًا - الرَّجُلُ - معاش کے سلسلہ میں تعریف کرنا۔ سونا، آرام لینا۔ دور تک نکل جانا۔ عَيْنَ الْأَمْرِ فارغ ہونا۔ فِي الْكَلَامِ - بہت کلام کرنا۔ فِي الْأَرْضِ - زمین کھودنا۔ الْقَوْمُ - قوم کا پھرنا اور پھیلنا۔ (ر۔ سَبَّحًا وَسَبَّاحَةً) فِي الْمَاءِ وَبِالْمَاءِ - پانی میں تیرنا۔</p>	<p>دوستیاں اور تعلقات کٹ گئے۔ السَّبِيْبُ وَالسَّبِيْبَةُ - بالوں کا گچھا۔ مِنْ الْقُرْبَى - گھوڑے کی دم یا اس کی پیشانی کے بال۔ ایال۔ ج۔ سَبَابِيْبٌ - السَّبَابُ - بہت گالی دینے والا۔ مؤنث سَبَابَةٌ - الْأُسْبُوبَةُ - گالی کا باعث۔ السَّبَابَةُ وَالْمَسْبِيَّةُ - انگشت شہادت۔ سَبَّأَ (ف) سَبَّأٌ وَسَبَّاءٌ وَسَبِيًّا - الْخَمْرُ - شراب کو پینے کے لیے خریدنا۔ الْجِلْدُ - کھال کھینچنا، آمانا۔ - الْجِلْدُ بِالنَّارِ - کھال کو آگ سے جلانا۔ الرَّجُلُ - کسی کے کوڑے لگانا۔ مضافہ کرنا۔ النَّارُ الْجِلْدُ - آگ کا کھال کو جھکنا۔ اسْبَأَ - لِأَمْرِ اللَّهِ - حکم الہی کے لیے جھک جانا۔ عَلَى الشَّرِّ - شرارت پر کمر بستہ ہونا۔ شَرِيرٌ هُونًا - اسْبَاءُ - الْجِلْدُ - کھال کا اترنا۔ چھلنا۔ اسْتَبَاءَ اسْتَبَاءً - الْخَمْرُ - شراب کو پینے کے لیے خریدنا۔ اسْبَاءٌ وَالسَّبِيْبَةُ - شراب۔ السَّبَاءُ - شراب بیچنے والا۔ السَّبَابَةُ - دور کا سفر۔ السَّبِيْعُ - سانپ کی کینچی۔ الْمَسْبَاءُ - پاڑی راستہ یا عام راستہ۔ سَبَّتَ (ن ص) سَبَّتًا - ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔ سبت منانا۔ آرام لینا۔ الشَّيْءُ - کاٹنا۔ الرَّاسُ سر مونڈنا۔ الرَّجُلُ - حیران ہونا۔ - الشَّعْرُ - بال لٹکانا۔ عُنُقُهُ - گردن مارنا۔ سَبَّتَ - الرَّجُلُ - نیند آجانا۔ اسْتَبَّتَ - ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔ اسْتَبَّتَ - الشَّيْءُ - چیز کا لمبا ہونا۔ دراز</p>
--	--	--

المَسْبُوحَةُ - عام کے نزدیک لعل نماز
تبیح یا تسلی۔
سَبَّحَلْ سَبَّحَلَةٌ - سُبْحَانَ اللَّهِ كُنْه
السَّبَّحَلُ - مَوْنَا - جَارِيَةٌ سَبَّحَلَةٌ
لمبے قد وال لٹڈی۔
سَبَّحَنَ - سُبْحَانَ اللَّهِ - كُنْه۔
سَبَّحْرَه (سَبَّحَا - گہری نیند سونا - فارغ
ہونا - دور ہونا۔
سَبَّحْرَس (سَبَّحَا - المکان - کسی جگہ کا
شورے والی ہونا - صفت (سَبَّحْرَسُ
سَبَّحْرَس - عَنَه - ہلکا کرنا - کہتے ہیں۔
"اللَّهُمَّ سَبَّحْ عَنِّي الْخُثَىٰ أَوْ
الشَّدَاةَ" اے اللہ میرے بخاریا سختی
کو ہلکا کرے۔ الحَرَّ - گرمی کو
ٹھنڈا کرنا۔ القُطْنَ وَنَحْوَهُ
روٹی دھنا۔ الرَّجُلُ - کسی کا
گہری نیند سونا - فارغ ہونا۔ العَرَقُ
رگ کا ساکن ہونا۔ الحَرُّ - گرمی
کام ہونا، ہلکا ہونا۔
أَسْبَحَ - فِي الْحَضْرِ - کھونے میں زمین
شور تک پہنچنا۔ المکان - کسی
جگہ کا شورے والی ہونا۔
تَسْبَحَ - الحَرُّ أَوِ الْعَضْبُ - گرمی کا
ٹھنڈا ہونا۔ أَرْضٌ سَبَّحَةٌ - ج
سَبَّحٌ وَرَسَبْحَةٌ، ج - سَبَّحَاتُ
زمین شور۔
السَّبَّحَةُ وَالسَّبَّحَةُ - عَمَلِينَ اور دلدلی
زمین کاٹی کے مانند پانی کے اوپر آجانے
والی چیز - ج - سَبَّحًا -
السَّبَّحُ - مِنَ الْأَرْضِ - ویران کھیت
ہونے جوتا گیا ہو۔
السَّبَّحُ - دھنی ہوئی روٹی، یا بھرے
ہونے پر وغیرہ۔
السَّبَّحَةُ - دھنی ہوئی روٹی کا گالا۔
ج - سَبَّاحٌ -

سَبَّادَةٌ (سَبَّادٌ - الشَّعْرُ - بال مؤنثنا
- شَارِبَةٌ - مونچوں کا بڑھکر
ہونٹوں پر آجانا۔
سَبَّادٌ - الشَّعْرُ - مونٹنے کے بعد
بالوں کا اگنا۔ الفَرْخُ - چوزے
کے پر نکلنا اور سخت ہونا۔ الرَّجُلُ
سر میں تیل لگانا چھوڑ دینا۔ رَأْسُهُ
سر میں کنگھی کرنا۔ تَرَكْنَا أَوْرَاقَ جَمْرٍ
دینا۔ شَعْرَةٌ - بالوں کو مونڈنا۔
- العَشْبُ - پرانی گھاس میں نئی
گھاس کا اگنا۔
أَسْبَدَ - الشَّعْرُ - بال مؤنثنا -
العَشْبُ - پرانی گھاس میں نئی گھاس
کا اگنا۔
السَّبْدُ - پھریا - مصیبت - ج - أَسْبَادُ
الْأَسْبَادُ - کالے کپڑے۔ أَسْبَادُ
العَشْبُ - سبزہ کی نئی نکلی ہوئی توکیں
یا سرے کہتے ہیں۔ "هُوَ يَسْبُدُ مِنَ
الْأَسْبَادِ" وہ ہوشیار و چالاک
پور ہے۔
السَّبْدُ - کم بال - کہتے ہیں۔ "مَا لَهُ
سَبْدٌ وَلَا كَبْدٌ" اس کے پاس نہ
بال نہ صوف یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔
السَّبْدُ - سبز گھاس کا بقیہ۔
السَّبْدُ - حوض کی نالی کا کپڑے کا ڈاٹ -
بڑھتی - ج - سَبْدَانٌ - ایک قسم کا پرند
السَّبْدَانِي - لمبا، ہمار، پیتا - ج -
سَبْدَانٌ وَسَبْدَانَةٌ - السَّبْدَانَةُ
کھیل کود میں مصروف رہنے والے
لوگ۔
سَبْرَانٌ (سَبْرًا أَوْ سَبْرًا وَسَبْرًا -
الجَرْمُ أَوِ الْبَيْتُ أَوِ الْمَاءُ - زخم یا
کنوٹیں یا پانی کی گہرائی کا پتہ لگانا -
جاچ کرنا۔ الأَمْرُ - تجربہ کرنا۔
آزمانا۔

السَّبْرُ - مص - شیر - (والسَّبْرُ - اصل،
رنگ، جمال، ہیئت، مشابہت۔
"فَلَانٌ حَسَنُ الْحَبْرِ وَالسَّبْرِ" یعنی
فلاں خوش ہیئت صاحب جمال ہے۔
"قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ سَبْرُ فُلَانٍ"
اس پر فلاں کی مشابہت غالب ہے۔
السَّبْرُ - دشمنی۔
السَّبْرَةُ - ٹھنڈی صبح - ج - سَبْرَاتُ، أَسْبَابُ
السَّبْرِ وَالسَّبْرَةُ - ایک لمبے بازوؤں والا
شکاری پرندہ۔
السَّبَارُ - ج - سَبْرٌ (وَالسَّبْرُ وَالسَّبَارُ
ج - مَسَابِرٌ وَمَسَابِيرٌ - زخم کی
گہرائی معلوم کرنے کی سلاخی۔
السَّبَارَةُ - ایک قسم کا جہاز۔
السَّبَارِيُّ - منسوب بہ سَابُور - بڑھیا
کھجور - باریک بناوٹ کی مضبوط زرہ۔
السَّبْوَةُ - سلیٹ، تھتی۔
السَّبْرُ - ہیئت و حسن و جمال -
السَّبَارُ - زخم کی گہرائی معلوم کرنے
والا - مَسْبَرَةٌ - الجرح - زخم کی گہرائی
السَّبْرَةُ - آزمائش - جابج - المَسْبُورُ
مفع - خوش شکل و ہیئت۔
سَبْرَتٌ - الرَّجُلُ - قناعت کرنا
السَّبْرَتُ وَالسَّبْرُوتُ وَالسَّبْرِيَّتُ -
السَّبْرَاتُ - مکین و محتاج - ج
سَبَارِيَّتُ وَسَبَارٍ - السَّبْرُوتُ
تھوڑی چیز - امر داکا - چیل، ریگستان۔
المَسْبَرَتُ - بے بال والا۔
سَبْسَبٌ - المَاءُ - پانی بہانا۔ الرَّجُلُ
ہلکی رفتار سے چلنا۔ بَرِيٌّ كَالِي دِينَا -
تَسْبَسَبٌ - المَاءُ - پانی کا بہنا۔
التَسْبَسَبُ - بیابان - ہموار صحیح میدان -
ج - تَسْبَسَبٌ -
سَبَطَرَس (سَبَطًا وَسَبَطًا وَسَبُوطًا -
وَسَبَطَرَسٌ) سَبُوطَةٌ وَسَبَاطَةٌ

پورا ہونا۔ رالی و طینہ۔ وطن کی طرف مائل ہونا۔ المَطْرُ۔ بارش کا زمین سے قریب ہونا۔
 اسْبَغَ۔ اللہُ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ۔ اللہ کا کسی پر نعمت کو کامل کرنا۔ الثَّوْبُ کپڑے کو کشادہ کرنا۔ لِمَا كَرْنَا۔ الرَّجُلُ پوری زرہ پہننا۔ لَهُ النِّفْقَةُ۔ کسی پر فراخی سے خرچ کرنا۔
 السَّابِغُ۔ فا۔ دُرْعٌ سَابِغٌ۔ پوری زرہ۔ ج۔ سَوَابِغٌ۔ زَنْبٌ سَابِغٌ لمیوم۔ سَابِغٌ اِلَّا لِيَتَّبِعِنِ۔ بڑے سوین والا۔
 السَّبِغَةُ۔ فراخی، آسودہ حالی۔
 التَّسْبِغُ وَالتَّسْبِغَةُ۔ زرہ کا وہ حصہ جو خود کو زرہ کی کڑیوں سے ملاتا ہے اور گردن کی حفاظت کرتا ہے۔ ج۔
 تَسَابِغٌ۔
 سَبَّغَلٌ۔ اسْبَغَلُ الثَّوْبِ۔ کپڑے کا پانی سے تر ہونا۔ بالوں کا تیل سے تر ہونا۔
 المُسْبِغَلُ۔ کشادہ۔
 سَبَّغَلٌ (ن ص) سَبَّغًا۔ اِلَى كَذَا۔ آگے بڑھنا۔ هُ عَلَى كَذَا۔ غائب ہونا۔ سَبَّغٌ عَلَى قَوْمِهِ۔ کرم و فیاضی میں قوم سے بڑھ جانا۔ صفت (سابق) ج۔ سَابِغُونَ وَسَبَّاقٌ۔
 سَبَّغَهُ۔ شرط لینا یا دینا۔ الشَّاقُّ بکری کا قبل از وقت بچہ گرانا۔ الطَّيْرُ پندہ کے پاؤں میں بندھن ڈالنا۔
 سَبَّغَ الْبَدَنَةَ بَيْنَ الشَّعْرَاءِ۔ شعراء کے درمیان دس ہزار کی پھیلی بطور انعام رکھنا کہ جو اپنے ساتھیوں پر غالب آجائے وہ لے لے۔
 اسْبَقَ۔ القَوْمُ اِلَى الْاَمْرِ۔ جلدی کرنا۔ سبقت کرنا۔
 سَابِقَةٌ۔ سَبَاقًا وَمَسَابِقَةٌ۔ مقابلہ پر

دوڑنا۔ دوڑنے میں آگے بڑھ جانا۔
 تَسَابَقٌ وَاسْتَبَقَ۔ القَوْمُ۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا
 اسْتَبَقَا الْبَابَ اَوَّلًا اِلَى الْبَابِ۔ دونوں نے دروازہ کی طرف جلد بڑھ جانے کی کوشش کی۔ اسْتَبَقَا الصِّرَاطَ راستہ سے بھٹک جانا اور اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔
 السَّبَقُ۔ ج۔ اسْبَاقٌ وَالسَّبَقَةُ ضَرْبٌ جُو آگے نکل جانے پر رکھی جاتی ہے۔
 السَّابِقُ۔ فا۔ دوڑنے میں جیتنے والا گھوڑا اس کو المَجَلِيُّ بھی کہتے ہیں۔ ج۔
 سَبَّاقٌ وَسَابِقُونَ۔
 السَّابِقَةُ مَوْنَةُ السَّابِقِ۔ اَقْدَمِيَّتُ پھل۔ ج۔ سَوَابِقٌ۔ وَسَابِقَاتٌ۔
 السَّوَابِقُ۔ گھوڑے۔ السَّبَّاقُ بت آگے بڑھنے والا۔
 السَّبَّاقُ۔ مَص۔ گھوڑوڑ۔ بندش، قید۔
 السَّبُوقُ وَالْمُسَبِّقُ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ آگے بڑھنے والا گھوڑا۔
 سَبَّكَ (ن ص) سَبَّكَ وَسَبَّكَ۔ الْفِطَّةُ چاندی پگھلا کر سانچے میں ڈھالنا۔
 الْكَلَامُ۔ کلام کو عمدہ بنانا۔
 سَبَّكَهُ الْمُتَجَارِبُ۔ تجربوں کا کسی کو منب بنانا۔
 اسْبَكٌ۔ الذَّهَبُ مَخُولٌ۔ پگھلا کر قالب میں ڈالا جانا۔ ڈھلنا۔
 السَّبِيكُ۔ پگھلا ہوا۔ میل کچیل سے منب۔
 السَّبِيكَةُ۔ چاندی وغیرہ کا ڈالا۔ جو پگھلا کر قالب میں ڈالا گیا ہو۔ ج۔ سَبَّائِكُ الْمَسْبَكُ۔ پگھلانے اور ڈھالنے کی جگہ۔ ج۔ مَسَابِكُ۔
 سَبَّكَهُ (ن) سَبَّكًا۔ گالی دینا۔
 سَبَّيْلٌ۔ الْمَالُ۔ مال کو اللہ کے راستہ میں لگانا۔ خیرات کرنا۔ الشَّيْءُ۔

مباح کرنا۔ السَّبْرُ۔ پردہ چھوڑنا۔
 اسْبَلٌ۔ السَّبْرُ۔ پردہ لگانا، چھوڑنا۔
 الدَّمْعُ۔ آنسو بہانا۔ الْمَاءُ۔ پانی بٹونا۔ السَّبْرُ يُقُ۔ راستہ کا بہت چلتا ہوا ہونا۔ السَّمَاءُ۔ آسمان کا بارش برسانا۔ الدَّمْعُ وَالْمَطَرُ۔ آنسو یا بارش کا بکثرت بہنا۔ بَرَسْنَا۔ الزَّرْعُ فصل کا خوشہ نکالنا۔ عَلَى فُلَانٍ کسی کے برخلاف بہت کچھ کہنا۔
 السَّبَلُ۔ وہ بارش جو بادل سے نکل آئی ہو، مگر ابھی زمین پر نہ پڑی ہو۔ آنکھ کی ایک بیماری جس میں آنکھ پر پردہ چھا جاتا ہے، بننے والی بارش یا خون۔
 خوشہ، بالی، ناک۔ اسْبَلُ الدَّمْعُ اَو الْمَطَرُ۔ کا اسم۔
 السَّبْلَةُ۔ اوپر کے لب کے درمیان کا دائرہ۔ داڑھی کا اگلا حصہ۔ ج۔ سَبَالٌ (ن ص) السَّبْلَةُ وَالسَّبْلَةُ خوشہ کہتے ہیں۔ مَلَأُوا الْاِنَا اِلَى سَبْلَتِهِ۔ برتن کو کنارہ تک بھر دیا۔ وَحَبْرٌ سَبْلَتُهُ۔ اس نے اپنے کپڑے گھسیٹے وَجَاءَ وَقَدْ نَشَرَ سَبْلَتَهُ۔ اس نے آکر دھکی دی۔ وَبَعِيرٌ حَسَنٌ السَّبْلَةُ۔ باریک کھال والا اونٹ۔
 السَّبِيلُ۔ راستہ یا کھلی ٹرک (مذکر مؤنث) ج۔ سُبُلٌ وَسُبُلٌ وَاسْبِلٌ۔
 وَاسْبِلَةٌ وَسُبُولٌ۔ ابن السَّبِيلِ۔ مسافر۔ سَبِيلُ اللّٰهِ۔ جہاد۔ طلب علم حج یا ہرام خیر جس کا حکم باری تعالیٰ سے ملتا ہو۔ کہتے ہیں۔ لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ سَبِيلٌ۔ تم مجھ سے باز پرس نہیں کر سکتے، یعنی تمہارے لیے مجھ پر کوئی حجت نہیں۔
 "لَيْسَ عَلَيَّ فِي كَذَا سَبِيلٌ"۔ مجھ سے اس کے متعلق کوئی باز پرس نہیں۔
 السَّبِيْلَةُ۔ راستہ یا واضح راستہ۔

اللہ پیستیر۔ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔
 الیستر۔ پردہ۔ خون۔ حیا۔ ج۔ ستود۔
 واستار۔ مالک۔ یستر۔ ولا حجر۔
 وہ نہ عقل رکھتا ہے نہ حیا و شرم۔ " و
 اھتک اللہ یسترک۔ " اللہ تعالیٰ
 نے اس کے عیبوں اور برائیوں کو بے
 نقاب کر دیا۔
 الستر۔ مص۔ ڈھال۔
 الیستار۔ پردہ۔ ج۔ ستر۔ مد۔
 اللیل یستارک۔ رات نے اپنی
 تاریکی کا پردہ پھیلا دیا۔
 السترک۔ ج۔ ستر۔ والیستارک۔
 ج۔ ستائر۔ پردہ۔ سترک السطح۔
 چھت پر پردہ کی دیوار۔
 الستیئر۔ چھپا ہوا۔ پاکدامن۔ ج۔ ستراء۔
 شجر سیتیئر۔ بہت شاخوں والا
 درخت۔
 المستور۔ مفع۔ پاک دامن۔ ج۔
 مستورون۔ وصاتیر۔
 الستار۔ پردہ پوش۔ بہت چھپانے والا۔
 یہ صفات خداوندی میں سے ہے۔
 الاستار۔ من العادی۔ پار۔ ری
 الوزن۔ چار مقال۔ ج۔ آساتر۔
 وآساتیر۔
 الیستر۔ والیستارک۔ پردہ۔
 المستر۔ مفع۔ جاریہ۔ مسترک۔
 پردہ نشین عورت۔
 الستوق۔ کھڑا جلی روپیہ۔
 المستقل۔ والمستقلہ۔ دراز آسمین کی
 پوشین، چنگ وغیرہ بجانے کا آلہ۔
 ستل۔ دن۔ ستلا۔ وتساتل۔ وانستل۔
 وانستل۔ القوم۔ ایک دوسرے
 کے پیچھے سلسلہ وار نکلنا۔ اللؤلؤ۔
 مریوں کا لگا تار گزنا۔ کھزنا۔ الدھم۔

شراب کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے
 جانا۔ الحافر الماء۔ کھودنے
 والے کا پانی تک پہنچنا۔ فلاناً۔
 کسی کو دائم محبت میں لینا۔
 استبی استیباء۔ العداؤ۔ دشمن
 کو قید کرنا۔ قلب فلان۔ کسی کے
 دل کو دائم محبت میں پھانسا۔
 الخمر۔ شراب کو ایک شہر سے
 دوسرے شہر لے جانا۔
 تسالی۔ القوم۔ بعض کا بعض کو قید
 کرنا۔
 تسبی۔ فلان بفلان۔ کسی سے
 محبت کا اظہار کر کے اپنی طرف مائل کرنا۔
 السبی۔ قیدی۔ کہا جاتا ہے۔ جاؤا
 لبسبی کثیر۔ زیادہ تر آسرو
 کا لفظ مردوں کے لیے اور سبی
 کا لفظ عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔
 ج۔ سبی۔ سبی الحیة۔ سانپ
 کی کینچلی۔
 السبیہ۔ قیدی عورت۔ ایک شہر سے
 دوسرے شہر بھیجی ہوئی شراب۔ موقی۔
 السبی واسباء۔ وہ لکڑی جس کو
 سیلاب ایک جگہ سے دوسری جگہ
 لے جائے۔
 الست۔ عیب۔ بری گفتگو۔
 الستة۔ چھ۔ مذکر کے لیے۔ ٹونٹ کے
 لیے بست ہے۔
 الست۔ چھٹا۔
 الستون۔ ساٹھ (مذکر ٹونٹ)۔
 ستر۔ دن۔ ستر۔ ستر۔ ستر۔
 الشی۔ ڈھانکا، چھپانا۔
 ساترہ مساترہ۔ العداؤ۔ دشمن
 چھپانا۔
 تستر۔ واستتر۔ وانستتر۔ ڈھانکا
 چھپنا، کہتے ہیں "ھولایستر من"

السایلة۔ بہت چلنے والا راستہ۔
 سبیل سایلک۔ راہ گزروں کی
 جماعت۔ ج۔ سوایل۔ عین
 سبلاء۔ لمبی پلوں والی آنکھ۔
 امراة سبلاء۔ مونچھوں والی
 عورت۔
 الأسبل۔ والمسبل۔ والمسبل۔ والمسبل۔
 والمسبل۔ من الرجال۔
 لمبی مونچھوں والا آدمی۔
 أسبنت۔ المرأة۔ عورت کا ہمیشہ
 سیاہ تمند باندھنا۔
 السبنت۔ والسبنتہ۔ عرصہ۔ "آقمت
 عندہ سبنتا۔ میں اس کے
 پاس عرصہ تک ٹھہرا رہا۔
 السبنیة۔ عورتوں کا سیاہ تمند۔
 السبنتی۔ دیر۔ آگے بڑھنے والا پیتا۔
 ج۔ سبانت۔ و سبانت۔
 سبہ سبھا۔ و سبہ سبھا۔ بڑھاپے
 کی وجہ سے عقل زائل ہونا۔ صفت
 (مسبوہ و مسبتہ)
 السبہ۔ بڑھاپے کی وجہ سے بے عقلی۔
 "رجل سبہ و سبک" متکبر
 آدمی۔
 السبک۔ سکتہ، عقل کا زوال۔ "رجل
 سبہ" بڑھاپے کی وجہ سے عقل
 کھویا ہوا۔
 المسبہ۔ فصیح اللسان۔
 سبھل۔ کہتے ہیں "جاء الرجل
 سبھلاً" آدمی بغیر ہتھیار و ڈنڈے
 کے آیا، یعنی بے پرواہ ہو کر آیا۔ یا بغیر
 کسی کام کے آیا۔ "ھو یمشی
 سبھلاً" وہ بیکار آتا جاتا ہے۔
 سبی یسبی سبیا و سبباء۔
 العداؤ۔ دشمن کو قید کرنا۔ الرجل
 ودر کرنا۔ جلا وطن کرنا۔ الخمر۔

آنسو کا قطرے قطرے ٹپکنا۔ صفت
(مَسَاتِلُ)
سَتَلَهُ (س) سَتَلًا وَسَاتَلَهُ۔ پیروی کرنا۔
السَّتَلُ۔ مص۔ عقاب یا اس کے یاگہ
کے مشابہ ایک جانور۔ ج۔ سَتَلَانُ
وَسِتْلَانُ
السُّتَالَةُ۔ رومی ہیز۔
السُّتَلُ۔ تنگ راستہ۔ ج۔ مَسَاتِلُ۔
أَسْتَنَ۔ الرجلُ فِي السُّتَيْدِ كَيْسِي كَا
قُحْطِ سَالِي فِي بُرْنَا۔
الْأَسْتَنُ وَالْأَسْتَانُ۔ بوسیدہ درخت
کی جڑیں۔
الْإِسْتَانَةُ۔ شہر قسطنطنیہ۔
سَتَهُ (ف) سَتَهُا۔ الرَّجُلُ يَجِيحُ لَهَا۔
کھوج لگانا۔ سرین پر مارنا۔
السُّتَهُ وَالسُّتَهُ وَالسُّتَهُ سَرِينِ۔
ج۔ أَسْتَاةُ۔
الْأَسْتَهُ وَالسُّتَاهِيَّ۔ موٹے سرین طلا۔
ج۔ سُنُّهُ وَسُنُّهَا نُّ وَسَا هِيَّ۔
مُونث۔ سَتَهَاءُ۔
سَتَارِنِ سَتَوَا۔ جلدی کرنا۔
اسْتَى وَسَتَى۔ الثَّوْبُ يَكْرَأُ بِنْتِ كَيْ
لِيَتَانِي كُو پھیلانا۔
السُّتَا۔ کپڑے کا تانا۔ بھلائی۔ تَالِ
هِنَهُ سَتَاةُ اس نے اس سے
بھلائی پائی۔
الْأُسْتِيَّ۔ تانانا ہوا کپڑا۔
سِتَاةُ الثَّوْبِ۔ کپڑے کا تانا۔ کہتے ہیں
"مَا أَنْتَ لِحَمَّةٍ وَلَا سِتَاةٌ" یعنی
تو نہ نفع کا ہے نہ نقصان کا۔
سَجْرَانِ سَجَا۔ پتلا پاشخانہ آنا۔
الْحَائِظُ وَيُورِ لِيَبْنَا۔
السُّجَّةُ وَالسُّجَاةُ۔ بہت پانی والا
دودھ۔
السُّجْرُ۔ پسپ ہوئی چھتیں، نیک نفوس۔

المُسَجَّةُ۔ لپائی کے کام میں آنے والا لکڑی
کا ایک اوزار۔
سَجَّحْتُ (ف) سَجَّحًا۔ المَحَامَةُ كِبْرِي
كَا كُو كَرْنَا۔ وَسَجَّجِ، لَهُ
پگلا۔ اشارہ اور کنایہ سے بات کرنا
سَجَّجِ (س) سَجَّجًا وَسَجَّجًا۔ مناسب
دور میانی و بازی رکھنا۔ کم گوشت ہونا۔
السَّجَّجُ رَحْمًا كَارِمًا وَمَلَامًا هُونًا۔
خُلُقُهُ۔ نرم اخلاق ہونا۔ کہتے
ہیں: "فِي عَقْلِهِ رَجَاحَةٌ وَفِي خُلُقِهِ
سَجَّاحَةٌ"۔
أَسَجَّجَ۔ الوَالِي۔ معاف کرنا۔
الرَّجُلُ۔ نرم و لطیف کلام والا ہونا۔
کہتے ہیں: "أَذَا سَأَلْتَ فَاسْجَجْ"
یعنی جب تم سوال کرو تو نرم اور دلپند
الفاظ بولو۔
السَّجَّجُ۔ لَهُ يَكْدَا۔ سخوت و جوانمردی
کیا جانا۔
السُّجَّجُ۔ نرم و آسان۔ اندازہ۔ کہتے ہیں
"بِيَوْمِهِمْ عَلَى سَجَّجٍ وَاحِدًا" ان
کے گھر ایک اندازہ کے ہیں۔ وَالسُّجَّجُ
رُكْلٌ كَا وَسُلْمِي حَصْرٌ۔ السُّجَّجَةُ وَ
السُّجَّجِيَّةُ۔ خصلت، خلق، فطرت،
طبیعت۔ وَالسُّجَّجِيَّةُ۔ اندازہ
"رَكِبَ سَجَّجِيَّةً رَائِبَةً" اس
نے اپنے لیے ایک رائے پسند کی اور
اسی پر کار بند ہوا۔
الْأَسْجَجُ بِنُورٍ مَنَسَبٍ مَنَسَبِ أَعْمَادٍ وَاللَّ
مُونث سَجَّجَاءُ۔ ج۔ سَجَّجُ۔
السُّجَّجُ۔ سامنے۔ السُّجَّجُ۔ ہوا۔
سَجَّجَانِ سَجَّجًا۔ عاجزی و خاکساری
سے جھکا۔ عبادت میں پیشانی و ناک
زمین پر رکھنا۔ صفت (سَاجِدٌ) ج۔
سَجَّجًا وَسَجَّجًا۔ مُونث سَاجِدَةٌ
ج۔ سَاجِدَاتٌ وَمَوَاجِدٌ سَاجِدٌ

المُنْخَرُ۔ خاکساری کرنے والا۔ ذلیل و
پست۔ "عَيْنٌ سَاجِدَةٌ" جھکی ہوئی
آنکھ۔ "نَخْلَةٌ سَاجِدَةٌ" جھکا ہوا
کھجور کا درخت۔
سَجَّجَاتُ (س) سَجَّجًا۔ رَجُلُهُ۔ پاؤں
کا سوجنا۔
السَّجَّجُ۔ سر جھکانا۔ عَيْنُهُ۔ نگاہ
نیچی رکھنا۔
السَّجَّجُ۔ بہت سجدہ کرنے والا۔
السَّجَّجَةُ۔ سَجَّجًا كَا اسْمِ۔
السَّجَّجَةُ وَالْمَسَّجِدَةُ۔ جگے نماز۔
مصلیٰ۔
السَّجَّجُ وَالْمَسَّجِدُ۔ سجدہ گاہ۔ عبادت
کی جگہ۔ ج۔ مَسَاجِدُ۔ الْمَسَّجِدُ
الْحَدَّادُ۔ بیت اللہ شریف۔ الْمَسَّجِدُ
الْأَقْصَى۔ مسجد بیت المقدس۔
الْمَسَّجِدَانِ۔ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ
کی دو مسجدیں۔
الْمَسَّجِدُ۔ انسان کی پیشانی۔ ج۔ مَسَاجِدُ
سَجَّجَانِ سَجَّجًا۔ التَّنُورُ۔ تیز کو
ایندھن سے گرم کرنا۔ الْمَاءُ النَّهْرُ۔
پانی کا نہر کو بھرنا۔ الْبَحْرُ۔ سمندر کا
جوش مارنا۔ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ۔ پانی
حلق میں ڈالنا۔ الْكَلْبُ۔ کہتے کے
گلے میں لکڑی باندھنا۔ الشَّيْءُ۔
بھینجا (سَجَّجًا أَوْ سَجَّجًا) النَّاقَةُ۔
اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا۔
سَجَّجًا۔ الْمَاءُ۔ پانی جاری کرنا۔
التَّنُورُ۔ تیز کو ایندھن سے بھر کر
گرم کرنا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کا لمبی
آواز نکالنا۔
سَجَّجًا۔ الْبَحْرُ۔ سمندر کا پڑھنا۔ مومیں
مارنا۔
سَاجِدَةٌ۔ مخلص و دست بندا۔
السَّجَّجُ۔ الْإِنَاءُ۔ برتن کا بھرنا۔ الْإِبِلُ

فی سیرھا۔ اونٹوں کا آگے پیچھے ایک قطار میں چلنا۔
 السَّجُورُ مَص۔ بادل کی گرج، رعد کی آواز۔
 سَجُورٌ سَجُورٌ۔ بھرا ہوا کنواں
 السُّجُورَةُ نمر کو بھردینے والا پانی۔ ج
 سَجُورٌ وَالسَّجُورُ فِي الْعَيْنِ آنکھ کی سُرخی۔
 السَّاجِرُ فَا۔ ہر چیز کو بھردینے والا سیلاب
 وہ جگہ جس کو سیلاب آکر بھردے۔
 السَّاجُورُ کتے کے گلے میں لٹکانے جانے
 والی لکڑی۔ کتے کے گلے کا پٹا یا طوق
 ج۔ سَوَاجِيرُ۔
 الْمَسْجُورُ وَالسَّجُورُ تیز کو گرم کرنے کا
 ایندھن (لکڑی وغیرہ)
 السَّجِيْرُ مخلص دوست ج۔ سَجْرَاءُ۔
 الْأَسْجَرُ آنکھ میں سُرخی رکھنے والا۔
 مَوْزُتٌ سَجْرَاءُ۔ خالص کپڑا والا
 تالاب۔ شیر۔ شَعْرٌ مَسْجَرٌ و
 مَسْجِرٌ۔ لٹکے ہوئے بال۔
 الْمَسْجَرُ۔ وہ دریا وغیرہ جس کا پانی
 تہ نشین ہو گیا ہو۔
 الْمَسْجُورُ۔ فَا۔ ساکن اور بھرا ہوا خالی
 رندا وہ دودھ جس میں پانی کا حصہ
 دودھ سے زائد ہو۔ الْمَسْجُورُ
 پروئے ہوئے موتی۔ لڑی سے بھرے
 ہوئے موتی۔ لَوْلُوَةٌ مَسْجُورَةٌ
 بہت آبدار موتی۔
 السَّجْسُ (س) سَجْسًا۔ الماءُ پانی کا مکد
 ہونا۔ گدلا اور متغیر ہونا۔ صفت۔
 (سَجْسٌ و سَجْسٌ و سَجْسٌ)
 سَجْسٌ۔ الْمَنْهَلُ چشمہ کا بدبودار اور
 خراب ہونا۔
 السَّجْسُ خرابی۔ گدلا پن۔ کتے میں لا
 اِتْيَكُ سَجْسٌ اللَّيَالِيُ میں
 تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔

السَّجْسَجُ۔ وہ زمین جو نہ بہت سخت
 ہو، نہ بہت نرم۔ صبح صادق سے سورج
 نکلنے تک کا وقت۔ کہتے ہیں: یومٌ
 سَجْسَجٌ۔ جبکہ دن میں نہ تو تکلیف
 وہ گرمی ہونے ایذا رساں سردی ہو۔
 هَوَاءٌ سَجْسَجٌ۔ وہ ہوا جو نہ
 بہت گرم ہو، نہ بہت سرد۔ معتدل ہوا
 ج۔ سَجَّارٌ سَجْمٌ و سَجَّارٌ سَجْمٌ۔
 سَجْعٌ رَفٌّ، سَجْعًا الخَطِيْبُ۔ مقفی
 کلام کہنا۔ صفت سَاجِعٌ و سَجَّاعٌ
 و سَجَّاعَةٌ، الحَمَامَةُ۔ فاختہ یا
 کبوتر کا کوکرنا۔ صفت سَاجِعَةٌ
 و سَجُوعٌ ج۔ سَجْعٌ و سَوَاجِعٌ
 النَّاَقَةُ۔ اونٹنی کا لمبی آواز
 نکالنا۔
 سَجَّعٌ۔ بمعنی سَجَّعٌ۔ (تشدید مبالغہ
 کے لیے ہے)
 السَّاجِعُ۔ فَا۔ کلام یا رفتار میں درمیانی
 چال چلنے والا۔ اس کی ضد جَائِرٌ
 ہے۔ وَجْهٌ سَاجِعٌ۔ اچھی ساخت
 کا معتدل چہرہ۔ نَاقَةٌ سَاجِعَةٌ
 طرب و مستی میں آواز نکالنے والی
 اونٹنی۔
 السَّجْعُ۔ مقفی کلام ج۔ السَّجَّاعُ
 السَّجْعَةُ وَالْأَسْجُوعَةُ مقفی کلام کا
 ایک ٹکڑا۔ ج۔ آسَاجِيْعٌ۔
 الْمَسْجَعُ۔ مقصد۔
 سَجْفٌ رَفٌّ، سَجْفًا۔ الْبَيْتُ مکان پر
 پردہ لٹکانا۔
 سَجْفٌ رَفٌّ، سَجْفًا۔ پتلی کروالا۔
 السَّجْفُ۔ السِّتْرُ پردہ چھوڑنا۔
 الْبَيْتُ۔ گھر پر پردہ لٹکانا۔
 اللَّيْلُ۔ رات کی تاریکی کا دراز
 ہونا۔
 السَّجْفُ وَالسَّجْفُ۔ ج۔ سَجُوفٌ و

قسم۔ عمدہ تیز رفتار گھوڑا۔
 سَحْبَةُ رَفٍّ، زمین پر گھسیٹنا۔ الرَّجُلُ
 بہت کھانا پینا۔ "جَاءَ يَسْحَبُ
 ذَيْلَهُ" وہ مغزورانہ چال سے آیا۔
 تَسَحَّبَ - عَلَيْهِ - ناز کرنا۔ مِنْ
 الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ - بہت کھانا پینا۔
 - فِي حَقِّ فُلَانٍ - کسی کے حق کو
 چھین کر اپنے حق میں ملالینا۔ اَلتَّسَحُّبُ
 گھسٹنا۔
 السُّحْبَةُ - آنکھ پر آنے والے پردہ جو نظر
 کو کمزور کرتا ہے۔ وَ السَّحَابَةُ
 تالاب میں باقی ماندہ پانی۔
 السَّحَابُ - بادل۔ ج۔ سَحَبٌ - واحد
 (سَحَابَةٌ) ج۔ سَحَابَاتٌ - "أَقَمْتُ
 عِنْدَهُ سَحَابَةً يَوْمَئِذٍ" یعنی میں
 نے سارے دن اس کے پاس قیام کیا۔
 السَّحْبَلُ - فراخ وادی۔ بڑا ڈول۔ بڑی
 مشک۔ بڑا پیٹ۔
 سَحَّتَ رَفٍّ، سَحْتًا - حرام مال کمانا۔
 - کسی کو ہلاک کرنا۔ يَبِخُ وَيُبْنُ سَعَةً
 اَكْهَرْنَا - ذبح کرنا۔ تَحَّتِ السَّحْمُ
 عَنِ اللَّحْمِ - چربی کو گوشت سے
 چھیلنا۔ جَدَا كَرْنَا - وَجَّهَ الْأَرْضِ
 مَثَانًا۔
 أَسْحَتَهُ - خراب کرنا۔ ہلاک کرنا۔ يَبِخُ
 كُنِي كَرْنَا - أَسْحَتَتْ التِّجَارَةَ -
 تجارت میں کھوٹ و حرام مل جانا۔
 أَسْحَتَ - مال تباہ ہونا۔ مال کا محتاج
 ہونا۔
 السَّحْتُ - مص۔ یوسید کپڑا۔ عذاب۔
 کہتے ہیں "مَا لَهُ وَذَمُّهُ سَحْتٌ"
 اس کی جان اور اس کا مال تلف کرنے
 والے کے لیے مباح ہے۔
 السُّحْتُ وَ السَّحْتُ - حرام و ناجائز
 کماٹی، نجس و ناپاک کماٹی، جس سے علم

لازم آئے۔ مثلاً رشوت وغیرہ۔ ج۔
 أَسْحَاتٌ - مَالٌ سُحَّتْ وَ سَحَّتْ
 وَ سَحِيَّتٌ وَ مَسْحَتْ وَ مَسْحُوتٌ۔
 تلف شدہ مال۔ ہلاک شدہ مال۔
 رَجُلٌ سُحَّتْ وَ سَحِيَّتًا - بہت
 کھاؤ اور سیر نہ ہونے والا آدمی۔
 حَامٌ سُحَّتْ - خشک سال۔ اَرْضٌ
 سُحَّتَاءُ - روئیدگی سے خالی زمین۔
 السُّحُوتُ وَ السَّحِيَّتُ - کم چکنائی
 اور زیادہ پانی والا سٹو۔ تھوڑی چیز۔
 السُّحُوتُ وَ السَّحِيَّتُ پُرَانًا كِطْرًا۔
 السَّحِيَّتَةُ - سب کچھ ہالے جانے والا
 بادل۔ ج۔ سَحَابَاتٌ۔
 الْمَسْحُوتُ - الْجَوْفُ أَوْ الْبَعْدَةُ - نہ
 سیر ہونے والا۔ بد معنی سے تکلیف
 اٹھانے والا۔ (رشد)
 سَحَجَةُ رَفٍّ، سَحَجًا وَ سَحَجَةً۔
 چھیلنا۔ الشَّيْءُ بِالسَّحَجِ - ایک چیز
 کو دوسری سے رگڑ کر چھیلنا۔ صفت
 مفعول (مَسْحُوجٌ وَ سَحِيحٌ)
 سَحَجَتِ الدَّابَّةُ - جانور کا
 جا چلنا۔
 تَسَحَجَ وَ التَّسَحَجَ - چھیلنا۔
 السَّحَاجُ - بہت چھیلنے والا۔ "ذَمَّنْ
 سَحَاجٌ" سخت زمانہ جو ہر شے کو
 پھیل ڈالے۔
 السَّحُوجُ وَ الْمَسْحَاجُ - بہت قسمیں
 کھانے والی عورت۔ قسم کھانے کی
 عادی عورت۔
 الْمَسْحُوجُ وَ الْمَسْحَاجُ - مِنَ الدَّوَابِّ تَبِخُ
 چلنے والا جانور۔ بہت کھٹکھٹا جانور
 الْمَسْحَاجُ - کڑی کاٹنے کا اونڈل۔
 سَحْرُ رَفٍّ، سَحْرًا - دھوکا دینا۔ جادو
 کرنا۔ فریفتہ کرنا۔ جادو سے دل
 لُبھانا۔ عَيْنٌ سَحْرًا - چھیننا۔

دور کرنا۔ سَحْرَ عَيْنِ الْأَمْرِ - کسی
 معاملہ سے دور بنانا۔ وَ سَحْرُ
 الْفِضَّةِ - چاندی پر سونے کا گلط
 کرنا۔
 سَحْرَةُ رَفٍّ، سَحْرًا - پھیسپڑے پر مانا۔
 صفت مفعولی (مَسْحُورٌ وَ سَحِيحٌ)
 الْمَطَرُ الطَّيِّبُ - بارش کا مٹی کو
 خراب کرنا۔
 سَحْرَسُ (سَحْرًا) - صبح سویرے آنا۔
 ڈول وغیرہ کے کھینچنے سے پھیسپڑے کا
 کٹ جانا۔ صفت (سَحْرٌ وَ سَحِيحٌ)
 سَحْرَةٌ - جادو کرنا۔ سحری دینا یا کھلانا۔
 غدا دینا۔ مشغول کرنا۔
 أَسْحَرَ - صبح جانا۔ یا صبح ہونا۔
 تَسْحَرُ - سحری کھانا۔
 اَلتَّسْحَرُ - صبح ہونا یا صبح کو روانہ ہونا۔
 - الرِّبِكُ - مرغ کا بوقت صبح
 بانگ دینا۔
 السَّحْرُ - مص۔ وہ چیز جس کا ماخذ لطیف
 و باریک ہو۔ جھوٹ کو پچ بنا کر کھانا
 حیلہ بازی۔ فساد۔ ہر وہ چیز جس کے
 حصول میں شیطان تقریب سے مدد
 لی جائے۔ ج۔ اَسْحَارٌ وَ سُحُورٌ۔
 السَّحْرُ الْكَلَامِيُّ - کلام کی رنگین بیانی
 جو دلوں پر گہرا اثر ڈال کر خیالات میں
 انقلاب پیدا کرے۔ اور جادو کا سا
 رنگ دکھائے۔
 السَّحْرُ - صبح سے کچھ پہلے۔ السَّحْرُ
 الْأَعْلَى - صبح کاؤب۔ السَّحْرُ
 الْأَخْرَى - صبح صادق۔ ہر چیز کا کنارہ
 ج۔ اَسْحَارٌ۔
 السَّحْرُ وَ السَّحْرُ وَ السُّحُورُ - پھیسپڑا۔
 ج۔ سُحُورٌ وَ سُحُورٌ وَ سَحَارٌ۔
 "الْقَطْعُ مِنْهُ سَحْرِي" اس سے
 میری امید ٹوٹ چکی۔ وَ اَلتَّفَوُّحُ

کرنا۔ ہلاک کرنا۔ الريحُ الاُرضی۔
ہوا کا تندی کی وجہ سے زمین کو چھیل
ڈالنا۔ الساس۔ سرمونڈنا۔ الشیء
الشدیداً۔ سخت چیز کو نرم کرنا۔
القنلکة۔ بول کو مار ڈالنا۔ الثوب۔
کپڑے کو دھونا۔ العین دمعہا۔
آنکھ کا آنسو بہانا۔ کہتے ہیں: سحطہ
اللہ! یعنی اللہ سے ہلاک کرے۔
سحوق رس، وسحوق رک، سحقا۔
دور ہونا۔

سحوق رک، سحوقۃ۔ الثوب۔ کپڑے
کا پرانا ہونا۔ بوسیدہ ہونا۔ النخلۃ
درخت خرما کا لمبا ہونا۔ صفت (سحوق)
ج۔ سحوق۔

سحوق۔ سحوق کا بہاؤ۔
اسحوقہ۔ دور کرنا۔ ہلاک کرنا۔ الثوب
کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ نئے ہونے پر بھی
رواں جھڑ جانا۔ خفت البعیر
اونٹ کی ٹاپ کا گھس جانا۔ الضرع
تھن کا دودھ سے خالی ہو کر اور سکر کر
پیٹ سے لگ جانا۔

اسحوق۔ باریک ہونا۔ القلب
دل کا شکستہ و ذلیل ہونا۔ الشیء
وسیع ہونا۔ فراخ ہونا۔ دور ہونا۔
الثوب نئے ہونے پر بھی کپڑے کا
رواں جھڑ جانا۔

السحوق۔ مص۔ بوسیدہ کپڑا۔ سحوق
دہم۔ کھوٹا دہم۔

السحوق والسحوق۔ دوری۔ کہتے ہیں
"سحقالہ" یعنی اللہ اس کو اپنی
رحمت سے دور کرے۔

السحوق۔ دور۔ ینک سحوق۔
باریک پس ہوئی مشک۔

اسحوق۔ دراز یا دراز قامت آدمی۔
السحاقۃ۔ بہت پینے والا۔

ذبح کرنا۔ الطعام۔ کھانے سے
پھنڈا لگنا۔ سحط الشبَاب پانی
ملانا۔ السحل۔ بکری کے بچے کو
اس کی ماں کے ساتھ چھوڑنا۔
السحط۔ من ید۔ ہاتھ سے پھیل
کر کرنا۔ عن النخلۃ ونحوها۔
لکننا اور بغیر ہاتھ کے کپڑے ہونے
اترنا۔

المسحط۔ ملق۔ شاة وسحیط و
سحوطۃ۔ ذبح کی ہوئی بکری۔

سحف دف، سحفا۔ الشعر عن
الجلد۔ بال کو کھال سے چھیننا۔

الراس۔ سر مونڈنا۔ واسحفت
الریح السحاب۔ ہوا کا بادل کو
اڑالے جانا۔ واسحفت السحفة

پیٹھ کی چربی کو فروخت کرنا۔
السحفة۔ پیٹھ کی چربی۔ ج۔ سحاف۔

السحاف۔ سِل کی بیماری۔
السحیف۔ پستے وقت چکی کی آواز۔

دودھ دوہنے کی آواز۔
السحیفۃ۔ ہر چیز کو ہالے جانے والی

سخت یا ریش۔ چھیلی ہوئی چربی۔ ج۔
السحوف۔ ہر چیز کو ہالے جانے والی

سخت بارش۔ ناقة سحوف۔
لا غریبے چربی والی اونٹنی جس کے تھن

لمبے ہوں۔ اور تھنوں کے سوراخ تنگ
جمل اوناقۃ سحوف۔ بہت

چربی دار فریہ اونٹ یا اونٹنی۔
سحفت الحیثۃ۔ زمین پر سانپ رنگنے

کے نشانات۔
المسحفة۔ گوشت اور چھڑا چھیننے کے

اوزار۔ رجل سحوف۔ سِل
کی بیماری والا۔ ارض مسحفة

باریک گھاس والی زمین۔
سحفة دف، سحقا۔ خوب کولنا۔ باریک

سحرة۔ وہ بزدل و ڈرپوک ہو گیا۔
"ومات فلان بین سحری و
نحوی" وہ میرے سینے سے ٹیک
لگائے ہوئے فوت ہو گیا۔

السحری والسحریۃ۔ صبح سے کچھ پہلے
السحرة۔ صبح کا ذب۔

السحارة۔ پھیپڑا۔ من الشاة۔
بکری کے پھیپڑے اور زخروں کا حصہ

جس کو قصائی جدا کر لیتا ہے۔ عوام
اس کو "المعلق والقصبۃ"
بولتے ہیں۔

السحور۔ سحری کا کھانا وغیرہ۔
السحیر۔ پیٹ کی بیماری والا۔ من

الخیل۔ بڑے پیٹ والا گھوڑا۔
السحار۔ جادوگر۔

الساحر۔ فا۔ عالم۔ ج۔ سحرة و
سحار و سحار و ساحرون۔ مزین

الساحۃ۔ ج۔ ساحران و سواجر۔
السوحور۔ بید کا درخت۔

السحار والانسحار والانسحارة۔ ایک
سبزی ہے جو مویشی کو موٹا کرتی ہے۔

المسحر۔ وہ شخص جس کا پھیپڑا دور
کر دیا گیا ہو۔ خوف زدہ۔ جادو

کیا ہوا۔
المسحور۔ مفع۔ خراب شدہ کھانا۔

بارش کی زیادتی یا کسی اور سبب سے
ناکارہ و خراب جگہ۔ عنزۃ

مسحودۃ۔ کم دودھ والی بھیڑ۔
ارض مسحودۃ۔ بنجر زمین۔

تسحیح۔ الماء۔ پانی کا اوپر سے
بہنا۔

التسحیح والتسحیحۃ۔ گھر کا مٹن۔
التسحیح والتسحیحۃ۔ من المطر۔

شدید بارش جو سطح زمین کو چھیل ڈالے
تسحکۃ دف، سحطا و مسحطا۔ جلدی

<p>المَسْحُورُ - فرود پایہ - گنام۔ سَحْمٌ - اللَّحْمُ - گوشت کا بدبو دار ہونا۔ - الماءَ پانی گرم کرنا۔ اللہُ وَجْهَهُ - سیاہ رو کرنا۔ بِصُدْرِهِ - کسی کو غضبناک کرنا۔ تَسَحَّمٌ - عَلَيْهِ - کینہ رکھنا۔ غضبناک ہونا۔ السَّخْمُ - سیاہی۔ السُّخْمَةُ - سیاہی کینہ۔ غصہ۔ السُّخَامُ - کوئلہ، لاندھی کی سیاہی۔ پزندہ کے بازوؤں کے نیچے کے نرم و ملائم پر۔ تیلُ سُّخَامٍ - تاریک رات (س) والسُّخَامِيُّ والسُّخَامِيَّةُ خوشگوار شراب (خوشگوار شراب) الأَسْحَمُ - سیاہ۔ مَوْنُثٌ سَخْمَاءُ ج۔ سَخْمٌ۔ السُّخَامِيُّ - سیاہ۔ السَّخِيمَةُ - کینہ۔ کہتے ہیں: "سَلَّتْ سَخِيمَتُهُ بِاللَّطِيفِ" یعنی میں نے لطیف طریقہ سے اس کا کینہ ختم کر دیا۔ ج۔ سَخَامٌ۔ المَسْتَحْمُ - مفع۔ کینہ ور۔ سَحْنٌ (د) و سَحْنٌ (س) و سَحْنٌ (د) سَحُونَةٌ و سَحَانَةٌ و سَحْنَا و سَحْنَا و سَحْنَةٌ - گرم ہونا۔ سَحْنَةٌ (د) سَحْنَا - بالضرب تکلیف دہ مارا کرنا۔ "مَا اسْحَنَ صَرْبَةٌ" اس کی مار کس قدر المناک ہے۔ سَحْنَتُ (س) سَحْنَا و سَحُونًا و سَحْنَةٌ - عَيْتَةٌ - آئینہ کا تکلیف سے جلنا۔ اسْحَنَ و سَحْنٌ - الشَّيْءُ - گرم کرنا۔ کہتے ہیں: "اسْحَنَ عَيْنَهُ و لِعَيْنِي" اس نے اس پر مصیبت ڈال کر لادیا السْحْنُ و السْحْنَةُ و السْحْنَةُ و السْحْنَةُ و السْحْنَةُ و السْحُونَةُ۔</p>	<p>غضب میں آنا اور ناپسند کرنا۔ العَطَاءُ - بخشش کو کم سمجھنا۔ السُّحْطُ و السُّحْطُ و السُّحْطُ - ناراضگی، غصہ۔ المَسْحُوطُ - مفع۔ کمرہ۔ المَسْحُوطُ و المَسْحُوطَةُ - غصہ میں لانے والی چیز۔ سبب غضب ج۔ مَسَاخِطُ سَحْفَ (د) سَحْفًا و سَحْفَةً - کزور عقل والا ہونا۔ سَحْفَتُ العَزْلِ - باریک ہونا۔ السِّقَاءُ - مفک کا کزور ہونا۔ پھٹنا۔ سَحْفَةٌ - کم عقل ٹھہرانا۔ سَاخَفَهُ - بیوقوفی کا برتاؤ کرنا۔ السُّخْفَةُ و السُّخْفَةُ - لاغری۔ کزوری کم عقلی۔ السُّخْفُ - تنگ گزارہ کی زندگی۔ و السُّخْفُ - کم عقلی۔ السَّخِيفُ - کم عقل۔ ثَوْبٌ سَخِيفٌ - پتلا جھیرا کپڑا۔ سَخِيفُ العَقْلِ - ناقص العقل۔ رَأْيٌ سَخِيفٌ - کزور رائے۔ سَجَابٌ سَخِيفٌ - پتلا پتلا بادل۔ السَّخَاْفَةُ - مہم بہر چیز کی کزوری۔ اَرْضٌ مُسَخِفَةٌ - کم گھاس والی زمین۔ سَخَلَهُ (د) سَخَلًا - صاف کرنا۔ سَخَلَ الشَّيْءَ - چیز کو دھوکے سے لینا۔ سَخَلَهُ - عیب لگانا۔ کزور کرنا۔ اسْحَلَ - الأمر - پیچھے کرنا۔ کام کو پیچھے ڈالنا۔ السَّحْلُ - کزور۔ مِنَ القَوْمِ - رذیل ج۔ سَحْلٌ و سَحَالٌ - السَّحْلَةُ - بکری کا بچہ۔ ج۔ سَحْلٌ و سَحَالٌ و سَخْلَانٌ و سَخْلَةٌ - السَّخَالَةُ - پچھوڑن، پھٹکن۔</p>	<p>التَّحَبُّبُ - شور۔ السَّخَابُ - لوگوں کا مار۔ کہتے ہیں: وَجَدْتُكَ دَارِثًا السَّخَابُ - میں نے تم کو بچہ کی طرح ناسمجھ پایا۔ ج۔ سَخَبٌ۔ السَّخَاتُ - السَّخِيَّتَانَا - الجَرْمُ - زخم کا ورم ہلکا ہونا۔ السَّخْتُ و السَّخِيْتُ سحت۔ السُّخْتُ - گور۔ المَسْحُوتُ - چکنا۔ چکیلا۔ السُّخْتِيَانُ و السُّخْتِيَانُ - بکری کی رنگی ہونی کھال۔ سَخَّوَهُ (ف) سَخْرِيًّا و سَخْرِيًّا - و سَخْرَةً و تَسَخَّرَهُ و اسْتَسَخَّرَهُ - کسی سے بیگار لینا۔ سَخَّرَهُ و سَخَّرَهُ - مغلوب کرنا۔ ذلیل کرنا۔ تَسَخَّرَتْ (ف) سَخَّرًا - السَّيْفِيَّةُ - کشتی کا عمدہ رفتار سے چلنا۔ صفت۔ (سَاخِرَةٌ) ج۔ سَوَاخِرٌ۔ سَخَّرَ (س) سَخَّرًا و سَخَّرًا و سَخَّرًا و مَسَخَّرًا و تَسَخَّرَ و اسْتَسَخَّرَ - یہ و مِنْهُ - ٹھٹھا کرنا۔ اَنَا اَقُولُ هَذَا و لَا اسْحَرُ - میں یہ ہنسی سے نہیں کہتا بلکہ سنجیدگی سے کہتا ہوں اور سچ بات کہتا ہوں۔ السُّخْرَةُ - جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ بیگاری یا بیگار۔ المَسْخَرَةُ - وہ جس سے ٹھٹھا کیا جائے السُّخْرَةُ - مذاق۔ المَسْخَرِيُّ - بیگار۔ (د) و السُّخْرِيَّةُ - محول ٹھٹھا (سَخَسَرٌ) السَّخَا سَيْئَرٌ عمدہ نرم زمین۔ سَخَطَ (س) سَخَطًا - الرَّجُلَ و عَلَيْهِ - کسی پر غضبناک ہونا۔ الشَّيْءُ - ناپسند کرنا۔ اسْحَطَهُ - کسی پر غضبناک کرنا۔ تَسْحَطَةُ - ناراض ہو کر غیظ و</p>
---	---	--

گرمی بخار۔ عَلِيكَ بِالْأَمْرِ عِنْدَ
تُخَيِّتُهُ۔ معاملہ کو شروع ہی میں قابو

میں کر لو۔

السُّخْنُ وَالسُّخْنَانُ وَالسُّخْنَانُ۔ گرم۔

مَاءٌ سَيْخِيْنٌ۔ گرم پانی۔ ضَرْبٌ

سَيْخِيْنٌ۔ المناک مار۔ السَّيْخِيْنُ

کمال۔ بیلچہ، پھاوڑا۔ قِصَانٌ كِجْرِي

بَلْ كَادِسْتِهْ۔ ج۔ تَخَايْحِيْنُ۔

السَّايْحِيْنُ۔ فا۔ گرم۔ ج۔ سُوْحَانٌ۔

مُوْنْتٌ سَايْحَانَةٌ۔ تَيْلَةٌ سَايْحَانَةٌ

گرم رات۔

السُّخَايْحِيْنُ۔ گرم۔ مَاءٌ سُوْحَايْحِيْنٌ

گرم پانی۔ کلام عرب میں اس لفظ کے

علاوہ مُفَاعِيْلٌ کا وزن کہیں نہیں

آیا۔

السَّيْحِيْنُ۔ ہر وہ چیز جو گرم ہونے ٹھنڈی۔

السَّيْحِيْنَةُ۔ آٹے سے تیار کیا ہوا کھانا۔

گرم کھانا۔

التَّسَايْحِيْنُ۔ ہانڈیاں۔ موزے، علماء کا

سر پر ڈالنے کا کپڑا (اس کا واحد نہیں)

بعض کے نزدیک تَسْحَنٌ يَأْتِسْحَانُ

اس کا واحد ہے۔

المُسْحَنَةُ۔ دیکھی، ہانڈی،

سَخَا يَسْحُوْ وَيَسْحِيْ يَسْحُوْ وَيَسْحُوْ

يَسْحُوْ سَخَا وَسَخَا وَسَخَاوَةٌ وَ

سَخُوْ وَ سَخُوَةٌ۔ فیاض ہونا۔

سخی ہونا۔

سَخَا النَّارُ يَسْحُوْهَا۔ سَخُوْا۔ وَ

يَسْحَاهَا سَخُوْا وَسَخِيْا۔ راکھ نکال کر

آگ جلانا۔ الْقِدْرُ۔ ہانڈی کے

نیچے آگ جلانا۔ الرَّجُلُ۔ سکون

اختیار کرنا۔

تَسَاخِيْ وَتَسْحِيْ۔ بناوٹی سخی بنانا۔

السَّخَاوَةُ۔ فیاض، سخاوت، بخشش۔

السَّخَاوَةُ۔ ایک قسم کی سبزی۔

السَّيْحِيُّ۔ بخشش کرنے والا۔ فیاض۔ ج۔

السَّيْحِيَّةُ وَالسَّخَاوَةُ۔ مُوْنْتٌ سَيْخِيَّةٌ

ج۔ سَخَايَا وَسَخِيَّاتٌ۔ الارضُ

السَّخَاوَةُ۔ کشادہ نرم زمین۔ ج۔

تَسْحَاوِيْ وَتَسْحَاوِيْ۔

مَسْحِيْ النَّاسِ۔ ہانڈی کے نیچے کشادہ کی

ہوئی جگہ تاکہ آگ بسہولت جل سکے۔

سَدَانٌ، سَدَاٌ۔ الْإِقَاءُ۔ برتن بند

کرنا۔ الثُّمَلَةُ۔ سوراخ یا رخنے

دور کرنا۔ درست کرنا۔ الْبَابُ۔

دروازہ بند کرنا۔

سَدَّ (س من) سَدَّ اَوْ سَدَّ اَدَا۔

درست ہونا۔ هُوَ يَسُدُّ فِي قَوْلِهِ

وَهُ تَحْكَمُهُ كِي بَات كِتَابِي۔ وَقُلْتُ كَفَّ

سَدَّ اَدَا مِنْ الْقَوْلِ وَسَدَّ اَدَا۔

میں نے اس سے ٹھیک اور سیدھی

بات کہی۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا سیدھا ہونا۔

سَدَّادٌ۔ الرَّوْحُ۔ نيزہ کو سیدھا کرنا۔

۵۔ راہ راست کی طرف ہدایت کرنا۔

راہ راست دکھانا۔

أَسَدَّ الشَّيْءُ۔ سیدھا ہونا۔ الرَّجُلُ

صواب تک پہنچنا یا صواب ودرستی

پا ہونا۔

كَسَدَّادٌ۔ سیدھا ہونا۔ الشَّيْءُ۔ درست

ہونا۔

اَلسَّدُّ وَالسَّدَّ اَلسَّدَّ اَدَا وَ اَسْتَدَّ اَدَا۔

بند ہونا۔

اَسْتَدَّ الشَّيْءُ۔ سیدھا ہونا۔ درست ہونا

السَّدُّ وَالسَّدُّ۔ ج۔ اَسَدَّ اَدَا۔ دو چیزوں

کے درمیان روک یا آڑ پھاڑ۔ وَ

السَّدُّ۔ ج۔ اَسَدَّةٌ۔ حیب بٹکانا

اندھلین۔ وَالسَّدُّ۔ ج۔ سَدَّادٌ۔

افق پر چھابنے والا سیاہ بادل۔

حَيْرَادٌ سَدَّافٌ۔ افق کو ڈھک لینے

والا ہانڈی کا دل۔ وَالسَّدُّ۔ ج۔

سَيِّدَادَةٌ۔ پتھروں اور چٹانوں والی

وادی جس میں پانی بہت ٹھہرے۔ وادی

سایہ۔ کلام سَيِّدٌ۔ درست کلام۔

السَّدَادُ۔ م۔ درست۔ راست۔ دوستی۔

السَّدَادُ۔ ہدایت، درستی، راستی۔

السَّدَادُ۔ السَّدَادُ۔ سخن میں جا ہوا

دودھ جو دودھ کی نالی کو بند کر دیتا ہے

السَّدَادَةُ۔ دُحْكُنَا السَّدَادُ۔ ناک کی

بیماری جس سے ہوا بینی دشوار ہو۔

رَجُلٌ سَدَّادٌ۔ سیدھا آدمی۔

السَّدَادَةُ۔ گھر کا دروازہ۔ برآمدہ، بیٹھنے

کی جگہ جیسے منبر۔ ج۔ سَدَّادٌ۔

عَيْنٌ سَدَّادَةٌ۔ کمزور نظر کی آنکھ۔ ج۔

سَدَّادٌ۔

الْأَسَدُّ۔ ج۔ سُدَّ (وَالسَّيِّدُ) ٹھیک

درست۔ حق کا طالب۔

الْمَسَدُّ۔ بند کرنے کی جگہ۔ سَدَّ

مَسَدَّةٌ۔ قائم مقام ہونا۔

سَدَّاجٌ (ر) سَدَّاجٌ۔ بِالشَّيْءِ لَمَّا

کرنا۔ وَتَسَدَّاجٌ، جھوٹ بولنا۔

جھوٹی باتیں بتانا۔ صفت (سَدَّاجٌ)

اِسْتَدَّاجٌ۔ منہ کے بل کرنا۔ اونڈھا کرنا۔

سَدَّاحَةٌ (ف) سَدَّاحٌ۔ ذبح کر کے زمین پر

لٹانا۔ بچھاڑنا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کو

بٹھانا۔ الْقَرْبَةَ۔ ٹھیک بھڑنا۔

سَدَّاحٌ۔ بِالْمَكَانِ۔ اقامت کرنا۔

سَدَّاحَةٌ وَسَدَّاحَةٌ قَلْبٌ كَرْنَا

اِسْتَدَّاجٌ۔ ٹانگیں کشادہ کر کے چت لینا۔

السَّادِجُ۔ فا۔ آسودہ مال۔ مال وار۔

مُوْنْتٌ۔ سَادِجَةٌ۔ السَّادِجَةُ

گھٹا ٹوپ بادل۔

السَّادِجُ وَالسَّادِجُ۔ چت لینا ہوا۔

اِسْتَدَّاجٌ۔ پھیلنا۔

سَدَّارٌ (س من) سَدَّارٌ اَوْ سَدَّوْدٌ۔

الشَّعْرُ۔ بالوں کا لٹکانا۔ الثَّوْبُ

کپڑا پہاڑنا لمبائی میں لٹکانا۔ الوجیل
فی البلاد۔ ملک میں ایسا جانا کہ
پھر نہ لوٹنا۔

سیدرس (سدر) اور سدرانہ۔ حیران
ہونا۔ لاپرواہ ہونا۔ البعیڑ۔
اونٹ کا گرمی کی تیزی سے پندھیا جانا
صفت (سادر)

انسدر۔ الشعور۔ بال لٹکانا۔ انسدر
یرکض۔ وہ آہستہ دھڑا۔ دھولوان
سے نیچے اترنا۔

تسدر۔ بشوبہ۔ کپڑا اوڑھ لینا۔
السدر۔ بیری کا درخت۔ ج۔ سدود۔
السدرۃ۔ بیری کا درخت۔ ج۔

سدرات و سدرات و سدرات
وسدر۔ (و سدرۃ المنتھی)
عرش الہی کی داہنی جانب بیری کا
درخت جو طائفہ وغیرہ کی پہنچ کی آخری
حد ہے۔

السدر۔ حیران۔ سمندر۔ ناقہ
سدرۃ۔ بوڑھی اونٹنی۔

السدر۔ بیری کے پتے بیچنے والا۔
السدری۔ گھاس۔ چمرو کے اطراف میں
ایک دریا کا نام۔ شاہ نعمان کا محل۔
بین میں ایک جگہ کا نام۔ جہاں کی
چادریں مشہور ہیں۔

الاسدات۔ آنکھ کی دورگیں۔ دونوں
شانے۔ جہاں یضرب اسدریہ
یعنی وہ بے تیل مرام خالی ہوتے آیا۔

سدس (رض) سدسا۔ القوم۔ چھا ہونا
سدس (رض) سدسا۔ القوم۔ قوم کے
مال کا چھا حصہ لینا۔

سدس۔ شش پہلونا۔

اسدس۔ القوم۔ چھ ہونا۔ قوم کے
اونٹوں کا چھٹے روز گھاٹ پر آنا۔
البعیڑ۔ اونٹ کا آٹھویں سال میں

وانت کرانا۔

السیدس۔ اونٹ کی چھٹے روز بانی پینے
کی باری۔

السدس والسدس۔ چھا حصہ۔ ج۔
اسداس کتے ہیں۔ ہو یضرب
انجاسا لاسداس۔ وہ مکرو فریب
کی کوشش کرتا ہے۔

السدس۔ آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ
ج۔ سدس۔

السادس۔ فا۔ چھا۔ ٹونٹ۔ سادسۃ
السداسی۔ چھ سے مرکب۔ چھ حرفوں والا
کلمہ۔ "جاؤ اسدس۔ وہ چھ چھ
ہو کر آئے۔

السدوس والسدوس۔ سبز رنگ کی چادر
السدیس۔ چھا حصہ۔ ج۔ سدس۔
چھ سے مرکب۔ آٹھویں سال کا اونٹ
چھ سال کی بکری۔

المسدس۔ چھ ضلعوں والی شکل۔ چھ فیرا
ریوالور۔

سداعذرف، سدعا۔ ذبح کر کے پھیلانا
۔ الشیء بالشیء۔ ایک چیز کو دوسری
چیز سے ٹکرانا۔

سیدع۔ رنج و اذیت پہنچایا جانا۔
السدعة۔ معیبت، رنج و اذیت۔
المسدع۔ اپنے ارادہ پر چلنے والا۔
راہنما۔ لیڈ۔

سداف (رض) سدفا۔ القوم۔ تاریکی میں
آنا۔ الحجاب۔ پر وہ لٹکانا۔
صفت مضمون (مسدوف)۔

اسداف۔ سونا بھوک یا بڑھاپے
کی وجہ سے نظر کا دھندلا ہونا۔
القوم۔ تاریکی میں آنا۔ اللیل۔

رات کا تاریک ہونا۔ صفت (اسداف)
ٹونٹ سدفاؤ۔ ج۔ سداف
الفجر۔ صبح کا روشن ہونا۔

السدر۔ پر وہ لٹکانا۔ المرآة
القنار۔ عورت کا برقعہ ڈالنا۔
اسداف عن کذا۔ الگ ہونا۔

اسداف الباب۔ دروازہ کھولنا
دروازہ سے ہٹ جاؤ تاکہ روشنی گھر
میں آسکے۔

سداف۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا
السداف۔ تاریکی، روشنی (رض)۔ ج۔
اسداف۔

السدف۔ دور سے دکھائی دینے والا وجود
ج۔ سدوف۔

السدفۃ والسدفۃ۔ تاریکی، روشنی،
رضد، السدفۃ۔ دروازہ۔ بارش
سے بچاؤ کے لیے دروازہ کا پھج۔

السیدیف۔ کولہن کی چربی۔ چربی کا ٹکڑا۔
ج۔ سداف و سدایف۔

السیدیفۃ۔ فریاد و مٹی۔ ج۔ سدایف۔
السدافۃ۔ پر وہ۔

السدق والسودق۔ سداق اور
سودق کا بگاڑ ہے۔ السیداق
ایک درخت۔

سدک (رض) سدگا۔ بال لاصو۔ لازم ہونا
چھٹنا۔ مشتاق ہونا۔ صفت (سدک)
یہ۔

سدال (رض) سدال و سدال۔
الشعور أو الثوب۔ بال یا کپڑے کو
چھوڑنا۔ لٹکانا۔ سدال الثوب
کپڑا پہاڑنا۔ فی البلاد۔ ملک میں
جانا۔ تسدال و اسدال۔ لٹکانا۔

سدال (رض) سدال۔ مائل ہونا۔
سدول۔ الرجل۔ لمبی اونچیں رکھنا۔

السیدل۔ سینہ تک ٹکنے والا بار۔
السدال، پر وہ۔ ج۔ اسدال
و اسدال و سدول۔ کتے ہیں۔

ارخی اللیل سدالہ۔ یعنی رات

سترة - خوش کرنا۔ سترة سويدية
 لونڈی سے شادی کرنا۔
 سارة - پوشیدہ بات کرنا۔ کان میں
 بات کرنا۔ کاننا پھوسی کرنا۔
 تسرس - لونڈی بنانا۔ الثوب - کپڑا
 پھٹنا۔
 تسار - القوم - آپس میں سرگوشی
 کرنا۔ کاننا پھوسی کرنا۔ ایک دوسرے
 کو بھید بتانا۔
 استسرا - استسرا لونڈی بنانا۔
 - عنه - پھینا۔ القمر - چاند
 کا ماہ کی آخری راتوں میں پھینا۔
 المشع - چھپانے میں مبالغہ کرنا۔
 الرجل - خوش ہونا۔ الرجل -
 اپنے بھید سے کسی کو واقف کرنا۔
 السرم - رجل بر سر - نیکی کر کے
 خوش ہونے والا آدمی۔
 السرا - سرالہ - بھید ہانہ۔ کتے
 ہیں " صدود الاحرار بعد
 الاسرار - احرار کے سینے بھیدوں
 کے لیے قبریں ہیں۔ رجل سیری
 کاموں کو خفیہ طریقہ سے کرنے والا
 آدمی " فلان ستر هذا الامور
 فلاں اس معاملہ سے واقف ہے۔
 عیساہوں کے یہاں ایک محسوس
 علامت فاشا رہے۔ جس کے متعلق
 ان کا مان یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ
 نے تزکیہ نفوس کے لیے متعین فرمایا
 تھا۔ السرا - طریقہ۔ بیچ۔ وادی
 کا درمیان۔ خالص چیز۔ چیز کا پاکیزہ
 ترین و بہترین حصہ۔ پاکیزہ عمدہ زمین
 ماہ قمری کی پہلی رات یا آخری رات یا
 وسط ماہ۔ اصل۔ ہر چیز کا جوف و
 مغز۔ ج۔ اسرة۔
 السرا - سرالہ۔ ج۔ اسرا۔ وجہ

اسا سیرا - ہاتھ یا ماتھے کے خطوط
 الاساریر - چہرہ کی خیریاں۔
 السرا - بچہ کی نال۔ ج۔ اسرة
 اور سرور - سرور کے معنی بھی
 دیتا ہے۔
 السرا والسرا - ہاتھ اور پیشانی
 کے خطوط، بچہ کی نال۔ السرا -
 ماہ قمری کی آخری رات۔ چیز کا کھرا
 ہونا۔
 السرة - گلستہ۔
 السرة - نال، ناف۔ ج۔ سرات و
 سرور - سرور الوادی۔ وادی کا
 درمیان یا عمدہ حصہ۔ سرور البلد -
 وسط شہر۔ سرور الحوض - حوض کا
 پینڈا جہاں پانی ٹھرتا ہے۔ سرور
 القرین - ایک ستارہ۔ امراة
 سرور - لوگوں کو خوش کرنے والی
 عورت۔
 السرا - خوشی۔ السرا - خوشی
 نازبو کی شاخیں۔
 السرا - ج۔ اسرة و سرور۔ تخت،
 زیادہ تر استعمال تخت شاہی کے لیے
 ہے۔ " نال عن سیریرہ " یعنی اس
 کی عزت و نعمت جاتی رہی۔ خوابگاہ
 گدون اور سرطنے کی جگہ۔ نعمت۔
 ننگا کی آسودگی، ٹیلہ پر کی ریت۔
 السرا - بھید، راز، خفیہ معاملہ۔ نیت
 کتے ہیں " هو حلیب السرا "۔
 یعنی وہ پاک دل بھری نیت کا آدمی
 ہے۔ ج۔ سرا۔
 السرا - گھر کی لونڈی۔ ج۔ ساری
 السرا - بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک
 سے پیش آنے والا۔ اور مل کو خوش
 رکھنے والا۔
 السرا - خوشی۔ خوشحالی۔ کتے ہیں۔

هو صديق لهم في السرا و
 السرا - وہ فراخی و تنگ مالی میں
 انکا دوست ہے۔
 السرا - ہاتھ و پیشانی کے خطوط۔ کیریں۔
 ج۔ اسرة۔
 السرا - خالص النسب۔ " سراسر
 الشهر " ماہ کی آخری رات۔ سراسر
 الوادی - وادی کا عمدہ حصہ۔
 السرا - خالص النسب۔ وادی کا
 درمیان۔ وسراة الشی - چیز کا
 عمدہ خالص حصہ۔ ج۔ سراسر۔
 " هو فی سراسر من کمیشہ "۔
 وہ خوب فراخی و خوشحالی میں ہے۔
 السرا - خوشی و خوشحالی۔
 الاسرا - بیچ سے پولا چھتاق۔ من
 الرجال - اجنبی آدمی۔ بہت موٹا۔
 المسرا - مسرت و خوشی۔ نازبو
 کی شاخیں۔ ج۔ سراسر۔ المسرا
 مجوف۔ نالی جس کے ذریعہ سے
 پوشیدہ باتیں کرتے ہیں۔
 المسرا - مؤنث۔ مسراة۔
 سرات رف، سراء و سرات۔
 الجراة او السمكة او الضبة۔
 ٹڈی یا مچھلی یا گوہ کا انڈے دینا۔
 السراة - عورت کا زیادہ بچے دینا۔
 اسرات۔ السمكة۔ مچھلی کا انڈے دینے
 کے وقت کو پہنچنا۔
 السرا والسراة - ٹڈی، مچھلی، گوہ
 وغیرہ کا انڈا۔
 السرا - من السمک و نحوها۔ بہت
 انڈے دینے والی مچھلی وغیرہ۔ ج۔
 سرور۔ وسرا - آرض
 مسراة۔ بہت ٹڈی والی زمین۔
 سرب دن سروریا۔ الماء پانی کا
 جاری ہونا۔ بنا۔ الرجل - گھستے چلے

جانا۔ الایبل۔ اونٹوں کا چرنے کے لیے جانا۔ (سربا) القربۃ۔ مشک سینا۔

سرب دس، سربا۔ الیناء۔ برتن کا ٹیکنا۔ الماء من الیناء۔ پانی کا برتن سے بہ جانا۔

سرب۔ ناک میں چاندی کا دھواں داخل ہونے سے گھٹن محسوس کرنا۔ صفت (سرب)

سرب۔ الایبل۔ اونٹوں کی ٹولی ٹولی کر کے بھیجنا۔ الیع الاشیاء۔ اس نے مجھ کو چیزیں ایک ایک کر کے دیں۔ الخافز۔ زمین کو دائیں بائیں سے کھودنا۔ القوبۃ۔ مشک میں پانی ڈالنا۔ (سرب) الماء من الیناء۔ برتن سے پانی بہانا۔

سرب۔ من الماء۔ پانی سے بھر جانا۔ الوحش فی حجبہ۔ وحشی جانور کا اپنے سوراخ میں گھس جانا۔

السرب۔ سوراخ میں داخل ہونا۔ الماء من الیناء۔ پانی بہنا۔

السرب۔ مصر۔ مویشی۔ جانب۔ سینہ، راستہ۔ کہتے ہیں: فلان مخری السرب۔ فلاں پر کوئی تنگی نہیں۔ "وخل لہ سورب" اس کا راستہ چھوڑو۔

السرب۔ ہرنوں کا رپوڑ یا پرندوں کا ٹولہ کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔ راستہ۔

دل۔ فلان واسع السرب۔ فلاں فراخ دل ہے۔ ج۔ اسراب۔

السرب۔ وحشی جانور کا سوراخ یا بل۔ زمین کے اندر کا گڑھا۔ تہ خانہ۔ پانی کی نالی۔ مشک سے بننے والا پانی۔

طریق سرب۔ بہت چلتا ہوا راستہ۔ ج۔ اسراب۔

السرب۔ بننے والا پانی۔ مواد سوربہ۔ بننے والی مشک۔

السربۃ۔ قریب کا سفر، مشک کی سیون۔

السربۃ۔ ہرنوں گھوڑوں وغیرہ کا رپوڑ۔ راستہ۔ انگور کی بیلوں کی قطار۔

کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔ بیج سینہ سے پیٹ تک کے بال۔ ج۔ سرب۔

السراب۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں پانی کی طرح نظر آنے والی ریگستانی ریت۔ جھوٹ و فریب کے لیے یہ ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں: هو اخدع من السراب۔ وہ سراب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ اور فریبی ہے۔

السراب۔ فاء۔ صاف ظاہر۔ واضح۔ (و السرب) سیدھا جانے والا۔

السرب۔ ج۔ مسراب۔ راستہ۔

سرب الماء۔ پانی بننے کا راستہ۔

السربۃ والمسربۃ۔ چراگاہ۔ بیج سینہ سے پیٹ تک کے بال۔ آنسو بننے کی جگہ۔ ڈبر۔ ج۔ مسراب۔

المسرب۔ لمبا۔ تیز بننے والا پانی۔

سربخ۔ دوپہر کو چلنا۔ آرام سے چلنا۔ چست و چالاک ہونا۔

السربخ۔ دور تک پھیلا ہوا بیابان جو آدمی کو بھٹکا دے۔ قفر (سرباخ و مسربخ) دور تک پھیلا ہوا بیابان جو راہ چلتے والے کو بھٹکا دے۔ گم کر دے۔

سربلہ۔ قمیص پہنانا۔ کرتا پہنانا۔

سربل بالسربال۔ قمیص پہنانا۔

السربال۔ قمیص یا ہر پہنا جانے والا لباس۔ ج۔ سربیل۔

سرب دس، سورجا۔ جھوٹ بولنا۔

المرآة شعرحا۔ عمدت کا بالوں کو گوندھنا۔ بالوں کی چوٹی بنانا۔

سرب دس، سورجا۔ جھوٹ بولنا۔ حسین چہرہ والا ہونا۔

سرب۔ الشیء۔ چیز کو خوبصورت بنانا۔

سربہ اللہ توفیق دینا۔

سرب۔ الشعر۔ بال گوندھنا۔ بالوں کی چوٹی بنانا۔ الحدیث بات گھر لینا۔ کہتے ہیں: انک السرب الاحادیث۔ تسربجا۔ وہ جھوٹی باتیں گھرتا ہے عوام کہتے ہیں: سورج الثوب۔

یعنی اس نے سلانی کے دور دور ٹانگے لگائے۔ صحیح لفظ سرب۔ ہے

اسرب۔ الفرس۔ گھوڑے پر زین کنا۔ السراج۔ چراغ روشن کرنا۔

اسرب۔ علیہ۔ جھوٹا لگانا کرنا۔

السرب۔ زمین۔ ج۔ سورج۔

السراج۔ چراغ۔ ج۔ سورج۔

سراج اللیل۔ جگنو۔

السراج۔ تلوں کا تیل۔ اس کو شیخ۔ بھی بولتے ہیں۔

السراج۔ جھوٹا۔ زمین ساز۔ السراجۃ۔ زمین سازی۔

الاسرجۃ۔ جھوٹ۔

السربجات۔ سرب لوبار کی بنائی ہوئی تلواریں۔

الاسرجۃ۔ چراغ دان۔ ج۔ مسارب۔

الاسرجۃ۔ چراغ۔ ج۔ مسارب۔

السرجون والسرجون والسرجون۔ گوبر سرجتارن، سرجا و سرجا۔

المواشی۔ مویشی کا چرنے کے لیے جانا۔

السیل۔ سیلاب کا آہستہ آہستہ بہنا۔ سرجا، المواشی۔ مویشی کو چرنے کے لیے بھیجنا۔ سرجا۔

بھیجنا۔ سرج ما فی صدرہ۔ دلی بات کو کھولنا۔

سرب دس، سرجا۔ الرجل۔ کسی کا

<p>پڑھو گی۔ السَّرَادُ وَالسَّرِيدُ وَالسَّرْدُ - ستالی۔ السَّرْدُ - زبان۔ دُہری سلائی کا جوتا۔ السَّرَادُ - زرہ ساز۔ السَّرْوَدُ وَالسَّرْوَدُ وَالسَّرْوَدَةُ - زرہ السَّرْدَابُ - تہ خانہ۔ ج۔ سَرَادِيْبُ۔ سَرْدَجَةٌ - مہل چھوڑنا۔ سَرْدَحَةٌ بیکار چھوڑنا السَّرْدَاخُ وَالسَّرْدَاخَةُ - لمبی مضبوط اونٹنی، کیلے کے درختوں کا جھنڈ۔ واحد۔ (سَرْدَاخَةُ) ارضِ سَرْدَاخُ۔ ہموار زمین۔ دور کی زمین۔ ج۔ سَرَادِيْحُ وَسَرَادِيْحُ۔ سَرْدَقُ - البکیت۔ پر وہ لگانا شامیانہ لگانا۔ خیمہ لگانا۔ السَّرَادِقُ - شامیانہ۔ خیمہ۔ اوپر چھایا ہوا غبار یا دھواں۔ ج۔ سَرَادَقَاتُ۔ سَرَسُ (س) سَرَسًا - بدخلق ہونا بے عقلی کے بعد عقل مند ہونا۔ جمالت کے بعد دانا ہونا۔ السَّرِيْسُ - دانا۔ مقبوضہ چیز کی حفاظت کرنے والا۔ سَرَسَرُ - الشَّفْرَةُ - دھار تیز کرنا۔ السَّرْسُورُ - دانا۔ زیرک۔ پیارا۔ خالص ساتھی کہتے ہیں: هُوَ سَرْسُورٌ مَالٍ وہ مال کا بہت اچھا منتظم ہے۔ اور اس کے مصارع سے خوب واقف ہے۔ السَّرْسَامُ - دماغ کی ایک بیماری۔ سَرَطَانُ، وَسَرَطَانُ، سَرَطَانُ سَرَطَانًا وَسَرَطَانًا وَسَرَطَانًا۔ الشَّيْءُ - نکلنا۔ السَّرَطُ - الشَّرَابُ فِي حَلْقِهِ - حلق میں آسانی سے اتر جانا۔ السَّرَاظُ - صاف کھلا راستہ۔</p>	<p>السَّرْمُ - ج۔ مَسَارِحُ وَالسَّرْمَةُ - کنگھی المَسْرَمُ - چراگاہ۔ ج۔ مَسَارِحُ۔ المَسْرَحُ - شعر کی بحر میں سے ایک بحر - وَالسَّرِيَاخُ، مِنَ الْخَيْلِ - تیز رو گھوڑا۔ رَجُلٌ سَرِيَاخٌ - دراز آدمی۔ السَّرَاخُ - تشریح کا اسم۔ کہتے ہیں۔ «لَفَعَلُهُ فِي سَرَاخٍ وَرَوَاخٍ» اس کو آسانی سے کرو۔ السَّرْحُوْبُ - گیدڑ۔ متناسب الاعضالبا آدمی۔ السَّرْحَالُ - بھیڑیا۔ سَرْدَرَنْ (ض) سَرْدُ او سَرَادَا - الجِلْدُ - چڑاسینا۔ الشَّيْءُ۔ سوراخ کرنا۔ الدَّرْعُ - زرہ بننا۔ - الْحَدِيثُ أَوْ الْقِرَاءَةُ - اچھی طرح بیان کرنا یا پڑھنا۔ اچھی طرح رواں کرنا۔ الصَّوْمُ - لگاتار روزے رکھنا۔ الْكِتَابُ - کتاب کو تیزی سے پڑھنا۔ سَرْدُ (سَرْدُ) سَرْدًا - مسلسل روزے رکھنا۔ سَرْدُ وَأَسْوَدُ - الْأَدْوِيْعُ وَخَوَّةُ چڑاسینا۔ النَّخْلُ - درخت خرما کا پانی نہ پلنے سے مرجھا جانا۔ سَرْدُ - الدَّرُ - مرتبہ کا ترتیب وار پر جانا۔ کہتے ہیں: تَسْرَدَ مَعَهُ گناہ یا تَسْرَدَ اللُّوْلُوْهُ یعنی مرتبہ کی طرح اس کے آنسوؤں کی لڑی بندھ گئی۔ السَّرْدُ - مص۔ زرہ۔ زرہ کی کڑیاں۔ نَجْمٌ سَرْدٌ - ساتھ ساتھ ایک قطار کے ستارے۔ السَّرْدُ - مص۔ لگاتار ہونا۔ السَّرَادُ - پانی نہ دیا جانے سے پھل کی</p>	<p>اپنے معاملات کے لیے نکلا سَرَدَ - المَوَاشِي - مویشی کو چرنے کے لیے بھیجا۔ القَوْمُ - آزاد کر دینا۔ چھوڑ دینا۔ الزَّوْجَةُ - بیوی کو طلاق دینا۔ اسم السَّرَاخُ ہے۔ إِلَيْهِ رَسُوْلًا - پیغام بھیجنا۔ الْأَمْرُ کام کو آسان کرنا۔ اللَّهُ فُلَانًا لِلْخَيْرِ - کسی کو بھلائی و نیکی کی توفیق دینا۔ الشَّعْرُ - بالوں میں لگھا کرنا۔ عَنَهُ - کھول دینا۔ السَّرْحَتِ - الدَّابَّةُ - جانور کا نرم اور تیز چلنا۔ الرَّجُلُ - پاؤں کھول کر چرت لیٹنا۔ ننگا ہونا۔ تَسْرَوَ - مِنَ الْمَكَانِ - نکلنا۔ عَنَهُ کھولا جانا۔ الْكَتَانُ - کتان کے اجزا کا جدا جدا ہونا۔ السَّرْمُ - مص۔ مویشی۔ جانور۔ گھر کا صحن۔ لمبا درخت یا بے خار درخت۔ واحد (سَرْمَةٌ) ج۔ سَرْمُوْمٌ۔ السَّرْمَةُ - جوان گدی جو ابھی گیاہن نہ ہوئی ہو۔ خَيْلٌ سَرْمَةٌ وَنَاقَةٌ سَرْمَةٌ۔ تیز و نرم رفتار۔ گھوڑا یا اونٹنی۔ عَطَاءُ سَرْمٌ - بلا مال مثل فردی بخشش۔ السَّرْحَانُ - بھیڑیا۔ شیر۔ عرض کا درمیان ج۔ سَرَاخُ وَسَرَاخُ وَسَرَاخِيْنُ ذَنْبُ السَّرَاخِ - صبح کا ذب۔ السَّرْحَانَةُ - مونت السَّرْحَانُ۔ السَّرِيْمُ - مِنَ الْأَمْوَالِ - سہل، آسان جلدی کیا ہوا۔ جلدی - السَّرِيْمُ مِنَ الْخَيْلِ - نگی پیٹھ کا گھوڑا۔ السَّرِيْمَةُ - جوتا وغیرہ سینے کا تسمہ۔ کپڑے کا ٹکڑا۔ تنگ راستہ۔ ج۔ سَرَايِمٌ۔ السَّرِيْحُ - فَا - اونٹوں کو چمانے والا چرواہا۔ مویشی۔ مونت۔ سَرَايِحَةٌ۔</p>
--	---	---

السَّرِقَةُ: مص. جرائی ہوئی چیز۔
 السَّارِقُ: فاعل۔ ج۔ سَرَقَهُ. وَسَوَّاقٌ وَ
 سَارِقُونَ۔
 السَّرَقَةُ: مص. ریشمی کپڑے کا ٹکڑا۔ ج۔
 سَرَقٌ۔
 السَّرَاقَةُ: جرائی ہوئی چیز۔
 المُسْتَرْقِیُّ: فاعل ناقص، کمزور۔ مُسْتَرْقِیُّ
 العُنُقِ: کوتاہ گردن۔
 السَّرْقَةُ: ترش نبیز۔
 السَّرْقِیْنِ وَالسَّرْقِیْنِ: گوبر، کھاد۔
 سَرَّكَ دَسٌّ، سَرَّكَ: قوت کے بعد بدن
 کا کمزور پڑنا۔
 سَرَّوْكَ وَتَسَرَّوْكَ: بڑھا پے یا مکان
 کی وجہ سے آہستہ چلنا، سست چلنا۔
 سَرَّمَهُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 تَسَرَّمَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
 السَّرْمُ: مستقیم آنت کا ٹکڑا۔ ج۔
 أَسْرَامٌ۔
 العَسْرَمُ: ڈبر کا درو۔
 السَّرْمَانُ: زرد و سیاہ بھڑ۔
 السَّرْمَدُ: دائم، ہمیشہ۔ کِلْسُ سَرْمَدٍ:
 لمبیاں۔
 السَّرْمَدِیُّ: جس کا نہ اول ہو نہ آخر۔
 تَسَرَّمَطٌ: الشَّعْرُ: بالوں کا ہلکا اور
 کم ہونا۔
 السَّرْمَطُ وَالسَّرَامِطُ وَالسَّرَوْمَطُ
 وَالسَّرَمِطُ وَالسَّرَمِطِطُ: ہر لمبی چیز
 رَجُلٌ سَرَوْمَطٌ: ہر ایک چیز نکل
 جانے والا آدمی۔
 سَرَّهْدٌ: السَّنَامُ: کولن کا ٹٹا۔
 الصَّبِیُّ: بچہ کو ابھی طرح خوراک دینا۔
 السَّرَّهْدُ: کولن کی چوبی۔ بہت پانی۔
 المُسَرَّهْدُ: مفع۔ فربہ۔ موٹا۔
 سَرَّهْفٌ: الغَدَاةُ: غذا کو عمدہ بنانا۔
 الصَّبِیُّ: بچہ کو ابھی خوراک کھلانا۔

سَرَّایَسْرُو سَرَّوًا۔ سَرَّیْتُ الْجَوَادَةَ
 ٹڈی کا اٹلے دینا۔ وَ سَرَّیْتُ
 تَسْرِیةً وَ أَسْرَیْتُ (سَرَّاءً)۔
 الثَّوْبَ عَنْهُ: کپڑے اتارنا۔
 سَرَّایَسْرُو وَ سَرَّوِیَسْرُو وَ سَرَّی
 یَسْرِی سَرَّوًا وَ سَرَّوَاةً وَ
 سَرَّوًا وَ سَرَّاءً: مروت اور سخاوت
 والا ہونا۔
 سَرَّی وَ أَسْرَی (سَرَّاءً)۔ عَنْهُ
 التَّهْمَةُ: کسی کا فکر دور ہونا۔ سَرَّی
 الْقَوْمُ: قوم کے سردار کا مارا جانا۔
 سَأَاةٌ مَأَاةٌ: ایک دوسرے
 پر فخر کرنا۔
 تَسَرَّی تَسْرَیًا: بناوٹی مروت و سخاوت
 بتانا، ظاہر کرنا۔ لَسْرَی بِنَانًا:
 (سَرَّی) (سَرَّاءً)۔ اختیار کرنا۔ پینا۔
 المَوْتُ الْقَوْمُ: قوم کے سرداروں
 میں موت پھیلنا۔
 السَّرْوُ: مص. فضل، مروت، سرو کا
 درخت۔ واحد۔ (سَرْوَةٌ)
 السَّرْوَةُ وَالسَّرْوَةُ وَالسَّرْوَةُ: چھوٹا
 تیر، بعض کے نزدیک چوڑے پھل کا تیر
 جو بیڑی و سَرَّی۔
 السَّرَّاءُ: پیٹھ، دن کی چڑھائی۔ مِنْ
 الطَّرِیْقِ: راستہ کا بیچ۔ ج۔
 سَرَّوَاتٌ: وَسَرَّوَاتُ الْقَوْمِ: قوم
 کے سردار۔
 السَّرَّیُّ: صاحب شرف و مروت، اور
 فیاض۔ سخی، شریف، سردار، عمدہ چیز۔
 ج۔ سَرَّی وَ سَرَّاءُ وَ سَرَّاءُ وَ
 أَسْرَیاءُ وَ سَرَّوَاءُ۔ مَوْنٌ:
 سَرَّیةً: ج۔ سَرَّیاتٌ وَ سَرَّایَا۔
 سَرَّوَلُکَا: ہاتھ پھینانا۔ تَسَرَّوَلٌ:
 ہاتھ پھیننا۔
 السَّرَّوَالُ وَالسَّرَّوَالَةُ وَالسَّرَّوَالُ:

پانچام۔ مَوْنٌ ہے کبھی مذکر بھی آتا
 ہے، ج۔ سَرَّوَالٌ۔ قَوْمٌ مَسَرَّوَلٌ:
 بازوؤں اور رانوں سے آگے بڑھی ہوئی
 سفیدی والا گھوڑا۔
 سَرَّی یَسْرِی سَرَّی وَ سَرَّیةً۔ وَ
 سَرَّیةً وَ سَرَّایةً وَ سَرَّیَانًا وَ
 مَسَرَّی اَوْ اسْتَسْرَی۔ رات میں چلنا
 صفت (سَرَّی)۔ ج۔ سَرَّاءُ۔
 وَ سَرَّی یہ رات کو سفر کرنا۔ وَ
 سَرَّی عَدُوُّ العَجْرِ: درخت کی جڑیں
 زمین کے اندر اندر پھیلی ہوئی گئیں۔
 سَرَّی الدَّمُ فِي العُرْوِی: خون کا
 رگوں میں برابر دوڑنا۔ التَّهْمَةُ غَمٌ
 ہاتا رہنا۔ سَرَّی الجَوْحُ إِلَى النَفْسِ:
 زخم کا اثر انداز ہو کر آخرو جان لیوا ہونا۔
 سَرَّی: عَنْهُ غَمٌ یا غصہ کا زائل ہونا۔
 أَسْرَی (سَرَّاءً)۔ رات میں چلنا۔
 الرَّجُلُ: کسی کا کشادہ، اونچی زمین کی
 طرف جانا۔
 سَرَّی: عَنْهُ أَوْ عَنْ قَلْبِهِ: کسی کا فکر
 دور کرنا۔ تَقَائِدُ الجَبِیثِ: کمانڈر کا دستہ
 فوج بھیجنا۔
 سَرَّی: صَاحِبَةُ رات میں ساتھی کے
 ساتھ چلنا۔
 السَّرَّی وَالسَّرَّیَانُ وَالسَّرَّیةُ: مصادر
 رات کو چلنا۔ رات کا سفر۔ عرب کہتے
 ہیں: الصَّبَا حَ یَحْمَدُ الْقَوْمُ
 السَّرَّی: یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے
 جہاں بتانا ہو کہ مشقت برداشت کرنے
 سے ہی راحت کی امید نظر آتی ہے۔
 رَابِعُ السَّرَّی: رات کا مسافر۔
 السَّرَّیةُ: ٹڈی کا بچہ۔
 السَّرَّاءُ: ہر شے کا بلند حصہ۔ سَرَّاءُ
 الجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ سَرَّاءُ
 الظُّلْمِ: چاشت کا شروع۔

السَّوَاءُ - ایک درخت جس سے کمائیں بناتے ہیں۔ واحد
السَّوَاءُ مَات کو بہت چلنے والا۔
السَّارِي - فا۔ ج۔ سَوَاعِد - وَالسَّارِي
وَالسَّارِي شِير۔
السَّارِيَّةُ - مَوْنُث السَّارِي - رات کو
چلنے والی جماعت۔ رات کو آنے والا
باول۔ ستون۔ تم ملاحظہ کی اصطلاح
میں مستول۔ ج۔ سَوَاعِد۔
السَّرَايَةُ وَالسَّرَايَا - قَصْرِ شَاهِي دَفَارِسِي
کلمہ ہے
السَّرِيَّةُ - چھوٹی نر۔ ج۔ اَسْرِيَّةٌ و
سُرِيَانٌ۔
السَّرِيَّةُ - فَوْج کا دستہ۔ تیر کا چھوٹا گول
پھل۔ ج۔ سَرَايَا۔
السَّاسِبُ وَالسَّيْسِبُ وَالسَّيْسِبُ - ایک
درخت جس کی لکڑی سے تیر بناتے ہیں
السَّيْسِبَانُ - ایک درخت کا نام۔
الْأَسْطُ - لمبی ٹانگوں والا آدمی۔
السُّطُطُ - ظالم لوگ۔
الْمُسْطَبَةُ وَالْمُسْطَبَةُ - چبوترہ، اہرن
ککشاں۔ سائلوں کے جمع ہونے کی
جگہ۔ سرائے۔ ج۔ مَسَاطِبُ (ماد
کے ساتھ بلیغ تر ہے۔
سَطَّعَهُ رَف - سَطَّعًا - بچھانا، پھیلانا۔
لٹانا۔ ر۔ و سَطَّعَ، الْبَيْتُ - گھر
کی چھت کو ہموار کرنا۔ سَطَّعَ و سَطَّعَ۔
- النَّاقَةُ - اونٹنی کو بٹھانا۔
تَسَطَّعَ - ہموار ہونا۔
السُّطَّعَ - چھت لیٹنا۔ پھیلنا۔
السُّطَّعَ - مَع - مکان کی چھت۔ بہر بلند
اور اوپر سے چوڑی چیز۔ ج۔ سَطَّعُ ج۔
السُّطَّعُ - پھیلا ہوا۔ کمزوری یا بیماری
کے باعث سستی سے اٹھنے والا۔
وَالسُّطَّعَةُ، مَشْك -

السُّطَّاحُ - زمین پر پھیل ہوئی ہیل یا گھاس۔
واحد (سَطَّاحَةٌ)
الْمُسْطَاحُ - برابر کرنے کا اوزار۔ بیلن۔
خیمہ کا ستون۔ کھپان۔ خسرمن۔
کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ۔ (د۔
وَالْمُسْطَاحُ، کھجور کی شاخوں کی چٹائی
أَنْفٌ مُسْطَاحٌ - چھٹی ناک۔
سَطَّرَهُ دَن، سَطَّرًا - لکھنا۔ ہ یا
لَسْتَيْفٌ - تلوار سے کاٹنا۔ سَطَّرَ
الرَّجُلُ - کسی کو پچھاڑنا۔
سَطَّرَ - قَصَّةً بنانا۔ بے اصل باتیں جمع
کرنا۔ عَلَيَّہِ - بے اصل اور زلیات
سے مشابہ باتیں بیان کرنا۔ قَصَّةً
سنانا یا بیان کرنا۔ الْقِرْطَاسُ -
سطر میں برابر کرنے کے لیے کاغذ پر
لکیریں کھینچنا۔
أَسْطَرَّ - پڑھنے میں غلطی کرنا۔
السُّطَّرَ - لکھنا۔ کہتے ہیں: هَذَا
مُسْتَطَرٌّ - یعنی یہ لکھا ہوا ہے۔
السُّطَّرُ - کیر۔ قطار۔ تحریر کی سطر۔ ج۔
أَسْطَرُّ و سَطَّرُ و أَسْطَارٌ و جِج
أَسَاطِيرٌ - کہتے ہیں: إِنْ هَذَا
إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ - یہ تو انگوٹوں
کی محض بے سند اور بے بنیاد باتیں
میں جو اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔
السُّطَّرَةُ - آرزو۔ امید، خواہش
الْأَسْطَارُ وَالْإِسْطَارُ وَالْأَسْطُورُ
وَالْأَسْطِيرُ - ہر وہ چیز جو کسی ہائے
ج۔ أَسَاطِيرٌ - "الْأَسْطُورَةُ"
الْأَسْطُورَةُ - بے اصل و بے بنیاد
بات۔
السَّاطِرُ وَالسَّطَارُ - قصاب۔
السَّاطِرُ - گوشت کاٹنے یا بڑی وغیرہ
توڑنے کا قصاب کا گدا۔ ج۔
سَوَاطِيرٌ -

السُّطَّرَةُ وَالْمُسْطَرَّةُ - کاغذ پر لکیریں
کھینچنے کا اوزار۔ ج۔ مَسَاطِرٌ -
الْمُسْطَارَةُ وَالْمُسْطَارَةُ - تیز اور پینے
والے کو پچھاڑ دینے والی شراب۔ پکانے
سے پہلے انگور کا شیرہ، بلند خبار۔
سَطَّعَ رَف، سَطَّعًا و سَطَّوَعًا و
سَطَّعًا - الْغُبَارُ أَوِ الْوَاخَةُ أَوْ
النُّورُ - خبار یا بویا روشنی کا بلند ہو کر
پھیل جانا۔ بَيْدَ يَدِهِ - تالی بجانا۔
ر۔ سَطَّعًا، رَاسَهُ - گردن دراز
کرنا اور سر اٹھانا۔ الْبَعِيرُ - اونٹ
کی گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔
سَطَّعَ رَسًا سَطَّعًا - دراز گردن ہونا۔
صفت (أَسْطَعٌ - مَوْنُث - سَطَّعًا -
سَطَّعَهُ - بلند کرنا۔ پھیلانا۔ اٹھانا۔
الْبَعِيرُ - اونٹ کے لمبا داغ لگانا۔
السُّطَّعُ - مَص - ہر چیز بلند ہو کر پھیل جانے
والی۔
السُّطَّعُ - تالی۔ تالی کی پاتیر پھینکنے کی
آواز۔
السُّطَّعُ - لمبا اونٹ خیمہ گھر کا سب سے
لمبا ستون، اونٹ کی گردن یا پہلو کا لمبا
داغ۔ ج۔ سَطَّعٌ و أَسْطَعَةٌ -
السُّطَّعُ - صبح۔ لیا۔
الْمُسْطَاحُ - خوش بیان۔ فصیح۔ کہتے ہیں
"خَطِيبٌ مُسْطَاحٌ وَمُصْطَاحٌ - یعنی مقرر
فصیح و بلیغ ہے۔
سَطَّعَهُ دَن (سَطَّعًا - الدَّوَابُّ - دوا
کا کسی کو مدد ہوش کرنا۔ نشہ دینا۔
السُّطَّعُ و السُّطَّعُ - مدد ہوش ہونا۔
"جَاءَ يَسْطِطُلُ" - وہ اکیلا آیا۔
السَّاطِلُ - مِّنَ الْغُبَارِ - بلند خبار۔
السُّطَّلُ - تانبے کا ایک دستہ والا برتن۔
ج۔ أَسْطَالٌ و سَطَّوُلٌ - لمبے قد والا
آدمی۔

<p>نہریا سمندر میں پانی بانے کے نامے۔ بڈی کے مفز کی نالی۔ سخن کے دودھ کی نالی۔ بازوبند۔ السَّاعِدَةُ - نیک بختی۔ السُّعَادِي - زخم بھرنے والی ایک خوشبودار گھاس۔ السُّعَدَانُ - ایک خاردار بوٹی جو اونٹ کی مرغوب غذا ہے۔ سُعَدَانٌ - امداد۔ سُبْحَانَ اللَّهِ و سُعَدَانَةٌ - میں خدا تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تالبداری کرتا ہوں۔ السُّعَدَانَةُ - کبوتر۔ پستان کا سرا یا اس کے آس پاس کی سیاہی۔ السُّعُودَةُ - خوش بختی۔ سَعْرَافٌ، سَعْرًا وَاَسْعَرَ - النار۔ آگ جلانا۔ البعير الإبل بجو رہے۔ اونٹ کا اور اونٹوں میں خارش پھیلا دینا۔ سَعْرَ الْقَوْمِ شَرًّا - ساری قوم میں بدی پھیلا دینا۔ سَعْرْنَا هُجْرًا جلانا۔ پوست کرنا۔ سَعْرًا لَيْلًا بِالْمِطْحِ - طے کرنا۔ سَعْرَتِ النَّاقَةِ فِي سَيْرِهَا - اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ صفت (سَعْرَتٌ) سَعْرَتِ الْيَوْمِ فِي حَاجَتِي سَعْرَةً - آج میں اپنی حاجت کے فکر میں سارے دن چکر کاٹتا رہا۔ سَعْرَدَسٌ، سَعْرَانًا - الفرس۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ سَعِيرٌ - البعير۔ اونٹ کا مجنون ہونا۔ صفت (مَسْعُورٌ) الرجل۔ گرم ہوا سے مجلس جانا۔ سَعْرٌ - النار۔ آگ بھڑکانا۔ الشئ۔ کسی چیز کا نمازہ لگانا اور بھاؤ مقرر کرنا۔ القوم۔ قوم کا کسی بھاؤ پر</p>	<p>طرح شہد کے شیرہ وغیرہ سے۔ السَّعْبُ - الماء۔ پانی بہنا۔ السَّعْتَرُ - پاڑی پودینہ۔ بہترین لفظ "صَعْتَرٌ" ہے۔ السَّعْتَرِيُّ أَوِ الصَّعْتَرِيُّ - بہادر، سخی، چالاک۔ سَعْدَرٌ، سَعْدًا وَاَسْعُودًا - اليوم۔ دن کا مبارک ہونا۔ سَعْدَارٌ، وَسُجْدًا سَعَادَةً - نیک بخت ہونا۔ خوش نصیب ہونا۔ صفت۔ (سَعِيدٌ) - ج۔ سَعْدَاءٌ و (مَسْعُودٌ) - ج۔ مَسَاعِيدٌ۔ سَاعِدَةٌ - عَلَى الْأَمْرِ - کسی کام پر مدد کرنا۔ أَسْعَدَهُ - عَلَى الْأَمْرِ - مدد کرنا۔ أَسْعَدَهُ اللَّهُ - اللہ اس کو نیک بخت کرے۔ صفت (مَسْعُودٌ) ، تَسْعَدَ - مبارک ہونا۔ الرَّايِجِي - چرواہے کا سعدان گھاس کی چسرا گاہ تلاش کرنا۔ إِسْتَسْعَدَ - بِالشَّيْءِ - چیز کو اپنے لیے مبارک خیال کرنا۔ السَّعْدُ - برکت۔ خوش نصیبی۔ ج۔ أَسْعَدًا وَاَسْعُودًا - کتے ہیں لَبِيكُ وَسَعْدِيكُ - میں تمہاری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں۔ سَعُودٌ الْحَبِيبِ - دس ستارے ہیں اس سے ہر ایک ستارہ سعد کہلاتا ہے۔ السَّاعِدَةُ بِنَاءٍ مَرَدًا مَا لَمْ تَسَاعِدْ يَعْتَمِدُ وَنَكْبَةٌ: ان کا کوئی رئیس نہیں کہ اس پر بھروسہ و اعتماد کریں۔ کلائی۔ سَاعِدَةُ الطَّيْرِ - پرندے کے بازو۔ ج۔ سَوَاعِدٌ - طائرٌ مَسْعُودٌ يُدْأُ السَّوَاعِدُ - مضبوط بازو والا پرندہ۔ السَّاعِدَةُ - چرخ کا ڈنڈا۔ ج۔ سَوَاعِدٌ</p>	<p>الْأَسْطُولُ - جہازوں کا بیڑا رسمی کلمہ ہے۔ ج۔ آسَاطِيلُ - سَطْمٌ، سَطْمًا - الْبَابُ - دروازہ بند کرنا۔ السَّطَامُ - آگ بلانے کی کرینی۔ بوتل کا ڈاٹ یا کارک۔ تلوار کی دھار۔ السَّطْمُ - مص۔ تلوار کی دھار۔ السُّطُومُ - جڑیں۔ الْإِسْطَامُ - آگ بلانے کی کرینی۔ الْأَسْطَمُ وَالْأَسْطَمَةُ - مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا وسط یا بڑا حصہ۔ مِنْ الْبَحْرِ - سمندر کا بڑا حصہ۔ کہتے ہیں "لَيْلٌ طَبَا أَسْطَمَةٌ" رات کی تاریکی بہت بڑھ گئی۔ "هُوَ فِي أَسْطَمَةِ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کے اشراف میں ہے۔ ج۔ آسَاطِمُ السَّاطِنُ - غیث۔ الْأَسْطُونُ - مِنْ الْجِبَالِ - لمبی گردن کا اونٹ۔ الْأَسْطَوَانَةُ - ستون۔ تم۔ جافسک ٹانگ۔ ج۔ آسَاطِينُ - کہتے ہیں۔ "هُوَ آسَاطِينُ الزَّمَانِ" وہ یکتائے روزگار ہیں۔ الْمُسْطَنُ - لمبی ٹانگوں والا۔ سَطَايِسُطُو سَطُو أَوْ سَطُوخٌ - بلہ و علیہ۔ کسی پر حملہ کر کے منظوب کرنا۔ الْفَرَسُ گھوڑے کا پٹھے چڑھے قدم اٹھاتے ہوئے دوڑنے کا۔ الْمَاءُ - پانی کا زیادہ ہونا۔ "مَا سَطَطْتُ فِي طَعَامِ أَحَدٍ" میں نے کھانے کو نہیں چکھا۔ سَاطِي - الرَّجُلُ - سخی یا نرمی کا برتاؤ کرنا۔ السَّاطِي - فا۔ دودھ و دھرم رکھنے والا گھوڑا۔ دم اٹھا کر دوڑنے والا گھوڑا۔ تَسْعَبُ - الشئ۔ تار سا کھینچنا، جس</p>
--	--	--

<p>السَّعْفُ - مص. - دامن کا چیز۔ گھر کا سامان واسباب۔ جہ۔ سَعْفُوفٌ - اونٹ کے منہ کی ایک بیماری، کھجور کی شاخ۔ واحد سَعْفَةٌ، السَعْفُوفُ - بڑے پیلے۔ انسان کی فطری عادتیں مثلاً جو دو کرم وغیرہ۔ اس کا مفرد مسوع نہیں۔ الْأَسْعَفُ - مِنَ الْإِبِلِ - منہ کی بیماری۔ والا اونٹ۔ مِنَ الْجَبَلِ - سفید پیشانی والا گھوڑا۔ مَوْتٌ - (سَعْفَاءُ) - جہ۔ سَعْفٌ - السَّعْفُوفُ - ناخن کے آس پاس سے چٹ اکھڑنا۔ الْمَسَاعِفُ - فَا - قَرِيبٌ، نَزْدِيكٌ - سَعْلٌ (دُن) سَعْلًا وَسَعْلَةً - کھانسی ہونا۔ دے سَعْلًا، چست ہونا۔ أَسْعَلَكُ - چست بنانا۔ کھانسی پیدا کرنا۔ اسْتَسَعَلْتِ - الْمَرْأَةُ - عورت کا چڑیل سا ہونا۔ بھتی جیسی ہونا۔ السُّعَالُ - کھانسی۔ السُّعَالُ وَالسُّعَالُ وَبِغَالٍ - بھتی یا بھوت جہ۔ سَعَالٌ وَبِغَالِيَاتٌ - السُّعَالِيُّ - دوائی کا ایک پودا۔ السَّاعِلُ وَالْمَسْعَلُ - گلا۔ حلق۔ سَعْدُونَ سَعْمًا - الْبَيْعِيُّرُ - اونٹ کا سریع السیر ہونا۔ تیز چال چلنا۔ صفت وَسَعْمٌ سَعْمٌ وَسَعْمَةٌ - غدا وینا۔ تَسِيلٌ سَعْمًا وَمَسْعَامٌ تیز چلنے والا سیلاب۔ اسْتَعْنُ - سائبان بنانا۔ بڑا ٹھیکہ لگانا۔ السُّعْنُ - چم۔ خالص شراب۔ السُّعْنُ - پُرس۔ بڑا اول۔ جہ۔ سَعْنَةٌ السُّعْنَةُ - مبارک، مٹوس رندا کھانے کی کثرت یا قلت۔ "مَا لَهُ سَعْنَةٌ وَ لَا مَعْنَةٌ" - اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔</p>	<p>سَعْسَعَمٌ - رَامَسَكُ - سر کو تیل پلانا۔ السُّعْسَعَمُ - بھیڑیا۔ سَعَطَةٌ (دُن) سَعَطًا وَسَعَطَةً وَأَسْعَطَةٌ - الدَّوَاءُ - ناک میں دوا ڈالنا۔ اسْتَسَعَطَ الرَّمَحَ - اس نے اس کی ناک میں نیزہ مارا۔ اسْتَعَطَ عِلْمًا - اس نے اس کو علم خوب سمجھایا۔ اسْتَسَعَطَ - الدَّوَاءُ - ناک میں دوا ڈالنا۔ چڑھانا۔ اسْتَسَعَطَ - ناک میں دوا ڈالنے کو کہنا۔ السَّعِيطُ - خوشبو، بان کا درخت یا اس کا تیل۔ رائی کا تیل (دے والسُعَاطُ) بو کی تیزی۔ السُّعُوطُ - ناک میں چڑھانے کی دوا۔ نوار۔ عام لوگ اس کو العَطُوسُ بولتے ہیں۔ الْمُسْعَطُ وَالْمُسْعَطُ - نوار کی ڈبیر۔ سَعْفَةٌ (دُن) سَعْفًا - مَحَاجِيَتِهِ - کسی کی حاجت روائی کرنا۔ سَعِفَتْ (دُن) سَعْفًا - ناخنوں کے ارد گرد سے انگلیوں کا پھٹ جانا۔ سَعِفَتْ - الْوَجْهَ - چہرہ کا پھنیوں والا ہونا۔ صفت (مَسْعُوفٌ) سَعْفٌ - الْمَسْكُ - مشک کو دوسری خوشبوؤں کے ساتھ ملانا۔ سَاعَفَكَ - مدد کرنا۔ اسْعَفَكَ - کسی کی حاجت پوری کرنا۔ عَلَى الْأَمْرِ مدد دینا۔ الشَّيْءُ - قَرِيبٌ وَنَزْدِيكٌ ہونا اسْعَفَهُ الصَّيْدُ - شکاری کا موقع دینا۔ اسْعَفَتِ الْمَحَاجَةَ - حاجت کا قریب ہونا۔ إِلَيْهِ - توجہ کرنا۔ ارادہ کرنا۔ اسْعَفَتْ - أَظْفَارُهُ - ناخنوں کا پھٹنا۔ السُّعْفُ - مص۔ سامان۔ رُوَيْلٌ شَخْصٌ - السَّعْفَةُ - سر یا چہرہ پر نکلنے والی چھبیا۔</p>	<p>اتفاق کرنا۔ سَاعَرَهُ مَسَاعِرَةً - بھاؤ بھرا کرنا۔ تَسَعَّتْ - النَّاسُ - آگ کا جل پڑنا۔ بھڑک جان۔ الْحَطْبُ كَرْدِي كَالْآگ پکڑ لینا۔ اسْتَسَعَرَ - بھڑکنا۔ الشَّوْ - برائی و بدی کا پھیل پڑنا۔ الْجَوْبُ فِي الْبَعِيرِ - اونٹ کی بخل وغیرہ میں کھلی شروع ہونا۔ السُّعْرُ - زرخ بھاؤ، جہ۔ اسْعَارٌ - السُّعْرُ - گرمی، بہت بھوک (دے والسُّعْرُ) جنون۔ السُّعْرُ - مجنون۔ جہ۔ سَعْرِي - السُّعْرُ وَالسُّعْرَةُ - سیاہی مائل رنگ۔ السُّعْرَةُ - کام کی ابتداء۔ کھانسی۔ السُّعْبِيُّ - آگ کی لپٹ۔ جہ۔ سَعْرٌ - السُّعَارُ - گرمی، بھوک کی تیزی۔ پیاس کی شدت۔ السَّاعُوْرُ - آگ۔ تُوْر - السَّاعُوْدَةُ - آگ۔ الاسْعَرُ - دبلا۔ لاغر جس کے پیٹھے دکھائی دیتے ہوں، سیاہی مائل رنگ والا۔ مَوْتٌ (سَعْرَاءُ) - جہ۔ سَعْرٌ - الْمُسْعَرُ - آگ جلانے والا کتے میں ہو مَسْعَرٌ حَرْبٌ - وہ لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے۔ سخت۔ وراز گردن، دیوانہ کتا۔ (دے وَالْمُسْعَارُ) جس سے آگ جلائی جائے۔ الْمَسْعُورُ - پیٹ بھرے پر بھی کھانے کا حریص۔ نَاقَةٌ مَسْعُورَةٌ - دیوانی اونٹنی۔ مَسَاعِرُ - الْبَيْعِيُّرُ - اونٹ کی ران کی جڑیں اور بخل۔ سَعْسَعَمٌ وَتَسْعَسَعَمٌ - فَلَانٌ بہت بڑھا ہونا۔ الشَّيْخُ - بڑھے کا بڑھاپے کے سبب لڑکھڑانا۔ قَرِيبٌ قَرِيبٌ قَدَمٌ رُكْحَانًا -</p>
---	---	---

السُّعْبَةُ - شامیانہ - نیمہ - اونٹ کا اوپر
 کا لٹکا ہوا ہونٹ - ج -
 السُّعْوُ وَالسُّعْوَةُ وَالسُّعْوَاءُ - رات
 کی گھڑی -
 الْأُسْعَاءُ - رات کی گھڑیاں - السُّعْوَةُ
 موم ہتی - موم -
 السُّعَاوِيُّ - بیادھی یا سفر کو بہت مہر سے
 برواشت کرنے والا -
 سَعَى يَسْعَى سَعْيًا - کام کرنا - چلنا - دوڑنا -
 - إِلَيْهِ - قصد کرنا - فِي حَاجَةٍ
 الرَّجُلِ - کسی کی حاجت پورا کرنے
 کی راہ نکالنا - کسی کام کا بندوبست کرنا -
 اہتمام کرنا - لِعِيَالِهِ - عیال کے لیے
 کرنا - رِيعَايَةً (الْمُتَصَدِّقُ
 صدقات وصول کرنا - رِيعَايَةً و
 سَعْيًا) يَفْلَانِ عِنْدَ الْأَمِيرِ -
 چغلی کھانا - بدگوئی کرنا - سَعَتِ
 الْأَمَّةُ - لاندھی کا زنا کرنا -
 سَاعِي - ع - كُوشَشِ فِي كِي بِرغالب آنا -
 أَسْعَى اسْعَاءً - الرَّجُلِ كُوشَشِ كَرَانَا
 اسْعَوَايَةً - تلاش کرنا -
 اسْتَسْعَى اسْتِسْعَاءً - الرَّجُلِ كُوشَشِ
 كُوشَشِ مَجْع كَرَانَا -
 الْعَبْدُ - آزادی حاصل کرنے کے
 لیے کام کرنا -
 السَّعَايَةُ - م - چغل خوری -
 السَّاعِي - ف - محصل - خراج و صدقات
 وصول کرنے والا - ج - سَعَاةُ
 كُوشَشِ
 السَّعِي - كُوشَشِ مَسْلِكِ تَصَرَفِ -
 ج - مَسَاعٍ -
 سَعَبَ (د) وَسَعَبَ (د) سَعَبًا و
 سَعَبًا وَسَعَبًا وَسَعَابَةً و
 مَسْعَبَةً - بھوکا ہونا - صفت -
 سَاعِبٌ وَسَعِبٌ وَسُعْبَانٌ

مُونٹ (سغبی) ج - سَغَابٌ -
 اسْفَبٌ - القوم - قوم کا قحط سالی میں
 بتلا ہونا -
 السَّغَابُ - بھوک - المَسْفَبُ - جائز -
 سَعِدًا سَعْدًا - سوچنا - وَصَالٌ
 (سَاعِدَةٌ وَسَعْدَةٌ وَمَسَاعِدَةٌ)
 اونٹ کے دودھ سے سیراب اور
 موٹے بچے -
 السَّعْدُ - م - بھلی بارش -
 سَفَسَعٌ - الوتد - سیخ کو اپنی جگہ
 سے ہلانا - ع فِي التُّرَابِ - مٹی
 میں دھنسانا - رَأْسَهُ بِالذَّهْنِ -
 سر کو تیل پلانا - الدَّهْنُ فِي نَاسِيهِ -
 سر میں تیل لگانا -
 تَسَفَّسَعٌ - مِنَ الْأَمْرِ كُوشَشِ مَعَالِمِ
 رِثَائِي پانا - فِي الْأَرْضِ - داخل ہونا -
 سَفَعَلٌ (د) سَفَعَلًا - لاغر ہو کر جھریاں
 پڑنا - صفت (سَفَعَلٌ)
 سَفَعَهُ - المَاءُ - کسی کو گھونٹ گھونٹ
 کر کے پانی پلانا - سَفَعَهُ الْوَلَدُ -
 بچہ کو اچھی غذا دینا - پرورش کرنا -
 اسْفَعَهُ - کسی کو بہت ایذا دینا -
 اسْفَعَهُ وَسَفَعَهُ اچھی خوراک دیا
 جانا -
 المَسْفَعُ وَالْمُسْفَعُ - اچھی غذا والا - پرورد
 ناز و نعمت اور فریب لڑکا -
 سَفَّ (د) سَفَفًا - الطَّيْرُ وَالسَّحَابُ
 ہندہ یا بادل کا زمین کے قریب ہو کر
 اڑنا یا گزرنے والا - الخوص - کھجور کے
 پتوں سے بننا - المَاءُ - بہت پانی
 پی کر بھی سیراب نہ ہونا -
 سَفَّ (د) سَفَا - الدَّوَاءُ وَالسَّوْلِقُ
 وَنَحْوَهُمَا - دوا یا ستور وغیرہ کو
 سفوف کی شکل میں کھانا - چھکی بنا کر
 پھانکنا -

أَسَفَتِ اسْفَافًا - الخوص - کھجور کی پتیوں
 سے بننا - الرَّجُلُ - بھاگنا - اونٹ
 باتوں کے پیچھے پڑنا - البَحِيرُ - اونٹ
 کو خشک گھاس چرانا - الفَرَسُ
 اللِّجَامُ - گھوڑے کے لگام لگانا -
 - الطَّيْرُ وَالسَّحَابُ - ہندہ یا بادل
 کا زمین سے قریب ہو کر اڑنا یا گزرنے
 کتے ہیں - مَا أَسَفَتْ مِنْهُ شَيْئًا -
 اس نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا -
 أَسَفَتِ النَّظْرَ - تیز نظر سے دیکھنا -
 - الشَّيْءُ - بعض کو بعض سے ملا کر جوڑنا
 - الْأَمْرُ - قریب ہونا - أَسَفَتْ
 وَجْهَهُ - چہرہ کا رنگ پلٹ جانا -
 اسْتَفَّتْ - الدَّوَاءُ - دوا کو سفوف کی
 شکل میں کھانا -
 السِّفْتُ وَالسَّفْتُ - ایک قسم کا باریک
 لباس -
 السُّفَّةُ - کھجور کے پتوں کی ٹوکری - مٹھی بھر
 چیز - موباف (د) - (السُّفُوفُ) دوا
 وغیرہ کی پھنکی -
 السِّفِيْفُ - م - ابلیس کا نام - زین کا تنگ
 کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چیز -
 السِّفِيْفَةُ - کجاوہ باندھنے کا چوڑا پٹا ، یا
 تنگ - ج - سَفَايْفُ -
 سَفِيْفَتِ (د) سَفَتًا - بہت پانی پی کر بھی
 سیراب نہ ہونا -
 السِّفْتُ - بے برکتا کھانا -
 سَفَتَجَهُ - ہنڈی دینا - السَّفْتَجَةُ
 ہنڈی - ج - سَفَاتِيْبُ -
 سَفَحَ (د) سَفَحًا وَسَفُوحًا - الدَّمُ أَوْ
 الدَّمْعُ - خون یا آنسو بہانا - بھونا -
 - سَفَحًا وَسَفُوحًا وَسَفْحَانًا -
 الدَّمْعُ - آنسو بہانا - صفت (سَفَحٌ)
 ج - سَوَافِحُ -
 سَفَحَ - الرَّجُلُ - غیر مفید کام کرنا -

سَافِحًا وَتَسَافِحًا زَنَّاكَرًا - بدکاری کرنا۔
 سَفْحٌ - انجیل۔ دامین کوہ۔ ج۔
 سَفُوحٌ -
 الْأَسْفَحُ - وہ شخص جس کے سر کے اگلے
 حصہ کے بال جھڑ گئے ہوں۔ صاف
 چند یا والا۔
 السَّفَاحُ - بہت خون بہانے والا۔ بڑا
 فیاض۔ خوش بیان شیریں کلام۔
 السَّفِيحُ - موٹی چادر۔ بڑا بورا۔ جوئے کا
 ایک تیر جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔
 السِّفَاحُ - مص۔ زنا۔ بدکاری۔
 سَفَدَرٌ (رض) الذَّكْرُ أَنْثَاءٌ وَسَفِدَهَا
 (س) سِفَادًا وَسَفِدَ عَلَيْهَا وَ
 سَافَدَهَا سِفَادًا أَوْ مَسَافَدَةً -
 جانور کا اپنی مادہ سے جفتی کرنا۔
 سَفَدٌ - اللَّحْمُ - گوشت کو بھوننے کے
 لیے سیخ میں پرونا۔
 أَسْفَدًا - جفتی کرنا۔
 اسْتَسْفَدَ - البعير - اونٹ پر بیچھے
 سے سوار ہونا۔
 السَّفُودُ - گوشت بھوننے کی سیخ۔ ج۔
 سَفَايِدٌ -
 سَفُودٌ، سَفُورٌ - سفر کے لیے نکلنا۔
 - الْمَرْأَةُ - عورت کا چہرہ کھولنا۔
 صفت رسافئ - الصُّبْحُ
 روشن ہونا - الْحَوْبُ - لڑائی
 کا ختم ہونا۔ (س) سَفْرًا، الْبَيْتِ
 گھر میں جھاڑو دینا - الرِّيحُ الْغَمَامُ
 ہوا کا بادل کو اڑانے جانا۔ الشَّيْءُ -
 جدا جدا کرنا۔ پرانہ کرنا - الْكِتَابُ
 کتاب لکھنا۔ الْبَعِيرُ - اونٹ
 کے نیل ڈالنا۔ کاشت کے دھانوں کو
 چرانا۔ نچلے حصہ کو چرانا۔
 سَفَرْدَنٌ (رض) سَفْرًا وَسَفَارَةً وَ
 سِفَارَةً - بَيْنَ الْقَوْمِ - لوگوں میں

صلح کرنا۔ صفت (سَفِيْرٌ) ج۔
 سَفْرَاءٌ
 أَسْفَرٌ - چہرہ کھولنا - الصُّبْحُ - صبح کا
 روشن ہونا - الْوَجْدُ - چہرہ کا حسین
 ہونا۔ چمکنا - الْحَوْبُ - لڑائی کا سخت
 ہونا۔ تیز ہونا - مُقَدَّمٌ رَأْسِهِ -
 چندیلے کے بال جھڑ جانا - أَسْفَرُ
 الشَّجَرُ - درخت کے پتوں کا گرنا۔
 جھڑنا۔
 سَفَرٌ - الرَّجُلُ - کسی کو سفر پر بھیجنا۔
 الْبَعِيرُ - نیل ڈالنا - النَّاسُ
 آگ جلانا۔ بھڑکانا۔
 سَافِرٌ - سِفَارًا أَوْ مَسَافِرَةً - إلى
 بَلَدٍ كَذَا - روانہ ہونا - فَلَانٌ
 مَرْنَا - سَافَرْتُ عَنْهُ الْحَقِي - بخار کا
 چھوڑنا۔
 تَسَفَّرَ - شروع رات میں آنا یا چرانا۔
 شَيْئًا مِنْ حَاجَتِهِ - کچھ حاصل کرنا۔
 - الْيَحْلُدُ - چہرہ کا متاثر ہونا -
 الْمَرْأَةُ - عورت سے چہرہ کھولنے
 کو کہنا۔
 السَّفَرُ - شَعْرَةٌ عَنْ رَأْسِهِ - سر کے
 بال جھڑنا - الْغَيْمُ - بادل کا پرانہ
 ہونا - الْإِيلُ - جانا۔
 السَّفْرُ - مص۔ جسم انسانی کا داغ۔ ج۔
 سَفُورٌ - رَجُلٌ سَفْرٌ - مسافر آدمی
 قَوْمٌ سَفْرٌ - مسافر لوگ -
 نَاقَةٌ سَفْرٌ - سفر کرنے والی اونٹنی
 السِّفْرُ - بڑی کتاب۔ اجزائے تورات
 میں سے ایک جز۔ ج۔ أَسْفَارٌ -
 السَّفْرُ - مسافت کو طے کرنا۔ غروب
 آفتاب کے بعد کا وقت۔ ج۔
 أَسْفَارٌ -
 السَّفْرَةُ - مسافر کا کھانا۔ دسترخوان۔ ج۔
 السِّفَارُ وَالسِّفَارَةُ - نیل۔ ج۔ أَسْفِرَةٌ -

وَسَفْرٌ وَسَفَائِرٌ -
 السَّافِرُ - فَا - مسافر۔ ج۔ أَسْفَارًا وَ
 سَفَارًا - وَجِبْ - أَسَافِرُ -
 السَّافِرُ - کاتب۔ ج۔ سَفْرَةٌ -
 السَّافِرَةُ - مؤنث السَّافِرُ ج سَوَافِرُ
 مسافر لوگ۔ قوم سَافِرَةٌ - سفر کرنے
 والی قوم۔
 السِّفِيرُ - دو قوموں میں صلح کرانے والا۔
 ج۔ سَفْرَاءٌ - ایچی۔ گے ہوئے بال
 یا پتے۔ کھیتی کا نچلا حصہ۔
 السِّفِيرَةُ - سونے یا چاندی کا ہار۔ ج۔
 سَفَائِرٌ -
 السَّفَارَةُ وَالسِّفَارَةُ - ایچی گرمی۔ قوموں
 کے درمیان اصلاح۔
 السُّفَارَةُ - جھاڑو سے جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ۔
 السَّفَارَةُ - مسافر لوگ۔ السَّفُودُ - بہت
 کانٹوں کی ایک پھلی۔
 السِّفْرُ وَالسِّفَارُ - بہت سفر کرنے
 والا۔ مؤنث۔ مِسْفَرَةٌ -
 السِّفُورُ - سفر سے تھکا ہوا۔ درمانہ۔
 السِّفْرَةُ - جھاڑو۔ ج۔ مَسَافِرٌ -
 مَسَافِرُ الْوَجْدِ - چہرہ کے کھلے ہوئے
 حصے۔
 السَّفْرَجَلُ - ہی۔ ج۔ سَفَارِجٌ - واحد
 رَسْفَرَجَلَةٌ -
 السِّفْسِيرُ - دلال۔ خادم۔ کام کا منتظم۔
 ظریف وزیرک۔ ماہر لوہار۔ داروغہ۔
 ج۔ سَفَائِرَةٌ وَ سَفَائِسِيرٌ -
 السِّفْسَطَةُ وَالسِّفْسِطَةُ - باطل استدلال و
 قیاس، یا وہ جس کی بنیاد مغالطہ پر ہو۔
 ج۔ سَفْسَطَاتٌ - نسبت کے لیے
 سَفْسِطِيٌّ وَ سَوْفِطَائِيٌّ -
 السُّوْفِطَائِيَّةُ - بدہیات و محسوسات
 کو نہ ماننے والا فرقہ۔
 سَفْسَفٌ - الدَّقِيقُ - آٹا چھانینا۔

العَمَلِ - کام کو اچھی طرح نہ کر۔

سَفَسَفَتُ الرِّيحُ - زمین پر سے اڑانا۔

السَّفَسَاتُ - ناکارہ اور ردی چیز۔

فَلَانٌ سَفَسَاتُ الْكَلَامِ - فلاں

فعلی گو ہے۔ بے مطلب کلام کرتا

ہے۔ حقیر چیز۔ مِنَ الدَّقِيقِ -

آٹے کا غبار کی طرح اڑنے والا باریک

حصہ۔ مِنَ التُّرَابِ - باریک مٹی۔

مِنَ الشَّعْرِ - ردی و ناقص شعر۔

السَّفِيفَةُ - غبار اڑانے والی ہوا۔

سَفِيقٌ - الطَّائِرُ - زندہ کاپٹ کرنا۔

السَّفِيقَةُ - والسَّفِيقَةُ

مِنَ السَّيْفِ - تلوار کا جوہر۔

سَفَائِقٌ - "طَرِيقٌ وَاجِبٌ"

السَّفَائِقُ - واضح نشانات کا راستہ۔

السُّفَائِقُ - ہر لمبی چیز۔

سَفَطَرٌ سَفَطًا - السَّمَكَةُ - مچھلی کا

چھلکا اتارنا۔

سَفَطَرٌ سَفَطًا - سَفَاطَةٌ - پاک نفس

اور سخی ہونا۔

سَفَطًا - الحَوْضُ - حوض کی دستی کرنا۔

اور اس کو بند بنانا۔

تَسْفَطُهُ - تھوڑا تھوڑا پینا۔

اسْتَفَطَ - الشَّيْءُ - سب لے لینا۔

سب پی جانا۔

السَّفَطُ - مچھلی کا چھلکا۔ ٹوکری۔ جامردان۔

جو۔ اسْفَاظٌ -

السَّفَاظُ - ٹوکری بنانے والا۔ سَفَاظَةٌ

الْبَيْتِ - گھر کا سامان۔

السَّفِيطُ - سخی، پاکیزہ طبیعت۔ سَفِيطٌ

السَّفِينُ - پاکیزہ نفس سخی۔ کینہ و ناکارہ

(ضد) دخت سے گرمی ہوئی سبز کھجور۔

سَفَعَةٌ (ف) سَفَعًا - طمانچہ مارنا۔

الشَّيْءُ - نشان لگانا۔ پناہ دینا۔

کسی کے پیشانی کے بال کپڑا کر کھینچنا۔

وَسَقَّتْ، السُّمُومُ وَجْهَهُ -

گرم ہوا کا کسی کے چہرہ کو مجلس کر

دگرگوں کر دینا۔

سَفَعَرَسٌ سَفَعًا - سرخی مائل سیاہ ہونا۔

سَاقَعَةٌ - ایک دوسرے کو مارنا۔ طمانچہ لگانا

سینہ سے لگانا۔ ہٹانا۔ دھتکارنا۔

تَسَفَعٌ - بالتَّارِ - آگ تاپنا۔ اسْتَفَعَّ

الْوَجْلُ - کپڑا پہننا۔

اسْتَفَعَّ - لَوْتُهُ - خوف وغیرہ کی وجہ

سے رنگ متغیر ہونا۔

السَّفَعُ - کپڑا۔ رنگا ہوا کپڑا۔ جہ۔

سَفُوعٌ -

السَّفَعُ وَالسَّفَعَةُ - سرخی مائل سیاہی۔

السَّفَعُ وَالسَّفَعَةُ - اندرائن کا بیج۔

سَفَعٌ - الشَّمْسُ - آفتاب کے سیاہ

دارغ۔ سَفَعُ الثَّوْرِ - بیل کے

چہرہ پر سیاہ نقطے۔ السَّوَارِفُ

لَوِيٌّ لِيْسٌ - واحد (سَاقَعَةٌ)

الْأَسْفَعُ - سرخی مائل سیاہ رنگ والا۔

مُونْتٌ (سَفَعَاءُ) جہ۔ سَفَعٌ -

شکرا۔ جنگلی بیل۔

مَسْفُوعٌ - العَيْنُ - دھنسی ہوئی

آنکھ والا۔

تَسْفَعَةُ دَنٍ (سَفَعًا) - طمانچہ مارنا۔

دروازہ بند کرنا۔

اسْفَقَ - البَابُ - دروازہ بند کرنا۔

السَّفَقُ - الحَائِكُ الثَّوْبِ - جو لہے

لاکڑے کو گاڑھا بنانا۔

سَفَقَ دَنٍ (سَفَقَةً) - الثَّوْبُ -

کپڑے کا گف ہونا۔ گاڑھا ہونا۔

السَّفَقَةُ - طمانچہ۔ تھوڑا۔ السَّفِيقُ

گف۔ گاڑھا۔ رَجُلٌ سَفِيقٌ -

بے حیا آدمی۔

السَّفِيقَةُ - سونے وغیرہ کا ورق، لکڑی

کا رولر جس پر چٹانیاں لپیٹی جاتی ہیں۔

سَفَكَ رَضًا، سَفَكَ - المَاءُ أَوِ الدَّمُ -

پانی یا خون بٹونا۔ الكلامُ - بہت

بولنا۔ سَفَكَهُ - کسی کے سامنے

سُفَكَہ پیش کرنا۔

السَّفَكَ - بٹنا۔ ہٹنا۔ کرنا۔

السَّفَكَةُ - تھوڑی سی خوراک جو غذا سے

بیلے کھائی جائے۔

السَّفُوكُ وَالسَّفَاكُ - بہت خون

گرنے والا۔ هُوَ مَسْفُوكٌ أَوْ

سَفَاكٌ - بالكلام - وہ بڑا جھوٹا ہے۔

السَّفِيكُ - گرایا ہوا۔ بہایا ہوا۔ مَسْفِكٌ

بالتونى آدمى۔

سَفَلَ دَنٍ (وَسَفَلَ دَسٌ) وَسَفَلَ دَكٍ

سَفُولًا وَسَفَالًا - نیچا ہونا۔ پست

ہونا۔ حقیر ہونا۔ صفت۔ (سَافِلٌ) جہ

سَافِلُونَ وَسَفَلَةٌ - وَسَفَلٌ وَ

سُفَالٌ وَسُفْلَانٌ -

سَفَلَ - سَفَلَ دَكٍ، سَفَلًا وَسَفَلًا وَ

سَفَالًا - فِي عِلْمِهِ أَوْ خُلُقِهِ -

علم اور اخلاق میں ادنیٰ ہونا۔ گھٹیا ہونا۔

(سَفُولًا) فِي الشَّيْءِ - اوپر سے

نیچے اترنا۔

سَفَلَهُ - نیچے اترنا۔ سَافِلَةٌ كَيْفِيٌّ

بِاتَوْنِ

میں مقابلہ کرنا۔

تَسَفَّلَ - رفتہ رفتہ نیچے اترنا۔

اسْتَسَفَّلَ - اترنا۔

السَّفَلُ وَالسَّفَلُ - سچائی پستی۔

السَّفَلَةُ وَالسَّفَالَةُ - سب سے نیچلا

حصہ۔ سَفَالَةٌ كُلُّ شَيْءٍ تَسَفَّلَ

بِنِهَا - سَفَلَةُ الْقَوْمِ وَسَفَلَتُهُمْ

قوم میں ادنیٰ درجہ کے لوگ۔

السَّفَالَةُ - کیسلی۔

السَّافِلَةُ - دُور - پتھر پتھر کا نیچلا حصہ۔

سَافِلَةٌ التَّهْمُ - تہی کا لٹیبی رُخ۔

الْأَسْفَلُ - نچلا، نیچا پست۔ ج۔ اَسْفَلُ
کہا جاتا ہے "سَقَرًا رَدَدْنَا"
اَسْفَلَ سَافِلِينَ" پھر ہم اس کو
پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر
کرویتے ہیں۔

السَّفِيلُ - نیچا۔ الْمَسْفَلَةُ - پست۔
سَفِنَتَانِ، وَسَفِنَتَانِ (س) سَفِنًا
- الرِّيحُ - ہوا کا سطح زمین پر چلنا۔
سَفَنَ (رض) سَفِنًا - الشَّيْءُ - چھینا۔
سَفَنَهُ - تراشنا اور نرم کرنا۔
السَّفَنُ - کھدوی کھال جس کو تلواروں کے
قبضوں پر لگاتے ہیں۔ چھب تراشی
کا آلہ۔

السَّافِنَةُ وَالسَّفُونُ - مِنَ الرِّيحِ -
سطح زمین پر چلنے والی ہوا۔ ج۔
سَوَافِنُ -

السَّفِينُ - لکڑی پھاڑنے کی کیل یا پھانا۔
السَّفِينَةُ - جہاز کشتی۔ ج۔ سَفِينٌ و
سَفِينٌ وَسَفَانٌ - السَّفَانُ -
جہاز بنانے والا۔ وَالسَّفَانَةُ -
جہاز سازی۔ سَفَانِيْنَ الْبَرِّ -
اونٹ۔ السَّفَانَةُ - موتی۔
الْمِسْفَنُ - چوب تراشی کا اوزار۔
سَفْنَجٌ - جلدی کرنا۔ لِفْلَانِ النَّقْدِ
نقدی جلدی دینا۔

السَّفْنَجُ وَالسَّفْنَجُ وَالسَّفْنَجُ -
اسپنج۔ مُرَدَةٌ بَادِلٌ -
السَّفْنَجُ - لبا۔ جلدی کرنے والا۔ مَوْنٌ -
سَفْنَجَةٌ -

الْإِسْفِنُطُ - خوشبودار رس۔ خصوصاً
انگور کا۔

سَفَنَ (ن) سَفَنًا - الرَّجُلُ - بے وقوفی
میں دوسرے سے سبقت لے جانا۔
بے وقوفی پر آمادہ کرنا۔ بے وقوف
کرنا۔ نَفْسَهُ - اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔

سَفَنَ نَصِيْبَهُ - اپنا حصہ بھولنا۔
سَفَنَ (س) سَفَنًا - بے وقوف ہونا۔
بری عادت والا ہونا۔ صفت۔
رَسْفِيْنَهُ، ج۔ سَفَاةٌ وَسَفَهَاءُ
مَوْنٌ (رَسْفِيْنَهُ) ج۔ سَفَاةٌ
وَسَفَهَةٌ وَسَفَاهَةٌ وَسَفِيْهَاتٌ -
سَفَنَ الشَّرَابِ - شراب بہت
پینا۔ نَصِيْبَهُ - اپنا حصہ بھولنا۔

سَفَنَ (ن) سَفَنًا، سَفَاهَةً وَسَفَاهًا -
جاہل ہونا۔ بے وقوف ہونا۔ سَفَنَ
الرَّجُلُ - بیوقوف بنانا۔ بے وقوف
کرنا۔ ج۔

سَافِهَةٌ - گالی گلوچ کرنا۔ الدَّنَّ
ٹلکے کے پاس بیٹھ کر بار بار پینا۔
الشَّوَابُ - بے اندازہ بہت زیادہ
پینا۔

أَسْفَهُ - اِنَّهُ فُلَانًا الْمَاءَ - بہت
پلانا اور سیر نہ ہونے دینا۔

تَسْفَهُ - الرَّجُلُ - بتکلف بے وقوف
ہونا۔ الرِّيحُ - ہوا کا مضرب
ہونا۔ الرِّيحُ الْغَضُوْبُ - ہوا کا
درخت کی شاخ کو بھگانا۔ فُلَانًا
عَنْ مَالِهِ - کسی کا مال ٹھگ لینا۔
تَسَافَةٌ - عَلَيْنَا -

السَّفَهُ - مص۔ جمالت۔ بردباری سے
محرومی۔ بد اخلاقی۔

السَّافَهُ - بے وقوف۔ بہت پیاسا۔
وَادٍ مَسْفَهُ - بھری ہوئی وادی۔

الْمَسْفَهُةُ - بے وقوف۔ بہت پیاس
لگانے والی خوراک۔

سَفَا يَسْفُو سَفْوًا - تیز چلنا یا اڑنا۔
سَفِيْ (س) سَفَاً وَسَفَاءً - پیشانی پر

کم بال ہونا۔ الرَّجُلُ - بے
وقوف ہونا۔

أَسْفَتْ (سَفِيْ) سَفِيْثٌ - يَدُهُ -

بَاةٌ مَحْنَةٌ

أَسْفَى - بے وقوف ہونا۔ فُلَانًا - طیش
پر آمادہ کرنا۔ بہ۔ کسی کے ساتھ
بد سلوک کرنا۔ برائی کرنا۔ أَسْفَتِ
النَّاقَةَ - اونٹنی کا لاغر ہونا۔
أَسْفَى - الزُّرْعُ - غلہ کی بالیوں کے
خاروں کا سخت ہونا۔ الرِّيحُ - ہوا
کا چلنا۔

سَافَى - الرَّجُلُ - گالی دینا۔ علاج کرنا۔
بے وقوفی کا برتاؤ کرنا۔
السَّفَا - پیشانی کے بالوں کی کمی۔ خاک۔
دُبْلَانٌ - کانٹے دار درخت۔ واحد۔
(سَفَاةٌ)

السِّفَاءُ - دوا۔ فَوَسَّ أَسْفَى - پیشانی
پر کم بال رکھنے والا گھوڑا۔ تیز رفتار۔
مَوْنٌ - سَفْوَاءٌ - رِيْحٌ سَفْوَاءٌ -
تیز رفتار ہوا۔

سَفَى يَسْفِي سَفِيًّا - التُّرَابُ -
خاک اڑنا یا بکھرنا۔

السَّافِيَاءُ - خبار۔ السَّفَى - جس کو ہوا اڑا۔
السَّفَى - پرانہ خبار۔ الأَسْفَى مِنَ
الْخَيْلِ - پیشانی پر کم بال والا گھوڑا۔
مَوْنٌ - سَفِيًّا - ج۔ سَفَى -

المُسْفَى - چغل خور۔
سَقَبَتُ (س) سَقَبًا وَسُقُوبًا -

الدَّارُ - نزدیک ہونا۔
اسقبت - الدار - قریب کرنا۔

اسقبت الناقَةَ - اونٹنی کا تڑپے
جنا۔

تَسَاقَبَتِ - الْبَيْوتُ - گروں کا پاس
پاس ہونا۔

السَّقْبُ - ج۔ أَسْقَبٌ وِ سَقَابٌ وِ
سُقُوبٌ وَسُقْبَانٌ - اونٹنی کا وہ
بچہ جس کو ابھی جنا ہو۔ لوزا پیکہ بچہ۔

ج۔ سِقْبَانٌ وَالسَّقِيْبَةُ - خیمہ کا

<p>- السَّقُوطُ گرا ہوا۔ السَّقِيطُ - احمق ناقص العقل۔ مؤنث سَقِيطَةٌ - برف، شبنم وغیرہ۔ السَّقَاطُ - بست گرنے والا۔ بست تیز تلواریں - والسَّقِطِيُّ، روی سامان بیچنے والا۔ کباڑی۔ السَّقَاطَةُ - السَّقَاطُ کا مؤنث۔ المَسْقُطُ والمَسْقُوطُ - گرنے کی جگہ۔ ج۔ مَسَايِقُطُ - مَسْقُوطُ رَأْسِ الرَّجُلِ - انسان کی پیدائش گاہ۔ المَسْقُوطَةُ گرنے کا سبب۔ مَسْقُوطَةُ الْأَحْبَابِ بڑی مصیبت۔ الْأُمَّمُ الْمَسْقَاطُ - قبل از وقت بچہ گرانے کی عادت رکھنے والی ماں۔ سَقَعَهُ رَضًا، سَقَعًا - کسی کے تھپڑ مارنا۔ کسی کو سخت سست کہنا۔ برائی سے پیش آنا۔ سَقَعُ - الدِّيَكُ - مرغ کا بانگ دینا۔ مَا أَدْرِي أَيْنَ سَقَعُ؟ مجھے نہیں علم وہ کہاں گیا۔ أَسْتَقِفُّ - كَوْنُهُ - رنگ کا متغیر ہونا۔ السُّقْعُ - گمر زمین کا گوشہ۔ ج۔ آسَقَاعُ - السِّقَاعُ - وہ کپڑے کا ٹکڑا جو اوڑھنی کو تیل سے بچائے۔ برقع۔ وہ چیز جس سے اونٹنی کی ناک باندھی جائے۔ الْأَسْقَعُ - سبزیر اور سفید سر کا چڑیا کے مانند ایک پندہ جو پانی کے قریب ملتا ہے۔ ج۔ آسَاقِعُ - دشمنوں اور ماسلوں سے دور رہنے والا۔ سَقَفَ رَفَنٌ، سَقَفًا وَسَقَفَ - الْبَيْتَ - گھر پر چھت ڈالنا۔ سَقَفَ رَفَنٌ، سَقِيفِي وَسَقِيفَ و سَقَفَ - بَشِپَ بِنَا - أَسْقَفَهُ وَسَقَفَهُ - عَلَيْهِمْ بَشِپَ بِنَا -</p>	<p>گرنے۔ خطا کرنا۔ نام۔ حیران ہونا۔ مَسَايِقُطُ بِسَقَاطًا وَمَسَايِقُطَةٌ - گرانا یا مسل گرانا۔ الْحَدِيثُ - ہاری باری سے بات کرنا۔ الْعَرَسُ الْعَجِيلُ گھوڑے کا اور گھوڑوں سے سبقت کرنا۔ - الْعَرَسُ الْعَدَاؤُ - گھوڑے کی سست دوڑ۔ أَسْقَطْتُ - گرانا۔ أَسْقَطْتُ الْمَرْأَةَ السَّقَطُ - عورت کا ادھورا بچہ گرانا۔ لَهُ بِالْكَلامِ - گال دینا۔ الرَّجُلُ کسی کے ساتھ ایسا کچھ کرنا، جس سے وہ حقیر ہو جائے۔ مَا أَسْقَطَ فِي كَلِمَةٍ - اس نے کسی کلمہ میں غلطی نہیں کی۔ تَسَقَطْتُ - کسی کی خطاؤں کی تلاش کرنا۔ الْخَبْرُ - تھوڑی تھوڑی حاصل کرنا۔ تَسَاقَطَ وَأَسَاقَطَ - پے در پے گرنے۔ السَّقُطُ - شبنم یا برف۔ ٹیم (والسَّقُطُ والسَّقُطُ) نا تمام بچہ جو اپنی میعاد سے پہلے گرجائے۔ خیمہ کا گوشہ، پندہ کا بازو۔ اس بادل کا کنارہ جو سطح زمین سے لگا ہوا دکھائی دے۔ السَّقِطَةُ زور سے گرنے۔ لغزش۔ السَّقُطُ - ہرنا کارہ دے خیر چیز۔ روی سامان۔ فضیحت و شرمندگی۔ کہنے بولنے یا حساب میں غلطی۔ ج۔ آسَقَاطُ - السَّاقِطُ - کینہ۔ ج۔ سَقَاطُ و سَقِطُ - مؤنث۔ سَاقِطَةٌ - السَّاقِطَةُ - کینہ۔ ناقص العقل۔ کہنے سے پہلے گرجانے والا پھل۔ ج۔ سَوَاقِطُ - السَّقَاطُ - مہ۔ سَاقِطُ کی جمع۔ لغزش۔ کہنے سے پہلے گرجانے والا پھل۔ پندہ کا بازو۔ السَّقَاطُ وَالسَّقَاطَةُ - گری ہوئی چیز۔</p>	<p>لُذًا۔ سرسبز، موٹی اور لمبی شاخ۔ السَّاقِبُ - فاء نزدیک۔ دور۔ (مذ) المَسْقَبُ والمَسْقَابُ - نرانیہ بچہ کی ماں۔ وہ مادہ جو مادہ زنجیجہ۔ سَقَدَ رَمِي سَقْدًا وَسَقْدًا وَأَسْقَدَ - الْفَرَسُ - ڈبلا کرنا۔ السَّقْدَةُ - ج۔ سَقْدُ (السَّقِيدَةُ) ج سَقِيدَتٌ - سرخ پروں والا ایک چھوٹا پرندہ۔ سَقَرْتُهُ رَمِي سَقْرًا - الشَّمْسُ - سورج کا کسی کو بھلانا۔ أَسْقَرْتُ - النَّخْلَةَ - کھجور کے درخت سے شیرہ پینا۔ السَّقْرُ - مہ۔ رگرا۔ سَقَرُ - دوزخ (غیر معروف ہے)۔ السَّقْرَةُ - سورج کی سخت گرمی۔ پیش۔ ج۔ سَقَوَاتٌ - السَّاقُورُ - گرمی۔ جانور کو داغنے کا لوبہ۔ السَّقَارُ - غیر مستحق پر بہت لعنت بھیجنے والا کافر۔ ج۔ سَقَارَةٌ - سَقَسَى - الطَّائِرُ - پرندہ کا بیٹ کرنا۔ سَقَطَ رَمِي سَقُوطًا وَسَقَطًا - زمین پر گرنے۔ کہتے ہیں: سَقَطَ مِنْ عَيْنِي - میری نظر سے گر گیا، یعنی میری نگاہ میں حقیر ہو گیا۔ سَقَطَ فِي الْكَلَامِ غلطی کرنا۔ النُّجْمُ - ستارہ کا غروب ہونا۔ الْحَرُّ - گرمی پڑنا یا دور ہونا۔ عَلِيٌّ مَأْتِيهِ - موقع بازگشت سے مطلع ہونا۔ الْقَوْمُ إِلَى قَوْمٍ كَاتِرًا - الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمَّهِ - بچہ کا ماں کے بیٹ سے نکلنا۔ سَقَطَ فِي يَدِي - نام ہونا۔ عَلِيٌّ الْحَبِيرُ سَقَطَتْ - تم واقف کار کے پاس پہنچے۔ سَقَطُوا سَقِطًا - فِي يَدِي - لغزش</p>
---	---	--

سَقِفَتِ (س، سَقْفًا - کپڑا اور لمبا ہونا۔
 صفت (سَقْفٌ، مَوْثٌ - سَقْفَاءُ
 ج - سَقْفٌ -
 السَّقْفُ - مِنَ الْبَيْتِ - گھر کی چھت۔
 ج - سَقُوفٌ -
 السَّقِيفُ - چھت - ج - سَقْفٌ وَ سَقْفٌ -
 السَّقِيفَةُ - چھت پانے کا تختہ یا پتھر۔
 سونے یا چاندی کے پتلے پتلے پترے۔
 اونٹ کی پسلی - ج - سَقَائِفٌ -
 هَدَمَ السَّفَرُ سَقَائِفُ الْبَعِيرِ - سفر
 نے اونٹ کی پسلیاں توڑ ڈالیں۔
 الْأَسْقَفُ - موٹی اور لمبی بڑیوں والا -
 مِنَ الْجَبَالِ - وہ اونٹ جس پر بال
 نہ ہوں - مِنَ الظُّمَانِ - طیرھی گرو
 کا شتر مرغ۔
 الْأَسْقَفُ - بشپ - مطران - ج -
 أَسَاقِفَةٌ وَ أَسَاقِفٌ -
 الْأَسْقِفِيَّةُ - بشپ کا عمدہ، بشپ کی
 رعیت کی طرف منسوب۔
 الْمُسَقِفُ - مفع - لمبا۔
 سَفَلَةٌ (ن) سَقْلًا - صیقل کرنا۔
 سَقِلَ (س) سَقْلًا - الْبَعِيرُ - اونٹ کے
 گھڑے کی پیٹھ پر گوشت کم ہونا۔
 السُّقْلُ - كَر - السَّقْلُ مِنَ الرَّجَالِ
 پتلی کمر والا - مِنَ الْخَيْلِ -
 گھڑے کی پیٹھ پر گوشت کم ہونا۔
 السُّقْلُ وَالسُّقْلُ وَالْأَسْقَالُ وَ
 الْأَسْقِيلُ - جنگلی پیاز۔
 الْإِسْقَالَةُ - اونچی جگہ پر پہنچنے کے
 لیے پاڑھ - ج - أَسَاقِيلُ -
 سَقْلَبَةٌ - پچھاڑنا۔
 السَّقْلَبُ - علاقہ خزر کے رہنے والے
 لوگوں کی ایک جماعت جو یورپ کے
 ملکوں میں جا کر آباد ہو گئی - واحد
 (سَقْلَبِيٌّ) ج - سَقْلَابَةٌ -

سَقَمَ (س) وَ سَقَمَ (ك) سَقْمًا وَ
 سَقْمًا وَ سَقَامًا وَ سَقَامَةً -
 بیمار ہونا یا بیماری کا دراز ہونا - صفت
 (سَقِيمٌ) ج - سَقَامٌ وَ سَقْمَاءُ -
 اسْقَمَةُ وَ سَقَمَةٌ - بیمار ڈالنا - وَ
 اسْقَمَ الرَّجُلُ - بیمار گھر والا
 ہونا - السَّقْمُ وَ السَّقْمُ - ج
 اسْقَامٌ - (و السَّقَامُ) بیماری۔
 السَّقْمُ وَ السَّقِيمُ - بیمار - كَلَامٌ
 سَقِيمٌ - غیر درست کلام -
 مَكَانٌ سَقِيمٌ - خوفناک جگہ۔
 هُوَ سَقِيمٌ الصَّدْرُ عَلَى آخِيهِ
 وہ اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔
 الْمِسْقَامُ - بہت بیمار رہنے والا - وَالْمُ
 الْمَرِيضُ - جرم روگی - ارَضٌ مِسْقَمَةٌ
 بیماریوں والی زمین۔
 السَّقْمُورُ - ماہی ریگ - ریت کی مچھلی۔
 سَقَى (س) سَقِيًّا - الرَّجُلُ - پانی پلانا۔
 کسی سے سَقَاكَ اللهُ يَا سَقِيًّا -
 کہنا۔ کسی پر عیب لگانا کسی کی غیبت
 کرنا۔ الثَّوْبُ كَثِيرٌ مَغْنًا - سَقَاةُ
 اللهُ الْغَيْثُ - خدا تعالیٰ اس کے
 لیے بارش بھیجے - بَطْنُهُ بِيَارِي
 وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہونا۔
 سَقَى - قَلْبُهُ عَدَاوَةً - دل کا دشمنی
 سے بھر جانا - بَطْنُهُ بِيَارِي
 کا پانی جمع ہونا۔
 سَقَى سَقِيَّةً - الرَّجُلُ - بہت پلانا۔
 سَقِيًّا لَكَ كَمَا - الثَّوْبُ
 کپڑے کو بار بار رنگ میں ڈلونا۔
 اسْتَقَى اسْقَاءً - پانی پینے کے لیے دینا
 پانی کی طرف رہنمائی کرنا۔ مَرِيضٌ كَمَا بِيَارِي
 پلانا، یا زمین کو سیراب کرنا کسی سے
 سَقَاكَ اللهُ يَا سَقِيًّا لَكَ كَمَا -
 سَقَاةُ سَقِيًّا - ایک دوسرے کو

پلانا - سَقَاةٌ فِي اَرْضِيهِ - کسی کو زمین
 کی دیکھ بھال کے لیے رکھنا۔ اس شرط پر
 کہ اس کو کچھ غلہ دیا جائے گا۔
 تَسَقَى تَسْقِيًّا - سیراب ہونا - تَرْمُونًا -
 تَسَقَى الصَّبْغُ - رنگ لی جانا۔
 اسْتَقَى اسْتِقَاءً وَ اسْتَسَقَى
 اسْتِسْقَاءً - منہ - پانی مانگنا -
 اسْتَقَى مِنَ النَّهْرِ - نہر سے پانی
 لینا - وَ اسْتَسَقَى الرَّجُلُ - کسی
 کے جسم یا پیٹ میں بیماری کا پانی جمع ہونا
 قے کرنا - اسْتَسَقَى الرَّجُلُ - کسی
 سے سَقَاكَ اللهُ يَا سَقِيًّا لَكَ كَمَا -
 السَّقَى وَ السَّقَى - پیٹ میں بیماری کا پانی۔
 - السَّقَى - سیراب کی ہوئی فصل یا
 زمین - پانی کا حصہ - بادل - ج -
 اسْقِيَّةٌ -
 سَقِيًّا وَ سَقِيًّا - يَفْلَانِ - دعا کے موقع پر
 کہتے ہیں۔ وَ اصل سَقَاةُ اللهُ سَقِيًّا
 تھا - یعنی اللہ اس کو سیراب کرے۔
 السَّقَاءُ - مَشْكٌ - ج - اسْقِيَّةٌ وَ اسْقِيَاتٌ
 وَ اسَاقِي -
 السَّقَايَةُ وَ السَّقَايَةُ - پانی پلانے کی جگہ
 پانی پینے کا برتن (س) وَ السَّقَايَةُ
 پانی جمع کرنے کا برتن یا ٹنکی۔
 السَّقَايِيُّ - فَا - ج - سَقَاةٌ وَ سَقَاوَنٌ
 وَ سَقَاءٌ وَ سَقِيٌّ -
 السَّقَايَةُ - مَوْثٌ - السَّقَايِيُّ - چھوٹی نہر۔
 ج - سَقَايِيٌّ وَ سَقَايَاتٌ -
 السَّقِيٌّ - دریاؤں کے پانی سے سیراب
 کیا ہوا - بہت بارش برسائے والا بادل۔
 درخت خرما - ہرودی کا پودہ - واحد
 (سَقِيَّةٌ) -
 السَّقَاءُ - سَقَايِيٌّ كَمَا بِالْمَغْزِ - مَوْثٌ -
 سَقَاءَةٌ وَ سَقَايَةُ -
 الْاسْتِسْقَاءُ - بَرُوئے لغت پانی طلب

کرنا۔ اور باصطلاح شرع پانی طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء ادا کرنا۔ اور دعا کرنا۔ اطباء کے نزدیک ایک بیماری کا نام ہے۔

المسقی۔ سیرابی کا وقت۔

المسقوی۔ دریا کے پانی سے سیراب کی ہوئی کھیتی روپوت کی کھیتی)۔ و المظنای بارانی کھیتی۔ المسقاة۔ و المسقاة۔ پانی پلانے کی جگہ۔

سک دن، سکا۔ الباب۔ دوازہ بند کرنا۔ دروازہ میں لوبے کی بلی لگانا۔

السن۔ کنواں کھودنا۔ اذنیہ۔ کانوں کو جڑ سے اکھڑنا۔ النعام ما فی بطنہ۔ شتر مرغ کا پیٹ بیٹ کرنا۔ کہتے ہیں: ما سک سمعی مثل ذلک الکلام۔ اس جیسا کلام میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا۔ این تسک۔ کہاں جاتے ہو۔

سک لفظ سکا۔ چھوٹے کانوں والا ہونا۔ صفت راسک؛ مؤنث سکا۔ ج۔ سک۔

استک استکاگا۔ النبات۔ پودے کا گنجان ہونا۔ اسک المسامع۔ بہرا ہونا۔ البیت۔ بند بھری والا ہونا۔ ما استک فی مسامعی مثلہ؛ یعنی میرے کانوں میں اس جیسی بات نہیں پڑی۔

السک والسک۔ ج۔ سکاک و سکوک۔ تنگ کنواں تنگ کڑیوں والی زرہ۔ بند ٹوک۔ السک کبیل سیدی عارت طبیعت کی کینگی، بچھو کا سوراخ۔ کڑی ایک قسم کی خوشبو "ضربوا بیوتکم بسکاکا" انہوں نے اپنے مکانات ایک قطار میں بنائے۔

السکف۔ ص۔ بہرا پن۔

السکاء۔ تنگ حلقوں والی زرہ۔

السکة۔ سیدھا راستہ، بل کی پھال۔ درختوں کی قطار۔ سکہ ڈھالنے کا سانچہ یا مشین، پوسٹ آفس۔ ج۔ سکاک۔ اصحاب السک۔ اہم امور کے لیے بھیجے جانے والے وکیلینہ خور پیغام رساں۔

السکی۔ دینار۔ قاصد۔ السکی۔ کبیل۔ السکاک۔ کرہ ہوائی تیر میں پر کی جگہ۔ السکوک۔ تنگ منہ کا کنواں۔ السکاکة۔ کرہ ہوائی۔ خود رائے، آپ خود۔ چھوٹے کانوں والا۔

السکاک۔ کے ڈھالنے والا۔ السکاکة۔ مسافر لوگ۔

سکب دن، سکا و تسکا یا۔ الماء و نحوه۔ پانی وغیرہ گرانا۔ ہونا۔

سکب دن، سکوبا و انسکب۔ الماء پانی کا گرنا۔ بنا۔ بنا۔

تسکب۔ الدمع۔ آنسو بہنا۔

السکب۔ ص۔ لگاتار بارش۔ من الخیل۔ تیز رفتار گھوڑا۔ امر سکب۔ لازم ہونے والا کام۔ رجل سکب۔ چیت چالاک آدمی۔ (و السکب) تانبا یا سید۔ ایک خوشبودار درخت۔ واحد (سکبہ) سر کی بھوسی۔

السکب و السکب و الاسکوب۔ بننے والا۔

الاسکوب۔ لگاتار بھڑی۔ موچی، لوہار۔ درخت خما کی قطار۔ من البوقی زمین کی طرف کوندنے والی بجلی۔

الاسکاب۔ موچی۔

الاسکوبة و الاسکابة۔ مشک کے نشانات میں دینے کی کڑی۔

الاسکبة۔ نہانے یا بننے کی جگہ۔

السکبا۔ گوشت اور سرکہ سے تیار کردہ سالن۔

سکت دن، سکتا و سکوت و سکتا و ساکوت۔ خاموش ہونا۔ مربانا۔ الغضب۔ غصہ ٹھنڈا ہونا۔ الحرقہ گرمی کا تیز ہونا اور ہوا کا رکنا۔ الحرقہ حرکت کا ٹھنڈا۔

سکت۔ سکتہ لاحق ہونا۔ صفت (سکوت)۔ اسکت۔ کلام کا بند ہونا۔ حین الشئ۔ اعراض کرنا۔

انسکت و سکتا۔ چپ و خاموش کرنا۔ ساکتا۔ خاموش رہنے میں مقابلہ کرنا۔

السکتة۔ ایک مشہور بیماری کا نام۔ السکتة۔ برتن کا بچا ہوا۔ بچہ وغیرہ کو چپ کرانے کی لوری۔

السکات۔ بولنے سے روکنے والی بیماری۔ بے خبری میں ڈس لینے والا سانپ۔ هو علی سکات الامر؛ وہ کام ختم کرنے کے نزدیک آ گیا ہے (و السکاتة) من الجواب۔ مسکت جواب۔ کہتے ہیں: رماہ سکاتہ و صماتہ؛ اس نے اس کو خاموش کر دیا۔

السکت۔ کم گو۔ السکت و السکوت و الساکوت و الساکوتہ و السکیت و السکیت و السکیت۔ گھوڑ دوڑ کا آخری گھوڑا۔

اسکات۔ القوم۔ قوم کے اوباش لوگ۔ الشئ۔ چیز کے باقی ماندہ حصے۔

المسکت۔ جوئے کے کھیل کا آخری تیر۔ سکودن سکوا۔ الاناء۔ برتن بھرنا۔

النحو۔ دریا کے لیے بند بنانا۔ الباب۔ دوازہ بند کرنا۔ سکورا، و سکوران۔ الوبیح۔ ہوا کا ٹھنڈا۔ الحرقہ گرمی کا کم ہونا۔ سکور و سکور۔ بصرہ۔ نگاہ دھندلی ہونا۔

سکودس، سکوا - الخوصن - حوفن کا بھرتا
 - الوجل علیہ کسی کا کسی پر
 غضبتاک ہونا سکوا و سکوا و
 سکوا و سکوا و سکوا، - من
 الشراب - شراب سے مدہوش ہونا۔
 صفت سکوا و سکوان - صفت مؤنث
 (سکوة و سکوی و سکوانة) ج
 سکوی و سکازی و سکازی -
 سکرة - گلا گھونٹنا - الباب - دروازہ
 بند کرنا۔
 اسکورة - الشراب - مست کرنا۔ مدہوش
 کرنا۔
 تساکر - مستی ظاہر کرنا۔ بناؤں متوالا ہونا
 نشہ آور چیز استعمال کرنا۔
 السکور - شراب اور نشہ آور چیز برکہ
 السکور - ذریا کا بند، پشتہ - ج - سکور
 السکور - مص - مستی، نشہ۔
 سکوة - الموت أو الصدم موت یا غم کی
 سختی - ج - سکوات
 السکور شکر (سکوة) اس سے خاص ہے
 الساکو - فا - کین ساکو - وہ رات جس
 میں برا ٹھہری ہوئی ہو۔ مؤنث۔
 السکار - نشہ آور چیزوں کا بنانے والا۔
 یا بیچنے والا۔
 السکیر و السکور و السکیر - بہت
 نشہ والا - شراب کا عادی۔ السکرجة
 و السکرجة - تھری رکابی۔
 تسکسک - کمزور ہونا۔ بہادر ہونا۔
 تسکسک - ایلیہ - عاجزی کرنا۔
 سکم و سکم (ن س) سکعا و سکعا -
 آوازہ بھرتا "ما أدیری آین سکم"
 میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔
 سکم - فی آخرہ اوسیرہ - بے راہ
 چلنا۔ مت تک باطل میں رہنا۔
 الظلمة - اندھیرے میں بھٹکتے پھرنا۔

الساکم - فار - والسکم - مسافر آدمی۔
 اجنبی - رجل سکم - متحر آدمی۔
 السکم - ایک بوٹی۔
 المسکعة - امر جن کی راہ نہ سوچے۔
 ارض مسکعة - بھٹکانے والی
 بے راہ زمین۔
 سکف (ن) سکفا - الباب - دروازہ
 کی چوکت بنانا۔
 تسکف - الباب - دروازہ کی چوکت
 پر قدم رکھنا۔
 اسکف - موی ہونا۔
 الساکف - فا - دروازہ کی چوکت کی
 اوپر کی لکڑی - جو دہلیز کے مقابل
 ہوتی ہے۔
 الاسکف - من العین - پلوں کے اگے
 کی جگہ - آنکھ کا پھلپھلانا۔
 الاسکفة و الاسکوفة - چوکت - دہلیز
 الاسکف و الاسکاف و الاسکوف
 و السکاف و السکف - موی - و
 السکافة - موی کا پیشہ۔
 سکدن، سکما - کمزوری سے قریب
 قریب قدم رکھنا صفت (سکینہ)
 الاسکینہ - رامب کا کپڑا یا اس کا سر
 پر ڈالنے کا کپڑا۔
 سکدن، سکونا - ٹھہر جانا۔ سکون
 پذیر ہونا۔ ایلیہ - خوش ہونا۔
 عند الوجع - دور دور ہونا۔ جاتا
 رہنا۔ الحروف - حرف کا بلا حرکت
 ہونا۔ سکنا و سکنی - الدار
 و فی الدار رہنا۔ اقامت کرنا۔
 صفت (ساکین) ج - سکنا و
 ساکون۔
 سکدن (ن) سکونا و سکدن، سکونة
 سکین ہونا۔
 سکین - المتحرک - ساکن کرنا۔ ٹھہرانا

- البحر - جزم وینا۔
 ساکنہ - فی دار و اجدقة - ایک گھر میں
 سنگ ساتھ رہنا۔ مل کر رہنا۔
 اسکن - الرجل - سکین ہونا۔
 کسی کو سکین بنا دینا۔ الدار
 گھر میں کسی کی بود و باش کرانا۔ کسی کو آباد
 کرنا۔ الفقر فلانا - محتاجی کا
 کسی کو بے حرکت بنانا۔
 تسکن و تمسکن - سکین و محتاج ہونا۔
 تساکنوا - فی الدار - مل کر رہنا۔
 استکان استکانة و استکن - ذیل
 و عاجز ہونا۔
 السکن - گھروالے - گھر
 السکن - آگ، رحمت، برکت - ہر وہ چیز
 جس سے آرام ملے۔ دلگے۔ الاسکان
 کا واحد یعنی غذا - خوراک (و السکنی)
 رہنے والا۔ رہنے کی جگہ۔
 السکنہ - سر کی جڑ - سر کے قیام کی جگہ۔
 ج - سکناات کہتے ہیں ترکشہ
 علی سکنااتہم - میں نے ان کو اپنی
 حالت پر چھوڑا۔
 السکینة - وقار - بیت، اطمینان۔
 السکین - ہلکا پھلکا تیز رو گدھا۔
 السکینة - گدی۔
 السکون - بے حرکتی، آرام - جزم۔
 السکان - من السکینة - ہمارے - ج -
 سکانات
 السکین - چھری - ج - سکاکین و
 (السکان) چھری ساد۔
 السکین و المسکن - گھر، مکان، منزل۔
 ج - مساکین۔
 المسکنة - محتاجی، ذلت - کمزوری۔
 المسکین - کچھ نہ رکھنے والا۔ خیال کے لیے
 بقدر کفایت نہ رکھنے والا۔ ذلیل۔
 مغلوب - ج - مسکینون و مساکین

۱۔ واسْتَلَّتْ، الْقَصْعَةَ - پیالہ کو انگلیوں سے پونچنا۔ صاف کرنا۔
 ۲۔ اسْتَلَّتْ - چکے۔ بے خبری میں کسکتا۔
 السُّلْتُ بے چھلکے والے ابو پیغمبری جو۔
 السُّلَاتَةُ - دور کی ہوئی یا نکالی ہوئی چیز۔
 پیالے کے اطراف سے انگلیوں سے پونچھی ہوئی چیز۔
 الْأَسْلَتُ - جڑ سے کٹی ہوئی ناک والا۔
 مَوْنَتُ - سَلْتَاءُ - ج۔ سَلْتٌ - اِمْرَاةٌ
 يَسْلَتَاءُ - حندی نہ لگنے والی عورت۔
 سَلِيحٌ دس، سَلْجَاو سَلْجَانَا - اللُّقْمَةُ
 لقمہ نگنا۔ ۲۔ و سَلَجَتْ دَن
 سَلُوجًا اِلَيْهِ - سلج گھاس کھانے سے پیٹ چلنا۔ سَلَجَ الْفَصِيلُ
 النَّاقَةَ - دودھ پینا۔
 تَسَلَجَ - الطَّعَامُ - کھانا آسانی سے نکلنا۔
 ۲۔ و اسْتَلَجَ الشَّرَابُ - غُثْ
 غُثْ بِي جَانَا -
 السَّلِجُ - مَعِي - نَخَشْ عَطِيه - السَّلْجَةُ
 سمندری سیپی - ج۔ سَلْجٌ - السَّلْجُ
 ایک گھاس جس کو اونٹ چرتا ہے۔ ج۔
 سَلَالِيْجٌ - اِلَيْجَانُ -
 السِّيْلِيْجُ - مِّنَ الْاَكْلِ - لذیذ عمدہ حلق سے
 جلد تر جانے والی غذا۔
 السَّلْجِيْجُ و السَّلْجِيْجُ - مِّنَ
 الطَّعَامِ - خوش مزہ خوراک۔
 السَّلْجَمُ - شَلْمٌ گھنی داڑھی لمبے جڑوں
 والا سر۔ بہت پانی والا پرانا کنواں۔
 ۲۔ و السَّلْجَمُ لمبا گھوڑا یا تیر یا آدمی
 بہت بوڑھا اونٹ۔ ج۔ سَلْجَمٌ -
 سَلَحَ دَن، سَلْحًا - بیٹ کرنا۔ یہ کرنا۔
 پرندوں اور چوپاؤں کے لیے مخصوص ہے
 انسان کے لیے مجازاً آتا ہے،
 سَلَحَنَ - ہتھیار پہنانا۔ ۲۔ السَّيْفُ و
 بِالسَّيْفِ - کسی کے تلوار باندھنا۔

وَأَسْلَحْتَ مَسْحَ كَرْنَا
 تَسْلَحٌ - ہتھیار پہننا، ہتھیار لگانا۔
 السَّلْحُ - مَعِي - پتلا پائخانہ۔ ج۔ سَلُوْحٌ
 و سَلْحَانٌ -
 السَّلْحُ - تالابوں میں بارش کا پانی
 السَّلْحُ - ج۔ يَسْلَحَانٌ و د السَّلْحَةُ
 چکور کا بچہ۔
 السَّلْحُ و السَّلْحَانُ - ہتھیار۔
 السَّالِحُ - فَا - مُسَلِّمٌ - ہتھیار بند۔
 السَّلْحُ - ہتھیار (مذکر مؤنث) ج۔ آسَلْحَةُ
 و سَلْمٌ و سَلْحَانٌ -
 السَّلْحُ - پائخانہ، اسہال۔
 السَّلْحِيْجُ - قاصد (سریانی کلمہ ہے) پیغمبر
 الْمَسْلَحَةُ - میگزین، پہرہ کی جگہ۔ ج۔
 مَسَالِحٌ - مُسَلِّحٌ - جماعت۔
 سَلَحَبٌ - اسْتَلَحَبَ - الطَّرِيقُ - راستہ
 کا واضح لمبا اور سیدھا ہونا۔ صفت
 (مُسَلْحَبٌ)
 السَّلْحَاةُ و السَّلْحَاةُ و السَّلْحَةُ
 و السَّلْحِيْفَةُ - کھوا۔ ج۔ سَلْحَةٌ
 سَلْحَ دَن، سَلْحًا - الْخُرُوفُ - بکری
 کے بچہ کی کھال اتارنا۔ الْمَرْأَةُ - عورت
 کا اپنا کرنا اتارنا۔ الْحَيْثُ - سانپ
 کا اپنی کینچلی اتارنا۔ اَللَّهُ النَّهَارُ
 مِّنَ اللَّيْلِ - اللہ کا دن کو رات سے
 علیحدہ کرنا۔ الرَّجُلُ الشَّهْرُ - مہینہ
 کو آخر تک گزارنا۔ الشَّهْرُ - مہینہ
 کا گذرنا۔
 سَلْحَ - الْحَرُ جِلْدَةً - گرمی کا کسی کی
 کھال کو اتار دینا۔
 اسْتَلْحَ - مِّنْ نِّمَاءٍ - ننگا ہونا۔
 الشَّهْرُ مِّنْ سُنْتِهِ - مہینہ گذرنا۔
 - النَّهَارُ مِّنَ اللَّيْلِ - دن کو رات
 سے علیحدہ ہونا۔ الْحَيْثُ مِّنْ
 قَشْرِهَا - سانپ کی کینچلی اتارنا۔

تَسْلَحٌ - جِلْدَةً - کھال کا اتارنا۔
 اسْتَلْحَ - اسْتَلْحَاخًا - الرَّجُلُ - لیٹنا۔
 سَلْحٌ - الشَّهْرُ و السَّلْحَةُ - مہینہ
 کا آخر۔ سَلْحُ الْحَيْثُ و سَلْحُهَا
 و سَلْحَتُهَا - سانپ کی کینچلی۔
 السَّلْحُ - بکھر پر چڑھا ہوا دھاگا۔ السَّلْحُ
 کھال کینچنی ہوا۔ شَيْءٌ سَلْبٌ مَلِيْغٌ
 بے مزہ چیز۔
 السَّلْحَةُ - فِي الشَّيْءِ - بے مزہ ہونا۔
 السَّلْحَةُ - بچہ۔ بان کا تیل جو ابھی رب نہ
 بنایا گیا ہو۔ مِّنْ شَجَرِ الرُّمْتِ و
 نَحْوِهِ وہ درخت جس پر چارہ کے لیے
 کچھ نہ ہو۔ صرف خشک لکڑی ہو۔
 السَّلْحُ - فَا - اَوْنَتُ كِي كَيْلِي - سیاہ سانپ کی
 صفت بھی بن کر آتا ہے۔ کیونکہ یہ ہر سال
 اپنی کینچلی اتارتا ہے۔ سپنی کو اَسْوَدَةٌ
 کہتے ہیں۔ اس کی صفت سَايْحَةٌ
 نہیں آتی۔ سَايْحٌ کا ثنیہ بھی نہیں
 آتا، البتہ جمع میں اَسَاوِرُ سَايْحَةٌ و
 سَوَالِيْحٌ و سَلْحٌ و سَلْحَةٌ کہتے ہیں
 السَّلْحُ - گنجا۔ سرخ چمڑے والا۔
 السَّلْحُ - بہت کھال کینچنے والا۔
 الْمَسْلَحُ - کھال کینچنے کی جگہ۔ مَذْبَحٌ -
 بوچھڑا ہوا۔
 الْمَسْلَحُ - سانپ کی کینچلی کی چمڑہ۔ الْخَلُّ
 وہ کھجور کا درخت جس کی کئی کھجوریں گر جائیں۔
 السُّوْرُ - ایک قسم کی سمندری کینچلی۔
 سَلْسَتٌ - سَلْسَا - النَّخْلَةُ - درخت
 خروا کی شاخوں کی جڑوں کا گر جانا۔ صفت
 (سَلْسٌ) اگر ایسا عام طور سے ہوتا
 رہتا ہے تو ایسے درخت کو (سَلْسَانٌ)
 کہتے ہیں۔ الخشبَةُ لَكْرِي كَا
 بوسیدہ ہونا۔
 سَلْسٌ دَس، سَلْسًا و سَلْسَةً و سَلْسًا
 آسانی سے مطیع ہونا۔ صفت (سَلْسٌ)

وَسَائِلٌ، کہتے ہیں: سَلِسٌ بِحَقِّهِ؛
اس نے میرا حق آسانی سے دیا۔
سَلِسٌ سَلَاً وَسَلْمًا: عقل جاتی رہنا۔
صفت (مَسْلُوسٌ)

سَلَسٌ - الحَلِي - زیور کو جو اہرات سے
مُرْتَعِج کرنا۔

تَسَلَسٌ - الشَّيْءُ: لٹکانا۔

السُّسُ - دھاگا جس میں موقی خرمرہ وغیرہ
پوئے جائیں۔ کان کی بالی - ج۔
سُوسٌ -

السُّسُ نرئی، تابعداری، پیشاب نہ رکنا۔

السَّلسُ - آسان، نرم، تابعدار - وَسَمَارٌ

سَلِسٌ - ہلنے والی میخ - شَرَابٌ

سَلِسٌ - حلق سے نرمی سے اتر جانے

والی شراب - "هُوَ سَلِسٌ الْبَوْلُ؛"

یعنی اس کو پیشاب پھینکنے کی بیماری ہے۔

السَّلسَبِيلُ - نرم - ج۔ سَلَّابٌ و

سَلَّابٌ - مَوْتٌ، سَلَّابَةٌ؛

ج۔ سَلَّابَاتٌ - شراب، شیریں،

خوشگوار، حلق سے آسانی اتر جانے والا

پانی بھرت کے ایک چشمہ کا نام۔

سَلَّسَ سَلْسَكَةً - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ -

ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا - طمانا۔

المَاءُ - پانی کو پستی کی طرف بہانا۔

"مَا سَلَّسَ طَعَامًا؛ اس نے کھانا

نہیں کھایا۔

تَسَلَّسَ - المَاءُ - پانی کا نشیبی زمین

میں بہنا - الثَّوْبُ - کپڑے کا پھیننے

سے پتلا پڑ جانا - فَرَنْدُ السَّيْفِ

تلواریں کے جوہر کا چمکانا۔

السَّلْسَلُ وَالسَّلْسَالُ وَالسَّلَاسِلُ - شیریں

خوشگوار پانی، حلق سے آسانی اتر

جانے والی مزے دار شراب۔

السَّلْسَلَةُ - کوہان کا لمبا ٹکڑا۔

السَّلِيلَةُ - لہے وغیرہ کی زنجیر، کوہان

کا لمبا ٹکڑا - ج۔ سَلَّاسٌ - سَلَّاسِلٌ
الْبَرْقُ - بادل کی چوڑائی میں، لمبائی
میں چمکنے والی بجلی - سَلَّاسِلٌ
الْكِتَابُ - کتاب کی سطویں۔

المُسَلَّسُ - مِنَ الثِّيَابِ - دھاری دار
کپڑا - شَعْرٌ مُسَلَّسٌ - گنگم ہالے

بال - سَيْفٌ مُسَلَّسٌ - چمکنے والی

تلوار (وَالْمُسَلَّسِلُ) مِنَ

الثِّيَابِ - رومی بناوٹ کا بوسیدہ

کپڑا۔

سَلِطَ (رَسٌ) وَسَلْطَانٌ، سَلَاطَةٌ -

وَسُلُوطَةٌ - زبان دراز ہونا۔

مَسَلَّةٌ - عَلَيْهِ - غلبہ دینا - اختیار دینا۔

قَالِبٌ بِنَانَا -

تَسَلَّطَ - عَلَيْهِ - کسی پر غالب آنا۔

قَالِبٌ بِنَانَا - قادر ہونا۔

السَّلْطُ - سَخْتٌ، زَبَانٌ دَرَّازٌ - لمبی زبان۔

السُّلْطُ - لَمْبِي طَانِكِيں - السُّلْطَةُ -

طاقت، حکومت، قدرت۔

السَّلْطَةُ - پتلا لمبا تیر - وہ کپڑا جس میں

گھاس اور بھوسہ ڈالا جائے - ج۔

سَلْطٌ وَسَلَاطٌ -

السَّلِيْطُ - سَخْتٌ، ہر چیز میں تیز، زیتون

کا عمدہ تیل - ہر قسم کے دانہ کا تیل۔

لِسَانٌ سَلِيْطٌ - لمبی زبان - رَجُلٌ

سَلِيْطٌ - زبان دراز آدمی - السَّلِيْطُ -

خوش بیان - تیز زبان آدمی - یہ جب

مرد کی صفت بن کر آتا ہے مدح کا سبب

بنتا ہے اور جب عورت کی صفت ہو کر

آتا ہے تو اس کی مذمت کا باعث ہوتا

ہے - اِمْرَاةٌ سَلِيْطَةٌ - زبان دراز

بذ زبان عورت - اِمْرَاةٌ سَلْطَانَةٌ

اللسانِ وَسَلْطَانَتُهُ - تیز زبان دراز

عورت۔

السُّلْطَانُ - مَجْتٌ - دلیل - لَهُ سُلْطَانٌ

قَبِيْنٌ: اس کے لیے صاف اور
کھلی دلیل ہے - قدرت - اقتدار - بادشاہ۔
ج۔ سَلَّاطِيْنٌ -

سَلْطَنَةُ سَلْطَنَةٌ - بادشاہ بنانا۔

تَسَلَّطَنَ - بادشاہ بننا۔

المِسْلَاطُ - کبھی کا دندانہ - ج۔ مَسَالِيْطٌ -

رَجُلٌ مَسْلُوْطٌ اللِّحْيَةِ - ہکی

داڑھی والا آدمی۔

السَّلْطَنَةُ - العَادِي - وادی کا وسیع و

فراخ ہونا - الرَّجُلُ مِنْهُ كَيْلٌ

یا پیٹھ کے بل گرنا - الشَّيْءُ لَمْبِيٌّ

اور چوڑی ہونا۔

السَّلَاطِيْحُ - چوڑا - المُسَلْطَحُ - چکنا

پھاڑ۔

السَّلْطَنَةُ وَالْمُسَلْطَنَةُ - کشادہ فضا۔

السَّلْطَنَةُ - الرَّجُلُ - چت لیٹنا۔

السَّلْطُوْعُ - چکنا پھاڑ - السَّلْطَنَةُ -

پاگل کی طرح گفتگو میں جہالت کرنے والا

یا اٹک کر بولنے والا - د۔ والسَّلِيْطَانُ

لمبا آدمی۔

سَلَعٌ (رَفٌ) سَلَعًا - الرَّاسُ - سر پھاڑنا

- جِلْدًا يَالْتَارًا - کھال کو آگ سے

جلا کر داغدار کرنا۔

سَلَعٌ (رَسٌ) سَلَعًا - الرَّجُلُ - برص کی

بیماری میں مبتلا ہونا - قَدَمٌ - پاؤں

کا پھٹنا۔

أَسْلَعٌ - پھٹے ہوئے ہر والا ہونا - جسم میں

زخم والا ہونا۔

سَلَعَةٌ - پھاڑنا - تَسَلَعٌ - عَقْبَةٌ -

ایڑھی کا پھٹنا۔

السَّلَعُ - پھٹنا - تَمَخُّنٌ -

السَّلَعُ - مَعٌ - پاؤں کی پھٹن یا برائی - ج۔

سَلُوْعٌ - واحد (سَلَعَةٌ) - د۔

دالسَّلَعُ، مثل: ہم عصر ہم جولی -

عُلَمَاءُ يَسْلَعَانُ - ہم عمر دوڑنے کے۔

بجول۔ فی الجہل پہاڑ کی دراز۔ ج
 اسلوع و سلوع۔
 السلعم۔ ایک کڑوا درخت۔ ایک بڑا لقمہ
 سبزی۔ ایک قسم کا ایسا کھال میں جلنے کا
 داغ۔
 السلعة و السلعة۔ جلد کو بھاڑ دینے والا
 زخم۔ ج۔ سلعات و سلوع۔
 السلعة۔ سامان۔ تجارت کا مال۔ ج۔
 سلعم۔ و السلعة و السلعة
 و السلعة۔ پھوڑا۔ غدود۔ چونک۔
 الاسلعم۔ برص کی بیماری والا۔ کبڑا۔ پھٹے
 ہوئے پاؤں والا۔ جسم پر جلنے کے نشانوں
 والا۔ مؤنث۔ سلعاء۔ ج۔ سلعم۔
 السولعم۔ ایسا۔
 السلیعة۔ طبیعت۔ المسلمعم۔ بیابان
 کا راہبر و رہنما۔
 المسلوع۔ پھیٹی جلد والا۔ جسم پر پھوڑے والا
 یا غدود رکھنے والا۔ سئ مسلعم۔
 بہت تیز زہر۔
 المسلعم۔ فراخ حلق والا۔ بڑے پیٹ
 والا۔ لمبی ناک والا۔ بھیڑیا۔
 سلعم۔ فی عدوہ۔ بہت تیز دوڑنا۔
 سلعم (ف) سلعم۔ راسلعم۔ سر کپکپنا۔
 سلعت (ف) سلوعا۔ البقرة او النقاہ۔
 گلے یا بکری کا کچلیاں نکالنا۔ صفت
 (سالیغ)۔
 الاسلعم۔ گہرا سرخ۔ برص کا مریض، کینہ
 شیم۔ من اللحم۔ کچا گوشت۔
 سلعم۔ ٹکنا۔
 سلف (ن) سلفا۔ الارض۔ زمین کو
 کاشت کے لیے پیگے سے برابر کرنا۔
 المزادۃ۔ مٹک پر تیل لگانا۔
 سلف (ن) سلفا و سلوعا۔ گذر جانا۔
 آگے بڑھنا۔ سبقت کرنا۔ سلف
 القوم۔ قوم سے آگے نکلنا۔

سلفہ۔ مالا۔ قرض دینا۔ الشئ
 پیش دینا۔ الضیف۔ جمان کے
 سامنے ناشتہ لانا۔ الرجل
 ناشتہ کھانا۔ اسلف الارض۔
 زمین کو کاشت کے لیے ہموار کرنا۔
 مالا۔ قرض دینا۔ فی الشئ۔
 بیع سلم کرنا۔
 سالفہ۔ فی الامر۔ کسی سے برابری کرنا۔
 کفی الارض۔ کسی کے ساتھ
 ساتھ چلنا۔ الجمل۔ اونٹ کا
 آگے بڑھنا۔
 تسلف و استسلف۔ المال۔ قرض لینا
 تسلف۔ الرجل۔ ناشتہ کرنا۔
 تسلف۔ الرجلان۔ آپس میں
 ہم زلف ہونا۔ اور وہ دونوں سلفان
 ہیں۔
 استسلف۔ المال۔ قرض لینا۔
 السلف۔ مص۔ توشہ دان۔ چڑے کا
 تھیلا۔ ج۔ سلوف و اسلف۔
 السلف۔ چڑا۔ کھال۔ سلف الرجل
 ہم زلف۔ ج۔ اسلاف۔
 السلف۔ مص۔ قرض حسنہ، حل مارا۔
 گذشتہ آباؤ اجداد۔ ج۔ اسلاف
 السلف۔ چڑا۔ ہم زلف۔ ج۔ اسلاف
 أرض سلفہ۔ کم درختوں والی زمین
 السلف۔ چور کا کوزہ۔ ج۔ سلفان
 و سلفان۔
 السلفہ۔ ناشتہ، گذرا ہوا گروہ۔ موندوں
 کا باریک چڑے کا استر۔ ج۔
 پیگے سے برابر کی ہوئی زمین۔ کہتے ہیں
 "جاؤ و اسلفہ سلفہ" وہ
 ایک دوسرے کے بعد آئے۔
 السلاف و السلافہ۔ نچوڑنے سے
 پہلے بھر جانے والا انگور کا رس۔
 سلاف العسکر۔ فوج کا ہراول

دستہ۔ سلافۃ کُل شئ۔ ہر
 نچوڑی چیز کا ابتدائی حصہ۔ ج۔
 سلافات۔
 الاسلوفۃ۔ سسرال کا تعلق۔ شادی کے
 ذریعہ رشتہ داری۔
 السالف۔ فا۔ گذرا ہوا۔ آگے بڑھنے والا
 "کان ذلک فی سالف الایام"
 یہ گذشتہ دنوں میں تھا۔ ج۔ سلف
 و سلاف۔
 السالفۃ۔ گذری ہوئی۔ گردن کے اگلے
 حصہ کا پہلو جو کان کی بالی کے برابر ہوتا
 ہے۔ ج۔ سوائف۔
 السلوف۔ من الیوم۔ گھاٹ پر جاتے
 وقت سب سے آگے رہنے والا اونٹ
 - من الخیل۔ تیز گھوڑا۔ سہم
 سلوف۔ لمبا تیر۔ ج۔ سلف۔
 السلیف۔ آگے ہونے والا۔ آگے
 چلنے والا۔ جماعت متقدمین۔ ج۔
 سلوف۔
 المسلیف۔ پنتالیس سالہ عورت۔
 المسلفۃ۔ سینکا۔ پیٹا۔ سراون۔ کلی
 سلق (ن) سلقا۔ البیض او البقل۔
 اٹلے یا سبزی کو آگ پر پانی میں جوش
 دینا۔ امانا۔ سلقۃ یا نکلماہ۔
 بات سے کسی کو ایذا پہنچانا۔ سلقوکم
 بالسنۃ جداد۔ تم کو وہ تیز تیز
 زبان سے طعنے دیتے ہیں۔ بالرمح
 نیزہ مارنا۔ بالسوط۔ کوڑوں سے
 مار مار کر کھال ادھیڑ دینا۔ سلق اللحم
 عن العظیم۔ ہڈی پر سے گوشت
 چیلنا۔ الشئ یا الماء الحار۔ گرم
 پانی سے کسی چیز کے بال اتارنا۔
 الدابۃ الراكبہ۔ جانور کا سوار کی
 ران کو اندر کی جانب سے پھیل دینا۔
 المزادۃ۔ مٹک یا توشہ دان پر

تیل لگانا۔ البرود النبیات۔ پرووں
 کو پالا کا مارنا۔ الرجل کسی کو چت
 گرا دینا۔ العود فی العروۃ۔ کسی
 چیز کے دستہ میں کڑی لگانا۔ القدم
 فی الطریق۔ راستہ میں قدم کے
 نشانات اکھڑنا۔ الرجل۔ دیوار
 پر چڑھنا۔
 سَلَقَ السَّلِقَةَ وَعَلَيْهَا۔ سلیقہ پر
 پیدا کیا جانا۔
 أَسْلَقَ۔ العود فی العروۃ۔ کسی چیز کے
 دستہ میں کڑی لگانا۔ الرجل
 بھیڑیے کی مادہ کا شکار کرنا۔
 تَسَلَّقَ۔ چت سونا۔ الجدار۔ دیوار
 پر چڑھنا۔ علی فراشہ۔ درو یا غم
 کی وجہ سے بستر پر بے چین و بیقرار ہونا۔
 اِنْسَلَقَ۔ اللسان۔ زبان کا چل جانا۔
 سَلَقِيَّةٌ سَلَقَاءٌ۔ چت لٹانا۔
 اِسْتَلَقَى اِسْتَلْقَاءً اِسْلَقَى اِسْلِقَاءً۔
 چت لیٹنا۔
 السَلَقُ مِص۔ (۔ و السَلَقُ) زخم کا نشان
 والسَلَقُ۔ ج۔ اَسْلَاقٌ وَسُلُقَانٌ و
 سُلُقَانٌ۔ ہمارے عمدہ زمین، کشادہ
 راستہ۔
 السِلْقُ۔ چھندہ پانی کے بننے کی جگہ۔
 بھیڑیا۔ ج۔ سُلُقَانٌ وَسِلْقَانٌ۔
 السِّلْقَةُ بھیڑیے کی مادہ۔ ج۔ سَلَقٌ و
 سَلَقٌ۔ السِّلْقَةُ۔ زبان و راز
 قاحشہ عورت۔ اٹھے دے چکنے
 والی ٹڈی۔
 السَّالِقَةُ۔ مِنَ النِّسَاءِ مہیبت کے وقت
 زور زور سے پٹینے رونے والی عورت۔
 ج۔ سَوَالِقٌ۔
 السَّلَاقُ۔ زبان کی جڑ میں نکلنے والی چھندیاں
 یا دانتوں کی جڑوں کی خراش و پھیلن۔
 پوٹوں کی سُرخ مٹائی اور زخم۔

السَّلَاقَةُ۔ بیزبانی۔
 السَّلَاقَةُ۔ دواؤں کا جوشاندہ۔
 السَّلَاقِيُّ۔ راستہ پر قدموں اور ٹاپوں کے
 نشانات و آثار۔
 السَّلَوِيُّ وَالسَّلَاقِيُّ۔ مِنَ الْكِلَابِ
 ایک قسم کا شکاری کتا۔ تازی کتا۔
 السَّلَوَقِيَّةُ۔ السَّلَوِيُّ کا مؤنث۔ جہاز
 کے کپتان کے بیٹے کی جگہ۔
 السَّلَوَقِيَّةُ۔ مِنَ الدُّرُوجِ۔ سلوق
 قریب کی طرف منسوب زرہ۔
 السَّلَاقُ اسم بالغہ۔ خَطِيبٌ سَلَاقٌ و
 مِسْلَقٌ و مِسْلَاقٌ۔ فصیح بلیغ مقرر۔
 السَّلَاقُ۔ نصرانیوں کی ایک عید۔
 السَّلِيْقُ۔ چھوٹے چھوٹے گے درخت۔
 چتے کی لمبائی میں شہد کی ایک مقدار۔
 راستہ کا پہلو۔ ج۔ سَلَقٌ۔
 السَّلِيْقَةُ۔ طبیعت۔ ج۔ سَلَاقٌ۔
 اہلی ہوئی سبزی۔
 السَّلِيْقِيَّةُ۔ سلیقہ کی طرف منسوب۔
 کہتے ہیں: فُلَانٌ يَتَكَلَّمُ بِالسَّلِيْقِيَّةِ
 یعنی فلاں سیکنے سے نہیں بلکہ اپنی طبیعت
 سے بولتا ہے۔
 السَّيْلِقُ۔ تیز روانہ۔
 سَلَكَ رن، سَلَا و سَلُوْكَا۔ الْمَكَانَ
 داخل ہونا۔ الطَّرِيقُ۔ راستہ کو
 پکڑے ہوئے چلتے چلے جانا۔ و
 اَسْلَكَ الشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ۔ ایک چیز کو
 دوسری چیز میں داخل کرنا۔ سَدَكَةُ
 الْمَكَانِ وَاَسْلَكُهُ الْمَكَانَ وِفِيهِ
 وَعَلَيْهِ كَيْسِي چیز کو داخل کرنا۔
 سَلَكَهُ۔ الْمَكَانَ وِفِيهِ وَعَلَيْهِ۔ داخل
 کرنا۔ سَلَكَ الْعَزْلَ۔ سوت لیٹنا۔
 (مولا)
 اِنْسَلَكَ۔ فِي الشَّيْءِ۔ داخل ہونا۔
 الْمَسْلَكُ۔ رِي۔ ج۔ سَلُوْكَ وَاَسْلَاكٌ۔

السَّلَكُ۔ جھٹ تیر یا چکر کا چوزہ۔ مؤنث
 سَلَكَةٌ۔ ج۔ سَلَكَانٌ۔
 السَّلَكَةُ۔ سَلَانِ كَيْسِي كَادِحًا۔ ج۔
 سَلَكٌ۔ وَجِبِ۔ اَسْلَاكٌ وَسَلُوْكَ
 السَّلَكِيُّ۔ بیزہ کی سیدھی سرب۔ اَمْرُهُ
 سَلَكِيٌّ۔ ان کا کام ایک طریقہ پر ہے۔
 الْمَسْلَكُ۔ راستہ۔ ج۔ مَسَالِكٌ۔
 الْمَسْلَكَةُ۔ چرخہ۔ الْمَسْلَكُ۔ خفيف جسم
 کا۔ پتلا۔ نازک۔
 سَلِمَ رن، سَلَامَةٌ و سَلَامًا۔ مِنْ
 عَيْبٍ اَوْ اَفِيَةٍ۔ کسی عیب یا
 آفت سے نجات پانا۔ چھٹکارا پانا۔ بری
 ہونا۔ لَهُ الْمَالُ مَالٌ كَأْسِيٍّ كَيْسِيٍّ لِي
 خاص ہونا۔
 سَلِمْتَهُ رن، سَلِمًا۔ الْحَيَاةُ۔ سَافِ
 کسی کو ڈس لینا۔
 سَلِمَ رن، سَلِمًا۔ الْجِلْدُ۔ چمڑے کو سلم
 درخت کے پتوں سے رنگنا۔
 ڈول بنانے سے فراغت حاصل کرنا۔ اور
 مضبوط ڈول بنانا۔
 سَلِمَتْهُ و سَلِمَ عَلَيْهِ۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ
 کنا۔ هُ مِنَ الْاَفِيَةِ۔ کسی کو آفت
 سے بچانا۔ هُ اِلَى فُلَانٍ۔ کسی کو کسی
 کے سپرد کر دینا، حوالہ کر دینا۔ سَلِمَ
 بِالْاَمْرِ۔ راضی ہونا۔ اِلَيْهِ۔
 فرماں بردار ہونا۔ الشَّيْءُ۔ خالص کرنا۔
 سَلِمَ الشَّيْءُ فَتَسَلِمَهُ۔ کسی کا کسی
 کو کوئی شے سپرد کرنا اور اس کا اس کو
 قبول کر لینا۔
 سَالِمَةٌ۔ مصالحت کرنا۔
 اَسْلَمَ۔ مطیع و فرماں بردار ہونا۔ مذہب
 اسلام قبول کرنا۔ الْعَدَاوَةُ و شَمْنُ
 کو چھوڑ دینا۔ اَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ۔
 معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔
 اَسْلَمَ۔ سَافِ سے ڈسا جانا۔ مسلمان ہونا۔

- الشئ کسی شے پر قبضہ کرنا۔ منہ
کسی سے بری ہونا۔ بیزار ہونا۔
تَسَالَمَ - القوم مصالحت کرنا۔ آپس
میں اتحاد و اتفاق کرنا۔ تَسَالَمَتِ
النخيلُ۔ بغیر لڑائی بھڑائی کے گھوڑوں
کا ساتھ ساتھ چلنا۔
اِسْتَلَمَ - الحَجَرُ۔ پتھر کو ہاتھ سے چھونا
یا منہ سے چھونا۔ پتھر کے علاوہ اور چیز
کے لیے بھی آتا ہے۔ مثلاً آپ کہہ سکتے
ہیں۔ اِسْتَلَمْتُ يَدَهُ۔ میں نے اس
کے ہاتھ کو چھو لیا یا چوم لیا۔ المَزْرَعُ
کھیتی کا خوشہ نکالنا۔ بالیاں نکالنا۔
اِسْتَسَلَمَ۔ تابعدار ہونا۔
تَسَلَّمَ۔ مسلمان کہلانا۔
السُّلْمُ۔ ص۔ ایک کڑے والا ڈول۔
ج۔ اَسْلَمٌ وَسِلْمٌ۔
السُّلْمُ۔ صلح کرنے والا۔ کہتے ہیں۔ اَنَا
سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَنِي وَحَرْبٌ
لِمَنْ حَارِبَنِي۔ میں صلح کرنے والے
کے لیے صلح جو اور لڑنے والے کے لیے
جنگ جو ہوں۔ قوم سِلْمٌ وَسِلْمٌ
صلح کن قوم۔ سلامتی۔ اسلام۔
السُّلْمُ۔ سلامتی، تابعداری۔ قید۔ قیدی
ایک قسم کا درخت جس کے پتے چڑھ
رنگنے کے کام آتے ہیں۔
السُّلْمُ۔ سیرھی (مذکر مؤنث)۔ ج۔
سَلَامٌ وَسَلَامٌ۔ کسی چیز کی
طرف وسیلہ اور سبب۔
السُّلْمَةُ۔ پتھر۔ ج۔ سِلْمٌ۔ نرم ہاتھ
پیر والی عورت۔
السُّلَامُ۔ ص۔ تسلیم کا اسم۔ ملاقات
کے وقت کی دعا یعنی السلامُ علیکم
طاعت و فرما برداری کے لیے جھکنا۔
اللہ تعالیٰ کا نام نامی، کیونکہ اس کی ذات
تمام عیوب و نقائص سے پاک و بری ہے

دَارُ السَّلَامِ۔ جنت۔ مَدِينَةُ
السَّلَامِ۔ بغداد۔ فَهُوَ السَّلَامُ۔
دجلہ۔ والسلامُ، ایک تلخ ذائقہ
کا درخت۔ واحد سَلَامَةٌ و
بِسَلَامَةٍ
السَّلَامَةُ۔ عیوب و آفات سے پاکی اور
بریت۔
السَّلَامِيُّ۔ ہر کھوکھلی جھوٹی بڈی جس طرح
انگلیوں کی بڈیاں۔ ج۔ سَلَامِيَّاتٌ
السَّلَامِيُّ۔ جنوبی ہوا۔
السُّلَيْمَانِيُّ۔ ایک قسم کا زہر ہے جو پارہ
سے بنایا جاتا ہے۔
السَّالِحُ۔ آنکھ اور ناک کے درمیان
کی کھال۔
السُّلَيْمُ۔ ج۔ سَلْمِيٌّ۔ ڈسا ہوا سخت
زخمی قریب الموت۔ نیک فال کے لیے
نام رکھا ہے۔ ج۔ سَلْمَاءُ۔ آفتوں
سے محفوظ۔
الْاِسْلَمُ۔ آفتوں سے بہت زیادہ محفوظ
مؤنث۔ سَلْمِيٌّ۔
الْاِسْلَامُ۔ ص۔ اللہ کے حکم کے سامنے
بلا چون و چرا سر جھکا دینا۔ مذہب
اسلام، کبھی مسلمانوں کے لیے بھی
استعمال کیا جاتا ہے۔
المُسْلِمُ۔ دین اسلام کا پیرو۔ ج۔
مُسْلِمُونَ۔ مؤنث۔ مُسْلِمَةٌ۔
ج۔ مُسْلِمَاتٌ۔ اَرْضٌ مُسْلِمَةٌ
جس زمین میں سلم درخت زیادہ ہوں۔
اِسْلَهَبَ۔ الفرسُ۔ گھوڑے کا لمبا ہونا
السُّلُهْبُ۔ لمبا۔ ج۔ سَلَاهِبٌ و
سَلَاهِبَةٌ۔ السُّلُهْبَةُ مِنَ النِّسَاءِ۔
بڑے قد و قامت کی عورت۔
سَلَايَسُ سَلَاوًا وَسَلَاوًا وَسَلَاوَانًا
وَسَلِيَّ سَلِيًّا۔ الشئ و
عَنْهُ۔ بھول جانا۔ تسلی پانا۔ بے غم ہونا

اَسْلَى اِسْلَاءً۔ القومُ۔ رزندوں سے
امن میں ہونا۔ اَسْلَا عَنْ هَيْبِهِ۔
کسی کا غم دور کرنا۔
سَلَى تَسْلِيَةً۔ فَلَانَا عَنِ الشَّيْءِ۔
تسلی دینا۔
تَسَلَى تَسْلِيًّا۔ تکلف سے تسلی کا اظہار
کرنا تسلی پانا۔ وَالسَّلَى، الصَّحْفُ
غم دور ہونا۔
اِسْتَلَّتْ اِسْتِلَاءً۔ الشَّاةُ۔ بکری کا
فرہ ہونا۔
السُّلُوَّةُ وَالسُّلُوَّةُ۔ تسلی۔ "هُوَ فِي
سَلُوَّةٍ مِنَ الْعَيْشِ" وہ آسودہ حالی
میں ہے۔
السُّلُوَانُ (وَالسُّلُوَانَةُ وَالسُّلُوَانَةُ)
ایک قسم کا مہرہ، جس کو نظر بد سے بچنے کے
لیے استعمال کرتے ہیں۔
السُّلُوِيُّ۔ شہد، ہر تسلی بخش چیز۔ نوا۔
واحد سَلُوَّةٌ
السُّلِيُّ۔ گھروڑ کا تیسرا گھوڑا۔
سَلِيَّتٌ تَسَلَى سَلَى۔ الشَّاةُ۔ ٹوٹی
ہوئی جیل والی ہونا۔ صفت (سَلِيًّا و)
اَسَلَّتْ۔ الشَّاةُ۔ بکری کا جیل ڈالنا۔
سَلَى۔ الشَّاةُ۔ بکری کا جیل نکالنا۔
السَّلَى۔ جیل۔ ج۔ اَسْلَاءٌ۔ کہتے ہیں۔
"اِنْقَطَعَ السَّلَى فِي الْبَطْنِ" یعنی اب
جیل جاتا رہا اور مصیبت بڑھ گئی۔
"هُوَ اَكْلُ الْاِسْلَاءِ" وہ بہت
خسوس و کینہ ہے۔
سَمَلَةٌ (ر) سَمَلًا۔ زہر پلانا۔ الْمَطْعَامُ
کھانے میں زہر پلانا۔ الْقَارُورَةُ۔
بوتل کو بند کرنا۔ الشئِ ع۔ اصلاح کرنا۔
درست کرنا۔ بَيْنَهُمَا۔ صلح کرانا۔
الْاَمْرُ۔ معاملہ کی تہ تک پہنچ کر اس
کی آزمائش کرنا، اس کو جانچنا۔ سَمَّرَ
النِّعْمَةَ اِلَيْهِ۔ مخصوص کرنا۔ سَمَّرَ

کرنے مقصد میں موافقت کرنا۔
 بِذَنْبِهِ۔ گناہ معاف کرنا۔ گناہ سے
 درگزر کرنا۔
 تَسَمَّحَ وَتَسَامَحَ۔ فی کذا۔ نرمی برتنا۔
 ایک دوسرے سے درگزر کرنا۔
 السَّمَاحُ۔ مص۔ بَيْعُ السَّمَاحِ وہ بیع جس
 میں قیمت گھٹانے میں نرمی کی جائے۔
 "السَّمَاحُ رَبَّاحٌ" یعنی معاملات
 میں نرمی کے ساتھ نفع اندوزی ہے۔
 السَّمَاحُ۔ مع۔ چمڑے کا خیمہ۔
 الْمَسْمُوحُ۔ وسعت و فراخی۔
 السِّمْحَاقُ۔ سرک بڈی پر باریک بھلی۔
 سَمَّا حَيْقُ السَّمَاءِ۔ آسمان پر بادوں
 کے پتلے پتلے ٹکڑے۔
 سَمَّخَمَ دُنَّ سَمَّخًا۔ الزَّرْعُ۔ کھیتی کا
 پھوٹنا۔ سَمَّخَدُنَّ سَمَّخًا۔ کان
 کے سوراخ پر چوٹ لگا کر زخمی کرنا۔
 "زَّرْعٌ حَسَنٌ السَّمْحَةُ" اچھی اگنے
 اور بڑھنے والی کھیتی۔
 السَّمَاخُ۔ کان کا سوراخ۔
 سَمَّادُنَّ سَمَّوْدًا۔ حیران کھڑا ہونا۔
 مہوت ہونا۔ گانا۔ تکبر سے سراونچا کرنا،
 اور سینہ تاننا۔ فی الْعَمَلِ۔ کام میں
 مشغول ہونا۔ الْإِبِلُ۔ اونٹ کا تیز
 چلنا۔ سَمَّادًا الرَّجُلُ قَصِدُ كَرْنَا۔
 سَمَّادٌ۔ الْأَرْضُ۔ زمین میں کھاؤ والنا۔
 السَّمْعُ بِالْوَلَدِ كَوَجْرٍ مَوْذُونًا۔ الرَّجُلُ۔
 کسی کو کھیل کود میں لگانا۔ بھلانا۔
 السَّمَّادُ السَّمَّادُ أَوِ السَّمَّادُ السَّمَّادُ إِذَا
 الرَّجُلُ كَسِيَ كَأَنَّهُ سَمَّادٌ إِذَا
 سَمَّادٌ۔ بَدَأَ۔ ہاتھ کا سوجنا۔ متورم۔
 الشَّيْءُ۔ گم ہو جانا۔ هُوَ لَكَ سَمَّادٌ۔
 وہ ہمیشہ کے لیے تھرا ہے۔
 السَّمَّادُ۔ کھاؤ والنا۔ فَا وَطَبُ
 تَسَاوَدَ۔ بھری ہوئی کھڑی مشک۔

السَّمَّادُ۔ وَالسَّمَّادُ۔ ایک کپڑا ہے
 جو پانی اور خشکی میں زندگی گزارتا ہے۔
 آگ کا کپڑا ہے۔
 السَّمَّادُ۔ قِيَامُ سُرَّارِ شَرِيفِ۔ بہادر
 بھیڑیا، تلوار، جہ۔ سَمَّادُ ع۔
 السَّمَّادُ وَالسَّمَّادُ۔ سفید آٹا۔
 سَمَّادٌ سَمَّادٌ۔ الْعَيْنُ۔ گرم سلائی
 سے آنکھ پھوڑنا۔
 رات کو باتوں میں گزارنا اور نہ سونا۔
 سَمَّادٌ (ض) سَمَّادٌ وَسَمَّادٌ۔ اللَّبَنُ۔
 دودھ میں پانی ملا کر اس کو پتلا کرنا۔
 الْخَمْرُ۔ شراب پینا۔ الْمَائِشِيَّةُ
 النَّبَاتُ۔ مویشی کا گھاس چرنا۔
 الْبَابُ وَغَيْرُهُ۔ دروازہ وغیرہ کو
 میخ سے مضبوط کرنا۔ السَّمْحَةُ تِير
 پھوڑنا۔ تیر چلانا۔
 سَمَّادٌ (ض) سَمَّادٌ سَمَّادٌ سَمَّادٌ
 إِسْمَارًا أَوْ سَمَّادًا سَمَّادًا سَمَّادًا۔
 گندم گوں ہونا۔ صفت (السَّمَّادُ) مَوْت
 سَمَّادٌ۔ جہ۔ سَمَّادٌ۔
 سَمَّادٌ۔ کسی کے ساتھ رات کو بات
 چیت کرنا۔
 تَسَمَّادٌ۔ میخ سے مضبوط ہونا۔
 تَسَامَرٌ۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا آپس میں
 رات کو باتیں کرنا۔
 السَّمَّادُ۔ رات کو باتیں کرنے والا۔ جہ۔
 أَسْمَارٌ۔ رات، رات کی تاریکی۔
 "لَا أُتِيهِ سَمَّادًا" میں اس کے پاس
 رات کو نہیں آؤں گا۔ رات کو بات چیت
 چاند کا سایہ یعنی وہ چیز جو چاندنی آنے
 سے مانع ہو جیسے دیوار یا چھت وغیرہ
 اور کبھی اہل عرب جہاں چاندنی ہوتی ہے
 قَمَرٌ اور جہاں بے ہوتوں سے بطور
 مقابلہ سَمَّادٌ کہتے ہیں۔ زمانہ، بات
 کرنے والوں کی مجلس۔ کہتے ہیں: لَا

أَكَلِيَّةُ السَّمَّادِ وَالْقَمَرُ۔ یعنی جب
 تک چاند سایہ نکلے، میں کبھی اس سے
 بات نہیں کروں گا۔
 السَّمَّادُ۔ رات کی گفتگو۔ السَّمَّادُ بُول
 کا درخت۔ جہ۔ أَسْمَرٌ۔ وَاحِدٌ
 (سَمَّادٌ)
 السَّمَّادُ۔ فَا۔ جہ۔ سَمَّادٌ وَسَمَّادٌ۔ رات
 کو باتیں کرنے والوں کی مجلس۔ وَالسَّمَّادُ
 رات میں باتیں کرنے والوں کی جماعت
 (اسم جمع ہے)
 السَّمَّادُ۔ ہیرا۔
 السَّمَّادُ۔ بہت پانی ملا دودھ۔
 الْأَسْمَرُ۔ نِزْه۔ ہرنی کا دودھ۔ عَامٌ
 الْبَمْرُ۔ بے بارش والا خشک سال۔
 الْأَسْمَرَاتُ۔ پانی اور نیوں پانی اور نِزْه۔
 الْمَسْمُورُ۔ تیز رفتارا چھی نسل کی اونٹنی۔
 السَّمَّادُ۔ نولے کے مشابہ اور اس سے
 قدرے بڑا ایک جانور۔ اس کی کھال سے
 قیمتی پوستیں تیار ہوتے ہیں۔ اس کی
 کھال کو بھی سَمَّادٌ کہتے ہیں۔ جہ۔
 سَمَّادٌ۔
 السَّمَّادُ۔ رات کو باتیں سنانے والا۔ زمانہ
 إِبْنًا سَمَّادٌ۔ رات و دن۔ لَا أَفْعَلُهُ
 سَمَّادٌ اللَّيَالِي۔ میں اس کو کبھی نہیں
 کروں گا۔ "إِبْنُ سَمَّادٍ" اس اندھیری
 رات کو بھی کہتے ہیں۔ جس میں چاند نہ
 نکلا ہو۔
 السَّمَّادُ۔ كِيلٌ۔ میخ۔ اونٹوں کا اچھا رکھوالا۔
 جہ۔ مَسَامِيرٌ۔
 الْمَسْمُورُ۔ گم گوشت سحفت پٹھوں والا۔
 بد مزہ زندگی۔
 الْمَسْمُورُ۔ بَدِي كَاشِكَار كَرْنِ وَالْأَمِيك
 چھوٹا پرندہ۔ تَلِيرٌ۔
 السَّمَّادُ سَمَّادٌ۔ وِلَالِي كَرْنَا۔
 الْيَمَّادُ۔ وِلَالِي۔ چیز کا مالک اور اس کا

السَّمْعَةُ: اس کی قوت سماع بہت تیز ہوتی ہے یہاں تک کہ ضرب المثل ہے "هُوَ أَسْمَعُ مِنْ سَمِيعٍ"۔
 السَّمْعَةُ: سَمِعَ کا اسم مرہ۔ اُذُنٌ سَمْعَةٌ: سننے والا کان۔ "فَعَلَتْهُ رِيَاءً وَسَمْعَةً"۔ اس نے یہ کام لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے کیا۔
 السَّمْعَةُ: شہرت۔ ذکر۔
 السَّمَاعُ: مص۔ شہرت۔ گیت۔ "قَالُوا ذَلِكَ سَمَاعٌ أَذُنِي"۔ لوگوں نے یہ بات میرے سامنے کہی۔
 سَمَاعٌ: اسم فعل لِاسْمَعُ کے معنی میں یعنی سن۔
 السَّمَاعُ: بہت سننے والا۔ فرماں بردار۔ جاسوس۔
 السَّمِيعُ: سننے والا۔ سنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک اسم سنی ہوئی بات۔ ج۔ سَمِيعًا۔
 السَّامِعَةُ كَانُ: السَّامِعَانِ بَرْدُكَانُ - السَّمَاعَةُ: ایک آلہ جو سننے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔
 التَّمِيعَةُ: کہتے ہیں۔ "فَعَلْتُهُ تَمِيعَتَكَ أَوْ تَمِيعَةَ لَكَ"۔ میں نے تم کو سنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔
 المَسْمَعُ: سننے کی جگہ۔ کہتے ہیں۔ "هُوَ مِثْقَى بِنَوَائِي وَمَسْمَعٍ"۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور اس کی بات سن بھی سکتا ہوں۔
 المَسْمَعُ وَالْمَسْمَعَةُ: کان۔ ج۔ مَسَامِعُ - المَسْمَعُ: فا۔ قید۔ المَسْمَعَةُ: گانے والی۔
 المَسْمَعُ: مقید۔ السَّمْعَةُ: شیطان خبیث۔
 السَّمْعَةُ: سننے والا۔
 السَّمْعَةُ: سننے والا۔
 السَّمْعَةُ: سننے والا۔
 السَّمْعَةُ: سننے والا۔

کاسوجنا۔
 المَسْمَعُ: پھولا ہوا۔ بہت زور سے پکڑنے والا۔
 سَمَقَ رَن، سَمَقًا وَسَمُوقًا: - النَّبَاتُ: پودہ کا بڑھنا۔ دراز ہونا۔ صفت (سَامِقٌ وَسَمِيقٌ)
 السَّمَقُ: خالص۔ محض۔ کہتے ہیں أُجْبِكَ حُبًّا سَمَقًا: یعنی میں تجھے رخالص محبت کرتا ہوں۔
 السَّمَقُ وَالسَّمُوقُ: ایک نہایت ترش پھل والا درخت۔ واحد سَمَقَةٌ وَسَمُوقَةٌ
 السَّمِيقُ: بیل جو تھے کاجوا۔ السَّمِيقُ مِنَ الرِّجَالِ: لمبا آدمی۔ اِسْمَقَرًا: اِسْمَقَرًا: الیوم۔ دن کا سخت گرم ہونا۔
 سَمَكَ رَن، سَمَكًا: الشَّيْءُ: بلند کرنا
 سَمَكَ رَن، سَمَكًا وَسَمُوكًا وَسَمَكًا رَن، سَمَاكَةً: بلند کرنا۔
 سَمَكَ: - الشَّيْءُ: چیز کو موٹا اور بیز کرنا۔
 تَسَمَكَ: بلند ہونا۔
 اِسْتَسَمَكَ: الثِّيَابُ: کپڑوں میں سے لمبا کپڑا اختیار کرنا۔ مچھلی کھانا۔
 السَّمَكُ: مص۔ چھت یا چھت کی موٹائی ہر اونچی اور موٹی چیز کا قد و قامت۔
 السَّمَكُ: مچھلی۔ ج۔ سَمَاكٌ وَسَمُوكٌ وَأَسْمَاكٌ: واحد (سَمَكَةٌ)
 السَّمَاكُ: چیز کے اٹھانے کا اوزار۔ ج۔ سَمَكٌ: سَمَكٌ: التَّوْرُ: سنسلی سے لی ہوئی پسی۔
 السَّمَاكَانِ: دو سنسلی ہیں، ایک کو سَمَاكٌ رَامِحٌ کہتے ہیں اور دوسرے کو سَمَاكٌ اَعْرَازُ: السَّمِيعَاةُ: ایک مچھلی۔
 السَّمَاكُ: مچھلی۔

السَّمِيقُ وَالسَّمُوكُ: لمبا۔
 المَسْمُوكُ: مِنَ الخَيْلِ مضبوط گھوڑا۔
 المَسْمَاكُ: خیمہ وغیرہ اٹھانے کی لکڑی۔
 المَسْمَاكَاتُ وَالسَّمُوكَاتُ: السَّبْعُ: ساتواں آسمان۔
 سَمَل رَن، سَمَلًا: عَيْنَهُ: آنکھ پھوڑنا۔
 الحَوْضُ: حوض کو کھینچنے سے صاف کرنا۔ بَيْنَهُمَا: صلح کرانا۔ الدَّلْوُ: ڈول کا تھوڑا پانی دینا۔
 سَمَل رَن، سَمُولًا وَسَمُولَةً وَسَمَل رَن، سَمَالَةً: - الثَّوْبُ: کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ صفت (سَمَلٌ)
 سَمَل: الحَوْضُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔
 الحَوْضُ: حوض کو کھینچنے وغیرہ سے صاف کرنا۔ فُلَانًا يَقُولُ كَيْسِي: نرمی سے بات کرنا۔
 السَّمَلُ: الثَّوْبُ: کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ بَيْنَهُمَا: صلح کرنا۔
 تَسَمَلُ: پانی تھوڑا پینا۔ النَّبِيدُ: نبید بار بار پینا۔
 السَّمَلُ: عَيْنَهُ: آنکھ پھوڑنا۔
 السَّمَالُ: آنکھیں پھوڑنے والا۔ السَّمَلُ: پرانا بوسیدہ کپڑا۔ ج۔ اَسْمَالُ: حوض میں بچا ہوا پانی۔ ثَوْبٌ سَمَلَةٌ وَسَمُولٌ وَسَمِيلٌ: پٹلہ پرانا کپڑا۔
 السَّمَالُ: پانی کے چھٹوں کا کپڑا۔
 السَّمَلَةُ وَالسَّمَلَةُ: تھوڑا پانی۔ ج۔
 سَمَلٌ وَأَسْمَالٌ وَسَمَالٌ وَسَمُولٌ: السَّمَلَانُ: مِنَ المَاءِ وَالنَّبِيدِ: بقیہ پانی یا نبید۔
 السَّمُولُ: پٹلہ پرانا کپڑا۔ السَّمُولَةُ: چھوٹی پیالی۔
 السَّمُولُ: فراخ زمین۔ نرم مٹی کی زمین۔
 سَمَلَجٌ: اللَّبَنُ: دودھ کو آسانی سے نکلنا۔

<p>نظراً طائياً - نَفْسَهُ تَسْمُوْا لِي مَعَالِي الْأُمُورِ: اس کا نفس بلند امور کی طرف مائل ہے۔ بلہ۔ بلند کرنا۔ الْقَوْمُ - شکار کے لیے جانا۔ (سَمَا يَسْمُو سَمَوًا) الرَّجُلُ زَيْدًا وَيَزِيدًا: کسی کا زید نام رکھنا۔ نَحْتِي - الرَّجُلُ زَيْدًا أَوْ يَزِيدًا - کسی کا زید نام رکھنا۔ الشَّارِحُ فِي الْعَمَلِ - کسی کا کام کے شروع میں اللہ کا نام لینا۔ أَسْمَى - الشَّيْءُ - بلند کرنا۔ الرَّجُلُ زَيْدًا وَيَزِيدًا - کسی کا زید نام رکھنا۔ كَأَمِينٍ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ - ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا۔ پھینچانا۔ سَافِي مَسَامَاةً - الرَّجُلُ - کسی سے فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ فَلَانٌ لِأَيَّامِي - فلاں سے فخر میں مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ تَسَافِي تَسَامِيًا - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کے مقابل فخر کرنا۔ ایک دوسرے کو نام لے کر پکارنا۔ عَلَى الْخَيْلِ - گھوڑوں پر سوار ہونا۔ تَسْتِي - تام پانا۔ إِلَى وَبِالْقَوْمِ - قوم کی طرف منسوب ہونا۔ إِسْتَمَى إِسْتِمَاءً - الصَّائِدُ - شکاری کا شکار کی جہاں میں پنہاں۔ شکار کرنا۔ كَأَ كُلِّ مَنْ كُنِيَ زِيَارَتُهُ كَوَجْهِهِ - کسی میں غیر بھلائی معلوم کرنا۔ إِسْتَسَمَى إِسْتِسْمَاءً - الرَّجُلُ - کسی کا نام دریافت کرنا۔ السَّامِيُّ - نَا - ج - سَامُونَ وَسَمَاءَةٌ - مُرْت سَامِيَةٌ - ج - سَامِيَاتٌ وَسَوَامٌ - بَلَدَانِ خَانِ وَشَوَكْتِ وَاللَّ السَّمَاءُ - آسمان۔ زمین کو گھیرنے والی فضا آسمانی۔ سر کے اوپر کی ہر ایک چیز۔ گھوڑے کی پیٹھ پر چیز کی چھت، بارش</p>	<p>سِيمَانٌ - اَرْضٌ سَمِيْنَةٌ - وہ زمین جس میں پتھر نہ ہوں۔ السُّمْنُ - عُلْقِي مَوْثًا - طَعَامٌ مَسْمَنَةٌ وَمَا كَانَا بَوْمَا أَوْ فَرَبًا كَرِي - السَّمَانِي - بَطْرِ - وَاحِدٌ - (سَمَانَاةٌ) - ج - سَمَانِيَاتٌ - السَّمَنْجُونِي - آسمانی رنگ کا۔ السَّمَنْدُرُ - آگ کا کپڑا۔ سَمَمَةٌ رَفٌ - سَمُوْهَا - حَيْرَانٌ هُونًا - الْفَرَسُ - گھوڑے کا دوڑنے میں مکان کو نہ جانا۔ سَمَمَةٌ - الْإِيلِ - اونٹوں کو بیکار چھوڑ دینا۔ صفت مفعولی (سَمَمَةٌ) - السَّامِدَةُ - حَيْرَانٌ - ج - سَمَمَةٌ - السَّمَهِي - كَرَهٌ هَوَانِي - سورج کی کرنیں جو آنکھوں کو دھاگوں کی طرح نظر آتی ہیں تَبْرِيءُ - وَالسَّمَمَةُ وَالسَّمِيْهِ وَ السَّمِيْهِ وَالسَّمِيْهَاءُ وَ السَّمِيْهَاءُ (دَعْوَى) - سَمَهَجٌ - كَلَامَةٌ - جھوٹ بولنا۔ الْحَبْلُ - رَسِيٌّ كَوْمَضْبُوطًا - الشَّيْءُ بِهِجَانًا - الدَّرَاهِمُ - سَكَةٌ كَوْرَوَاجٍ دینا۔ الْيَمِيْنُ - سخت قسم کھانا۔ السَّمَهَجُ - جھوٹ۔ إِسْمَهْدٌ - السَّمَامُ - کولان کا موٹا ہونا - السَّمَهْدُ - خشک سخت چیز۔ السَّمَهْدُ وَالسَّمَهْدُ - بڑے جسم کا اونٹ۔ إِسْمَهْرٌ - سخت سنگین۔ نیزہ کی طرح سیدھا ہونا۔ الظَّلَامُ - بہت اندھیرا ہونا۔ السَّمَهْرِي - سخت مضبوط نیزہ۔ سَمَا يَسْمُو سَمَوًا - بلند ہونا۔ اونچا ہونا۔ - الْبَصْرُ - اَطْنَا - سَمَوْتٌ إِلَيْهِ بَصْرِيٌّ - میں نے اس کی طرف</p>	<p>السَّمَلَجُ وَالسَّمَالَجُ - بیٹھا دودھ السَّمَلَجُ - بھیڑیا۔ السَّمَلِقُ - ہموار بجز زمین۔ سَمِنٌ (س) سَمِنًا وَسَمَانَةً - موٹا و فرب ہونا۔ صفت رسانین و سَمِينٌ ج سَمَانٌ - سَمِنٌ رَنٌ سَمِنًا وَسَمِنٌ - الْعَلَامُ - کھانے میں گھی ڈالنا۔ وَسَمِنَةٌ - موٹا کرنا۔ نَحْتَنُ الْقَوْمِ - گھی کا توشہ دینا۔ سَمِنٌ لَهُ - کسی کو بہت بخش دینا۔ السَّمِنُ - موٹا ہونا۔ بہت گھی والا ہونا۔ موٹے جانوروں والا ہونا۔ موٹا جانور خریدنا یا اس کا مالک ہونا یا اس کو بہرہ کرنا۔ الْفَرَسُ - گھوڑے کو موٹا کرنا۔ الْخُبْزُ - روٹی کو گھی میں تر کرنا۔ الرَّجُلُ - کسی کو گھی کھلانا۔ تَسَمِنُ - موٹا ہونا۔ شرافت و بھلائی نہ رکھتے ہوئے شرافت و بھلائی کا دم بھرنے۔ إِسْتَسَمِنَ - گھی مانگنا۔ کسی کو موٹا پانا یا سمینا۔ مثل ہے "إِسْتَسَمِنْتَ ذَا وَدَهْتُمْ" تم نے سوچے ہوئے کو موٹا جان لیا۔ یعنی ظاہری حالت سے دھوکا کھا گئے۔ السَّمْنُ - مَسْ - گھی۔ ج - السَّمْنُ وَ سَمُونٌ وَسَمَانٌ - السَّمَانُ - گھی بیچنے والا۔ السَّمْنَةُ - موٹا کرنے والی دوا۔ ایک گھاس جس کا دانہ قفل سے مشابہ ہوتا ہے اور عورتیں اس کو موٹا پے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ السَّمِينُ - موٹا۔ مِنَ الْكَلَامِ - پاکیزہ گفتگو۔ السَّمِينَةُ - مُرْتٌ السَّمِينُ - ج -</p>
---	---	---

بادل۔ گھاس، نیک و پاک ارواح کا
مکن۔ ج۔ سَمَاوَاتُ وَ سَمَوَاتٍ
و سَمَوَاتٍ وَ سَمَوَاتٍ وَ سَمَوَاتٍ
السَّمَاءُ (گھاس کا پتھر) وَ سَمَادَةٌ كُلُّ
شَيْءٍ بِرِيزِ كَابَعْدِ يَأْخُذُهَا نَجْمٌ -
السَّمَاءُ - اچھی شہرت۔

الْإِسْمُ وَالْأَسْمَاءُ - نام۔ ج۔ اَسْمَاءُ
وَ اَسْمَاءُ وَ اَسْمَاءُ وَ اَسْمَاءُ
اسم کا ہمزہ وصلی بسملہ میں کتابت سے
ساقط ہو جاتا ہے اور بِسْمَلَةَ - بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اِسْمُ الْجَلَالَةِ
باری تعالیٰ کا نام۔

السُّمُّ وَالسُّمُّ وَالسُّمُّ - اسم کے لغات۔
هَذَا سُمَّةٌ - یعنی یہ اس کا نام ہے۔

السُّبْحِيُّ - بندہ، ہم نام۔ نظیر
السُّبْحَانَةُ - شکاری کی اولی جراب۔

المُسْتَى - مفع۔ نام رکھا ہوا۔ معلوم و معین
چیدہ آدمی۔

سَنَنَ (رَن) سَنًا - السَّيِّئِينَ - چھری کو
تیز کرنا۔ هَذَا السُّنْتُكَ عَلَى

الطَّعَامِ - یہ چیز تم میں کھانے کی
اشتبہ پیدا کرے گی۔ بھوک لگانے کی۔

الرُّمَحَ نِيزَةً فِي بَهِلٍ لِّكَانَا -
الْأَسْنَانَ - دانتوں میں سواک کرنا۔

العُقْدَةَ كَرَهَ كَهَوْنًا - الإِبِلَ
اونٹ کو تیز ہانکنا۔ الرَّجُلَ نِيزَةً مَارَا

دانتوں سے کاٹنا۔ دانت توڑنا۔ بہت
تعریف کرنا۔ الأَصْرَ بِيَانٍ كَرْنَا -

آسان کرنا۔ جاری کرنا۔ الطَّرِيقَةَ
طَرِيقَةً اخْتِيَارًا كَرْنَا - عَلَيْهِمُ السُّنَّةُ

طَرِيقَةً مَقْرَرًا كَرْنَا - الطَّيِّبِينَ مَثِي كَابَرْتَن
بنانا۔ الشَّيْءَ - تَصَوَّرَ بِنَانًا - المَاءَ

أَوِ التُّرَابَ - آہستہ آہستہ پانی یا مٹی
گولنا۔ العَيْنُ الدَّمْعَ - أَكَلَهُ كَالْأَسْوِ

بِهَانًا - الأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ - رعیت کا

اچھی طرح انتظام کرنا۔ سَنَنَ فُلَانٌ
طَرِيقًا مِنَ الخَيْرِ - فُلَانٌ لَمْ يَهْلَأْ
كُلَّ يَوْمٍ رَاهَ كَهَوْنًا - سَلَّتِ الأَرْضُ -
زمین کی سبزی کا چر لیا جانا۔

سَنَنَ - السَّيِّئِينَ - چھری تیز کرنا۔
الرُّمَحَ نِيزَةً فِي بَهِلٍ لِّكَانَا - الرُّمَحَ

إِلَيْهِ - کسی کی طرف نیزہ سیدھا کرنا
- القَوْلَ - بات کو زینت دینا۔ سَجَانًا -

الْأَسْنَانَ - سواک کرنا۔
أَسَنَ - الرَّجُلَ - بُوْرَهَا هَوْنًا - الصَّبِيَّ

بچہ کا دانت نکالنا۔ أَسَنَ اللُّدَّةُ
يَسْنَةً - دانت اگانا۔ المَاءَ پَانِي

گَرَانًا - بہانا۔ الرُّمَحَ نِيزَةً فِي بَهِلٍ
لِّكَانَا -

إِسْتَنَ - المَاءَ - پانی کا گرنہ۔ الطَّرِيقَ
رَاسَةً كَاوَاضِحَ كَرْنَا - الفَرَسَ -

گھوڑوں کا آگے پیچھے دوڑنا۔ السَّرْبَ
سَرَبًا كَاچْكِنَا - اِسْتَنَ بِهِيَ النُّهْوِي

حَيْثُ أَزَادَ - اس کو اس کی خواہش
ہر طرف لے گئی۔ الرَّجُلَ فُلَانًا كَرْنَا

دانتوں کو صاف کرنا۔ وَ كَسَنَ
يَسْنَةً - کسی کے طریقہ پر عمل کرنا۔

كُفَى كِي بِرَوِي كَرْنَا -
إِسْتَسَنَ - عَمْرٌ سِيدَهُ هَوْنًا - الطَّرِيقَةَ

طَرِيقَةً اخْتِيَارًا كَرْنَا - الطَّرِيقَ رَاسَةً
كَأَدْوَرَفَتِ وَ لا هَوْنًا - العَيْنُ أَكَلَهُ

كِي أَنَسُوهُنَا - يَسِيْفُهُ - تَوَارَكَو
حَرَكَتِ دِينًا - بِالشَّيْءِ - مَالِ بَعْدَ رِي كَرْنَا

السُّنَّ - ج۔ أَسْنَانَ وَ أَسْنَةً وَ أَسَنَ
دانت (مؤنث)، ذرائعی یا کنگھی وغیرہ

کا دندانہ، لسن کے سر پر کا دانہ۔
قَلَمٌ فِي تَرَاثُفِي كِي جَلَبَ بِسِيْطَةِ كِي مَكْنَنَ

کا کنارہ۔ چوٹی۔ ج۔ أَسْنَانَ
عَمْرٌ مَوْثٌ، هُوَ حَدِيثُ السُّنَنِ

وہ نئی عمر کا ہے۔ هُوَ كَيْزُ السُّنَنِ

وہ بڑی عمر کا ہے، یعنی بوڑھا ہے۔ هُوَ
يَسَنُ فُلَانًا - وہ فلان کا ہم عمر ہے
السُّنَنُ - طَرِيقَةُ - اِسْتَقَامَ فُلَانٌ
عَلَى سُنَنِ وَ اِحْتَدَى - فلان ایک ہی
طریقے پر جا رہا۔ أَمِنَ عَلَى سُنَّتِكَ -
تم اپنے طریقہ پر چلتے رہو۔ وَ السُّنَنُ
وَ السُّنَنُ وَ السُّنَنُ (مِنَ الطَّرِيقِ
کشاہدہ راستہ۔ بڑا راستہ۔

السُّنَّةُ - سَنَ كَا سَمْرَةٌ - رَتَبَ كِي مَادَةٌ
چیتے کی مادہ۔

السُّنَّةُ خَصَلَتْ - طَرِيقَةُ طَبِيعَتِ شَرِيعَتِ
چہرہ یا اس کی گولائی۔ ج۔ سُنَّ -

أَهْلُ السُّنَّةِ - وہ لوگ جو صحابہ
حضرت ابو بکر، عمر و عثمان کے عقائد میں ہیں۔

السُّنِّيَّةُ - مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ۔
سنت کی جانب منسوب۔ واحد (سُنِّيٌّ،

السُّنَّةُ - دو طرفی کھارٹی۔ السِّنَانُ
نِيزَةً كَا بَهِلٍ - ج۔ أَسْنَةً -

السِّنَانُ سَانٌ - السُّنُونُ - مِجَنٌّ وَ اِنْتَابُ
کا برش۔

السُّنَيْنُ - سَانٌ پَرْتِيزَ كِيَا هُوَا - سَانٌ پَرَسَ
گرا ہوا براہہ۔ وہ زمین جس کی گھاس چھ

لی گئی ہو۔ سُنَيْنُ المَوْءِ - ہم عمر بھولی
مؤنث سُنَيْنَةٌ - السُّنَيْنَةُ - اِيكٌ

ہی رخ میں چلنے والی ہما۔ لِبَاؤُ نِجَالِيَّةٌ
جہر سَنَانِيْنٌ -

السُّنَنُ چاقو چھری تیز کرنے کی سنان۔
السُّنَنُ - مِيْنُ الدَّوَابِّ - بُوْرَهَا جَانُوْرٌ

جہر مَسَانِيْنٌ -
السُّنُونُ - مَفْعٌ - حَمَاءُ مَسْنُونٌ بِدِهْوَارِ

كِي بَرَّ - رَجُلٌ مَسْنُونٌ الوَجْهَ -
کتابی۔ چکلے چہرہ والا۔ هَسْنَنُ

الطَّرِيقَ - رَاسَةً كَاوَاضِحَ مَفْعٌ -
السَّنَابُ - خَدِيدٌ رَائِي - المِيْنَابُ وَ

السَّنَابَةُ - لَبِي سِيْطَةٌ اَوِ رِيْطٌ وَ اَلَا -

السَّنْبُ - بہت دور سے والا۔
 السَّنْبُ وَالسَّنْبَةُ وَالسَّنْبَةُ - زمانہ
 کا ایک حصہ۔
 السَّنْبُ وَالسَّنْبُ وَالسَّنْبُ وَالسَّنْبُ
 السَّنْبُ - غضبناک بہت شریز
 چغلخیز۔ جھوٹا۔
 السَّنْبُ - سان کا پتھر۔
 السَّنْبُ وَالسَّنْبُ - سموسہ۔
 السَّنْبُ - ڈونگا۔ چھوٹی کشتی۔
 السَّنْبُ - گھراکنارہ۔ تلوار کا
 کنارہ۔ خود کی چوٹی۔ بارش کا شروع۔
 ہر چیز کا شروع۔ سخت اور بجز زمین
 ج۔ سَنَابِكُ - طَلَبُ الْوَيْقُ فِي
 سَنَابِكِ الْارْضِ - روزی کی تلاش
 زمین کے اطراف میں ہے۔
 سَنَابِلُ - التَّرْعُ - کھیتی کا بالیاں نکالنا۔
 - الرَّجُلُ - کپڑا گھسیٹ کر چلنا۔
 السَّنْبُ - مِنَ الزَّوْجِ - گیموں یا جو کی
 بالی۔ واحد سَنَابِلَةٌ ج۔ سَنَابِلُ و
 سَنَابِلَاتٌ - ایک خوشبودار گھاس
 السَّنْبُ - آسمان کے ایک برج
 کا نام۔
 السَّنْبُ - القوم - قوم کا قحط زور ہونا۔
 السَّنْبُ - القِدَارُ - لٹری میں زیرہ ڈالنا۔
 سَانَحُوا - الْأَرْضَ - نباتات تلاش کرنا۔
 عام (سِنْتُ و سِنِيْتُ و مَسِنْتُ)
 قحط کا سال - رَجُلٌ سَنِتٌ -
 بے خیر آدمی۔
 السَّنْبُ وَالسَّنْبُ - زیرہ، بعض کے
 نزدیک شد۔ پیر۔
 السَّنْبُ - وہ محتاج و مسکین جس کے
 پاس کچھ نہ ہو۔
 السَّنْبُ (سَنَابِلٌ) - الثوب - کپڑے کو
 اس کے رنگ کے علاوہ کسی رنگ
 میں رنگنا۔

السَّنَابُجُ - چراغ کے دھوئیں کا دیوار وغیرہ
 پر اثر۔ والسَّنَابُجُ، چراغ۔
 السَّنَابُجَةُ - ترازو۔ باٹ۔ ج۔ سَنَابَاتٌ
 (کلمہ و خیل ہے)۔
 السَّنَابُجَةُ - سفید سیاہ رنگ۔
 السَّنَابُجَاتُ وَالسَّنَابُجَاتُ - جو ہے سے بڑا
 ایک جانور جس کی دم گھنے بالوں والی
 اور اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کھال
 سے پوستیں تیار کرتے ہیں۔
 السَّنَابُجُ - جھنڈا۔ ج۔ سَنَابُجٌ -
 سَنَابُجٌ (سَنَابُجٌ و سَنَابُجٌ و سَنَابُجٌ -
 الْأُمْرَ أَوِ الرَّأْيِ) - کوئی کام پیش
 آنا یا کوئی رائے سوچنا۔ لی السَّنَابُجُ
 شعر آسان ہونا۔ بگڈا۔ اشارہ سے
 سمجھانا۔ الرَّجُلُ عَنِ الرَّأْيِ - کسی کو
 اس کی رائے سے پھیر دینا۔ پہ و علیہ
 کسی کو تنگی میں ڈالنا۔ تکلیف پہنچانا۔
 (سَنَابُجٌ و سَنَابُجٌ و سَنَابُجٌ و
 سَنَابُجٌ) السَّنَابُجُ أَوِ السَّنَابُجُ -
 پرندہ یا ہرن کا بائیں جانب سے دائیں
 جانب گزرنا۔
 السَّنَابُجُ - مِنَ الرَّجُلِ - ہر اکی طرف
 پیٹھ پھیرنا۔
 السَّنَابُجُ السَّنَابُجُ - عَنِ كَذَا
 جستجو کرنا۔
 السَّنَابُجُ - مَم - بركت - مِنَ الطَّرِيقِ
 درمیانی راہ۔
 السَّنَابُجُ - فَا - دائیں طرف سے بائیں کو
 گزرنے والا۔ عرب سانج سے نیک
 فال اور بارح سے بدشگون لیتے
 ہیں۔ ج۔ سَوَانِجٌ -
 السَّنَابُجُ - سَانِجٌ - موتی۔ زیور۔ ج
 سَنَابُجٌ -
 السَّنَابُجُ - رات کو نہ سونے والا۔
 السَّنَابُجُ (سَنَابُجٌ) - فِي الْعِلْمِ -

علم میں پختہ ہونا۔
 السَّنَابُجُ (سَنَابُجٌ) - سَنَابُجٌ - متغیر ہونا۔ صفت
 (سَنَابُجٌ) - مَوْنٌ - سَنَابُجٌ -
 مِنَ الطَّعَامِ - بہت کھانا۔ الفم
 منہ کا دانتوں سے خالی ہونا۔ آسانہ
 دانتوں کی جڑوں کا تباہ ہونا۔
 السَّنَابُجُ - اَصْلٌ - مِنَ السِّنِّ - دانت
 اگنے کی جگہ۔ ج۔ سَنَابُجٌ و سَنَابُجٌ -
 السَّنَابُجُ - النَّصْلُ - پھل کا تیر کے اندر
 داخل کیا ہوا حصہ۔ سَنَابُجُ الْكَلِمَةِ
 کلمہ کا ماخذ۔ سَنَابُجُ الْحَتْمِ - بخار کا
 جوش۔
 السَّنَابُجُ - اَوْنٌ - السَّنَابُجُ وَالسَّنَابُجُ
 بدبودار ہوا۔
 السَّنَابُجُ (سَنَابُجٌ) - اَوْنٌ - اَوْنٌ - اَوْنٌ -
 تَسَانُدٌ - اَلْيَدِ - اَعْتَادٌ - اَعْتَادٌ - اَعْتَادٌ -
 کرنا۔ سہارا لینا۔ سَنَابُجٌ فِي الْجَبَلِ -
 پہاڑ پر چڑھنا۔ سَنَابُجٌ لِلْأَرْبَعِينَ -
 چالیس برس کے قریب پہنچنا۔ سَنَابُجٌ
 ذَنْبٌ النَّاقَةِ - لُحْنٌ فِي اَوْسُنِ كِ دُم
 کا ادھر ادھر چوڑوں پر لگنا۔
 السَّنَابُجُ - دَعَارِي دَارِكُطْرُ اِهْنَا - الشَّيْءُ -
 سہارا دینا۔ مضبوط کرنا۔ سَنَابُجٌ
 مَسَانِدَةٌ دِينَادَا - شَعْرَةٌ وَفِي
 شَعْرَةٌ - شعر میں مختلف روپ لانا۔
 السَّنَابُجُ - الرَّجُلُ - مَدْرُكُنَا - اَعْلَى الْعَمَلِ
 بدلا دینا۔ اَعْلَى الشَّيْءِ - سہارا دینا
 السَّنَابُجُ - فِي الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھنا۔
 اَعْلَى فِي الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھنا۔
 فِي الْعَدُوِّ - دُونِ فِي كُوشِشِ كَرْنَا -
 الْحَدِيثُ إِلَى فُلَانٍ - کسی کی طرف
 منسوب کرنا۔ سَنَابُجٌ إِلَى الشَّيْءِ -
 سہارا دینا۔
 السَّنَابُجُ - مَكْ سَنَابُجٌ - سَنَابُجٌ - سَنَابُجٌ
 کا باشندہ۔

السَّنَدُ - ایک قسم کی دھاری دار چادر۔ سہارا
 قرض کا ایشام۔ دستاویزہ۔ جہ۔ اَسْنَادٌ
 السَّنَادُ - قافیہ کا ہر عیب جو روی سے پہلے
 ہو۔ نَاقَةُ سِنَادٍ - لمبی ٹانگوں کی
 اونٹنی۔ دہلی۔ قوی۔
 الإِسْنَادُ - مص۔ علم مناظرہ میں حوالہ دینا۔
 جہ۔ اَسَانِيدٌ - علم عربیہ میں دو کلموں
 کے درمیان نسبت تامہ واقع کرنا مثلاً
 زَيْدٌ قَاتِلٌ فِي خَيْرِ نَسَبٍ مَبْتَلَاءُ
 کی طرف کرنا۔
 السَّنَدَانُ - آبرن۔ ہنائی۔ جہ۔ سَنَادِيْنُ
 (کلمہ دخیل ہے)
 السِّنْدَانُ - بڑا مضبوط آدمی۔
 السِّنْدَانَةُ - گدھی۔
 السِّنْدِيَانُ - شاہ بلوط کا درخت۔ واحد
 رِسْنِدِيَانَةٌ
 السِّنْدِيْدُ - متبئی۔ منہ بولا بیٹا۔
 المُسْنَدُ - مِنَ الْحَدِيثِ - جس کی سند
 اس کے قائل تک پہنچائی جائے۔ جہ
 مَسَانِدٌ وَمَسَانِيدٌ - بنو حمیر کا طرز تحریر
 منہ بولا بیٹا۔ متبئی۔
 الْمَسْنَدُ وَالْمَسْنَدُ - جس پر ٹیک لگائی
 جائے، سر ہانا۔ پلنگ۔ جہ۔ مَسَانِيدُ -
 خَرَجُوا مَسَانِيدِيْنَ لَوْكٍ مُخْتَلَفِ
 جھڑوں کے نیچے نکلے۔
 الْمُسْتَنَدُ - جس پر اعتماد و بھروسہ کیا
 جائے۔
 السِّنْدَاوُ السِّنْدَاوُجُ - سبک۔ جرات
 والا۔ پست قد۔ موٹے سراور پتلے جسم
 والا۔ السِّنْدَاوُجُ - روباں جو پگڑی کو
 چکنال سے بچانے کے لیے باندھا جاتا
 ہے۔
 يَسْنَدُ - جلدی کرنا۔ السَّنْدَارَةُ
 مص۔ سرعت۔ ایک درخت جس سے
 تیرو کمان بنتے ہیں۔ ایک قسم کا پیمانہ۔

کتے ہیں! اَكَيْلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلُ
 السَّنْدَرَةِ! یعنی میں تم میں وسیع پیمانے
 پر قتل و خونریزی پھیلا دوں گا۔
 السَّنْدَرِيُّ - لمبے قد کا۔ ولیر مضبوط کمان۔
 نیلے رنگ کا نیزہ۔ شیر۔ تلوار وغیرہ کا
 پھل۔ بڑی آنکھوں والا۔ عمدہ۔ روی۔
 ایک بڑا پیمانہ۔ السَّنْدَرُ و
 السَّنْدَسُ (دلیر
 السِّنْدَسُ وُسُ - ایک قسم کا گوند۔ ایک
 معدنی چیز جو کھریا کے مشابہ ہوتی ہے۔
 السَّنْدَسُ - نہایت باریک و نفیس کپڑا۔
 سَنَدْرَسُ سَنَوًا - بدخلق ہونا۔
 السَّنُوْسُ - لوہے کا ہر ایک ہتھیار۔ زرہ
 کے مانند ایک چمڑے کا لباس۔
 السَّنُوْسُ - پلا۔ سردار۔ دم کی جڑ۔ گردن
 کا منکا۔ جہ۔ سَنَانِيْرُ - السَّنَارُ
 پلا۔
 سَنَسَنَتِ - الرِّيْحُ - ٹھنڈی ہوا چلنا۔
 السِّنْسِينُ - پیاس۔ سینہ کی ہڈیوں کا سرا
 جہ۔ سَنَاسِينُ - والسِّنْسِينَةُ
 پیٹھ کے منکوں کا کنارہ۔
 سَنَطْرِكُ سَنَاطَةٌ وَسِنَطْرَسُ سَنَطَا -
 بے ریش ہونا یا ہلکی وارھی والا ہونا۔
 صفت رِسَاطٌ وَسَنَاطٌ وَسُنُوْطٌ
 جہ۔ سُنُطٌ وَاَسَنَاطٌ -
 السِّنُطُ - ہاتھ کا گٹا۔ پہنچا۔
 السِّنُطِيْرُ وَالسَّنُطُوْرُ - ستار کی قسم کا
 ایک باجا جس کے تار تانبے کے
 ہوتے ہیں۔
 سَنَطَلٌ - الرَّجُلُ - سر جھکا کر چلنا۔
 السَّنَطَلَةُ - لَبَانٌ - السَّنَطَالَةُ - سر
 جھکائے ہوئے آہستہ چال۔
 السِّنُطِيْلُ - لَبَا - دراز۔
 الْمُسَنَطَلُ - مفع۔ بہت سست چال چلنے
 والا کہ معلوم ہو، اب گرا۔ بڑے پیٹ

والا۔ بے ڈول۔
 سَنَعْمُ رِفْنٌ وَسَنَعْمُ رِكٌ سَنَاعِبَةٌ و
 سَنُوْعًا - خوبصورت نازک بدن ہونا۔
 صفت رَسِيْنِيْعٌ - مَوْنُثٌ سَيْنِيْعَةٌ -
 اَسْنَعٌ - الْغُلَامُ - لڑکے کا دراز قامت و
 حسین ہونا۔ الرَّجُلُ - خوب صورت
 بچوں والا ہونا۔ ہاتھ کے گٹے میں درد
 ہونا۔ الشَّيْخُ - زیادہ کرنا۔
 السِّنْعُ - گٹے کے مقام کی بریدگی۔ گٹے کا جوڑ
 جہ۔ سِنْعَةٌ وَاَسْنَاعٌ -
 السِّنْعُ - خوبصورتی۔
 الْاَسْنَعُ - لَبَا - اوچھا۔ بلند۔ هَذَا اَسْنَعُ
 مِنْ ذَاكَ! یہ اس سے افضل ہے
 او اس سے لبا۔ مَوْنُثٌ رَسْنَعَا
 السِّنِيْعَةُ - پہاڑی راستہ۔ جہ۔
 سَنَائِعُ -
 السَّنْعَبَةُ - نیرلا۔ اوپر کے ہونٹ میں باطن
 کی جانب اٹھا ہوا گوشت۔
 سَنَفٌ دَنْضٌ سَنَفَا - الْبَعِيْرُ اَوْنُثٌ
 پر تنگ کنا۔ النَّاقَةُ - اونٹنی کا اونٹوں
 سے آگے نکلنا۔
 اَسْنَفٌ - الْبَعِيْرُ - اونٹ کا چلنے میں اپنی
 گردن کو آگے نکالنا۔ النَّاقَةُ - اونٹنی کا
 اونٹوں سے آگے نکلنا۔ الرِّيْحُ - ہوا
 کا تیز چلنا۔ الْبَرَقُ - کھلی کا نزدیک
 معلوم ہونا۔ الْاَهْوُ - کسی امر کو مضبوط
 کرنا۔ الْبَعِيْرُ - اونٹ پر تنگ کنا۔
 السَّنْفُ - وہ شاخ جس پر پتے نہ ہوں۔
 دانوں سے خالی پھلی۔ پتا۔ جہ۔ سَنَفُوْنٌ
 السِّنْفُ - گیہوں اور جوس پیدا ہونے والا
 تلخ دانہ۔ جماعت۔ صفت۔ پھلی کا
 کھوکھ۔ واحد رِسْنَفَةٌ - جہ۔
 سِنْفٌ - جچہ۔ سِنْفَةٌ -
 السِّنْيِفُ - فرش کی گوٹ۔ اونٹ کے
 مونڈھوں پر باندھا جانے والا کپڑا۔ جہ

سُنْفٌ وَسُنْفٌ وَأَسْفَهَةٌ.
 الْمُسْنَفَةُ - مِنَ السِّنِينَ خَشْكٌ سَالٌ.
 مِنَ الْأَرْضِ قَطْرَةٌ زَيْنٌ.
 سِنَاثٌ - الْبَعِيرُ أَوْ نِطْ كَاتِكٌ ج.
 سُنْفٌ.
 الْمَسْفُتَانِ - دَوْلَكْرِيَاں جن میں کنویں کی
 چرخى باندھی جاتی ہے۔
 الْمِسَاثُ - وَهُوَ نِطٌ جِوَا پِنے زین کو آگے
 پیچھے کرتا رہتا ہو جس کی وجہ سے تنگ
 کنا پڑے۔ ج۔ مَسْرِيْفٌ.
 سِنِيْقٌ (دس) سَنَقًا بَدْمَعِيٌّ جِوَا دِوَا بَعْضِ
 اس کو حیوانات کے لیے مخصوص کرتے
 ہیں)
 أَسْنَقَةٌ - آسودہ حالی کا کسی کو آرام طلب
 بنا دینا۔
 السُّنْقُورُ وَالسُّنْقُورُ - شکرے سے بڑا
 ایک شکاری پرندہ۔
 سَنِمٌ (دس) سَنِمًا - الْبَعِيرُ - أَوْ نِطٌ كَا
 بڑے کولان والا ہونا - النَّبْتُ -
 پودہ کا شگوفہ دار یا بالیوں والا ہونا۔
 سَنَمٌ - الْكَلَاءُ الْبَعِيرُ - مَوْتٌ كَوْلَانِ
 والا بنانا - الْإِنَاءُ بَرْتَنٌ جِسْنًا -
 الشَّيْءُ - بَلَدٌ كَرْنَا - اَطْنَا - الْقَبْرِ
 قبر کو کولان نما کرنا - اِلْمَكْيَالُ پیمانے
 کو بھر کر چوٹی دار کرنا۔
 أَسَمٌ - الْكَلَاءُ الْبَعِيرُ - بِمَعْنَى سَنَمٍ
 - الدُّخَانُ دھواں اٹھنا -
 أَسْمَتِ النَّارِ - آگ کا اونچا شعلہ
 اٹھنا۔
 تَسَمٌ - النَّاقَةُ - اَوْ نِطِيٌّ كَوْلَانِ پَر
 سوار ہونا - الشَّيْءُ - كَسِيٌّ جِزْرٌ جِرْحَانِ
 - فُلَانًا كَسِيٌّ كَوْخَلْتِ مِیں پکڑ لینا۔
 - الشَّيْبُ - كَسِيٌّ جِرْحَانِ پے کے
 آثار بہت ظاہر ہونا۔
 السِّنْمُ - مِنَ الْإِبِلِ - بڑے کولان

والا - مِنَ النَّبَاتِ - زَمِيْنٌ سَعِي
 اٹھا ہوا شگوفہ دار پودہ۔
 السَّنَامُ - كَوْلَانِ ج۔ اَسْنَمَكَةٌ - كَتَمْتِ
 ہیں - فُلَانٌ سُنَامٌ قَوْمُهُ - فُلَانٌ
 اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے۔
 سَنَمَةٌ - النَّبَاتِ - شُكْرَفٌ - جِوِيٌّ.
 بالی - رَجُلٌ سَلِمٌ بَلَدٌ قَدِ اَدْمَى.
 التَّسْنِيمُ - جَنَّتِ كَيْ اِحْسَمٌ كَانَامٌ -
 الْمُسَلَّمُ - مِنَ الْجَمَالِ - وَهُوَ اَوْ نِطٌ جِسْرٌ
 سواری نہ کی جائے۔
 السَّنِمَارُ - جَانِدٌ - جِوَدٌ - مَاتٌ كَوْجَانِغِيٌّ وَالَا -
 السَّمُورَةُ - اِحْسَمٌ كَيْ اِحْسَمِيٌّ جِوِيٌّ
 نمک لگا کر خشک کی جاتی ہے۔
 سِنِيْدَةٌ (دس) سَنَهًا - بَسْتٌ سَالُوْنَ وَالَا هَوْنَا
 صَفْتٌ (سِنِيْدَةٌ) - د - اِلْطَعَامُ
 اَوْ الشَّرَابُ (مَتَغِيْرٌ هَوْنَا - بَلَدٌ جَانَا -
 سَانَةٌ - الرَّجُلُ - اِحْسَمٌ كَيْ اِحْسَمِيٌّ جِوِيٌّ
 کرنا - سَاهَتِ النَّخْلَةُ - كَجِوَرِ كَيْ
 درخت کا ایک سال بیج پھل لانا۔
 تَسَنَةٌ - بَسْتٌ بَرَسُوْا وَالَا هَوْنَا - اَلْحَبْرُ
 روٹی کا سڑنا - بَدْوَدَارٌ هَوْنَا - عِنْدَهُ
 کسی کے پاس سال بھر ٹھہرا رہنا۔
 السَّنَهَاءُ - مِنَ النَّخْلِ - اِحْسَمٌ كَيْ اِحْسَمِيٌّ جِوِيٌّ
 پھل لانے والا درخت خرما - خَشْكٌ
 سالی والا - سَنَةٌ سَنَهَاءٌ وَهُوَ سَالٌ
 جس میں بارش نہ ہو، نہ پیداوار -
 السَّنِيْهَةٌ - جِوِيٌّ سَالٌ -
 سَنَائِسُوْا سَنُوْا اَوْ سَنَاوَةٌ وَسَنُوْا اَوْ
 سَنَائِيَةٌ - السَّجَابُ الْاَرْضِ - اِبْوَالٌ
 کا زمین کو سیلاب کرنا - الْبَرْقُ
 بجلی کا چمکنا - الْبَابُ - دِرْوَازِ
 کھولنا - سَنَتِ النَّارُ - آگ کی
 روشنی کا بلند ہونا - السَّمَاءُ - اَسْمَانٌ
 کا برسنا - سَنَاعِلُ الدَّابَّةِ
 جانور پر پانی لانا - الدَّلُوْ - دُولٌ

کنویں سے کینین۔
 سَانِيٌّ سِنَاءٌ وَصَانَاةٌ - الرَّجُلُ - كَسِيٌّ
 سے ایک سال کے لیے مودہ کرنا۔
 تَسَنِيٌّ تَسَنِيًّا - الشَّيْءُ - جِرْحَانٌ - تَسَنِيٌّ
 الْعُقْدَةُ - كَرْدٌ كَلْنَا -
 السَّنَدُ - سَالٌ ج۔ سُنُوْنٌ وَسِنُوْنٌ
 وَسَنَوَاتٌ وَسَنَهَاتٌ - تَصْفِيْرٌ -
 سَنِيْدَةٌ وَسِنِيْدَةٌ وَسَنِيْهَةٌ -
 نِسْبَتٌ كَيْ لِي سَنُوِيٌّ وَسَنِيْجِيٌّ
 سَنَةٌ سَنَوًا - سَمْتٌ سَالٌ -
 السَّنَا - اِحْسَمٌ كَيْ اِحْسَمِيٌّ جِوِيٌّ
 السَّانِيٌّ - فَا - پانی لانے والا - ج۔ سَنَاءٌ -
 السَّانِيَّةُ - رِبْطٌ - دَوْلَابٌ - كَنُوِيٌّ سَعِي
 لانے والی اونٹنی - ج۔ سَوَانٌ -
 الْمَسْنُوُوُ الْمَسْنِيٌّ - مِنَ الْاِبْرَاهِيْمِيَّةِ - وَهُوَ
 زَمِيْنٌ جِسْرٌ كَوْلَانِ سَعِي پانی پلایا جائے۔
 الْمَسْنَاءُ - سِيْلَابٌ كَوْلَانِ وَالَا بَلَدٌ ج۔
 مَسْنَوَاتٌ وَمَسْنِيَّاتٌ -
 سَنِيٌّ (دس) سَنَاءٌ - بَلَدٌ مَرْتَبَةٌ هَوْنَا -
 سَنِيٌّ (دس) سَنِيًّا - الْبَابُ - دِرْوَازِ كَوْلَانِ
 - الْعُقْدَةُ - كَرْدٌ كَلْنَا -
 سَنِيٌّ تَسَنِيَّةٌ - الْاَمْرُ - سَهْلٌ كَرْنَا -
 آسان کرنا۔
 سَانِيٌّ مَسَانَاةٌ وَسِنَاءٌ - الرَّجُلُ -
 راضی کرنا - بَدَارَاتٌ كَرْنَا بِطَالِبِ مِیں ترقی کرنا -
 اَسْنِيٌّ اِسْنَاءٌ - الْبَرْقُ - بَجْلِيٌّ كَوْلَانِ
 چمکنا - النَّارُ - آگ روشن کرنا -
 - لَهْ الْجَائِزَةُ - اَعْلَى الْاَعْمَامِ دِيْنَا -
 جَاوَزْتَهُ قَاسِيٌّ جَوَارِيٌّ - مِیں
 اس کا پڑوسی ہوا تو اس نے حق ہمسائیگی
 ادا کیا - الْقَوْمُ - قَوْمٌ كَاسِيٌّ جِوِيٌّ
 اقامت پذیر ہونا۔
 تَسَنِيٌّ - الْاَمْرُ - تِيَارٌ هَوْنَا - الرَّجُلُ
 آسانی و نرمی کرنا - الشَّيْءُ - مَتَغِيْرٌ هَوْنَا
 - الْقَفْلُ - قَفْلٌ كَوْلَانِ - الرَّجُلُ -

السَّحَابُ وَالْمُسْحَكَ - بت تیز گفتار والا۔ طرار۔ وَالْمُسْحَكَ مِنَ الْخَيْلِ تیز رو گھوڑا۔
 الْمُسْحَكَ وَالْمُسْحَكَةُ - سخت تیز ہوا کی گذرگاہ۔
 سَحَلٌ رِكٌ سُهُولَةٌ - المکان۔ نرم ہونا۔
 سَحَلٌ رِكٌ سُهُولَةٌ وَسَحَالَةٌ - الامر۔ آسان ہونا۔ صفت (سَحَلٌ وَسَحَلٌ)۔
 سَحَلٌ - الْأَمْرُ لَهُ وَعَلَيْهِ - آسان کرنا۔ الموضع۔ نرم کرنا۔
 سَاهَلَةٌ مُسَاهَلَةٌ - نرمی اور سہولت کا برتاؤ کرنا۔
 اسَحَلٌ - ہاڑ سے میدان کی طرف اترنا۔
 هُوَ الدَّمَاعُ - دوا کا پیٹ کو نرم کرنا دست لانا۔ الرَّجُلُ - لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ الْأَمْرُ - آسان پانا اسَحَلٌ - الرَّجُلُ - اسال والا ہونا۔
 تَسَحَلٌ - الْأَمْرُ آسان ہونا۔ مَا تَسَحَلُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ - میرے لیے یہ کرنا آسان نہیں۔
 تَسَاهَلًا - ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ تَسَاهَلُ الْأَمْرُ عَلَيْهِ - کسی امر کا آسان ہونا۔
 اسْتَسَحَلٌ - المکان نرم سمجھ کر اقامت کرنا۔ اسْتَسَحَلَهُ - آسان سمجھنا۔
 السَّحَلُ - نرم ہموار زمین۔ ج۔ سُهُولٌ وَسُهُولَةٌ - نسبت کے لیے سُهَيْلٌ بعيرٌ سُهَيْلٌ - نرم زمین میں چرنے والا اونٹ۔ سَحَلٌ الْوَجْدُ - رخسار پر کم گوشت والا۔ سَحَلٌ الْخَلْقُ - نرم نماور نرم طبیعت والا۔ کہتے ہیں۔
 أَهْلًا وَسَهْلًا - یعنی تم اپنوں ہی میں آئے نہ غیروں میں۔ تم نے نرم زمین

پر قدم رکھنا سخت زمین پر۔
 السَّحَلَةُ وَالسَّحَلُ - ریت کی طرح کی مٹی جس کو پانی بہا لاتا ہے۔
 الاسْحَالُ - اسال۔ دست آنا۔
 السَّحُولُ - دست آورد۔ سُهَيْلٌ - ایک روشن ستارہ جو گرمی کے آخر میں طلوع کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ اس کی خاصیت سے گریہ مر جاتے ہیں۔ اور میں میں عمدہ چڑھتا ہوتا ہے۔
 سَحَمَدٌ (وَسَحَمَدُكَ) سُهَوْمَةٌ وَسُهَوْمًا - ڈبلے پن سے رنگ متغیر ہونا۔ وَجْهٌ تَيُورِيٌّ چڑھانا۔
 سَحَمَةٌ - قرعہ اندازی میں غالب آنا۔
 سَحَمٌ - لُؤْلُؤًا - سَاهَمَةٌ - قرعہ اندازی کرنا۔
 اسْحَمٌ - لَهُ فِي كَذَا - کسی کے لیے حصہ ٹھہرانا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ - قرعہ ڈالنا۔ فِي الْكَلَامِ - لمبی گفتگو کرنا۔
 صفت (مُسْحَمٌ وَمُسْحَمٌ) تَسَاهَمُوا اسْتَسَمُوا - القوم قوم کا قرعہ اندازی کرنا۔ تَسَاهَمُوا الشَّيْءَ - کسی شے کو آپس میں بانٹ لینا۔
 السَّحْمُ - ج۔ سَحَامٌ - جوئے کا تیر، جس سے قرعہ ڈالتے ہیں۔ تیر۔ سَهْمٌ الرَّاجِحُ - ایک ستارہ۔ ج۔
 اسْحَمٌ وَسَحَمَةٌ وَسَحَمَانٌ - حصہ السَّحْمَةُ - قرابت۔ تقسیم حصہ۔
 السَّحْمُ - سورج کی کرنیں۔ سخت گرمی۔
 عقلاء عكاد - السَّاهِمَةُ مِنَ النُّوْبِي - دُوبلی اونٹنی۔
 السَّحَامُ - لُؤْلُؤٌ غَرْمِيٌّ - گرمی کی شدت۔
 ترمے، یعنی کڑی کے جانے کی طرح موسم گرما میں فضا میں نظر آنے والی چیز۔ اونٹوں کی بیماری۔

السَّحَامُ - لافری کے ساتھ رنگ کی تبدیلی۔ اونٹوں کی بیماری۔
 السَّحِيمُ - حصہ دار۔ شریک۔
 الْمُسْحَمُ - لافری۔ متغیر اللون۔ دوغلا گھوڑا۔
 الْمُسْحَمَةُ - مِنَ الثِّيَابِ - دھاری دار کپڑا۔
 سَحَا يَسْحُو سَحْوًا وَسَحْوًا - فِي الْأَمْرِ وَعَيْنَ الْأَمْرِ - غافل ہونا۔ بھونا دل کا دوسری طرف پھر جانا۔ صفت (سَاهٍ وَسَهْوَانٌ) - إِلَيْهِ - پست نگام سے دیکھنا۔
 سَحْوٌ يَسْحُو سَهَاوَةً - الفرس - گھوڑے کا جلد رام ہو جانا۔ صفت (سَحْوٌ) اسْحَى - الرَّجُلُ - سَهْوَةٌ - بنانا۔
 سَاهِيٌ - الرَّجُلُ فِي الْمَعَاشِرَةِ - نرمی کرنا خوش خلقی سے برتاؤ کرنا۔ هُوَ غَافِلٌ کرنا۔ استہزار کرنا۔
 سَحَاةٌ - فریبان میں گرم کر کے خشک کرنا۔ السَّحْوُ - مص۔ سکون۔ نرمی۔ اِنْفَعَلَهُ سَحْوًا رَهْوًا - اس کو بلا تعلق کے خود بخود آسانی سے کرو۔ مَاؤُ سَحْوٌ صاف مقطر پانی۔ جَبَلٌ سَحْوٌ - سدھا ہوا مطیع اونٹ۔ أَمْرٌ سَحْوٌ - نرم کام۔ رِيحٌ سَحْوٌ - نرم ہوا۔ ج۔ سَحَاةٌ -
 السَّحْيُ وَالسَّهْلُ - بَنَاتٌ نَعِيشٌ - صفی میں ایک چھوٹا ستارہ۔ جب کسی سے کوئی سوال کریں اور وہ اس کا سبب جوڑ اور بے تعلق جواب دے تو کہتے ہیں أَرِيحَا السَّحْيُ وَتِيحِي الْقَبْرَ -
 السَّحْوُ وَالسَّهْوَاءُ - بات کا ایک حصہ۔ السَّهْوَةُ - مؤنث السَّحْوِ - سَهَا كَا اسْمَرَةٌ - ج۔ سَحَاةٌ - الماری۔ طلاقیہ

<p>کو قتل کرنا۔ سَاوَدَةٌ کسی کے ساتھ مکر و فریب کرنا۔ رات کی تاریکی میں ملنا۔ سرداری یا سیاہی میں غالب آنا۔ پوشیدہ کلام کرنا۔ سَاوَدُ الْأَسَدِ شیر کو بٹھانا۔ أَسْوَدَتْ إِسْوَادًا أَوْ أَسَادَتْ إِسَادَةً - المرأة - سیاہ رنگ کا بیٹا جنتا۔ سردار جنتا۔ تَسْوَدُ شادی کرنا۔ سردار ہونا۔ کالا ہونا۔ إِسْتَادَ - القوم - قوم کے سردار کو قتل کرنا - فِي بَنِي قُلَافٍ - قوم کے سردار کی رطل سے نسبت چاہنا۔ السَّوْدُ - سیاہ پتھروں والا ہموار میدان۔ ج - أَسْوَادٌ - ایک قطعہ (سَوْدَةٌ) السَّوْدُ - مصر۔ سرداری۔ ایک قسم کی نبات۔ السَّوَادُ سیاہی۔ وجود۔ ج - أَسْوَدَةٌ جج - آسَاوِدٌ - بہت مال۔ بڑی تعداد سَوَادُ الْبِلْدَانِ - شہر کے ارد گرد کی بستیاں۔ سَوَادُ اللَّيْلِ - پوری رات - سَوَادُ النَّاسِ - عام لوگ۔ سَوَادُ العَسْكَرِ - فوج کے اسلحہ و سامان وغیرہ سَوَادُ الْعَيْنِ - آنکھ کا سیاہ حصہ۔ پتی۔ سَوَادُ الْقَلْبِ - دل کا درمیان دل کا سیاہ نقطہ۔ السَّوَادُ - پوشیدہ گھنگرو۔ دانتوں کی بیماری رنگ کی زردی۔ السَّوَادِيَّةُ وَالسَّوَادَانِيَّةُ - ایک قسم کی چڑیا۔ السَّوْدَانُ - سوڈان کا باشندہ۔ واحد (سَوْدَانِيٌّ) حبشی لوگ۔ السَّيْدُ - بھڑیا بشیر۔ ج - سَيِّدَاتُ - السَّيِّدَاتُ - بھڑیے کی مادہ۔ السَّيِّدَاتُ - بھڑیا۔ السَّيِّدُ - سردار۔ ج - أَسْيَادٌ وَسَادَةٌ وَسَيِّدٌ - حضرت فاطمہؑ کی اولاد اور</p>	<p>السَّوْعَاءُ - بری عادت۔ بد شکل عورت۔ المَسَاعَةُ - برا کام یا بری بات۔ ج - مَسَاوِي - المَسَاوِي - عیوب و نقائص سَابِحٌ يَسُوبُ سَوْبًا أَوْ سَوَاجًا وَسَوَجَانًا - آہستہ آنا جانا۔ نَسُوجٌ وَنَسِيْجٌ - الكرم وَنَحْوُهُ أَوْ عَلَى الكرم - انگور کی بیل پر بار لگانا۔ السِّيَاحُ - دیوار۔ انگور وغیرہ کی بیل کی باڑ۔ ج - سَيَّاحَاتٌ وَأَسْوِجَةٌ وَسُوجٌ - السَّابِحُ - ساکھو کا درخت۔ ج - سَيِّجَانٌ واحد سَاجَةٌ - کٹادہ۔ گول چادر۔ كِسَاءٌ مُسَوِّجٌ - گول چادر۔ السَّاحَةُ - گوشہ۔ کنارہ۔ گھروں کے بیچ کا چوک۔ ج - سَاحٌ وَسُوحٌ وَ سَاحَاتٌ - سَاحٌ يَسُوحٌ سَوْحًا وَتَسْوِخٌ - فِي الطَّيْنِ کچھ میں دھس جانا۔ فِي المَاءِ - پانی میں بیٹھ جانا۔ (سَاحَتًا) بِهَذَا الارضِ - سُوحًا وَسُوحًا وَسُوحَانًا - زمین کا کسی کو اپنے اندر نکل لینا۔ السُّوَاخُ وَالسُّوَاخُ وَالسُّوَاخِيُّ وَ السُّوَاخِيَّةُ - دلدل۔ بہت کچھ۔ سَادٌ يَسُوْدُ سِيَادَةً وَسُوْدًا - وَ سُوْدٌ أَوْ سَيِّدُوْدَةٌ وَسُوْدًا - شریف ہونا۔ بزرگ ہونا۔ قَوْمُهُ قوم کا سردار ہونا۔ كَانُوا وَشَرَفَ میں کسی پر غالب آنا۔ صفت (سَائِدٌ) ج - سَادَةٌ - جچہ۔ سَادَاتُ - الرجُلُ کبھی سے لڑکی بات کرنا۔ سَوْدٌ يَسُوْدُ سَوْدًا أَوْ إِسْوَادًا إِسْوَادًا أَوْ إِسْوَادًا إِسْوِيْدًا - سیاہ ہونا۔ تَسْوَدُ - دلیر ہونا۔ هُ - سردار بنانا۔ الشَّيْخُ - کالا کرنا۔ الرجلُ سردار</p>	<p>کھڑکی۔ صحن کے سامنے کا پردہ، روشندان پالی کے سامنے کا نیمہ۔ پتھر کی چٹان۔ پاکلی۔ نرم کان۔ السَّاهِيٌّ - ذرا۔ کہتے ہیں: "بَعِيْرٌ سَاهٍ رَاهٍ"۔ بلی نرم رفتار کا اونٹ۔ ج - جِهَالٌ سَوَاهٍ رَوَاهٍ - الْأَسَاهِيُّ - الوان۔ رنگ اس کا مفرد نہیں۔ تَسْهَوَكُ - پھانٹنا۔ ہلاک کرنا۔ تَسْهَوَكٌ - پھانٹنا۔ ہلاک ہونا۔ واپس ہونا آہستہ چلنا۔ سَاءَ يَسُوْءُ سَوَاءً - الشَّيْءُ - قبيح ہونا۔ برا ہونا۔ سَاءَ يَسُوْءُ سَوَاءً وَسَوَاءً وَسَوَاءَةٌ وَسَوَائِيَّةٌ وَسَوَائِيَّةٌ وَمَسَاءٌ وَ مَسَاءَةٌ وَمَسَائِيَّةٌ وَمَسَائِيَّةٌ وَ مَسَائِيَّةٌ - الْأَمْرُ قَلَانًا - نکلنے کرنا۔ بے جا سلوک کرنا۔ يَهْ نَطًا - بدگمانی کرنا۔ سَوَاءَةٌ تَسُوْءَةٌ وَتَسُوْءِيَّةٌ - خراب کرنا۔ فاسد کرنا۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِ عَمَلُهُ - الزام دینا۔ عیب لگانا۔ طامت کرنا۔ سز نش کرنا۔ أَسَاءَ إِسَاءَةً - الشَّيْءُ - خراب کرنا۔ بگاڑ دینا۔ إِبْيَءٌ - کسی کے ساتھ برائی کرنا۔ يَه النَطُ - بدگمانی کرنا۔ السُّوْعُ - مص - رَجُلٌ سُوْعٌ - بدکار آدمی۔ وَالسُّوْعُ - فساد۔ آگ۔ آنکھ کی کمزوری۔ السِّيْعُ - برا۔ قبيح۔ السَّيِّئَةُ - مؤنث السِّيْعُ - بری خطا کاری ج - سَيِّئَاتٌ - السُّوْعَةُ - بے حیائی، بری فعلت، شرمگاہ ج - سُوْعَاتٌ - الْأَسْوَاءُ - مؤنث سُوْءِيٌّ - سب سے برا۔ بد شکل۔ قبيح۔ السُّوَاهِيٌّ - دفن کی آگ</p>
--	---	--

نس والے۔ السیدان حضرت امام حسن و حضرت امام حسین
 السیدة حضرت مریم علیہا السلام کا لقب بھی ہے۔
 الأسود۔ ج۔ سود و سودان۔ مؤنث سوداء کلاسیاہ۔ من العین آنکھ کی پتلی۔ من القوم قوم کا بزرگ۔ تصغیر۔ اسیود و اسید۔ الاسودان۔ کھجور اور پانی یا سانپ اور بچھو۔ والاسود۔ مؤنث اسودة۔ ج۔ اسود۔ بڑا کالا سانپ اس کو منس بھی کہتے ہیں۔ السہل الاسود۔ مبارک تیر جس سے برکت حاصل کی جائے۔ فلان اسود الکیڈ۔ فلاں دشمن ہے۔
 السوداء والسوداء۔ چار اخلاط میں سے ایک خلط۔ مایخولیا کی بیماری۔ الحبة السوداء۔ کلونجی۔
 السودد والسودد۔ بلند قدر، سرداری۔ المسودد۔ مایخولیا کی بیماری۔
 المسودة والسواد۔ غیر سات شدہ پھل۔ تحریر، اگر اس پر نظر ثانی کر لی گئی ہو تو وہ مبیضہ ہے و المسودة والمسودة۔ من الایام۔ معیتوں کے دن۔
 السودق والسودق والسودانق والسودانق۔ السودانق۔ شکر، غابین۔
 سارکسور سونا۔ الحائط۔ دیوار پر چڑھنا یا اس کو پھانڈنا۔ سونا و سونا، الیہ۔ کودنا۔ الشراب فی راسہ۔ شراب کا سر کو چکرانا۔
 سورا۔ المدینة۔ شہر کے ارد گرد شہر پناہ بنانا۔ المرآة۔ عورت کو لگن پنانا۔ الحائط۔ دیوار پر چڑھنا

ساورۃ سوار اور مساورۃ۔ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ حملہ کرنا۔ الشراب۔ شراب کا کسی کے سر کو چکرانا۔
 تسورا۔ لگن پننا۔ الحائط۔ دیوار پر چڑھنا۔ پھانڈنا۔
 السور۔ شہر پناہ۔ ج۔ اسوار و سیران۔ السور۔ عمدہ اونٹ۔ عندہ سور من الیل۔ اس کے پاس عمدہ اونٹ ہیں۔
 سوریۃ و سوریۃ۔ ملک شام۔ السورۃ۔ سارۃ کا اسم مرۃ۔ سورۃ الخضر۔ شراب کا بوش۔ سورۃ السلطان۔ بادشاہ کا دببہ۔ سورۃ المجد۔ بزرگی کا اثر۔ سورۃ البرد۔ سردی کی شدت۔
 السورۃ۔ مرتبہ۔ لہ علیک سورۃ اس کو تم پر فضیلت ہے۔ شرف، علامت۔ خوبصورت اونچی عمارت۔ من الکتاب۔ کتاب کا مستقل قطعہ قرآن مجید کی سورت۔ ج۔ سور و سور و سورات و سورات۔ السوار و السوار و الاسوار و لگن۔ ج۔ سور و اسورۃ و اسور و اساورۃ و سور۔ الاساورۃ۔ بھومیں آباد ہونے والی ایک پرانی عجمی قوم۔
 السوار۔ جلد متوالا ہونے والا۔ کلب سوار۔ کھٹکھٹا۔
 الاسوار۔ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنے والا۔ تیرانڈاز۔ عند الفریس فرجی افسر۔ ج۔ اسور اساورۃ السواری۔ بلندی۔
 المسور و المسورۃ۔ چمڑے کا ٹکے۔ ج۔ مٹاور۔

المسور۔ کالی کا وہ حصہ جس پر لگن ہو طاقتور بادشاہ۔
 السورنجان و السورنجان۔ ایک دوا کا نام۔
 ساس یسوس۔ سیاست۔ الدواب۔ جانوروں کو سدھانا، ان کی دیکھ بھال رکھنا۔ القوم۔ قوم کے امور کی تدبیر کرنا۔ انتظام کرنا۔ الامر۔ انتظام کرنا صفت (سائیس)۔ ج۔ ساسۃ و سواس۔
 ساس یساس و سوس یسوس و سوس یساس۔ سوسا و تسوس۔
 الطعام۔ گھن لگنا۔ الشاة بکری کا بہت جوں والی ہونا۔
 سوس۔ الطعام۔ گھن لگنا۔ لہ امر کسی کے لیے کوئی کام مزین کرنا۔
 سوس فلان امر القوم۔ فلاں قوم کے امور کا مختار و مالک بنایا گیا۔
 اساس۔ الطعام۔ گھن لگنا۔ اساسۃ الناس۔ لوگوں کا کسی کو اپنا سردار بنالینا۔ اساسۃ الشاة۔ بکری کا بہت جوں والی ہونا۔ صفت دھیسس۔
 الساس۔ منتظم۔ کیرا لگی ہوئی دانت کی جڑ۔ السوس۔ اون یا لکڑی کا کیرا۔ گھن۔ واحد (سوسۃ) ہر چیز کا کھانے والا۔
 السوس۔ اصل۔ طبیعت۔ کہتے ہیں الفصاحۃ من سوسہ۔ فصاحت اس میں فطری ہے۔ طبیعتی کا درخت۔
 السوس۔ جانور کے سرین کی بیماری۔
 السواس۔ گھوڑوں کے گردن کی ایک بیماری جو گردن کو سکھا دیتی ہے۔
 السیاسۃ۔ ملکی تدبیر و انتظام۔
 السیاسۃ المدنیۃ۔ شہر کا انتظام اہل شہر کی معاشی حالت کی اصلاح اور عدل و انصاف کا پورا پورا لحاظ۔

<p>مثالاً۔ آسَافُ إِسَافَةٌ۔ مال ہلاک ہونا۔ اولاد مرنا صفت (رہیبیت) اولاد (مُاسَفٌ) آسَافَهُ اللهُ۔ ہلاک کرنا۔ سَوَفٌ۔ مہینہ برفچ۔ یہ مفسد ہے کہ زمانہ استقبال کے لیے خاص کرتا ہے اور حرف "سین" سے اس کا زمانہ لمبا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں۔ "هُوَ يَقْتَابُ السَّوْفُ" وہ امیدوں پر چیتا ہے۔ السَّائِفَةُ۔ باریک ریت۔ ریتلی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔ السَّوْفُ وَالسَّوْفُ۔ جانوروں کی بیماری مری۔ آسَافٌ حَتَّى مَا يَسْتَكِي السَّوْفُ یہ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں۔ جو سختیوں کا خوگر ہو گیا ہو۔ السَّافُ وَالسَّافَةُ۔ گارے یا اینٹوں کا رواج۔ ج۔ اَسْفٌ وَسَافَاتٌ۔ السَّافَةُ وَالسَّوْفَةُ۔ ریتلی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔ ج۔ سَوَفٌ وَسَوَفٌ۔ الْمَسَافَةُ وَالْمَسَافُ۔ ج۔ مَسَافٌ وَ دَالِيْفَةٌ (دوری)۔ الْمَسَافُ۔ ناک۔ الْمَسِيْفُ۔ وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔ الْمُسْتَاْفُ۔ مسافت طے کرنے والا۔ سو گھنے کی جگہ۔ الْمُسَوْفُ۔ مابہ، خود مختار۔ سَاقٌ يَسُوْقُ سَوْقًا وَسِيَاْقًا وَسِيَاْقَةً وَمَسَاقًا وَسَاقًا۔ اسْتِيَاْقًا۔ الْمَاْشِيَةَ۔ جالور کو بھیجے سے ہانکنا۔ صفت (سائق) ج۔ سَاقَةٌ وَ سَوَاقٌ وَسَائِقُونَ۔ صفت مفعول۔ (مَسُوْقَةٌ) سَاقَةٌ مَسَاقٌ غَيْرُهُ۔ اس کے ساتھ غیر کا سا معاملہ کیا۔ سَاقُ الْحَدِيْثِ۔ بیان کرنا۔</p>	<p>ریت گھڑی۔ السَّاعَةُ الشَّمْسِيَّةُ دھوپ گھڑی۔ ج۔ سَاعَاتٌ وَ سَاعٌ۔ سَاعَةٌ سَوَاعًا۔ سخت کھٹن وقت۔ رَجُلٌ مَسِيْعٌ وَمَسِيْعٌ۔ فضول خرچ مال کو ضائع کرنے والا۔ سَاعٌ سَوَاعًا وَسَوَاعًا وَسَوَاعًا۔ الْأَمْرُ جَائِزٌ هَذَا۔ صفت (سَائِعٌ) - الشَّرَابُ۔ آسانی سے گلے سے اترنا۔ صفت (سَائِعٌ وَسَائِعٌ وَ اسْوَعٌ)۔ سَاعٌ يَسُوْعٌ سَوَاعًا وَسَاعٌ يَسِيْعٌ وَ سِيْعًا۔ الشَّرَابُ۔ خوشگوار کرنا۔ (رَسَاعَةٌ) زیادہ بہتر ہے۔ سَوَعٌ۔ الْأَمْرُ جَائِزٌ كَرْنَا۔ لَهْ كَذَا دینا۔ کسی کے لیے خاص کرنا۔ آسَاعٌ۔ الطَّعَامُ أَوِ الشَّرَابُ۔ خوشگوار بنانا۔ اسْبِغْ لِي عَصِيْبِي۔ مجھے مہلت دو۔ اسْوَعٌ اسْوَاعًا۔ الصَّبِيْحُ آخَاةٌ۔ ساتھ ساتھ پیدا ہونا یا ایک کا دوسرے کے بعد پیدا ہونا۔ صفت مذکر مؤنث (سَوَعٌ وَسَوَاعَةٌ وَسِيْعٌ)۔ اسْتَاعٌ۔ الشَّرَابُ۔ خوشگوار پانا۔ السِّيْعُ۔ مِنَ الشَّرَابِ۔ خوشگوار۔ السَّوَالِغُ۔ حلق کے پھندے کو دور کرنے والے شے۔ سَاقٌ يَسُوْفٌ وَيَسَافٌ سَوْفًا۔ المالُ ہلاک ہونا۔ جانوروں میں مری پڑنا۔ سَاقٌ يَسُوْفٌ سَوْفًا۔ عَلَيْهِ۔ مہر کرنا۔ د۔ اسْتَسَافٌ اسْتِيَاْفًا۔ البشْعُ۔ سو گھنا۔ سَوَفَةٌ۔ مثالاً۔ بار بار کہنا کہ منقریب کروں گا۔ كَالْأَمْرِ۔ پورا اختیار دینا۔ سَاقَةٌ مَسَاقَةٌ۔ سو گھنا۔ بھید بتلانا</p>	<p>السُّوسُنُ وَالسُّوسُنُ وَالسُّوسَانُ۔ ایک خوشبودار پتی۔ واحد (سُوسُنَةٌ) ج سَوَاسِينُ۔ سَاطِلَةٌ يَسُوْطُ۔ سَوْطًا۔ کوڑے مارنا۔ الشَّيْءُ۔ مخلوط کرنا۔ الْحَرْبُ۔ جنگ برپا کرنا۔ الْأَمْرُ۔ تہ و بالا کرنا۔ سَوْطًا، لَهْسَةً۔ جی متلانا۔ سَوَطٌ۔ الْأَمْرُ۔ ملانا۔ الْحَرْبُ۔ جنگ شروع کرنا۔ برپا کرنا۔ اسْتَسَوَطُ۔ الْأَمْرُ۔ پیچیدہ ہونا۔ گڈ بھونا۔ السَّوْطُ۔ کوڑا۔ چاہب ج۔ اسْوَاطٌ وَسِيَاْطٌ نصیب، سختی۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ السِّيَاْطُ۔ گندنا کی شاخیں۔ السَّوَاْطُ۔ کوڑا رکھنے والا سپاہی۔ الْمِسْوَاْطُ۔ وہ گھوڑا جو بغیر ہانک کے نہ چلے۔ (وَالْمِسْوَاْطُ) وہ لکڑی وغیرہ جس سے ایک چیز کو دوسری چیز میں ملایا جائے۔ الْمِسْيَاْطُ۔ حوض کے پھندے میں بچا ہوا پانی۔ سَوَطٌ۔ بھنی سَبِيْطٌ۔ سَاعٌ يَسُوْعٌ سَوَاعًا۔ ضائع ہونا۔ سَاعَتِ الْاِبْلِ۔ اونٹوں کا بغیر چرواہے کے آزادی سے چرنا۔ سَادَعَةٌ مَسَادَعَةٌ وَسَوَاعَةٌ۔ گھنے بھر کے لیے معاملہ کرنا۔ الرَّجُلُ۔ ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔ اسَاعٌ اسَاعَةً۔ الشَّيْءُ۔ بیکار چھوڑنا۔ ضائع کرنا۔ اسْوَعٌ۔ اسْوَاعًا۔ ایک گھنٹہ موخر ہونا۔ ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔ السَّوْعُ۔ والسَّوَاعُ۔ رات کا ایک حصہ۔ السَّائِعُ۔ ہلاک ہونے والا۔ ج۔ سَاعَةٌ۔ السَّاعَةُ۔ گھنٹہ۔ موجودہ وقت۔ کہتے ہیں۔ اَلْحَقِيْقُ حَقِيْقُ السَّاعَةِ۔ میرا حق مجھ کو ابھی دو۔ گھڑی۔ السَّاعَةُ الرَّصْمِيَّةُ</p>
--	--	--

<p>سَالَ يَسَالُ سَوَالًا وَسَوَالًا - مانگنا پوچھنا۔</p> <p>سَوَّلَ يَسْوُلُ سَوَلًا - پیٹ کا ناف کے نیچے سے ڈھیلا ہونا۔ صفت</p> <p>رَأْسُولٌ (سَوَّلَ) مَوْنَتٌ - سَوَّلًا - جہ۔ سَوَّلٌ</p> <p>سَوَّلٌ - لَهُ الشَّيْطَانُ - گمراہ کرنا۔ جھلانا</p> <p>وَسَوَّلْتُ لَهُ نَفْسَهُ كَذًا - اس کے نفس نے اس کو مزین کیا۔</p> <p>تَسَوَّلَ - البَطْنُ - پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔</p> <p>السُّوَلَةُ - بہت سوال کرنے والا۔</p> <p>السُّوَالَةُ - مَوْنَتٌ اسْوُولٌ - بڑا ڈول۔</p> <p>السُّوَيْلُ - برابر کا۔ کہتے ہیں "أَنَا سَوَيْلُكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ" میں اس معاملہ میں تمہارا شریک ہوں۔</p> <p>سَامٌ يَسُومُ سَوْمًا وَسَوْمًا - السِّلْعَةُ - سامان کو فروخت کرنے کے لیے پیش کرنا اور اس کی قیمت بتانا - المَشْتَرِي السِّلْعَةَ - بھاؤ کرنا - سَامَتِ الْمَاشِيَةَ - مویشی کا چراگاہ کو جانا - سَامَهُ الْأَمْرَ - کسی کو کسی کام کی تکلیف دینا - سَامَهُ خَسْفًا ذَلِيلًا - خوار کرنا - الطَّيْرُ عَلَى الشَّيْءِ - پرندہ کا کسی پر منڈلانا - جھکا ٹنا - الرِّيْحُ هَوَاكَ جَلْنَا - سَامَ نَاقَتَهُ عَلَى الْحَوِصِ - اونٹنی کو حوض پر لانا۔</p> <p>سَوْمَةٌ - الْأَمْرَ - کسی کام کی تکلیف ڈالنا - هُوَ فِي مَا يَنْبَغِيكَ - پورا اختیار دینا - حاکم بنانا - خَلَانَا - کسی کو آزادی دے کر اس کی مرضی پر چھوڑنا - مَثَلُ سَبْعِ عَبْدٌ وَسُوْدٌ - آزاد چھوٹا جو غلام جب کسی کینہ کو پوری آنا دے دے وہی جلتے تو اس کے حق میں یہ مثل بولی جاتی ہے - التَّخِيلُ لَمْ يُوْثِقُوا كَوْبَهُنَّ كَيْ لِي جَوْرُنَا - عَلَيَّ حَسْرَةٌ لَوْ بَدَّلْتُ كَرَفًا وَبَيْدَانًا - الغرض - گھوڑے پر</p>	<p>السُّوْقَةُ - رَعِيَتْ - غلام - دمنوت مذکر واحد جمع</p> <p>السِّيْقُ - مِنَ السَّحَابِ - وہ بادل جس کو ہوا اڑالائے۔</p> <p>السِّيْقَةُ - وہ مویشی جن کو دشمن ہانک لے جائے۔ جہ۔ سَيَّاقٌ وَسَيِّقَاتٌ</p> <p>الْمَرْءُ سَيِّقَةُ الْقَدْرِ - آدمی قضا و قدر کا فرمانبروار ہے۔</p> <p>السَّوِيْقُ - سَتُو - جہ۔ اسْوِقَةٌ - شراب۔</p> <p>السِّيَاقُ - مہ - عورت کا مہر - سَاقُ الْكَلَامِ - اسلوب کلام - وَقَعَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ - یہ عبارت سلسلہ کلام میں آگئی۔</p> <p>السَّوَّاقُ - ہانکنے والا - سَتُو يَجْنِي وَالَا - یا سترینا نے والا۔</p> <p>الْأَسْوَقُ - لمبی پنڈلیوں کا - مَوْنَتٌ - سَوَقَاءٌ - جہ۔ سُوْقٌ - السَّوَّاقُ - لمبی پنڈلیوں والا - تنے پر قائم پودا۔</p> <p>الْمَسْوَقُ - وہ اونٹ جس کی اونٹ میں شکر کا گودھو کا دیں۔</p> <p>الْمُنْسَاقُ - تابع - قریب، لمبی ڈھلوان والا پہاڑ۔</p> <p>سَاكَ يَسْوُكُ سَوَاكَ وَسَوَاكَ - الشَّيْءُ - لٹنا - رگڑنا - اسی سے ہے "سَوَاكَ الْإِنْسَانُ بِالْعَوْدِ" اس نے دانوں کو کڑی سے رگڑا - مَسَاكٌ كِي - سَاكَ سَوَاكًا وَتَسَاوَكٌ - آہستہ چلنا - کزوی سے لٹکھڑاتے ہوئے چلنا۔</p> <p>تَسْوُكٌ تَسْوُكًا وَتَسَاكٌ اسْتِيَاكًا - مسواک کرنا۔</p> <p>السَّوَاكُ - مَص - جہ۔ سُوْكٌ - وَ (السَّوَاكُ) جہ۔ مَسَاوِيكٌ - مسواک۔</p>	<p>سَاقَهُ يَسُوْقُهُ سَوَقًا وَسِيَاقًا - پنڈلی پر مارنا - سَاقٌ إِلَيْهِ الْمَالُ - مال بھیجنا۔</p> <p>پیش کرنا - مِنْ أَمْرٍ آيِدٍ - عورت کو ہر دینا - الْمَرِيضُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ - وَسِيْقِي عَلَى الْمَجْمُوعِ - جان کنی شروع ہونا۔</p> <p>سَوَقٌ يَسُوْقُ سَوَقًا - خوبصورت اور موٹی پنڈلی والا ہونا۔</p> <p>تَسَوَّقٌ - النَّبْتُ - پودے کا تنہ دار ہونا - هُوَ الْأَمْرُ - کسی کو امر کا مختار کرنا - کام کسی کے سپرد کر دینا - الْمَاشِيَةُ - مویشی کو پیچھے سے ہانکنا۔</p> <p>تَسَاوَقَهُ - ہانکنے میں فخر کرنا۔</p> <p>أَسَاقَهُ إِسَاقَةً وَإِسَاقَةً اسْتِسَاقَةً - الْمَاشِيَةَ - ہانکنے کے لیے مویشی دینا۔</p> <p>تَسَوَّقٌ - خريد و فروخت کرنا۔</p> <p>تَسَاوَقَتِ - الْمَاشِيَةُ - قطار میں چلنا۔ چلنے میں بھیڑ کرنا۔</p> <p>إِسَاقٌ - ہانکا جانا - الْإِيلُ - اونٹوں کا قطار میں چلنا۔</p> <p>السَّاقُ - پنڈلی (دمنوت) - جہ۔ سُوْقٌ وَسَيِّقَانٌ وَاسْوُقٌ - سَاقُ الشَّجَرَةِ - درخت کا تنہ - سَاقُ الْحَمَامِ وَالْغُرَابِ - دو پودے ہیں۔</p> <p>سَاقٌ حُرٌّ نَرْمَرِي - كَشَفَ الْأَمْرُ عَنْ سَاقِي - یعنی معاملہ سخت و سنگین ہو گیا - قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاقِي - جَنكٌ تِيْرٌ هُوَ كَيْفِي - وَوَلَدَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ بَنِيْنَ عَلَى سَاقِي وَاحِدٍ - عورت کے لگاتار تین بیٹے ہوئے۔</p> <p>السَّاقَةُ - جلو - فوج کا پچھلا حصہ۔</p> <p>السُّوْقُ - بازار (دمنوت) کبھی مذکر بھی آتا ہے - جہ۔ اسْوَاقٌ - سُوْقُ الْحَرْبِ - میدان جنگ۔</p> <p>السَّوْقُ - پنڈلی کی لمبائی۔</p>
---	--	---

داغ لگانا۔
 سَاوَمٌ سَوَامًا وَسَاوَمَةً - بِالسَّلْعَةِ -
 سامان کا بھاؤ تاؤ کرنا۔
 تَسَاوَمًا - السَّلْعَةُ - سودا کرنے میں جھگڑنا۔
 - فِي السَّلْعَةِ - سامان کا بھاؤ تاؤ
 کرنا۔
 أَسَامٌ إِسَامَةٌ - الْمَاثِيَّةُ - مویشی کو
 چراگاہ کی طرف لے جانا۔ اَلْيَبِي
 بِبَصَرِهِ - نَظَرًا نَا -
 إِسْتَامٌ - فَلَنَا السَّلْعَةُ - سامان کی
 قیمت دریافت کرنا۔ بھٹا۔ سامان کو
 زیادہ قیمت پر فروخت کرنا۔
 تَسْوَمٌ - نِشَانٌ لِّكَانَا -
 السَّامُ - مَوْتٌ بِالنَّسِ - نَزْكَلٌ - وَاحِدٌ
 رَسَامَةٌ (وَالسَّامَةُ) مَوْتٌ سَوْنِي
 یا چاندی کا ٹکڑا۔ کنویں کے اوپر کا گڑھا
 ج۔ سَيْكُ -
 السَّيْمَةُ - السُّومَةُ وَالسَّيْمَاءُ وَالسَّيْمِيُّ
 نِشَانٌ - عِلَامَةٌ - تَشْكَلٌ وَهَيْئَةٌ كَتَبَتْ
 فِي فِيهِ سُوْمَةُ الْبَصَالِحِ وَسَيْمَنَةٌ -
 اس میں صلاحیت کی علامت ہے۔
 السَّيْمَاءُ وَالسَّيْمِيَاءُ - نِشَانٌ يُوْلَعُورَتِي
 السَّائِحُ - فَ - خُودِ سَرِي سِي جَلْنِي وَالَا -
 چرواہا۔
 السَّيْمَةُ وَالسَّوَامُ - جرنے والے مویشی
 اور اونٹ۔ ج۔ سَوَائِحُ -
 السُّوَامُ - مَع - پزندہ۔
 الْمَسَامُ - تِيزِي سِي كَرْنَا -
 الْمَسَامَةُ - وَهِي كِي كَرْمِي -
 الْمُسْوَمُ - اچھی ساخت کا، نشان زدہ۔
 الْخَيْلُ الْمُسْوَمَةُ - چرائے ہوئے یا
 چھوڑے ہوئے گھوڑے۔
 السُّوَيُّ السُّوَيُّ السُّوَيُّ - الرَّجُلُ كِي
 کلام درست ہونا۔
 السُّوَيُّ - الشَّيْءُ - ہموار کرنا۔ برابر کرنا۔

سیدھا کرنا۔ محض بنانے کے معنی بھی
 دیتا ہے۔ - وَسَاوَى بَيْنَهُمَا وَسَوَاهُ
 (وَسَاوَاهُ يَه) برابر کرنا۔ کہتے ہیں
 "سَوَيْتُ عَلَيْهِ الْأَرْضَ" - وہ ہلک
 ہوا۔ اور دفن کر دیا گیا۔ وَسَاوَى
 الشَّيْءُ - برابر کرنا۔ سَاوَى الرَّجُلُ
 قَوْلَهُ - ہم مثل ہونا۔ تھوڑی قیمت میں
 ایک طرح کا ہونا۔ هَذَا لِلسَّوَى
 دِنَهُمَا - یہ درہم کے برابر نہیں۔
 أَسْوَى السَّوَاءِ - ذَلِيلٌ وَحَقِيرٌ هُونًا - کام
 کا درست ہونا۔ الشَّيْءُ - ہموار و برابر
 کرنا۔ أَسْوَاهُ يَه - برابر کرنا۔
 تَسْوِيٌّ - ہموار و برابر ہونا۔
 تَسَاوِيًّا - فِي كَذَا - ہم مثل ہونا۔
 اسْتَوَى - الشَّيْءُ - مَعْتَدٌ وَمُسْتَقِيمٌ هُونًا
 - الرَّجُلُ كِي كَامٌ دَرَسْتُ هُونًا -
 پکی ٹرک کا ہونا۔ عَلَيْهِ غَالِبٌ آتَا -
 عَلَى كَهْفِ الدَّائِيَّةِ - جَم كَرَبِيحًا -
 اسْتَوَى عَلَى سَرِيرِ الْمَلِكِ - سِي
 مراد کامل قبضہ و تصرف ہوتا ہے۔
 إِلَى الشَّيْءِ - قَهْدٌ وَارَادَهُ كَرْنَا -
 اسْتَوَتْ بِهِ الْأَرْضُ - ہلک ہوا۔
 اور دفن کیا گیا۔ اسْتَوَى الطَّعَامُ
 کھانے کا خوب پکنا۔
 السُّوَيُّ - قَهْدٌ، ارَادَهُ -
 السَّوَاءُ - دَرْمِيَانٌ، يَزِيحٌ - ضَوْبٌ
 سَوَاعَةً - اس نے اس کے وسط
 میں مارا۔ لَقِيْتُهُ فِي سَوَاءِ النَّهَارِ
 میں اس سے وسط دن میں ملا۔ غیر کے
 معنی بھی دیتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں۔
 "جَاءُوا سَوَاءَ زَيْدٍ" - زید کے سوا
 سب آئے اور مستوی کے معنی کو بھی
 مفید ہوتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: "مَكَانٌ
 سَوَاءٌ وَتَوْبٌ سَوَاءٌ" - یعنی طول و
 عرض میں برابر جگہ یا کپڑا۔ سَوَاءٌ

السَّيْبِيلُ - سِيدْحَارَا سَتَه - هَذَا
 دَرَهُمْ سَوَاءٌ - یہ پورا درہم ہے۔
 سَوَاءٌ الْجَبَلُ - پہاڑ کی چوٹی۔
 السَّوَاءُ - مِثْلٌ، مَانِدٌ - هُنَا فِي هَذَا
 الْأَمْرِ سَوَاءٌ - وہ ہر دو اس میں
 ایک طرح کے ہیں۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو
 هُمَا سَوَاءَانِ - اور جمع میں هُمْ
 سَوَاءٌ - يَاهُمَا سَوَاءٌ - اور
 خِلَافَ قِيَاسٍ جَمْعٌ لَكِرَهُمْ سَوَائِيْنَ وَ
 سَوَائِيَّةٌ وَسَوَائِيَّةٌ - بھی کہہ سکتے
 ہیں۔ كَيْلَةُ السَّوَاءِ - تیرھویں یا چودھویں
 رات۔
 السُّوَيُّ وَالسُّوَيُّ - دَرْمِيَانٌ - وَسَطٌ -
 بمعنی غیر یہ حروف استثناء میں سے
 ہے۔ کہتے ہیں "جَاءُوا سَوِيًّا زَيْدٍ"
 زید کے علاوہ سب آئے۔ "هُمَا عَلَى
 حَيْدٍ سَوِيٌّ" ان کے درمیان کوئی
 فرق نہیں۔
 السُّوَيُّ - بَرَابَرٌ - ہموار۔ درست، انصاف
 مَكَانٌ سَوِيٌّ - دَرْمِيَانِيٌّ جَمْعٌ -
 غِلَامٌ سَوِيٌّ - بے عیب اچھی ساخت
 کالا۔ ج۔ أَسْوِيَاءٌ -
 السُّوَيَّةُ - السُّوَيُّ كَاثُونٌ - بَرَابَرِيٌّ -
 "كَمِثَّتِ الشَّيْءُ بَيْنَهُمَا السُّوَيَّةُ"
 میں نے ان دونوں نے درمیان چیز برابر
 برابر بانٹ دی۔ غَرِيْبٌ لَوَّكُوْنَ كِي سَوَارِي
 ج۔ سَوَايَا -
 الْمَيْسِيُّ - بِيَابَانٌ - ہموار۔ مَانِدٌ - هُمَا
 يَسْتَاوِيَانِ - وہ ہر دو ایک جیسے ہیں۔
 مَكَانٌ يَسِيٌّ - ہموار برابر جگہ (مذکورہ
 مَوْثٌ، ج۔ أَسْوَاءٌ -
 لِلسَّيْمَاءِ وَالسَّيْمَاءِ - خَامٌ كَر - اسْتِثْنَاءُ كِي
 معنی میں آتا ہے، کبھی اس کا لاصف
 کر دیتے ہیں۔
 الْأَسْوَى - اسْمٌ تَفْخِيْلٌ - لِلسَّوَاءِ وَرُصْدٌ

لاستوی۔ راستی، درستی، اعتدال۔
خط استوار۔ جغرافیہ کی اصطلاح میں
کرہ زمین پر وہ دائرہ عظیم ہے، جو
مشرق سے مغرب کو قطبین سے برابر
فاصلہ پر کھینچا ہوا فرض کیا گیا ہے اور
جو کرہ ارضی کو دو برابر کے شمالی اور
جنوبی حصوں پر تقسیم کر دیتا ہے۔ اس
خط پر تمام سال دن و رات برابر
رہتے ہیں۔

نَسَائَتْ وَ نَسَائَاتٌ - الناقۃ و نثنی

کا بغیر دوہنے کے دودھ بہانا۔

نَسَائَاتٌ عَلَيَّ الْأُمُورُ - میرے اوپر
امور مختلف ہو گئے۔ نَسَيْتُ

فُلَانٌ بِحَقِّي - فلان نے انکار کے

بعد میرے حق کا اقرار کیا۔

النَّسَاءُ - اللبَنُ - دودھ کا بغیر دوہنے

کے بنا۔

النَّسِيُّ وَالسَّيْحُ - دودھ جو خود بخود نکل رہا
ہو۔ ج۔ سَيَّوْءٌ

سَابَ لَيْسَبُ سَبِيَا - الماءُ - پانی

کا ادھر ادھر بہنا۔ الرَّجُلُ تَزِجَلُنَا

- فِي كَلَامِهِ بے سوچے بولنا۔

الدَّائِبَةُ - جانور کا آزاد چلنا۔

السَّيْبَةُ - چھوڑ دینا۔ الْعَبْدُ - غلام
کو آزاد کرنا۔

النَّسَابُ إِلَى سَابَا - تیز چلنا۔ النَّسَابَتُ

الْحَيْثُ - سانپ کا رنگنا۔ فُلَانٌ

نَحَوَهَا - واپس آنا۔

السَّيْبُ - مع بارش، بخشش۔ مان۔

زیادتی۔ گھڑے کی دم کے بال۔ ج۔

سَيَّوْبٌ -

السَّيْبُ - پانی بننے کی جگہ۔ ج۔ سَيَّوْبٌ

السَّيَابُ وَالسَّيْلُ وَالسَّيَابُ کچی کھجور

واحد سَيَابَةٌ یا سَيَابَةٌ -

السَّيَابَةُ - شراب۔

السَّيْبَانُ - اصل میں الصَّيْبَانُ ہے۔

پسوں اور جوڑوں کے اندھے۔

السَّيَابَةُ - چھوڑی ہوئی، آزاد کردہ غلام۔

وہ اونٹنی جو ایام جاہلیت میں نذر کے

لیے چھوڑی جاتی تھی۔ یادس بارہ نیچے

جننے کے بعد اس کو آزاد چھوڑا جاتا تھا۔

نہ اس پر سواری لیتے نہ اس کا دودھ

دوہتے، اس کا دودھ اس کا بچہ پیتا یا

مہمان کو دودھ پینے کا حق حاصل تھا

اسی طرح پینے اور چرنے میں اس کو

پوری آزادی ہوتی، جہاں چاہتی جرتی اور

جہاں سے چاہتی پانی پیتی۔ ج۔ سَيَّبٌ

وَسَوَائِبٌ -

سَيَّبَ - انگورم۔ انگور کی بیل کے لیے

بالوں کا گانا۔

السَّيَابُ - احاطہ۔ کانٹے دار جھاڑی وغیرہ

کی باڑ جو انگور کی بیلوں یا کھجور کے

درختوں کے ارد گرد قائم کی جائے ج۔

سَيَّجَاتٌ وَ سَيَّجَةٌ وَ سَيَّجٌ -

السَّيَّجَانُ - ایک قسم کی مچلی۔

سَاخَ لَيْسَبُ سَبِيَا وَ سَبِيَا نَا - الماءُ

پانی کا سطح زمین پر بہنا۔ صفت ماءُ

رَسَائِحٌ وَ سَيَّحٌ - تَلْذِيهِ الْأَرْضُ

تَسْقَى بِالْمَاءِ سَبِيَا - یہ زمین بے

ہوئے پانی سے سیراب کی جاتی ہے۔

الْمِظَلُ - سایہ ڈھلنا۔ سَبِيَا وَ

سَبِيَا نَا وَ سَبِيَا حَةٌ وَ سَبِيَا حًا

عبادت کے لیے زمین میں پھرنا۔ سفر

کرنا۔ شہروں میں پھرننا۔ صفت

(سَبِيَا حٌ) ج۔ سَبِيَا حٌ وَ سَبِيَا حُونَ -

سَبِيَا حَةٌ وَ سَبِيَا حَةٌ - بہانا۔ "سَبِيَا حٌ"

سَبِيَا حًا كَثِيرًا - خوش بیانی

سے بولنا۔ سَبِيَا حٌ الْفَرَسُ يَدْنِيهِ -

گھوڑے کا دم کو ڈھیلنا کرنا۔

السَّاسُ بَطْنُهُ - پیٹ کا بڑا ہونا اور

لُكَّ هَانَا السُّوْبُ - کپڑے کا پھٹنا۔

بَالَةٌ - کشادہ و فراخ دل ہونا۔

السَّيْحُ - مصر۔ بننے والا پانی۔ دھاری دار

کپڑا۔ ج۔ سَبِيَا حٌ وَ سَبِيَا حَةٌ -

السَّيْحُ - مسجد میں رہنے والا۔ روزہ دار۔

السَّيَا حٌ - گھوں میں بہت پھرنے والا۔

السَّيَا حٌ - شرارت اور جھگڑی کو پھیلانے والا

ج۔ سَبِيَا حٌ -

السَّيْحُ - مِنَ السَّيَابِ - دھاری دار کپڑا۔

سَاخَ لَيْسَبُ سَبِيَا وَ سَبِيَا نَا - مضبوط

ہونا۔ سَاخَتْ قَدَمُهُ فِي السَّيْبِ -

کیمچ میں پاؤں گڑ جانا۔

السَّيْحُ - بڑی چھری (فارسی)

السَّيَا حٌ - مٹی کی عمارت۔ ج۔ سَبِيَا حٌ -

سَارَ رَضٌ سَارًا وَ سَارًا وَ مَسِيرًا

وَمَسِيرَةً وَ سَيْرُورَةً - سفر کرنا

جانا۔ چلنا۔ اَيْدِيهِ - چلانا۔ الدَّائِبَةُ

جانور پر سوار ہونا۔ السُّنَّةُ - سنت

پر عمل پیرا ہونا۔ سَدَعَتْكَ مَت

پروا کرو بے خبر ہو۔ سَارَ الْكَلَامُ

أَوِ الْخَلُّ فِي النَّاسِ - کلام یا مثل

کالگوں میں مشہور ہونا۔

سَارَ وَ سَارَ - الرَّجُلُ - چلانا۔ الْجَلُّ

عَنْ ظَهْرِ الدَّائِبَةِ - جانور کی پیٹھ

سے بھول اتارنا۔ سَارَ الشُّوْبُ -

کپڑے کو دھاری دار بنانا۔ سَارَ

الْمِثْلُ - مثل کو لوگوں میں مشہور کرنا۔

سَارَ وَ سَارَ - الْكَلَامُ - باتیں بیان

کرنا۔ سَارَ مِنْ بَلَدِهِ - شہر سے

نکال دینا۔ جلا وطن کرنا۔

سَارَ سَاخَةً - ساتھ چلنا۔

سَارَ - الْجِلْدُ - کھال کا چھل جانا۔

سَارَ - بَايَمٌ لِكُرْبَانَا - سَارَ

عَنْ وَجْهِهِ الْقَضْبُ - غصہ کے

آثار کا چہرے سے دھونڈنا۔

اِسْتَارَ اِسْتِيَارًا - زاد و راه خریدنا - اِسْتِيَارَةً
 قَلَان - کسی کی سیرت و خصلت پر چلنا -
 السَّيْرُ - سیر - ج - سَيُورُ و سَيُورَةٌ و
 اَسْيَارٌ -
 السَّيْرَةُ - سائر کا اسم، عادت، طریقہ -
 طرز زندگی - ہیئت - سوانح عمری -
 لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی کیفیت -
 "مَنْ طَابَتْ سِرِّيَّتُهُ حَمِدَتْ
 سَيْرَتُهُ" - پاک باطن خوش عادت ہوتا
 ہے - ج - سَيْرٌ -
 السَّيْرَاءُ - دھاری دار یا ریشم ملی چادریں -
 خالص سونا - ایک قسم کی نبات - گٹھلی
 سے چٹا ہوا چھلکا - دل کا پردہ، کھجور
 کی ٹہنی -
 السَّيْرُفَا - سائرُ الشیء - باقی ماندہ چیز
 - المثل السَّيْرُ - مثل مشہور -
 السَّيَارُ و السَّيْرَةُ و السَّيُورُ - بہت
 چلنے والا -
 السَّيَارَةُ - ٹونٹ السَّيَامُ - قافلہ -
 آفتاب کے ارد گرد پھرنے والا ستارہ -
 جیسے زحل مشتری، مریخ - زمین، زہرہ
 عطارد وغیرہ - ج - سَيَارَاتٌ -
 السَّيَّاسَةُ - موٹر کار -
 السُّوسُ - مفع - طویق سُسُورٌ - چلنے والا
 راستہ - آمد و رفت کی سڑک -
 المَقْبِيْرَةُ - مہم - مسافت - بَيْنَهُمَا
 مَسِيْرَةٌ يَوْمٌ - ان دونوں کے درمیان
 ایک دن کی مسافت ہے -
 المَسِيْرُ - مِنَ الشَّيْبِ - دھاری دار
 کپڑا -
 السَّيْرِيْرُ - تل کاتیل -
 سَيْسٌ لَيْسٌ سَيْسًا - الطَّعَامُ
 گھن گنا -
 سَاسَاةٌ - شرم دلانا - عار دلانا -
 السَّيْسُ - چنبیل کا پودہ -

السَّيْسَاءُ - ریڑھ کی ٹہنی کے جوڑ کا مقام -
 سَيْسَاءُ الظُّهُرِ مِنَ الدَّوَابِّ -
 جانوروں کی پیٹھ کا وہ مقام جہاں سوار
 ہوتے ہیں -
 سَيَّطَرَ سَيَّطْرَةً و تَسَيَّطَرَ - عَلَيْهِمْ
 نگہبان ہونا - نگہبانی کرنا -
 المَسَيَّطَرُ و المَتَسَيَّطَرُ - واروغہ -
 سَاعٌ يَسِيْعُ سَيْعًا و سَيُوعًا - الشَّيْءُ
 ضائع ہونا - (و السَّاعُ و تَسَيَّعُ)
 الماءُ - پانی کا سطح زمین پر اُدھر اُدھر
 بنا - اِنْسَاعُ الجَاوِدُ - جمی ہوئی
 چیز کا پگھل جانا -
 سَيَّعَ - الحَايِطُ بِالطَّيْنِ - دیوار کو
 مٹی سے لیپنا - الشَّيْءُ - کسی چیز پر
 پتلا پتلا تیل وغیرہ ملنا -
 اَسَاعَ - الشَّيْءُ - ضائع کرنا -
 السَّيْعُ - مہم - سطح زمین پر بہنے والا پانی -
 السَّيَّاعُ - گارا جو لپٹائی کے لیے بھوسہ وغیرہ
 سے تیار کیا جائے -
 السَّيْعَاءُ و السَّيْعَاءُ - رات کا حصہ -
 اِلْمَسِيْعَةُ - لپٹائی کرنے کی کرنی - تَاقِدَةٌ
 و سَيَّاعٌ - بچہ کو چھوڑ کر چراگاہ میں
 جانے والی اونٹنی -
 سَاعٌ يَسِيْعُ سَيْفًا - الشَّرَابُ -
 خوشگوار بنانا -
 السَّيْعُ مِنَ الشَّرَابِ - خوشگوار شراب -
 سَاَفَتْ تَسِيْفٌ سَيْفًا - اَلْبِدَا - ناخن
 کے ارد گرد کا بھٹنا -
 سَاَفَهُ يَسِيْفُهُ سَيْفًا - تلوار سے مارنا -
 تَسَيَّفَهُ - تلوار سے مارنا -
 سَاَيْفُوْا و تَسَاَيْفُوْا و اِسْتَاْفُوْا -
 اِسْتِيَاْفَا - آپس میں تلوار سے لڑنا -
 اُسْتِيْفٌ - تلوار سے مارا جانا -
 السَّيْفُ - تلوار - ج - اَسْيَافٌ و سَيُوفٌ
 و اَسْيَفٌ و مَسِيْفَةٌ و د السَّايْفُ -

تلوار سے مسلح - سَيْفُ الْجَبَّارِيْنِ
 ستارے ہیں - سَيْفُ الرِّيَّاحِ - ایک
 قسم کی نبات -
 السَّيْفُ و السَّيْفُ - ایک قسم کی سمندری
 مچھلی جس کی تلوار نما چونچ ہوتی ہے - سمندر
 کا کنارہ - ج - اَسْيَافٌ -
 السَّيْفَانُ - مِنَ الرِّجَالِ - لمبا اور پتلا
 آدمی - مَوْنُتٌ (سَيْفَانَةٌ) - بعض کے
 نزدیک یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے -
 السَّيْفَانُ - شمشیر زن - جلاو - ج - سَيَاْفَةٌ
 رَجُلٌ سَيَاْفٌ - خون بہانے والا آدمی -
 الاَسْيَافُ - آدمیوں کے مسلح گروہ -
 المَسَايِفُ - خشک سال - قحط -
 المَسِيْفُ - تلوار باندھنے والا - تلوار سے مسلح
 بادور - فقیر -
 المَسِيْفُ - مِنَ الدَّرَاهِمِ - وہ درہم
 جس کے کناروں پر نقش نہ ہو - مِنَ
 المَبْرُوْدِ - وہ چادریں جن پر تلوار کا نقش
 ہو یا تلوار کی طرح چوڑی دھاریاں ہوں -
 سَأَلَ رَضًا سَيْلًا و سَيْلَانًا و مَسِيْلًا و
 مَسَالًا - الماءُ - پانی کا بہنا -
 سَأَلَتْ غُرَّةَ الفَرَسِ - گھوڑے کی
 پیشانی کی سفیدی کا لمبا بھٹنا ہونا -
 اَسَأَلَ اِسْأَلَةً و سَيَّلَ تَسِيْلًا - الماءُ
 پانی بہانا - و اَسَأَلَ الجَاوِدَ - جمی
 ہوئی چیز کو گھمیلانا - اَسَأَلَ غَوَاسًا
 النَّصْلُ - لمبا کرنا -
 تَسَائِلُ - القَدَمُ - قوم کا ہر طرف سے آنا -
 السَّائِلَةُ - مِنَ مَخْرَبِ الخَيْلِ - گھوڑے
 کی ناک تک اس کی پیشانی کی سفیدی - ج -
 سَوَائِلٌ -
 السَّيْلُ - مہم - بہنے والا - مَاءٌ سَيْلٌ -
 بہنے والا پانی - السَّيْلُ - سیلاب
 ج - سَيُولٌ -
 السَّيْلَةُ - پانی بہنے کی جگہ - سَأَلَ كَالاسْمِ مَرَّةً

<p>المَسَالُ - مِنَ الْوَجْدِ - دُرْحِي كَاطِلُو. السَّيْمُونِيَّةُ - سِيمُون بَادُو كَرَكِي طَسْرَفِ نَسُوبِ . مَالِ كَيْ ذُرِ يَعِي رُومَانِي بَاتُونِ كَيْ مَاعِلِ كَرْنِي كَا ارَادِي . بَيْتَةُ الْقَوِيْسِ - كَمَانِ كَا سِرَا . ج . بَسِيَاتُ .</p>	<p>واحد (سَيَالَةٌ) السِّيَالُ - زور سے بننے والا . مؤنث . سَيَالَةٌ . مَيِيلُ - المَاءِ - پانی بننے کی جگہ . ج . مَسَائِلُ - وَمَثَلُ وَأَمِيلَةٌ وَ مُتَلَانُ .</p>	<p>السِّيَلَةُ - پانی کا سیاہ . السِّيَالَانُ - ایک قیمتی پتھر . میان میں رہنے والا توار کا حصہ . ج . سَيَالِيْنُ . السَّوَائِلُ - مِنَ الْمَعَاوِينِ وَغَيْرِهَا . بننے والی دعائیں جیسے پارہ . السِّيَالُ - ایک سفید لہجے کا نٹوں والا پودہ</p>
--	---	---

ش

<p>نامبارک و منحوس ہونا . شَاءَ مَهْرًا - ملک شام کی طرف روانہ کرنا . شَاءَمَ مُشَاءَمَةً - یہ . بائیں طرف لینا . الرَّجُلُ - ملک شام میں آنا . أَشَاءَمَ - ملک شام میں آنا یا اس کا ارادہ کرنا اکر کر چلنا . تَشَاءَمَ وَتَشَاءَمَ - ملک شام کی طرف منسوب ہونا . بائیں طرف ہونا . تَشَاءَمَ وَاسْتَشَاءَمَ - یہ . بدشگونی لینا . الشُّؤْمُ - بدشگونی . سیاہ اونٹ . الشَّامُ وَالشَّامُ - ملک شام . الشَّامِيُّ وَالشَّامِيُّ وَالشَّامِيُّ - ملک شام کا رہنے والا . الشَّامَةُ وَالْمَشَامَةُ - نخوت . بے برکتی بایاں پہلو . الشَّيْمَةُ وَالشَّيْمَةُ - خن . فطرت . عادت . ج . شَيْمًا . الْأَشْمُ - اسم تفضیل . بدبختی لانے والا . ج . أَشَائِمًا - مؤنث شَائِمًا . الْمَشُومُ وَالْمَشُومُ - نامبارک . نخوت والا . ج . مَشَائِمًا . شَانُ رَفٍ ، شَانَا - قدم و منزلت والا ہونا . شَانُ شَانَكَ - اس نے تمہارے قدم جیسا قصد کیا . مَا شَانُ شَانَكَ ؛ اس نے تمہارے معاملہ کی کچھ پروا نہیں</p>	<p>الشَّامُ - بڑی قسم کی کھجور . کھجور کے لہجے درخت . شَيْفَتُ رَسٍ ، شَاقًا - الرَّجُلُ - آبلہ پڑنا . صفت (مَشُوفَةٌ) - شَيْفَتُ أَصَابِعُهُ - ناخنوں کے ارد گرد پھٹنا . (- شَاقًا وَشَاقًا) فَلَانًا وَفِلَانًا بعض رکھنا . شَيْفَتُ - خوفزدہ ہونا . ڈرا یا جانا . صفت . (مَشُوفٌ) شَيْفَتُ الرَّجُلُ - آبلہ پڑنا . اسْتَشَاءَتِ - الْفَرْحَةُ - ناسور کا خراب ہو کر بڑھ پکڑنا . شَافٌ - الْجَوْجُ - زخم کی خرابی . الشَّاقَةُ - بڑا . تلے کا زخم . کہتے ہیں اسْتَأْصَلَ شَاقَةً . اس نے اسے بڑے کھودیا . وَبَيْنَهُمْ شَاقَةٌ ان کے درمیان دشمنی ہے . وَاسْتَأْصَلَ اللَّهُ شَاقَتَهُمُ - اللہ تعالیٰ ان کی عداوت و اذیت کو بڑے مٹا ڈالے فَاقَةُ الرَّجُلِ - آدمی کے اہل و عیال اور مال . رَجُلٌ شَاقَةٌ - معزز و بلند ترتیب شخص شَاقٌ - رَفٍ ، شَاقًا - الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ نخوت ڈالنا . صفت (شَاقَةٌ) شُومٌ رَكٌ ، شَامَةٌ وَشَيْمَةٌ - عَلَيْهِمْ</p>	<p>الشُّؤْمُ - بارش کی بوجھاڑ . صوبہ کی تیزی و شدت ، ہر چیز کی حد . حُسْنُ كَا آغاز . شُؤْرَسٌ ، شَازٌ وَشُؤْرَةٌ وَشُؤْرًا - الْمَكَانُ - جگہ کا سخت و ناہموار ہونا . صفت (شَازٌ وَشُؤْرٌ) (- وَشُؤْرٌ) بے آرام ہونا . ڈرنا . أَشَازَةٌ - بے آرام کرنا . ڈرانا . أَشَازَ الرَّجُلُ عَنِ كَذَا - بلند ہونا . لِاسْتِئْزَارٍ - بدکنا . ڈر کر بھاگنا . الْمَشَازَةُ - فریب گھوڑا . الْمَشُورُ وَالْمَشُورِيُّ - بقرار . خوفزدہ . شَيْسٌ رَسٍ ، شَيْسًا - الشَّوْحُ سخت ہونا . - الرَّجُلُ غَمٌ يَابِئِيٌّ سَ بَ بَ بَ بَ بَ - الْمَكَانُ - کسی جگہ کا سخت و پتھری ہونا . مَكَانٌ رَشَاسٌ وَشَيْسٌ ، سخت و پتھری جگہ . ج . شَيْسٌ وَشُؤْرٌ . شَاشًا شَاشًا شَاشًا وَشَاشًا - الرَّاعِي الْعَلَمَ أَوْ الْحَمِيدِيَّ وَجَمًا - چرواہے کا بکریوں یا گدھوں کو شَاشًا يَاشُؤُ شُؤُ كَمَا كَرَّمْنَا - الْعَلَمَةَ كَهَجْرَةَ درخت کا بار آور نہ ہونا ، اس میں گامھا نہ لگنا . تَشَاشًا - الْقَوْمُ - قوم کا متفرق ہونا . بھڑنا . أَمْرُهُمْ - واضح ہونا .</p>
--	--	--

کی۔ "وَأَشَانُ شَأْنِكَ" اپنی حالت

پر ہو۔

زَشْتَانٌ - شَأْنُكَ - کسی کے ارادہ کی طرح

ارادہ کرنا۔

الشَّانُ - ج شُوُونٌ و شِيَانٌ و شِيِيْنٌ

بڑے بڑے امور و احوال۔ معالجہ۔

مالت۔ - مِنْ شَأْنِهِ كَذَا - اذَانٌ

يَفْعَلُ كَذَا - ایسا کرنا اس کی فطرت

و طبیعت سے ہے۔ - وَمَا شَأْنُكَ -

تمہارا کیا حال ہے۔ یا تمہارا کیا کام ہے

ج۔ شُوُونٌ و شُوُونٌ - کھوپری کا

جوڑ یا درز۔ پہاڑ کی مٹی جس میں درخت

اگیں۔ ج۔ شُوُونٌ و آشُوُونٌ -

آنسوؤں کی رگ۔ الشُوُونُ - حواج

مذوریات۔ - كَلَّفَنِي شُوُونَكَ - اپنی

خدمات میرے سپرد کرو۔ شُوُونٌ

الخَمِيرِ - شراب کارگوں میں اثر۔

شَأْيٌ يَشُوُوُ شَأْوًا و اشْتَأَى -

اشْتِيَاءً - القوم - آگے بڑھنا۔

سبقت لے جانا۔ شَأْيٌ التَّرَابِ مِنْ

البَيْتِ - کنوس سے مٹی نکالنا۔

شَاءَ شَيْءًا آخًا - القوم - آگے بڑھنا۔

آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔

تَشَاءَى تَشَائِيًّا - القوم - ایک دوسرے

سے آگے بڑھنا۔ متفرق ہونا۔ تَشَاءَى

مَا بَيْنَهُمَا - ایک دوسرے سے

فاصلہ پر ہونا۔

الشَّوُّ - مع۔ مدت غایت۔ فُلَانٌ

بَعِيدٌ الشَّوُّ - فلاں بلند ہمت آدمی

ہے۔ - عَدَا شَأْوًا - وہ ایک دوڑ

دوڑا۔

الشَّوُّ - اونٹنی کی مہار۔ اونٹنی کی بیٹگیاں۔

ٹوکری۔ کنوس کی نکلی ہوئی مٹی۔

الشَّوُّ - کنوس کا کیمڑ۔ ٹوکری۔ ج۔

المَشَائِي -

شَبَّ رَمَضٌ، شَبَابًا و شَبِيْبَةً - الغَلَامُ -

لڑکے کا جوان ہونا۔ - مِنْ شَبَّ إِلَى

دَبَّ - جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔

شَبَّ رَمَضٌ، شَبِيْبًا و شَبَابًا و شَبُوْبًا -

الْفَرَسُ - گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو

اٹھانا۔ نشاط میں ہونا۔

شَبَّ (ن) شَبًّا و شَبُوْبًا - النَّارُ - آگ

روشن کرنا۔ - شَبَّتِ النَّارُ - آگ

کا روشن ہونا۔ - الشَّيْءُ - کسی چیز کا بلند

ہونا۔ بڑھنا۔

شَبَّ (ب) - الشَّيْءُ - زیادہ کیا جانا۔ بلند کیا جانا

شَبَّتِ النَّارُ - روشن ہونا۔ - شَبَّ

لَهُ الشَّيْءُ - کسی چیز کا اللہ کی طرف

سے مقدر کیا جانا۔

شَبَّبَ و تَشَبَّبَ - جوانی اور کھیل کود کے

ایام کا ذکر کرنا۔ - الشَّاعِرُ بِالْفَتَاةِ -

عورتوں کے محاسن کو بیان کرنا۔

شَبَّبَ - قَهِيْدَةٌ - عورتوں کے ذکر سے

قصیدہ کو مزین کرنا۔ مدحیہ قصائد کے

شروع میں تشبیہ کا رواج تھا، مگر پھر

برہمچری کی ابتدا کو تشبیہ کہنے لگے۔

شَبَّبَ الْكِتَابَ - کتاب شروع کرنا

أَشَبَّ - الغَلَامُ - لڑکے کا جوان ہونا۔

الرَّجُلُ - کسی کا جوان اولاد والا ہونا۔

- اللُّهُ الغَلَامَ - لڑکے کو جوان کرنا

- الفَرَسُ - گھوڑے کو اکسانا۔

الشَّوْرُ - بیل کا بوڑھا ہونا۔ صفت۔

رُمِيْبٌ و مُشَبٌّ و مِشَبٌّ و

شَبَبٌ

أَشَبَّ - کہہ گذا۔ مقدر کیا جانا۔

أَشَبَّ - رمض، پشکری سے مشابہ ایک

کافی نمک۔ جوان۔

الشَّبَابُ و الشَّبِيْبَةُ - مع۔ جوانی۔

سین بلوغ سے تیس برس کی عمر تک کا

زمانہ۔ یہ چیز کا اول۔ - شَبَابٌ

التَّهَارُ - دن کی ابتدا۔ - شَبِيْبَةٌ

کی جمع شَبَابِيْبٌ - ہے۔

المَشْبُوْبُ - خوبصورت بنانے والا۔ آراستہ

کرنے والا۔ - هَذَا شَبُوْبٌ لِكَذَا - یہ

اس کی قوت اور حسن کو بڑھاتا ہے۔

(- والشَّبَابُ) - ایندھن۔

الشَّبَابَةُ - ہانسی۔ (مولا)

الشَّابُّ و الشَّبُّ - جوان۔ ج۔ شَبَابٌ

و شَبَانٌ و شَبِيْبَةٌ - مَوْنٌ شَابَةٌ

و شَبَّةٌ - ج۔ شَابَاتٌ و شَبَاتٌ

و شَوَابٌ و شَبَابِيْبٌ -

المِشَبُّ - شیر۔ المَشْبُوْبُ - مِنْ

الرِّجَالِ - تیز خاطر شخص۔ - نَارٌ

مَشْبُوْبَةٌ - بھڑکتی ہوئی آگ۔

الشَّبِيْبَةُ - سوکے کا ساگ۔

شَبَّبَتْ رَسًا، شَبَّأ و تَشَبَّتْ - بِكَذَا

چھٹنا۔ متعلق ہونا۔ - رَجُلٌ شَبَّشَةٌ

اپنے دشمن سے چھٹنے والا۔

المِشَبُّ - ایک سبزی۔ المِشَبُّ - کڑی

بہت ٹانگوں والا ایک کپڑا۔ ج۔

أَشْبَاتٌ و هَبَّتَانٌ -

الشَّبَاتُ و الشَّبُوْتُ - ج۔ شَبَابِيْبَةٌ -

مڑے ہوئے سب سے والی میخ۔

شَبَّ (ن) كَهْمَجًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا۔

چیرنا۔ - الْجِلْدُ كَهْمَجِيْنٌ كَمَا كَانَتْ

جھڑے کو تاننا۔ - الْوَجْلُ كَهْمِيْنًا -

الذَّارِي - دھلکے لیے ہاتھ پھیلانا۔

فُلَانٌ - سیدھا کھڑا ہونا۔

شَبَّ (ن) شَبَّكَهً - لمبے چوڑے

بازوؤں والا۔

شَبَّحَ - بوڑھا ہو کر کمزوری نظر کے باعث

ایک چیز کو دو دیکھنا۔ - الشَّيْءُ -

چھیلنا۔ چوڑا کرنا۔

تَشَبَّحَ - الْجَوْبَاءُ عَلَى الْعَوْدِ - گرگٹ

کا لکڑی پر دراز ہونا۔

<p>الشَّبَعَانُ - حکم سیر - مؤنث - شَبَعِيٌّ وَ شَبَعَانَةٌ - ج - شَبَاعٌ - وَ شَبَاعِيٌّ هِيَ شَبَعِيٌّ الذَّرَاعُ - وَ مَوْتُهُ بَارُوَ وَآلِيٌّ هُوَ - شَبَعِيٌّ الرَّخْلُ خَالٍ أَوْ السَّوَارِ أَوْ الدِّرْعُ - مؤنث - فرب - الشَّبِيْعُ - سیر بکثرت - رَجُلٌ شَبِيْعٌ الْعَقْلُ - بہت عقل والا - ثوبٌ شَبِيْعٌ الْعَزْلُ - بہت سوت والا - کپڑا - حَبْلٌ شَبِيْعٌ - کئی لڑیوں والا رسی - شَبِيْعٌ دس شَبَقًا - بہت شہوت والا ہونا - صفت (شَبِيْعِيٌّ) مؤنث - (شَبِيْقَةٌ) - مِّنَ اللَّحْمِ - گوشت سے بد معنی ہونا - الشُّوْبِقُ - فارسی - بیلن - ج - شَوَابِقُ شَبَكَةٌ رَمِيٌّ شَبَكًا - اُمُورٌ - امور کا پیچیدہ ہونا - شَبَكَةٌ عِنْدَهُ - غافل کر دینا - شَبَكٌ وَ شَبَكٌ - الشَّيْءُ - ایک دوسرے میں داخل کرنا - مَلَانًا - أَشْبَكَ - القَوْمُ - نزدیک نزدیک کنویں کھودنا - أَشْبَكَ الْمَكَانَ - قریب کنویں والی ہونا - شَابَكَ - بَيْنَ الْأَصَابِعِ - انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا - تَشَابَكَتْ - الْأُمُورُ - امور کا پیچیدہ ہونا باہم مختلط ہونا - لَشَبَكَتْ وَ تَشَبَكَتْ - مختلط ہونا - پیچیدہ ہونا - الجھا ہوا ہونا - الْعَبَكَةُ - شکاری کا جال - الشَّبَكَةُ - بہت کنویں والی زمین - نزدیک نزدیک بہت سے کنویں - الشَّبَكَةُ - قرابت - طَرِيقٌ شَابَكَ شَكِيٌّ أَوْ عَجِيْدَةٌ رَاسَةٌ - ج - شَوَابِكُ الشَّبَاكُ - جال بنانے والا -</p>	<p>الدَّابَّةُ فِي مَشِيهَا - جانور کا چلنے میں کشادہ کشادہ قدم رکھنا - المَبَايِ الصَّيْدَ - شکرہ کا اپنے شکار کو جیر پھاڑ ڈالنا - الشَّبَارِقُ وَ الشَّبَارِقُ - لُزَّةٌ - ثَوْبٌ شَبَارِقٌ وَ شَبَارِقٌ وَ شَبَارِقٌ وَ شَبَرَقٌ وَ شَبَرَقٌ - لُزَّةٌ لُزَّةٌ کیا ہوا کپڑا - الشَّبَرِقُ - بلی کا بچہ - ج - شَبَارِقُ الشَّبَرِقَةُ - کپڑے کا قطعہ - الشَّبَرَقُ - ہر شے کی شدت - تَشْبِيْصٌ - الشَّجَرُ - درخت کا گنجان ہونا - الشَّبِيْصُ - خُشُوْنَتٌ - درخت کے کانٹوں کا ایک دوسرے سے الجھا ہوا ہونا - الشَّبَاكُ - ماہ فوری - الشَّبُوْطُ وَ الشَّبُوْطُ - الشَّبُوْطُ - ایک قسم کی مچھلی جس کا سر چھوٹا اور بدن چوڑا ہوتا ہے - ج - شَبَابِيْطٌ - شَبَعٌ دس، شَبَعًا وَ شَبَعًا - مِّنَ الطَّعَامِ - سیر ہونا - شَبَعْتُ مِّنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ لَوِيْتُ - میں اس امر سے اکتا گیا - شَبَعْتُ رَكَّ، شَبَاعَةٌ - عَقْلَةٌ - بڑا عقلمند اور سنجیدہ ہونا - شَبَعْتُ - غَمَةٌ - سیر ہونے کے قریب ہونا أَشْبَعْتُ - کھانے سے سیر کرانا - الشَّيْءُ بَرَّحَانًا - الثَّوْبُ مِنَ الصَّبِيْعِ کپڑے کو رنگنا - الْكَلَامُ - کُلُّ أَوْدٍ پورا کلام کرنا - تَشَبَعٌ - سیر ہونے کا بہانہ کرنا - بہت کھانا - الشَّبِيْعُ وَ الشَّبِيْعُ - اس قدر کھانا جو سیر کرنے الشَّبَاعَةُ - سیری کے بعد چلنے والا کھانا - الشَّبَعَةُ - کھانے کی مقدار جو ایک بار سیر کر دے -</p>	<p>الشَّبِيْعُ وَ الشَّبِيْعُ - شخص - وَ هُوَ - بَدُوٌ بِالْأَدْوَانِ - ج - شَبُوْمٌ وَ أَشْبَاحٌ - أَشْبَاحُ الْمَالِ - نظر آنے والا مال - مَثَلًا أَوْ نَكْبَرِيٍّ وَ غَيْرِهِ - الشَّبِيْحَةُ - اسم مرآة - چھت کی لکڑی - گھوڑے کی ٹانگیں باندھنے کی رسی - الشَّبِيْحَانُ - لَبَا - الشَّبِيْعُ - وَ الشَّبِيْعُ حَوَالِ الشَّبِيْعَةِ - بچھو مہیت - ج - شَبَاعٌ - شَبَرْدَنٌ مِّنْ شَبَرًا - الثَّوْبُ - بالشت سے ناپنا - شَبْرَةٌ مَالًا - مال دینا - شَبَرْدَسٌ، شَبَرًا - الرَّجُلُ - اِكْرَانًا - اِترانا - شَبَرٌ - الشَّيْءُ - اندازہ کرنا - فَلَانًا تَعْلِيْمٌ كَرَانًا - أَشَبَرٌ - فَلَانًا - فَضِيْلَتٌ دِيْنَا - هُوَ مَالًا كَسَى كُوْمَالٌ دِيْنَا - الرَّجُلُ - دِرَازٌ قَامَتُ بِيْطُوْنٌ وَآلَا هُوْنَا - كُوْتَاهُ قَدِيْطُوْنٌ وَآلَا هُوْنَا - تَشَابَرٌ - الْفَرِيْقَانِ فِي الْحَرْبِ - جَمْعٌ فِيْهِ وَآلَا هُوْنَا - كُوْتَاهُ تَعْلِيْمٌ هُوْنَا - الشَّبَرُ - مَم - مَم - شَادِيٌّ، عَمْرٌ - قَد - الشَّبَرُ - عَمْرٌ - بالشت - ج - أَشْبَارٌ - هُوَ قَصِيْرٌ الشَّبَرُ - وَهُوَ زَوِيْكٌ زَوِيْكٌ قَدَمٌ رَكْنٌ وَآلَا هُوْنَا - الشَّبَرُ - عَطِيَّةٌ - خَيْرٌ - الشَّبَرَةُ - قَد - الشَّبَرَةُ - عَطِيَّةٌ - الشَّبَرُ - بَكْلٌ - ج - شَبَابِيْتُ وَ شَبُوْرَاتٌ دَجْرَانِيٌّ - الْأَشْبَارُ - الْكَلَامُ - الشَّبَابِيْتُ - الشَّبِيْعُ وَ الشَّبِيْعُ - اس قدر کھانا جو سیر کرنے الشَّبَاعَةُ - سیری کے بعد چلنے والا کھانا - الشَّبَعَةُ - کھانے کی مقدار جو ایک بار سیر کر دے -</p>
---	---	--

الشَّبَاكُ - جالی دار کھڑکی۔ کھڑکی۔ ج۔
 شَبَايِكُ - جالی۔ شکاری لوگ۔
 الشَّبَايِكُ - جھگڑے۔
 الْمُشْبِكُ - ایک قسم کا کھانا۔
 شَبَلٌ (ر) شَبُولٌ - الغلامُ - لڑکے کا ناز و
 نعمت میں پلنا۔ بڑھنا۔ صفت۔ شَابِلٌ
 - فی بَنِي فَلَانٍ - پرورش پانا۔
 أَشْبَلٌ - عَلِيٌّ - کسی پر شفقت کرنا اور اس
 کی مدد کرنا۔ أَشْبَلْتُ الْمَوَاقِفَ
 عَلَى أَوْلَادِهَا - عورت کا خاوند مرنے
 کے بعد بچوں کی نگرانی کرنا اور نکاح نہ
 کرنا۔
 الشَّبَلُ - شیر کا بچہ جب شکار کرنے کے
 قابل ہو۔ ج۔ أَشْبَالٌ وَيَشْبَالٌ وَ
 أَشْبِلٌ وَشَبُولٌ - أَبْوَالُ أَشْبَالٍ -
 شیر۔ لَبْوَةٌ مُشْبِيلٌ - بچوں والی
 شینی۔
 شَبَمَ (ر) شَبَمًا وَشَبَمَ - الْجَدَى -
 بکری کے بچے کے منہ میں تھوٹنی لگانا۔
 شَبَمَ (س) شَبَمًا - الْمَاءُ - پانی ٹھنڈا
 ہونا۔ الشَّبَمُ - سردی۔
 الشَّبِيمُ - صبح و شام یا بھوک کے ساتھ صبح
 و شام۔ مَوْتٌ وَشَبِيمَةٌ - ہتھیار۔
 زہر۔ موت۔
 الشَّبَامُ وَالشَّبِيمُ - وہ لکڑی جو بکری کے
 بچے کے منہ میں لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ
 دودھ نہ پی سکے۔ الشَّبَامُ - عورتوں کے
 برقع میں دو ڈوریوں جن کو وہ گدی پر
 باندھ لیتی ہیں۔
 الْمُشْبِيْمُ - تھوٹنی۔ باندھا ہوا بکری کا بچہ،
 بھوکا۔
 شَبَنَ (ر) شَبْنًا - الغلامُ - لڑکے کا
 نازک بدن اور ہلکے شت ہونا و۔
 شَبُونًا، الشَّيْءُ قَرِيبٌ وَزَوِيكٌ هُونًا -
 الشَّابِنُ - مِنَ الْغُلَمَانِ - نازک بدن پر

گوشت لڑکا۔
 الشَّيْبِيُّ وَالشَّيْبِيُّ - دو لہا کا خدمتگار۔
 وَشَيْبِنَةٌ وَشَيْبِنَةٌ - دامن کی
 خدمتگار (سریانی)
 الشَّبَائِيُّ وَالْأَشْبَائِيُّ وَالشَّبَائِيُّ - سرخ
 پھرے اور مونچھوں والا۔
 كَشْبَهَةٌ - آيَةٌ وَشَبَهَةٌ - یہ۔ تشبیہ
 دینا۔ مانند ٹھہرانا۔
 شَبَّهَ - عَلَيْهِ الْأَمْرُ - مشتبہ کرنا شک
 میں ڈالنا۔ شَبَّهَ الشَّيْءَ بِمِثْلِهِ هُونًا -
 شَبَّهَ - عَلَيْهِ الْأَمْرُ - کسی پر کوئی معاملہ
 مشتبہ ہونا۔
 أَشْبَهَهُ وَشَبَّهَهُ - مانند ہونا۔ مشابہ
 ہونا۔ أَشْبَهَ فَلَانٌ أُمَّةً - فلان اپنی
 ماں کے مشابہ ہے یعنی عورت کی طرح
 عاجز و کمزور ہے۔
 تَشَبَّهَ - یہ۔ نقل کرنا۔ مانند ہونا۔
 تَشَابَهَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے
 کے مانند ہونا۔ الْأَمْرُ - کسی امر کا
 تشابہ غیر محکم ہونا۔
 إِشْتَبَهَا - ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔
 إِشْتَبَهَ فِي الْأَمْرِ - کسی امر کے
 متعلق شک میں ہونا۔ اس کی صحت میں
 شک کرنا۔ الْأَمْرَ عَلَيْهِ - پوشیدہ
 ہونا۔ مشتبہ ہونا۔
 الشَّبِيهُ وَالشَّبِيهُ - مثل، مانند۔ ج۔
 أَشْبَاهٌ وَمَشَابِيهٌ - أَشْبَهَ
 مَشَابِهَتٌ - الشَّبِيهُ وَالشَّبِيهُ
 وَالشَّبَاهَانُ - وَالشَّبَاهَانُ - پتیل۔
 الشَّبِيهَةُ - مثل، شک، التباس، غیر یقینی،
 جس میں حق و باطل یا حرام و حلال میں
 تیز نہ ہو سکے۔ ج۔
 الشَّبِيهَةُ - ایک جیسے، مثل۔ ج۔ شَبَاهَةٌ -
 الْمُشْبِيهَةُ وَالْمُشْبِيهَةُ - مِنَ الْأُمُورِ - مشکل
 یا مشکل بات۔ آيَاتُكَ وَالْمُشْبِهَاتُ

مشکل امور سے خود کو بچانا۔
 شَبَايَشَبُو شَبَوًا - الشَّيْءُ - بلند ہونا۔
 الغرض۔ گھوڑے کا دو ٹانگوں پر کھڑا
 ہونا۔ الْوَجْهُ - چہرہ کا تغیر کے بعد
 چمکانا۔ النَّارُ - آگ جلانا۔ روشن کرنا۔
 أَشْبَى إِشْبَاءً - السَّوْجُلُ - دینا۔
 عَلَيْهِ مِرْبَانٌ أَوْ شَفِيقٌ هُونًا - ہ
 اکرام و تعظیم کرنا۔ معصیت میں ڈالنا۔
 الشَّجَرُ - و رخت کا لہا اور الجھا ہوا
 ہونا۔ الشَّيْءُ - ہٹانا۔ الرَّجُلُ -
 ذہین بچل والا ہونا۔ صفت (مُشْبِيٌّ وَ
 مُشْبِيٌّ، الْأَوْلَادُ أَبَاهُمْ - اولاد
 کا اپنے باپ کے مشابہ ہونا۔
 الشَّبَاةُ - نوزائیدہ بچھو یا زرد بچھو۔ دو
 ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ مِنَ
 السَّيْفِ - تلوار کی دھار۔ بچھو کا ڈنک۔
 ہر چیز کی حد۔ ج۔ شَبَا وَشَبَوَاتٌ -
 بیوقوف آدمی۔
 الشَّبَوُ - دکان، تکلیف۔
 الشَّبَوَةُ - بچھو کا علم جنس۔ جَارِيَةٌ
 شَبَوَةٌ - دلیر جوان عورت۔
 شَتَّ (ر) شَتًّا وَشَتَاتًا وَشَيْتًا -
 پراگندہ ہونا۔ متفرق ہونا۔ وَشَتَّتَادُ
 أَشَّتْ، الْأَشْيَاءُ - متفرق کرنا بکیرنا
 "أَشَّتْ بَنِي قَوْمِي" - میری قوم نے
 میرے کاموں کو بکیر کیا۔
 لَشَّتَتْ وَالشَّتَاتُ اسْتَشَّتْ - الشَّمْلُ
 بکیرنا۔ متفرق ہونا۔
 الشَّتَاتُ - پراگندگی۔ ج۔ أَشَّتَاتٌ -
 جَاءُوا أَشَّتَاتًا - جَاءُوا أَشَّتَاتٌ
 وَشَّتَاتٌ - وہ متفرق متفرق آئے۔
 شَّتَانٌ - اسم فعل، یعنی بَعْدَ (دور ہوا)
 کہتے ہیں: شَّتَانٌ بَيْنَهُمَا وَمَا
 بَيْنَهُمَا وَمَا زَيْدٌ وَأَخُوهُ - ان
 دونوں کے درمیان کس قدر بعد ہے۔

الشَّيْبَةُ - مع. متفرق. بکرا ہوا۔ جر۔
 شقی - وَاَناسٌ شَقِيٌّ وَشَقِيوَتْ -
 مختلف نسل کے لوگ۔
 شَقْرَدَنٌ (ض) شَقْرًا - الشَّقِيءُ - کاٹنا۔
 ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الرَّجُلُ - زخمی
 کرنا۔ الْعَيْنُ - پلک اٹھانا۔
 شَقْرَدَسٌ (س) شَقْرًا - کٹنا، نیچے کا ہونٹ
 پھٹا ہوا ہونا۔ یہ۔ گالی دینا۔ د۔
 دَشِيْرٌ (ط) پٹی ہوئی پلوں والا ہونا، یا
 نیچے کی پلک کا ڈھیلا ہونا۔
 شَقْرٌ - عَيْنَةٌ - پلک اٹھانا۔
 گالی دینا، نکتہ چینی کرنا۔ بری باتیں سنانا۔
 اُنشَرَتْ - عَيْنُهُ - آنکھ کا الٹی ہونی
 پلک والی ہونا۔
 الشَّقْرُ - مع. قطع و برید۔ پلوں کا ٹاؤ
 عیب و نقص۔
 الشَّقْرَةُ - دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔
 الشَّقِيْرُ - بڑا عیب دار اور شری۔ بد خلق۔
 الرَّشَقْرُ - پٹی ہوئی یا پھی ہوئی پلک والا۔ نیچے
 کی ڈھیلی پلک والا۔ نیچے کے پھٹے ہونٹ
 والا۔ مَوْنَتْ (شَقْرًا) - جر۔ شَقْرٌ -
 شَتَعٌ (س) شَتَعًا - بیماری یا بھوک سے
 گھبرا اٹھنا۔
 شَتَعَهُ (د) شَتَعًا - روندنا۔ ذلیل کرنا۔
 اَشْتَعَهُ - تلخ کرنا۔ المَسَاتِعُ - ہلاکتیں۔
 شَتَمَهُ (ن) ض) شَتْمًا وَمَشْتَمَةٌ وَ
 مَشْتَمَةٌ وَمَشْتَمَةٌ - وَتَسَامًا -
 گالی دینا۔ د۔ شَتْمًا (گالی دینے میں
 غالب ہونا۔
 شَتَمَ (د) شَتَامَةً - بد رو ہونا۔ کریمہ
 النظر ہونا۔ صفت (شَتِيْمٌ)
 شَتْمَةٌ - بہت گالی دینا۔ شَتَامَةٌ - باہم
 گالی گلوں کرنا۔
 شَتَاقَةٌ - القَوْمُ - ایک دوسرے کو گالی دینا
 لَشْتَمَ - گالی کا مستحق بننا۔

الشَّتَامَةُ - مع۔ بدن کو دشمن اور بد روئی۔
 الشَّتِيْمَةُ - گالی۔ جر۔ شَتَايْمٌ -
 الشَّتَامُ وَالشَّتَامَةُ - بڑے بڑے والا۔ بد خلق
 الشَّتَامُ وَالشَّتَامَةُ - گالی دینے کا عادی۔
 بہت دشنام دینے والا۔ الشَّتَامَةُ
 غضب ناک شیر۔
 شَتَايَشْتُوْا شَتَاوِشْتِي تَشْتِيَةٌ وَ
 تَشْتِي تَشْتِيًا - پالبلدا۔ کسی شہر
 میں موسم سرما گزارنا۔ شَتَاوِشْتِي
 - المکان۔ کسی جگہ سردی کے موسم میں
 ٹھہرنا۔ شَتَاہ - موسم سرما کے لیے
 کافی ہونا۔
 شَتَايَشْتُوْا شَتَاوِشْتِي وَاشْتِي -
 القَوْمُ - موسم سرما میں داخل ہونا۔ سردی
 کے موسم میں خشک سالی کی مصیبت
 جھیلنا۔ "هَذَا شَيْءٌ يَشْتِيْبِي" - یہ
 موسم سرما میں میرے لیے کافی ہے۔
 شَتَا الشَّتَاءُ - سردی پڑنا۔ مَشَاتِي
 مَشَاتَاةٌ - وِشْتَاءٌ - الرَّجُلُ - موسم
 سرما کے لیے معاملہ کرنا۔
 الشَّتَاءُ - مع۔ سردی کا موسم۔ جر۔
 اَشْتِيَةٌ وَشَقِيٌّ - نسبت کے
 لیے شَتِيٌّ وَشَتِيوِيٌّ -
 الشَّتِيوِيٌّ - موسم سرما کی بارش، ہوا میں۔
 فَكَاهَةٌ الشَّتَاءِ - آگ۔
 الشَّتَاءُ وَالشَّتَا - قَطْرٌ - الشَّتَاةُ وَ
 الشَّتَوَةُ - جاڑا۔ صاحب الشتوہ
 وہ شخص جس کے پاس جاڑے کے موسم
 میں پناہ ملے۔
 الشَّتِيٌّ - ہوا میں۔ جاڑے کی بارش۔
 المَشْتِي وَالْمَشْتَاةُ - جاڑے کا موسم یا
 جاڑے کی جگہ۔ سرما کے ایام گزارنے
 کی جگہ۔ جر۔ المَشَاتِي - ہڈیہ۔
 مَشَاتِيْنَا وَمَصَايِفْنَا وَمَرَايِفْنَا -
 یہ ہماری سردی گرمی ہمارے گزارنے کی

جگہیں ہیں۔
 الشَّتُّ - چھوٹے سبب کی طرح کا کڑے مزے
 کا ایک درخت ہے جس کے پتے چمڑا
 رنگنے کے کام میں آتے ہیں۔ جنگلی اخروٹ
 بہت زیادہ تعداد۔ شہد کی مکھیاں۔ پار
 کی چوٹی کا کنگرہ۔ جر۔ يَشْتَاتُ - واحد
 (الشَّتَّةُ)
 شَعْبُوْتٌ (س) شَعْرًا - عَيْنَةٌ - آنکھ موٹی
 ہونا۔ الشَّيْرُ - پار کی چوٹی۔ جر
 شَعْرٌ -
 شَعْلَتٌ (س) شَعْلًا وَشَعْلَتٌ (د)
 شَعْلَةٌ - آصَابِعُهُ - انگلیوں کا
 کھردری اور موٹی ہونا۔ شَعْلٌ
 الأَصَابِعِ - موٹی انگلیوں والا۔
 شَجَرٌ (ن) ض) شَجَا - الرَّأْسُ - سر زخمی
 کرنا۔ تَوْرَانَا - کہتے ہیں۔ فُلَانٌ يَشَجُرُ
 مَرَّةً وَيَأْسُوْ مَرَّةً - فلاں کبھی غلطی کرتا
 ہے اور کبھی ٹھیک کرتا ہے۔
 شَجْرٌ - المَفَاةُ - بیابان طے کرنا۔
 المَرْكَبُ البَحْرُ - جہاز کا سمندر کو پھرنا۔
 - الشَّرَابُ بالمَاءِ - پانی پلانا۔
 شَجْرُ الأَرْضِ يَدْرَجِلِيْمٌ - سواری کو
 بہت تیز چلایا۔
 شَجْرٌ (س) شَجْرًا - زخمی سرو والا ہونا۔ سر میں
 زخم کے نشان والا ہونا۔ صفت۔
 (أَشَجْرٌ وَشَجِيْبٌ) - جر۔ شَجِيٌّ وَ
 (مَشَجُوْبٌ وَمَشَجَبٌ)
 الشَّجِيْبُ وَالْمَشَجَبُ - کھوٹی۔
 شَجْبَةٌ - سر کو بہت زخمی کرنا۔ شَجْبَةٌ
 عَلَى الأَمْرِ - پختہ ارادہ کرنا۔
 شَاخِرٌ مُتَاجِرٌ وَشَجَاوٌ شَاخِرٌ -
 القَوْمُ - ایک دوسرے کے سر کو زخمی کرنا۔
 الشَّجَابُ - ہوا۔
 الشَّجْبَةُ - سر کا زخم۔ جر۔ شَجَابُ -
 الشَّجْبُ - پشیمانی میں زخم کا نشان۔ الشَّجَابُ

سرکوبت زخمی کرنے والا۔
 شَجَبَةُ (ن) شَجَبًا۔ ہلاک کرنا۔ غمگین کرنا۔
 کینچ کر مشغول کرنا۔ کہتے ہیں: إِنَّكَ
 لَتَشْجِبُنِي عَنْ حَاجَتِي۔
 شَجَبَ (ن) شَجَبًا وَشَجُوبًا وَشَجِبَ
 (س) شَجَبًا۔ ہلاک کرنا۔ مر جانا۔ غمگین
 ہونا۔ صفت (شَجِبَ وَشَجِبَ)
 الشَّيْءُ۔ جانا۔
 شَجَبَ (ن) شَجَبِيًّا۔ الغُرَابُ۔ کوئے
 کا جدائی کی خبر دینا۔
 أَشْجَبَ (ن) غمگین کرنا۔ تَشَجَبَ۔ الشَّيْءُ
 لِمَلْجَانًا۔ آپس میں مخلوط ہونا۔
 تَشَجَبَ غمگین ہونا۔
 الشَّجَبُ۔ مع۔ حاجت، غم، گھر کا ستون
 مشک کا بنایا ہوا ڈول۔ ج۔ شَجُوبٌ
 وَاشْجَابٌ۔
 الشَّجَبُ۔ مع۔ رنج و تکلیف جو مرض یا
 قتال کی وجہ سے لاحق ہو۔
 الشَّاجِبُ۔ بہت بکواس کرنے والا۔ مذاقی۔
 بہت کائیں کائیں کرنے والا کوا۔
 الشَّجَابُ۔ بوتل کا کارک۔ ڈھکنا۔ و۔
 الشَّجِبُ وَالْمَشْجِبُ، کڑی کا اسٹینڈ
 جس پر کپڑے رکھے اور پھیلائے جاتے ہیں۔
 الشَّجْبَاءُ۔ مشک۔
 شَجَرَدَن (شَجْرًا)۔ الشَّيْءُ۔ باندھنا۔
 قَلَانًا۔ ہٹانا۔ منع کرنا۔ الرَّجُلُ
 بِالرُّمُحِ۔ نیزہ مارنا۔ قَدَمُهُ۔ کڑی
 سے منہ کھولنا۔ المَدَابِلَةُ۔ جانور کو
 ٹھرانے کے لیے لگام کو ایسے زور سے
 پھٹکانا کہ وہ منہ کھول دے۔ الشَّجْرَةُ
 درخت کے کچھ حصہ کو کہتے ہیں۔ البَيْتُ
 گھر کے ستون لگانا۔ النباتُ۔ جھکی
 ہوئی ٹہنیوں کو اٹھانا۔
 شَجَرَدَن (شَجْرًا وَشَجْرًا)۔ بَيْنَهُمْ
 آمُرٌ۔ زیر بحث ہونا۔ مختلف فیہ ہونا۔

شَجَرٌ بَيْنَهُمْ۔ آپس میں جھگڑنا۔
 شَجَرَدَن (س) شَجْرًا۔ الرَّجُلُ۔ بہت
 جمعیت والا ہونا۔
 شَجَرَدَن النباتُ۔ پودہ کا درخت ہونا۔
 النَّخْلُ۔ ٹوٹنے کے خوف سے خوشہ
 کو ٹہنی پر رکھنا۔
 شَاجِرَةٌ مُشَاجِرَةٌ۔ جھگڑا کرنا۔
 المَاشِيَّةُ۔ اور سبزی کے نہ ہونے سے
 مویشی کا درختوں کے پتوں پر گزرا کرنا۔
 المَاشِيَّةُ۔ مویشی کو درخت چرانا۔
 أَشْجَرًا۔ المَكَانُ۔ کسی جگہ کا درخت لگانا۔
 تَشَاجَرًا۔ القَوْمُ۔ لوگوں کا آپس میں
 جھگڑنا۔ آپس میں گھٹنا۔ تَشَاجَرُوا
 بِالرُّمُحِ۔ آپس میں نیزہ سے لڑنا۔
 الشَّيْءُ۔ بعض کا بعض میں مل جل جانا۔
 الشَّجَرُ۔ جلدی سے نجات پانا۔ نَوْمَةٌ
 نیند کا دور ہونا۔
 الشَّجَرُ۔ القَوْمُ۔ قوم کا آپس میں جھگڑا
 کرنا۔ الرَّجُلُ۔ آگے بڑھنا۔ جلد
 خلاصی پانا۔ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کا
 سہارا دینا۔ نَوْمَةٌ۔ نیند کا دور ہونا
 الشَّجَرُ۔ درخت۔ ج۔ أَشْجَارٌ وَ
 شَجَرَاءُ۔ واحد (شَجْرَةٌ)۔ ج
 شَجَرَاتٌ۔
 شَجْرَةُ النَّسَبِ۔ آباؤ اجداد کا نسب نامہ
 الشَّجْرَةُ المَلْعُونَةُ۔ قحور کا
 درخت۔ شَجْرَةُ الحَيَاةِ۔ جس درخت
 سے اللہ نے آدم کو منع کیا تھا۔
 الشَّجَرُ۔ مص۔ اختلافی بات۔ ٹھوڑی یا
 دونوں جبروں کے درمیان کا حصہ۔ منہ
 کا وہ حصہ جو بند کرتے وقت ظاہر ہو۔
 ج۔ أَشْجَارٌ وَشَجَرٌ وَشَجَارٌ۔
 الحُرُوفُ الشَّجَرِيَّةُ۔ ش من ج۔
 بعض کے نزدیک ش ج ق ک ی
 الشَّجْرَةُ۔ چاہ زرخندان۔ مَكَانٌ شَجْرٌ۔

وَشَجِيرٌ وَأَشْجَرٌ وَمَشْجَرٌ۔
 بہت درختوں والی جگہ بُوْرُكٌ شَجْرَةٌ وَ
 شَجِيرَةٌ وَشَجْرَاءُ وَشَجْرَةٌ۔
 الشَّجْرَاءُ۔ گنجان درخت۔ گنجان درختوں
 والی زمین، اس کا مقابل مَرْدَاءُ ہے
 یعنی وہ زمین جو درختوں سے خالی ہو۔
 الشَّجَارُ وَالشَّجَارُ۔ ہودہ کی لکڑی۔ چھوٹی
 پاکی جو اوپر سے کھلی ہو۔ دروازہ کے
 نیچے لگانے کی لکڑی۔ وہ لکڑی جو بکری
 کے بچہ کے منہ میں لگائی جاتی ہے۔ تاکہ
 وہ دودھ نہ پی سکے۔ کنویں کی لکڑی۔ اَوْرُ
 کا داغ۔ ج۔ شَجْرٌ۔
 الشَّجِيرُ۔ تلوار۔ اجنبی آدمی۔ بُرْسَانَتِي
 الشَّجَارُ۔ درختوں کا ماہر۔ ج۔ شَجَارُونَ۔
 الشَّوْاجِرُ۔ مشاغل۔ موانع۔
 المَشْجَرُ وَالْمَشْجَرُ۔ ہودہ کی لکڑی۔
 اوپر سے کھلی چھوٹی پاکی۔
 المَشْجَرُ۔ درخت کی جگہ۔
 المَشْجَرُ۔ کڑی کا اسٹینڈ جس پر کپڑے
 رکھے یا پھیلائے جائیں۔ ج۔ مَشَاجِرُ۔
 قَوْبٌ مَشْجَرٌ۔ بوڑھے مار کپڑا۔
 کپڑا جس پر درختوں کی شکلیں ہوں۔ اہل
 چین کی تحریر کو بھی مَشْجَرٌ کہتے ہیں۔
 شَجْعَرٌ رَكٌّ شَجَاعَةٌ۔ بہادر و شجاع
 ہونا۔
 شَجَاعَةٌ (ن) شَجَاعًا۔ بہادر و شجاع
 غالب ہونا۔
 شَجَعَرَدَن (س) شَجَعًا۔ لمبا ہونا۔ صفت
 (أَشْجَعٌ مَرْتٌ)۔ شَجَاعَةٌ۔
 شَجَعَةٌ۔ قوی دل بنانا۔ عَلِيُّ الأَمْرِ۔
 جرات دلانا۔
 شَاجَعَةٌ۔ ولیری میں مقابلہ کرنا۔
 تَشَجَعٌ۔ بہادر بننا۔
 الشَّجَاعُ وَالشَّجَاعُ وَالشَّجَاعُ۔ ولیر
 بہادر۔ جرات والا۔ ج۔ شَجَاعَاتٌ وَ

شَبَعَانٌ وَشَبَاعٌ وَشَبَعَاءٌ وَ
شَبَعَةٌ وَشَبَعَةٌ وَشَبَعَةٌ وَ
وَشَبَعَةٌ. الشَّبَاعُ وَالشَّبَاعُ.
ایک قسم کا سانپ۔ ج۔ شَبَعَانٌ وَ
شَبَعَانٌ وَأَشَبَعَةٌ۔ رَجُلٌ
شَبَعَةٌ وَشَبَعَةٌ۔ یعنی عاجز
بزول لبائے ذول آدمی۔
الْأَشْبَعُ۔ اسم تفضیل۔ بہادر۔ مؤنث۔
شَبَعَاءُ۔ ج۔ شَبَعٌ۔ شیر، لمبا۔
پیش پیش رہنے والا اونٹ۔ ایک قسم
کا سانپ۔ زمانہ۔
الْأَشْبَعُ وَالْأَشْبَعُ۔ ج۔ أَشْبَعُ۔
انگلیوں کی جڑ یا پتیلی کی پشت کی رگ۔
الشَّبَعُ۔ بہادر۔ دیوانہ اونٹ۔
جَبَلٌ شَبَعٌ الْقَوَارِمُ۔ جلد جلد قدم
اٹھانے والا اونٹ۔
الشَّبَعِيُّ۔ بہادر۔ دلیر۔ ج۔ شَبَعَانٌ وَ
شَبَاعٌ وَشَبَعَاءٌ وَأَشَبَعَةٌ
مؤنث۔ شَبَعَةٌ۔ ج۔ شَبَاعٌ وَ
شَبَاعٌ وَشَبَعٌ۔
الشَّبَعُ۔ درخت کی جڑیں۔
الشَّبَاعَةُ۔ م۔ جرات، منچلاہن۔ دیری
خون کے وقت دل کی مضبوطی۔
المُشْبَعُ۔ بہت پاگل
الشَّبَعُ۔ ہلاکت۔
الشَّبَعُ۔ معائب، ہلاکتیں۔
شَبَعَانٌ (م۔) وَشَبَعَانٌ وَشَبَعَانٌ۔
نمگین ہونا۔ صفت دشمنوں،
شَبَعَانٌ (م۔) شَبَعَانٌ وَشَبَعَانٌ۔
نمگین کرنا۔
شَبَعَانٌ (م۔) شَبَعَانٌ۔ الحامۃ۔ فاختہ کا
درد بھری آواز نکالنا۔
أَشْبَعَانٌ۔ نمگین کرنا۔ أَشْبَعَانٌ الْكُرْمُ۔
انگور کی پیل کا لمبی ہونٹ اور گنجان ہونا۔
تَشَبَعَنَ۔ حرکت کرنا۔ نمگین ہونا۔

الْأَمْرُ۔ یاد کرنا۔ الشَّبَعُ۔ درخت
کا گنجان اور گنجان ہونا۔
الشَّبَعَانُ۔ م۔ الشَّبَعَانُ۔ ج۔ شَبَعَانٌ۔ و
الشَّبَعَانَةُ۔ ج۔ شَبَاعَانٌ۔ وادی کا
راستہ یا وادی کی بلندی کا راستہ۔
الشَّبَعَانُ۔ م۔ غم، اندوہ، خواہش نفس۔
ج۔ شَبَعَانٌ وَأَشْبَعَانٌ۔ الشَّبَعَانُ وَ
الشَّبَعَانَةُ وَالشَّبَعَانَةُ وَالشَّبَعَانَةُ۔
اللمبی ہونٹ یا پیچیدہ ہونٹ۔ ہر چیز کی شاخ۔
الحَدِيثُ ذُو شَبَعَانٍ۔ بات میں بات
نکلنے ہے۔ الشَّبَعَانَةُ۔ پار کی دراڑ
شکاف۔ شَبَعَانَةُ وَشَبَعَانَةُ کی جمع
شَبَعَانٌ وَشَبَعَانٌ وَشَبَعَانَاتٌ وَ
شَبَعَانَاتٌ وَشَبَعَانَاتٌ۔
شَبَعَانٌ شَبَعَانٌ وَأَشْبَعَانٌ شَبَعَانٌ۔
الوجہ۔ نمگین کرنا۔ خوش کرنا۔
رشد، آسانا۔ أَشْبَعِي الْغَيْمِ أَوِ السَّائِلِ
قرضخواہ یا سائل کو حسب فشار دینا۔
شَبَعِي (م۔) شَبَعِي۔ نمگین ہونا۔ بالشَّبَعِي
حلق میں ہڈی اٹک جانے سے کلا گھٹنا۔
عَلَيْكَ بِالْعَطْوِ وَإِنْ شَبَعْتَا
بِالْعَطْوِ یعنی ضبط و تحمل سے کام
لے۔ اگرچہ تیرے حلق میں ہڈی اٹک
گئی ہو۔
تَشَبَعْتَا۔ غم کا اظہار کرنا۔
الشَّبَعِيَا۔ م۔ حلق میں اٹک جانے والی ہڈی
وغیرہ۔ غم، رنج۔
الشَّبَعِيُو۔ م۔ غم، اندوہ۔ حاجت۔ لہٰذا
عِنْدِي شَبَعِيُو۔ اس کی مجھ سے
حاجت ہے۔ گریہ و زاری کا ایک دور۔
الشَّبَعِيُو وَالشَّبَعِيُو۔ نمگین، فکر مند۔ مؤنث
شَبَعِيَةٌ وَشَبَعِيَةٌ۔ نسبت کے لیے
شَبَعِيُو۔ مَفَاذَةُ شَبَعِيُو۔ دشوار
گزار بیابان۔
شَبَعِيُو (م۔) شَبَعِيُو وَشَبَعِيُو۔

بِالشَّبَعِيُو وَعَلَى الشَّبَعِيُو۔ بخل کرنا۔ حرم
ولا یخرج کرنا۔
تَشَبَعُ۔ بالشَّبَعِيُو عَلَى فُلَانٍ۔ کسی سے
کسی چیز پر بخل کرنا۔ ہا کسی سے جھگڑا
کرنا اور اسی سے ہے یہ قول "لَا
مُشَابَهَةَ بَيْنِ الْأَمْرِ" یعنی یہ صاف
اور کھلا معاملہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا
نہیں۔
تَشَبَعُ۔ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ وَفِيهِ۔ کسی
چیز کے بارے میں آپس میں بخل کرنا۔
تَشَابَحُوا عَلَى الشَّبَعِيُو۔ ہر ایک کا اپنے
لیے پسند کرنا۔ تَشَابَعُ الْخَصْمَانِ
فِي الْجِدَالِ۔ جھگڑنے میں ایک دوسرے
پر غالب ہونے کی خواہش کرنا۔
الشَّبَعِيُو۔ م۔ بخل۔
الشَّبَعِيُو۔ بخل۔ حریف۔ ج۔ شَبَعَانٌ۔
وَأَشْبَعَةٌ وَأَشْبَعَاءُ۔ مؤنث۔ شَبَعِيَةٌ
ج۔ شَبَاعِيُو۔ ایل شَبَاعِيُو۔ کم رو
والی اونٹنیاں۔
الشَّبَاعِيُو۔ بخل۔ حریف۔ الشَّبَاعِيُو۔
مِنَ الْأَرْضِ۔ وہ زمین جو بغیر زیادہ
بارش کے پانی نہ بہائے۔ زَنْدُ
شَبَاعِيُو۔ آگ نہ دینے والی چتاق
مَاءٌ شَبَاعِيُو۔ تھوڑا پانی۔
شَبَعِيُو (م۔) وَشَبَعِيُو (م۔) وَشَبَعِيُو (م۔)
شَبَعِيُو (م۔) وَشَبَعِيُو (م۔)۔ بھوک
یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے چہرہ کا رنگ
بدلنا۔
الشَّبَاعِيُو۔ ف۔ لا غرور بلایا متغیر رنگ والا۔
شَبَعِيُو (م۔) شَبَعِيُو (م۔)۔ ایلدیئے۔ چھری
تیز کرنا۔
شَبَعِيُو (م۔) شَبَعِيُو (م۔) وَشَبَاعِيُو (م۔)
شَبَعِيُو (م۔) وَشَبَاعِيُو (م۔) وَشَبَعِيُو (م۔)
الْبَعْلُ أَوِ الْغُرَابُ۔ بھرا ہوا سنسانا۔
کسے کا کاشیں کاٹیں کرنا۔

الشَّجَابُ وَالْمَشْحَبُ وَالشَّاجِبُ كَدَفْرٍ.
 بَنَاتُ شَجَابٍ أَوْ شَاجِبَةٍ - نَجْرِيں.
 شَجَابٌ - الْبَقْلُ أَوْ الْغُرَابُ - وَ
 رَشِيحُهُمَا شَجْرًا كَوَيْلًا كَأَوَانِ.
 الشَّوَابِجُ - كَوَيْلٌ.
 شَحَذَ رَفٌ شَحْدًا - السَّيِّئِينَ وَنَحْوَهُ
 مَجْرِيٍّ وَغَيْرِهِ تِيزُ كَرْنَا - صَفَتْ مَفْعُولٌ.
 (شَحُوذٌ وَشَحِيذٌ) - هَا بِبَصِيرَةٍ
 كَهَرْنَا - الْجُوعُ مَعْدَتَهُ سَمَتْ مَجْرِيٍّ
 لَكْنَا - الشَّوْءُ جَمِيلْنَا - فِي التَّسْوُلِ
 مَا لَكُنْ فِي هَيْتِ اِمْرَارِ كَرْنَا - هُوَ
 يَشْحَذُ النَّاسَ؟ وَهِيَ لَوَاكِبٌ سَمَتْ لِيَجْرِيَنَّ
 سَمَتْ مَا لَكُنْ هَيْتِ - عَلَيْهِ غَضَبٌ نَاكٍ
 بَوْنَا - الدَّابَّةُ - جَالُورٌ كَوَيْزِيٍّ سَمَتْ
 مَا لَكُنْ - رَوْتَشْحَذُ كَأَشَانَا - وَهَكَذَا
 وَتَشْحَذُ الرَّجُلُ - سَوَالٌ فِي لِيَجْرِيَنَّ
 اِخْتِيَارِ كَرْنَا.
 أَشْحَذَ - السَّيِّئِينَ - مَجْرِيٍّ تِيزُ كَرْنَا.
 شَاحَذًا - تَلَوَارٌ وَغَيْرُهُ تِيزُ كَرْنَا فِي
 مِثَابَتِ كَرْنَا.
 الشَّحَاذُ - سَوَالٌ كَدَاغِرٍ سَائِلٌ - ج.
 شَحَاذَةٌ رَالِشْحَاذَةٌ كَدَاغِرِيٍّ
 كَا پِيشِ
 الشَّحْدَانُ وَالشَّحْدَانُ - مَجْرِيٍّ كَا
 وَالَا - بَلَا طِنِ وَالَا - رَجُلٌ شَحْدَاوُذٌ
 تِيزُ اَوْرَغْفِ كَيْ وَتِيزُ مِشِ فِي اَنِي وَالَا -
 اِمَشْحَذُ - مَجْرِيٍّ جَاوُوغَيْرُهُ تِيزُ كَرْنَا كِي
 سَانِ - تِيزُ مَا لَكُنْ وَالَا -
 اِمَشْحَاذٌ - تِيزُ پَارِ كِي جَوِيٍّ - ج. مَشَاحِيذُ
 الْمَشْحَذَةُ - تِيزُ كَرْنَا كَا فَرِيحِ - بَاعَثَ - كَيْتِ
 فِي هَذَا الْكَلَامِ مَشْحَذَةٌ
 لِلْفَهْمِ - يَهِيَ كَلَامُ عَقْلِ كِي بَرَاثِ كَا
 بَاعَثَ هَيْتِ
 شَحَوْرَفٌ شَحْوًا - مَن كَهَرْنَا -
 الشَّحْوُ - مَمٌ - پَانِي بِنِي كِي جَلِجِ - وَاوِي كَا

درمیان - ر. الشَّحْوُ كَلَارِهِ - سَاعِلٌ
 الشَّحْوَةُ - تِنِگِ سَاعِلٌ -
 الشَّحْوُوسُ - جَرِيَّا سَمَتْ بَرَا سِيَاہِ رِنِگِ فَوْشِ
 آوَانِ اِيکِ پَرِنْدِہِ - ج. شَحَاوِيذُ
 اِسْ كُو شَحُوذٌ هَيْتِ هَيْتِ هَيْتِ
 شَحُوذِ رَسِ شَحُوذًا - كَهَرْنَا - فَوْزِدِہِ بَوْنَا -
 شَحُوذِ مَمٌ - الْبَعِيْرُ - اَدْنِثُ كَا آوَانِ كُو
 پَهْرَانَا - الطَّائِرُ - پَرِنْدِہِ كَا جَلْدِيٍّ سَمَتْ
 اِزْنَا - مَنہُ - وِرْنَا - الصَّوْرُ
 مَوَلِے كَا آوَانِ نَكَانَا -
 الشَّحْشَحُ وَالشَّحْشَامُ - بَجَلِجِ - كَمِ نَجْرِيٍّ
 بَدَلِجِ - مِشِگِي كَرْنَا وَالَا - الشَّحْشَحُ
 وَبِجِ بِيَا بَانِ - بَهَادِرِ آوِيٍّ - خَيْرِ مَمٌ
 خَوْشِ بِيَا نِ لِيَكْجَرَارِ -
 الشَّحْشَحَانُ - بَجَلِجِ - خَيْرِ مَمٌ - لِمَا -
 الْمَشْحَشْحُ وَالْمَشْحَشْحُ - بِي بَرَكْتِ
 اَشْحَصَةُ - تَهَكَانَا - مِمَّنِ الْمَكَانِ
 (شَحْصَةُ) عَنهُ - جَلِجِ سَمَتْ نَكَانَا -
 جَلَاوَطِنِ كَرْنَا -
 شَحَطَرَفٌ شَحَطَاوُشْحَطَاوُ شَحُوذَاوُ
 قَشْحَطَا - اِلِنَاءُ - بَرْتِنِ بَهْرِنَا -
 اللَّبَنُ - دَوْدِہِ فِي پَانِي زِيَادِہِ طَانَا -
 الْعَقْرِبُ الرَّجُلُ - بَجَلِجِ كَا كَسِي كُو
 وِسْنَا - الطَّائِرُ - پَرِنْدِہِ كَا بِيْثِ كَرْنَا -
 قَلَانَا - آگِے بَرُحْنَا - دَوْرِ بَوْنَا -
 وَشْحَطَا رَسِ شْحَطَا الْمَكَانِ - دَوْرِ
 بَوْنَا - شْحَطَاوُشْحَطَا الْجَمَلُ - اَدْنِثُ
 كُو ذَرِجِ كَرْنَا -
 شْحَطَا - بِالْدَمِ - خُونِ فِي تَهْرُنَا - آوُوہِ بَوْنَا -
 شْحَطَا - خُونِ فِي تَهْمِيْرِنَا - آوُوہِ كَرْنَا -
 اَشْحَطَا - دَوْرِ كَرْنَا -
 الشَّحَطُ - مَمٌ - خُونِ وَغَيْرِہِ سَمَتْ آوُوگِي -
 پَرِنْدِہِ كِي بِيْثِ (وَالْمَشْحَطُ) وَہِ
 كَدِي كِي تَهْوِيٍّ يَاطِيكِي جِسِ پَرَا اِنْگُوْرِ كِي بِيْلِ
 زِيَمِ سَمَتْ بَلِنْدِ تَهْرَانِيٍّ جَاوَانِيٍّ - عَوَامِ اِسْ كُو

مَشْمُوْكٌ كَيْتِہِ مَنُوْلٌ شَاجِبًا
 دَوْرِ كِي مَنُوْلِ -
 الشَّحَاطُ - دَوْرِ شَاجِبِ الْاُوْدِيَّةِ - دَوْرِ
 كِي وَاوِيَاں - الشَّوْحَطَا - لِي كَمْرِيٍّ
 شْحَكَ رَفٌ شْحَاكَ - الْجَدِي - كَرْنَا
 بِي كِي مَمٌ فِي تَهْوِيٍّ اِمَا نَا - اَلشَّحَاكُ
 تَهْوِيٍّ -
 شْحَلُ اِرْكُوْمِ - اِنْگُوْرِ كِي بِيْلِ كِي شَاجِبِ
 تَرَاثِنَا - اِسْ كِي لِي قَضَبِ - زِيَادِہِ
 فَيَسِجِ هَيْتِ
 شْحَلَةُ رَفٌ شْحَمًا - چَرَبِي كَهَلَانَا -
 شْحَمُ رَكِ شْحَامَةٌ - بِيْتِ چَرَبِي وَارِ بَوْنَا
 مَوْتَا بَوْنَا - صَفَتْ شْحَمٌ - شْحَمٌ
 شْحَمًا - چَرَبِي كِي خَوَامِشِ كَرْنَا صَفَتْ شْحَمٌ
 شْحَمْتِ رَسِ شْحُوْمًا - النَّاقَةُ -
 لَاغِرِيٍّ كِي بَعْدِ مَوْتَا بَوْنَا -
 اَشْحَمٌ - بِيْتِ چَرَبِي وَالَا بَوْنَا - وَشْحَمًا
 الْقَوْمُ - چَرَبِي كَهَلَانَا -
 الشَّحْمُ - چَرَبِي - اِيكِ كَلَا - (شْحَمَةٌ) - ج.
 شْحُوْمٌ
 الشَّاحِمُ وَالشَّحَامُ - چَرَبِي نِيچِي وَالَا -
 الشَّحَامُ - بِيْتِ چَرَبِي كَهَلَانِي وَالَا - رَجُلٌ
 شَاحِمٌ لَاحِمٌ - بِنِ فِي چَرَبِي اَوْرِ
 كُو شْتِ سَمَتْ بَهْرَا آوِيٍّ يَاطِيكِي اَوْرِ كُو شْتِ
 بِيْتِ كَهَلَانِي وَالَا -
 الشَّحْمَةُ - چَرَبِي كَا كَلَا - شْحَمَةُ الْاَرْضِ
 سَاپِ كِي چَرَبِي - الْعَيْنُ - تَهْمِيْرِنَا
 - الْاَذُنُ - كَانِ كِي لَوْبِ شْحَمَةٌ
 التَّحْمَانُ - اِنَارِ كِي اِنْدِ وَاوِيٍّ كِي بِيچِ
 بِيچِ فِي بَارِيكِ جَهْلَا - مِثَلِ مَشْوَرِ هَيْتِ -
 "مَا كَلَّ بِيضًا شْحَمَةٌ وَلَا كَلَّ
 سَوْدًا تَمْرًا" - ہر سفید چَرَبِي نِيچِ
 ہر سیاہ کھجور نِيچِ - يَهِيَ مِثَلِ اِسْ وَتِ
 بَوَلِي جَاتِي هَيْتِ كِي اِيكِي صَفَتْ فِي
 مِثَابَتِ ہُوگُوْرِ اَوْرِ صَفَاتِ فِي اَخْلَافِ نَبُو -

الشَّجْمُ: قمری رس والا اگور۔
 الشَّجْمُ: اکرہ الشَّجْمُ: مونا۔ فریب۔
 الْمَشْجَمُ وَالْمَشْجَمُ: اپنے گھر میں بست
 چری رکھنے والا۔
 الْمَشْجَمُ وَالْمَشْجَمُ: چری سے تیار
 کردہ شے۔
 شَمْنُ رَفٍ: قَحْنًا - السَّيْفِيَّةُ: کشتی
 بھڑا۔ پُر کرنا۔ المَدِينَةُ بِالْحَيْلِ
 بھڑا۔ الرَّجُلُ: دھتکارنا۔ دور کرنا۔
 شَمْنُ رَفٍ: دَشِيحٌ دَسٌ، شَمْنًا -
 الْكِلَابُ: کتوں کا شکار کے پچھے دور
 تک نکل جانا مگر شکار نہ کرنا۔
 شَمْنُ دَسٍ، شَمْنًا - عَلَيْهِ: کینہ رکھنا۔
 أَشْمَنَ - الْمَكَانَ: بھڑا۔ السَّيْفُ:
 تلوار کو میان میں کرنا۔ سوتنا (رُفْدُ)۔
 لَهُ يَسْتَهْجِمُ: تیر مارنے کے لیے تیار
 کرنا۔ الصَّبِيُّ: بچہ کارونے کے لیے
 تیار ہونا۔
 شَاخَنَهُ: بغض و عداوت رکھنا۔ تَشَاخَنُوا
 ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔
 الشَّخْنَاءُ: دشمنی۔ کینہ۔ بغض۔
 الشَّخْنَةُ: عداوت۔ وہ چیز جس سے کشتی
 بھری جائے۔ وَشَخْنَةُ الْبَلَدِ: پولیس
 کو تال۔ رسالہ کا دستہ۔ جانوروں کے
 لیے لک دون رات سکر رہ۔ ج۔ يَشْمَنُ:
 الْمُشَاجِنُ: رَفٍ، عَدَاوَةٌ مُشَاجِنٌ -
 سخت بغض اور دشمنی رکھنے والا دشمن۔
 كَمَا يَشْخُوا وَيَشْخَا شَخْوًا - الرَّجُلُ:
 منہ کھولنا۔ الْبِجَامُ قَمَرٌ: مریں۔
 کھولنا۔ كَمَا الرَّجُلُ: قدموں کو دور
 دور رکھنا۔ الْهَدُ: منہ کھلنا۔
 أَشْمَى قَاةً: منہ کھولنا۔
 شَمِيٌّ تَشْمِيَّةٌ - قُوَّةٌ: منہ کھلنا۔
 تَشْمِيٌّ - عَلَيْهِ: زبان کھولنا۔ زبان وازی کرنا۔
 الشَّحَاةُ: ہر وسیع کشادہ شے۔ الشَّحْوُ:

جوف۔
 الشَّحْوَةُ: قدم۔ رَجُلٌ بَعِيدٌ الشَّحْوَةُ
 فِي مَقَامِ صِدْقٍ: اپنے مقاصد و ارادوں
 میں مالی حوصلہ و بلند ہمت آدمی۔
 الشَّحْوَاءُ: پوڑا کنواں۔
 شَمْحٌ دَنٌ: شَمْحًا: پیشاب کرنا۔ فِي النَّوْمِ:
 نیند میں خراٹے لینا۔ اللَّبَنُ: دوسرے
 کے وقت دودھ سے آواز کا نکلنا۔
 شَمْبٌ رَفٍ: شَمْبًا وَمَشْمَبًا - اللَّبَنُ:
 دودھ دوہنا۔ اللَّبَنُ: دودھ کا ہونا۔
 أَوْدَاجُ الْقَتِيلِ دَمًا: مقتول کی رگوں
 کا خون بہانا۔
 الشَّخَبُ: دولا جانا۔
 الشَّخَبُ: م۔ خنر۔ والشَّخَبُ: دوہتے
 وقت دودھ کی دھار۔ وَاغْدِرُ الشَّخْبَةَ:
 ج۔ شَخَابٌ -
 الْأَشْخُوبُ: بھنوں سے دودھ نکلنے کی آواز۔
 ج۔ أَشَاخِيْبٌ - وَدَبْرٌ شَخِيْبٌ:
 خون بہانے والے گردن کی کٹی ہوئی رگ۔
 الشَّخَابُ وَالشَّخُوبُ وَالشَّخُوبَةُ:
 پہاڑ کی چوٹی۔ ج۔ شَنَاخِيْبٌ -
 شَمْتٌ رَنٌ: شَخُوبَةٌ: چھری سے بدن والا۔
 صفت شَمْتٌ وَشَمْتٌ: ج۔ شَمَاتٌ
 شَمْتٌ الْخَلْقِ: کینہ اخلاق کا۔
 شَمْتٌ الْعَطَاءِ: کم داؤد ہش کا۔
 شَمْتَةٌ - إِلَيْهِ: پہنچانا۔
 الشَّمْتُ وَالشَّمِيْتُ وَالشَّمِيْتُ وَ
 الشَّمِيَّةُ: بلند غبار۔
 الشَّخُوبُ وَالشَّخُوبَةُ: چھری کشتی۔ ڈونگا۔
 شَخْرَرُ رَفٍ: شَخِيْرًا: حلق یا ناک سے
 آواز نکلنا۔
 شَخْرَرُ رَفٍ: شَخِيْرًا وَشَخْرًا - الْعَرَسُ:
 آؤ الجَمَارُ: گھڑے کا ہنسانا۔ یا
 گدھے کا ریگنا۔
 شَخْرَرُ الْجَلْسِ: کجاوہ باندھنے کے لیے

جالور کی پیٹھ سے ٹاٹ اٹھانا۔ التَّخْلَةُ:
 ٹوٹنے کے خوف سے کھجور کے خوشہ کو
 ٹہنی پر رکھنا۔
 الشَّخْرُ: م۔ مِّنَ الشَّبَابِ: آغاز جوانی۔
 مِّنَ الرَّحْلِ: کجاوہ کی درمیانی جگہ۔
 الشَّخِيْرُ: پہاڑی راستہ۔ الشَّخِيْرُ: بست
 خراٹے لینے والا۔
 شَخْرَرُ رَفٍ: شَخْرًا: بقیار ہونا۔ مضطرب
 ہونا۔ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: کسی پر کوئی کام
 دشوار ہونا۔ بِالرُّمُجِ: نیزہ سے
 مارنا۔ بَيْنَهُمْ: درغلانا۔ فساد ڈالنا۔
 تَشَاخَرُوا الْقَوْمَ: آپس میں بغض و عداوت رکھنا۔
 الشَّخْرُ: م۔ مشقت کی سختی۔
 شَخْسٌ رَفٍ: شَخْسًا: الرَّجُلُ: مضطرب
 ہونا۔ الْجِمَارُ: گدھے کا جمائی لینے
 میں منہ کھولنا۔
 أَشْخَسَ - الرَّجُلُ وَبِهِ: کسی کی نسبت
 کرنا۔ أَشْخَسَ لَهُ فِي الْمَنْطِقِ: کسی
 کے ساتھ گفتگو میں ترش روی کرنا۔
 شَاخَسَ - أَمْرٌ الْقَوْمِ: مختلف ہونا۔
 الْجِمَارُ: گدھے کا لیدہ سونگھ کر سراونچا
 کر کے منہ کھولنا۔
 تَشَاخَسَ - الْجِمَارُ: بمعنی شَخَسَ او
 شَاخَسَ - أَسْتَانَهُ: بڑھاپے کے
 باعث بعض دانوں کا گر کر اونچے نیچے
 ہو کر بے ترتیب ہونا۔ أَمْرُهُمْ: تباہ و
 پریشان ہونا۔
 الشَّخِيْسُ: حکم کے خلاف کرنے والا۔ امر متفرق۔
 شَخْشَمٌ - بِبَوْلِهِ: پیشاب کی دھار کو دور
 پھینکنا۔ صفت رَشْخَاخٌ شَخْشَخْتٌ
 النَّاقَةُ: اونٹنی کا پیٹھے بیٹھے سینہ اٹھانا۔
 الشَّخْشَخَةُ: م۔ ہتھیار کی جھنکار۔ کا غذا
 نئے کپڑے وغیرہ کی کھڑکھڑاہٹ۔
 شَخْصٌ رَفٍ: شَخْصًا: الشَّيْءُ: بلند ہونا۔
 - عَنْ قَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ:

چلے جانا۔ کوہ چ کرنا۔ سارا کھینچنا۔ واپس
 آنا۔ النَّجْمُ۔ ستارہ کا طلوع کرنا
 - السَّرْمُ تیر کا نشانہ سے اوپر پڑنا۔
 - الْجَوْحُ زخم کا سوجنا۔ بَصْرَةٌ
 ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ الْمَيْتُ بَعْرَةٌ
 وِبَبَصْرَةٍ۔ میت کی آنکھوں کا کھلا
 رہ جانا۔
 شَخِصٌ۔ یہ۔ کسی امر کے پیش آنے سے کسی
 کا بیقرار و بیکل ہونا۔ گھبرانا۔
 شَخِصَ رِكْ شَخَا صَةً۔ بدن کا بھاری ہونا
 موٹا ہونا۔
 شَخِصٌ۔ الشَّيْءُ۔ متعین کرنا۔ دوسری چیزوں
 سے تیز کرنا۔ اطباء کے نزدیک تعین بھی
 امراض بھی اسی سے ہے۔
 اشْخَصَهُ۔ بے آرام کرنا۔ بے قرار کرنا۔
 اشْخَصَ الرَّجُلُ۔ کسی کے جانے کا
 وقت قریب آنا۔ یہ۔ غیبت کرنا۔
 لَمْ يَكُنْ فِي الْمَنْطِقِ وَاشْخَصَ الْبَيْتَ۔
 گفتگو میں تشریف لے کرنا۔ اِلَى قَوْمِهِ۔
 واپس کرنا۔ لوطانا۔ الرَّاعِي۔ تیر انداز
 کے تیر کا نشانہ سے اوپر لگنا یا لگانا۔
 (لازم و متعری)
 تَشَخَّصٌ۔ معین ہونا۔ تیز ہونا۔ لَمْ يَكُنْ
 کسی شخص کی صورت میں دکھائی دینا۔
 تَشَاخَصُوا۔ آپس میں اختلاف کرنا۔
 الشَّخِصُ۔ وجود ہود سے دکھادے
 کا لہد۔ سٹیچو۔ ج۔ اشْخَصٌ و
 اشْخَاصٌ۔
 الشَّخِصُ جِیم۔ مؤنث۔ شَخِصَةٌ۔ سردار
 - مِنَ الْمَنْطِقِ تَرْشُ رُوَيْ سَ كَفْتُكُو
 کرنے والا۔
 تَشَخَّلَ رِفٌ تَشَخَّلًا۔ الشَّرَابُ۔ صاف
 کرنا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کو دوہنا۔
 شَاخَلَهُ۔ سہمی دوستی کرنا۔
 الشَّخْلُ وَالشَّخِيلُ۔ سچا دوست۔

الْمِشْخَلُ وَالْمِشْخَلَةُ۔ چھلنی۔
 شَخَّرَ رِنٌ وَفَخَّحَ رَسٌ وَفَخَّحَ رِكٌ
 شَخَّوَمَا وَشَخَّأَ وَاشْخَمَ۔
 الطَّعَامُ او اللِّحْمُ۔ کھانے یا
 گوشت کا خراب ہو جانا۔ صفت (شَخَّحَ)
 - الْقَمْرُ مِنْ كَابِدٍ بَدُوَارٍ هُونًا - اشْخَمَ
 الرَّجُلُ۔ کسی کا رونے کے لیے
 تیار ہونا۔
 شَخَّمَ۔ الطَّعَامُ۔ کھانا خراب کرنا۔ بگاڑنا
 - الطَّعَامُ۔ کھانا خراب ہونا۔ الْقَمْرُ
 منہ کا بدبودار ہونا۔
 اشْخَامٌ۔ النَّبَاتُ۔ گیلی سوکھی گھاس کا
 آپس میں ملنا۔ شَعْرًا اشْخَمٌ۔ سفید
 بال۔ رَوْضًا اشْخَمٌ۔ نباتات سے
 خالی باغ۔ عَامٌ اشْخَمٌ۔ وہ خشک
 سال جس میں نہ پانی ہو نہ سبزہ۔
 الشُّخْمُ۔ وہ لوگ جن کی ناک تیز خوشبو یا
 بدبو سے بند ہو گئی ہو۔
 شَدَّ رِنٌ (ض) شَدًّا - الرَّجُلُ - دَوْرًا -
 - النَّهَارُ - دِنٌ چڑھنا۔ عَضَدًا -
 مضبوط کرنا۔ قوی کرنا۔ الشَّيْءُ۔ باندھنا
 مضبوط کرنا۔ الْعُقْدَةُ۔ گرہ کسنا۔
 مضبوط کرنا اور اسی سے ہے شد
 الرجال۔ کنایہ ہے سفر سے۔ عَلَيَّ
 يَدِيَا۔ مدد کرنا۔ قوت پہنچانا۔ لَمْ
 أَمْلِكُ شَدًّا اَوْلَا اِحْخَاءً۔ یعنی
 میں کسی چیز پر بھی قادر نہیں۔
 شَدَّ رِنٌ (ض) شَدًّا او شَدًّا و شَدُّ و دَا
 - عَلَيَّ الْعَدُوِّ وَشَمِنَ بِرَحْمَةِ كَرْنَا -
 شَدَّ رِنٌ (ض) شَدًّا۔ قوی ہونا۔ شَدًّا دَا۔
 قوت پہنچانا۔ شَدَّ الضَّرْبُ۔ بہت
 مارنا۔ عَلِيْبُ۔ کسی پر تنگی ڈالنا۔ سختی
 کرنا۔ الْحَرْفُ۔ حرف کو مشدود کرنا
 - الشَّيْءُ۔ مضبوط کرنا۔
 تَشَادَّدٌ۔ فِي الْأُمُورِ۔ غالب آنے کی کوشش

کرنا۔ مقابلہ کرنا۔
 أَشَدَّ - عَقْلٌ يَأْمُرُكَ بِتَحْتَلِي تَحْتَلِي مَضْبُوط
 جانور رکھنا۔
 تَشَدَّدَ - قُوَّةٌ وَالْأَهْوَانُ - مَضْبُوطٌ هُونًا - كَسَى
 کام میں سختی کرنا۔
 اشْتَدَّ - قَوِيٌّ هُونًا - فِي السَّيْرِ - تِيَزُوْرُنَا
 عَلَيَّ قِرْنِي فِي الْحَرْبِ يَشَدَّةً - حَمَلٌ
 كَرْنَا - عَلَيَّ الْمَرْضُ - بِيَارِي كَابْرَه
 جانا۔ زائد ہونا۔
 تَشَادَّدَ - الشَّيْءُ - مَضْبُوطٌ هُونًا -
 الشَّدُّ - مَمٌ - شَدَّ النَّهَارُ - دِنٌ چڑھنے کا
 وقت اور شد الرحال - سفر کرنے کا
 کنایہ ہے۔
 الشَّدَّةُ - جَنَكٌ فِي حَمَلٍ - شَدَّ كَالِاسْمِ مَرَّةً -
 الشَّدَّةُ - اشْتَدَّ كَالِاسْمِ سَمْتِي - تَنَكِي - ج -
 شَدَّدُ وَالشَّدَّةُ - ج - شَدَّ اَيْدِي -
 مَعْصِيَتٌ - شَدَّةُ الْأَرْضِ - زِيْنٌ كِي
 كَرْتَلِي - سَمْتِي -
 الشَّدَايُ - سَمْتِي -
 الشَّدِيْدُ - بِأَوْرٍ قَوِيٍّ بَلَدٌ مَضْبُوطٌ بِخَيْلٍ -
 شِيْرٌ ج - اَيْدِيٌّ و شَدَا دٌ و شَدُّ و دٌ -
 رَجُلٌ شَدِيْدٌ الْعَيْنُ - وَهُ شَخْصٌ جِسْمٌ
 پَرِيْنِيْدٌ كَالْعَيْنِ هُوَ - وَمِنْكَ شَدِيْدٌ
 الْمَوَاجِحَةِ - تِيَزُوْشَبُوْكَ مَشْكٌ -
 الشَّدِيْدَةُ - الشَّدِيْدُ كَالْمَوْزِ - ج -
 شَدَّ اَيْدِي - حُرُوفٌ شَدِيْدَةٌ - اَطْمَاطٌ فِي
 جِنِّ كَالْمَجْمُوعَةِ أَجْدَدٌ طَبَقَاتٌ هُوَ -
 الْأَشَدُّ وَالْأَشَدُّ - بَلَعٌ فَلَا يَنْتَشِدُ -
 وَهُ سِيْنٌ بِمَعْنَى كَرْتَلِي - وَهُ يُوْلِي كِي عَسْرٌ
 كَبَّ بِمَعْنَى -
 الْمَشْدُ - وَهُ كَبَّرَ جِسْمٌ كَوَعْرَتِ اِبْنِي كَبَّرَ
 بَانْدَهْتِي هُوَ -
 الْمَشْدُ - مَضْبُوطٌ بِهَوَايُوْنَ وَاللَّ -
 الْمَشْدُ دٌ - فَ - بِخَيْلٍ - اَمُورٌ فِي سَمْتِ
 شَدَّ رِنٌ (ض) شَدًّا - مَوْتًا هُونًا -

اَلشَّدَفُ - چت لیٹ کر پاؤں کو کشادہ کرنا۔
 اَلشَّادِخُ - فَا - مِیْنِ الْكَلَامِ - وسیع سبزہ۔
 اَلشَّدَخُ - بَرُوسِیْعُ شَعْبٍ -
 اَلشَّدْحَةُ وَ اَلْمُنْقَدَمَةُ - کھادگی۔ قراچی۔
 بَشْدَخُ رَفٍ (شَدْحًا) - اعتدال سے ہٹ
 جانا۔ الرَّاسُ - سر ٹوڑنا۔ کھلنا۔
 الرَّجُلُ - گردن کٹنے کی جگہ پر مارنا۔
 شَدَحَتْ شُرْقَةُ الْفَرَسِ شَدْحًا
 وَ شَدُوْحًا - گھوڑے کی پیشانی کی
 سفیدی کا ناک تک پھیلنا۔ گھوڑا۔
 (اَلشَّدَخُ) ہے۔
 شَدَخُ - الرَّاسُ - سر ٹوڑنا۔
 تَشَدَّخُ وَ اَلشَّدَخُ - الرَّاسُ - سر
 ٹوڑنا۔ کھلا جانا۔
 اَلشَّدَخُ - ناکام بچہ۔ قبل از وقت پیدا
 ہونے والا بچہ۔
 اَلشَّادِخُ - رَفٍ (شَدْحًا) چھوٹا نازک۔ خَلَامٌ
 شَادِخٌ - جَوَانٌ لَطِيفٌ - اَمْرٌ شَادِخٌ
 اعتدال سے ہٹا ہوا۔
 اَلشَّادِخَةُ - گھوڑے کی پیشانی کی ناک تک
 پھیلی ہوئی سفیدی۔
 اَلشَّدَخُ - شَعْبٌ - مِیْنِ الْكَلَامِ - ناک
 تک پھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ مَوْنُثٌ
 شَدْحًا - ج - شَدْحُ -
 اَلْمَشْدَخُ - مَفْعٌ - گردن کٹنے کی جگہ۔
 شَدْفَةُ رَفٍ (شَدْحًا) - گھوڑے کے کھڑے
 شَدَفُ رَفٍ (شَدْحًا) - الْفَرَسُ - گھوڑے
 کا بہت خوش ہونا۔
 اَشْدَفُ - اللَّيْلُ - رات کا تاریک ہونا۔
 كَتَفَاتٌ - جھکاؤ۔
 اَلشَّدَفُ - م - رَحْسَارَهُ كَامِيْلَانِ اَوْ
 جھکاؤ۔ اونٹ کے سر کا موڑ تاریکی کا بعد
 وجود۔ ج - شَدُوْفٌ
 اَلشَّدَفُ - لَمَّا تَبَيَّرَ كَرُوْنُهُ وَ اَلَا -
 اَلشَّدْفَةُ - جھکاؤ۔

اَلشَّدَفُ - مِیْنِ رَحْسَارِهِ وَ اَلَا - نِظَامُكَ
 ساتھ چلنے والا اونٹ۔ بڑے جسم کا
 گھوڑا۔ بایں ہاتھ سے کام کرنے والا۔
 مَوْنُثٌ - شَدْحًا - ج - شَدْفُ -
 شَدْفُ رَفٍ (شَدْحًا) - پھوٹی باپھوں والا
 ہونا۔ مَفْعٌ (اَلشَّدْفُ) مَوْنُثٌ
 شَدْحًا - ج - شَدْفُ -
 تَشَدَّقُ - فَصَاحَةٌ دِكَهَانَةٍ كَيْ يَسِيْعَ
 بِاَبْحَمِيْنِ كَهَوْنًا - بِالْكَلَامِ وَ فِیْهِ
 بلا احتیاط ہر قسم کی گفتگو کرنا۔ لوگوں
 کے ساتھ مسخری کرنا۔ ٹھٹھا کرنا۔
 اَلشَّدَقُ وَ اَلشَّدَقُ - بَايْحٌ - جَبْرًا - يَشْدُقُ
 الْوَادِي - وَادِي كَا كِنَارِهِ - ج - اَشْدَاقُ
 وَ شَدُوْقٌ -
 اَلْاَشْدَقُ - پھوٹی باپھوں والا فصیح الکلام
 اَلشَّدَقُ وَ اَلشَّدَاقُ - پھوٹی باپھوں والا
 شیر۔
 اَلشَّدِيْقُ - كَابِهِنٌ سِيْعٌ اَوْ دَرَجَةٌ كَابِدْرِي -
 شَدَنُ رَفٍ (شَدُوْقًا) - اَلطَّبِيْعِيُّ - ہرنی کا
 قوی ہو کر ماں سے بے نیاز ہونا۔
 اَشْدَانِي - اَلطَّبِيْعِيُّ - چلنے کے قابل بچہ
 والی ہونا۔ مَفْعٌ (مَشْدَانُ) - ج -
 مَشَادِيْنٌ وَ مَشَادِيْنٌ -
 اَلشَّدَانُ - چنبیلی کے مانند پھول دینے والا
 ایک پروا۔
 اَلشَّادِنُ - فَا - جَبْ مَطْلُوقٌ بُولَا جَائِعٌ تَوْبَرِنُ
 کا بچہ مراد ہوتا ہے۔
 شَدَاةُ رَفٍ (شَدْحًا) - الرَّاسُ - سر کھلنا۔
 رَهْدَاةٌ وَ اَشْدَاةٌ (الرَّجُلُ) - دُفْعًا
 مِیْنِ اَلنَّاسِ -
 شَدَاةٌ - حِرَانٌ ہونا۔ پریشان ہونا۔ دہشت
 زدہ ہونا۔
 اَلشَّدَاةُ وَ اَلشَّدَاةُ - حِرَانٌ ہونا۔
 اَلشَّدَاةُ وَ اَلشَّدَاةُ وَ اَلشَّدَاةُ -
 حیرت و دہشت۔

اَلْمَشَادِيْدَةُ - مَشَاغِلٌ حِرَانٌ كَرْنِي وَ اَلْمَشَادِيْدَةُ
 شَدَاةٌ اَبْيَدٌ وَ شَدَاةٌ - الرَّجُلُ - گامگام
 شعر پڑھنا۔ اَلْاَبِلُ - اونٹ کو صدی گام
 کرنا کھنا۔ اَلشَّعْرُ - شعر کو رگ سے
 اور گام پڑھنا۔ مِیْنِ الْعِلْمِ شَيْئًا -
 کچھ علم حاصل کرنا۔ مَفْعٌ (اَشَادِيْدُ) -
 ج - شَدَاةٌ وَ شَادُوْنٌ - شَدَاةٌ
 فُلَانًا اَوْ يَهْلَانِ - تشبیہ دینا۔
 شَدَاةٌ شَدُوْدَةٌ - وہ اس کی چال چلا۔
 اَشْدِي اَشْدَاةً - عمدہ گانا گانا۔
 اَلشَّدَاةُ - قُوْتٌ كَابْقِيَّةٌ - گرمی۔ کھلی۔ مِیْنِ
 اَلشَّيْءِ - چیز کی حد۔ کنارہ۔ کہتے ہیں۔
 "اَلْحَدِيْقُ مِیْنِ الْمَرِيضِ اِلَیْ اَلشَّدَاةُ"
 جبکہ مریض قریب الموت ہو۔
 اَلشَّدَاةُ - م - بہت میں سے تھوڑی مقدار۔
 شَدَنُ رَفٍ (شَدْحًا) اَوْ شَدُوْدًا - عِیْنُ
 الْجَهْمُوْرِ اَوْ الْجَمَاعَةِ - ہدا ہونا۔
 اکیلا ہونا۔ اَلْقَوْلُ - خلاف قیاس
 ہونا۔ عِیْنُ الْاَصُوْلِ - خلاف قاعدہ
 ہونا۔ مَفْعٌ (شَادِيْدٌ) - ج - شَدَاةٌ وَ
 شَادُوْدٌ - مَوْنُثٌ (شَادِيْقٌ) - ج -
 شَادُوْدٌ - وَ اَلشَّدَاةُ مِیْنِ النَّاسِ -
 تھوڑے لوگ۔ اجنبی لوگ۔ شَدَاةٌ
 الْاَفَاقِي - مسافر لوگ۔
 شَدَاةُ رَفٍ (شَدْحًا) اَوْ شَدُوْدَةٌ - شَادُوْدًا -
 اَشْدَاةً - ناوربات کھنا۔ اَلشَّيْءُ - ہدا کرنا۔
 دور کرنا۔ شَادُوْدًا -
 اَلشَّدَاةُ وَ اَلشَّدَاةُ - کھری ہوئی کنکریاں
 یا پتھریاں۔ شَدَاةُ النَّاسِ -
 متفرق لوگ۔
 شَدَبُ رَفٍ (شَدْبًا) وَ شَدَبٌ -
 اَللِّحَاءُ - چھال چھینا۔ اَلشَّيْءُ - کاٹنا۔
 شَدَبًا وَ شَدَبُ الْفَجْوِ - درخت کی
 شاخ تراشی کرنا ہتھیار چھانٹنا۔ اَلْمَالُ -
 مال کھینچنا۔ شَدَبٌ عَنْهُ - دفع

کرنا۔ ہٹانا۔ شذوبہ۔ دستکارنا، مکانا۔
 تَشَذَبُ۔ ہٹنا۔ دور ہونا۔ القوم۔ قوم کا متفرق ہونا۔
 الشذوب۔ درخت کے کڑے متفرق کڑیاں چھلکے بھر کا سامان۔ کھائی ہوئی گھاس کا باقی ماندہ حصہ۔ ج۔ اَشَذَابُ۔
 الشذوبہ۔ درخت کی کائی ہوئی شاخ۔
 الشاذب۔ ف۔ وطن سے دور۔
 المشوذب۔ من الوجال۔ لہا خوبصورت قد والا۔ ہر چیز کا بہترین حصہ۔
 المشذب۔ شاخ تراشی کا آلہ۔
 المشذب۔ مفع۔ کانٹے اتارنا ہوا تہ۔ فوس مشذب۔ لہا پتلا گھوڑا۔
 شذّر۔ النقطہ لای کونکے سے جا کرنا۔ شذّر کلاماً بشعب۔ کلام میں شعر داخل کرنا۔ بفلان کسی کو ہڈ نام کرنا۔
 تشذّر۔ لڑائی یا شکر کے لیے تیار ہونا۔ غصے ہونا۔ جستی سے کام لینا۔ ج۔ طامنا۔
 دھکی دینا۔ القوم۔ آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ جانا اور ہر ایک کا اپنے اپنے راستہ لگانا۔ القوم مرفی الحروب۔ حد سے گزرنا۔
 الشذّر۔ سونے کے بڑے یا مکڑے، جو کان سے چنے جائیں۔ مکے جن سے جواہر کی لڑی میں فاصلے دیے جائیں۔ چھوٹے موتی۔ واحد (شذرة) ج۔
 شذرات وشذرات۔ "كَلَفُوا شَذْرًا مَذْرًا وَشَذْرًا عَذْرًا" وہ مختلف سمتوں میں بھڑ گئے۔
 المشوذس۔ بڑی چادر۔ ہے آستین قبعی۔
 شذوبت، شذفا۔ "مَا شَذَفْتُ مِنْهُ بَقِيَّةً" میں اس سے کوئی چیز حاصل نہ کر سکا یہ کلمہ حرف نفی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا،

الشذام۔ بھویا بڑا کڑک۔ نمک۔
 الشيدمان۔ بھیریا۔ الشيدمانة۔ تیز رو جوان اونٹنی۔
 شذو ايضو شذوا۔ مشک لگانا۔
 بالخبر۔ خبر معلوم کر کے اس کو سمجھانا۔ (واشذی) فلانا۔ اذیت پہنچانا۔ واشذاة عنه۔ دور ہٹانا۔
 شذی تشذیة۔ بالخبر۔ خبر معلوم کر کے اس کو سمجھانا۔
 المشذو۔ م۔ مشک۔ مشک کی خوشبو۔
 الشذا۔ بڑی تیزی۔ اذیت و برائی، نمک۔ کھجلی، مساکوں کا درخت۔ مکڑی کے مکڑے۔ کسی۔ ایک قسم کی کھفتی۔
 الشذاة۔ شذنا کا واحد۔ ج۔ شذوات۔ قوت کا بقیہ۔ پرانی چیز۔
 شذرن من س، شذرا وشذرة وشذرا۔ شری ہونا۔ شرا گیز ہونا۔ صفت مذکر (شذرة) ج۔
 آشذرا وشذرا واشذرا۔ شذرن، شذرا۔ اللحم الثوب۔ گوشت یا کپڑے کو دھوپ میں خشک ہونے کے لیے ڈالنا۔ فلانا۔ عیب لگانا۔
 شذر واشذر۔ اللحم والثوب۔ گوشت یا کپڑے کو دھوپ یا ہوا کے سامنے سوکھنے کے لیے رکھنا۔ برائی کی طرف نسبت کرنا۔ لوگوں میں مشہور کرنا۔ دستکارنا۔ آشذر الشيء۔ ظاہر کرنا۔
 شذرا۔ شذرا کرنا۔ شذرا شذرا۔ ہام جھگڑنا۔
 الشذ۔ م۔ برائی، کینہ، دشمنی، جنگ، عیب ج۔ مشورہ۔
 الشذة۔ برائی، تیزی جستی، غصہ، طیش۔ ہلکان۔ حرص۔

شذو الکتاب۔ جمال کی جستی۔
 انشذو۔ شز۔ مکروہ۔ کہتے ہیں: مَا قُلْتُ ذَلِكَ لِشذرك۔ یعنی میں نے تیری کراہت کی وجہ سے یہ نہیں کیا۔
 الشذو والشراس۔ آگ کی اڑنے والی چنگاریاں۔ واحد (شذرة وشذرة) الشذیر۔ شرارت کرنے والا۔ ج۔ آشذرا واشذرا۔ موت۔ شذیرة۔
 الشذیر۔ سند کا حل۔ ج۔ آشذرة۔
 الشذیر۔ بہت شری۔ بڑا آہندہ۔ البیس کالقب۔ ج۔ شذیرون۔
 الاشذرة۔ پیرو غیرہ سکھانے کی چٹائی۔ اونٹوں کا بڑا گلہ۔ خشک گوشت کا ٹکڑا۔ ج۔ آشذیر۔
 الشذران۔ مہر کے مشابہ ایک کڑا جو چہرہ کے سامنے بغیر کانٹے کے اڑتا ہے۔
 شذرا۔ واحد شذرا۔ شرب دس، شربا وشربا وشربا و مشربا وشربا۔ الماء۔ پانی پینا۔ پانی کا گھونٹ لینا۔ سیراب ہونا: "أَكَلْ عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَشَرِبْتُ" وہ ہلک ہو گیا "أَكَلْ فَلَانٌ مَائِي" و"شربته" فلان میرا مال کھائی گیا۔ فنا کر دیا۔
 شرب رس، شربا۔ پیسا ہونا، پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا (شذرا) شربت یہ۔ کسی پر چھوٹ بولنا۔
 شرب دن، شربا۔ الکلام۔ کلام سمجھنا شربہ۔ پانی پلانا۔ نئی مہک پر مٹی اور پانی ملنا۔ تاکہ اس میں پانی خوشگوار رہے۔
 قضيب الزرع۔ کھیتی کے ڈنٹھل کا سیراب ہونا۔ السنبل الدقیق۔ کھیتی کی بالیوں میں گودا آنا۔
 اشربہ۔ پلانا۔ اشرب الرجل۔ پیاسا ہونا۔ پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔

دند اللون۔ گہرا رنگنا۔ الشوب
حُمْرَةً۔ کپڑے کو سرخ رنگنا۔ یہ۔
کسی پر جھوٹ بولنا۔ اشْرَبْنِي مَا نَحْنُ
اشْرَبُ: اس نے میرے پاسے میں
ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کو میں نے نہیں
کیا۔ الیہ۔ اونٹ باندھنا۔ اشْرَبْتُ
حُبَّ فُلَانٍ: اس کے دل میں فلاں
کی محبت بیٹھ گئی۔

شَارِبَةٌ مُشَارِبَةٌ و شَارِبًا۔ ساتھ پینا۔
تَشَارِبًا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا۔
تَشْرَبُ۔ الشوب العرق۔ کپڑے کا پسینہ
چوسنا۔

اسْتَشْرَبْتُ۔ لُونُهُ۔ رنگ کا تیز اور گہرا ہونا
اشْرَابٌ۔ للشیء و الیہ۔ گردن لپی
کر کے کسی کی طرف دیکھنا۔

الشوب۔ مم۔ شاربٌ: اسم فاعل کی جمع۔
الشوب۔ مم۔ پینے کا پانی۔ پانی کا حصہ۔
گھاٹ۔ پینے کا وقت۔ ج۔
اشْرَابٌ۔

الشوبۃ۔ جو یکبارگی پیا جائے۔ جو ایک
سانس میں پیا جائے۔ ایک بار پینا۔
الشوبۃ بھیرہ کی سرخی۔ سیراب ہونے کے
انگڑے کا پانی۔

الشوبۃ۔ زیادہ پینا۔ پیاس۔ گرمی کی
تیزی۔ ج۔ شرب و شربات۔
ماء شروب و شروب۔ پینے کے
قابل پانی۔ الشروب۔ بہت پینے والا۔
پینے میں ساتھی۔ ساتھ مل کر پانی لانے
والا یا ساتھ پانی پلایا جانے والا۔ اونٹوں
کو گھاٹ پر لانے میں ساتھی۔

الشوبۃ۔ گھاس والی زمین جس میں
درخت نہ ہوں۔ فادی کا کفارہ۔ راستہ۔
الشرب۔ ہر ایک پینے کی چیز پر اشربۃ
الشوبۃ و الشروب و الشرب و
الشروب۔ بہت پینے والا۔ شراب کا

بہت دلدارہ۔ پکا شرابی۔

الشربۃ۔ شوباب کا مؤنث۔ لوبی وغیرہ
کا پھندنا۔ ج۔ شرابیب۔ شربۃ
الغاری۔ ایک پودہ۔

المشارب۔ قا۔ ج۔ شوب۔ جانوروں
کی کمزوری۔ شارب الرجل۔
موتھ۔ دونوں طرف کا لحاظ کرتے ہوئے
تشبیہ لاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ شارباً
الرجل۔ اور اطراف و اجزا کا اعتبار
کرتے ہوئے جمع بھی لاتے ہیں۔ اور
کہتے ہیں۔ شوارب الرجل۔
الشوارب گلی کی رگیں۔ گردن
میں پانی کی گذرگاہیں۔

المشاربۃ۔ مؤنث المشارب۔ ج۔
شاربات و شوارب۔ دریا کے
کنارے بسنے والی قوم۔

الشروب۔ پانی پینے والے۔
الشرابی۔ سقہ۔ ہشتی۔

المشرب۔ پانی۔ پانی پینے کی جگہ اور آجکل
خواہش نفس کے معنی میں بھی آتا ہے۔
کہتے ہیں۔ وَاَفَقَ الْأَمْرُ مَشْرَبَةً
معاملہ اس کی خواہش کے مطابق ہوا۔

المشربۃ و المشربۃ۔ نرم ہمیشہ مر سبز
رہنے والی زمین۔ پینے کی جگہ۔ پینے
پلانے کا کمرہ۔ ج۔ مشارب۔

قھام حذو مشربۃ۔ بہت پیاس
لگانے والا۔ اور پانی پلانے والا کھانا۔

المشربۃ۔ پانی پینے کا برتن۔ ج۔ مشارب
المشروب۔ منع۔ ہر وہ شے جو
پی جائے۔ الشراب۔ سخت پھیل
والا شیر۔

شربق۔ الشرب۔ گھڑے گھڑے کرنا۔
الشربین۔ جڑ کا درخت۔

شربت (س) شربا۔ انشربت۔ یدۃ۔
سروی وغیرہ سے لاتھ کی کھل کا پھٹ۔

شربت العجل۔ بچے ہوئے ہاتھ
والا ہونا۔ صفت (شربت) النعل۔
جو تے کا تراخنا۔

المشرب۔ ہر پانی ہوسیدہ چیز۔
الشرب۔ من السیوف و الیسنة۔
تیز تلوار اور بھالا۔ الشربۃ۔ پھانا ہونا۔
شرب دن۔ شربجا۔ جھوٹ بولنا۔

الشی۔ جمع کرنا۔ الشرب بالماء
شراب میں پانی ملانا (و شرب و اشرب)
الججارتۃ۔ پتھروں کو ایک دوسرے
سے ملا کر تہہ رکھنا۔ الخربطۃ۔
کناروں کو ملا کر باندھنا۔ و شرب الشوب۔
لنگر مانا۔ کپڑے کو دو دو رٹانے لگا کر

سینا۔ عوام سترجہ بولتے ہیں۔
"اشربۃ صدرۃ علی کذا" کوئی
بات دل میں چھپانا۔

شربج۔ اللحج۔ گوشت میں چربی ملنا۔
شاربجہ۔ مشابہ ہونا۔

تشریب۔ الشیء فی الشیء۔ ایک چیز کا
دوسری چیز میں داخل ہونا۔ مل جل جانا۔
تشارجا۔ ایک دوسرے کے مشابہ
ہونا۔

الشرب۔ الشیء۔ چیز کا پھٹ کر دو کڑے ہونا۔
الشرب۔ مم۔ نوع۔ ہذا اشرب ذاک
یہ اس کے مثل ہے۔ ہما اشرب و اجد۔

وہ دونوں ایک نوع کے ہیں۔ فسرقہ۔
"أضربوا فی الأمر شرجین" وہ

کام میں دو طرفے ہو گئے۔ وہ دو فرقوں
میں بٹ گئے۔ نرم زمین کی طرف پانی
سننے کی نالی۔ ج۔ شربج و شربج۔

الشربجۃ۔ پانی کی نالی جو میان کی طرف
جاری ہو۔ وہ گڑھا جس میں کھال بھا کر
اس سے اونٹوں کو پانی پلایا جائے۔

الشربج۔ دانہ کی چھٹی جگہ۔ کاج۔ کمان۔
تربخ۔ ج۔ اشربج۔

کاٹ کر جھاڑنا۔ السَّكِينِ۔ مہری کو پتھر پر تیز کرنا۔ المَائِشِيَّةُ النَّبَاتُ۔ موشی کا گھاس چھنا۔
 تَشْرِيْرٌ۔ مَنَدٌ۔ بکمرنا۔ متفرق ہونا۔
 التَّشْرِيرُ وَالشَّرِيْرُ۔ زمین پر پھیلی ہوئی ایک قسم کی بیل۔ فاعداً تَشْرِيْرٌ۔
 يَتَوَاعَدُ شَوْشُرٌ۔ وہ ہینا ہوا گوشت جس سے چربی قطو قطو ٹپکتی ہو۔
 الشَّرِيْرَةُ۔ ایک قسم کی گھاس۔ ہر چیز کا لکڑا۔
 الشَّرَائِيْرُ۔ نفس۔ تمام بدن۔ اَنْقَى عَلَيْهِ شَرَائِيْرُهُ۔ اس نے اس سے اس قدر محبت کی کہ اپنی جان تک کو اس کی محبت میں ہلاک کر دیا۔ بوجھ۔
 شَرَائِيْرُ الذَّنْبِ۔ دُم کے اطراف۔
 الشَّرِيْرُ۔ ایک قسم کی چھوٹی چڑیا۔
 شَرِيْرَةٌ (دَن) شَرِيْرًا۔ کھینچنا۔
 شَرِيْرَةٌ وَشَرِيْرَةٌ۔ پکلا ہوا۔ گالی دینا۔
 الشَّرِيْرُ۔ مص۔ سختی۔ کھوپڑی۔
 الشَّرِيْرُ۔ کپٹی جہ۔ شَرِيْرٌ وَشَرِيْرَةٌ۔
 شَرِيْرٌ (مِن) شَرِيْرًا۔ عَلَيْهِ فِي بَيْعٍ وَ نَحْوِهِ۔ شرط لگانا۔ الْجِلْدُ۔
 جلد میں نشتر لگانا۔
 شَرِيْرٌ (مِن) شَرِيْرًا۔ کسی بڑے مشکل کام میں پٹنا۔
 شَرِيْرٌ۔ الْجِلْدُ۔ نشتر لگانا۔ المَغِيْرُ۔
 باندھنا مضبوط کرنا۔
 شَرِيْرَةٌ۔ ایک دوسرے سے شرط باندھنا۔
 اَشْرَطُ۔ اِلْيَئِذِ۔ فروخت کرنے کے لیے اونٹ کو نشان لگا کر علیحدہ کرنا۔
 اِلْيَئِذِ رَسُوْلًا۔ کسی کی طرف جلدی سے اپنی بیوی۔ نَفْسُهُ اَوْ مَالُهُ فِي اَمْرٍ۔ جان و مال کو کسی امر میں پیش کرنا۔ نَفْسُهُ يَكْذَابًا۔ تیار کرنا آمادہ ہونا۔ بِالْشَيْءِ وَفِيهِ۔ ہلکا

بھیننا اور شرط لگانا۔
 تَشْرَطُ۔ فِي الْعَمَلِ۔ اچھی طرح غور کرنا۔
 تَوَدُّهُ نَوَاهٍ نَوَاهٍ قِيُوْدًا لِّكَانَا۔
 تَشَارَطُ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگانا۔ تَشَارَطُوا عَلَي الشَّيْءِ۔ شرط لازم کرنا۔
 اِشْتَرَطَ۔ لَكَ يَكْذَابًا شرط لازم ٹھہرانا۔
 اِسْتَشْرَطَ۔ الْمَالُ۔ مال کا درستی کے بعد خواب ہونا۔
 الشَّرْطُ۔ مَص۔ لزوم۔ عدنامہ جہ۔ شَرْطٌ كَيْفِيٌّ، نِيْحٌ، جہ۔ اَشْرَاطُ۔
 الشَّرْطُ۔ مَص۔ علامت، نشان۔ ہر چیز کا شروع۔ ہر چھوٹی نالی۔ گھٹیا حقیر مال۔
 چھوٹے چھوٹے مال جہ۔ اَشْرَاطُ۔
 الْاَشْرَاطُ۔ رَفِيْلٌ لَوْنٌ۔ اشراف (مند) الشَّرْطَةُ۔ شرط۔ میدان جنگ میں سب سے پہلے اترنے والا فوجی دستہ۔
 شَرْطَةٌ كُلُّ شَيْءٍ۔ عمدہ و بہترین (مِن) الشَّرْطِيُّ، شَرْطٌ كَاوَاحِدٍ۔
 شَرْطٌ۔ والی کے اعوان و مددگار۔
 آج کل تلواروں کو کہتے ہیں۔
 الشَّرْطُ۔ میدان کارزار میں سب سے پہلے اترنے اور اپنی جان دینے والا فوجی دستہ۔
 الشَّرِيْرِيْطُ۔ مشروطہ کھجور کی بیٹی ہوئی رسی۔
 عمدت کی خوشبو وغیرہ رکھنے کی ڈبیر۔
 جہ۔ شَرْطٌ۔
 الشَّرِيْرِيْطَةُ مَشْرُطٌ۔ پھٹے ہونے کان والا لٹا جہ۔ شَرَايِيْطُ۔
 اَشْرَطُ۔ اِنْتَابِيْنِ۔ لوگوں میں رَفِيْلٌ تَرِيْنٌ آدمی۔
 الْمَشْرُطُ وَالْمَشْرَاطُ وَالْمَشْرَطَةُ۔ نشتر۔
 جہ۔ مَشَارِيْطٌ وَمَشَارِيْطٌ۔
 شَرَعَ (مِن) شَرَعًا۔ يَلْقُوْنِمْ۔ قوم کے لیے قانون بنانا۔ لَقُوْهُمُ الْعَطْرِيْقُ۔

راستہ چلنا یا اس کو ظاہر کرنا۔ الرَّجُلُ۔ حق ظاہر کرنا۔ باطل کو مٹانا۔ الْبَيْتُ۔ گھر کا لب بٹک ہونا۔ الْبَابُ اِلَى الطَّرِيْقِ۔ دروازہ کو راستہ کی جانب کھولنا۔ الْحَبْلُ۔ رسی کھول کر اس کے دونوں کناروں کو کڑے میں ڈالنا۔
 الشَّيْءُ۔ چیز کو بہت اونچا کرنا۔
 شَرَعَ (مِن) شَرَعًا وَشَرُوْعًا۔ فِي الْمَاءِ۔ پانی میں گھسنا یا پانی کو چلو سے پینا۔
 الْوَارِدُ۔ پانی کو منہ لگا کر پینا۔
 الْمَائِشِيَّةُ۔ موشی کو پانی پر لانا۔
 الْاَمْرُ۔ کام شروع کرنا۔ فِي الْاَمْرِ۔ کام میں مشغول ہونا۔ الْيَوْمَاحُ۔ نیزہ کو سیدھا کرنا۔ الطَّرِيْقُ۔ راستہ کا واضح کرنا۔ يَفْلُكِيْنِ۔ کسی کو پانی پر لانا۔ فُلَانٌ عَلَيْنَا۔ قریب ہونا اور جھانکنا۔ شَرَعَ يَضْرِبُ۔ وہ مارنے لگا (فعل مقارب)۔
 شَرَعَ وَاشْرَعَ۔ الطَّرِيْقُ۔ راستہ ظاہر کرنا۔ وَاضِحٌ كَرْنَا۔ هُوَ فِي الْمَاءِ۔ پانی میں داخل کرنا۔ شَرَعَ الْحَبْلُ۔ رسی کی گرہ کھولنا۔ شَرَعَ السَّيْفِيْنَةَ كَشَعِيْ فِي بَاوْبَانِ لِّكَانَا۔ اَشْرَعَ بَابَهُ اِلَى اَوْ عَلَي الطَّرِيْقِ۔ دروازہ کو راستہ کی طرف کھولنا۔ اَشْرَعَ عَلَيْهِ الرُّمْحُ۔ اس نے اس کی طرف نیزہ سیدھا کیا۔ اَشْرَعَ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو بہت بلند کرنا۔
 اَشْرَعَ۔ قَانُوْنٌ بَنَانَا۔ شَرِيْعَتٌ نَاْفِذَةٌ كَرْنَا۔ الشَّرْعُ۔ مَص۔ شَرِيْعَتٌ۔ مَذْهَبِيْ قَانُوْنٌ۔ شَرَعَكَ مَا بَلَّغَكَ الْمَحِيْلُ۔ تمہارے لیے اسی قدر زاویہ کافی ہے جو تم کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس کاوت سے اس شخص کو خطاب کیا جاتا ہے جس کو بقدر کفایت مہر کرنے کی نصیحت

کی جگہ (و الشروع والشروع) مثل برابر۔ کہتے ہیں "الناس في هذا شراع واحد" لوگ اس میں سب برابر ہیں۔ الشروع جوتے کا اسم۔ الشريعة والشريعة کان کرہ۔ کان کی تانت۔ الشريعة بھٹ تیر شکار کرنے کا جال۔ شریعت۔ مثل۔ پانی کی جانب راستہ۔ عادت۔ ج۔ شراع و شراع و شراع۔ کشتی۔ ج۔ اشراع۔ الشريعة بہادر۔ عمدہ کتان۔ من اللیفاء۔ درخت خرما کے سخت پیچھے والے کانٹے۔ الشريعة اسلامی قانون۔ خدائی احکام۔ ضابطہ۔ دہلیز۔ چوکھٹ۔ کنارہ دریا پر بسنے والوں کا گھاٹ۔ ج۔ شرايع۔ نھو الشريعة دریا ئے اردن۔ الشراع۔ فا۔ مؤنث۔ شراعۃ ج شراع و شراع و شراع۔ بیت شراع۔ وہ گھر جس کا دروازہ سڑک پر ہو۔ و الشراع۔ ج۔ شوايع۔ عام راستہ بہت چلتی ہوئی سڑک۔ یہ ماسحہ شاعۃ و شوايع۔ سیدھے کیے ہوئے نیزے۔ الشوايع من النجوم۔ ڈوبنے کے قریب ستارے۔ انفت اشراع۔ لمبے ہالے کی ناک۔ الشراع۔ ہر نصب کی ہوئی اور اٹھائی ہوئی چیز۔ مثلاً کشتی کا بادبان۔ کسان کی تانت۔ اونٹ کی گردن۔ ج۔ اشراعۃ و شراع۔ الشراعۃ ویری۔ الشراع۔ عمدہ کتان کا پیچھے والا۔ الشراعی۔ موافق شراع۔ الشراعی۔ لمبی گردن کا اونٹ۔ الشراعی۔ لمبے نیزے۔ ایک نیزے بنانے والے کی طرف منسوب

المشروع والمشرعة والمشرعة۔ پانی کا گھاٹ۔ ج۔ مشارع۔ المشرع۔ من البیوت۔ اونچا مکان۔ المشروع۔ سیدھا کیا ہوا۔ جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو۔ والامشرع المشروع۔ شروع کیا ہوا کام۔ شوعب۔ الادیب۔ چڑے کو لمبائی میں کاٹنا۔ الشوعب۔ لمبا۔ الشوعبی۔ ایک قسم کی چادر۔ خوبصورت جسم کا لمبا آدمی۔ شوقہ دن، شوقا۔ شرف میں غالب آنا۔ صفت منولی۔ (مشرؤف) الحائظ۔ دیوار پر کنگرہ بنانا۔ شرف دن، شرافۃ و شوقا۔ دین یا دنیا میں بلند مرتبہ والا ہونا۔ شریف ہونا۔ شرفۃ الناقۃ شوقا۔ بوڑھی ہونا۔ شرف رس، شوقا۔ بلند ہونا۔ شرافۃ۔ شرافت و بزرگی میں مقابلہ کرنا۔ شرافۃ المكان۔ چڑھنا۔ الشوق۔ اوپر سے جھانکنا۔ قریب ہونا۔ شرفۃ۔ بزرگی دینا۔ عزت کرنا۔ شرف البیت۔ گھر کے کنگرے بنانا۔ المكان۔ چڑھنا۔ اشرف۔ الشوق۔ بلند ہونا۔ کھڑا ہونا۔ المكان۔ چڑھنا۔ علیہ اوپر جھانکنا۔ لک الشوق۔ لیکن ہونا قدرت و طاقت میں ہونا۔ علی الموت قریب المرگ ہونا۔ علیہ۔ ڈرنا یا مہربان و شفیق ہونا۔ اشرفیت الخیل۔ گھوڑوں کا تیز دوڑنا۔ نفسۃ علی الشوق۔ حریف ہونا۔ بناک ہونا۔ اشرف۔ البیت۔ گھر کا کنگرے والا ہونا۔ الیوجل شرف بنا۔ بگڈا

اسنے لیے باعث شرف جاننا۔ المكان۔ چڑھنا۔ الشوق۔ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز کی نظر اٹھا کر دیکھنا۔ الشوق۔ جھانکنا۔ علی الشوق۔ اوپر سے جھانکنا۔ نشرف۔ القوم۔ قوم کے عزت دار لوگوں کا قتل ہونا۔ اشرف۔ سیدھا کھڑا ہونا۔ استشرف۔ سیدھا کھڑا ہونا۔ الشوق۔ ابرو پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا۔ استشرفۃ حقیقۃ کسی کا حق مار لینا۔ النفاق۔ بے عیب بکری کو تلاش کرنا۔ الشرف۔ مہم۔ بلندی و بزرگی۔ خاندانی شرافت۔ ج۔ اشراف۔ بلند مکان ناک۔ شرف البعیر۔ اونٹ کا کوبان۔ الشرف۔ شریف۔ الشرفۃ۔ خاندانی شرافت۔ الشرفۃ۔ من القصر۔ محل کا کنگرہ۔ ج۔ شرف۔ الشرفۃ من المال۔ مال کا عمدہ حصہ۔ الشرفۃ۔ شرفات۔ کا فائدہ۔ مثلث یا مربع برجیاں جو شہر بناہ یا محل کے اوپر ہی حصہ میں بنائی جاتی ہیں۔ الشرافۃ۔ فا عنقریب صاحب شرف ہونے والا۔ سلف شرافۃ۔ پرانا تیر۔ ان شرافۃ۔ پرانی شراب کا مشکا۔ من الشوق۔ بوڑھی اونٹنی۔ ج۔ شرف و شرف و شرف و شرف۔ الشرافۃ۔ بوڑھی اونٹنی۔ ج۔ شرافۃ و شرافۃ۔ شرف عزت والا۔ ج۔ شرفاء و

أَشْرَافٌ - مُؤَنَّثٌ - شَرِيفَةٌ - ج
شَرَائِفٌ وَشَرِيفَاتٌ - أَشْرَافُ
الْإِنْسَانِ - انْسان کے کان - ناک -
الأَشْرَافُ - اسم تفضيل - چمگادڑ - قَصْوٌ
أَشْرَفٌ - مؤنث - شَرَفَاءٌ - ج
شَرَفٌ - کنگرہ دار یا برجی والا محل -
رَجُلٌ أَشْرَفٌ - بلند کاندھے والا
آدمی - مَمْلُوكٌ أَشْرَفٌ - بلند
موندھا۔

الشَّرْفَاءُ - أَشْرَفٌ كَامُونَةٌ - مِنْ
الأَذَانِ - لمہا کان۔

المُشْرِفُ - مِنْ الأَمَاكِينِ - بلند جگہ۔
المُشْرِفُ - جھلکنے کی جگہ۔ ج۔ مَشَارِفُ
مَشَارِفُ الأَرْضِ - زمین کے بلند

مقامات

المُشْرِفِيُّ - عرب کے ان دیہات کی طرف
نسب جو شام کے علاقہ کے قریب
ہیں اور جن کو مَشَارِفُ الشَّامِ -
کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سَيْفٌ
مَشْرِيفِيٌّ - مشرقی علاقوں کی بنی
ہوئی تلوار۔

المُسْتَشْرِفُ - بلند۔

شَرْقِيٌّ (شَرْقِيٌّ) - الشَّاقَةُ - بکری کا کان
لبائی میں پیرنا۔ صفت مفعول
رَشْرَقَاءُ - الثَّمَرُ - پھل چننا
تورنا۔

شَرَقْتُ دِينَ شَرْقًا وَشَرْقِيًّا - الشَّمْسُ
سورج کا ٹکنا۔ اللَّحْلُ - درخت نما
پر کھجور کا گند ہونا۔

شَرِيفٌ دِينَ شَرْقًا - بِرِيْفِيَّةٍ - تھوک
سے گلا گھٹ جانا۔ شَرَقْتُ
عَيْنِي - آنکھ کا سرخ ہونا۔ تَوْنَةٌ
خمر سے سرخ ہونا۔ الجَرْمُ بِالذَّمِّ -
رغم کا خون سے بھرننا۔ الذَّمُّ فِي
عَيْنِي - آنکھ میں خون ظاہر ہونا۔

المَوْضِعُ بِأَهْلِيهِ - کسی جگہ کا لوگوں
سے بھر کر تنگ ہونا۔ الشَّمْسُ -
سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔
الشيءُ - مخلوط ہونا۔ الأَرْضُ - زمین
کا پانی باری ہونے کے قابل ہونا۔
الشَّاقَةُ - بکری کے کان کا لبائی میں
چرا ہوا ہونا۔

شَرْقِيٌّ - مشرقی کوروانہ ہونا۔ چمک دار
جھیل چہرہ والا ہونا۔ اللَّحْمُ -
گوشت کے پارچے بنا کر دھوپ میں
خشک کرنا۔ الإِبْنَاءُ - عمارت کو
پھرنے وغیرہ سے پینا۔ الشيءُ
بالزَّعْفَرَانِ - زعفران میں رنگنا۔

الشَّرْقِيَّةُ - الشَّمْسُ - سورج کا طلوع
کرنا اور چمکنا۔ أَشْرَقَ وَجْهَهُ -
چہرہ کا چمکدار ہونا۔ المَكَانُ - سورج
کی چمک سے روشن ہونا۔ الرَّجُلُ -
طلوع آفتاب کے وقت داخل ہونا۔
أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ المَكَانَ - روشن
کرنا۔ الثَّوبُ فِي الصَّبِيحِ - کپڑے
کو گہرا رنگنا۔

أَشْرَقَهُ - بِرِيْفِيَّةٍ - اچھو لگانا۔ اللَّحْلُ -
درخت طوا پر کا گدڑ ہونا۔

شَرَقِيٌّ - دھوپ میں بیٹنا۔
أَشْرَقَتِ - العُيُوسُ - کان کا پھٹنا۔
إِشْرَاقٌ إِشْرَاقِيٌّ - العَيْنُ
بالذَّمِّ - آنکھ کا آسوں سے
ڈوب جانا۔ سَرخ ہونا۔

الشَّرْقِيُّ - مع۔ سورج۔ سورج کے نکلنے
کی جگہ۔ پھٹنا۔ ج۔ أَشْرَاقٌ -
المَشْرِقُ - دروازے کا دروازے سے آنے
والی روشنی۔

المَشْرِقِيُّ - مع۔ آفتاب۔
الشَّرْقِيَّةُ - شَرْقِيٌّ كَأَسْمَةِ - سردی کے
موسم میں دھوپ کی بیٹھنے کی جگہ۔

رَبِّ وَالشَّرْقَةَ، چڑھنے کے وقت
کا سورج۔

المَشْرِيقُ - طلوع ہونے والا آفتاب۔
خوبصورت لڑکا۔ ج۔ شَرْقٌ -

المَشْرِيقُ مع۔ أَيَّامُ المَشْرِيقِ - میدانِ فضی
کے بعد کے تین دن جن میں گشت
خوش کیا جاتا ہے نمازِ عید۔

المَشَارِقُ - نکلنا جو سورج۔ سورج کے
سوا ستاروں پر بھی اس لفظ کا اطلاق
ہوتا ہے۔ پارہ وغیرہ کا مشرقی پہلو۔
ج۔ شَرْقٌ -

المَشَارِقُ - چڑھنے کا پسٹر۔ راکھ لانا
ہونا۔

المَشْرِقُ وَالمَشْرِقُ وَالمَشْرِقُ - سورج
کے طلوع ہونے کی جگہ یا سمت۔ ج۔
مَشَارِقُ -

المَشْرِقَةُ وَالمَشْرِقَةُ وَالمَشْرِقَةُ وَ
المَشْرِاقُ وَالمَشْرِيقُ - موسمِ سرما
میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ مَشْرِيقُ
البَابِ - دروازہ کی دروازے میں سے
طلوع آفتاب کے وقت دھوپ اندر
آئے۔

المَطْرَقُ - مفعول۔ چڑھنے سے پسٹر کیا ہوا۔
الشَّرْقِيُّ وَالمَشْرِقِيُّ وَالمَشْرِقِيُّ
والمَشْرِقِيُّ - ایک چھوٹا پندہ حرام
اس کو شَرْقِيٌّ کہتے ہیں۔
شَرْكَةٌ دِينَ شَرْكًا - النُّعْلُ - جوتے
کا تسمہ لڑنا۔

شَرْكَةٌ دِينَ شَرْكًا وَشَرْكًا وَشَرْكًا وَ
شَرْكَةً - شَرِكٌ ہونا۔

شَرْكٌ - النُّعْلُ - جوتے میں تسمہ لگانا۔
أَشْرَكَةٌ - فِي أَمْرٍ - کسی کو اپنے کام میں
شریک کرنا۔ أَشْرَكَ بِاللهِ - اللہ کے
لیے شریک ٹھہرانا۔ صفت دُشْرِكٌ وَ
مَشْرِكِيٌّ - اسمِ شَرْكٍ - النُّعْلُ -

<p>كَشْرُونَ - الشئُ. سمحت ہونا۔ وغوار ہونا۔ لَهُ فِي الْخُصُومَةِ. جھگڑے میں درستی سے پیش آنا۔ لِلْسَفْرِ۔ سفر کے لیے تیاری کرنا۔ رَشْرَانَا وَتَشْرِيْنَا، الرَّجُلُ۔ پچھاڑنا۔ النَّاقَةُ۔ بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا۔ الشُّرُونُ۔ چوسر کھینے کا ٹہرہ۔ الشُّرُونُ وَالشُّرُونُ۔ سختی۔ طرف۔ جانب دوری۔ زمین کی سختی۔ مِنَ الْعَيْشِ۔ زندگی کی تنگی و سختی۔ الشُّرُونُ۔ چوسر کا ٹہرہ۔ الشُّرُونَةُ۔ سختی۔ شَرًّا يَشْرُو شَرًّا۔ بلند ہونا۔ شَسَّ (رَض) شَسُوسًا۔ خشک ہونا۔ الشَّاسُ۔ لاغر، کمزور۔ الشَّاسُ۔ پتھر کے مانند سخت زمین۔ ج شَسَّاسٌ وَشَسُوسٌ وَشَسِيْبٌ۔ شَسِيْبٌ (رَس) وَشَسِيْبٌ (رَك) شَسِيْبًا شَسُوبًا۔ خشک اور دہلا ہونا۔ صفت شَسِيْبٌ۔ ج۔ شَسِيْبٌ۔ الشَّيْبُ وَالشَّيْبِيُّ۔ مِنَ الْقَبِيْبِ۔ پتلی لکڑی والی کمان۔ الشُّسُوبُ۔ مِنَ النُّوقِ۔ وہ اونٹنی جس کا بچہ جاڑے میں مر گیا ہو اور بچہ وہ دودھ نہ دے۔ شَسَعٌ (رَف) شَسَعًا وَشَسُوعًا۔ الْمَنْزِلُ۔ دور ہونا۔ صفت (شَسُوعٌ۔ ج۔ شَسَعٌ وَرَشَايِعٌ) شَسَعًا وَشَسَعٌ وَشَسَعٌ۔ النُّحْلُ۔ جھتے کے لیے تسمہ بنانا۔ وَشَسَعٌ الشَّيْعُ۔ دور کرنا۔ شَسِيْعٌ (رَس) شَسَعًا۔ النُّحْلُ۔ جھتے کا تسمہ لٹانا۔ پہ۔ دور کرنا۔ الشَّيْعُ۔ جوتی کا تسمہ۔ کہتے ہیں: أَدْنَى</p>	<p>خَشَكٌ هُونًا۔ صفت (شَارِبٌ)۔ کہتے ہیں: رَجُلٌ شَاحِبٌ شَاذِبٌ۔ رنگ بدلا ہوا خشک و بلا آدمی۔ ج۔ شُرْبٌ وَشَوَاذِبٌ۔ شُرْبٌ۔ الْفَدَسُ۔ گھوڑے کو لاغر کرنا۔ كَشَاذِبٌ۔ الْقَوْمُ عَلَى الْمَاءِ وَغَيْرِهِ۔ ہر ایک کا اپنے حصے کے لیے انتظار کرنا۔ الشُّرْبَةُ۔ اسم مرہ۔ کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔ دہلی گدھی۔ الشُّرْبَةُ۔ فرصت۔ الشُّرْبِيُّ۔ ان گھوڑ لکڑی۔ وہ کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔ ج۔ شُرُوبٌ۔ الشُّرْبُ۔ علامت، نشان۔ شَرَرٌ (رَض) شَرًّا۔ الرَّجُلُ وَالْكَبِيْبُ۔ غصہ میں تریجھی نظر سے دیکھنا۔ فَلَانًا۔ دائیں بائیں سے نیزہ مارنا نظر بد لگانا۔ شَرَزَرٌ (رَض) شَرًّا وَاسْتَشْرَزَ۔ - الْحَبْلُ۔ رسی بٹنا۔ اسْتَشْرَزَ الْحَبْلُ۔ رسی کا بٹ جانا۔ اسْتَشْرَزَ الشَّيْعُ۔ بلند کرنا یا ہونا۔ أَشْرَزَةٌ۔ اِنَّهُ۔ ایسی مصیبت میں انا کہ اس سے خلاصی کی راہ نہ مل سکے۔ تَشْرَسُ۔ غضب ناک ہونا۔ لِلْقِتَالِ۔ آمادہ پیکار ہونا۔ شَاذِرَةٌ مُشَاذِسَةٌ۔ دشمنی کرنا۔ تَشَاذِمًا۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کی طرف غصہ سے دیکھنا۔ الشُّوْسُ۔ مہن سختی۔ دشواری۔ دھاگا جو ایک جیسا نہ ہو۔ الشُّوْرُ وَالشُّوْرَاةُ۔ آنکھ کی سرخی۔ الْأَشْوَامُ۔ سُرْخٌ۔ عَيْنٌ شُرْسَاءٌ۔ غصہ کی وجہ سے سُرْخٌ آنکھ۔ شُرُونٌ (رَس) شُرُونًا۔ الرَّجُلُ۔ چست ہونا۔</p>	<p>کڑوا بھی ہے۔ درخت نما جو بیج سے اُکھا ہو۔ واحد (شُرِيَّةٌ)۔ الشُّرَاءُ۔ ج۔ أَشْرِيَّةٌ۔ وَدَالِشْرِيٌّ، خرید و فروخت۔ الشُّرَاءُ۔ جانب۔ طرف۔ الشُّرِيٌّ۔ پتی اچھلنے کی بیماری۔ پہاڑ راستہ۔ طرف۔ جانب۔ ج۔ أَشْرَاءُ وَدَخَلُوا أَشْرَاءَ الْحَرَمِ۔ وہ اطراف حرم میں آئے۔ وَالشُّرَاةُ، مال کا عمدہ یا رومی حصہ۔ الشُّرِيٌّ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ اچھا بست تیز رفتار گھوڑا۔ الشُّرِيَّةُ۔ مَوْنُ الشُّرِيِّ۔ طریقہ، طبیعت الشُّرُوِيٌّ۔ مثل۔ ایک جیسا۔ مشابہ۔ (واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے یکساں مستعمل ہے، کہتے ہیں۔ "إِنَّهُ لَا يَمْلِكُ شُرُوِيٌّ نَقِيْرٌ" یعنی وہ نقیر کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں۔ یہ کم مائیگی کے لیے ضرب المثل ہے۔ نقیر وہ گڑھا جو کھجور کی گٹھلی میں ہوتا ہے۔ الشُّرِيَانُ۔ وہ درخت جس سے کمانیں بناتے ہیں۔ وہ اچھلنے والی رگ جس میں سرخ خون دوران کرتا ہے۔ الشُّرِيَانَاتُ۔ بدن کی باریک باریک رگیں۔ الشُّارِيٌّ۔ فَا۔ ج۔ شُرَاةٌ۔ خریدنے والا گاہک۔ خارجی۔ المُشْتَرِيٌّ۔ ایک سیارہ کا نام۔ خریدنے والا۔ ایک قسم کا پرندہ۔ شُرُوِيَّةٌ۔ الزَّرْعُ۔ کھیت کے بڑے ہوئے فرورساں پتے چھانٹنا۔ شُرْرٌ (رَض) شُرْرًا۔ بہت خشک ہونا۔ صفت (شُرْرٌ وَشُرْرِيٌّ)۔ شُرْبٌ (رَض) وَشُرْبٌ (رَك) شُرْبًا شُرُوبًا۔ کھردرا ہونا۔ یا لاغر اور</p>
---	--	---

مِنَ الشَّيْبِ: وَهُوَ بَرْدٌ كَثِيرٌ مِنْهُ يَنْبَغِي
 زِيَادَةً تَرِيحًا مِنْهُ تَنْجُ زَيْمًا كَيْسِي بَلْ
 كَاثَرَهُ - تَقْوَى الْبَاهِتِ مَالِ رَعْدٍ
 "هُوَ شَيْبٌ مَالٍ: وَهُوَ مَالٌ كَاثَرًا
 تَقْلَمُ بِهِ - جَوْرُ الشَّيْبِ
 شَفَّتْ رَسًا وَشَفَّتْ رَاكًا شُسُوفًا وَ
 شِسَافَةً وَشِسَافَةً - دَبْلَا سَوْكًا
 هَوَّنَا - صَفَتْ (شَايِبًا وَشَيْبَةً)
 الشَّيْبُ: خَشْكٌ رَوْنٌ - الشَّيْبُ: كَبِي
 كَبُورٌ يَهْرُ خَشْكًا كِي هَوْنٌ
 الشَّيْبُ: وَهُوَ شَخْصٌ جَسَدٌ كَاثَرٌ لَاغِي مِنْ
 خَشْكٍ هَوْنٌ لَكَا هَوْنٌ
 شَفَّتْ رَسًا مِنْ شُسُوفًا وَبِشَايِبًا
 الشَّيْبُ: أَوْثَنٌ كَاثَرٌ كَمِ دَوْدٍ
 وَالِي هَوْنًا - المَعِيشَةُ: تَنْجُ كَذَرَانِ
 هَوْنًا - الرَّجُلُ: دَوْرٌ هَوْنًا - مَا
 أَدْرِي أَيْنَ شَيْءٌ: لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا
 وَهُوَ كَمَا لَمْ يَكُنْ
 شَفَّتْ رَسًا شَفَّتًا وَبِشَايِبًا - عَن
 كَذَا - مَنَعُ كَرْنَا - دَوْرٌ كَرْنَا - أَشْفَى
 الرَّجُلُ: دَوْرٌ يَجْلُو جَانًا - أَشْفَى
 النَّاقَةَ: أَوْثَنٌ كَاثَرٌ دَوْدٍ
 وَالِي هَوْنًا
 الشَّيْبُ: مَشَاقِقٌ هَوْرٌ - جَوْرٌ شُسُوفٌ
 رَسًا وَبِشَايِبًا - مَحَلٌّ يَكْرَهُ كَاثَرًا
 جَوْرٌ شُسُوفٌ
 الشَّيْبُ: مِنَ النَّوْقِ أَوْ الشَّيْبَةِ - تَقْوَى
 دَوْدٍ وَالِي أَوْثَنٌ كَاثَرٌ - جَوْرٌ
 شُسُوفٌ وَبِشَايِبًا وَبِشَايِبًا
 سَنَةٌ شُسُوفٌ - خَشْكٌ سَالٌ: نَقَى
 اللَّهُ عَنْكَ الشَّيْبَةَ: مَشَرَّتَانِي
 مَشَرَّتَانِي كَوْمًا مِنْهُ
 شَبَّ رَسًا شُبُوبًا وَشَبَّ رَسًا
 شَبَّ: العَيْشُ: كَذَرَانِ كَاثَرٌ وَ
 هَوْنًا - سَنَةٌ شَبَّ: الأَمْرُ

مَعَالِمٌ كَاثَرٌ هَوْنًا - المَكَانُ: كَيْسِي
 بَلْ كَاثَرٌ زَهْرًا هَوْنًا
 شَبَّ رَسًا شَبَّ: الشَّيْبَةُ - الشَّيْبَةُ: كَبْرِي كَا
 هَوْرًا كَاثَرًا - أَشْبَبَ اللَّهُ عَيْشَهُ
 رَسًا كَاثَرٌ وَبِشَايِبًا
 الشَّيْبُ وَبِشَايِبًا - خَشْكِي
 الشَّيْبُ: سَمَقٌ - خَشْكٌ سَالِي - حَصْرٌ جَوْرٌ
 أَشْبَابُ الشَّيْبُ: كَمَا لَمْ يَكُنْ
 هَوْنٌ كَبْرِي - مَعِيشَةُ شَبَّ: بِرُ
 تَكَايِفُ زَنْدِكٌ
 الشَّيْبُ: حَصْرٌ - مَسَافِرٌ
 الشَّيْبَةُ: سَمَقٌ - خَشْكٌ سَالِي - كَنْوَيْسِي
 كَرَانِي - جَوْرٌ شَبَّ: الشَّيْبَةُ
 پَالَانِ كَلْطَايَا
 الشَّيْبَةُ: قَصَابٌ - قَصَابٌ
 شَفَّرَ رَسًا شَفَّرًا - التَّوْبُ: سَلَايِي
 دَوْرٌ دَوْرٌ لَكَا - فَلَانًا بِالرَّمِيحِ
 نِيْزَةً مَارِنًا - الشَّيْبُ: رَسًا كَاثَرٌ
 كَيْسِي مَارِنًا
 الشَّيْبُ: مَضْبُوطٌ أَوْ قَابِلٌ حَرَكَتِ هَرْنِي كَا
 بَلْ - كَبْرِي - مَحَلٌّ يَكْرَهُ - جَوْرٌ شَبَّ
 الشَّيْبُ: الشَّيْبُ مِنَ الشَّيْبَةِ مَضْبُوطٌ
 أَوْ حَرَكَتِ كَرْنِي كَيْسِي هَرْنِي كَا
 مَحَلٌّ يَكْرَهُ - مَوْزِي - شَابَرَةٌ - جَوْرٌ
 شَابَرَةٌ
 شَبَّ رَسًا شَبَّ: الشَّيْبَةُ وَبِشَايِبًا
 شَبَّ: البَصْرُ - مَكَانٌ كَاثَرًا
 - المَحَابُّ: بَدَلٌ كَاثَرٌ هَوْنًا
 القَرِيْبَةُ: مَشْكٌ كَاثَرٌ مِنْ شَبَّ
 مَحَلٌّ يَكْرَهُ جَانًا - المَيْتَةُ: مَيْتَةُ
 المَحَبَّرِيْنَ كَاثَرًا
 الشَّيْبُ: بَقِيَّةٌ - مَحَلٌّ يَكْرَهُ - الشَّيْبُ
 شَبَّ: سَمَقٌ - مَسَاكٌ
 شَبَّ رَسًا شَبَّ: شَبَّ وَشَبَّ: دَوْرٌ
 هَوْنًا - فَلَانًا - دَوْرٌ كَرْنَا - تَقْلَمُ كَرْنَا

شَطَّرَ رَسًا شَطَّطًا - زِيَادَتِي كَرْنَا - حَقٌّ مِنْهُ
 دَوْرٌ هَوْنًا - عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَحَكِيمًا -
 تَقْلَمُ كَرْنَا - فِي يَلْعَقَتِهِ - مَقْرَبَةٌ أَمَّا
 مِنْهُ آتِي بَرَحًا أَوْ بِشَيْءٍ كَرْنَا
 أَشَطَّ الشَّيْبُ وَبِشَايِبًا وَبِشَايِبًا
 زِيَادَتِي كَرْنَا أَوْ حَقٌّ مِنْهُ كَرْنَا
 حَقٌّ مِنْهُ دَوْرٌ هَوْنًا - عَلَيْهِ تَقْلَمُ كَرْنَا
 شَطَّطًا - زِيَادَتِي مِنْ مَبَالِغِ كَرْنَا
 شَطَّطًا - حَقٌّ مِنْهُ تَقَابُلُ كَرْنَا
 الشَّيْبُ: دَوْرٌ كَاثَرٌ يَأْتِي بِسَمَقٍ كَاثَرًا
 جَوْرٌ شَطَّطًا وَبِشَايِبًا - كَوْنٌ كَاثَرٌ
 جَوْرٌ شَطَّطًا
 الشَّيْبَةُ وَبِشَايِبًا وَبِشَايِبًا
 الشَّيْبَةُ: دَوْرِي - الشَّيْبَةُ
 الشَّيْبَةُ: خَوْشٌ قَامَتِي أَوْ رَاعِيَاءُ
 كَاثَرًا
 الشَّيْبَةُ: أَسْمَةٌ جَارِيَةٌ شَطَّطًا
 خَوْشٌ قَامَتِي مَنَاسِبُ الأَعْيَادِ لَوْنِي
 الشَّيْبَةُ: فَا - رَجُلٌ شَطَّطًا - سَدُولٌ بَدَنِي
 كَاثَرٌ - مَوْزِي - شَطَّطًا
 شَطَّطًا شَطَّطًا وَبِشَايِبًا - كَنَارُهُ يَأْتِي
 سَاعِلٌ بِرَحْلَةٍ - الدَّابَّةُ بِالْحَمَلِ
 جَانِبًا بِرَحْلَةٍ لَوْنًا - فَلَانًا - مَحَلٌّ
 كَرْنَا - الأَمْرُ بِالْوَلَدِ - مَحَلٌّ كَرْنَا
 وَبِشَايِبًا - الزَّمْعُ - كَيْسِي مِنْ بِلَالِي
 آتَا بِخَوْشَةٍ كَرْنَا
 أَشَطَّ الشَّيْبُ بِغَضَبِهِ: دَوْرٌ كَرْنَا
 نَكَانًا
 أَشَطَّ الرَّجُلُ: كَيْسِي كَاثَرًا هَوْنًا
 أَشَطَّ الوَاوِي: وَادِي كَاثَرٌ
 كَنَارُهُ بِرَحْلَةٍ - شَطَّطًا شَطَّطًا
 الشَّيْبُ: دَوْرٌ كَاثَرٌ كَرْنَا - مَحَلٌّ
 شَطَّطًا - كَيْسِي دَوْرٌ كَرْنَا
 الشَّيْبُ: كَرْنَا - جَوْرٌ شَطَّطًا

کہتی کے پتے۔ درخت خرمائے کے پودے
 - مِنَ الشَّجَرِ۔ درخت کے گرد گرد
 سے نکلنے والی شاخیں۔ ج۔ اشطاء
 الشَّاطِئُ۔ فا۔ مِنَ النَّهْرِ۔ دریا کا کنارہ
 سمندر کا ساحل۔ ج۔ شواطئ و
 شَطَانٌ۔
 شَطَبَ دُنَّ شَطْبًا۔ الشَّيْءُ۔ کٹنا یا
 لہائی میں پھاڑنا۔ هُ و شَطَبَ
 قَوْلَهُ۔ لیکر کھینچنا۔ الرَّجُلُ۔
 دور ہونا۔ عَنَهُ۔ اعراض کرنا۔ ہٹنا
 - الرَّمْحُ عَنِ مَقْتَلِهِ۔ نیزہ کا
 خطا کرنا۔

شَطَبَہ۔ جسم میں عمل تشریح کرنا۔
 تَشَطَّبَ۔ کٹنا یا چرنار۔ وانشطَبَ
 - الْمَاءُ وَنَحْوَهُ۔ پانی وغیرہ کا ہٹنا۔
 الشُّطْبُ۔ م۔ لیا۔ خوب صورت قد و
 قامت کا آدمی۔ درخت خرمائی نازک
 اور سبز شاخ۔ ج۔ شطوبٌ۔
 الشُّطْبَةُ۔ مِنَ النَّخْلِ۔ کھجور کی سبز
 شاخ۔ تلوار۔ ج۔ شطْبٌ۔ غلط
 عبارت پر کھینچی ہوئی لکیر۔ د۔ و
 الشُّطْبَةُ۔ لہی خوب صورت لڑکی
 اچھے گوشت والا گھوڑا۔

الشُّطْبَةُ وَالشُّطْبَةُ وَالشُّطْبَةُ۔ وہ
 خط جو تلوار کی دھار پر ہو۔ ج۔ شطْبٌ۔
 الشُّطْبِيَّةُ۔ اونٹ کی کونان کا لہائی میں
 کٹا ہوا گھڑا۔ ج۔ شطائبٌ۔
 الشُّطَائِبُ۔ مختلف گروہ۔ خدا کے مصائب
 رَجُلٌ مَشْطَبٌ۔ وہ شخص جس
 کے چہرہ پر تلوار وغیرہ کے زخم کا
 نشان ہو۔

شَطْرَ دُنَّ شَطْرًا۔ الشَّيْءُ۔ چیز کو دور
 برابر حصوں میں کرنا۔ بَيَّتَ الشَّعْبُ۔
 شعر کا نصف حذف کرنا۔ النَّاقَةُ
 اَوَانِشَاءُ۔ اونٹنی یا کبری کا نصف

عقن دو ہونا۔ شَطْرَ شَطْرٍ فُلَانٍ۔
 اس نے اس کی جانب قصد کیا۔
 شَطْرَتِ دُنَّ شَطْرًا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی
 کے عقن کے ایک حصہ کا لہا ہونا۔
 شَطْرَ بَصْرَةٍ۔ ترچھایا بھیگا دیکھنا۔
 - الدَّارُ دُونَ دَارٍ۔ شَطْرًا۔
 چالاک اور نصیحت ہونا۔ شَطْرًا
 شَطْرًا۔ شَطْرًا۔ عَنَهُمْ۔
 جدا ہونا۔ دور ہونا۔ عَلَى أَهْلِهِ۔
 شرارت سے برخلاف چلنا۔ اَلْيَسْمُ
 متوجہ ہونا۔

شَطْرَكَ شَطْرًا۔ شوخ و بیباک
 ہونا۔ چالاک و نصیحت ہونا۔
 شَطْرًا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کے
 ایک پستان کا دوسرے سے لہا ہونا یا
 ایک عقن کا سوکھ جانا۔

شَطْرَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کے دو حصے کرنا۔
 دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ الشَّعْرُ۔
 شعر کے ہر مصرعہ پر دوسرا مصرعہ بڑھانا۔
 - النَّاقَةُ بِالنَّاقَةِ۔ اونٹنی کے نصف
 عقن کو دو ہونا اور دوسرے کو چھوڑ دینا۔
 شَاطِرَةٌ۔ مآلہ۔ مال کو آدھا آدھا
 تقسیم کر لینا۔ فُلَانًا۔ کسی کے گھر
 کے پاس گھر رکھنا۔

الشُّطْرُ۔ جُزْءٌ۔ نصف۔ دوری۔ کنارہ۔
 طرف بَوَالٍ وَجْهَكَ شَطْرًا
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اپنا چہرہ مسجد
 حرام کی طرف پھیر۔ ج۔ اَشْطَرُ و
 شَطْرًا۔ کہتے ہیں۔ حَلَبٌ
 اَشْطَرُ الدَّاهِرِ۔ یعنی اس نے
 زمانہ کو خوب آزمایا اور اس کی اچھائی
 برائی سے واقف ہوا۔ هَذَا جَلْبٌ
 لَكَ شَطْرَةٌ۔ یہ ایسا کام ہے
 جس میں فریقین کے لیے نفع ہے۔

الشُّطْرَةُ۔ نَوْعٌ۔ اَوْلَادُ فُلَانٍ شَطْرَةٌ۔

فلاں کی اولاد میں آدھے لڑکے ہیں اور
 آدمی لڑکیاں۔

الشُّطْرَانُ۔ آدھا بھرا ہوا۔ مؤنث۔
 شَطْرِي۔

الشَّاطِرُ۔ فا۔ ہوشیار۔ چالاک۔ فریبی۔
 مکار۔ شریر۔ ج۔ شَطْرًا

الشُّطْرُ۔ مِنَ الْيَعَاجِرِ اَوِ النَّوْقِ۔ ایک
 عقن دوسرے سے لہا یا ایک عقن
 خشک رکھنے والی بھیڑیا اونٹنی۔ ثوبٌ
 شَطْرًا۔ وہ کپڑا جس کی ایک جانب
 دوسری سے لہی ہو۔ دَارٌ شَطْرًا۔
 وہ مکان جو دوسرے مکانوں سے
 جدا ہو۔

الشُّطَيْرُ۔ دور۔ اکیلا۔ مسافر۔ اجنبی۔ ج۔
 شَطْرًا و شَطْرًا۔ نصف۔ کہتے ہیں
 "هَذَا شَطْرٌ وَشَطِيرَةٌ"۔ یہ اس کا
 آدھا ہے۔ جیسے کہ "هَذَا اِنْصِفَةٌ
 وَنَصِيفَةٌ"۔

الشُّطْرُ نَجْرٌ۔ ایک مشہور کھیل ہے (فارسی سے
 مرعہ ہے) ج۔ شَطْرٌ نَجَاتٌ۔

شَطْسَ دُنَّ شَطْسًا۔ فِي الْاَرْضِ۔ سفر کرنا
 الشُّطْسُ۔ م۔ چالاک۔ وائالی۔ عقلمندی۔
 الشُّطْسُ وَالشُّطْسَةُ۔ مخالفت۔ عناد،
 دشمنی۔

الشُّطُوسُ۔ ہر طرف جانے والا۔ حکم کے
 مخالف چلنے والا۔

شَطَعَ رَسًا شَطْعًا۔ الرَّجُلُ۔ بیماری وغیرہ
 کی وجہ سے گھبراتا۔

شَطَفَ دُنَّ شَطْفًا۔ الرَّجُلُ۔ چلے جانا
 دور ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ۔ ہٹنا۔ ایک
 طرف ہونا۔ الثَّوْبُ وَغَيْرُهُ۔ کپڑا
 وغیرہ دھونا۔ سَهْمٌ شَاطِفٌ۔
 نشانہ کو خطا کرنے والا تیر۔ نَيْدَةٌ
 شَطُوفٌ۔ ارادہ دور و بے پایاں۔
 الشُّطْفَةُ۔ مِنَ الشَّيْءِ۔ ج۔ شَطْفٌ۔

<p>اِنشَطِي - مم - گھٹے یا کلائی کی تہی اور چھوٹی ہڈی یا ان کے چھوٹے چھوٹے پٹے - قوم کے پیروہ قوم میں اجنبی لوگ - الشَّيْطَانَةُ - کان - پنڈلی کی ہڈی - لکڑی یا ہڈی وغیرہ کا ٹکڑا - جہ - شَطَايَا و شَيْطِيٌّ - شَعْرٌ - رض - شَعَاءٌ و شَعَاعًا - الماء - پانی کا پھیلنا - ر - شَعَاءٌ و شَيْعِيًّا تیزی کرنا - جلدی کرنا - شَعْرَانٌ - شَعَاءٌ و شَعَاعًا - الماء - پانی بکھیرنا - شَعٌّ الغَارَةُ عَلَيْهِمْ - لوٹ ڈالنا - اشَعْرٌ - اشَعَاعًا - الماء و نحوئ - پانی وغیرہ بکھیرنا - الشمس - سورج کا اپنی کرنیں پھیلانا - الزئج - کھیتی کا خوشہ نکالنا - السنبل - بالی کا دانوں سے پُر ہونا - اشَعْرٌ - الدبُّ في الغنم - بھیرے کا بکریوں میں تباہی مچانا - الشَّعْرُ - کڑی کا جالا - شَعْرُ الشمس - سورج کی کرن - الشَّعَاعُ - سورج کی کرن - جہ - اشَعَّةٌ و شَعْعٌ و شَعَاعٌ - الشَّعَاعُ - مم - خون وغیرہ کا بکھیرنا - ہلکاسایہ - من اللبن - زیادہ پانی ملا ہوا دودھ ہر کھری ہوئی چیز کہتے ہیں - زَهَبُوا شَعَاعًا - وہ بکھر گئے - طَارَ قَلْبُهُ شَعَاعًا - اس کا دل غم سے پراگندہ ہو گیا - شَعَاعٌ - السنبل و شَعَاعَةٌ و شَعَاعَةٌ و شَعْعَةٌ - خوشہ کا خار - الشَّعْرُ و الشَّعْبُ - جلدی - والشَّعْرُ مِنْ كَلِّ شَيْءٍ - تفرق - شَعَبٌ رَفٌّ شَعْبًا - النوى - جمع کرنا - متفرق کرنا - درست کرنا - بگاڑنا (معد)</p>	<p>اشِطَّةٌ - الشَّيْطَانُ - بندھا ہوا اور - چری ہوئی لکڑی - جہ - اشْطَاظٌ - طَارُوا اشْطَاظًا او شَطَاظًا - وہ ہر طرف بکھر گئے - شَيْطَفَ رَسٌ شَطْفًا - العيش - تنگ گذران ہونا - الرجلُ - کسی کی زندگی کا تنگ ہونا - سستی کی زندگی گزارنا - صفت (شَيْطَفٌ) - العيش - شَيْطَفَتِ اليَدُ - لہجہ کا کھردرا ہونا - السهم - تیر کا کھال اور گوشت کے درمیان گھسنا - و شَطْفٌ رِكٌ شَطْفَةٌ الشجر - درخت کا خشک ہونا - مرجحانا مفت (شَيْطِفٌ) شَطْفَةٌ (ر) شَطْفَاعِنٌ كَذَا - منع کرنا - روکنا - الشَّطْفُ - مم - جہ - شَطَاظٌ - و - الشَّطَاظُ (تنگی) تنگی - سستی - الشَّطَاظُ - دُورِي - الشَّطْفُ - مع لاصحی کی پھین - الشَّطْفُ - خشک روٹی - لکڑی کی کھونٹی - جہ - شِطْفَةٌ - الشَّطْفُ - بدخلق - سخت جنگ جُو - عودٌ شَيْطِفٌ - ٹوٹی ہوئی لکڑی - اَرْضٌ شِطْفَةٌ - سخت اور خشک زمین - المشَطْفُ - بے ارادہ ہونے والا - شَطِيٌّ يَشْطِي شَطِيٌّ - پھٹنا - القوم - متفرق ہونا - شَطِيٌّ يَشْطِي شَطِيًّا - السقاء - پانی بھر کر تین جانا - الميْت - میت کے ماتھے پیروں کا اٹھنا - شَطِيٌّ تَشْطِيَةٌ - القوم - قوم کو پراگندہ کرنا - متفرق کرنا - القوس - گھٹنے کی باریک ہڈی کو پھاڑنا - اشْطِيٌّ - گھٹنے کی باریک ہڈی ہمارنا - تَشْطِيٌّ - پھٹنا - متفرق ہونا - العود - لکڑی کے ٹکڑے اڑنا -</p>	<p>شَطْنَةٌ رَنٌ شَطْنًا - مخالفت کرنا - دور کرنا - رسی سے باندھنا - شَطْنٌ - في الارض - ملک میں داخل ہونا - (شَطُونًا) الدار - گھر کا دور ہونا - - الوجُلُ - حق وغیرہ سے دور ہونا - اشْطَنَهُ - دور کرنا - شَيْطَنٌ - شَيْطَانَةٌ و تَشْيِطَنٌ - شیطانی کام کرنا - الشَّاطِئُ - فا - شریر خبیث - حق سے منحرف - الشَّطْنُ - رسی - جہ - اشْطَانٌ - بئو شَطُونٌ - گراکنواں - حَوْثٌ شَطُونٌ بہت سخت جنگ - الشَّيْطَانُ - دُور - الشَّيْطَانُ - جہ - شَيْطَانِيٌّ - بُرِي رُوح - ہر کس نافرمان خواہ انسان ہو یا جن یا جانور شَيْطَانِيٌّ العَرَبِ - عرب کے نافرمان و سرکش لوگ - سانپ - شَيْطَانٌ الفلَاةِ - پیاس - مَخَاظُ الشَّيْطَانِ ترسے - شراب - دَكْبَةُ شَيْطَانِيَّةٌ شیطان اس پر سوار ہوا یعنی وہ غبناک ہوا - شَيْطَانِيٌّ الواس - غصے کا جوش - شَطِيٌّ رَسٌ شَيْطِيًّا - بمعنی شَعْبِيٌّ - شَطِيٌّ - تَشْطِيَةٌ - النشاة - بکری کی کھال اتار کر اس کے گوشت کو جدا کرنا - اِنشَطِيٌّ - النوى - شاخدار ہونا - متفرق ہونا جدا جدا ہونا - شَطْنَةٌ رَنٌ شَطْنًا - الامور کسی معاملہ کا شاق ہونا - (و شَطْنًا و اشْطَلٌ) القوم منتشر کر دینا - دھتکار دینا - شَطًّا و اشْطًا - الجوايق - پورے کے کڑے میں لکڑی باندھنا - الشَّطْرُ - مم - باقی ماندہ دن - جہ - اشْطَاظٌ الشَّطَاظُ - ٹیلے سے سرے کی لکڑی جو پورے کے گوشوں میں لگائی جاتی ہے - جہ -</p>
---	--	---

پھاڑنا۔ الشیء۔ ظاہر ہونا۔ القوم۔
متفرق ہونا۔ الرجل۔ مرنا۔
شعبتہ المینۃ۔ موت کا اچانک
آن لینا۔ فلانا۔ مشول کرنا۔
اللعجاء العرس۔ نکاح کا گھوڑے
کو روکنا۔ اور پھر نا۔ الشعب لینی
شعبۃ من المال۔ مجھے اپنے مال
میں سے ایک حصہ دو۔ ساتھیوں کو
چھوڑ کر قوم کی طرف رخ کرنا۔ الامیر
رسول الی موضع کذا۔ اپنی بنا کر
بیچنا۔
شعب رس شعبا۔ الرجل أو الثور۔
آدمی کے دونوں غانوں اور بیل کے
دونوں سینگوں کے مابین فاصلہ ہونا۔
شعب واشعب۔ عنہ۔ ہمیشہ کے
لیے جدا ہونا۔ الشعب الرجل۔ مرنا
شاعب وشاعبت۔ نفسہ۔ مرنا۔
شاعب الحیوۃ۔ ہلاک کرنا۔
صاحبہ۔ جدا ہونا۔ دور ہونا۔
تشعبوا۔ متفرق ہونا۔ کبیرا۔ تشعب
الزرع۔ شاخدار ہونا۔ الثمر۔
نہ کی کئی شاخیں نکلا۔ عنہ۔ دور
ہونا۔ تشعبتھم القینۃ۔ فتنہ و فساد
نے ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ یا
متفرق کر دیا۔ تشعبت اغصان
الشجرۃ۔ درخت کی شاخوں کا ادھر
ادھر پھیل جانا۔ الشیء۔ درست ہونا
انشعب۔ عنہ۔ دور ہونا۔ اغصان
الشجرۃ۔ درخت کی جڑ سے شاخیں
چھوٹنا۔ الطریق أو القصر۔ راستہ یا
نہر کا پھٹنا۔ الشعب یہ القول۔
بات میں بات نکلا۔
الشعب۔ مم۔ بڑا قبیلہ۔ لوگوں کی جماعت
مثل۔ دوری۔ دور۔ سر کے ٹکڑوں کے
چھوڑ کر جگہ۔ دراز۔ شکاف۔ جواہر

شعوب
الشعوبۃ۔ ایک فرقہ ہے۔ جو عرب کو عجم پر
توزیع نہیں دیتا۔ واحد (شعوبی)
الشعب۔ پھاڑی راستہ۔ درہ۔ پانی کا
راستہ۔ بڑا قبیلہ۔ کونہ۔ کنارہ۔ ج۔
شعاب شعلت شعالی جلا وانی
بال بھوں پر غریب کہتے مجھ کو دوسروں
پر فضل و کرم کرنے سے باز رکھا۔
الشعب۔ مع۔ دونوں خانوں یا دونوں
کندھوں یا سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔
الشعبۃ۔ فرقہ۔ گروہ۔ درخت کی شاخ۔
دونوں کندھوں یا سینگوں کے درمیان
کا فاصلہ۔ پانی بننے کی جگہ۔ بڑی وادی
جو کھیتی کو سیراب کرے، کسی چیز کا حصہ۔
پھاڑ کی دراڑ۔ ج۔ شعب وشعاب
شعب الدھر۔ حالات زمانہ۔
شعب السقود۔ بیخ کے دندانے
جن میں گوشت جھوننے کے لیے لگاتے
ہیں۔ شعب لینی کلہا شعب الجیم
بمقارن۔ شعبتا الرجل۔ کجاوہ کے آگے
چھپکا حصہ۔ لینی مثلہ کثیرۃ
الشعب۔ اس مسئلہ سے بہت سی
تصریحات نکلتی ہیں۔
شعبان۔ قری سال کا آٹھواں مہینہ۔ ج۔
شعبان و شعبانین۔
شعب۔ موت دفعہ معروف ہے،
الاشعب۔ کندھوں یا سینگوں کے درمیان
بہت فاصلہ رکھنے والا۔ ٹوٹے سینک
والا۔ مؤنث شعبا۔ ج۔ شعب۔
الشعب۔ دراز کو جھوننے والا پیش کا نام
(الشعبانہ)
الشعبی۔ پالان۔ پھلنی ٹھک۔ تو شہ وان
ج۔ شعب۔
الشعبان۔ دونوں کندھے
المشعب۔ راستہ۔ ہذا الشعب الحق۔

یعنی کار راستہ ہے۔ جو متفاجع۔
المشعب۔ سوراخ کرنے کا اوزار۔ برما۔
المشعب۔ درست کیا ہوا۔ شعب۔
شعبہ بازی کرنا۔
شعب رس (شعبا)۔ الامر۔ پراگندہ ہونا
(شعبا و شعوبۃ)۔ الشعر۔
بالوں کا خبار آلود اور کھمرے ہوئے ہونا
پراگندہ بالوں والا (اشعبت مؤنث)
شعبا۔ ج۔ شعب۔
شعبت۔ الشیء۔ کبیرا۔ پراگندہ کرنا۔
کایخصیر۔ بھلائی پہنچانا۔ من
فلان۔ چشم پوشی کرنا۔ منہ
شیئا۔ لے لینا۔ نکال لینا۔ عنہ
مافعت کرنا۔ حفاظت کرنا۔ من
الطعام۔ تھوڑا سا کھانا۔ الشاعر۔
شعر میں تشبیت جاری کرنا۔ تشبیت علم
عروض کی اصطلاح میں فاعلاتن کے
وتد میں سے ایک متحرک حذف کر دینے
کو کہتے ہیں۔
تشتت۔ کبیرا۔ پراگندہ ہونا۔ من
الطعام۔ تھوڑا کھانا کھانا۔ الشعر۔
بالوں کا خبار آلود اور کبیرا ہونا۔
الشعب۔ شعر میں تشبیت جاری ہونا۔
الشعبت۔ کام کی پراگندگی۔
الشعبت مع۔ لم الله شعبتہ۔ اللہ
تعالیٰ نے ان کے امر کو جمع کر دیا۔
الشعب والشعبان۔ بکھرے ہوئے خبار
آلود بالوں والا۔
شعبین (شعبا و شعرا)۔ الثوب۔ کپڑے
کے اندر بال لگانا یا بھرنا۔ الرجل۔
شعر کرنا۔ لفلان۔ کسی کے لیے
شعر کرنا۔
شعبین (شعبون) و شعورک و شعرا و شعرا و
شعری و شعری و شعری و شعری و شعری و
شعور و شعور و شعور و شعور و

مَشْعُورَةٌ وَمَشْعُورًا وَبِهِ - جاننا
محسوس کرنا - لہ: سمجھنا۔

شَعْرَس (شَعْرًا) - لیے اور زیادہ بالوں
والا ہونا۔

شَعْرَ الْجَنِينِ - ماں کے پیٹ میں بچہ
کے بال نکلنا۔ الثوب وَنَحْوَهُ -
کپڑے وغیرہ میں بال بھرنا۔

أَشْعَرَ الْجَنِينِ - ماں کے پیٹ میں
بچہ کا بال دار ہونا۔ الثوب کپڑے
وغیرہ میں بال بھرنا۔ ۵ الْأَمْرُ وَ

بِالْأَمْرِ - خبر دینا۔ آگاہ کرنا۔ ۵
الْيَشَاعَرُ - شعار پہنانا۔ بدن سے
لگنے والا کپڑا پہنانا۔ کہتے ہیں أَشْعَرَ

الْمَهْمُ قَلْبِي - فکر نے میرے دل
کو پکڑ لیا۔ أَشْعَرَةً لِكَذَا - چپکانا۔
القوم - قوم کا اپنے لیے کوئی خاص

علامت رکھنا۔ ایک دوسرے کو خاص
علامت سے پکارنا۔ أَمْرٌ فَلَا كَرِي -
مشہور کرنا۔ الرَّجُلُ - کسی کو بُرے

نام سے مشہور کرنا۔ ۵ شَرًّا - شر
سے ڈھانپ لینا۔

شَاعَرَ - شعروں میں مقابلہ کرنا۔

أَشْعَرَ - الْمَلِكُ - بادشاہ کا قتل ہونا۔
تَشَعَّرَ الْجَنِينُ - شکم مادر میں
بچہ کے بال نکل آنا۔

كشَاعَرَ - بناوٹی شاعر بننا۔

أَسْتَشْعَرُ - الْجَنِينُ - ماں کے پیٹ
میں بچہ کے بال نکلنا۔ اليشاعار
شعار پہنانا۔ القوم - قوم کا لڑائی میں

ایک دوسرے کو خاص علامت سے
پکارنا۔ بالثوب کپڑے کو اور کپڑوں
کے نیچے پہننا۔ أَشْعَرَ خَوْفًا

أَثْبَرًا - اللہ کے خوف کو اپنے دل
کے لیے شعار بنا لو۔
الْيَشْعَرُ وَالشَّعْرُ - بال - ج - أَشْعَارٌ وَ

يَشَاعَرُ وَشُعُورًا - واحد (شَعْرَةٌ)

ج - شَعْرَاتٌ - شَعْرُ الْفُولِ - ایک
قسم کی نبات۔

الشَّعْرُ - م - منظوم کلام - موزوں کلام - ج -
أَشْعَارٌ - "لَيْسَتْ بِشِعْرِي فَلَا تَأْ
أَوْعَنْ فُلَانٍ أَوْ يَفْلَانٍ مَا صَنَعَ -

کاش میں جانتا ہوتا کہ فلاں نے کیا کیا۔
الشَّعْرَةُ - بادل کا ایک ٹکڑا۔ (وَالشَّعْرَاءُ)
زیر ناف بال لگنے کی جگہ۔

الشَّعْرُ وَالشَّعْرَانِيُّ - لیے اور بہت بال
رکھنے والا۔

الشَّعَارُ - درختوں والی جگہ۔ گنے اور گنجان
درخت جہاں لوگ سردی کے موسم میں
گرمی حاصل کریں اور گرمی کے موسم میں

سایہ لیں۔ درخت۔ وہ لباس جو
جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ شَعَارٌ
الحجج - حج کے احکام و رسوم۔ واحد

(شَعَارَةٌ)
الْيَشَاعَرُ - خاص لفظ جو فوج میں مقرر ہوتا
ہے اور جس سے اپنے آدمیوں کو پہچانا

جاتا ہے اور لڑائی کے وقت اس لفظ
سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔
اس کو يَسْرُ اللَّيْلِ - بھی کہتے ہیں۔

لڑائی یا سفر میں مقررہ علامت۔ جسم
سے لگنے والا کپڑا۔ گھوڑے کی جھول
کڑک۔ گنجان درخت۔ ج - أَشْجِرَةٌ

وَشَعُورٌ - يَشَاعَرُ الْحَجَّجُ - حج کے
مناسب رسوم۔ يَشَاعَرُ الْمَمْلُوكَةُ
مکومت کی علامات۔ واحد (شَعَارَةٌ)

الشَّعِيرُ - ج - واحد (شَعِيرَةٌ) - ج -
شَعِيرَاتٌ - نیز آگہ کی پلک میں
جو نا نکلنے والی گرائی کو بھی شَعِيرَةٌ

کہتے ہیں۔
الشَّعِيرَةُ - علامت۔ ج - شَعَائِرُ
الشَّعِيرِيُّ - شیعہ کی طرف منسوب۔ ج -

فروش۔

أَشْعَرُ - بہت اور لیے بال رکھنے والا۔ مَوْنُثُ -
شَعْرَاءُ - ج - شَعْرٌ - فَلَانٌ أَشْعَرُ

الزَّوْبَلَةُ - فلاں مضبوط گروں والا ہے
گویا کہ شیر ہے۔ الْأَشْعَرُ - ج -
أَشَاعِرُ - جانور کے گھر کے آس پاس

کی کھال۔ ناخن کے نیچے نکلنے والا گوشت
"هَذَا الْبَيْتُ أَشْعَرٌ مِنْ هَذَا" - یہ
شعر اس سے اچھا ہے۔

الشَّعْرَاءُ - مَوْنُثُ الْأَشْعَرُ - پوستیں۔
جانوروں پر بیٹھنے والی مکھی۔ لوگوں کی
کثرت اور بھیر۔ ایک قسم کا آڑو۔

ارضٌ شَعْرَاءُ - بہت درختوں والی
زمین۔ ذَاهِيَةٌ شَعْرَاءُ - سخت
معیبت۔ ج - شَعْرٌ -

الشَّاعِرُ - فَا - شعر کہنے والا۔ ج - شَعْرَاءُ
مَوْنُثُ - شَاعِرَةٌ - ج - شَعْرَاءُ
شَاعِرَاتٌ - شَعْرٌ شَاعِرٌ - عمدہ

شعر۔
الشَّعْرِيُّ - سخت گرمی میں طلوع کرنے والا
ایک ستارہ۔

الشَّعْرُورُ - بہت کمزور شاعر۔ چھوٹی لکڑی۔
واحد (شَعْرُورَةٌ) - ج - شَعْرُورِيٌّ -
الْمَشْعُورُ - علامت۔ سایہ دار درخت۔ حج

کے رسوم ادا کرنے کی جگہ۔ ج - شَاعِرٌ
الْمَشَاعِرِيُّ - حرامس۔

شَعْرَمٌ - الْمَشْرَابُ - شراب میں پانی ملانا۔
- المشوع - بعض کو بعض کے ساتھ ملانا۔
شَعْرَمَتِ الشَّمْسِ - سورج کی

روشنی کا پھیل جانا۔ الضَّوُّ - روشنی
کا پھیلنا۔ شَعْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَيْلُ -
سواروں سے حملہ آور ہونا۔

تَشَعَّرَ - الشَّهْوُ - مہینہ کا اکثر حصہ
گذر جانا۔
الشَّعْرَمُ وَالشَّعْرَمِيُّ وَالشَّعْرَمِيُّ

وَالشُّعْبَانُ وَالشُّعْبَانِيُّ لِبَا
 خولبورت۔ وانا زریک بسبک۔ ر۔
 وَالْمَشْعُورُ مِنَ الظِّلِّ۔ ہکاسایہ۔
 شَعْفَةُ رَفٍّ، شَعْفًا۔ الْحَبِّ۔ محبت کا
 دل پر غلبہ پانا۔ ة بِالْقَطْرَانِ۔ قطران
 لثا۔ الشَّيْءُ الشَّيْءُ۔ ایک چیز کا دوسری
 پر چڑھنا۔
 شَعْفَتُ رَسٍّ، شَعْفًا۔ يَفْلَانُ وَيُجِبُّ
 فُلَانًا۔ فریفتہ ہونا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی
 کو شغف کی شکایت ہونا۔ صفت۔
 (شَعْفَاءُ)
 شَعْفَتٌ۔ يَفْلَانُ۔ کسی کی محبت کا دل میں
 بیٹھ جانا۔ محبت میں بے خود ہونا۔
 الشَّعْفُ۔ م۔ کولان کی چوٹی۔ اونٹنی کی
 ایک بیماری کا نام جس کے اثر سے اس
 کی آنکھوں کے بال جھڑھاتے ہیں۔
 الشَّعْفَةُ۔ اسم مرۃ۔ بارش کا قطرہ ہلکی بارش
 جو زمین کی سطح کو تر کر دے۔
 الشَّعْفَةُ۔ پہاڑ کی چوٹی۔ بالوں کی زلف۔
 لٹ۔ چوٹی۔ بلندی۔ ج۔ شَعْفَةٌ وَ
 شَعْفُونَ وَشَعْفَاتٌ وَشَعْفَاتٌ۔
 اشعافٌ۔ ویرانگی۔ محبت کی فریفتگی۔ فریفتگی۔
 الشَّعْفَاتُ۔ ویرانگی۔ محبت کی فریفتگی۔
 الْمَشْعُورَةُ۔ محبت ہی شیفہ۔ محبت کا دیوانہ۔
 مَشَعْلٌ۔ شَعْلًا۔ النَّارُ۔ آگ بھڑکانا۔
 الامور۔ معاملہ کو غور سے دیکھنا۔
 شَعْلُ رَسٍّ، شَعْلًا وَاشْتَعَلَ الْقُرْسُ۔
 گھوڑے کا دم اور پیشانی پر سفید داغ
 رکھنا۔ صفت رَشَاعِلٌ وَشَعِيلٌ وَ
 اشعَلُ۔)
 شَعَلَ النَّارُ۔ آگ بھڑکانا۔ اشعل النَّارَ
 آگ بھڑکانا۔ ة۔ غضب ناک کرنا۔
 الْجَمْعُ۔ جمعیت کو منتشر کرنا۔
 الخَيْلُ فِي الْغَارَةِ۔ سواروں کو چاروں
 طرف پھیلانا۔ السَّقِيُّ۔ خوب پانی

پانا۔ اشعلت العذبة شغف کے
 پانی کا دوسرا حصہ سے ٹپکانا۔ المَطْعَنَةُ
 جگہ جگہ سے خون رسنا۔ العَيْنُ
 زیادہ آنسوؤں والی ہونا۔
 اشعل۔ اشعلًا لآلِ و اشعل۔
 اشعلًا لآلِ۔ رَأْسُ الرَّجُلِ۔ سر کے
 بالوں کا کھڑا ہونا۔ الْقُرْسُ۔ دم
 یا پیشانی پر سفید داغ ہونا۔
 تَشَعَّلَتْ وَاشْتَعَلَتْ۔ النَّارُ۔ آگ کا
 بھڑکنا۔ اشعل الرَّاسَ شَيْبًا۔ سر
 کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی کا پھیل
 جانا۔ اشعل فُلَانٌ۔ کسی کا غضب
 سے بھڑک جانا۔
 الشَّعْلُ۔ م۔ غَلَامٌ شَعْلٌ۔ جوشیلا
 نوجوان۔
 الشَّعْلُ۔ م۔ گھوڑے کی دم اور پیشانی
 کا سفید داغ۔
 الشَّعْلَةُ۔ آگ کا شعلہ۔ آگ کی بھڑک جلتی
 کڑھی جس سے آگ بھڑکائی جائے۔ ج۔
 شَعْلٌ۔
 الشَّعِيلُ۔ ہلکی وغیرہ کے نیچے ستاروں
 کے مانند چمکنے والی چیز۔
 الشَّعِيلَةُ۔ بھڑکتی ہوئی آگ جلتی ہوئی تہی۔
 ج۔ شَعْلٌ۔
 الْأَشْعَالُ۔ مِن النَّاسِ۔ وہ جس کی
 آنکھوں میں پیدائشی سرخی ہو۔
 لِلسَّعْلِ وَالشَّعَالِ۔ مانی۔ چھلنی۔ ج۔
 مَشَاعِلٌ وَمَشَاعِيلٌ۔
 الْمَشْعَلُ وَالْمَشْعَلَةُ۔ لَيْسَ قَنِيْلٌ۔ ج۔
 مَشَاعِلٌ۔ الْمَشْعَلَةُ۔ بولنا۔
 الشُّعْلُولُ۔ آگ کا شعلہ۔ لوگوں کا گروہ۔
 ج۔ شَعَالِيْلٌ۔ "ذَهَبُوا شَعَالِيْلًا"
 وہ علوہ علیہ چلے گئے۔
 شَعَمَ رَفٍّ، شَعْمًا۔ الرَّجُلُ۔ لوگوں
 کے درمیان صلح کرانا۔

أَشْعَنَ۔ عَدَاؤًا۔ دشمن کر پیشانی سے
 پکڑ لینا۔
 اشعانت و اشعنت۔ شَعْمَةٌ۔ بالوں کا
 پراگندہ ہونا۔
 الشَّعْنُ۔ سوکنے کے بعد جھڑے ہوئے
 پتے یا گھاس۔ شَعْرٌ مَشْعُونٌ۔
 پراگندہ بال۔ رَجُلٌ مُشْعَانٌ۔
 الوائس۔ پراگندہ بالوں والا۔
 شَعْنَبٌ۔ الْكَبْشُ۔ کان کی طرف مڑے
 ہوئے سینگوں والا ہونا۔ صفت۔
 (مُشْعَنٌ وَمُشْعِنٌ)
 شَعَائِشَعُوا شَعْوًا۔ الشَّعْرُ۔ بالوں کا
 کھڑا ہونا۔
 شَعِيْتٌ كَشَعِي شَعًّا۔ الْغَارَةُ۔ لوٹ
 اور غارت کا پھیلنا۔ صفت (شَعْوَاءُ)
 اشعٰی۔ یہ۔ اہتمام کرنا۔ الْقَوْمُ الْغَارَةُ
 ہر سمت لوٹ ڈالنا۔ غَارَقُ شَعْوَاءُ
 دور تک پھیلی ہوئی غارت۔ شَجَرَةٌ
 شَعْوَاءُ۔ پھیلی ہوئی شاخوں والا
 درخت۔
 الشَّاعِي۔ فَا۔ دور۔ متفرق۔ مشترک حصہ۔
 مُوْتٌ۔ شَاعِيَةٌ۔ ج۔ شَوَاعٍ۔
 کہتے ہیں۔ جَاءَتِ الخَيْلُ شَوَاعٍ؛
 یعنی متفرق آئے۔
 الشَّعِي۔ پراگندہ بالوں کا گچھا۔ واحد
 (شَعْوَةٌ)۔
 شَعُوذٌ شَعُوذَةٌ۔ مداری کا تاشا کرنا۔
 شعبہ بازی کرنا۔ صفت (مَشْعُوذٌ وَ
 مَشْعُوذٌ)
 شَعَبَ رَفٍّ، وَشَعَبَ رَسٍّ، شَعْبًا وَ
 شَعْبًا وَشَعَبٌ۔ الْقَوْمَ وَيَهْوُو
 عَلَيْهِمْ۔ فتنہ و فساد برپا کرنا۔ تباہی
 ڈالنا۔ صفت وَشَعْبٌ وَشَعْبٌ وَ
 شَعَابٌ وَشَعَابٌ وَشَعَابٌ وَ
 ذُو مَشَاعِبٍ)

شَغَبَ رَفًا شَغْبًا - عَنِ الطَّرِيقِ - رَاسْتَهُ
سے ہٹنا۔ پھر جانا۔
شَاغِبَةٌ - جھگڑا کرنا۔
كُشَاغِبٌ - الرَّجُلُ - نَافِرَانِي كَرْنَا -
الشَّعْبُ وَالشَّغْبُ - مَمٌ - شُورٌ وَغَوَا -
الشَّغُوبُ - شَرَاكِيْزٌ جَهْطُ الْوَلَدِ -
تَشْغُوبَتٌ - الرَّيْحُ - هُوَ كَالْبَيْحِ كَمَا كَرِهْنَا -
شَغَبَتْ رَفًا شَغُوبًا - الرَّمْنُ - مَلِكٌ كَا
بغير محافظت کے ہونا۔ صفت (شَاغِبَةٌ)
الرَّجُلُ - دُورٌ هُوَ - السَّعْدُ - بَهِاؤُ
كَاهُنَا - النَّاسُ - لُكُوْنٌ كَا مُتَفَرِّقٌ هُوَ -
شَغْرَةٌ رَفًا شَغْرًا وَشَغْرًا - عَنِ بَكْدِي -
شہر بدر کرنا۔ جلا وطن کرنا۔
شَغْرَدَفٌ - شَغْرًا - الْمَلَكَبُ - كَتَمَ كَا
ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا۔
النَّاقِلَةُ - اَوْثُنِي كَا اِيْكَ طَانِكٌ اَطَّكَ
بچہ کو مارنا۔
شَاغِرَةٌ مُشَاغِرَةٌ وَشَغَارًا - اِبْنِي بِن
یا بیٹی کو کسی کے نکاح میں اس شرط پر
دینا کہ وہ بھی اپنی بن یا بیٹی کو بغیر مہر
کے اس کے نکاح میں دے دے۔
الرَّجُلَانِ عَلَيْهِ - مَلِكٌ كَرْنَا - غَلِبَهُ كَرْنَا -
اشْغَرَ - الْمَنْهَلُ - چشہ کا راستہ سے ایک
طرف ہونا۔ دور ہونا۔ الرَّقْفَةُ
ساتھیوں کا راستہ سے جدا ہونا۔
الْحِسَابُ عَلَيْهِ - حَسَابٌ كَا اِتِّشَارٌ
اور پھیلاؤ کے سبب قابو میں نہ آنا۔
اشْغَرَ - الْحِسَابُ عَلَيْهِ - حَسَابٌ كَا
خلط ملط اور بچیدہ ہونے کی وجہ سے
قابو میں نہ آنا۔ ضبط میں نہ آسکتا۔
الْأَمْرُ - بَرَّاءٌ وَرُوسِيْعٌ هُوَ - خَلَطٌ مَلَطٌ هُوَ -
- عَلَيْهِ - دَسْتُ وَدَاوِي كَرْنَا - فُحْرٌ
كَرْنَا - الْحَبُّ بَيْنَ الْقَوْمِيْنَ - دُونُو
قوموں کے درمیان لڑائی کا وسیع پیمانہ
پر چڑھنا اور سخت و سنگین ہونا۔ رَفِي

الْعَلَاةُ - بِيَابَانٍ مِّنْ دُورٍ مَّكَّ جَانَا -
تَشْغَرُ - الْبَيْضُ - اَوْثُنٌ كَا تِيْزُ وَوَرْنَا -
فِي اَمْرِ كَيْبِيْجٍ - دِيْرَتِكُ رَهْنَا -
اتہا کو پہننا کہتے ہیں۔ تَفَوَّقُوْا
شَغْرٌ نَغْرٌ وَشَغْرٌ نَغْرٌ - وَهْ بِرَطْفٍ
بکھر گئے۔ اِنَا وَشَغَا سٌ - خَالِي بَرْتَن -
الشَّغَارُ - مَمٌ - دَسْتَاكُ - جَلَاوَطْنِي - يَنْزُو
يَشْغَارُ مَا بَارَ شَغَارًا - بَسْتُ يَانِي وَالا
کنواں یا کنویں۔
الشَّغَاةُ - جَتْمَاقٌ - الشَّغِيْرُ - بَدْحٌ -
الْمَشْغَرُ - چھوٹی بھٹی جس سے وحشی
جانوروں کو بھگا جاتا ہے۔
الشَّغْرِيَّةُ - پھولوں کا اپنے مقابل کی
ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر گرانا۔ پھینا کرنا۔
شُكْرُوسِي مَارْنَا -
شَغْرَدَفٌ - شَغْرًا - عَلَيْهِمْ زِيَادَةٌ
کرنا۔ دَسْتُ وَدَاوِي كَرْنَا - بِيْتَهُمْ
بھڑکانا۔ فساد ڈالنا۔ الشَّقِيْزَةُ - سُوَا
شَغْبَةٌ - كَسِي كُوْتُكْرِي مَار كَرْنَا - بِيْجَا رْنَا
تَشْغُوبَتٌ - الرَّيْحُ - هُوَ كَالْبَيْحِ كَمَا كَرِهْنَا -
شَغْبَتٌ - الشَّيْءُ - اِنْدَر كَرْنَا - بَا سِر لَانَا -
شَغْبَتٌ الطَّاعِنُ - نِيْزُهُ بَا زَكَا زَخْمٌ
خردوہ کے جسم میں نیزہ کو پھینا۔ پلانا۔
الْمَلْجُجُ - سُوَا كَا لِكَا مٌ كُوْجُ مَلْجَا رْنَا
اور جانور کو ادب دینا۔ رَفِي الْاَمْرِ -
جَلْدِي كَرْنَا - فِي الشَّرْبِ - كَم كَرْنَا -
فِي الْاِنَا عَمَاءٌ اَوْ خَيْرٌ - رَفْتَنِي مِي
پانی وغیرہ بغیر بھرنے کے ڈالنا۔ اِلْسُوْرُ
کوئی کو گدلا کرنا۔
شَغْفَةٌ رَفًا شَغْفًا - دَلُّ كَا جَمَلِي كُو
صدمہ پہنچانا۔ فَمَا دَكُ - دَلُّ بِرَجَا
جانا۔ غَالِبٌ اَنَا - الْمَلِيْسُ - خَشْكُ
گھاس کا سبز گھاس والا ہونا۔
شَغْفَتٌ دَسٌ شَغْفًا وَشَغْفَتٌ - رَهٌ - كَسِي
کی محبت میں فریفتہ ہونا۔ شَغْفَتٌ

حُبَّتُهُ - مَحَبَّتٌ كَا دَلُّ كَا جَمَلِي كُو
پہننا۔
تَشَغَّفَتٌ - النَّاسُ - دَسُوْسُهُ دَالٌ كَرِهْنَا
کرنا۔
الشَّغْفُ - مَمٌ - دَلُّ كَا غَلَفٌ - دَلُّ كَا پَرُوْسُ -
الشَّغْفُ - مَمٌ - اَتَهَانِي مَحَبَّتٌ -
الشَّغَاةُ - دَلُّ كَا پَرُوْسُ - سُوِيَاوَلْبٌ - ج
شَغْفٌ وَاشْغَفَةٌ -
الشَّغَاةُ - دَائِيْسُ طَرَفٌ كَا سَلِيُوْنٌ كَا نِيْجِي
کا درو۔
شَغْلَةٌ رَفًا شَغْلًا وَشَغْلًا وَاشْغَلَةٌ -
يَكْنَا - مَشْغُوْلٌ كَرْنَا - كَامٌ مِيْنَ لَكَا نَا -
عَنْهُ - غَافِلٌ كَرْنَا - شُغُوْلٌ عَنْهُ
يَكْنَا - مَشْغُوْلٌ رَهْنَا - كَسِي كَامٌ مِيْنَ
لَكَا رَهْنَا -
شَغْلَةٌ - بَسْتُ كَامٌ دِيْنَا - بَسْتُ مَشْغُوْلٌ رَكْنَا -
تَشْغَلُ وَتَشَاغَلُ وَاشْتَغَلُ - يَكْنَا -
مَشْغُوْلٌ هُوَ - اِسْتَشْغَلَ قَلْبُهُ - دَلُّ
كَافِكْرٌ مَنْدٌ هُوَ - پَرِيْشَانٌ هُوَ - اِسْتَشْغَلَ
رَفِيْنَا السُّدُ - زِيْرَا اَثَرٌ كَر جَانَا -
الدَّوَاةُ رَفِيْنَا - دُوَا كَا فَا نِيْزُهُ مَنْدٌ
هُوَ - تَشَاغَلَ عَنْهُ - غَافِلٌ هُوَ -
الشُّغْلُ وَالشُّغْلُ وَالشُّغْلُ - مَشْغُوْلِيْتٌ
مَشْغُوْلِيْتٌ - كَامٌ - ج - اَشْغَالٌ وَ
شُغُوْلٌ - الشُّغْلُ - مِلَاوُ
الشُّغْلِيَّةُ - رَسْمٌ رَفِيْنَا كَلِمَةً - غَلِيْلٌ كَا دَسِيْرٌ
ج - شُغْلٌ -
الشُّغْلُ - مَشْغُوْلٌ كَامٌ وَالا
الاشْغُوْلَةُ وَالْمَشْغُوْلَةُ - كَامٌ - الْمَشْغُوْلُ
مَنْعٌ مِلَاوُ - دَارٌ مَشْغُوْلَةٌ - اَبَادٌ
گھر جاریہ مشغولہ۔ شوہر والی
رہتی۔ قَالَ مَشْغُوْلٌ - تِجَارَتٌ مِيْنَ
لَكَا يَا هُوَا مَالٌ -
الشُّغْرُ - رَفِيْنَا - الشُّغْرُومُ وَالشُّغْرِيْمُ
لہا۔ تِجَارَتٌ

<p>شَفَرًا - المَاءُ - مال کا کم ہونا - الشَّمْسُ سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا - عَلَى الْأَمْرِ - کسی امر کی طرف متوجہ ہونا - الشَّيْءَ - جڑ سے اکھڑنا - الشَّفَرُ - جہ - أَشْفَارٌ - (والشَّهِيذُ) پلک کی جڑ - ہر چیز کا کنارہ - مِنَ الْوَادِي - وادی کا اوپری کنارہ - کہتے ہیں: مَا فِي الدَّارِ شَفَرٌ وَشَفَرٌ وَ شَفَرَةٌ - گھر میں کوئی نہیں - الشَّفَرَةُ - بڑی اور چوڑی چھری - تلوار کی دھار - نیزے کے پھل کا پہلو - موجی کی بلندی - جہ - شَفَرٌ وَشَفَارٌ وَ شَفَرَاتٌ - عَيْشٌ مُشْفِرَةٌ - تنگ زندگی - الْمُشْفَرُ - شدت - روک - زمین کا ریت کا ایک قطعہ ہونٹ - اونٹ کا ہونٹ - جہ - مَشَافِرٌ شَفَرَةٌ (مَنْ) شَفَرًا - لات مارنا - شَفَشَفَ - الرجلُ - کانپنا - بدخلق ہونا - مَنْتَ رَمَشْتِمْتَ وَمَشَشْتِمْتَ یہ - مل جانا - الدَّوَاءُ عَلَى الْجَرْهِ دوا کو زخم پر چھڑکانا - بَرَكْنَا - الهَمُّ خَلَاتْنَا - غم کا کسی کو لاغر کرنا - دبلا کرنا - - الصَّقِيحُ النَّبَاتُ - پودے کو پالا مارنا - الْحَرُّ - أَوِ الْبَرْدُ - الشَّيْءَ - خشک کرنا - عَلَيْهِ - ڈرنا - تَشَفَشَفَ - النَّبَاتُ - سوکھنے لگنا - الشَّفَشَاتُ - اولوں والی بارش - سرد ہوا - لُبُّ شَفَشَاتٍ - چھنا کھڑا - چھری بناوٹ کا کھڑا - شَفَعَ (مَنْ) شَفَعًا - الشَّيْءَ - جنت کرنا دوبلا کرنا - جَانِبٌ - بڑوسی کو حق شفیع دینا - النَّاقَةُ - اونٹن کا بچہ کہتے ہوئے حلال ہونا - کہتے ہیں: هَيْبَةٌ فِي الْأَشْيَاءِ - کمزوری نظر کی وجہ سے</p>	<p>کسی پر برتری اور فوقیت لے جانا - الدَّاهِيَةُ - درہم کو زیادہ کرنا یا کم کرنا - اِسْتَشَفَّ وَكَشَفَتْ - مَا فِي الْإِنَاءِ - برتن کی تمام چیزیں جانا - اِسْتَشَفَّ - كَهُ الْيَسْرُ - پردے کے پار کی چیز نظر آ جانا - الشُّوبُ - کپڑے کا عیب دیکھنے کے لیے اس کو روشنی میں پھیلانا - الشَّيْءَ - غور سے دیکھنا - الْكِتَابَ - کتاب میں غور و توجہ کرنا خُ - پار کا چیز دیکھنا - مَا فِي الْإِنَاءِ برتن کی سب چیزیں جانا - اَلْيَسْرُ پوری پوری رغبت کرنا - فِي تِجَارَتِهِ - تجارت میں فائدہ حاصل کرنا - الشَّفْتُ وَالشَّفْتُ - پتلا کپڑا یا باریک پردہ ہوا - ریادتی - نقصان - ایک قسم کی بدبودار پھنسی - جہ - شَفُوفٌ - شَفُوتٌ - تھوڑی اور کم چیز کو بھی کہتے ہیں - الشَّفِيْفُ - مہم - سورج کی گرمی کی تیزی - مُتَشَفِّفٌ تِيزِي - سرد ہوا - شَفَاتٌ - قَبْتُ شَفِيْفٌ - الشَّفَفُ - مہم - کم - تھوڑا - ہلکا پن - تنگ حالی - الشَّفَاتِي - بارش والی تھوڑی ہوا - الشَّفَاتِيَّةُ - برتن میں بچھا ہوا پانی - شَفَاتِيَّةُ النَّهَارِ - دن کا بقیہ حصہ - فَلَانٌ أَشَفَّ مِنْ فُلَانٍ - فلاں فلان سے تھوڑا سا بڑا ہے - المَشْفُوفُ - بدبودار پھنسیوں والا - شَفَّتْ رَوَا شَفَّتْ - القَوْمُ - متفرق ہونا - اِسْتَشَفَّرَ الْعَوْدُ - کڑی کا لٹنا - اليسر - جہ - چراغ کا چوڑی ہتی والا ہونا - شَفَرَدَسٌ شَفَارَةٌ - گھٹنا - کم ہونا -</p>	<p>الشَّفَّةُ - تر شاخ - جہ - شَفْنٌ - الشَّفْبُوبُ وَالشَّفْنُوبُ - نازک و تر شاخ - شَفَّتْ تَشْفُوًا شَفُوًا وَشَفِيْتًا - كشفتي شفاً - الیسر - دانت کا دوسرے دانتوں سے بڑھنا - دانت کا ناہموار ہونا - دانت کی صفت - (شَاغِيْبَةٌ) جہ - شَمَاخٌ - رکھنے والا - (أَشْفَى) مَوْتُ - شَفُوًا وَشَفِيَاءٌ - جہ - شَفُوٌ - أَشْفَى اِسْفَاءً - القَوْمُ يَهْ - مخالفت کرنا - فُلَانٌ رَابِيَةٌ - پریشان کرنا - پر اگندہ کرنا - الشَّفُوَاءُ - عذاب - شَفَّتْ (مَنْ) شَفُوًا وَشَفِيْفًا وَشَفَقًا - الشَّيْءَ - چیز کا اس قدر تلی اور شفاف ہونا کہ دوسری طرف کی چیز دکھائی دے صفت (شَفِيْفٌ وَشَفَاتٌ) - عِنْدُ الشُّوبِ - کپڑے کا چھوٹا ہونا - (ر - شَفُوًا) الْجِسْمُ - جسم کا لاغری سے پتلا ہونا - شَفَاً - الشَّيْءَ - زیادہ ہونا - کم ہونا - گھٹنا - هَذَا رِدْهُمُ يَشْفَتْ قَلِيْلًا - یہ درہم تھوڑا سا کم ہے - حِجَّتْ كَرْنَا - كَهُ الْأَمْرِ - دائم رہنا - ہمیشہ رہنا - قَامَ رَبِنَا - شَفِيْفًا - فَسَدَ فُلَانٌ - سورج کی وجہ سے دانتوں اور سورجوں میں درد ہونا - شَفَّةُ (مَنْ) شَفَا وَشَفُوًا وَشَفَقَةً - الْمَرْهَنُ أَوِ الْهَمُّ - بیماری یا غم کا کسی کو دبلا کرنا - کمزور کرنا - شَفَّتْ الْمَاءُ سب پانی پی جانا - أَشْفَى - عَلَى فُلَانٍ - کسی کو کسی پر فضیلت دینا - أَشَفَّ الْعَمَلُ مِنْ كَابِدٍ وَرَبِيْنَا - أَشَفَّ عَلَى فُلَانٍ -</p>
--	---	---

ایک چیز کا دو دکھائی دینا۔ ایسی آگ
 شافعۃ کہلاتی ہے۔
 شَفَعَتْ رَفًا شَفَاعَةً۔ یفْلانُ أَوْفِيَهُ
 اِلَى زَيْدٍ۔ سفارش کرنا۔ شَفَعَّ
 عَلَيْهِ بِالْعَدَاوَةِ۔ کسی کے برعلاف
 مدد دینا۔ کہتے ہیں: فُلَانٌ يُعَادِيُنِي
 وَكَذَا شَفَعْتُ فُلَانًا شَفْعًا مَجْهُدًا
 عداوت رکھتا ہے اور اس کا ایک مددگار
 ہے جو میری دشمنی پر اس کی مدد کرتا ہے۔
 يَفْلَانُ فِي الْمَطْلَبِ۔ کسی کے
 مطلب میں کوشش کرنا۔
 شَفَعَّ الشَّيْءُ۔ جفت بنانا۔ شَفَعْنِي
 فِي فُلَانٍ۔ سفارش ماننا۔
 تَشَفَّعَ۔ اِلَى وَرَأْيِ فُلَانٍ أَوْ فِي
 فُلَانٍ۔ سفارش کرنے کے لیے کہنا۔
 اسْتَشَفَّعَ۔ زَيْدًا اِلَى عَمْرٍو۔ سفارش
 کرنے کی درخواست کرنا۔ يَفْلَانُ عَلَيَّ
 فُلَانٍ۔ کسی سے کسی پر مدد ماننا۔
 الشَّفْعُ۔ مع۔ جنت۔ وہ عدد جو دو پر
 برابر تقسیم ہو۔ اَشْفَعُ هُوَ اَمُّ
 وَتُرٌّ كَيَاوَهُ جَفَّتْ بِهٖ يَاطَاقُ؟
 ج۔ اَشْفَاعٌ وَشَفَاعٌ۔
 الشُّفْعَةُ زَمِيْنٌ بِاِمْكَانٍ كِيْهِ مَسَائِيْغِيْ كِي
 وجہ سے حق خرید۔ حق شفعتہ۔ دیوالگی
 آگہ۔ مِيْنِ الشُّفْعِيْ۔ چاشت کی دو
 رکعتیں۔ ج۔ شَفْعٌ۔
 الشَّافِعُ۔ فَا۔ نَاقَةٌ شَفَاعَةٌ۔ بچہ والی
 مالہ اونٹنی۔ عَيْنٌ شَفَاعَةٌ۔ بوجہ
 کمزوری کے ایک کو دو دیکھنے والی آنکھ
 نَاقَةٌ شَفْوَعٌ۔ ایک ہی مرتبہ
 دوپٹے میں دو برتن بھرنے والی اونٹنی۔
 الشَّفِيْعُ۔ سفارشی۔ حق شفعتہ والا۔ ج۔
 شَفَعَاءُ۔ الشَّفِيْعُ مِنَ الْعَدُوِّ۔
 جفت۔
 الْأَشْفَعُ۔ لِبَا۔

المُشْفَعُ۔ کامیاب سفارشی۔ مقبول الشفاعة۔
 الْمُشْفُوْعُ۔ مجنون۔ اِمْرَاَةٌ مُشْفُوْعَةٌ۔ وہ
 عورت جس کو نظر بد لگی ہو۔
 شَفِيْقٌ رَسٌ، شَفَقًا۔ عَلَيْهِ۔ اصلاح و
 بددلی کی فکر میں ہونا۔ رحم کرنا۔ مہربان
 ہونا۔ صفت رَشِيْقٌ وَشَفُوْقٌ وَ
 شَفِيْقٌ، شَفِيْقٌ مِنَ الْاَمْرِ۔ خوف
 کرنا۔ حرص کرنا۔ عَلَيَّ الشَّيْءِ۔ بخل
 کرنا۔

شَفَقَةٌ۔ رَحْمٌ وَلاَنًا۔ شَفِيْقٌ الشَّيْءِ۔ کم
 کرنا۔ بھڑا کرنا۔ الثَّوْبُ۔ رَوِيٌّ بِنَا
 اَشْفَقِيْ۔ الشَّيْءِ۔ کم کرنا۔ عَلَيْهِ وَوِنَهُ
 ڈرنا۔ لا يَلُحُّ كَرْنَا۔ عَلَيَّ الصَّيْخِرِ۔
 چھوٹے پر رحم کھانا۔ دَلَّ وَكَهَانًا۔ الرَّجُلُ
 شَفِيْقٌ كَاوَقْتِ يَانَ۔ الرَّيْحُ۔ ہوا
 کا تیز ہونا۔

الشَّفَقُ۔ مع۔ غروب آفتاب کے بعد
 آسمان کے افق پر سرخی مہربانی۔ روی چیز
 دن۔ خوف۔ کنارہ۔ کمزور کپڑا۔ ج۔
 اَشْفَاقٌ۔

الشَّفَقَةُ۔ مہربانی۔ رَحْمٌ۔ خوف کے ساتھ
 مہربانی۔ اَخَذَنِي مِنْهُ شَفَقَةٌ۔ مجھ
 کو اس پر رحم آیا۔

شَفَنَ رَفًا وَشَفِنَ رَسًا، شَفُوْنَا۔
 الرَّجُلُ وَرَأْيِ الرَّجُلِ۔ تریجی نگاہ
 سے دیکھنا۔ صفت رَشَانٌ وَشَفُوْنَا،
 الشَّفَنُ وَالشَّفَنُ عَقْلٌ۔ اَنَا۔ الشَّفَنُ
 اَسْتَبَارٌ۔ میراث کا منتظر۔

الشَّفُونُ۔ بہت غیرت مند۔ ج۔ شَفْنٌ۔
 الشَّفَتْرِيُّ وَالشَّفَتْرِيُّ۔ متفرق۔
 شَعَةٌ رَفًا شَفْمًا۔ فُلَانًا۔ ہونٹ
 پر مارنا۔ سوال کر کے سب کچھ خرچ کرنا
 دینا۔ اِلْيَاءٌ۔ سب پی کر برتن کو
 خالی کر دینا۔ كَادَتِ الْعِيَالُ
 تَشْفَعُ مَالِيْ۔ یعنی قریب ہے کہ

میرے خیال میرے مال کو ختم کر دیں۔
 عَيْنُ الْاَمْرِ۔ کام سے توجہ ہٹا دینا۔
 غافل ہو جانا۔

شَفَعٌ۔ زَيْدٌ۔ بہت سائلین رکھنا۔
 الشَّيْءُ۔ چیز کے طلب گاروں کا زیادہ ہونا
 الطَّعَامُ۔ کھانا کھانے کے لیے بہت
 آدمیوں کا ہونا۔ صفت رَشْفُوْعٌ،
 شَفَافَةٌ۔ شَفَافًا وَشَفَافَةً۔ منہ در منہ
 بات کرنا۔ الشَّيْءُ۔ قَرِيْبٌ كَرْنَا۔

الشَّفْعَةُ وَالشَّفَاةُ۔ مِنَ الْاِلْسَانِ۔ ہونٹ۔
 ج۔ شَفَاةٌ وَشَفَهَاتٌ۔ نسبت
 کے لیے رَشِيْقٌ وَشَفِيْقٌ وَشَفُوْعٌ،
 تصغیر (شَفِيَهَةٌ) کہتے ہیں۔
 هُوَ خَفِيْفُ الشَّفَاةِ۔ سوال کرنے
 میں بہت اصرار کرنے والا۔ یا کم سوال
 کرنے والا۔ كَلَفِي الْاِنْسَانَ شَفَاةً
 حَسَنَةً۔ لوگوں میں وہ اچھائی کے
 ساتھ مشہور ہے۔ شَفَاةُ الشَّيْءِ۔ باب
 کنارہ۔

الشَّفَاةُ۔ پیاسا۔ الشَّفَاهِيُّ وَالْاَشْفَةُ۔
 بڑے ہونٹوں والا۔ الحروف الشَّفَهِيَّةُ
 لبوں سے نکلنے والے حروف۔ جیسے
 ب۔ ف۔ م۔

المَشْفُوْعُ مَعْمٌ۔ مَاءٌ مَشْفُوْعٌ۔ بہت
 آدورفت والا پانی فُلَانٌ مَشْفُوْعٌ
 عَمَّا فُلَانٍ ہنسے غافل ہے۔ اس کے
 پاس لوگوں کی اکثر آدورفت ہے۔
 هُوَ مَشْفُوْعٌ الْمَوَارِدِ۔ وہ بڑا مہمان
 نواز اور بخشش والا ہے۔

شَفَايَشْفُو شَفْمًا۔ اِلْيَاءٌ۔ چاند نکلا
 الشَّخْصُ۔ ظاہر ہونا۔ الشَّمْسُ۔
 سورج ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 الشَّفَا۔ غروب ہونے والے چاند کی کور۔
 ہر چیز کا کنارہ یا حد۔ شَفِيْبٌ۔ شَفْوَانٌ۔
 ج۔ اَشْفَاءٌ۔

الأشقي. جس کے ہونٹ آپس میں نہ ملیں۔
 کھلے ہونٹوں والا۔
 شَقِي يَشْفِي بِشَفَاءِ - اللهُ فُلَانًا وَمِنْ
 مَرِيضِهِ - اللہ تعالیٰ کا کسی کے مرض
 کو کھودینا۔ زائل کر دینا۔ صحت یاب
 کرنا۔ فُلَانٌ فُلَانًا شَفَا مَا كُنَّا -
 - الشمس. غروب کے قریب ہونا۔
 (و شَفِي شَقِي) الْهِلَالُ غُرُوبُ
 ہونا۔
 شَفِي - الْمَرِيضُ - بیمار کا تندرست ہونا۔
 صحت یابا۔
 أَشَقِي - إِشْفَاءً - فُلَانًا شَفَا طَلِبُ كَرْنَا -
 - عَلَيْهِ قَرِيبٌ هُوْنَا - اسی سے ہے
 " أَشَقِي الْمَرِيضُ عَلَى الْمَوْتِ " بیمار کا
 موت کے قریب آ پہنچنا۔ الْعَلِيلُ -
 بیمار کا صحت یابانے سے رکتا۔ نہ پانا۔
 - الْمَسَافِرُ - مسافر کا آخری رات کی
 چاندنی میں چلنا۔ الْمَرِيضُ - بیمار کو
 دوا جانا۔ کہتے ہیں " أَشْفِي " یعنی
 مجھے ایسی چیز تاد جو شفا نصیب کرے۔
 أَشْفَاءُ الشَّيْءِ - صحت بخش چیز دینا۔
 تَشْفِي - مِنْ غَضَبِهِ - غصہ سے ٹھنڈا
 ہونا۔ تَشْفِي مِنْ غُلَاظِ دُشْمَانٍ كُو
 اینادے کر دل ٹھنڈا کرنا (و اشْتَفِي)
 بگذا۔ شفا حاصل کرنا۔
 اسْتَشْفِي - بِهِ - شفا طلب کرنا۔ فُلَانٌ
 يَسْتَشْفِي بِهَا يَه - فلاں کی رائے
 سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ الْمَرِيضُ
 مِنْ عِلَّتِهِ - بیمار کا تندرست ہونا۔
 الشِّفَاءُ - مِم - دوا۔ ج - أَشْفِيَةٌ - و
 ج - أَشَافٍ -
 الشَّافِي - فَا - مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَ نَحْوِهَا
 فائدہ مند دوا۔ الْجَوَابُ الشَّافِي
 تسلی بخش جواب۔
 الْأَشْفِي - سَتَالِي - ج - أَشَافٍ -

شَقِي رَن شَقَا - الشَّيْءُ - بھارتنا۔ متفرق
 کرنا۔ اور اسی سے ہے " شَقِي حَصَا
 الْقَوْمِ - اس نے قوم کی جمعیت کو
 منتشر کر دیا۔
 شَقِي فُلَانٌ الْعَصَا - فلاں جماعت سے
 الگ بھٹ گیا۔
 شَقِي رَن شَقَا وَمَشَقَّةٌ - الْأَمْرُ -
 کام کا دشوار ہونا۔ عَلَى فُلَانٍ -
 کسی کو مشقت میں ڈالنا۔ الْبُرْقُ
 بجلی کا آسمان میں سیدھی پھیلنا۔ الْفَرَسُ
 گھوڑے کا رفتار میں ایک طرف جھکنار۔
 شَقُوْقًا، النَّبْتُ - نبات کا اگنا۔
 پھوٹنا۔ نَابُ الْبَجِيْرِ - وائت نکلنا۔
 (و شَقَا الصُّبْحُ - صبح کا طلوع کرنا۔
 شَقِي - الْحَطَبُ - کڑھی پھاڑنا۔ چیزنا۔
 - الْكَلَامُ - کلام پر عمل کرنا۔
 شَاقَّةٌ شِقَاقًا وَمَشَاقَّةٌ - مخالفت کرنا
 عداوت رکھنا۔
 تَشَقَّقَ - الْحَطَبُ - کڑھی کا پھٹنا۔ چیزنا۔
 - الْفَرَسُ - گھوڑے کا لاغر ہونا۔
 کہتے ہیں " تَشَقَّقْتُ عَصَاهُ
 بِالْبَيْنِ - ان کی جمعیت پر اگندہ
 ہو گئی۔
 تَشَاقَى - الْقَوْمُ - باہم مخالفت کرنا۔ آپس
 میں عداوت رکھنا۔ الرَّجُلَانِ - آپس
 میں ایک دوسرے کے ساتھ گھٹنا۔
 نَوْبٌ جَهْرًا -
 تَشَاقَوْا - ثِيَابَهُمْ - ایک دوسرے کے
 کپڑے پھاڑ دینا۔
 الشَّقِي - چیز کا شگاف دار ہونا۔ پھٹنا۔
 چیزنا۔ الْأَمْرُ - پر اگندہ ہونا۔ الْقَبْرُ
 صبح کا طلوع کرنا۔
 اسْتَشَقَى - الشَّيْءُ - ادھالینا۔ الْكَلِمَةُ
 مِنَ الْكَلِمَةِ - ایک کلمہ کو دوسرے
 سے مشتق کرنا۔ الْفَرَسُ فِي عَدْوِهِ -

گھوڑے کا دوڑنے میں مائیں بائیں ہانا۔
 - فِي الْكَلَامِ أَوْ الْخُصُومَةِ - کلام یا
 خصومت میں اپنے نکتے سے ہٹ جانا۔
 الطَّرِيقَ فِي الْفَلَاةِ - بیابان میں راستہ
 طے کرنا۔

الشَّقِي - مِم - وَرَز - بھٹن بڑھن - صبح۔
 بھی ہوئی جگہ۔ مشقت۔ چیز کا ادھالنا۔
 ج - شَقُوْقٌ -

الشَّقِي - جَانِبٌ - کنارہ۔ انسان کی ایک
 طرف۔ جس کی طرف انسان کی نظر ہو۔
 مشقت۔ ادھالنا الْمَالُ بَيْنِي وَ
 بَيْنَكَ شَقِي أَوْ شَقِي شَعْرَةً - مال
 میرے اور تمہارے درمیان برابر برابر
 الشَّقِي - کپڑے وغیرہ کا لبا ٹکڑا۔ دھجی۔
 پھاڑا ہوا ٹکڑا۔ پھٹا ہوا نصف حصہ۔ ج
 شَقِي وَ شِقَاقٌ -

الشَّقِيَّةُ وَالشَّقِيَّةُ - مسافت۔ دور کا سفر
 وہ راستہ جس کا طے کرنا راہرو کے لیے
 دشوار ہو۔ وہ رخ جہاں کا مسافر قصد
 کرے مشقت۔ ج - شَقِيٌّ -

الشَّقِيْقُ - و حصول میں پھٹی ہوئی چیز کا
 ایک حصہ۔ سگا بھائی۔ نظیر۔

الشَّقِيْقَةُ - سگی بہن۔ باغات کے
 درمیان سخت زمین۔ بہت بارش۔
 مِنَ الْبُرْقِي - افق میں پھیلنے والی بجلی
 آدھے سر کا درو۔ ج - شَقَائِيٌّ - شَقَائِيٌّ
 النُّعْمَانِ - گل لالہ۔ واحد شَقِيْقَةٌ
 النُّعْمَانِ -

الْأَشَقِي - مِنَ الْخَيْلِ - دائیں بائیں
 دوڑنے والا گھوڑا۔ فَرَسٌ اشَقِي
 المنخرين - کشادہ نھنوں والا گھوڑا۔
 الْمَشَقَّةُ وَالْمَشَقَّةُ - صعوبت۔ تکلیف۔
 محنت۔ ج - مَشَاقٍ وَمَشَقَاتٌ -

شَقَارُونِ، شَقَا وَ شَقُوْعًا - النَّابُ -
 کچی اگنا۔ شَعْرًا لَرَأْسِ - سر کے بالوں

میں کنگھا کر کے مانگ نکالنا۔ داسنہ
سر پہاڑنا۔ فلانا۔ کسی کی مانگ پر
مارنا۔
المشقاء والمشقاء والمشقاء۔ کنگھا۔
شققہ (شققہ)۔ شققا۔ بد شکل ہونا۔ بد بنا
ہونا۔ صفت (شققہ)۔
شققہ (شققہ)۔ شققا۔ الشقی۔ لڑنا۔
الجوزة۔ اخروٹ کی گری نکالنا۔
اللہ۔ قبیح بنانا۔
شاقحة مشاقحة۔ آپس میں گالی
مگولچ کرنا۔
الشققہ۔ دور کرنا۔ آشققہ و شققہ
۔ البس۔ کھجور کا رنگ پکڑنا۔
النخل۔ درخت خربا پر کھجور کا گدر ہونا
۔ شققا لہ۔ دوری ہو اس کے لیے۔
الاشققہ۔ سرخ زرد رنگ لا ہوا۔ مؤنث
شققا۔ ج۔ شققہ۔
الشققی۔ سرخ رنگ کا۔
شققا (س) شققا۔ نظر بد تیزی سے
لگانا۔ بے نیت ہونا۔ صفت (شققا و
شققا و شققا و شققا ان)
شققا (س) شققا و شققا (س) شققا۔
دور چلا جانا۔
شققا۔ دشمنی کرنا۔ دور کرنا۔
اشققا۔ دستکارنا۔
الشققا والشققا والشققا۔ گرگٹ کا
بچہ۔ ج۔ شققا ان و شققا ذی۔
الشققا۔ مم۔ کتے ہیں: مالد شققا
ولانققا۔ اس کے پاس کچھ نہیں۔
ماہہ شققا ولانققا۔ اس میں
کوئی نقص نہیں۔
الشققا ان۔ بھیڑ یا حشرات الارض کی طرح
مکڑے۔ بھٹ تیر کے چمڑے۔
الشققا ان۔ ج۔ شققا ان و الشققا
والشققا۔ گرگٹ۔ بھیڑ یا۔

شققا (س) و شققا (س) شققا و شققا
سرخ زرد رنگ ہونا۔ صفت (شققا)
مؤنث۔ شققا۔ ج۔ شققہ۔
الشققہ۔ گرا سرخ زرد رنگ ہونا۔
الشققہ۔ اہم کام۔ منوری کام۔ ج۔ شققہ
۔ بقاء شققہ۔ اس نے اس سے
اپنے حالات کی شکایت کی۔
الشققہ۔ مرغ۔ بھوٹ۔ جآء بالشققہ و
البققہ۔ وہ بھوٹ اور مصیبت لایا۔
الشققہ والشققان والشققا۔
الشققا۔ سرخ رنگ کی نبات۔ یا گل لالہ
الشققا والشققا۔ فاختہ سے بڑا
ایک پرندہ۔
شققا شققا۔ الجمال۔ اونٹ
کا بیلانا۔ الطیر پرندہ کا آواز کرنا۔
الشققا۔ اونٹ کے منہ کا بھاگ جو
وہ بوقت مستی نکالتا ہے۔ ج۔
شققا۔ فلان شققا قویہ
فلان اپنی قوم میں شریف اور فصیح ہے۔
شققا۔ الذی بیحہ۔ ذبیحہ کو کاٹ
پیٹ کر حصہ داروں کے لیے برابر
حصے لگانا۔
الشققا۔ حصہ نصیب۔ چیز کا یازمین کا
ٹکڑا یا قطعہ۔
الشققا۔ شریک۔ شکت۔ حصہ۔ عمدہ
گھوڑا۔ بہت میں سے چھوڑا۔
المشققا۔ پھڑا پھل یا پھڑے پھل کا تیر
ج۔ مشاقص۔
المشققا۔ قصا۔
شققا (س) شققا۔ فی الإناء۔ رتن میں
منڈال کر پینا۔
الشققا۔ ٹیکری۔ ٹیکری کے ٹکڑے۔ واحد
(شققا)
الشققا۔ بڑا پھوڑا۔
شققا (س) شققا۔ الدار۔ واحد۔ و اہم

کا وزن کرنا۔
شققا (س) شققا۔ و شققا العظيمة۔
بخشش کم دینا۔ شققا الرجل۔
شققا (س) شققا۔ العطاء۔ کم ہونا۔
صفت (شققا و شققا و شققا)
المشققا۔ بینکا۔ کل۔ جوتے ہوئے اور
ہوئے ہوئے کھیت کی مٹی کو برابر کرنے
کا آلہ۔
شققا شققا و شققا۔ اللہ فلانا۔
بدبخت بنانا۔ شققا شققا کنگھی کرنا۔
شققا شققا شققا و شققا
و شققا و شققا۔ بدبخت ہونا۔
صفت (شققا) ج۔ شققا۔
شققا۔ فلانا۔ بدبختی میں بڑھنا۔ مقابلہ کرنا۔
۔ فی الحرب و نحوھا۔ لڑائی
وغیرہ میں مشغول کرنا۔ ہ علی
گذا۔ مبر کرنے میں مقابلہ کرنا۔
الشقاقی۔ فا۔ من الجبال۔ پہاڑ کا لبا
نکلا ہوا گوشہ۔ ج۔ شقاق و
شققا۔
الشققا والشققا۔ مم۔ سختی۔ بدبختی۔
المشققا۔ کنگھی۔
شققا (س) شققا۔ فی الأمر شک وشہ
کرنا۔ صفت فاعلی۔ (شقا) صفت مفعولی
ر مشكوك) فیہ۔ علیہ الأمر۔
معاہدہ مشتبہ ہونا۔ ہ بالجمع۔
مار کر بڑی تک بھاڑنا۔ شققا
الشققا شققا۔ ہاؤں میں کانٹا
چھبنا۔ شققا القوم بیویہ۔
کا اپنے گھروں کو ایک ڈھنگ یا ایک
قطار پر بنانا۔ الخياط الثوب۔
دوڑی کا کپڑے میں دو دو ٹانگے
لگانا۔ لایا البلاد۔ ملک طے کر
کے پہنچنا۔ الشقی لای الشقی۔ ایک
چیز کو دوسری سے ملانا۔ علیہ الأمر

شکل دس شکلا۔ سرخ سفید ہونا۔ الشیء
سرخی مائل سفید ہونا۔ المذاق عورت
کانازوانمازوال ہونا۔
اشکل۔ الامر۔ مشتبہ ہونا۔ العنب۔
انگور کا پکنے لگنا۔ اللخل۔ کھجور کا
پک کر تیار ہونا۔ الکتاب۔ کتاب
پرا عرب لگانا۔ الشیء۔ مشکل ہونا
۔ المریض۔ بیمار کا روبہمت ہونا۔
مشاکلہ مشکاکلہ۔ مشابہ ہونا۔ موافق
ہونا۔
تشکل۔ صورت اختیار کرنا۔ العذب
انگور کا پکنے لگنا۔
تشاکلا۔ ایک دوسرے کے مشابہ ہونا
ہمزگ ہونا۔
اشتکل و اشتکل۔ الامر۔ معاملہ کا
شبه والا ہونا۔ شکلی ہونا۔
الشکل مص۔ مشابہت۔ مثل۔ نظیر۔ دشوار
امر۔ قصد و ارادہ۔ کہتے ہیں۔ سألته
عن شکل فلان میں نے فلان
کے ارادہ کو دریافت کیا۔ عورت کاناز
ونخزہ۔ ایک حسی یا وہی چیز کی شکل و
صورت۔ ج۔ اشکال و شکول۔
الاشکال۔ مرقی یا چاندی کے
زیورات جو ایک دوسرے سے ملنے
جتے ہوں۔ امور اشکال۔ مشتبہ
کام۔ شکل الکتاب۔ کتاب کی
حرکات۔ شکل۔ ایک حرکت۔
الشکل۔ مثل۔ عورت کا بائپن۔ ناز و نخزہ۔
الشکلہ۔ سرخی سے ملی ہوئی سفیدی۔ د۔
والشاکل۔ مشابہت۔
الاشکال۔ جانور کے پائے بند۔ وہ دھاگا
جو اونٹ کے پیش بند اور تنگ کے
درمیان باندھتے ہیں۔ اگلی پھلی ٹانگ
باندھنے کا بندھن۔ ج۔ شکل۔
الاشکال فی الخیل۔ گھوڑے کی

تین ٹانگوں کا سفید رنگ اور چوتھی کا
خلاف رنگ ہونا۔
الشاکلہ۔ مؤنث۔ الفاعل۔ شکل طرف
جانب۔ طریقہ۔ راستہ۔ نیت۔ حاجت
کو کہ۔ ج۔ شواکل۔ الشواکل۔
وہ راستے جو بڑے راستے سے نکلنے
ہوں کہتے ہیں۔ هذا طریق ذو
شواکل۔ اس راستے سے بہت سے
راستے پھٹتے ہیں۔
الاشکل۔ سرخی مائل سفید۔ جس کی آنکھ کی
سفیدی میں سرخی ہو۔ لهذا شکل یہ۔
یہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ ج۔ شکل
الشکلاء۔ حاجت۔ الشوکلاء۔ ناحیہ
طرف۔ جانب۔ الشوکل۔ کا واحد
بمعنی عوسج (ایک کانٹے دار
درخت)۔
الاشکلاء۔ التباس۔ مشابہت۔ فیہ
اشکلاء من ایہ۔ اس میں اس
کے باپ کی مشابہت ہے۔ حاجت۔
الشکیل۔ کام کے لہے پر لگا ہوا خون لا
جھاگ۔
المشکل و المشکلاء۔ دشوار یا مشتبہ امر۔
ج۔ مشاکل و مشکلات
المشکول۔ من الخیل۔ وہ گھوڑا جس کی
تین ٹانگیں سفید رنگ کی اور چوتھی خلاف
رنگ کی ہو۔ پائے بند سے بندھا ہوا۔
المشکل۔ صورت و شکل والا۔
شکمہ دن، شکما، دینا۔ بدلہ دینا۔
فلانا۔ کسی کو رشوت دینا۔
شکمتہ دن، شکما و شکیمما۔ دانت سے کاٹنا۔
شکم دس شکما بھوکا ہونا۔ اشکمتہ۔ بدلہ دینا۔
الشکم و الشکمی۔ بدلہ عطیہ، رشوت
۔ الشکم شیر۔
الشکیمتہ۔ تکبیر ظلم کی داوری۔ عمد۔
طبیعت۔ مشابہت۔ من الیجام۔

کام کا وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں
رہتا ہے۔ ج۔ شکایم و شکم و
شکیم۔ ذو شکیمتہ۔ خود دار غیرت
مند۔ تابع نہ ہونے والا۔
شاکمہ شکاھا و مشکاھہ۔ مشابہ
ہونا۔
اشکلا۔ الامر۔ دشوار ہونا۔
تشاکمہا ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہونا
شکایشکو شکوی و شکوا و شکاة
و شکاوة و شکایہ و شکیہ۔
البیہ زیداً۔ شکایت کرنا۔ شکایت
کرنے والا (شاک) اور جس کی شکایت کی
جائے وہ (مشکو و مشکوی) ہے۔
جس سے شکایت کی جائے، اس کو
(مشکو، اور شکایت کو (شکوئی)
کہتے ہیں۔ شکا الامر و العلة۔ ذکر
کرنا یا دروند ہونا۔ مرضہ للطیب۔
طیب سے اپنے مرض کی حالت بیان کرنا۔
امره الى الله۔ ظاہر کرنا۔
شکایشکو شکوا و شکوی و شکاة۔
المرض فلانا۔ بیماری کا کسی کو دروند
بنانا۔
شکی تشکیبہ۔ الشاکی۔ شکایت ماننا۔
اشکی اشکاء۔ فلانا۔ شکایت قبول کرنا
شاک پانا۔ کسی کے سامنے اپنی شکایت
بیان کرنا یا حکایت شروع کا ذکر کرنا۔
کسی کے ساتھ قابل شکایت برتاؤ کرنا۔
کسی کی شکایت کو دور کر دینا۔ (عند)۔
فلانا من فلان کسی نے کسی کی
خوشنودی کے لیے کوئی چیز لیا۔
شاکا۔ شکایت کرنا۔
شکی۔ بیمار ہونا۔ البیہ۔ شکایت کرنا
۔ من جرح زخم سے دروند ہونا۔
اشکی۔ بیمار ہونا۔ البیہ۔ شکایت کرنا
۔ من جرح۔ زخم سے دروند ہونا۔

تَشَاكِي تَشَاكِيًا - القوم - ایک دوسرے کی شکایت کرنا۔
 الشُّكُوْدُ الشُّكُوْدِي والشُّكَاةُ والشُّكَاةُ والشُّكَاةُ
 والشُّكُوْدُ - الشُّكُوْدِي - الشُّكُوْدِي - ج۔
 جس چیز کی شکایت کی جائے۔ ج۔
 شُّكَاوِي -
 الشُّكُوْدَةُ - شُكَاوِي - اسم مَرَّةً - بیماری - ج۔
 شُّكُوَاتٌ وشُّكَاةٌ - (ر۔ والشُّكِيَّةُ)
 دودھ یا پانی کے لیے چمڑے کا برتن۔
 الشُّكِيَّةُ - جس کی شکایت کی جائے۔ ورومندہ
 دکھی۔ مؤنث (شُّكِيَّةٌ) - ج۔
 شُّكَايَا - (ر۔ والشُّكَاةُ) شکایت کرنے
 والا۔ حقوڑی بیماری والا۔ رَجُلٌ
 شَاكِيٌ السُّلَامِ - ہتھیار بند۔ رُعب
 واب کا آدمی۔
 الشُّكَاةُ - عیب۔
 المِشْكَاةُ - طاق - چوڑی رکھنے کا طاق۔
 شُكِيٌّ يَشْكِي شُكْيًا - اَلْيَدِ - شکایت کرنا۔
 الشُّكِيَّةُ - بقیہ۔
 شَلَّ (ر۔ شَلًّا) - الثَّوْبُ - کپڑے پر
 ہلکی سلاخی سینا۔ شَلَّتْ العَيْنُ
 دَمْعَهَا - آنکھ کا آنسو بہانا۔
 الدرْعُ وَقَلْبُهَا عَلَيْهِ - زرہ پہنتا۔
 - الشَّيْءُ - کاٹنا۔
 شَلَّ (ر۔ شَلًّا) شَلًّا - الابل - اونٹوں
 کو ہلکانا۔ ہلکانا۔ الصُّبْحُ يَشَلُّ
 الظُّلَامَ - صبح تاریکی کو بھگا دیتی ہے۔
 شَلَّتْ (ر۔) شَلًّا وشَلًّا وشَلَّتْ و
 أَهَلَّتْ (ر۔) شَلًّا - يَدَاةً - ہاتھ کا
 سوکھنا بیکار بننا۔ شَلَّ (ر۔) شَلًّا
 ہاتھ (ر۔) شَلًّا - ج۔ شَلٌّ - جو شخص
 تیر اندازی و نیزہ بازی میں استاد ہوتا
 ہے اس کے حق میں دعا کے طور پر
 کہتے ہیں۔ لَا شَلَّتْ يَدَاكَ اَوْ لَا
 شَلَّتْ عَشْرَكَ - یعنی خدا کرے،

تھارے ہاتھ یا تھاری دس انگلیاں
 بیکار نہ ہوں۔
 الأَشَلُّ - شُكَّ - ہاتھ والا ہونا۔ اِنْقَلَبَ
 - المَطْرُ - بارش کا برسا۔ السَّبِيلُ
 سیلاب کا بڑھنا شروع ہونا۔
 الذُّبُّ فِي الغَنَمِ - بھیڑیے کا بکریوں
 میں تباہی مچانا۔ اِنْقَلَبَتِ الابلُ -
 اونٹوں کا بھاگنا۔
 شَلَّالٌ - بنی علی الکسر - شَلَّ - کا اسم۔
 تیر انداز کو دعا دینے کے موقع پر کہتے
 ہیں۔ لَا شَلَّالٍ -
 الشُّلُّ - مہ - کپڑے کا داغ جو دھونے سے
 نہ جائے۔ ہاتھ کی خرابی۔
 الشُّلُّ والشُّلُّ والشُّلُّ - تیز خوش
 مزاج ساتھی۔
 الشُّلَّالٌ - متفرق لوگ۔
 الشُّلَّةُ - اسم مَرَّةً (وَالشُّلَّةُ والشُّلِّيُّ)
 دور کا مقصد۔ سفر کی سمت۔
 الشُّيْلُ - اونٹنی کپڑے کا ٹکڑا جو جانور کے
 پیٹے پر کجاوہ کے پیچھے ڈالا جاتا ہے۔
 چھٹی زرہ جو بڑی زرہ کے نیچے پتی
 جاتی ہے۔ کرتا جو زرہ کے نیچے پہنا جاتا
 ہے۔ وادی کے درمیان پانی بننے کا
 بڑا نالہ۔ ج۔ اَشْلَّةٌ -
 الشُّلَّالَاتُ - آبشار - واحد (شُّلَّالٌ)
 المِشَلُّ - گردن پر ڈالنے کا کپڑا۔ رَجُلٌ
 مِشَلٌّ - تیز چلنے والا۔ اچھی صحبت
 والا۔
 شَلَّتْ - كَغَلِيْمًا - ننگا کرنا۔
 الشُّلْحَاءُ والشُّلْحِي - تیز تلوار۔ ج۔
 شُلْحٌ -
 المِشَلْحٌ - منج - حمام کا وہ کترو جہاں کپڑے
 اتارے جاتے ہیں۔
 شُلْحَةٌ (ر۔) شُلْحًا - بالسَّيْفِ - کاٹنا۔
 الشُّلْحُ - مہ - اصل - جڑ - آدمی کی اولاد۔

شَلَّ شَلْفَةً وشَلْفَالًا - الماءُ
 پانی کا ٹپکنا۔ الماءُ وِالمَاءِ - پانی
 متفرق چھڑکنا۔ الماءُ - پانی ٹپکانا۔
 السَّيْفُ الدَّمُ - تلوار کا خون گرانا۔
 صفت مفعول (شَلَّ) وشَلَّ شَلْفَةً و
 مَشَلَّ -
 نَشَلَّ - الماءُ - پانی کا بھرننا۔ پھیلنا۔
 - السَّيْفُ بالدَّمِ - تلوار کا خون گرانا۔
 کہتے ہیں۔ شَجَاءٌ وِجَرْحَةٌ
 يَتَشَلَّشَلُّ دَمًا - وہ ایسی حالت میں آیا
 کہ اس کا زخم خون ٹپکا رہا تھا۔
 الشُّلُّشَلُّ - ٹپکنے والی منک - مَاءٌ
 شُلُّشَلُّ - مسلسل ٹپکنے والا پانی۔
 الشُّلُّشَلُّ والشُّلُّشَلُّ - مِن
 الرِّجَالِ - تیز و سبک دست خوش مزاج۔
 الشُّلْطَاءُ - پھری - الشُّلْطَةُ - باریک
 اور لمبا تیر۔ ج۔ شُلْطٌ -
 شَلَعَ رِفًا شَلْعًا - الرَّاسُ - سر کپکانا۔
 الشُّلْفُ - لوسے کی سلاخ۔
 الشُّالُوْتُ - آبشار - آبشار گرنے کی جگہ۔
 الشُّلْفَةُ - مِنَ النِّسَاءِ - بدکار عورت۔
 شَلْفَةٌ (ر۔) شَلْفًا - لمبائی میں پھارنا یا چیرنا۔
 - اَبْسُوطٌ - کسی کو کورے سے مارنا۔
 المِشَلِقُ والشُّلِقُ - نرم کانٹوں کی ایک
 مچلی۔ ج۔ اَشْلَاقٌ -
 الشُّلْقَاءُ - پھری۔
 الشُّلْقَةُ والشُّلْقَةُ - گوہ کے انڈے۔
 الشُّلْقَةُ - گوڑے سدھانے والے۔
 الشُّلَاقُ - فقیروں کا تھیلا۔
 الشُّوَلِيُّ - مٹائی بیچنے والا۔ حواری یا مٹائی
 کا بہت و لداوہ۔
 الشُّلْبِيُّ - بننے میں منہ کھولنے والا۔
 الشُّيْمُ والشُّوْمُ والشُّلْمُ - گیموں
 میں اگنے والا کڑواوانہ۔
 الشُّلْمُ - چنگاری۔

مَلَا يَغْلُو سَلْوًا - چلنا۔ الشوق۔ بلند کرنا
 او بچا کرنا۔
 أَشْلَى إِشْلَاءً - الكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ -
 کتے کو شکار پر اکسانا۔ ابحارنا۔ انفاق
 اوٹنی کو دوہنے یا چرنے کے لیے بلانا۔
 اشعلی۔ فلاناً۔ پھڑانا۔
 اسْتَفْلَى - غَضَبًا كَ هَوْنًا - ۵ - پھڑانا۔
 الشلوة۔ جسم کا عضو۔ اوٹنی کا بچہ۔ ہر کھال
 کھینچا ہوا۔ جس میں سے کچھ کھالیا گیا ہو۔
 اور کچھ چھوڑ دیا گیا ہو۔ جہ۔ اشلاء۔
 اشلاء اللجام۔ لگام کے تسمے۔
 اشلاء الإنسان۔ انسان کے اعضا۔
 الشلوة والشلأ۔ ہر چیز کا جسم۔
 الشلیق۔ ہر چیز کا بقیہ۔
 الشلیقة۔ مال کا بقیہ۔ گوشت کا ٹکڑا۔
 جہ۔ شلایا۔
 المشلی۔ نیت۔ وبلأ۔
 شمت رسن، شمتا و شیمتا و شیمینی۔
 الورد۔ سوگھنا۔ د۔ شمتا، تکبر کرنا۔
 الجبل أو الالف۔ پہاڑ یا ناک
 کی چوٹی کا بلند ہونا۔ صفت و آھم
 و شیمینہ، شمت۔ آزمائش کیا جانا۔
 شمت۔ الزھر۔ پھول سوگھنا۔ ۵
 الزھر۔ پھول سوگھنا۔
 آشم۔ سراو بچا کر کے گزرنا۔ ۵ الورد
 کسی کو گلاب کا پھول سوگھنا۔
 عن الامیر۔ الگ ہونا۔ آشم
 القاری الحرف۔ قاری کا اشمام کر
 کے وقف کرنا۔ کہتے ہیں: اشمنونی
 یداک۔ مجھے اپنا ہاتھ دو۔
 شاماً شاماً و کفاماً و کفاماً۔ ایک
 دوسرے کو سوگھانا۔
 اشتم۔ الشوق۔ سوگھنا۔
 شمتہ۔ آہستہ آہستہ سوگھنا۔
 استشمتہ۔ سوگھنے کی درخواست کرنا۔

سوگھنا۔
 الشمت۔ مہ۔ سوگھانی۔ الشامة۔ سوگھنے
 کی جس۔
 الشمتہ۔ مہ۔ نزدیک۔ دوری۔ رند،
 نر بھرتی اور ہمواری کے ساتھ ناک کے
 بانسہ کا اٹھا ہوا ہونا۔
 الشیمینہ۔ مہ۔ بلند۔ عمدہ خوشبو۔
 الامشمتہ۔ مغرور سردار۔ کریم۔ بلند ناک
 والا۔ مؤنث۔ فحشاء۔ جہ۔ شمت
 الشمام و الشموم۔ بہت سوگھنے والا۔
 الشمام۔ ایک زرد رنگ کا خرپوزہ سفید
 واحد (شمامة) جہ۔ شمامات۔
 الشمامات۔ عمدہ خوشبوئیں۔
 الاشمام۔ قاریوں اور بخریوں کے نزدیک
 ہونٹ کے ساتھ بغیر آواز نکلے ہوئے
 حرکت کی طرف اشارہ کرنا۔
 المشموم۔ منع۔ سوگھی ہوئی چیز۔ مشک۔
 شمت رس، شمتا و شمتا۔ بفلان
 کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ صفت
 فاعل (شامت، جہ۔ شمتات۔
 صفت مفعول۔ (مشموت) بہ۔
 شمتت۔ العاطس و شمتت علیہ۔
 پھینک لینے والے کو یہ حجت اللہ
 کہہ کر دعا دینا یا کسی کے حق میں یہ دعا
 کرنا کہ وہ ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو کہ
 کوئی اس پر خوش ہو۔ مسدوم کرنا۔
 شمتت بیتھما۔ جرح کرنا۔
 آشمته۔ اللہ بعدوہ۔ دشمن کی تکلیف
 سے خوش کرنا۔
 شمتت۔ القوم۔ قوم کا بغیر غنیمت کے
 ناکام لوٹنا۔
 الشامت۔ فامی مصیبت زدہ پر خوش
 ہونے والا۔ جہ۔ شمتات۔
 الشامته مؤنث الشامت جانور کی
 ٹانگ۔ جہ شوامت بہات بلیکے

الشوامت اس نے سخت مصیبت
 میں رات گزاری۔ طوع الشوامت۔
 دشمنوں کی خواہش کو پورا کرنے والا۔
 الشمتات و الشمتاتی۔ نامراد۔ ناکام لوگ۔
 شمتجہ دن، شمتجہ۔ الشیء۔ بلانا۔
 الشوب۔ کپڑے پر دو دوڑا نکلے ٹگانا۔
 شمتجہ عن کذا۔ ہٹانا۔ الگ کرنا۔
 فلاناً۔ جلدی کرانا۔
 الشماجہ۔ انگوٹھا بقیہ جو کھانے کے بعد
 پھینکا جائے۔ ناقہ شمتجہ۔ تیز
 رفتار اونٹنی۔
 شمتجہ۔ الرجل کسی کا خوف زدہ کی
 طرح دوڑنا۔
 الشمحوط و الشمحوط و الشمحوط۔ بہت
 لمبا۔
 شمتخرف، شمتنا و شمتوختا۔ الجبل
 پہاڑ کا بلند ہونا۔ صفت (شامتخ) جہ۔
 شمتخ۔ مؤنث شامتختہ۔ جہ۔
 شامتخ و شامتختات (د۔ و شمتخ)
 انفہ یا نفہ۔ تکبر و فخر سے ناک
 پر طعنا۔ صفت (شمتاخ)۔
 شامتخ۔ بلند ہونا۔ تکبر کرنا۔
 الشامتخ۔ فا۔ نسب شامتخ۔ خریف
 نب۔ رجل شامتخ۔ تکبر آدمی۔
 الشامتخ۔ شامتخ کا مبالغہ جملہ۔
 شمتاخ۔ بہت بلند پہاڑ۔
 (مفارقة) شمتوخ و شمتوخ۔ دوسری
 پھیلا ہوا یا بانہ
 شمتخ۔ شمتخوفا۔ تکبر کرنا۔
 شمتخاراً۔ الشوق۔ دیرانہ ہونا۔
 الجبل۔ پہاڑ کا بلند ہونا۔
 الشمتخ و الشمتخ۔ تکبر آدمی۔ بلند
 نظر، مؤنث آدمی یا اونٹ۔
 الشمدار و الشمدار و الشمدار۔ تیز
 رفتار۔

الشَّمِيدَةُ أَرَقٌ وَالشَّمِيدَةُ حِجَّتُ نَوْجَانِ
 شَمْرُ دَنْ (مِنْ) شَمْرًا - تیز چلنا۔ ٹکمر سے
 چلنا۔ النخل۔ درخت خرما سے
 کھجوریں کاٹنا۔
 تَمَرٌ تَشْمِيرًا - تیز گزر جانا۔ ہ۔ تیز
 چلانا۔ الشیخ۔ سکیڑنا۔ سیٹنا۔
 السَّفِينَةُ أَوْ الصَّفْرَاءُ - چھوڑنا۔
 الثوبُ عَنْ سَاقِيهِ - کپڑے کو
 پنڈلیوں سے اٹھانا۔ فِي الْأَمْرِ -
 چستی کرنا۔ لِلْأَمْرِ - کام کا ارادہ کرنا۔
 کام کے لیے تیار ہونا۔ إِلَى الْمَكَانِ
 کسی جگہ کا قصد کرنا۔ شَمَّرَتِ
 الْحَرْبُ وَشَمَّرَتْ عَنْ سَاقِيهَا -
 لڑائی کا تیز ہونا۔ سخت ہونا۔
 أَشْمَرَةٌ - جلدی کرنا۔ هُ بِالسَّيْفِ -
 تلوار سے ذبح کرنا۔
 تَشَمَّرَ وَالْقَمَرُ - تیزی سے گزرنا یا تکبر
 سے گزرنا۔ لِلْأَمْرِ - کسی کام کا ارادہ
 کرنا یا اس کے لیے تیار ہونا۔
 الشَّمْرُ - قیاس۔ سخی۔ دانہ۔ بیتا۔ تجربہ،
 پرکھنے والا۔
 الشَّمْرَةُ وَالشَّمَارُ - ایک قسم کا پودا ہے۔
 شَمْرٌ - شدید۔ سخت۔
 الشَّمْرُ - ہیرا۔
 الشَّمِيرُ وَالشَّمِيرِيُّ وَالشَّمِيرِيُّ وَ
 الشَّمِيرِيُّ - کاموں کا کر گزرنے والا۔
 تَجْرِبَكَارٌ - محنتی۔ جفاکش۔ مِنْ الْأَيْدِي
 تیز اونٹ۔ نَاقَةٌ أَوْ بَشَاةٌ شَامِرٌ
 أَوْ شَامِرَةٌ - اونٹنی یا بکری کے تھنوں
 کا پیٹ سے چپکا ہوا ہونا۔ لَمَشَهُ
 شَامِرَةً - دانت کی جڑ سے چپٹا ہوا
 مسوڑھا۔ جہ۔ شَوَامِرٌ -
 المُشِيرُ - فا۔ تجربہ کار۔ چست و چالاک۔
 کوشش کرنے والا۔
 شَمْرَجٌ - الثوب۔ کپڑے کو بڑا سینا اور

دور دور ٹانگے بھرنا۔ فِي الْكَلَامِ - کلام
 میں گڑبڑ کرنا۔ خَلَطَ طَلَّ كَرْنَا -
 الشَّمْرُ أَجْبٌ - جھوٹا ہوا کلام۔ جہ۔
 شَمَارِيْبُجٌ - الشَّمَارِيْبُجُ - باطل اور
 جھوٹی باتیں۔
 الشَّمْرُجُ - باریک بناوٹ کا کپڑا۔
 شَمْرُخٌ - العذاق - کھجور یا انگور کے
 گھمبوں کو کاٹنا۔
 الشَّمْرُوخُ وَالشَّمْرَانُخُ - کھجور یا انگور کا
 خوشہ۔ الشَّمْرَانُخُ - پہاڑ کی چوٹی۔
 بادل کا اوپری حصہ۔ الشَّمْرُوخُ -
 موٹی شاخ پر جھوٹی باریک اگنے والی
 ٹہنی۔ جہ۔ شَمَارِيْبُجٌ -
 الشَّمَارِقُ وَالشَّمَارِيْقُ وَالْمُشَمَّرِقُ -
 مِنَ الْقِيَابِ - قطع کیا ہوا کپڑا۔
 شَمَّرَتْ دَنْ شَمْرًا - کَفَسَهُ مِنْهُ -
 کروہ سمجھ کر نفرت کرنا۔
 تَشَمَّرًا - الْوَجْهَ - چہرہ کا سکرنا۔
 الشَّمَارُزُ - الشَّمَارُزَانَا - خوف زدہ ہونا۔
 کراہیت سے روٹنے کھڑے ہونا۔
 الشَّيْءُ - کروہ جانا۔ مِنْهُ - منقبض
 ہونا۔ کراہیت کی وجہ سے نفرت کرنا۔
 شَمْسٌ (دَنْ) شَمْسًا وَشَمَّاسًا - باز رہنا۔
 انکار کرنا۔ لہ۔ دشمنی ظاہر کرنا۔ بِلَائِي
 کا ارادہ کرنا۔ الْقَرِيْبُ - گھوڑے کا
 سرکش ہونا۔ گھوڑے کا چلنا، کہ نہ کسی کو
 سوار ہونے دے نہ زمین کسے دے۔
 نہ ایک جگہ سوار کھڑے۔ صفت۔
 (شَمْسٌ) جہ۔ شَمْسٌ وَشَمْسٌ
 وَشَمَّاسٌ - جہ۔ شَوَامِسٌ -
 شَمْسٌ (دَنْ) شَمْسًا وَشَمْسٌ (دَنْ)
 شَمْسًا وَشَمْسٌ - الیوم۔ دن کا
 دھوپ والا ہونا۔ صفت (شَمَّاسٌ) و
 مُشَمَّسٌ) وَشَمْسٌ لِي - عداوت کا
 ظاہر ہونا اور اس کو چھپانہ سکانا۔

شَمْسٌ - الْكَافِرُ - کافر کا سورج کی پرستش
 کرنا۔ الشَّيْءُ - چیز کو دھوپ میں پھیلانا۔
 - كُ - نفرت دلانا۔ فَلَانٌ شَمَّاسٌ
 ہونا۔
 شَمَّاسَةٌ - دشمنی کرنا۔
 كَشَمَّسٌ - دھوپ میں بیٹھنا یا کھڑا ہونا۔
 عَلَيْنَا - بھل کرنا۔
 الشَّمْسُ - مَم - سورج۔ تصغیر شَمْسَةٌ
 جہ۔ شَمْسٌ - الشَّمْسُ - ایک قسم کی
 کنگھی۔ ایک قسم کا ہار۔
 الشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ - مِنَ
 الْأَيَّامِ - دھوپ والا دن۔
 الشَّمْسُوسُ - سخت دشمنی کرنا۔ جہ۔ شَمْسٌ وَ
 شَمْسٌ -
 الشَّمَّاسُ - فا۔ مِنَ الْأَيَّامِ - دھوپ
 والا دن۔ مِنَ الْخَيْلِ - سرکش گھوڑا۔
 مِنَ الْبِحَالِ - سخت مزاج۔ جہ۔
 شَوَامِسٌ -
 الشَّمْسِيَّةُ - چھتری۔
 الْمُتَشَمِّسُ - قوی۔ سخت۔ بخیل۔
 شَمَّهَى دَنْ شَمَّصًا وَشَمَّصَ - الدَوَابَّ
 جانور کو بہت تیز ہانکنا۔ شَمَّصَهُ
 بِالسَّوْطِ - کورے سے مارنا۔ الرَّجُلُ -
 کسی کو اذیت پہنچا کر غصہ کرنا۔ شَمَّصَهُ
 الشَّيْءُ - بے قرار کرنا۔
 شَمَّصَ (دَنْ) شَمَّصًا - جلدی جلدی ہونا۔
 أَشَمَّصَ وَالشَّمَّصَ - خوفزدہ ہونا۔
 تَشَمَّصَ - سکرنا۔
 الشَّمَّاصُ - نکل جانا۔ بچ جانا۔
 الشَّمَّاصُ - جلدی، عجلت۔
 الشَّمْمُوسُ - مِنَ الْخَيْلِ - سرکش گھوڑا۔
 شَمَّطَ (دَنْ) شَمَّطًا - الشَّيْءُ - طمانا۔ الْإِنَاءُ
 بھرنا۔ الشَّجْرُ - درخت کے پتے
 جھڑنا۔
 شَمَّطَ (دَنْ) شَمَّطًا وَشَمَّطًا -

إشْمَاطٌ إِشْمِيطَاً وَ إِشْمَاطٌ
 إِشْمِيطَاً. سر کے سیاہ سفید بالوں
 والا ہونا۔ صفت (إشْمِيطٌ ج. شَمِيطٌ
 وَ شَمِيطَانٌ. مؤنث شَمِيطَةٌ ج. شَمِيطَةٌ
 شَمِيطَةٌ وَ أَشْمِيطَةٌ - یہ - ملانا۔ غلط
 ط کرنا۔
 الشَّمِيطُ وَ الشَّمِيطُ وَ الشَّمِيطُ - مصالحو
 ج. شِمَاطُ وَ أَشْمَاطُ -
 الشَّمِيطُ - مخلوط صبح۔
 الشَّمِيطَاتُ - فی الراہیں - سر میں کچھ
 سفید بال۔
 الشَّمِيطُ - جوار کی بھیٹی - مِنَ الخِيطَانِ
 دھاگے کا گولایا گٹا۔
 الشَّمِيطَاطُ وَ الشَّمِيطُوطُ وَ الشَّمِيطِيطُ -
 جماعت۔ گروہ۔ گلمہ۔ ج. شَمِيطِيطٌ -
 کہتے ہیں "جَاؤُا فَمَا طِيطُ" وہ
 علیہ علیہ آئے۔ توبہ شَمِيطَاطُ -
 کٹا ہوا کپڑا۔ الشَّمِيطُوطُ - لبا۔
 شَمِيطَةٌ رَنٌ (شَمِيطٌ - روکنا۔ نرم گرم
 گفتگو کرنا۔ اکسانا۔ خفیف حرکت دینا۔
 - الشَّمِيطُ - ملانا۔ تھوڑا تھوڑا لینا۔
 شَمِعَ رَفٌ شَمِعًا وَ شَمِيعًا - کھیلنا۔
 مذاق کرنا۔ صفت (شَمِيعٌ) أَشْمَاعُ
 أَنْتَ أَمَّ جَادٌ: یعنی تم مذاق کر رہے
 ہو یا سنجیدگی میں کہہ رہے ہو۔ (شَمِيعًا)
 الشَّمِيعُ - متفرق ہونا۔
 شَمِعَ - الشَّمِيعُ - کسی شے کو پگھلے ہوئے موم
 میں ڈبونا یا اس پر ڈالنا۔ الرَّجُلُ -
 کسی کو کھیل کو یا مذاق پر آمادہ کرنا۔
 أَشْمَعٌ - السِّرَاجُ - چراغ کا روشن ہونا۔
 الشَّمِعُ وَ الشَّمِعُ - موم۔ موم بتی۔ واحد
 (شَمِعَةٌ وَ شَمِيعَةٌ) ج. شَمِيعَاتُ -
 الشَّمَاعُ موم بتی بنانے والا یا بیچنے
 والا۔ الشَّمِيعَةُ - موم بتی بنانے کی
 جگہ یا اس کے بکنے کی جگہ۔

الشَّمَاعُ وَ الشَّمَاعَةُ - بتی خوشی۔ مذاق۔
 الشَّمِيعُ - مِنَ الشَّمَاعِ - خوش طبع۔ مذاق
 کرنے والی عورت۔
 الشَّمِعْدَانُ - چراغدان۔ ج. شَمَاعِدٌ وَ
 شَمِعْدَانَاتٌ - یہ فارسی کا کلمہ ہے
 عربی میں اس کے ہم معنی مَاثِلَةٌ
 ہے۔ - مِنْكَ شَمِيعٌ - غیر ملا ہوا
 مفک۔
 إِشْمَعَطَ إِشْمِيعَطَاً غَضَبٌ سَبَّجَانًا -
 القَوْمُ فِي الطَّلَبِ - تلاش میں جلدی
 کرنا اور پھیل جانا۔ الابلُ - او
 الخیلُ - اونٹوں یا گھوڑوں کا بکھر جانا۔
 شَمِعَلٌ وَ شَمِعَلٌ وَ إِشْمِعَلٌ - متفرق
 ہونا۔ پھیل جانا۔ إِشْمِعَلَتِ النَّحْبُ
 لِرَأِي كَابِرٌ كُنَا - الغَارَةُ - لوٹ
 پھیل جانا۔ الابلُ - اونٹوں کا خوشی
 میں آکر اور ہر پھیل جانا۔
 شَمِيعٌ رَسٌ شَمِيعًا يَأْكُلُ كَمَا طَرِحَ نَوْشٌ هَوْنَا -
 تَشْمِيقٌ - خوشی ہونا۔ الشَّمِيعُ - گھس جانا۔
 الشَّمَاعَةُ - جنون۔ خوشی۔ چستی۔
 الشَّمِيقُ وَ الشَّمِيقُ - لبا۔ شادمان۔
 شَمِعَتِ رَنٌ شَمِيعًا - الرَّيْحُ - شمالی
 ہوا چلنا۔ - شَمِيعًا الشَّمِيعُ - شمالی
 ہوا کے سامنے کرنا۔ یہ۔ بائیں جانب
 لینا۔ النَّخْلَةُ - پکی کھجوروں کو
 چن لینا۔
 شَمِلَ رَنٌ مَنٌ شَمِلًا - الشَّقَاةُ - بکری
 کے تھنوں پر پھیلا چڑھانا۔
 شَمِلَتِ رَسٌ شَمِلًا وَ شَمُولًا - چادر
 میں لپیٹنا۔
 شَمِيلٌ رَسٌ شَمِلًا وَ شَمِيلٌ شَمِلًا -
 القَوْمُ - شمالی ہوا سے تکلیف پانا۔
 شَمِلَ رَنٌ وَ شَمِلَ رَسٌ شَمِلًا وَ
 شَمِلًا وَ شَمُولًا - الأَمْرُ القَوْمُ -
 سب کو شامل ہونا۔ عام ہونا۔

شَمِلَةٌ تَشْمِيلًا - چادر میں لپیٹنا۔ شَمِلَ
 الرَّجُلُ - جلدی کرنا۔ دائیں ہاتھ سے
 پکڑنا۔
 أَشْمَلٌ - القَوْمُ - باد شمالی میں داخل ہونا۔
 - الرَّيْحُ - شمالی ہوا چلنا۔ الشَّقَاةُ
 بکری کے تھنوں پر پھیلا چڑھانا۔ القَوْمُ
 تَحِيْرًا أَوْ شَرًّا - جھلائی یا برائی عام کرنا۔
 - الرَّجُلُ - بڑی چادر والا ہونا۔
 أَشْمَلَةٌ - چادر دینا۔ النَّخْلَةُ -
 پکی پکی کھجوریں چننا۔
 تَشْمَلٌ - تَشْمَلًا - بِالشَّمْلَةِ - چادر
 میں لپیٹنا۔
 إِشْتَمَلَ جلدی کرنا۔ - فِي الْحَاجَةِ - آمادہ
 ہونا۔ ارادہ کرنا۔ بِالشُّوبِ كِطْرٌ مِ
 پورا پٹنا۔ الأَمْرُ عَلَيَّ - گھیرنا۔
 اعاط کرنا۔ عَلَى فُلَانٍ - بچانا۔
 إِشْتَمَلَ - جلدی کرنا۔
 الشَّمْلُ - م - شمالی ہوا۔ مجتمع امر۔ متفرق
 امر (رند) جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُمْ -
 اللهُ تَعَالَى ان کے بکھرے ہوئے کاموں
 کو جمع کر دے۔ "قَوَّقَ اللهُ شَمْلَهُمْ"
 اللهُ تَعَالَى ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دے۔
 سَوَّ الشَّمْلَ، کھجوروں کا کچھا۔
 الشَّمْلُ - م - باد شمالی۔ پناہ۔ تھوڑی
 بارش یا کھجور یا تھوڑے لوگ۔ ج۔
 أَشْمَالٌ -
 الشَّمْلَةُ - پھٹی چادر جو موم کو ڈھانک لے۔
 ج۔ قَمَلَاتٌ - اُمُّ قَمَلَةٍ - دنیا۔
 شراب۔ سورج۔
 الشَّمْلَةُ - لینے کی ہیئت۔
 الشَّمَالُ وَ الشَّمَالُ وَ الشَّمَالُ وَ
 الشَّمَالُ وَ الشَّمِيلُ وَ الشَّمُولُ وَ
 الشَّمُولُ وَ الشَّمِيلُ - باد شمالی۔ ج۔
 شَمَالَاتٌ - الشَّمَالُ - بکری کے تھنوں
 پر چڑھانے کا تھیلا۔ وَ الشَّمَالُ ج

<p>شَبْنِي (رس) شَبْنَاءُ - الشَّبْنِي - محالنا - حَقَّةٌ مَرِحِيْلَةٌ - حق کا اقرار کر کے دے دینا - شَبْنِي - باوجود جھیل ہونے کے مکروہ ہونا - كُشَانَا - القوم - ایک دوسرے سے بغض و دشمنی رکھنا - الشَّبْنَاءَةُ - عدوت و دشمنی - الشَّوَانِي - مؤنث الشَّانِيَّةُ - شَوَانِي المال - فیاضی سے دیا ہوا مال - الشَّنَانُ - دشمنی کرنے والا - بغض رکھنے والا بُرَّاسْمَحْنُ وَالَا - مؤنث ر كُشَانَةٌ و شَنَايُ - المِشْنَاءُ - وہ شخص جس سے لوگ بغض رکھیں ایسی حرکتیں کرنے والا جن کی وجہ سے لوگ اس سے دشمنی رکھیں - المِشْنَاءُ - قبح - بد شکل - (واحد جمع مذکر مؤنث سب یکساں) لوگوں سے دشمنی رکھنے والا - شَبْنِي (رس) شَبْنِيَا - اليوم - دن کا سرد ہونا - صفت (شَبْنِيَا و شَبْنِيَا) اسم (الشَّبْنِيَّةُ) - الرجل - سفید خوبصورت دانتوں والا ہونا - صفت (أَشْنَبُ و شَبْنَبُ و شَبْنَبُ و مِشْنَبُ) - المِشْنَبُ - خوشبودار منہ - شَبْنَبِيَّةُ - العوى قَلْبِيَّةُ - محبت کا کسی کے دل میں گھر کر جانا - الشَّبْنَبِيَّةُ و الشَّبْنَبِيَّةُ شِير - موٹا - الشَّبْنَبِيَّةُ - چمڑے کا تھیلا - بیگ - شَبْنَبِيَّةُ - ثوبِيَّةُ - کپڑا بھارا ہونا - الشَّبْنَبِيَّةُ - اکل - دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ - ج - شَبْنَبِيَّةُ - شَبْنَبِيَّةُ (رس) شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ - و شَبْنَبِيَّةُ - الجلد - گرمی یا سردی سے کھال کا سکڑنا - ایسی کھال کو (شَبْنَبِيَّةُ) اور ایسی کھال والے کو</p>	<p>الحديد - لوہے کو پتلا کرنا - الشَّبْنَبِيَّةُ - تیز چیز - شَبْنَبِيَّةُ شَبْنَبِيَّةُ - الرجل - آدمی کی شان بلند ہونا - الشَّبْنَبِيَّةُ - مرم - شَبْنَبِيَّةُ شَبْنَبِيَّةُ - الماء عَلَى الشَّرَابِ - شراب پر پانی چھڑکنا - (وَأَشْنَبِيَّةُ) - الغَارَةُ عَلَيْهِمْ - چاروں طرف سے لوٹ ڈالنا - شَبْنَبِيَّةُ (رض) وَاَشْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ - القُوِيَّةُ - مخک پانی اور خشک ہو گئی - تَشْنَبِيَّةُ و كُشَانَاتُ - الجِلْدُ - کھال کا سوکھ جانا سکڑنا - جِلْدُ الْإِنْسَانِ السان کی جلد پر بڑھا پے کی وجہ سے جھریاں پڑنا - (وَأَشْنَبِيَّةُ) السَّبْقَاءُ مخک پانی ہونا - تَشْنَبِيَّةُ الشَّيْبَانِ دو چیزوں کا باہم ملنا - أَسْتَشْنَبِيَّةُ - دباؤ لا کر ہونا - إِلَى اللَّبَنِ دودھ کی خواہش رکھنا - الشَّبْنَبِيَّةُ - م - ج - شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ و الشَّبْنَبِيَّةُ - چھوٹی پرانی مشک - الشَّبْنَبِيَّةُ - موٹا - دباؤ مند بھوکا - الشَّبْنَبِيَّةُ - دودھ جس پر پانی ڈالا گیا ہو - الشَّبْنَبِيَّةُ - ٹھنڈا پانی - پانی برسانے والا باول - متفرق پانی - الشَّبْنَبِيَّةُ - مخک یا درخت سے ٹپکنے والا پانی - الْأَشْنَبِيَّةُ - ایک قسم کی گھاس - شَبْنَبِيَّةُ (رس) شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ و شَبْنَبِيَّةُ - الرجل - بغض رکھنا - دشمنی کرنا نفرت کرنا صفت فاعل ر شَبْنَبِيَّةُ ج - شَبْنَبِيَّةُ - مؤنث شَبْنَبِيَّةُ - ج - شَوَانِي - صفت مفعولی ر مَشْنَبِيَّةُ</p>	<p>أَشْمَلُ و شَمْلُ و شِمَالُ ر بلفظ الواحد و شَمَائِلُ - بایں - الشَّمَالُ - اتر - بدبختی - بکری کے تن کا داغ - کبیتی کاٹنے والے کے ہاتھ میں کبیتی کا مسٹا - طَبِيْرُ شِمَالُ - بدشگونی کا یزیدہ - نَاقَةُ شِمَالُ - تیز رفتار اونٹنی - الشَّمَالُ - ج - شَمَائِلُ - طبیعت - عادت سیرت - کہتے ہیں - "لَيْسَ مِنْ شِمَالِي أَنْ أَعْمَلَ بِشِمَالِي" - میری عادت نہیں کہ اٹنے ہاتھ سے کام کروں - الشَّمَائِلَةُ - طبیعت - ج - شَمَائِلُ - الشَّمَائِلُ - چادر میں پٹا ہوا - الشَّمَائِلُ - شراب یا سرد شراب - الشَّمَائِلُ - تھوڑی کھجوروں کا گچھا - الشَّمَالُ - اُلْتَا - بایں - الشَّمَائِلَةُ - وہ جگہ جس میں فکاری شکار سے پھپتا ہے - ج - شَمَائِلُ - المِشْمَلُ - چھوٹی تلوار - المِشْمَلُ - منع - پسندیدہ اخلاق والا - المِشْمَلَةُ - شراب - كَيْلَةُ مَشْمُولَةٌ - ٹھنڈی رات - أَخْلَاقُ مَشْمُولَةٌ بُرِّءِ أَخْلَاقُ - شَبْنَلُ - الرجل - جلدی کرنا - چُت ہونا - کھجوریں چننا - الشَّمَائِلُ و الشَّمَائِلُ - تیز چلتے والی اونٹنی - الشَّمَائِلُ - چست - کھجوروں یا بارش کی تھوڑی مقدار - آدمیوں کی تھوڑی مقدار - ج - شَمَائِلُ - الشَّمَائِلُ - خافیہ جن کی چوٹیاں پر آگدہ ہوں - ثوبُ شَمَائِلُ - پٹا پانا کپڑا - ذَهَبُوا شَمَائِلُ - وہ متفرق چلے گئے - شَمَائِلُ - امرأة شَمَائِلُ - بدخلق عورت - الشَّمَائِلُ و الشَّمَائِلُ و شَمَائِلُ - چمکنے شَمَائِلُ - السکین - چھری تیز کرنا -</p>
---	---	--

شفت (س) شفتا۔ فلانہ بقلون۔ بعض
 رکھنا۔ نفرت کرنا۔ بہ۔ تار جانا۔ کہ
 سمجھ جانا۔ تار جانا۔
 شفت۔ الکلام۔ کلام کو مزین کرنا۔ رائیو
 کنکھیوں سے دیکھنا۔ (واشفت)۔
 الجاریۃ۔ لڑکی کے لیے بالیاں بنانا۔
 ایرن بنانا۔
 شفتت۔ الجاریۃ۔ لڑکی کا بالیاں پہنا۔
 الشائف۔ فا۔ اعراض کرنے والا۔
 الشنف۔ مص۔ کان کی بالی یا ایرن۔ ج۔
 شتوف و اشناف۔
 شنتق رن من شنتقل البعیر۔ سوار کا
 اونٹ کی نکیل کو کھینچنا۔ القویۃ۔
 مشک کے تسمہ باندھنا۔ داس الدابة
 مانور کے سر کو کسی درخت یا اونچی کھوٹی
 سے باندھنا۔ اور اسی سے الشنتق
 ہے۔ جس کے معنی مجرم کو پھانسی دینے
 کے ہیں۔ الشی۔ لگانا۔ الخلیۃ۔
 شد کے چھتے میں لڑی ڈالنا۔
 شنتق رن من شنتقاوشنتق رن من شنتقا۔
 کسی سے محبت کرنا۔ دل لگانا۔
 شنتق۔ الشی۔ کاٹنا۔ کڑے کرنا۔ لڑی کا
 ٹکڑا چھتے میں ڈالنا۔
 اشنتق۔ البعیر والقویۃ بمعنی شنتق
 البعیر والقویۃ۔ البعیر۔ اونٹ
 کا اپنا سراٹھانا۔ علی فلان۔ کسی
 پر دست دراز کرنا۔ الرجل۔ کسی
 کا خون بہا لینا۔ کسی پر خون بہا جا جب
 ہونا۔ الشی۔ لگانا۔ شنتق۔ رائی
 عتو۔ زینہ۔ کسی کی بکریوں کے ساتھ
 اپنی بکریاں ملا کر بڑھانا۔ المیدا
 رائی العتق۔ ہتھ کو گلے میں ڈال کر
 طوق بنانا۔
 شانتقاہ مشانتقاہ و شانتقاہ۔ اپنے مال کو
 کسی دوسرے کے مال میں ملانا۔

دخلق۔ پہاڑ سے پھٹ کر گرنے والی
 چٹان۔ شنتظیر کی جمع شنتاظیر۔
 شنتاظیر الجبیل۔ پہاڑ کے اطراف
 و کنارے۔
 شنتظی۔ یہ۔ مکروہ بات سنانا۔
 شنتظوۃ۔ الجبیل۔ پہاڑ کی چوٹی۔ پہاڑ کا
 کنارہ۔ ج۔ شنتاظ۔
 شنتعاہ رن من شنتعاہ۔ قبیح جاننا۔ گالی دینا۔
 بے عزت کرنا۔
 شنتعم (س) شنتعا۔ بہ۔ قبیح سمجھنا۔
 شنتعم۔ رن من شنتعاۃ و شنتعا و شنتعا و
 شنتوعا۔ قبیح ہونا۔ صفت (شنتعم)
 ج۔ شنتعم و شنتعم و اشنتعم)
 شنتعم۔ الرجل۔ بہت برا بھلا کہنا۔
 علیہ الامر۔ قبیح ٹھہرانا۔
 الرجل۔ تیار ہونا۔ آمادہ ہونا۔ و
 اشنتعم البعیر۔ اونٹ کا دوڑنے
 میں کوشش کرنا۔
 شنتعم۔ دوڑنے میں کوشش کرنا۔ للأمر
 کام کے لیے تیار ہونا۔ السلام
 بہتیار پہننا۔ الغارۃ۔ عام لوٹ
 ڈالنا۔ القوم۔ اختلاف رائے کے
 سبب قوم کی حالت کا خراب ہونا۔
 الرجل۔ برے کام کا ارادہ کرنا۔
 الفوس۔ گھوڑے پر سوار ہونا۔ چڑھنا۔
 الثوب۔ کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
 استشنتعہ۔ قبیح و مکروہ سمجھنا۔
 الشنتعۃ و الشنتعاۃ و الشنتوع۔ قباح
 المقتع۔ قبیح علیہ بنیاد خیرین اڑانے والا۔
 المشنوع۔ خرابی و بدی میں مشغول۔
 الشنوع و الشنتعاۃ۔ پہاڑ کی چوٹی۔
 اونچا پہاڑ۔ لہا۔ مکروہ آدمی۔
 الشنتعۃ۔ لمبائی۔
 شنت رن من شنتقا۔ الیہ۔ اعراض یا
 تعجب کی نظر سے دیکھنا۔

(شنتعہ و اشنتعہ) کہتے ہیں۔
 شنتعہ۔ سیکرنا۔
 الشنتع۔ مص۔ اونٹ۔
 شنتع۔ علیہ۔ برا بھلا کہنا۔
 الشنتام و الشنتاجی و الشنتاجی و الشنتاجیۃ
 موٹا اور لمبے قد کا اونٹ۔
 شنتعم۔ النحل۔ درخت خرما کے کانٹے
 صاف کرنا۔
 الشنتاخ۔ پہاڑ کی نوک۔
 الشنتحاب و الشنتوب و الشنتخویۃ
 پہاڑ کی چوٹی۔ ج۔ شنتاخیب۔
 الشنتخوب۔ شانے کا بالائی حصہ۔
 پیٹھ کا منکا۔
 الشنتدخ۔ مضبوط، لمبا اور گھٹے بدن کا۔
 شیر مکان کی تعمیر یا سفر سے واپسی کی
 خوشی میں دعوت۔
 شنتو۔ علیہ۔ کسی پر عیب لگانا۔ الزام
 لگانا۔ کسی کی تذلیل کرنا۔
 الشنتار۔ عار۔ بے عزتی۔
 الشنتیر و الشنتیرۃ۔ بدخلق۔ بڑا عیب وار
 اور شرعی۔
 شنتو الشونیز و الشونیز۔ کلوچی۔
 الشنتسۃ۔ عادت۔ طبیعت۔ گوشت کا
 ٹکڑا۔ ج۔ شنتاشن۔
 الشنتسۃ۔ نئے کپڑے یا کافذ کی کھڑکھڑاہٹ
 شنت رن من شنتعم رن من شنتو صا۔
 بہ۔ چٹنا۔ فوس رنتنا ص و
 شنتا ص و شنتا ص و شنتا ص
 لمبا مضبوط۔ عمدہ گھوڑا۔
 الشنتط۔ کپے ہوئے گوشت کے ٹکڑے۔
 المشنتط۔ بھونا ہوا گوشت۔
 شنتط (شنتاط) الجبیل۔ پہاڑ کی چوٹی۔
 الشنتظ۔ دراز قامت۔ خوبصورت۔
 شنتظ۔ بھونڈ۔ گالی دینا۔
 الشنتظیر و الشنتظیرۃ و الشنتظوساۃ۔

تَشَاتَعًا۔ اپنے مال کو دوسرے کے مال کے ساتھ ملانا۔
 الشَّنَقُ مِم۔ خون بہا۔ رسی سر کی لمبائی۔ جانور کے بوجھ کے ایک طرف کا حصہ۔
 الشَّنَاقُ مِم۔ تسمہ یا ڈوری جس سے مشک کا منہ باندھا جائے۔ تانت۔ سر کی لمبائی۔ بروہ ڈوری جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے۔ اونٹ کے سر کو کھینچنے کی ڈوری۔ وہ رسی جس سے ہاتھ گردن سے باندھے جائیں۔ شَنَقٌ وَأَشْنَقَةٌ۔
 القَلْبُ الشَّنَقُ۔
 ج۔ اَشْتَقُ۔ فِدْسٌ اَشْتَقُ۔
 لے سر کا گھوڑا۔ مَوْنَتٌ د شَنْقَاءُ وَشَنْقَاءٌ ع
 الشَّيْبِقُ بچانسی ویا ہوا۔ لکڑی جو شہد کے چھتے میں ڈال جاتی ہے۔ منہ بولا بیٹا۔
 الشَّيْبِقُ۔ مغرور۔ خود پسند۔
 المَشْتَاقُ۔ ہر چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا۔
 شَمَدٌ دَن، شَمَمًا۔ الجِلْدُ۔ چمڑہ پھیلنا۔
 مَاءٌ شَمَمٌ۔ سرو پانی۔
 الشُّنْمُ۔ کن کٹے۔
 شَمَقٌ يَأْشَمُقُ۔ گدھے کا رنگنا۔
 الشَّيْبِقَةُ۔ بڑا جنگی جہاز۔ ج۔ شَوَانٌ شَيْبٌ دَس، وَشَيْبٌ دَك، شَيْبًا۔
 سیاہی مائل سفید رنگ ہونا۔ صفت
 رَشَابٌ وَآشْهَبٌ، عَامٌ أَشْهَبٌ قَطُّ كَالسَّالِ۔ خشک سال۔ یَوْمٌ أَشْهَبٌ۔ ٹھنڈی ہوا اور پالے والا دن۔ جَيْشٌ أَشْهَبٌ۔ مضبوط فرج۔ ج۔ شُوبٌ۔
 شَهَبَةٌ دَن، شَهَبًا وَشَهْبَةً۔
 الحَوَّارِيُّ۔ گرمی کا کسی کو مجلس دینا۔
 أَشْهَبٌ۔ العَامُ القَوْمُ۔ قوم کے پاؤں کو برباد کر دینا۔ ناپید کر دینا۔

الشَّهَبُ وَاشْهَابٌ وَاشْتَهَبَ۔
 سیاہی مائل سفید رنگ والا ہونا۔
 الذَّرْعُ۔ کھیتی کا خشک اور زرد ہونا مگر بیج میں کچھ سبزی رہ جانا۔
 الشَّهْبُ مِم۔ برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ۔
 الشَّهْبُ وَالشَّهْبَةُ۔ سیاہی مائل سفید رنگ۔
 الشَّهَابُ۔ آگ کا شعلہ۔ رُوْنَةٌ وَالاسْتَارَةُ ستارہ نیزہ کا پھل۔ ج۔ شُحْبٌ وَشُحْبَانٌ۔ وَشُحْبَانٌ وَأَشْهَبٌ کہتے ہیں۔ فَلَا تَنْ شَهَابٌ خَرِبٌ“ فلاں جنگ جو اور دلیر ہے۔
 الْأَشْهَابُ۔ شیر۔ مشکل کام۔
 شَهْبَاءٌ۔ مَوْنَتٌ أَشْهَبٌ۔ حلب شہر کا لقب۔ مِّنَ الْكِتَابِ۔ بہت بہتیاروں والا بڑا شکر۔ سَنَّةٌ شَهْبَاءٌ۔ وہ سال جس میں نہ سبزہ ہونہ بارش یا برف والا سال۔
 الشَّهَابُ وَالشَّهَابَةُ۔ وہ دودھ جس میں تین حصے پانی ہو۔
 الْأَشْهَابُ۔ منذر غمی کی اولاد کا خطاب۔
 شَيْهَدٌ دَس، شَهْوَدًا۔ المجلس۔ مجلس میں حاضر ہونا۔ الشَّيْءُ۔ معائنہ کرنا۔ اطلاع پانا۔ الْجُمُعَةُ۔ جمعہ پانا۔
 عَلِيٌّ كَذَا۔ گواہی دینا۔ صفت (شہد) ج۔ شَهْوَدٌ وَشَهْدٌ۔
 شَيْهَدٌ دَس، وَشَهْدٌ دَن، شَهَادَةٌ۔
 عِنْدَ الْحَالِجِ بِفُلَانٍ أَوْ عَلِيٍّ فَلَانٌ۔ گواہی دینا۔ صفت (شہاد) ج۔ شَهْدٌ وَشَهْوَدٌ وَأَشْهَادٌ۔
 شَيْهَدٌ اللهُ۔ اللہ واقع ہے اللہ کو علم ہے، اللہ نے قبول کیا۔ شَيْهَدٌ بِكَذَا۔ قسم کھانا۔
 شَاهِدَةٌ۔ مُشَاهَدَةٌ۔ معائنہ کرنا۔ دیکھنا۔
 أَشْهَدَةٌ۔ حاضر کرنا۔ أَشْهَدُ فَلَانًا

عَلِيٌّ كَذَا۔ کسی کو گواہ بنانا۔ اسْتَشْهَدُ گواہی دینے کے لیے کہنا۔ اسْتَشْهَدُ بِہ۔ گواہی میں مدد لینا۔
 أَشْهَدُ وَأَسْتَشْهِدُ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔
 تَشْهَدُ۔ گواہی طلب کرنا۔ الْمُسْلِمُ التَّحِيَّاتِ پڑھنا۔
 الشُّهْدُ وَالشُّهْدُ۔ وہ شہد جو موم سے صاف نہ کیا گیا ہو۔ ج شَيْخَادٌ۔
 الشَّهَادَةُ مِم۔ گواہی۔ یقینی خبر۔ قسم۔ اللہ کی راہ میں موت۔ عالم ظاہر (عالم غیب کا مقابل) الشَّاهِدُ۔ فا۔ زبان۔ اور اسی سے ہے عرب کا قول: مَا لَكَ رَوَّاءٌ وَلَا شَاهِدٌ۔ نہ اس کو خوش منظری نصیب ہے نہ خوش بیانی۔ قِرَامٌ۔ ستارہ۔ مغرب کی نماز۔ نحو وغیرہ کے قاعدے کے ثبوت میں ماہرین عربیت کا کلام۔
 الشَّاهِدَةُ۔ زمین۔ ج۔ شَاهِدَاتٌ وَشَوَاهِدٌ۔
 الشَّهِيدُ وَالشَّهِيدُ۔ حاضر۔ گواہی میں این جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں مارا جانے والا۔ اسم (الشَّهَادَةُ) ج۔ شَهْدَاءٌ۔ مَوْنَتٌ شَيْهِدَةٌ۔
 الْمَشْهَدُ۔ لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔ لوگوں کے اجتماع کی جگہ۔ شہید کے قتل ہونے کی جگہ۔ ج۔ مَشَاهِدٌ۔
 الْمَشْهَدَةُ وَالْمَشْهَدَةُ۔ لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔
 الْمُشْهَدُ۔ شہید۔
 الْمُشْهَدَةُ۔ فا۔ امْرَأَةٌ مُّشْهَدَةٌ۔ وہ عورت جس کا خاوند موجود ہو۔ اس کا مقابل امْرَأَةٌ مُّغِيْبَةٌ۔ وہ عورت جس کا خاوند غائب ہو۔

الشُّهُودُ - مفعول مجہول کا دن - قیامت کا دن -
 شَهْرَةٌ (ف) شَهْرٌ و شَهْرَةٌ - بگذا
 مشہور کرنا - شَهْرٌ و شَهْرٌ -
 السَّيْفُ - تلوار سونٹ کر بند کرنا -
 شَهْرٌ قُلُوبًا - کسی کو رسوا کرنا -
 أَشْهَرُ - ایک مہینہ گزرنا - أَشْهَرْنَا فِي
 هَذَا الْمَكَانِ - ہم اس جگہ ایک مہینہ
 مقیم رہے - أَشْهَرَتِ الْمَرْأَةُ
 عورت کا ولادت کے مہینہ میں داخل
 ہونا - الامر - کسی امر کو ظاہر کرنا اور
 مشہور کرنا -
 شَاهِرَةٌ شَهْرًا وَمُشَاهِرَةٌ - مہینہ کے
 لیے نوکر رکھنا -
 اِشْتَهَرَ - الامر - کسی امر کا مشہور ہونا -
 الامر - کسی امر کو مشہور کرنا - یا
 لفضل - کسی کا فضیلت میں شہرت
 حاصل کرنا -
 الشُّهُرُ - م - ایک ماہ - چاند - ہلال - دانا -
 ج - اَشْهُرٌ و شُهُوسٌ -
 الشُّهُرَةُ شَهْرٌ - برائی میں شہرت - رسوائی -
 الشُّهُرُ مشہور - نامور - مؤنث - شَهْبِيرَةٌ
 المشهور - مفعول مشہور - مؤنث - مَشْهُورَةٌ
 شَهَقَ (ف) و شَهَقَ (س) شَهِيْقًا و
 كَشْهَاقًا - الجھاس - گدھے کا
 رینگنا - شَهِيْقًا و كَشْهَاقًا
 و شَهَاقًا - الرجل - کسی کا رونے
 میں سبکی لینا - غرغره والا ہونا - شَهْوَقًا
 الجبل وغیرہ - پہاڑ وغیرہ کا بلند ہونا
 صفت (شَاهِقٌ) کہتے ہیں شہقت
 عيني عَلَيْهِ - یعنی میری نظر اس پر
 گر گئی -

تَشَهَّقَ - عليه کسی پر نظر جمادینا -
 الشَّرْفَةُ - سبکی غرغره کی آواز - چیخ -
 الشَّاهِقُ - نا بلند اونچا زیادہ غضبناک -
 التَّشْهَاقُ - م - "ضحك تشهاق"

نعلک ہنسی -
 شَهْلٌ (س) شَهْلًا و شَهْلًا اِشْهَلًا -
 آنکھ میں سیاہی مائل سرخی ہونا - صفت -
 (اَشْهَلٌ) مؤنث شَهْلَاءٌ - ج -
 شَهْلٌ -
 شَاهِلَةٌ مُشَاهِلَةٌ - گال گلوچ کرنا -
 تَشَهَّلَ - چہرہ کی رونق کا جاتا رہنا -
 الشَّهْلُ و الشُّمْلَةُ - سیاہ زروی
 مائل رنگ -
 الشُّهْلَاءُ - حاجت -
 الشُّمْلَةُ - بڑھیا -
 شَهْرَفَانٌ شَهْمًا و شُهُومًا -
 الفرس - ڈانٹنا - لکارنا - الرجل
 گھراوینا - ڈرانا -
 شَهْمٌ دِكٌ قَهْمَامَةٌ و شُهُومَةٌ -
 تیز فہم ہونا - ذکی ہونا -
 الشُّهْمُ - ذکی القلب - وہ سرواڑھیں کا حکم
 نافذ ہو - ج - شَهْمًا - پالاگ گھوڑا -
 ج - شُهُومٌ -
 الشُّيْهَمُ - زسیبی - ج - شِيَاهِمٌ -
 الشُّيْهَمَةُ - بڑھیا -
 المشهُومٌ - تیز خاطر - خنزیرہ -
 الشَّاهِيْنُ - غامین پرندہ - ج - شَوَاهِيْنُ
 و شِيَاهِيْنُ - ترازو کا عمود -
 شَهَا يَشْهُو و شَيْهِي يَشْهُو شَهْوَةً
 و اشْتَهَى - الشَّيْءُ - کسی چیز کو پسند
 کرنا - بہت چاہنا -
 شَهْوٌ يَشْهُو - الطعام - کھانے کا
 لذیذ ہونا -
 شَهْقَى - الرجل - خواہش کرنے پر آسانا -
 - عليه كذا - بار بار خواہش کرنا -
 هَذَا الشَّيْءُ يَشْهِي الطَّعَامَ - یہ چیز
 کھانے کی اشتہا پیدا کرتی ہے -
 شَاهَاةٌ - مشابہت رکھنا -
 اَشْهَاءٌ - خواہش پوری کرنا - نظر لگانا -

تَشَهَّى - الشَّيْءُ کسی شے کو پسند کرنا - چاہنا -
 عَلَيْهِ كَذَا - بار بار خواہش پیش کرنا -
 الشُّهُوَةُ - م - خواہش - جھوک - شہوت - حرص -
 رغبت - ج - شَهْوَاتٌ و شَهْوَى -
 الشُّهَاءُ - بہت خواہش کرنے والا -
 الشَّهِي - پانے والا - خواہشمند - المشتهى
 مرغوب - لذیذ - شَيْءٌ شَهِيٌّ - لذیذ چیز -
 الشُّهُوَانٌ - مؤنث - شَهْوَى - ج - شَهَاوَى
 (الشُّهُوَانِي) - خواہش مند -
 شَاهِي - البصر - تیز نظر - الشَّاهِيَةُ -
 خواہش -
 شَابٌ يَشُوبُ شُوبًا و شِيَابًا - الشَّيْءُ -
 ملانا - الرجل - خیانت کرنا - دھوکا
 دینا - و شُوبٌ شُوبِيًّا - عَنْهُ -
 لکے سے بٹانا -
 اِنْتَابَ اِنْتِيَابًا و اِنْتَابَ اِسْتِيَابًا -
 ملنا - مخلوط ہونا -
 الشُّوبُ - م - وہ چیز جو دوسری چیز سے ملانی
 جائے - گندے ہوئے آٹے کا پیرا - شمد -
 الشُّوبَةُ - اسم مرہ - دھوکا -
 الشَّائِبَةُ - الغائب - کامونٹ -
 شَوَائِبٌ کا واحد - یعنی عیوب -
 الشِّيَابُ - م - ملاوٹ - لیکلہ (الشِّيَابُ)
 ماہ کی آخری رات -
 المشُوبُ و المشِيْبُ - ملاوٹ -
 المشَاوِبُ - بول کا غلام - ج - مشاوب
 شُوبٌ - الشَّيْءُ - پہچانا - انکار کرنا -
 الشُّوْحَةُ - جبل - دیوار کا درخت - ج - شُوحٌ
 الشُّوْحَطُ - وہ درخت جس سے کانیں بنتے
 ہیں - واحد الشُّوْحَطَةُ
 شَوَذٌ - الشَّمْسُ - ڈوبنے کے لیے سورج
 کا جھکا - شَوْذٌ السَّمَاءُ الشَّمْسُ -
 بادل کا سورج پر چھانا سورج کو ڈھانک
 لینا - ذ - کسی کے عامہ باندھنا -
 تَشَوَّذَ و اِشْتَادَ - عامہ باندھنا - پگڑی باندھنا -

الشيء بصدق. بدمزاجي.
 شَاظَ يَشُوْطُ شُوْطًا - به الغضب.
 غصه بھڑکنا.
 شُوْطَ - لباس فر کرنا - القدر - ہانڈی
 کو جوش دینا - الأحمہ - گوشت
 پکانا - القتیعۃ النبات - سردی کا
 پرورے کو جھلنا
 تَشُوْطَ - الفرس گھوڑے کو تھکانا.
 الشوْط - انتہا دور - ج - اَشُوْطًا -
 شَاظَ يَشُوْطُ شُوْطًا - پفلان گال دینا -
 - به الغضب - غصه بھڑکنا.
 تَشَادَنَ - القوم - ایک دوسرے کو گال دینا -
 الشوْاطُ والشوْاطُ - بغیر دھوئیں کے شعلہ
 آگ یا سورج کی گرمی - پیاس کی شدت -
 بیخ پکار - گال کھونچ -
 شَوْعٌ - يَشُوْعٌ شَوْعًا - الراس - سر
 کے بالوں کا پراگندہ اور گرد آلود ہونا -
 الفرس گھوڑے کے ایک رخسارے
 کا سفید ہونا - صفت - اَشُوْعٌ -
 مؤنث - شَوْعًا - ج - شَوْعٌ -
 شَوْعٌ كَشُوْعًا - القوم - قوم کو جمع کرنا -
 الشَوْعُ - بان کا درخت - واحد - شَوْعَةٌ -
 ج - شِيَاعٌ -
 المَشُوَاعُ - تنور میں آگ بلانے کی سیخ -
 اصل میں شِيَاعٌ ہے -
 شَاظَ يَشُوْظُ شُوْظًا - سبقت کرنا - چلا
 دینا - الجمل بالقطران - اونٹ
 پر قطران ملنا -
 شِيَقَتِ - الجارية - لڑکی کا بناؤ
 سنگار کیا جانا -
 شَوَفَتِ - الجارية - لڑکی کا بناؤ سنگار
 کرنا - آراستہ کرنا -
 أَشَافَ إِشَاقَةً - عليه - اوپر سے جھانکنا
 - منہ کسی سے ڈرنا - خوف کھانا -
 الشيء - بلند ہونا -

تَشُوْفٌ - تَشُوْفًا - مزین ہونا - آراستہ ہونا -
 - من السطح - اوپر سے جھانکنا
 إلى الشيء - لسی چیز کی طرف جھانکنا -
 الشيء - چیز کا بلند ہونا -
 اِشْتَاتَ اِشْتِيَاْفًا - إليه - گردن دراز
 کر کے دیکھنا - المبرق - بجلی دیکھنا -
 رواستيات (الجرح) - زخم کا
 سخت ہونا -
 الشوْفٌ - بینکا زمین برابر کرنے کا آلہ -
 الشيات - آنکھ کے لیے دوا کی بتی -
 الشيفلة - والشيفان - دیکھ بھال کرنے
 والا - دیدبان - فوجی اسکاؤٹ -
 الشوْفٌ - من الرجال - تیز نظر آدمی -
 المشوْفٌ - مفع - مزین - من الجمال
 قطران ملا ہوا اونٹ -
 شَاقِي يَشُوْقِي شُوْقًا و تَشُوْقًا -
 الحب إليه - شوق دلانا - صفت
 مفعولی (مَشُوْقٌ) - صفت فاعلی -
 رشاق (شَاقٌ) - شاق القربة - مشک کو
 دیوار کے ساتھ لٹری کرنا - صفت مفعولی
 (مَشُوْقَةٌ) - الطنب إلى الوند -
 خیمہ کی رسی کو کھونٹے سے باندھنا -
 اِشَاقَةٌ اِشَاقَةٌ -
 شُوْقَةٌ - إليه - شوق پر اکسانا - برا لگینے کرنا -
 تَشُوْقٌ - الشيء وإليه - بہت شوق
 ظاہر ہونا -
 اِشَاقَةٌ و اِشَاقٌ إليه - بہت چاہنا -
 الشوْقُ - مفع - سخت خواہش - بڑی آرزو -
 ج - اَشُوَاقٌ -
 الشياقُ و الشيقُ - وہ چیز جس سے کسی
 چیز کو کھینچ کر دوسری چیز سے باندھیں -
 جیسے خیمہ کی رسیاں -
 الشيقُ - مشتاق - الرجل الاَشُوَاقُ -
 بلند قامت آدمی - ج - شُوْقٌ -
 شَاكَةٌ يَشُوْكَةُ شُوْكًا - کاٹنا چھوننا -

شَاكَتَهُ الشوْكَةُ - کاٹنا چھوننا -
 شَاكٌ يَشَاكُ شَاكَةً و شِيْكَةً - کانٹوں
 میں پڑنا - بالشوْكَةُ - کاٹنا چھوننا -
 الشوْكُ - کانٹوں میں گرنا - (شوْكًا) کسی
 کی شوکت - و تیزی ظاہر ہونا - لحياء
 البعير - اونٹ کا لمبے دانتوں والا ہونا -
 - ثدي الجارية - لڑکی کے
 پستان نمودار ہونا - نکلنے لگنا -
 شِيْكٌ - کاٹنا چھوننا - الجسد - جسم پر
 سرنج پھنسیاں ہونا - صفت (مَشُوْكٌ)
 اَشَاكَةٌ - کاٹنا چھوننا -
 اَشُوْكٌ - المكان - کسی جگہ کا کانٹوں والی
 ہونا - اشوكت الشجرة - درخت
 کا خار دار ہونا یا بہت کانٹوں والا ہونا -
 صفت (مَشُوْكَةٌ) -
 شَوْكٌ - الشجر - درخت کا کانٹے دار ہونا -
 درخت پر کانٹے نکلنا - الحائظ -
 دیوار پر کانٹے رکھنا - الفوخ -
 چوزے کا پر نکالنا - شارب الغلام -
 لڑکے کی مونچھوں کا سخت ہونا - الراس
 بعد الخلق - سر منڈانے کے بعد سر
 نئے بال اگنا -
 الشوْكُ - مم - کاٹنا - ج - اَشُوَاكٌ -
 واحد (شُوْكَةٌ) -
 الشوْكَةُ - ایک کاٹنا، کھوکھو کا ٹکڑا - سرنج
 پھنسی، ہتھیار اور اس کی تیزی - طاقت -
 و جنگ - دشمن کو ایندھی - لا تَشُوْ
 لَكَ مِثْلِي شُوْكَةٌ - تم کو میری طرف
 سے کوئی ایسا نہیں پہنچے گی - شوْكَةٌ -
 الحائك - جولاہے کا تانا بانا برابر
 کرنے کا آلہ - شوْكَةٌ مَبَاكَةٌ و
 شوْكَةٌ يَهُودِيَّةٌ و شوْكَةٌ
 بَيْضَاءٌ - جڑی بوٹیوں کے نام ہیں - ريح
 الغوكة - ہاتھ کے انگوٹھے میں نکلنے
 والی پھنسی جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے -

اور اس میں کانٹے چیتے محسوس ہوتے ہیں
 شَائِدٌ ج۔ شاکتہ و ر۔ الشوك، کانٹے
 وار۔ شائک السلاخ و شوك
 السلاح۔ ہتھیاروں سے مسلح۔
 ارض شاکتہ۔ کانٹوں والی زمین۔
 الأشوک۔ من الثياب ونحوها۔ کھوپڑیا
 کپڑا۔ مؤنث۔ شوکاء۔
 شالَ يَشُو شَوْلًا وشَوْلَانًا۔ الذئب
 وغیره دم کا بند ہونا۔ شالَ الشئ
 وبالشئ۔ بند کرنا۔ الميزان ترازو
 کے ایک پلے کا اٹھ جانا۔ شالت
 القربة۔ او الذائق۔ مشک کے بھر
 جانے یا پھونکی جانے کے سبب اس
 کی ٹانگوں کا اٹھ جانا۔ کتے میں شالت
 نعامتہ۔ وہ ناراض ہو کر پھر راضی
 ہو گیا۔ وہ مر گیا۔ وشالت نعامتہ
 وہ اپنے مکانوں کو خالی کر گئے۔ اور
 متفرق ہو گئے یا ان کا اتفاق ٹوٹ گیا۔
 اور ان کی عزت جاتی رہی۔
 أشال۔ الشئ۔ بند کرنا۔ اٹھانا۔
 شَوْلٌ كشوِيلًا۔ لبن الناقية۔ اونٹنی
 کا دودھ گھٹنا۔ کم ہونا۔ شَوْلَتِ النوقُ
 اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو جانا۔
 شَوْلَ الماءِ۔ پانی کا کم ہونا۔
 المزاذة۔ کم پانی والا ہونا۔ فی المزاذة
 تھوڑا پانی باقی رکھنا۔
 شاول۔ الحجیر۔ اٹھانا۔ وہ وہ۔
 بٹانار۔ وتناول القوم بالرماح
 ایک دوسرے پر نیزہ سے حملہ کرنا۔
 إنشال إنشِيالًا۔ بند ہونا۔
 إنشال إنشِيالًا۔ بند ہونا۔ بہ۔ کسی
 سے تعرض کرنا اور گالی دینا۔
 استشالت۔ الناقة ذئبها۔ اونٹنی کا
 اپنی دم کو اٹھانا۔
 الشول۔ م۔ ہلکا۔ سبک۔ ڈول وغیرہ میں

بقیہ پانی بھوڑا پانی۔ ج۔ أشوال
 الشول۔ کام و خدمت میں چست۔
 الشولة۔ ایک بار کا اٹھنا۔ بچھڑنے کے ڈنک کا
 اوپر کا حصہ۔ بیوقوف عورت۔
 شولة وشوَالَةٌ۔ بچھڑنے کا اسم علم ہے۔
 الشوَالَةُ۔ چغل خور عورت۔
 الشوال۔ بالوں یا اون کا بڑا بورا۔
 الشال۔ بڑی چادر جو کندھوں پر ڈالتے
 ہیں۔ ج۔ شیلان وشالات۔ و
 الشالۃ۔ اس سے اخص ہے۔
 راجعیه الناقۃ (الشائیل)
 مستی کے وقت دم اٹھانے والی اور
 دودھ نہ دینے والی اونٹنی۔ ج۔
 شَوْلٌ وشوَالٌ وشوَالٌ وشوَالٌ
 الشائِلَةُ۔ مؤنث الشائلُ۔ من الابل
 وہ اونٹنی جس کے حمل یا وضع حمل کو
 سات ماہ گزر گئے ہوں اور اس کا
 دودھ خشک ہو گیا ہو۔ ج۔ شَوْلٌ و
 أشوَالٌ وشوَالٌ۔
 شَوْل۔ قمری سال کا دسواں مہینہ۔ ج
 شوالات وجب۔ شواییل۔
 المشوَالی۔ زور آزمائی کے لیے اٹھایا جانے
 والا پتھر۔ نال۔
 المشوَال۔ چھوٹی درانتی۔
 شانَ يَشُو شَوْلًا۔ الرؤوس۔ دماغ کے
 کیڑے نکالنے کے لیے رکھو لانا۔
 شَوَانٌ۔ کم عقل ہونا۔
 الشوَانَةُ۔ بے وقوف عورت۔
 الشوَانَةُ۔ غلہ کا خزانہ۔ جنگی جہاز۔ ج۔
 شواین۔
 الشوَانُ۔ غلہ جمع کرنے والا۔
 شَاهَ يَشُو شُوهاً وشُوهاً۔ الوجه
 چہرہ کا قیح ہونا۔ الرجل خوفزده
 کرنا۔ گھبرا دینا۔ حسد کرنا۔ نظر لگانا۔
 شَاهَتَ نَفْسُهُ الی کذا۔ اس نے

لا یح و حرس کی
 شُوهُ يَشُوهُ۔ شُوهاً۔ الوجه۔ بد رو ہونا
 العنق۔ دراز گردن ہونا۔ کوتاہ گردن
 ہونا رند۔
 شُوهُ۔ اللہ و جہتہ۔ چہرہ کا بد شکل ہونا۔
 تشُوهُ۔ بد شکل ہونا۔ بکری کو شکار کرنا۔
 یغلائن۔ اپنے آپ کو کسی کے لیے
 آشنا سا کرنا۔ نظر لگانے کے لیے کسی
 کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔
 الشوہ۔ م۔ قیح۔ بد شکل۔ خوبصورتی رند
 گردن کی درازی اور بندی۔ ہراٹھانا۔
 الشوہة۔ دوری۔ بد شکل۔
 الشاہ۔ بادشاہ۔ نسبت کے لیے شاهی
 وشاہائی۔ فارسی کلمہ ہے
 الشائہ۔ فا۔ حاسد۔ ج۔ شوہ۔
 شَاةٌ بَنَدَرٌ۔ سودا گروں کا رئیس۔
 شَاةٌ بَلُوَطٌ۔ کستنہ کا درخت۔ رجل
 شَاةٌ البصر وشاہة وشاہیة۔
 تیز نظر کا آدمی۔
 الشاقۃ۔ بکری۔ بکرا۔ ج۔ شَاءٌ وشِیاءٌ و
 شَوَاعٌ وَاَشَاوہٌ وشِیہٌ وشِیہ۔
 وشوئی۔ تصغیر شوئیہ وشوئیہ
 ج۔ شوہات۔ نسبت کے لیے
 شایوی۔
 الشاهی۔ بکری والا۔
 الأشوہ۔ بد شکل۔ جلد نظر بد لگانے والا۔ متکبر۔
 مؤنث۔ شوہاء۔ ج۔ شوہ۔
 الشوہاء۔ ترش و عورت۔ بد شکل۔
 خوبصورت رند۔ منوس عورت۔ فرس
 شوہاء۔ تیز نظر گھوڑا۔ ارض
 مشاہة۔ بہت بکریوں والی زمین۔
 المشوہ۔ بد شکل۔ ناموافق اجزا والا۔
 شوی یَشُو شِیًا۔ اللحم۔ گوشت کو
 آگ میں جھوننا۔ صفت مفعول و مفعولی
 الماء۔ پانی گرم کرنا۔

شوی و اَشْوَى - القوم - قوم کو بھنا ہوا
گوشت کھلانا - الرجل - ایسے
حصہ پر زخم لگانا کہ اس سے موت واقع
نہ ہو - اشوی السهم - تیر کا نشا
خطا کرنا - اشوی الزرع - بھوننے
کے لائق ہونا - الرجل - رات کے
کھانے سے کچھ پھوڑوینا - اشوی
السعف - درخت خرما کی شاخ کا
زرد ہو کر سوکھ جانا - اسی سے ہے
"ما اعیاء وما اشواء" وہ کس قدر
مذکور ہے۔

اَشْوَى اَشْوَاءٌ وَاَشْوَى -
اَشْوَاءٌ - بھن جانا - اشوی
الرجل - بھونا۔

الشوی - ادنیٰ قسم کا مال - آسان معاملہ
ہاتھ پاؤں اور جسم کے اطراف - وہ
اعضائے جسمانی جن پر زخم لگنے سے
قتل واقع نہ ہو - (- والشواء)
کھوپری کا پھڑا۔

الشواء والشواء - بھنا ہوا گوشت وغیرہ۔
والشواءة والشواءة والشواءة
بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا۔

الشواء - گوشت بھوننے والا۔
الشواویة والشواویة والشواویة و
التشویبة - من المال - روی مال
ہلاک شدہ قوم یا مال کا بقیہ - ج -
شواویا - سعۃ شواویة - درخت خرما
کی سوکھی ہوئی شاخ۔

الشوی - بھنا ہوا گوشت۔
المشواءة - گوشت بھوننے کا آلہ - گوشت

بھوننے کی کڑا ہی یا سیخ - ج - مشاویہ
شاءة یشاءة - شینا و مشینة و
مشاءة و مشایبة - ارادہ کرنا۔
چابند صفت فاعلی - (شاری صفت
مفعول - (مشی) الله الشیء - الله

کا مقدر کرنا - تعجب کے موقع پر کہتے
ہیں " ما شاء الله "۔

شِیَاءَةٌ - علی الامر - کسی کو کسی امر پر
اکسانا - ابھارنا - شینا الله وجہ
بد شکل بنانا۔

اَشَاءَ اليه اِشَاءَةً - مجبور کرنا۔
تَشِیًّا تَشِیًّا وَاغصه تَحْذًا ہونا۔

الشیء - صم - چیز - جو چیز جانی پہچانی جائے۔
اور اس کی خبر دی جاسکے - ج -

اَشِیَاءٌ وِجِبَ اَشَادِی وَاَشِیَاوَاتُ و
اَشَاوَاتُ وَاَشَايَا - تصغیر شیبی و
شیبی۔

الشیئة - شاء کا اسم - (- والمشيئة)
ارادہ۔

المشيئة - بد شکل بنا ہوا صورت والا۔
شَابٌ یَشِیْبُ شِیْبًا و شِیْبَةٌ و

مَشِیْبًا - سفید بالوں والا ہونا - بڑھا
ہونا - صفت مذکر - (اَشِیْبٌ و شَائِبٌ)

صفت مؤنث - (مَشَائِبَةٌ) کہتے ہیں
"شابت رؤوس الاکام"۔ ٹیلوں کی

پھریاں برف سے سفید ہو گئیں۔
اَشَابٌ - الرجل - بڑھی اولاد والا ہونا۔

اَشَابٌ و شَائِبٌ - الحزن فُلَانًا و
یَفْلَانٌ - غم کا کسی کو بڑھا کر دینا۔

الاشیبة - سفید سر والا - من الايام -
بادل اور برف والا دن - ج - و شیب

و شیب - الشیب - برف سے
ڈھکے ہوئے پہاڑ۔

الشایب - فا - سفید سر والا - مؤنث -
شایبة - ج - شیب - یوم شیبان

بادل اور سردی والا دن - (- و شیبان)
ماہ دسمبر۔

الشیبة - اسم مرءة - شاب کا اسم - افسنین -
شاح یغیبه شینا - علی حاجتہ - چوکننا

رینا - چوکس ہونا - کوشش کرنا - ڈرنا۔

شِیْحَةٌ - ڈرانا - فِیْمَ خَصْمِهِ - خصم کو
تنگ نکالوں سے دیکھنا۔

اَشَاحَ اِشَاحَةً - فی امرہ - کوشش کرنا۔
ڈرنا - وجہہ و بوجهہ و اشاح

عند وجہہ - کراہیت سے منہ پھیر
لینا - المكان - کسی جگہ کا شیخ نامی

گھاس پیدا کرنا - الغرس بذنبہ -
گھوڑے کا اپنی دم کو ڈھیلا پھوڑنا۔

شَايَحٌ مُشَايِحَةٌ و شِيَا حًا - لڑنا۔
جنگ کرنا - فی الامر - کوشش کرنا۔

الشیح - ایک قسم کی گھاس - واحد (شیمت)
من الرجال - کاموں میں کوشش کرنے

والا - محتاط - چوکس - چوکننا۔
الشیاح - صم - کوشش - ڈر - قحط۔

الشیحان و الشیحان و الشیح - لبا -
غیرت مند - ہوشیار۔

شَاخٌ یَشِیْخُ شِیْخًا و شِیْخَةٌ و
شِیْخَةٌ و شِیْخَةٌ و شِیْخَةٌ و شِیْخَةٌ

و شِیْخَةٌ و شِیْخَةٌ - بڑھا
ہونا۔

شِیْخٌ - بڑھا ہونا - کسی کی تعظیم کے لیے
شیخ کہہ کر بلانا - یا شیخ کہنا - علیہ

عیب لگانا - طعن و تشنیع کرنا - بہ -
رسوا کرنا۔

تَشِیْخٌ - بڑھا ہونا۔
الشیح - بڑھا - بڑھی عمر کا - ج - شِیْخٌ

و شِیْخٌ و اَشِیْخٌ و شِیْخَةٌ و
شِیْخَةٌ و شِیْخَانٌ و مَشِیْخَةٌ و

مَشِیْخَةٌ - وجہ - مَشَايِخٌ و
اَشَايِخٌ - مؤنث (شِیْخَةٌ) شیخ کی

تصغیر شیبیخ و شیبیخ ہے۔
شِیْخٌ المذراة - عورت کا شوہر - اور شیخ

استاد عالم - قوم کے سردار اور بڑے،
اور ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کی

نظر میں علم، فضیلت اور مرتبہ و درجہ وغیرہ

کے لحاظ سے بڑا ہو۔ شیخ النار۔ شیطان۔ الشیخون۔ بولہما۔ شاد یفید شیدا و شیدا۔ الہناء۔ عمارت کو بلند کرنا۔ الخائط دیوار پر چونے کا پلستر کرنا۔ جلدہ بالطیب۔ جسم پر خوشبو ملنا۔ شاد الرجل۔ ہلاک ہونا۔ شاد الابل۔ شیدا۔ اونٹوں کو بلانا۔ اشادۃ اشادۃ۔ ہلاک کرنا۔ اشاد بذکہ۔ تعریف کے شہرت دینا۔ اشاد علیہ قبیلًا و قبیلیم۔ کسی کو برائی سے مشہور کرنا۔ اشاد علیہ کسی کے بارے میں برائی کو شہرت دینا۔ المعنی۔ گانے والے کا بلند آوازی سے گانا۔ اشاد الصلۃ۔ کسی کو چیز کی تعریف کرنا۔ البیان۔ لمبا کرنا۔ الشید۔ بچہ وغیرہ کا پلستر۔ المشید۔ مفع۔ پلستر کی ہوئی (۔ و المشید) بلند کیا ہوا۔ اونچا۔ شیز۔ البرد۔ چادر پر دھاری ڈالنا۔ الشیز و الشیزتی۔ سیاہ اور بہت سخت کلاسی یا آنسو کی ٹکڑی۔ انھاشت۔ النخلۃ۔ نرم گھٹلی کی کھجور نکالنا۔ الشیش۔ نرم گھٹلی کی کھجور۔ عام لوگ شیش گوشت ہونے کی وجہ کی سب کو کہتے ہیں۔ شیش۔ القوم۔ قوم کو ایذا پہنچا کر عذاب دینا۔ شیشت النخلۃ۔ درخت خرما کا روی کھجور لانا۔ الشیش۔ روی ناکارہ کھجور۔ ایک قسم کی مچھلی۔ واحد (شیشۃ) الشیاص۔ بد مزاجی۔ الشیصاء۔ نرم گھٹلی کی کھجور۔ واحد (شیشۃ) المفايصۃ۔ دشمنی منافرت۔

شاع یسخط شیطا و شیاطۃ و شیطوطۃ۔ الشیخ۔ جلنا۔ شاعطت القدم۔ ہانڈی کی تہ میں پکی ہوئی چیز کا جل کر لگ جانا۔ شاعط الذیث۔ تیل کا گارھا ہو کر جلنے کے قریب ہونا۔ شاعطت الذیثۃ۔ ذبیحہ کا گوشت سب بانٹ لینا۔ فلان۔ ہلاک ہونا۔ فی الامر۔ جلدی کرنا۔ دمۃ۔ رائیگاں جانا۔ فلان الدماء۔ خون ملانا۔ یعنی قاتل کو مقتول کے خون پر قتل کرنا۔ شیط و اشاط۔ الصقیعہ النبت او الدواع الجوم۔ پالے کانیات کو یا دوا کا زخم کو جلا دینا۔ الراس او الکواع سری یا پایوں کے بالوں کو آگ پر جھلنا۔ القدر۔ ہانڈی کو پوش دینا۔ اشاط فلانا۔ کسی کو ہلاک کرنا۔ اشاط اللحمۃ علی القوم۔ گوشت کو قوم پر تقسیم کرنا۔ اشاط السلطان دمۃ ویدومہ۔ کسی کو قتل کے لیے سامنے لانا۔ تفسیط۔ جلنا۔ اشاط اشتیاطا۔ علیہ۔ غصہ سے بھر کرنا۔ استشاط۔ علیہ۔ غصہ سے بھر کرنا۔ الحمام۔ کیوتر کا خوش ہو کر اڑنا۔ من الامو۔ ہلاک ہونا۔ فی الحرب۔ لڑائی میں اپنی جان چھوٹ کرنا۔ الشیاط۔ روٹی وغیرہ جلنے کی بو۔ التفتیط و المشیط۔ قوم کے لیے ہونا ہو گوشت الشیطی۔ فہا میں بند ہونے والا خبار۔ المشیط۔ فاب۔ بہت ہینے والا۔ موٹا اونٹ۔ شاع یشیع شیعاً۔ بالخبر۔ خبر مشہور کرنا۔ پھیلانا۔ الریاء۔ برتن بھرنا۔ شاع یشیع شیعاً و شیوعاً و مشاعاً و شیعاناً و شیوعۃ۔ الخبر۔ خبر کا پھیلنا۔ فیک الشیب۔ بڑھاپا

کسی میں ظاہر ہونا۔ شاعہ شیعاً۔ تابع ہونا۔ ساتھ دینا۔ ہمراہ جانا اور اسی سے ہے۔ شاعکم السلام۔ سلامتی تمہارے ساتھ رہے۔ اشاع اشاعۃ۔ الخبر و بالخبر۔ خبر پھیلانا۔ اشاعکم اللہ بالسلام۔ خدا تمہارے ساتھ سلامتی رکھے۔ خدا حافظ۔ شیعۃ۔ رخصت کرنے کے لیے کسی کے ساتھ جانا۔ کسی کو اس کی منزل تک پہنچانا۔ شیعۃ۔ شہر رمضان۔ رمضان کے متصل ہی پھر روزے رکھنا۔ الوجہ۔ کسی کو جرات دلانا۔ قوی کرنا۔ النار۔ آگ تیز کرنے کے لیے اس میں ٹکڑیاں ڈالنا۔ الشیخ النار۔ آگ سے جلانا۔ الرجل۔ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ الشیخ۔ بیچنا اور بیچنے جانا۔ شایعۃ۔ کسی کام کے لیے ہمراہ جانا۔ شایع۔ بھمہ الدلیل۔ رہنما کا لوگوں کو بلانا۔ پکارنا۔ بالابل۔ اونٹوں کو پکار کر بلانا۔ تشیع۔ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اللبیب فی الماء۔ بکھڑا۔ الغضب۔ کسی کے دل میں غصہ کا بھڑکنا۔ فلان فی الشیخ۔ کسی کی محبت میں جان ہلاک کرنا۔ الشیب۔ کسی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا۔ تشایع تشایعاً۔ القوم۔ مختلف گروہ ہونا۔ تشایعوا علی الامر۔ کسی پر موافقت کرنا۔ اتفاق کرنا۔ تشایعوا فی دار۔ گھر میں شریک ہونا۔ تشایعت الابل۔ اونٹوں کا متفرق ہونا۔ اشاعاً اشیاعاً۔ فی دار۔ شریک ہونا۔ الشیع۔ مہ۔ مقدار۔ مثل۔ جہ۔ اشاع۔ اسی سے ہے۔ کما فعل بالشیاعیم یعنی جس طرح کہ ان کے مثل لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ اہمت عندہم شہراً

<p>تَشَيَّرَ آهَاهُ خصلت میں باپ کے مشابہ ہونا الشيء في الشيء داخل ہونا۔ الشَّيْبُ فُلَانًا کسی پر بڑھا پا آجانا۔ الشَّامَةُ تل۔ زمین میں سیاہ نشان۔ پاند کے بچے کی سیاہی۔ سیاہ اونٹنی۔ ج۔ شَامٌ و شَامَاتٌ۔ صَارُوا شَامًا فِي الْبَلَادِ وہ شہروں میں بکھر گئے۔ مَالَهُ شَامَةٌ و لَا زَهْرَاءَ۔ اس کے پاس کچھ نہیں۔ الشَّيْمَةُ وَالشَّيْمَةُ خلق، عادت، طبیعت۔ ج۔ شَيْمٌ۔ الشَّيْمَةُ۔ وہ زمین جو نہ کھودی گئی ہو اور اپنی سختی پر برقرار ہو۔ الشَّيَامُ۔ نرم زمین۔ مٹی۔ الشَّيَامُ۔ مٹی۔ چوہا۔ ج۔ شَيْمٌ۔ الْمَشِيمُ وَالْمَشُومُ وَالْمَشِيُومُ۔ تل والا۔ الْمَشِيْمَةُ۔ ودبھلی جس میں بچے ماں کے پیٹ میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور ولادت کے وقت وہ بچے کے ساتھ نکلتی ہے۔ ج۔ مَشِيْمٌ وَمَشَايِمٌ۔ شَانَهُ يَشِيْنُهُ۔ تَشِيْنَا۔ عیب لگانا۔ شَيْبٌ۔ الشَّيْبُ۔ حروف شین لکھنا۔ الْمَشَايِبُ۔ عیوب۔ مصائب۔ شَاهَهُ يَشِيْهُهُ۔ شَيْهًا۔ نظر بد لگانا۔ الشَّيُوْهُ۔ وہ آدمی جس کی نظر لگتی ہو۔ کتے میں تَهُوْ شَيْوَةٌ مِنْ أَشْيَاءِ النَّاسِ۔ یعنی اسے سب سے زیادہ نظر لگتی ہے۔ الشَّايُّ۔ چائے۔</p>	<p>توز کی آگ بلانے کی سیخ۔ الْمُتَشَايِعُ وَالْمُتَشَايِعُ۔ شریک۔ ساجھی۔ شَاَقَهُ يَشِيْقُهُ شَيْقًا۔ إِلَيْهِ۔ کس کو باندھنا کہتے ہیں۔ شَاَقَ الطَّنْبُ إِلَى الْوَتْدِ یعنی رس کو کھونٹی سے مضبوط باندھا۔ الشَّيْقُ۔ پہاڑ کی چوٹی یا اس کی دشوار جگہ۔ جانب۔ پہاڑ کی تنگ درز۔ جانور کی دم کے بال۔ ایک سمندری مچھلی۔ واحد رَشِيْقَةٌ الشَّيَالُ۔ بوجھ اٹھانے والا۔ بیلی۔ وَالشَّيَالَةُ۔ بیلی کا پیشہ۔ شَامَ يَشِيْمُ شَيْمًا۔ بدن پر تل ہونا۔ صفت رَشِيْمٌ، مؤنث شَيْمَاءُ ج شَيْمٌ وَشُومٌ۔ الْمَدِيْفُ۔ تلوار کرمیان میں کرنا۔ تلوار کرمیان سے باہر کرنا سوتنا دھند۔ البرق۔ بجلی کے چمکنے اور برسنے کی سمت کو دیکھنا دَشِيْمًا وَشِيُومًا، الرجل۔ رطائی میں ج کر حملہ کرنا۔ فی الشيء۔ داخل ہونا۔ الشيء في الشيء۔ چھپانا۔ الشيء۔ تخمینہ لگانا۔ اندازہ کرنا۔ کتے میں شَيْمٌ مَا بَيْنَهُمَا۔ یعنی ان دونوں کے درمیان اندازہ کرو۔ شَيْمًا وَأَشَامًا وَأَشَامًا وَالشَّامُ۔ فی الشيء أَوِ الْأَمْرِ۔ داخل ہونا۔ الشَّامُ الرَّجُلُ۔ منظور نظر ہونا۔</p>	<p>أَوْ شَيْعَةً شَهْدًا۔ میں اس کے پاس ایک ماہ یا اس کی مقدار رہا۔ أَيْتِكَ غَدًا او شیعہ۔ میں تیرے پاس کل یا اس کے بعد آؤں گا۔ الشَّاعَةُ۔ بدی۔ پھیل ہوئی خبریں۔ یہ شائِعٌ کی جمع ہے يَشِيْعَةُ۔ الرجل۔ آدمی کے پیرو اور مددگار ج۔ شَيْعَةٌ وَأَشْيَاعٌ۔ وَالشَّيْعَةُ فرقہ دو واحد شَنِيعٌ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ایسا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وہ کے طرفدار۔ وان (شیعی) الشَّيْعُ۔ حصہ وار شریک۔ ج۔ شَيْعَاءُ۔ مؤنث شَيْعَةٌ الدَّارِ شَيْعَةٌ بَيْنَهُمَا گھرانے کے درمیان مشترک ہے۔ الشَّيْعُ۔ وہ چیز جس سے آگ سلگائی جائے۔ الشَّايِعُ۔ ذرا۔ پھیل ہوئی۔ افشاشہ۔ تَسْمُمٌ شَائِعٌ وَشَاعَ۔ وہ حصہ جو تقسیم نہ ہوا ہو۔ سا بھا۔ المَشَاعُ وَالْمَشَاعُ۔ پھیلا ہوا۔ مشترک۔ غیر تقسیم شدہ۔ اسی سے ہے مَشَاعٌ الْقَدِي۔ وہ اراضی یا جنگلات جن میں سب باشندے شریک ہوں۔ المَشِيْعُ۔ بھرا ہوا برتن۔ کینہ در کینہ۔ المَشِيْعَةُ۔ وہ ٹوکری جس میں عورتیں روٹی وغیرہ رکھتی ہیں۔ المَشِيْعُ۔ مفع۔ ہا اور جلد باز۔ المَشِيْعُ۔</p>
--	---	--

ص

<p>ر۔ وَكَمْ صَاصًا مِنْهُ۔ ڈرنا۔ مطیع ہونا۔ الصَّاصَاءُ۔ رومی کھجوریں۔ الصَّاصِيَّةُ۔ مرغ۔ مرغ کی ٹانگ کا خار صَيْكٌ رَسٌ، صَاصًا۔ بدبو وار پسینہ آنا۔</p>	<p>وَصِيْبَاتٌ۔ الصَّيْبَانُ۔ چھوٹے چھوٹے اولے۔ المَصَابُ۔ شراب سے بھرا ہوا یا سیر شدہ۔ صَاصًا۔ الجِرْدُ۔ بچے کا آنکھ کھولنے کے قریب ہونا۔ الرجل۔ بزول ہونا۔</p>	<p>صَيْبٌ (س) صَاصًا۔ مِنَ الشَّرَابِ۔ شراب سے سیراب ہونا۔ بھڑنا۔ صَيْبٌ وَأَصَابٌ۔ الرَّاسُ۔ سر کا لیکھوں سے پُر ہونا۔ الصَّوَابَةُ۔ لیکو۔ جوں کا اندازہ۔ ج۔ صَوَابٌ</p>
---	--	---

<p>المصبت. سانچہ جس میں حروف وغیرہ ڈھالے جاتے ہیں۔ المصبوب. مفعول گرایا ہوا۔ برا نگینہ کیا ہوا۔ صبارف و صبودن، صبا و صبو۔ مذہب تبدیل کرنا۔ صبا ہونا۔ صفت (صباغ)۔ علیہم۔ اچانک پہنچ جانا۔ العدا و علیہم۔ دشمن کی رہنمائی کرنا۔ (ر۔) واصبا واصباغ الناب او النبات۔ وائت یا نبات کانکنا۔ پھوٹنا۔ واصبا القوم۔ قوم پر اچانک پہنچ جانا۔ الصابون و الصابون۔ ستاروں کی پرستش کرنے والی ایک قوم بعض کے نزدیک وہ قوم جو خود کو دین نوح علیہ السلام کا پیرو جانتی ہے۔ الصباوت و الصباوت۔ شان شوکت، جمال، طاقت (عبرانی)۔ رب الصباوت۔ شان والا۔ صبارف، صبتا۔ القوم۔ قوم کے پاس بوقت صبح آنا۔ عن الحق۔ حق ظاہر کرنا۔ صبح دس، صبحا و صبحا۔ روشن و چمک دار ہونا۔ الشعرة۔ بال کا چمکدار ہونا۔ الحدید۔ لوسے کا چمکدار ہونا۔ صبح دس، صباحة۔ الوجه۔ چہرہ کا چمکدار اور روشن ہونا۔ الغلام لڑکے کا صاحب جمال ہونا۔ صفت۔ صبا و صبت۔ صبحا۔ صبح کے وقت آنا۔ صبح کی شراب پلانا۔ صبتا القوم الماء۔ قوم کو چلا کر صبح کو پانی میں اتارنا۔ الرجل صبح کو سلام کرنا۔ اصبت۔ صبح میں داخل ہونا۔ نصف رات کو</p>	<p>کرنا۔ صبت۔ الشیء۔ مٹا یا جانا۔ صبت دس، صباحة۔ المینہ۔ عاشق ہونا فریفتہ ہونا۔ اصبت واصبا۔ القوم۔ قوم کا نیچے اتارنا۔ انصبت۔ الماء۔ پانی کرنا۔ علیہ۔ اتارنا کہتے ہیں۔ انصبت قدما کا فی الوادی۔ یعنی ٹھہر گئے۔ اصطب۔ الماء۔ پانی کرنا۔ اصطب و تصاب۔ الماء۔ بقیہ پانی پینا۔ اصطب و تصاب العیش باقی ماندہ زندگی گزارنا۔ تصبب۔ الماء و نحوه۔ بنا۔ الصب۔ مص۔ عاشق۔ جہ۔ صبتون۔ مؤنث۔ صبتا۔ جہ۔ صبتا۔ ماء صبت۔ ہا ہوا پانی۔ الصب و الصبتا۔ گرایا ہوا کھانا وغیرہ۔ الصبتا۔ لوگوں کی جماعت۔ گھوڑے یا اونٹوں یا بکریوں کا گله۔ تھوڑا مال۔ برتن میں بچا ہوا پانی۔ یا دودھ یا شوربا الصبب۔ نہری راستہ وغیرہ کا ڈھلوان۔ زمین یا راستہ کا نشیب۔ جہ۔ اصبا۔ الصباحة۔ برتن میں پانی وغیرہ کا بقیہ۔ جہ۔ صبا پات۔ کہتے ہیں کہ ادرک من العیش الا صباحة یعنی مجھے بچی بچی زندگی ملی ہے۔ الصباحة۔ سوزش عشق۔ سخت محبت۔ الصبیب۔ زورنگ۔ اولہ عمدہ شہد۔ پسینہ۔ خون۔ غلام کا ننھڑ۔ سرخ رنگ۔ اوپر سے گرائی ہوئی چیز۔ تلوار کی دھار۔ المصبت۔ گرنے کی جگہ۔ دریا کا دبانہ۔ جہ۔ مصاب۔</p>	<p>الدم۔ خون کا جتنا۔ ہم۔ چمکا۔ صاء کتہ مصاء کتہ۔ سختی سے پیش آنا تنگی ڈالنا۔ الصبک۔ من الرجال۔ مضبوط آدمی۔ صئل یصؤل صائلہ۔ البعیر۔ اونٹوں کا لوگوں پر حملہ آور ہونے لگنا اور ان کو مار ڈالنا۔ صفت (صؤل)۔ صأل یصئل صیئلا۔ الفرس۔ گھوڑے کا بنہانا۔ صأم یصأم صامًا۔ الجیش علی القوم۔ قوم پر فوج کشی کرنا۔ صیم یصأم صامًا۔ بہت پانی پینا۔ الصائم۔ پیاسا۔ صائی یصئی (ض۔ف) و یصائی و صیئاً و صیئاً و صیئاً و تصائی۔ الفوخ۔ چوزہ کا چوں چوں کرنا۔ بچھو کا آواز کرنا۔ اور اسی سے مثل مشہور ہے۔ یندغ و یصئی کہ بچھو ڈستا بھی ہے اور آواز بھی نکالتا ہے یعنی وہ نقصان بھی دیتا ہے۔ اور شکایت بھی کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں۔ "جاء یصائی و صمت۔ وہ مال نالقی اور صامت لایا۔ یعنی جانور بھی لایا اور اسباب بھی۔ اصائی۔ الفوخ۔ چوں چوں کرنا۔ صبت دن صبتا۔ الماء۔ پانی کرنا۔ ہونا۔ فی الوادی۔ وادی میں اتارنا۔ الودع۔ زرہ پنہنا۔ صبتت الودع علی فلان۔ میں نے فلان کو زرہ پنہنائی۔ کہتے ہیں۔ صبت علیہ الہلاء من صبتا۔ اس نے اس پر اوپر سے مہیبت ڈالی۔ صبت رجلہ فی القید۔ پاؤں میں بیڑی پنہنائی۔ صبت (ض) صبتا۔ الماء۔ پانی کا بٹنا۔</p>
--	--	---

جاگنا۔ المصباح۔ چراغ جلانا۔
 الحق۔ حق ظاہر ہونا۔ اصبحہ زید
 عالمًا۔ زید عالم ہو گیا۔ اصبحہ یا
 رجل۔ خیروارے شخص کسی سے بد فال
 لیتے وقت عرب کہا کرتے۔ صباح
 اللہ لا صبا حک؟
 تفسیر۔ صبح کو سونا صبح کا ناشتہ کرنا۔ تصبح
 یہ۔ صبح کو ملنا۔
 تصباح۔ تکلف خوبصورت بننا۔
 اصبحہ۔ چراغ روشن کرنا۔ الرجل۔ صبح
 کی شراب پینا۔
 استصبحہ۔ چراغ جلانا۔ روشن کرنا۔
 الصبح۔ دن کا اول حصہ۔ ج۔ اصباح۔
 الصبحۃ۔ ص۔ ناشتہ سرخی مائل سیاہ
 رنگ۔ د۔ والصبحۃ۔ صبح کی نیند۔
 الصباح والصبیحۃ والاصبوحۃ
 دن کا ابتدائی حصہ۔ ع۔ صباخا۔
 تمہاری صبح اچھی ہو۔ یوم الصباح۔
 لوٹ کا دن۔
 الصباح۔ شعلہ تبدیل۔ غلام صباح۔
 حسین لکا۔ مؤنث۔ صباحۃ۔ ج۔
 صباح۔ الصباحیۃ۔ چوڑا نیزہ۔
 الصباحی۔ بہت سرخ خون۔
 الاصبح۔ شیر۔ وہ بال جس میں خلقی سرخی
 مائل سفیدی ہو۔ مؤنث۔ صبحاء
 ج۔ صبح۔
 الصبوح۔ ہر چیز صبح کے وقت کھائی یا
 پی جانے وال۔ صبح کے وقت دوا ہوا
 دودھ۔ اتینتہ ذاصبوح۔ میں
 اس کے پاس صبح کے وقت آیا۔
 الصبیح۔ خوبصورت۔ ج۔ صباح۔
 مؤنث صبیحۃ۔ ج۔ صباح۔
 الصبحان۔ خوبصورت مؤنث۔ صبحی۔
 ج۔ صباحی۔ صبح کی شراب پینے والا۔
 الصباحیۃ۔ خوبصورت۔

المصبح۔ صبح کرنا۔ صبح کا وقت۔ صبح کرنے
 کا مقام۔ ج۔ المصبح۔ بڑا پیالہ
 چراغ۔
 المصباح۔ چراغ۔ چوڑا نیزہ۔ صبح کی
 شراب پینے کا بڑا پیالہ۔ ج۔ مصابیح
 مصابیح الخبوم۔ اعلام کو اکب۔
 صبور رض، صبورا۔ علی الامر۔ بہادری
 سے برداشت کرنا۔ صفت رہی صابر
 وصبر وصبور عن الشی۔
 رکن۔ الدائبة۔ جانور کو بلا چارہ
 کے باندھے رکھنا۔ ع۔ مجبور کرنا۔
 لازم ٹھہرانا۔ ع۔ عن الامر۔ روکنا۔
 قتل صبورا۔ دو قتل کرنے کے لیے
 بند کیا گیا۔ حلیف صبورا۔ اس کو
 قسم کھانے کے لیے بند کیا گیا۔
 صبرن، صبرا و صبارۃ۔ بہ
 ضامن بننا۔ ع۔ ضامن دینا۔
 اصبرنی۔ مجھ کو ضامن دو۔
 صبرۃ۔ بہر دانا۔ صبر کرنے کے لیے کھنا۔
 المیت۔ مردہ کے پیٹ میں ایوار کھنا
 تاکہ وہ سڑ نہ جائے۔ صبرا کاس
 پیالہ کو کناروں تک بھرنا۔
 اصبر۔ اللبن۔ دودھ کی کھٹاس کا تیز ہو کر
 کڑواہٹ تک پہنچنا۔ الشی۔ ایلوے
 کی طرح کڑوا ہونا۔ ع۔ بہر دانا۔
 الرجل۔ مصیبت میں پڑنا۔ بول
 کو کارک سے بند کرنا۔ القاضی
 فلانا۔ قاضی کا خصم سے بدلہ دلانا۔
 صابرة۔ صبارا و مصابرة۔ صبر میں
 غالب آنا۔
 تصبر۔ بناوٹی صبر کرنا۔ علیہ۔ صبر
 کرنا۔
 اصطبر و اصبر۔ علیہ۔ صبر کرنا۔
 منہ۔ بدلہ لینا۔
 اصبار اصبرا۔ علیہ صبر کرنا۔

استصبر۔ الشی۔ موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔
 الصبر۔ بہادری۔ مصیبت کی خاموشی سے
 برداشت۔ شہد الصبر۔ ماہ
 رمضان۔ یتین الصبر۔ قید کر
 کے لی ہوئی قسم۔
 الصبر والصبر۔ چیز کا کنارہ۔ طرف
 سفید بال۔ ج۔ اصبار۔ آخذ
 الشی باصبارہ۔ تمام کی تمام لے
 لی۔ وملا کاس الی اصبارھا
 یعنی پیالے کو کنارے تک بھر دیا۔
 الصبر والصبر۔ کنکر لی زمین جو سخت
 نہ ہو۔
 الصبر برف۔ ج۔ اصبار۔
 الصبر۔ ایلو۔ ج۔ صبور۔ واحد
 صبرۃ، اس کی باپرسکون نادر
 طریقے پر آتا ہے۔
 الصبوة۔ غلہ کا انبار۔ آخذہ صبوة
 اس نے اس کو بے ناپے تولے سب کا
 سب لے لیا سخت پتھروں کا ڈھیر۔ ج۔
 صبار۔
 الصابرة۔ ف۔ الوصابیر۔ نمک۔
 الصابرة۔ سواری یا کشتی یا جہاز وغیرہ
 میں رکھا ہوا بوجھ جس کی وجہ سے وہ
 ادھر ادھر نہ جھک سکے۔
 الصبوة والصبارة۔ نزوی کی شدت۔
 صبوة الشتاء۔ سردی کا درمیانی
 زمانہ۔
 الصبار۔ مع۔ کارک۔ ڈاٹ۔
 الصبارۃ۔ ضمانت۔ سردی کی تیزی۔ ر۔
 والصبارة۔ پکنے پتھر۔
 الصبار والصبار۔ اعلیٰ ناگ۔ پھنی۔
 واحد (صبارۃ و صبارۃ)۔
 الصبارۃ۔ بخر سخت زمین۔
 الصبور۔ ج۔ صبر۔ حلیم۔ بردبار۔ اللہ
 تعالیٰ کا اسم مقدس۔ ر۔ والصبارة

بہت صبر کرنے والا۔

الصَّبُورُ - مِنَ الْوَجَالِ - قتل کے لیے قید کیا ہوا۔

الصَّبِيْرُ - صبر کرنے والا۔ ضامن۔ قوم کا لکھا اور چودھری۔ پار۔ ج۔ صَبْرًا

الصَّبِيْرُ وَالصَّبِيْرَةُ - چوڑی روٹی۔

أُمُّ صَبَّارٍ وَأُمُّ صَبَّوْرٍ - مصیبت۔

المَصْبُورُ - قتل کے لیے قید کیا ہوا۔

وَصَبْرًا لِكَيْ يَكُونَ - مؤنث (مَصْبُورَةٌ)

صَبَّصَبَهُ - متفرق کرنا۔ تَصَبَّصَبَ

اللَّيْلُ - رات کا اکثر حصہ گزرنا۔

الْحَرُّ - گرمی کا سخت ہونا۔ علینا

فَلَانٌ - بہت جری ہونا۔

تَصَبَّصَبَ - متفرق ہونا۔

الصَّبَّاصُ وَالصَّبَّابُ وَالصَّبَّابُ

سخت، مضبوط۔

صَبَّعَ (رَف) صَبَّعًا - بہہ دے دیا۔ انگلی

سے اشارہ کر کے بتانا۔ صَبَّعَهُ

(رَف) صَبَّعًا وَمَصَّبَعَةً - متکبر بنانا

اور اسی سے ہے یہ قول: مَنْ دَلَّكَ

السُّلْطَانُ صَبَّعَهُ الشَّيْطَانُ -

بادشاہ جس کو حاکم بناتا ہے شیطان

اس کو متکبر بناتا ہے۔ انگلی پر مارنا۔

صَبَّعَ الشَّيْءَ - کسی چیز میں انگلی ڈالنا۔

- بَيْنَ الْقَوْمِ - غیر کو قوم کا پتہ دینا۔

- فِي الطَّعَامِ - کھانے میں انگلی

ڈالنا۔

الْأَصْبَعُ وَالْإِصْبَعُ وَالْأَصْبَعُ وَ

الْإِصْبَعُ وَالْأَصْبَعُ وَالْأَصْبَعُ

وَالْأَصْبَعُ وَالْإِصْبَعُ وَالْأَصْبَعُ -

انگلی۔ مؤنث ہے کبھی مذکر بھی متعل ہوتا

ہے۔ ج۔ أَصَابِعُ - أَصَابِعُ -

أَصَابِعُ - الْغَنِيَّاتِ - ایک قسم

کا پھول۔ أَصَابِعُ الْعِذَارِيِّ

أَصَابِعُ الْعَرُودِ - ایک لمبے واں

کا انگور۔

الْأَصْبُوعُ - انگلی۔ ج۔ أَصَابِعُ -

المَصْبُوعَةُ - غرور تکبر۔

المَصْبُوعُ - منکبہ

صَبَّعَ (رَف) صَبَّعًا - صَبَّعًا وَصَبَّعًا -

الثَّوْبُ - کپڑے کو رنگنا۔ يَدَا

فِي الْمَاءِ - پانی میں ہاتھ ڈرنا۔ يَدَا

بِالْعَمَلِ - کام میں مشغول ہونا۔

فَلَانًا فِي السَّهْمِ - کسی کو نعمتوں

سے چھپانا۔ صَبَّعَ بِالْمَاءِ - پانی سے

پتسمہ دینا۔

صَبَّعَ (رَف) صَبَّعًا - مَرَّعَ النَّاقَةَ -

اوستنی کے تھن کا بھرنا اور خوش رنگ ہونا۔

صَبَّعَ - صَبَّعًا كَمَا بَالِغُهُ - (أَصْبَغَ)

النَّخْلُ - کھجور کا پکنے لگنا۔ أَصْبَغَ

عَلَيْهِ النِّعْمَةَ - کامل نعمت سے

نوازنا۔

تَصَبَّعَ - فِي دِينِهِ - کسی پر دین کا رنگ

اچھی طرح چڑھنا اور مذہب میں

پختہ ہونا۔

أَصْطَبَعَ سَالِنٌ لِكَانًا - بَكَدًا - رنگین

ہونا۔

الصَّبَّعُ وَالصَّبَّعُ - ج۔ أَصْبَاغٌ - د

وَالصَّبَّاعُ - ج۔ أَصْبَغَةٌ - د

وَالصَّبَّغَةُ - رنگ - الصَّبَّغُ

سالن جیسے سرکہ وغیرہ۔

الصَّبَّغَةُ - نوع، ملت، دین پتسمہ کا رنگ۔

الصَّبَّغَةُ - کچی کھجور۔

الصَّبَّاعَةُ - رنگ برزی۔

الصَّبَّاعُ - فَا - رنگنے والا۔

الصَّبَّيْعُ - رنگا ہوا۔ الصَّبَّاعُ - رنگنے

والا۔ جھوٹا۔

الْأَصْبَعُ - بڑا سیلاب۔ مِنَ الطَّيْرِ

النَّشَاءِ - سفید دم کا پرندہ یا بکری۔

مِنَ الْخَيْلِ - وہ گھوڑا جس کی پیشانی

یا اطراف کان سفید ہوں۔ مؤنث۔ صَبَّغًا

ج۔ صَبَّغًا

الصَّبَّغَةُ - رنگائی کا کارخانہ۔

صَبَّعَ (رَف) صَبَّعًا - الشَّيْءَ عِنْدَهُ - روکنا

باز رکھنا۔ دوسری طرف پھیر دینا۔ المقام

الْمُغْتَبِينَ - جواری کا پانسہ کو ہاتھ میں

لے کر پھینکنے کے لیے درست کرنا۔

النَّصَبُ وَالصَّطْبُ - عِنْدَهُ - پھر جانا۔

الصَّابُونُ - صابن کلمہ فارسی ہے۔ اس کے

لیے عربی 'غاسول' ہے (صَابُونَةٌ)

ایک ٹکڑا۔ صابن بنانے یا بیچنے والا۔

الصَّبَانُ اور الصَّبَانِيُّ

الصَّابُونِيَّةُ - ایک قسم کا پودا جس کو صابن

کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

الصَّبِينَةُ - صابن سازی کا کارخانہ۔

صَبًا يَصْبُو صَبُورًا وَصَبُورًا وَصَبُورًا

- إِلَيْهِ وَآلِهِ - مشتاق ہونا۔

صَبًا يَصْبُو صَبُورًا وَصَبُورًا وَصَبُورًا

صَبَاءً - بچپن کی طرف مائل ہونا۔ بچوں

کی خصلت والا ہونا۔ صفت مذکر۔

وَصَابٍ - صفت مؤنث (وَصَابِيَّةٌ)

صَبَّتْ صَبَاءً وَصَبُورًا - الريحُ

پروائی ہوا چلنا۔

صَبِيٌّ وَأَصْبِيٌّ - القومُ - پروائی ہوا کا

لگنا۔ أَصْبَى الرَّجُلُ - بچہ والا

ہونا۔ أَصْبَى الشَّيْءُ فَلَانًا - کسی شے

کا کسی کو شوق میں ڈالنا۔

صَبِيٌّ يَصْبِي صَبَاءً وَاسْتَصْبِي - بچوں

کی طرح کام کرنا۔ صَبِيٌّ إِلَيْهِ -

مشتاق ہونا۔ اسْتَصْبَاكَ - بچوں

جیسا سلوک کرنا۔ بچہ سمجھنا۔

صَابِيٌّ مُصَابَاةً - نیزہ مارنا۔ نیزہ کو مارنے

کے لیے جھکانا۔ السيفُ - تلوار کو

میان میں الٹی طرف کرنا۔ الكلامُ -

بے قاعدہ بولنا۔

تَصَبَّى تَصَبِيًّا وَتَصَابِي تَصَابِيًّا - کھیل
 کود کی طرف مائل ہونا - المراءاة
 عورت کو فریب دینا یا فریفتہ کر لینا -
 تَصَبَا - الشئ شوق میں ڈالنا -
 الصبا - ص - پروائی ہوا - اس کے مخالف
 سمت چلنے والی ہوا دَبُوس ہے -
 تشبیر - صَبَوَانٌ وَصَبِيَانٌ - ج -
 صَبَوَاتٌ وَاصْبَاءٌ -
 الصبا - شوق - الصباؤ والصباؤ -
 بچپن -
 الصبوة - ص - بچپن -
 الصبى بچہ - ص صَبِيَانٌ وَصَبِيَانٌ وَ
 صَبَوَانٌ وَصَبَوَانٌ وَاصْبِيَّةٌ وَ
 صَبِيَّةٌ وَصَبِيَّةٌ وَصَبِيَّةٌ وَ
 صَبَوَةٌ وَاصْبٌ مُنْتَصَبِيَّةٌ
 ج - صَبَايَا - الصبِيَّةُ - لڑکی -
 الصبى تلوار کی دھار - پاؤں کا پنجہ -
 الصبتيان - ٹھڈی کے قریب دارھی
 کے کنارے -
 الصببيَّةُ وَالاصْبِيَّةُ - چھوٹے لڑکے -
 الصابية - شمال مشرقی ہوا -
 صبته دن، صتا - زور سے دھکیلنا - ہاتھ
 سے مارنا - هُ بکلام او بدهيه -
 کسی پر تمت لگانا یا کسی پر مصیبت
 ڈالنا -
 صاته مصاته وصاتنا - کسی سے
 جھگڑنا -
 تصات - القوم - آپس میں جھگڑنا - لڑنا -
 الصت والصت والصتة - جماعت -
 الصت والصتة - ضد - ہٹ -
 نصنت درپے - کہتے ہیں - هُو يَصْتِيته
 یعنی وہ اس کا درپے ہے - الصقيت
 جماعت - آواز، شور -
 لمصيت کاموں میں مستعد و چست -
 صتعه دن، صتعا - بچھاڑنا - ه -

کسی کا قصد کرنا - تَصَعَّ - کسی
 کام میں تردد کرنا -
 الصتع - قوی تو جوان - گور خسر -
 صتعا - الشئ - چیز کو مکمل کرنا -
 تصتعا - تیز دوڑنا -
 الصتعا والصتعا - سخت مضبوط -
 خوب مضبوط -
 الصتمة والصتمة - سخت چٹان -
 المصتم - مفع - غیر نافذہ گلی یا وادی -
 صبرن، صبتا - لوہے کو لوہے پر مارنے
 سے ان میں سے آواز کا نکلنا -
 الصبج والصبيج - لوہے پر لوہے
 کے پڑنے کی جھنکار -
 صبرن، صبتا - صتعا وصتعا وصتعا -
 تندرست ہونا - الشئ - چیز کا ہر
 عیب سے بری اور سالم ہونا - الصبر
 خبر کا مطابق واقع کے ثابت ہونا - صفت
 وصبيج وصتعا -
 صتعا - المریض - بیمار کی بیماری کو دور کرنا -
 - الكتاب - کتاب کی غلطی کو ٹھیک
 کرنا -
 اصتعا اصتعا - کسی کو تندرست کرنا یا
 پانا - مرض کو زائل کرنا - اصتعا الرجل
 آدمی کے بال بچوں یا اس کے مویشی کا
 تندرست ہونا -
 تصتعا - بلکہ کسی چیز سے علاج کرنا -
 استصتعا - من مرضه - بیماری سے
 تندرست ہونا - الكلام - کلام کو
 صحیح پانا -
 الصتعة - تندرستی - الصتعا - من
 الطريق - دشوار راستہ -
 الصبيج - تندرست، عیب سے پاک، قابل
 اعتماد - اصتعا واصتعا واصتعا
 وصتعا -
 المصتعا - صحت کی جگہ -

المصتعة والمصتعة - صحت بخشنے
 والی - صحت قائم رکھنے والی - کتے میں -
 الصوم مصتعة - روزہ تندرستی کا
 باعث ہے - ارض مصتعة -
 وہائی امراض سے پاک زمین یا وہ مقام جہاں
 بیماریاں کم پیدا ہوتی ہیں -
 صتعة صتعة وصتعة وصتعة و
 صتعة صتعة صتعة صتعة
 صاحب مصتعة - ساتھی ہونا - دوستی
 کرنا - ساتھ زندگی گزارنا -
 صتعا (ف) صتعا - المذبذب - کھال
 کھینچنا -
 اصتعا - الرجل - ساتھی والا ہونا - بیٹے
 کا بالغ ہو کر اپنے مثل ہونا - بدقت تمام
 مطبخ و فرمانبردار ہونا - الماء - پانی کا
 کائی والا ہونا - فلانا - محفوظ رکھنا
 - ه عن كذا - منع کرنا - روکنا -
 - ه الشئ - ساتھ کروینا - اصتعا
 الذوق - مشک پر بال چھوڑ دینا -
 تصتعا - منه - شرم کرنا - فلان ما
 يتصتعا من شئ - فلان شخص کسی
 چیز سے نہیں بچتا - نہ شرماتا -
 اصطحاب - فلانا - حفاظت کرنا -
 اصطحبا - ایک دوسرے کے ہمراہ
 ہونا - ایک دوسرے کا ساتھی ہونا -
 استصتعا - ساتھی بنا - ساتھی بننے کے
 لیے کنا ساتھی بنانا - استصتعا الشئ
 کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے
 کنا - الشئ - کسی چیز کو ساتھ کروینا -
 الصاحب - ف - ساتھی، ساتھ زندگی گزارنے
 والا - مالک - گورنر - وزیر - صاحب حماہ
 حاکم حماہ - صا ح ترخیم صاحب کی -
 ج - معتب واصحاب و صتعة و
 صتعا و صتعا و صتعا و
 صتعا - اور اصحاب کی جمع
 اصاحب -

الصَّاحِبَةُ - مؤنث الصَّاحِبِ - بیوی - ج۔
 صَاحِبَاتٌ وَصَوَاحِبٌ -
 الصَّحَابَةُ - وہ بزرگ حضرات جن کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی
 صحبت نصیب ہوئی ہو۔ اور ایسا
 لائے ہوں، پھر ایسا ہی پران کا خاتمہ
 بھی ہوا ہو۔
 الصَّحَابِيُّ - صحابہ کی طرف منسوب - ایک
 صحابی۔
 المصاحِبُ - فاعل - ساتھ رہنے والا۔ دشواری
 مطیع و فرمانبردار ہونے والا۔
 المصْحَبُ - مفعول - وہ پاگل ہوا اپنے دل سے
 باتیں کرے۔ عُوذُ مَصْحَبٍ - وہ
 کڑی جس کا چھلکا چھیدا نہ گیا ہو۔
 اَدِيمٌ مَصْحَبٌ - وہ چمڑا جس پر
 سے بال دور نہ کیے جائیں۔
 المصْحَبُ و المصْحَابُ - تابع ذیل۔
 اَدِيمٌ مَصْحَبٌ - جس چمڑے پر
 بال ہوں۔
 المصْحُوبُ - مفعول - اَدِيمٌ مَصْحُوبٌ -
 وہ چمڑا جس پر سے بال نہ اکیڑے
 گئے ہوں۔ عُوذُ مَصْحُوبٌ - وہ کڑی
 جس کا چھلکا نہ اتارا گیا ہو۔ اَذْهَبُ
 مَصْحُوبًا وَمَصْحَابًا - صحیح سالم جاؤ۔
 (صَحْرَفٌ) صَحْرًا - اللبَنُ - دودھ
 اباتنا۔ صَحْرَتُهُ الشَّمْسُ - دھوپ کا
 کسی کے دماغ کو تکلیف پہنچانا۔
 صَحْرَدَفٌ، صَحِيرًا وَصَحَارًا -
 الحنارہ گدھے کا زور سے رنگنا۔
 صَحْرَدَسٌ، صَحْرًا - سرخی مائل ٹیالہ رنگ
 ہونا۔ صفت۔ (اصْحَرُ) مؤنث
 صَحْرَاءٌ - ج۔ صَحْرٌ - رنگ العُفْرَقُ
 اصْحَرٌ - صواکی طرف نکلنا - المکان -
 جگہ کا وسیع و کشادہ ہونا۔ الامر
 و بالامر - ظاہر ہونا۔ الرجل -

کانا ہونا۔
 اصْحَارًا وَصَحِيرًا - سرخی مائل ٹیالے
 رنگ والا ہونا۔
 الصَّحْرَاءُ - بیابان جس میں نبات نہ ہو۔
 ج۔ صَحَارِيٌّ وَصَحَارٌ وَصَحَارِيٌّ
 وَصَحْرًا وَاتٌ -
 الصَّحِيرَةُ - اہل بوا و دودھ جس میں گھی اور
 آٹا ملایا جائے۔
 المصْحَرُ - اپنے مقابل سے بیابان میں لڑنے
 والا اور دھوکا نہ دینے والا۔
 المصْحَرُ - شیر۔
 صَحْصَحٌ - الامر - ظاہر ہونا۔
 الصَّحْصَحُ وَالصَّحْصَامُ وَالصَّحْصَعَانُ
 نباتات سے غالی ہموار زمین - ج۔
 صَحَا صِحٌ - التَّرَهَاتُ الصَّحَا صِحٌ
 وَتَرَهَاتُ الصَّحَا صِحٌ - خرافات
 زلیات۔
 الصُّحُصُ وَالصُّحُصُومُ - مِن
 الرجال - باریک بین آدمی۔
 المصْحُصِمُ - سچی محبت رکھنے والا۔
 بے ہودہ گو۔
 صَحَّفٌ - الكلمة - کلمہ کے پڑھنے یا
 کھنے میں غلطی کرنا۔
 اصْحَفٌ - المکتاب - کتاب میں صحیفوں
 کو جمع کرنا۔
 تصحفت - القاری - قاری کا پڑھنے میں
 غلطی کرنا۔
 الصَّحْفَةُ - بڑا پتلا ہوا پیالہ جو پانچ آدمیوں
 کو سپر کرنے کے لیے کافی ہو۔ ج۔
 صحاف - الصحاف - پانی کے
 چھوٹے چھوٹے تپھے۔
 الصحافة - اخبار نویسی - عالم الصحاف
 اخبار نویس لوگ۔
 الصَّحِيفَةُ - لکھا ہوا کاغذ - ورق -
 صحيفَةُ الوجہ - چمڑکی کھال۔ کتے

ہیں: صُنْ صَحِيفَةً وَجَهْرًا: یعنی
 اپنے چہرے کی آبرو کو محفوظ رکھو۔ ج۔
 صحائف و صحف۔
 الصَّحِيفَةُ - سطح زمین۔
 الصَّحْفَةُ - پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔
 کتب فروش۔
 الصَّحْفِيُّ - کتابوں کے مطالعہ سے نہ کسی
 استاد سے علم حاصل کرنے والا۔ د۔
 والمصحف، پڑھنے میں غلط کرنے والا۔
 المصحف والمصحف والمصحف۔
 کتاب - مجلد کتاب - قرآن مجید - ج۔
 مصاحف۔
 المصحف - مفعول - بدلا ہوا۔
 صَحْلٌ دَسٌ، صَحْلًا - صَوْتُهُ - بیٹھی ہوئی
 اور سخت آواز والا ہونا۔ صفت (صَحْلٌ
 وَاَصْحَلٌ)
 اصْطَحَمَ - الرجل - سیدھا کھڑا ہونا۔
 اصْحَامٌ - اصْحِيْمًا مًا - النبات - پودہ کا
 بہت ہرا ہونا۔ سبزی کا زروی سے ملندہ
 صفت (اصْحَمٌ، مؤنث صَحْمَاءُ
 رنگ (الصَّحْمَةُ) - الارض - زمین
 کا متغیر نباتات والی ہونا۔ الزرع -
 کھیتی پر سروی کا اثر ہو کر خشک ہونا
 شروع ہونا۔
 صَحْنَةٌ رَفٌ، صَحْنًا - مارنا۔ صَحْنَهُ بِرَجْلِهِ -
 پاؤں سے مارنا۔ الرجل - کسی کو
 پیالہ میں کچھ دینا - اَدِيمًا - کسی
 کو دینا روینا۔ بَيْنَهُمْ - اصلاح
 کرنا۔
 الصَّحْنُ - چھوٹا پیالہ۔ بڑا پیالہ - كُفْرًا اندرونی
 حصہ، اور اسی سے ہے - فوسق
 وَايسعُ الصَّحْنُ: صَحْنُ الدَّائِرِ -
 گھر کا صحن - الصَّحْنُ مِنَ الارض
 ہموار زمین - ج۔ صَحْنٌ -
 الصَّحْنَانِ - جھانجھ - ایک قسم کا باجا۔

صَحْبًا - الأذنين - کانوں کے اندر کی جھلک۔
 فربس صَحُونٌ - لات مارنے والا گھوڑا۔
 الصَحْبِيُّ وَالصَّخْبَانَةُ وَالصَّخْبَانَةُ - نک
 گلی ہوئی چھوٹی مچھلی۔
 المِصْحَفَةُ - بڑے پیالہ کے مانند ایک
 برتن۔
 صَحَا يَصْحُو صَحْوًا (وَصَحْوًا وَصَيْحِي
 يَصِيحِي) رَسٌ صَحًّا وَأَصْحِي لَصْحَاءٌ
 - الميوم - دن کا بے بادل والا ہونا۔
 صفت (صَحْوٌ وَصَاحٌ وَصُحْمٌ)
 - السُّكْرَانُ - نشہ اتر جانا۔
 الرَّجُلُ يَجِيحُ كِي جَمَالَتِ كُو چھوڑنا۔
 باطل کو چھوڑنا۔ افاقہ پانا۔ صفت
 (صَاحٌ) ج۔ صَاحُونَ وَصَحَاةٌ
 مُؤَنَّثٌ - صَاحِيَةٌ ج۔ صَاحِيَاتٌ
 وَصَوَاحٍ۔
 أَصْحَاةٌ - ہوش میں لانا۔ افاقہ دینا۔
 المَصْحُوبُ - بے ابر صاف دن۔
 المَصْحَاةُ - افاقہ کا سبب۔ المِصْحَاةُ
 پانی پینے کا پیالہ۔
 صَخْرٌ (وَصَخْرٌ) صَخْبًا - المَحْدِيدُ بِالْحَدِيدِ
 لوہے پر لوہے کو مارنا۔ الصوت
 الأذن - آواز کا کان کو ہسرا کر
 دینا۔ (صَخَا وَصَيْحًا) الحَدِيدُ
 لوہے پر سخت چیز مارنے سے لوہے
 کا پگھلا۔ لَحْدِيثَةٌ - بات کے لیے
 کان لگانا۔
 الصَّخَّةُ - السَّمْرَةُ - باری۔ ر۔ وَالصَّخْرُ
 وَالصَّخْرِيُّ (وَالصَّخْرِيُّ) پتھر یا لوہے کی آواز۔
 الصَّخْرِيُّ - ڈرے ہوئے کوہ کی آواز۔
 الصَّاحَةُ - ہر کر دینے والی سخت
 چیخ۔ مہیبت۔ قیامت۔
 صَخْبٌ (رَسٌ) صَخْبًا - چیخنا۔ شور مچانا۔
 صَاحِبَةٌ مُصَاحِبَةٌ - ایک دوسرے
 پر شور مچانا۔

تَصَاخَبٌ - القوم - باہم شور کرنا۔ اور
 ایک دوسرے کو مارنا۔
 اصْطَخَبَتِ - الطيرُ او الصَّفَادِعُ
 پرندوں یا مینڈکوں کا مخلوط آواز میں
 کرنا۔
 الصَّخْبُ - مع۔ شور۔
 الصَّخْبُ وَالصَّخْبُ وَالصَّخْبُ و
 الصَّخْبُ وَالصَّخْبَانُ (وَالصَّخْبَانُ) رَاخِرُ
 جمع صَخْبَانٌ چلانے والا۔ شور
 مچانے والا۔ مؤنث (صَخْبَةٌ) و
 صَخْبَةٌ وَصَخْبَةٌ وَصَخْبَةٌ و
 صَخْبِي
 صَخْدٌ (رَسٌ) صَخْدًا او صَخْدَانًا - الميوم -
 دن کا سخت گرم ہونا۔
 صَخْدَةٌ (رَسٌ) صَخْدًا - الشَّهْسُ
 جلانا۔ الصَّخْرُ - لٹورے کا آواز کرنا۔
 صَخْدٌ (رَسٌ) صَخْدًا - الياء - کان لگانا۔
 اصْخَدًا - الحرُّ - گرمی کا سخت و تیز ہونا۔
 - الرجلُ - گرمی میں داخل ہونا۔
 الحِرْبَاءُ - گرگٹ کا دھوپ کھانا۔
 الصَّاحِدَةُ - دوپہر۔
 الصَّخْدَانُ وَالصَّخْدَانُ - سخت گرم
 دن۔ صَيْحَدٌ - الشمس - چشمہ
 آفتاب۔ هَاجِرَةٌ صَيْحُودٌ -
 سخت گرم دوپہر۔ صَيَاخِيدٌ -
 صَيَاخِيدُ الحَرِّ - گرمی کی تیزی۔
 کہتے ہیں: أَقْبَلْتُ صَيَاخِيدُ
 الحَرِّ - گرمی کی تیزی و سختی آگئی۔
 المَصْخَدَةُ - دوپہر۔ ج۔ مَصَاخِيدُ
 المَصْخَدَةُ - سیدھا کھڑا ہونے والا۔
 صَخْرَةٌ - مطیع کرنا۔
 اصْخَرَ - المكانُ - کسی جگہ کا بہت
 چٹانوں والا ہونا۔ صفت (مَصْخَرٌ)
 الصَّخْرَةُ وَ الصَّخْرَةُ - چٹان۔ ج۔
 صَخْرٌ وَصَخْرٌ وَصَخْرٌ و

صَخْرَةٌ وَصَخْرَاتٌ - کتھرہ۔
 "فَلَانٌ صَخْرَةٌ العَادِي" - یعنی فلاں
 بہت مستقل ہے۔
 الصَّخْرُ - مِنَ الأَمَكِنَةِ - چٹانی جگہ۔
 "هُوَ صَخْرٌ الوَجْهُ او اصْخَرَ الوَجْهَ"
 وہ بے حیا ہے۔
 الصَّاخِرُ - لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز۔
 الصَّاخِرَةُ - پانی پینے کے لیے مٹی کا برتن۔
 صَخْفٌ (رَسٌ) صَخْفًا - الارض - زمین کھو جانا۔
 المِصْخَفَةُ - کھونے کا آلہ۔ کدال۔
 پھاوڑہ۔ ج۔ مَصَاخِفٌ -
 صَخْبَةٌ (رَسٌ) صَخْبًا - الشمس - دھوپ
 کا کسی کو مجلس دینا۔
 اصْطَخَعَ - الرجلُ - سیدھا کھڑا ہونا
 صَيْحِي يَصِيحِي - الثوبُ - کپڑے کا میل
 کھیلا ہونا۔ صفت (صَيْحِي)
 الصَّخَاةُ - ميل كچيل، ایک قسم کی سبزی۔
 صَدَاةٌ (رَسٌ) صَدَاةً - عَن كَذَا - ہٹانا۔
 منع کرنا۔
 صَدْرٌ (رَسٌ) صَدْرًا او صَدْرًا - عَنهُ -
 اعراض کرنا۔ مائل ہونا۔ صفت (صَادٌ)
 ج۔ صَدَادٌ - مؤنث - صَادَةٌ ج۔
 صَدَادٌ وَصَدَادٌ -
 صَدْرٌ (رَسٌ) صَدْرِيًا - مِنَ الشَّيْءِ -
 چھیننا۔ چلانا۔
 صَادَةٌ - مافعت کرنا۔
 صَدَدٌ - تالی بجانا۔ الجرحُ - زخم کا
 پیپ دینا۔
 اصْدَدٌ - عَن كَذَا - منع کرنا۔ روکنا۔
 الجرحُ - زخم کا پیپ دینا یا اس کی
 پیپ کا بہنا۔
 تصدَدٌ - لَهْ - ورپے ہونا۔
 اصْطَدَّتْ - المراهةُ - عورت کا
 پروہ کرنا۔
 الصَّدُّ - ر۔ وَالصَّدُّ، پہاڑ بلند بادل

واوی کا کارہ۔ ج۔ اَصْدَاؤُ وَّصَدَاؤُ۔
 الصَّدَاؤُ۔ قعد، کتھر میں "هُوَ صَدَاؤُكَ"؛
 وہ تمہارا مقصود ہے۔ ارادہ۔ درپے،
 میلان کہتے ہیں: "لَا قِيمَتَ صَدَاؤُكَ"
 یعنی میں تیری کبھی درست کروں گا۔ کنارہ
 قریب، سامنے، کہتے ہیں: "ذَارِي
 صَدَاؤُ ذَارِيَةٍ"۔ میرا گھر اس کے گھر
 کے سامنے با قریب ہے۔
 الصَّدَاؤُ۔ پرہ۔ ج۔ اَصْدَاؤُ۔
 الصَّدَاؤُ۔ روکنے والا۔ چھوٹی کرتی۔
 الصَّدِيدُ۔ ۵۔ کچھو۔ خون ملی پیپ۔
 صَدِيدُ الْفِطْرَةِ۔ گچھلی ہوئی چاندی
 الصَّدَاؤُ۔ سانپ، چھپکلی۔ پانی کی طرف
 جانے والا راستہ۔ ج۔ صَدَاؤُ۔
 صَدِيءٌ (س) صَدَاؤُ وَّصَدَاؤُكَ صَدَاؤُكَ
 - الحَدِيدُ۔ لوہے کا رنگ آلود ہونا
 صفت (صَدِيءٌ) مَوْنُثٌ صَدِيءَةٌ
 - الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا رنگ میں رنگ
 کے مشابہ ہونا۔ رنگاری رنگ کا ہونا۔
 صفت (اَصْدَاؤُ) مَوْنُثٌ صَدَاؤُ۔
 - الرَّجُلُ۔ سیدھا کھڑا ہو کر دیکھنا۔
 صَدَاؤُ (ر) صَدَاؤُ وَّصَدَاؤُكَ وَّتَصْدِيءُكَ
 - الشَّيْءُ۔ رنگ دور کرنا۔ المِرْآةُ۔
 آئینہ کو صاف کرنا
 اَصْدَاؤُكَ۔ مہرچہ والا جیسا بنانا۔
 تَصْدَاؤُكَ۔ درپے ہونا۔
 الصَّدَاؤُ۔ رنگ۔ مورچہ۔ رجُلُ
 صَدَاؤُ۔ نازک جسم آدمی۔
 الصَّدِيءُ۔ رنگ لگی ہوئی چیز۔ الصَّدَاؤُكَ
 رنگاری رنگ۔
 صَدَحَ (ر) صَدَحًا وَّصَدَاخًا۔
 الرَّجُلُ او الطَّائِرُ۔ آدمی یا پرندہ کا
 بلند آوازی سے نرنکالنا۔ صفت۔
 رَصَادِيحٌ وَّصَدَاخٌ وَّصَيْدِيحٌ و
 صَيْدِيحٌ وَّصَدَاؤُحٌ وَّصَدَحٌ و

صَدَاخٌ

الصَّدَاخُ۔ علم، نشان، غالی مکان، پتھر ملی
 پہاڑی۔ شئی صَدَاخٌ۔ کالی چیز
 ج۔ صَدَاخٌ۔
 الصَّدَاخَةُ وَالصَّدَاخَةُ وَالصَّدَاخَةُ
 تعویذ کے طور پر استعمال کیا جانے
 والا منکا یا فہرہ۔
 صَدْرَانِ (ض) صَدْرًا وَّصَدْرًا۔
 عَنِ الْمَكَانِ وَعَنِ الْمَاءِ۔ واپس پھرنا
 - إِلَى الْمَكَانِ۔ جانا۔ الْمَوْجِلُ عَنِ
 كَذَا۔ واپس کرنا۔ ر۔ صَدَاؤُكَ
 الْأَمْرُ۔ پیدا ہونا۔ واقع ہونا۔ مِنْهُ
 ظاہر ہونا۔ عِنْدَهُ۔ پیدا ہونا۔ نتیجہ
 نکلنا۔ صَدْرًا صَدْرًا۔ سینہ
 پر مارنا۔
 صَدْرًا۔ سینہ میں درد ہونا۔ صفت۔
 رَمَضَاؤُكَ
 صَدْرًا۔ واپس کرنا آگے بڑھا کر صدر مجلس
 بنانا۔ صَدْرًا الْكِتَابِ بكذا۔
 کتاب میں دیا چہ لگانا۔ الْفَرَسُ۔
 گھوڑے کا آگے بڑھنا۔
 اَصْدَارُهُ۔ عن كَذَا۔ واپس کرنا۔
 اَصْدَارَ الْأَمْرِ ظَاهِرًا كَرْنَا۔ الرَّجُلُ
 لے جانا۔ فَلَانٌ يُؤْمِرُ وَلَا
 يُجْبَرُ۔ فلاں کام شروع کرتا ہے مگر
 پھرا کر کے نہیں چھوڑتا۔
 صَادِقٌ۔ على الشَّيْءِ وَبِهِ۔ اصرار کے
 ساتھ مطالبہ کرنا۔
 تَصَدَّرَ۔ صدر مجلس میں بیٹھنا۔ تَصَدَّرَ
 الْمَجْلِسُ۔ مجلس میں سینہ نکال کر بیٹھنا۔
 - الْفَرَسُ۔ گھوڑے کا آگے سینہ
 نکالنا۔
 الصَّدْرُ۔ ۵۔ ہر چیز کا سامنے سے اوپر
 کا حصہ۔ سیدہ۔ ہر چیز کا شروع۔ ہر چیز
 کا کھڑا۔ صَدْرُ الْقَوْمِ۔ قوم کا رئیس۔

الصَّدْرُ الْأَعْظَمُ۔ وزیر اعظم۔
 ج۔ صَدْرٌ۔ نبات الصَّدْرُ
 افکار۔ ذات الصَّدْرِ۔ سینہ کی
 ایک بیماری۔ صَدْرُ الْوَادِي۔
 واوی کی اونچی اور سامنے کی جگہیں۔
 بَعِيدُ الصَّدْرِ۔ غیر مہربان۔
 الصَّدْرُ۔ پانی سے واپسی۔ مسافر کی واپسی۔
 الصَّادِسُ۔ فا۔ واپس ہونے والا۔ اس
 کا زیادہ تر اطلاق پانی سے واپس
 ہونے پر ہے۔ اس کا مقابل قَائِسًا
 ہے۔ یعنی پانی پر آنے والا۔ "مَالَةٌ
 صَادِرَةٌ لَا قَائِسَ لَهَا" اس کے پاس
 کچھ نہیں۔
 الصَّدْرَةُ۔ مِنَ الْإِنْسَانِ۔ سینہ یا
 سینہ کا بالائی حصہ۔
 الصَّدْرَةُ۔ سینہ کوڑھا کھینے والا کپڑا۔ مثلاً
 وَاسْكُتْ۔ صَدْرِيَّةٌ۔ وَاسْكُتْ۔
 التَّصْدِيئُ۔ اونٹ کا تنگ۔
 الصَّدَارُ۔ مدی۔ اونٹ کے سینہ کا نشان۔
 الصَّدَارَةُ۔ تقدم۔ وزیر اعظم کا عہدہ۔
 وَالصَّدِيرَةُ، ج۔ صَدَارَةُ۔ سینہ
 کا اوپر کا حصہ۔
 الْأَصْدَارُ۔ مضبوط بڑے سینہ والا۔
 الْأَصْدَارَانِ۔ گنپٹیوں کی دو رگیں۔
 الْمُصْدَرُ۔ بلے صدور۔ ج۔ مَصَادِرُ۔
 الْمُصْدِرُ۔ فا۔ کاموں کا پھرا کرنے والا۔
 الْمُصْدَرُ۔ چوڑے سینہ والا مضبوط سینہ والا
 آگے بڑھنے والا کھڑا بشیر، بھیڑیا۔
 صَدَحَ (ر) صَدَحًا۔ إِلَى كَذَا سَأَلَ
 ہونا۔
 صَدَحَ (ر) صَدَحًا۔ الشَّيْءُ۔ پھاڑنا۔
 مگر جہانہ کرنا۔ الْقَوْمُ۔ متفرق
 کرنا۔ الْأَصْدُ ظَاهِرًا كَرْنَا۔ بِالْحَقِّ
 حق کا کھلے طور سے اظہار کرنا۔ فِي
 الْأَمْرِ۔ کام کر گزرتا۔ الْأَمْرُ

بالحق۔ حق کا فیصلہ کرنا۔ فلائنا۔
 قصد کرنا۔ صدعہ عن کذا۔
 روکنا۔ النہر۔ جہور کرنا۔ فی
 المکان۔ گذرنا۔ اللیل۔ رات
 میں چلنا۔
 صدع وصدع۔ دوسرا حق ہونا۔ صفت
 صدوع۔
 صدع۔ الشیء۔ پھاڑنا۔ الفلأق
 اوالنہر۔ بیابان یا نہر کو عبور کرنا۔
 تصدع۔ القوم۔ قوم کا متفرق ہونا۔
 تصدعت الارض بفلاں۔ وہ
 شخص زمین میں کہیں غائب ہو گیا یعنی بھاگ
 گیا۔ تصدع و انصدع۔ الشیء
 پھٹنا۔ انصدع الصبأ۔ صبح
 کا روشن ہونا۔
 الصادع۔ فاقاضی۔ جبل صدع۔
 لمبائی میں پھیلا ہوا پہاڑ۔ صبغ
 صدع۔ روشن صبح۔
 الصدع۔ دہ۔ سخت چیز کی دراڑ۔ پھٹن۔
 ج۔ صدوع۔ د۔ والصدع
 چھری سے بدن کا آدمی مضبوط جوان۔
 صدع الحدید۔ لوہے کا زنگ۔
 الناس علیہم صدع و احد۔
 لوگ ان کی عداوت پر متفق ہیں۔
 الصدع۔ لوگوں کی جماعت۔ دو حصوں
 میں چری ہوئی چیز کا ایک حصہ۔ رأیت
 بینہم صدعات۔ میں نے ان میں
 خرابیات و آراء میں اختلاف دیکھا۔
 "و اصلحو ما فیکم من الصدعات"
 اپنے آپس کے اختلافات کو دور کرو
 اور متحد و متفق ہو جاؤ۔
 الصدع۔ ج۔ صدع و الصدیع
 ج۔ صدع۔ بکریوں کا ریوڑ۔ دو برابر
 میں بٹی ہوئی چیز کا نصف۔ الصدیع
 دوسرا والا۔ صبح۔ پھاڑنا۔ زرہ کے

نیچے پھیننے کا کپڑا۔
 انصداع۔ درکسر۔ التصداع۔ تفریق۔
 المصدع۔ سخت زمین میں نرم راستہ۔ ج
 مصادع۔
 المصدع۔ چڑا پھل۔ خلیب وصدع
 بلیغ خلیب۔
 صدعہ دف، صدعنا۔ عن الامر۔
 واپس کرنا۔ ہٹانا۔ سیدھا کرنا۔
 صدعہ دف، صدعنا۔ کندھے سے
 کندھا ملا کر چلنا۔
 صدع دن، صدعنا وصدعنا۔ الی
 الشیء۔ مال ہونا۔
 صدع رک، صدعنا۔ العجل۔
 کمزور ہونا۔
 صدع۔ کینٹی کے ورد والا ہونا۔
 صدعنا۔ شامے سے شانہ ملا کر چلنے
 میں مقابلہ کرنا۔
 الصدع۔ کینٹی۔ کینٹی پر لٹکنے والے بال۔
 ج۔ اصداغ۔
 الصدع۔ پیرھاپن۔ کچی۔
 الصداغ۔ کینٹی پر نشان
 الصدیغ۔ کمزور ناتوان، تین دن کا بچہ۔
 الاصدغان۔ کینٹی کی دو رگیں۔
 المصدع۔ تکیہ۔
 صدع دن، صدقاً و صدوقاً۔
 پھر جانا۔
 صدع رض، صدقاً۔ عنہ۔ اعراض
 کرنا۔ فلائنا۔ پھیرنا۔ ہٹانا۔
 اصداقہ۔ عنہ۔ پھیرنا۔ ہٹانا
 صدقہ۔ ارادہ سے یا اتفاقاً ملاقات کرنا۔
 تصادقاً۔ باہم ملاقات کرنا۔
 تصدع۔ عن۔ اعراض کرنا۔
 الصدع۔ سیپی۔ واحد صدقہ
 ج۔ اصداق۔ صدقہ الاذن۔
 کان کا جوف۔ الصدع فی

الخیل۔ گھوڑوں کی۔ انوں کے درمیان
 کی نزدیکی اور سموں کا بعد۔ الصدق
 والصدقہ۔ جانب کنارہ۔
 الصدق والصدق والصدق
 والصدق۔ پہاڑ کا کنارہ۔
 الاصداف۔ سمندر کی موبیں۔ الصدقہ
 اتفاقاً ملاقات۔
 الصدوق۔ گندہ ذہن۔ بہت اعراض
 کرنے والا۔
 المصدوف۔ مفع۔ چھپا ہوا۔
 صدق دن، صدقاً و صدقاً۔ و
 صدوقاً و تصداقاً۔ سچ بولنا۔
 فی وعدہ و وعدہ۔ پورا کرنا۔
 فی الحملۃ۔ حملہ میں بہادری
 دکھانا۔ النصحۃ او المتحبۃ
 بے لوث نصیحت یا محبت کرنا۔ د
 الحدیث۔ سچی خبر دینا۔
 صدقہ۔ سچا ٹھہرنا۔ سچا سمجھنا۔
 صدقہ صدقاً و تصادقاً۔ دوست
 بننا۔ صدقہ المودۃ۔ خالص
 دوستی کرنا۔
 اصدق۔ الابنۃ۔ بیٹی کا امر مقرر کرنا۔
 تصدق۔ خیرات دینا۔ علی الفقیر
 بکذا۔ خیرات کے طور پر دینا۔
 تصادقاً ایک دوسرے سے دوستی
 کرنا۔ تصادقاً الحدیث او
 المودۃ و فیہا۔ ایک دوسرے سے
 سچی بات کرنا اور سچی دوستی رکھنا۔
 الصدق رہی سیدھا طرس نیزہ۔ کامل
 شے۔ ج۔ صدق و صدق و
 صدقون۔ مؤنث صدقہ۔ ج
 صدقات۔
 الصدق۔ سچ۔ فضیلت۔ صلاح۔ سختی
 مضبوطی۔ رجل صدق۔ بڑا سچا
 آدمی۔

الصَّدَقَةُ: خیرات۔ ج۔ صدقات۔
 الصَّدَقَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّدَقَةُ
 وَالصَّدَقَةُ: ہر۔ ج۔ اَصْدَقَةٌ
 وَصَدُقٌ۔
 الصَّدَاقَةُ: سہی دوستی۔
 الصَّادِقُ غَا: كَثْرَةُ صَادِقِ الْخَلَاءِ
 بہت شیریں کھجور۔ نَبِيَّةٌ صَادِقَةٌ
 خالص نیت۔ حَمَلَةٌ صَادِقَةٌ
 ستمت حملہ۔
 الصَّدُوقُ: ہمیشہ سچ بولنے والا۔ ج۔
 صَدُوقٌ وَصَدُوقٌ۔
 الصَّدِيقُ: پیارا دوست۔ ج۔ اَصْدِقَاءُ
 وَصَدَقَاءُ وَصَدَقَانٌ۔ وجہ
 اَصَادِقِي: مؤنث۔ صَدِيقَةٌ۔
 الصَّدِيقِيُّ: ج۔ صَدِيقُونَ: بہت سچ
 بولنے والا۔ سچائی میں کامل۔ عمل سے
 اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا۔ بڑا
 نیک۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکرؓ کا لقب۔
 المِصْدَاقُ: کسی کی سچائی کا گواہ۔ ذُو
 مِصْدَاقِي: بہادر جنگ جو تیز بولنے
 والا۔
 المِصْدَاقَةُ: (دہ) سچائی۔
 صَدَمَةٌ رَضٍ صَدَمًا: دفع کرنا۔ ہٹانا
 آپڑنا۔
 صَادِقَةٌ مُصَادِقَةٌ: مارنا۔
 اِصْطَدَمَ وَتَصَادَمَ: الحَارِسَانِ
 ایک دوسرے کو مارنا۔ ایک دوسرے
 کے مزاحم ہونا۔
 الصَّدَامُ: ہانپنے کے سر کی ایک بیماری
 کا نام۔
 الصَّدْمَةُ: اسم مرۃ۔ ایک دفعہ۔ صَرَعَةٌ
 بِصَدْمَةٍ: ایک ہی دفعہ میں
 پھپھاڑ دیا۔ اَعْطَاكَ دَنْقًا شَهْرَيْنِ
 صَدَمَةً: دو مہینہ کی رفتی ایک

ہی مرتبہ دے دی۔
 الصَّلَمَتَانِ وَالصَّلَمَتَانِ: پیشانی کے
 دونوں جانب۔
 الرَّصْدَمُ: وہ شخص جس کی پیشانی کے
 دونوں جانب سے بال اڑ گئے ہوں۔
 رَجُلٌ مِصْدَمٌ: جنگجو بہادر آدمی۔
 صَدَا الصِّدَا وَصَدَا وَصَدَى
 بیکارہ۔ دونوں ہاتھوں سے تال بجانا۔
 صَدَايَ يَصْدِي صَدَايَ: سخت پیاسا
 ہونا۔ صفت۔ رَصِدًا وَصَادٍ وَ
 صَدْيَانٌ (مؤنث)۔ صَدْيَا وَ
 صَادِيَةٌ: ج۔ صَوَادٍ۔ صَدَى
 الشَّيْءِ: لمبا ہونا۔
 صَادَةٌ مُصَادَةٌ: مقابلہ کرنا۔ مبارک
 کرنا۔
 صَدْيٌ تَصْدِيَةٌ: بیکارہ۔ دونوں
 ہاتھوں سے تال بجانا۔
 اَصْدَى: اِصْدَاءٌ۔ مرنا۔ الجبلُ
 پہاڑ کا گونجنا۔ پہاڑ سے آواز
 بازگشت آنا۔
 تَصْدِيٌّ لَه: درپے ہونا سامنے آنا۔
 لِلْأَمْرِ: کسی معاملہ کے لیے متوجہ ہونا۔
 الصَّدَى: سخت پیاس۔ آواز بازگشت۔
 دماغ۔ انسانی لاشیں، تعرض۔ ج۔
 اَصْدَاءٌ: صَدَقَاتُكَ اس کی
 گونج خاموش ہوگئی ہے یعنی وہ مر گیا۔
 اَصَدَّ اللهُ صَدَاكَ: اللہ اس
 کو مار دے۔
 الصَّدَى: ایک بڑے سر کا آئینہ تاریک
 ویرانوں میں رہتا ہے۔ اس کو ہامہ
 بھی کہتے ہیں۔ عربوں کا خیال تھا کہ جس
 مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے، اس کے
 سر سے ایک آئینہ پیدا ہوتا ہے جو اس
 کے سر پر یہ کتنا رہتا ہے۔ مجھے پلاؤ
 مجھے پلاؤ۔ تاکہ اس کے قاتل کو قتل

کیا جائے۔
 صَرَدَن، صَرَا۔ الصَّرَّةُ: تھیلی باندھنا۔
 المَدَارِيسُ فِي الصَّرَّةِ: دراہم کو
 تھیلی میں رکھنا۔ الفَرَسُ اذُنُهُ وَ
 بِأَذْيِهِ: گھوڑے کا کان کھڑے کرنا۔
 النَّااقَةُ وَبِالنَّااقَةِ: اونٹنی کے تھن
 باندھنا تاکہ اس کا بچہ دودھ نہ پی سکے۔
 صَرَدَن، صَرَدَا وَصَرَدِيًّا: الشَّيْءُ
 بھول چھو کرنا۔ الرجلُ: زور سے
 چلانا۔ پیاسا ہونا۔ الاذُنُ: کان بجانا۔
 صَرَا: التَّلْبَاتُ: پوہ کو ٹھنڈی ہوا کا مار
 جانا۔ صَرَدَتِ النَّااقَةُ: آگے بڑھنا۔
 صَرَا: اذُنُهُ: سننے کے لیے کان
 کھڑے کرنا۔
 صَارَّةٌ مُصَارَّةٌ: علی کذا۔ مجبور کرنا۔
 اَصْرًا: علی الأمر۔ اپنے ارادہ پر جمار ہونا۔
 برائی اور گناہوں میں اس کا استعمال
 زیادہ تر ہے۔ المَسْنَلُ: خوشوں
 کا غار نکالنا۔ الفَرَسُ: گھوڑے کا
 سننے کے لیے کان کھڑے کرنا۔
 الصَّرْوُ وَالصَّرْوَةُ: ٹھنڈ۔ رِيحٌ صَرْوٌ
 سخت ٹھنڈی ہوا یا تیز آواز والی ہوا۔
 الصَّرْوَةُ: نور کی بیخ۔
 الصَّرْوَةُ: شورغل، چیخ پکار۔ لڑائی کی سختی یا
 گرمی وغیرہ کی تیزی۔ ترش روئی۔ جماعت
 تعویذ کے ہرے۔
 الصَّرْوَةُ: تھیلی۔ بڑھ۔ ج۔ صَرْوًا
 يَبِينُ صَوِي: سخت قسم۔
 الصَّرْوَةُ: بالیاں جو اپنے خسار نکال رہی
 ہوں۔ واحد رَصَدَةٌ
 الصَّارُ: فا۔ گنجان و رخت۔
 الصَّارَةُ: حاجت۔ پیاس۔ ج۔ صَوَارٌ
 الصَّرْوُ وَالصَّارُ وَالصَّرْوِيُّ
 الصَّارُ وَرِيٌّ: گنوار۔ جس نے
 سچ نہ کیا ہو۔

الصَّرَارِيُّ - ملاح - ج - صَوَارِيُوتُونَ -
 الصَّرَارِيُّ - اونٹنی کے تھن باندھنے کی ڈوری -
 وہ بلند جگہ جہاں پانی نہ چڑھ سکے -
 ج - صَرَّةٌ -
 الصَّرَاسِيُّ - صَارٌ کا اسم مبالغہ - صَرَارٌ -
 اللیل - جھینگر - الصَّرَارَةُ -
 سانپ کھا جانے والا ایک قسم کا عقاب -
 الصَّرِيْبَةُ - قہلی میں رکھے ہوئے دراہم -
 ج - صَرَائِرٌ -
 المَصَابِرُ - آنتیں -
 المَصْرُوْرُ - منع - بندھا ہوا - قیدی -
 صَرَبٌ (ض) - صَرَبًا - کاشا، کمانا، دودھ کو
 ترش بنانا - پیشاب یا دودھ کو روکنا -
 بچہ کا کئی دن پاخانہ نہ کرنا -
 صَرِبَ (س) - صَرَبًا - اللبَنُ - دودھ کا
 تھن میں جمع ہو جانا -
 أَصْرَبَ - إِلَيْهِ مَالًا - دینا -
 ترش دودھ کا کھانا یا پینا -
 إِصْطَرَبَ - اللبَنُ فِي التَّطْبِيبِ - دودھ
 کو ترش کرنے کے لیے برتن میں تھوڑا
 تھوڑا جمع کرنا -
 إِصْرَابٌ - الضَّمُّ - صاف اور چکنا ہونا -
 الصَّرْبُ وَالصَّرَبُ - بست ترش دودھ -
 سَرَجٌ كَوْنِدٌ بُولٌ كَا كَوْنِدٌ - واحد صَرِيْبَةٌ
 وَصَرِيْبَةٌ -
 الصَّرِبُ - غریب عربوں کے تھوڑے گھر -
 الصَّرِيْبُ - ترش دودھ - ج - صَرَبٌ -
 المَصْرُوْبُ - منع - جمع کیا ہوا کھٹا دودھ -
 المِصْرَبُ - وہ برتن جس میں دودھ جمع کیا
 جائے - ج - مَصَارِبٌ -
 صَرَبَةٌ - الحَوْضُ - حوض کو چونا مٹی ملا کر
 بنانا - الحَوْضُ بِالْمُتَوَدِّقَةِ - حوض پر
 چونے کی قلعی کرنا -
 الصَّارُوْرُ - چونا مٹی ملا ہوا -
 صَرَّوْرٌ (ك) - صَرَاخَةٌ وَصَرُوْرَةٌ -

صاف ہونا - خالص ہونا، واضح ہونا -
 صفت (صَوِيْبَةٌ) - ج - صَرَحَاءُ
 مَوْنُثٌ وَصَرِيْبَةٌ
 صَرَحَ (ف) - صَرَحًا - الامر - ظاہر کرنا
 واضح کرنا -
 صَرَحَ - المُنْكَرُ - منْكَمُ كَمَا صَافَ صَافٍ
 کہنا - بتانی نفسیہ - ظاہر کرنا -
 - الامر - واضح کرنا - الامر -
 واضح ہونا - ظاہر ہونا - متعدی و لازم -
 النَّهَارُ - دن میں باول ہٹ کر صاف
 دھوپ نکل آنا - التَّهْمُ - شراب
 کے جھاگ دور ہونا - صَرَحَتْ
 السَّنَةُ - یعنی کال پڑ گیا اور سختی و تنگی
 کے علاوہ کچھ نہ رہا - صَرَحَ التَّارِيْحُ -
 تیر انداز کا نشانہ خطا کرنا - ایک مثل ہے کہ
 صَرَحَ الْحَقُّ عَنِ مَحْضِهِ - یعنی حق
 پوشیدگی کے بعد واضح ہو گیا -
 أَصْرَحَ - الامر - بیان کرنا - صَرَحًا
 واضح کرنا -
 صَارَحَهُ صَرَاخًا وَمُصَارَحَةً - صَاف
 صَاف بیان کرنا - مَشَمَّةٌ مُصَارَحَةٌ
 اَوْ صَرَاخًا - یعنی اس نے رُو د رُو
 گالی دی - صَارَحَ وَصَرَحَ بِمَا فِي
 كَفِيْبِهِ - دل کی بات کو ظاہر کر دینا -
 اِنصَرَحَ - الحق - ظاہر ہونا - منْكَشَفٌ
 ہونا -
 تَصَرَّحَ - التَّزْبِيْدُ عَنِ الْخَمْرِ - شراب
 پر سے جھاگ دور ہونا -
 الصَّرْحُ - مع - محل - ہر لہجہ لغات - ج -
 صَرُوْرٌ -
 الصَّرْحَةُ - سخت زمین - صَرَحَهُ
 الدَّارُ - گھر کا معن - جہ صَرَحَاتٌ -
 الصَّرْحُ وَالصَّرَاخُ وَالصَّرَاخُ وَ
 الصَّرَاخُ - ہر خالص غے، کہتے ہیں -
 کاس صَرَاخٌ - یعنی اس جنس یا مسالہ

میں کوئی تلاوت نہیں -
 الصَّرَاخَةُ وَالصَّرُوْرَةُ - خلوص، وفات
 الصَّرَاخِيَّةُ - مِنَ الْخَمْرِ - خالص شراب -
 كَذْبٌ صَرَاخِيَّةٌ - کھلا جھوٹ جس کو
 لوگ جانتے ہوں - الصَّرَاخِيُّ - ظاہر
 واضح - يَوْمٌ مُصَرَّحٌ وَمُصَرَّحٌ - وہ
 دن جس میں ابر نہ ہو -
 صَرَّخَ (ن) - صَرَاخًا وَصَرِيْبًا - زور سے
 چیخنا - فریاد کرنا - القَوْمُ - فریادری
 کرنا - مدد کرنا -
 أَصْرَخَهُ - فریادری کرنا - مدد کرنا -
 تَصَرَّخَ - بتکلف چیخنا -
 تَصَارَخَ وَلَا صَطْرَخَ - القَوْمُ - ایک
 دوسرے کو چلا کر پکارنا، ایک دوسرے
 سے مدد چاہنا -
 اِسْتَصْرَخَ - مدد طلب کرنا -
 الصَّارِخُ - فَا - مُرَغٌ -
 الصَّارِخَةُ - الصَّارِخُ كَا مَوْنُثٌ - فریاد
 رسی - داد خواہی - داد خواہ کی آواز - تم
 کہتے ہو - بِسَمْعَتِ صَارِخَةِ الْقَوْمِ -
 میں نے قوم کی داد خواہی کی آواز سنی -
 الصَّرَاخُ - بہت چیخنے والا - مرد -
 الصَّرِيْبُ (ه) - فریاد رس - داد خواہ - ج -
 صَرَحَاءُ -
 صَرَدَ (س) - صَرْدًا - السَّهْمُ - تیر کا
 نشانہ خطا کر جانا تیر کا نشانہ پر بیٹھنا -
 الرجلُ - آدمی کا سرورنی برواشت
 کرنے میں مضبوط ہونا - سرورنی برواشت
 کرنے میں کمزور ہونا - السِّقَاءُ -
 جھاگ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹکٹکا -
 صَرَدَ قَلْبِي عِنْدَهُ - میرا دل اس سے
 کھینچ گیا -
 صَرَدَ (ن) - صَرْدًا وَأَصْرَدَ - التَّارِيْحُ
 السَّهْمُ - تیر انداز کا تیر کو ٹھیک
 نشانہ پر بیٹھانا - أَصْرَدَ السَّهْمُ تِيرَ

<p>لانے والا۔ الصَّرْعَةُ - اسم مرفوع - حالت - هُوَ يَفْعَلُ عَلَى كُلِّ صَّرْعَةٍ - وہ ہر حال میں اس کو کرتا ہے۔ الصَّرْعَةُ - جس کو لوگ اکثر بچھاڑیں۔ اکثر بچھڑنے والا۔ الصَّرْعَةُ وَالصَّرَاعُ وَالصَّرَاعَةُ وَالصَّرِيحُ - وَالصَّرُوعُ - وہ شخص جو لوگوں کو اکثر بچھاڑ دے۔ الصَّرْعَةُ بروبار - حلیم - الصَّرْعُ - جمع صَّرُوعٍ کی ہے۔ الصَّرَاعَةُ - کشتی کا فن۔ الصَّرِيحُ - جہ - صَّرَعِي - بچھاڑا ہوا۔ مجنون - بَاتَ صَّرِيحًا الْكَايِسُ مجنون ہو کر رات گزارے۔ جہ صَّرُوعٌ - درخت کی جھکی ہوئی شاخ۔ المَصْرَعُ - وہ بچھاڑنے کی جگہ۔ اکھاڑا المَصْرَاعُ - من الباب - دروازہ کا ایک پٹ۔ عوام اس کو دَرَفَةٌ کہتے ہیں مِنَ الشَّعْرِ - شعر کا ایک مصرعہ۔ جہ - مَصَارِيعُ - صَرَفَةٌ رَمِيَّةٌ صَرَفًا - واپس کرنا۔ بٹانا۔ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ - اللہ ان کے دلوں کو گمراہ کر دے۔ صَرَفَ الشَّرَابَ - خالص شراب پینا۔ الدَّانِيَةُ - دنیا پر کوہراہم سے یا دوسرے دنیا پر سے بدنا۔ المَالُ - خرچ کرنا۔ المَكْلَةُ - کلمہ پر جو توہین لانا۔ منصرف بنانا۔ صَرَفَ نَسْرًا صَرِيحًا - بنا یہ۔ فانت پینا۔ الباب - دروازہ کا کھولنے یا بند کرتے وقت ہاتھوں کو کرنا۔ صَرَفَةٌ - صرفہ کا مبالغہ۔ صَرَفَ الشَّيْءَ - بیچنا۔ المَدَائِمُ - درابم کو بدلتا۔ المَهْرُ - خالص شراب</p>	<p>یا سخت ٹھنڈی ہوا۔ مَرَقٌ - د - و الصَّرُوعُ - جہ - صَّرَاعِي - وَالصَّرُوعُ - جہ - صَّرَاعِي - جھینگ بجیرا۔ الصَّرُوعُ - کشتی۔ الصَّرَاظُ - راستہ۔ جہ - صَّرُطٌ - الصَّرَاظُ - لمبے کانٹے والی تلوار۔ صَرَعَةُ دَفٌّ - صَرَعًا وَصَرَعًا وَمَصْرَعًا - زمین پر گرا دینا۔ المَصْرَعُ وَالْبَابُ شعر کو دو مصرعوں اور دروازہ کو دو کواڑوں والا بنانا۔ صَّرِيحٌ - مرگی کی بیماری والا ہونا۔ صَّرِيحُ الشَّجَرُ - کاٹ کر ڈالا ہوا درخت۔ صَرَعَةُ زور سے گرانا۔ زور سے بچھاڑنا۔ صَارَعَهُ هَرَاغًا وَمَصَارَعَةً - کشتی لڑنا۔ تَصَارَعٌ وَاصْطِرَاحٌ - الرُّجْلَانِ - باہم کشتی لڑنا۔ المَصْرَعُ - بچھڑنا کرنا۔ تَصَرَّعٌ - یصا جبہ۔ کسی کے آگے عاجزی کرنا۔ کہتے ہیں: مَا زِلْتُ التَّصَرُّعَ لَكَ حَتَّى آجَابَتْنِي - یعنی میں برابر اس سے عاجزی کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے منظور کر لیا۔ الصَّرُوعُ - مہ - مرگی۔ مثل: مَقَابِلُ، قَسَمٌ - جہ - اَصْرُوعٌ وَصَرُوعٌ - و المَصْرُوعَانِ - رات و دن، صبح و شام۔ التَّصَرُّعُ - صَرَحِي التَّهَارِي - میں اس کے پاس صبح و شام آیا۔ هُوَ ذُو صَرَعَيْنِ - وہ دو قسم کا ہے، یعنی دو رنگ کا ہے۔ تَصَرُّعًا صَرَعَيْنِ - میں نے انہیں مختلف حال میں چھوڑا۔ الصَّرُوعُ - مہ - مثل: قَسَمٌ، رَسِي كِي لَطِي - جہ - اَصْرُوعٌ وَصَرُوعٌ - کشتی</p>	<p>کا نظارہ خطا کرنا۔ صَرَّوْ - الشَّيْءَ - ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ العَطَاءُ - بخشش کم دینا۔ الرَّجُلُ تَقَوُّرًا پانی دینا۔ الصَّرُدُّ - ہر خالص شے، پار کی سب سے اونچی جگہ۔ بڑا لشکر سردی مَاتَ صَرْدًا - سخت ٹھنڈ سے مر گیا۔ جہ - صَرُودٌ - الصَّرُدُ - بڑا لشکر، بجائے کی کیل جس میں نیزہ لگایا جاتا ہے۔ الصَّارِدُ - فَاسْتَهْرَصَارِدٌ - نغانہ پر لگنے والا تیر۔ الصَّوَارِدُ - سرد ہوائیں۔ الصَّرْدُ - موٹے سر سفید پیٹ اور سبز پیٹ کا ایک پرندہ جو چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے۔ لُثْرًا - جہ - صَرْدَانٌ - الصَّرْدَانُ - زبان کے نیچے کی دو رگیں۔ الصَّرْدُ مِنَ الخَيْلِ - وہ گھوڑا جس کی پیٹہ زمین سے لگ گئی ہو۔ مِنَ الدَّجَالِ - سردی بربادت کرنے والا یا نہ کرنے والا۔ الصَّرَادُ وَالصَّرِيدُ - پانی سے خالی پھلا بادل۔ تَعَبَةٌ صَرِيدَةٌ - سردی کھالی ہوئی بھیر جہ - صَرِيدٌ - المَصْرَادُ - درخت سے خالی زمین، سردی بربادت کرنے والا یا نہ کرنے والا۔ سَهْمٌ مَصْرَادٌ - نغانہ پر لگنے والا تیر۔ المَصْطَرِدُ - سخت غصہ والا۔ صَرَّوْ - الصَّرْدُ أَوْ الصَّرُّوْ لُثْرًا - یا شکرے کا آواز نکالنا۔ الرَّجُلُ زور سے چلانا۔ الشَّيْءُ - چیز کے منتشر اطراف کو جمع کرنا۔ الصَّرَّوْ مِنَ الرِّيَاحِ - تیز چلنے والی</p>
---	---	--

پینا۔ الکلام۔ بات سے بات نکالنا۔ عافی الامر۔ کوئی کام کسی کو سپرد کرنا۔ صَرَفَ الْمَاءَ پانی جاری کرنا۔ اللَّهُ الرِّیَاحُ۔ اللہ کا ہواؤں کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دینا۔

صَارِقَةٌ۔ مبادلہ کرنا۔

أَصْرَقَهُ۔ عَنْ كَذَا رُوِيَ۔ بٹانا۔

أَصْرَفَ الشَّرَابَ۔ شراب میں کچھ نہ ملانا۔

تَصَرَّفَ۔ فِي الْأَمْرِ۔ کسی معاملہ میں تصرف کرنا۔ کام میں دخل پانا۔

تَصَرَّفَتْ بِهِنَّ الْأَحْوَالُ۔ گردش ہونے کا زمانہ کسی پر قابو پالینا۔

لَانْصَرَفَ۔ الرَّجُلُ۔ واپس ہونا۔ باز رہنا۔ لَانْصَرَفَتْ الْكَلِمَةُ۔ کلمہ کا منصرف ہونا۔

لَا صَطْرَفَ۔ (دھ) کسب معاش کے لیے چلنا پھرنا۔ مشغول ہونا۔ الداراهم بدلنا۔

لَا سَتَصَرَّفَ اللَّهُ الْمَكَارِثَ۔ تکالیف کو پھیر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا۔

الصَّرْفُ (۵) ایک علم کا نام ہے۔ جس میں کلمات عربیہ کے صیغوں کی وضع و بیئت سے بحث کی جاتی ہے۔

صَرَفَ الدَّهْرُ وَصُرُوقَهُ۔ زمانہ کی گردشیں یا حادثات۔ لَنْ عَلَيَّ صَرَفٌ۔ اس کو مجھ پر فضیلت ہے

صَرَفُ الْحَدِيثِ أَوْ الْكَلَامِ۔ کلام کی زیادتی اور اس کی تزئین۔

الصَّرْفُ۔ خالص۔ الصَّرْفَانِ وَ الصَّرْفَانِ مَاتَ وَوَن۔

الصَّرْفَانِ۔ موت، پتیل اور سیسہ۔

الصَّرَافَةُ۔ صراف کا پیشہ۔

الصَّرْفَةُ۔ ایک منکاجس کو تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چاندک ایک منزل۔ اونٹنی کو صبح کے وقت دوہ کر دوسری آنے والی صبح تک چھوڑ دینا۔

الصَّرِيفُ مِم۔ خالص چاندی۔

صَرِيفُ الْبَابِ۔ دروازہ کی آواز۔

صَرِيفُ الْقَلْبِ۔ قلم چلنے کی آواز۔

د۔ وَالْمَصْرُوفُ، بِرِخَالِصِ شَيْءٍ۔ درخت کا خشک شدہ حصہ۔

الصَّرِيفَةُ۔ الصَّرِيفُ كَامُونُثٍ۔ درخت خروما کی خشک شاخ۔ ج۔ صُرْفٌ وَ صِرَافٌ وَ صَرِيفٌ۔ تَصَارِيفُ الدَّهْرِ۔ گردش ہونے کا زمانہ۔ حواش زمانہ۔

الصَّرَافُ وَالصَّرِيفُ وَالصَّرِيفِيُّ۔ ج۔ صِيَارِفَةٌ۔ روپیہ پر کھنے والا۔

لَقْدَى كِي تَجَارَتِ كَرْنِي وَاللَّـ

الصَّرَافُ وَالصَّرِيفِيُّ عِلْمٌ مَرُوفٌ جَانِنٌ وَاللَّـ

الْمُتَصَرِّفُ۔ ایک صوبہ کا حاکم۔

الْمُتَصَرِّفِيَّةُ۔ صوبہ گورنری کا عہدہ۔

صَرَقَ۔ أَصْدَابُهُ۔ انگلیاں چٹکانا۔

صَرْمٌ رِكٌ، صَرَامَةٌ۔ السَّيْفُ أَوْ الرَّجُلُ۔ تلوار کا کاٹنا۔ آدمی کا بہادر ہونا۔

صَرَمَ رَضٍ، صَرَمًا وَصَرَمًا۔ الْحَبْلُ۔ رسی کا ٹوٹنا۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔

فَلَانًا۔ چھوڑنا۔ گنت گو بند کرنا۔

فَلَانٌ عِنْدَنَا شَهْرًا۔ ایک ماہ اقامت کرنا۔ صَاعَةً مَصَارِعَةً طَوِيَةً ہونا۔

أَصْرَمَ۔ الرَّجُلُ۔ محتاج ہونا۔ الْفُخْلُ کجھور کے چننے کا وقت قریب آنا۔

تَصَرَّمَ۔ الرَّجُلُ۔ بہادری کرنا۔

وَالصَّرَمُ، كَثَا۔ ٹوٹنا۔ تَصَرَّمَتْ وَالصَّرَمَاتُ السَّنَةُ۔ سال کا ختم ہونا گذرنا۔

تَصَارَمَ۔ الْقَوْمُ۔ باہم قطع تعلق کرنا۔

أَذْطَرَمَ۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔

الصَّرْمُ مِم۔ کھال دچرم کا معرب ہے،

الصَّرَامُ۔ کھال کا بیچنے والا۔ چرم فروش۔

الصِّرْمُ۔ جماعت۔ گھروں کا اجتماع۔ قسم چڑھے کا موزہ۔ ج۔ أَصْرَامٌ وَ أَصَارِمٌ وَ أَصَارِيمٌ وَ صُرْمَانٌ۔ الصَّرْمُ مِم۔ قطع تعلق۔

الصَّرْمَةُ۔ قسم۔ اونٹوں کا گلہ۔ بادل یا چاندی کا ٹکڑا۔ ج۔ صَرْمٌ۔

الصَّارِمُ۔ فا۔ بہادر، شیر، شمشیر، بڑا۔ ج۔ صَوَارِمٌ۔

الصَّرَامَةُ مِم۔ خورد لے آدمی۔ اپنی رائے کا پکا۔

الصَّرُومُ۔ کاٹنے والی تلوار۔ اچھی طرح کاٹنے والا۔

الصَّرَامُ رِطَائِي۔ جنگ۔ مصیبت۔

الصَّرِيحُ۔ کٹا ہوا۔ رات یا اس کا ایک حصہ۔ صبح۔ دوہ پینے سے روکنے کے لیے بکری کے بچے کے منہ میں لگائی ہوئی ٹکڑی۔ وہ زمین میں پسے فصل کاٹ لی گئی ہو۔ وہ فلفل جو کھیت سے کٹ چکا ہو۔ صَرْمًا اللَّيْلُ۔ رات کا اول و آخر حصہ۔

الصَّرِيحَةُ عَزِيمَةٌ، رَاتٍ كَأَيْكِ حَصِّهِ۔

الصَّرِيمُ۔ ہکی رائے والا۔ مصیبت۔ فلان میں ایک بار کا کھانا۔

الْأَصْرَمُ۔ جس کے کانوں کے کنارے کٹے ہوئے ہوں۔ مَوْنٌ صَرْمَاءُ ج۔ صُرْمٌ د۔ الْمُصْرِمُ مَفْلَسٌ بَسْتٌ بِالْبَيْتِ وَاللَّـ

الْأَصْرَمَانِ - راتوں، بیڑیا اور کتا۔
 الصَّرْمَاءُ - الْأَصْرَمُ - کامز، بے آب
 بیابان۔ مائی کم دودھ والی اونٹنی۔
 الْمَصْرِمُ - مگ جگہ۔ جگہ سیلاب لانے
 وال جگہ۔
 الصُّرْنَايَةُ - ہانسی کی قسم کا ایک باجر
 ٹھنائی۔
 صَرَّ الْبَصْرُ وَصَرَّوْا - اَلَيْهِ - دیکھنا۔
 صَرَى يَصْرِي صَرِيًّا - الشَّيْءُ - دفع
 کرنا۔ دور کرنا۔ صَرَى بَوَّكُهُ -
 پیشاب روک دینا۔ فَلَانًا - کسی
 کو بچانا۔ منع کرنا۔ ہلاکت سے خلاصی
 بخشنا۔ الشَّيْءُ - بلند ہونا۔ پست
 ہونا (مند)۔ القَوْمَ - قوم سے آگے
 نکلنا۔ عَنْهُمْ - قوم سے پیچھے
 رہنا (مند)۔ يَيْتَهُمْ - قبضہ کرنا۔
 صَرَى يَصْرِي صَرِيًّا - الْمَاءُ - پانی کا
 زیادہ رُکے رہنے سے متغیر ہونا۔
 اللَّبْنُ - دودھ کا مزہ بدلتا۔
 فَلَانٌ فِي يَدِ فَلَانٍ - کسی کا کسی کے
 ہاتھ میں قید و محبوس رہنا۔ الدَّمْعُ
 آنسو کا آنکھ میں ڈبڈبانا۔
 صَرِيَّتْ وَأَصْرِيَّتْ - النَّاقَةُ - اونٹنی کے
 تھنوں میں دودھ اترانا۔
 صَرَى تَصْرِيَّةً - الشَّاةُ - بکری کا دودھ
 زیادہ تباہی کے لیے دودھ تھن میں
 روک دینا اور اس کو نہ دوہنا۔
 الصَّرِي - چیز کا بقیہ۔
 الصَّرِي - زیادہ ٹھرایا ہوا پانی۔
 الصَّارِي - فَا - مَارِح - جہ - صُرَّاءُ و
 صَرَايِيٌّ وَصَرَايِيُّونَ - بادبان کا
 ڈنڈا۔ جہ - صَوَارِي -
 الصَّارِيَّةُ - الصَّارِي کا ٹوٹ۔ وہ کنواں
 جس کا پانی زیادہ ٹھرنے کی وجہ سے
 متغیر ہو جائے۔

الصَّرَاةُ وَالصَّرِي وَالصَّرَاةُ - مِنْ
 الشَّاةِ أَوِ النَّوْقِ - وہ بکری یا اونٹنی جس
 کو کئی روز تک نہ دوہا گیا ہو تاکہ دودھ
 تھنوں میں جمع ہو جائے۔
 الْمِصْطَبَةُ وَالْمِصْطَبَةُ - چوڑے۔
 الْمِصْطَبُ - ریل کی ٹرائی۔
 الْمِصْطَبُ - خشک صحرا۔ کلیان۔ جہ۔
 مَصَاطِبُ -
 مَطْرَرٌ (صَطْرًا) كَمَا - صَنِيطَرُ
 داروغہ ہونا۔ الْمِصْطَبُ - فصیح بلیغ۔
 الْأَصْطَبَةُ - چیز کا بڑا حصہ۔ جمع ہونے
 کی جگہ، وسط۔
 صَعَبٌ دَنٌ (صَعُوبَةٌ) - عَلَيْهِ الْأَمْرُ -
 دشوار ہونا۔ صَعَبٌ (صَعَبٌ)
 موزک صَعْبَةٌ - جہ - صَعَابٌ -
 أَصْعَبُ - الْأَمْرُ - کام کا دشوار ہونا۔
 الشَّيْءُ مُشْكَلٌ بِأَنَّهُ - الْجَمَلُ -
 اونٹ پر سواری نہ لینے کی وجہ سے
 اس کا بے قابو ہو جانا۔
 صَاعِبَةٌ مُصَاعِبَةٌ - سختی کرنا۔
 صَعْبَةٌ - مشکل بنانا۔
 تَصْعَبُ - مشکل ہونا۔ الْأَمْرُ -
 مشکل بنانا۔
 تَصَاعَبَ - باہم سختی کرنا۔
 اسْتَصْعَبَ - مشکل پاتا۔ دشوار ہونا۔
 الصَّعْبُ مَمٌ - دشوار خود دار شیر۔
 الصَّعْبُ مُشْكَلٌ، دَشْوَارٌ - جہ۔
 صَعْبٌ -
 الصَّعْبِيُّ - دشوار۔
 الْمَصَاعِبُ - سختیاں، مشقتیں۔
 الْمُصْعَبُ - سائڈ۔ وہ گھوڑا جس پر
 سواری نہ لینے کی وجہ سے سرکش ہو گیا
 ہو۔ جہ۔ مَصَاعِبٌ وَمَصَاعِيبٌ -
 کہتے ہیں بحال مَصَاعِبٌ وَمَصَاعِيبٌ
 یعنی سرکش اونٹ۔

صَعَّرَ - النَّمْلُ شَهْدٌ كَمِيسٍ كَإِهَارِي
 پودینہ کھانا۔ الرَّجُلُ الشَّيْءُ -
 زینت دینا۔
 الصَّعْتَرُ - پہاڑی پودینہ۔ الصَّعْتَرِيُّ -
 چالاک، شریف، بہادر۔
 صَعَدَ (رَسٌ) صُعُودًا وَصَعَدًا وَصَعْدًا
 - فِي السُّلْمِ سِيرًا سِرًّا بِرُحْمَانَا -
 بہ۔ پڑھانا۔ صُعُودًا، الْمَكَانَ
 نیچے دیکھتے ہوئے پڑھنا۔
 صَعَدَ - فِي وَعَلَى الْجَبَلِ - پہاڑ پر
 پڑھنا۔ فِي الْوَادِي - وادی میں
 اترنا۔ صَعَدَ فِيهِ النَّظَرُ - اس
 نے اس کو غور سے اوپر نیچے دیکھا۔
 أَصْعَدَ - كَمَا كُوجَانَا - فِي الْأَرْضِ - اونچی
 زمین کی طرف سفر کرنا۔ فِي الْوَادِي -
 وادی میں اترنا۔ فِي الْعَدَا - تیز
 دوڑنا۔ ۴ - پڑھانا۔ أَصْعَدَتِ
 السَّفِينَةُ - کشتی کا بادبان تننا اور
 ہوا کا کشتی کو لے چلنا۔
 تَصَعَّدَ وَتَصَاعَدًا - پڑھنا۔ تَصَعَّدَ وَ
 تَصَاعَدَةُ الْأَمْرُ - کام کسی پر دشوار
 ہونا۔ تَصَعَّدَ النَّفْسُ - سانس مشکل
 سے نکلنا۔
 اصْطَعَدَ - پڑھنا۔
 الصَّاعِدُ - فَا - بَلَّغَ كَذَا فَصَاعِدًا - یعنی
 اس سے اوپر اس کا نصب حالت کی
 وجہ سے ہے۔
 الصَّعَادُ - بہت چڑھنے والا۔
 الصُّعْدُ - بَلَدِي هَذَا النَّبَاتُ يَنْمُو
 صَعْدًا - یہ پودہ بلندی میں بڑھتا
 ہے۔
 الصَّعْدُ - مَشَقَّتٌ - عَذَابٌ صَعْدٌ -
 سخت عذاب۔
 الصَّعِيدُ - مَلِيٌّ - قَبْرٌ رَاسْتَهُ، زَمِينٌ كَابْتَدَ
 حصہ۔ جہ۔ صَعْدٌ وَصَعْدَاتٌ وَ

صُعْدَانٌ - الصَّعِيدَانُ - مصر کے چند شہروں کے نام۔
 الصُّعُودُ - مم - چڑھائی۔ جَمِينِ الصُّعُودِ
 جمعرات کا دن جس میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔
 الصُّعُودُ - چڑھائی۔ بلندی کی طرف جانے والا راستہ۔ دشوار گزار گھاٹی۔ ج
 صُعْدٌ وَأَصْعِدَةٌ وَصَعَائِدٌ -
 الصُّعْدَاءُ - خم یا تکان سے لباس سانس۔
 الصُّعْدَاءُ - مشقت۔
 الصُّعْدَةُ - صُعْدٌ کا اسم مرہ۔ سیدھا نیزہ۔ ج۔ صِعَادٌ وَصُعْدَاتٌ -
 الصُّعُودَاءُ - دشوار گزار گھاٹی۔
 المصْعَدُ - مِنَ الْأَشْرِبَةِ - دوا کا جوہر جو آگ پر گرم کر کے لیا جاتا ہے۔
 المصْعَادُ - درخت خرما پر چڑھنے کا رسی۔
 صَعْرَسٌ (صَعْرًا - وَجْهَهُ مِنْهُ كَالْبُطْرَا
 ہونا۔ صفت (أَصْعَرُ) مونث
 صَعْرَاءُ - ج۔ صَعْرٌ - راساً
 سر کا چھوٹا ہونا۔
 صَعْرٌ وَصَاعِرٌ وَأُصْعَرٌ - خَدَّاءُ -
 نگہ سے رخساروں کو ٹیڑھا کرنا۔ کبھی
 خَلْقَةٌ ایسا ہونا ہے
 تَصَعَّرٌ وَتَصَاعَرٌ - نگہ سے رخسارہ
 ٹیڑھا کرنا۔
 صَعْرَسٌ - الشَّيْءُ - گھانا۔ تَصَعَّرَسِي -
 گھومنا۔
 اصْعَارٌ وَاصْعَرَسِي - پیچ و تاب کھانا
 اصْعَرَتِ الْإِبِلُ - اونٹ پیڑھے
 الصُّعُورُ وَالصُّعُرُوسُ - درخت کا جا
 ہوا رس۔ ج۔ صَعَارِيْدٌ -
 الصُّعُرُوسَةُ - گبریے کی گولی۔

صَعَصَعَ - القَوْمُ - قوم کو متفرق کرنا۔
 الشَّيْءُ حَرَكْتُ دِينًا - مِنْ فُلَانٍ
 ڈرنا۔ راساً بِالذُّهْنِ، سر کو تیل
 سے چکنا کرنا۔
 تَصَعَصَعَ - حَرَكْتُ كَرْنَا - متفرق ہونا۔
 الرَّجُلُ - بَزُولٌ هَوْنًا - ذلیل ہونا۔
 عاجزی کرنا۔ تَصَعَصَعَ بِسُوءِ
 الدَّهْرِ - زمانہ نے ان کو نکیر دیا۔
 تَزَبَّرَ كَرِيًّا -
 الصُّعَصَعُ - متفرق۔ (ر۔ وَالصُّعْمُ)
 ایک پرندہ ہے ج۔ صَعَايِمٌ -
 صُعَيْفٌ صَعْفًا - کانپنا۔
 اصْعَفَتِ - الذَّرْعُ - غلے سے چھلکا
 اترنے کے قابل ہونا۔ صفت۔
 (صُعَيْفٌ)
 الصُّعْفَةُ - مُنْذِيَا نَوْتٍ سے کپکپی۔
 الصُّعْفُوقُ وَالصُّعْفُوقُ وَالصُّعْفُوقُ -
 ناوار۔ خریدار۔ بے سرمایہ کا لاکھ۔
 کزور۔ بزدل۔ بے ہمتیار۔
 الصُّعْفُوقُ - کینہ۔ ج۔ صَعَايِقُ و
 صَعَايِقَةٌ -
 صَعَقْتُ رَفًا صَاعِقَةٌ - السَّمَاءُ
 القَوْمُ - بجلی گرا نا۔ صِعَقْتُهُمْ
 الصَّاعِقَةُ - بجلی گرا نا۔
 صِعِقُ رَسٍ صَعَقًا - الرَّعْدُ - بادل کا
 زور سے گرجنا۔ التَّكِيَّةُ - کنوئیں
 کا گرجانا۔ ر۔ وَصِعِقُ صَعَقًا و
 مَعَقًا وَصَعَقَةٌ وَتَصَاعِقًا) گرج
 کی آواز سے غشی طاری ہونا۔ صفت
 صَعِيٌّ - مرنا۔ صِعِقُ العُورُ -
 بیل کا زور سے ڈکارنا۔
 اصْعَقْتُهُ - السَّمَاءُ آسَمَانَ كَأَسَى
 بَجَلٍ كَرَانًا - اصْعَقْتُ - قتل کر دینا۔
 الصُّعُوقُ (رہ) بیخ۔ موت۔
 الصَّعَاقُ - بادل کی گرج و کرک

الصَّاعِقَةُ بِمِمْ - زمین پر گرنے والی بجلی۔
 موت۔ ہر ملک عذاب۔ عذاب کی
 پیچ۔ ج۔ صَوَاعِقُ -
 المصْعُوقُ - غشی والا۔ اچانک مرنے
 والا۔
 الصُّعْقَرُ - مچھلی کے انڈے۔
 صَيْلٌ رَسٍ صَعْلًا وَاصْعَالٌ - چھوٹے سر
 اور پتلی گردن والا ہونا۔ صفت۔
 (اصْعَلُ) موزٹ صَعْلَاءُ - ج
 صُعْلٌ -
 الصُّعْلُ - چھوٹے سر والا شتر مرغ یا آدمی
 یا کھجور۔ لباً۔ وہ گدھا جس کے بال
 چھڑ گئے ہوں۔
 صَعْلَكَةُ صَعْلَكَةٌ - محتاج بنانا۔ دُبا
 کرنا۔
 تَصَعْلَكَ - محتاج ہونا۔
 الصُّعْلُوكُ - فقیر۔ محتاج۔ کزور۔ ج۔
 مَعَالِيكَ وَمَعَالِكَ - مَعَالِيكَ
 العَرَبِ - عرب کے چوراہے فقرا۔
 اصْعَنَ - الرَّجُلُ - چھوٹے سر اور کم عقل
 والا ہونا۔
 اصْعَنَ - الشَّيْءُ - باریک اور نازک ہونا۔
 صَعَايِصًا صَعْوًا - پتلا اور چھوٹا ہونا۔
 الصُّعُودُ - چھوٹی پڑیاں۔ واحد صَعْوَةٌ
 ج۔ صَعَوَاتٌ - مولد۔ بیاد۔ ج۔
 صَعَاءٌ وَأَصْعَاءٌ - نَاقَةٌ صَعْوَةٌ
 چھوٹے سروالی اونٹنی۔
 الصُّعْبُ - لیکیں۔ جمل کے انڈے۔
 صَعْرَسٌ وَصَعْرَدُكُ - صَعْرًا و
 صَعْرَانَةً وَصَعْرَانًا -
 چھوٹا ہونا۔
 صَعْرَدُكُ - صَعْرًا وَصَعْرًا وَصَعْرَانًا
 وَصَعْرَانَةً وَصَعْرَانًا - ذلیل و خوار
 ہونا۔ صَعْرَتِ الشَّمْسِ - سورج کا
 غروب کی طرف مائل ہونا۔

صَوَاحِجُ -

أَصْحَى (صَغَاءً) - إِلَى حَيْدِيئِهِمْ - كَان لُكْنَا
 كَان دَحْرًا - إِلَيْهِ - مَنَعَهُ كَيْ لِي
 جَمَعْنَا - الْإِنَاءَ - بَرْتَن جَمَعْنَا -
 الشَّيْءَ - كَمْ كَرْنَا - كَمْنَا - الصِّغْوُ -
 كُنُونِ كَا كَنَارَه - دُولِ كَيْ دَوْبَرَه
 كَنَارَه - جِجْر كَا كَرْمَا جِجْر - أَصْعَاءُ
 صَاغِيئَةٌ - الرَّجُلِ - آدَمِي كَيْ مَاتَتْ لِر
 جَاكِرْ آدَمِي كَيْ قَوْمِ - تَمْ كَتَه - أَلْرُمُوَا
 فَلْنَا فِي صَاغِيئَتِهِ - يَعْنِي اس كِي
 قَوْمِ فِي اس كِي عَزَتْ كَرُو -

صَفَّ (دَن) صَفًّا وَصَفَّتْ - الشَّيْءَ -
 صَفَّ بِنَانَا - الْقَوْمِ - قَوْمِ كُو جَنَكِ
 وَغِيْرَه فِي صَفَّ بِنْدِي سِي كَطْرَا كَرْنَا -
 صَفَّتْ الْقَوْمِ - قَوْمِ كَا صَفَّ بِنْدِي
 سِي كَطْرَا بُونَا - الطَّائِفُ جَنَاحِيئِهِ -
 بِنْدَه كَا اِنْبِي بَارُوُوں كُو پھیلانا ، اور
 حُرُكْتِ نَرُوِيَا - الْإِبِلُ قَوَا اِيْمَهَا -
 اُوْتُوُلْ كَا اِنْبِي پَاؤُوں كُو اِيكِ قَطَارِ فِي
 رَكْنَا - اللَّحْمُ - گوشت كُو لِبَا فِي
 فِي پھیرنا - السَّرِيحُ - گدی بنانا -
 صَافٌ مَصَافَةٌ - الْقَوْمِ فِي الْقِتَالِ -
 جَنَكِ فِي قَوْمِ كَا اِيكِ صَفَّ فِي كَطْرَا بُونَا
 - فَلْنَا كَلْنَا كَسِي كَيْ چو ترے كے
 مَقَابِلِ اِنْبَا چو ترے بِنَانَا - أَصَفَّتْ
 السَّرِيحُ - زِيْنِ كَيْ لِي گدی بنانا -
 تَصَافٌ - الْقَوْمِ - صَفَّ وَارْجَعُ بُونَا -
 إِصْطَفَى - الْقَوْمِ - صَفَّ لِسْتَه كَطْرَه
 بُونَا -

الصَّفَّ - مَم - ہر شے كِي سِي دِي قَطَارِ ،
 كَلَسَ - صَفَّ لِسْتَه قَوْمِ جِجْر صَفُوُوْتُ
 الصَّفَّ - زَرَه كَيْ نِي پَنِي كَا لِبَاسِ
 الصَّفَّ - بَقِيْلِي پَر كِنِي وَالِي - صَفَّ
 السَّرِيحُ اُو الرَّجُلِ - زِيْنِ يَا كَبَا وَه كِي
 گدی - صَفَّ الْمَسْجِدِ - مَسْجِدِ كَيْ

صَغْرَدَانِ وَصَغْرَدَسِ، صَغْرًا - الْقَوْمِ
 قَوْمِ فِي چھوٹا بونا - فَلْنَا كَسِي سِي
 چھوٹا بونا - ہم كَتے ہيں : مَا صَغْرِي فِي
 الْإِسْتِغْفَارِ : وَه لِي سِي صَرَفِ اِيكِ
 سَالِ چھوٹا ہے -

صَغْرَةٌ وَاصْغَرَةٌ - چھوٹا بنانا - ذِيلِ كَرْنَا -
 أَصْغَرْتِ الْأَرْضُ - زِيْنِ كَا چھوٹے
 پودوں والی بونا -

تَصَاغَرُ - الرَّجُلِ - حَقِيْرٌ بُونَا بِي قَدْرِ بُونَا -
 اسْتَصْغَرَتْ - چھوٹا بھنا - چھوٹا پاتا -
 الصَّغْرُكَ - سَبَّ سِي چھوٹی اولاد - قَوْمِ فِي
 سَبَّ سِي چھوٹا - أَنَا مِنَ الصَّغْرَةِ -
 فِي چھوٹے لوگوں میں سے ہوں -

الصَّغَارُ وَالصَّغْرُ - ذِلَّتٌ ، حَقَارَةٌ ،
 كُزُورِي ، كِي ، ظَلَمٌ -

الصَّغَارَةُ - مَم - چھوٹا پن ، بعض كے نزدیک
 الصَّغَارَةُ - قَدْرٌ وَنَزَلَتْ فِي چھوٹا
 پَن ، اور الصَّغْرُ - جَسَامَتِ فِي
 چھوٹا بونا -

الصَّغَارُ وَالصَّغْرَانُ - چھوٹا -
 الصَّغِيرُ - فَ ، ذِيلٌ ، حَقِيْرٌ ، ذِلَّتٌ اور ظَلَمٌ
 بَرَاغَتِ كَرْنِي وَالَا - جِجْر - صَغْرَةٌ
 وَصَاغِرُونَ -

الصَّغِيرُ - چھوٹا جِجْر -
 الْأَصْغَرُ - اِمْرٌ تَفْصِيْلٌ - جِجْر - أَصَاغِرُ وَ
 أَصَاغِرَةٌ وَأَصْغَرُونَ - مَرُوثٌ -
 صَغْرِي - جِجْر - صَغْرٌ -

الْأَصْغَرَانِ - دَلِ وَزِيَانِ ، اور اِسِي سِي ہے
 الْمَرْءُ بِأَصْغَرِيئِهِ - كَيْ آدَمِي كِي قَدْرُ
 نَزَلَتْ دُو چھوٹی چیزوں دَلِ وَزِيَانِ
 سِي ہے -

صَغَا يَصْغُو وَيَصْنِي صَغْوًا وَصَغِي
 يَصْنِي صَغِي وَصَغِيًا - إِلَيْهِ -
 نَائِلٌ بُونَا - النُّجُومُ اُو الشَّمْسُ
 دُو بَنِي لُكْنَا - صَفَّتْ دَفْعًا وَجِجْر جِجْر

قَرِيْبٌ سَايَه وَارِجُوْتَرَه - الصُّدَّةُ كَرْمِي
 كَيْ لِي گھاس پھوس كِي چھت كَا مَكَان -
 صُفَّةٌ مِّنَ الدَّهْرِ - زَمَانَه كَا اِيكِ
 عَرَصَه - جِجْر - صُفَّتْ وَصَفَاتٌ وَ
 صِفَاتٌ -

الصَّافُ - فَ ، الصَّافَةُ مِّنَ الْإِبِلِ - اِيكِ
 قَطَارِ فِي ٹانگیں رَكھي ہوئے اُوْتُو -
 جِجْر - صَافَاتٌ وَصَوَافٌ - الصَّافَاتُ
 فَرَشَتِي - نَائِقَةٌ صَفُوُوْتُ - بَرْتَن دَوُو
 دِيْنِي وَالِي اُوْتُوِي -

الصَّيْفِيَّتُ - وَصَوْبٌ فِي سَكَّانِي كَيْ لِي يَا
 آگِ پَر بھوننے كے لِي قَطَارِ فِي رَكھي ہوئی
 چَمِيْر -

المَصْفُ - صَفَّ بِنْدِي كِي جَكِه - مِيْدَانِ كَارِزَارِ
 يَا ہر کھڑے ہونے كِي جَكِه - جِجْر - مَصَافٌ -
 تَصَفَّتْ - الدَّجَلُ - قَوْمِي اور مضبوط بونا -
 الصَّيْفِيَّتُ وَالصَّيْفَتَانُ وَالصَّيْفَتَانُ - بَرَا
 جِسْمِ مَضْبُوطٌ - ظَلَمٌ -

صَفَّ (دَن) صَفًّا - عَنَهُ - مَنَه پھیرنا -
 رُو كَرُوَالِي كَرْنَا - اِعْرَاضُ كَرْنَا اور تَرَكُ كَرْنَا
 گناہ سِي دَر كَرْنَا - مَعَاْفٌ كَرْنَا -
 صَفَّ السَّائِلِ عَنَ حَاجَتِهِ سَائِلِ كِي
 حَاجَتِ پُورِي نہ كَرْنَا - ذَا بِالسَّيْفِ
 تَلَوَارِ چوڑی طرف سِي مَارْنَا - دَحَارِ كِي
 طرف سِي نِيں - الشَّيْءَ - چوڑا كَرْنَا -
 النَّاسِ - لوگوں میں مَقَابِلَه كَر كِي ان
 كَيْ حَالَاتِ كُو دِي كِنَا - وَتَمَاقُ
 الْمُصْحَفِ - اِيكِ اِيكِ وَرَقِ كُو مِش
 كَرْنَا - فِي الْأَمْسِ - كَسِي اِمْرِي فُودُ كَرْنَا -
 صَفَّ رَفِ صَفُوُوْحًا - النَائِقَةُ وَغَيْرُهَا
 اُوْتُوِي وَغِيْرَه كَا دَوُو وَخُكُّ بُونَا -

صَفَّتْ - دَفْعًا
 صَفَّ - الشَّيْءَ - چوڑا كَرْنَا
 الْمَكَانَ - مَكَانِ فِي چھوٹے پھروں كَا
 فَرَشَ بِنَانَا - صَفَّ بِيْدًا يَدِي - دَوُو

ہاتھوں سے تالی بجانا۔

أَصْفَحَ - السَّائِلَ - سائل کو ناکام واپس پھیرنا۔ الشَّيْءَ - اللُّثْمَ - پلٹنا۔
صَافِحَةٌ صِفَا حًا وَمُصَافِحَةٌ - مصافحہ کرنا۔ ہاتھ ملانا۔

قَصَفَهُ - الشَّيْءَ - غور سے سوچنا۔ غور سے دیکھنا۔ القَوْمَ - حالات کا پتہ لگانے کے لیے قوم کے چہروں کو غور سے دیکھنا۔ حالات میں غور و فکر کرنا۔
تَصَافَحَ - القَوْمَ - ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا۔ تَصَافَحَتِ الْأَجْفَانُ - پلک جھپکنا۔

اسْتَصْفَحَهُ - الذَّنْبَ - گناہ کی معافی چاہنا۔

الصَّفْحَةُ (۵) جانب۔ مِنَ الْوَجْهِ رِخْسَارُهُ - مِنَ الْإِذْنَانِ - انسان کا پلو۔ مِنَ السَّيْفِ - تلوار کا چوڑا پلو۔ ج - صِفَا حٌ - قَرِيبٌ عِنْدَهُ - صَفْحًا - اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔

الصَّفْحَةُ - مِنَ الشَّيْءِ - پلو۔ سامنے کا حصہ۔ مِنَ الْكِتَابِ - کتاب کا صفحہ۔ صَفْحَةُ الرَّجُلِ - سینہ کی چوڑائی۔ ج - صَفْحَاتٌ -

الصَّفْحَانُ وَالصَّفْحَتَانِ - رِخْسَارُهُ - الصِّفَا حٌ - م - ر - وَالصَّفْحُ (رِخْسَارُهُ) یا پیشانی کی بہت زیادہ چوڑائی، کتے ہیں: لَقِيَهُ صَفْحًا - یعنی وہ اس سے اچانک ملا۔

الصَّفِيحَةُ - آسمان، ہر چوڑی چیز کا ظاہر۔ الصَّفِيحَةُ - چوڑی تلوار، چوڑا پتھر، ہر لمبی چوڑی چیز کا ظاہر۔ صَفِيحَةٌ - التَّوَجُّهُ - چہرے کی کھال۔ ج - صَفِيحَةٌ وَصَفَائِحٌ - الصَّفَائِحُ - سرکا پار بڑیاں۔ دروازے کے تختے۔

الصُّفَا حٌ - چوڑے پتے پتھر بڑے کو بان ولے اونٹ۔ ج - صُفْحَاتٌ وَصَفَائِحٌ -

الصَّفَا حٌ وَالصَّفْوَمُ - گناہ معاف کرنے والا۔ الصَّفْوَمُ - کریم۔

المُصْفَعُ - چوڑا۔ الثَّابِتُ - جھکا ہوا۔ مِنَ الْوُجُوهِ - طائم و خوب صورت چہرہ۔ مِنَ الْأَعْيُنِ - درمیانی بندی والی ناک۔ مِنَ الرُّؤُوسِ - کنپٹیوں کے پاس سے تنگ اور پیشانی اور گدی کے درمیان لمبا۔ مِنَ الْمُقْلُوبِ - وہ دل جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہوں۔ مِنَ النَّاسِ - وہ دورِ خرابوں کا قروں سے بھی میل رکھتا اور مومنوں سے بھی۔

المُصْفَعُ - چوڑا۔ جس پر چوڑی سلیں لگی ہوں۔

المُصْفِحَةُ وَالْمُصْفِحَةُ - تلوار۔ ج - مَصْفُوحَاتٌ وَمُصْفِحَاتٌ -

صَفْدَةٌ دَمٌ - صَفْدٌ أَوْ صَفْوَدٌ أَوْ صَفْدَةٌ - باندھنا۔ قید کرنا۔ ہتھکڑی لگانا۔

أَصْفَدَهُ - قید کرنا۔ مَالًا - مال دینا۔ الصَّفْدُ - بخشش، ہتھکڑی۔ ج - أَصْفَادٌ - کتے ہیں: الصَّفْدُ صَفْدٌ - بخشش ایک قید یا ہتھکڑی ہے۔

الصَّفَادُ - ہتھکڑی، بندھن، بندش۔ صَفْرَدٌ (مِنْ صَفِيرًا) - ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ صَفْرًا بِالْقَرَسِ - عَشْدًا قَدُودًا - گھوڑے کو پانی پینے کے لیے بلانا۔

صَفْرًا صَفْرًا - پیٹ میں صفراء جمع ہونا۔ صفت۔ دَمَصْفُونٌ

صَفْرًا مِمَّنْ صَفْرًا أَوْ صَفْرًا مِمَّنْ

- الإِنَاءُ -

صَيْغَرٌ لِحَابَةِ إِنْكَارٍ - وہ ہلکا ہوا۔

صَفْرٌ - الشَّيْءَ - زرد کرنا۔ الثَّوْبَ -

کپڑے کو پیلارنگنا۔ الْبَيْتَ - گھر

کو خالی کرنا۔ لِلدَّائِبَةِ - جانور کے

لیے ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ بِاللِّدَائِبَةِ -

جانور کو پانی کے لیے بلانا۔

أَصْفَرٌ - محتاج و کنگال ہونا۔ الْإِنَاءُ

برتن خالی ہونا۔ الْبَيْتَ - گھر کو

خالی کرنا۔

إِصْفَرٌ وَإِصْفَاشٌ - زرد رنگ ہونا۔

الصَّفْرُ وَالصَّفِيرُ وَالصَّفْرُ - خالی۔

صَفْرًا يَدًا - تھو دست۔ خالی ہاتھ

الصَّفْرُ - سونا۔ بَيْتِلٌ - الصَّفْرُ -

صفر، نقطہ۔

صَفْرٌ - قمری سال کا دوسرا مہینہ۔ ج

أَصْفَارٌ وَغَيْرُهَا -

الصَّفْرَانِ - محرم و صفر۔

الصَّفْرُ - بلیا۔ يَرْقَانُ كِ - بیماری۔ بھوک،

عقل۔ عَلَى شُرُوفِهِ الصَّفْرُ

وہ بھوکا ہو گیا۔ لَا يَلْتَا طَ هَذَا

بِصَفْرِي - اس کو میری عقل قبول نہیں

کرتی۔

الصَّفْرُ - خالی۔ ج - أَصْفَارٌ - الصَّفْرُ

بھوک، معہ کا خالی ہونا۔

الصَّفْرَةُ - سنہری رنگ، زرد رنگ، سیاہی

الصَّفْرِيَّتُ - فقہر محتاج۔ ج - صَفْرِيَّتُ

الصَّفْرِيُّ وَالصَّفْرِيَّتُ - موسمِ خریف کی

بارش، فصلِ خریف کا پودہ۔

الصَّفَارُ - سیٹی۔

صَفْرَاءُ - پٹار۔ زردی جو رنگ پر غالب

ہو۔ وَالصَّفَارُ - جانور کے دانتوں

میں گھاس کا بقیہ۔

الصَّفَارَةُ - مرجھایا ہوا پودہ۔

الصَّفِيرُ مِمَّنْ - ہر لمبی آواز مومنوں سے خالی

حُرُوفُ الصَّفِيحَةِ (ر، م، ن، ص)،
الصَّفَارُ - شَمِيرَا - الصَّفَارَةُ - سِيئِي -
مقعد -

الصَّفَارِيَّةُ - ایک زر و پروں کا پرندہ -
الصَّفَارِيُّ - خا - چمڑ سیٹی بجانے والا -
ایک قسم کا پرندہ جو رات کو سوتا نہیں -
اور آواز دیتا رہتا ہے، ہر ایک پرندہ
جو شکاری نہ ہو، ہر ایک بولنے والا
پرندہ - مَا بِالْأَرْضِ صَافِرٌ - گھر میں
کوئی نہیں -

الأَصْفَرُ - زورنگ کا - مُؤَنَّثٌ صَفْرَاءُ
ج - صُفْرٌ - الصُّفْرُ - دینار -
الأَصْفَوَانُ - زعفران اور سونا -

الصَّفْرَاءُ - سونا - پت - چار اخلاط میں
سے ایک خلط - وہ ٹڈی جو اندھے
وے چکی ہو، ایک قسم کا پودہ جس کے
پتے خس سے مشابہ ہوتے ہیں -

المُصْفِرُ - محتاج - تنگ دست -
المُصْفُورُ - المَصْفُورُ - مہو کا -

الصَّفْرَدُ - بنوئی میں مشہور ایک پرندہ -
صَفَصَتْ - الرجل - بیابان میں تما
چلنا - العُصْفُورُ - چڑیا کا چھانا -

المُطَفِّصُفُ - ہمار زمین - الصَّفَصُفُ
چڑیا -

الصَّفَصُفَةُ - بیابان -
الصَّفَصَاوُجُ - درخت بید - واحد -
تَصَفَّصَتْ

صَفَعَةٌ (رف) صَفَعًا - تمپر مارنا - گدی
پر تمپر مارنا -

صَافِعَةٌ وَتَصَافِعًا - ایک دوسرے
کو تمپر مارنا -

الصَّفَعَاتُ وَالْمُصَفَعَاتِي - جس پر
بہت تمپر لگائے جائیں -

صَفَقَةٌ (رن ض) صَفَقًا - تھپکی لگانا،
تالی بجانا - صَفَقَ الْبَابَ - دروازہ

بند کرنا - کھولنا - (ضد) - الرجلُ
عَنْ مَرَادِهِ - کسی کو اس کے ارادے
سے پھیر دینا - الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ -

پرندہ کا بازو پھیرانا - عَيْنُهُ -
آنکھ بند کرنا - العُودُ - بربط بجانا
- القَدَّاحُ - پیالہ بھرنے - الشَّرَابُ -

شراب کو تمپارنے کے لیے ایک برتن
سے دوسرے برتن میں کرنا - لَتَهُ
بِالْبَيْعِ وَصَفَقَ عَلَى يَدَيْهِ وَ

صَفَقَ يَدَاهُ بِالْبَيْعَةِ - سوا کرنے
کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا - الرجلُ -
چلا جانا - ذَا بِالسَّيْفِ - تلوار سے

مارنا - المِوِجُ الْأَشْجَارُ - ہوا کا درختوں
کو ہلانا -

صَفَقَ رُكَّ صَفَاقَةً - الرجلُ آدمی کا
بے شرم ہونا - الثَّوْبُ - کپڑے کی
بنائی کا لٹ ہونا -

أَصْفَقَهُ - پھینکا - روکنا - الحَوْضُ -
حوض میں پانی جمع کرنا - القَوْمُ -

قوم کے پاس اس قدر کھانا لانا کہ وہ
سیر ہو جائے - الثَّوْبُ - کپڑے
کا لٹ بنتا - القَوْمُ - پریشان ہونا -

أَصْفَقَ - لِي - میرے لیے مقدر ہوا -
صَفَقَ - الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ - پرندہ کا بازو

پھیر پھیرانا - الرجلُ يَدِيهِ - تالی
بجانا - حَوْلَ الدَّمْعِ - چاروں طرف
گھومنا - طَوَّافٌ كَرْنَا - الرجلُ - جانا -

الشَّرَابُ - شراب کو تمپارنا -
صَافِقٌ - الرجلُ عِنْدَ الْبَيْعِ - بیچ کے
وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ

مارنا - بَيْنَ قَوْمَيْنِ - ایک کپڑے
کو دوسرے پر پھینکا -

تَصَافَقَ - القَوْمُ - آپس میں خریدو
فروخت کرنا -

تَصَفَّقَ - الرجلُ - ترو کرنا - لِلْأَمْرِ -

درپے ہونا -

لَانْصَفَقَ - واپس ہونا - پھر جانا - القَوْمُ
عليه - قوم کا کسی طرف متوجہ ہونا -

إِصْطَفَقَ - العُودُ - بربط کے تاروں کا
ہلنا - البَحْرُ - سمندر میں تلاطم آنا -

القَوْمُ - پریشان و مضطرب ہونا -
الْأَشْجَارُ - ہوا سے ہلنا - النِّسَاءُ
عَلَى الْمَقَامِ - عورتوں کا میت پر

نوحہ کرنا -
الصَّفَقُ (ه) کونہ - جانب - دروازہ کا
پٹ - صَفَقًا العُنُقُ - گردن کی

دونوں جانبیں - صَفَقًا الفرس -
گھوڑے کے دونوں رخسارے -

صَفَقَ الْجَبِيلِ - پہاڑ کی سطح - ج
صَفُوقٌ - الصَّفِقُ - دروازہ کا
پٹ -

الصَّفَقَةُ - بیچ میں ہاتھ پر ہاتھ مارنا -
سوا طے کرنا -

الصَّفَقُ - گوشہ - دماغ کا پچھلا حصہ -
الصِّفَاقُ - باریک جھلی جو اوپری چڑے
کے نیچے ہوتی ہے - ہیرٹ پر منڈی ہونی

جھلی - لکڑی کی ڈھال پر منڈا ہوا چروہ
ج - صَفُقٌ -

الصَّافِقَةُ - اترنے والی جماعت - مصیبت -
الصَّفَاقُ - تجارتی سلسلہ میں بہت سفر
کرنے والا - بہت خرید و فروخت
کرنے والا -

الصَّفُوقَةُ - ایسا اونچا پہاڑ جس پر چڑھنا
مشکل ہو - چکنی بلند چٹان - نرم کمان
ج - صَفُقٌ -

الصَّفَائِقُ - آنے جانے والے قافلے -
الصَّفَائِقُ وَالصَّفَائِقُ - جماعت -

الصَّفِيقُ - بے مایہ - خرم -
المَصْفِقُ - راستہ -

المَصَافِقُ - خا - مِنَ الْإِبِلِ - گروٹیں بدل

کرسونے والا اونٹ۔

صَفَنَ رَمِي صَفُونًا - الفرس گھوڑے

کاتین ٹانگوں پر کھڑا ہونا اور بھڑکی

ٹانگ کے کمر کا صرف سر اٹکانا۔

الرجل دو فوں قدموں کا ایک قطار

میں کرنا۔ بلہ الارض۔ زمین پر

سے مارنا۔ ر - صَفْنَا الطائر

الکشييش أو الودق۔ پرندہ کا

اپنے بچوں کے لیے گھاس کے تھکوں یا

پتوں کا تہ بتہ جمانا۔

صَافِن - القوم۔ قوم کے مقابل کھڑا

ہونا۔ الماء يَنْتَهَضُ پانی کو لوگوں

میں تقسیم کرنا۔

تَصَافِن - القوم الماء۔ قوم کا آپس

میں پانی تقسیم کرنا۔

الصَّفْنِي - خصية كشميلي۔ چسٹے کا

دستر خوان۔ مستی کے وقت اونٹ

کے منہ سے نکلنے والے جھاگ۔ ج۔

صُفْنٌ وَصُفْنٌ وَاصْفَانٌ وَ

صُفْنَانٌ۔

الصُفْنُ - مشك۔ چڑے کی چھاگل۔

چرواہے کا تھیلا۔

الصَّفْنَةُ - دسترخوان۔ مستی کے وقت

اونٹ کے منہ کے جھاگ۔ چرواہے

کا تھیلا۔

الصَّافِنُ - فا۔ پٹلی کے نیچے کے حصہ

کی ایک رگ۔ مین الخيل۔ تین

ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ ج

صَافِنَاتٌ وَصَوَافِنٌ وَصَفُونٌ -

صَفَا يُصْفُو صَفْوًا وَصَفَاءً وَصَفْوًا -

صاف ہونا۔ الجو۔ فضا کا ابر سے

صاف ہونا۔ الحدار۔ ٹانڈی کا

خالص حصہ لے لینا۔

صَفَّتْ تَصْفُو صَفْوًا وَصَفْوَتٌ وَ

صَفَاةٌ - الناقة۔ اونٹنی کا

بہت دودھ والی ہونا۔

صَفِي تَصْفِيَةً - الشيء۔ چیز کو صاف

کرنا۔

أَصْفَى إِصْفَاءً - فُلَانًا الْوَدَّ وَأَصْفَى

لَهُ الْوَدَّ - خالص محبت کرنا۔

الذِي يَحْفِرُ - کھودنے والے کا

کھودتے کھودتے پتھر تک پہنچنا۔ جو

کھدائی کو بند کر دے۔ أَصْفَتِ

الدَّجَاجَةَ - مرغی کا انڈے دینا بند

کرنا۔ الشاعِرُ - شاعر کا شعر کہنے

سے رکنا۔ أَصْفَى مِنَ الْمَالِ - مال

سے خالی ہونا۔ ذُ بَكَذَا - مخصوص

کرنا۔ راضی کرنا۔ الشيء۔ تمام

لے لینا۔

صَافِي مَصَافَاةً - فُلَانًا - کسی سے

خالص محبت رکھنا۔

تَصَافَى - القوم - ایک دوسرے کے

ساتھ خالص محبت رکھنا۔

اسْتَصْفَى - المال - سب مال لے لینا۔

الرجل - خالص دوست شمار کرنا۔

الصَّفْوِي - م - محبت میں خلوص۔

والصَّفْوَةُ وَالصَّفْوَةُ وَالصَّفْوَةُ

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - خالص اور عمدہ چیز۔

الصَّافِي - فا - صاف۔ يَوْمٌ صَافٍ -

ابرو بھار وغیرہ سے پاک صاف دن

الصَّافِيَّةُ - مؤنث الصَّافِي - وہ

زمین جس کے بسنے والے چکے گئے ہوں

یا مر گئے ہوں۔ ج۔ صَوَافٍ -

الصَّفْوَةُ - مخلص دوست۔ صفائی کی

طرز۔ تھوڑا پانی۔

الصَّفَا - جمع صَفَاةٌ - بمعنی پتھر بٹرس

کالقب (سریانی کلمہ)

الصَّفَاةُ - ج۔ صَفَا وَصَفَوَاتٌ - و

جبر - أَصْفَاءٌ وَصَفِيٌّ وَصَفِيٌّ

وَالصَّفَوَاتُ - ج۔ صَفْوَانٌ وَ

صَفْوَانٌ وَالصَّفَوَاءُ - سخت بڑا پتھر

فُلَانٌ لَا تَتَدَلَّى صَفَاةً - یعنی

فلاں بجیل ہے۔ "وَفُلَانٌ لَا تَقْرَعُ

لَهُ صَفَاةً" - فلاں کو کوئی دکھ نہیں

دے سکتا۔

الصَّفْوَانُ - چکنی چٹان۔ يَوْمٌ صَفْوَانٌ

صاف دن۔

الصَّفِيُّ - مخلص دوست۔ ج۔ أَصْفِيَاءُ -

مؤنث۔ صَفِيٌّ وَصَفِيَّةٌ - ہر خالص

چیز۔ الصَّفِيُّ وَالصَّفِيَّةُ - مِّن

الغَنِيْمَةِ - مال غنیمت کا وہ حصہ

جس کو نہیں اپنے لیے مخصوص کرنے۔

الصَّفِيَّةُ - بہت دودھ دینے والی

اونٹنی بہت پھل لانے والا درخت خرما۔

ج۔ صَفَايَا -

المَصْفَاةُ - چلنی۔ صَافِي -

المُصْطَفَى - برگزیدہ۔ چنا ہوا۔

صَقِيْبٌ دَسٌ صَقْبًا - المكان - نزدیک

ہونا۔ دور ہونا دُفْدُ

صَقْبَةٌ دَسٌ صَقْبًا - تھوڑا مارنا۔ الشيء

جمع کرنا۔ البناء - عمارت بلند

الطَّائِفُ - الطَّائِفُ - پرندہ کا آواز

کرنا۔

صَاقِبَةٌ صَقَابًا وَمَصَاقِبَةٌ - نزدیک

کرنا۔ کہتے ہیں - لَوْقِيْنَةُ صَقَابَةٌ مِّن

لِنَ اسْمِ مَوَا جِهَتِهِ مَلَاقَاتُ كِي -

أَصْقَبَةٌ - نزدیک کرنا۔ أَصْقَبَ الشَّيْءُ

قَرِيبٌ هُوَ - کہتے ہیں - أَصْقَبَكَ

الصَّيْدُ - شکار تم سے قریب ہو گیا۔

الصَّقْبُ - م - ج۔ صَقُوبٌ - گھریں

سب سے لبا کھبہ ج صَقَابٌ وَ

صُقْبَانٌ -

الصَّقْبُ وَالصَّقْبُ - نزدیک۔

الصَّقْبَانِيُّ - غط فرسوس۔

الصَّقْعُ وَالصَّقْعَةُ - گج۔ الأَصْقَعُ

گنجا۔ مُزَنَتٌ صَقْرًا۔

صَقْرَةٌ (ن) صَقْرًا۔ بِالْعَصَا۔ لَاتِي سَے مارنا۔ بِهِيَ الْاَرْضَ۔ دَمِينِ پَرِشِک دینا۔ الْجَحَانَةَ۔ پتھر کو پتھر سے سے توڑنا۔

صَقْرٌ وَصَقْرٌ۔ اِنَارٌ۔ اَکْ جَلَنًا۔ صَقْرَتُ (ن) صَقْرًا وَصَقْرَةٌ وَ اَصْقَرْتُ۔ الشَّمْسُ اَوِ الْاِنَارُ۔ اَفْتَابَ کَاتِيزَ کَرْمٍ هِنَا۔ اَکْ کَا جَلَنًا۔ صَقْرَتُهُ الشَّمْسُ۔ اَفْتَابَ کَا کَسَى کُو جَلَسَ دینا۔

صَقْرَدَن) صَقْرًا وَ اَصْقَرُوْهُ۔ الْمَلْبَنُ۔ دُو دِهْ کَا کُتَّاسَ کَاتِيزَ هِنَا۔

تَصْقَرٌ۔ شِکْرٌ سَے شِکْرَ کَمِیْلَنَا۔ بِالْمَكَانِ۔ طَیْرٌ۔ تَصْقَرْتُ وَ اَصْطَقَرْتُ۔ الْاِنَارُ۔ اَکْ کَا جَلَنًا۔

الصَّقْرُ۔ مَم۔ شِکْرًا۔ ج۔ اَصْقَرُوْهُ وَ صُقُوْرُوْهُ وَ صُقُوْرَةٌ وَ صِقَارٌ وَ صِقَارَةٌ وَ صُقْرٌ۔

الصَّقْرُ۔ ج۔ صُقُوْرُوْهُ وَ صِقَارٌ۔ بَہْت کُتَّادُو دِهْ۔ سَطْرًا هُوَ پَانِ۔

الصَّقْرُ وَ الصَّقْرُ۔ تَرْکُجُوْرٌ یَا شِکْکَ اَنگُوْر کَا شِیْرَہ۔ "هَذَا التَّمْرُ اَصْقَرٌ مِّنْ ذَاکِ"۔ اِس کُجُوْر مِّنْ اِس کَا نَسِبَتُ شِیْرَہ زَائِدٌ سَے۔

صَقْرٌ۔ دُوْرُخ۔ جَمْمٌ (غَیْرُ مَعْرُوْفٌ) سَقْرٌ مِّنْ اَیْکِ لَعْنَتِ۔

الصَّقْرُ۔ مِّنَ الرَّطْبِ اَوِ الزَّیْبِ تَرْکُجُوْرٌ یَا شِکْکَ اَنگُوْر جُوْرَسَ تَکَلِّفَ کَے قَابِلٌ هُوَ۔ اِمْرَاةٌ صَقْرَةٌ۔ تِيز فَمٌ تِيزُ نَظْرُ عَوْرَتِ۔ کَتَہِ ہِیْنِ۔ جَاءَ بِالصَّقْرِ وَ الْبَقْرِ اَوِ بِالْقَصَارِی وَ الْبُقَارِی۔ وَہِ جُوْرُطٌ یُوْلَا۔

الصَّقْرَةُ۔ پَرندہ کی بڑی یا سیاہی کاسرخ یا ندی سے ملنا۔

الصَّقْرَةُ۔ حَوْضٌ مِّنْ بَقِیْرِ پَانِ۔

الصَّقُوْرُ۔ پتھر توڑنے کا ہتھیار۔ کَدَالٌ۔ ر۔ وَالصَّقِیْقَةُ مَعِیْبَتٌ بَہِیْضَةٌ اَفْتٌ۔

الصَّقُوْرَةُ۔ کُجُوْرِی کَا اَندُوْنِ حَمْدٌ۔ الصَّقَارُ۔ جَمَلٌ نُوْرٌ کَا فَرَسٌ وَ جَرِ لَعْنَتِ کُوْنِ وَالَا۔ شِیْرَہ۔ سَازِ۔ شِیْرُ فَرُوْشِ۔

صَقْعَةٌ (ر) صَقْعًا۔ سَرِیْرًا رَنَا۔ قَسَقَعٌ بِهِيَ الْاَرْضُ۔ نَزِیْنٌ پَرِشِکَاڑُ دِیْنَا۔

الْوَجَلُ۔ جَانَا۔ رَاسَتَہِ سَے ہَرِطَ جَانَا۔ یَا جَلَانِ وَ کَرْمِ کَے رَاسَتَہِ سَے اَخْرَافَ کَرْنَا۔ اَلْجَمَارُ یَا کُجُوْرِی۔ کُدَمَہِ کَے سَرِ یَا ہَرِ سَے پَرُوْرَاغَ لُکَانَا۔

صَقَعٌ (ر) صَقْعًا وَ صَقْعًا وَ صَقِیْقًا۔ الْوِیْلُکُ مَرِغٌ کَا اَذَانٌ دِیْنَا۔ صَقْعًا وَ صَقْعًا۔ رِیْصُوْرٌ۔ اَوَازِ بَلَدِ کَرْنَا۔

صِیْقَعٌ (س) صَقْعًا۔ الرَّجُلُ۔ بَہِ ہَوِشِ ہُوْتَا۔ الْفَرَسُ اَوِ الطَّیْرُ۔ گُھُوْرُے

یَا پَرندہ کَے سَرِ کَا بَیْجَ سَے سَفِیْدَ ہُوْتَا۔ صَفْتٌ رَا اَصْقَعُ صِیْقَعَتِ الْبِئْرُ۔

کُنُوْرِ کَا ڈُھِ جَانَا۔ صِیْقَعٌ وَ اَصْقَعٌ۔ الْمَكَانُ۔ کُیْ جِگَہِ پَالَا پُرْنَا۔

صَقَعٌ۔ بِقَلَانِ۔ کُیْ کَے لَیْہِ قَسْمَ کُھَانَا۔ اَصْقَعٌ۔ الرَّجُلُ۔ رِیْخٌ پَرِچَلَنَا۔ الصَّقِیْقُ الْاَرْضُ۔ پَالَا پُرْنَا۔

الصَّقَعُ۔ الْمَرْجَلُ۔ رِیْخٌ پَرِچَلَنَا۔ الصَّقِیْقُ الْاَرْضُ۔ پَالَا پُرْنَا۔

الصَّقَعُ۔ کُوْرُشَہِ کُنَا رَہ۔ جِہِ اَصْقَاعٌ۔ الصَّقَعُ۔ مَم۔ سَرِیْرَ بَالِ کَمِ ہُوْتَا یَا نَہِ ہُوْتَا۔

سَمْتٌ سَرُوْی کَا لَیْہِ اَنَامِی۔ الصَّقِیْقُ۔ گَنجَا۔ دُوْرُگَیْنَا ہُوَا سَا فَرَسِ جِہِ کَا جِگَہِ کَا عِلْمُ نَہِ ہُو۔

الصَّقْعَةُ۔ گُھُوْرُے اَوِ پَرندہ وَ شِیْرَہ کَے سَرِ کَے بَیْجِ کَا سَفِیْدِی۔

الصَّقْعَاءُ۔ مُؤَنَتٌ اَصْقَعٌ۔ سُوْرُہِ۔

الصَّقِیْقُ۔ فَا۔ بَہْت جُھُوْرَا کَتَہِ ہِیْنِ۔ صَقْعٌ صَقِیْقٌ۔ یَعْنِی نَا مَرِشِ رَہِ اَے جُھُوْرُے۔

الصَّقِیْقَةُ۔ بَیْجِی۔ الصَّقَاعُ۔ بَرِیْقٌ۔ اَوْرُضِنِی کُو چِکْنَانِی سَے

بِجَانِے کَے لَیْہِ سَرِیْرَ بَانِ دُھِنِے کَا رُوْمَالِ۔ اَوْرُشِ کَے مَنزِ پَرِ بَانِ دُھِنِے کَا جَالِی۔ اَوْرُشِ کَا گَدِی پَرُوْرَاغِ۔

الصَّقِیْقُ۔ مَرِغٌ۔ پَالَا۔ اَیْکِ قَسْمِ کَا بَیْجُ۔ الْمَصْقَعُ۔ فِصْحٌ وَ بَلِیْغٌ۔ بَلَدٌ اَوَازِ وَالَا۔

جِہِ مَصَقِیْقٌ۔ صَوْقَعَةٌ۔ سَرِیْرَ رَنَا۔

الصَّوْقَعَةُ۔ مَم۔ پُکْرُوْی سَرِ کَا وَسَطِ۔ اَوْرُضِنِی کُو چِکْنَانِی سَے بِجَانِے کَا رُوْمَالِ۔

الصَّقْعَبُ۔ لَمْبَا۔ اَوَازِ کَرْنِے وَالَا۔ دَانُوْلِ سَے یَا دَرُوْرَاہِ سَے۔

صَقْعُوْرٌ۔ فِی اَذْرِہِ۔ کَانَ مِّنْ چَلَانَا۔ الصَّقْعُوْرُ۔ سَرُوْ پَانِی۔ سَطْرًا ہُوَ پَانِی۔

صَقْلٌ (ن) صَقْلًا وَ صِقْلًا۔ اَشْیْءٌ۔ پَالَشِ کَرْنَا۔ جِلَا دِیْنَا۔ صَا فِ کَرْنَا۔ زَنْکٌ صَا فِ کَرْنَا۔ صَفْتٌ (صَا قِلٌ) جِہِ

صَقْلَةٌ۔ صَفْتٌ مَفْعُوْلٌ (مَصْقُوْلٌ)۔ الدَّابَّةُ جَانُوْرٌ کُو دُبَا کَرْنَا۔ کَا بِالْعَصَا۔ لَاتِی سَے مَارْنَا۔ بِهِيَ الْاَرْضُ نَزِیْنٌ پَرِکَرَا دِیْنَا۔

صَقْلٌ (س) صَقْلًا۔ صِیْقَلٌ شَدِہِ ہُوْتَا۔ چِکْنَا ہُوْتَا۔

الصَّقْلُ۔ مَم۔ گُھُوْرُے کَے پَلُوْکِ لَمْبَانِی۔ الصَّقْلُ۔ پَلُو۔ سَبْکُ جَانُوْرُ دِہِ الصَّقْلُ کَر۔

الصَّقِلُ۔ مَخْتَلَفٌ چَالِ وَالَا۔ کَمِ گوشت کَا گُھُوْرُا۔

الصَّقِیْلُ۔ صَا قِلٌ۔ کَا مَبَالِغُہِ۔ تَلُوَارُ کُو تِيز کَرْنِے وَالَا۔ جِہِ۔ صَيَّا قِلٌ وَ صَيَّا قِیْلَةٌ۔

الصَّيْقَلُ - پالش کیا ہوا۔ تلوار۔
 الصَّقَالُ - الصَّاقِلُ کا مبالغہ۔
 صَقْلِيَّةٌ وَصَقْلِيَّةٌ - جزیرہ سسلی جو
 اٹلی کے جنوب مغرب میں ہے۔
 الصُّقْلُ - مِنَ الصَّقْبَاءِ - بلغ مقرر۔
 الصُّقْلَةُ - جس سے پالش کیا جائے۔
 الصَّقَلْبُ وَالصَّقْلِيَّةُ وَالصَّقْلَانِيَّةُ -
 سلاوی قوم کا آدمی۔
 صَكَّةٌ دَنٌ صَكًّا - دور سے مارنا۔ تھپڑ مارنا۔
 صَكَّ الْبَابَ - دروازہ بند کرنا۔
 صَكَّ رَسٌ صَكًّا - الرجل او الفرس۔
 چلنے میں گھٹنوں کا آپس میں ٹکڑنا۔
 اصْطَلَّتْ - رُكِبَتْهَا - چلنے میں گھٹنوں کا
 آپس میں رگڑ کھانا۔ اصْطَلَّتْ
 الْقَوْمُ بِالسُّيُوفِ - تلواروں سے
 لڑنا۔
 تَصَاكَّتْ - التُّكِبُ - زانوؤں کا ایک
 دوسرے سے رگڑ کھانا۔
 الصَّكُّ مَمٌ - چیک۔ تحریری معاہدہ،
 اقرار نامہ۔ ج۔ اصْكُ وَصُكُوْكَ
 وَصِكَاكُ
 الاَصْكُ - وہ جس کے گھٹنے چلنے میں
 آپس میں ٹکرائیں۔ بے بوئے دانوں
 اور دواڑھوں والا ہونا۔ مضبوط و قوی۔
 مُؤْتَفٌ - صَكَاؤٌ - ج۔ صَكٌّ -
 الصَّكَاكُ - زور سے طمانچہ مارنے والا۔
 وثيقة نویس۔ چیک لکھنے والا چیک
 کی حفاظت کرنے والا۔ کلرک۔
 الصَّيْكِيكُ - کمزور ضعیف۔
 الصُّكُّ - مضبوط، چٹنی۔
 المَصْكُوْكَاتُ - درابہم و دنانیر۔
 صَكْمَةٌ دَنٌ صَكْمًا - مارنا۔ صَكْمَةٌ
 الطَّرِيْقُ عَلَى الْجَايِدِ - گھوڑے کا
 لگام کو ہبہا کر گرون و راز کرنا۔ جیسے وہ
 اپنا غلبہ بھلا کرے۔

الصَّكْمَةُ - سخت صدمہ۔ الصَّوَاكِمُ
 مصائب و حوادث۔ صَكْمَةٌ
 صَوَاكِمُ الدَّهْرِ - اس پر زمانہ کی
 مصیبتیں پڑیں۔
 صَلَّ رَضٌ صَلِيْلًا - السَّلَامُ ہتھیار
 کی جھنکار سنائی دینا۔ الشَّيْءُ - آواز
 کرنا۔ المَسْمَارُ - کیل کا کسی چیز میں
 ٹھونکا جانا۔ الاِبِلُ - پیاس کی وجہ
 سے اونٹ کی آنتوں کا خشک ہو کر پانی
 پیتے وقت ان سے آواز سنائی دینا۔
 السِّقَاءُ - مشک کا خشک ہونا۔
 صُلُوْلًا، اللَّحْمُ - گوشت کا
 بدبودار ہونا۔ الماءُ - پانی کا رطوبت
 بدبودار ہونا۔
 صَلَّ دَنٌ صَلًّا - الشَّرَابُ - صاف کرنا۔
 - الْحَبُّ المَخْتَلَطُ بِالطَّرَابِ - پانی
 ڈال کر دانہ کو مٹی سے علیحدہ کرنا۔
 الخُفَّتْ - موزے میں استر لگانا۔
 صَلَّتْهُمُ الصَّلَاةُ - ان کو مصیبت
 پہنچی۔
 اصْلٌ - اللَّحْمُ - گوشت کا بدبودار
 ہونا۔ القِدْمُ الماءُ - زیادہ ٹھیرنے
 سے پانی کا متغیر ہونا۔
 الصَّلُّ - بگڑا ہوا سٹرا ہوا گوشت وغیرہ۔
 الصِّلُّ - ایک بہت زہریلا سانپ۔
 مصیبت، ہمسرتانی۔ مد مقابل۔ کہتے
 ہیں: هَذَا صِلٌ ذَاكَ: یہ اس کا
 مد مقابل ہے۔ تیز تلوار۔ ج۔
 اصْلَالٌ۔
 الصِّلُ وَالصِّلُ وَالصَّلَّةُ - ہلکی اور
 متفرق بارش۔
 الصَّلَّةُ - رنگائی سے پہلے خشک چمڑا۔
 بدبودار ہوتا۔ سرین۔ زوردار ہتھیار
 بارش، تازہ گھاس کے متفرق ٹکڑے
 ترمٹی۔

الصَّلَّةُ - بدبودار ہوا۔ بچا ہوا پانی وغیرہ۔
 الصَّلَاةُ - مصیبت۔ الصَّلَاةُ - چرمی
 موزے کا استر۔ ج۔ اصْلَةٌ۔
 صَّلَاةٌ - الْحَبُّ - غلہ کا کوزا کرکٹ۔
 الصِّلِيلُ رَهٌ - لوجہ یا تلوار کی جھنکار۔
 الصَّلَالُ وَالْمِصْلَالُ - مِنَ الطَّيْنِ -
 خشک کھٹکتی مٹی جو لوہے کی طرح بجے۔
 صَاءٌ صَلَالٌ - متغیر پانی۔
 الصِّلِيَانُ - ایک قسم کی نبات۔
 المِصْلِيلُ - شریف، فیاض، سروار، کثیر
 بارش۔
 صَكْبَةٌ دَنٌ صَكْبًا - سولی دینا۔
 اللَّحْمُ گوشت بھوننا۔ العِظَامُ
 ہڈیوں سے گوانا کانا۔ صَلْبَتُهُ
 الشمسُ - آفتاب کا کسی کو مجلس دینا
 صَلَبْتُ عَلَيْهِ الحَقِيْقَ - بخار کا چمٹ
 جانا اور تیز ہونا۔
 صَلَبَ دَنٌ وَصَلَبَ رَسٌ صَلَابَةً -
 سخت ہونا۔ عَلَى الْمَالِ - بخیل و کنجوس
 ہونا۔
 صَلَبَ الشَّيْءُ - سخت کرنا۔ الشَّيْءُ -
 سخت ہونا۔ خشک ہونا۔ اللِّعْنُ
 چمڑے کو سولی دینا۔ المِصْبِيْحِيُّ - اپنے
 اوپر ہاتھ سے صلیب کا نشان کرنا۔
 اصْلَبْتُ النَّاظِمَ - بچہ کو دودھ
 پلاتے وقت اور مٹی کا گرون کو آسان کی
 طرف اٹھانا۔
 تَصَلَبَ - سخت ہونا۔
 اصْطَلَبَ - العِظَامُ - ہڈیوں کا گودا
 نکالنا۔
 الصَّلْبُ - رڑھ کی ہڈی۔ چرمی۔ گودا۔
 ج۔ صَلْبَةٌ وَأَصْلَابٌ - ہڈیوں
 عرصہ تک پڑتی رہیں اور جوتی نہ
 جائیں، ان کے لیے کہتے ہیں: لَا تَحَا
 لَاَصْلَابٌ مُنْدُ الْعِظَامِ

تَصَالِحَ وَاصْتَلَحَ وَاصْطَلَحَ وَاصْلَحَ
- القوم - رضامند ہونا۔

اِسْتَصْلَحَ - الشئ - دوستی پانا۔
ٹھیک پانا۔

الصُّلْحُ بِسَلَامَتِي - رضامندی۔ درستی۔ برصحت
کا اسم (مذکور و مؤنث) قوم مُصْلِحٌ
و مُصْلُوهُ - آپس میں موافقت رکھنے
والے لوگ۔

الصَّلَاحِيَّةُ - وہ حالت جس سے چیز کی درستی
ہو۔ مبالغہ ممدرد کا عمل کیا گیا ہے۔

اِلْاِصْطِلَاحُ - کسی خاص قوم یا جماعت کا
کسی لفظ اور کلمہ کے معنی پر اتفاق
کرنا۔ جو اصل معنی کے علاوہ ہو۔ ج۔
اِصْطِلَاحَاتٌ۔

الصَّالِحُ - درست، ٹھیک، نیک، حقوق و
ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا۔ "هُوَ
صَالِحٌ يَكْذِبُ" - وہ اس کا اہل ہے اور
اس کے کرنے کی قابلیت رکھتا ہے کبھی
کبھی کے معنی بھی دیتا ہے۔ "لَمْ يَحْظُ
صَالِحٌ مِنَ الْاَدَبِ" - یعنی اس کا
ادب میں کافی حصہ ہے۔ ج۔ صَالِحُونَ
وَصَلَّاحٌ۔

الصَّالِحَةُ - مؤنث الصَّالِحِ - اَتَتْحِنِي
صَالِحَةٌ مِنْ فُلَانٍ - فلاں کی طرف
سے مجھ کو بہت نعمت یا بھلائی پہنچی۔

الصَّالِحَةُ - نیک۔ صالح۔ ج۔ صَلَحَاءُ -
الصُّلُوْحُ - صلح۔

الصُّلْحَةُ - نیک تجویز۔ مصلحت۔ ج۔
مَصَالِحُ۔

صَلِحَةٌ رَسٌ، صَلِحَةٌ سَمْعَةٌ - ہرا ہونا۔
تَصَالِحَةٌ - ہرا ہونا۔

اِصْلَاحٌ - لیٹنا۔ الصَّالِحَةُ خَارِشٌ -
کالا سانپ۔

اِلْاِصْلَاحُ - بالکل ہرا۔ مِنَ الْجَمَالِ -
فاشی اونٹ۔ مُرْتَضٌ - صُلِحَاءُ - ج۔

سے آگے نکل جانا۔

الصَّلْتُ - م۔ چکدار ہمارا بھری ہوئی
پیشانی ر۔ وَالصَّلْتُ، بڑی پھری
ج۔ اَصْلَاتٌ -

الصَّلْتُ وَالصَّلَاتَانِ وَالِاِصْلَابُ وَ
اِلْاِصْلَابِيَّةٌ وَالِاِصْلَابَاتُ وَالِاِصْلَابُ
وَالِاِصْلَابَاتُ وَالِاِصْلَابَاتُ - مِنَ
الرِّجَالِ - ہار۔ مِنَ السُّيُوفِ
میتل شدہ پار ہونے والی تلوار۔

المُصَالَةُ - تلواروں سے لڑنا۔ شاعر کا
دوسرے شاعر کے شعر کو لفظاً و معنیاً
چرا لینا۔

صَلِحَةٌ دَنٌ، صَلِحَةٌ - اِلْفِطَّةُ - چاندی کو
پگھلانا۔ صَلِحَةٌ بِالْعَصَا - لائٹی سے
مارنا۔

صَلِحَةٌ رَسٌ، صَلِحَةٌ - سَمْعَةٌ - ہرا ہونا۔
تَصَالِحٌ - الرَّجُلُ - ہرا ہونا۔

الصُّلِحُ - کھرے درہم۔ الصُّلِحَةُ -
ریشم کے کپڑے کا خول۔ کویا۔ ج۔
صَلِحٌ۔

الصُّلِحَةُ - پگھلی ہوئی صاف خالص
چاندی۔

الصُّوْلُجَانُ وَالصُّوْلُجَانَةُ - پڑھے سر
والی لائٹی۔ ج۔ صَوَالِحَةٌ۔

الصُّوْلُجَانُ - خالص چاندی۔ کان کا سوراخ۔
پیر بھی لکڑی۔ اَلْاَهْلِكِيْمُ - بہت چکنا۔

صَلِحَةٌ رَكٌ، وَصَلِحَةٌ رَفَانٌ، صَلِحَةٌ وَ
صَلِحَةٌ وَصَلِحَةٌ - درست و ٹھیک

ہونا۔ خوالی کا دود ہونا۔ الرَّجُلُ
نیک ہونا۔ فِي عَمَلِهِ - کام میں

درست ہونا۔
صَالِحَةٌ صَلِحَةٌ وَمُصَالِحَةٌ - موافق
ہونا۔ صلح کرنا۔

اَصْلَحَ - الشئ - درست کرنا۔ بَيْنَهُمْ
صلح کرنا۔ اِلَيْهِ - نیکی کرنا۔

الصُّلْبُ - سخت۔ هُوَ صُلْبٌ فِي دِينِهِ
وہ اپنے دین میں سخت ہے۔ رِطْحٌ كِ
بُي - ج۔ اَصْلَابٌ وَاصْلَابٌ وَ
صَلْبَةٌ - کتے ہیں۔ هُوَ مِنْ صُلْبِ
فُلَانٍ - وہ فلاں کی نسل سے ہے

اور اس کی اولاد میں ہے۔
الصُّلْبُ - قوت، حرب۔ مرنے پتھروں
والے جگہ۔ ج۔ صَلْبَةٌ -

الصُّلْبُ - ایک پرندہ ہے۔
الصَّالِبُ - فَا - حَتَّى صَلِبَتْ - جاڑے،
رزے کا بنار۔ د۔ وَالصَّالِبُ،
رِطْحٌ كِ بِي -

الصُّلْبُ - سخت، سان۔ باز رکھنے کا پتھر
رِطْحٌ كِ بِي -

الصُّلْبَةُ - چاقو چھری تیز کرنے کا پتھر۔ سَا
الصُّلْبِيُّ - سخت۔ سان پر رکھا ہوا۔

الصُّلْبِيُّ - سولی۔ سولی کی شکل کی چیز۔
ج۔ صُلْبَانٌ وَصُلْبٌ - سخت سولی۔
دیا ہوا۔ چربی۔ گوا۔ جھنڈا۔ اونٹ کا
داغ۔ ج۔ صُلْبٌ - خالص نسب
والا۔ ذُو الصُّلْبِيِّ - الاصل نمرانی
شاعر کا لقب۔

الصُّلْبِيُّ - واحد الصُّلْبِيِّتِ - صليب
کی خاطر جنگ کرنے والا۔ بغير
مُصَلَّبٌ وَمُصَلَّبٌ - جس پر صليب
جیسا داغ ہو۔ مؤنث۔ مُصَلَّبَةٌ وَ
مُصَلَّبَةٌ - ثوبٌ مُصَلَّبٌ - وہ
کپڑا جس پر صليب کی شکل ہی ہو۔

صَلَّتْ دَنٌ، صَلَّتَا - الفرس - گھوڑے
کو اڑانگانا۔

صَلَّتْ دَنٌ، صَلُّوَةٌ - الرَّجُلُ - کٹاؤ
ہموار پیشانی والا ہونا۔

اَصْلَتْ - السِّيفُ - تلوار کو میان سے
باہر کرنا۔ تلوار سوتنا۔

اِنصَلَّتْ - فِي عَدُوِّهِ - دوڑ میں دوسرے

الصَّلَاةُ - غالی بیابان مصیبت - ج
 صَلَحٌ -
 الصَّلَحُ وَالصَّلِيحُ وَالصَّلَاحُ - چوڑا پتھر
 مِنَ الْأَمَكِنَةِ - کچھ نہ اگانے وال
 زین - بنجر زمین - قلمن صلیح - وہ
 سر جس کے اگلے حصہ کے بال گر گئے ہوں -
 صَلَعَةٌ - صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار ہے -
 صَلَفٌ دس، صَلَفًا - ٹیگ مارنا - صفت
 رَصِيفٌ - ج - صَلِفُونَ وَصَلَفَاءُ
 وَصَلَاةٌ - لَصَاحِبُهُ - ناپسندیدہ
 باتیں کرنا - الْمَوَاةُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمْ -
 عورت کا نونہ کی نظر میں کم قدر ہونا - صفت
 صَلِفَةٌ - ج - صَلِفَاتٌ وَصَلَايِفُ
 - السَّحَابُ - ت گرنا اور کم برسنا -
 أَصْلَفٌ - بے خبر ہونا - مشکل سے سانس لینا -
 ناپسند کرنا - نفرت کرنا - نفرت دلانا -
 تَصَلَّفٌ - بھگت ڈیگ مارنا - چالوسی کرنا -
 الْقَوْمُ - سخت زمین میں پڑنا -
 الصَّلِفُ - بے مزہ کھانا - بھاری برتن -
 سَحَابٌ صَلِفٌ - بہت گرجنے والا - کم
 بارش والا ہاول - أَرْضٌ صَلِفَةٌ - بنجر
 زمین -
 الصَّلِيفُ - گردن کا پہلو - آخَذَةٌ
 بِصَلِيفِهِ - اس نے وہ سب لے لیا -
 طَعَامٌ صَلِيفٌ - بے مزہ کھانا -
 الْأَصْلَفُ - سخت بنجر زمین - ج - أَصْلَافٌ
 - الصَّلَفَاءُ وَالْوَلَفَاءُ وَالصَّلَفَاءَةُ
 وَالصَّلَفَاءَةُ - سخت بنجر زمین - ج -
 الصَّلَاةُ
 الصَّلَفُ - فایر کی ناقہ بری کرنے والا -
 صَلَفٌ - محتاج و مفلس ہونا - ناسلہ -
 سر موڑنا -
 صَلَقَ دس، صَلَقًا - العجل - مصیبت
 میں چلانا - صَلَقَهُ بِالْعَصَا - لاطھی
 سے مارنا - صَلَقَتُهُ الشَّمْسُ -

پسینہ والا گھوڑا - دیر سے اپنے والی ہانڈی
 بے برکت حرکت -
 الصَّلَوْدُودُ - ٹھوس چکنا - الصَّلِيدُ
 اکیلا - الصَّلَادُ - بچہ والی بے دودھ
 کا اونٹنی -
 الصِّلْدَاءُ وَالصِّلْدَاءَةُ -
 الصِّلْدَحُ - بھڑا پتھر - الصَّلَوْدُجُ - بہت
 سخت -
 الصِّلْدِيمُ - سخت، سخت سموں والا شیر -
 ج - صَلَادِيمُ -
 الصَّلَوْرُ - دریا کی ایک مچھلی -
 صَلَّصَلٌ صَلَّصَلَةٌ - الخلی او اللجام
 زیور بالگام کا آواز دینا - ہاول کا گرجنا -
 گھٹی کا گونجنا - دھکی دینا -
 الصَّلْفُ - گھوڑے کی پیشانی - گھوڑے
 کی پیٹھ کا سفید حصہ - چھوٹا پیالہ - برتن
 کی بقیہ چیز - ماہر چرواہا -
 الصَّلْصَالُ - سوکھی ہوئی بچنے والی مٹی -
 ر - وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ
 آواز دینے والا گھوڑا -
 الصَّلْقَالَةُ - جس زمین پر کوئی نہ ہو -
 المصلعل - خالص النسب شریف سردار -
 اصْلَنْتُكَ البَطْحَاءُ - کشادہ ہونا -
 الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ - چوڑا - وسیع -
 صَلِغَ دس، صَلَعًا - سر کے اگلے حصہ کے
 بالوں کا گر جانا - صفت رَاَصْلَعُ
 ج - صَلَعٌ وَصَلَعَانٌ -
 صَلَعْتُ وَتَصَلَعْتُ وَانصَلَعْتُ -
 الشَّمْسُ - سورج کا ہاول سے نکل
 کر چکنا - الْحَيَّةُ - سانپ کا صاف
 ستر بغیر مٹی کے نکلا - تَصَلَعْتُ
 السَّمَاءُ - آسمان پر ت اور بہت
 جاتا - صَلَاةُ الشَّمْسِ - سورج
 کی گرمی -
 الصَّلْعَةُ وَالصَّلْعَةُ - سر کا گنجا حصہ -

صُلْبَةٌ دہ، ہراپن، کھلی -
 (صُلُوحٌ) ملک مصیبت -
 اصْلَحَ - الرجل - سیدھا کھڑا ہونا -
 الصَّلْحُ وَالصَّلْحُ وَالصَّلْحُ
 وَالصَّلْحَادُ وَالصَّلْحَادُ وَالصَّلْحَادِي
 قوی، ذہین، دلیر - ج - صَلْحُودٌ -
 صَلَدٌ (رض) صَلُودًا - البزْبُودُ - چتاق کا
 بغیر آگ نکالے ہوئے آواز دینا -
 صَلَدَتِ الْأَرْضُ - زمین کا سخت ہونا -
 صَلْعَةٌ - گنج کا چکنا -
 صَلَدَتِ رَمِي، صَلَدًا - الدَّابَّةُ -
 جانور کا کھڑا ہونا - دوڑتے وقت پاؤں
 زمین پر مارنا - الرجلُ فِي الْجَبِيلِ -
 پہاڑ پر چڑھنا - صَلَدَ السَّائِلُ -
 سائیکل کو کچھ نہ دینا - بِيَدَيْهِ
 دونوں ہاتھوں سے تال بجانا -
 صَلَدَ رِكْ، صَلَادَةٌ وَصَلَدٌ تَصْلِيدًا
 کجوسی کرنا -
 أَصَلَدَ - الرَّيْدُ - بغیر آگ نکلنے کے
 چتاق کا آواز دینا - الرجلُ - کسی
 کی چتاق کا آگ نہ دینا - أَصَلَدَتِ
 الْأَرْضُ - زمین کا سخت ہونا -
 الصَّلْدُ - سخت چکنا - بنجر زمین - ج - أَصْلَادٌ
 - فَرَسٌ صَلْدٌ - وہ گھوڑا جس کو پسینہ
 نہ آئے یہ گھوڑے کی بری صفت ہے
 دامن صَلْدٌ - وہ سر جس پر بال نہ
 آگیں - رجلٌ صَلْدٌ - بخیل آدمی -
 حَبِينٌ صَلْدٌ - سخت پیشانی -
 الْأَصْلَدُ - بخیل - مَوْتٌ صَلْدًا - ج
 صَلْدٌ -
 الصَّالِدُ - فَا - آگ نہ دینے والا چتاق -
 الصَّالِدَةُ - الصَّالِدُ كَالْمَوْتِ - پیٹنے میں
 آواز نکالنے والا دانستہ - ج - صَوَالِدًا
 - الصَّلْوَدُ - آگ نہ دینے والا چتاق -
 سخت - اکیلا - بڑا بخیل - خشک - کم

<p>سورج کا کسی کو گرمی سے تکلیف پہنچانا۔ صَلَّى رَضِيَ، صَلَفًا - نَابَهُ - وَاَنْتَ بَيْنَا - تَصَلَّى - الْهَرِيضُ - بِيَارِكَادَرُوسِ بِيَجْ وَتَابَ كَهَانًا - الْمَرَاةُ عَمْرَتِ كَا مَرُوزَه فِي بَتْلَا هُونَا - اصْطَلَقَ - الْبَعْدُ بِنَابِهِ - اَوْنَتِ كَا وَاَنْتَ بَيْنَا - الصَّلَاةُ - اَيْكُ جُكْهَ پَرِ زِيَادَه مَدَتِ مَثْرَا هَوَا پَانِي - الصَّلَى - مَم - زُورِ كِ اَوَا ز - الصَّلَى - بَهْوَارِ زَمِيْن - ج - اصْطَلَقَ - ج - اصْطَلَقَ - الصَّلِيْقُ - چَكْنَا - الصَّلِيْقَةُ - چَاقِي - پَتِي رُوْتِي - گوشت کا بھنا ہوا ٹکڑا - ج - صَلَاتُ - الصَّلَاتُ وَالْمِصْلَاقُ - مِنَ الْخُطْبَاءِ بَلِيغٍ مَقْرُورٍ وَاعْتِظَ بِمَصَالِقِ وَ مَصَالِيْقِ - الْمَصَالِيْقُ - بُرْءُ بُرْءِ بَهْر - بَلْکے پھلکے اونٹ - صَلَفَ - مَحْتَا جِ وَفَسَ هُونَا - سَرْمُونْڈَا - سَخْتِ اَوَا زِ نَكَالَتَا - الصَّلَفُ - خَالِي - كَتَهِيں - مَكَانُ صَلَفٍ وَصَلَفٌ بَلَنْفَعٌ - يَعْنِي خَالِي جُكْهَ - صَلَدَن مِّنْ صَلَمًا وَصَلَمَ - الشَّيْءُ پَرِ كُوْرُوسِ كَا نَا - نَاكِ كَا نِ بُوْرُوسِ كَا نَا - اصْطَلَمَ - بُوْرُوسِ اَكِيْرُنَا - الصَّلَمُ وَالصَّلَمَةُ - مَغْبُوْطَا اَوْرِ بَهْوَارِ لُوْگ - وَاَعْدَرُ صَالِمٍ الصَّلَامَةُ وَالصَّلَامَةُ وَالصَّلَامَةُ - لُوْگُوں كِي جَاعَتِ اَعْمَرُ سَخَاوَتِ وَبِهْوَارِي مِيں بِرَابِرِ لُوْگ - ج - صَلَامَاتُ وَصَلَامَاتُ وَصَلَامَاتُ - رَجُلٌ اَصْلَمُ الْاَذْنَانِ كِسِي كِي دُوْنُوں كَا نِ اِيسِي كُتْ هُوْنِي ہونا کہ گویا خلقت ہی سے ایسے ہیں - مَوْنَت - صَلَمَاءُ - ج - صَلَمُ</p>	<p>الصَّلِيْقَةُ - تُوَارِ - سَخْتِ كَامِ مَغْبِيْتِ - دِنِ مِيں اَيْكِ بَارِ كَا كَهَانَا - وَفَحَصَةٌ صَلِيْقَةُ - بُوْرُوسِ اَكِيْرُوسِيْنِي وَانِي جُكْهَ - صَلَمَ - مَفَسَ وَ مَحْتَا جِ هُونَا - الْوَاَسِ سَرْمُونْڈَا - الشَّيْءُ - بُوْرُوسِ اَكِيْرُنَا - چَكْنَا كَرْنَا - كَتَهِيں - هُوَ صَلَمَعَةٌ قَلَمَعَةٌ - وَهْ اَوْرَا سِ كَا بَابِ غَيْرِ مَشْهُورِيں - اصْطَلَمَ - الشَّيْءُ - وِرَا زِ هُونَا - الصَّلَمَتِ وَالْمُصَلَمَتِ - لِبَا اَوْمِي - الصَّلَمَةُ - بُرْءُ بُرْءِ الصَّلَجُ - بُوْرُوسِ چَاقِي مَغْبُوْطَا اَوْتِنِي - اصْلَهْمَا - سَخْتِ هُونَا - الصَّلَمَامُ - بَهْوَارِ جَرِي بَشِيْر - صَلَا يَصْلُوْ صَلُوًا - فُلَانًا - پِيْطْهَ كِي دَرْمِيَانِ مَارْنَا - صَلِيْقَتِ تَصَلَّى صَلَا وَاصْلَتِ اصْلَاةً - النَّاقَةُ - جُكْهَ كِي قَرِيْبِ ہونے کی وجہ سے اس کے دُورِ دُورِ كِي دَرْمِيَانِ كِي حَصَهَ كَا دُجِيْلَا ہونا - صَلَّى - صَلَاةً - دَعَا كَرْنَا - نَمَازِ پُرْجَنَا - اللَّهُ عَلَيَّ - بَكْتِ دِيْنَا - مَجْرَتِي چَا ہِنَا - اچھی تعریف کرنا - تَصَلِيْقَةُ الْفَرَسِ - گھوڑوں میں گھوڑے کا دوسرے نہر پہ ہونا - صَفْتِ (مُصَلِّ) الصَّلَام - پِيْطْهَ كَا دَرْمِيَانِ - ج - صَلَوَاتُ وَاصْلَاةً - الصَّلَاةُ اَو الصَّلَاةُ دَعَا - نَمَازُ - تَسْبِيْحُ - مِّنْ اللّٰهِ - رَحْمَتِ - ج - صَلَوَاتُ - الصَّلَى - نَمَازِ پُرْجَنِي كِي جُكْهَ - صَلَى يَصَلِي صَلِيًا - اللّٰحْمُ گوشت ہونا گوشت - رَمَقِيْلِي فُلَانًا النَّارُ وَ فِيْهَا وَعَلَيْهَا - اَيْكُ مِيں ڈَالْنَا - الرَّجُلُ - مَزَاتِ كَرْنَا يَادُ هُوَا كَا دِيْنَا -</p>	<p>فَرِيْبِ دِيْنَا - لِلْعَقِيْدِ - فِكَا رِ كِي لِي جَالِ لِكَا نَا - صَلَى رَسِ، صَلَى وَصَلَى وَصَلِيًا وَصَلِيًا - النَّارُ وَبَحَا - اَيْكُ كِي گَرْمِي بَرِ اَوْتِ كَرْنَا يَا اَيْكُ مِيں جَبْنَا - الْاَصْوَابُ اَلْاَمُوْجِ مَعَالِمِ كِي سَخْتِ بَرِ اَوْتِ كَرْنَا - صَلَى - الْعَصَا بِالنَّارِ اَوْ عَلَي النَّارِ سَلَامِي كُو اَيْكُ سِي تَا كَرْنَا سِي دِي كَرْنَا - صَلَى وَاصْلَى - يَدَا - بَلَمَتِ تَا پِنَا - اصْلَاةً - النَّارُ - اَيْكُ مِيں ڈَالْنَا - تَصَلَّى تَصَلِيًا - النَّارُ وَبِالنَّارِ - اَيْكُ كِي عَوَا تِ بَرِ اَوْتِ كَرْنَا - اَيْكُ سِي تَا پِنَا - عَصَا عَلَي النَّارِ - لَامِي كُو اَيْكُ پَرِ تَا پِنَا - اصْطَلَى اصْطَلَاةً - بِالنَّارِ - اَيْكُ تَا پِنَا - كَتَهِيں - فُلَانٌ لَا يَصْطَلِي بِنَارِ ۵ - فَلَاں اِيْسَا بَهْوَارِ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا - الصَّلَاةُ وَالصَّلَى - اَيْكُ يَا بُوْرُوسِ پِيَانِي كِي اَيْكُ - اِيْنِدِ صِيْن - الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ اَوْ پِيْشَانِي - خُوْشْبُو كُوْتْنِي كَا بٹَا - بِلِ جِيں پَرِ چِيْرِيں كُوْتِيں - ج - صَلَى وَصَلَى - الصَّلِيْتَانِ - اَيْكُ قَسْمِ كِي گَاسِ - الصَّلَاةُ وَالصَّلَى - شَكَارِ كَرْنِي كَا جَالِ شَكَارِ كَرْنِي كَا پِنْدَا - ج - مَصَالِ - كَتَهِيں - اِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَاخَا وَمَصَالِي - شَيْطَانِ كِي بَهْتِ سِي جَالِ اَوْرِ پِنْدِي ہوں - صَلَدَن، مَحْتَا - الْقَارُوقَةُ - شَيْئِي كُو بِنْدِ كَرْنَا - الْجَوْحُ - رَفْمِ پَرِيْبِ لِكَارِ بَانْدَا - عَزِيْمَتُكَ - پَكَا اَرَاوہ كَرْنَا - صَلَدَن - الرَّجُلُ بِمَجْرِي - مَعْرُوسِ مَارْنَا - صَلَدَن، مَحْتَا وَصَحَا - اَوْرِ نَجْمَانَا - يَا</p>
--	---	--

بالکل نہ سنا۔ بہرا ہونا۔ صفت (اصم)۔
 مَوْتٌ صَمَاءٌ۔ ج۔ صَمٌّ وَصَمَّانٌ۔
 صَمٌّ صِدَاةٌ۔ ہلک ہو گیا۔ مر گیا۔
 صَمَّةٌ۔ بہرا کرنا۔ صَمَّ عَلَى الْأَمْرِ
 وَفِيهِ۔ اپنی رائے پر چلنا اور منع
 کرنے والے کی بات پر کان نہ دھرنا
 گو یا بہرا بن جانا۔ السَّيْفُ تَلَوَّارٌ
 کا بڑی سے پار ہو جانا۔ صَمَّمَهُ
 الْحَدِيثُ۔ کلام کو یاد کرانا۔ صَمَّمَهُ
 الشَّيْءَ۔ چیز کو دانتوں سے کاٹنا۔
 اصَمَّ۔ بہرا ہونا۔ بہرا کرنا۔ بہرا پانا۔
 الْقَارُونَةُ۔ شیشی کو بند کرنا۔
 اصَمَّ اللَّهُ صَدَى فُلَانٍ۔ اللہ سے
 ہلک کرے۔
 تصامٌ۔ عَنِ الْحَدِيثِ۔ بہرا بننا
 الصَّمُّ۔ سخت مصیبت۔ بشیر۔
 الصَّمَّةُ شَجَارَةٌ شَرِبَ نَرَسَانٍ۔ مادہ
 سیسی شیشی وغیرہ کا ڈاٹ۔ ج۔
 صَمٌّ۔
 الصَّمَمُ۔ م۔ بہرا بن۔ رجلٌ صَمَمٌ
 یکے ارادہ کا آدمی۔
 صَمَّامٌ۔ سخت مصیبت کا علم ہے اور
 امر کے معنی میں بھی آتا ہے۔
 الصَّمَامُ۔ ج۔ اصمَّةٌ وَالْوَقَامَةُ۔
 شیشی کا ڈاٹ۔
 الصَّمِيمُ۔ عضو کو قائم رکھنے والی ہڈی۔
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کا خالص حصہ۔
 مِنَ الْبَرِّ وَالْحَيْرِ۔ سخت سردی
 یا گرمی۔ هُوَ صَمِيمُ الْقَوْمِ۔ وہ
 قوم کا اصل ہے۔
 الْأَصَمُّ مَثُوسٌ مَضْبُوطٌ حَجْرٌ اصَمُّ
 وَصَخْوَةٌ صَمَاءٌ۔ مَثُوسٌ پتھر۔
 رُمَحٌ اصَمٌّ۔ مضبوط نیزہ۔
 رَجُلٌ اصَمٌّ۔ وہ آدمی جو اپنی
 خواہش کا بندہ ہو اور اس سے کوئی

بہتری کی امید نہ ہو۔ شَهْرٌ اصَمٌّ
 ماہِ رَجَبٍ۔
 الصَّمَاءُ۔ مَوْتٌ الْأَصَمُّ۔ سخت زمین
 بڑی مصیبت۔ ج۔ صَمٌّ۔
 الصَّمَانَةُ وَالصَّمَانُ۔ بہر سخت پتھر کی
 زمین۔
 الصَّمَمُ۔ فَا ثَابِتٌ قَدَمٌ۔ کام میں نہ
 رکنے والا۔
 صَمَاءٌ رَفٌ صَمَاءٌ طُلُوعٌ كَرْنَا۔ فلاناً
 علی الامر۔ اگساٹا۔ برا لگینتہ کرنا۔
 صَمَّتْ دُنْ صَمَّتَا وَصَمَّتَا وَصَمَّتَا۔
 خاموش رہنا۔
 صَمَّتْ وَأَصَمَّتْ۔ خاموش رہنا۔
 صَمَّتَهُ وَأَصَمَّتَهُ۔ خاموش کرنا۔
 اصَمَّتِ الْعَلِيلُ۔ بیمار کی زبان کا
 بند ہونا۔
 صَمَّتَتْ۔ الْمَرْأَةُ وَكَلَدَهَا عَوْرَتِهَا لِحَاظِ
 بچہ کو کچھ کھلا کر بھلانا۔
 الصَّمَاتُ مَمٌ۔ خاموشی، پیاس کی سرعت۔
 رَمَاهُ بِصَمَاتِهِ۔ اس نے اس کو
 چپ کرادیا۔ هُوَ عَلَى صَمَاتٍ
 الْأَمْرِ۔ وہ کام کرنے کو تیار ہے۔
 بَاتَ مِنَ الْقَوْمِ عَلَى صَمَاتٍ۔
 قوم سے قریب ہوا۔
 الصَّمْتَةُ وَالصَّمْتَةُ۔ وہ کھانا وغیرہ
 جس سے بچہ چپ کرایا جائے، اور
 بھلایا جائے۔
 الصَّمَاتُ۔ فَا كَارُ حَادٍ وَوَسْمٌ۔ وَسْمٌ
 الْمَالِ۔ سونا چاندی، مال ناطق، حیوان
 کہتے ہیں۔ مَالُهُ نَاطِقٌ وَالصَّمَاتُ
 یعنی اس کے پاس کچھ نہیں، نہ خاموشی
 جائداد ہے نہ بھلنے والی۔
 الصَّمَاتُ وَالصَّمَاتُ۔ بہت چپ رہنے
 والا۔ چپ چاپ رہنے والا۔
 الصَّمَاتُ۔ بوجھل زہ۔ شہد سے بہرا ہوا

چمتہ۔ پار گذر جانے والی ضرب۔
 الصَّمَاتُ۔ فَا۔ کہتے ہیں۔ هُوَ يَشْكُو إِلَى
 غَيْرِ صَمَاتٍ۔ یعنی جو اس کی آواز نہ
 سنے اس سے شکایت کرتا ہے۔
 المصماتُ۔ منع۔ بطوس۔ بَابٌ مَصَمَّتٌ۔
 بند دروازہ جس کے بند ہونے کی جگہ
 کا پتہ نہ ہو۔ حَائِظٌ مَصَمَّتٌ۔ وہ
 دیوار جس میں فرج نہ ہو۔ فَرَسٌ
 مَصَمَّتٌ۔ یک زنگا گھوڑا۔ اِنَاءٌ
 مَصَمَّتٌ۔ وہ برتن جس پر چاندی کی
 قلعی نہ ہو۔
 صَمَحَةٌ رَفٌ صَمَحَةٌ صَمَحًا۔ الْحَرُّ غَرْمٌ
 کا دماغ کو گھٹلا دینا۔ كَابًا لِسَوْبِ
 کوڑے سے مارنا۔ صَمَحَ فُلَانًا۔
 سختی سے سوال کرنا۔
 الصَّمَاخُ۔ بدبودار پھل، داغ دینا، گھیلی ہوئی
 چربی جہاڑوں کی پھٹن پر رکھی جائے۔
 الْأَصْحَجُ۔ شجاعت کے سبب بہادروں
 کے سر پر ضرب لگانے والا۔ يَوْمٌ
 صَارَ مَمٌّ وَمَمٌّ۔ سخت گرمی کا دن۔
 الصَّمْحَاءُ وَالصَّمْحَاءُ۔ سخت زمین۔
 صَمَحَهُ دُنْ صَمَحًا۔ کان کے سوراخ
 پر مارنا۔ مَعَمَّ الْفَلَةُ۔ ناک ٹوڑنا۔
 الصَّمْحَةُ۔ ایک منجد چیز جو بکری کے تھنوں میں
 بچہ دینے کے بعد ہوتی ہے اور اس کے
 نکلنے کے بعد وہ صاف ہوتا ہے۔
 ضرب جس سے ہنسنے پر زحمان پڑ جائے۔
 الصَّمَاخُ۔ ج۔ صَمْحَةٌ وَأَصْحَجَةٌ وَ
 الْأَصْحَجُ۔ کان کا سوراخ۔ صَوَّبَ
 اللَّهُ عَلَى صَمَاخِهِ۔ اللہ اس کو
 سلائے۔
 الصَّمَاخُ۔ کم پانی والا کنواں۔ ج۔ صَمْحَةٌ
 اصَمَّحَتْ۔ غصہ سے پھولنا۔
 صَمَدٌ دُنْ صَمَدًا وَصَمَدًا۔ فُلَانًا
 وَلَهُ وَالْيَهُودُ۔ قہر کرنا۔ كَابًا لِعَصَا

<p>صَنَعَتَانِ (صُنُوجًا) بِالْعَصَا. لَامِي سے مارنا۔ صَنِيحَةٌ تَصْنِيحًا - بہہ بچھلانا۔ الصَّنْبُجُ - جہ - صُنُوجٌ - جانچ، مجیرا، چنگ " مَا أَدْرِي أَيَّ صَنْبِجٍ هُوَ میں نہیں جانتا وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ الصَّنَابِجُ وَالصَّنَابِجَةُ - جانچ، جاننے والا۔ صَنَابِجَةُ الْعَيْبِ - جاہلیت کا شاعر، اسی قیس کا لقب۔ صَنَابِجَةُ الْحَيْثُ - فوجی طبل۔ الصَّنْدِيدُ - مِنَ الْوَيْجِ أَوْ الْبُرْدِ - تیز ہوا یا ٹنڈ - مِنَ الْغَيْثِ - موٹی موٹی بوندوں کی بارش۔ دہ - وَالصَّنْدِيدُ بہادر سرور۔ جہ - صَنَادِيدُ - الصَّنَادِيدُ - مہبتیں، لشکر کی جماعت۔ الصُّنْدُوقُ - صندوق۔ جہ - صَنَادِيقُ - الصُّنْدَلُ - ایک خوشبودار لکڑی کا درخت۔ الصَّنَادِلُ - بڑے سروالا۔ الصُّنْدَلَانِيُّ - عطار۔ جہ - صَنَادِلَةٌ - الصَّنَارُ وَالصَّنَارُ - چنار کا درخت (کلمہ ذخیل ہے)۔ الصَّنَارَةُ - نکلے کے سرے پر مڑا ہوا ٹوٹا۔ مچھلی پکڑنے کا کاٹا۔ ہنسی۔ جہ - صَنَائِدُ - راجہ صَنَائِدُ وَصَنَائِدُ - بدخلق آدمی۔ جہ - صَنَائِدُ - الصُّنُورُ - بخیل۔ بدخلق۔ صَنَعَرَفٌ (صَنَعًا وَصَنَعًا) - الفحی - بنانا - إِلَيْهِ مَعْرُوفًا - کسی کے ساتھ جھلائی و احسان کرنا۔ بہہ صَنِيعًا قَبِيحًا - کسی کے ساتھ برائی کرتا۔ صَنَعًا وَصَنَعَةً (الْفَرَسُ) گھوڑے کو اچھی تربیت کرنا۔ صَنَعٌ - الشیخ - اچھی کارگری سے خوبصورت بنانا۔ زینت دینا۔ أَصْنَعٌ - سیکھنا۔ مضبوطی سے کام کرنا۔ دوسرے</p>	<p>القَصْبُ - روٹیاں رکھنے کی ڈھکنے دار ٹوکری۔ جہ - صِنَاتٌ - الصِّنُّ - پشم پر لگا ہوا پیشاب جو بہت مڑتا ہے۔ سردی کے آخری سات دنوں کی ابتدا۔ الصِّنَاتُ - جہ - آصِنَّةٌ وَالصِّنَّةُ - گندہ بھلی، بدبو۔ الصِّنَاتُ - بہاور۔ شجاع۔ - الْأَصْنُ - بے پرواہ۔ غافل۔ الصِّنَابُ وَالصِّنَابَةُ - لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ الصِّنَابُ - چٹنی جھرائی اور کشمش یا زیتون اور رائی سے بنائی جاتی ہے۔ الصِّنَابِيُّ - سفیدی مائل بھورے رنگ والا۔ صَنَبْرَتٌ صَنَبْرَةً - الْفَخْلَةُ - درخت خرما کا کم پھل اور پتلے تنے والا ہونا۔ الصَّنْبَرُ - پتلی کمزور چیز۔ الصُّنْبُورُ وَالصُّنْبُورَةُ - کم پھل، پتلے تنے والا درخت خرما۔ درخت خرما کی جڑ سے دوسرے درخت خرما کا بغیر پٹے ہوئے پھوٹنا۔ الصُّنْبُورِيُّ - کمزور۔ ذلیل، لا وارثی آدمی، کینہ، پھوٹا بچہ۔ مہسبت مرد ہوا گرم ہوا دھند، حوض میں پانی نکلنے کی تالی۔ جہ - صَنَابِيرُ - الصَّنْبَرُ - سرد گرم ہوا۔ دھند، سردی کے آخر سات دنوں میں دوسرا دن۔ جہ - صَنَابِيرُ - صَنَابِيرُ الشَّتَاءِ - جاٹے کی شدت۔ الصُّنْبِيرُ - پیر کا درخت۔ الصُّنْبِيرِيُّ منور کے پھل کے مشابہ گول لیا قرولی صَنَبَعٌ - الْبَيْضُ - سوال کے وقت بخیل کا منقبض ہونا۔ أَصْنَلَتْ - الشیخ - حکم و مضبوط کرنا۔ الصُّنُوتُ شِيشِي كَالْغُلُوفِ - جہ - صَنَانِيْتُ</p>	<p>ہونا۔ الْجَرْمُ - زخم کا پھولنا۔ الصَّمَكُوكُ وَالصَّمَكِيكِيُّ - جاہل، شرکی طرف جلدی کرنے والا۔ قوی، مضبوط۔ سخت دل ظالم۔ لیس وار چیز۔ صَمَلٌ دَنٌ صَمَلًا وَصَمُولًا - الصَّمِيُّ - سخت ہونا، خشک ہونا۔ الرَّجُلُ عَيْنُ الطَّعَامِ - کسی کا کھانے سے رکنا۔ صَمَلَةٌ بِالْعَصَا - لامی سے مارنا۔ أَصَمَلَةٌ - الصِّيَامُ - روزوں کا کسی کو لاغر کر دینا۔ إِصْمَالٌ - سخت ہونا۔ النَّبَاتُ - نباتات کا کھنا ہونا۔ الصُّمَلُ - مضبوط جسم کا۔ الصَّامِلُ وَالصَّمِيلُ - خشک، سوکھا ہوا۔ المُصَمِّلُ - غصہ سے پھولنے والا۔ المُصَمَّلَةُ - مصیبت۔ صَمَى يَصْمِي صَمِيَانًا - الرَّجُلُ - پلٹنا۔ جلدی سے کرونا۔ صَمَى يَصْمِي صَمِيَانًا - الْأَمْرُ قَلَانًا - کام کسی پر آپڑنا۔ الصَّيْدُ - شکار کا سامنے مرجانا۔ أَصْمَى إِصْمَاءً - الرَّجُلُ - جلدی کرنا۔ الصَّيْدُ - شکار کو تیرا زنا اور اس کا وہیں ٹھنڈا ہو جانا۔ الْفَرَسُ عَلَى الْجَامِ - گھوڑے کا لگام کو چبانا اور چلنا۔ إِصْمَى إِصْمَاءً - عَلَيْهِ - گزنا۔ الطَّيْرُ پزندہ کا ٹوٹ پڑنا۔ الصَّمِيَانُ - سچا اور چچا ہوا حملہ کرنے والا۔ بہادر۔ جہ - صَمِيَانٌ - أَصَنٌ - گندہ بھل ہونا، مگر سے ناک چلھانا۔ الْمَاءُ - پانی کا خراب ہونا۔ اللَّحْمُ گوشت کا بدبو دار ہونا۔ عَلَى الْأَصْرِ - اصرار کرنا۔ الرَّجُلُ - خاموش ہونا غصہ سے بھر جانا۔</p>
---	---	---

کی مدد کرنا۔

صَانَعَهُ مُصَانَعَةً - نرمی کرنا۔ مہادات کرنا۔ رشوت دینا۔ دُعِينُ الشَّيْءِ - دھوکا دینا۔ الوجیل۔ رقیق بنانا۔ تَصَنَع - بناوٹ کرنا۔ بناوٹی مزین ہونا۔ اصْطَنَعَ - شینٹا۔ کسی چیز کے تیار کرنے یا بنانے کا حکم دینا۔ عِنْدَكَ صِنْعَةٌ - نیکی کرنا۔ دُ اِدْب دینا۔ دُ لِنَفْسِيہ۔ اپنے لیے چن لینا۔ فُلَانٌ خِزَانِي كَمَا نَا پَكَانَا - الرِّزْقُ پیش کرنا۔

اِسْتَصْنَعَهُ - الشَّيْءِ - کسی چیز کے بنانے کے لیے کہنا۔

الصَّنْع - مہم۔ ایک چھوٹا جانور۔ صَنَعُ اليَدَيْنِ - کاریگر، اچھا دستکار۔

الصُّنْع - مہم، عمل، احسان، رزق۔ الصُّنْعُ بنا ہوا کپڑا۔ پگڑی، حوض، قلعہ، گوشت جو بننے کی سیخ۔ درزی۔ جہ۔ اصْنَاعُ الصَّنْعَةِ - مہم۔ کام، پیشہ۔ کاریگری۔

صَنَعَةُ الفَرَسِ - گھوڑے کو سدھانے کا ہنر۔

الصَّنَاع - پانی کو وقتی طور سے روکنے کے لیے نالی میں لگائی ہوئی کڑی۔ رَجُلٌ صَنَاعُ اليَدَيْنِ وَصَنَعُ اليَدَيْنِ - کاریگری میں ماہر۔ خاطر بلیغ کے لیے کہتے ہیں: هُوَ صَنَعُ اللِّسَانِ وَ لَهٗ لِسَانٌ صُنْعٌ -

الصَّنَاعَةُ وَالصَّنَاعَةُ - ہنر، پیشہ۔ محنت کاریگری۔ کیفیت عمل سے تعلق رکھنے والا علم۔ بعض کے نزدیک صَنَاعَةُ مہوسات کے لیے ہے اور صَنَاعَةُ معانی کے لیے۔ جہ۔ صِنَاعَاتٌ وَ صِنَائِعٌ -

الصَّنَاعِيٌّ - مصنوعی۔ ضد طبعی۔

الصَّنِيْعُ - مص۔ بنائی ہوئی چیز۔ مِثْلُ شَيْءٍ

تلوار۔ تیز عمدہ صاف کپڑا۔ سدھا ہوا گھوٹا۔ کھانا۔ احسان۔ فُلَانٌ صَنِيْعِيٌّ - فلاں میرا تربیت یافتہ ہے۔ جہ۔ صُنْعٌ - قوم، صنّعی و صُنْعِيٌّ وَصُنْعِيٌّ الاَيْدِي - کام کے ماہر لوگ۔

الصَّنِيْعَةُ - احسان۔ جہ۔ صِنَائِعٌ - الصَّنَائِعُ - فَا - ہاتھ سے کام کرنے والا۔ جہ۔ صُنَاعٌ -

الصَّنَاعَةُ - پانی کو روکنے کے لیے نالی میں لگانے کی کڑی۔

الصَّنْعَةُ وَالْمَصْنَعَةُ وَالْمَصْنَعُ - بارش کا پانی جمع کرنے کا حوض۔ جہ۔

مَصَائِعُ - المَصَائِعُ - گاؤں، قلعے، محلات۔

المَصْنَعَةُ - کھانے کی دعوت۔

صَنَفٌ - الشَّيْءِ - صنفین بنانا۔ ایک دوسرے سے لیز کرنا۔ الِکْتَابِ - کتاب تصنیف کرنا۔ الشَّجَرِ - درخت کا پتے نکالنا۔ الثَّمَرِ - کھجور کا کچھ کچھ پکنا۔

تَصَنَّفَ - الشَّجَرُ او النَّبَاتُ - درخت یا نباتات کا پتے نکالنا۔ مختلف قسمیں ہونا۔ تَصَنَّفَتِ الثَّمَرَةُ - ہونٹ پھٹنا۔

الصَّنْفُ - صنف۔ صِنْفُ الثَّوْبِ - کپڑے کا کارہ۔ ر - وَالصَّنْفُ نوع، قسم۔ جہ۔ اصْنَافٌ وَصُنُوفٌ - الصَّنْفَةُ وَالصَّنْفَةُ - مِن الثَّوْبِ - کپڑے کا ماشیہ۔

الاصْنَفُ - وہ شتر مرغ جس کی ٹانگیں چھل ہوئی ہوں۔ جہ۔ صُنْفٌ - الصَّنَائِفُ - ہر چیز کا اصل۔

صِنْقٌ دَسٌ صَنَقًا - حَسَدًا او اِبْطَةً - جسم یا بغل کا بہت بد بو دار ہونا۔ صفت

صِنْقٌ - تیز عمدہ صاف کپڑا۔ سدھا ہوا گھوٹا۔ کھانا۔ احسان۔ فُلَانٌ صَنِيْعِيٌّ - فلاں میرا تربیت یافتہ ہے۔ جہ۔ صُنْعٌ - قوم، صنّعی و صُنْعِيٌّ وَصُنْعِيٌّ الاَيْدِي - کام کے ماہر لوگ۔

الصَّنِيْعَةُ - احسان۔ جہ۔ صِنَائِعٌ - الصَّنَائِعُ - فَا - ہاتھ سے کام کرنے والا۔ جہ۔ صُنَاعٌ -

الصَّنَاعَةُ - پانی کو روکنے کے لیے نالی میں لگانے کی کڑی۔

الصَّنْعَةُ وَالْمَصْنَعَةُ وَالْمَصْنَعُ - بارش کا پانی جمع کرنے کا حوض۔ جہ۔

مَصَائِعُ - المَصَائِعُ - گاؤں، قلعے، محلات۔

المَصْنَعَةُ - کھانے کی دعوت۔

صِنْقٌ - تیز عمدہ صاف کپڑا۔ سدھا ہوا گھوٹا۔ کھانا۔ احسان۔ فُلَانٌ صَنِيْعِيٌّ - فلاں میرا تربیت یافتہ ہے۔ جہ۔ صُنْعٌ - قوم، صنّعی و صُنْعِيٌّ وَصُنْعِيٌّ الاَيْدِي - کام کے ماہر لوگ۔

الصَّنِيْعَةُ - احسان۔ جہ۔ صِنَائِعٌ - الصَّنَائِعُ - فَا - ہاتھ سے کام کرنے والا۔ جہ۔ صُنَاعٌ -

الصَّنَاعَةُ - پانی کو روکنے کے لیے نالی میں لگانے کی کڑی۔

الصَّنْعَةُ وَالْمَصْنَعَةُ وَالْمَصْنَعُ - بارش کا پانی جمع کرنے کا حوض۔ جہ۔

مَصَائِعُ - المَصَائِعُ - گاؤں، قلعے، محلات۔

المَصْنَعَةُ - کھانے کی دعوت۔

صَنَفٌ - الشَّيْءِ - صنفین بنانا۔ ایک دوسرے سے لیز کرنا۔ الِکْتَابِ - کتاب تصنیف کرنا۔ الشَّجَرِ - درخت کا پتے نکالنا۔ الثَّمَرِ - کھجور کا کچھ کچھ پکنا۔

تَصَنَّفَ - الشَّجَرُ او النَّبَاتُ - درخت یا نباتات کا پتے نکالنا۔ مختلف قسمیں ہونا۔ تَصَنَّفَتِ الثَّمَرَةُ - ہونٹ پھٹنا۔

الصَّنْفُ - صنف۔ صِنْفُ الثَّوْبِ - کپڑے کا کارہ۔ ر - وَالصَّنْفُ نوع، قسم۔ جہ۔ اصْنَافٌ وَصُنُوفٌ - الصَّنْفَةُ وَالصَّنْفَةُ - مِن الثَّوْبِ - کپڑے کا ماشیہ۔

الاصْنَفُ - وہ شتر مرغ جس کی ٹانگیں چھل ہوئی ہوں۔ جہ۔ صُنْفٌ - الصَّنَائِفُ - ہر چیز کا اصل۔

صِنْقٌ دَسٌ صَنَقًا - حَسَدًا او اِبْطَةً - جسم یا بغل کا بہت بد بو دار ہونا۔ صفت

صِنْقٌ - تیز عمدہ صاف کپڑا۔ سدھا ہوا گھوٹا۔ کھانا۔ احسان۔ فُلَانٌ صَنِيْعِيٌّ - فلاں میرا تربیت یافتہ ہے۔ جہ۔ صُنْعٌ - قوم، صنّعی و صُنْعِيٌّ وَصُنْعِيٌّ الاَيْدِي - کام کے ماہر لوگ۔

الصَّنِيْعَةُ - احسان۔ جہ۔ صِنَائِعٌ - الصَّنَائِعُ - فَا - ہاتھ سے کام کرنے والا۔ جہ۔ صُنَاعٌ -

الصَّنَاعَةُ - پانی کو روکنے کے لیے نالی میں لگانے کی کڑی۔

الصَّنْعَةُ وَالْمَصْنَعَةُ وَالْمَصْنَعُ - بارش کا پانی جمع کرنے کا حوض۔ جہ۔

مَصَائِعُ - المَصَائِعُ - گاؤں، قلعے، محلات۔

المَصْنَعَةُ - کھانے کی دعوت۔

صَنَفٌ - الشَّيْءِ - صنفین بنانا۔ ایک دوسرے سے لیز کرنا۔ الِکْتَابِ - کتاب تصنیف کرنا۔ الشَّجَرِ - درخت کا پتے نکالنا۔ الثَّمَرِ - کھجور کا کچھ کچھ پکنا۔

تَصَنَّفَ - الشَّجَرُ او النَّبَاتُ - درخت یا نباتات کا پتے نکالنا۔ مختلف قسمیں ہونا۔ تَصَنَّفَتِ الثَّمَرَةُ - ہونٹ پھٹنا۔

صہب رس، صہباً و صہبۃ و
 صہویۃ و صہب و اصہبات۔
 الشعور۔ بالوں کا سرخ یا سرخ سفید
 ہونا۔ صفت (اصہب)
 الصہاب۔ ایک جگہ جس کی طرف اونٹ
 منسوب ہوتے ہیں۔
 الصہابی۔ موضع صہاب کی طرف
 منسوب اونٹ جو بہت سفید ہو۔
 سخت۔ الموت، الصہابی
 سخت قسم کی موت۔
 الصہیب۔ گرمی کی تیزی۔ گرم دن، لمبا
 آدمی۔ سخت پتھر، سوار زمین۔ و صہیب
 کی وجہ سے ایسی گرم زمین جس پر گوشت
 بھن جائے۔ ج۔ صہیب۔
 الاصہب۔ سرخی ملی سفیدی۔ ٹھنڈا دن
 شیر۔ اصہب السیال۔ دشمن
 مؤنث صہباء۔ ج۔ صہب۔
 الصہباء۔ الاصہب۔ کا مؤنث، شراب
 المصہب۔ چربی ملا گوشت۔ نیم بریاں
 گوشت۔
 صہدائہ دف، صہدا۔ الشمس
 آفتاب کا کسی کو بھلنا۔
 الصہدان۔ گرمی کی تیزی۔
 الصیہد و الصیہود۔ گرمی کی تیزی
 بے آب و گیاہ بیابان۔ متحرک سراب۔
 الصہود۔ جسم۔
 صہردف، صہرا بگھلانا
 صہرۃ الشمس۔ سورج کا
 گرمی پہنچانا۔ صہر الشیء۔ بگھل
 ہوئی چربی ملنا۔ الخبز۔ بگھل ہوئی
 چربی کا سالن بنانا۔ صفت مفعول۔
 صہیر و مصہور۔ فلانا یا المہینین
 سخت قسم بھلانا۔ الشیء۔ قریب
 و نزدیک کرنا۔
 صہر مضاہرۃ۔ القوم و فی

القوم و اصہر بہم و لیسہم
 و فیہم۔ سسرنا۔ اصہر
 الجیش للبحیش۔ ایک لشکر کا
 دوسرے لشکر سے قریب و نزدیک ہونا
 اصہرۃ۔ قریب و نزدیک کرنا۔
 انصہر۔ الشیء۔ بگھلنا۔
 اصطہر۔ الشیء۔ بگھلانا۔ الصہر۔ گرم
 الصہر ترات، قبر، داماد یا بہنوئی۔ ج۔
 اصہار۔ مؤنث صہرۃ۔
 الصہارۃ۔ بگھلانی ہوئی چیز۔ چربی کا ٹکڑا۔
 بڈی کا گودا۔
 المصہور۔ بگھلنے والا۔ گوشت بھوننے
 والا۔ ج۔ صہور۔
 الصہیر۔ بگھلنے والا۔
 صہرۃ۔ الخرفۃ۔ کرے کو چرنے
 سے لینا۔
 الصہریج و الصہارج۔ پانی کا حوض۔
 ج۔ صہارج۔
 الصہلیق و الصہلیق۔ میں
 الاصوات۔ سخت آواز۔
 صہصہ۔ بالقوم۔ صہ صہ کہہ کر لوگوں
 کو خاموش کرنا۔
 صہل دف من صہیل و صاہلۃ و
 صہالۃ۔ الفویں گھوڑے کا بننا۔
 تصاہلت الخیل۔ گھوڑوں کا ایک
 دوسرے کی طرف بننا۔
 الصہل۔ آواز کی تیزی مع گلا پڑنے سے۔
 الصاہل۔ فاء۔ بھلنے والا۔ ج۔
 صواہل۔ الصواہل۔ گھاس وغیرہ
 میں کمیوں کی بھینسا بٹ۔
 الصہال و الصہیل۔ گھوڑے کی آواز۔
 الصہال۔ من الخیل بہت بننا۔
 والا گھوڑا۔
 صہا یصہی صہوا و صہی یصہی
 صہی۔ ناک زخم والا ہونا۔ ناسور

والا ہونا۔ صہو الرجل۔ مالدار ہونا۔
 صہی یصہی صہیا۔ عمر رسیدہ ہونا۔
 صہی الدابۃ۔ پیٹھ پر سوار ہونا۔
 اصہی اصہاء۔ الفویں۔ گھوڑے کی
 پیٹھ کا درد مند ہونا۔
 الصہوۃ۔ ج۔ صہاء و صہوات۔
 گھوڑے کی پیٹھ، کوٹان کا پچھلا حصہ۔
 ج۔ صہی۔ پارٹ کی چوٹی کا برج۔
 ج۔ صہاء۔ وہ پست زمین جس میں پانی
 جمع ہو۔ پانی کا چشمہ۔
 صاب یصوب صوباً و مصاباً۔
 المطر۔ بارش برسنا۔ الشیء۔
 اوپر سے اترنا۔ (صوباً) الماء۔
 پانی بہانا۔ السماء الارض۔
 آسمان کا زمین پر پانی برساتا۔
 المطر۔ بارش کا پہنچنا۔ صوباً و
 صیبویۃ، السہم نحو السویۃ
 تیر کا سیدھا جا کر نشانہ پر لگنا۔
 صاب یعیب صیبا۔ السہم القوطاس۔
 تیر کا نشانہ پر لگنا۔
 صوب۔ رایۃ۔ تصدیق کرنا۔ فلانا
 کسی کی تصدیق کرنا۔ المسہود۔ تیر
 کو سیدھا کرنا۔ الفویں۔ گھوڑے
 کو دوڑنے کے لیے چھوڑنا۔ الإناء
 برغن کو جھکانا۔ الماء۔ پانی گولنا۔
 رائۃ۔ سیرینچ کرنا۔ المكان
 وغیرہ۔ کسی جگہ کا اعلان ہونا۔
 اصابت۔ المسہود۔ تیر کا ٹھیک نشانہ
 پر لگنا۔ الرجل۔ درست کرنا۔
 الشیء۔ درست پانا۔ من الشیء۔
 لینا۔ الشیء۔ پانا۔ جڑ سے اکھڑنا۔
 یحیی لانا۔ اصابت و مصابۃ،
 الدھر القوم بأموالہم أو
 لغویہم۔ تکلیف دینا۔ مصیبت
 ڈالنا۔ اصابت المصیبتۃ فلانا۔

<p>إِلصَّاحٌ (نصياً) - پھٹنا - الفجر - پھٹنا۔ صبح کا روشن ہونا۔ الصَّوْحُ وَالصُّوْمُ - دریا کا کنارہ - دامن کوہ - الصَّاحَةُ - بنجر زمین۔ الصُّوَّاحُ - گھوڑے کا پسینہ کھجور کا خشک غلو فہ - الصُّوْحَانُ - خشک۔ صَاخٌ يَصُوخُ صَوْخًا - فی الارض زمین میں دھننا۔ أَصَاخٌ إِصَاخَةٌ - کلا والیہ - کان لگانا - سنا - أَصَاخٌ عَنِ كَذَا - واپس ہونا۔ الصَّادَةُ - مصیبت، بڑی میں چوٹ کا اثر۔ ج - صَاخٌ وَصَاخَاتٌ - صَارَ يَصُورُ صَوْرًا - آدا دینا - الشَّيْءَ جھکانا - الشَّيْءَ بَاثًا - جدا کرنا۔ صَوْرٌ يَصُورُ صَوْرًا - جھکانا - صفت رَأْسًا - ر - صَوْدَةٌ - تصویر کھینچنا شکل بنانا۔ صَوْرٌ لِي - میرے خیال میں آیا - أَصَارَةٌ جھکارینا - توڑنا۔ تَصَوَّرَ - الشَّيْءَ - کسی چیز کی شکل کو خیال میں لانا - الوجہ - کسی کا گزنا یا گزرنے کی طرف مائل ہونا - تَصَوَّرَ لَهُ الشَّيْءَ - چیز کی شکل کا سامنے آجانا۔ إِلصَّارٌ (نصياً) - جھکانا - ٹوٹنا - الصُّورُ چھوٹا درخت خرما - ج - صِيْرَانٌ و أَصْوَارٌ - گردن کا پہلو - دیا کا کنارہ - ج - صِيْرَانٌ - الصُّورُ - زسنگھا بگل - الصُّورُ - مم - میلان و کمی - الصَّارَةُ - مِن الْجَبَلِ - پار کی چوٹی - صَاةٌ الْمَسْكُ - مشک کا ڈبہ - الصُّوْدَةُ - اسم مرہ - جھاؤ - سر کی کھلی - الصُّوْدَةُ - شکل طبعی تصویر خیالی تصویر - ج - صَوْرٌ وَصَوْرٌ وَصَوْرٌ -</p>	<p>آواز نکالنا - آواز دینا - پکارنا - صَوْتٌ تصویریتا و أصوات اصواتاً - آواز دینا - أصوات بفلان - کسی کو ایسی بات سے مشورہ کرنا جس کو وہ پسند نہ کرے۔ أصوات لطست و صوتة - طشت بجانا۔ إِنصَاتٌ - الرجل - چپکے سے چلا جانا۔ کڑا ہونے کے بعد قد کا سیدھا ہونا۔ إِنصَاتٌ بِه الزَّمَانُ - اس کو زمانہ نے مشورہ کر دیا۔ الصُّوتُ - آواز - ہر قسم کا راگ - ج - أصواتٌ - نغموں کے نزدیک اسماء اصوات وہ الفاظ ہیں جن سے آواز کی حکایت کی جائے۔ جیسے تلق، پتھر کے پتھر پر گرنے کی حکایت یا حیوانات سے کام لینے کے لیے جو آواز نکال جائے۔ جیسے ہلا گھوڑے کو اور حدس خچر کو ڈانٹنے کے لیے یا تعجب کی حکایت کی جائے، جیسے ولے، یاد رو کی حکایت جو جیسے اُخ، یا حسرت و افسوس کے لیے جو جیسے آہ۔ الصُّوتُ وَالصَّاتُ وَالصَّيْتُ و الصَّيَّةُ - اچھی شہرت۔ الصَّاتُ وَالصَّيْتُ - بلند آواز والا۔ المصوات - بہت آواز دینے والا - مَا بالتار مصوات گھر میں کوئی نہیں۔ الصُّرَجَانُ - ثونف صوجانہ - نخلہ صوجانہ - خشک درخت خرما۔ کتے ہیں: آئی صوجان ہوا وہ کون آدمی ہے۔ صَاخَةٌ يَصُوخُهُ - صَوْخًا - پھرنے پھاڑنا۔ صَوْخَةٌ - الشمس أو البرق - سورج یا ہوا کسی کو خشک کر دینا - صَوْخَ البعقل - خشک ہونا - تَصَوَّخَ - پھٹنا، خشک ہونا۔</p>	<p>کسی پر مصیبت نازل ہونا - أصابة بِعَيْنِهِ - نظر لگانا۔ تَصَوَّبَ - نیچے اترنا۔ إِلصَّابٌ (نصياً) - الماء - إِلصَّابٌ اسْتَصَابَةٌ أو اسْتَصَوَّبَ اسْتَصَوَّبًا - الواقى أو الفعل کسی رائے یا فعل کو درست پانا۔ ٹھیک خیال کرنا۔ الصَّابُ - ایک کڑوا پودا - واحد صَابَةٌ اس درخت کے عصارہ کو بھی صاب ہی کہتے ہیں۔ الصُّوبُ - مم - جانب، چھت، بخشش، درستگی - (والصَّيْبُ) بارش والابادل۔ الصَّابَةُ - مصیبت عقل کی کمزوری کہتے ہیں "فِي عَقْلِهِ صَابَةٌ" - یعنی اس کی عقل میں کچھ جنون ہے۔ الصُّوبَةُ - غلہ کا ڈھیر۔ الصُّوَابُ - درست، ٹھیک، لائق حق۔ الصَّابُ - فاء - ٹھیک کرنے والا - ج - صِيَابٌ - جیسے نام کی جمع نیام۔ الصُّوَيْبُ وَالْمُصَيْبُ - ٹھیک رائے والا - درست کار۔ الصُّوَيْبُ - ٹھیک کرنے والا - صَوَابَةٌ القوم وَمُتَابَهُمْ وَمُتَابَتُهُمْ قوم کے چیدہ لوگ۔ الأصوب - سخت مصیبت والا۔ المُصَيْبَةُ - ج - مَصَابِيْتُ وَمَصَابِيْتُ وَمُصَيْبَاتٌ وَالْمَصَابِيْتُ وَالْمُصَوَّبَةُ - مصیبت - بلا - صدمہ ناگہانی آفت۔ المُصَابُ - تموڑا پاگل۔ المِصْوَبُ - جھجھ - ڈوٹی۔ الصُّوَيْبُ وَالصُّوَيْبُ - بیلین۔ صَاتٌ يَصُوتُ وَيَصَاتُ صَوْتًا -</p>
---	--	--

الصَّوَدَةُ - صفت، نوع، چہرہ۔
 الصَّوَارُ وَالصَّوَارُ - گایوں کا گلہ، خوشبو۔
 مقوڑا مشک، مشک کا ڈبہ۔ ج۔
 صَيْرَانٌ - الصَّوَارُ - گایوں کا گلہ۔
 الصِّيَارُ - گایوں کا گلہ۔ ج۔ صَيْرَانٌ -
 الصَّيْرُ - اچھی صورت والا۔
 رَجُلٌ صَيْرٌ شَيْرٌ - اچھی بیٹت
 شکل کا آدمی۔
 التَّصْوِيرَةُ - اسٹیجوبت، مجسمہ۔ ج۔
 تَصَاوِيرٌ -
 المَصْوُورُ - فا - تصویر بنانے والا۔
 مَصْوُورٌ الْبَكَائِنَاتِ - اللہ تعالیٰ
 الصُّومُ - لیم، بخیل، عوام " صوم"
 مرغی کے اس چوزے کو کہتے ہیں جو ابھی
 اڈے سے نکلا ہو۔ مگر اس کے لیے فصیح
 لفظ قُوْبٌ ہے۔
 صَاعٌ يَصُوْعُ صَوْعًا - الْحَبُّ - صاع
 سے ناپنا۔ القوم - لوگوں کا ایک
 دوسرے پر حملہ کرنا۔ الشئ - موڑنا۔
 بکیرنا۔ القوم - قوم پر اطراف سے
 آنا۔ النخل - کھیلوں کا ایک دوسرے
 کے پیچھے جانا۔ الرجل - خوف دلانا۔
 گھبراننا۔
 صَوَعٌ - الشئ - چیز کو گول اور تیز نوک
 وال بنا نا۔ مَوْضِعًا لِمَقْطَبَيْنِ -
 روٹی کے دھننے کے لیے جگہ تیار کرنا۔
 الرِّيحُ الْمَنَابِتِ - ہوا کا پودوں کو
 بلانا۔ الطائرُ بِرَأْسِهِ - پرندہ کا سر
 بلانا۔ الفرسُ - گھوڑے کا سر کشی
 کرنا۔
 تَصَوَّعٌ - متفرق ہونا۔ وہ ہونا پھیلنا۔
 النَّبَاتُ - پودہ کا بلنا۔ الشَّعْرُ -
 بالوں کا چرنا۔ سکرنا۔
 الرِّصَاعُ الرِّصِياعًا - جلدی والپس ہونا۔
 گذرنا۔

الصَّاعُ وَالصَّوْعُ وَالصُّوْعُ - ایک سو بیانیہ
 ہے جو دوسرے چھٹا تک ہزاروں کے
 مساوی ہوتا ہے۔ ج۔ اصْوَعٌ و
 اصْوَعٌ وَاَصْوَعٌ و صُوْعٌ و
 صِيْعَانٌ -
 الصَّاع - پست زمین، کھینے کا ڈبہ یا سینہ کا
 وسط، وہ صاف زمین جس میں کھیلا
 جائے۔
 الصَّاعَةُ - پست زمین، روٹی یا اون دھننے
 کے لیے تیار کی ہوئی جگہ۔
 الصَّوَاعُ وَالصَّوَاعُ - پانی پینے کا پیالہ۔
 ج۔ صِيْعَانٌ -
 صَاعٌ يَصُوْعُ صَوْعًا - الْمَاءُ - پانی
 کا زمین میں بیٹھا ہونا۔ الشئ - چیز کو
 درست نمونے پر تیار کرنا۔ الْكَلِمَةُ
 ایک کلمہ سے خاص وزن پر دوسرا کلمہ
 بنانا۔ کہتے ہیں: صَاعُ الْكَلَامِ - اس
 نے کلام گھڑ لیا۔ صَاعُ اللَّهِ فُلَانًا
 صِيْفَةً حَسَنَةً - فلان کو اللہ تعالیٰ
 نے اچھے طریقے سے پیدا کیا۔
 صَاعٌ يَصُوْعُ صِيْفَةً وَصِياعَةً و
 صِيْفُوْعَةً - الشئ - پگھلانا۔
 ڈھالنا۔
 الرِّصَاعُ الرِّصِياعًا - پگھلنا۔ ڈھالنا۔
 "هُوَ صَوْعٌ أَوْ صَوْعَةٌ آخِيَةٌ" وہ
 بھائی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کے
 بعد اور ان کے درمیان کوئی بچہ نہیں۔
 هُمَا صَوْعَانِ - وہ پیدائش وغیرہ
 میں ایک ہی طرح کے ہیں۔
 الصِّيْفَةُ - نوع، اصل۔ ج۔ صِيْعٌ -
 سِهَامٌ صِيْفَةٌ - ایک ہی بناوٹ
 کے تیر۔
 الصَّائِعُ - فا۔ زرگری، سنار۔ صَاعَةٌ
 وَصِياعٌ وَصَوَاعٌ - الصِّياعَةُ
 زرگری، سنار کا پیشہ۔

الصَّوَاعُ وَالصِّياعُ وَالصِّيْعُ - نچوڑنا۔
 المصاع - ڈھالے ہوئے زیورات۔
 صَافٌ يَصُوْفُ صَوْفًا - عَن كَذَا -
 مائل ہونا۔ اعراض کرنا۔ السَّهْمُ عَنِ
 الْمَهْدِ - تیر کا نشانہ سے ہٹ جانا۔
 وَصَوْفًا وَصَوْفًا وَصَوْفٌ -
 يَصُوْفُ صَوْفًا، الْكَبْشُ - بیڈھے
 کا بہت اون والا ہونا۔ صفت (اصْوَفُ)
 صَوْفًا - صوفی بنانا۔
 اصْأَفًا - مجھانا۔ مائل کرنا۔
 تَصَوَّفٌ - صوفی ہونا۔ صوفیوں جیسے
 اخلاق اختیار کرنا۔
 الصُّوْفُ - اون۔ ج۔ اصْوَاتٌ -
 صُوفَةٌ - اون کا ٹکڑا۔ اخذًا
 بِصُوفٍ رَقَبَتِهِ - اس نے اس کو
 زبردستی پکڑ لیا۔ اعطاه إِيَّاهُ بِصُوفٍ
 رَقَبَتِهِ - اس نے اس کو صفت یا
 سارا دیا۔
 الصَّوْفَانُ - اون کا بیچنے والا۔
 الصُّوفِيَّةُ - عبادت گزاروں کی جماعت۔
 واحد الصُّوفِيُّ، مسلمانوں کے نزدیک
 صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے اللہ سے
 متعلق رہے۔ جس میں اعلیٰ درجہ کا خلوص
 اور حقائق کے ادراک کی استعداد ہو۔
 الصَّوْفَانُ وَالصَّافِيُّ وَالْأَصْوَفُ و
 الصَّائِفُ - اون والا۔
 الصُّوْفَانُ - ایک نرم خشک چیز جو کپڑی
 کے اندر ہوتی ہے اور جلد آگ پکڑتی ہے۔
 الصُّوْفَانُ - بہت اون والا۔ مؤنث۔
 صَوْفَانَةٌ -
 الصُّوْفُ وَالصُّوْفَانِيُّ - بہت اون والا۔
 صَاكٌ يَصُوْكُ صَوْكًا - بِهِ الزَّعْفَرَانُ
 اَوِ الْمَسْكُ أَوْ نَحْوَهُمَا - مشک وغیرہ
 کا چکنا۔
 تَصَوَّكٌ فِي رَجْعِهِ وَبِرَجْعِهِ - وہ اپنے

<p>دُبر۔ جہ۔ صَوَانُ الْمَنَانِ وَالْمَصَوَانُ کان و غیرہ کا غلاف الصَّوْتُ۔ خالی۔ الصُّوْتَةُ۔ آواز بازگشت۔ ٹیلہ پہاڑی۔ پتھر جو راہ دکھانے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ جہ۔ صَوِيٌّ۔ وجہ۔ اَصْوَاءُ۔ الصُّوِيٌّ وَالْأَصْوَاءُ قبریں۔ صَوِيٌّ يَصْوِيٌّ صَوِيًّا وَصَوِيٌّ يَصْوِيٌّ صَوِيٌّ وَصَوِيٌّ تَصْوِيَّةٌ وَأَصْوِيٌّ إِصْوَاءٌ۔ النُّخْلُ۔ خشک ہو جانا۔ صفت (صَوِيٌّ) وَصَوِيٌّ وَصَوِيٌّ صَفْتٌ (صَوِيٌّ)۔ صفت (صَوِيٌّ) صَوِيٌّ (صَوِيٌّ)۔ صفت (صَوِيٌّ) صَابٌ يَصِيْبُ صَيْبًا۔ درست ہونا۔ صَفْتٌ (صَوِيٌّ)۔ صابہ السَّهْمُ تیر کا نشانہ پر لگنا۔ الصُّيَابُ وَالصُّيَابَةُ وَالصُّيَابُ وَ الصُّيَابَةُ۔ خالص۔ ہر عمدہ شے۔ الصُّيَابَةُ۔ سردار۔ صُّيَابَةُ الْقَوْمِ۔ جماعت۔ صَامٌ يَصِيْمُ صَيْمًا وَصَيْمًا وَصَيْمًا حَادٍ صَيْمًا تًا۔ زور سے چلانا، سخت آواز نکالنا۔ بہ۔ پکارنا۔ آواز دینا۔ علیہ۔ ڈانٹنا۔ الْعُقُودُ تَرْخُوشَةٌ کا بڑھنا۔ صَيْمٌ بِسَيْدٍ۔ وہ ڈر گئے۔ بھاگ گئے۔ فَيْمٌ۔ ہلاک ہونا۔ صَيْحَةٌ۔ بہت چیخنا۔ الشَّيْخُ۔ توڑنا۔ پھاڑنا۔ صَيْحَتِ الرِّيحِ أَوِ الشَّمْسِ البَقْلُ۔ ہوا یا سورج کا سہزی کو سکھا دینا۔ صَايِحَةٌ وَتَصَايِحَةٌ۔ القَوْمُ۔ ایک دوسرے کو پکارنا۔ صَايِحَةٌ بِهٍ۔ آواز دینا۔ پکارنا۔ تَصْيِيحَةٌ وَتَصَايِحَةٌ۔ چٹھنا۔ پھٹنا۔ إِنصَاعَ الْفَجْرِ وَالْبُقُوقُ۔ ظاہر ہونا۔</p>	<p>جمع کے لیے کیساں ہے۔ شَهْرُ الصُّومِ۔ ماہِ رَمَضَانَ۔ صَوْمٌ النَّعَامِ بِشَرْمَرِغٍ كِي بِيْطِ۔ الصَّوَامُ۔ مِنَ الْأَرْضِ۔ خشک بے آب زمین۔ الصُّوْمَاتُ۔ روزہ دار۔ جہ۔ صَيَا حِيٌّ۔ الصَّائِحُ۔ روزہ دار۔ يَوْمٌ صَائِمٌ روزہ والا دن۔ مَاءٌ صَائِحٌ ٹھہرا ہوا، رکاب ہوا پانی۔ الصَّائِمَةُ مِنَ السَّكَاكِينِ۔ کند چھری۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ بغیر چارہ کے کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ وَالصَّائِمَةُ مِنَ الْبَكَرَاتِ۔ نہ پھرنے والی چسرخی۔ الصَّوَامُ۔ بہت روزہ رکھنے والا۔ صَوْمَعٌ۔ الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔ الْبِنَاءُ عادت بلند کرنا۔ الصَّوْمَعَةُ وَالصَّوْمَعُ۔ راہب کی جھونپڑی یا پہاڑ جس پر راہب رہتا ہو۔ گر جا۔ الصَّوْمَعَةُ۔ عقاب۔ ایک قسم کی ٹوپی۔ پہاڑ کی چوٹی۔ جہ۔ صَوَامِعٌ۔ صَوْمَلٌ۔ الرجلُ۔ بھوک سے کسی کی کھال کا خشک ہونا۔ صَائِقَةٌ يَصُوْمُهُ صَوْنًا وَصِيَانًا وَ صِيَانَةً وَأَصْطَائِقَةٌ أَصْطِيَانًا۔ حفاظت کرنا۔ صفت منقولی (صَوْنٌ) وَصَوْنٌ صَانٌ۔ الثَّوْبُ أَوِ الْعَرْضُ۔ کپڑے یا سامان کو عیب لگانے والی چیزوں سے بچانا۔ تَصَوْنٌ وَتَصَاوْنٌ۔ مِنَ الْعَيْبِ۔ خود کو عیب سے بچانا۔ الصَّوَانُ وَالصَّوَانُ وَالصَّوَانُ وَالصَّيَانُ وَالصَّيَانُ وَالصَّيَانُ۔ کپڑوں، کتابوں کے محفوظ رکھنے کا برتن۔ جہ۔ أَصْوَانَةٌ الصَّوَانَةُ۔ چمقاق بنانے کے کام کا پتھر۔</p>	<p>گوبر سے تھم گیا۔ صَالٌ يَصُوْلُ صَوْلًا وَصَوْلَةً۔ علیہ۔ کو دپڑنا۔ ر۔ صَوْلًا وَصِيَالًا وَ صَالًا وَصَوْلًا وَصِيَالًا وَصَالَةً علیہ۔ حملہ کر کے مغلوب کرنا۔ صَوْلٌ۔ الْبَيْدَارُ۔ کھلیان کے اطراف میں بھاڑ دینا۔ الشَّيْءُ۔ پانی سے نکالنا پانی میں ڈال کر صاف کرنا۔ صَاوَلَةٌ مُصَاوَلَةٌ وَصِيَالًا وَصِيَالَةً۔ ایک کا دوسرے پر کودنا۔ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ تَصَاوَلًا۔ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ کو دپڑنا۔ الصَّوْلَةُ۔ سطوت، غلبہ، حملہ۔ صَوْلَةٌ الْجَنَّةِ۔ پانی میں صاف کیا ہوا گیہوں۔ الصَّوَالَةُ۔ کوڑا کرکٹ جو غلہ کے دھونے سے نکلنا ہے، کھلیان کے اطراف کا کوڑا کرکٹ۔ الصَّوْدَلُ۔ مِنَ الرَّجَالِ۔ لوگوں کو مار پیٹ کرنے والا نظام۔ الْمِصْوَلُ۔ بھگوانے کا برتن۔ جہ۔ مَصَاوِلُ ۔ الْمِصْوَلَةُ۔ خرمن صاف کرنے کی بھاڑو۔ صَامٌ يَصُومُ صَوْمًا وَصَامًا۔ روزہ رکھنا۔ بات کرنے چلنے پھرنے وغیرہ سے باندھنا۔ رکنا۔ صفت (صَائِمٌ) جہ صَائِمُونَ وَصَوَامٌ وَصِيَامٌ وَ صَوْمٌ وَصِيْمٌ۔ صَامَ الشَّهْرَ بہینہ میں روزہ رکھنا۔ مَنِيَّتَهُ موت چکھنا۔ النَّعَامُ۔ شتر مرغ کا بیٹ کرنا۔ صَامَ الْقَهَارَ۔ دوپہر کا وقت ہونا۔ صَامَتِ الشَّمْسُ۔ سورج کا نصف انسا رہنا۔ صَامَتِ الرِّيحُ۔ ہوا کا ٹھہرنا۔ صَوْمَةٌ۔ روزہ رکھوانا۔ الصُّومُ۔ مہ۔ روزہ۔ کام سے رکنا، مفرد و</p>
--	--	---

لَانْصَاحَتِ الْاَرْضِ - زمين کا بعض حصہ روئیدگ سے ڈھک جانا۔
 الْمَصِيحَةُ - ایک چرخ۔ غلاب۔ اچانک غارت۔ الصِّيَامُ - بہت چمکنے والا۔
 صَادِيحِيْدٌ وَيَصَادُ صَيْدًا وَتَصَيِّدٌ وَاصْطَادَ - الطَّيْرُ - پرندہ کو شکار کرنا۔ صفت (صَائِدٌ) صَادٌ فُلَانًا - کسی کے لیے شکار کرنا۔
 صَادٌ وَاصْطَادَ - المكان - کسی جگہ شکار کرنا۔

صَيْدٌ يَصِيْدُ - صَيْدًا - طیر می گردن کا ہونا
 اَصَادَهُ شَكَرًا پَرَاكْسَانًا - اَصَادَ الْبَعِيْرَ - اونٹ کو اذیت دینا، اس کی گردن کی کچی کا علاج کرنا (صند) الْاَصِيْدُ - تکبر سے سر کو بلند کرنے والا۔
 طَيْرٌ مِيْ غِرْمِيْ غِرْمِيْ وَالْاَوَّلُ - بادشاہ - شير مَوْنَت - صَيْدَاءُ - ج - صَيْدٌ -
 الصَّادُ - حروف تہجی کا ایک حرف - تانبا۔ پتیل - ج - صَيْدَانٌ - اونٹ کی ایک بیماری جس کی وجہ سے اس کی ناک سے ریش بہتی رہتی ہے اور وہ اپنا سراونچا رکھتا ہے۔

الصَّيْدُ - م - شَكَرًا -
 الصَّيْدَاءُ - کنکری - پتھری - سخت زمين -
 الصَّيَادُ - شکاری، شیر -
 الصَّيُوْدُ - شکاری - ج - صَيْدٌ وَصَيْوُوْدٌ -
 الصَّيْعُوْدُ مِنَ النِّسَاءِ - بد خلق عورت -

الصَّيْدَانُ - سونا - تانبا - صَيْدَانٌ الْحَطِي - چھوٹے کنکر -
 الصَّيْدَانَةُ - بھوت - مِنَ النِّسَاءِ - بد خلق عورت - بہت باتولی -

الصَّيْدُ وَالْمَصِيْدَةُ وَالْمَصِيْدَةُ وَالْمَصِيْدَةُ - شکار کرنے کا گڑھا -
 ج - مَصَايِدُ - المَصِيْدُ - پکڑا ہوا

شکار -

الصَّيْدَانَةُ - دو فروشی -

الصَّيْدَانِيُّ وَالصَّيْدَانِيُّ - دو فروش

ج - صَيَادِلَةٌ - (کلمہ و خیل ہے)

اس کے لیے لفظ آجرائی - بھی

آتا ہے -

الصَّيْدَانُ - مضبوط عمارت، چاندی کی اینٹ

تنگ چادر - بجو - لومڑی - بادشاہ -

عطر فروش - زمین میں چھپنے والا ایک

جانور -

صَارَ لَيَصِيْرُ صَيْرًا وَصَيْرٌ وَرَدَةٌ وَهَيْرًا

واپس ہونا - ایک حالت سے دوسری

حالت میں منتقل ہو جانا - منتقل ہونا -

إِلَى كَذَا أَوْ إِلَى فُلَانٍ - کسی

تک پہنچنا

صَارَتْ يَصُوْرُكَ يَصِيْرَةٌ صَيْرًا -

کاٹنا - الشئ صَيْرًا - روک دینا -

صَيْرَةٌ وَأَصَارَةٌ إِيصَارَةٌ - ایک حالت

یا شکل سے دوسری حالت یا شکل میں

بدل دینا - تَصَيْرَةٌ - مشابہ ہونا -

الصَّيْرُ - م - کام کا انجام و نتیجہ -

الصَّيْرُ - چیز کا طرف پاکارہ - جب

کوئی شخص کام ختم کرنے کے قریب ہوتا

ہے تو کہتے ہیں "فلانٌ عَلَى صَيْرِ

الْأَمْرِ" دروازہ کی دراز - چھوٹی

ٹمکین پھلیاں - بیویوں کا پادری - کام

کا انجام -

الصَّيَارُ - گایوں کا کلمہ - چنگ کی آواز -

الصَّيَارَةُ وَالصَّيْرَةُ - گائے یا بکریوں

کا بارہ - ج - صَيْرٌ وَصَيْرٌ -

الصَّيْرَةُ - خشک گھاس

الصَّيْرُ - جماعت - قبر - الصَّيْرُوسُ -

عقل و دل سے - ر - وَالصَّيْرُوسَةُ - کام

کا انجام و نتیجہ -

الصَّيْرُ - م - کام کا انجام و نتیجہ پانی کا

نتیجہ - ج - مَصَايِدُ -

الصَّيْصَةُ وَالصَّيْصِيَّةُ - جولاہے کا کوچ

جس سے وہ تانا بانا درست کرتا ہے -

مرغ کا خار - ہرن اور گائے کا سینگ -

کھجور توڑنے کا دستہ - قلعہ - ج -

صَيَاصِي -

صَاعٌ يَصِيْعُ صَيْعًا وَصَاعٌ - الْغَنَمُ -

بکریوں کو متفرق کرنا - الْقَوْمُ -

ایک دوسرے کے خلاف اکسانا -

تَصَيْعٌ - الْمَاءُ - پانی کا اضطراب کرنا -

جوش مارنا -

إِنْصَاعٌ - الرَّجُلُ - تیزی سے واپس

لوٹنا - الطَّيْرُ - پرندہ کا فضا میں

چڑھنا -

صَافٌ يَصِيْفُ صَيْفًا وَصَيْفٌ وَ

تَصَيْفٌ وَاصْطَافَ اصْطِيفًا

- بِالْمَكَانِ - کسی جگہ موسم گرما میں

اقامت کرنا -

صَافٌ وَصَيْفٌ وَتَصَيْفٌ وَاصْيَافٌ

- الْمَكَانِ - کسی جگہ موسم گرما گزارنا -

کہتے ہیں "هَذَا طَعَامٌ يُصَيِّفُنِي" یعنی

یہ کھانا مجھے موسم گرما کے لیے کافی ہے -

صَافٌ رَضٌ صَيْفًا وَصَيْفُوفَةٌ -

السَّهْمُ عَنِ الْمَهْدِ - تیر کا

نشانہ پر لگنا - عَقِي وَجْهَةٌ - ماٹل

ہونا -

صَيْفٌ وَصَيْفَتٌ - الْمَكَانُ أَوِ الرَّجُلُ -

کسی جگہ یا آدمی پر موسم گرما کی بارش پڑنا -

صَفْتٌ مَفْعُولٌ وَمَصِيْفٌ وَمَصِيْفُوفٌ

وَمَصِيْفَتٌ

صَالِفَةٌ مَصَالِفَةٌ وَمِصَافًا - موسم گرما

کے لیے معاملہ کرنا -

أَصَافٌ إِصَافَةً - بڑھاپے میں شادی کرنا -

یا بڑھاپے میں اولاد ہونا - الْقَوْمُ -

موسم گرما میں داخل ہونا - اللَّهُ عَنَّهُ

<p>الصَيْقُ - چلایا۔ ج۔ صَيْقَانٌ - پسینہ بدبو آواز۔ والصَيْقَةُ - ہوا میں چکر لگانے والا غبار۔ ج۔ صَيْقٌ - صَاكٌ بَصِيكٌ صَيْكًا - باہ الطیب اُو الدم - خوشبو یا خون کا چھٹنا۔ صَيْلٌ - لہ کذا - مقدر کیا جانا۔ الصَيْبُ - بہت سخت۔ الصَيْبُ - لکھن۔ الصَوَائِي - چینی برتن مفرد (صَيْبِيَّةٌ) الصَيْبِيَّةُ - کسی چیز کے پیش کرنے کے لیے دھا وغیرہ کا طبق۔</p>	<p>الصَائِفُ کا مؤنث۔ موسم گرما کا وقت گرمی کے موسم کی جنگ۔ صَائِفَةٌ القوم۔ موسم گرما کی خوراک۔ ج صَوَائِفٌ - الصَيْفُ والمَصَيْفُ والمُصَافُ موسم گرما گزارنے کی جگہ۔ المَصَيْفُ ندی کا موڑ۔ ارضِ مَصِيَّاتٍ - وہ زمین جس پر موسم گرما کی بہت بارش پڑے اور اس کی بستی دیر سے نکلے۔ ج۔ مَصَائِفٌ -</p>	<p>الشَّوْ - اللہ کا کسی سے شکر کو دور کرنا۔ اصَابَتِ الدَّابَّةُ - جانور کا گرمی کے موسم میں بچے دینا۔ الصَيْفُ - ج۔ اصْيَافٌ - موسم گرما۔ الصَيْفَةُ - موسم گرما۔ یہ صیف سے اخص ہے۔ ج۔ صَيْفٌ - الصَيْفُ والصَيْفَةُ - موسم گرما کی بارش۔ الصَيْفُ والصَيْفِيُّ - موسم گرما میں لگنے والی لگاس۔ الصَائِفُ والصَافُ - گرم۔ الصَائِفَةُ</p>
--	---	---

ض

<p>کمزور آدمی۔ ریت کا سفید اور چوڑا قطعہ ادن والا۔ بھیر، دنبہ۔ ج۔ ضَانٌ و ضَانٌ و ضَيْبٌ و ضَيْبٌ - الضَّائِنَةُ - مؤنث الضَّائِنُ - ج۔ ضَوَائِنٌ - الضَّيْبِيُّ - دودھ بونے کی بڑی مشک۔ ضَائِيٌّ يَضَائِيٌّ - ضَائِيٌّ - الرجلُ پتے جسم والا ہونا۔ ضَبَّتْ (ض) ضَبًّا - چپ ہونا۔ النَّاقَةُ - اوشنی کا دودھ مٹھی سے دوہنا۔ عَلِيٌّ الشَّوْ - حاوی ہونا۔ الضَّيْبُ - زمین سے چھٹنا۔ فَكَيْهِ مَضْبُولِيٌّ سے پکڑنا۔ ر۔ ضَبًّا و ضَيْبًا) الرِّبِيُّ او الدَّمُ - شکر کا خون کا ہونا۔ ضَبَّتْ (ض) ضَبًّا و ضَيْبًا - الشَّفَّةُ بوزلی میں خون بہنے کی بیماری پیدا ہونا۔ ضَبَّتْ يَضْبُتُ و ضَيْبٌ يَضْبُتُ - ضَبَّتْ بَعْدَ - الامکان۔ کسی جگہ میں بیاہ گدہ ہونا۔ ضَبَّتْ (ضَبَّتْ) مؤنث ضَبَّتْ - ضَبَّتْ - عَلِيٌّ الشَّوْ مَضْبُولِيٌّ سے پکڑنا۔</p>	<p>جسم اور شانے ہلانے والا۔ ضَيْبٌ - زکام لگنا۔ ضَوْلٌ دَكٌ، ضَالَةٌ و ضَوْلَةٌ - دہلا ہونا۔ حقیر ہونا۔ ضَاعَلٌ - شغفہ - خود کو حقیر کرنا۔ تَضَاعَلٌ - حقیر ہونا۔ کمزور ہونا۔ چھوٹا ہونا۔ الضَّيْبُ - سکرنا۔ اضْطَالٌ - چھوٹا ہونا۔ کمزور ہونا (مَضْطَلٌّ) الضَّيْبِيُّ - چھوٹا۔ پتلا، حقیر، کمزور، لاغر۔ ج۔ ضَوْلًا و ضَيْبًا و ضَيْبِيَّةٌ - الضَّوَالَةُ - کمزور و لاغر۔ الضَّيْبِيَّةُ - مؤنث۔ الضَّيْبِيُّ - پلاسناپ جلق کا کھا۔ ضَانٌ رَفٌ، ضَانًا - العَثَلُ حذیروں کو کو بکریوں سے جھا کرنا۔ اضْطَانٌ اضْطَانًا - بہت بھیروں یا دنبوں والا ہونا۔ الضَّائِنُ - بھیر، دنبہ۔ الضَّائِنُ - غا۔ کمزور۔ رجلٌ ضَائِنٌ</p>	<p>الضَّيْبُ - ایک سمندری جانور، موقی۔ ضَادَّةٌ رَفٌ، ضَادًّا - خصومت میں غالب آنا۔ ضَيْدٌ ضَوَادًا - زکام کی شکایت کرنا۔ اضَاءَةٌ رَفٌ، اضَاءًا - زکام میں مبتلا کرنا۔ الضُّوْدُ و الضُّوْدَةُ و الضُّوْدَةُ - زکام۔ المضوودُ - زکام زدہ۔ ضَاذَةٌ رَفٌ، ضَاذًا و ضَاذًا - ظلم و ریا دتی کرنا۔ ضَاذَةٌ حَقْلَةٌ - حق کم کرنا۔ قِسْمَةٌ ضَوْرِيٌّ و ضَاذِيٌّ و ضَنْزِيٌّ - ناقص تقسیم۔ الضَّيْبَانُ - کاموں میں کود پڑنے والا۔ الضُّوَالَةُ - بھیر آدمی۔ ضَاذًا ضَاذًا و ضَوْرًا ضَوْرًا - المقومُ في الحرب - لڑائی میں شور کرنا۔ الضَّضَاءُ و الضُّوْرَاءُ و ضَوْرِيٌّ لڑائی کا شور۔ الضُّوْرُوْرُ و الضُّضْفِيُّ - جھڑ، معدن، کان۔ الضُّوْرُوْرُ - ایک قسم کا پرندہ جس کے پروں پر رنگارنگ کے نقطے ہوتے ہیں۔ ضَيْطٌ رَسٌ، ضَاظًا - الرجلُ - چلنے میں</p>
--	--	--

سخت قبضہ کرنا۔
 ضَبَّيْتُ - عَلَى الضَّبِّ - گوہ کو بھرا کرنا۔
 ضَبَّيْتُ الْبَابَ - دروازہ میں بی لگانا۔
 أَضْبَيْتُ - خاموش ہونا۔ چلانا۔ بات کرنا
 رَمَدُ الْمَاءِ وَالرِّيْقِ - پانی یا تھوک
 کا بہنا۔ الیوم۔ دن کا گہرا ہونا۔
 - الْمَكَانُ - کسی جگہ کا بہت گوہ والی
 ہونا۔
 أَضْبَيْتِ الْأَرْضَ - زمین کا زیادہ سبزی
 والی ہونا۔ الشَّعْرُ - بالوں کا زیادہ
 ہونا۔ الْقَوْمُ - کام کے لیے اکٹھا کرنے
 ہونا۔ الْقَوْمُ فِي بُغْيَتِهِمْ - اپنے
 مقصد طلبی میں متفرق ہونا۔ أَضْبُوا
 لِفُلَانٍ - کسی کے طلب کے لیے بکھر
 جانا۔ الْمَاءُ وَالِدَامُ - بہانا۔
 عَلَى الْأَمْرِ - کام پر حاوی ہونا۔
 عَلَى الشَّيْءِ - چھپانا۔ عَلَى الْمَطْلُوبِ
 کامیابی کے قریب ہونا۔ أَضْبَتْ عَلَى
 مَا فِي نَفْسِهِ - اس نے اپنا بھید
 چھپایا۔ عَلَى غَيْلٍ فِي قَلْبِهِ - کینہ دل
 میں چھپانا۔
 تَضَبَّبَ - الضَّبِّيُّ بچہ کا موٹا ہونے لگنا۔
 الضَّبُّ - م۔ گوہ۔ سومار۔ ج۔
 أَضْبُتْ وَضَبَّانٌ وَضَبَابٌ وَ
 مَضْبَةٌ - عرب کہتے ہیں "لَا أَفْعَلُهُ
 حَتَّى يَبْرِدَ الضَّبُّ" یعنی میں اس کام
 کو نہیں کروں گا یہاں تک کہ گوہ پانی
 پر آئے، ان کا تخیل تھا کہ گوہ پانی پر
 کبھی نہیں آتی۔ بَقْلَةُ الضَّبِّ -
 ایک قسم کا خوشبودار پودہ۔
 الضَّبُّ - اونٹ کے سینہ یا قدم کا درم
 اونٹ کے لگے پاؤں کی بیماری۔ جوٹ
 کی بیماری جس سے خون بہتا ہے۔
 الضَّبُّ وَالضَّبُّ - پوشیدہ کینہ۔
 ج۔ ضَبَابٌ -

الضَّبَّةُ - مادہ گوہ۔ شکوہ جو ابھی کھلا نہ ہو۔
 خوب پھوڑ کر دوہنا، لہجے یا لکڑی کا
 دستہ جو دروازہ میں لگاتے ہیں۔ ج۔
 ضَبَابٌ -
 الْأَضْبُتُ - مِنَ الْجَمَالِ - ضَبِيتُ كِي
 بیماری والا اونٹ۔ مؤنث۔ ضَبَاءٌ
 ج۔ ضَبٌّ -
 الضَّبِيْبُ - م۔ ضَبِيْبُ السَّيْفِ -
 تلوار کی دھار۔
 الضَّبَابَةُ - كهر۔ ج۔ ضَبَابٌ -
 الضَّبِيْبَةُ - گھی گھور سے تیار کردہ بچوں
 کے لیے ایک کھانا۔
 الْمَضْبَابُ - بخیل۔
 ضَبَّارٌ، ضَبَّاءٌ وَضَبُوْءٌ - الرَّجُلُ -
 زمین یا درخت سے چمٹ جانا۔ صفت
 ضَبِيٌّ - الضَّبَّاءُ شَكَارَى كَالشَّكَارِ
 پھینا اور اس کے لیے داؤں کرنا۔
 هَ بِالرَّيْنِ - رین سے چھٹانا۔
 الْيَدِ - پناہ لینا۔ مِنْهُ - شرماتا۔
 - عَلَى الْقَوْمِ - اچانک آپہنچنا۔
 أَضْبَأَ - الشَّيْءُ - چھپانا۔ عَلَيْهِ - کسی
 چیز پر خاموش ہونا۔ چھپانا۔ مَا
 فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ - ہاتھ کی چیز کو
 پکڑے رہنا۔
 إِضْطَبَّأَ إِضْطَبَاءً مِنْهُ - چھپنا۔
 الْمَضْبَاءُ - چھپنے کی جگہ۔ ج۔ مَضْبَائِيٌّ
 ضَبَّتْ رَضً، ضَبَّغًا وَضَبَّطْتُ -
 بِالشَّيْءِ وَعَلَيْهِ - سختی سے قبضہ کرنا۔
 زور سے قابو کرنا۔ ضَبَّتْ بِهِ -
 سختی سے پکڑنا۔ ضَبَّتْ بِهِ - مارا جانا۔
 الضَّبِيْبَةُ - قبضہ۔ سخت گرفت۔ ج۔
 ضَبَّاتٌ وَأَضْبَابٌ -
 الضَّبَابُ - شیر کے پنچے۔ الضَّبَابُ
 وَالضَّبِيْبُ وَالضَّبُوْتُ - شیر۔
 الْمَضَابِثُ - شیر کے پنچے۔ مفرد

(مَضْبِيْبَةٌ)
 ضَبَّتْ رَفًا، ضَبَّتًا وَضَبَّاتًا - الخيلُ
 فِي عَدْوِهَا - دوڑنے میں گھوڑے کا
 اپنے جوف سے آواز نکالنا۔ (ضَبَّاتًا)
 الْأَرْزَبُ وَالشَّعْلَبُ وَالْقَوْسُ -
 آواز کرنا۔ (ضَبَّاتًا) النَّارُ الْعُوْدُ
 آگ کا لکڑی کو متغیر کر دینا۔
 ضَابِحَةٌ - منہ در منہ مقابلہ کرنا۔ گالی دینا۔
 بُرَاهِلَا كُنَا -
 أَنْضَبَحَ - كَوْلَةٌ - متغیر ہو کر راکھ جیسے
 رنگ کا ہونا۔ الضَّبْحُ - راکھ۔
 الضَّبْحَاءُ - آگ سے جھلسی ہوئی کمان۔
 ضَبْرَانٌ، ضَبْرًا - الْحِجَارَةُ - پتھر تہ
 رکھنا۔ الْمَكْتُبُ - جمع کرنا یا بندل
 باندھنا۔ (ضَبْرًا وَضَبْرَانًا)
 الْفَرَسُ أَوِ الْمَقِيْدُ - پاؤں جوڑ کر
 کوٹنا۔
 ضَبَّرَ - الشَّيْءُ - جمع کرنا۔
 الضَّبْرُ - م۔ مامرہ میں قلعے کے نزدیک پہنچنے
 کا آلہ۔ ج۔ ضَبْرٌ - الضَّبْرُ - ثغر۔
 (ضَبْرٌ) - الضَّبْرُ - جنگلی غوط کا درخت
 الضَّبْرُ - بغل۔ الضَّبْرُ وَالضَّبَارُ -
 کتابیں۔ الضَّبَارَةُ - بناوٹ کی
 مضبوطی۔
 الضَّبَارَةُ وَالضَّبَارَةُ - ج۔ ضَبَّارَةٌ -
 وَدِ الْضَّبَارَةِ - ج۔ أَضْبَارَةٌ -
 کتابوں یا تیروں کا بندل۔ الضَّبَارَةُ
 لوگوں کی جماعت۔ جمع۔
 الضَّبْرُ - بست کوونے والا۔ الضَّبْرُ
 الضَّبْرُ - سخت بشیر۔
 الضَّبْرُ - بوط کے مانند ایک درخت۔ واحد
 ضَبَّارَةٌ -
 الْمَضْبَرَةُ - بہت کوونے والا بشیر۔
 ضَبْرَةٌ رَضً، ضَبْرًا كَالضَّبْرِ - تیز و کھینا۔
 ضَبَّسَ رَضً، ضَبَّسًا - عَلَى الْعِزْمِ - قرضار

<p>ضَبَّتُهُ النَّارُ. اُلْ كَا بَلَانَا. أَضْبَى - الشَّيْءَ. اُوخَا كَرْنَا. رُوَكْنَا - عَلَيْهِ جَا پَرْنَا. الضَّيَابِي (ف) رَاكِبُ الضَّبُوعَةُ. تَبَاكُوكَ لِيَةِ جَهْرَةَ كَا بَرُو. الْمَضْبَاةُ. مَجْمُوعِلُ كِي سَكِي هُوِي رُوِي ضَبَّعَ رَضًا فَجَّأًا وَكَيْجِيَّهَا وَضَحَا جَا وَ فَحَا جَا يَجَّحُ پَكَار كَرْنَا. شُور مَجَانَا. أَضْبَعُ - اِضْبَجَا جَا. الْقَوْمُ مَجَانَا، شُور مَجَانَا. ضَبَّجِعُ - الرَّجُلُ. جَانَا اُو رَا مَلُ هُونَا - الطَّائِرُ وَنَحْوُهُ. زِهْرُوِيَا. ضَا جَعُ فَنَجَا جَا وَ مَضَا جَعُ - جَمْرُونَ شُور مَجَانَا. الضَّبَّجَةُ يَجَّحُ پَكَارُ - الضَّبَّاجُ مِم بَا تَحِي وَا نَت. اِيك قَسْم كَا مَرُو. الضَّبَّاجُ كَحَلَنُ كَا كُونْدُ، هِرْزُ هِرْزِيَا پُو دُو هُو پَرُو يَا دَنْدُو كَ لِيَةِ زِهْرُ كَا كَام وَا سَ. الضَّبُّو جُ - مِّنَ النَّوْقِ. وُو دُو دِي تَ وَقْتِ چَلَانِ وَا لِي اُو ثَنِي - الضَّبَّاجُ - بَهْتِ چَلَانِ وَا لِي - ضَجْرُ دَس، فَجْرًا وَ تَضَجْرُ - مِئْنُ وَا بِيءُ - بِيءُ قَرَارُو بِيءُ چِينِ هُونَا. تَنُگُ وَلِ عَمَكِينِ هُونَا. صَفْتُ - ضَجْرُ أَضَجْرَةُ سَتَانَا. تَنُگُ كَرْنَا. بِيءُ قَرَار كَرْنَا تَنُگُ وُل كَرْنَا. الضَّبُّو جُ - مِم. عَمُ وَا نَدُو كِي بِيءُ كَلِي - تَنُگُ وُل كَرْنَا. الضَّبُّو جُ - تَنُگُ جُكُ - الضَّبُّو جَةُ - بِيءُ قَرَارِي. كَبِيدُگِي - الضَّبُّو جُ وَا الضَّبُّو جَةُ - بَهْتِ بِيءُ قَرَار - بَهْتِ تَنُگُ وُل - الضَّبُّو جُ - كَبِيدُ خَا طَر كَرْنِ وَا لِي - بِيءُ قَرَارُو بِيءُ چِينِ كَرْنِ وَا لِي - جِي - مَضَا جَرُ وَمَضَا جِيرُ - ضَبَّعَ رَضًا فَجَّأًا وَ كَيْجِيَّهَا وَ مَضَجَعُ وَ</p>	<p>كُو پَهِي لَانَا - ضَابَعَةُ - مُضَابَعَةٌ - هِرَا يَكُ كَا دُو سَرُو كِي طَرَفِ تَلُوَار كَا بَا تَحْتِ بَرُ حَا نَا - الرَّجُلُ - مَعَا فَر كَرْنَا - اِضْطَبَعُ بَا زُو نَسَا كَر كِي چَا وِر كُو وَا مِينِ بَعْلُ كِي نِيچِي سُو لَا كَر بَا مِينِ كَا نَدُ هِرْزُ وَا نَا - الشَّيْءَ - بَعْلُ مِينِ لِيْنَا - الضَّبْعُ وَ الضَّبْعُ - جُو - لَفْظَا مَوْنَتُ هِي مَذَكُرُو مَوْنَتُ هِرُو وَا كِي لِي سَتَعْمَلُ هِي - جِرْ ضِبَاعٌ وَ اَضْبِعُ وَ ضِبْعٌ وَ ضُبُوعَةٌ وَ ضَبْعَاتٌ وَ مَضْبَعَةٌ - ضَبْعُ كِي تَصْغِيرُ اَضْبِيعُ هِي - يِهْ طَلَا قِيَاسُ هِي - الضَّبِيعُ - مِم - بَا زُو، بَا زُو كَا وِر مِيَا نِ - بَعْلُ - الضَّبْعُ وَ الضَّبِيعُ وَ الضَّبِيعُ - پَنَاهُ - طَرَفُ - جِي - اَضْبَاعُ - الضَّبِيعُ تَحْطُ كَا سَالُ - الضَّبِيعُ وَ الضَّبَاعُ - وَا كِي لِي بِيءُ اِطْحَانَا - الضَّبْعَاتُ - زِي جُو - تَشْبِيهُ - ضَبْعَانِ - ضَبْعَانَانِ نِيْسُ هِي - جِي - ضَبَاعِيْنُ - مَوْنَتُ - ضَبْعَانَةٌ جِي - ضَبَاعِيْنُ وَ ضَبْعَانَاتُ - الضَّبَاعُ - فَا - مِّنَ الْخَيْلِ اُو الْاِبِلِ - تِي زَرَفَتَا رُكْمُو رُو يَا اُو نَتُ - جِي - ضَبِيعُ ضَبْنِ رِن، ضَبْنَا - الْمَكَانُ - جُكُ كَا تَنُگُ هُونَا - صَفْتُ ضَبْنِيْنُ - قَهْنَةُ الْهَدْيِيَّةُ - بَدِيءُ كُو رُو كَرْنَا، مَنَعُ كَرْنَا - اَضْبِنُ وَ اَضْبِنَ - بَعْلُ اُو رِ پَلُو كِي وِر مِيَا نِ اِطْحَانَا - الضَّبْنُ - مِم - بَعْلُ، پَنَاهُ - الضَّبْنُ بَعْلُ اُو رِ پَلُو كِي وِر مِيَا نِ - الضَّبْنَةُ وَ الضَّبْنَةُ وَ الضَّبْنَةُ - الضَّبْنَةُ عِيَالُ - بَالُ نِيچِي - الضَّبْنَةُ وَ الضَّبْنَةُ - بِيءِي - ضَبَا يَضْبُو ضَبْوًا - اَلِيءُ - پَنَاهُ لِيْنَا -</p>	<p>سُو سَتِي سُو تَقَا نَا كَرْنَا - ضَبْسَتُ دَس، ضَبْسًا - نَفْسُهُ - خَرَابُ هُونَا - الضَّبْسُ - بَجَلُ الضَّبْسُ شَرِيءُ بَا لِي كِي طَرَفِ هِي كِنِي وَا لِي - الضَّبْسُ - سَمْتُ مَزَا جُ - فَرِيءِي - الضَّبْسُ - سَمْتُ مَزَا جُ - بَجَا رِي جَم وُو دُو بَزُو لُ، اِحْتُ - ضَبَطَةُ رِن، ضَبَطًا وَ ضَبَا طَةٌ - چَمْنَا، غَلِيءُ پَانَا - قَوِي هُونَا - پُو سِي پُو رِي حَفَا ظَتُ كَرْنَا - الْعَمَلُ - مَضْبُو طُ كَرْنَا - الْكِتَابُ - صَحِيحُ كَرْنَا - كِتَابُ پَرِ حَرَكَاتُ لُكَا نَا - عَلَيْهِ - كَرَفَتَا ر كَرْنَا ضَبِطُ دَس، ضَبَطًا - وُو نُو نِ بَا تَحُو نِ سُو كَا م كَرْنَا - صَفْتُ (اَضْبَطُ) مَوْنَتُ ضَبَطًا - جِي - ضَبُطُ - ضَبِطْتُ - الْاَرْضُ - زِي مِ نِ پَر عَا م بَا رَشُ هُونَا - هِمْمُ كِي رَا شُ بَرَسْنَا - تَضَبَطَةُ - رُو كُ، كَرَفَتَا رِي - تَضَبَطُ الضَّانُ - وِنِيءُ كَا مَوْنَا هُونَا - مَتَّو رِي گَاس كَمَا نَا - الضَّبُطُ - رُو كُ كَرَفَتَا رِي - الضَّبَا طُ - فَا - قَوِي، هُو شِيَارُ - حَا كُمُ، فُو جُ كَا بَزَلُ - جِي - ضَبَا طُ - وَ الضَّبَا طَةُ كَلِي قَا نُونُ الضَّبَا طُ وَ الْاَضْبُطُ - شِيَرُ ضَبْعُ رِن، ضَبْعًا وَ ضَبُوعًا وَ ضَبْعَانًا - الْبَجِيْرُ - اُو نَتُ كَا تِي زُو وِرْنَا - الْقَوْمُ لِلصُّلْحِ - مَلُجُ كَا اِرَا وُ كَرْنَا اُو رَا سِ كِي طَرَفِ مَأَلُ هُونَا - ضَبْعَةُ ضَبْعًا - مَارْنِ كِي لِي سُو كِي طَرَفِ بَا تَحْتِ بَرُ حَا نَا - الرَّجُلُ - نَطْمُ كَرْنَا - - عَلِي فُلَانِ - بَدُو كَا كِي لِي بِيءُ اِطْحَانَا - ضَبَّعُ - الرَّجُلُ - بَزُو لُ هُونَا - ضَبَّعَتِ الْخَيْلُ اُو الْاِبِلُ - چَالُ مِينِ پَلُو وُ</p>
--	---	--

<p>بتکلف ہنسنا۔ تَضَاخَكَ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کو ہنسنا۔ الضَّحْكُ۔ مہم۔ سفید دانت۔ پھول۔ جھاگر برف۔ راستہ کا وسط۔ تعجب۔ شہد، کھجور کا شگوفہ۔ الضَّاحِكُ۔ فَا۔ ہنسنے والا۔ بہت سفید پھاڑی پتھر۔ الضَّاحِكَةُ۔ مَوْنُ الضَّاحِكِ۔ ہر وہ دانت جو ہنسی میں ظاہر ہو۔ ج۔ ضَوَاحِكُ الضُّحْكَةُ وَالضُّحْكَةُ وَالضُّحَاكُ وَ الضُّحُوکُ وَالضُّحَاكُ بہت ہنسنے والا۔ الضُّحُوکُ۔ ج۔ ضُحْكُ وَ الضُّحَاكُ۔ راستہ کا وسط، واضح راستہ۔ الضُّحْكَةُ۔ وہ آدمی جس پر لگ بھگ ہنسیں۔ الضُّحْكَةُ۔ وہ جو لوگوں پر ہنسنے۔ الضُّحُوکَةُ۔ ہنسنے والی چیز۔ الضُّحَلُ رَفٌّ، فُحْلًا۔ الغدیر۔ تالاب میں پانی کم ہونا۔ الماء۔ پانی کا پایاب ہونا۔ الضُّحَلُ۔ پایاب پانی۔ ج۔ فُحَالٌ وَ أُحَالٌ وَفُحُولٌ۔ الضُّحَلُ۔ وہ جگہ جہاں پانی کم ہو۔ فُحَايْفُضُو فُحُوًا وَفُحُوًا وَفُحِيًا۔ الرجلُ۔ دھوپ کھانا۔ النبی۔ دھوپ لگنا۔ الطریقُ۔ ظاہر ہونا۔ فُحَا فُلَّةٌ۔ وہ مر گیا۔ فُحِيٌّ يَطْبَعِي فُحَا وَفُحَا۔ دھوپ لگنا۔ سورج سے تکلیف اٹھانا۔ دھوپ کھانا۔ کھل جانا۔ فُحِيَّتِ اللَّيْلَةُ۔ وہ رات جس میں بادل نہ ہو۔ فُحِيٌّ تَضْجِيَةٌ۔ فلانا کسی کو چاشت کے وقت کھانا کھلانا۔ بِالشَّحَا بکری کو چاشت کے وقت ذبح کرنا۔ الغَنَمُ۔ بوقت چاشت چرانا۔ الرجلُ۔ فدیہ ہو جانا۔ عَنِ الْأَمْرِ</p>	<p>الضُّحِيَّةُ۔ ساتھ بیٹنے والا۔ مَوْنُ۔ ضَجِيَّةٌ الضُّجَجُ۔ ج۔ مَضَاجِعُ۔ الضُّضْطَجُ۔ خواب گاہ۔ مَضَاجِعُ الضُّضْطَجُ۔ بارش کی کثرت کی جگہیں۔ ضَجَجَ رَسًا، ضَجَجًا۔ اللِّمَّةُ أَوِ الْعُنُقُ۔ منہ یا گردن کا ٹیڑھا ہونا۔ ٹیڑھی گردن یا ٹیڑھے منہ والا۔ اَضْجَجَهُ، مَوْنُ ضَجَجًا۔ تَضَاجَعَهُ۔ اللِّمَّةُ۔ منہ کا ٹیڑھا ہونا۔ الامْرُؤُ بَيْنَهُمَا۔ کسی امر کا متنازع فیہ ہونا۔ الضُّجَجُ۔ سورج۔ سورج کی روشنی، ہر چیز جس پر دھوپ پڑ رہی ہو۔ ضَجَجَهُ وَتَضَخَّضَهُ۔ السُّرَابُ۔ سراب کا متحرک ہونا۔ ضَخَّضَهُ الامرُ۔ کام کا واضح ہونا۔ الضُّخَّضَةُ تھوڑا پانی۔ الضُّخَّضَةُ۔ تھوڑا پانی یا پایاب پانی۔ بہت اونٹ۔ ضَجَجَ رَسًا، ضَجَجًا وَضَجَجًا وَضَجَجًا وَ ضَجَجًا۔ ہنسنا۔ ضَجَجَ مِنْهُ بِهِ وَعَلَيْهِ۔ اس نے کشادہ روئی کی اس طرح پر کہ دانت ظاہر ہو گئے۔ السُّحَابُ۔ بادل کا چمکنا۔ الطَّرِيقُ راستہ کا ظاہر ہونا۔ ضَجَجَتِ الْأَرْضُ عَنِ النَّبَاتِ۔ زمین کا نباتات اگانا۔ الشَّيْبُ بِرَأْسِهِ۔ سر میں بڑھا پاتا ظاہر ہونا۔ طَلَعُ النَّخْلَةَ۔ درخت خرما کا شگوفہ پھولنا۔ رَضَخًا، الرَّجُلُ۔ تعجب کرنا۔ ضَاحِكَةٌ۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا۔ ہنسی میں غالب آنا۔ أَضْحَكُهُ۔ ہنسنا۔ أَضْحَكَ الْحَوْضُ حوض کو پانی سے لبریز کرنا۔ تَضَحَّكَ وَتَضَاحَكَ وَاسْتَضَحَّكَ ہنسنا۔ تَضَاحَكَ الرَّجُلُ۔</p>	<p>أَضْجَعَهُ وَاضْطَجَعَهُ۔ پہلو کے بل لیٹنا۔ ضَجَعَهُ النَّجْمُ۔ غروب کے لیے جھکنا۔ أَضْجَعَهُ۔ پہلو کے بل لیٹنا۔ الشَّيْءُ۔ پست کرنا۔ الحروفُ۔ حرف کو کسرہ کی طرف امانہ کرنا۔ جَوَالِقَةُ بھری ہوئی گون کو خالی کرنا۔ ضَجَعَتِ السُّمُسُ۔ سورج کا ڈوبنے کے لیے مائل ہونا۔ وَتَضَجَعَتْ فِي الامرِ۔ کام میں کوتاہی کرنا۔ ضَاجَعَهُ۔ ساتھ لیٹنا۔ صفت (مَضَاجِعُ) ضَاجَعَهُ الْهَمُّ۔ غم لگنا۔ تَضَاجَعَهُ عَنِ الْأَمْرِ۔ غافل ہونا۔ الضُّجَجُ۔ مہم۔ مابلون، ہر وہ چیز جس سے کپڑا صاف کیا جائے۔ الضُّجَجَةُ۔ مابلون کا ایک کپڑا، رائے کی کمزوری ایک بار کا سوتا، آرام و راحت۔ الضُّجَجُ۔ میلان۔ جھکاؤ۔ الضُّجَجُ۔ بیٹنے کی ہیئت۔ سستی۔ الضُّجَعَةُ۔ رائے کی کمزوری۔ وَالضُّجَعَةُ وَالضُّجَعِيُّ وَالضُّجَعِيُّ وَالضُّجَعِيُّ بہت بیٹنے والا۔ سست الضَّاجِعُ۔ فَا۔ وادی کا موڑ، اس کا ڈھلوان اچھٹ۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ نامبارک جانور۔ مِنَ النَّجُومِ۔ ڈوبنے کے لیے مائل ستارہ۔ ج۔ ضَوَاجِعُ۔ رجلُ ضَاجِعٌ۔ بہت بیٹنے والا۔ کابل۔ الضَّاجِعَةُ۔ مَوْنُ ضَاجِعٌ۔ دریا کا دھانہ ٹیلر۔ ج۔ ضَوَاجِعُ رَسًا وَالضُّجَعَاءُ زیادہ بکریاں۔ الضُّجُوعُ وَالضُّجُوعُ۔ کمزور رائے والا۔ الضُّجُوعُ۔ بھاری مشک جو اٹھانے والے کو جھکاوے۔ بڑا ڈول۔ پانی کی نیادگی سے آہستہ رفتار بادل۔</p>
---	---	--

ویر لگانا، آہستگی کرنا۔ بیان کرنا۔
ظاہر کرنا۔
صَاحِي - مُصَاحَاةٌ - الرجل - کسی کے پاس بوقت پاشت آنا۔
أَضْحَى - پاشت کے وقت میں داخل ہونا۔
أَضْحَى يَفْعَلُ كَذَا - وہ ایسا کرنے لگا۔ پاشت کے وقت وہ ایسا کرتا تھا یا مطلقاً ایسا کرتا تھا۔ الشئ - ظاہر کرنا۔ عَنِ الامْرِ - دور ہونا۔
أَضْحَى اللهُ ظَلْكَ - اللہ تجھ کو ہلاک کر دے۔
قَضَى تَضْحِيًا - پاشت کے وقت کھانا۔ پاشت کے وقت تک سونا۔
دھوپ کھانا۔
اسْتَضْحَى اسْتَضْحَاءً - لِلشَّمْسِ - سوری کے موسم میں دھوپ کھانا۔ الضْحَاءُ - پاشت کا وقت۔
الضُّوْم - م - ر - وَالضُّوْمَةُ - پاشت کا وقت۔
الضُّحَى - پاشت کا وقت جبکہ سورج توب چڑھ آیا ہو۔ سورج۔ بیان۔
الضُّحِيَانُ - پاشت کے وقت کھانے والا۔ مَوْنٌ ضُّحِيَانَةٌ - الضُّحِيَّةُ - دن کا چڑھنا۔ قرآنی کی بکری ذبیحہ۔ ج۔ فَحَيَايَا - الأَضْحَاءُ - ج۔ أَضْحَى وَالْأَضْحِيَّةُ وَالْأَضْحِيَّةُ - ج۔ أَضْحَى - بِمَعْنَى ضُّحِيَّةٍ - يَوْمُ الْأَضْحَى - قربانی کا دن۔ الْأَضْحَى مِنَ الْخَيْلِ - سفید سیاہی مائل گھوڑا۔ مَوْنٌ ضُّحِيَانٌ - الضُّاحِي - خا۔ دھوپ کھانے والا سورج کے سامنے رہنے والی چیز۔ ظاہر بیرونی الضُّاحِيَّةُ - مَوْنٌ الضُّاحِي - ہر چیز کا سامنے کا پہلو، کھلا ہوا رخ۔ ج۔ ضَوَاحٍ - ضَوَاحِي الْبَلَدَةِ - غہر کا

گرد و نواح۔ ضَوَاحِي الْخَوَاصِ - حوض کے اطراف۔ شَجَرَةٌ ضَاحِيَةٌ - الخليل - بے سایہ درخت۔ يَوْمٌ ضَاحِيَانٌ - بے ابر کا دن۔ اَرْضٌ مَضْحَاةٌ - سورج کے سامنے کی زمین دھوپ والی زمین۔
ضَحْرَانٌ - ضَحَا - الماء - پانی گرانہ۔ آنکھ کا آنسو بہانا۔
الضُّحْرَةُ - الماء - پانی گرانہ۔ الضُّحْرَةُ - پچکاری۔ فوارہ۔
ضَحْرَانٌ ضَحْرًا - عَيْنُهُ - آنکھ کا لٹکا۔ ضَحْمَةٌ - ضَحْمَةٌ - ضَحْمَةٌ - مَوْنٌ ضَحْمَةٌ - موطا ہونا۔
ضَحْمٌ - ج - ضَحْمٌ - مَوْنٌ ضَحْمَةٌ - ج - ضَحْمَاتٌ - موطا مضبوط۔ بڑے جسم والا۔ ضَحْمَةٌ - موطا بنانا۔
الضُّحَامُ - ہر بڑے جسم کی چیز۔ الأَضْحَمُ - موطا، جسم۔
الْمَضْمُ - بہت ماسنے والا۔ بڑی قدر و منزلت والا سرور۔
ضَدَّ دَن، ضَدًّا - فَلَانًا فِي الْخُصُومَةِ - جھگڑے میں غالب آنا۔ ضَدَّةٌ عَنْ كَذَا - نرمی سے ہٹانا۔ الْقَرِيْبَةُ - مخک بھڑنا۔
ضَادَّةٌ مُضَادَّةٌ - مخالفت کرنا۔ أَحَدًا - ناراض ہونا۔ غضبناک ہونا۔ ضد کرنا۔ مخالفت کرنا۔ تَضَادًا تَضَادًا - ایک دوسرے کی مخالفت کرنا۔ الضُّدُّ - مخالف، دشمن، مثل، نفیر۔ ج۔ أَحَدًا وَضِدًّا - الأَضْدَادُ - وہ کلمات جن کے متضاد معنی ہوں۔ الضُّدِيْدُ - ضد، نفیر۔ ضِدِّي يَضْدِي ضِدِّي - عَلَيْهِ - غضبناک ہونا۔ صفت (ضاد)، مَوْنٌ ضَادِيَةٌ - ج۔ فَحَادٌ وَ

ضَادِيَاتٌ - ضَادَاةٌ مُضَادَاةٌ - مخالفت کرنا۔
أَضْدَى إِضْدَاءً - الاناء - برتن بھڑنا۔ ضَرَرَن، ضَرًّا وَضَرًّا - فَلَانًا وَفُلَانٍ - نقصان پہنچانا۔ تکلیف دینا۔ هُ إِلَى كَذَا - مجبور کرنا۔
ضَرَبَ بَصْرَهُ - اندھا ہونا۔ ضَارَّةٌ ضَرَارًا وَمُضَارَّةٌ - نقصان دینا۔ مخالفت کرنا۔ تکلیف پہنچانا۔ ضَارَّةٌ مَرَاتَةٌ - اپنی عورت پر سون لانا۔
أَضْرَجَ - تکلیف پہنچانا۔ هُ عَلَى الْأَصْرِ - مجبور کرنا۔ أَحْضَبَهُ - بہت قریب ہونا۔ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ - جلدی کرنا۔ عَلَى السَّيْرِ الشَّدِيدِ - تیز چلنے پر صبر کرنا۔ الرَّجُلُ - سوت لانا۔ اندھا ہونا۔
تَضَرَّرَ - نقصان پانا۔ إِضْطَرَّةٌ إِلَى كَذَا - مجبور کرنا۔ حاجت مند بنانا۔
أُضْطَرَّ - مجبور کیا جانا۔
اسْتَضَرَّ - بہ - نقصان پہنچانا۔ الضُّرُّ وَالضُّرُّ وَالضُّرُّ - نقصان، سختی، تنگی، بد حال۔ ج۔ أَضْرَارٌ - الضُّرُّ وَالضُّرُّ - سوت کر کے لانا۔ الضُّرَاءُ - سختی، تنگ حالی، قحط۔ الضُّرَّةُ - جانی و مالی نقصان۔ الضُّرَّةُ - حاجت، تنگ حالی، تکلیف، پستان کی جڑ، پستان یا متن، بہت مال۔ ضَرَّةُ الْمَرْأَةِ - عورت کی سوت، سون جہ ضَرَائِرٌ - دَاءُ الضَّرَائِرِ - حسد، ضَرَّتَانِ - چکل کے دونوں پاٹ۔ الضَّرُّ - فا۔ نقصان پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمے حسنی میں سے ہے۔ الضُّرَّةُ وَالضَّرَّةُ وَالضَّرَّةُ وَالضَّرَّةُ وَالضَّرَّةُ وَالضَّرَّةُ - الضَّرَّةُ - ضَر

الضَّرَازَةُ - اندھاپن۔ جانی و مالی خسارہ و نقصان۔

الضَّرِيْرُ - اندھا۔ دبلا، بیمار، نقصان زدہ۔
ج۔ اَضْرَاءٌ وَاَضْرَائِيٌّ - مؤنث
ضَرِيْرَةٌ - ج۔ ضَرَائِرٌ - الضَّرِيْرُ -
غیرت، مخالفت، صبر۔ وادی کا کنارہ۔
نفس، بقیہ جسم۔ سابر۔

الضَّرْوِيُّ - جس پر انسان کو مجبور کیا جائے
ضروری۔

التَّضْرُّةُ وَاَلتَّضْرُّةُ - بد حالی۔
المُضْرَكَةُ - نقصان۔ ج۔ مَضْرَكٌ -
ضَرَاوِنٌ وَاَضْرَأٌ - الشَّيْءُ - چھپنا۔
الضَّرَائِتُ اَلضَّرَاءُ - الابلُ - اونٹوں
میں موت کا واقع ہونا۔ الشَّجَرَةُ
درخت کا خشک ہونا۔

ضَرَبَ رَضٌ ضَرْبًا - الشَّيْءُ متحرک ہونا۔

العِدْقُ - رگ کا پھٹ کرنا۔ الجَوْحُ
آبِ الْفَرَسِ - زخم یا وارثہ کا درد شدید
ہونا۔ العُقْبُ - بچھو کا ڈسنا۔

الليلُ - رات کا دراز ہونا۔ النَّمَا
گذرنا۔ الطَّيْرُ - پرندہ کا خوراک کی
تلاش میں نکلنا۔ كُ - کسی کے تلوار
یا لٹھی وغیرہ کی ضرب لگانا۔ كُ اَلْبَرْدُ
ٹھنڈ لگانا۔ ضَرَبَ الْجِيْمَةَ - خیمہ
نصب کرنا۔

ضَرَبَتِ الْعَنْكَبُوْتُ - کڑی کا جال اتنا۔

ضَرَبَ الْاَجَلَ - مدت مقرر کرنا۔
الْمَثَلُ - مثال بیان کرنا۔ الدَّرْهَمُ
درہم ڈھالنا۔ اَلْحَاتَمُ - اَلْكَوْثِيُّ
ڈھالنا۔ الصَّلَاةُ - نماز قائم کرنا۔

الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - طانا۔ اَلْحَاسِبُ
کذا فی کذا ضرب دینا۔ الْجَزِيَّةُ
حکیتھم۔ جزیر لگانا۔ عَلَيْهِمْ
الذِّكْرُ - ذیل کرنا۔ لَهُ سَهْمًا
مِنْ مَالِهِ - اپنے مال سے حصہ مقرر کرنا۔

عَلَى يَدَيْهِ - روک دینا۔ اَلْقَاضِي
عَلَى يَدَيْهِ - قاضی کا کسی کو تصرف سے
باز رکھنا۔

ضَرَبَ - بِتَفْسِيحِ الْاَرْضِ - اقامت کرنا۔
سفر کرنا (رض)۔ فِي الْمَاءِ - تیرنا۔
- بِبَيْتِهِمْ - فساد کر دینا۔ فُلَانًا
مِنْ فُلَانٍ - روک دینا۔ منع کرنا۔

بَيْدٌ - اشارة کرنا۔ عَنِ فُلَانٍ
كَذَا - روک لینا۔ اَلدَّهْرُ بَيْنَنَا -
جدا کر دینا۔ بِالْفِدَاحِ - تیروں کو

گھمانا۔ عَلَى اُذُنِهِ - سننے سے
منع کرنا۔ عَلَى السُّكُوْبِ - مُرَلِّكًا -
- فِي الْبُوقِ - بگل بجانا۔ اَلْيَدِ -
مائل ہونا۔ ضَرَبَتْ عَنْهُ صَفْحًا -

منہ پھیر لینا اور اس کو چھوڑ دینا۔

ضَرَبَ بِدَقِيْقِهِ الْاَرْضَ - بزولی کرنا
خوف کھانا۔ ضَرَبَ فِي الْاَرْضِ
ضَرْبًا وَاَضْرَبَانًا - تجارت یا غزوہ
کے لیے سفر کرنا۔

ضَرَبَ رَسٌ ضَرْبًا - النَّبَاتُ - پودوں کا
ہوایا ٹھنڈ سے مرجھانا۔

ضَرَبَ رِكٌ ضَرْبًا - سحت مارا والا ہونا۔
ضَرَبَتِ الْاَرْضُ - زمین پر گر کر گزنا۔

ضَرْبَةٌ - بہت مارنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ
طانا۔ اَلْمِظْلَةُ بِالْحَيْوُطِ - دھاگوں

سے چھتری کو مضبوط کرنا۔ اَلنَّبَاتُ
اَلضَّرْبِيَّةُ - پنہ کا رضائی کو سینا۔

ضَرَبَتْ عَيْنُكَ - آنکھ کا گڑھے میں
بیٹھنا۔ ضَرَبَ بَيْنَهُمْ وَاَبْرًا كَادِيًا -

كُ فِي الْحَرْبِ - جنگ میں دلیر بنانا
ترغیب دینا۔

ضَارِبَةٌ مُضَارِبَةٌ وَاَضْرَابًا - ایک
دوسرے پر تلوار مارنا، مار میں دوسرے سے

بڑھ جانا۔ ایک دوسرے کو مارنا۔ ضَارِبٌ
لَهُ فِي الْمَالِ وَالْمَالِ - حصہ پر

تجارت کرنا۔

اَضْرَبَ - فِي الْمَكَانِ - اقامت کرنا۔ سر
چھکانا۔ عَنْهُ - اعراض کرنا۔ الْقَوْمُ
پالے سے ڈھک جانا۔ اَلخَبِيْرُ -
روٹی کا پکنا۔

تَحْرَبَ - الشَّيْءُ - متحرک ہونا۔
تَضَارَبَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو مارنا۔

اَضْطَرَبَ - متحرک ہونے سے موج مارنا۔ ایک
دوسرے کو مارنا۔ الامر - کسی امر

کا خلل پذیر ہونا۔ الْقَوْمُ - ایک
دوسرے کو مارنا۔ فِي اُمُوْرِهِ - متروک

و مشکوک ہونا۔ مِنْ كَذَا - بے آرام
ہونا۔ فُلَانٌ - حصہ مقرر کرنے کا

مطالبہ کرنا۔
اِسْتَضْرَبَ - الْعَسَلُ - شہد کا سفید

گاڑھا ہونا۔
الضَّرْبُ - مم - مثل، شکل، قسم۔ ج۔

اَضْرَابٌ - ہلکی بارش، دوسرے معرکہ
کا آخری جزو۔ ج۔ ضَرْبٌ وَاَضْرَابٌ
وَاَضْرِبٌ -

دَارُ الضَّرْبِ - ٹکسال۔
الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ - سفید گاڑھا شہد۔

الضَّرْبَةُ - اسم مرہ۔ وِفْعَالٌ آفَتْ، فساد
الضَّرْبَانُ - حصہ۔ ضَرْبَانُ اَلدَّهْرِ -

حوادث زمانہ۔
الضَّرْوِيُّ وَالضَّرْبِيُّ - مارنے والا۔

الضَّرَابُ - بہت مارنے والا۔
الضَّرَابُ - ظلم مارنے والا۔ بہت زمین جس

میں درخت ہوں۔ وادی یا تارک
رات۔ ج۔ ضَرَابٌ - اَلطَّيْرُ

الضَّرَابُ - خدک کے متلاشی پرندے۔
الضَّرْوِيُّ - ج۔ ضَرْبَاءٌ - مارنے والا۔

ج۔ ضَرْبِيٌّ - پٹھا ہوا۔ ج۔ ضَرْبِيٌّ
قسم، مثل، شکل، حصہ، وادی کی ہیئت

برف۔ پالا۔

<p>الْأُمُودُ - تجربہ کرنا۔ پہچاننا۔ تَضَارَسَ - القوم - ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔ باہم لڑنا۔ عمارت کا اسموار ہونا۔</p>	<p>الضَّرَجُ - چیتا۔ جہ۔ ضَرَجُ - ضَرَجَ وَف، ضَرَجًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا ایک طرف کرنا۔ ہٹانا۔ قبر کھودنا۔ ضَرَجَتْ اِن ضَرُوحًا وَضَرَجًا - السُّوقِ - کساد بازاری ہونا۔ ضَرَجًا وَضَرَجًا، الدَّابَّةُ بِرِجْلَيْهَا - دولتی مارنا</p>	<p>الضَّرِيْبَةُ - طبیعت، عادت، تلوار سے مارا ہوا۔ چوٹ کھایا ہوا بدن کا حصہ۔ جزیرہ - مِنَ السَّيْفِ - تلوار کی دھار۔ مِنَ الصُّوفِ وَنَحْوِهِ - اون یا روئی کی لونی۔ جہ۔ ضَرَابُ - الْمَضْرِبُ - مار کی جگہ یا وقت، اصل دہار۔ وَالْمَضْرِبُ، تلوار یا اس کی دھار۔ گودے والی بٹی۔ جہ۔ مَضَارِبُ - الْمَضْرِبُ وَالْمَضْرَابُ - مارنے کا اوزار موگری۔ بہت مارنے والا۔ اِلْمَضْرَابُ بڑا نیمہ۔ جہ۔ مَضَارِبُ -</p>
<p>الضَّرْسُ، واژہ، دانت۔ جہ۔ اَضْرَسَ وَضْرُوسٌ - وہ ٹیلہ جس پر چسڑھائی دشوار ہو، کنویں کی مینڈھ کا پتھر، ہلکی بارش۔ جہ۔ ضُرُوسٌ -</p>	<p>ضَارِحَةٌ - ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تیر مارنا۔ قریب ہونا اور مقابل ہونا۔ اَضْرَحَهُ - خراب کرنا۔ دور کرنا۔ کساد بازاری کرنا۔</p>	<p>الْمَضْرِبُ وَالْمَضْرَابُ - مارنے کا اوزار موگری۔ بہت مارنے والا۔ اِلْمَضْرَابُ بڑا نیمہ۔ جہ۔ مَضَارِبُ - الْمَضْرِبُ وَالْمَضْرَابَةُ - مِنَ الْحَيَاتِ بے حرکت سانپ۔ مَضْرِبَةٌ السَّيْفِ - تلوار کی دھار۔ بِسَاطُ مَضْرِبٌ - سلا ہوا بچھونا۔ الْمَضْرِبَةُ - اور جس کی رضائی۔</p>
<p>الضَّرْسُ - مسافر، جنگ جو، بھوک کے سبب غضب ناک، تجربہ کار، سخت مزانج۔</p>	<p>اَضْرَحَهُ - خراب کرنا۔ دور کرنا۔ کساد بازاری کرنا۔</p>	<p>الْمَضْرِبُ وَالْمَضْرَابَةُ - مِنَ الْحَيَاتِ بے حرکت سانپ۔ مَضْرِبَةٌ السَّيْفِ - تلوار کی دھار۔ بِسَاطُ مَضْرِبٌ - سلا ہوا بچھونا۔ الْمَضْرِبَةُ - اور جس کی رضائی۔</p>
<p>الضَّرُوسُ - مِنَ النُّوقِ - وہ اونٹنی جو دو ہونے والے کو کائے۔ حَرْبٌ ضُرُوسٌ - سخت تباہ کن لڑائی۔ الضَّرِيْسُ - مینڈھ والا کنواں۔ پیٹھ کے ہلکے۔ بھوکا۔ جہ۔ ضَرَّاسِي -</p>	<p>اَضْرَحَهُ - الشَّيْءُ - پھینا۔ مَا بَيْنَ القَوْمِ - قوم کا باہمی تعلق ٹوٹنا۔ اَضْطَرَّ - الشَّيْءُ - ڈالنا۔ پھینکنا۔ الضَّرْحُ - دم۔ چمڑا۔ دوری۔ وحشت۔ الضَّرْحُ - خراب آدمی۔ دور۔</p>	<p>الْمَضْرِبُ وَالْمَضْرَابَةُ - مِنَ الْحَيَاتِ بے حرکت سانپ۔ مَضْرِبَةٌ السَّيْفِ - تلوار کی دھار۔ بِسَاطُ مَضْرِبٌ - سلا ہوا بچھونا۔ الْمَضْرِبَةُ - اور جس کی رضائی۔</p>
<p>الْمَضْرُسُ - مفرج۔ مصیبت زدہ۔ مِنَ الْوَشْيِ - وہ کپڑا جس پر دانت کی طرح نقش و نگار ہوں۔ تَضَارِيْسُ الارضِ - دانتوں کی طرح زمین کی نکلی ہوئی بلندیاں۔</p>	<p>الضَّرُوحُ - مِنَ الدَّوَابِّ - دولتی مارنے والا جانور تیز زور سے پھینکنے والی کمان الضَّرِيْحُ - دور۔ قبر۔ جہ۔ ضَرَّابُ - الْمَضْرُوحُ وَالْمَضْرُوحِيُّ - شکار لہجے بازوں والا گدھ۔</p>	<p>ضَرَجَ اِن ضَرُوحًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا - الثَّوْبُ بِالدَّمِ - کپڑے کو خون سے لتیڑنا۔ الشَّيْءُ اِلَى الْاَرْضِ - زمین پر ڈالنا۔</p>
<p>الضَّرُوسُ - شیر، زور زدے۔ ضَرَطُ رَضٍ، ضَرَطًا وَضَرَطًا وَضَرَاطًا وَضَرِيْطًا - گوز کرنا۔</p>	<p>الضَّرُوحُ - مِنَ الدَّوَابِّ - دولتی مارنے والا جانور تیز زور سے پھینکنے والی کمان الضَّرِيْحُ - دور۔ قبر۔ جہ۔ ضَرَّابُ - الْمَضْرُوحُ وَالْمَضْرُوحِيُّ - شکار لہجے بازوں والا گدھ۔</p>	<p>ضَرَجَ اِن ضَرُوحًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا - الثَّوْبُ بِالدَّمِ - کپڑے کو خون سے لتیڑنا۔ الشَّيْءُ اِلَى الْاَرْضِ - زمین پر ڈالنا۔</p>
<p>ضَرَطُ رَضٍ، ضَرَطًا - ہلکی واڑھی اور باریک ابرو والا ہونا۔ صفت دَاضْرَطُ ضَرَطٌ - الْجِمَارُ - گدھے کا بہت گوز کرنا ضَرَطًا وَضَرَطًا - الْجِمَارُ - گدھے سے ایسا کام لینا کہ اس کا گوز خارج ہو جائے۔ ضَرَطًا وَضَرَطًا - بَقْلَانِ - بھٹے کے طور پر گوز کی سی آواز منہ سے نکالنا۔</p>	<p>ضَرَسَهُ الدَّهْرُ - زمانہ نے اس پر مصیبت ڈالی۔ ضَرَسَ اِيْمَانُ - کنویں کے گرد پتھروں کی دیوار بنانا۔ الرجلُ - کسی کا شام تک خاموش رہنا۔</p>	<p>ضَرَجَ اِن ضَرُوحًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا - الثَّوْبُ بِالدَّمِ - کپڑے کو خون سے لتیڑنا۔ الشَّيْءُ اِلَى الْاَرْضِ - زمین پر ڈالنا۔</p>
<p>ضَرَطُ رَضٍ، ضَرَطًا - ہلکی واڑھی اور باریک ابرو والا ہونا۔ صفت دَاضْرَطُ ضَرَطٌ - الْجِمَارُ - گدھے کا بہت گوز کرنا ضَرَطًا وَضَرَطًا - الْجِمَارُ - گدھے سے ایسا کام لینا کہ اس کا گوز خارج ہو جائے۔ ضَرَطًا وَضَرَطًا - بَقْلَانِ - بھٹے کے طور پر گوز کی سی آواز منہ سے نکالنا۔</p>	<p>ضَرَسَهُ الدَّهْرُ - زمانہ نے اس پر مصیبت ڈالی۔ ضَرَسَ اِيْمَانُ - کنویں کے گرد پتھروں کی دیوار بنانا۔ الرجلُ - کسی کا شام تک خاموش رہنا۔</p>	<p>ضَرَجَ اِن ضَرُوحًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا - الثَّوْبُ بِالدَّمِ - کپڑے کو خون سے لتیڑنا۔ الشَّيْءُ اِلَى الْاَرْضِ - زمین پر ڈالنا۔</p>
<p>ضَرَطُ رَضٍ، ضَرَطًا - ہلکی واڑھی اور باریک ابرو والا ہونا۔ صفت دَاضْرَطُ ضَرَطٌ - الْجِمَارُ - گدھے کا بہت گوز کرنا ضَرَطًا وَضَرَطًا - الْجِمَارُ - گدھے سے ایسا کام لینا کہ اس کا گوز خارج ہو جائے۔ ضَرَطًا وَضَرَطًا - بَقْلَانِ - بھٹے کے طور پر گوز کی سی آواز منہ سے نکالنا۔</p>	<p>ضَرَسَهُ الدَّهْرُ - زمانہ نے اس پر مصیبت ڈالی۔ ضَرَسَ اِيْمَانُ - کنویں کے گرد پتھروں کی دیوار بنانا۔ الرجلُ - کسی کا شام تک خاموش رہنا۔</p>	<p>ضَرَجَ اِن ضَرُوحًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا - الثَّوْبُ بِالدَّمِ - کپڑے کو خون سے لتیڑنا۔ الشَّيْءُ اِلَى الْاَرْضِ - زمین پر ڈالنا۔</p>
<p>ضَرَجَ اِن ضَرُوحًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا - الثَّوْبُ بِالدَّمِ - کپڑے کو خون سے لتیڑنا۔ الشَّيْءُ اِلَى الْاَرْضِ - زمین پر ڈالنا۔</p>	<p>ضَرَجَ اِن ضَرُوحًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا - الثَّوْبُ بِالدَّمِ - کپڑے کو خون سے لتیڑنا۔ الشَّيْءُ اِلَى الْاَرْضِ - زمین پر ڈالنا۔</p>	<p>ضَرَجَ اِن ضَرُوحًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا - الثَّوْبُ بِالدَّمِ - کپڑے کو خون سے لتیڑنا۔ الشَّيْءُ اِلَى الْاَرْضِ - زمین پر ڈالنا۔</p>

ہونا۔ آفتاب کا غروب ہونا۔ یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔
 ضَرَعٌ دَنٌ مَضْرَعًا - فوسہ گھوڑے کو سدھانا۔
 ضَرَعٌ دَنٌ، ضَرَاعَةٌ وَضَرِيعٌ رَسٌ، ضَرَعًا وَضَرِيعٌ دَنٌ، ضَرَاعَةٌ، كَزُورٌ ہونا۔
 إِلَيْهِ فَرَوْتِي كَرْنَا، اَنكساری کرنا۔ صفت دَضَارِعٌ وَضَرِيعٌ، ج۔ ضَارِعُونَ وَضَرِيعٌ وَضَرَعَةٌ۔
 ضَرَعٌ - مِنْ فُلَانٍ، چکے چکے قریب آنا۔
 ضَرَعَتِ الشَّمْسُ، سورج کا ڈوبنا یا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الْقِدْرُ لَمْ تَدِي كَلْبِنِي كَيْ قَرِيبٌ ہونا۔ ضَرَعٌ الرِّبِّ، شیرہ کا اچھی طرح نہ پکنا۔
 ضَارِعَةٌ - مِثَابٌ ہونا۔ سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 اَضْرَعَتِ - الشَّاقَةُ بَكْرِي كَيْ تَهْنُونَ كَا نُوَارٌ ہونا یا بڑا ہونا۔ صفت رَضْرَعَاءُ وَضُرُوعٌ وَضَرِيعٌ وَضَرِيعَةٌ، بچہ پیدا ہونے سے پہلے دودھ اترانا۔
 اَضْرَعُ الرَّجُلُ، ذَلِيلٌ كَرْنَا۔
 يَفْلَانٌ مَالًا، كَيْ لِي مَالٌ نُوْرٌ كَرْنَا - الْحَيُّ فُلَانًا، بِنَارٍ كَا كَيْ كُو كَزُورٌ وَضَرِيعٌ كَرْنَا۔ اور اسی سے یہ مثل ہے کہ "الْحَيُّ اَضْرَعَتْنِي" لِلنُّوْمِ، حاجت کے وقت ذیل ہونے کے موقع پر بول جاتی ہے۔
 تَضْرَعُ ذَيْلٌ ہونا، چکے چکے قریب آنا۔
 اِلَى اللّٰهِ، فَا تَعَالَى سَعَا جَسَدِي سَعَا وَكَرْنَا - الظِّلُّ، سایہ کا سکرنا۔
 تَضَارَعًا، اِيكٌ دُوسَرِي كَيْ مِثَابٌ ہونا۔
 اِسْتَضْرَعُ - لَهْ، اَنكساری کرنا۔ ذَيْلٌ ہونا۔
 الضَّرْعُ، مَعْنٌ، ج۔ ضُرُوعٌ۔
 الضَّرْعُ، مِثَابٌ، رَسِي كِي لَوِي، ج۔ ضُرُوعٌ۔
 الضَّرْعُ، مَعْنٌ، بَصِيْفٌ، بَزُولٌ - الضَّرْعُ

كَزُورٌ، بَصِيْفٌ، بَرَّجِيوِيٌّ، جَزِيْرٌ۔
 الضَّرْعَاءُ وَضَرِيعَةٌ، مَعْنُ الشَّاءِ وَالبَقَرِ، بڑے مَعْنُ وَاَلِي كَبْرِي يَا كَا نِي۔
 الاَضْرَعُ، لَا غَر، كَزُورٌ، جُھُوْمَا۔
 المَضَارِعُ، مِثَابٌ، وَه فَعْلٌ جُوْرًا مَعْنُ حَالٌ وَ مَسْتَقْبَلٌ دُوْنُوْنِ كَيْ مَعْنِي دَعَا وَرَا مَعْنِي پَرِ اَتَيْنَ مِيْنِ سَعَا اِيكٌ حَرْفٌ زَايِدٌ كَرْنَا سَعَا، عِلْمٌ عَرُوْمٌ كِي اِيكٌ بَرَّكَا نَامٌ، ضَرْعٌ وَتَضْرَعَةٌ، شِيْرٌ كَا سَا كَامٌ كَرْنَا۔
 شِيْرٌ كَيْ مِثَابٌ ہونا۔
 الضَّرْعُ، شِيْرٌ، ج۔ ضَرَاغُمٌ - الضَّرْعَامُ وَضَرَاغَمَةٌ، شِيْرٌ، بَاوَرٌ، قَوِي۔
 الضَّرْفُ، دُوْدٌ يَا كَمِي وَغِيْرُ كَيْ رَكْنِي كِي مَشْكٌ، اَمَلٌ مِيْنِ يَہ قَرَفٌ ہے۔
 الضَّرْفَةُ، كَثْرَتٌ۔
 ضَرْكٌ رَكٌ، ضَرْكَةٌ، بے وَقُوْتٌ ہونا۔
 الضَّرِيْكُ، اَحْمَقٌ، اَنْدَهَا، نَجْمًا، بِدَحَالٍ، فِقِيْرٌ نَزْدَهٌ، ج۔ ضَرَايِكٌ وَضَرْكَاءُ۔
 الضَّرَاكُ، مَرْتَا آوِي، مَضْبُوْبٌ تَوَا آوِي، شِيْرٌ ضَرْمَدٌ رَسٌ، ضَرْمًا، سَمْتٌ جُھُوْكَا يَا عَفْبِنَا ك ہونا۔ ضَرْمَتِ النَّارُ، آگ كَا بَرَكْنَا، عَلَيْهِ، عَفْصٌ سَعَا بَرَكْنَا۔
 فِي الطَّعَامِ، رَحْمٌ سَعَا كَهَانَا۔
 اَضْرَمٌ وَضَرَمٌ وَاسْتَضْرَمَ، النَّاسُ آگ جَلَانَا، رُوْشَنٌ كَرْنَا۔
 اَضْطَرَمْتُ وَتَضْرَمْتُ، النَّاسُ، آگ كَا بَرَكْنَا، تَضْرَمُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ، عَفْصٌ سَعَا بَرَكْنَا، اَضْطَرَمُ المِثْيَبُ، بُرْهَا پَا نُوَارٌ ہونا۔
 الضَّرْمُ، مَعْنٌ، جُھُوْكٌ كَا عَفْصٌ، اِيْنَدُ مَعْنٌ "نَفْخْتُ فِي عَيْنِي ضَرْمًا" جَبٌ كُوْنِي بے نِيْجِہِ اُوْرِي بے فَائِدِہِ كَامٌ كِيَا جَا نِي اس وَقْتِ يَہ مِثَابٌ بُولِي جَاتِي ہے۔
 الضَّرْمُ، جُھُوْكَا، عَقَابٌ كَا جُھُوْزِ، الضَّرْمَةُ، چَنگَارِي، آگ دُجَرٌ، ضَرْمٌ۔

الضَّرَامُ، بَرَّكٌ، مَعْنٌ جُھُوْبِيٌّ، وَسِيْعٌ مِيْدَانٌ۔
 الضَّرَامَةُ، جَلْتِي ہُوْنِي كَلْوِي، وَدَحْتٌ بَطْمٌ۔
 الضَّرِيْمُ، جَلَا ہُوا، الضَّرِيْمُ، اِيكٌ قَسْمٌ كَا كَرْنَدٌ۔
 ضَرَا يَضْرُوْ ضُرُوًّا، العِرْقُ، رَگ سَعَا نُوْنٌ اِيْسَا ہِنَا بَرَبَنْدِ نَہ ہوتا ہوں۔
 الرَّجُلُ، چِيْنَا۔
 ضَرِي يَضْرِي ضَرَاوَةً وَضَرِي وَضَرِيًا وَضَرَاوَةً، پَالشِي، كَيْ چِيْنَدَا ہست شُوْقٌ رَكْنَا (ضَرِي وَضَرَاوَةً وَضَرَاوَةً) كَيْ مِثَابٌ، اَلْكَلْبُ بِالصَّيْدِ، كَيْ كَا شَكَارٌ پَرِ شُوْگَرٌ ہونا، كُوْشْتٌ وَنُوْنٌ سَبٌ كَهَا جَانَا، صَفْتٌ (ضَرِي وَضَرَاوَةً) مَوْنَكٌ، ضَرِيَّةٌ، ج۔ ضَوَارٌ۔
 ضَرِي وَضَرِي، اَلْكَلْبُ بِالصَّيْدِ كَيْ كُوْشَكَارٌ كَا عَادِي بَانَا، سَدْحَانَا، شَكَارٌ كَيْ لِي اَكْسَانَا، اَضْرِي الرَّجُلُ جُھَاكٌ وَآلٌ بِيْنِي پِيْنَا۔
 اِسْتَضْرِي، لِلصَّيْدِ، شَكَارٌ كُوْبِي جَبْرِي مِيْنِ پَرَانَا۔
 الضَّرَاءُ، مَعْنٌ، كُجَانٌ وَرَحْتٌ، وَسِيْعٌ كَهْلَا مِيْدَانٌ، پُوْشِيْدِيْكٌ۔
 الضَّرِي، مَعْنٌ، لُطَانٌ كِي تِيْزِي۔
 الضَّرُوْ شَكَارِي كَتَا، مَوْنَكٌ، ضَرُوْتَةٌ، ج۔ ضَرَاءٌ وَضَرِي، اِيكٌ قَسْمٌ كَا دُخْبٌ۔
 الضَّرِي، اِيكٌ قَسْمٌ كِي بِيْنِي۔
 الضَّرَاوِي، الضَّرَاوِي كِي جَمْعٌ - مِيْنِ الحَيَا نَاتِ، دَرَنْدِہے۔
 ضَرِي يَضْرِي ضَرِيًا، العِرْقُ، پَالدَامٌ، رَگ سَعَا نُوْنٌ ہِنَا، صَفْتٌ (ضَرِي) ضَرْدَسٌ، صَدْرًا، بِدَحْلِقٌ ہونا، اَضْرُ - عَلَيْهِ، بَحْلٌ كَرْنَا - اَضْرُ - پِيْنَا۔
 الاَضْرُ، بِدَحْلِقٌ، تَنگٌ بَا چُوْنِ وَآلَا ہِنَا، وَآلُوْنِ كَيْ مِثَابٌ، جَبْرٌ سَعَا صَا فِ بَاتِ نَہ كَرْنَا

<p>گفتگو کرلانا، خلط ملط کرنا۔ الثوب کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا۔ الشيء جمع کرنا۔ أَضْفَتُ - الحَالِيَةُ المُدْبِيَا - خراب کو شک سے بیان کرنا۔ كَمَفَّتْ - النَّبَات - سبزی کا مسٹھا بنانا۔ أَحْطَفْتُ - الحَطْب - کڑی کو اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔ الضُّفْتُ - سبز و خفک گھاس کا مسٹھا۔ مِنَ الخَبْرِ والامير - مخلوط خبر و امر جس کی کوئی حقیقت و بنیاد نہ ہو۔ ج۔ أَضْفَانُ - أَضْفَانُ - أَحْلَامٌ - دُاؤنِے خواب، مخلوط خوابیں جن کی حقیقت بیان نہ ہو سکے۔ کلامٌ مَضْفٌ - نامباک کلام۔ التَضْفِيْتُ - مم - بارش سے تر زمین یا نباتات۔ ضَفَضْتُ - الشَّيْخُ اللُّقْمَةُ - بوڑھے کا بے دانتوں کے لقمہ چبانا۔ مسوڑھوں سے لقمہ چبانا۔ الرجل - غير واضح کلام کرنا۔ الكلام - زیادہ کرنا۔ ضَعَطَةُ رِف، ضَعَطَا وَاضْطَعَطَا - پھوڑنا بھینچنا، بھیر کرنا۔ تنگی کرنا۔ ضَاعَطَةُ ضِعَاطَا وَاضْطَاعَطَةُ - ایک دوسرے کو بھینچنا۔ تنگ کرنا۔ تَضَاعَطُوا - ایک دوسرے کو بھینچنا۔ تنگ کرنا۔ انضَغَطَ - مغلوب ہونا۔ الضُّغَطَةُ - تنگی، بے آرامی، بھوری، سختی۔ الضُّغَطَةُ - تیر، تنگی، اضطراب۔ ایک دفعہ کا پھوڑنا۔ ایک دفعہ کا بھینچنا۔ الضُّغَطَانَا - محافظ، نگہبان۔ الضُّغُوطُ - کاہوس کی بیماری۔ الضُّغِيْتُ - کزور رلے والا۔ ج۔ ضَغَلِي - مُونُث - ضَغِيظَةٌ -</p>	<p>کتاب کی سطور کا درمیانی فاصلہ۔ الأَضْفَانُ مِنَ الجسد - جسم کے اعضایا یا ہڈیاں۔ الضُّعْفُ - کزوری، عقل و رلے کی کزوری۔ الضُّعْفَانُ - ج۔ ضَعْفَانِي وَاضُّعْفُونُ کزور۔ الضُّعْفِيْتُ - کزور۔ ج۔ ضَعْفَانُ، ضَعْفَاءُ - وَضَعْفَةٌ وَضَعْفِيٌّ - مُونُث - ضَعِيْفَةٌ - الضُّعِيْفُ مِنَ الكلام - درجہ فصاحت سے گرا ہوا کلام۔ الضُّاعْفَةُ - مِنَ الدُّرُوجِ - ایسی زرہ جس کے طلقے دہرے دہرے ہوں۔ ارضٌ مُضَعْفَةٌ - وہ زمین جس پر ہلکی بارش پڑی ہو۔ ضَعِلَ رِسٌّ ضَعْلًا - ماں باپ کے آپس میں قریب النسب ہونے سے بچہ کاپٹے جسم والا ہونا۔ ضَفَا يَضْفُو ضَفْوًا - پھینچنا۔ پوشیدہ ہونا۔ أَضَعُّ - القوم - سرسبز باغ میں ہونا۔ فَارَحَ وَتِي كِي زِنْدِكِي بَسْرِكِي - أَضَعْتُ وَأَضْطَقْتُ - الارض - زمین کا سرسبز و شاداب ہونا۔ الضُّغِيغُ - سرسبز، شادابی، تروتازگی۔ الضُّغِيغَةُ - سرسبز و شاداب باغ۔ آسودہ و خوش حال زندگی، پتلا گزردھا ہوا آٹا، لوگوں کی مختلط جماعت۔ مَمْلُتٌ آدمیوں کی پارٹی۔ ضَعَبَ رِف، ضَعْبًا - بھیرے یا خرگوش کی طرح آواز کرنا۔ الضُّغِيْبُ وَاضُّغَابٌ - خرگوش اور بھیرے کی آواز۔ الضُّغِيْبُ - لومڑی کا بچہ، کزور آدمی، ایک قسم کی گھاس۔ ج۔ ضَغَابِيْنُ - ضَعَفَ رِف، ضَعْفًا - الحَدِيثُ -</p>	<p>ج۔ ضَعْفٌ - المُضَعْفُ - بد خلق، خستہ ناک۔ ضَعْفَةٌ رِف، ضَعْفًا - ہاتھ سے چھین لینا۔ كَعْفَانُ - القوم - قبیلہ کے لیے بھگڑنا۔ الضُّعْيَانُ - قابل و ثوقی محافظ انسان کے بال بچے، خرگاز، پانی بھرتے ہوئے بھگڑنے والا۔ ضَعْفَةٌ - گرا کر زمین کے برابر کر دینا۔ تَضَعُّعٌ - عاجزی کرنا۔ ذلیل ہونا۔ کزور ہونا۔ بیماری یا غم کی وجہ سے خست ہونا۔ مال کا تھوڑا ہونا۔ کہتے ہیں۔ "تَضَعُّعٌ بِدِ الدَّهْرِ" - یعنی زمانہ نے اسے ذلیل و عاجز کر دیا۔ الضُّعْفُ وَاضُّعْفَانٌ - ہر کزور ہرگز بے رائے تدبیر کا آدمی۔ الضُّعْفَةُ - مم - شدت، انکساری۔ ضَعَطَةُ رِف، ضَعَطًا - ذبح کرنا۔ ضَعَفَ رِف، ضَعْفًا وَضَعْفًا - و ضَعَفَ رِف، ضَعْفًا و ضَعْفِيَّةٌ - کزور ہونا۔ ضَعَفَ رِف، ضَعْفًا - القوم - زیادہ کرنا۔ - الشيء - دو چند کرنا۔ ضَعْفَةٌ - دو چند کرنا۔ کزور کرنا۔ ضَعَفَ الحَدِيثُ - ضعف کی طرف منسوب کرنا۔ ر۔ وَاضُّعْفُوْا وَاضُّعْفُوْا کسی کو ضعیف پانا، یا خیال کرنا۔ أَضَعَفُ - دو چند کرنا۔ کزور کرنا۔ ضعف مفعول۔ مَضْعُوْنٌ بِدِ مَضْعَفٍ - جیسے کہتے ہیں۔ "أَسْعَدَكَ اللهُ تَعَالَى فَهُوَ مُسْعِدٌ - مُسْعِدٌ - ضَاعَفُ وَاضُّعْفَانُ - تَضَاعَفَ الشيء دو چند ہونا۔ الضُّعْفُ وَاضُّعْفَانُ - کزوری۔ ضَعْفُ - الشيء - دو گنا۔ دو چند۔ ج۔ أَضْعَانُ - أَضْعَانُ الْكِتَابِ -</p>
--	--	--

<p>پارٹی۔ صَفَطَةُ (ن) صَفَطًا - پالنے والی۔ رسی سے مضبوط باندھنا۔ الرجل۔ اپنی حاجت پوری کرنا۔ يَسْتُجِيبُ۔ پانچا کرنا۔ صَفَطَرِكُ، صَفَاطَةٌ۔ ڈھیلے اور بڑے پیٹ والا ہونا۔ جاہل اور کمزور رائے والا ہونا۔ تَصَافَطَ - اللَّحْمُ - گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔ الصَّفَطَةُ - جمالت، رائے کی کمزوری۔ الصَّفَاطُ - فا۔ قریب کا مسافر۔ الصَّفَافَةُ - لاو اوٹ، رزیل لوگ، شتر بان۔ الصَّفَاظُ وَالصَّفِيفُ وَالصَّفِيفُ - موٹا۔ ڈھیلے۔ بڑے پیٹ والا۔ بے وقوف۔ بوجھل، ساربان۔ الصَّفَاظُ - رزیل لوگ۔ صَفَقَ (ن) صَفَقًا - الیہ کسی کے پاس جا کر بیٹھنا۔ بِحَاجَتِهِ - حاجت پوری کرنا۔ بِجِلْبِهِ - لات مارنا۔ مَعَ الصَّعِيفِ - ساتھ آنا۔ بِهَ الْأَرْضِ - زمین پر گرانا۔ فَلَانًا - کسی کے سر پر لات مارنا۔ عَلَيْهِ - ظلم کرنا۔ تَصَافَنَ - القومُ عَلَيْهِ - مل کر بد کرنا۔ الصِّفْقُ وَالصِّفْقُ - بیوقوف، چھوٹے قدم والا۔ موٹا۔ صَفَا يَصْفُو صَفْوًا - الدَّمُ - سرکا بہت بالوں والا ہونا۔ حَوْضُ كَانَارٍ - حوض کا کناروں پر سے بنا۔ کپڑے کا پورا ہونا۔ العَنَقَا - جانپ، ٹٹنی۔ صَفْوَانٌ - صَفْوَةُ العَيْشِ - مرفحہ الحالی۔ صَفَقَ (ن) صَفَقًا - آواز کرنا۔ صَفَقَهُ (ن) صَفَقًا - دبانا۔ الامْرُ فَلَانًا - تنگ ہونا۔ هُ بِالْحُجَّةِ - دلیل سے مغلوب کرنا۔ صَفَقَ (ن) صَفَقًا - زور سے چھوٹنا۔ العَصَلُ - تھوڑا پانی۔</p>	<p>بہت پانی والا چشمہ۔ مَاءٌ مَصْفُوفٌ وہ پانی جس پر بیٹھتے تھے۔ صَفَدَا (ن) صَفَدًا - تھپڑ مارنا۔ صَفَدَعَ - المَاءُ - پانی کا مینڈکوں والا ہونا۔ الرجلُ - سکرنا۔ گوز کرنا۔ الصَّفَدَعُ - مینڈک۔ جہ صَفَادِعُ وَصَفَادِي - واحد (صَفَادِعَةٌ) صَفَرَرَضٍ، صَفَرًا وَصَفَرًا - الحَبْلُ رسی بٹنا۔ الشَّعْرُ - بال گوندنا۔ صَفَرَا البِنَاءَ - عمارت کو بغیر چوڑے اور گارے کے پتھروں سے بنانا۔ الرجلُ - دوڑنے میں کودنا۔ الدَّابَّةُ جانور کے لگام لگانا۔ صَفَرَرَهُ - عَلَى الامرِ - مدد کرنا۔ الصَّفَرُ - گندھا ہوا ہونا۔ بٹا ہوا ہونا۔ الصَّفَرُ - مہم۔ کجاوہ کا تنگ۔ گندھے ہوئے بالوں کی ایک لٹ یا زلف۔ ریت کا ایک بڑا تودہ۔ جہ - صَفُورٌ وَأَصْفَارٌ۔ الصَّفَارُ - اونٹ کے پالان کا تنگ۔ جہ - صَفْرٌ۔ الصَّفِيرَةُ - ریت کا ڈھیر۔ الصَّفِيرُ - گندھے بالوں کی رسی سمندر کا کنارہ۔ کجاوہ کا تنگ۔ الصَّفِيرَةُ - زلف جہ - صَفَايِرٌ - كَنَانَةُ صَفِيرَةٍ - بھرا ہوا ترکش۔ صَفَرَدَن، صَفَرًا - کوونا۔ پھاندنا۔ فَلَانًا - دفع کرنا۔ ہاتھ یا پاؤں سے مارنا۔ - الفرس - گھوڑے کے لگام لگانا۔ - البَعِيرُ - اونٹ کے منہ میں زبردستی لقمہ ڈالنا۔ إصْفَرَهُ - باوجود کہ بہت کے لقمہ ڈالنا۔ الصَّفَارُ - پھل خورد۔ الصَّفِيرَةُ - بڑا لقمہ۔ جہ صَفَايِرٌ۔ صَفَصَفَهُ - القوم - لوگوں کی جماعت،</p>	<p>المَصْفُوطُ - پست زمین۔ جہ - مَصَافِطٌ۔ صَفَرَدَن، صَفَرًا - الشَّيْءَ وَيَسُ - دانتوں کے کاٹنا۔ الصَّفَامَةُ - دانتوں سے کاٹ کر پھینکی ہوئی چیز۔ الصَّفِيمُ - جہ - صَفَايِمٌ - وَالصَّفِيغِيُّ شير - الصَّفِيمُ - کٹنے والا۔ صَفَقَ (ن) صَفَقًا - عَلَيْهِ - کینہ رکھنا۔ إِلَيْهِ - مائل ہونا۔ جھکا۔ إِصْطَفَنَاهُ بخل کے نیچے لینا۔ اصْطَفَعَنَ وَتَصَافَعَنَ - القومُ - ایک دوسرے سے کینہ رکھنا۔ الصَّفَعُ - کینہ، شوق، کجی، جھکاؤ، بخل، جانب گود، پہاڑ کا پہلو۔ الصَّفَاغِنُ وَالصَّفَعِنُ - کینہ ور۔ قَوَسٌ صَفَاغِنٌ - مٹھا گھوڑا جو بغیر مارے سے چلے، عُودٌ صَفَعِنٌ - ٹیڑھی لکڑی۔ الصَّفَعِينَةُ - کینہ۔ جہ - صَفَاغِنٌ۔ صَفَا يَصْفُو صَفْوًا - الْمُقَامِرُ - جواری کا خیانت کرنا۔ الیہ۔ عاجزی کرنا۔ صَفْوًا وَصَفَاءً - السِّنُّورُ - بلی کا مياؤں مياؤں کرنا۔ تَصَافَعِي - بھوک یا مار سے اینٹھنا اور چلانا۔ الصَّفَاءُ - ذلیل آدمی کی آواز۔ صَفَدَن، صَفَدًا وَصَفَدًا - القومُ عَلَى المَاءِ أَوِ الطَّعَامِ - پانی یا کھانے پر بیٹھ کرنا۔ صَفَدًا، الشَّيْءَ۔ تَصَافَتَ - القومُ - بیٹھ کرنا۔ کم مال والا ہونا۔ صَفَتَ - الحال - تنگ حال، بد حال۔ الصَّفَةُ - جماعت (وَالصَّفَةُ) نہر کا کنارہ۔ مِنَ البَحْرِ - سمندر کا ساحل۔ جہ - صَفَاتٌ۔ الصَّفَقُ - مہم۔ مال کی قلت، عیال کی کثرت حاجت، کمزوری، ملہدی۔ الصَّفَاةُ - بے عقل۔ عَيْنٌ صَفْوَةٌ</p>
--	--	--

<p>اخلاق کی وسعت۔ الضلع والضلوع۔ پسی۔ ج۔ اضمع و ضلوع و اضلاع۔ ضلع البیطین خمر سے کی قاش۔ ضلع السلیق چقندر کے پتے کی موٹی رگ۔ الضلع۔ اکیلا پلا پھاڑا، ابرو، جال، پھندا۔ الضلعۃ۔ پہلو۔ الضلعۃ۔ ایک قسم کی پھل۔ الاضلع۔ مضبوط موٹا آدمی۔ ج۔ ضلع۔ الضلوع۔ زمین کا ڈھلوان۔ الضلیع مضبوط پسلیوں والا۔ مضبوط۔ ج ضلع۔ مؤنث ضلیعۃ۔ قوس ضلیع و ضلیعۃ و مضلوعۃ جس مکان کی کڑی میں میلان اور جھکاؤ ہو۔ المضلع۔ من الاحمال۔ بوجھل، عاجز کرنے والا بوجھ۔ المضلع۔ مفع۔ پہلوؤں والا۔ دھاری دار کپڑا۔ ضمدن، ضما۔ الشیء۔ جمع کرنا۔ الشیء الیہ۔ اپنی طرف کھینچنا۔ علی الشیء۔ قبضہ کرنا۔ فلانا الیہ۔ ساتھ رکھنا۔ قمتہ الی صدیرہ۔ معاقلہ کرنا۔ گلے ملنا۔ الحرف۔ حرف کو صمد کی حرکت دینا۔ ضامۃ۔ الیہ۔ ملانا۔ کھینچنا۔ آہنۃ۔ الشیء الی فلان۔ فلاں کی طرف بھیجنا۔ الضمد۔ ملنا۔ علی کذا۔ مستعمل کرنا۔ تضام۔ القوم۔ باہم جمع ہونا۔ تضمد۔ الشیء۔ پوری طرح شامل ہونا۔ الضطد۔ اپنی طرف کھینچنا۔ علیہ لپٹنا داوی ہونا۔ الضمد۔ م۔ روا الضمۃ، پیش۔ الضمام۔ ملانے کا ذریعہ۔ الضموم۔ دو لمبی پناروں کے درمیان کی داوی۔</p>	<p>الضلعۃ۔ گراہی۔ ذہب دماہ ضلعۃ۔ اس کا خون رائیگان گیا۔ ذہب ہنکۃ۔ معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ الضلعۃ۔ کامل رہنما۔ الضالۃ۔ مرنٹ الضال۔ گم شدہ چیز جس کی تلاش کی جائے۔ ج۔ ضوال۔ الضلوع گراہ۔ الضلیع۔ بہت زیادہ گراہ۔ الاضلوعۃ۔ غلطی۔ گراہی باطل۔ ج۔ اضالیع۔ المضلع۔ جس میں لوگ گراہ ہوں۔ المضیل۔ فا۔ سراب المضلۃ والمضلۃ۔ گراہی۔ ارض مضلۃ و مضلۃ۔ وہ زمین جس میں راستہ بھول جائیں، جمع میں ارضون مضلات کہتے ہیں۔ المضلل۔ بہت گراہ، گراہی کا بہت بھلا کرنے کرنے والا جس کو کسی کی توفیق نہ ہو۔ ضلع دن، ضلوعۃ۔ قوی مضبوط پسلیوں والا ہونا۔ صفت (ضلیع) ضلع دن، ضلعا۔ الشیء۔ ٹیڑھا ہو جانا۔ صفت (ضالیع)۔ الرجل۔ کسی پر پسلی پر مارنا۔ علیہ۔ ظلم کرنا۔ ضلیع رس، خلعا و ضلعا۔ پیدائشی ٹیڑھا ہونا۔ صفت (ضلیع) ضلیع مع فلان۔ جھکتا۔ الرجل۔ شکم سیر یا سیراب ہونا۔ ضلعۃ۔ جھکتا۔ بوجھل کرنا۔ تضلع نوب سیر یا سیراب ہونا۔ تضلع من العلوم۔ علوم سے واقف نہ پانا۔ الضطلع۔ قوی ہونا۔ یخنیلہ۔ بوجھلے کر کھڑا ہونا اور اس کی قوت رکھنا۔ الضلع۔ م۔ میلان، کجی۔ الضلع۔ م۔ پیدائشی ٹیڑھا پن۔ قوت</p>	<p>الضیکل۔ بڑے بڑے آدمی، تنگ فہم۔ ج۔ ضیاکل۔ وضیاکلۃ۔ الاضکل تنگ۔ ضل رس، ضلالا و ضلالۃ۔ کچ راہ ہونا۔ دین سے پھرنا۔ حق راستہ سے ہٹنا، بھٹکنا، صفت (ضال) ج۔ ضلال و ضالون۔ الضلیق اوعنه۔ راستہ بھٹکنا۔ الضی عنه۔ چیز کا ضائع ہونا۔ ضل سعینۃ کوشش میں ناکام ہونا۔ الشیء۔ چیز کا تلف ہونا۔ الرجل۔ مرکبی اور ہڈیاں ہوجانا۔ الرجل۔ کسی کو بھول جانا۔ ضلۃ، تضلیلا و تضلالا۔ گراہ کرنا۔ گراہ کتنا۔ ضل۔ الشیء۔ ضائع کرنا، تباہ کرنا، ہلاک کرنا۔ دفن کرنا۔ غائب کرنا۔ اللہ۔ اللہ کا کسی کو گراہ کرنا۔ فلان قربۃ۔ کسی کے گھوڑے کا ایسا بھاگ جانا کہ پتہ نہ لگے کہاں گیا۔ الشیء او الرجل۔ گراہ پانا۔ ضال۔ گراہی کا دعویٰ کرنا۔ استعقل گراہ ہونے کو کہنا۔ ضل و الضل و الضلال و الضلالۃ۔ گراہ، باطل، ہلاکت، کہتے ہیں۔ هو ضل بن ضل او ضل بن ضل او ضل اضل او ضل اضل وہ گراہی میں منہمک ہے۔ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس کے باپ کا پتہ نہیں کہ کون ہے۔ ضلل۔ گراہی، پتھروں کے نیچے بنو والا پانی یا وہ پانی جو درختوں کے نیچے جو اور اس کو دھوپ نہ لگی ہو۔ ضلۃ۔ ایک گراہی، حیرانی، نیکی یا بھلائی کی طلب میں غیر ماضی۔</p>
--	---	---

ضَهَبْتُ لَهْبِي وَضَهَبْتُ لَهْبِي هَبِي
وَضَهَبْتُ - المَرَاةُ عَوِيَتْ كَأَكْثَرِ
الاولادِ هَوْنَا.

ضَهَبَتْ رِفٌ هَرَبْنَا - بالنارِ - آگ
سے متغیر کرنا۔

ضَهَبَتْ رِفٌ هَرَبْنَا - كَزُورِ هَوْنَا -

ضَهَبَتْ - اللَّحْمُ - نِيْمٌ بَرِيَانٌ كَرْنَا -

القوس - کمانوں کو نرم کرنے کے لیے

آگ پر تپانا۔ صفت (ضَهَبْنَا) ضَهَبَتْ

القوم - زیادہ ہونا۔ تیز چلنا۔

ضَاهِبَةٌ مُضَاهِبَةٌ - بُرَا بَرْتَاؤُ كَرْنَا - گالی

گولی کرنا۔ ضَهَبْتُ القوم - مخلوط لوگ

التَّيْبَهُبُ - ہاڑ کا وہ حصہ گرم، جس پر سخت

گرمی پڑتی ہو۔

ضَهَبَتْ رِفٌ هَرَبْنَا - سخت روزنا۔

ضَهَبَتْ رِفٌ هَرَبْنَا - غلبہ کرنا۔

أَضْهَدُ وَأَضْهَدُ بِهِ وَأَضْهَدَا -

دباؤ ڈالنا۔ ظلم کرنا۔ استانا۔ مجبور کرنا۔

بوجھ، مذہب، نقصان دینا۔

الضُّهْدَاةُ - فہر، قمر - الضُّهَيْدُ -

بہت سخت۔

الضُّهْرُ وَالضُّاهِرُ - پہاڑ کی چوٹی۔ وادی۔

الضُّهْرُ - کچھوا۔

ضَهْرَةٌ وَضَهْرَةٌ رِفٌ هَرَبْنَا وَضَهْرًا وَضَهْرًا

سخت روزنا۔ الذَّابَّةُ - جالور کا آگے

کے دانوں سے کاٹنا۔

ضَهْلٌ رِفٌ هَرَبْنَا وَضَهْلًا وَضَهْلًا - اللَّبَنُ -

دودھ کا تھوڑا تھوڑا جمع ہونا۔ النَّاقَةُ

وَلَطِيخًا - اڈھنی وغیرہ کا دودھ کم ہونا۔

صفت دَقْعُلٌ - ج - ضَهْلٌ -

ضَهْلَةٌ - حَقْلَةٌ - حق کم کرنا۔ سو

تَضَهَّلَ - إِلَى الْفُلَانِ - بغیر ریشے کی

نیٹ کے کسی طرف ٹوٹنا۔

أَضْهَلُ - النَّخْلُ - صفت عجاہ کچھوئوں

کا پنے لگنا۔ إِلَى الْفُلَانِ مَالًا - مال

کا موٹا اور ٹھوس ہونا۔
الضَّنْطُ - القوم - بھیڑ کرنا۔ الضَّنْطُ
تنگی، مصیبت۔

الضَّنْطُ - م - چربی، نغاط، شیخی۔

الضَّنْطُ - کتوں وغیرہ پر بڑی بھیڑ۔

ضُنْكَ دَكٌ هُنَاكَ - کوزہ دے یا جسم

یا عقل والا ہونا۔ صفت - ضُنْكَ - ضُنْكَ

ج - ضُنْكَ - ضُنْكَ - ضُنْكَ وَضُنْكَ وَضُنْكَ

ضُنْكَ - تنگ ہونا۔

ضُنْكَ كُنْكَ - زکام والا ہونا۔

الضَّنْطُ - م - ہرنگ شے (مذکر مؤنث)

الضَّنْطُ - مذکر مؤنث، مضبوط جسم

والا۔ درخت۔

الضَّنْطُ وَالضَّنْطَةُ - نکام۔

الضَّنْطَةُ - م -

الضَّنْطُ - تنگ رنگی، تنگ گلوان، محض

خود ایک ضرورت کرنے والا۔ کٹی ہوئی چیز۔

ضِنِّي رِسٌ هُنِّي - بیماری سے کمزور و نحیف

ہونا۔ صفت دَقْعِي وَضِنِّي - الف

مقصودہ کے ساتھ صفت ہوتی اس میں

مذکر مؤنث، واحد جمع ہا ہیں اور

اگر کسبوں کے ساتھ ہوتے پھر تذکیر و

تانیف و صحت و جمع میں مطابقت

رہے گی۔

ضَانِي مُضَانَاةً - الشَّيْخُ أَوْ الْأَمْرُ

مکلف برداشت کرنا۔

أَضْحَى الْأَضْحَاةُ - المَرِيضُ كَلَانًا - بیماری

کا کسی کو سست و نا کارہ بنانا۔

السُّجْلُ - بیماری کی کمزوری سے

صاحب فراش ہونا۔

تَضَضِي - بیاہننا۔ اَضَضِي - کمزور ہونا

سست ہونا۔

الضَّنِي - بیماری، لاٹری، بد حالی۔

الضَّنُو وَالضَّنُو وَالضَّنِي - اولاد۔

الضَّنِي - خوفناک درد۔

مَضَامِيْنٌ - الْمُطْمِنٌ مِنْ
الْأَصْوَاتِ - غیر کل آواز۔

ضَنَقٌ رِسٌ هُنَا وَضِنًا وَضِنَةً وَ

ضِنَانَةٌ وَضِنَةٌ وَضِنَةٌ -

بالضَّنِي - بخل کرنا۔ ضَنَقٌ بِالْمَكَانِ -

مکان نہ چھوڑنا۔

الضَّنَقُ وَالضَّنَقَةُ - م - وہ چیز جس میں بخل

کیا جائے، خاص۔

الضَّنَقِي - بہادر۔ الضَّنِيْنُ - بخیل۔

لَا تَمَّا يَضُنُّ بِالضَّنِيْنِ - اس سے

بھائی چارہ رکھنا چاہیے جو تجھ سے

بھائی چارہ کے یہ فقرہ مثال کے طور

پر بولا جاتا ہے،

الضَّنَائِيْنُ - وہ چیزیں جن کی نفاست کی

وجہ سے بخل کیا جائے۔ ضَنَائِيْنُ

اللَّهُ عَمَّا تَعَالَى كِى مَخْلُوقٍ مِنْ خَوَاصِّ لَوْجٍ -

الضَّنَانَةُ - م - بخل کرنا۔ الْمُضَنَّةُ وَ

الْمُضَنَّةُ - وہ چیز جس پر بخل کیا

جائے۔ ج - مَضَانٌ

ضَنَادِنٌ مَضَانٌ وَضَنُوٌّ - چھپنا۔ بی

الارضین۔ جانا۔ السَّالُ - مال

زیادہ ہونا۔

ضَنَاتٌ رِفٌ كُنَّا وَضَنُوٌّ وَضِنِيْتٌ

رِسٌ هُنْنَا وَأَضْفَانَتِ الْمَرَاةُ

صحت کا بہت اولاد وال ہونا۔ صفت

رَضَانِيٌّ وَضَانِيَةٌ - ج - ضَوَارِيٌّ

رَضَطْنَا - کہہ دینا۔ سفسرانا۔

الضَّنَاةُ - الضَّنُّ - کلان، تسلی کی کثرت۔

ج - ضُنُوٌّ -

الضَّنُّ وَالضَّنُّ - اولاد اس کا

واحد نہیں،

الضَّنَاةُ وَالضَّنَاةُ - ضرورت۔

ضَنَبٌ رِفٌ هَرَبْنَا - بلو الارض۔ زمین

پر ٹپک دینا۔ ہ - قہر کرنا۔

ضَنَطٌ رِسٌ هَرَبْنَا - الطَّحْمُ - چربی

<p>الضَوْنَةُ - چھوٹی بچی۔ الضَيُونُ - پلا۔ بچ۔ ضَيَاوُنُ - الضَوْنَةُ - غور، لڑائی کا شور۔ ضَوِي يَضْوِي رَمِي ضَوِي - خَلْقَتَهُ - دُجھن سے تہی بڑی والا ہونا۔ ضَوِي رَضِي هَيَا وَهَيَا - اليه - ملنا۔ پناہ لینا۔ رات کو آنا۔ أَضْوِي - نچیف و دہلا ہونا۔ الرجل - کمرور کرنا۔ هُ حَقَّةٌ - کسی کا حق کم کرنا۔ الأَمْرُ - کچا کام کرنا۔ أَضْوِي المَرْأَةُ عورت کا کمرور بچہ بننا۔ الضَوِي الضَوَاءُ - اليه - ملنا۔ الضَاوِي - فَا - رات کو آنے والا۔ الضَاوِي کمرور، دہلا، اکری بڑی والا۔ مَوْثُ - ضَاوِيَةٌ - ضَاجِرٌ يَهْيِيحُ هَيَا وَهَيَا وَهَيَا وَهَيَا ہنہ والیہ - جھکا۔ مائل ہونا۔ ضَاجَتْ عِظَامُهُ - لاغری کی دہرے بڑیل کا مل جانا۔ ضَاخَتْ كَضِيحٌ ضَيْحًا - الپلاؤ۔ ملک کا خالی ہونا۔ ویران ہونا۔ ضَاخٌ وَضِيحٌ - الکیٹن۔ دودھ میں پانی ملانا۔ كَضِيحٌ - الکیٹن۔ دودھ کا پانی سے ملنا۔ الرجل - پانی ملا دودھ پینا۔ الضَيْحُ - مہ۔ ضمیر۔ والضَيْحُ پانی مادودھ، شوربا۔ ضَارٌ كَضِيحٌ كَضِيحًا - الأَمْرُ - نقصان دینا۔ اچھا دینا۔ ضَارٌ يَضْرِبُ ضَرْبًا ظَمًّا - حق کم دینا۔ الضَيْرُ - مہ۔ کچی۔ قِسْمَةٌ ضَرْبِي - ظالمانہ تقسیم۔ ضَاطٌ يَضِطُّ ضَيْطًا وَضَيْطَانًا - فِي مَضِيحٍ - موٹاپے کی وجہ سے چلنے میں جسم اور کاندھوں کو ہلانا۔ صفت۔</p>	<p>ضَارٌ يَضْرِبُ ضَرْبًا - سخت جھوکا ہونا۔ نقصان دینا۔ ضَارٌ يَضْرِبُ ضَرْبًا - سخت جھوکا ہونا۔ الذَّيْبُ وَنَحْوُهُ - بیٹھے وغیرہ کا جھوک سے چلانا۔ الضَوْرُ - سخت جھوک۔ الضَوْرُ - سیاہ بادل۔ الضَوْرُ - حقیر، ذیل۔ بد نصیب۔ ضَارٌ يَضْرِبُ ضَرْبًا - الغَمْرَةُ - پھل کو منہ میں چبانا۔ هُ حَقَّةٌ - حق کم دینا۔ ضَوِي ضَوَاءٌ وَضَيْضَاءٌ شور و غوغا کرنا۔ الضَوِي والضَوَاءُ والضَيْضَاءُ - شور و غوغا۔ ضَوَطٌ - الأَشْيَاءُ - بہت جمع کرنا۔ تَضَوَطٌ - جمع کرنا۔ الأَضْوَطُ - ٹیڑھے جڑے والا۔ یوقوت۔ الضَوِيضَةُ - احمق، حرمی کے پینے کی مٹی۔ ڈھیلا۔ خمیر۔ ضَاعَةٌ يَضْوَعُ ضَوْعًا حَرَكَةً وَنَاخِرَةً میں ڈالنا۔ گھبرا دینا۔ ضَاعَ الْمَسْكُ مشک کی خوشبو کا پھیلنا۔ الدَابَّةُ جانور کو دہلا کرنا۔ الصَّبِيحُ - بچہ کا رونے میں بیچ و تاب کھانا۔ تَضَوَعٌ - خوشبو کا جھکا۔ بچہ کا رونے میں بیچ و تاب کھانا۔ د۔ وَانضَاعٌ، الغَرِيحُ - پرندہ کے بچہ کا چوگے کے لیے اپنی ماں کی طرف بانوں کو پھیلانا۔ الضَوُوعُ وَالضَوُوعُ - رات کا ایک پرندہ، نر، اُلُو۔ الضَوَاعُ - رات کے پرندہ کی آواز۔ الضَوُوعُ - خوف زدہ۔ ضَاغٌ يَضْوُغُ ضَوْغًا - عین الشَّوْحِ - الگ ہونا۔ ضَانٌ يَضْوِنُ ضَوْنًا - زیادہ اولاد ہونا۔</p>	<p>کو فلاں کی طرف کر دیا۔ إِسْتَهْلُ - الخَبْرُ - حسب مکان خبر طلب کرنا۔ الضَّمْلُ - جمع شدہ دودھ۔ تَمَوُّرٌ بِأَنِي - الضَّاهِلَةُ - مِن الضَيُونِ - کم پانی کا چشمہ۔ ضَهَيْتٌ تَضْهِي ضَهِيًا - المَرْأَةُ - عورت کا بے پستان والی اور بے دودھ والی ہونا۔ صفت (ضَهِيَاءُ) بج۔ ضَهِيٌ - ضَهَيْتِ الارضِ - زمین کا بھر ہونا۔ ضَاهِيٌ مَضَاهَاةٌ - الرجل - مشابہ ہونا الضَهِيُّ - مشابہ۔ ضَاءٌ يَضْوَعُ ضَوْعًا وَضَوْعًا وَضَيْعًا - الضَمْرُ وَغَيْرُهُ - چاند وغیرہ کا چمکنا روشن ہونا۔ ضَوًّا تَهْوِيَةٌ - البَيْتُ - روشن کرنا۔ چمکانا۔ عَنِ الأَمْرِ - پھرنا۔ أَضَاءٌ إِضَاءَةً - البَيْتُ - روشن ہونا۔ البَيْتُ - روشن کرنا۔ تَهْوِيَةٌ - اندھیرے میں اس لیے کھڑا ہونا کہ جو لوگ آگ کی روشنی میں ہیں، یہ ان کو دیکھ سکے۔ إِسْتِضَاءٌ - باہ۔ روشن ہونا۔ مِن فُلَانٍ - مشورہ کرنا۔ الضَوُّ وَالضَوُّ - بج۔ أَضْوَاءٌ وَالضَيَاءُ وَالضَوَاءُ - روشنی، الضَوِي وَالضَوِي - روشن کرنے والا۔ ضَاجِرٌ يَضْوِي ضَوْجًا - عَنِ كَذَا - مائل ہونا، پھر ملنا۔ اعراض کرنا۔ وَالضَجْرُ، الوَادِي - وادی کا وسیع ہونا۔ تَضَوُّجٌ - الوَادِي - وادی کا بہت پھیلاؤ ہونا۔ الضَوُّجُ - وادی کا موڑ۔ بج أَضْوَاجٌ - الضَوُّجَانُ - جھک، سخت ضَوُّجٌ - الکیٹن۔ دودھ میں پانی ملانا۔</p>
--	--	--

ضَاعٌ يَضِيْعٌ ضَيْعًا وَضَيْعَةً وَضَيْعًا
ضَيْعًا عَاً ضَائِعٌ هُوَ بِلَاكٌ هُوَ تَلْفٌ
هُوَ بِيَكْرٍ هُوَ صِفَتٌ (ضَائِعٌ)
جـ ضَيْعٌ وَضَيْعٌ
ضَيْعٌ - الشَّوْخُ كَهْرًا - كَمَ كَرْنَا - بِلَاكٌ كَرْنَا -
أَضَاعَهُ ضَائِعٌ كَرْنَا - كَمَ كَرْنَا - كَهْرًا -
أَضَاعَ الرَّجُلُ - بَهْتٌ جَائِدًا
وَالَا هُوَ -
تَضَيَّعَ - الْمِسْكُ - مَسْكٌ كَابِرٌ كَرْنَا -
مَسْكٌ كِي خَوْشِبُو كَابِيْنَا -
الضِّيَاعُ - مَعُ - اِيكٌ قِسْمٌ كِي خَوْشِبُو - بِي فَائِدَهُ
الضَّبِيْعَةُ - جَائِدًا - زَمِيْنٌ سِيْرٌ حَاصِلٌ تَعْمِيْرٌ
ضَبِيْعَةٌ - جَمْعٌ ضَيْعٌ وَضِيَاعٌ وَ
ضَبِيْعَاتٌ -
الضَّبِيْعَةُ بِبِيْشَةٍ -
الْمِضْيَاعُ - بَهْتٌ ضَائِعٌ كَرْنَا وَالَا -
الْمَضْبِيْعَةُ وَ الْمَضْبِيْعَةُ - مَهْمَا ضَائِعٌ هُوَ
كِي سَبَابٌ زَائِدٌ هُوَ -
ضَاعٌ يَضِيْعٌ ضَيْعًا - اِيْدٌ - مَائِلٌ هُوَ
هُوَ - ضَاعَتِ الشَّمْسُ - سُوْرَجٌ كَا
دُوْبِنِي كِي لِيْهِ جَمْعًا - السَّمْعُ عِيْنٌ
الْحَدِيْتِ - تِيْرٌ كَانْتَا نِيْهِ سِيْهِ جَانَا -
الرَّجُلُ - خَوْفٌ كَرْنَا - مِيْنَةٌ - دُنَا -
ضَاعَهُ يَضِيْعُهُ ضَيْعًا وَضِيَاعَةً - كِي
كَامَانٌ هُوَ - مَهْمَا لِيْهِ طَلْبٌ كَرْنَا -
ضَيْعَةً - مَهْمَا بِنَاتَا ضِيَاعَتٌ كَا كَهْرًا نِيْشِيْ كَرْنَا
ضَيْعَةً - اِيْدٌ - جَمْعًا - ضَيْعَتٌ -

الرَّجُلُ - مَائِلٌ هُوَ - بِيْشَةٌ - الشَّمْسُ -
سُوْرَجٌ كَا غُرُوبٌ هُوَ لِيْهِ مَائِلٌ هُوَ -
أَضَاعَتِ الرَّجُلُ - دُوْرْنَا - جَلْدِيْ جَلْنَا - خَوْفٌ
كَهْرًا - الشَّيْءُ اِلَى الشَّيْءِ - جَمْعًا -
سَارَادِيْنَا - مَلَايِنَا - الرَّجُلُ - نِيَاهُ
وِيْنَا - مَجْمُورٌ كَرْنَا - مَنَةٌ - دُنَا - عَلَيْهِ
جَمَاعَتًا - قَلَانًا عَلَى قَلَانٍ - مَهْمَا
اِتَارْنَا - الْكَلِمَةُ اِلَى الْكَلِمَةِ - اِيكٌ
كَلِمَةٌ دُوْسَرِيْ كَلِمَةٍ كِي طَرَفٌ اِيكٌ خَاصٌ
طَرَفِيْهِ سِيْ نَسْبَتٌ كَرْنَا
تَضَيَّعَتِ - مَهْمَا هُوَ - ضِيَاعَتٌ طَلْبٌ كَرْنَا -
تَضَيَّعَتِ الرَّجُلُ - مَائِلٌ هُوَ - الشَّمْسُ
غُرُوبٌ كِي لِيْهِ جَمْعًا -
الضَّائِعُ - اِيْدٌ - مَنَةٌ - تَضَائِفُ الْوَادِي
وَادِي كَاتِنٌ هُوَ -
اِسْتَضَاعَهُ ضِيَاعَتٌ طَلْبٌ كَرْنَا - اِسْتَضَاعَتِ
بِيْهِ - فَرِيَادٌ كَرْنَا - مِيْنٌ قَلَانٍ اِلَى
قَلَانٍ نِيَاهُ لِيْنَا -
الضَّيْفُ مَهْمَا وَاحِدٌ مَجْمُوعٌ مُرْتَبٌ - ضَيْفٌ
وَهَيْفَةٌ - جَمْعٌ اَضْيَافٌ وَهَيْوَةٌ وَ
ضِيَاْفٌ وَضِيْفَانٌ وَ اَضْيَافٌ -
الضَّيْفُ طِفْلٌ مَهْمَا كِي سَاْمَةٌ اَنِيْ وَالَا -
الضَّيْفُ - پَلُو -
الضَّيْفَةُ - مَهْمَا - الْمُضَافُ فِي الْحَرْبِ
جَمْعٌ مِيْ كَرْنَا هُوَ -
الضَّيْفُ وَ الْمَضْيِقَةُ - مَهْمَا لِيْهِ كَا كَرْنَا
مَهْمَا خَانَةٌ
الضَّيْفُ - بَرَا مَهْمَا لُوَا زِيْرَانٌ - الْمَضْيِقَةُ

وَالْمَضْيِقَةُ - غَمٌّ مَكْرٌ -
هَضَائِفٌ - الْوَادِي - وَادِي كِي پَلُو -
ضَائِقٌ يَضِيْقُ ضَيْقًا وَضَيْقًا - تَنَكُّ هُوَ -
صِفَتٌ (ضَيْقٌ وَضَائِقٌ وَضَيْقٌ)
الرَّجُلُ - بَخْلٌ كَرْنَا -
ضَيْقَةٌ تَضْيِقُ - تَنَكُّ كَرْنَا -
اَضَائِقَةُ اِضَائِقَةٌ - تَنَكُّ كَرْنَا - اَضَائِقُ
الرَّجُلُ - مَحْتَاجٌ هُوَ -
تَضَيَّقَ وَ تَضَائِقَ - تَنَكُّ كَرْنَا - تَضَائِقَ
الْاَمْرُ بِهٖ اَوْ عَلَيْهِ - اِسْ پَرَا كَم
مَشْكَالٌ هُوَ كَرْنَا -
ضَائِقَةٌ مُضَائِقَةٌ - سَخِيْ كَابِرْتَا وَ كَرْنَا -
الضَّيْقُ وَ الضَّيْقُ - سَخِيْ شَدِيْدٌ - سَخِيْ - اَفْسُوسٌ -
الضَّيْقُ وَ الضَّيْقُ - تَنَكُّ -
الضَّيْقَةُ وَ الضَّيْقَةُ - بَدْعَالٌ - مَحْتَاجِي -
جـ ضَيْقٌ وَ ضَيْقٌ -
الضَّائِقُ - تَنَكُّ - جـ ضَائِقَةٌ -
الضَّيْقُ - بَهْتٌ تَنَكُّ مَوْثٌ ضَيْقِيْ وَ
مَوْثِيْ -
الضَّيْقُ تَنَكُّ جَمْعٌ مَشْكَالٌ كَامٌ - وَرَهٌ - كَمَائِيْ
جـ مَضَائِقٌ -
ضَامَةٌ يَضِيْمُهُ ضَيْمًا - ظَلَمٌ كَرْنَا - وَبَاؤُ ذَا نَا -
ضَامَةٌ وَ اِسْتَضَامَةٌ - حَقْلَةٌ - كِي كَا
حَقٌّ كَرْنَا -
الضَّيْمُ - ظَلَمٌ - جـ ضَيْمٌ - ضَيْمٌ
الْجَبِيْلُ - پَارُ كَا كَرْنَا -
الضَّامَةُ - مَاجِتٌ - مَزُوْرَتٌ -

ط

طاط - الرَّاسُ وَ غَيْرُهُ - سِرٌّ جَمْعًا -
پست كَرْنَا نِيْچَا كَرْنَا - فَوْسَةٌ - كُوْرِيْ
كُوْرِيْ كَرْنَا كِي لِيْهِ اِسْ كِي دُوْنُوْ

كُوْرِيْ مِيْ اِيْرُلُ كَانَا - طاط طاط
الْمَرْأَةُ سَمَّرَهَا - عَمْرَتٌ كَا پَرُوْ
ذَانَا - طاط يَدْرُ بِالْعِنَانِ -

<p>طرف منسوب طَبْرًا دَن، طَبْرًا بَهْرًا۔ الطَّبْرُ: پہاڑ کا رکن، دو کوٹن والا اونٹ۔ طَبْرَةٌ: گارے سے پہنا۔ الطَّبْرُ: ہر ایک کالی پھیر۔ الطَّبْرُ: بیڑیا۔ الطَّبْرُ: لوگ۔ الطَّبْرَةُ: ایک ہی چھری جس سے لوگ پھول کر تیرے میں عام اور صحیح المُخْلِطَةُ ہے۔ طَبْرٌ: طَبْرٌ: الماء والانسيل۔ پانی یا سیلاب کا آواز دینا۔ واوی کا ہننا۔ ہانی کو حرکت دینا۔ الطَّبْرَةُ: گیند کا بلا۔ الطَّبْرَةُ: مارنے کا کڑا۔ طَبْرٌ: الشیخ۔ تصویر بنانا۔ علیہ مر لگانا۔ الدارُ: سکہ ڈھاننا السيف: تلوار بنانا۔ ڈھاننا۔ الله الخالق: پیدا کرنا۔ الدلوة: ڈول بھرنا۔ طَبْرٌ: الله على قلبه۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر ہر گادھی، یعنی وہ نیکی کی توفیق سے محروم ہو گیا۔ طَبْرٌ: دس، طَبْرًا: گندا بھرنا۔ میلا کھیلا بھرنا۔ گندے اخلاق والا بھرنا۔ السيف: تلوار، زنگ پڑھ مانا، صفت، طَبْرٌ و أطبر: طَبْرٌ: کھلی الجھلی۔ حالت پر پیدا کیا مانا۔ طَبْرٌ: الإناث۔ بھرا، گندا کرنا۔ طَبْرٌ: بھرا، ڈھاننا۔ طَبْرٌ: بطبايح آبیٹو۔ اپنے باپ کے سے اخلاق اختیار کرنا۔ التهور بالتاء۔ دریا کے ہانی کا کناروں سے آبل پڑنا۔ بھر پڑنا۔ الطَّبْرُ: بھر مانا۔ ڈھاننا۔ الطَّبْرُ: صم مزاج، فطری، غصبت، مثال</p>	<p>صفت رأطبر، على سلسله و على كل أجوف۔ سر یا ہر کوئی چیز پر مارنا۔ طَبْرٌ: في الكلام۔ مختلف رنگوں میں کلام کرنا۔ طَبْرٌ: طَبْرًا و طَبْرًا۔ اللحم گوشت پکانا۔ الصبيح: بچہ کا حرکت کرنا اور بڑھنا۔ الطَّبْرُ: پکانا۔ الطَّبْرُ: الرجل ہکی ہوتی پھیر لینا۔ یا اپنے لیے پکانا۔ اللحم: گوشت پکانا۔ الطَّبْرُ: صم د۔ و الطَّبْرُ: ہکی ہوتی خوراک۔ الطَّبْرُ: ہڈی کا جھاگ ہکی ہوتی خوراک۔ الطَّبْرُ: پکانے کا ہنر یا ہری گری۔ الطَّبْرُ: پکانے والا۔ اس کو طابح بھی بولتے ہیں۔ عوام طبايح الیسی کو کہتے ہیں مگر مناسب یہ ہے کہ اسے منصف کہا جائے۔ الطَّبْرُ: پکا ہوا کھانا۔ پھرن، پختہ اینٹ۔ جر: أطبر: الطَّبْرُ: فاء۔ شدید بخار۔ الطَّبْرُ: مؤنث الطَّبْرُ: دوپہر۔ الطَّبْرُ و الطَّبْرُ: منبر علی، قوس، مونا پا۔ مانی گلاب، طبايح: اس کے کلام میں کوئی فائدہ نہیں۔ الطَّبْرُ: الحق بہت زیادہ، بیوقوف۔ الطَّبْرُ: باور ہی خانہ۔ جر: طبايح: الطَّبْرُ: پکانے کا آلہ۔ جر: مَطْبَرُ: الطَّبْرُ و المَطْبَرُ: باور ہی خانہ طَبْرٌ: طَبْرًا: بھرنا، پھینا۔ الطَّبْرُ و الطَّبْرُ: کھانا۔ طبر دو دند کے ذیل میں، الطَّبْرُ: البیر کے مشابہ ایک درخت۔ واحد رَطْبَارَةٌ، الطَّبْرُ: طبرستان کی</p>	<p>گرا دینا۔ طابحاً۔ نیچے بھرا۔ پست بھرا۔ الطَّبْرُ: پست زمین۔ چھوٹا اونٹ۔ طَبْرٌ: طَبْرًا: علاج کرنا۔ طَبْرٌ الرجل: نرمی کرنا۔ تیزی سے کام نہ لینا۔ نعمن أحب طَبْرٌ: جو دوست رکھتا نرمی کرتا ہے۔ حُرْمَةُ القَبْرَةِ: مٹک میں پیوند لگانا۔ طَبْرٌ: الرجل: جاو کیا جانا۔ طَبْرٌ: علاج کرنا۔ طَبْرٌ: الرجيا طاب الثوب: وزی کا کپڑے میں پیوند لگا کر اس کو بڑھانا۔ القَبْرَةُ: مٹک میں پیوند لگانا۔ طاب مطابحة: الامر: مزاولت کرنا۔ طَبْرٌ: الرجل: طیب بننا۔ طَبْرٌ پڑھنا۔ علاج کرنا۔ استطبر: دوائی دریافت کرنا۔ طیب سے مشورہ لینا۔ الطَّبْرُ: صم۔ ماہر طیب، وانا۔ کتے میں: هو طاب بهذا الامر: وہ اس کا عالم ہے۔ الطَّبْرُ: خواہش، ارادہ، حالت، عادت۔ فلان طاب المتجون: فلان کی عادت ذائق کی ہے۔ الطَّبْرُ و الطَّبْرُ: جسمانی اور روحانی علاج، نرمی، جاو۔ الطَّبْرُ: وہ چیز جس سے علاج کیا جائے کتے ہیں۔ "هذه اطبايح مرهق" الطَّبْرُ: مؤنث الطَّبْرُ: کنارہ۔ الطَّبْرُ: جر: طَبْرٌ و الطَّبْرُ: جر طبايح: نرمی یا ہادل یا کپڑے وغیرہ کا لہا کڑا۔ الطَّبْرُ: علم طب کا جاننے والا۔ فن طب میں ماہر و مازق۔ جر: اطبايح و اطبايح: مؤنث طَبْرٌ: طَبْرٌ: الرجل: بیوقوف بھرا۔</p>
--	---	---

نور۔ ج۔ طَبَائِعُ۔

الطَّبَعُ۔ پانی ہند ہونے کی جگہ۔ پیمانہ ہجر۔
مغزیزہ، دریا۔ ج۔ طَبُوعٌ وَطَبَائِعٌ۔
روا الطَّبَعُ، رنگ، میل، عیب۔ ج۔
أَطْبَاعٌ۔

الطَّبَعُ۔ بدخلق، کینہ عادت کا۔

الطَّبَائِعُ۔ فَا۔ ر۔ وَالطَّبَائِعُ، مزاج، فطری
خصلت۔

الطَّبَائِعُ وَالطَّبَائِعُ۔ مُسْر، انگوٹھی۔ ج۔
طَوَائِعُ۔

الطَّبَائِعُ۔ طابیع اسم فاعل کا مبالغہ۔

الطَّبَائِعَةُ۔ تلوار سازی، چھاپنے کا پیشہ

ذات الطَّبَائِعَةِ۔ تلوار بنانے کا کارخانہ۔

الطَّبَائِعَةُ۔ فطرت، مزاج، فطری عادت۔

ج۔ طَبَائِعُ۔

الطَّبَائِعُ الْأَذْبَعَةُ۔ سردی، گرمی۔

عُفْلُ، مری۔

الطَّبَائِعِيُّ۔ جو طبیعت کے ساتھ متنق ہے۔ جو

ہر چیز کو طبیعت کی طرف منسوب کرے

علم طبیعیات کا ماہر۔ علم طبیعیات، علم

خواص اشیاء۔

الطَّبَائِعَانُ۔ مہر لگانے کی چیز۔

الْمُطَبَّعَةُ وَالْمُطَبَّعُ۔ چھاپنے کا پریس۔

ج۔ مَطَابِعُ۔

الْمُطَبَّوعُ۔ مفعول۔ چھاپا ہوا۔ پسندیدہ۔

وَمِنَ الشُّعْرَاءِ وَالْمُطَبَّعَاتِ شِعْرٌ كَثِيرٌ وَاللَّامِ

طَبَقَتْ رَسْمًا كَثِيرًا وَطَبَقَاتُهَا۔ يَدَا فَا۔

اُتْقَانًا كَثِيرًا۔ طَبَقَتْ۔ طَبَقٌ

يُقَلِّدُ الشَّيْءَ۔ فروع کرنا۔ کہنے لگانا۔

طَبَقَ۔ الشَّيْءُ۔ چھینز کا عام ہونا۔

السَّحَابُ التَّجْوُّدُ۔ بادل کا فضا کو ڈھک

لینا۔ السَّيْفُ الْمُنْفَعِلُ۔ تلوار

کا بڑا پرنگ کر عضو کو ہلا کرنا۔ طَبَقَتْ

الْحَاكِمَةُ فِي حُكْمِهِ۔ حاکم کا درست

فیصلہ کرنا۔ الفروغ۔ گھوڑے کا

دھننے میں کودنا۔

طَابِقَةٌ طَبَائِعًا وَمُطَابِقَةٌ۔ موافق ہونا۔

طَابِقٌ۔ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ۔ دونوں کو ایک

طریقہ پر کرنا۔ بَيْنَ قَبِيضَتَيْنِ۔

قیصوں کو اوپر نیچے پہننا۔ عَلَى الْأَمْرِ

بِمَا بَرَكْنَا۔ الرَّجُلُ عَلَى الْأَمْرِ۔

عادی ہونا۔ بِالْحَقِّ۔ یقین کرنا،

اقرار کرنا۔ الْمُتَقَيِّدُ۔ قیدی کا

قرب قریب قدم رکھنا۔ الْفَرَسُ فِي

جَرْيِهِ۔ گھوڑے کا پچھلے پاؤں کو چلنے میں

انگھراؤں کے نشانوں پر رکھنا۔

أَطْبَقَ۔ الشَّيْءُ مَدْحًا يَنْتَابُ۔ اللیل۔ رات

کا تاریک ہونا۔ النُّجُومُ بَسْتَارِ

كَالْكَثْرَةِ سَطْرًا يَبْرُكُ۔ أَطْبَقَ

الرُّوحِيُّ۔ ہلکی کے اوپر کمرٹ کو نیچے

کے پاٹ پر رکھنا۔ أَطْبَقَ

مَشَقَّتِيكَ۔ چپ رہو۔ أَطْبَقَ

الرَّاكِبُ۔ رکوع کی حالت میں اپنے دونوں

ہاتھوں کو دونوں رانوں کے درمیان

رکھنا۔ أَطْبَقُوا عَلَى الْأَمْرِ۔ کام پر

متفق ہونا۔ أَطْبَقَتِ الْعُشَى

عَلَيْهِ۔ بخار کرات و دن پر ہمارا رہنا۔

كَطَابِقِ الْقَدَمِ۔ قوم کا اتفاق کرنا۔

كَطَبَقِ وَالطَّبَقِ۔ الشَّيْءُ۔ بند ہونا۔

الطَّبَقِيُّ۔ مطابق، دن کی ایک گھڑی پرندوں

کو فکار کرنے کا لاسہ۔ الطَّبَقِيُّ

مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں کی جماعت۔

الطَّبَقِيُّ۔ مع۔ مطابق، پردہ، بڑی پیٹ۔

بُزِي طَبَقِي۔ ج۔ أَطْبَاقٌ۔ زمین کی

سطح، پیٹھ کے منگے، دن رات کا بڑا

حصہ، ہر گیارہ گھنٹے میں آگت چٹان کا

طَبَقَاتُ النَّهَارِ۔ دن کے اکثر حصہ

میں اس کے پاس رہا۔ حال۔ الدهر

أَطْبَاقٌ مَنَابِقُ مَنَابِقُ مَنَابِقُ

مَنَابِقُ مَنَابِقُ مَنَابِقُ مَنَابِقُ

مَنَابِقُ مَنَابِقُ مَنَابِقُ مَنَابِقُ

کی بڑیاں۔ مَنَابِقُ طَبَقِي۔ مصیبتیں

کچھوے، سانپ۔ اُمُّ طَبَقِي۔ مصیبت۔

الطَّبَقَةُ۔ جال۔ پھندا۔ دن کا ایک حصہ۔ ج۔

طَبَقٌ وَطَبَقٌ۔

الطَّبَقَةُ۔ مرتبہ، حال۔ لَيْتَ كَتَبْتَهُ

إِلَى طَبَقَةٍ۔ اس کے خطوط میرے پاس

پہ در پہ آئے۔ ج۔ طَبَقَاتُ۔

الطَّبَقُ۔ بند۔

الطَّبَقِيُّ۔ رات کی ایک گھڑی۔ ج۔ طَبَقٌ۔

ر۔ وَالطَّبَاقُ، مطابق۔ هَذَا طَبَقَةٌ

وَطَبَقَةٌ وَطَبَاقَةٌ وَطَبَاقَةٌ۔ وہ

اس کے مطابق ہے، وہ اس کے مطابق ہے

طَبَاقُ الْأَرْضِ۔ زمین کی سطح۔

الطَّبَاقُ وَالطَّبَاقُ۔ کڑا ہی۔ آدمی بکری۔

ج۔ طَوَائِقُ۔ وَطَوَائِقُ۔

الطَّبَاقُ وَالطَّبَاقُ وَالطَّبَاقُ بِشَيْءٍ

بُزِي أَوْ يَخْتَرُ أَيْنُتُ۔

الْمُطَبَّقُ۔ زمین کے نیچے کا قید خانہ۔

الْجُنُونُ الْمُطَبَّقُ۔ لگا تار جنون۔

سَنَةُ مُطَبَّقَةٍ۔ سخت سال۔

الْمُطَبَّقَاتُ مَصِيبَتِي۔ حُرُوفٌ

مُطَبَّقَةٌ۔ حروف ص ص ض ط ظ۔

الْمُطَبَّقِيُّ۔ مناسب لائے۔ سَخَابَةُ

مُطَبَّقَةٌ۔ ہر گیارہ گھنٹے والا بادل۔

طَبَلٌ رَنٌ أَطْبَلًا وَطَبَلٌ۔ دُحُولٌ بِجَانَا۔

طَبَلٌ فِي الْمَشِيِّ۔ چلنے میں ٹکنا۔

الطَّبَلُ۔ دُحُولٌ۔ ج۔ طَبُولٌ وَأَطْبَالٌ

۔ الْعَبَالُ۔ دُحُولٌ بِجَانَا۔ دُحُولٌ

وَالَا۔ الْعَبَالَةُ۔ دُحُولٌ بِجَانَا۔

پیشہ۔

الطَّبَلَةُ۔ دُحُولٌ۔ الطَّبَلَةُ۔ ٹیکس

کے سہ، غمراہ۔ ج۔ طَبَلٌ كَثِيرٌ۔

طَبَقَ رَنٌ طَبَقًا۔ النَّارُ آتَمٌ كَمَا هُوَ

تَاكْرَهُنَّ مَبَانِي۔

طَبَقَ رَضًا طَبَقًا وَطَبَقَ رَضًا طَبَقًا وَ

<p>طَحْلَحَة دَف، طَحْلَا تَلِي پَر مَارْنَا - الِئَاءَ - بَرْتَن بَهْرَا - طَحْلَل رَس، طَحْلَا وَ طَحْلَا - تَلِي كَا بَرُوه بَانَا - - الْمَاءُ - خَرَاب بُونَا - طَحْلَل طَحْلَا - تَلِي كَل شَكَايَت بُونَا - صَفْت رَمَطْحُولُ، الطَّحَالُ - تَلِي - جِه - اَطْحَلَكَة وَ كَحْلُ وَ طَحْلَاوَتُ - الطَّحَالُ - تَلِي كَل بِيَارِي - الطَّحْلَه - فَاكْتَرِي رَنگ - الْاَطْحَلُ - فَاكْتَرِي رَنگ كَا - رَاكْهِي رَنگ كَا - مَوْنَت وَ طَحْلَاوَتُ - جِه - طَحْلُ الطَّحْلُ - بَرِي تَلِي وَالَا - غُفْبَنَاك، بَهْرَا بُوَا كِيچُرُ وَالَا پَانِي - الطَّحْلُ - بَارِيك تَنگے - طَحْلَبُ - الْمَاءُ - پَانِي كَا كَانِي وَالَا بُونَا - صَفْت رَمَطْحَلْبُ وَ مَطْحَلْبُ، الْاَرْضُ - زِيَمِي كَا سِرْبَر بُونَا - الرَّجُلُ قَل كَرْنَا - الطَّحْلِبُ وَ الطَّحْلَبُ - كَانِي - طَحْمَ دَف، طَحْمَه - عَلِيه - كَرُونَا - حَلَه كِرَا دَكَلَام عَامَرِي مِي سِي سِي، الطَّحْمَةُ وَ الطَّحْمَةُ وَ الطَّحْمَةُ - مِي النَّاسِ - لَوگوں كِي جَاعَت - مِي السَّيْلِ - سِيلاب كَا زَوْر - مِي الذَّيْلِ - رَاَت كِي بَنَت تَارِيكِي - الطَّحْمَةُ - بَرَا جَنگ بُوَا كُوِي، بَسَت اَوْنَت - الطَّحْمُومُ - تِيز بَنِي وَالَا دَرِيَا - المَطْحُومُ - بَهْرَا بُوَا - طَحْنُ دَف، طَحْنَا وَ طَحْنُ - الْبُرُ - كِيوِي بِيَسْنَا - الْمَيْتِيَةُ الْقَوْمُ - بَلَاك كَرْنَا - طَحْنَتِ الْاَفْعَلِي مَانِ كَا كَنْدَلِي مَانَا صَفْت رَمَطْحَانُ، تَطْحَنُ - پَسْنَا - الطَّحْنُ وَ الطَّحْنُ - اَنَا - الطَّحْنَةُ مَوْنَت الطَّحْنُ - دَارُوه - جِه -</p>	<p>طَطَّرَن، طَطَّرَا وَ طَطَّرَا وَ طَطَّرَا - الطَّبْنُ - دَووَه كَا بِالَاي مَالَا بُونَا - صَفْت (طَطَّرَن) - الطَّطَّرَةُ - كِيچُرُ - كَانِي، بِالَاي، غَلِيظ پَانِي - وَسَعَت، عِيَش - بِيَرِيك اَوْن - اَطَّشَر - الشَّيْخُ - زِيَادَه كَرْنَا - طَجَّن رَن اَطْجَنَّا وَ طَجَّن - الشَّيْخُ - بَهْرُونَا - الطَّاجِنُ وَ الطَّيْجِنُ - كَرَا هِي - جِه - طَيَّاجِنُ وَ طَوَّاجِنُ - دَخِيْل كَلَه هِي - المُطَجَّنُ - مَفْع - بَهْنَا بُوَا - طَحَّه دَف، طَحَّا - پَهِيْلَانَا - اَطَّحَا - كَرَانَا - پَهِيْلَكْنَا - اَطَّحَا - پَهِيْلَانَا - الطَّحَّانُ - پَهِيْلِي بُونِي زِيَمِي - طَحَّرَت دَف، طَحَّرَا - الْعَيْنُ قَدْ اَهَا خَس وَ خَاك كُو پَهِيْلَكْنَا - نَكَال دِيَا - صَفْت (طَحَّوْرَةُ) الرِّيْحَةُ السَّعَابُ - بُوَا كَا بَادَل كُو اُثْرَا لِي مَانَا - طَحَّوْرَن، طَحَّرَا وَ طَحَّوْرَا وَ طَحَّوْرَا - طَحَّوْرَا سَانَس بَهْرَا - آه نَكَانَا - الطَّحَّوْرُ وَ الطَّحَّوْرُ - پَتَلِي، مَتَفَرِق - بَادَل كِي مَكْرُوے - الطَّحَّوْرَةُ وَ الطَّحَّوْرِيَةُ - بَادَل كَا مَكْرُوَا - الطَّحَّوْرُ - جِلد بَار - د - وَ الْمَطَّحَّوْرُ مِي الْقِيَمِي - مِي رَوْر پَهِيْلَكِي وَالِي كَمَان - الطَّحَّوْرُوْمُ - بَادَل كَا مَكْرُوَا - جِه - طَحَّوْرِيُوْمُ - طَحَّوْرِيُوْمُ - دُوْر كِي بَهَاگ نَكَلَا - الْهَرِيْبَةُ مَشَك بَهْرَا - الطَّحَّوْرِيُوْمُ - كُوْرَا كَرَكُت - الْهَرِيْبَةُ بَادَل كَا مَكْرُوے كَا مَكْرُوَا - طَحَّطْحَه - تُوْرْنَا - طَحَّطْحَه الْقَوْمُ وَ بِالْقَوْمِ - قَوْم كُو مَتَفَرِق كَرْنَا - بَلَاك كَرْنَا - - مَالَه - بَكْمَرْنَا - الرَّجُلُ - بَكِي بَنَسِي مَنَام</p>	<p>طَبَابِيَّةٌ وَ طَبُوْنَةٌ - الشَّيْخُ وَ لِلشَّيْخِ - سَمُوْرَا بُونَا - صَفْت (طَبِيْبُنُ وَ طَبِيْبِيُنَا) طَبَابِيَّةٌ - مَوَانِقِي بُونَا - كَرَا كَرْنَا - اَطْبَابَانُ اَطْبَابَانَا كَا - بِالْمَكَانِ - مَكَان مِي اَطْبَابَانَا پَانَا - الطَّبِيْبُ وَ الطَّبِيْبُ - بَرِي جَاعَت - اَتِي الطَّبِيْبُ هُوَ - وَه كُون اَدْمِي هِي - الطَّبِيْبُ - بَانَسَرِي - سَتَار - سَار كِي - الطَّبِيْبُ - كَمَر بُوَا كَالَايَا بُوَا كُوْرَا كَرَكُت - الطَّبِيْبُ وَ الطَّبِيْبُ وَ الطَّبِيْبُ وَ الطَّبِيْبُ - مُرْدَار بُوُوْرِنَدُوں يَاگَد مَوں كِي شَكَار كِرْنِي كِي كَام مِي لَايَا جَانِي - جِه - طَبِيْبُ - الطَّبِيْبَةُ - زِيَرِيكِي، بُوَشِيَارِي - كَارِيكِي - جِه - طَبِيْبُ - الطَّبِيْبَةُ - طَبِيْبُ كِي آوَاز، اِيك كِيَل - جِه طَبِيْبُ - الطَّابُوْنُ - كَرَا حَا، جِس مِي اَك مَحْفُوْر كِي جَاتِي هِي - الطَّبِيْبَةُ - طَبِيْبُ - جِه - طَبِيْبَاتُ - طَبَاةٌ - يَطْبُوَةٌ - طَبُوْرَا وَ اَطْبَاةٌ وَ اَطْبَاةٌ پَكَرْنَا - بَلَانَا - طَبَاةٌ يَطْبِيْبِيَةُ طَبِيْبَا - كِيَمِيْتَا - كُوْعَنَه - بَارَكَمَا - اَلْيَه - بَلَانَا - طَبِيْبَتُ طَبِيْبِي طَبِيْبِي - النَّاقَةُ - دُحِيْلِي تَقْنُوں وَالِي بُونَا - اَطْبَاةٌ اَطْبَاةٌ - بَلَانَا - الطَّبِيْبُ وَ الطَّبِيْبُ - جِه - اَطْبَاةٌ - وَ زِنْدِي يَا سَمُوْرَا بُوَا كَرَا جَانُوْرَا سَرِي سَتَان - الطَّبُوْرَاءُ الطَّبِيْبِيَّةُ - دُحِيْلِي تَقْنُوں وَالِي اَوْنِي - طَطَّ رَس، طَطَّا - الشَّيْخُ - پَانِل يَا اَتَمَه سِي مَار كَرِيكِي سِي بَشَانَا - الطَّطُّ - مَم - بِيچُوں كَا اِيك كِيَل جِس مِي كُوَل كَلُوِي كُو پَهِيْلَكِي هِي -</p>
--	--	---

طواجن۔

الطمان۔ پینے والا۔ آنا پینے والا۔
الطمان۔ آنا پینے کا پیشہ۔

الطخون والطخونة۔ جگہ پینے کا
مکان۔ جہ۔ طواجن۔

الطون والطانة۔ جنگ۔ بڑا لشکر
بہت اونٹ۔

المطحة۔ جگہ۔ جہ۔ مطا جن۔

المطحة۔ پینے کا مکان۔ جہ۔ مطا جن
طحا يطو طحا۔ دور ہونا۔ ہلاک ہونا۔

الشيء۔ دفع کرنا۔ یا لکڑی پھینکا
۔ القوم۔ ایک دوسرے کو ہٹانا۔

طحا يطو طحا۔ الشیخ۔ پھیلانا۔ لمبا
کرنا۔ الشیخ۔ پھیلانا۔ دراز ہونا۔

القمر۔ چاند کا روشن ہونا۔
الرجل۔ لگ میں سفر کرنا۔

الطنا۔ چڑھی زمین۔

الطاجی۔ فابند پیلنے والا۔ بڑا گروہ۔
مؤلة طاجية ومطخونة و

مطية۔ بڑی پھتری۔ شامیانہ۔
طحا يطو طحا۔ الشیخ۔ پھیلانا۔

طحا يطو طحا۔ لینا۔
الطينة۔ بادل کا ٹکڑا۔

طردن طحا۔ پھینکا۔ دھڑکنا۔ طخوخا،
ترش معادہ بظلم ہونا۔

المطحة۔ بچوں کے کھیلنے کی کڑھی۔
طحيت دس، طحا و طحا۔ العین

آکھ کا بے نور ہونا۔
طخطه۔ الشیخ۔ برابر کرنا۔ ایک دوسرے

سے ملانا۔ اللیل۔ رات کو تاریک
کرنا۔

طخطه۔ رات کا تاریک ہونا۔ بادل کا
باہم مل کر برابر ہونا۔

الطخاطم۔ باہم ملا ہوا بادل۔ بدخلق۔
الطحا طحا۔ تاریکی۔

طخوردف، طخما و طخمدك، طخامة۔
مکھ کرنا۔

الطخمة۔ اللحم۔ گوشت کا سوکھ کر
سیاہی مائل ہو جانا۔

الطخمة۔ بکریوں کا گلہ۔
الطخمة۔ ناک کی چوٹی کی سیاہی۔

الأطخمة۔ جانور یا آدمی کے ناک کا اگلا حصہ۔
رہا الطخيم، سوکھا گوشت۔

طحا يطو طحا و طخوا۔ اللیل۔
رات کا تاریک ہونا۔

الطخاء۔ بند بادل۔ دل کی گھبراہٹ۔
الطخية والطخية۔ تاریکی۔ بادل کا ٹکڑا۔

الطخية۔ بیوقوف۔ جہ۔ طخون۔
الطخوة والطخياء۔ اندھیری

رات۔
الطخية۔ سخت اندھیرا۔

طردن طحا۔ العافیة۔ جانوروں
کو نرسے ہلکانا۔ الابل۔ اونٹوں

کو اطراف سے جمع کرنا۔ الشیخ۔ کاٹنا
۔ الثوب۔ کپڑا پھاڑنا۔ الابل

الجبال۔ اونٹوں کا پہاڑ کو طے
کرنا۔ طردن القوم۔ قوم کے پاس

سے گذرنا۔ الیئین۔ چھری تیز کرنا۔
البنیان۔ عمارت کی مرمت کرنا۔

الحوض۔ حوض کو پھینکا۔ المال
مال پھینکا۔

طردن من، طحا و طردنا۔ الشارب
او النبات۔ مومچہ یا نباتات کا اگنا۔

طردت الجوم۔ ستاروں کا روشن
ہونا۔ یدک۔ زخم کی وجہ سے گر جانا۔

الرجل من السطوح کسی کا چھت
سے گر جانا۔

أطخ۔ گرانا۔ کاٹنا۔ دھڑکنا۔ أطخ
على الأمر۔ کسی کو اکسانا۔ ابھارنا۔

طردت الجارية۔ لڑکی کا اپنی پیشانی
کے بال سنوارنا۔

الطرد۔ طرف، کنارہ۔ جہ۔ أطرا۔ جاؤ
طرا۔ وہ سب کے سب آئے۔

الطرد۔ پلہ۔
الطرد۔ پیشانی، پیشانی کے بال۔ کپڑے کا

نقش و نگار۔ ہر شے کا کنارہ اور طرف۔
کتاب کا حاشیہ، نہر یا وادی کا کنارہ۔

بادل کا لمبا ٹکڑا۔ جہ۔ طرات و طرد
و طراس و أطراس۔ طرا کے معنی میں

عام لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن صحیح
لفظ طفا ہے۔ غلام طار او

طرد۔ لڑکے کی مونچھیں نکل آنا۔ یتان
طرد۔ تیز نیرہ۔

المطر۔ فاعضب مطر۔ بے موقعہ
کا غصہ۔

الطربان۔ طباق۔ صینی۔
المطر۔ عادت۔

طرد رف طرد و طردا۔ علیہم
دور سے اچانک آجانا۔ طرد علی

هم لا اظیقة۔ مجھ پر ایسا غم آیا جس
کے برداشت کی میں طاقت نہیں رکھتا۔

طردن، طردا و طردا۔ النبات
و نحوه۔ تروتازہ ہونا۔ صفت (طرد)

۔ أطرا۔ بہت تعریف کرنا۔
الطاری۔ فاع۔ اجنبی، مسافر، نقلی۔ جہ۔

طردا و طردا۔
الطاری۔ ٹونٹ الطاری۔ مصیبت۔

جہ۔ طواری و طاربات۔ عام طور پر
طاربت ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں، جو

کسی شہر کے باشندے نہ ہوں، لیکن وہاں
سکونت کریں۔

الطوان۔ راستہ، ناپسندیدہ بات۔ غیر معلوم
بات۔ حتام طوانی۔ وہ کبوتر جو

کسی نامعلوم جگہ سے آیا ہو۔ کلام
طوانی۔ تہذیب سے گرا ہوا کلام۔

الطوط - نخب الطرفین - جہ - اطراف
 اصل گھوڑا وغیرہ - جہ - طوط - و
 اطراف - مؤنث (طوط) نیا مال
 - من النبات - جو بھی اپنے خلاف
 شکوفہ میں ہی ہو - من الناس - وہ
 شخص جو طالی طبع کے باعث کسی کی
 صحبت پر برقرار نہ رہے، ایسا ندیدہ
 کہ جس چیز کو دیکھے خواہش کرے، کہ
 اس کے پاس ہو۔ رجل طرف
 فی نسیہ - نئے شرف والا۔
 الطرف - ہر شے کی حد، گوشہ، چیز کا ٹکڑا۔
 شریف آدمی - جہ - اطراف - وجہ
 اطراف - اطراف البدن -
 جسم کے اطراف - دونوں ہاتھ، دونوں
 پاؤں اور سر - اطراف الناس -
 ادنیٰ لوگ - اشرف - خاندان
 شرفاء - اطراف الرجل - انسان
 کے قریبی رفعت دار۔
 الطرف - غیر مستقل کسی ایک کی صحبت پر
 قائم نہ رہنے والا، نبی شرافت والا۔
 الطرف - خون کا نقطہ جو آنکھ میں پیدا
 ہو جاتا ہے۔
 الطرف - لطیف، عمدہ نئی چیز - جہ - طرف
 الطرفاء - ایک قسم کا درخت۔
 الطارف - فہ - نیا حاصل کردہ مال۔
 الطارف - مؤنث الطارف - جہاء
 بطارف عین - مال کثیر لایا - جہ
 طارف - الطارف - آنکھیں
 خیمہ کے پلو۔
 الطریف - نادر میوہ وغیرہ - من المال
 نیا حاصل کیا جو مال - نئے شرف والا۔
 جہ طرف و طواف۔
 الطریف - مؤنث الطریف - جہ طواف
 نئی عمدہ چیز - لطیف۔
 الاطراف - لطیف۔

الطوط - پٹا لیا آدمی - لمبی نوکدار ٹوپی۔
 شام کی عورتوں کا ایک زیور - اور کبھی
 کٹنٹوسا بھی کہتے ہیں۔
 طرف (رض) طوطا - پتھر مارنا۔
 طرف عندہ - واپس کرنا - ہٹانا۔
 طرف بصرة - او طرف بعینہ -
 آنکھ جھپکنا - عینہ - آنکھ میں کوئی
 چیز لگانا جس سے آنسو ہیں اور آنکھ
 بند ہو جائے - صفت (مطروقة)
 طرف عینہ - نظر پھراننا۔
 فلاں - ویکنا - ما بقیت
 ہنم عین تطوف - ان میں سے
 کوئی باقی نہیں رہا۔
 طرف (دک) طواف - نیا مال ہونا۔
 طرفہ - کنارہ پر گردینا، آنکھ میں کچھ گرنا۔
 طرف الخیل - سب سے اگلے
 گھوڑوں کو پیچھے ہٹا دینا - بنا کنا
 ہندی سے پوروں کو رنگنا - الشیخ
 پسند کرنا۔
 اطراف - نئی عمدہ چیز لانا - پلکوں کو بند کرنا۔
 کذا یکدا - لاسق کرنا - الشیخ
 تحف دینا۔
 اطراف - کنارہ پر آنا - الشیخ - کنارہ
 پر ہونا - اعتدال سے گذر جانا - الشمس
 سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا - الشیخ -
 اطراف سے لینا، کناروں سے پسند
 کرنا - علیہ - غارت ڈالنا۔
 اطراف - الشیخ - نئی خریدنا۔
 اشتطرفہ - نیا شمار کرنا - نیا پانا - فادہ
 لینا - پسند کرنا۔
 الطرف - مم - آنکھ - چیز کا کنارہ - ہر شے
 کی آخری حد - جہ - اطراف۔
 الطرف - شریف آدمی - نظر بطرف
 حقیقی - خوف یا حیا کی وجہ سے نیم باز
 آنکھوں سے دیکھنا۔

ہونا - فی نسیہ - فاخرہ لباس ہونا۔
 الطوط - بیست، طریقہ ترتیب۔
 الطواف - کپڑے کا نقش و نگار - وہ جگہ
 جہاں اچھے کپڑے بستے ہائیں - طریقہ۔
 هذا علی طواف ذلیک - یہ اس
 کے طریقہ پر ہے۔
 الطواف - کپڑے پر نقش و نگار کرنے کا
 پیشہ۔
 طوس (رض) طوسا - الشیخ - چیز کو مٹانا۔
 - الکتاب - اچھی طرح مٹانا۔
 طوس - الکتاب - اچھی طرح مٹانا۔
 الباب - دروازہ کالا کرنا - الکاتب
 کاتب کا کلمے ہوئے پر کھنا - طوسہ
 بگاڑنا - فاسد کرنا۔
 تطوس - فی المآکل - عمدہ عمدہ
 کھانے کھانا - عین الشیخ - پرہیز کرنا
 حقیر جانا۔
 الطوس - مطلق صحیفہ جس کو مٹا کر پھر لکھا
 جائے - جہ - اطراف و طوس
 طوش (س) طوشا - بہرا ہونا - صفت۔
 (اطرف) مؤنث (طوشا) جہ
 طوش۔
 تطارش - جھکت ہرا ہونا - الطوشہ
 بہرا ہونا۔
 الاطوش والاطوش - بہرا ہونا۔
 طوش - اللیل - رات کا تاریک ہونا۔
 طوطا (س) طوطا - بے وقوف ہونا۔
 صفت (طوط) ایسا اور پلکوں پر تھوڑا
 بال والا ہونا - صفت - (طوط)
 الحاجبین و طوطہما و
 اطوطہما و اطوطہم - صفت -
 امرأة طوطا العینین - وہ
 عورت جس کی پلکوں پر بال کم ہوں۔
 طوطو - فخر کرنا - ٹینگ مارنا - شینی
 بگھارنا۔

<p>کپڑے کا لمبا ٹکڑا۔ لمبا درخت ہوا۔ طیر کاستون، سائبان کاستون۔ قوم کا شریف اور افضل۔ جہ۔ طرائق۔ ثوب طرائق پراناکڑا۔ طوائف الدھیر۔ زمانہ کی گردشیں۔ الطاریق۔ فا۔ رات کو آنے والا۔ جہ طرائق و طوائف۔ صبح کا ستارہ۔ الطاریق۔ مؤنث الطاریق۔ نصیبت۔ السان کا کنبہ، چھوٹا تخت۔ جہ۔ طوائف و طاریقات۔ الطریق مؤنث۔ طریقت۔ المطرق۔ جہ۔ مطرقی۔ بہت سر جھکانے والا۔ المطرق و المطریق۔ بہت مڑا۔ کونٹے کا لٹا۔ موگری، روٹی۔ دھننے کی کمان۔ جہ۔ مطارق۔ المطروق۔ مفع۔ نرم اور ڈھیلا۔ بیوقوف اور جنونی۔ مساء مطروق۔ وہ پانی جس میں اونٹ بیٹاب اور میٹگی کر کے اس کو گندہ کریں۔ المطراقی۔ نذر۔ جہ۔ مطاریق۔ المطاریق۔ پیدل چلنے والے لوگ۔ اونٹوں کی قطار۔ کلیم دس، طمنا۔ بیت الفلج۔ چھتہ کا شہد سے بھر مانا۔ د۔ طوما، القفل۔ شہد کا چھتہ سے بنا۔ اطرمات۔ آسانا۔ دانت کا میل وار ہونا۔ اطرم قوہ۔ منہ کا پہلو وار یا بد مزہ ہونا۔ تطرم۔ فی الکلام۔ کلام کرنے میں رکنا۔ الطوم و الطوم۔ شہد کا چھتہ، شہد۔ الطرمہ۔ جگر، ایکبارگی۔ د۔ الطرمہ و الطرمہ۔ اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔ الطوامہ۔ دانت کے اوپر کی زروی۔ دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا کھانا منہ پر سوکا</p>	<p>الطرق۔ خاموش ہونا، نیچے سر ڈال کر زمین کی طرف دیکھنا۔ د۔ اطرقی راستہ۔ سر جھکانا۔ لاتی اللہو۔ مائل ہونا۔ الصید۔ فکار کے لیے پھنسا لگانا۔ اطرقت الیل۔ اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔ الرجل پیدل چلنا۔ نکاح کرنا۔ تطرق۔ الیل۔ نزدیک پہنچنا۔ لاتی الأمیر۔ راستہ تلاش کرنا۔ اطرقیت۔ الیل۔ بعض کا بعض کے پیچھے چلنا متفرق ہونا اور سیدھے راستہ کو چھوڑ دینا۔ اطرقی جناح الطیر۔ پرندے کے بازوؤں کا پٹنا۔ تطاریق۔ الشیء۔ راستہ پکڑنا۔ بین الصفوف۔ صفوں کے درمیان چلنا۔ ج۔ جادو منتر کرنے والے سے نکری پھینکنے کی درخواست کرنا۔ الطرق و الطرق و الطریق۔ ایک دفعہ ضرب۔ الطرق و الطریق۔ جہ۔ اطراق۔ د الطریق۔ جہ۔ طوق۔ پھندا۔ جال۔ الطرق۔ مشک کی تہ۔ جہ۔ اطراق۔ پانی رسنے کی جگہ۔ دلدل۔ اونٹوں کے نشان۔ اطراق البطن۔ پیٹ کے سلوٹ و بیل۔ الطریق۔ طریقہ۔ جہ۔ طوق۔ الطریقہ۔ راستہ، طریقہ، عادت، طبع، تہ بہ تہ پتھر۔ جہ۔ طرق۔ الطراق۔ جوتے کا چھڑا۔ ڈھال وغیرہ پر مڑھا ہوا لوہا۔ جوتے کا چھڑا، جس سے جوتا گانٹھا جائے۔ جہ۔ طرق۔ الطریق۔ راستہ رند کو مؤنث، جہ۔ طریق و اطریق و الطریقہ و اطریقاء۔ وجہ طرقان۔ الطریقہ۔ عادت، حالت، مذہب، دھارما۔</p>	<p>الطراف۔ چڑے کا نیم، فصل کا وہ حصہ جو اطراف سے کاٹا گیا ہو۔ جہ۔ طراف۔ شرافت و بزرگی۔ المطریف۔ من المال۔ نیا حاصل کروہ المطرف و المطرف۔ نقش و نگار والی ریشم کی چادر۔ طرفس۔ نظر تیز کرنا۔ بہت کپڑے پہننا۔ اللیل۔ رات کا تاریک ہونا۔ المورد گھاٹ کا گدلا ہونا۔ الماء۔ پانی کا بہت آمد و رفت والا ہونا۔ الطرفسان۔ تاریکی، بچھونا۔ غلطی۔ الطرفساء۔ تاریک۔ طرقہ، دن، طرقا۔ ہتھوڑا مارنا۔ التجاد الصوف۔ اون دھننا۔ الشیء۔ بجانا۔ الباب۔ کھٹکھٹانا۔ الیل الماء۔ اونٹوں کا پانی میں گھسنا۔ الرجل۔ جادو منتر کے طور پر کنکریاں مارنا۔ د۔ طرقا و طروقا، القوم۔ رات کے وقت آنا۔ طریق۔ الرجل۔ کمزور عقل ہونا۔ طریق (س) طرقا۔ گدلا پانی پینا۔ د۔ طرقا، البعیر۔ اونٹ کا کمزور گھسنے یا ٹیڑھی پنڈلی والا ہونا۔ صفت۔ اطرق مؤنث طرقاء۔ جہ۔ طوق طرق۔ لہ۔ کسی کے لیے راستہ بنانا۔ الموضیغ۔ راستہ اختیار کر لینا۔ الحدید لوہا کوٹنا۔ طرقت الحامل یولدھا حاملہ کا بچے کو مشکل سے جینا۔ القفاة سنگنوار پرندے کے انڈے دینے کا وقت قریب آنا۔ طرقی پختی۔ میرے حق کا انکار کر کے اس نے پھر اس کو مان لیا۔ طرق۔ بین الثوبین۔ کپڑے اوپر نیچے پہننا۔ الظلام و النعام تاریکی یا بادل کا پے در پے آنا۔</p>
---	---	---

<p>الغبار - بہت غبار۔ طَلَقَتْ رَنَ ض، وَأَطَقَتْ - السماء۔ آسمان سے پھوار برسانا۔ طَشَّ - الرجل۔ زکام جیسی بیماری والا ہونا۔ الطعاش۔ نگاہ کی کمزوری۔ الطعیش والطق۔ پھوار۔ الطشة۔ زکام کی ایک بیماری۔ الطشة۔ چھوٹا بچہ۔ الطشت۔ طشت۔ طعم۔ رس، طعمًا وطعمًا۔ الشیء۔ چکنا۔ علیہ۔ طاقت پانا۔ طعم۔ رس، طعمًا وطعمًا۔ الطعام کھانا۔ (ر۔ طعمًا، الغصن۔ ایک درخت کی ٹہنی کا دوسرے درخت کی کی ٹہنی سے الجھ جانا۔ طعم۔ دف، طعمًا۔ پیٹ بھر کے کھانا۔ سیر ہو کر کھانا۔ طعم۔ الغصن۔ ایک درخت کی ٹہنی کا دوسرے درخت کی ٹہنی میں پیوند لگانا۔ اطياء اور عام لوگوں کی اصطلاح میں وہائی بیماریوں کی حفاظت کے لیے ٹیکہ لگانے کے معنی میں آتا ہے۔ بڑی کا گوڑے وار ہونا۔ أطمع۔ الغصن۔ پیوند لگانا۔ ط۔ کھلانا۔ خرداک دینا۔ الشجر۔ درخت کا پھل دینا اور اس کے پھلوں کا پکنا۔ المشیء۔ مزے وار ہونا یا مزے میں تبدیلی آنا۔ طاعم وطاقم۔ الحنم۔ کبوتر کا اپنی چوہنچ مادہ کی چوہنچ میں ڈالنا۔ طاعنه۔ ساتہ کھانا۔ تطعم۔ المشیء۔ چکنا۔ لا طعم۔ مزے وار ہونا۔ پھل پکنا۔ عرب کہتے ہیں۔ "هُوَ لَا يَطْعَمُ" وہ ادب پذیر اور</p>	<p>برائی، ابتداء شباب۔ طریسی رس، طریسی۔ الیہ۔ آنا، متوجہ ہونا۔ طَرَفَ رَن، طَرَفًا۔ بکامار کر جانا۔ طَعَنَ رَن، طَعْنًا۔ جگڑ کر چپ کر دینا۔ - دُفِي الْمَاءِ۔ پانی میں ڈرنا۔ طَشَّ - القوم۔ دور تک چلا جانا۔ مَا أَذِيئُ آيِنِ طَشَّ - میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔ طَشَّ - جانا۔ فِي الْبِلَادِ۔ الطَّسَّ - م۔ ج۔ اَطَّسَ وُطَّسَ وُطَّسَ۔ والطشة او الطشة ج۔ طَشَاتٌ وِطَشَاتٌ وِطَّسَ وِطَّسَ۔ ماتہ دھونے کی جگہ۔ سلابی۔ الطَّسَّ سلابی بنانے والا یا بیچنے والا۔ الطَّسَّ سلابی بنانے کا پیشہ۔ طَسَّ رَن، طَسًّا وِطَّسَ رَس، طَسًّا۔ تخم ہونا۔ بدبھنی ہونا۔ صفت (طاسی وِطَّسَ)۔ طَسًّا۔ مِنْهُ بَشْبَانَا۔ اَطَّسَّا۔ بدبھنی کرنا۔ الطَّسَّا۔ تخم بدبھنی۔ الطَّسَّتْ۔ ماتہ دھونے کا تانبے کا برتن۔ ج۔ طَسُّوتٌ۔ طَسَّ رَن، طَسًّا۔ فِي الْبِلَادِ۔ ملک میں جانا۔ طیسع۔ رس، طیسعًا۔ بے غیرت، اور مفلس ہونا۔ صفت (طیسع وِطَّسَ) طَسَّ رَن، طَسًّا۔ المشیء۔ مٹانا۔ طَسَّ رَن، طَسًّا۔ مٹنا۔ طیسع۔ رس، طیسعًا۔ تخم ہونا۔ الطَّسَّ۔ م۔ تاریکی، غبار۔ طَسَّ او اَطَّسَّ۔ مِنْ تَحَابِيرِ تھوڑے سے بادل۔ الطَّسَّامُ وَالطَّسَّامُ وَالطَّسَّامُ۔ مِنْ</p>	<p>ہوا تھوک۔ الطَّرْمُوتُ۔ بھول کی پکی ہوئی روٹی۔ طَرْمَمَ الْبِنَاءُ۔ عمارت بسی بنانا۔ الطَّرْمَاخُ وَالطَّرْمَاخُ وَالطَّرْمُوتُ۔ لبنا۔ الطَّرْمَاخُ مشہور، عالی نسب پیش بین۔ طَرْمَمَ۔ بھولنا، خزانہ لاف مارنا۔ صفت۔ رَطُومًا ذُو طَرُومَاتٍ، طَرُومَسَ۔ ڈر سے چپ ہونا۔ کروہ جانا، بھاگنا - الْوَجْهَ۔ ترش رو ہونا۔ الْكَاتِبُ الْكِتَابَةَ۔ تحریر مٹانا۔ رَمَطَرَمَسَ، اللَّيْلُ۔ رات کا تاریک ہونا۔ الطَّرْمَاسُ وَالطَّرْمِيسُ وَالطَّرْمَسَاءُ۔ سخت تاریکی۔ الطَّرْمُوتُ وَالطَّرْمُوسَةُ۔ بھول کی پکی ہوئی روٹی۔ طَرُ وِطَّرُ وِطَّسَ طَرَاوَةً وِطَّرَاوَةً وِطَّرَاوَةً وِطَّرَاوَةً۔ الغصن أو اللحم۔ شاخ اور گوشت کا تروتازہ نرم ہونا۔ صفت (طریسی) طَرَا وِطَّرَا وِطَّرَا۔ عَلَيْهِمُ۔ دور سے آنا۔ طَرُوسِي۔ المشیء۔ تازہ کرنا۔ الطَّيْبُ خوشبوؤں کو مخلوط کرنا۔ الطَّعَامُ کھانے میں سالہ ملانا۔ اَطَّرِي اَطَّرَا۔ خَلَاتًا۔ کسی کی بہت تعریف کرنا۔ اَطَّرُونِي۔ بدبھنی ہونا۔ پیٹ پھرنا۔ الطَّرَا۔ زمین میں وہ چیز جو غیر جنس زمین سے ہو۔ لاتعداد مخلوق۔ الطَّرِيَّةُ۔ تازہ۔ نرم۔ الاَطَّرِيَّةُ سوتیاں۔ الاَطَّرَوَانُ۔ مِنَ الشَّبَابِ۔ اِنِّی۔</p>
---	---	---

اصلاح پذیر نہیں۔

اسْتَطْعَمَ چیز کا مزہ پانا۔ کسی سے

کھانا طلب کرنا۔ الطَّعَامُ کھانے کا

ذائقہ معلوم کرنے کے لیے اس کو چکھنا۔

الطَّعْمُ مزہ۔ ج۔ طَعُومٌ۔ اغْتَمَأَ

طعام۔ رجلٌ ذُو طَعْمٍ۔ عقل مند

و سمجھ دار آدمی

الطَّعْمُ کھانا۔ قدرت، پرندے یا پھل کو

شکار کرنے کے لیے ڈالا ہوا دانہ یا چارہ۔

الطَّعْمَةُ کھانے کا طریقہ، گذران کا ذریعہ

الطَّعْمَةُ خوراک، رزق، کھانے

کی دعوت، کسب و کمائی کا ذریعہ۔ ج۔

طَعْمٌ۔

الطَّعَامُ۔ مہم، خوراک۔ ج۔ اَطْعَمَهُ۔ ج۔

اَطْعَمَاتٌ۔ گیہوں۔

الطَّعْمُ وَالطَّاعِمُ۔ خوش خوراک۔

”أَنَا طَاعِمٌ عَنْ طَعَامِكُمْ“ میں

تمہارے کھانے سے بے پرواہ ہوں۔

الطَّعُومَةُ کھانے کے لیے روکی

ہوئی بکری۔

الطَّعَامِيُّ کھانا بیچنے والا۔ الْمُطْعَمُ

کھانے کی جگہ، خوراک۔ ج۔ مَطَاعِمٌ

الْمُطْعَمُ۔ بہت کھانے والا۔ مُؤَنَفٌ۔

وَمُطْعَمَةٌ۔

الْمُطْعَمُ بڑا مہمان نواز۔

الْمُطْعَمُ مفع۔ کھانا دیا ہوا۔

الْمُطْعُومُ مفع۔ خوراک، پیوند، ٹیکہ۔

طَعْنَةُ رَفَن، طَعْنَابٌ بِالرُّومِ۔ نیزہ مارنا

نیزہ چھوڑنا۔ فِي الْمَفَارِقِ۔ جانا۔

فِي السَّبْتِ۔ بوڑھا ہونا۔ الْفَرَسِ

فِي الْعِنَايَةِ۔ چلنے میں گھوڑے کا

لگام کھینچ کر تیز چلنا۔ رَطَعْنَا

رَطَعْنَا فِي الرَّجْلِ وَعَلَيْهِ۔

کسی میں عیب نکالنا۔ طَعْنَةُ مَارِنَا۔

الْمَلِيلِ۔ ساری رات چلنا۔

طَعِنَ۔ الرجلُ۔ طامون میں مبتلا ہونا۔

نیزہ لگنا۔

تَطَاعَنَ۔ القومُ تَطَاعَنُوا وَطِعَانًا

وَالطَّعَنُوا۔ ایک دوسرے کو نیزہ

مارنا۔ الطَّعْنَةُ۔ نیزے کی ضرب۔

نیزہ کی ضرب کا نشان۔ ج۔ طَعْنٌ وَ

طَعْنَاتٌ۔

الطَّاعُونَ۔ طامون کی بیماری، پلگ۔ وہا

کی موت۔ ج۔ طَوَاعِينٌ۔

الطَّعَانُ وَالْمُطْعِنُ وَالْمُطْعَانُ۔

بڑا نیزہ باز۔ ج۔ مَطَاعِينٌ وَ

مَطَاعِينٌ۔

الطَّلَعَانُ۔ چنل خود حقارت کرنے والا۔

الطَّعِينُ۔ نیزے کی ضرب کھایا ہوا۔ طامون

زور۔ ج۔ طَعْنٌ۔

الطَّعِينُ۔ جنگ میں ماہر نیزہ باز۔

الْمُطْعِنَةُ۔ نیزہ بازی۔

طَعْرُوفٌ، طَعْرَاؤٌ، وَفَعٌ كَرْنَا۔ بٹانا۔

الطُّعْرَاءُ وَالطُّعْرِيُّ۔ فرامین شاہی اور

سکوں کی علامت۔ ج۔ طَعْرَاءَاتٌ

وَطَعْرِيَّاتٌ۔

الطُّعْرَانِيُّ۔ طغز بنانے والا۔

تَطَعَّرَ۔ علیہ۔ جاہل بننا۔

الطَّعْمَةُ۔ جماعت جن کا معاملہ ایک ہو۔

ج۔ طَعْمَاتٌ وَطَعْمٌ۔

الطَّعْمُ۔ سمندر، بہت پانی۔

الطَّعَامُ۔ کینہ لوگ (واحد جمع) معمولی

پرندے۔ واحد (طَفَامَةٌ)

الطَّفَامَةُ۔ بے وقوف۔

الطُّقُومَةُ وَالطُّقُومَةُ۔ بے وقوفی

کینگی۔

طَفَسَ۔ الرجلُ۔ کسی کا کوزہ نلکا ہونا۔

۔ الیہ۔ کسی کی طرف کوزہ نظر سے

دیکھنا۔ صفت (مُطْعِمٌ)

طَعْنًا يَطْعُونُ طَعْنًا وَطَعْنًا وَطَعْنًا

حد سے گذر جانا۔ البحرُ۔ سمندر کا

جوش میں آنا۔ السَّيْلُ۔ سیلاب کا

پڑنا آنا۔

تَطَعَنَ۔ المَوْجُ۔ موج کا جوش مارنا۔

أَطْفَاةٌ وَطَفَاةٌ۔ سرکشی پر کسانا۔

الطَّفُوعُ۔ بلند جگہ۔ ج۔ كَطْفُوتٌ۔

الطَّغُوتُ۔ سرکشی۔

الطَّاغُوتُ۔ ہر سرکشی، حد سے تجاوز کرنے

والا۔ شیطان، شرارت کا سرخندہ۔ ہر باطل

معبود۔ ج۔ طَوَاعِجٌ وَطَوَاعِيَّتٌ۔

الطَّوَاعِجُ وَالطَّوَاعِيَّتُ۔ بت خلعے۔

طَفَى وَطَفَى يَطْفِي طُغْيًا وَطُغْيَانًا وَ

طُغْيَانًا۔ یعنی طغناؤی۔ الْكَافِرُ

کافر کا کفر میں غلو کرنا۔ الرَّجُلُ

ظلم و نافرمانی میں حد سے گذر جانا۔

المَاءُ۔ پانی کا بلند ہونا۔

طَفَى وَآطَفَى۔ فلاٹا۔ سرکشی پر کسانا

سرکشی بٹانا۔

الطَّغِيَّةُ۔ ایک بار کی سرکشی یا شرارت، سرکشی

گھوڑا وغیرہ، پہاڑ کی چوٹی، ہر بلند جگہ۔

الطَّارِغِيُّ۔ فا۔ ج۔ طَفَاةٌ وَطَاغُوتٌ۔

الطَّاغِيَّةُ۔ مؤنث الطَّارِغِيُّ۔ حیار، متکبر،

سرکشی بے وقوف، بجلی، رومی

بادشاہوں کا لقب۔

طَفَّ رَنَ مَنًى، طَفَّ الْفَتَى مِنْهُ۔

قریب ہونا۔ الْحَائِظُ۔ دیوار پر

پڑھنا۔ طَفَّ بِرَجُلِهِ اَوْدِيْدٌ۔

پاؤں یا ہاتھ سے اٹھانا۔

طَفَّتِ۔ الْبَيْكِيَانُ۔ بیانہ کو تھوڑا سا

کم بھرنا۔ الطَّائِرُ۔ پرندہ کا بازو

پھیلاتا۔ عَلَى عِيَالِهِ۔ بال بچوں پر

بغل اور کنبہ سے کرنا۔ طَفَّتِ الشَّمْسُ

سرخ کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔

كَلَّهْ اَوْ مَوْضِعَ كَذَا۔ کسی جگہ کے

سما ہوا کرنا۔

أَطْفَ - عَلَيْهِ - جھانکنا - المَكِيلَ -
 پیمانہ کو بھرنے - لَتًا - دھوکا دینے
 کا ارادہ کرنا - عَلَيْهِ - مشتمل ہونا -
 - عَلَيْهِ بِحَجَبٍ - چھپنے کے لیے
 پتھر اٹھانا - لَتَ السَّيْفَ - تلوار
 کو جھکانا -
 اسْتَطَفَّ - عَلَيْهِ - اوپر سے جھانکنا -
 اسْتَطَفَّتِ الْحَاجَةُ - حاجت
 کا پورا ہونا -
 الطَّفُ - اونچی زمین - کنارہ - پہلو، گھر کا صحن
 دامن کوہ - (د) - والطَّفُ و
 الطَّفَاتُ والطَّفَاتُ والطَّفَانَةُ
 مِنَ الْإِنَاءِ - برتن کا کنارہ -
 الطَّفَاتُ والطَّفَاتُ - رات کی
 تاریکی - طَفَاتُ الشَّمْسِ - آفتاب
 کا ڈوبنے کے قریب ہونا - کتے ہیں -
 آتَانَا عِنْدَ طِفَاتِ الشَّمْسِ - یعنی
 غروب کے وقت آیا -
 الطَّفِيفُ يَتَقَوَّرًا، تَقْوَرًا، حَقِيرًا خَيْسًا -
 العَاقَةُ - باغ کا گرداگرد - پہاڑوں اور
 میدان کے درمیان قطعہ زمین -
 الطَّفُ والطَّفَاتُ - مِنَ الْخَيْلِ -
 چست و سبک اور تیز رفتار گھوڑا -
 إِنَاءٌ طَفَانٌ - کناروں تک بھرا
 ہوا برتن -
 طَفِيفٌ دَسٌّ، طَفُوعٌ - النَّارُ - آگ
 کا بھنا - هَيْئَتًا - آنکھ کی روشنی
 جاتی رہنا -
 أَطْفَأَ - النَّارَ - آگ بجھانا - کہتے ہیں
 أَطْفَأَ الْفِتْنَةَ أَوْ الْحَرْبَ - یعنی
 ٹھنڈا کر دیا -
 الطَّفَاتُ - الْإِنِّطَاءُ - النَّارُ - آگ
 بجھانا -
 السُّطْفِيُّ - نَا - مُطْفِئُ الْجَمْرِ - ایام
 بجز کا پھرتا یا پانچواں دن - مُطْفِئِي

الرَّضْفِ - مَصِيبٌ -
 الْمِطْفَاءَةُ - آگ بجھانے کا آلہ - جہ
 مَطْفِيٌّ -
 طَفَحَ دَنٌّ، طَفَحًا وَطَفُوحًا -
 الْإِنَاءُ - برتن کا بھر کر کناروں سے
 بہ جانا - الْإِنَاءُ - برتن بھرنے - لازم و
 متعدی - السَّكَرَاتُ - مخمور کا -
 شراب سے بھرنے - الْمَرَاةُ بِالْوَلَدِ
 پسے دونوں کا بچہ جننا - لَطَفَحَ
 عَيْتِي - میرے پاس سے چلے جاؤ -
 طَفَحَ وَأَطْفَحَ - الْإِنَاءُ - برتن اتنا بھرنے
 کہ وہ کناروں سے بہ جائے -
 لَطَفَحَ - الْقَدَرُ - ہانڈی کے جھاگ
 نکالنا - الْإِنْفَاحُ - پُری - بھرائی -
 الطَّفَاحَةُ - ہانڈی کے جھاگ -
 الطَّفْحَانُ - کناروں سے بننے والا - لبریز
 موزٹ - طَفْحِيٌّ -
 الطَّافِحَةُ - موزٹ الطَّافِحُ - خشک -
 الْمِطْفَحَةُ - کفگیر -
 طَفَذَ دَسٌّ، طَفَذًا - الْمَيْتُ - میت
 کو دفن کرنا -
 الطَّفَذُ وَالطَّفَذُ - قَبْرٌ - جہ - أَطْفَاذٌ -
 طَفَرٌ دَسٌّ، طَفَرًا وَطَفُورًا - کوونا -
 پھاندنا -
 طَفَرٌ - اللَّبَنُ - دودھ کا بالائی والا ہونا -
 (د) - وَأَطْفَرُ الْفَرَسِ الشَّمْرُ -
 گھڑے کوئی کوداتا -
 الطَّفُورَةُ - اونچائی کی کوئی ایک دفعہ کا
 کوونا - دوسرے بالائی -
 طَفِيسٌ دَسٌّ، طَفِيسًا وَطَفِيسَةً - گندا
 ہونا - صفت - طَفِيسٌ -
 طَفِيسٌ دَسٌّ، طَفُوسًا - الرَّجُلُ -
 مرجاتا -
 طَفَطَفَ طَفُطْفَةً - دشمن کے ہاتھوں
 میں ڈھیلا ہونا -

الطَّفُطْفَةُ - مَمٌ - وَالطَّفُطْفَةُ - پہلو -
 کڑھانہ، ڈھیلا اور تھکر گوشت - جہ
 طَفَا طِفٌّ -
 الطَّفَطَاتُ - جانب، کنارہ دہرا - درخت کی
 ترو تازہ نرم شاخیں -
 طَفِيقٌ رَسٌّ، وَطَفِيقٌ رَسٌّ، طَفِيقًا وَ
 طَفُوقًا - يَفْعَلُ كَذَا - شروع کرنا -
 طَفِيقُ الْمَوْضِعِ - لازم ہونا - طَفِيقٌ
 بِسَوَادٍ - مراد میں کامیاب ہونا - اپنی
 مراد کو پالینا -
 أَطْفَقَهُ - بِمَرَادِهِ - مراد میں کامیاب بنانا -
 مراد حاصل کرنے میں مدد دینا -
 طَفَّلَ دَكٌّ، طَفُولَةٌ وَطَفَالَةٌ - نرم و نازک
 اور پرورہ ناز و نعمت ہونا -
 طَفَّلَ دَنٌّ، طَفُولًا - سورج غروب ہونے
 کے قریب وقت میں داخل ہونا سورج کا
 غروب ہونے کے قریب ہونا -
 طَفِيلٌ دَسٌّ، طَفِيلًا وَطَفِيلًا - الْكِبَاتُ -
 مٹی لگنے سے پودہ کا نہ بڑھنا -
 طَفَّلَ - اللَّيْلُ - رات کا قریب ہونا -
 طَفَّلَتِ الشَّمْسُ - سورج کا ڈوبنے
 کے قریب ہونا - الرَّجُلُ طَفِيلٌ بَنًا -
 - الْكَلَامُ - کلام سوچنا - طَفَّلَهُ -
 نرم کرنا نرمی سے اونٹوں کو ہانکنا -
 أَطْفَلَ - سورج غروب ہونے کے قریب
 وقت میں داخل ہونا - غروب کے وقت
 سورج کا سُرخ ہونا - الْأَنْفِيُّ
 عورت کا چھوٹے بچے والی ہونا -
 تَطْفَلٌ - طفیلی ہونا بچپن اختیار کرنا - بچوں کی
 سی عادت اختیار کرنا -
 الطَّفَلُ - ہر نازک و نرم شے - جہ - طِفَالٌ
 وَطُفُولٌ مَرْثٌ - طَفْلَةٌ -
 الطَّفَلُ - جہ - أَطْفَالٌ - ہر بچہ کا چھوٹا -
 ہر وحشی جانور کا بچہ - مَرْثٌ - طِفْلَةٌ -
 الطَّفَلُ - حاجت، مات، سورج کا

ڈھبے کے قریب ہونا چکاری۔ یہ نیچو
 طحل۔ نرم ہوا لطفال والککال ہنگام
 الطحل۔ معہ بچہ کی حالت، اندھیرا۔
 سورج طلوع اور غروب ہونے سے کچھ
 پہلے کا وقت۔
 الطحولیۃ و الطفالۃ و الطفولۃ
 بچپن۔
 العقیلی بن بلانے دعوت میں آنے والا۔ ایک
 آدمی طفیل کی طرف منسوب۔
 المظلل۔ بچہ والی زبان ہو یا جانور،
 جہ۔ مظال و مظالین۔
 کظن ان، کظنا۔ مرنا۔ ک۔ قید کرنا۔
 اظیان۔ المکان۔ اطمینان بخش ہونا۔
 الرجل۔ غرض خلق ہونا۔
 الکفایین۔ جھوٹ، بیہودہ کلام۔ قہر۔
 کفایظکوا کظوا و کظوا۔ پانی کے اوپر
 تیرنا اور پانی میں نہ ڈوبنا۔ الطلیبی
 ہرن کا تیز دوڑنا۔ قوی القوس۔
 گھوڑے پر کود کر سوار ہونا۔ فی
 الامین۔ داخل ہونا۔ فلان۔ مرنا۔
 الطفا و ک۔ بڑی کاجھاگ سورج یا چاند
 کا ہلہ۔
 الطلیبۃ۔ دعاری دارز ہر بلا سانپ۔ جہ۔
 طلی۔
 کظی۔ پتھر پتھر پٹھانے کی آواز۔
 الطفس۔ طریقہ خصوصاً دینی و مذہبی طریقہ۔
 جہ۔ کظوس۔ موسم، آب ہوا۔
 کظکظکظ۔ کظکظکظ۔ المد و اب
 جانوروں کا ہاؤں سے آواز نکالنا۔
 کل دن کظا۔ الکریۃ۔ ٹالنا۔ ک
 حلالہ۔ حق کم دینا یا بائبل مار لینا۔
 طلب السماء۔ الارض۔ آسمان کا
 شہم برسانا۔ کظ بالذہن۔ تیل کی
 مالش کرنا۔ کل الریل۔ تیز چلنا۔
 طل رس، و طل طلا و اطل۔ الدّم

بغیر بدلہ لینے کے چھوڑ دینا۔ صفت۔
 رطلین، و مطول و مطل،
 اطل۔ الدّم۔ بغیر قصاص کے چھوڑ دینا۔
 الزمان۔ قریب ہونا۔ ہلیو۔
 اوپر سے جھانکنا۔ علی حتی۔ غالب
 آنا۔
 تطال۔ وہ کی ہیز دیکھنے کے لیے گردن اونچی
 کرنا یا پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا ہونا۔
 استطل۔ علیو جھانکنا، اوپر سے دیکھنا
 ۔ الفرس ذنبہ وید ذنبہ گھوڑے
 کا اپنی دم کو اٹھانا۔
 الطل۔ ہلک بارش، شبنم، نمی۔ جہ۔
 طلال و طلیل۔ نازوالا۔ خوبصورت
 بڑی عروالا۔ سانپ۔ دسا و الطل۔
 دودھ خون، اونٹنی کے دودھ کی قلت۔
 الطل۔ سانپ۔
 الطلۃ۔ خوشنما، دل پسند خوشبو، لذیذ شربت،
 بیوی شبنم کا ترکیب ہوا باغ۔
 الطلۃ۔ ایک مرتبہ دودھ پینے کی مقدار۔
 گردن۔ جہ۔ طلل۔
 الطلاء۔ بے بدلہ خون۔
 الطلل۔ اونچی جگہ، کھنڈرات، ہر چیز کا
 جسم۔ جہ۔ اطلال و طلول۔
 طلل السبیلۃ۔ کشتی کا پرہ۔ طلل
 الماء۔ پانی کی سطح۔
 الطلل۔ وین الکاب۔ گھر کا چوڑا۔
 الطلاکۃ۔ ہر چیز کا جسم خوبصورت، اچھی حالت
 خواہدانی، بغاقت، کھنڈرات۔
 الطیلین۔ پرانی چٹائی۔ جہ۔ طلۃ و اطلۃ
 و طلل۔
 المطل۔ بلند مکان۔
 المطلون۔ مہم۔ وین الاماکن۔ شہم
 والی جگہ۔
 المطل۔ کمر۔
 طلب دن، طلبہ الشیخ۔ ڈھونڈنا۔

الیو۔ راغب ہونا۔
 تطلب و اطلب۔ الشیخ ہار بار تکلیف
 سے مانگنا۔ طلب الشیخ۔ ملت کے
 کرمانگنا۔
 طالبہ جلابا و مطالۃ۔ اپنے حق کا
 مطالبہ کرنا۔
 اطلبہ۔ مانگنے کے لیے مجبور کرنا۔ درخواست
 منظور کرنا۔ اطلبہ الفقہ۔ مانگی
 ہوئی چیز۔ محتاجگی نے اس کو مانگنے پر
 مجبور کیا۔
 الطلبۃ۔ مطالبہ کا اسم، مانگنے کی نوعیت۔
 (و الطلبۃ، مانگی ہوئی چیز۔
 الطلب۔ مانگی ہوئی چیز، طلب کرنے والا۔
 جہ۔ اطلاب و طلبۃ۔
 الطلبۃ۔ ایک وفد کا مانگنا۔ مخصوص
 و عادیہ۔
 الطلبۃ۔ دور کا سفر۔
 الطالب۔ فاش گرد۔ جہ۔ طلبۃ و طالب
 و طلب و طلب۔
 الطلوب۔ جہ۔ طلب۔ و الطلیب۔ جہ۔
 طکاء و الطلاب۔ بہت تلاش
 کرنے والا۔ بہر طلوب۔ گرا کٹواں۔
 الطلیبۃ۔ موتی الطلیب۔ جہ۔
 طلاب۔
 المطلب۔ دعویٰ، مطلب، مقصد، مسئلہ۔
 جہ۔ مطالب۔
 المطلب۔ خا۔ قاصد مطلب۔ دور کا
 پانی۔
 المطلوب۔ مدع۔ جو طلب کیا جائے۔
 جہ۔ مطالب۔
 طلب دن، طلوثا۔ الماء۔ پانی کا بہنا۔
 طلب۔ علی کذا۔ زیادہ ہونا۔
 الطلقۃ۔ ضعیف العقل اور ضعیف البدن
 جاہل۔
 طلحہ دن، طلحا و طلاحۃ۔ البعیر

اونٹ کا تھکانا ہونا۔ صفت۔ طلحة
 وطلحة وطلیحہ، طلحة البعیرہ
 طلحة وطلحة۔ تھکانا۔ طلحة
 علی فلان۔ امرار کرنا۔
 طلحة رن، طلاھا۔ خراب اور فاسد ہونا۔
 طلحة رس، طلحا وطلحہ۔ خال پیٹ
 ہونا۔ صفت۔ وطلیحہ وطلحہ و
 طلحہ، طلحت الابل طلحا۔
 بول کمانے سے اونٹ کا پیٹ خراب
 ہو جانا۔
 الطلحہ مع۔ شگوفہ درخت ہونا۔ کیلا۔
 حوض میں پھا ہوا گدلا پانی۔ بول کا درخت
 واحد طلحة
 الطلحہ۔ لاغر۔ تھکا ہوا۔ ج۔ اطلحہ
 وطلحہ
 الطلحہ مع۔ نعمت۔
 الطلحہ۔ شری، فساد، بدکار۔ ج۔
 طلیحوت وطلحہ،
 الطلحہ۔ کیکر کا درخت۔ ابل وطلحہ۔
 سفر کے تھکے ہوئے اونٹ۔
 الطلیحہ ہیر پھی، لاغر، تھکا ہوا۔ کہتے ہیں۔
 بعیر طلیحہ وناقہ طلیحہ و
 طلیحہ۔ ج۔ طلحہ وطلحہ۔
 الطلیحہ۔ کافد کا ایک ورق۔ ج۔
 طلیحہ۔ درمزد کلام
 المتطلحہ۔ فی الکلام۔ بہتان گھڑنے
 والا۔ فی المال۔ ظالم۔
 طلحة رن، طلحا۔ الشیء سیاہ کرنا۔
 غراب کرنا۔ غراب کرنا۔
 اطلحہ۔ الدامہ۔ ہنا، کھننا۔
 الطلحہ۔ گلابانی۔ خراب پانی۔
 الطلحاء۔ بیوقوف عورت۔
 رطلحہ۔ بکر کرنا۔ متطلحات
 صفت امور۔
 طلست رن، طلستا وطلست۔ البصر

جانی مائی رہنا۔ وطلست الکتابہ،
 تحریر مٹا دینا۔
 طلست رس، طلستا وطلست رک،
 طلستہ۔ خاکسری رنگ کا ہونا
 صفت رطلست، ج۔ طلست۔
 طلست۔ بلہ فی السیجین۔ جیل میں
 ڈالنا۔
 تطلست۔ الکتاب۔ مٹا، محو ہونا۔
 وتطلست، الرجل۔ طیلسان
 پھینا۔
 التطلست۔ الامر۔ چھپنا، پوشیدہ ہونا۔
 التطلست۔ کالی چادر۔ التطلست۔ محو
 غصہ تحریر۔ میلا کپڑا۔ ج۔ اطلست۔
 التطلستہ۔ خاکسری رنگ، پتلا بادل۔
 ج۔ طلست۔
 التطلستہ۔ کپڑے کا ٹکڑا جس سے کبھی
 بول تعلق صفت کی جائے۔
 التطلیست۔ اندھا۔ نابینا۔
 التطلیست۔ ج۔ طلیست والتطلیستان
 والتطلیستان والتطلیستان۔ ج۔
 طلیست وطلیستہ۔ ہنر ماہر جس کو
 غلام و مشائخ استعمال کرتے ہیں۔
 الاطلست بہانہ کپڑا، میلا کپڑا، چھ ریشمی کپڑا۔
 طلستہ۔ عن القتال۔ لڑائی سے بچنے
 بھٹنا۔ الرجل۔ بھی نظر کے غصہ
 کی شکل بنانا۔ الساجد۔ مادہ گر کا
 ہونے کی کیفیت۔
 الطلیستہ۔ ج۔ طلیستہ وطلیستہ
 ج۔ طلستات۔ مادہ گر تحریریں
 یا لکیریں۔
 طلطلتہ۔ بلانا۔
 الطلطل وطلطلتہ۔ مصیبت۔
 الطلطلتہ۔ مصیبت، موت۔ طلق کا
 کو۔ نام لوگ اس کو ططلتہ کہتے
 ہیں۔

الطلطل۔ موت، سخت بیماری۔
 طلعت رن، طلوعاً وطلوعاً ومطلعا۔
 انکوب ونبوء۔ ستارہ وغیرہ کا
 طلوع ہونا۔ علیہ۔ متوجہ ہونا۔
 آنا۔ عتمہ۔ غائب ہونا۔ دور ہونا۔
 طلعت رن، وطلعت رس، طلوعاً۔
 الجبل۔ پہاڑ پر چڑھنا۔ علی الامر
 جاننا۔ البلاد۔ کسی ملک کا قصد
 کرنا۔ المكان۔ کسی جگہ پہنچنا۔
 من البلاد۔ ملک سے نکلنا۔ و
 طلعت درخت خرا کا پھوٹنا، پھانہ بھڑنا۔
 طالعت مطالعة وطلاعا۔ زیادتی غور
 و فکر سے مطلع ہونا۔ الکتاب۔
 کتاب پڑھنا۔ بالامر پیش کرنا۔
 بیان کرنا۔
 اطلعت۔ انکوب۔ ستارہ کا نکلنا۔
 النبات۔ نباتات کا اگنا۔ النخل
 درخت خرا کا شگوفہ نکانا۔ الشجر۔
 درخت کا پتے لانا۔ التخلتہ۔
 درخت خرا کا دراز ہونا۔ علی الشیء
 جھانکنا۔ الکبجہ۔ فجر کے طلوع
 ہونے کو دیکھنا۔ علی سیرہ۔ اپنے
 بھید سے کسی کو واقف کرنا۔
 اطلعت۔ علیہ معرفاً۔ اچھا سلوک کرنا۔
 اطلعت طلعت امرہ۔ کسی کو حقیقت
 حال سے واقف کرنا۔ الرجل۔
 قے کرنا۔ الراعی۔ تیرانداز کا تیر
 نشانہ کے اوپر سے گذر جانا۔ علی
 فلان۔ اچانک آنا۔
 اطلعت۔ الامر وعلیہ۔ جانا۔ علینا۔
 اچانک آ جانا۔ الفجر۔ طلوع فجر
 کو دیکھنا۔ اطلعت طلعت العبد۔
 دشمن کے پوشیدہ حال سے واقف ہونا۔
 تطلعت۔ جانا۔ کسی کے ہرہ کی طرف دیکھنا
 الرجل۔ کسی کو ہالینا اور غالب آنا۔

تَطَّلَعُ الْبَيْكِيَّالُ - چھانہ کا بھینا۔
 الْمَاءُ مِنَ الْأَنْبَاءِ - پانی کا برتن کناروں سے بھر جانا۔
 اسْتَطَّلَعَهُ - ظاہر ہونے کی خواہش کرنا۔
 حقیقت امر دریافت کرنا۔
 الطَّلَعُ - مقدار۔ کہتے ہیں: "الجيشُ طلعُ ألفٍ" یعنی ہزار کی مقدار اور انداز میں ہیں۔ من النخل - کھجور کا گاجا۔ شگوفہ۔
 الطَّلَعُ - اِطَّلَعُ کا اسم، سانپ۔
 الطَّلَعُ وَالطَّلَعُ - بلند مکان، جہاں سے جھانکا جائے، نگرانی کی اور بھی جگہ، گوشہ الطَّلَعَةُ - دیدار۔ چہرہ۔
 الطَّلَاعُ - من الأنباء - برتن کی پُری۔
 ج - طلع - طلاع الشيء - چیز کی مقدار۔ عین طلاع - آنسوؤں سے ہمراہ آنکھ۔ قدح طلاع - بھرا ہوا برتن۔
 الطَّلَاعُ - بہت چڑھنے والا۔ "هو طلاع الغنایا والآنجد" بڑے بڑے امور کا قصد کرنے والا یا کاموں کا تجربہ کار جو امور کو محسن و خوبی چلائے۔
 الطَّلَاعُ وَالطَّلَعُ - قے۔
 الطَّلِيعةُ - ہراول، مقدمہ الجیش، دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے لشکر سے پہلے بھیجا جانے والا (واحد جمع) ج۔
 طَلَايِعُ -
 الطَّالِيحُ - فا۔ پہلی رات کا چاند۔ صبح کا وہ رانچہ، جنم پتری۔ ج۔ طَّالِيحُ -
 الطَّلُوعُ - یعنی طَالِعُ
 المَطَّلَعُ وَالْمَطَّلَعُ - سورج اور ستاروں کے نکلنے کی جگہ۔ مشرق۔ سیڑھی۔
 دیکھ بھال کرنے کی جگہ۔ ج۔ مَطَالِيحُ
 مَطَّلَعُ الْأَمْرِ - کسی کام کے حصول کا ذریعہ اور طریقہ۔ مَطَّلَعُ الْقَوَائِدِ -

قصیدہ کا پہلا شعر۔
 المَطَّلَعُ - فا۔ قوی، غالب آنے والا۔ بلند رتبہ۔
 المَطَّلَعُ - مفع۔ اور بھی جگہ۔ ڈھلوان والی جگہ۔ آنے کی جگہ۔
 طَلَّفَ - علیہ۔ زیادہ کرنا۔
 أَطْلَقَهُ - کڈا۔ کسی کو کوئی چیز بخشنا۔
 أَطْلَفَ الدَّمَّ - خون کو رائیگان کرنا۔
 الطَّلْفُ - بخشش، آسان چیز۔ زائد چیز۔
 ر۔ وَالطَّلْفُ - رائیگان۔ باطل۔
 طَلَّقَ رَضًا طَلْقًا - الشيءُ فَلَانًا - کسی کو کوئی چیز دینا۔ طَلَّقَ يَدَا بَيْخَيْرٍ - بھلائی کا ہاتھ کھولنا۔
 طَلَّقَتْ رَجُلًا طَلْقًا - الْمَرْأَةُ مِنْ رُؤُوسِهَا - عورت کا اپنے غوہر سے جدا ہونا اور اس کو چھوڑ دینا۔ صفت (طَالِقٌ) ج۔ طَلَّقَ وَطَالِقَةٌ -
 ج۔ طَوَالِقٌ - التَّاقَةُ - اونٹنی کا پائے بند سے کھلنا۔
 طَلَّقَ رَسًا طَلْقًا - دور ہونا۔
 طَلَّقَ رَجُلًا طَلْقًا وَطَلُوقَةً - اللِّسَانُ - فصیح زبان ہونا۔ غرض بیان ہونا۔
 طَلَّقَ رَجُلًا طَلْقًا - الرَّجُلُ - جنس مکہ ہونا۔ خندہ پیشانی ہونا۔ طَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ طَلْقًا - عورت کا دور دورہ میں مبتلا ہونا۔ صفت (مَطْلُوقَةٌ) طَلَّقَ - قوم کو چھوڑ دینا۔ اور جدا ہونا۔ الْمَرْأَةُ رُؤُوسِهَا - خاوند کا عورت کو طلاق دینا۔ التَّخْلُفُ - دھت غرامیں کا بھا دینا۔ قلم لگانا۔
 أَطْلَقَ - الْمَرْأَةُ أَوْ التَّخْلُفُ - بمعنی طَلَّقَ - التَّوَالِيحُ - برہنہ کو چھوڑنا۔
 - الْأَسْبَابُ - قیدی کو رہا کرنا۔
 يَدَا بَيْخَيْرٍ - بھلائی کے لیے ہاتھ کھولنا۔ فی کلامہ۔ عام لانا۔ مقید نہ

کرنا۔ أَطْلَقَ رِجْلَهُ - جلدی کی۔
 أَطْلَقَ الدَّوَاءَ بَطْنَهُ - دوا دست لائی۔
 تَطَّلَقَ - وَجْهَهُ - خندہ پیشانی ہونا۔
 بَشَّاشٌ - بَشَّاشٌ - بَشَّاشٌ - بَشَّاشٌ - بَشَّاشٌ - بَشَّاشٌ -
 رَأَيْتُكَ جَانًا - لِسَانُهُ - زَبَانُ كَارِوَالٍ -
 ہونا۔ وَجْهُهُ - كَشَادُهُ - رُوهُ - ہونا۔
 لَفْسُهُ لِلْأَمْرِ - تَرْجُحُ صَدْرِهِ - ہونا۔
 إِطْلَقَ - خَنْدَهُ - رُوهُ - ہونا۔ بَشَّاشٌ - بَشَّاشٌ - ہونا۔
 اسْتَطَّلَقَ - البَطْنُ - دستوں کا آنا۔
 التَّطْبِيُّ - ہرن کا تیزی سے دوڑنا۔ الامتہ جلدی کرنا۔
 التَّطْنُ - مم۔ دروزہ۔ ہرن۔ جہ آطَاقُ -
 ر۔ وَالطَّلِيُّ وَالطَّلِيُّ وَالطَّلِيُّ وَالطَّلِيُّ -
 الطَّلِيُّ، آراو۔ غیر مقید۔ حَبَسَ طَلْقًا وَطَلْقًا - بغير بھکڑی کے قید کیا گیا۔ يَدُورُ طَلْقًا - وہ دن جس میں نہ گرمی ہو نہ سردی ہو۔ رَجُلٌ طَلَّقَ الْيَدَيْنِ - سخی آدمی۔ رَجُلٌ طَلَّقَ الْوَجْهَ وَطَلْقَهُ وَطَلْقَهُ وَطَلْقَهُ -
 وَطَلْقَهُ - كَشَادَهُ - رُوهُ - آدمی۔ طَلَّقَ الْيَسَانَ وَطَلْقَهُ - فصیح زبان کی روانی والا۔
 الطَّلِيُّ - حلال حصہ کھال کا بنا ہوا ہند۔
 الطَّلِيُّ وَالطَّلِيُّ - ابرک۔
 الطَّلِيُّ - مم۔ گوشہ کی ایک دوڑ آنت مضبوط بی بی بی بی کھال کا بنا ہوا ہند۔
 ج۔ آطَاقُ - کھنی الاطَاقُ او مَطْلَقًا - یعنی عام طریقہ پر بلا استثناء۔
 الطَّلْقَاءُ - جن لوگوں کو فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔
 موروا احسان بنے۔
 الطَّلَاقُ وَالْمَطْلَاقُ وَالْمَطْلِيقُ - بہت طلاق دینے والا۔
 المَطْلَقُ - آراو۔ وہ گھوڑا جس کے ایک

پاؤں میں سفیدی نہ ہو۔

طَلَمَدَن، طَلَمًا و طَلَمًا - الخُبْرَةُ

روٹی کو اتنے سے برابر کرنا۔ طَلَمَ

العَرَبِيَّ عَن حَوْبِهِمْ بِشَانِي سَے

پسینہ پونچنا۔

الطَلَمُ - روٹی چڑھی کرنے کا تختہ۔ چکوٹی۔

الطَلْمُ - وائٹل کا میل۔ الطَلْمَةُ -

روٹی۔ جہ۔ طَلْمٌ -

الْمُطَلَمَةُ - بیلن۔ عوام اس کو شوبک

کہتے ہیں۔

طَلَمَسَ - ترش روٹی کرنا۔ تیوری چڑھانا۔

الکِتَابُ - مٹانا۔

إِطْلَمَسَ - الذَّيْلُ - سات کی تاریکی کا

شہید ہونا۔

الطَّلِيْسَاءُ - تاریکی۔ وہ زمین جس میں کوئی

علامت وغیرہ نہ ہو۔ پتلا بادل۔

طَلَّةٌ دَفٌ، طَلَّهَا - الرجلُ فِي الْبِلَادِ -

گھ میں جانا۔

إِطْلَاهَا - اِطْلَاعُ پانا۔

الطَّلَّةُ - پتلا بادل۔ الطَّلْمَةُ - بقیہ

مال۔

طَلَاةٌ يُطْلَوُ طَلْوًا - جانور کو ٹانگ باندھ

کر روکنا۔

طَلَا يُطْلَوُ اِطْلَاوَةً - الرجلُ - ویر کرنا۔

أَطْلُو - الوَحْيِيَّةُ - بچہ والی ہونا۔

إِطْلُوِي اِطْلِيْلًا - خوش کلام ہونا۔

الطَّلَا وَالطَّلُو - ہرنی کا وہ بچہ جو ابھی

پیدا ہوا ہو۔ ہر چھوٹی چیز۔ جہ۔ اِطْلَاةٌ

وِطْلَاةٌ وِطْلِيٌّ وِطْلِيَّانٌ و

طَلِيَّانٌ۔

الطَّلُو - بیڑیا۔ الطَّلُوَّةُ - جانوروں کا بچہ۔

الطَّلُوَّةُ - صبح کی سفیدی۔

الطَّلَاوَةُ وَالطَّلَاوَةُ -

خوبصورتی، رونق، منہ میں کھانے کا بقیہ۔

جاوہ۔ خون یا دودھ کے اوپر کی جھلی۔

طَلِيٌّ يُطْلِي طَلِيًّا - ہ۔ جانور کو ٹانگ

سے باندھ کر روکنا۔ البعيرُ القَطْرَاتِ

او بِالْقَطْرَاتِ - اونٹ پر قطران ملنا۔

- الشَّيْءُ - روکنا۔

طَلِيٌّ رَسٌ، طَلِيٌّ - قُوَّةٌ - وائٹوں کا زرد

ہونا۔ لِسَانَةٌ - زبان کا ٹھیکل ہونا۔

طَلِيٌّ تَطْلِيَّةٌ - گانا۔ فَلَائِنٌ - قید کرنا۔

گال وینا۔ البعيرُ - القَطْرَاتِ -

اونٹ پر قطران ملنا۔ الليلُ الأَفَاقِ

رات کا عالم کو ڈھاکننا۔

أَطْلَى - کمزوری وغیرہ سے گردن کا جھکنا۔

تَطْلَى - لہو و لعب میں مشغول ہونا۔ وَأَطْلَى

بِالْقَطْرَاتِ - قطران سے مالش کیا جانا

الطَلِي - شخص، وجود، قطران ملا ہوا۔ سخت

مریض۔ ہرن کا بچہ۔ جہ۔ اِطْلَاءٌ

خواہش۔

الطَلِي - لذت۔

الطَّلَاءُ - قطران۔ مالش کی چیز۔ انگوروں

کا گائے سارس، شراب، ہرن کے بچہ

کی ٹانگ باندھنے کی رسی (الطَّلَايَةُ)

ہر مالش کی چیز۔

الطَّلَاءُ - جھے ہوئے خون پر کی جھلی۔

الطَّلِي - دودھ کا گھونٹ۔

الطَّلِيَّةُ وَالطَّلَاةُ - گردن۔ جہ۔ طَلِيٌّ -

المِطْلِيُّ - بکری کا چھوٹا بچہ۔ جہ۔ طَلِيَّانٌ

ر۔ وَالطَّلِيَّانُ - وائٹوں کی زردی۔

المِطْلِيُّ وَالْمِطْلَاءُ - تنگ ندی۔ جہ۔

مِطَالٌ -

المِطْلِيُّ - سخت بیمار۔ عمر قیدی۔

طَلَمَدَن، طَلَمًا و طَلَمًا - الإِنَاءُ -

برتن بھرتا۔ الماءُ - پانی کا کسی

کو ڈھاکننا۔ الشَّعْرُ - بال کا ٹھایا

گرہ لگانا۔ الشَّيْءُ - زیادہ ہونا۔

الاصْوُ - بڑا ہونا۔

طَلَمَدَن، طَلَمًا - البَثْوُ - کنویں کو

پاٹ کر زمین کے برابر کرنا۔

طَلَمَدَن، طَلَمًا و طَلَمًا - العَرَبِيُّ -

گھوڑے کا آہستہ آہستہ دوڑنا۔

طَلَمَدَن و طَلَمَدَن و طَلَمَدَن - الطَّائِرُ -

پرندے کا ٹہنی پر اترنا۔

أَطَمَدَ و اسْتَطَمَدَ - الشَّعْرُ - بالوں کا

کاٹنے کے وقت کے قریب پہنچنا۔

الطَّيْمُ - پانی، سمندر۔ بڑی تعداد۔ عمدہ گھوڑا

تعجب، تعجب انگیز۔ جاءٌ بالطَّيْمِ

والرَّيْمِ - وہ بہت مال لایا۔

الطَّمَّةُ - مِنَ النَّاسِ - لوگوں کی جماعت۔

طَّمَمَةُ الْقَوْمِ - قوم کے جمع ہونے

کی جگہ۔

الطَّيْمِيُّ - مہم۔ نرم اور لمبی دوڑ۔ عمدہ

گھوڑا۔ طَيْمِيُّ النَّاسِ - لوگوں کی

کثرت۔ فَرَسٌ طَيْمِيٌّ - تیز رو

گھوڑا۔

الطَّامَّةُ - چوٹی کی مصیبت۔ بڑا مادہ،

قیامت۔

الطَّامِيْمُ - ٹانگیں۔

طَلَمَدَن، طَلَمًا - الشَّيْءُ - چھڑنا۔

طَلَمَدَن و طَلَمَدَن، طَلَمًا -

الْمَرْأَةُ - عورت کا حیض والی ہونا۔

صفت رکامیٹ

الطَّمِثُ - مہم۔ میل کھیل، فساد، خون۔

شک۔

طَلَمَدَن، طَلَمًا و طَلَمًا و طَلَمًا -

بَصْرَةٌ إِلَيْهِ - نظر کا اٹھنا۔

بِصْرَةٍ إِلَيْهِ - ہنڈی کی طرف دیکھنا۔

بِأَيْفِهِ - ناک چڑھانا۔ مغرور ہونا۔

بِهْ - لے جانا۔ فِي الطَّلَبِ - تلاش

میں بہت کوشش کرنا۔

طَلَمَدَن، طَلَمًا و طَلَمًا و طَلَمًا -

الدَّابَّةُ - جانور کا کرش اور منہ زور

ہونا۔ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَوِّجَهْلٍ عَمِدَت

کانا قرآن ہونا۔ صفت دکھاوے، ج
 طوامع۔
 طمغہ۔ انفوس۔ گھڑے کا اگلی ٹانگوں
 کو اٹھانا۔ بالشوع فی القوار۔ چیز
 کو ہر میں پھینکا۔
 اطمع۔ بصرة الیہ۔ نگاہ اٹھانا۔
 طمحات اللہ وطمحاتہ۔
 مصائب زمانہ۔
 الطماح۔ مم۔ تکبر۔ فخر۔ الطماح۔ دو
 حریں۔
 طمغہ دن کلٹھا۔ بانیہ۔ تکبر کرنا۔
 طمغہ دن اطمغہ۔ الشیء۔ دفن کرنا۔
 چھپانا۔ رطمرا وطمورا وطمرا
 وطمرا نا۔ کودنا، اچھلنا۔
 طمورن، طمورا۔ سفر کرنا۔
 طمورن اطمرا۔ المطمورة۔ کھائی
 کو ہرنار۔ وطمورس اطمرا۔
 الجرح۔ زخم کا پھولنا۔ سوچنا۔
 الید۔ ہاتھ کا سوچنا۔
 طمر۔ فی صوبہ۔ دار میں درو ہونا۔
 طمر۔ الشیء۔ پھینا۔ دفن کرنا۔ گھر کا
 پردہ لٹکانا۔
 اطمر۔ علی فریہ۔ گھوڑے پر پیچھے سے
 کود کر سوار ہونا۔
 الطمر۔ پرانا بوسیدہ کپڑا، مفلس، نادار۔
 ج۔ اطمار۔ د۔ والیطر والیطور
 والیطور والیطور۔ لمبی ٹانگوں
 کا تیز رفتار گھوڑا۔
 الطامور۔ پستو۔ ج۔ طوامور۔ طوامور
 بن طامور۔ وہ ایک جھول اور
 غیر مشہور آدمی ہے، اس کے باپ کا
 بھی کوئی پتہ نہیں۔
 الطمر۔ جمل۔ نادانی۔
 طمورة۔ الشقیب۔ آغاز جوانی۔
 الطامور والطمور۔ جلد، صحیفہ، لمبا

خط، جھوٹی بات۔ ج۔ طوامیر۔
 الیطمور والیطمار۔ مہموں کا دھاگا،
 کہنے لباس والا۔ ہو علی میطمار
 آبیہ۔ وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔
 المطمورة۔ ترخانہ، جس میں غلہ چھپایا
 جاتا ہے۔ قید۔ ج۔ مٹامیر۔
 طمس دن، طموتا۔ دور ہونا۔ لا
 ادیری آین طمس۔ مجھے نہیں معلوم
 وہ کہاں گیا۔ بعینہ۔ دور تک دیکھنا۔
 طمس دن من اطمسا وطموتا و
 تطمس واطمس۔ مٹنا۔
 طمس النجد او البصر۔ ستارے
 یا آنکھ کی روشنی باقی رہنا۔
 طمس دن، طمگا۔ الشیء۔ مٹانا۔
 ہلاک کرنا۔ ڈھانکنا، از کو جڑ سے کھو
 دینا۔ الغیم العجوم۔ بادل کاستاروں
 کی روشنی کو زائل کر دینا۔
 طمس دن اطماسة۔ الشیء۔ اندازہ
 کرنا۔ ربوح طماس۔ مٹے ہوئے
 مکانات۔
 الطمیس والطموس۔ اندھا۔
 طمطمیر۔ سمندر میں تیرنا۔
 الطیطیر والیطیطی والیطیطانی۔
 زبان کی کنت۔
 طمع دس طمعاً وطماعاً وطماعیہ۔
 فی الشیء وہ۔ حرص کرنا۔ لالچ
 کرنا۔ صفت دکھاوے وطمع و
 طمع، ج۔ طمعون وطمعاً و
 اطماع وطماعی۔
 طمع دک، طماعہ۔ بہت لالچ کرنا۔
 طمعہ، حرص وانا۔
 اطمعہ، صلح میں ڈالنا۔
 تطمع۔ لالچی ہونا۔ خواہش مند ہونا۔
 الطمع۔ مم۔ وہ چیز جس کی خواہش کی
 جائے، لشکر کی تنخواہ۔ ج۔ اطماع۔

الطماعہ۔ خواہش مند۔
 الطماع والیطماع۔ بہت لالچی، بڑا
 حریں۔
 المطمع۔ جس کی خواہش کی جائے۔ ج۔
 مٹامع۔
 المطمعة۔ طمع کو برا لگنے کرنے والی چیز۔
 طبعت دس اطمعاً۔ عینہ۔ آنکھ کا
 کیچڑ والی ہونا۔
 طمیل دن، اطملا۔ الخباز الخبز۔
 روٹی کو بیلن سے چوڑی کرنا۔ الثوب
 کپڑے کو گھرا رنگنا۔ الدم السم
 وغیرہ۔ خون کا تیر وغیرہ کو لتھیرنا۔
 الراعی الایل۔ چرواہے کا اونٹوں کو
 سمٹی سے ہانکنا۔
 طیل دس وطمیل اطملا۔ خون، تیل
 وغیرہ سے لتھیرنا، صفت (طیلیل)
 اطمل۔ الکتاب۔ تحریر کو مٹانا۔
 اطمل۔ الرجل۔ چرووں کا شریک
 بننا۔
 الطمل۔ مم۔ گندھا ہوا آٹا۔ مخلوق۔ خلقت
 الطمل۔ الحق، کینہ۔ بد کردار۔ بد زبان۔
 بے شرم۔ سیاہ کپل۔ بد حال۔ بد میت
 فقیر، مفلس۔ پرانا کپڑا۔ ج۔ طمول۔
 د۔ الطملة والطملة والطملة
 گدلاہانی۔ کیچڑ۔
 الطامل۔ فا۔ ہکان۔ بھجیا۔
 الطیلیل۔ گدلاہانی۔ گنام، چٹائی، بار۔ چوڑا
 پھل۔ بکری کا بچہ۔
 الطمول۔ بدکار جو اپنے فعل کی پرواہ نہ کرے
 الیطملة۔ روٹی چوڑی کرنے کا بیلن۔
 طمان طماناً وطماناً۔ طمغہ
 پیٹھ کو جھکانا۔ پست کرنا۔ الشیء۔
 چیز کو ساکن کرنا۔ تطامن۔ پست
 ہونا۔
 اطمان اطمیناً واطمیناً۔ الیہ۔

آرام لینا۔ قرار پکڑنا۔ پست ہونا۔
 الطَّمْنُ۔ ساکن۔ ج۔ طَمُونُ۔
 الْمُطْمَئِنُّ۔ ساکن۔ من الارض۔ پست
 زمین۔
 طَمًا يَطْمُوا طَمْرًا وَطَمِي يَطْمِي طَمِيًا۔
 الماء۔ پانی کا بلند ہونا اور نہر کو بھر
 دینا۔ البعوض۔ دریا کا پڑھیا۔ طمیان
 میں آنا۔ الغبث۔ پودے کا اونچا ہونا۔
 طَمَّ رَضًا طَمًّا وَطَمِينًا وَطَمَّنَ۔
 المزياب او الناقوس و يثبته
 ذلك۔ بھینھانا۔ بھنا۔ آواز دینا۔
 وَطَمَّ فَلَاحٌ مَرًا۔
 أَطَمَّهُ۔ بھانا۔ پنڈلی کا ٹنا۔
 الطَّمُّ۔ انسان وغیرہ کا بدن۔ ج۔ طَمَانٌ
 وَاطْمَانٌ۔ بانس کا گٹھا۔ واحد
 رَطْمَةٌ
 الطَّمَانُ۔ بست بچنے والا۔ مشہور۔
 الطَّمِيُّ۔ بڑے ڈیل ڈول کا آدمی۔
 طَمَّادٌ، طَمَّاءٌ وَطَمِيٌّ دَسٌ، طَمَّاءٌ تَرَمُّ كَرَمًا
 حیا کرنا۔
 أَطَمَّ مائل ہونا۔ حَيَّةٌ لَا تَطْمِيُّ۔ وہ
 سانپ جس کا ٹسا ہوا اسی دم مر جائے۔
 الطَّمِنُ۔ بقیہ روح۔ رُحِي فَلَاحٌ رُحِي
 طَمِيَّةٌ۔ فلاں آدمی مر گیا۔ بھی ہوئی
 مالک۔ خواہش نفسانی کی طرف میلان۔
 بدکاری، بھونا۔ فَرَشٌ۔ فلاں بوعیند
 الطَّمِنُ۔ فلاں بڑی ہمت والا ہے۔
 مکان۔ شک۔
 طَمِبَ دَسٌ، طَمِبًا۔ الرُّمَحُ۔ نیزہ کا ٹیڑھا
 ہونا۔ الفوس۔ گھوڑے کا لمبی اور کمزور
 پیٹھ و ٹانگوں والا ہونا۔ صفت (اطمب)
 مؤنث طَمْبَاءٌ۔
 طَمْبٌ۔ ایچیما۔ خیمہ لگانا۔ بالمکان۔
 کسی جگہ اقامت کرنا۔ السَّائِبُ۔
 بھیڑیے کا بھونکنا۔ الميقات۔ مشک

میں پھیند لگانا۔
 طَمَّابٌ۔ القوم۔ قوم کے خیموں کی رسی کے
 ساتھ اپنے خیمہ کی رسی ملاتا۔
 اطَمَّبَتِ۔ الريح۔ ہوا کا غبار اٹھانا۔
 الابل۔ بعض کا بعض کے پیچھے چلنا۔
 في الوصف او العذو۔ مبالغہ کرنا۔
 طَمَّابٌ۔ القوم۔ خیموں کی رسیوں کو بعض
 کو بعض کی طرف کرنا۔
 الطَّمْبُ۔ خیمہ کی لمبی رسی۔ جسم کا پٹھا۔
 درخت کی جڑ۔ ج۔ اطَمَّبٌ وَطَمْبَةٌ۔
 صَدَّتِ الشَّمْسُ اطَمَّبًا۔ سورج
 نکل آیا۔ تَقَصَّبَتْ اطَمَّبًا۔ سورج
 ڈوب گیا۔ د۔ والاطَمَّبَةُ، کمان
 کا چلہ۔ ج۔ اطَمَّبِيٌّ۔ کتے ہیں۔
 خيلٌ اطَمَّبِيٌّ۔ یعنی بعض بعض کے
 پیچھے۔
 الْمُطَمَّبُ۔ گندھا۔ ج۔ مَطَمَّبِيٌّ۔
 الْمُطَمَّبُ فَا۔ ہر ایک کی تعریف کرنے والا۔
 جَنِيحٌ وَطَمَّابٌ۔ جزار فوج
 الطَّمْبُورُ وَالطَّمْبَارُ۔ ستار۔ ج۔
 طَمَّابِيٌّ۔
 طَمْبِلٌ۔ طَمْبَلَةٌ۔ الرجل۔ سمجھ کے بعد
 بیوقوف بننا۔
 الطَّمْبَلَةُ۔ فساد۔ الطَّمْبِلُ۔ مست
 کندہ ہیں۔ بیوقوف۔
 الطَّمْبَجَةُ۔ تانے کی دیگی۔ یا ہانڈی۔
 الْمُطَمَّبُ جَمِيْرٌ۔ کڑا ہی۔ کٹا یہ از بڑول یا کینہ
 طَمَّامٌ دَسٌ، طَمَّامًا۔ بد بھنی ہونا۔ دل پر چربی
 غالب ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت رَطْمِيٌّ
 وَطَمَّامٌ
 طَمَّخَتْ نَفْسُهُ۔ غیبت ہونا۔
 أَطَمَّخَهُ وَطَمَّخَهُ۔ بد بھنی کرنا۔ طَمَّخَةٌ
 من الليل۔ رات کا ایک حصہ۔
 طَمَّزَدَنٌ، طَمَّزًا۔ بے۔ تمسخر کرنا۔
 طَمَّازٌ۔ القوم۔ ایک دوسرے کے ساتھ

تمسخر کرنا۔
 الطَّمَّازُ۔ تمسخر کرنے والا۔
 الطَّمَّطَنَةُ۔ مگے کا کورا۔
 طَمَّطَنٌ طَمَّطَنَةٌ۔ الجرس والطنف
 والذباب وغیرہا۔ گھنٹی کا بھنا۔
 طشت کا آواز کرنا۔ کسی کا بھینھانا۔
 طَمَّطَنَ دَسٌ، طَمَّطَنًا۔ متہم ہونا۔ طَمَّطَنَةٌ
 وَطَمَّطَنَةٌ وَطَمَّطَنًا، بد باطن ہونا۔
 صفت رَطْمِيٌّ
 طَمَّطَنَةٌ۔ تمت لگانا۔ طَمَّطَنَ الْجِدَارَ۔ دیوار
 پر کانٹے رکھنا۔ نَفْسُهُ اِلَى كَذَا۔ نفس
 کو طمع کے نزدیک کرنا۔
 تَطَمَّنَ۔ القوم۔ قوم کے پاس پہنچ کر گھیر لینا۔
 الطَّمَّنَةُ وَالطَّمْنَةُ وَالطَّمْنَةُ وَالطَّمْنَةُ
 پہاڑ کی نکلی ہوئی چوٹی۔ چھجرا۔ کانس۔
 متابی۔ ج۔ كَثُوفٌ وَأَطْمَانٌ۔
 الْمُطْمِنَةُ۔ چھجریا کانس والا۔ پہاڑ کی چوٹی
 پر چڑھنے والا۔
 كَطَمَّطَنَ۔ بد خلق ہونا۔ بست کپڑے پھینا۔
 الرَطْمِيُّ۔ روی و بد شکل۔
 الطَّمْفَسَةُ وَالطَّمْفَسَةُ۔ فرش، چٹائی
 کپڑا۔ ج۔ طَمَّافِسٌ۔
 الطَّمُو۔ بدکاری۔
 الطَّمُو۔ فرش۔
 طَمَّافِسٌ دَسٌ، طَمَّافِسٌ۔ تلی یا پھیپڑے کا
 پہلو یا پسلیوں سے ہٹنا۔ صفت رَطْمِيٌّ
 وَطَمَّافِسٌ۔ فی فُجُورِهِ وَفَسَادِهِ۔
 بدکاری و فساد میں ہمیشہ مبتلا رہنا۔
 طَمَّافِسٌ، اللَّدِيْعَةُ مِنْ لَدَاغِ الْعَقْرَبِ
 بچھو کے ڈسنے کا اچھا بوجھانا۔
 طَمَّافِسٌ۔ تلی یا پھیپڑے کی بیماری کا علاج
 کرنا۔
 الطَّمَّافِسُ۔ تمت بھی ہوئی راکھ، بیماری۔
 الرَطْمِيُّ۔ بدکاری۔ فساد۔
 الطَّمَّافِسِيُّ۔ فا۔ زنا کار۔ ج۔ طَمَّافِسٌ۔

طَهْرَان، وَطَهْرَدِك، كَطَهْرًا و
 طَهْوَرًا وَطَهَارَةً پاك ہونا۔ صفت
 رَكَاهِيْرٌ ج۔ اَطْهَارٌ وَكَلِيْمٌ و
 رَكَهِيْمٌ ج۔ طَهَارِيٌّ۔ كَاهِرٌ
 الْيَثِيَابِ۔ پاك دامن۔
 كَطَهْرَةً رَف، كَطَهْرًا۔ دَوْرَكَرْنَا۔ طَهْرَةً
 پاك دامن۔
 طَهْرَةً رَف، كَطَهْرًا۔ دَوْرَكَرْنَا۔ طَهْرَةً
 دَوْرَكَرْنَا۔ طَهْرَةً۔ پاك كرنا۔
 طَهْرٌ۔ الشَّيْءُ بِالْمَاءِ۔ پانی سے دھونا۔
 تَطَهَّرَ وَاطْهَرَّ۔ مِلَّ مِنْ صَافٍ سَتَمَّرًا هَوْنًا۔
 پاك ہونا۔ نہانا۔
 الْأَطْهَارُ۔ عَوْرَتِ كِي پاكی كے دِن۔
 الطَّهْوَرُ۔ جس سے پاكی حاصل كی جائے۔
 الطُّهْرَةُ۔ پاكی۔ صَفَانٌ۔ پانی سے نہانا۔
 الْمَطْهَرُ۔ قِيَامَتِ كے دِن عَذَابِ دِيْنِ كے
 بَعْدِ پاك كرنے كی جگہ۔
 الْمَطْهَرَةُ وَالْمِطْهَرَةُ۔ وَضُوْعٌ غَيْرُهُ كَالْوِطَاءِ۔
 نہانے كاكہہ كتے ہیں "الْيَسْمَوَاتُ
 مَطْهَرَةٌ لِّلْفَجْرِ" كہ سواك مَنَكِي
 طَارِتِ كاسبب ہے۔ ج۔ مَطَاهِرٌ۔
 الْمِطْهَرَةُ۔ مَعْنَى بِيَارِي كے بِيَارِ كے كُطْبِ
 صَاف كرنے كا آلہ۔
 كَطَهَسَ رَف، كَطَهَسًا۔ فِي الْأَرْضِ۔ زَمِيْنِ
 مِيْنِ دَاخِلِ هَوْنًا اَوْرَكُهْنَا۔
 كَطَهَسَ رَف، كَطَهَسًا۔ الْعَمَلُ۔ كَامِ
 خَرَابِ كَرْنَا۔
 أَطْهَفٌ۔ السَّقَاءُ۔ مَشْكٌ وَصِيْلِي هُو
 كَمِيٌّ۔ فِي الْكَلَامِ۔ رَوَانِي اَوْرَتِيْرِي سِ
 تَقْرِيرِ كَرْنَا۔ يَفْلَانِ مِنْ مَالِيهِ۔
 طَهْفَةٌ۔ اِنْفِءَالٌ مَالِ سِ كَمِيٍّ دِيْنًا۔
 الطَّهْفُ۔ بَعُوْسٌ۔ الطَّهْفُ۔ پناہ۔
 زَبْدَةُ طَهْفَةٌ۔ زَمَكَمِنٌ۔
 الطَّهْفَةُ۔ مِنْ الشَّيْءِ كَلْبًا۔
 الطَّهْفَانُ۔ مِنَ السَّحَابِ۔ بَلَنْدِ بَادِلِ۔

الطُّهْفَانَةُ۔ كِيْسُو۔
 طَهَقِي رَف، طَهَقًا۔ تِيْرَ طِيْنًا۔
 كَطَهَلٌ وَطَهَلٌ رَف، كَطَهَلًا وَكَطَهَلًا و
 كَطَهَلٌ۔ الْمَاءُ۔ پانی كا خَرَابِ هَوْنًا۔
 صَفْتِ رَكَاهِيْلٌ وَكَاهِيْلٌ،
 أَطَهَلْتِ۔ الْأَرْضُ۔ زَمِيْنِ كَاتَهْوَرِي سِي
 كَاسِ اَكَاْنَا۔
 الطُّهْلَةُ۔ جِيْرَ كَالْبَقِيَّةِ۔ تَهْوَرِي سِي كَاسِ
 طَهْمٌ۔ الشَّيْءُ۔ جِيْرَ كَامُوْبًا هَوْنًا۔
 تَطَهَّمٌ۔ الطَّعَامُ۔ كَهَانِ كَوْنًا پَسَنْدِ كَرْنَا۔
 الْمَطْرَقُ۔ مَوْبًا۔ نَحِيْفُ الْجِسْمِ۔ نَا تَوَانِ
 بَدَنِ۔ كَمَلٌ اَوْرَبْتِ نَوْشَمًا جِيْرَ۔
 كَطَهًا يَطْهَوُ اَطْهَمًا۔ مَلِكٌ مِيْنِ هَوْنًا۔
 كَطَهًا يَطْهَمُ اَوْرَبْتِ طَهْمًا وَكَطَهْمًا و
 وَطَهْمِيًّا وَكَطَهْمِيَّةٌ۔ اللَّحْمُ۔
 كَوَشْتِ كَوِيْكَانًا يَابْهَوْنًا۔
 اَطْهَى اَطْهَاءً۔ صَفْتِ مِيْنِ مَابِرِ هَوْنًا۔
 الطَّهْوُ مِمَّ۔ كَامِ۔
 الطَّهِي تَنَكًا۔ الطَّهِي كِنَاهُ۔ جَرَمٌ۔ پِكَاهُ۔
 الطَّهِي سَمْتِ چوْٹ۔ پَتْلَا بَادِلِ۔
 الطَّاهِي۔ فَا۔ باوْرَجِي۔ بَهُوْنِ وَالْاِنْبَانِي
 بَطِيَارًا۔ ج۔ طَهَاةٌ وَكَطَهِيٌّ۔
 مُؤْنَتِ كَاهِيَّةٌ۔ ج۔ كَوَاةٌ و
 كَاهِيَاتٌ۔
 الطَّهَائِيَّةُ۔ باوْرَجِي كَابِشِيَّةٌ۔ الطَّهَائِيَّةُ۔
 دَوْدِ يَابْخُوْنِ كے اَوْرَبِكِي جَمَلِي۔
 الطَّهَاءَةُ۔ بَلَنْدِ بَادِلِ۔
 كَطَاءٌ يَطْأُ وَيَطْوُءُ كَطَوًا۔ اَنَابَانًا۔
 اَمْدُوْرَتِ كَرْنَا۔ فِي الْأَرْضِ۔ مَلِكِي مِيْنِ
 بَسْتِ دَوْرِ كَمَلِ جَانًا۔
 تَطَّاءَتُ كَطَائِيُوًّا۔ الْأَسْعَارُ بَهاؤُ
 كَاغْرًا هَوْنًا۔
 الطَّاءُتُ۔ كَوْبَانِ كِيْمُوْرًا۔ جِرَاكَاهِ مِيْنِ دَوْرِ
 نَكَلِ جَانًا۔ مَا فِي الدَّارِ كَطَوِيٌّ۔ كَمَرٌ
 مِيْنِ كَوِيْئِي نِيْنِ۔

الطُّوبُ۔ كِي اِيْنِطٌ۔ وَاحِدٌ طُوْبَةٌ،
 الطُّوَابُ۔ اِيْنِطٌ بِنَانِ وَالْاِ۔
 كَطَاَمٌ يَطْوُحُ كَطَوْحًا۔ جِرَانِ هَوْنًا۔ بَلَاكَتِ
 كے نَزْدِيْكِي هِنِيْنًا۔ السَّهْمُ۔ تِيْرَ كَا
 نَشَانِ سِ چوْكَنًا۔
 كَطَوْحَهُ۔ جِرَانِ كَرْنَا۔ اَوْرَهُ هَوْنًا۔
 كَطَوْحٌ۔ بَدَلُ۔ خَطْرَنَاكِ اَمُوْرٍ پَرَاكَسَانًا۔ هُو
 مِيْنِ هِيْنِكَا۔
 كَطَوَحَتْ بِهَ طَوَائِحُ الزَّمِيْنِ۔ جَوَادِيْتِ
 زَمَانِ سِ اِسِ كَوِيْهِيْكِ دِيَا۔ كَطَوْحٌ
 تَطْوِيْحًا وَكَطِيْحَةً تَطْيِيْحًا۔
 الشَّيْءُ۔ صَالِحٌ كَرْنَا۔
 كَطَاوَحَهُ مَطَاوَحَةً۔ بَلْكَذَا۔ اِيْكِ دَوْرِ
 كِي طَرَفِ هِيْنِكَا۔
 اَطَّاحَهُ۔ بَلَاكِ كَرْنَا۔ تَبَاهُ كَرْنَا۔ اَطَّاحٌ۔
 الشَّعْرُ۔ بَالِ كَرْنَا۔
 كَطَطَوْحٌ۔ فِي الْبِلَادِ۔ اِنْفِءَالٌ كَوِيْئِي مِيْنِ
 هِيْنِكِ دِيْنًا۔ اِيْنِي مَبِاسْفَرِ كَرْنَا۔ رَفِي
 اِيْمُوْرِي كِنُوِي مِيْنِ كَرْنَا۔
 تَطَاوَحَ تَطَاوَحًا۔ الْقَوْمُ فُلَانًا۔
 بِالْاَمِيْرِ اَوْرَبِ الْغُرَبِ۔ بَابِ مِ تَنَازَعِ كَرْنَا
 "تَطَاوَحَتْ بِهَ اِبْنُوِي" اِسِ كَوِي
 دَوْرِي سِ هِيْنِكِ دِيَا۔ اِيْنِي اِسِ سِ
 مَخْلَفِ مَلِكُوِي مِيْنِ مَبِاسْفَرِ كِيَا۔
 الطَّوْحُ۔ دَوْرٌ۔ نِيْتَةُ كَطَوْحٌ۔ دَوْرِ كِي نِيْتِ۔
 الطَّوَائِحُ رَقِيْمَتِ كے مَادِنَاتِ۔
 الْمَطَاوِحُ۔ بَلَاكَتِ كِي جِگِيِي۔ وَاحِدٌ
 رَمَطَاَحَةٌ،
 الْمِطْوَاحُ۔ لَامِي۔
 كَطَاَحَهُ يَطْوُحُهُ كَطَوْحًا۔ كِي كَوَالِي دِيْنًا۔
 يَاكِي كِي رَانِي كَرْنَا۔ صَفْتِ رَطْوَاْحٌ،
 كَاذِبٌ يَطْوُدُ كَطَوْدًا۔ ثَابِتٌ قَدَمِ رَهْنًا۔
 طَوْدٌ وَتَطْوُدٌ۔ فِي الْبِلَادِ۔ مَلِكُوِي مِيْنِ
 هِيْنَا۔
 اِنطَادٌ۔ هُو مِيْنِ بَلَنْدِ هَوْنًا۔

الطَوْدُ - مع - طائید - ج - اطواد و طودة

التطواد - گھونا - پھرنا -

المطادة - ترقی و قیام -

المطاود - خطرناک جگہیں -

المنطاد - بلند عمارت - بیون - ج -

مناطيد -

طار يطود طورا و طوراناً - بفلان

قريب و نزدیک ہونا -

الطور - مع - اندازہ - حد - ہیئت - حال -

باری - آیتہ طوراً بعد طوراً -

میں اس کے پاس بار بار آیا - ج

اطوار - الناس اطواراً - آدمی کی

قسم کے ہیں - مختلف حالات کے ہیں -

الطور - پہاڑ - گھر کا صحن - مقابل کی چیز -

مثل -

الطوار - مقابل کی چیز مثل (والطوار)

گھر کا صحن -

الطوري و الطوراني - وحشی، اجنبی -

ما بالدار طوري - گھر میں کوئی نہیں

طارة المنخل - چھلنی کا گھیرا -

الطارة و الطارد - کہتے ہیں - کیتی

منه الاطورية - اس کو اس سے

بڑی مصیبت پہنچی -

طاس يطوس طوساً - الوجہ - ہو

کا خوبصورت ہونا - الشیء - روندنا -

طوسه - زینت دینا - طوس المعبور -

تصویر کش کا مور کی شکل بنانا - طوس

بہ - بے جانا -

تطوس - لبحمامة - کبوتری کے آگے

پروں کو پھیلا نا - تطوست المرأة

عورت کا آراستہ ہونا -

الطوس - مع - چاند -

الطوس - ایک دست آوردوا -

الطاس - پینے کا برتن - ج - طاسات -

الطادوس - مور - ج - اطواس و طواويس

طوش - الرجل - مقوم کا ٹال مٹول کرنا -

الذکر - آخر کرنا -

الطوايشي - آخرت ختمی کیا ہوا - ج -

طوايشية -

طاع يطوع يطاع طوعاً - لفلان

تالبداری کرنا - فرمانبردار ہونا - صفت

رطاع - ج - طوع و طاعون -

طاع له المرتع - چراگاہ اس

کے لیے وسیع ہے -

طوعه - تالبدار بنانا - لہ - آسان کرنا

اجازت دینا -

طاعة مطوعة - فی الامر و

علیہ - اتفاق کرنا -

اطاعة اطاعة و طاعة - فرمانبردار

ہونا - اطاع الشجر - درخت کے

پھل پکنا -

الطاع انطاعاً - لہ - تابع و فرمان

بردار ہونا -

تطوع - بتکلف اطاعت کرنا - تطوع

فی الجنديّة - فوج میں و التثیر ہونا -

لشکر میں رضا کارانہ کام کرنا - بالشیء

تبرع کرنا - مذہبی کام میں کسی چیز کا

علیہ دینا - بالشیء و للشیء - بتکلف

استطاعت ظاہر کرنا -

تطوع - للأمر - بتکلف استطاعت

ظاہر کرنا -

استطاع استطاعة - الامر -

طاقت رکھنا - لائق ہونا -

الطوايعية - طاعت فرمانبرداری -

الطاع الطوع والطعم - مطح - فرمان

بردار کہتے ہیں - هو طوع يدك -

وہ آپ کا تالبدار ہے - و فرس طوع

العنان - گھوڑا تالبدار اور سدھا ہوا

ہے - عمدہ طوعاً - اس نے اس کام

کو بخوشی کیا -

المطوع و المظواعة - تالبدار -

فرمان بردار -

المطواعة - جہاد میں اپنے آپ کو رضا کارانہ

شامل کرنے والا - و التثیر -

المتطوع و المتطوع - واجبات و فرائض

کے علاوہ اور اعمال صالحہ کو بطور نفل

ادا کرنے والا -

طاف يطوف طوافاً و طوافاً

- بالمکان و حولة - چاروں طرف

گھومنا - چکر لگانا - فی البلاد - ملک

میں پھرنا -

طوف و تطوف و استطاف و

استطاف - بالشیء و حولة - چکر

بہت لگانا - طوف الناس و

الجواد - آدمیوں یا ٹڈیوں کا زمین

پر چھا جانا -

أطاف - بالشیء - نازل ہونا - احاطہ کرنا

قريب ہونا - علیہ بہ - رات کو

آنا - علیہ - ارد گرد گھومنا -

الطوف - پانی پر تیرنے والی چیز - پھولی

ہوئی مشکوں یا شہتیروں کو جوڑ کر

سواری یا بار برداری کے لیے بنائی ہوئی

کشتی -

الطوف - رات کو پہرہ دینے والے چوکیدار -

چوکیدار - دیوار - ج - اطواف -

الطاف - بہت زیادہ چکر لگانے والا -

الطوفان - سخت بارش - سخت سیلاب -

رات کا سخت اندھیرا - تباہ کن موت -

ہر ایک چیز کی کثرت -

الطائف - فا - چوکیدار -

الطائفة - مؤنث الطائف - لوگوں کی

جماعت - چیز کا ٹکڑا - ایک رائے و

مذہب کے لوگ - ج - طائفات و

طوائف -

الطَوَّافُ - بست پھرنے والا۔ بہت چکر لگانے والا۔ خادم۔

المَطَّافُ - چکر لگانے کی جگہ۔

طَاقٌ - يَطْوِقُ طَوْقًا وَطَاقَةً وَ

أُطَاقُ - الشَّيْءَ - چیز پر قادر ہونا۔

طَوْقُهُ - الشَّيْءَ - کسی کام کی تکلیف

دینا۔ طَوْقُهُ الطَوْقُ - طوق پہنانا۔

الطَّوْقُ وَالطَّوْقُ - طوق پہنانا۔ تَطَوَّقْتِ

الْحَيَّةَ - سانپ کا کٹڈی مارنا۔

الطَّاقُ - مَرَابٌ - طاقت۔ ج۔ طَاقَاتٌ

وَطَيْقَاتٌ -

الطَّاقُ - ایک قسم کا کرتہ۔ د۔ وَالطَّائِقُ

پھاڑ کی نکلی ہوئی چٹان۔ احاطہ کرنے

والا۔ گھیرا۔

الطَّوْقُ - گلے کا ایک زیور۔ ہر احاطہ کرنے

والی چیز۔ ج۔ أَطْوَاقٌ -

الطَّوْقُ وَالطَّاقَةُ - قدرت۔ طاقت۔

دھاگے کی ایک لٹ۔ بالوں کا مٹھا۔

پھولوں کا گلہ ستہ۔

المَطَّوْقَةُ - کمنٹی وار کبوتر۔ بڑی بوتل۔

جس کی طوق دار گردن ہو۔

طَالَ يَطْوُلُ طَوْلًا - دراز و لمبا ہونا۔

علیہ۔ غالب ہونا۔ فخر کرنا۔ احسان کرنا۔

طَوَّلَهُ - لبا کرنا۔ طَوَّلَ لَهُ - جلت دینا

- يَلْدًا آتِيَةً - مہینے کے لیے جانور کی

رسی ڈھیلی کر دینا۔

تَطَوَّلَ تَطْوُلًا - علیہ۔ احسان کرنا۔

أَطَالَهُ وَأَطْوَلَهُ وَطَالَطَهُ وَأَطْوَلَا -

لہا کرنا۔ أَطَالَتْ السَّمَاكَةُ - دراز

قامت بچے جتنا۔

طَاوَلَهُ مَطَاوَلَةً - طال مٹول کرنا۔ لمبائی یا

فضل و احسان میں غالب آنا۔

تَطَاوَلُوا - دور کی چیز کی طرف گردن بلند کر

کے دیکھنا۔ بیکر کرنا۔ فخر کرنا۔ ظلم کرنا۔

لمبائی ظاہر کرنا۔ علیہ العُمرُ - بڑھنا

تَطَاوَلُوا - ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔

اسْتَطَالَ اسْتِطَالَةً - لمبا ہونا۔ فضل و

احسان کرنا۔

التَطْوُلُ - فضل بخشش۔ قدرت۔ غنا۔

الطُّوْلُ - مع۔ لمبائی (چوڑائی کے مقابلہ

میں) درازی رکوتابی کی ضد۔ ج۔

أَطْوَالٌ -

الطَّيْلَةُ - عمر۔ زمانہ کی لمبائی۔

الطُّوْلُ - لمبی ٹانگوں کا ایک آبی پرندہ۔

الطَّيْلُ وَالطُّوْلُ وَالطَّوَالُ وَالطَّيَالُ

لمبا عرصہ۔ زمانہ کی لمبائی۔

الطَّائِلُ وَالطَّائِلَةُ - قدرت۔ فضل،

غنا۔ کہتے ہیں: بَيْنَهُمْ كَالْبَيْتَةِ -

ان کے درمیان عداوت ہے۔ ج۔

طَوَائِلٌ - هَذَا الْأَمْرُ لَا طَائِلَ

فِيهِ - اس امر میں کوئی فائدہ نہیں۔

الطَّوِيلُ - لمبا۔ ج۔ طَوَالٌ وَطَيَالٌ -

مؤنث طَوِيلَةٌ - ج۔ طَوِيلَاتٌ -

”فَلَانٌ طَوِيلٌ أَبَاعَ“ - فداں

سخی ہے۔ ”هُوَ قَصِيرٌ أَبَاعَ“ - وہ

بخیل ہے۔

الْأَطْوَالُ - اسم تفضیل۔ ج۔ أَطْوَالٌ مؤنث

طَوِيٌّ - ج۔ طَوِيلٌ - الطَّوِيلُ - بلند

مرتبہ۔ وَالسَّبْعُ الطَّوَالُ - قرآن پاک

سات بڑی سورتیں۔

الطَّوَالُ - لمبا۔ مؤنث۔ طَوَالَةٌ -

الطَّوَالُ - بہت لمبا۔

الطَّوَالُ - رسی۔ لگام۔ جانور کا رستہ۔

ج۔ مَطَاوِلٌ -

طَوِيٌّ يَطْوِي طَيًّا - الثوبُ - کپڑا پھینٹنا۔

- اللَّهُ عُمُرُهُ - موت دینا۔ کہتے

ہیں: طَوِيحٌ فَلَانٌ وَهُوَ مَشْهُورٌ -

جب کسی کا اچھا نام اور ذکر حسن باقی

رہے۔ طَوِيٌّ الْحَدِيثُ - بات چھپانا

- كَشْحَةٌ عَلَى الْأَمْرِ - کوئی امر

چھپانا۔ طَوِيٌّ كَشْحَةٌ عَنِّي - اس

نے مجھ سے پھلتی کی۔ اس نے مجھ سے

منہ پھیر لیا۔ طَوِيٌّ الْبِلَادَ - ملک طے

کرنا۔ البتَرُ - پتھروں سے کنواں

بنانا۔ طَوِيٌّ الرَّجُلَ - بھوکا رہنے کا

ارادہ کرنا۔ السَّيْرُ فَلَانًا - لاغر کرنا۔

طَوِيٌّ يَطْوِي طَوِيًّا وَأَطْوِي - بھوکا

ہونا۔ صفت (طَيَانٌ)

طَوِيٌّ وَطَاوِي - مؤنث طَيًّا وَطَوِيَّةٌ وَ

طَاوِيَّةٌ -

تَطَوَّتِ الْحَيَّةُ - سانپ کا کٹڈی مارنا۔

انطَوِي - القومُ عليهِ - کسی کے گرو جمع

ہونا۔ د۔ وَأَطْوِي - پیٹا جانا۔

الطَّوِي - بھوک۔ مشک۔

الطَّوِي وَالطَّوِي - پیٹی ہوئی چیز۔

الطَّوِي - مع۔ ضمن۔ پیٹ۔

الطَّيَّةُ - حاجت۔ ضرورت۔ صبر۔ نیت۔

بِطَيَّةٍ شَكْلٍ حِجَّتْ - گوشہ - يَقِيَّةٌ

بِطَيَّاتِ الْعِرَاقِ - میں نے اس سے

عراق کے اطراف میں ملاقات کی۔

طَاوِيُّ الْبَطْنِ - پتلے پیٹ والا۔

الطَّايَّةُ - چھت۔ ج۔ طَايَاتٌ -

الطَّوِي - گھوڑی کی گھڑی۔ رات کی گھڑی۔

ج۔ الْأَطْوَاءُ - د۔ وَالطَّوِيَّةُ - پتھروں

سے چنا ہوا کتواں۔

الطَّوِيَّةُ - نیت۔ ضمیر۔

الطَّوِي - واحد (مَطَاوِي) پیٹ۔

مَطَاوِي الْحَيَّةِ - سانپ کی کٹڈی۔

مَطَاوِي الْأَمْعَاءِ - آنتوں کا حلقہ

یا کٹڈی۔

المَطَاوِي - جس پر کتا ہر اسوت پیٹا جائے۔

طَابَ يَطِيْبُ طَيِّبًا وَطَابًا وَطَيِّبَةً وَ

كُطِيْبًا - مزیدار۔ میٹھا۔ عمدہ ہونا۔

”طَابَتِ النَّفْسُ بَكْدًا“ - اس کا دل

اس سے خوش ہونا۔ طَابَ عَيْشُهُ -

بُراھگون پس نصیب، انسان کی روزی
دماغ "هُوَ قَمِيمُونَ الطَّائِرُ" وہ
مبارک چہرے والے ہے "سِرُّ عَلِيَّ
الطَّائِرِ الْمُتَمِيمُونَ" مبارک شگون پر
چل (مسافر کے لیے دعا ہے) سَاكِنُ
الطَّائِرُ - بردبار، تحمل آدمی، سنجیدہ۔
الطَّيْرُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّيْرُورَةُ طیش
بلکاپن۔

الطَّيْرَةُ وَالطَّيْرَةُ - بدفال لینے کی چیز۔
الطَّوِيرُ - طیر کی تصغیر۔
الطَّيَارُ - منتشر، ترازو کی زبان، روپے
تولنے کی ترازو۔ الطَّيَارُ وَالْمَطَارُ -
مِنَ الْخَيْلِ - چست، چالاک، تیز
خاطر گھوڑا۔ اَرْضٌ مَطَارَةٌ - بہت
پرندوں والی زمین۔

الطَّيَارَةُ - مونث طیارہ۔ ہوائی جہاز۔
الْمَطَارُ - اڑنے کی جگہ۔
الْمُطَيَّرُ - مفعول۔ پھٹا ہوا۔ ٹوٹا ہوا۔ ایک
قسم کی چادر۔

الْمُسْتَطِيرُ - قابو پھینے والا۔
طَاسٌ يَطِيْسُ طَيْسًا - الشیءُ زیادہ ہونا
الطَّيْسُ - بڑی تعداد میں۔ ہر ایک زیادہ
نسل کی چیز جیسے مچھلی، چیمونٹی وغیرہ۔
طَاشٌ يَطِيْشُ طَيْشًا - اوجھا ہونا۔ عقل
کھونا۔ تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ صفت
رطائش

أَطَاشٌ إِطَاشَةً - تیر کا نشانہ سے خطا
کرا دینا۔
الطَّيَاشُ وَالطَّائِشُ - جو عقل کی کمزوری
کی وجہ سے ایک طریقے پر نہ سمجھے۔

الطَّيْشَانُ - بلکاپن۔ اوجھاپن۔
طَاعٌ يَطِيْعٌ طَيْعًا - معنی طاعِ يَطْلُوعٌ
طَوْعًا۔

كَانَ يَطُوفُ طَيْفًا وَمَطَاقًا - الخيال
خیال کا خواب میں آنا۔

طَاحَ - يَطِيْحُ طَيْحًا - گندا ہونا۔ جگر ہونا۔
باطل میں منہمک ہونا۔ الامر - کام
خراب ہونا۔

طَاحَهُ وَطَيْحَهُ - تھپڑا۔ برائی سے
آلودہ کرنا۔ طَيْحٌ أَفْحَابَةٌ - گالی دینا۔
تَطَيْحٌ - برائی سے آلودہ ہونا۔
الطَّيْحَةُ - فتنہ۔ والطَّيْحُ وَالطَّيْحُ
بے وقوف بے برکت۔

طَارِ يَطِيرُ طَيْرًا وَطَيْرَانًا وَطَيْرِيَّةً
- الطَّائِرُ - پرندہ کا اڑنا۔ صَيْتَةٌ
شہرت پھیلنا۔ الشَّعْرُ - دراز ولما
ہونا۔ بگدا۔ سابق ہونا۔ اِلَى كَذَا
دوڑنا۔ "طَارَ طَائِرَةٌ" غضبناک
ہونا۔ طیش میں آکر جلد بازی کرنا۔

طَيْرٌ - وَطَيْرِيَّةٌ وَأَطَارَةٌ وَ
أَطَارَةٌ وَطَائِرَةٌ مَطَائِرَةٌ -
الطَّانُ۔

أَطَارَ وَطَيْرَ - المال - مال تقسیم کرنا۔
طَيْرٌ نَوْمَةٌ - نیند اڑا دینا۔
أَطَيْرٌ وَطَيْرٌ - بالشیءِ ومنه - بدفال
لینا۔ برا شگون لینا۔

تَطَائِرٌ - متفرق ہونا۔ الشیءُ - دراز ہونا۔
السَّحَابُ فِي السَّمَاءِ - بادل کا سب
طرف پھیل جانا۔

الطَّارُ - الشیءُ - چیز کا پھٹنا۔
الْمُسْتَطَارُ - الشیءُ - متفرق
ہونا۔ الحَائِطُ - دیوار کا پھٹنا۔ بڑھنا۔
- السَّيْفُ - جلدی سے تلوار نکالنا۔
الطَّيْرُ - پرندہ اڑانا۔

الْمُسْتَطِيرُ - خوف زدہ ہونا۔ جلدی سے
لے جانا۔ الصَّدْعُ فِي الْحَائِطِ -
دیوار میں دراڑ کا ظاہر ہونا۔ الفرسُ
گھوڑے کا دوڑنا۔

الطَّائِرُ - فا - پرندہ۔ ج - طَيْرٌ وَطَيْرٌ وَ
أَطْيَارٌ - ایک ستارہ جس سے اچھا

خوش گذران ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ
نَفْسًا - خوشی سے چھوڑ دینا۔ طَابَتْ
الارضُ - زمین کا گھاس اگانا۔

طَيْبٌ - الشیءُ - اچھا بنانا یا پانا۔ خوشبو
لگانا۔ طَيْبٌ خَاطِرًا - کسی کے دل
کو تسلی دینا۔ مطمئن کرنا۔
أَطَابَ إِطَابَةً - الشیءُ - اچھا کرنا۔ اچھا
شیریں کلام کرنا۔

أَطِيبَ أَطْيَابًا - الشیءُ - اچھا پانا۔
طَائِبَهُ مَطَائِبَةً - ٹھٹھا کرنا۔ مذاق کرنا
کھینا۔

الْمُسْتَطَابُ - السُّطَابَةُ - القوم - میٹھا
پانی مانگنا۔ وَاِسْتَطَيْبَ اِسْتِطْيَابًا
الشیءُ - اچھا پانا۔

الطَّابُ - مع۔ لذیذ۔ مزیدار۔
الطَّيْبُ - مع۔ خوشبو۔ ج - أَطْيَابٌ وَ
طُيُوبٌ - حلال۔ بہترین چیز۔

الطَّابَةُ - شراب۔
الطَّيْبَةُ - مع۔ حلال۔ طَيْبَةُ الْحَمْرِ -
صاف شراب۔ "فَعَلْتُ ذَلِكَ
بِطَيْبَةٍ" - یہ میں نے اپنی خوشی سے کیا۔

الطَّيَابُ - بہت پاکیزہ۔ الأَطْيَابُ - زیادہ
اچھا۔ ج - أَطْيَابٌ - مونث طُوبَى -
ج - طُوبَيَاتٌ -

الطُّوبَى - رفک سعادت، خیر، بہتری۔
الطَّيْبُ - پاکیزہ، اچھا، حلال، مونث۔
طَيْبَةٌ - ج - طَيْبَاتٌ وَطُوبَى -
بَلَدَةٌ طَيْبَةٌ - امن اور برکتوں والا شہر۔
الأَطْيَابُ وَالْمَطَائِبُ - مِنَ الشَّيْءِ -
نہایت عمدہ اشیاء۔

طَاحَ يَطِيْحُ طَيْحًا - گمراہ ہونا، تباہ ہونا۔
سرگرداں ہونا۔
طَيْحَهُ - تباہ کرنا، گم کرنا، ضائع کرنا۔
آوارہ کرنا۔

أَطَاحَهُ - ہلاک کرنا۔ تَطَايَحٌ - الشیءُ - بکھڑا

كَطِيفَ تَطِيفًا وَأَطَافَ رَاطِقَةً وَ
كَطِيفَ تَطِيفًا - بہت چکر لگانا۔
الطِيفُ - معر۔ خواب میں آنے والا خیال۔
جنون۔
الطِيفَاتُ - رات کی تاریکی۔
كَامٌ يَطِيفُ طَيْمًا - اچھے عمل والا ہونا۔
اللَّهُ فَلَانَا عَلَى الْخَيْرِ - خدا تعالیٰ
نے اس کو نیک پیدا کیا ہے۔

كَانَ يَطِينُ طِينًا وَطِينٌ - الحَائِظُ۔
دیوار کو گارے سے لیپنا۔
كَانَ - الکتاب۔ تحریر پر مہر لگانا۔
كَانَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ - خدا نے
اس کو نیک پیدا کیا۔
تَطِينٌ - گارے سے لیپا جانا۔ گارے سے تھرتھانا
الطِينُ وَالطِينَةُ - گارا۔ ریت و پانی سے
ملا ہوا چرنہ۔ گیلی مٹی۔

الطِينَةُ - گارے کی مٹی۔ نیچر۔ فطرت۔
يَا بَسُّ الطِينَةِ - سخت مزاج۔ کہہ
طِينَةُ كَيْبَةٍ - اس کی طبیعت نرم
ہے۔ مکانُ طَانٌ - بہت گارے
والی جگہ۔
الطِيَانَةُ - گارا بنانے کا پیشہ۔
الطِيَانُ - گارا بنانے والا۔

ظ

ظَابٌ رَفٌّ، ظَابٌ بَا - نکاح کرنا۔ ظلم کرنا۔
شور کرنا۔ بکری کا میں میں کرنا۔
ظَاءَ بِهِ مُظَاءً بَةً - سالی سے شادی
کرنا۔
تُظَاءُ بَا - ہم زلف ہونا۔
الظَّابُّ - معر۔ ہم زلف۔ ساڑھو۔ جہ
ظُؤُوبٌ وَ أَظُؤُوبٌ -
ظَا رَدَفٌ، ظَارًا وَ ظَارًا وَ أَظَارًا
وَ إِظَارًا وَ ظَاءَرًا - مُظَاءَرَةٌ -
الناقلة أو المرأة على ولد
غیرھا۔ مہربان کرانا۔
تُظَاءَرَتُ وَ الظَّارَتُ - مہربان ہونا۔
صفت دظُؤُورٌ وَ ظُؤُورَةٌ، جہ۔
أَظَارٌ وَ ظُؤَارٌ - ظَا رَةٌ إِلَى
كَذَا - مہربان کرانا۔ ظَا رٌ عَلَى
عَدُوِّهِ - اپنے دشمن پر حملہ کرنا۔
ظَا رَةٌ وَ ظَاوَرَةٌ وَ أَظَارَةٌ - عَلَى
كَذَا - مہربان کرنا۔ ظَا رَةٌ عَلَى
الامر۔ طلب کرنا یا مجبور کرنا۔ ظَاوَرَتِ
الرجل - دایہ بنانا۔ ظَاوَرَتِ
المرأة - عورت کا دایہ بننا۔
دوسرے کے بچہ کی پرورش کرنا۔
إِظَارٌ - لولدہ ظُؤُرًا - اپنے بچے

کے لیے دایہ رکھنا۔
الظُّؤُورُ - دایہ۔ انا۔ جہ۔ أَظُؤُورٌ - و
أَظَارٌ وَ ظُؤُورٌ وَ ظُؤُورَةٌ وَ
ظُؤَارٌ - ظُؤُورُ الْقَصِيرِ - محل کا
ستن۔
الظُّؤُورَةُ - تمھنی۔ کہا۔
الظُّؤُورَةُ - دایہ۔ دودھ پلانے والی۔
ظَاءَمَةٌ مُظَاءَمَةٌ وَ تظَاءَمًا وَ
تظَاءَمًا - ہم زلف ہونا۔
الظَّامُ - ہم زلف۔ ساڑھو۔
الظَّبِيَّةُ - تلوار کی دھار۔ جہ۔ ظَبَاتٌ -
وَ ظَبِيٌّ وَ ظَبِيُونَ وَ ظَبِيُونَ وَ
أَظَبٌ -
أَظَبِيٌّ - امکان۔ بہن زیادہ ہونا۔
الظَّبِيٌّ - بہن بہنی۔ جہ۔ ظَبَاءٌ - و
أَظَبٌ وَ ظَبِيٌّ وَ ظَبِيَّاتٌ - عرب
کہتے ہیں "بہ داء الظبى" یعنی اسے
کوئی بیماری نہیں کہتے ہیں "إِذَا آتَيْتَهُمْ
فَارْبِعِينَ فِي دَارِهِمْ ظَبِيًّا" یعنی
ان کے ہاں بہن کی طرح نہ ٹھہرنا کہ وہ
شک کے مواقع میں نہیں رکتا۔
الظَّبِيَّةُ - بہنی۔ گائے۔ بکری۔ جہ۔
ظَبَاءٌ وَ ظَبِيَّاتٌ - الظَّبِيَّةُ - وادی

کا موڑ۔ بہن کے بال دار چھڑے کا چھوٹا
تھیلہ۔ ارضٌ مَظْبَاتٌ - بہت بہنوں
والی زمین۔
ظُؤُورٌ، مَظُؤُورَةٌ - دھار دار پتھر توڑنا۔
الناقلة - اونٹنی کو دھار دار پتھر سے
ذبح کرنا۔
أَظُرٌ - دھار دار پتھروں والی زمین میں آنا۔
جگہ کا دھار دار پتھروں والی ہونا۔
الظُّؤُورُ وَ الظُّؤُورُ وَ الظُّؤُورَةُ - پتھر۔ دھار
دار پتھر۔ جہ۔ ظُؤَارٌ وَ ظُؤَارٌ وَ
ظُؤَارٌ وَ أَظُؤُورَةٌ - الظُّؤَارُ - چٹاق
کے ٹکڑے جو زمانہ قدیم میں دیا سلائی
کی جگہ استعمال ہوتے تھے۔
ارضٌ ظُؤُورٌ وَ مَظُؤُورَةٌ - بہت چٹاق والی
زمین۔ الظُّؤُورُ - راستہ دکھانے
کے لیے نشان۔ جہ۔ ظُؤَارٌ وَ أَظُؤُورَةٌ
وَ ظُؤَارٌ -
الْمِظُؤُورَةُ - چٹاق۔ جہ۔ مِظُؤَارٌ -
ظُؤُوبٌ (س) ظُؤُوبًا - بگڑا۔ چمٹنا۔
الظُّؤُوبُ - ابھرا ہوا تیز پتھر۔ چھوٹا ٹیلہ۔ جہ
ظُؤَابٌ وَ أَظُؤُوبٌ -
الظُّؤُوبُ - پست قدموٹا آدمی۔
الظُّؤُوبَاتُ وَ الظُّؤُوبَاءُ - بلی کی طرح کا

ایک بدبو دار جانور۔ اود بلاؤ۔ ج۔
ظرفی و ظرفی بین کتے میں قسا
بیتھہ الظرفیان ان میں نا اتفاقی
پر مگنی۔
الظرفی۔ نواہن کے پیچھے چاروانت۔
الظرفی الحجام۔ حکام کی گریں۔
ظرفی دن، ظرفی و ظرفی۔ دانا اور
نوش شکل ہوتا۔ ذہین ہونا۔ ماہر ہونا
صفت (ظرفی) ج۔ ظرفی و
ظرفی و ظرفی و ظرفی و
ظرفی و ظرفی۔ مؤنث ظرفی۔ ج۔
ظرفی و ظرفی۔
ظرفی۔ خوب صورت ذہین بچوں والا ہونا
برتن بنانا۔
ظرفی و ظرفی۔ بتکلف دانا و
زیرک ہونا۔ بناوٹ سے خوبصورت
بننا۔
استظرفی۔ ظریف طلب کرنا۔ ظریف
سمجھنا۔ ظریف پانا۔
الظرفی۔ مہ۔ دانا، ہمارت۔ فوقیت،
برتن، ہر چیز کا مکان۔ عوام مشکیزہ کے
معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہو
نیقی الظرفی۔ وہ امین و وفادار ہے
"وایتیٰ بظرفیہ" میں نے اسی کو
دیکھا ہے۔
الظرفی و الظرفی۔ ظریف۔ ج۔
ظرفی و ظرفی۔
الظرفی۔ مہ۔ برتن میں سمائی ہوئی چیز۔
ظرفی رض، ظرفی۔ الماء۔ پانی کا
جاری ہونا۔
ظرفی رس، ظرفی۔ العلام۔ لڑکے کا
زیرک ہونا
ظرفی (ظرفی)۔ پیٹ پھولنا۔
الظرفی۔ فاکاٹ کھانے والا۔
الظرفی۔ زیرک، عقلمند۔ ظریف۔

ظرفی (ظرفی)۔ قطعنا و قطعنا و قطعنا۔
کوچ کرنا۔ روانہ ہونا۔
قطعنا۔ روانہ کرنا۔ قطعنا الہود ج۔
پالکی میں سوار ہونا۔
الظرفی و الظرفی۔ ہودہ باندھنے
کی رسی۔
الظرفی و الظرفی۔ پالکی اٹھانے والا
اونٹ۔ لداونٹ۔ ج۔ قطعنا۔
الظرفی۔ ہودہ پالکی۔ ج۔ قطعنا و
قطعنا و قطعنا و قطعنا و
قطعنا۔ ہودہ میں بیٹھی ہوئی عورت۔
عورت۔
الظرفی۔ من الخیل و النوی۔ نرم
رتار گھوڑا یا اونٹنی۔
ظرفی (ظرفی)۔ چہرہ پر ناخن مارنا۔
ناخن توڑنا۔
ظرفی (ظرفی)۔ المظلوب و
بہ علیہ۔ مقصد میں کامیاب ہونا۔
غالب ہونا۔ ظرفی جبنا۔ آنکھ کا
ناخن والی ہونا۔ آنکھ کی صفت۔
(ظرفی)
ظرفی کسی کی آنکھ میں ناخن ہونا۔ ایسا شخص
رمظرفی ہے۔
ظرفی۔ کسی کے لیے کامیابی کی دعا کرنا۔
ظرفی (ظرفی)۔ کسی چیز میں ناخن چھبونا۔
الظرفی۔ کپڑے پر خوشبو لگانا۔
الظرفی۔ چہرے کو ملنا۔ ظرفی و
ظرفی بعدیہ۔ دشمن پر کامیاب
کرنا۔
ظرفی فلانا۔ کسی کے چہرہ پر ناخن مارنا۔
ظرفی القوم۔ ایک دوسرے کی مدد
کرنا۔
الظرفی و الظرفی۔ ناخن۔ ج۔
ظرفی۔ ج۔ ظرفی۔ کتے ہیں
"ما بقی فی الدار ظرفی" گھر میں

کوئی نہیں رہا۔ رجل مقلد الظرفی۔
مذور آدمی۔ کسرًا ظرفیہ فی فلان۔
یعنی غیبت کی۔
الظرفی و الظرفی۔ ناخن، آنکھ کی ایک
بیماری۔
الظرفی و الظرفی۔ ناخن والا۔
الظرفی۔ ناخن کے مشابہ ایک خوشبودار
چیز۔ اس کا واحد نہیں۔ ظرفی۔
الظرفی۔ کپڑے کی سلٹیں۔
الظرفی۔ چھوٹے ستارے۔
الظرفی و المظرفی۔ ہر کام میں کامیاب
اور فتح مند۔
ظرفی (ظرفی)۔ ظرفی و ظرفی۔ یفعل کذا۔
بیشمار ہونا۔ ظرفی ظلالہ۔ ایوم۔
دن کا سایہ دار ہونا۔ الشیء۔ چیز کا
لہا ہونا۔
ظرفی۔ سایہ ڈالنا۔ ظرفی بالشتوی۔ ڈرانے
کے لیے کوڑے کو ہلانا۔
ظرفی۔ ایوم۔ دن کا سایہ دار ہونا۔ ظرفی،
سایہ ڈالنا۔ اپنی پناہ میں لینا۔ نزدیک آنا۔
تظرفی۔ بالشجر۔ درخت کے سایہ
میں بیٹھنا۔ من الشیء۔ سایہ لینا۔
الظرفی۔ انگور کی شاخوں کا گنجان و گننا
ہونا۔ العیون۔ چشم کے پانی کا نیچے بیٹھ
جانا۔ الشمس۔ سورج کا بادلوں
میں چھپ جانا۔
الظرفی۔ سایہ۔ ج۔ ظرفی و ظرفی و
ظرفی، عزت، آرام، آسودگی۔
الظرفی من اللیل۔ رات کی سیاہی
یا رات کا حصہ۔ من القیظ۔ گرمی
کی شدت۔ من الشمس۔ کپڑے کا
دواں۔ ظرفی الشبیب أو الشبیب۔
جوان یا جاڑے کا شرمیلہ۔ آغزہ۔ بقی
عندی ظرفی الظہر؛ وہ میرے پاس

سارے دن رہا۔ "هُوَ فِي ظِلِّهِ" وہ
اس کی پناہ میں ہے۔ "فَلَاقُ يَبَارِي"
ظِلُّ رَاسِهِ: فلاں تکبر کرتا ہے۔
مَلَا عَيْبُ يَلِيهِ اَوْ جَا طِفُّ يَلِيهِ:
ایک پرندے کا نام ہے۔
الظِّلُّ - پانی جو ہمیشہ درختوں کے سایہ
میں رہے۔
الظِّلَّةُ - اسم مرؤہ۔ اقامت۔
الظِّلَّةُ - تنگ سا بنان، ہر وہ شے جس
کے ذریعہ سردی یا گرمی سے پناہ لیں۔
ہر سایہ دار جہ۔ ظِلٌّ وَظِلَاوٌ۔
الظِّلَاوُ وَالظِّلَاوُ وَالظِّلَّةُ - و
الظِّلَاوَةُ - ہر سایہ دار چیز جسے ہاول
وغیرہ۔
الظِّلِيلُ - سایہ دار۔ ہمیشہ سایہ والا۔
الظِّلِيلَةُ - مؤنث الظِّلِيلُ بہت درختوں
والا باغ۔ وادی کے نشیب میں پانی
کا چشمہ۔
الْبَيْظُ وَالْمَيْظُ - جس سے سایہ
لیا جائے، بڑا خیمہ، چھتری۔ جہ۔
مَقَالٌ - یہودیوں کی عید جس میں وہ پتے
کے نیچے نصب کر کے چند یوم مہر کو غلامی
سے نکلنے کی عید مناتے ہیں۔
ظَلَمَ رَفًا، ظَلَمَاءُ الْبَعِيرُ - اونٹ کا
چلنے میں لنگڑا نا۔ صفت (ظالِمٌ)
ظَلَعَتْ جَهْدُ الْأَرْضِ، زَمِينِ ان پر
تنگ ہو گئی۔
الْقَلْعُ - مع۔ جب: "ارْبَعٌ عَلَى ظُلُوعِ"
جوہات تم نہیں کر سکتے اس سے باز رہو
"ارْتَقِ عَلَى ظُلُوعِ" اپنے معاملے
کی اصلاح کرو۔ "قِي عَلَى ظُلُوعِ"
اپنے عیب چھپاؤ۔
الظَّلَامَةُ - لنگڑا پن۔
الظَّلَامَةُ - فارمہ اور مؤنث، مشکوک،
مضمم جس کا ہوا۔ مائل۔ مؤنث کے لیے

ظَالِمَةٌ بھی آتا ہے۔
ظَلَعَتْ (عَنْ) ظَلَعًا - کمر ہمارا نا۔ ظَلَعَتْ
نَفْسُهُ عَنِ الشَّيْءِ - اپنے نفس کو
کسی چیز سے باز رکھنا۔ روکنا۔
ظَلَعَتْ رِجْلُ ظَلَعًا - القوم۔ قوم کے
نشانات قدم پر چلنا۔
ظَلَعَتْ وَظَالَفَتْ مُطَالَفَةً - اثر ہے۔ اپنے
پاؤں کے نشانات کو چھپا دینا۔
ظَلَعَتْ رِجْلُ ظَلَعًا - الأرض - زمین کا
سخت ہونا۔ مَحِيضَةُ فَلَانٍ - زندگی
کا تکلیف دہ ہونا۔ نَفْسُهُ عَنِ كَذَا
رُكِنًا۔
ظَلَعَتْ - الرجلُ - سخت زمین میں روکا
جانا تاکہ نشانات قدم کا پتہ نہ لگ
سکے۔
ظَلَعَهُ - عَنْ كَذَا - دور کرنا۔ ظَلَعَتْ عَلَى
كَذَا - زیادہ کرنا۔
الظَّلْمَةُ - دور کرنا۔
الظَّلْمَةُ وَالظَّلْمَةُ - سخت زمین میں پڑنا۔
الظَّلْمَةُ - كَمْرٌ - نشان قدم۔ حاجت۔ گذران
کی تنگی۔ جہ۔ ظُلُوعٌ وَأُظْلَافٌ۔
الظَّلْمَةُ - مع۔ باطل، مباح، جائز۔
بے فائدہ۔
الظَّلْمَةُ وَالظَّلْمَةُ - پانی اور کھپڑے
اوپنی جگہ: "رَجُلٌ ظَلَمَ نَفْسَهُ"
بری صفات سے پاک و بری آدمی۔
أَرْضٌ ظَلْمَةٌ وَظَلْمَةٌ وَظَلْمَةٌ -
سخت و پتھریل زمین۔
الظَّلِيمَةُ - ہمال۔ ذلیل۔ سخت مشکل کام
جہ۔ ظَلْمٌ وَظَلْمٌ - کہتے ہیں
"أَخَذَهُ بِظَلْمِهِ وَبِظَلْمِهِ وَ
بِظَلْمِهِ" اس نے سب لے لیا۔
کچھ نہیں چھوڑا۔
الظَّلْمَاءُ - ہمواری چٹان۔
ظَلَمَ دُونَ ظَلْمًا وَظَلْمًا وَظَلْمًا -

چیز کو بے موقع رکھنا۔ ظلم کرنا۔
ظَلْمَةٌ - کسی کے حق کو کم کرنا۔
الأرض - زمین کو بے موقع کھودنا۔
الطريق - راستہ سے ہٹ جانا۔ مَا
ظَلَمَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا - تجھے
ایسا کرنے سے کس نے منع کیا۔ ظَلَمَ
الْبَعِيرُ - اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے
ذبح کرنا۔
ظَلَمَ دُونَ ظَلْمًا وَأُظْلَمَ - اللیل۔
رات کا تاریک ہونا۔ اندھیرے میں داخل
ہونا۔ مظلوم ہونا۔
ظَلَمَهُ - ظلم کی شکایت کرنا۔ ظالم کہنا۔ ظلم
دور کرنا۔
تَظَلَّمَ - منہ کسی سے ظلم کی شکایت کرنا
ظلم کی فریاد کرنا۔ ظلمت۔ کسی کے
حق کو گھٹانا۔ الرجل - ظلم پر مہر کرنا۔
تَظَلَّمَ - القوم - ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔
الظَّلْمَةُ وَالظَّلْمَةُ - ظلم برداشت کرنا۔
الظَّلْمَةُ - مع۔ برف۔ مانتوں کی چمک۔
جہ۔ ظُلُوعٌ۔
الظَّلْمَةُ - مع۔ کسی چیز کا غلط استعمال۔
کسی چیز کو غیر محل رکھنا۔ خرابی۔ ظلم،
حق کی کمی۔
الظَّلْمَةُ - و جہود، بدن بہاؤ۔ جہ۔ ظُلُوعٌ
لَيْلٌ ظَلْمٌ - سخت تاریک رات۔
الظَّلْمَةُ وَالظَّلْمَةُ - بات کی تاریکی۔
اندھیرا۔ جہ۔ ظَلْمٌ وَظَلْمَاتٌ وَ
ظَلْمَاتٌ - الظَّلْمَةُ - قری باؤ کی
آخری تین راتیں۔
الظَّلَامَةُ وَالْمُظْلِمَةُ - بے انصافی۔
ظلم۔ ظلم سے لی ہوئی چیز۔ جہ۔
مَظَالِمٌ۔
الظَّلَامَةُ - نا۔ جہ۔ ظَالِمُونَ وَظَلْمَةٌ
وَظَلْمَةٌ۔
الظَّلَامَةُ وَالظَّلْمَاءُ - تاریکی، رات کا

کرنے۔ یفلان وعلیہ۔ غالب ہونا۔
 علی السیر۔ راز جان لینا۔ کلاًون
 پہنچا جتنی۔ حاجت کو ہلکا جان کر اس کو
 پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ غفلت برتنا۔
 ظہورن، ظہارن۔ مضبوط پیٹھ والا
 ہونا۔

ظہورس، ظہورا۔ پیٹھ میں نکابت ہونا۔
 صفت دظہور
 اظہور۔ الشی۔ ظاہر کرنا۔ پیٹھ پیچھے ڈالنا۔
 الکتاب۔ کتاب کو ازبر پڑھنا۔ اظہور
 علی عداقہ۔ کسی کو دشمن پر غالب
 بنانا۔ اظہور علی السیر۔ بید پر
 کسی کو مطلع کرنا۔ کسی کو راز ستلانا۔ بہ۔
 مرتبہ بڑھانا۔ اظہور دوپہر میں
 چلنا یا داخل ہونا۔ ظہور و اظہور۔
 حاجتی۔ حاجت کو پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ یعنی
 اس سے غافل ہونا۔

ظاہورہ۔ مظاہورہ و ظہارہ۔ مدد کرنا
 معاونت کرنا۔ باہن الثوبین۔ دو
 کپڑے اوپر نیچے پہننا۔
 تظاہور۔ ظاہر ہونا۔ بالشی۔ ظاہر کرنا۔
 القوم۔ ایک دوسرے سے دور ہونا۔
 ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

استظہور۔ احتیاط کرنا۔ الشی۔ بھانے
 کے لیے کسی شے کو پیٹھ کے پیچھے کرنا۔
 بہ۔ مدد مانگنا۔ لہ۔ تیار ہونا۔ کئے
 کے لیے مائل ہونا۔ علیہ۔ چڑھنا۔
 غالب آنا۔ الدارس۔ سبق کو ازبر
 پڑھنا۔

الظہور۔ پیٹھ۔ اوپر کا بیرونی حصہ۔ جو۔
 اظہور و ظہور و ظہور۔ لہو
 اونٹ۔ بہت مال۔ تیرکا چھوٹا پہلو۔
 غفلت کا راستہ۔ سائغای ظہور
 الظہور۔ وہ غفلت کے راستے چلے۔
 سمت زمین۔

نیدا اصاحبک۔
 ظنہ و اظنہ و اظنہ و اظنہ بکدا۔
 مہم کرنا۔ اظنہ الشی۔ وہم
 میں ڈالنا۔

ظنن و ظنن۔ گمان کرنا۔
 الظن۔ گمان۔ فک و یقین کے معنی میں
 یہی مستعمل ہے۔ جو۔ ظنون۔ جہ
 اظانین۔
 الظنہ۔ تحت۔

الظنات و الظنون۔ بدگمان۔ بدظن۔
 رجل ظنون۔ کم حیلہ۔ کمزور۔ غیر
 معتبر۔ باظنون۔ وہ کنواں جس میں
 پانی ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو۔
 دین ظنون۔ وہ قرض جس کے
 وصول ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو۔
 رجل ظنون۔ وہ شخص جس کی خبر
 پر ہوسر نہ کیا جاسکے۔

الظنین۔ مہم، مشکوک۔ بدظنی کی وجہ
 سے ناپسندیدہ۔ بے خیر آدمی۔ جو۔
 اظنات۔

الاظن۔ خیال رکھے جانے کے قابل۔
 وظنہ۔ الشی۔ وہ جگہ جہاں چیز کے وجود کا
 گمان اور خیال ہو۔ جو۔ مظان۔

الظنوب۔ قدم کی جانب سے پٹلی کی ہڈی
 کا کنارہ۔ قرع ظناب بیت الأضرہ
 اس نے کام کو آسان کر دیا۔ قرع
 لهذا الأضرہ ساقہ و ظنوبہ۔ اس
 نے اس کام میں خوب کوشش کی۔

ظہورف، ظہورا۔ ظاہر ہونا۔ باہر آنا۔
 ظہورہ ظہورا۔ پیٹھ پر مارنا۔ ظہور
 یولہ۔ اچھلے علم پر غور کرنا۔ ناز کرنا۔
 الشی وکے۔ چیز کو پیٹھ پیچھے پھینکنا۔
 یعنی غفلت برتنا۔ الثوب۔ کپڑے کا
 ابرہ ہانا۔ اظہور و ظہورا
 البیت۔ گھر۔ پڑھنا۔ علیہ۔ مدد

پہا حصہ۔
 الظلام۔ ظلم، غصہ کی نظر، ترھی نظر۔
 الظلام و الظلم و الظلم۔ بڑا
 ظالم۔ بڑا بے انصاف۔

الظلم۔ مظلوم، زبردست مرغ۔ جو۔
 ظلم و ظلم و اظلمہ۔
 الظلمہ۔ ظلم سے لی ہوئی چیز۔ امر
 و ظلام۔ بہت ہی کٹھن کام۔

ظلمی رس، ظلماً و ظلماً و ظلماء و
 ظلماء۔ سخت پیاسا ہونا۔ البیہ۔
 مشتاق ہونا۔ صفت مذکر ظلمی و
 ظلمی و ظلمان، صفت مؤنث
 رظلمہ و ظلمہ و ظلمی و
 ظلمات۔ جو۔ ظلماء مذکر مؤنث
 دونوں کے لیے،

ظلماً و اظلماً۔ پیاسا کرنا۔ ظلماء
 الفرس۔ گھوڑے کو لاغر کرنا۔
 ظلماء۔ پیاس پر مبر کرنا۔ اظلمہ۔ جو
 اظلماء۔ و الظلماء و الظلماء
 پیاس۔

المنظما۔ سخت پیاس والا۔ المنظما
 پیاس کی جگہ۔
 ظلمی ظلمی ظلمی۔ گندم گوں ہونا۔

الظلمی۔ مؤنث الاظلمی۔ جو۔ ظلمی۔
 ظلمہ ظلمی۔ پڑوہ گندی ہونٹ
 ظلمی ظلمی۔ ہارک پکوں والی آگ۔
 ظلمہ ظلمی۔ کم خون والا مسوڑہ
 سانی ظلمی۔ کم گوشت والی
 پٹلی۔

ظنن دن، ظننا۔ الشی۔ جاننا۔ یقین کرنا۔
 "ظنوا ان لا ملک الا من اللہ الا
 لا یلو۔ انہوں نے یقین سے جان
 لیا کہ اللہ کے غیب سے کہیں پناہ
 نہیں، مگر اسی کے پاس۔ اور گمان کے
 معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے "ظننت"

قَدْرٌ ظَهَرَ. پرانی ہانڈی "قَدْرًا عَلَيَّ
ظَهَرَ قَلْبُهُ اَوْ عَلَيَّ ظَهَرَ لِي سَائِرُهُ"
یعنی اس نے حفظ و ازبر پر پڑھا۔
"اَعْطَاكَ عَنْ ظَهْرِ يَدَيْهِ" اس نے
از خود بغیر بدلے کے دیا۔ "هُوَ نَزِيلٌ
بَيْنَ ظَهْرِيَّهِمْ وَظَهْرَانِيَّتِهِمْ وَ
بَيْنَ اَظْهَرِهِمْ" وہ ان کے
درمیان اترا۔ "رَأَيْتَهُ بَيْنَ ظَهْرَانِي
التَّيْلِ" میں نے اس کو عنقا اور فخر
کے درمیان دیکھا۔ "قَلْبٌ لَهُ ظَهْرٌ
الْمِجَنِّ" وہ اس کے لیے بدل گیا اور
دشمنی کی۔ "وَقَلْبٌ اَلْمَرْءِ ظَهْرًا
لِبَطْنِهِ" اس نے معاملہ میں خوب غور
کیا۔ "كَتَلَهُ ظَهْرًا" اس نے اس کو
اچانک مار دیا۔ "هُوَ يَأْكُلُ عَلَيَّ
ظَهْرِيَّيْدِي" وہ میرے ہاتھ سے
کھاتا ہے۔ یعنی میں اس پر خرچ کرتا ہوں
"لَا تَجْعَلْ حَاجَتِي بِظَهْرِي" یعنی
میری حاجت کو نہ بھولنا۔
الظَهْرِيُّ۔ ضرورت کے لیے تیار رکھا ہوا

ادنیٰ پیٹھ کے پیچھے والا ہوا۔ فراموش
کیا ہوا۔ ج۔ ظَهْرَانِيٌّ۔
الظَهْرِيُّ۔ سورج کے زوال کے بعد کا وقت
ظہر، ج۔ اَظْهَارٌ۔
الظَهْرِيُّ۔ مدد۔ الظَهْرَةُ وَالظَهْرَةُ۔
مددگار و معین۔
الظَهْرَةُ۔ گھر کا سامان۔ قوم، کنبہ۔
الظَهْرِيُّ۔ معین، محافظ، مضبوط پیٹھ والا۔
پیٹھ میں شکایت رکھنے والا۔
الظَهْرِيُّ۔ بوزن الظَهْرِيُّ۔ دوپہر، ج۔
ظَهْرَانِيٌّ۔
الظَهْرَانِيٌّ۔ تیر کے پرکا چھوٹا پلو۔
الظَهْرَانِيَّةُ۔ من الثوب۔ ابرہ۔ یعنی
دوہرے کپڑے کی اوپر کی تہ۔
الظَاهِرُ۔ نا۔ بیرونی، واضح۔ ظَاهِرٌ
الْبَدَنِ۔ بیرون غم۔
الظَاهِرَةُ۔ مِنَ الْعُيُونِ۔ ابھری ہوئی
آنکھ۔ ج۔ ظَاهِرَاتٌ وَظُلُوهَا۔
ظَاهِرَةُ الرَّجُلِ۔ آدمی کا کنبہ۔
قَبِيلَةٌ۔ ظَاهِرَةُ الْجَبَلِ۔ پہاڑ کی چوٹی

الظَوَاهِرُ۔ بلند زمین۔ المَظْهَرُ۔
ظہر کی جگہ۔
المُظْهَرُ۔ فا۔ سواری والا۔ المَظْهَرُ۔
مضبوط پیٹھ والا۔
الظَوَّاءَةُ۔ بے وقوف آدمی۔
ظَاغُهُ يَنْظُوقُهُ وَيَنْظُوقُهُ ظَوْفًا۔
دھتکارنا۔ دفع کرنا۔ ظَوْفُ الرَّقَبَةِ
وظا فہا۔ گردن کا چمڑا۔ گردن کی
کھال۔ تَرَكَتُهُ بِظَوْفِ رَقَبَتِهِمْ اَوْ
بِظَا فِهَا۔ یعنی میں نے اس کو اکیلا
چھوڑ دیا۔
أَطْوَى۔ بیوقوف ہونا۔ نادان ہونا۔
الظَيْتَةُ۔ بڑنے والی لاش۔
الظَّيْتِيُّ وَالظَّيْتَانُ شَهْدٌ۔ الظَّيْتَانُ جَنْكَلِي
چھیلی۔ اُيْبُ يُوَادُّ جَسَدَهُ كَيْتُهُ رَنْكَايُ
کے کام میں آتے ہیں۔
الْمُظْيَاةُ وَالْمُظْوَاةُ۔ مِنَ الْاَرَاغِي۔
جنگلی چھیلی والی زمین۔
ظَيَاةٌ تَطْيِيئًا۔ غمگین کرنا۔
الظَيْمًا۔ بے وقوف آدمی۔

ع

عَبَّ دُونَ عَبَا۔ چہرے کا تغیر کے بعد
خوبصورت ہونا۔ الماء۔ پانی کو منہ لگا
کر پینا جیسے جانور پیتے ہیں۔ عَهَبْتُ
الدَّلْوُ۔ بھرتے وقت دُول کا آواز کرنا۔
عَبَابًا۔ البَحْرُ۔ موجوں کا بلند ہونا اور
زیادہ ہونا۔
تَعَبَّبَ۔ التَّيْبُذُ۔ شراب کو لگا لگا کر
پینا۔
الْاَعْبَبُ۔ فقیر، سخت ناک والا۔
العَبُّ۔ مع۔ اولاً عَبُّ الشَّمْسِ۔ آفتاب
کی روشنی۔

العَبُّ۔ آستین کا کنارہ۔ ج۔ عِبَابٌ۔
العَبُّ۔ اچھلتا ہوا پانی۔
العَبَابُ۔ پانی منہ لگا کر پینا۔
العَبَابُ۔ طوفان کا چڑھاؤ۔ عِبَابٌ۔
البَحْرُ مَوْجٌ۔ کہتے ہیں۔ "جَاؤُ
بِعَبَابٍ مَوْجٍ" وہ سب کے سب آئے
العَبِيَّةُ وَالْعَبِيَّةُ۔ فخر، غرور، تکبر۔
العَبْوِيَّةُ۔ تیز رو دیرا۔ لبا تیز رو گھوڑا۔ ابادل
ج۔ يَعْبَانِيَّةٌ۔
عَبَاؤُنْ، عَبَاؤُ عِبَاؤُ عِبَاؤُ عِبَاؤُ
الْمَتَاعِ۔ سامان تیار کرنا۔ العَبِيَّةُ

لِلْحَوْبِ۔ لڑائی کے لیے لشکر تیار کرنا۔
عَبَاؤُ إِلَى فُلَانٍ وَلَهُ۔ ارادہ کرنا کہتے
ہیں۔ "لَا عَبَاؤُ لَهُ" اس کی میں پرواہ
نہیں کرتا۔
لَعَبَابًا۔ مَا عِنْدَهُ، جو کچھ اس کے پاس
تھا، لے لیا۔
العَبُّ۔ بوجھ، گھمڑی، بوسہ۔ جہر اَعْبَاءُ۔
والعَبُّ۔ نظیر و ثقیل۔
العَبَاءُ۔ چوغہ۔
الْمُعْبَاؤُ۔ راہ۔
الْمُعْبَاؤُ۔ ماہراری کا ہتھیار۔

عَبْتٌ رَضٍ، عَبْتًا - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا۔
 عَبْتٌ رَسٌ، مَذَاقٌ كَرْنَا - کھیل کو دکرنا۔
 بِالذِّئْبِ - دین کی توہین کرنا۔ صفت
 عَبِيْتُ وَعَبِيْتُ -
 عَيْبَةُ - النَّاسِ - مختلف قسم کے لوگ۔
 الْعَبْتُ - لَعُوٌّ، بِيهْوَةٍ - کہتے ہیں کہ "فَعَلَ ذَلِكَ عَبْتًا" اس نے یہ کام لگو کیا۔
 الْعَيْبَةُ - ایک قسم کا پھول۔ الْعَبْوَةُ - الْعَبْوَةُ - وَالْعَبْوَةُ - ایک خوشبودار پودہ۔
 بَفِجْتًا - بھیا بھی آتا ہے۔
 عَبْدَانٌ، عِبَادَةٌ وَعِبُودَةٌ وَعِبُودِيَّةٌ وَعِبُودِيَّةٌ -
 اَللّٰهُ - اللہ کو ایک ہانا۔ عبادت کرنا
 خدمت کرنا۔ ذلیل ہونا۔ خشوع و خضوع
 کرنا کہتے ہیں "مَا عَبَدَكَ عَبِيٌّ" -
 تجھے کس چیز نے مجھ سے روکا۔
 عَبْدُكَ، عِبُودَةٌ وَعِبُودِيَّةٌ - آباد
 اجداد سے غلامی میں ملے آنا۔
 عَبْدٌ رَسٌ، عَبْدًا وَعَبْدَةٌ - عَلِيٌّ فُلَانٍ
 غضب ناک ہونا۔ منہ ناک بھڑوں پر مہانا
 - مَا قَالَهُ - انکار کیا۔ عَلِيٌّ
 لَفِيهِ - اپنے اوپر طمانت کرنا۔
 الرَّجُلُ - پشیمان ہونا۔ ۵۔ لگار
 جہانہ ہوا۔ عَلِيُّ الشَّيْءِ - حریف ہونا۔
 صفت (عَابِدٌ وَعَبِيدٌ)،
 عَبِيدَةٌ - فرمانبردار بنانا۔ غلام بنا لینا۔
 الطَّوِيلُ - راستہ کو چالو بنانا۔ پانچ ماں
 کرنا۔ الرَّجُلُ - جلدی کرنا۔ بھاگنا۔
 البعير - اونٹ کے قطران ملنا۔
 عَبْدٌ يَعْدُو - کچھ تیز دوڑنا۔ مَا
 عَبْدٌ أَنْ فَعَلَ كَذَا - اس نے دیر
 نہیں کی کہ ایسا کر دیا۔
 عَبْدٌ الْغُلَامُ - غلام کا مالک بنا دیا۔
 عَبْدٌ الْغُلَامُ - غلام بنا لیا۔ الْقَوْمُ

مجمع ہونا۔
 عَبْدٌ - عبادت کے لیے علیحدہ ہونا۔ ۵۔
 فرمانبرداری کے لیے بلانا۔ غلام بنانا۔
 غلاموں جیسا سلوک کرنا۔
 عَبْدٌ - الْقَوْمُ - قوم کا متفرق ہونا۔
 اسْتَعْبَدَا وَاسْتَعْبَدَا - غلام بنا لینا۔
 الْعَبْدُ - انسان۔ غلام۔ ج۔ عَبِيدٌ و
 عِبَادٌ وَعِبْدَةٌ وَعِبْدُونَ و
 عَبِيدٌ وَعَبْدَانٌ وَعَبْدَانٌ و
 عَبْدَانٌ وَعِبَادٌ وَمَعْبَدَةٌ و
 عَبِيدٌ وَعَبِيدٌ وَعَبِيدٌ و
 عَبِيدٌ وَمَعْبُودَةٌ - ج۔ عَبِيدٌ و
 مَعْبُودَةٌ وَأَعْبَادٌ - عَبِيدٌ و
 عَبِيدٌ - خالص غلام۔ خاندانی
 غلام۔
 الْعَبْدَانِيَّةُ - الْعَبُودَةُ وَالْعَبُودِيَّةُ و
 التَّعْبِيدَةُ - اطاعت و غلامی۔ دَرَاهِمُ
 عَبْدِيَّةٌ - پرانے درہم۔
 الْعِبَادُ - عَبْدٌ كِي مَجْج - جہرہ کے چند نصرانی
 عربی قبیلے نسبت کے لیے عَبَادِيٌّ
 آتا ہے۔
 الْعَبَادِيَّةُ وَالْعَبَائِدُ - لوگوں کے فرقے۔
 گھوڑوں کے گلے۔ دور دراز راستے۔
 الْعَابِدُونَ، غلام۔ ج۔ عَبِيدٌ و
 عَبَادٌ وَعَابِدُونَ - مَوْنٌ عَبِيدَةٌ
 ج۔ عَابِدَاتٌ وَعَوَائِدُ -
 الْعَبْدَةُ - طاقت۔ بقا۔ موٹاپا۔ زندگی۔
 خوشہ پیسے کا پتھر۔ خودداری۔
 الْمُعْبِدُ - عبادت گاہ۔ ج۔ مَعْبُودٌ -
 الْمُتَعَبِدُ - عبادت کی جگہ۔
 الْمُعْبِدُ - کسی بھاڑا۔ ج۔ مَعْبُودٌ -
 الْمُعْبِدُ - چالو راستہ۔ معظّم مینج - گھوڑی۔
 قطران ملا ہوا اونٹ۔ بَعِيرٌ مَعْبِدٌ -
 وہ اونٹ جس کی سواری چھوڑ دی گئی
 ہو۔ مَوْنٌ مَعْبِدَةٌ - الْمُعْبِدَةُ -

قارملی ہونی گشتی۔
 عَبْرَانٌ، عَبْرًا - غم زدہ ہونا۔ آنسو بہانا۔
 الْعَيْنُ - آنکھ کا آنسوؤں سے ڈبڈبانا۔
 - الْكِتَابُ - خاموش مطالعہ کرنا۔
 الدَّرَاهِمُ - درہموں کو پرکھنا۔ گننا۔
 عَبْرًا وَعَبْرًا - السَّبِيلُ - راستہ
 طے کرنا۔ گذرنا۔ مرنا۔ الشَّهْرُ - او
 الوادِي - نہریا وادی کو پار کرنا۔ عَبْرًا
 بِالْمَاءِ - پار کر دیا۔ عَبْرًا و
 عَبْرًا - التَّوْفِيَا - خواب کی تعبیر
 دینا۔
 عَبْرٌ رَسٌ، عَبْرًا - آنسو بہانا۔ صفت ذکر
 و مؤنث (عَابِرٌ) عبرت حاصل کرنا۔
 اہل عرب کہتے ہیں "اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا
 مِمَّنْ يَعْبِرُ الدُّنْيَا وَلَا يَعْبُرُهَا" -
 اے خدا میں ان لوگوں سے کر، جو دنیا
 سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور بغیر تیری
 رضا مندی حاصل کیے جلدی سے نہیں
 مر جاتے۔
 عَبْرٌ - التَّوْفِيَا - خواب کی تعبیر بیان کرنا۔
 عَبْرًا فِي كَفِيهِ - دل کی بات ظاہر کرنا
 - عَن كَذَا - اس کے بارے میں کہنا۔
 عَبْرًا بِالْمَاءِ - پار کرنا۔ الدَّرَاهِمُ
 درہموں کو پرکھنا اور گننا۔ بہ۔ ہلاک کرنا
 - بِالْأَمْرِ - دشوار ہونا۔
 عَبْرٌ الشَّيْءِ - آزمانا خود کرنا۔ مِنْهُ
 تعجب کرنا۔ بہ۔ نصیحت حاصل کرنا۔
 الرَّجُلُ - اعتبار کیا۔
 اسْتَعْبَرُوا - آنسو بہائے۔ غمگین ہونا۔
 الدَّرَاهِمُ - گننا اور پرکھنا۔ اسْتَعْبَرُوا
 التَّوْفِيَا - تعبیر بیان کرنا
 درہم کو شمار کرنا اور پرکھنا۔ الْعَيْنُ
 آنکھ کا ڈبڈبانا۔
 الْعَابِرُونَ، گزرنے والا۔ خود کرنے والا۔
 ج۔ عَبْرُونَ - عَبْرًا - عَبْرًا

مؤنث (عَابِرَةٌ) دَخَلَ عَابِرٌ سَبِيلًا . داخل ہوا بغیر طہ کے گزرتے ہوئے ۔
 الْعَبَّارُ . عَابِدٌ كَمَا لَعَنَ تَعْبِيرُ خَوَابٍ وَيُنِي وَالْأَلَّاءُ جَمَلٌ عَبَّارٌ . چلنے میں قوی اونٹ ۔
 الْعَبْرُ وَالْعَبْرُ . مِنَ الْوَادِي . کنارہ ۔ مجلس ۔ عَبْرٌ وَعَبْرٌ . بہت سے آدمیوں کی مجلس ۔ بَنَاتٌ عَبْرٌ ۔ جھوٹ ۔ باطل ۔ أَبُوبَنَاتٍ عَبْرٌ جھوٹا ۔
 الْعَبْرُ . ہر چیز کی زیادتی ۔ انسانوں کی کثرت ۔ تیز چلنے والا بادل ۔ وہ عورت جس کا بچہ کم ہو گیا ہو ۔ عَقَابٌ وَالْعَبْرُ ۔ آنکھ کی گرمی جو آنسوؤں کو بہاتی ہے ۔ الْعَبْرُ وَالْعَبْرُ وَالْعَبْرُ مَضْبُوطٌ ۔ قوی (فاصلہ جمع ۔ مذکر مؤنث) کہتے ہیں ۔
 "فَلَانٌ عَبْرٌ لِكَيْ عَمِلَ فُلَانٌ ہر کام کے لائق ہے ۔ جَمَالٌ عَبْرٌ اسفار چلنے میں قوی اونٹ ۔
 الْعَبْرَةُ . عبر کا اسم مرہ ۔ آنسو ۔ ج ۔ عَبْرُوا عَبْرَاتٌ ۔ غم ۔ الْعَبْرَةُ . نصیحت ۔ کہتے ہیں : لَكَ فُلَانٌ عَبْرَةٌ ؛ احوال میں غور و فکر ، تعجب ۔ وہ اصل جو نفاذ کا مرجع ہو ۔
 الْعِبَارَةُ . عَبْرٌ كَمَا اسم ہے معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ ۔ کہتے ہیں : فُلَانٌ حَسَنُ الْعِبَارَةِ ؛ فُلَانٌ أَدْمَى الْجَمَّاحِ بیان کرتا ہے : "ہذا عِبَارَةٌ عَنْ كَذَا" یہ چیز اس کے ہم معنی ہے ۔
 الْعَبْرُ . مؤنث عَبْرَةٌ ۔ الْعَبْرَانُ . مؤنث عَبْرَانِي . ج ۔ عَبَارِي آنسو بہانے والا ۔ غمزہ ۔ الْعَبْرِيُّ وَالْعَبْرَانِيُّ ۔ یہودی ۔ یہودیوں کی زبان ۔

الْعِبْرَانِيَّةُ . یہودیوں کی زبان ۔ یہودیت ۔ الْعَبْرِيُّ . کلاں ۔ سَهْمٌ عَبْرِيُّ . بہت سے پروں والا تیر ۔ قوم عَبْرِيُّ . بہت سے لوگ ۔
 الْمَعْبَرُ . گذرگاہ ۔ گھاٹ ۔ الْمَعْبَرُ وَالْمَعْبَرَةُ . دریا پار کرنے کا ذریعہ ۔ الْمَعْبَرُ . بہت سارے بالوں یا پروں والا ۔ غلامٌ مَعْبَرٌ ۔ وہ لڑکا جس کو احتلام ہونے لگے ۔ مگر اس کی ختنہ نہ ہوئی ہو ۔ الْعَبْوُزُ . بکری کا بچہ ۔ ج ۔ عَبَائِيٌّ ۔ غیر ختنہ شدہ ۔ ج ۔ عَبْرٌ ۔ الْعَوْبَرُ . چیتے کا بچہ ۔ تیندوے کا بچہ ۔ عَبَسَ رَضٌ ، عَبَسًا وَعَبُوسًا ۔ ترشروئی کرنا ۔ تیوری چڑھانا ۔ چہیں بہ چہیں ہونا ۔ (عَبَسَ) الْوَجْهَ . ترشرو ہونا عَبَسَ وَجْهَهُ . ترشروئی کرنا ۔ عَبَسَ رَسٌ ، عَبَسًا . البعير ۔ اونٹ کی دم ۔ میٹنی کا خشک ہو جانا ۔ الْوَسَخُ فِي يَدَيْهِ وَعَلَيْهَا . میل خشک ہونا ۔
 أَعْبَسَ . الرَّجُلُ . میلا ہونا ۔ الْاِبِلُ . دُمٌ پَرِخْشَكٌ مِیٹنی والا ہونا ۔ عَبَسَ . ترشرو ہونا ۔ الْعَبَسُ . اونٹ کی دم پر خشک میٹنی ۔ الْعَبُوسُ وَالْعَبَّاسُ . بہت ترشرو ۔ شیز یوم عَبُوسٌ ۔ سخت دن ۔ عَبَسَ رَسٌ ، عَبَسًا . الشیء . اصلاح کرنا درست کرنا ۔ الْعَبْسُ . درستی ، اصلاح ۔ وَالْعَبْسُ وَالْعَبْسَةُ . عبادت ۔ کُذِّبَ مِنْ بُونَا . الْعَبْسَةُ وَالْعَبْسَةُ . غفلت ۔ عَبَطَ رَضٌ ، عَبَطًا . الذَّبِيحَةُ . موٹے تازے جانور کو ذبح کرنا ۔ الْفَصْرَعُ . مٹن کو خون آلود کرنا ۔ الْتَرَابُ . مٹی اڑانا ۔ الرَّجُلُ . فیبت کرنا ۔

الدَّوَاهِي فَلَانًا . بلا سبب مصیبت پڑنا ۔ الْكذِبُ . بلا وجہ جھوٹ بولنا ۔ عَرْضَةُ . گالی دینا ۔ بے آبرو کرنا ۔ عَبَطَتِ الرِّيحُ وَجْهَ الْأَرْضِ . ہوا کا سطح زمین کو صاف کر دینا ۔ الشیء چیز کا پھٹ جانا ۔
 أَعْبَطَهُ . الموتُ . بحالت تندرستی و جوانی مرجانا ۔
 أَعْتَبَطُ . الذَّبِيحَةُ . موٹا جانور ذبح کرنا ۔ الموتُ . بحالت صحت و جوانی موت آنا ۔ الرَّجُلُ بَطْلًا قَتَلَ كَرْنَا . الْعِرْضُ گالی دینا ۔ بے آبرو کرنا ۔ الرَّجُلُ بَخَارٌ آنا ۔ زخمی کرنا ۔
 الْعَبْطُ . سفید جھوٹ ۔ خالص بتان کہتے ہیں : مَاتَ عَمَطَةً . تندرست جوان مر گیا ۔
 الْعَبِيْطُ . وہ ذبح کردہ جانور جو موٹا تازہ تندرست ہو ۔ ج ۔ عَبْطٌ وَعَبَّاطٌ ۔ أَدِيمٌ عَبِيْطٌ . پھٹا ہوا چمڑا ۔ دَمٌ عَبِيْطٌ . تازہ خون ۔
 الْإِعْتِبَاطُ . أَعْتَبَطُ كَمَا مَصْدَرٌ . الْحَدُوفُ الْإِعْتِبَاطِيُّ عَمْدًا النَّحَاةُ . بلا سبب کے مرنے کرنا ۔
 الْعَوْبِطُ . مصیبت ۔ وہ حصہ جہاں پانی زیادہ ہو ۔ ج ۔ عَوَابِطُ ۔ عَبَبَ الْجَيْشُ . لشکر کا شکست کھانا ۔ تَعَبَبَ . اَشْيَءٌ . چیز کو بالکل برباد کر دینا ۔
 الْعَبْعِبُ . چوڑا کپڑا ۔ نرم کپل جو اونٹ کے بالوں سے بنا ہو ۔
 الْعَبَابُ . بلند قامت ، کشادہ خلق والا ۔ تَامٌ الْخَلْقَتُ . عِبْقٌ رَسٌ ، عِبْقًا وَعِبَاقَةٌ وَعَبَاقِيَّةٌ ۔ الطَّيْبُ بِلَا غُشْبُولِغَا . الْمَكَانُ بِالطَّيْبِ . جگہ کا خوشبو سے مہک جانا

فَلَانٌ بِالشَّيْءِ حَرِيصٌ هُوَ تَدَبُّرٌ بِالْمَكَانِ
اقامت کرنا۔

عَبَقٌ - رَائِحَةُ الطَّيِّبِ - خوشبو پھیلانا۔
العَبَقَةُ - گھی وغیرہ کا بقیہ۔

العَبَقِيُّ - خوشبودار۔ وہ چیز جس سے خوشبو
نکے۔ کہتے ہیں: "رَجُلٌ عَبَقٌ لَيْقٌ"۔
ظریف، خوش مزاج آدمی۔

العَبَاقِيَّةُ - مَتَكَارٌ مَصِيبٌ، چہرہ کا نشان
زخم۔ شاطر۔ چور۔

عَبْقَرٌ - عَبْقَرَةٌ - السَّوَابُ - سَرَابِ چمکانا۔
عَبْقَرٌ - ایک مقام جہاں بقول عرب جنات
بہت رہتے ہیں۔

العَبْقَرِيُّ - مَنُوبٌ عَبْقَرِيٌّ طَرَفٌ - سردار۔
ہر چیز سے برتر تعجب انگیز۔ موزن
عَبْقَرِيَّةٌ - العَبَاقَرِيُّ - ایک قسم
کا عمدہ فرش۔

عَبَكْ دَنْ، عَبَكَا - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - ملانا۔
العَبِكَةُ - مَلَكْرَا - مَشْكٌ كَامِلٌ - رسی کی گہ۔
کہا جاتا ہے: "يَبِيءُ الحَبْلُ وَ تَبَقِي
العَبِكَةُ" - یعنی رسی جل گئی، مگر بل
نہ گیا۔

عَبِلَ دَنْ، عَبَلَا - الشَّجَرَةُ - درخت سے
تپے بھاڑنا۔ العَبْلُ - رسی بٹنا۔
الشَّيْءُ - کاٹنا روکنا۔ بہ۔ لے گیا۔
- الشَّجَرُ - تپے نکلنا۔

عَبِلَ دَنْ، عَبَلَا وَ عَبِلَ دَنْ، عَبُولًا
وَ عَبَالَةٌ - مٹا ہونہ مفت عَبِلٌ وَ
عَبِلٌ - جہ۔ عَبَالٌ وَ عَبَالٌ - جہ عَبِلٌ
مَوْتٌ عَبِكَةٌ - جہ۔ عَبَلَاتٌ وَ
عَبَالٌ -

أَعْبَلٌ - مٹا ہونا۔ سفید ہونا۔ الشَّجَرُ - درخت
کا لپٹی ہوئی پتیوں والا ہونا۔

العَبَلُ - لپٹی ہوئی پتیاں۔ گری ہوئی پتیاں
جہ۔ أَعْبَالٌ -

العَبِيلُ - مٹا ہونا۔ مَوْتٌ عَبِكَةٌ -

الأَعْبَلُ - ایک سخت پتھر جو سفید، سرخ اور
کالا ہوتا ہے۔ جہ۔ أَعْبَلَةٌ -

العَبَالُ - جنگلی گلاب۔

العَبْلَاءُ - چٹان۔ سفید چٹان۔ جہ۔ عَبَالٌ -

العَبْلَاءُ - تیر کا لمبا چوڑا پھل۔ جہ۔ مَعَابِلٌ -
العَبُولُ - موت۔

عَبْرَدَنْ، عَبَامَةٌ وَ عَبَامًا - بیوقوف
ہونا۔ مَاءٌ عَبَامٌ - بہت پانی۔

العَبَامُ - سُوسٌ - تھکا ماندہ۔ موٹا۔ بیوقوف
بے عقل، بے ادب۔ بزدل۔ جہ۔

عَبْمٌ -

العَبَامَاءُ - بیوقوف۔

عَبْنُ دَنْ، عَبْنَا - کھردرا اور موٹا ہونا۔

مفت عین و عَبْنِيٌّ - مَوْتٌ -
عَبْنَاءَةٌ - جہ۔ عَبْنِيَّاتٌ -

العَبْرُ - زُكْسٌ كَالْمُهْلِ، چنبیلی۔ و
العَبَاهُ - بھرے جسم والا لمبا۔

عَبَهْلَةٌ - عتاب کیا۔ عَبَهْلُ الأَبْلِ - اونٹ
کو آزاد چھوڑ دیا۔

العَبَاهِلُ - مِنَ الأَبْلِ - آزاد اونٹ۔
العَبَاهِكَةُ - وہ مینی بادشاہ جو اسلامی

دور سلطنت میں اپنی سلطنت پر چھوڑ
دیئے گئے تھے۔ وَا مَدَّ عَهْلٌ -

عَبَا يَعْبُو عَبْوًا - چہرے کا دکھنا۔
الْمَطْعُ - تیار کرنا۔ جَارِيَةٌ عَابِيَةٌ -

حسین لڑکی۔
عَبِيٌّ قَعِيَةٌ - الجَيْشُ - لشکر کو

ترتیب دینا۔
عَبِيٌّ - تیار ہونا۔

العَبِيُّ - حصہ۔ کہتے ہیں: "هَذَا عَيْشِيٌّ
بَيْنَ العَوْرَةِ" ذبح کردہ جانور سے

یہ تمہارا حصہ ہے۔ "رَجُلٌ عَبَاءٌ"
وَعَبِيٌّ - بجاری جسم والا مرد۔ اکڑ۔

العَبَايَةُ - جوفہ۔ جہ۔ عَبَايَاتٌ وَ عَبِيٌّ -
عَنْهُ دَنْ، عَبْنَا - بِالسَّأَلِ - سوال کرنے

میں اصرار کرنا۔ عَابًا بِالْكَلَامِ - مجھڑکی
دینا۔

عَاكَةٌ - جھگڑا کرنا۔ بار بار بات کو دہرانا۔
العَتَّتُ - درختی کلام۔

عَتَبَ دَنْ، عَتَبَا وَ عَتَبَانَا وَ مَعْتَبًا وَ
مَعْتَبَةً - مَعْتَبَةٌ عَلَيْهِ - سرزنش

کرنا۔ خفگی کرنا۔ عَتَبَا وَ عَتَبَانَا وَ
عَتَبِيٌّ - فَلَانًا - ملامت کرنا دَعْتَبَا

وَ عَتَبَانَا وَ تَعْتَبَانَا - ایک پاؤں پر
کوزنا۔ البعيرُ - تین ٹانگوں پر چلنا۔

عَتَبَانًا - العَبْرِيُّ - بجلی بار بار چکی۔
مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَ مِنْ قَوْلٍ

إِلَى قَوْلٍ - ایک جگہ سے دوسری جگہ
یا ایک بات سے دوسری بات کی طرف

منتقل ہونا۔
عَتَبَ - الرَّجُلُ - دیر کرنا۔ البابُ - دہلیز

بنانا۔ عَاتَبَهُ عَتَابًا وَ مَعَاتَبَةً -
- عَلَى كَذَا - ملامت کرنا۔ غصہ کرنا۔

ناز سے خطاب کرنا۔
أَعْتَبَهُ - سبب ناراضگی کو دور کرنا۔ راضی کرنا۔

أَعْتَبَ - عَنَهُ - پھر جانا۔
تَعْتَبَ - القَوْمُ - ایک دوسرے پر اظہار

ناراضی کرنا۔ کہتے ہیں: "فَلَانٌ لَا يَتَعْتَبُ
بِشَيْءٍ وَلَا يَتَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ -

اس پر عیب نہیں لگایا جاتا۔ تَعْتَبَ
بَابٌ فَلَانٌ - چوکھٹ کو پھلانگ جانا۔

چوکھٹ پر پڑا رہنا۔
تَعَاتَبَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے پر

عتاب کرنا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ناز
سے گفتگو کرنا۔

رَاعَتَبَ - مِيَاذُهُ - اختیار کرنا۔ الطَّرِيقُ
آسان راہ کو چھوڑ کر دشوار راہ اختیار کرنا

- مِنْهُ وَ عَنَهُ - پھر جانا۔
رَاعَتَبَهُ - رَضَامُنْدُ - رَضَامُنْدِيٌّ - طلب

کرنا کہتے ہیں: "رَاعَتَبَهُ فَاعْتَبِيٌّ"
marfat.com

میں نے اس سے رضامندی طلب کی تو اس نے مجھے رضامند کر لیا۔ اسی سے ہے "مَا يَعْدُ الْمَوْتُ مُسْتَقْتَبٌ" موت کے بعد طلبِ رضا کا موقع نہیں۔ العتیب - لنگڑا پن۔ کہتے ہیں "بیرجلہ عتیب" اس کے پاؤں میں لنگ ہے۔ العتیب - بہت عتاب کرنے والا۔ العتب - سبب اور سبب کی انگلی یا بیج والی اور چھنگلیا کے پاس والی انگلی کا درمیانی حصہ۔ فساد۔ العتب والعتب - امر مکروہ۔ سختی۔ سخت زمین۔ العتب - چوکت، بیڑھی کا زینہ۔ جہ۔ عتب وعتبات - عتبات الموت موت کی سختیاں۔ العتب - وادی کا موڑ۔ العتبی - رضا۔ الاعتوب - سبب عتاب۔ جہ۔ اعاتیب۔ العتوب - وہ شخص جس پر عتاب کا اثر نہ ہو۔ راہ۔ المعتب والمعتب - مہ۔ عتاب۔ غضب۔ المعتوب - مہج جس پر عتاب کیا جائے۔ أم عتبان - أم عتباب - بجو۔ عتدك، عتادا وعتادا - الشئ - تیار ہونا۔ آمادہ ہونا۔ عتد وعتد - الشئ - تیار کرنا۔ كعتد - فی صنعته - کام کو غور سے کرنا۔ العتاد - وہ سامان جو کسی مقصد کے لیے تیار کیا جائے، سامان جنگ، بڑا پیالہ۔ جہ۔ آعتد وعتد - آعتد - العتد والعتد - من الخیل - دوڑنے کے لیے تیار گھوڑا۔ مضبوط، کامل الخلق (مذکورہ ٹونٹ)

العتد - سامان کہتے ہیں "خذ للأمر عتد"۔ کام کے لیے اس کا سامان لے لو۔ جہ۔ عتد۔ العتود - بڑھیک سالہ۔ جہ۔ آعتد وعتدان۔ العتید - تیار۔ آمادہ۔ بھاری جسم کا۔ العتید - مؤنث عتید۔ سنگھار مان عتور رض، عتوا - الشئ - مضبوط ہونا۔ (عتاراً، العتيرة - ذبح کرنا۔ عتوا وعتوانا - الرمح - ہانا۔ العتور - اصل۔ اسی سے ضرب المثل ہے۔ "عادت إلى عتورها لميس" لميس اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی۔ یہ ضرب المثل ایسے شخص کے لیے بولی جاتی ہے جو اپنی پرانی عادت کی طرف پھر لوٹے۔ العتور - ہر وہ جانور جو ذبح کیا جائے۔ بکواس۔ والعتيرة وہ بکری جس کو زمانہ جاہلیت میں ماہِ رجب میں بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا۔ جہ۔ عتارو۔ العترة - کنہ، اولاد، خالص مشک کا ٹکڑا۔ خوشگوار تھوک۔ مرز بخوش۔ دانتوں کی تیزی اور صفائی۔ العتار - عضو تناسل۔ العتار - بہادر۔ مضبوط گھوڑا۔ سخت خالی مقام۔ المعتور من الرجال۔ موٹا آدمی۔ لغت عوام میں شیر برآمدی کو کہتے ہیں۔ عتوسه - سخت بھینچا۔ سختی سے پکڑا۔ عتوسه ماله - مال غصب کر لیا۔ العتوس والعتوس - سختی سے بھینچنے والا۔ بڑے ڈیل کا موٹے جوڑوں والا۔ شیر، مرغ۔ العتوريس - سخت رکش، غضبناک، بلا مصیبت۔

العتوريس - موٹی مضبوط اونٹنی۔ العتوسان - مرغ۔ عتوف - لہ۔ سخت ہونا۔ كعتوف - اظہار بزرگی کرنا۔ العتريف والعتروف - خبیث، بدکار۔ مضبوط اونٹ۔ جہ۔ عتاريف۔ العتوفان - مرغ۔ عتف رض، عتفا - الشعرة - بال اکھیرنا۔ العتف - من الليل - رات کا ایک حصہ۔ عتق رض، عتقا وعتقا - عتاقا وعتاقه - العبد - آزاد ہونا۔ صفت رعیتی وعتیق، عتق دن، عتقا وعتقا وعتق دن۔ عتاقه - پرانا ہونا۔ الشئ - درست ہونا۔ الخمر - شراب کا پرانی اور عمدہ ہونا۔ صفت عاتق وعتیق - عتاق - الیمین علیہ - قسم واجب ہوئی۔ عتق - العبد - غلام کو آزاد کرنا۔ الفرس تیز دوڑنا۔ ماله - درست کرنا۔ عتق - الخمر - پرانی کرنا۔ عتق الثوب پرانا کرنا۔ فلانا بقیه - منہ سے کاٹ کھانا۔ العتق - مہج خالص الاصل ہونا، جمال، شرافت، نجابت، آزادی۔ کسکی۔ العتق - کسکی، آزادی۔ عتاق بمعنی کاتر کا جمع۔ العتق دن، کاندھا۔ جہ۔ عتاق، عتق - کشلوہ، مشک، عمدہ شراب۔ کتوزی۔ جہ۔ عتق - عتاق الثریا - نام ستارہ والعلقہ - پرانی سرخ کمان۔ العتاق - پرانی عمدہ شراب۔ العتیق - پرانا۔ آزاد کردہ غلام۔ کریم عمدہ۔ جہ۔ عتقا، عتق - خدس عتیق - خوش منظر گھوڑا۔ جہ۔ عتاق - البیت العتیق - خانہ کعبہ۔ آفت

عَتِيقٌ - آزاد کردہ لونڈی۔
 الْمُعْتَقَةُ - پران عمدہ شراب۔ ایک قسم
 کا عطر۔

عَتَكَ رَضًا، عَتَكَ وَهْتُوكًا - لڑائی میں
 حملہ کرنا۔ القوم - گھوڑے کا کاٹنے
 کے لیے حملہ کرنا۔ عَتَكَ الْبَيْدَ - شر
 پر ظلم کرنا۔ عَلَى الْأَمْرِ كَيْسِي كَامٍ بِرِ
 اِقْدَامِ كَرْنَا - لائی مکان - ماٹل ہونا۔
 عَلَيْهِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ - بھلائی یا برائی
 سے پیش آنا۔ اللَّبَنُ - دودھ
 کھٹا ہونا۔ القوم - کمان کا پرانی
 ہونے کی وجہ سے سرخ ہونا۔ صفت
 عَاتِكَةٌ - ج - عَوَاتِكُ -
 العَاتِكُ - فا - شراب، خالص۔ النَيْبُذُ
 العَاتِكُ - صاف شراب، احمر۔
 عَاتِكٌ - تیز سرخ۔

العَتَاكُ - صہہ زمانہ - بکتے ہیں - مضمی
 عَلَيْهِ عَتَلٌ - ایک زمانہ گذر گیا۔
 العَتِيكُ - کھٹکی کی وجہ سے سرخ۔ صفت
 الأَيَامِ - سخت گرمی والے دن۔
 عَتَلَهُ رَضًا، عَتَلًا - سختی سے کھینچنا۔
 الشَّيْءُ - اٹھانا۔

عَتَلَ رَضًا، عَتَلًا - برائی کی طرف جلدی
 کرنا۔ صفت رَعِيْلٌ
 لَعَتَلٌ - کھینچ جانا۔ وَكَعَتَلٌ - جگہ سے
 تہ ہٹنا۔
 العَتَلَةُ - بہت ڈھیلا۔ گدلا۔ ہٹی لاٹھی۔
 ج - عَتَلٌ -

العَتَلُ - بہت کھلنے والا برکش۔ سخت
 مزاج۔ سخت۔
 العَتَالُ - باربردار۔ قَلٌّ - پیشے کا نام
 العِتَالَةُ -
 العَتِيْلُ - مزدور۔ خادم۔ ج - عَتَلٌ -
 عَتَلًا - ذاء عَتِيْلٌ - سخت مرض۔
 اليَعْتَلُ - کھینچنے میں قوی اور مضبوط۔

عَتَمَ رَضًا، عَتَمًا - اللیل - رات کا ایک
 حصہ گذر جانا۔ عَنِ الْأَمْرِ - کام کرتے
 کرتے رک جانا۔ قَرِي الضَّيْفِ -
 مہمان کے کھانے میں دیر کرنا۔

عَتَمَ - عَنِ الْأَمْرِ - کام کرتے کرتے رک
 جانا۔ قِرَاةً - مہمان کے کھانے میں
 دیر کرنا۔ کہتے ہیں "مَا عَتَمَ أَنْ
 وَقَفْتُ بِنَاءٍ دَيْرٍ نَيْسِي كِي" - حَمَلٌ
 عَلَيْهِمْ فَمَا عَتَمَ حَمَلٌ كِيَا، تَوَمَنَ
 نَيْسِي پیرا۔ الرجل - تاریکی میں چلنا۔
 - الطَّائِرُ - پرندہ کا انسان کے سر پر
 پھڑپھڑانا۔

أَعْتَمَ - قَرِي الضَّيْفِ - مہمان کے
 کھانے میں دیر کرنا۔ دیر ہونا لازم و
 متعدی، حَاجَتُهُ - مؤخر کرنا۔
 حَاجَتُهُ - مؤخر ہونا۔ اللیل - رات کا
 ایک حصہ گذر گیا۔ الرجل - تاریکی میں
 چلنا یا داخل ہونا۔ عَنِ الْأَمْرِ - کام
 کرتے کرتے رک جانا۔

عَتَمْتُ رَضًا، عَتَمًا - أَعْتَمْتُ وَ
 كَعَتَمْتُ وَاسْتَعْتَمْتُ - النَاقَةُ
 عَفَاكَ وَتَمَّ دَوَّجًا جَانًا - صفت
 عَاتِمَةٌ - ج - عَاتِمَاتٌ دَعَوَاتِمُ
 لاسْتَعْتَمَ الرَّجُلُ - دیر کرنا۔ النعم
 دوہنے میں دیر کرنا۔

العَتَمُ وَالْعَتَمُ - جگلی زیتون کا پیر۔ واحد
 عَتَمَةٌ وَعَتَمَةٌ -
 العَتَمَةُ - رات کی پہلی تہائی کی اندھیری۔
 دیر کرنا۔

العَاتِمَةُ رَفَا، كَتَمَتْ هِيَ - جَاءَنَا ضَيْفٌ
 عَاتِمٌ - ہمارے پاس دیر میں مہمان
 آیا۔ مَوْنٌ عَاتِمَةٌ - النَجُومُ
 العَاتِمَاتُ - وہ ستارے جو غبار
 وغیرہ کی وجہ سے تاریک ہو جائیں۔
 العَتُومُ - اونٹنی، عفار کے وقت دودھ

دینے والی۔

العَتُومَةُ - بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔
 الِيعْتَامُ - دیر کرنے والا۔ رَجُلٌ وَعَتَامٌ
 القوی - دیر میں مہمان کا کھانا پیش
 کرنے والا۔

عَتَنَهُ رَضًا، عَتَنًا سَرَالِي السَّجْنِ - قید
 خانے کی جانب زور سے دھکیلنا۔
 أَعْتَنَ - عَلَى غَيْرِ مِيه - قرضدار پر سختی کرنا۔
 تکلیف پہنچانا۔

العَاتِنُ وَالْعَتُونُ - قوی۔ ج - عَتْنٌ -

العَتِينُ - مِنَ الرَّجَالِ - سخت حملہ کرنے والا۔

عَيْتَهُ رَضًا، عَيْتَهُ، عَتَهَا عَتَمًا وَعَتَاهَا

عَتَاهَا وَعَتَاهَةً وَعَتَاهِيَةً - کم عقل

ہونا۔ مد ہوش ہونا۔ صفت مَعْتُوَةٌ وَ

مُعْتَةٌ وَعَتَاهِيَةٌ - فِي الْعِلْمِ -

حوصلہ ہونا۔ عَيْتَهُ فُلَانٌ فِي فُلَانٍ -

تکلیف پہنچانے کا خواہش مند ہونا۔

صفت عَيْتَهُ - ج - عَتَاهَاءُ -

تَعْتَهُ - جاہل بننا۔ پاگل بننا۔ عَنَهُ -

تغافل ہونا۔

العَتَاهِيَةُ وَالْعَتَاهَةُ - مہم - جنون اور

دہشت سے پاگل لوگ۔

العَتَاهَةُ - گمراہی۔ یوقونی۔

عَتَا يَعْتَوُا عَتُوًا عَيْتِيًا وَعَيْتِيًا - تکر کرنا۔

حد سے گذرنا۔ صفت عَاتٍ - ج -

عَتَاةٌ وَعَيْتِيٌ - عَنِ الْأَدَبِ - ادب

کو قبول نہ کرنا۔

العَاتِي - فَا رَكَشٌ - لَيْلٌ عَاتٍ - بہت

اندھیری رات۔

العَيْتِيُّ - رَكَشٌ - ج - أَعْتَاءٌ -

عَيْتِي يَعْتِي بَعْنِي عَيْتِي يَعْتَوُا -

کَعْتِي كَعْتِيًا - نافرمانی کرنا۔ اطاعت نہ کرنا۔

عَتَهُ رَضًا، عَتًا - اِمْرَارٌ كَرْنَا عَتِيَّ الْعَتَهُ
 الطَّوْفُ - کپڑے کا اون کو پھاٹ لینا
 عَتِيَّ الْحَيَّةِ فُلَانًا سَانِبٌ كَا

ڈس لینا۔ سانپ کے پھونکنے سے بال
گر جانا۔
عَثَّتْ تَعَثِيًّا عَاتٍ عِنَّا قَوْمًا عَاتِيَةً
فی عَثَايَه رُكْنَا نَا۔
لَعَثَتْهُ۔ عِرْقٌ سَوْجٌ۔ بہ اصل کو نیکی سے
روک دینا۔
العِثُّ۔ ایک قسم کے سانپ جو خشک سال
میں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔
ج۔ عِثَاثٌ۔
العِثَاءُ۔ سانپ۔
العِثَّةُ۔ مِنَ النِّسَاءِ۔ دبلی پتلی عورت
گنہگار حقیقہ عورت۔ ج۔ عِثَاثٌ۔
العِثَّةُ۔ اِدْنِ چائٹنے والا کپڑا۔ ج۔ عِثٌ۔
عِثٌ۔ بڑھیا۔ بیوقوف عورت۔
بذبان گنہگار عورت۔
عَثِبَ رَضٌ عَثِيًّا آهَسْتَهُ پینا۔
العَثْبُ۔ رات کا حصہ۔ العَثْبُجُ و
العَثْبَجَةُ لوگوں کی جماعت۔
عَثْرَانٌ (من) عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ
عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ۔ گرنا۔
الفرس۔ گھوڑا پھسلا اور اودھا ہوا۔
العِرْقُ۔ رگ نے حرکت کی۔ کتے
ہیں عَثْرٌ يَهْدِي الزَّمَانَ۔ زمانے
نے تباہی ڈال دی۔ عَثْرٌ جَدُّهُ۔
ہلاک ہو گیا۔
عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ۔ عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ
وعَثْرَانٌ۔ بھید پر مطلع ہوا۔
عَثْرَانٌ وَعَثْرَانٌ۔ پھلایا۔ اَعَثْرَانٌ
عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ۔ بھید بتا دیا۔
اَعَثْرَانٌ عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ۔ عیب
لگایا۔ طعنہ دیا۔
تَعَثْرَانٌ رَجُلٌ وَالْفَرَسُ وَالْجِلْدُ۔ یعنی
عَثْرَانٌ۔ لِسَانُهُ۔ زبان رگی۔
العَثْرَانُ۔ عقاب۔ والعَثْرَانُ۔ جھوٹ۔
العَثْرَانُ۔ لغزش۔ جہاد۔ لڑائی۔ گرنا

ج۔ عَثْرَانٌ۔
العَثْرَانُ۔ بست کرنے والا۔ بست پھسلنے والا۔
العَثْرَانُ۔ جھوٹا۔
العَثْرَانُ۔ شیر کے تمکار کرنے کے لیے گڑھا
کنواں۔ ج۔ عَوَاثِرٌ۔ وَعَوَاثِرٌ۔
ر۔ العِثَارُ۔ پھسلن۔ بدی، مکروہ۔
ہلاکت کی جگہ۔ جب کوئی تکلیف میں
پڑ جائے تو کہتے ہیں "وَقَعَ فَلَاحٌ
فِي عَاثِرٍ شَرِيحٍ فَلَا سَمْعِي فِي
بِتْلَا هُوَ كِيَا۔
العَثِيرُ۔ مٹی، غبار۔ والعَثِيرُ والعَثِيرُ۔
مخفی نشان۔
عَثْرَانٌ۔ الهودج۔ ہودھ کو بھار سے
مزن کیا۔ الرجلُ بسُت رِفَارٍ سے
دوٹا۔ العِثْقُ۔ بست کچھ دار ہوا۔
العَثْرَانُ والعَثْرَانُ والعَثْرَانُ۔
گھوڑوں کا گچھا۔ ج۔ عَثْرَانِيٌّ۔
العَثْرَانُ۔ وہ جہاز جو ہودج میں
لٹکانے ہائیں۔
عَثْرَانٌ (من) عَثْرَانٌ۔ بکثرت ہوندا ہوتا
ہوندا صفت رَعَثْلٌ وَعَثْلٌ
عَثْرَانٌ (من) عَثْرَانٌ۔ پدہ۔ ٹوٹنے کے
بعد پڑھا جڑا۔
العَثْلُ۔ بکری کے اوہرے اوپر کی چربی
کی چادر۔
العَثْرَانُ۔ بیوقوف۔ ج۔ عَثْلٌ۔
العَثْرَانُ۔ بھڑ۔ ز۔
العَثْرَانُ۔ جس کے سر اور جسم پر بہت سے
بال ہوں۔ مِنَ السَّحَابِ۔ اَجْدٌ۔ اَكْرٌ۔
عَثْرَانٌ، عَثْرَانٌ۔ العِظْمُ الْمَكْسُورُ
ٹوٹی ہوئی ہڈی کا نا ہوار جڑا۔ العِظْمُ
ہڈی کو نا ہوار جڑا۔
لَعَثْتَهُ۔ بہ۔ مد طلب کی، نفع اٹھایا۔
پیدا ہوا۔ جھکایا۔
العَيْشِيُّمُ۔ بھڑ۔ ہمتی۔

العَيْشِيُّمُ۔ گور خر۔
العَثْمَانُ۔ جاری کا بچہ۔ سانپ، سپرولیا۔
اژدھے کا بچہ۔ ابو عَثْمَانُ۔ سانپ۔
عَثْرَانٌ رَسٌ عَثْرَانٌ وَعَثْرَانٌ وَعَثْرَانٌ۔
العَثْرَانُ۔ پھاڑ پر چڑھنا۔ ر۔ وَعَثْرَانٌ
الثَّوْبُ۔ کپڑے کو دھونی دی۔ و
عَثْرَانٌ وَعَثْرَانٌ۔ النارُ۔ آگ سے
دھواں نکلا۔ کہتے ہیں "عَثْرَانٌ عَلَيَّ
القَوْمُ" فساد پیدا کر دیا۔
عَثْرَانٌ رَسٌ عَثْرَانٌ۔ الثَّوْبُ۔ کپڑا
خوشبودار ہوا۔
تَعَثْرَانٌ۔ دھونی لگائی۔
العَثْرَانُ۔ مہ۔ غبار۔ دھواں۔ ج۔ عَوَاثِرٌ۔
العَثْرَانُ۔ دھواں۔ غبار۔ چھوٹا بست۔
العَثْرَانُ وَالْمَعَثْرَانُ۔ وہ کھانا جو دھواں
لگنے سے بگڑ گیا ہو۔
العَثْرَانُ۔ ناظم مالیات۔ روٹی رنگی ہوئی۔
العَثْرَانُ۔ مہ۔ بڑی داڑھی والا۔
العَثْرَانُ۔ داڑھی۔ مِنَ الْمَطْرَاوَالرِّيْحِ
بارش یا ہوا کی ابتداء۔ ج۔ عَثْرَانِيٌّ۔
عَثْرَانٌ يَعْثُرَانٌ عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ يَعْثُرَانٌ
عَثْرَانٌ يَعْثُرَانٌ عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ۔ فساد
کفر یا غور میں مبالغہ کرنا۔ صفت
عَاثٌ۔ ج۔ عَثْرَانٌ وَعَثْرَانٌ۔
العَثْرَانُ۔ دراز زلف۔ ج۔ عَثْرَانٌ۔
الْأَعَثْرَانُ۔ سیاہی مائل رنگ والا۔ احمق۔
کثیر بالوں والا۔
العَثْرَانُ۔ بھڑ۔
العَثْرَانُ۔ مذکر بھڑ۔
عَثْرَانٌ (من) عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ عَثْرَانٌ۔ چلانا۔
آواز کرنا۔ الناقَةُ۔ اونٹنی کو
عاج عاج کہہ کر ہانکنا (وَأَعَثْرْتُ)
الوَيْجُ۔ ہوا کا غبار اڑا دینا۔ کہتے ہیں
"لَهُ رَائِحَةٌ تَعْجُرُ فِي الْمَسْجِدِ"
اس کی بو ہے جو مسجد میں بھڑکی اٹھتی ہے

روک دینا۔ المراءۃ۔ بڑھی ہوتا۔
 عَاجِزَةٌ۔ عاجز کر دینا۔ عاجز پانا۔ اَعْجَزَةٌ
 الشئ۔ چیز قبضہ سے نکل جانا۔
 اَعْجَزَ فِي الْكَلَامِ۔ مقصود کو اچھے
 طور پر ادا کیا۔
 عَاجِزَةٌ مُعَاجِزَةٌ۔ مسابقت کرنا۔
 عَاجِزُ الرَّجُلُ۔ عاجز ہونا۔
 تَعَجَّزُوا۔ عجز کا دعویٰ کرنا۔ البعير۔
 اونٹ کے چوڑے پر سوار ہونا۔
 اِسْتَعْجَزُوا۔ عاجز پانا۔
 الْعُجْزُ۔ تلوار۔ د۔ وَالْعُجْزُ وَالْعُجْزُ
 وَالْعُجْزُ وَالْعُجْزُ، پھلا حصہ۔ سُرِين
 عُجْزُ بَيْتِ الشُّعْرِ۔ مصرعہ ثانی۔
 ج۔ اَعْجَازٌ۔ نَبَاتُ الْعُجْزِ۔ تیر۔
 اَعْجَازُ النَّخْلِ۔ کھجور کے درخت
 کی جڑیں۔ کہتے ہیں۔ رُكِبَ اَعْجَازُ
 الْاِبِلِ۔ ذلت و مصیبت میں مبتلا
 ہوا۔
 نَجَلٌ عَجْزٌ وَعَجْزٌ۔ عاجز مرد۔ کہتے
 ہیں۔ هُوَ عَجْزَةٌ اَبِيهِ وَعَجْزَتُهُ۔
 وہ اپنے باپ کا آخری لڑکا ہے مذکر و
 مؤنث واحد جمع، وُلِدَ يَعَجْزَةٌ۔
 والدین کے بڑھا ہونے پر پیدا ہوا۔
 الْعِجَازُ وَالْعِجَازَةُ۔ وہ پٹھا جس سے
 تلوار کے دستہ کو باندھتے ہیں۔
 الْعِجَازَةُ وَالْاِعْجَازَةُ۔ وہ گدی جس کو
 عورتیں سُرِين پر موٹا معلوم ہونے کے
 لیے باندھتی ہیں۔
 الْعُجُوزُ۔ بڑھیا۔ ج۔ عَجُوزٌ وَعَجَائِزُ۔
 الْعُجُوزُ۔ شراب، مصیبت، کشتی۔
 راستہ۔ ہانڈی، کمان، آگ۔ موت، کھجور
 کا درخت، اونٹنی، سوئی، زمین، خرگوش
 شیر، ہر چیز کا ہزار۔ کتواں۔ دریا۔ بناؤ
 گائے، سوداگر، ڈھال۔ توبہ، بیل، بھوکا
 تیروان۔ بڑا پیالہ۔ بھوک۔ دوزخ۔

لڑائی، نیزہ، بخار، خیمہ۔ آفتاب کا مالہ،
 عورت کی قمیص، دنیا۔ بھیڑ یا۔ جھنڈا۔
 گدہ، ریشہ، گھوڑی، فلک، گئی، گرم ہوا
 برس۔ آفتاب، خط، باڑ، حجرہ۔ بچو
 گور خرمادہ۔ بچو۔ بچھو۔ چاندی، قید،
 مشک، دیگ کا پایہ۔ پادشاہ، واہنا
 ہاتھ۔ تلوار کی دھار۔ عافیت، پرہیزگاری
 قبضہ، تلوار کی میخ۔ لَیَامُ الْعُجُوزِ۔ جاٹے
 کے آخری سات دن سخت سردی
 والے، جس کے چاروں آخر فروری
 میں اور تین دن مارچ میں ہوتے ہیں۔
 عوام ان کو مستقرضات کہتے ہیں۔
 ان دنوں کے نام یہ ہیں۔ صِبْغٌ۔
 صَبْبٌ، وَبْرٌ۔ امْرٌ۔ مَوْتِیْرٌ،
 مُعَلِّلٌ، مُطْلَقٌ الْجَدِیْرُ یَا مُكْفِی
 الطَّعْنِ۔
 الْاِعْجَازُ۔ بڑے سرین والا۔ کَیْسُ اَعْجَازُ۔
 بھری تیلی۔
 الْعَاجِزُ۔ مذکر۔ عَوَاجِزُ۔ ثَوْبٌ عَاجِزٌ
 تنگ جامہ۔ اِمْرَاةٌ عَاجِزٌ و
 عَاجِزَةٌ۔ عاجز عورت
 الْعِجَازُ۔ مؤنث اَعْجَازُ۔ ریت کا
 اونچا ٹیلہ۔
 الْمُعْجِزُ۔ پیالہ۔
 الْمِعْجَازُ۔ راہ۔ ہمیشہ عاجز رہنے والا۔
 الْمُعْجِزَةُ۔ وہ فائق عادت بات جس
 کو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر
 کرے اور دوسرے وہ کام نہ کر سکیں۔
 ج۔ مُعْجِزَاتٌ۔
 الْمُعْجُوزُ۔ مہ۔ جس سے سوال کرنے میں
 اصرار کیا جائے۔
 الْعَجِيزَةُ۔ عورت کا سرین۔ مرد کے لیے
 بھی آتا ہے۔ ج۔ عَجِيزَاتٌ۔
 عَجَسَ (ض) عَجَسًا۔ عَنِ حَاجِزَتِهِ۔ باز
 رکھنا۔ عَجَسَ عَلَی الشَّيْءِ۔ مضبوطی

سے پکڑنا۔
 تَعَجَّسَ۔ پیچھے ہٹنا۔ الاصر۔ کسی کام کے
 دیر سے ہونا۔ بیچھا کرنا۔ بالقوم۔ دیر
 کرانا۔ تَعَجَّسَتْ۔ راوی کو کمزور
 سمجھنا۔ تَعَجَّسَتْ عَنِ حَاجِزَتِهِ۔
 ضرورت سے روکنا۔
 الْعُجْسَةُ۔ رات کی اندھیری۔ رات کی
 ایک گھڑی۔
 الْعُجُوسُ۔ بوجھل بادل، مسلسل بارش۔
 الْعَجَاسَاءُ۔ اونٹوں کا بڑا ریوڑ۔
 الْمَعْجِسُ۔ کمان کا قبضہ۔
 عَجَجَبَهُ عَجَجَبَةً۔ بہت چینیٹا۔
 الْعَجَّاجُ۔ بہت چینیٹے والا۔ مِنَ الْخَيْلِ۔
 اصیل گھوڑا۔ کہنہ سال گھوڑا۔
 الْعَجَّجَةُ۔ چیخ۔ ج۔ عَجَّاجٌ۔
 عَجْفَ دُنْ، عَجُوفًا۔ کھانا چھوڑ دینا۔
 عَجْفَ رَضٍ، عَجْفًا وَعَجُوفًا وَعَجْفًا۔
 نَفْسُهُ عَنِ الطَّعَامِ۔ بھوک کے
 باوجود وہ سروں کو کھانے کی خاطر بھوکا
 رہنا۔ نَفْسُهُ عَلَی الْمَرِيضِ۔ مہر
 کے ساتھ تیمار داری کرنا۔ نَفْسُهُ
 عَلَی فُلَانٍ۔ گراہی کو برواشت کرنا۔
 اور مواخذہ نہ کرنا۔
 عَجْفَ دُنْ (ض) وَاعْجَفَ الدَّابَّةَ۔ جانور
 کو لاغر کر دینا۔ اعْجَفَ الْقَوْمَ۔ نُسَبُ
 جانوروں کا مالک ہونا۔ عَجْفَ هُنِي
 فُلَانٍ۔ دور کرنا۔ اعْجَفَ بِنَفْسِهِ
 عَلَی الْمَرِيضِ۔ مہر کے ساتھ تیمار داری
 کرنا۔
 عَجْفَ دَسٍ، عَجْفَ دِكٍ، عَجْفٌ۔ کمزور ہونا
 دُبلنا ہونا۔ مَدَّتْ مَدْرَعُفٌ وَاعْجَفٌ۔
 مؤنث عَجْفٌ عَجْفًا۔ ج۔ عَجَفَاتٌ
 - الْبِلَادُ۔ بارش نہ ہونا۔ کہتے ہیں۔
 "تَزَلُّوا فِي بِلَادِ عَجْفٍ"۔ غیر بارش شد
 شہروں میں اترے۔

عَجَفَ - الرجلُ - آسودگی کے ساتھ کم کھانا
نَفْسُهُ عَنِ الطَّعَامِ - کھانا چھوڑ دینا۔
العِجَافُ - انداٹن، نمانہ۔ عَجْفَانُ کی جمع
خلاف قیاس۔

التَّعَجُّفُ - تنگ حالت۔
العِجِيفُ - لاغر، دُبللا۔ ج۔ عَجِيفِي۔
عَجَلُ رَسٍّ - عَجَلًا وَعَجَلَةً - جلدی کرنا۔
کتے ہیں: عَجَلٌ بِهِ إِلَيْهِ - ایک کام
سے دوسرے کی طرف جلدی کی۔ الامرُ
دیر سمجھ کر دوسرا کام کرنا۔

عَجَلَ - جلدی کرنا۔ عَجَلًا سبقت کرنا۔ براگینختہ
کرنا۔ لَهُ مِنَ الشَّمْسِ كَذَا - پیش کرنا۔
اللَّحْمَ - گوشت کو جلدی پکانا۔
أَعَجَلَهُ - سبقت کرنا۔ براگینختہ کرنا۔ أَعَجَلْتُ
الشَّيْءَ - جلدی کرنا۔ أَعَجَلْتِ -
النَّاقَةَ - قبل از وقت بچہ صننا۔
عَاجِلَةٌ مُعَاجِلَةٌ - ہڈ نیہ۔ جلدی
مواخذہ کرنا اور مزادے دینا۔ بَضْرِيَّةٌ
مارنے میں سبقت کرنا۔ اور آگے
بڑھ جانا۔

تَعَجَّلَ - فِي الْأَمْرِ - جلدی کرنا۔ الامرُ -
جلدی کام کرنا۔
أَسْتَعْجَلُهُ - براگینختہ کرنا۔ جلدی کرنے کا حکم
دینا۔ سبقت کے آگے بڑھ جانا۔

العِجْلُ - بھڑا۔ ج۔ عِجْلٌ - عَجَلَةٌ رِجَالٌ -
العِجْلَةُ - بھیا۔ رہٹ۔ ج۔ عِجْلٌ و
عِجَالٌ -

العِجْلُ وَالْعِجْلَةُ وَالْعِجَالَةُ - جو کلام
جلدی کیا جائے۔ جو کھانا موجود ہو۔ ہمان
کے لیے جو کچھ جلدی تیار کیا جائے۔

العِجْلَةُ - جلدی، لٹکان، گارا، کچھڑ۔
سلان لادنے کی گاڑی۔ رہٹ۔ ج۔
عِجْلٌ وَعِجَالٌ وَأَعِجَالٌ -

العَاجِلُ - العِجْلُ العِجْلُ - جلد باز۔
العَاجِلَةُ - موتِ عَاجِلٍ - دینا۔

العِجُولُ - بھڑا۔ ج۔ عِجَالٌ جِيلٌ -
العِجَالَانِ - موتِ عِجَالِي - ج۔ عِجَالِي و
عِجَالِي وَعِجَالٌ - العِجُولُ - ج۔
عِجْلٌ - والعِجِيلُ - ج۔ عِجَالٌ -
جلد بازی کرنے والا۔

العِجُولُ وَالْعِجَالُ - بت جلد باز۔
العِجُولُ - موتِ بچے کو کھردینے والی
المُتَعَوِّرَاتُ -

العِجِيلُ - ناشتہ پانی، جو ہمان کے لیے
فَوْرًا لایا جائے۔

العِجِيلَةُ - العِجِيلِي العِجِيلُ - تیز چال
کتے ہیں: سَارَ العِجِيلُ - تیز چال چلا
اس کا ضد هَوَيْتًا ہے۔

العِجَالُ - براگینختہ کرنے والا۔ سبقت لے
جانے والا۔ ج۔ مَعَاجِيلٌ - مَعَاجِيلُ
الطَّرِيقِ - مختصر راہیں۔ مَعْرَاقَةٌ
مِجَالٌ - قبل از وقت بچہ مننے والی
عَمَلٌ - طَرِيقٌ مُسْتَعْجَلَةٌ - مختصر
راستہ، قریب کا راستہ۔

عَجَمَ دَنًا عَجْمًا وَعَجْمًا - العُودُ - دانت
سے کاٹ کر گڑھی کی سختی یا نرمی معلوم کرنا
- السَّيْفِ - تجربے کے لیے تلوار کو حرکت
دینا۔ الشَّيْءِ - امتحان کرنا، آزمائش
کرنا۔ مَفْتٌ عَاجِمٌ - ج۔ عَجْمٌ -

ج۔ عَجْمًا، اَلْكِتَابُ اَوِ الْحُرُوفِ -
نقطہ لگانا۔ اَلْكِتَابِ - حروف پر اچھی
طرح وقف نہ کرنا۔

عَجَمَتِ الْأُمُورُ - عادی بنانا۔ کتے ہیں۔
"مَا عَجَمَتُهُ عِجْمِي مُنْذُ كَذَا" - فلاں
وقت سے نہیں دیکھا۔ "رَأَيْتُ
فَلَانًا فَعَجَمْتُ عِجْمِي لِعُجْمِيَّةٍ"
کاتھا تعریفہ و عَجَمَ عُمُودَ
فُلَانٍ - اس کی آزمائش کی، اور
مال کی تحقیقات کی۔

أَعَجَمَ وَعَجَمَ - اَلْكِتَابِ - اعراب نہ
لگانا۔ نقطہ اور حرکات لگا کر یا تفسیر
کے ابہام کو دور کرنا۔ أَعَجَمَ الْبَابَ -
دروازے میں تالا لگانا۔ اَلْكِتَابَ - جمعی
زبان میں بات کرنا۔

عَجَمَ دَنًا عَجْمًا - کنت کا ہونا۔ صفت
أَعَجَمَ - مَوْتٌ عَجْمًا - ج۔ عَجْمٌ -
عَاجِمَةٌ - تجربہ کرنا۔ کتے ہیں: عَاجِمَتُ
الْأُمُورِ وَعَاجِمَتُنِي - میں نے معاملت
کی آزمائش کی اور معاملات نے میری۔
تَعَاجَمَ - القَوْمُ - کنا یہ کرنا۔ تو یہ کرنا۔
الرَّجُلُ - اجنبی ہونا۔ جمعی ظاہر کرنا۔
أَلْعَجْمَ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ - دشوار ہونا۔
مہم ہونا۔

أَسْتَعْجَمَ - عاجزی کی بنا پر خاموش ہونا۔
الْقِدْوَاةُ - پڑھنے پر قادر نہ ہونا۔
عليه اَلْكِتَابُ - کلام دشوار ہونا۔ مہم ہونا
العِجْمُ وَالْعُجْمُ - دُم کی جڑ۔
العِجْمُ - فارس۔ فارسی لوگ۔ (وَالْعُجْمُ
غَيْرُ عَرَبٍ -

العِجْمُ وَالْعُجَامُ - چھوڑے کی گھٹی گھٹی
کتے ہیں: لَيْسَ لِهَذَا التُّبَّانِ -
عَجْمٌ - وَاَمَّا عَجْمَةٌ وَعِجَامَةٌ -
العِجْمَةُ - خرابا کا درخت۔
العِجْمَةُ - اِسْمُ مَرَّةٍ - سخت چٹان۔ ج۔
عِجْمَاتٌ -

العِجْمَةُ وَالْعِجْمَةُ - ابہام کھول کر بیان
نہ کرنا۔ ریت کا ڈھیر۔
الْأَعْجَمُ - غیر عربی، اگرچہ فصیح عربی بولتا ہو۔
جو صاف کھول کر بیان نہ کہے، اگرچہ
عربی ہو۔ گونگا۔ ج۔ أَعْجَمُونَ -
أَعَاجِمٌ -

العِجْمَاءُ - مَوْتٌ أَعْجَمٌ - بھاپا۔ ج۔
عِجْمَاوَاتٌ - ریت کا ٹیلہ جس میں
درخت نہ ہو۔

الْأَعْجَامُ - غیر عرب۔

عَجَمَ دَنًا عَجْمًا - چھوڑے کی گھٹی گھٹی
کتے ہیں: لَيْسَ لِهَذَا التُّبَّانِ -
عَجْمٌ - وَاَمَّا عَجْمَةٌ وَعِجَامَةٌ -
العِجْمَةُ - خرابا کا درخت۔
العِجْمَةُ - اِسْمُ مَرَّةٍ - سخت چٹان۔ ج۔
عِجْمَاتٌ -

العِجْمَةُ وَالْعِجْمَةُ - ابہام کھول کر بیان
نہ کرنا۔ ریت کا ڈھیر۔
الْأَعْجَمُ - غیر عربی، اگرچہ فصیح عربی بولتا ہو۔
جو صاف کھول کر بیان نہ کہے، اگرچہ
عربی ہو۔ گونگا۔ ج۔ أَعْجَمُونَ -
أَعَاجِمٌ -

العِجْمَاءُ - مَوْتٌ أَعْجَمٌ - بھاپا۔ ج۔
عِجْمَاوَاتٌ - ریت کا ٹیلہ جس میں
درخت نہ ہو۔

الْأَعْجَامُ - غیر عرب۔

عَجَمَ دَنًا عَجْمًا - چھوڑے کی گھٹی گھٹی
کتے ہیں: لَيْسَ لِهَذَا التُّبَّانِ -
عَجْمٌ - وَاَمَّا عَجْمَةٌ وَعِجَامَةٌ -
العِجْمَةُ - خرابا کا درخت۔
العِجْمَةُ - اِسْمُ مَرَّةٍ - سخت چٹان۔ ج۔
عِجْمَاتٌ -

العِجْمَةُ وَالْعِجْمَةُ - ابہام کھول کر بیان
نہ کرنا۔ ریت کا ڈھیر۔
الْأَعْجَمُ - غیر عربی، اگرچہ فصیح عربی بولتا ہو۔
جو صاف کھول کر بیان نہ کہے، اگرچہ
عربی ہو۔ گونگا۔ ج۔ أَعْجَمُونَ -
أَعَاجِمٌ -

العِجْمَاءُ - مَوْتٌ أَعْجَمٌ - بھاپا۔ ج۔
عِجْمَاوَاتٌ - ریت کا ٹیلہ جس میں
درخت نہ ہو۔

الْأَعْجَامُ - غیر عرب۔

العَجَامُ - بڑی چمگاڈ۔
 الأَعْبِيءُ وَالْعَجِيءُ - غیر عرب، جو ہم کی
 جانب منسوب ہو۔
 العَوَاجِمُ - دانت، مزد۔ عَاجِمَةٌ -
 رَجُلٌ صُلْبٌ الْمَعْجِمُ - جو شمل
 آزمائش کے وقت سخت ہو۔
 الْمُعْجَمُ - مفع۔ مصدر می۔ حروف تہی۔
 بَابُ مُعْجَمٍ - بند دروازہ۔ مفت کی
 کتاب کو معجم کہتے ہیں کہ وہ ابہام کو دور
 کرتی ہے۔
 عَجَنَ دَنُضًا، عَجَنًا - الدَّقِيقُ - آٹا گوندھنا۔
 - عَلَى الْعَصَا - لاطی پڑیک لگانا۔
 الرَّجُلُ - ہاتھوں پڑیک لگا کر اٹھنا۔
 صَفَتُ عَاجِيٌّ - ج۔ عَجْنٌ - کہتے ہیں فَلَانٌ
 عَجَنَ وَخَبَزَ - یعنی بولھا ہو گیا۔
 أَعَجَنَ - الرَّجُلُ - کہنے سال ہو جانا۔
 أَعَجَنَ الدَّقِيقُ - آٹا گوندھنا۔ فَلَانٌ -
 خیر بنایا۔
 تَعَجَّنَ (الشَّيْءُ) - گندھ جانا۔ خیر ہو جانا۔
 الْعَجْنُ - مِنَ الْجَمَالِ - موٹا اونٹ۔
 الْعَجْنَاءُ - کم دودھ والی اونٹنی۔ بہت موٹی
 اونٹنی۔
 الْعَجِينُ - گندھا ہوا آٹا۔ بیچرا۔ ج۔ عَجْنٌ -
 الْعَجْنُ - ڈھیلے بدن والا (مذکورہ مؤنث)۔
 الْعَجِينَةُ - گندھے آٹے کا پیرا۔ بیچرا۔
 بِرَقُونَ - جماعت۔ اُمٌّ عَجِينَةٌ - گندھ۔
 الْعَجَانُ - گردن۔ سُرْنٌ - ٹوڑی کے نیچے
 کا حصہ۔ خصیتین اور مقعد کا درمیانی
 حصہ۔ ج۔ عَجْنٌ وَاعْجَنَةٌ -
 الْعَجَانُ - بہت آٹا گوندھنے والا۔ برقوق۔
 عَاجِنَةُ الْمَكَانِ - مکان کا درمیانی حصہ۔
 الْعَجْنُ وَالْمَعْجَنَةُ - آٹا گوندھنے کا برتن۔
 عَجْمَةٌ بَيْنَهُمَا - حیدائی کرا دینا۔
 كَعَجَلَةٌ - جاہل بنا۔ الامور۔ ملتبس ہونا۔
 الْعَجَاهُنُ - سیر۔ غیر خالص النسب خادم

باورچی۔ ج۔ عَجَانِيَّةٌ -
 عَجَائِعُ عَجْوًا - البعير۔ اونٹ کا
 بلبانا اور سرکش ہونا۔ عَجَّتِ الْأُمُّ
 الْوَلَدَ - بچہ کو مدت رضاعت کے بعد
 دودھ پلایا۔ فَلَانٌ فَاءٌ مَن كَهْلًا -
 عَجَاةُ اللَّبَنِ - دودھ کا غذا ہونا۔
 کہتے ہیں: لَقِيَ فَلَانٌ مَا عَجَاةٌ -
 سختی میں مبتلا ہونا۔ وَعَاجِي الْوَلَدِ
 علاوہ ماں کے کسی دوسری عورت کا
 دودھ پلانا یا دودھ روک کر غذا دینا۔
 عَجَاوَعِيٌّ - وَجْهَةٌ - منہ پٹھا کرنا۔
 عَجِيٌّ دَسٌّ، عَجِيٌّ - الصَّبِيءُ - دودھ کے
 علاوہ کسی اور چیز سے پرورش پانا۔
 الْعَجِيٌّ - ماں کو کھودینے والا۔ اور دوسری کے
 دودھ سے پرورش پانے والا۔ مؤنث
 عَجِيَّةٌ - ج۔ عَجَايَا -
 الْعَجِيَّةُ - وہ بچہ جس کی ماں نے مدت رضاعت
 کے بعد دودھ پلایا ہو۔ وہ بچہ جس
 نے دوسری عورت کے دودھ سے
 پرورش پائی ہو۔ مؤنث عَجِيَّةٌ - ج
 عَجَايَا وَعَجَايَا -
 الْعَجْوَةُ وَالْعَجَاوَةُ - عمدہ قسم کی کھجور۔
 الْعَجَاوَةُ وَالْعَجَاوَةُ وَالْعَجْوَةُ -
 وہ دودھ جو تھیم کو پلائیں۔
 عَجَّتِ نَعْمَى - عَجِيًّا - الْمَرْأَةُ صَبِيئًا -
 عورت نے بچہ کو دودھ پلایا۔
 الْعَجَايَةُ وَالْعَجَايَةُ - عمدہ قسم کی کھجور۔
 جانور کے بندوبست کا پٹھا۔ ج۔
 عَجِيٌّ وَعَجِيٌّ وَعَجَايَا -
 عَدَّ لَكَ، عَدَّ اوْتَعَدَّ اذًا - الشَّيْءُ -
 شمار کرنا۔ گنا۔ گمان کرنا۔ کہتے ہیں۔
 "عَدَدْتُ لَكَ زَيْدًا صَادِقًا" میں نے
 زید کو سچا گمان کیا۔
 عَدَّدَ - الْمَيْتَةَ - مرنے کی خوبیاں بیان کرنا
 شمار کرنا۔ الشَّيْءُ مَشَارِكًا - عدد والا

کردینا۔ المال۔ زمین کے لیے ساز و
 سامان بنانا۔
 أَعَدَّه لِلْأَمْرِ - تیار کرنا۔ حاضر کرنا۔
 عَادَّةٌ عِدَادٌ اوْتَعَادَةٌ - لڑائی میں مقابلہ
 کرنا۔ الشَّيْءُ الْقَوْمِ - چیز کو قوم پر برابر
 برابر تقسیم کرنا۔
 تَعَدَّدَ وَتَعَادَدَ - عدد میں زیادہ ہونا۔ کہتے
 ہیں: هُوَ يَتَعَادَدُونَ وَيَتَعَادَدُونَ
 عَلَى الْفَيْ - وہ ہزار سے ناند ہیں۔
 اَعْتَدَ - شمار ہونا۔ "هَذَا شَيْءٌ لَا يَعْتَدُّ بِهِ"
 یہ ایسی چیز ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا
 اور التفات نہیں کیا جاتا۔ اَعْتَدَ
 الامورَ تَجَارَةً - معاملہ کو تجارت
 سمجھنا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ "اَعْتَدَ
 بِنَفْسِهِ" - اپنے نفس پر اعتماد کیا۔
 اسْتَعَدَّ - لِلْأَمْرِ - تیار ہونا۔
 الْعَدَدُ - شمار گنتی، گنا ہوا۔ مِنَ الْإِنْسَانِ
 آدمی کی عمر کے سال۔ ج۔ اَعْدَادٌ -
 الْعِدَادُ - عطا۔ دیوانگی کا اثر، ہمسرہ حریف
 موت کا وقت، پیشی کا دن۔ کمان کی
 آواز۔ شمار۔ کہتے ہیں: هُوَ فِي
 عِدَالِهِ - وہ بھی ان میں ہے۔
 (وَالْعِدَادُ) مِنَ الْوَجْعِ - وقت
 مقررہ پر درد کا بڑھنا۔ کہتے ہیں: يَهْمُ
 مَرَضٌ عِدَادِيٌّ - اس کا مرض وقت
 مقررہ پر لوٹتا ہے۔
 الْعِدُّ - وہ جاری پانی جو منقطع نہ ہو۔ کثرت
 کہتے ہیں: هَذَا بَرَزٌ مِنْ عِدِّي - یہ
 بہت سارے میں سے تھوڑا سا ہے۔
 پُرَانَا كُنُوَا - ہمسرے کہتے ہیں: هُوَ عِدَاكَ
 وہ تمہارا ہمسرہ ہے۔ ج۔ اَعْدَادٌ -
 الْعِدَّةُ - جماعت۔ چند، تعداد۔ کہتے ہیں۔
 "عِنْدِي عِدَّةٌ كَثِيرَةٌ" میرے پاس
 چند کتابیں ہیں۔ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ - عورت
 کی طلاق یا شوہر کی وفات پر سوگ کا

نمانہ۔ ج۔ عِدْوٌ۔

الْعِدَّةُ - تیاری کہتے ہیں: كُونُوا عَلَى
عِدَّةٍ - تیار ہو۔ سامان جنگ وغیرہ۔
کہتے ہیں: أَخَذَ لِلْأَمْرِ عِدَّةً - معاملے
کے لیے سامان لے لیا۔ ج۔ عِدْدٌ۔
(وَالْعِدُّ) - ہلے۔ وہ پھسیاں جو
پہرے پر نکلتی ہیں۔

الْعِدَانُ وَالْعِدَّانُ - کسی چیز کا زمانہ یا
موسم یا زمانے کا اول اور بہتر حصہ کہتے
ہیں: كَانَ ذَلِكَ فِي عِدَّانِ الشَّبَابِ
وَعَلَى عِدَّانِ مُكَيَّبٍ - جو چیز
الْعِدْوِيَّ - منسوب عدو کی طرف۔ جو چیز
گنتی سے پہنچی جلتے۔

الْعِدْيِدُ - شمار۔ عدد۔ کہتے ہیں: مَا أَكْثَرَ
عِدْيِدِهِمْ - ان کا شمار کس قدر زیادہ
ہے۔ شمار کیا ہوا۔ ہمسز ہم مثل، حصہ۔
کہتے ہیں: هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عِدْيِدُ
هَذِهِ - یہ وہی اس کی مقدار میں ہیں۔
الْعِدْيِدِيُّونَ الْقَوْمُ - جو شخص قوم
میں شمار کیا جائے۔ اَيَّامُ عِدْيِدَةٍ -
چند دن۔ ج۔ عِدَائِدٌ۔

الْعِدَائِدُ - بہت سے ہم مثل۔ تقسیم کردہ
مال، میراث۔

الْعِدْيِدَةُ - حصہ۔

الْمُعَدُّ - فا۔ پورے سامان والا۔

عَدَدُنْ، عَدْرًا وَعَدْرَةً - جرات کرنا
دلیری کرنا۔

عِدْرُ دَسْ، عَدْرًا وَعَدْرًا - المکان
پانی زیادہ ہونا۔ اِعْتَدْرًا الْمَطْرُ -
بکثرت برستا۔

الْعَادِرُ - فا۔ جھوٹا۔ پھلنے والا۔

الْعَدَارُ - ملاح۔

الْعَدْرُ وَالْعَدْرُ - کثیر موسلا دھار بارش۔

عَدَسَةٌ رَضِيٌّ عَدَسًا - خدمت کرنا۔

عَدَسُ الْمَوَاشِي - جانوروں کو چراننا۔

الشيءُ - سخت رو در نادر۔ عَدَسًا و
عَدَسَانًا، عَدَسًا، عَدَسًا - فِي
الارضِ - جانا۔ کہتے ہیں: عَدَسْتُ
بِهِ الْمَنِيَّةَ - اسے موت لے گئی۔

عَدَسٌ - پھنسیوں والا ہونا۔ صفت مَعْدُوسٌ
عَادَسُ الرَّجُلُ - ہمیشہ سفر میں رہنا۔
الْعَدَسُ - مسور۔ واحد۔ عَدَسَةٌ -

الْعَدَسَةُ - پھنسی۔ الْعَدَسَةُ - و
الْعَدِيَّةُ - عِنْدَ عِلْمَاءِ الْعَلِيَّةِ
شیشے کے ٹکڑے جو بطور آلات نظر
استعمال کیے جاتے ہیں۔

عَدَسٌ - اسم صوت۔ نچر ہانکنے کے واسطے
نام، نچر۔

عَدَفَ رَضِيٌّ، عَدْفًا، تَعَدَّفَ - تھوڑا

کھانا کہتے ہیں: مَا عَدَفْتُ أَوْ مَا
تَعَدَّفْتُ الْيَوْمَ - میں نے آج
تھوڑا سا بھی نہیں کھایا۔ چہاں تک بہت سا۔

اِعْتَدَفَ الثَّوْبُ - کپڑے کا ٹکڑا لینا۔

الْعَدْفُ - تھوڑا سا عطیہ۔ تھوڑا چارہ۔

کہتے ہیں: مَا ذُقْنَا عَدْفًا، عَدْفًا،

عَدْفًا، عَدْفًا، عَدْوْفًا، عَدْوْفًا - کھانے
پینے کی کوئی چیز نہیں چکھی۔

الْعُدْفُ - تھوڑا چارہ۔ ج۔ عُدْفٌ -

الْعُدْفُ - لوگوں کی جماعت، رات کا

ایک حصہ۔

الْحَدْفَةُ - لوگوں کی جماعت، ہر چیز کا

ٹکڑا۔ دس سے بچاس تک دس و

الْعَدْفَةُ - زمین کے اندر پٹری کی جڑ۔

ج۔ عَدْفٌ -

الْعِيدَفُ - ہر چیز کا ٹکڑا۔

عَدَقِي رَضِيٌّ، عَدَقًا وَعَدَقِي رَضِيٌّ، عَدَقًا

وَعَدَقِي وَأَعَدَقِي - يَدَا - حوض

یا کنویں کے کنارے میں ہاتھ ڈالنا،

کسی چیز کی تلاش کے لیے۔ بِعَدَقِهِ -

کسی کام کو اپنی غالب رائے سے کرنا کہ

جس پر یقین نہ ہو۔

الْعَدَقَةُ - ڈول نکالنے کا کاٹا جو تین شاخوں
والا ہو۔ ج۔ عَدَقٌ -

الْعَوْدُقُ وَالْعَوْدُقَةُ - ڈول نکالنے کا تین

شاخوں والا کاٹا۔ ج۔ عُدُقٌ -

عَدَقَ رَضِيٌّ، عَدَقًا - الصُّوفُ - اون

کو دھننے کے واسطے ڈنڈے سے مارنا۔

الْمِعْدَاكَةُ - ڈنڈا۔ اون دھننے کا۔

عَدَلُ رَضِيٌّ، عَدْلًا - السَّهْمُ - تیر کو

سیدھا کرنا۔ مُلَوْنًا يَفْلَاحُ - برابر

کرنا۔ يَرْبِيهِ - شرک کرنا۔ الطَّرِيقُ

طِيزُهَا بَوْنَارٌ - عَدْلًا وَعَدْوْلًا - الِيبُ

رَجْعُ كَرْنَا - واپس ہونا۔ فُلَانًا -

موازنہ کرنا۔ ةٌ فِي الْمَحْمَلِ سَاحَةٌ سَوَارٌ

ہونا۔ کہا جاتا ہے: مَا يَعْدِلُكَ عِنْدِي

شَيْءٌ - تمہارے منہ پر کوئی چیز نہیں۔

ر - عَدْلًا وَعَدَالَةً وَعَدْوْلَةً و

مَعْدِلَةً وَمَعْدَلَةً - انصاف کیا۔

صفت عَادِلٌ - ج۔ عُدُولٌ -

عَدَلُ رَضِيٌّ، عَدَالَةً - عادل ہونا۔ گواہی

کے قابل ہونا۔

عَدِلُ دَسْ، عَدْلًا - ظلم کرنا۔

عَدَلُ الْقَاهِدِ - معتبر ماننا۔ الشَّعْرُ - شعر

کو درست وزن پر کرنا۔ الْمَتَاعُ -

سامان کو دو برابر حصوں میں کرنا۔ دو

گھٹریاں بنانا۔ کہتے ہیں: شَيْبٌ حَتَّى

عَدَلُ: اس قدر سیا کہ سیٹ گھٹری

کی طرح ہو گیا۔ ر - وَأَعْدَلُ، الشَّيْءُ -

سیدھا کرنا۔ ہموار کرنا۔

عَادَلَهُ عَدْلًا وَمَعَادَلَةً - موازنہ کرنا۔

ةٌ فِي الْمَحْمَلِ - ساتھ سوار ہونا۔

الشَّيْءُ - ٹیڑھی ہونا۔ فِي الْأَمْرِ - مشورہ

ہونا۔ بَيِّنُ الْقِيَمَتَيْنِ - برابر کرنا۔

کہتے ہیں: عَادَلُ بَيِّنُ الْأَمْرَيْنِ -

جبکہ دو باتیں ہمیش آئیں اور سمجھ میں نہ آئے

کہ کس کو اختیار کریں۔ قَطَمَ الْعَدَالَ
فِي أَمْرٍ۔ پختہ ارادہ کرنا۔
لَا تُعَدَّلُ۔ عَنِ الظُّلْمِ۔ ہٹ جانا۔
لَا تُعَدَّلُ سِوَا مَا بَوَّأَ۔ دو حالتوں میں
متوسط حال اختیار کرنا۔
الْعَادِلُ۔ فَا مُتْرَكٌ۔ ج۔ عَدُوٌّ۔
الْعَدْلُ۔ النِّصَافُ۔ عادل۔ کہتے ہیں۔
رَجُلٌ عَدْلٌ۔ اِمْرَأَةٌ عَدْلٌ وَ
عَدْلَةٌ وَرَجَالٌ عَدْلٌ۔ نَظِيرٌ شَيْءٍ
ج۔ اَعْدَالٌ۔ الْعَدْلُ۔ پیمانہ، بدلہ
معاملات میں اعتدال، برابری۔ اَصْرٌ
مُعْتَدِلٌ۔ سیدھا معاملہ۔
الْعِدَالُ۔ نَظِيرٌ شَيْءٍ۔ قیمت۔ کہتے ہیں۔
خَذُ عِدْلَهُ كَذَا اَوْ كَذَا۔ اس کی اتنی
قیمت لے لو۔ گون جانور کی پیٹھ پر ایک
طرح کا بوجھ۔ ج۔ عَدُوٌّ وَ
اَعْدَالٌ۔

الْعَدْلُ۔ دو گونوں کی برابری۔
الْعَدْلَةُ وَالْعِدْلَةُ۔ معتبر گواہ۔ بعض
کے نزدیک عِدْلَةٌ واحد ہے اور
عِدْلَةٌ جمع ہے۔
الْعِدَالُ۔ عادل۔
الْعِدَالِيُّ۔ نظیر، مثل، رویف۔ ج۔
عِدْلَاءُ۔

الْاِعْتِدَالُ۔ برابری، تناسب، الْاِعْتِدَالُ
الرَّبِيعِيُّ۔ رات دن کا برابر ہونا۔
موسم ربیع میں۔ الْاِعْتِدَالُ الْخَرِيفِيُّ۔
موسم خریف میں رات دن کا مساوی
ہونا۔

الْمُعْدِلُ وَالْمُعْدُوْلُ۔ پھرنے کی جگہ کہتے
ہیں۔ مَا لَهٗ مُعْدِلٌ اَوْ مُعْدُوْلٌ
عَنْ كَذَا۔ اس کے لیے فلاں ہات
سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اَخَذَ
مُعْدِلَ الْبَاطِلِ۔ باطل راہ اختیار
کرنا۔

مُعَدَّلَاتُ الْبَيْتِ۔ گھر کے کونے۔
عَدِمَ دَسَّ، عُدَّ مَا وَعَدَّ مَا۔ المَانُ۔
گم کرنا، نیست کرنا، کم کرنا۔ کہتے ہیں۔
”مَا يَعْدُ مَنِي هَذَا الْأَمْرُ“ یہ معاملہ
مجھ سے تجاوز نہیں کرتا۔
عَدَمَ رِكْ، عَدَامَةٌ۔ بیوقوف ہونا۔
اَعْدَمَ اِعْدَامًا۔ الرَّجُلُ۔ محتاج ہونا۔
صِفَتُ مُعْدِمٌ وَعَدِيٌّ۔ كَذَا الشَّيْءِ
مُحْرَمٌ كَرِينًا۔ اَعْبَرُ مَنِي الشَّيْءِ۔
چیز نہ پائی۔ اَعْدَمَ فَلَانًا۔ منع کرنا۔
الْعَدَمُ وَالْعُدْمُ وَالْعُدْمُ۔ فقدان۔
الْعَدَمُ۔ نیستی۔
الْعَدْمُ۔ فقیر، محتاج۔

الْعِدْيَةُ۔ بیوقوف۔ دیوانہ۔ فقیر۔ غیر موجود۔
کہتے ہیں۔ ”هُوَ عِدْيٌ الْظُّلْمِ“ اس
جیسا کوئی نہیں۔ ج۔ عَدَمَاءُ۔
ارَضٌ عَدَمَاءُ۔ ویران زمین۔
الْمُعْدُوْمُ۔ مفع۔ مند۔ موجود۔

عَدَنَ رَضٍ، عَدْنَا۔ الارض۔ زمین میں
کھا دیا۔ اَلْحَجَرُ۔ اکھاڑا۔
عَدَنَ رَضٍ، عَدْنَا وَ عُدْنَا۔
بِالْمَكَانِ۔ اقامت کی۔ الجلاذ۔ وطن
بنایا۔ اسی سے جَنَاتُ عَدْنٍ ہے۔
عَدَنَ۔ الارض۔ کھا دیا۔ الارض۔
زمین کھودی۔ الشَّارِبُ۔ پینے والا
سیر ہوا۔

عَدْنُ۔ بن کے ایک شہر کا نام ہے۔
الْعَدْنِيُّ۔ منسوب عدن کی طرف۔ عمدہ
اخلاق والا۔

جَنَّةُ عَدْنٍ۔ بہشت کا نام۔
الْعَدَانُ۔ سمندر کا کنارہ۔ کبابہ دریا۔
الْعَدَانَةُ۔ گروہ۔ ج۔ عَدَانَاتُ۔ کہتے
ہیں۔ ”اَتَانَا عَدَانَاتُ“ ہمارے پاس
مختلف گروہ آئے۔
الْعَدِيْنَةُ۔ ڈول کا ہوند۔

الْعِدَانَةُ۔ کھجور کا لمبا درخت۔ ج۔
عِدَانٌ۔

الْمَعْدِنُ۔ سونے وغیرہ کی کان۔ ہر چیز کا
منبع۔ گرمی سردی کا رہائشی مکان۔ کہتے
ہیں۔ ”فَلَانٌ مَعْدِنُ الْخَيْرِ“ فلاں
بھلائی کا منبع ہے۔ ج۔ مَعَادِنُ۔

الْمِعْدَنُ۔ ہتھوڑا۔ وہ اوزار جس سے پتھر
نکالے اور توڑے جاتے ہیں۔

الْمَعْدِنُ۔ کان کھودنے والا۔ سونا
چاندی نکالنے والا۔

نَدَا اِلْعِدَا وَاَعْدَا وَاَعْدَا وَاَنَا، عُدُّوْا
تَعْدَاءُ وَاَنَا، عُدَّاءُ۔ دوڑنا۔ عُدُّوْا وَا
عُدُّوْا وَاَنَا، فَلَانًا عَنِ الْاَمْرِ۔ معاملہ
سے باز رکھنا۔ علیہ۔ حملہ کرنا۔ الْاَمْرُ
وَعَنِ الْاَمْرِ۔ چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں۔

”عَدَا طَوْرَهُ اَوْ قَدَاةً“ اس نے
مرتب سے تجاوز کیا۔ ر۔ عَدُّوْا وَا
عُدُّوْا وَاَعْدَاءُ وَاَعْدَا وَاَنَا وَاَعْدَا وَاَنَا
وَعَدُوِي، عَلَيْهِ۔ ظلم کرنا۔ کہتے ہیں۔
”مَا عَدَا اِمْتًا بَدَا“

عَدَا مَا۔ مصدریہ کے ساتھ یا اس کے بغیر
کلمہ استثناء ہے اور تمام احکام میں خلا
کی مانند ہے کہتے ہیں۔ ”جَاءَ الْقَوْمُ
عَدَا زَيْدًا“ اَوْ عَدَا زَيْدًا نَسَبٌ وَجِ
کے ساتھ۔ اور مَا عَدَا زَيْدًا۔ صرف
نسب کے ساتھ آتا ہے۔

عَدِي يَعْدِي عَدَا۔ بِلَاوِنٍ۔ بعض
رکھنا۔ عَدِيٌّ مَخْلِيٌّ فَلَانٌ۔ ظلم کیا گیا۔
مال چھدی کیا گیا۔

عَدِي۔ عَنِ الْاَمْرِ۔ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں۔

عَدِيٌّ عَدَا تَرِي۔ اپنی نگاہ پھیر لے۔

فَلَانًا عَنِ الْاَمْرِ۔ کسی کو کسی معاملے

سے باز رکھا۔ الشَّيْءُ۔ نافذ کیا۔

الْفِعْلُ۔ فعل لازم کو متعدی بنایا۔

عَادِيٌّ عَدَا بَرًّا وَمَعَادَاةً۔ فَلَانًا۔ جھگڑا

دور کر دیا۔ جو عواذ۔ عوادی الدھر
گردشیں، موالج کہتے ہیں۔ صرقتہ
عن کذا عواد۔ اس کو موانع سے
روک دیا۔

المعدی۔ گزرگاہ۔ کہتے ہیں: عالی عن
فلان معدی۔ میرے لیے فدا شخص
سے گزر جانے کی جگہ نہیں ہے۔

عذب رضی عذبا۔ سخت پیاس کی وجہ سے
کھانا کھانا چھوڑ دینا۔ صفت عذوب
وعاذب۔ عنہ۔ باز رہنا۔ ۵۔
منع کرنا۔ عذب السوط۔ کورے میں
پھندا لگانا۔

عذب رس، عذبا۔ الماء کانی دار پانی
ہونا۔ صفت عذیب۔

عذب رک، عذوبہ و عذوب۔ الشراب
میٹھا اور خوشگوار ہونا۔

اعذب۔ میٹھ پانی پر پہنچنا۔ کانی کوڑا کرکٹ
دور کرنا۔ القوم۔ میٹھ پانی والی ہونا۔

اللہ الماء۔ میٹھا پانی کر دینا۔ عنہ۔
باز رہنا۔ عن الامیر۔ منع کرنا۔

کہتے ہیں: اعذب نفسك عن کذا۔
اپنے آپ کو اس سے روکو۔

عذبة۔ عذاب دیا۔ عذبة عن الشيء۔
منع کرنا۔ عذب السوط۔ کورے میں
پھندا لگانا۔ الشيء۔ روکنا۔

اعتذب۔ عملے کے دو شملے لگانا۔

استعذب الشيء۔ میٹھا اور خوشگوار پانا۔
میٹھا اور خوشگوار پانی طلب کرنا کہتے
ہیں: نحو: يستعذب الماء۔ میٹھا
پانی لانے کے لیے جانا۔ عن کذا۔

باز رہنا۔

العذب۔ مم۔ خوشگوار کھانا پانی۔ ماء
عذب۔ میٹھا پانی۔ العذب۔ ایک
قسم کا درخت۔

العذب۔ مم۔ کوڑا کرکٹ، تنکا، ترازو کی

المعدی۔ جہ۔ اعداء۔ عدو یعنی دشمن عدو
ہونے والا مسافرین۔ وادی کا کنارہ۔

المعدی۔ عدو کا اسم جمع۔ بلند مقامات۔
المعدوی۔ فساد، متعدی امراض۔

العداوة۔ دشمنی، دوسری۔
العداوة۔ دور مقام۔ والعدوة و
العدوة۔ بلند جگہ۔ وادی کا کنارہ۔

وادی کی ایک جانب۔ جہ۔ عداؤ و
عدوات۔

العداوة۔ ایک مرتبہ کی دور۔ وادی کا کنارہ۔
العداؤ۔ سخت اور خشک زمین۔ دوری،
مشغولیت۔ عداؤ الشوق۔ شائد
وتکالیف شوق۔ عداؤ الشغل۔

شغل کے موانع۔ کہتے ہیں: طائف
عداؤهم۔ ان کا اتراق اور دوری
بڑھ گئی۔

العدوان۔ نالہن ظلم کہتے ہیں: لا عدوان
علی۔ میرے اور پر کوئی مجال نہیں۔

العدوان۔ تیز دور۔ رذیب ذو عدوان۔
لاکھیریا۔

العداء۔ تیز دور کرنے والا۔
عدی۔ ایک قبیلہ کا نام۔ وہ جماعت جو قتل و
قتال کے لیے تیار ہو۔

العدو و دشمن۔ جہ۔ اعداء۔ جہ اعداء۔
العدوی۔ نا۔ دشمن ظالم، مزہ سے بڑھنے
والا۔ اچکنے والا۔ چور۔ غیر۔ عادی
العدوی۔ ایسے ضروری کام جو دوسرے
کامل سے باز رکھیں۔ جہ۔ عداؤ۔
عدویا اللوم۔ سختی کی دولتیں ہائیں۔

العدیة۔ قادی کا ٹوٹا۔ وہ جماعت جو
قتل و قتال کے لیے تیار ہو۔ لٹے والے
گھوڑے سوار دوری مشغولیت غصہ
کریزی۔ عادیة السوء۔ زہرا مزر،
کہتے ہیں: رفعت عنک عادیة
فلان۔ میں نے تجھ سے فلاں کا مزر

لگا دیا۔

العداء۔ مشغولیت۔ عدوی۔ والعداء
ایک دفعہ کی دور۔ کہتے ہیں: عدا
الغوس عداؤ و عداؤ واحدًا۔
ایک دور لگانا۔ عداؤ العدوی۔
وادی کا درمیان۔

العدو والعداء۔ العدی۔ وہ چھوٹا
بقر جس سے کچھ چھاپا جائے۔
العدی والعدی۔ جانب۔ جہ۔ اعداء

کیا۔ دشمن ہوا۔ بین الصیدان۔
ایک دوڑ میں موٹکارا سے۔ الضی۔
دور کیا۔
العدی۔ الرجل۔ دوڑ کے لیے اکسیا۔
فلان علی فلان۔ مدوکی۔ قوت
پہنچائی۔ الامر۔ معاملہ کی جانب
دوسرے کو بڑھایا۔ اعداء شرا۔
شر پہنچایا۔ ہ من علة او خلق۔
بیماری لگا دی یا عادی بنایا۔ کہتے ہیں۔
"قرین الشوء یعدی قرینہ۔ برا
ساتھی ہم نشین کو برا بنا دیتا ہے۔
العدی علیہ۔ ظلم کیا۔ فی کلامہ
زیادتی کی۔
العدی۔ الشی۔ تجاوز کیا۔ علیہ۔ ظلم
کیا۔ الفعل۔ متعدی ہوا۔ الشی
الی اخر۔ تجاوز کر آیا۔
تعدی القوم۔ ایک دوسرے سے دشمنی
کی۔ دوڑ میں مقابلہ کیا۔ الرجل۔
دور ہوا۔ ما بینہم۔ اختلاف ہوا
فساد ہوا۔ المكان۔ ناہموار ہوا۔
تعدت النوارب بمہیتیں پے در پے
ہوئے۔ کہتے ہیں: تعدی القوم۔
تجاوزت لگ گئی۔
اعتدنا بحق وعین الحق و فوق
الشی۔ تجاوز کرنا۔ علی فلان ظلم کرنا۔
استعدی۔ الرجل۔ مدوطلب کرنا۔ الغوس
موڑے کو دوڑانا۔
العداء۔ مشغولیت۔ عدوی۔ والعداء
ایک دفعہ کی دور۔ کہتے ہیں: عدا
الغوس عداؤ و عداؤ واحدًا۔
ایک دور لگانا۔ عداؤ العدوی۔
وادی کا درمیان۔
العدو والعداء۔ العدی۔ وہ چھوٹا
بقر جس سے کچھ چھاپا جائے۔
العدی والعدی۔ جانب۔ جہ۔ اعداء

کیا۔ دشمن ہوا۔ بین الصیدان۔
ایک دوڑ میں موٹکارا سے۔ الضی۔
دور کیا۔
العدی۔ الرجل۔ دوڑ کے لیے اکسیا۔
فلان علی فلان۔ مدوکی۔ قوت
پہنچائی۔ الامر۔ معاملہ کی جانب
دوسرے کو بڑھایا۔ اعداء شرا۔
شر پہنچایا۔ ہ من علة او خلق۔
بیماری لگا دی یا عادی بنایا۔ کہتے ہیں۔
"قرین الشوء یعدی قرینہ۔ برا
ساتھی ہم نشین کو برا بنا دیتا ہے۔
العدی علیہ۔ ظلم کیا۔ فی کلامہ
زیادتی کی۔
العدی۔ الشی۔ تجاوز کیا۔ علیہ۔ ظلم
کیا۔ الفعل۔ متعدی ہوا۔ الشی
الی اخر۔ تجاوز کر آیا۔
تعدی القوم۔ ایک دوسرے سے دشمنی
کی۔ دوڑ میں مقابلہ کیا۔ الرجل۔
دور ہوا۔ ما بینہم۔ اختلاف ہوا
فساد ہوا۔ المكان۔ ناہموار ہوا۔
تعدت النوارب بمہیتیں پے در پے
ہوئے۔ کہتے ہیں: تعدی القوم۔
تجاوزت لگ گئی۔
اعتدنا بحق وعین الحق و فوق
الشی۔ تجاوز کرنا۔ علی فلان ظلم کرنا۔
استعدی۔ الرجل۔ مدوطلب کرنا۔ الغوس
موڑے کو دوڑانا۔
العداء۔ مشغولیت۔ عدوی۔ والعداء
ایک دفعہ کی دور۔ کہتے ہیں: عدا
الغوس عداؤ و عداؤ واحدًا۔
ایک دور لگانا۔ عداؤ العدوی۔
وادی کا درمیان۔
العدو والعداء۔ العدی۔ وہ چھوٹا
بقر جس سے کچھ چھاپا جائے۔
العدی والعدی۔ جانب۔ جہ۔ اعداء

العدی والعدی۔ جانب۔ جہ۔ اعداء

ربان۔ درخت کی شاخیں۔ ہرنے کے اطراف، عامر کا شلم۔ واحد عَذْبَةٌ۔ العَذْبَةُ - تنکار۔ والعَذْبَةُ والعَذْبَةُ كائِي - جر۔ عَذْبَاتٌ۔ العَاقِبُ - فا۔ وہ شخص جس کے اوتار آسمان کے درمیان کوئی چیز مائل نہ ہو۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ وہ جانور جو کھڑا ہو اور کھاتا پیتا نہ ہو۔ جر۔ عُدُوْبٌ۔ العُدُوْبُ - یعنی عاذب۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ شدت پیاس کے سبب چارے کو نہ کھانے والا۔ العَدَابُ - ہر وہ شے جو انسان کے لیے باعث مشقت ہو۔ تکلیف، نزا۔ جر۔ اَعْدَابَةٌ۔ عَذْبُ رَضٍ، عَذْبًا - الماء - پانی پینا۔ فُلَانًا - گالی دینا۔ المِعْدَابُ - غیرت مند، بد اخلاق۔ بہت طاقت کرنے والا۔ عَذْرَةٌ رَضٍ، عَذْرًا او عَذْرًا او عَذْرًا - مَعْدْرَةٌ و مَعْدْرَةٌ - عَلِيٌّ او فِي مَا صَنَعَ - الزام سے بری کرتا۔ عذر قبول کرنا۔ عَذْرَ رَضٍ، عَذْرًا او عَذْرًا - گناہوں کا زیادہ ہونا۔ عَذْرًا، الغلام۔ لڑکے کی ختنہ کرنا۔ عَذْرَ رَضٍ، عَذْرًا او عَذْرًا - الفروس بِالْعَدَابِ - گھوڑے کے پوری لگانا۔ الصَّبِيحُ الْعَاذُوْرُ - بچے کو دردِ حلق ہونا اور تکلیف پہنچانا۔ عَذْرَ - الصَّبِيحُ - دردِ حلق ہونا۔ عَذْرٌ - عذر کا ثابت نہ ہونا۔ ؕ فَذَكَرْنَا فِي مَبَالِغِهِ كَرَمًا عَذْرًا الْغُلَامُ۔ لڑکے کے رخصتہ پر سبزہ لگانا، میں بھیگنا۔ الدَّارُ - نشانات مٹانا۔ فِي الْاَمِيْرِ كوشش کے بعد کوتاہی کرنا۔

اَعْدْرَةٌ - فِي او عَلٰی مَا صَنَعَ - الزام سے بری کرنا۔ الرجلُ - عذر ظاہر کرنا۔ مِنْ نَفْسِهِ - بکثرت گناہ کرنا، انصاف کرنا۔ فِي الْاَمِيْرِ - کوتاہی کرنا اور کوشش نہ کرنے کے باوجود کوشش والا سمجھنا۔ الفروس - پوری ہانڈھنا۔ الغلامُ - لڑکے کی ختنہ کرنا۔ ؕ فِي قَلْبِهِ - مار کر بدھی ڈال دینا، کہتے ہیں "ضَرْبُهُ حَتَّى اَعْدَرَ مَتْنَهُ"؛ اتنا مارا کہ پیٹ پر زخم کے نشان ڈال دیے۔ بِفُلَانٍ زخم کا نشان چھوڑنا کہتے ہیں "ضَرْبٌ فُلَانٌ" فَاَعْدَرَ مارتے مارتے ہلاکت کے قریب پہنچا دیا گیا۔ اَعْدَرَتْ الدَّارُ - بہت پلید ہونا۔ عَاذِرَةٌ مَعَاذِرَةٌ - عذر ثابت نہ ہونا۔ تَعْدَرُ عَلَيْهِ الْاَمُوْرُ - دشوار ہونا، ہازر ہونا۔ عَنِ الْاَمِيْرِ يَخْفَى مَتْنًا - الوَسْمُ مٹ جانا۔ الرجلُ - اپنے لیے حجت کرنا بھاگنا۔ الشَّيْءُ - پلیدی سے لقمہ جانا۔ فُلَانٌ مِنَ الذَّنْبِ - گناہ سے بری ہونا۔ اَعْتَدَرَ - عَنْ وَمِنْ فِجْلِهِ - عذریان کرنا۔ عَنْ فُلَانٍ - کسی کے عذر قبول کرنے کو کہنا۔ الرجلُ - صاحب عذر ہونا۔ - اليه - عذر پیش کرنا۔ التَّوَسُّعُ نشان کا مٹنا۔ اِسْتَعْدَرَ - اليه - عذر پیش کرنا۔ العَذْرُ - حجت جس کی بنا پر عذر کیا جائے۔ جر۔ اَعْدَارٌ - غلبہ، کامیابی، اسی سے ہے جو جنگ کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ "رَبِّمَنِ الْعَذْرُ" کس کے لیے غلبہ ہے کہتے ہیں "هُوَ اَبُو عَذْرٍ هَذَا الْكَلَامُ" وہ اس کلام کا پہلا بولنے والا ہے۔ الْهَوِيُّ الْعَذْرِيُّ - پاکیزہ محبت۔ الْعِدَارُ - پوری۔ جر۔ عَذْرٌ - رُخْسَارُ

رُخْسَارٌ ہر کان کے مقابل بال۔ حیا کہتے ہیں "تَحَلَّمَ عِدَارُهُ هُوَ تَحَلِّيْمٌ الْعِدَارُ" وہ پابند ہوا ہے۔ گراہیوں میں مبتلا ہے۔ بے پرواہ ہے۔ جیسے بلاری کا جانور زیادہ بڑتا ہے۔ لَوِي عِدَارُهُ عَنْهُ - نافرمانی کی۔ الْعِدَارُ مِنَ النَّصْلِ تیر کے پھل کے دونوں طرف کی دھار۔ الْعِدَارُ - ختنہ یا تعمیر مکان کا کھانا۔ الْعِدْرَةُ - عذر۔ جر۔ عَذْرٌ۔ الْعِدْرَةُ - بکارت۔ تیز رفتار گھوڑے کو نظر بد سے بچانے کا نشان جو پیشانی پر لٹکایا جائے۔ بالوں کا گچھا۔ گھوڑے کی گردن کے بال۔ الْعِدْرَةُ - پیشانی ختنہ کی کھال۔ ایک ستارہ کا نام جس کے نکلنے سے گرمی بڑھتی ہے۔ دردِ حلق۔ جر۔ عُدَارٌ۔ الْعِدْرَةُ - پانخانہ۔ گیہوں کا روی حصہ۔ مکان کے سامنے کا صحن۔ جر۔ عِدْرَاتٌ۔ الْعَاذِرُ - فا۔ نشان زخم۔ الْعَاذِرَةُ - پانخانہ۔ الْعَاذِرُ - رگ استخوان۔ الْعَاذِرُ - عاذر۔ مددگار۔ جر۔ عُدَارٌ۔ مَوْنٌ عَذِيْرَةٌ - الْعَذِيْرُ وَالْعَزِيْدُ نئی خوشی کا کھانا۔ الْعَذِيْرَةُ - نغان زخم۔ الْعَاذُوْرُ - دردِ گلو۔ علامت۔ جر۔ عَمَّاذِيْرُ - الْاِعْدَارُ - نئی خوشی کا کھانا۔ الْعَدْرَاءُ - باکرہ۔ مُدْبَسَفَةٌ - جر۔ عَذْرِيٌّ وَعَذْرِيٌّ - عَذْرَاتٌ - حضرت مریم کا لقب ہے۔ الْعَذْرِيٌّ وَالْمَعْدْرَةُ وَالْمَعْدْرَةُ - عذر، بہانہ۔ جر۔ مَعَاذِيْرُ - الْمَعْدَارُ - عذر، بہانہ۔ جر۔ مَعَاذِيْرُ عَذْفٌ رَضٍ، عَذْفًا - مِنَ الطَّعَامِ چکنا تَعَذْفٌ - الطَّعَامُ - کھانا کہتے ہیں کہ مَا ذُقْتُ عَذْفًا وَلَا عَذْفًا وَلَا عَذْفًا۔

میں نے کچھ نہیں چکھا۔
سَمَّ عُدَّافٌ زہر قاتل۔

الْعُدَّافِيُّ شَیْرٌ مَضْبُوطٌ اَوْ نَرٌّ - ج۔
عُدَّافِيٌّ مَضْبُوطٌ اَوْ نَرٌّ۔

عُدَّقِي رَمْنٌ، عُدَّقَاوَعُدَّقِي - الْبَلْحَلَةُ
کھجور کے درخت کی شاخ کا ٹٹا۔

عُدَّقِي فَلَانًا يَشْرِي تَهْت لُكَّانًا -
عُدَّقَهُ اِلَى كَذَا - نَسُوبٌ كَرْنَا -

عُدَّقِي وَاعُدَّقِي الشَّاقَةَ - بَكْرِي كَيْ
رنگ کے خلاف کسی اور رنگ کی اون

سے نشان لگانا۔
اِعْتَدَّقِي - دوشلے لگانا۔ اِعْتَدَّقَهُ بِكَذَا -

کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا۔ اِ
الْعَادِقُ - فَا - کھجور کے درخت کی حفاظت و

خدمت کرنے والا۔ ج۔ عَادِقُونَ و
عُدَّاقٌ -

الْعُدَّقِيُّ - کھجور کا پھل وار درخت - ج۔
اِعْدَقِي وَعُدَّاقِي -

الْعِدْقِيُّ - انگور کا کچھا۔ مِنَ النَخْلِ - کھجور
کا خوشہ۔ ج۔ عِدْقِي وَاعْدَقِي

الْعِدْقِيُّ - شاخوں والی ٹہنی۔ عزت۔
کہتے ہیں: فِي بَنِي فَلَانٍ عِدْقِي

كَهْلٌ - بنی فلاں میں انتہائی عزت ہے۔
الْعِدْقِيُّ - ہوشیار۔ چرب زبان۔

طَيِّبٌ عِدْقِي - تیز خوشبو۔
الْعِدْقَةُ وَالْعِدْقَةُ - بکری کے رنگ

کے خلاف اون کا نشان۔
عَدَلَهُ دَنْ مَضٍ، عَدَلَاوَعَدَلَهُ - ملامت

کرنا۔ صفت عَادِلٌ - ج۔ عُدَّالٌ و
عُدَّالٌ، عَدَلَهُ وَاذَلُّونَ مَوْنٌ

كَادِلَةٌ - ج۔ عَوَّوْلٌ، عَادِلَاتٌ -
تَعَادِلٌ - القَوْمُ - ایک دوسرے کو ملامت

کرنا۔
تَعَدَّلَ وَاعْتَدَّلَ - اپنے آپ کو ملامت

کرنا۔ ملامت سے متاثر ہونا۔ اِعْتَدَّلَ
اِسْتَعَدَّى الْمَكَانَ - اچھی ہوا والا سمجھنا۔

الْيَوْمُ - دِنٌ كَاسْتَحْتُ كَرْمٌ هُونًا -
اِعْتَدَّلَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ - پختہ

ارادہ کرنا۔
الْعُدُّلُ وَالْعَدْلُ وَالْتَعْدَالُ - ملامت۔

اَيَّامٌ عُدُّلٌ اَوْ مُعْتَدِلَاتٌ - سخت
گرم دن۔

الْعُدْلَةُ وَالْعُدُولُ وَالْعَدَّالُ و
الْعَدَّالَةُ - بہت ملامت کرنے والا۔

الْعَدَّالَةُ - مَوْنٌ عَدَّالٌ - سُرِينٌ -
الْعَادِلُ - فَا - رُكْبٌ اِسْتِمَاحَةٌ -

اِلْمُعَدَّلُ - مَفْعٌ - فَيَاضِيٌّ كَيْ بِنَا بِرِ مَلامت
کیا گیا۔

عَدَلَجَ - السِّقَاؤُ - مَشْكِيهٌ يَهْرَا - الْوَلَدُ
وغيرہ۔ لڑکے کو اچھی غذا دینا۔

عَيْشٌ عِدَّالَجٌ - خوشگوار زندگی۔
الْعُدُّلُوجُ - اچھی غذا سے پرورش شدہ بچہ۔

المُعَدَّلَجُ - پز گوشت، خوبصورت جسم والا۔
مَوْنٌ مُعَدَّلَجَةٌ -

عَدَمٌ دَنْ، عَدَمًا - الْفَوْسُ - گھوڑے
کا کاٹ کھانا۔ الرَّجُلُ - اپنے آپ سے

مَافحت کرنا۔ ع۔ مَلامت کرنا۔
عَدَمٌ دَنْ، عَدَمًا - گالی دینا۔

اِعْدَمَةٌ - عَنْ نَفْسِهِ - رُكْبٌ دِينَا -
منع کرنا۔

الْعَدَّوْمُ - بہت کاٹ کھانے والا۔ بہت
مَلامت کرنے والا۔ ج۔ عَدَّامٌ -

الْعَدَّامُ - بہت کاٹ کھانے والا۔ بہت
مَلامت کرنے والا۔

الْعَدِّيَّةُ - مَلامت، اس کھجور کا درخت جس
میں گھل نہ ہو۔ ج۔ عَدَّالِيَّةٌ -

عَدَّالِيَّةٌ عَدَّوًا وَعَدِّيَّةٌ يَعْذِي،
عَدِّيٌّ وَعَدَّوٌ يَعْذُو عَدَّوًا وَاوَةً -

المَكَانُ - اچھی ہوا والا ہونا۔ پانی اور
دہائی امراض سے دور ہونا۔

اِسْتَعَدَّى الْمَكَانَ - اچھی ہوا والا سمجھنا۔
الْعَرَّارُ - قِصَاصٌ، نَحْلٌ كَابِدَلَةٌ -

ارضٌ عَائِدِيَّةٌ، عَائِدِيَّةٌ، عَائِدِيَّةٌ، عَائِدِيَّةٌ
عمدہ آب و ہوا والی زمین۔

الْعُدِّيُّ - کھیت جس کی سیرابی صرف بارش کے
پانی سے ہو۔ ج۔ اِعْدَاءٌ -

عَوْرَدَنْ مَضٍ، عَوْرَادُ عَدَّالِيَّةٌ - خارش
زدہ ہونا۔ صفت عَوْرُوٌّ وَاَعْوُرُوٌّ عَالُوٌّ

وَمَعْوُورٌ -
عَوْرَدَنْ، عَوْرًا - نَمْلِيْنٌ كَرْنَا - سائل بن کر آنا۔

عَوْرَةٌ يَشِيءُ - برائی سے مٹوث کرنا۔
ر - وَاَعْوَرُ، الارض، زمین میں کھاد

وَالنَّاءُ -
عَوْرَدَنْ، عَوْرًا، عَوْرًا، عَوْرًا، عَوْرًا

- الْقَطْلِيْمُ - شتر مرغ کا جینا۔ اَعْوَرَتْ
الدَّارُ - گھر کا گندہ ہونا۔

تَعَارٌ - نیند میں بولتے ہوئے بیدار ہونا۔
اِعْتَوْرَةٌ رَاغْتَرٌ بِهِ - اِعْتَوْرًا رَاغْتَرًا

بِغَيْرِ سَوَالٍ
کے بخشش کے لیے آنا۔
اِسْتَعْوَرَهُمُ الْجَدْبُ - کھجلی پھیل جانا۔

الْعَارُوْرُ وَالْعَارُوْرَةُ - مَنَحُوْسٌ اَدْمِي - قوم
پر بے حرمتی لانے والا۔ بے کوبان کا

اَوْنَرٌ -
الْعَوْرُ وَالْعَوْرُوْرُ - خارش۔

الْعَوْرُ - کھجلی والا۔ کھجلی، عیب، برائی، وہ بچہ
جس کا دودھ جلد چھڑا دیا گیا ہو۔

الْعَوْرَةُ - اِسْمٌ مَرَّةٌ مَوْنٌ الْعَدَّ - جنگ کی
سختی۔ بری عادت، عیب۔

الْعَوْرَةُ - کھجلی، پرندہ کی بیٹ۔ لڑکا، میٹھی، گوبر
کوبان کی چربی۔ ناگوار بات کا پیش آنے لگانہ

جَوْنٌ هُوَ السَّانُ كَوَلِيَّةٌ - کہتے ہیں: یہ۔
عَوْرَةٌ - اس کو جنون ہے۔

الْاَعْوُرُ - خارش زدہ مرد یا اونٹ۔ مَوْنٌ
عَوَّاءٌ - ج۔ عُوْرٌ - الْعَوَّاءُ - لڑکی۔

الْعَرَّاسُ - ایک پھول کا نام جس کو گاؤ چشم
کہتے ہیں۔ جنگلی زنگس۔ واحد عَرَّاسَةٌ -

الْعَرَّارُ - قِصَاصٌ، نَحْلٌ كَابِدَلَةٌ -

الْعَرَّارُ - قِصَاصٌ، نَحْلٌ كَابِدَلَةٌ -

الْعَرَابُ - گناہ - قصور
الْعَرَابَةُ - بڑی سختی، بھڑکی، بدخلقی
الْعَرَبِيُّ - اجنبی

الْمَعْرُوفَةُ - گناہ، تکلیف، بدی، ڈانڈ، قصور
عیب، بری بات، سختی - گالی، غصہ سے
چہرے کا رنگ بدل جانا - ستارہ
کھکشاں کے علاوہ - ایک شکر کا نام -
مَعْرَافَةُ الْجَيْشِ - وہ لشکر جو تادی
سے قوم کی کہتی کھالے -

الْمُعْتَرُ - فقیر، بغیر سوال کیے بخشش کے
درپے ہونے والا -

عَرَبٌ دَنٌ، عَرُوبَةٌ وَعَرُوبِيَّةٌ وَعَرَابَةٌ
وَعَرُوبًا وَعَرُوبًا - فصیح عربی بولنا -
فصیح عربی زبان بولنا -

عَرَبٌ رَسٌ، عَرَبِيًّا - بگڑے ہوئے معرہ
والا بولنا - المَعْدَةُ - فاسد بولنا -

الْحَرَجُ - ورم بولنا اور پیپ پڑھانا -
الْبُيُوتُ كُنُوسٌ فِي بَيْتٍ پانی بولنا - الرَّجُلُ
لَكُنْتُ كَيْ بَعْدَ فَصِيحٌ بُولْنَا -

عَرَبٌ رَضٌ، عَرَبِيًّا - (الطعام) کھانا -

عَرَبٌ الْمَنْطِقُ - اعرابی غلطی سے ہاک کرنا -
الْكِتَابُ وَنَحْوَهُ - عربی میں ترجمہ کرنا -

عَلَيْهِ فِعْلُهُ قِيحٌ بَنَانًا - قولہ - ادا کر
دینا - عَنْهُ لَسَانَةٌ - فصیح بولنا - مراد کو

ظاہر کرنا - عَنْ صَاحِبِهِ - اپنے ساتھی کی
طرف سے بولنا اور دلیل بیان کرنا -

الرَّجُلُ - عربی گھوڑا لینا - الْمُشْتَرِيُّ -
بیعہ نہ دینا - الرَّجُلُ قِيحٌ بَاتٍ كَمَا -

يَحْتَجُّهُ - دلیل کو اچھی طرح بیان کرنا -
الْإِسْمُ الْأَعْجَبِيُّ - عربی بنا دینا -

أَعْرَبَ - الشَّقِ - ظاہر کرنا - عَنْ حَاجَتِهِ -
صاف بیان کرنا - كَلَامَهُ - فصاحت

سے بولنا اور غلطی نہ کرنا - بِالْكَلامِ - بیان
کرنا - بِحَاجَتِهِ - عمدہ دلیل بیان کرنا -

الْإِسْمُ الْأَعْجَبِيُّ - عربی بنا دینا -

الْكَلِمَةُ - اعراب لگانا - الْفَرَسُ -
دوڑانا - الْفَرَسُ الْعَرَبِيُّ - ہنسنانے
سے عربی گھوڑے کو غیر عربی گھوڑے سے
متاثر کیا - أَعْرَبَ الرَّجُلُ - اونٹ اور
عربی گھوڑوں کا مالک ہونا - الْمُشْتَرِيُّ -
بیعہ نہ دینا - الرَّجُلُ كَلَامٌ فِي غَلْطِي نَه
کرنا - فحش بات کہنا -

تَعَرَّبَ - عربی اخلاق اختیار کرنا - اہل عرب
کی مشابہت کرنا - دیہات میں قیام
کرنا - اعرابی بننا -

الْمُسْتَعَرَّبُ - عربوں میں داخل ہونا - قیح بات
کہنا -

العَرَبُ وَالْعَرَبُ - عرب کے باشندے -
ج - أَعْرَبٌ وَعَرُوبٌ -

العَرَبُ وَالْعَرَبَاءُ وَالْعَرَابَةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَ
الْعَرَبِيَّةُ - خالص عربی لوگ - لفظ

عرب اس مقام پر بتاویں طائفہ مؤنث ہے
العَرَبُ وَالْمُسْتَعَرَّبَةُ وَالْمُسْتَعَرَّبَةُ -
وہ غیر ملکی جو عرب میں آباد ہو گئے -

العَرَابَةُ وَالْعَرَابَةُ - فحش، بدگوئی -
العَرَبُ وَالْعَرَبُ - مِنَ الْمَاءِ كَثِيرٌ صَافٍ
پانی - رَجُلٌ عَرَبٌ - تیز زبان مرد - بَلْرُ
عَرَبِيَّةٌ - بہت پانی والا کتواں - مَعْدَةٌ
عَرَبِيَّةٌ - فاسد عمدہ - رَجُلٌ عَرَبِيٌّ -
فصیح مرد - رَجُلٌ عَرَبِيٌّ الْإِسْمَانِ -
فصیح مرد -

العَرَبِيُّ - خالص عرب کا باشندہ، اگرچہ کسی
دوسرے ملک میں رہتا ہو -

العَرَبِيَّةُ الْمُؤنَّثَةُ - العَرَبِيَّةُ الْمُؤنَّثَةُ
العَرَبِيَّةُ - عربی زبان -

الْأَعْرَابِيُّ - عرب کا دیہاتی -
الْأَعْرَابُ - عرب دیہات کے رہنے والے -
وَاحِدًا عَرَابِيًّا -
العَرَبِيَّةُ - نہر جو تیز بہتی ہو - نفس - ج
عَرَبٌ وَعَرَابَاتٌ -

العَرَبِيَّةُ - بیعہ نہ دینا -
العَرَبِيُّ وَالْعَرَبِيُّ وَالْعَرَبِيُّ - بیعہ نہ
ج - عَرَابِيٌّ - عام لوگ رُعْبُونَ
کہتے ہیں -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

العَرَبِيَّاتُ - وہ کشتیاں جو دور عباسیہ میں
وہلے میں بندھی رہتی تھی، جن سے پہلے کا
کام لیا جاتا ہے، آج کل کبھی پر اس کا
اطلاق ہوتا ہے -

الْعَرَابُ - عند النصارى - وہ مقدس مرد
جو پتھر دیے ہوئے شخص کا باپ بنایا
جاتا ہے - عَرَابَةٌ - وہ عورت جو ماں
بنتی ہے -

الْأَعْرَابِيَّةُ - عربی دیہاتیت - کہتے ہیں
"هُوَ أَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا" - وہ حسب

کے اعتبار سے خالص ہے - وَأَعْرَبُهُمْ
السُّنَّةُ - اور زبان کے لحاظ سے قیح ہے
- نَجِلٌ أَوْ بِلٌ عَرَابٌ وَأَعْرَبٌ -
خالص عربی گھوڑے یا اونٹ -

العَرَبِيَّانُ - عرب -
العَرُوبُ وَالْعَرُوبَةُ - مِنَ النِّسَاءِ -
بہت ہنسنے والی عورت - شوہر کی نافرمان
عَرُوبَةٌ أَوْ يَوْمُ الْعَرُوبَةِ - روز جمعہ
کہتے ہیں "مَا بِاللَّهِ مُعْرَبٌ أَوْ
عَرُوبٌ" گھر میں کوئی نہیں -

الْإِسْمُ الْمَعْرَبُ - عربی بنایا ہوا اسم، جیسے
ریشم سے آبریشم -
عَرَبِيَّةٌ عَرُوبِيَّةٌ - بدخلق ہونا - صفت -
عَرَبِيَّةٌ مَعْرَبِيَّةٌ -

العَرَبِيَّةُ وَالْحَرَبِيَّةُ - سخت چمیز کہتے ہیں
"غَضِبْتُ غَضَبًا عَرَبِيًّا" - سخت
غضب ناک ہوا - نَدْرَسَانِي -

عَرَبِيَّةٌ - بیعہ نہ دینا -
العَرَبِيُّ وَالْعَرَبِيُّ وَالْعَرَبِيُّ - بیعہ نہ
ج - عَرَابِيٌّ - عام لوگ رُعْبُونَ
کہتے ہیں -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

عَرَبَتْ رَضًا نَفْسًا، التَّوَمُّمُ - نیزہ سخت بولنا
- العَرَبِيُّ وَنَحْوَهُ - بجلی وغیرہ چکنا -
بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَابٌ - بہت حرکت
کرنے والا نیزہ یا بجلی -

شب میں آرام کے لیے اترنا۔
 تَعْرَسَ - لِاصْرَاتِهِ - قریفہ ہونا۔
 اِعْتَرَسَ - الْقَوْمَ عَنْهُ - متفرق ہونا۔ جدا ہونا۔
 الْعُرْسُ - مہر۔ رسی۔ خیمے کے بیچ کا کھمبا۔
 (وَالْعُرْسُ) اونٹ کا پھوٹا بچہ۔
 ج۔ اَعْرَاسٌ۔
 الْعُرْسُ - دلہن۔ عُرْسُ الْمَوَاتَا - دولہا۔
 ج۔ اَعْرَاسٌ - اِبْنُ عُرْسٍ - نیولا۔
 ج بَنَاتُ عُرْسٍ - (مذکر و مؤنث)
 الْعُرْسُ وَالْعُرْسُ - زفاف، طعام ولیمہ۔
 ج۔ اَعْرَاسٌ وَ عُرْسَاتٌ۔
 الْعِرَاسُ - وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جائے۔
 الْعُرْسُ - دولہا دلہن، جمع کے لیے کہتے ہیں۔
 "هُمُ عُرْسٌ وَ هُنَّ عِرَاسٌ" اور
 دفع التباس کے لیے عورت پر عُرْسَةٌ
 کا اطلاق کرتے ہیں۔ ج۔ عَوَاسٌ۔
 الْعَوِيسُ - عند المولدين - دلہن۔
 الْعَوِيسُ وَالْعَوِيسَةُ - بیشہ شیر۔
 الْعَوَاسُ وَالْمَعْرَسُ وَالْمَعْرَسُ - اونٹ
 کے چھوٹے بچوں کو نیچنے والا۔
 الْمَعْرَسُ وَالْمَعْرَسُ - آخرات میں
 اترنے کی جگہ۔
 عَرَشَ رَجُلٌ مِّنْ عَرَشَاتِ كَلْبٍ كَمَا كَانَ بَنَانًا -
 البیت - گھر بنانا۔ العرش - چھت
 بنانا۔ تخت بنانا۔ البتور - کنویں کے
 نیچے حصہ کو قد آدم پتھر سے بنا کر کڑی
 سے بنانا عَرَشًا و عُرُوشًا، الْكُرْمُ -
 انگور کی بیل کو ٹی پر چڑھانا۔
 عَرَشَ رَجُلٌ مِّنْ عُرُوشًا بِالْمَكَانِ - اقامت
 کرنا۔
 عَرَشَ رَجُلٌ مِّنْ عُرُوشًا مَغِيرًا -
 بغیر قبیلہ سخت پکڑنا۔ عَنَهُ - پھر جانا
 چھوڑ دینا۔

عُرُوشُ الْكُرْمِ - انگور کی بیل ٹی پر چڑھنا۔
 الْكُرْمُ - انگور کی بیل کو ٹی پر چڑھانا۔
 الْبَيْتُ - چھت بلند کرنا۔ الطائر -
 بلند ہو کر بازوؤں سے سایہ کرنا۔ و
 اَعْرَشَ، ٹی بنانا۔ سایہ کے لیے پھولداری
 بنانا۔
 تَعْرَشَ وَ تَعْرُوشَ - بالاصح - چٹا رہنا۔
 بِالْمَكَانِ ثَابِتًا رَهْنًا - تَعْرُوشُ الدَّابَّةِ
 سوار ہونا۔
 اِعْتَرَشَ، ٹی بنانا۔ سایہ کے لیے پھولداری
 بنانا۔ اِعْتَرَشَتِ الدَّوَابُّ اِلَى عَلِيٍّ
 الْخَشَبِ - انگور کی بیل چڑھانا، اور
 لُكَا نَادَ - وَاَعْرُوشَ، الدَّابَّةُ -
 سوار ہونا۔
 الْعَرِشُ - تخت شاہی۔ کسی چیز کا ستون کسی
 چیز کا قوام۔ کہتے ہیں: "قُلْتُ عَرِشُهُ"
 اس کی عزت جاتی رہی اور معاملہ کمزور
 پڑ گیا۔ الْعَرِشُ مِنَ الْبَيْتِ - چھت
 - مِنَ الْقَوْمِ - رئیس، سربراہ وہ کلمی
 جس سے کنویں کے اوپر کا حصہ بنایا جائے۔
 شامیانہ، نیمہ، مکان جس میں سایہ لیا
 جائے۔ محل، قدم کی پشت کا بلند حصہ۔
 کنویں کی مَن - عُرُوشُ الطَّائِرِ - گونسلا۔
 عُرُوشُ الْكُرْمِ - انگور کی ٹی۔ ج۔ عُرُوشٌ
 وَالْعَرِيشَةُ - پالکی۔
 عَرَصَ رَجُلٌ، عَرَصًا و عَرَصَ رَجُلٌ، عَرَصًا
 - الْبَرَقُ - بجلی کا پراگندہ ہو کر چمکانا۔
 صفت عَرَصٌ و عَرَصٌ - الرَّجُلُ
 خوش ہونا۔
 عَرَصَ - الْبَيْتُ - اونٹ کو سدھانا۔
 اللَّحْمَ - گوشت کو خشک کرنے کے
 واسطے میدان میں ڈالنا۔
 اَعْرَصَ - الشَّيْءُ - مضطرب ہونا۔
 تَعْرَصَ - بِالْمَكَانِ - اقامت کرنا۔
 اِعْتَرَصَ - الْفَلَامُ - کھیل کو کرنا۔ خوش

ہونا۔ الْجَدُّ - کھال پھڑکننا۔ الْبَرَقُ
 بجلی کا پراگندہ چمکانا۔ الرَّجُلُ - اچھلنا
 کودنا۔
 الْعَرَصَةُ - گھرا صحن۔ وہ جگہ جس میں کوئی
 عمارت نہ ہو۔ ج۔ عَرَاصٌ اَعْرَاصٌ
 عَرَصَاتٌ۔
 الْعَرَاصُ - بہت پراگندہ چکنے والی بجلی، گرج اور
 بجلی والا بادل۔ زم نیزہ۔
 الْمِعْرَاصُ - نیا چاند۔
 عَرَصَتْ عَرَصَةً - کھینچ کر لمبائی میں
 بھاڑ دیا۔
 الْعُرُوشُ وَالْعُرُوشُ - پالان کی میخ۔
 ج۔ عَوَاصِيفٌ - الْعُرُوشُ - پٹے
 کا کورڈا سونڈ کی زم بڑی۔
 الْعَرَصَةُ - بہت کھانے والا۔ خوش
 الْعَرَصَةُ - دبلا۔ مضبوط۔ قوی اشیر۔
 الْعَرَصَامُ وَالْعَرِيسَةُ -
 الْعَرُوشُ - بخیل۔
 عَرَضَ: مَن عَرَضَ الشَّيْءَ بِفُلَانٍ يَشِ
 كَرْنَا - اَمْسَى عَلَيْهِ - دکھانا۔ الْمَتَاعُ
 لِلْبَيْعِ - سامان کو فروخت کے لیے
 خریداروں کے سامنے پیش کرنا۔ الْجُنْدُ
 فَوْجٌ كَابِتٌ لِيْنَا - كَهْ مِنْ حَقِيْقَةٍ
 ثَوْبًا - حق کے بدلہ میں دینا۔ عَرَضَ كَهْ
 عَارِضٌ مِنَ الْحَثِي - بخار آنا۔
 الْقَوْمَ عَلَى السَّيْفِ - قوم کو تلوار سے
 مارنا۔ الْحَصِيْرُ - چٹائی پکھانا کہتے
 ہیں: عَرَضَ عَرَضًا و عَرَضَ خِلَابًا
 فُلَانٌ شَخْصًا كَيْ سِي جَالٍ جَالًا - لَا تَعْرِضْ
 عَرَضَ فُلَانٍ - برائی سے یاد نہ کرو۔
 عَرَضَ الرَّجُلُ - بغیر کسی بیماری یا
 سبب کے مرجانا۔ الْفَرَسُ - گھوڑا اور ٹرنے
 لگا۔ عَرَضَ لِي عَارِضٌ - کسی مانع کا
 پیش آنا۔
 عَرَضَ رَجُلٌ و عَرَضَ رَجُلٌ، عَرَضًا - ظاہر ہونا

اور عیضہ نہ رہنا۔

عَرَضَ رَعْنًا، عَرَضًا، عَرَضًا عَلَى الْإِنَاءِ۔

برتن پر رکھی کہ چٹائی میں رکھنا۔

عَرَضَ - مجھوں ہونا۔

عَرَضَ دُونَ عَرَضًا، کہ و مدینہ یا ان کے اطراف

میں جانا۔ الکتاب۔ زبانی پڑھنا۔

عَرَضَ رِكَ، عَرَضًا وَعَرَضَةً۔ چوڑا ہونا۔

مفت عَرَضًا وَعَرَضًا۔

عَرَضَ لَهُ، بہہ۔ تعریفیں کرنا۔ کسی پر ڈھال

کربان کنا۔ الشیء۔ چوڑا کرنا۔

الْمَتَاعَ، سامان کو سامان کے بدلے

فَوَضَّحَ كَرْنَا، الکتابت۔ مبہم کرنا۔

الْشَيْءَ لِلشَيْءِ، مقابل کرنا۔ کہتے ہیں۔

لَعَرَضَتْ مَالِكًا لِلْهَلَاكِ، تو نے

اپنے مال کو بربادی کے لیے پیش کر دیا۔

فَأَمِنَ مَالَهُ بَكَدًا، بدلہ دینا۔ فُلَانًا

عہدہ رائے والا ہونا۔

أَعْرَضَ - عَنْهُ، منہ موڑنا۔ الشیء۔ چوڑا کرنا۔

- الْمَسْأَلَةَ، طویل سوال کرنا۔ رَفِي

الْمَسْأَلَةَ، بہت فیاض ہونا۔ الْأَمْرُ

ظاہر ہونا۔ کہتے ہیں: عَرَضَتْهُ

فَأَعْرَضَ، میں نے اسے ظاہر کیا تو وہ

ظاہر ہو گیا۔ الثوب۔ چوڑا ہونا۔ کہتے

ہیں: أَعْرَضَ لَكَ الْخَيْرُ، تمہیں بھلائی

کی قسمت ہے۔ أَعْرَضَ لَكَ الْغَلِيظُ

فَأَوْعَاهُ، چرنی سامنے ہے تیرا رو۔

عَارِضَةٌ مُعَارِضَةٌ وَعَارِضَانِ، پھر جانا۔

یکسو ہونا۔ عَارِضُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ

کتاب کا کتاب سے مقابلہ کرنا۔ الرَّجُلُ

كَلَامَ بَرْنَقِصٍ وَارِدُ كَرْنَا، مقادمت کرنا۔

دوسرے کی طرح کام کرنا۔ كَأَنِّي

الْمَسِيرُ، پٹنے میں برابری کرنا۔ عَارِضُ

الرَّجُلِ، راہ میں ایک جانب ہوا۔ کہتے

ہیں: عَارِضَةٌ فَعَرَضَتْهُ، اس نے

معارضہ میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔

تَعَرَّضَ - الْأَمْرَ، لِلْأَمْرِ، إِلَى الْأَمْرِ۔

درپہ ہونا۔ طلب کرنا۔ الشیء۔ پیشگی

ہونا۔ ایک جانب کو ظاہر کرنا۔ فاسد

ہونا۔

تَعَارَضَ - الرَّجُلَانِ، ایک دوسرے سے

مقابلہ کرنا۔

رَاعَتْرَضَ - جَوْرَانِي فِي هُونَا - لَهُ، منع کرنا۔

الْبَعِيضُ، رِكْشِ اَوْنِطِ پَرَسَارِ هُونَا -

لَهُ، لِمَسْجِدِ، سَامَتِ اَكْرَتِيرِ مَارْنَا -

عَرَضَةٌ، عَيْبِ نَكَانَا، اَبْرُو كَطَانَا -

دَوْنِ الشَّيْءِ، حَامِلِ هُونَا، رُوكِ لِينَا -

الْقَائِدُ الْجُنْدِ، اِيك اِيك كَرَكِ پِيش

كَرْنَا - عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ اَوْ فَعَلِ -

اعراض کرنا۔ خطا کی طرف منسوب کرنا۔

الشَّيْءِ، مَكِيْفِ كَرْنَا، کہتے ہیں: عَرَضَةٌ

فَاعْتَرَضَ، اس نے پیش کیا، تو وہ

پیش ہوا۔

اِسْتَعْرَضَ - جَوْرَانِي پَرَسَارِ كَرْنَا - الشَّيْءِ،

پیش کرنے کو کہنا۔ ذ۔ کسی سے کہا کہ

جَوْرَانِي بِي دَكَاؤُ - الْقَوْمِ، بَغِيْرِ دِيَاْفَتِ

مَالِ قَتْلِ كَرْنَا، کہتے ہیں: اِسْتَعْرَضَ

يُحْيِي مَنْ اَقْبَلَ اَوْ اَدْبَرَ، بَغِيْرِ

سوال کے ہر آنے جانے والے کو دیتا

ہے۔

اِسْتَعْرَضَ الْعَرَبُ - جِنَّ عَرَبِ سِي جَابِرِ

دِيَاْفَتِ كَرْنَا -

الْعَرَضُ - اَسْبَابِ سَامَانِ، جَوْرَانِي

پھاڑ یا پہاڑ کا پہلو۔ بَرَا الشَّكْرَ، جَوْرَانِي

وَسَمْتِ، جَزْنِ، قَادِي، بَسْتِ طُرِيَانِ -

بَادِلِ - مِنْ اللَّيْلِ، رَاتِ كَا اِيك

عَصَ، جَوْرَانِي، جَوْرَانِي، اَعْرَاضِ

جَزَائِرِ اَكَادُونِ -

الْعَرَضُ، التَّجَا، كَدَارِشِ، کہتے ہیں: الشَّيْءِ

عَرَضَ عَيْنِي، چمیر میری نگاہ کے

سامنے ہے۔ اِسْتَعْرَضْتُ الْمَتَاعَ

بَعْرَيْنِ: سَامَانِ كُو سَامَانِ كِي بَدَلِي
خَرِيْدَا، وَعَرَضُ الْحَالِ عِنْدَ الْكُتَابِ
حَاكِمِ كُو دَر خَوَاسْتِ دِيْنَا، جَمْعِ كِي لِيَعِ
عَرَضُ الْأَحْوَالِ بُولْتِي هِي - اَعْرَاضُ
الْقَبِيْرِ، دَر خَتِ كِي پِنْكِيَاں -

الْعَرَضُ - اِيچِي خَصْلَتِ، عَزْتِ، بَاعِثِ عَزْتِ

فَخَرَجَ، اَعْرَاضُ، کہتے ہیں: هُوَ

نَقِي الْعَرَضُ، وَهُ عَيْبِ اَوْر كَالِ كَلُوْرَجِ

سِي پَاكِ هِي وَذُو الْعَرَضِ مِنْ الْقَوْمِ

اَشْرَافِ قَوْمِ سِي هِي - " هُوَ عَرَضٌ "

الْعَرَضُ، وَهُ خَاذِنِ كَا كِيْنِي سِي -

الْعَرَضُ، نَفْسِ، کہتے ہیں: اَكْرَمْتُ

عَنْهُ عَرَضِي، يِيْمَانِي سِي اِسِي سِي اِسِي

نَفْسِ كُو پِچَا پِچَا، جِسْمِ، جِسْمِ كِي بُو، مَسَامَاتِ

وَادِي، شَهْرِ كَا كِنَارِهِ، وَهُ وَادِي جِسْمِ

دَر خَتِ پَانِي اَوْر اَبَادِي هُو، جَوْرَانِي،

بَسْتِ طُرِيَاں، بَرَا الشَّكْرِ، بَرَا اَبَادِلِ -

الْعَرَضُ مِنْ النَّاسِ، يِي هُو دَكِ سِي

پِيش آنِي وَاَلَا -

الْعَرَضُ - جَانِبِ، سَنَارِهِ، دَامِنِ كُوهِ - مِنْ

الْبَحْرِ اَو النَّهْرِ، سَمْنَرِيَا دَر يَا كَا بِيْجِ -

- مِنْ الْحَدِيْثِ، بَسْتِ اَوْر بَرِي بَاتِ

- مِنْ السِّيْفِ اَو الْعُنُقِ، تَلَوْرِيَا كِي

كِي اِيكِ جَانِبِ، کہتے ہیں: نَظَرِ اِيْهِ

عَنْ عَرَضٍ وَكَلِمَةٍ عَنْ عَرَضٍ، كُو شَرِ

چشم سے دیکھا اور ایک جانب ہو کر

بَاتِ كِي - حَرَجُوْ اِيْهِ يَبْرُوْنَ النَّاسِ

عَنْ عَرَضٍ، نَكْلِ كَرْمَارِنَا شَرُوْعِ كُو دِيَا اَوْر

پَرَوَاهِ نَكِي كِي كَسِ كُو مَار سِي هِي، اَوْر

كِيُوْلِ مَار سِي هِي، اِيْضِيْبِيْهِ عَرَضٍ

الْحَائِطِ، دِيَا رَكِي اِيكِ كُو شَرِ

پِيْنِكِ دُو اَوْر اَعْرَاضِ كَرُو - هُو مِنْ

عَرَضِ النَّاسِ، وَهُ مَعْمُوْلِي لُوْگُوْلِ

سِي هِي -

الْعَرَضُ، مَتَاعِ، سَامَانِ، عَارِضَةٍ، غَيْرِ دَامِنِي -

عُرُوفٌ - الرجلُ - بظہیل میں پھوٹا ہونا۔ صفت
مَعْرُوفٌ۔
عُرُوفُ الشَّيْءِ - خوشبو دار کرنا۔
عُرُوفَةُ الْأَمْرِ - واقف کرانا۔
عُرُوفُهُ - يَفْلَانُ - تعارف کرانا۔ عُرُوفٌ
لِلطَّائِلَةِ - گم شدہ چیز کو ڈھونڈنا۔
الطَّعَامُ - سالن زیادہ کرنا۔ الإِسْمُ
نکرہ کو معرف بنانا۔ الحُجَّابُ - حجابوں
کا عرف میں ٹھنڈا۔ وَاَعْرُوفٌ -
فَلَانًا - خطا پر مطلع کرنا اور معاف کرنا۔
اَعْرُوفُ الْفَرَسِ - گھوڑے کا لہجہ
ایال والا ہونا۔
تَعْرَفَ - الإِسْمُ - نکرہ کا معرف بننا۔
الشَّيْءِ - طلب کرنے کے بعد پہچان لینا۔
الصَّالَةَ - گمشدہ کو تلاش کرنا۔ يَفْلَانُ
آشنا ہونا۔ ایہ - واقف کرنا۔
تَعَارَفَ الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو پہچاننا۔
رَاعَتْهُ - بِالشَّيْءِ - اقرار کرنا۔ ذیل ہونا۔
تَابَعْدَارُ هُونًا - الشَّيْءِ - پہچاننا۔ بہ۔
رَهْنَانِي كَرْنَا - الرَّجُلُ - دریافت کرنا۔
إِيَهُ نَامٍ أَوْ حَالٍ كِي إِطَارَعُ كَرْنَا -
لِلْأَمْرِ - مبر کرنا۔ الصَّالَةَ - ملکیت
ظاہر کرنے کے لیے اس کے اوصاف بتانا۔
اِسْتَعْرَفَ - الشَّيْءِ - پہچاننا۔ اِنِّي فُلَانٍ
واقفیت کے لیے نسبت بیان کرنا۔
اِعْرُوفَ - لِلشَّيْءِ - بات کے لیے آمادہ
ہونا۔ الْفَرَسِ - گھوڑے کا ایال والا ہونا
- الْبَحْرُ - سمندر کی موجیں بلند ہونا۔
الْمَنْحَلُ - درخت خرما کا گنجان ہونا۔
الدَّمُ - خون جھاگ والا ہونا۔ الرَّايِبُ
الْفَرَسِ - گھوڑے کی ایال پر سوار ہونا۔
الرَّجُلُ - درخت خرما پر چڑھنا۔
العُرُوفُ - بُرُ - اکثر اس کا استعمال خوشبو کے
لیے ہوتا ہے کہتے ہیں: مَا أَطْيَبَ عُرُوفُهُ
اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے۔

العُرُوفُ - بَخَش - بھلائی، عطیہ، اقرار۔ کہتے
ہیں: لَمَّا عَلِيَ الْفَتْ عُرُوفًا - میرے
اوپر اس کے ہزار احسان ہیں۔ مجھے اس کا
اقرار ہے۔ ایال، مرغ کی کلغی۔ نیکی۔
العُرُوفُ - مَوْج، اوبھی جگہ، آگے پیچھے کہتے
ہیں: جَاءَ الْقَوْمُ عُرُوفًا - قوم آگے
پیچھے آئی۔ جہ۔ عُرُوفٌ وَاعْرُوفٌ -
العُرُوفُ - اصطلاح تسلیم شدہ باتیں۔
عُرُوفُ اللِّسَانِ - اصطلاح لغوی۔
عُرُوفُ الشَّرِيحِ - اصطلاح شرعی۔
العُرُوفُ وَالْعُرُوفُ - مبر۔
العُرُوفُ - ایال، ریت کی اوبھی جگہ۔
العُرُوفَةُ - ہوا، بھیل کا زخم۔ وَالْعُرُوفَةُ
دریافت سوال۔
العُرُوفَةُ - دو چیزوں کی درمیانی حد۔ ریت
کی اوبھی جگہ۔ جہ۔ عُرُوفٌ -
عُرُوفَةُ - مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام۔
نویں ذمی الحجہ۔
عُرُوفَاتٌ - مکہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک
پہاڑی جو حاجیوں کے لیے نویں تاریخ ذی
الحجہ میں وقوف کرنے کی جگہ ہے نسبت
کے لیے عُرُوفِيٌّ آتا ہے۔
العُرُوفَةُ - پیشہ نجوم۔
العُرُوفُ - نجومی، طیب۔
العُرُوفَانُ - مہ۔ معروف۔
العُرُوفَانُ وَالْعُرُوفَانُ - اقرار کرنے والا۔
بتلنے والا۔
الإِهْرَافُ - مہ۔ پادری کے سامنے اقرار
گناہ کرنا۔
العَارِفُ - فا۔ مبر کرنے والا۔ کہتے ہیں۔
هَذَا أَمْرٌ عَارِفٌ - یعنی معروف ہے
العَارِفَةُ - مُؤَنَّثٌ عَارِفٌ - معروف۔
عطیہ۔ جہ۔ عُرُوفٌ -
العُرُوفُ - عَارِفٌ - مبر کرنے والا۔ جہ۔
عُرُوفٌ -

العُرُوفَةُ - جاننے والا۔ عالم۔
العُرُوفُ - جاننے والا۔ عالم۔ اپنے ساتھیوں
کا تعارف کرانے والا۔ قوم کے معاملات
کی دیکھ بھال کرنے والا۔ نقیب، اور یہ
رئیس سے چھوٹا ہوتا ہے، اسی سے ہے۔
عُرُوفُ الْمَكَاتِبِ - مائیز۔ جہ۔ عُرُوفًا
أَمْرٌ عُرُوفٌ - امر معروف۔
الأَعْرُوفُ - اسم تفضیل کلغی والا۔ ایال والا۔
حَزْنٌ أَعْرُوفٌ - بلند جگہ۔
العُرُوفَةُ - مُؤَنَّثٌ أَعْرُوفٌ - بجز۔ قُلَّةٌ
عُرُوفًا - بلند چوٹی۔ جہ۔ عُرُوفٌ -
الأَعْرُوفُ - بہشت و جہنم کے درمیان ایک
مقام ہے، ایک قسم کی کھجور کا پیڑ۔
أَعْرُوفُ الْيُوسُفَ وَالسَّحَابِ - ابتدائی
ہوائیں، بلند بادل۔ أَعْرُوفُ الْحِجَابِ
اَو التَّوَعِيلِ - حجاب اور ریت کی بلندیاں
- الأَعْرُوفُ - کلام پاک کی ایک سُوْرَةُ
کا نام ہے۔
المَعْرُوفَةُ - حقیقت کو پالینا۔
المَعْرُوفُ وَالْمَعْرُوفُ - چہرہ۔ چہرے کے
محاسن۔ جہ۔ مَعَارِفٌ - کہتے ہیں: هُمْ
عُرُوفُ الْمَعَارِفِ شَمُّ الْمَدَاعِفِ وَه
روشن چہرے اور اوبھی ناک والے ہیں
- المَعَارِفُ - علوم۔
مَعَارِفُ الرَّجُلِ - شناسا لوگ۔ کہتے ہیں
”هُوَ مِنْ الْمَعَارِفِ“ - وہ مشہور
لوگوں سے ہے۔
المَعْرُوفَةُ - ایال کے اُگنے کی جگہ۔ جہ۔
مَعَارِفٌ -
المَعْرُوفُ - مغم مشہور، غیر رزق۔ احسان
ارضِ مَعْرُوفَةٍ - اچھی بو والی زمین۔
العُرُوفُ - ایک درخت جو زم زمین میں اگتا
ہے۔ جہ۔ عُرُوفٌ -
العُرُوفُ - وہ ریت جس میں ماہ نہ ہو۔
عُرُوقٌ دَنٌ، عُرُوقٌ وَمَعْرُوقٌ - العَطْمُ -

بڑی کے اوپر سے سارا گوشت کھاجانا
کہتے ہیں: "عَرَقَتْهُ الْخُطُوبُ"
مصائب نے اس کو چاروں طرف سے
گھیر لیا۔ الطریق مسافت طے کرنا
در عَرَقًا وَعَرُوقًا، فی الارض۔

سفر کرنا

عَرَقَ عَرَقًا - دہلا ہونا، کم گوشت ہونا۔
عَرَقَ دَس، عَرَقًا - پسینہ آنا، صفت۔ عَرَقًا
- الحَائِظُ - دیوار تر ہونا۔ الرَّجُلُ
کابل ہونا۔

عَرَقَ - پسینہ لانا۔ عَرَقَ وَاعْرَقَ -
الشَّجَرُ - لمبی جڑ والا ہونا۔ عَرَقَ وَ
اعْرَقَ الخَلْوُ - شراب میں تھوڑا سا
پانی ملانا۔ عَرَقَ وَاعْرَقَ الْإِنَاءُ -
برتن میں تھوڑا پانی ڈالنا۔ اعْرَقَ
الرَّجُلُ - عراق کی طرف ہونا۔ خاندانی
شریف ہونا۔

اعْتَرَقَ الشَّجَرُ - لمبی جڑ والا ہونا۔
العُظْمُ - بڑی کا گوشت سب کھالینا۔
- القَوْمُ - عراق کی طرف جانا۔ کہتے ہیں
تَعَرَّقَتْهُ الْخُطُوبُ - مصائب نے
اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔

اسْتَعْرَقَ - پسینہ لینے کے لیے گرمی کے درپے
ہونا۔ الشَّجَرُ - لمبی جڑ والا ہونا۔
العَرَقُ - بڑی جس سے گوشت اتار لیا گیا ہو۔
ج۔ عَرَقًا وَعَرُوقًا -

العَرَقُ - اصل - مِنَ الْبَدَنِ - رگ۔
دشوار گزار پہاڑ۔ چھوٹا پہاڑ تھوڑا پانی۔
شور زمین۔ دودھ، اولاد کثیر، ریت کی
باریک اور لمبی دھاری۔ ج۔ عَرُوقًا وَ
اعْرَاقًا وَعَرِاقًا - ذَا عَرُوقٍ
القَسَاوِ - درد کی ایک قسم جو ان سے
شروع ہو کر گھٹنے یا قدم تک پہنچتا ہے۔
العَرُوقُ - منہ، پسینہ۔ دیوار کی تری، دودھ
چھنکے، گوند سے کھینچ کر تخن میں پہنچتا ہے

دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھروں کی قطار۔
عمام سے مد کا لگتے ہیں۔ پہاڑ
کے راستے ایک قطار میں انٹوں کے
چلنے کے نشان۔ دوڑ۔ کہتے ہیں۔

"جَوْرِي الْفَرَسِ عَرَقًا أَوْ عَرُوقِينَ"
گھوڑا ایک یا دو مرتبہ دوڑا۔ مِنَ
التَّمْوِي كَجَوْرِكَ رَس - عَرَقُ الْخِلَالِ -

دوست کا عطیہ۔ عرق کا استعمال شراب
کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں: "لَقِيْتُ
مِنْهُ عَرَقَ الْقُرْبَةِ وَتَجَشَّمْتُ
بِالْيَدِ عَرَقَ الْقُرْبَةِ" - شدت اور
مشقت سے کنایہ کرتے ہیں مطلب یہ
کہ میں نے ایسی مشقت اٹھائی، جیسے
مٹک کا اٹھانے والا اٹھاتا ہے کہ اس کو
برجھک وجہ سے پسینہ آجاتا ہے۔

العَرُوقِيَّةُ - عامہ اور ٹوپی کے نیچے کا کپڑا۔
العَرَقُ وَالْعَرُوقَةُ - بہت پسینہ والا۔
العَرُوقَةُ - اسم مرہ - گوشت کا ٹکڑا، پہاڑی
راستہ۔

العَرُوقَةُ - اصل۔ درخت کی جڑ کا ریشہ۔ ج
عَرَقٌ وَعَرَقَاتٌ -
العَرِقَاتُ وَالْعَرِقَاتُ - اصل۔ درخت کی
جڑ کا ریشہ۔

العَرِقَاتُ وَالْعَرِقَاتُ - ڈول کے منہ کی
کڑی۔ ج۔ العَرِاقِيَّةُ -
العَرُوقَةُ - دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھروں کی قطار
گھوڑوں یا پرندوں کی قطار۔ شہتیر۔ دھنی،
خیمہ کے ارد گرد کا پھندا۔ ج۔ عَرَقٌ وَ
عَرَقَاتٌ -

العَرِيقُ وَالْمَعْرُوقُ - شرافت خاندان، کہینہ
ہن۔ غلام، عَرِيقٌ - دہلا لاکا۔ و
الاعْرَاقِيَّةُ صاحب اصل۔ کہتے ہیں۔
"هُوَ عَرَقٌ وَمَنْكَ فِي كَذَا" وہ تم
سے زیادہ فلاں چیز میں صاحب اصل ہے۔
العَرِاقُ - طول میں سمندر کا کنارہ۔ پکا جوف

- مِنَ الدَّارِ - گھر کا صحن۔ مِنَ الظُّفْرِ
ناخن کے آس پاس کا گوشت۔ مِنَ
الأذُنِ - کان کا گھیرا۔ مِنَ النَّهْرِ -
ندی کا کنارہ۔ ج۔ اعْرُوقًا، عَرَقٌ،
عَرُوقٌ - والعَرِاقُ - ملک عراق جو
عبادین سے مومل تک طولاً اور قادیسیہ
سے حلوان تک عرضاً ہے۔ العَرِاقَانِ -
کوفہ، بصرہ۔

العَرِاقُ - وہ بڑی جس کا گوشت کھالیا گیا
ہو، کثیر بالان۔ عَرِاقُ الذَّنَبِ -
روئیدگی بارش کے بعد کی۔

العَرِاقَةُ - کثیر بارش۔
العَوَارِقُ - وارطیں۔
المَعْرُوقُ - وہ چیز جس سے بڑی کا گوشت
اتاریں۔ پھری وغیرہ۔

رَجُلٌ مَعْرُوقٌ وَمَعْرُوقُ الْعِظَامِ - دُبلہ۔
عَرُوقٌ - الرَّجُلُ - حیلہ کرنا۔ الدَّائِبَةُ -
کو بچیں کاٹنا۔ کھڑا کرنے کے لیے کو بچیں
اٹھانا۔

تَعَرَّقَ - حیلہ کرنا، عَرُوقٌ کے مانند ہونا۔
عَنِ الْأَمْوِ - باند بننا۔ پہاڑی کی تنگ
راہوں میں چلنا۔ لِيَخْفِيَهِ - دشمن کے
لیے مخفی طریقاً اختیار کرنا۔

العَرُوقِيَّةُ - کوچ، ایڑی کے اوپر کا پٹھا۔
وادئ کا موڑ، پہاڑی راہ۔ حیلہ۔ ج۔
عَرِاقِيَّةٌ - عَرِاقِيَّةٌ الْأَمْوِ - مشکل
کام، عَرُوقٌ ایک شخص کا نام ہے جو جھوٹ
اور دودھ خانی میں مشہور تھا۔

عَرَقَ الْغَلَامُ - لڑکے کا ناچنا، عَرَقَتْ
الْحَيَّةُ - سانپ کا رینگنا۔
عَرَقَلٌ - توسط سے ہٹ جانا۔ الْأَمْوِ -
دشوار کر دینا۔ علیہ (الکلام) بیڑھا کرنا۔
تَعَرَقَلٌ - الامور پیچیدہ ہونا۔ الْكَلَامُ -
بیڑھا ہونا۔

العَرِقَاتُ - گراہ کے رو۔

العرقيل - انڈے کی زردی۔
العواقین - مصیبتیں، عواقیل الامور و شواہد
معاظت -

العرقالی - نازکی پال۔
عرك دن، عركا - الودیعہ - چڑے کو ملنا۔
- ة الدھر - زمانے کا کسی کو تجربہ کار
بنادینا۔ الشیء - رگڑتے رگڑتے مٹا
دینا۔ المائشیة للنبات - جانور کا ساری
نباتات کو کھا جانا۔ المائشیة الارض
چارے سے خالی کر دینا۔ عوگا و
عواگا، عوگا (المواقة) - عمدت کا
خالقہ ہونا کہتے ہیں: عوکی الادیبی
یعنی: اس نے مشقت اٹھائی۔
عوک دس، عوگا - سخت گلہ آور ہونا۔
صفت عوکی۔

عارکة معارکة و عواگا - مقابلہ کرنا۔
مزاحمت کرنا کہتے ہیں: "أوردوا ہلکة"
عواگا - سارے اونٹوں کو پانی پر لایا۔
تعوکی - الشیء - مل جانا۔

تعارک الرجلان - ایک دوسرے کے
ساتھ مقابلہ کرنا۔
اعوگوا - آپس میں جنگ کرنا۔ اعترک
الناس فی المعركة او بالخصوص
لوگوں کا میدان جنگ میں قتل و قتل کے
لیے تل پڑنا۔ الابل فی العدو -

ادھن کا گھاٹ پر بیٹھ کرنا۔ التبحان
فی الحرب - ابوہ کرنا اور ایک
دوسرے کو رگڑنا۔
العیرک و العوکی - آواز۔
العوکی - مچھلی کا فکاری۔ عوکی -

جیر۔ عوکی۔
العوکیہ - بار بار کہتے ہیں: "لیقینتہ
عوکیہ و عوکیات"
العوکیہ - مشقت برداشت کرنے والا۔
العویکیہ - کو بان، نفس، طبیعت، عادت

کہتے ہیں: فلان لیت العویکیہ - یعنی
نم خوب ہے۔ "هو شیدید العویکیہ" وہ
سخت مزاج ہے۔ عوکی -

المعرك و المعركة و المعركة - میدان
جنگ۔ عوکی -

المعترک - میدان جنگ۔ معترک المنايا -
ساتھ ستر کے درمیان انسانی عمر۔
المعاریک - جنگجو، سخت گلہ آور۔

المعروک - مفع۔ ماء معروک - جہاں
بیٹھ ہو۔ ارض معروکة - جس زمین کو
جانوروں نے چر کر صاف کر دیا ہو۔

رمل معروک و عویک - جمع شدہ
ریت، ایک دوسرے میں داخل۔
عوکس - الشیء - تہ برتہ ہونا۔ العویء -

تہ برتہ کرنا۔
بعوکنس - جمع ہونا اور تہ برتہ ہونا۔
الشعور بال سخت کالے ہونا۔

عوم دن من، عوما - العظم - ہڈی
سے گوشت اتارنا۔ العوی امة -

بچے کا ماں کا دودھ پینا۔ الابل الشجر -
اونٹ کا درخت کے پتے کھانا۔ فلانا -
تکلیف پہنچانا۔

عوم دن من، عوما ماد عوم دس و عوم
دک، عوامہ - خرید ہونا۔ شوخ ہونا۔
خوش ہونا۔ بذلق ہونا۔ خواب ہونا۔

صفت عوم و عواریم۔
عوم - الشیء - قلمط کرنا۔
عوم - بے گناہ پر سخت لگانا۔

لعوم - العظم - ہڈی سے گوشت اتارنا۔
کلیتاً - بہت زیادہ خوش ہونا اور ادا کرنا۔
اعوم الفریس - گھڑے کا دودھ و قدم

رکھنا۔ من زور ہونا۔ العوی قندی
أوبہ - بچے کا ماں کے پستان کو چوسنا۔
العایم - فا۔ بخلق موزی۔ عومہ -

موت عایمہ - جو۔ عوایم و
عاریمات - یوم عایم - نہایت
مٹھادون۔
العوم - چکناہٹ۔
العوم و العومہ - سیاہی سپیدی ملی ہوئی۔
چھوٹے چھوٹے سیاہ سپید نقطے بکری کے
ہونٹ کی سپیدی، ایسی بکری کو عوماء
اور بکریے کو اوم کہتے ہیں۔ و العومہ
گیہوں کا ڈھیر جو دائیں چلانے کے بعد
بھوسہ نکالنے کے لیے جمع کیا جاوے۔
العومہ - کھانے کی بو۔ العوم - ہانڈی کا میل۔
العومہ - وہ پشتہ جو وادی کے عرض میں ہو۔ جو
عوم یا عوم۔ کا لفظ ایسی جمع ہے جس کا
کوئی واحد نہیں۔ العوم - زہرا۔ شدید
بارش، وادی، وادی کے پشتے۔
العوم - سنگ خوار پرند کا انڈا۔
العوم - من الجیش - نوح کی تیزی و کثرت
- من الرجل - بذلق کہتے ہیں: "بہ
شوخ و عوم" اس میں تیزی اور بذلق
ہے۔ ہانڈی کا میل۔
العویہ - مصیبت۔ جو۔ عوما -
الاعوم - رنگ رنگ، غیر مستقل۔ ریوڑ بیٹریا
بکری کا۔ غیر محزون۔ جو۔ عوما، جیر
عوامین۔
العوماء - مؤنث اعوم - چچی دار سانپ۔
العوموم - سخت۔ بے شمار شکر۔
العومس - چٹان۔ مضبوط اوستی۔
العومس و العوماس - کان۔
عوت دن من، عوتا - السهم - تیروں
کو ترتیب سے رکھنا۔ علی الشیء -
کسی چیز کا عادی ہونا۔ العویز - اونٹ
کی ناک میں کڑی ڈالنا۔
عوت دس، عوتا - الدابة - گھڑے کی
بیاری لگنا۔ صفت پرانے مذکر عوت۔ و
برائے مؤنث عوت عوتہ - ر۔
عدانا، گھروں پر ہوا۔

عَرَنَ - التَّمَحُّ - تیزے میں میخ لگانا
أَعَوَّنَ الرَّجُلُ - ہمیشہ گوشت کھانا۔
العَرَنُ - مہم۔ پکا گوشت، دھواں۔

العَرْنُ والعَرَانُ والعَوْنَةُ - وہ بیماری جس
میں جانور کے پھلے پاؤں کے بال گر جاتے
ہیں۔ جانور کے پاؤں کا پھٹنا۔
العَرَانُ - وہ لکڑی جو اونٹ کے ناک میں
ڈالی جائے۔ دوری، بجو کا بھٹ، تیزے
کی میخ، بسمہ، جنگ۔

العَوْنُ - صحن، جھاڑی، گوشت، آواز، شہیر
دیگرہ کا پھاڑا ہوا، عزت۔ جر۔ عَوْنٌ -
د۔ والعَرِينَةُ شہیر، بجو اور بھیرے کی
جھاڑی، سانپ کی لمبی

العَرِينُ - ناک، ناک کا سخت حصہ، سردار۔
- مین کھل شعی۔ ہر چیز کا پہلا حصہ۔ جر۔
عَرَانِينُ -

العَرْنَسُ - پہاڑ کا نکلا ہوا حصہ۔ ایک پرندہ
کبوتر کے مانند۔ لکڑی یا لوسے کا ٹکڑا۔

جس میں کاتنے والی روٹی کے گالے کو
لپیٹ کر کاتتی ہے، جوار کا بھٹ، عام لوگ
عَرْنُوسُ کہتے ہیں۔ جر۔ عَرَانِينُ -

عَرَا يَعْرُو عَرْوًا - فَلَانًا أَمْرًا - پیش آنا۔
فَلَانًا - عطیہ مانگنے کے لیے ارادہ کرنا۔
صفت فاعلی عَارٍ اور مفعول مَعْرُو -

القَمِيصُ - کاج بنایا۔ وعَرِي، بخار
کی سردی لگی۔ صفت عَارٍ - جر۔ عَرَاةٌ
مَعْرُوَةٌ - اور عَرِي الرَّجُلُ - خوف
سے کپکپانا۔

أَعْرَى وعَرِي - القَمِيصُ - کڑتے میں
کاج بنانا۔ أَعْرَى صَاحِبَةٌ - چھوڑ دینا۔
لَعْرَى لَعْرَاءً - فَلَانًا عطیہ مانگنے کے
لیے جانا۔ لَعْرَاءُ أَمْرًا - لاحق ہونا۔

العَرُو - گوشہ، وہ شخص جو معاملات کا
اہتمام نہ کرے۔ لوگوں کا گروہ۔ جر۔
أَعْرَاءٌ - کہتے ہیں: أَنَا عَرُوٌّ مِمَّنْ كَذَابٌ

میں فلاں چیز سے خالی ہوں۔ دھما
أَعْرَاءٌ مِنَ النَّاسِ - اس کے ساتھ
گروہ ہے۔

العَرَوَاءُ - بخار کی سردی۔
العَرُوَّةُ - مِنَ الْإِبْرِيْقِ وَتَحْوِبُ - جھاگل
اور لوٹے کا دستہ۔

العَرُوَّةُ والعَرِي والعَرِي - کاج
مَعْرُوَّةٌ - گنجان درخت، وہ درخت جس
کے پتے جاڑے میں نہ گریں۔ نفیس مال۔

قابل اعتماد چیز۔ کہتے ہیں: أَنَا عَرُوَّةٌ
هِنَّةٌ - میں اس سے خالی ہوں۔ أَلْقَى
إِلَيْهِ الْعَرِي - اس نے فلاں کو معاملہ
سپرد کر دیا۔

عَرِي يَعْرَى عَرِيَةً وَعَرِيًا - مِمَّنْ تَبَايَه
ننگا ہونا۔ صفت عَارٍ وَعَرِيَانُ - جر۔
عَرَاةٌ - مَوْنُ عَارِيَةٍ وَعَرِيَانَةٌ -

جر۔ عَوَارٍ وَعَارِيَاتٌ - عَرِيٌّ مِمَّنْ
العَيْبِ وَغَيْرِهِ - عَيْبٌ وَغَيْرِهِ سِ
پاک ہونا۔ صفت عَيْرٍ - د۔ عَرِيٌّ
الْبَيْلَةُ - رات ٹھنڈی ہونا۔

عَرَاةٌ يَعْرِيهِ عَرِيًا - الْأَمْرُ - پیش آنا۔
عَرِيٌّ تَعْرِيَةً - الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَمِمَّنْ
الثَّوْبَ - ننگا کرنا۔ ةٌ مِنَ الْأَمْرِ -

علحدہ کرنا۔ چھڑ لینا۔ الرَّجُلُ - بیکار
کر دینا، چھوڑ دینا۔ الشَّيْءُ - دستہ لگانا۔
کہتے ہیں: عَرَاةٌ بَعْرِيٌّ وَثِيْقَةٌ -
مضبوط دستہ لگایا۔

أَعْرَى لَعْرَاءً - الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَمِمَّنْ
الثَّوْبَ - ننگا کرنا۔ کپڑے اتار لینا۔
فَلَانًا النَّخْلَةَ - ایک سال کے لیے

پھل بہہ کرنا۔ فَلَانًا صَدِيقَةً - دور
ہونا اور مدد نہ کرنا۔ الرَّجُلُ - رات
کی ٹھنڈ لگنا۔ کھلے میدان میں چلنا۔ یا
اقامت کرنا۔

تَعْرَى تَعْرِيًا - مِمَّنْ تَبَايَه - کپڑے اتار

لینا۔ ننگا ہونا۔

أَعْرَوِي لَعْرِيًا - تہنا سفر کرنا۔ الفروس
ننگی پیٹھ سوار ہونا۔ أَمْرًا قَبِيْحًا -
براکام کرنا۔

العَرِي - گوشہ، میدان، سردی۔
العَرَاءُ - کھلا میدان۔ جر۔ أَعْرَاءٌ -
العَرَاةُ - میدان، مکان کا صحن، سردی کی

شدت۔
فروس عَرِيٌّ - ننگی پیٹھ والا گھوڑا۔ بغیر زین کا
گھوڑا۔ جر۔ أَعْرَاءٌ -

الأَعْرَاءُ - آزاد۔ بے پرواہ۔ واحد عَرِيٌّ -
العَرِيَّةُ والعَرِيَّةُ - ننگاپن۔
العَارِيَّةُ - ادھار چیز۔

العَرِيَانُ - ننگا۔ عَرِيَانُ النَّجِي - جو اپنے
بھید کو نہ چھپائے۔
العَرِيٌّ - ٹھنڈی ہوا۔

العَرِيَّةُ - ٹھنڈی ہوا، کھجور کا درخت جس کا
پھل کھالیا گیا ہو۔ کھجور کا درخت جس
کے مالک نے دوسرے کو پھل کھانے کے

لیے دے دیا ہو۔ جر۔ عَرَايَا - کہتے ہیں۔
تَخَلَّصُوا عَرَايَا - ان کے کھجور کے درخت
بہرہ شدہ ہیں، وہ سخاوت کی بنا پر دوسروں

کو دے دیتے ہیں۔
التَّعْرِي أَوِ التَّعْرَاةُ - ننگاپن، بدن کا وہ
حصہ جو کپڑوں سے نہ چھپا یا چھپانے سے

ہاتھ چہرہ وغیرہ۔ جر۔ مَعْرَاةُ - التَّعْرِي
بہرہ مقامات۔ بچھو۔

عَرَدَ مَنْ، عَرَا وَعَرَاةٌ وَعَرَاةٌ - عَرِيٌّ مِمَّنْ
قوی ہونا، کمزور ہونا۔ الشَّيْءُ - قلیل ہونا
کم یاب ہونا۔ دشوار ہونا۔ المَاءُ - بنا۔

عَرَا عَلَيْهِ عَرَاةٌ كَرِيمٌ هُوَ - کہتے ہیں۔
عَرَا عَلَى أَنْ تَفْعَلَ - مجھے گراں ہے
کہ تم ایسا کرو۔

عَرَاةٌ دَنٌ عَرَاةٌ - قوی کرنا۔ عسرت کی
کوشش میں غالب کرنا۔

<p>عزف کرنا۔ مدد کرنا۔ عزت کرنا۔ معزز بنانا۔ عازرہ معانہ۔ حصول عزت میں مقابلہ کرنا۔ گفتگو میں غالب بنانا۔ اعزہ اعزاز۔ عزیز بنانا۔ محبت کرنا۔ اعزبت البقرہ۔ وضع حل و شوار ہونا۔ کہتے ہیں: اعزبت ہما اصابت۔ جو کچھ تم پر گزری، مجھے اس سے تکلیف ہوئی۔ اعزت قوی ہونا۔ بہ۔ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا۔ فخر کرنا۔ علی فلان۔ بزرگی جتانا۔ غالب آنا۔ تعزت قوی ہونا۔ بہ۔ فخر کرنا۔ لحمۃ سخت اور محسوس ہونا۔ استعز۔ علیہ سختی کرنا۔ غالب ہونا۔ اللہ یفلان۔ مار دینا۔ کہتے ہیں۔ یستعز بھقی۔ وہ میرے اوپر غالب آگیا۔ استعز یعیل۔ بیاری کا بڑھنا اور اس کی عقل پر غالب آجانا۔ العز۔ عزت۔ سخت بارش۔ رجل عز۔ قوی، کہتے ہیں: جئ بہ عزا بلا۔ جس طرح ہو سکے لے آؤ۔ العزۃ۔ برن کا مادہ کچھ۔ العزۃ۔ مقابلہ، حصول عزت میں غالب آنا غیرت۔ العزیز۔ شریف، قوی، نادر، معزز۔ وہ بادشاہ جس کا حصول دشوار ہو اور کسی سے مغلوب نہ ہو سکے، نہ کوئی اسے عاجز کر سکے اور اس جیسا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے اسمائے صغیر میں سے ہے۔ جو عزاز و عزا و اعزۃ۔ معرکے حاکم کا لقب۔ الاعز۔ اسم تفضیل۔ عزیز۔ العزی۔ عزیزہ، شریفہ، اعز کا مؤنث۔ ایک قریشی بت کا نام۔ العزاء۔ سختی، سخت سال۔ بڑی ہندسکی</p>	<p>بارش۔ المعزاز۔ سخت مرضی والا۔ المعزوزۃ۔ سختی۔ وہ زمین جس پر سخت بارش ہوئی ہو۔ عزب دن، عزبۃ و عزوبۃ۔ بے شوہر کے ہونا۔ مجبور ہونا۔ عزب دن (رض) دور ہونا۔ غائب ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔ صفت عازب۔ عزبت الارض۔ زمین ویران ہونا۔ عزب۔ دیر تک غائب رہنا۔ شروع کیے ہمے کو چھوڑ دینا۔ اعزب۔ دور ہونا۔ دور کرنا۔ بے شوہر کر دینا۔ تعزب۔ مجبور ہونے کے بعد گھر آباد ہونا۔ العازب۔ فا۔ دور کی چراگاہ۔ العازبۃ۔ مؤنث عازب۔ بیوی۔ ج۔ عواذب۔ العزب۔ وہ مرد یا عورت جس کا بھڑانا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ مرد کے لیے عزب، اور عورت کے لیے عزبۃ آتا ہے۔ ج۔ عزاب و اعزاب۔ الاعزب۔ جس کے اہل و عیال نہ ہوں۔ وہ شخص جو اپنے مال اور اہل و عیال سے دور ہو۔ مؤنث عزبۃ۔ ج۔ عزب المعزبۃ۔ باندی، لوطی رہ۔ والمعزبۃ، بیوی۔ المعزاب والمعزبۃ۔ جو شخص اپنے جانوروں کو پر لٹھوڑے جائے۔ المعزبۃ۔ جس کے اہل و عیال نہ ہوں، جو دیر تک کنوار رہے۔ عزب دن، عزبجا۔ الرجل۔ دفع کرنا۔ الارض بالمسحاق۔ نیچے سے زمین کو الٹ پلٹ کرنا۔ جاع کرنا۔ عزب دن، عزب۔ جاع کرنا۔ عزبہ رض، عزب۔ ملامت کرنا۔ مدد کرنا۔</p>	<p>جاع کرنا۔ ع عن کذا۔ منع کرنا۔ واپس کرنا۔ ع علی الاصر۔ خبر دینا۔ ع علی القرائض والاحکام۔ فالق واحکام سے واقف کر دینا۔ عزبۃ۔ ملامت کرنا۔ ادب دینا۔ بہت مارا، تعلیم کی مدد کی۔ العزور والعزور۔ بد اخلاق۔ العزورۃ۔ مؤنث عزور۔ ٹیلہ۔ العزایر۔ کڑیاں۔ درختوں کا بقایا رہنے واحد کے جمع ہے۔ العزیر والعزیر۔ کٹی گھاس کی قیمت۔ عزرائیل۔ ملک الموت کا نام۔ عزۃ۔ عزت میں غالب آنا۔ عزط دن، عزطا۔ جاع کرنا۔ عزبت دن (رض) عزفا و عزوفا۔ بنفسہ عن الشئ بے رغبتی کرنا۔ لول ہونا۔ عزفا، نفسہ عن کذا۔ منع کرنا۔ عزفا و عزیفا، آواز دینا۔ گالی دینا۔ عزف۔ آواز دینا۔ اعزف۔ ہوا کی سرسراہٹ سننا۔ عازفوا۔ ایک دوسرے کے سامنے رجز پڑھنا۔ آپس میں فخر کرنا۔ ایک دوسرے کی ہجو کرنا۔ اعزوف۔ لیشر۔ برائی کے لیے آمادہ ہونا۔ العازف۔ آلات لہو و لعب سے کھیلنے والا۔ گویا۔ العزف۔ صدائے دف۔ ہوا کی سرسراہٹ۔ العزف۔ صحرائی کبوتر۔ العزوف والعزوفۃ۔ جو شخص دوسری پر قائم نہ رہے، کہتے ہیں: هو عزوف عن اللہو: وہ لہو و لعب سے دور رہتا ہے۔ جو۔ عذاف و عزوفۃ میں تائے مبالغہ ہے تائیف کے لیے نہیں ہے۔</p>
--	--	--

التَّعْزَاتُ . بمعنى عزف . مم .

التَّعْزَاتُ . بہت باجا جانے والا . بہت گانے والا . سحابِ عَزَاتٍ . بادل جو بہت گرجتا ہو .

الْمِعْزُوفُ وَالْمِعْزُوفَةُ . گانے بجانے کے آلات . ج . مَعَارِيفُ .

عَزَقَ دُنَّ ، عَزَقًا . تیز دوڑنا . الْخَبِيرُ . عَجَبِي . روک لینا . هُ ظُوبًا . خوب بارنا

عَزَقَ رَضٍ ، عَزَقٌ . الارض . زمین کو کھودنا . کھود کر پانی نکالنا .

عَزَقَ دَسًا ، عَزَقًا . پہ . چپکنا .

الْعِزْقُ . بد اخلاق . ج . عَزَقٌ .

الْعَزُوقُ وَالْعَزُوقُ . پستہ بے مغز . رَجُلٌ عَزُوقٌ . سخت مزاج . بخیل

بد عادت .

الْعِزْيُوقُ . مِنَ الارض . پست زمین .

الْمِعْزُوقُ وَالْمِعْزُوقَةُ . آلہ جو ہوا میں اٹا کر گیہوں کو صاف کرتا ہے . کھودنے کے

اور ار جیسے پھاوڑا . کمال پہلچہ . ج

مَعَارِقُ .

الْمُعْزِيقُ . بد اخلاق انسان

عَزَلَهُ رَضٍ ، عَزَلًا . جدا کر دینا .

فَلَانًا عَنْ مَنْصِبِهِ . علیحدہ کر دینا .

مَعزول کر دینا . هُ عَنْ عَمَلِهِ . باز

رکھنا .

عَزَلَهُ . ایک جانب کر دینا .

تَعَزَّلَ وَاعْتَزَلَ الشَّيْءُ وَعَنْهُ . جدا ہونا .

تَعَازَلَتْ . القوم . ایک دوسرے سے جدا

ہونا .

الْعَزَلُ . بے ہمتی اور بے سامان ہونا . عَزَلُ

الْحِجَابِ . گدھے کا پھلا حصہ . الْعَزَلَةُ

سربین کی بڑی کاسرا . جو بیٹھنے پر زمین پر

گتتا ہے .

الْعَزَلُ وَالْعِزَالُ . کمزوری .

الْعِزْلَةُ . بدائی گوستہ تنہائی .

الْعِزْلُ . بے ہمتی اور بے ہمتی . ج . اَعْزَالٌ .

الْاَعْزَالُ . ریت کا اکیلا ڈھیر . بادل جس میں

بارش نہ ہو . بے ہمتی اور بے ہمتی . ج . عَزَلٌ و

اَعْزَالٌ وَعُزْلٌ وَعُزْلَانٌ . ٹوٹ .

عِزْلَاءُ . الْاَعْزَالُ مِنَ الدَّوَابِّ .

دُم کو جھکا کر رکھنے والا . مِنَ الطَّيْرِ .

وہ پرند جو اڑنے پر قادر نہ ہو .

الْاَعْزَالُ . نام ایک ستارہ کا جس کا

مقابلہ راجح ہے .

العِزْلَاءُ . الْاَعْزَالُ كَانُوتٌ . دُبر ، مشک

کامنہ . ج . الْعِزَالِي وَالْعِزَالِي .

کہتے ہیں : " اَنْزَلَتِ السَّمَاوُ عِزَالِيهَا :

آسمان نے دھانے کھل دیے . شدت

بارش . کہتے ہیں : " هُوَ عَنِ الْحَقِّ

بِمَعْزُولٍ : ودھتی سے دور ہے .

الْمُعْتِزِلَةُ وَالْعِزَالُ . قدریہ کی ایک

جماعت جو اہل سنت و جماعت و توارح

کو گمراہ سمجھ کر علیحدہ ہو گئے تھے .

الْمِعْزَالُ . علیحدہ چرنے والا . سفر میں الگ

اترنے والا . خود رائے ، بے ہمتی اور کمزور

الحق . ج . مَعَارِيفُ .

عَزَلَبَ عَزْلَبَةً . جماع کرنا .

عِزْمٌ رَضٍ ، عِزْمًا وَعِزْمًا وَمِعْزَمًا و

مِعْزَمًا وَعِزْمًا وَعِزْمًا وَعِزْمَةً وَعِزْمَةً

وَعِزْمَانًا . الامر و علیہ . پختہ

ارادہ کرنا . الرجل . کوشش کرنا .

الامر . واجب ہونا . فُلَانٌ عَلِيٌّ

فُلَانٌ قِسْمٌ دِينًا . کہتے ہیں : عِزْمَتٌ

عَلَيْكَ لَتَفْعَلَنَّ اَوْ اَلَا فَعَلْتَ اَوْ

لَتَفْعَلْتَ . قسم مینا ہوں رو عِزْمًا

التراتیق . منتر پڑھنا .

اَعْتَزَمَ الامر و علیہ . ارادہ کرنا .

الطریق . بغیر ٹھہرے گزرنے . الغدس

فِي عِنَانِهِ . سرکشی کرنا .

تَعَزَّمَ الامر و علی الامر . ارادہ کرنا .

تَعَزَّمَ الامر و علی الامر . ارادہ کرنا .

العِزْمُ . پختہ ارادہ .

العِزْمَةُ . خاندان قبیلہ . ج . عِزْمٌ .

العِزْمَةُ . حق . واجب . ج . عِزْمَاتُ

عِزْمَاتُ اللّٰهِ وَعِزْمَاتُ اللّٰهِ . اللّٰہ

کے حقوق و فرائض . کہتے ہیں : مَالُهُ

عِزْمَةٌ : اس کو ثبات و صبر نہیں .

العِزْمِيُّ . کھل بیچنے والا . وفادار . عمد کو

پورا کرنے والا .

أُمُّ الْعِزْمِ وَالْعِزْمَةُ وَأُمُّ عِزْمَةٍ . دُبر .

العِزْمِيُّ . تیز دوڑ

العِزْمَةُ . پختہ ارادہ ، منتر . ج . عِزْمٌ .

العِزْمُ . فہ . ج . عِزْمَةٌ وَعِزْمُونَ .

أَصْرَعَانٌ . وہ کام جس کا پختہ ارادہ ہو .

العِزْمُ . اپنے عزم پر قائم رہنے والا . بڑھیا

عورت . دُبر . ج . عِزْمٌ .

العِزْمُ . صیغہ مبالغہ شیعہ .

الْمُعِزْمُ . فہ . منتر پڑھنے والا .

عِزًّا يَعْزُونَ عِزًّا . الشَّيْءُ اَوْ فُلَانًا اِلَى

فُلَانٍ . نسبت کرنا . عِزًّا ، الرَّجُلُ

صبر کرنا .

عِزًّا يَعْزُونَ عِزًّا اَوْ لَعِزِّيًّا اِعْتِزِّي

اِعْتِزًّا . بَعْلَانٍ وَاِلَى فُلَانٍ .

منسوب ہونا . اپنے آپ کو دوسرے کی

طرف منسوب کرنا . خواہ یہ سچ ہو یا جھوٹ

اسم عِزًّا ہے . اسی سے ہے اِعْتِزِّي

بِعِزِّهِ اَوْ اِعْتِزِّي .

العِزَّةُ . گروہ مردم . ج . عِزِّيٌّ وِعِزْوَانٌ .

العِزْوَانُ . انتساب ، صبر .

عِزِّيٌّ يَعْزِي عِزِّيًّا الشَّيْءُ اَوْ فُلَانًا

اِلَى فُلَانٍ . نسبت کرنا .

عِزِّيٌّ يَعْزِي عِزًّا اَوْ مِصِيبَتٍ اَوْ مِصِيبَةٍ

مِصِيبَةٍ مِصِيبَةٍ مِصِيبَةٍ مِصِيبَةٍ

عِزِّيٌّ يَعْزِي عِزِّيًّا . الرَّجُلُ تَسْلَى دِينًا .

تَعْزِيٌّ تَعْزِيًّا . اِلَيْهِ . منسوب ہونا . عِزَّةٌ

صبر کرنا . تسلی حاصل کرنا .

الْمَعْسُورُ - تنگ حال۔

عَسَّسَ - اللَّيْلُ - رات گزارنا۔ رات کا

تاریک ہونا۔ السَّحَابُ بَادِلٌ كَالزَّمِينِ

سے قریب ہوتا۔ الامورُ مُشْتَبِهَةٌ كَرَدِينَا

معہ بنا دینا۔ الشئُ - حرکت دینا۔

تَعَسَّسَ - اِلذَّيْبُ - بھڑپے کا رات

میں نکلنا۔ تَعَسَّسَ الشئُ - سوگھا۔

العَسَّسُ - وہ بھڑپا جو رات میں شکار کا

متلاشی ہو۔

العَسَّاسُ - رات میں شکار ڈھونڈنے والا

بھڑپا۔ سَرَابٌ - ہلکی چیز۔

عَسَفَ (ض) عَسْفًا - السُّلْطَانُ - ظلم

کرنا۔ عَظْمٌ كَرْنَا - خدمت لی۔ الدَّامِعُ

الْجُفُونَ - آنسو بکرت ہنا۔ الشئُ -

زبردستی لے لینا۔ فی الامورِ بغيرِ سَوْجَةٍ

سمجھے کرنا۔ يَفْلَانُ كَسِيٍّ لِيَعْمَلُ كَرْنَا

- الطَّرِيقُ وَعَيْنُ الطَّرِيقِ - راستے

سے ہٹ جانا۔ المَفَازَةُ - جنگل کو

بغيرِ مَقَرِّشَةٍ رَاسَتِ كَعْمَلُ كَرْنَا كَتِ

ہیں: بَاتَ يَعْصِفُ اللَّيْلُ وَ

بِاللَّيْلِ - رات میں بے راہ چلنا۔

أَعَسَفَ - رات میں بے راہ چلنا۔ غلام سے سخت

کام لینا۔

عَسَفَ - بغيرِ عِلْمٍ وَنِشَانٍ كَعْمَلُ كَرْنَا -

الْبَعِيرُ - تھکا دینا۔

تَعَسَفَ - فِي الْقَوْلِ - بے راہ روی کرنا۔

ایسے معنی لیے جس پر دلالت واضح نہ ہو۔

- عَيْنُ الطَّرِيقِ - ہٹ جانا۔ الامورُ

بے سوچے سمجھے اختیار کرنا۔ فُلَانًا -

ظلم کرنا۔ خدمت لینا۔

لَا عَسَفَ - عَيْنُ الطَّرِيقِ - راستے سے

ہٹنا۔ الطَّرِيقُ - بے جا بے راہ چلنا۔

الامورُ - بے سمجھے بوجھے اختیار کرنا۔

فُلَانًا ظَلَمَ كَرْنَا - خدمت لینا۔

لَا نَعَسَفَ - الشئُ - مڑنا۔

العَسْفُ - ظلم، موت۔

العَاسِفُ - فَا - مِنَ الْاِبْلِ - عَسَافٌ كِي

بیماری والا اونٹ - کہتے ہیں: نَاقَةٌ

عَاسِفَةٌ - جَرَّ عَوَاسِيفٌ -

العَسَافُ - اونٹوں کی ایک بیماری جس میں

سانس زیادہ آتا ہے۔

الصَّوْفُ وَالْعَسَافُ وَالْمِعْسَفُ - بت

ظالم۔

العِيسِيفُ - مزدور۔ جَرَّ عَسْفًا وَعِيسِفَةً

العِيسِيفُ - بے جانے راہ چلنے والا۔ کہتے

ہیں: أَخَذُوا فِي مَعَايِيفِ الْبَيْدِ

وَمَعَايِيفِهَا - جنگل کے نامعلوم راستوں

میں چلنے لگے۔

عِيسِقٌ دَسٌ عَسْفًا وَعِيسِقٌ بِهِ - چٹنا۔

علیہ - طلب میں اصرار کرنا۔

العَسِقُ - تنگ نونی، اول شب کی تاریکی۔

العِيسِيقَةُ - خوابِ شباب۔

عَسَقَلُ الشَّرَابُ - سراب کا چمکنا۔

عَسْفَلَانٌ - شام کے ساحل کا ایک شہر۔

الرَّأْسِ - اوپر کا حصہ۔

العَسْقَلُ - سانپ کی چتری۔ جَرَّ عَسَاقِلُ

العَسَاقِلُ وَالْعَسَاقِيلُ - سراب، متفرق

بادل۔ صاحب صحاح لکھتا ہے کہ ان کا

واحد نہیں سنا۔

عَسِكَ دَسٌ عَسْكًَا - یہ لازم ہونا۔ چٹنا۔

عَسَكُوا - القومُ - جمع ہونا۔ اللَّيْلُ -

تاریکی کا بڑھنا۔ الشئُ - جمع کرنا۔ جمع

کردہ چیز کو مَعَسَكُوا کہتے ہیں۔

العَسَكُ - جمع، لشکر۔ جَرَّ عَسَاكِرًا - ہر

چیز کا بہت سا حصہ کہتے ہیں لَاجِدَثٌ

عِنْدَهُ عَسَاكِرُ النَّمْلِ - نم کی کثرت

دور ہو گئی۔

العَسَاكِرَةُ - سختی، خشک سال۔

عَسَلَنَ (ض) عَسَلًا وَعَسَلَ الطَّعَامُ -

کھانے میں شہد نکالنا۔ عَسَلٌ وَعَسَلٌ

القَوْمُ - شہد کھلانا۔ شہد کا تو شہر دینا۔

عَسَلَتِ النَّحْلُ - بکھیوں نے شہد

بنایا۔ عَسَلَ الشئُ - شہد جیسی ہونا۔

عَسَلَ النَّائِمُ - اونگھنا۔

عَسَلَ (ض) عَسَلًا وَعَسُولًا - و

عَسَلَانًا - الرُّمَحُ - خوب حرکت کرنا

- المِرْأَةُ - جماع کرنا۔

عَسَلَ دَنٌ عَسَلًا وَعَسَلَانًا - المَاءُ

ہوا کی وجہ سے لہرانا۔

اِسْتَعَسَلَ - شہد طلب کرنا۔ اِسْتَعَسَلَتِ

النَّحْلُ - بکھیوں کا شہد بنانا۔ کہتے ہیں

”عَسَلًا لَهُ“ - بمعنی تَعَسَّلَهُ - اس

کے لیے ہلاکت ہو۔

العَسَلُ - شہد (مذکورہ نوٹ) جَرَّ - اَعَسَالَ

وَعَسَلٌ وَعَسَلٌ وَعَسُولٌ وَ

عَسَلَانٌ - تھوڑے کو عَسَلَةٌ کہتے

ہیں۔ العَسَلُ - بشیرہ کھجور کہتے ہیں۔

”مَا لِفُلَانٍ مَضْرِبٌ عَسَلِيٌّ“ - فلاں

بے نسب ہے۔ مَا تَرَكَ كُهُ قَهْرِبُ

عَسَلِيَّةٌ - گالی دی، حتیٰ کہ اس کے

نسب کو کا عدم کر دیا۔

أَبُو عَسَلِيَّةٍ - بھڑپا۔

العَسِيلِيُّ - بزرگ شہد۔

العَاسِلُ - فَا - ر - وَالْعَسُولُ - نیکو کار۔

جس کی تناء و صفت خوب معلوم ہو۔ جَرَّ

عَسَلٌ -

العَاسِلُ - شہد نکالنے والا۔ جَرَّ - عَسَلٌ وَ

عَوَاسِلٌ - بھڑپا۔ رُمَحٌ عَاسِلٌ -

عَسَالٌ وَعَسُولٌ - رمی کی وجہ سے

حرکت کرنے والا۔

العَسَالُ - بمعنی العَاسِلُ -

خَلِيَّةٌ عَاسِلَةٌ - شہد والا چھتہ۔

العَسَالَةُ - شہد کی مکھی۔ شہد نکالنے والے۔

العِيسِيلُ - عطر فروش کی جھاڑو جس سے وہ

عطر جمع کرتا ہے۔ اونٹ اور ٹاتھی کا

<p>البیضاء. قریب بلوغ روکی۔ عش دن، عشوشة و عشاشة و عشاشا - البدن. لانر ہونا۔ صفت عش۔ عشش۔ الطائر۔ پرند کا گھونسا بنانا۔ عششت النخلہ۔ کھجور کی شاخوں کام ہونا۔ عشش الکلاء۔ گھاس خشک ہونا۔ عشش الخبز۔ روٹی میں پھپھوندی لگنا اور خشک ہوجانا۔ عش۔ فلاناً عن الامر۔ روکنا۔ باز رکھنا۔ النطی۔ ہرن کو بھٹ میں بھڑکایا - البدن۔ بدن کو لانر کرنا۔ الوجل کم درختوں والی زمین میں پہنچنا۔ عش۔ گھونسا بنانا۔ البدن۔ جسم کو لانر کرنا۔ العش۔ الثوب۔ کپڑے کا پوند والا ہونا۔ العش۔ مم۔ تھوڑی عطا۔ رجل عش۔ لانر بدن والا۔ العش والعش۔ گھونسا۔ ج۔ عشاش و عششة و عشاش و عشوش۔ العشة۔ کھجور کا درخت کم شاخوں والا۔ خراب جگہ میں اگا ہوا درخت۔ کم درختوں والی زمین۔ العش۔ مطلب۔ العشش۔ مفع۔ وہ جگہ جہاں پرندہ گھونسا بنائے۔ عشب دس، عشاب۔ خشک ہونا۔ عشب دس، عشاب و عشاب دك، عشابة - المكان۔ سبز گھاس والا ہونا۔ صفت عاشب۔ عشب دك، عشابة و عشوبة۔ الوجل۔ پست قد۔ بد صورت ہونا۔ صفت عاشب۔ عشب دك، عشابة و عشوبة۔ الوجل۔ پست قد۔ بد صورت ہونا۔ صفت مذکر عشب۔ صفت مؤنث عشابة۔</p>	<p>موتنا ہوجانا۔ عسنت الدابة۔ چارہ بھضم ہونا اور جانور موتنا ہونا۔ عسنت۔ الشی۔ پتہ نشان تلاش کرنا۔ آباً۔ مشابہ ہونا۔ اعسنت، المكان۔ کچھ سبزی اگنا۔ العس۔ چینی۔ بالوں کی لمبائی اور خوبصورتی مع سپیدی۔ العس۔ شیل ونظیر۔ ر۔ والعس، چربی۔ العسوت والا عس۔ موتنا ج۔ عس۔ اعسان۔ الشی۔ نشان۔ کتے ہیں۔ هو على اعسان من لبيبه۔ ودھاپ کے مشابہ ہے۔ العسش۔ مذکر شتر مرغ۔ عسا لعسوعساء وعسوا۔ النبات نبات کا موتنا اور سخت ہونا۔ عسنت يداً۔ کام کرنے کی وجہ سے ماتہ سخت ہونا۔ اللیل۔ رات کی تاریکی زیادہ ہونا۔ عسا لعسوعسوا، عسوا عسباً، عساء وعسوة۔ الشیخ بوڑھا ہونا۔ العسو۔ مم۔ موم۔ العاسی۔ فا۔ سخت مزاج۔ العسوة۔ بڑھا پا۔ عسبی لعسبی عسبی۔ النبات۔ نباتات کا سخت ہونا۔ عسبی۔ افعال مقاربت سے ہے۔ جامد ہے محبوب چیز میں امید کے لیے اور مکروہ بات میں خوف کے لیے آتا ہے۔ العسبی، العسبی والمسعا۔ بالامر لائق، مناسب۔ اعس بہ۔ فعل تعجب ہے معنی آخلاق بہ کس قدر لائق ہے۔ العاسی۔ فا۔ درخت خرما۔ بقول ابی عبید درخت خرما کا گچھا۔</p>	<p>عضوتنا سل۔ ج۔ عسل۔ المعسكة والمعسكة۔ شد کا پتہ۔ المعسول۔ مفع۔ رجل معسول۔ شیر میں زبان۔ خوش آواز۔ معسول الموا عیید۔ بچے و عدوں والا۔ عسلج۔ الشجر۔ درخت پر نرم ٹہنیاں نکلنا۔ العسلوج۔ نرم ٹہنیاں۔ ج۔ عسالیج۔ عسلط۔ غیر مربوط کلام کرنا۔ كلام معسلط۔ غیر مربوط بات چیت۔ العسلق۔ سراب۔ بھیر یا شیر زرا شتر مرغ۔ شکاری، درندہ۔ بد عادت، چست و چالاک، دراز گردن۔ لومڑی۔ ج۔ عسایق۔ عسم رض، عسما وعسوما۔ فی الامر۔ لاچ کرنا۔ کوشش کرنا۔ عسمت عینہ آنکھ کا بہر پڑنا۔ آنکھ بند ہونا۔ بقول بعض پلک چپک جانا۔ عسم دس، عسما۔ القدام او الكفت۔ خشک ہو کر ٹیڑھا ہوجانا۔ صفت مذکر اعسم۔ صفت مؤنث عسما۔ اعسو۔ يداً خشک کر دینا۔ اعسمت عینہ۔ آنکھ کا بہنا۔ بقول بعض بند ہونا۔ اعتسو۔ کمانی کرنا۔ فلاناً کسی کو اس کی طبع کی چیز دینا۔ العسوم۔ بال بچوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ ج۔ عسو۔ العاسم۔ بمعنی عسوم۔ العسمة والعسوم۔ خشک روٹی کے ٹکڑے۔ العسوم۔ قلت۔ العسمة۔ جائے طبع۔ کتے ہیں کہ مالک بنی فلان معسمة۔ عسین دس، عسنا۔ الکلاء عسفی الدابة۔ گھاس بھضم ہوجانا اور جانور کا</p>
--	--	--

أَعْتَبَ القومُ - سبزگھاس پر پہنچنا۔
 کتے ہیں: "أَعْتَبْتِ فَانُزِلْ" ہرے
 بھرے مقام پر پہنچ گئے تو اتر پڑو۔
 أَعْتَبَ وَعَشَبَ - امکان سبزگھاس
 اگانا۔
 أَعْتَبَ وَتَعَشَبَ - سبزگھاس چرنا۔
 موٹا ہونا۔
 أَعْتَبَ سَبَابَ - سبزگھاس پر پہنچنا۔ امکان
 بہت سبزگھاس والا ہونا۔
 العُشْبُ سَبَابُ - ج۔ اَعْتَابُ
 واحد عَشْبَةٌ۔
 العُشْبَةُ - بڑھاپے کی وجہ سے پیڑھی کر
 والا مرد یا عورت۔
 العُشَابَةُ - سبزگھاس کی کثرت۔
 العُشْبُ وَالْعَشِيبُ وَالْمَعْشَبُ وَ
 المَعْشَابُ - سبزگھاس والی جگہ۔
 رَضُ عَائِشَةَ وَعَشْبَةَ وَعَشِيبَةَ۔
 مَعْشَبَةٌ وَمَعْشَابٌ - بہت سبزگھاس
 والی سرزمین۔
 التَّعَائِيبُ - سبزگھاس کے متفرق قطعات۔
 العُشَابُ - سبزگھاس والا سبزی والا۔
 عَشْرَ رَضٍ عَشْرًا - دس میں سے ایک
 لینا۔ تو پر ایک زائد۔ القوم - قوم
 میں دسواں ہونا۔ الناقَةُ - اونٹنی
 دس ماہ کی حاملہ ہوئی۔
 عَشْرُونَ عَشْرًا وَعَشْرًا وَعَشْرًا -
 اِمَالًا - دسواں حصہ لینا۔ القوم -
 قوم کے مال کا دسواں حصہ لینا۔ دسواں
 ہونا۔ عَشْرًا المِثْلًا - گدھے کا دس
 بار بیگنا۔ عَشْرَتِ الناقَةِ - اونٹنی
 کا دس ماہ کی حاملہ ہونا۔
 أَعَشَرَ - العَدَادَ - دس کر دینا۔ القوم -
 دس ہونا۔ أَعَشَرْتِ الناقَةَ - اونٹنی
 دس ماہ کی حاملہ ہونا
 عَاشِرَةٌ مَعَاشِرَةٌ - بل جل کر رہنا۔

أَعْتَبَرُوا وَعَاشِرُوا - القوم - ایک دوسرے
 کے ساتھ رہنا۔
 العِشْرُ - دسواں حصہ اونٹ کا دسویں دن
 یا نویں دن گھاٹ پر جانا۔ ج۔
 أَعَشَارُ۔
 العِشْرُ - دسواں حصہ۔ ج۔ عَشْرُونَ و
 أَعَشَارُ - الأَعَشَارُ - پرند کے اگلے
 بڑے پر۔
 العِشْرُ - ہر ماہ کی دسویں، گیارہویں اور
 بارہویں رات۔
 العِشْرَةُ - دس۔ یہ مذکر کے لیے ہے، کتے
 ہیں: "عِشْرَةٌ رِجَالٍ" اور مؤنث
 کے لیے عِشْرٌ نِسَاءً، جب اس کو
 دوسرے عدد کے ساتھ ملایا جاتا ہے
 تو گیارہ اور بارہ میں موافق قیاس میں مذکر
 کے لیے دونوں جزو مذکر لاتے ہیں جیسے
 أَحَدًا عَشْرًا رِجَالًا اور مؤنث کے
 لیے دونوں جزو مؤنث لاتے ہیں جیسے
 إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً۔ اس کے
 بعد انیس تک مذکر کی صورت میں پہلا
 جزو مؤنث اور دوسرا جزو مذکر لاتے
 ہیں جیسے خَمْسَةَ عَشْرٍ رِجَالًا اور
 مؤنث کی حالت میں پہلا جزو مذکر اور
 دوسرا جزو مؤنث لاتے ہیں جیسے
 خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً۔ ج۔ عَشْرَاتُ۔
 العِشْرُونَ - بیس۔ (مذکر و مؤنث)۔
 العِشْرَةُ - صحبت، مخالفت۔
 العَاشِرُ - فا۔ دسواں، دسویں دن گھاٹ
 پر جانے والا۔ ج۔ عِشْرٌ، مؤنث
 عَاشِرَةٌ۔ ج۔ عَاشِرَةٌ، العَاشِرَةُ
 پرند کے اگلے بڑے پر۔ العِشْرِيُّ،
 العَاشِرُ، العَاشِرَاءُ - و
 العَاشِرِيُّ، محرم کی دسویں تاریخ۔
 العِشَارُ - دسواں حصہ لینے والا۔
 العِشْرَاءُ - مِنَ النُّوقِ - آٹھ یا دس ماہ

کی حاملہ۔ ج۔ عِشَارٌ - عَشْرُونَ
 وہ اونٹنی جو بچہ جن چکی ہو۔
 العِشْرَاءُ وَالْعَوَيْشْرَاءُ - گلی ڈنڈا۔ کتے
 ہیں: "جَاءُوا عِشَارًا وَمَعَشْرًا" دس
 دس آئے یہ دونوں گلے و صفیت اور
 عدل کی بنا پر غیر منفرت ہیں۔
 ثَوْبٌ عِشَارِيٌّ - دس گز لمبا۔ حَلَامٌ
 عِشَارِيٌّ - دس سال کا۔ مَوْنَثُ -
 عِشَارِيَّةٌ۔
 عِشَارَةٌ - دسواں حصہ۔
 الأَعَشَارِيُّ - اعشار۔ ج۔ عشرو کی
 طرف منسوب۔
 العِشِيرُ - قبیلہ، قریب، دوست۔ زوج۔
 زوجہ۔ ج۔ عِشْرَاءُ۔
 العِشِيرُ - دسواں حصہ۔ ج۔ أَعَشْرَاءُ۔
 العِشِيرَةُ - خاندان، عِشِيرَةُ الرَّجُلِ -
 برادران۔ باپ کی جانب سے قریبی لوگ۔
 ج۔ عِشَارِيٌّ وَعِشِيرَاتُ۔
 الأَعَشْرُ - بے وقوف۔
 المَعْشَرُ - جماعت، آدمی کے اہل، جن، انسان
 ج۔ مَعَاشِرٌ۔
 المَعْشَارُ - دسواں حصہ۔ نَاقَةُ مَعْشَارٍ
 بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔
 العِشَارِيَّةُ وَالْعِشْرَةُ بَشِيرٌ - رَجُلٌ
 عِشَارِيٌّ - دلیر مرد۔
 عَشْرُونَ رَضٍ، عَشْرَانَا - کئی ہندو مالگ والے
 کی طرح چلنا۔ عَلَى عِشَاءٍ - لائمی پر
 ٹپک لگانا۔
 العِشْرُ - وغوراً راضیہ یا زین۔ ج۔
 عِشَارُونَ وَالْعِشْرُونَ - مضبوط قوی،
 موٹا۔
 عِشْقَةٌ عِشْتًا وَعِشْقًا وَمَعْشَقًا - بہت
 محبت کرنا۔ محبت میں حد سے بڑھ جانا۔
 صفت مذکر عاشق۔ ج۔ عِشْقٌ -
 عَاشِقُونَ - صفت مؤنث عاشقہ۔

<p>العَشِيَّةُ: شام۔ جو عَشِيٌّ وَعَشَايَا وَ عَشِيَّاتٌ۔ نسبت کے لیے عَشِيٌّ ۔ العَشِيَّةُ: بادل۔ العَشْوَةُ: تاریکی۔ رات کے ربع اول کی اندھیری۔ العَشْوَةُ وَالْعَشْوَةُ: آگ کا شعلہ جو رات کے وقت دور سے دکھائی دے۔ العَشْوَةُ وَالْعَشْوَةُ وَالْعَشْوَةُ: مشتبہ بات کرنا کہتے ہیں۔ "أَوْطَاهُ عَشْوَةٌ" اگر مشتبہ میں پھنسا دیا۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسی خبر دے کہ جس کی وجہ سے انسان حیرت و مصیبت میں پڑ جائے۔ العَشْوَاءُ: مُؤْتِ أَعْتَى۔ اونٹنی جس کو سامنے کچھ نظر نہ آئے۔ کہتے ہیں: هُوَ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءٍ۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے۔ هُوَ أَوْجَبُ مِنْ عَشْوَاءِ أَعْلَاهُمْ لَفِي عَشْوَاءٍ مِنْ أَمْرِهِمْ: حیران اور ناواقف ہیں: كَيْبَ الْعَشْوَاءِ: بغیر سوچے سمجھے کام کیا۔ العَشْوَاءُ: اندھیری کھجور، درخت خرما۔ عَصَّ رَسًا، عَصَّ وَعَصَّصًا: سخت ہونا۔ عَصَّصَ عَلَى غَرِيمِهِ: قرضدار سے اصرار کرنا۔ المَحْصُ: مع۔ جڑ۔ کہتے ہیں: هُوَ كِرِيمُ الْعَصِ العَصِصُ وَالْعَصْصُ: دُم کی بڑی۔ عَصَبُ رَنٍّ، عَصَبًا: الشَّيْءُ: لپیٹنا۔ مورٹنا۔ بٹنا۔ بانڈھنا۔ القَطَنُ: روٹی کاتنا۔ الرِّبِيُّ بِالْفَجِّ: تھوک کا منہ پر خشک ہو جانا۔ التَّاقَةُ: اونٹنی کی رانیں دد بننے کے لیے بانڈھنا۔ الرَّجُلُ بَيْتَهُ: اقامت کرنا۔ القَارُ رَامَةً سر پر غبار لگ جانا۔ القَوْمُ يَهْمُ۔</p>	<p>اد۔ دوسرے کی طرف مائل ہونا۔ عَشْوًا وَعَشْوًا، التَّارُ وَالْأَيُّ النَّارِ: آگ دیکھ کر مہمانی کی امید میں اس کی طرف چلنا۔ عَشْوًا وَعَشِيٌّ يَعْتَشِي عَشًا، نگاہ کا کمزور ہونا۔ رتوند ہونا۔ صفت عَشَّيٌّ وَعَشِيٌّ۔ عَشِيٌّ العَشَاءُ: رات کا کھانا کھانا۔ صفت عَشِيَّانٌ۔ عَشِيٌّ عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔ عَشِيَّتِ الْإِبِلُ: رات میں اونٹ کا چرنا۔ صفت عَائِشِيَّةٌ: جو۔ عَوَائِشُ عَشِيٌّ تَعَشِيَّةٌ: الرَّجُلُ: شام کا کھا کھانا۔ العَطِيَّةُ: آگ روشن کرنے اندھا بنا کر تباہ کرنا۔ عَيْنُ الشَّيْءِ: نئی برتن۔ مہربانی کرنا۔ الْإِبِلُ: اونٹ کورات میں چرانا۔ عَشِيٌّ لِعَشَاءٍ: الرَّجُلُ: دیا۔ رات کا کھانا کھانا۔ اللُّهُ الرَّجُلُ: رتوند میں مبتلا کرنا۔ تَعَشَى: رات کا کھانا کھایا۔ تَعَاشَى: رتوند سے والا ظاہر کرنا۔ عَنَاءُ: جاہل بننا۔ عَتَشَى لِعَتَاءٍ: عتاء کے وقت چلنا۔ النَّارُ: رات میں دیکھنا اور قصد کرنا۔ اسْتَعَشَى لِمَسْتَعَشَاءٍ: نَارًا: آگ کی روشنی میں راہ پانا۔ الرَّجُلُ: متحیر پانا۔ العَشَاءُ: شام کا کھانا۔ جو۔ أَعَشِيَّةٌ العَشَاءُ وَالْعَشَاءُ: نگاہ کی کمزوری۔ رتوندی۔ العَشِيٌّ: رات کا کھانا۔ العَشَاءُ وَالْعَشِيٌّ: رات کی ابتدائی تاریکی بقول بعض مغرب سے عشاء تک کی اندھیری یا دن کا آخری حصہ۔ العَشَاءُ وَالْعَشَاءُ: مغرب اور عشاء۔ بعيرٌ عَشِيٌّ رات کو دیر تک چلنا۔</p>	<p>وَعَاشِقٌ: جو بخوابش، عَشِيٌّ۔ باشق۔ چٹا۔ تَعَشَّقَ: شکست عاشق بننا۔ هُ: بہت محبت کرنا۔ العَشِيُّ: محبت کی زیادتی، پارساں اور غیر پارساں دونوں طرح ہوتا ہے۔ العَشْقَةُ: عشق و پیمان۔ پیلو۔ ح۔ عَشَقٌ العَشِيْقُ: عاشق، معشوق۔ العَشِيْقُ وَ العَشْوِيُّ: پھولوں کے پودوں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ جو۔ عَشَقٌ العَشَاقُ وَالْعَشِيْقُ: بہت زیادہ عشق والا۔ عَشَمَ دَسَ عَشْمًا وَعَشْوَمًا وَتَعَشَّمَ ۔ الشَّيْءُ: خشک ہونا۔ العَشْمُ: لالچ۔ خَبِيْرٌ عَشْمٌ: سوکھی یا خراب روٹی۔ العَشْمَةُ: لالچ، خشک روٹی۔ لاغری کی وجہ سے خشک۔ پیر فرتوت (مذکر مؤنث) کہتے ہیں: شَيْخٌ عَشْمَةٌ وَعَجُوزٌ عَشْمَةٌ عَجُوزٌ عَشْمَةٌ: خشک یا خراب شدہ روٹی۔ الْأَعَشْمُ: دو مخلوط لنگ، خشک درخت عمر رسیدہ بوڑھا۔ مؤنث عَشْمَةٌ عَشَنَ رَنٍّ، عَشَنًا، أَعَشَنَ وَعَشَنَ وَ أَعَشَنَ: اکل سے بات کہنا۔ تخمینہ کرنا۔ أَعَشَنَ فَلَانًا: ناحق حملہ کرنا۔ العَشَانُ وَالْعَشَانِيَّةُ: گری ہوئی خراب کھجوریں۔ العَشَانَةُ: کھجور کی شاخ کی جڑ۔ عَشَا يَعْتَشُو عَشْوًا: رتوند سے والے کی طرح کام کرنا۔ الْإِبِلُ: اونٹوں کورات میں چرانا۔ الرَّجُلُ: رات میں کسی کا قصد کرنا۔ هُ وَالِيَهُ: قصد کرنا اور بخش طلب کرنا۔ عَنَاءُ: اعراض کرنا</p>
--	--	--

اجتماع کرنا۔ احاطہ کرنا۔ عَصَبًا و
عَصُوبًا، الأَسْتَانُ۔ دانتوں کا میل
ہونا۔ الأَفْقُ۔ کنارہ آسمان سُرخ
ہونا۔ عَصَبًا وَعَصَابًا، الشَّيْءُ
قبضہ کرنا۔
عَصَبٌ دَسٌ عَصَبًا۔ اللَّحْمُ۔ گوشت
کا زیادہ پھٹوں والا ہونا۔ صفت
عَصَبٌ۔ القَوْمُ بہ۔ اجتماع کرنا۔
احاطہ کرنا۔
عَصَبَهُ۔ بھوکا رکھنا۔ ہلاک کرنا۔ پٹی باندھنا۔
عَصَبٌ فَلَانًا۔ سردار بنانا۔
أَعَصَبَتِ الإِبِلُ۔ اونٹوں کا تیز چلنا۔
تَعَصَّبَ سَبِيٌّ بَانْدَهْنَا۔ تعصب سے کام
لینا۔ سردار ہونا۔ لَهْ وَمَعَهُ۔ ماٹل
ہونا۔ مدد کرنا۔ کوشش کرنا۔ علیہ
مقابلہ کرنا اور عصبیت دکھلانا۔ رَفِيٌّ
وَدِينُهُ وَمَنْ هَيْبُهُ۔ دین و مذہب
میں غیور ہونا اور سخت حفاظت کرنا۔
بِالشَّيْءِ۔ راضی ہونا۔
أَعْتَصَبَ۔ القَوْمُ۔ قوم میں گروہ بندی
ہونا۔ المَلِكُ، بادشاہ کا تاج پہنتا
۔ التَّاجُ عَلَيَّ رَأْسِهِ۔ تاج سر پر
ٹھیک بیٹھنا۔ بِالشَّيْءِ۔ قناعت کرنا
اور راضی ہونا۔
أَلْعَصَبُ الشَّيْءِ۔ سخت ہونا۔
أَعَصُوبُ۔ العَفْوُ۔ سوت ہونا۔ القَوْمُ
مجمع ہونا اور گروہ درگروہ ہونا۔
العَصَبُ۔ عامہ، پگڑی، ایک قسم کی چادر
ر۔ والعَصَبُ، عشق پیچاں۔ ج
أَعَصَابٌ۔
العَصَبَةُ۔ عصب کا واحد۔ باپ کی جانب
سے رشتہ دار۔ ج۔ عَصَبَاتٌ۔
العَصَبَةُ۔ پٹی باندھنے کی ہیئت۔
العَصَبَةُ۔ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّجِيلِ وَ
الطَّيْرِ۔ گروہ۔ ج۔ عَصَبٌ۔

العَصَابُ۔ جس سے باندھا جائے۔
العَصَابَةُ۔ السانوں، گھڑوں اور پرندوں
کی جماعت۔ پگڑی، عامہ۔ پٹی۔ ج۔
عَصَابِيٌّ۔
العَصِيْبُ۔ فَارِجٌ عَصِيْبٌ۔ وہ شخص
جس کے منہ پر تنوک خشک ہو جائے۔
العَصِيْبُ بَحِيْبٌ۔ آنتوں کے ساتھ بندھا
ہوا اور بھنا ہوا۔ ج۔ عَصَبٌ،
أَعْوَبَةٌ۔ يَوْمٌ عَصِيْبٌ۔ سخت گرم۔
التَّعَصُّبُ۔ مع۔ دلیل ظاہر ہو جانے کے
بعد بھی حق بات کو نہ ماننا۔ ج۔
تَعَصُّبَاتٌ۔
العَصِيْبِيُّ۔ تعصب کی وجہ سے ظلم میں قوم
کی مدد کرنے والا۔
العَصِيْبَةُ۔ دھڑے بندی۔
المُعَصَّبُ۔ مفع۔ سردار۔ تاج پہننے والا۔
فقیر، بھوکا۔
المُعَصُوبُ۔ مفع۔ باریک تلوار۔ کہتے ہیں
رَجُلٌ مَعَصُوبٌ الخَلْقُ مَضْبُوطٌ
بناوٹ والا۔ پُرْغُوشَتٌ۔
العَصْبُصَبُ۔ سخت گرم دن یا مطلق
سخت۔
عَصَدٌ (رض) عَصَدًا أَوْ أَعَصَدًا۔ الشَّيْءُ
موڑنا۔ گرہ دی، کہتے ہیں: عَصَدًا
عَلَى الأَمِيرِ۔ کام پر مجبور کرنا۔ ر۔
عَصُودٌ، الرَّجُلُ
العَصِيدُ۔ گرہ لگایا ہوا۔ موڑا ہوا۔
العَصِيدَةُ۔ ایک قسم کا کھانا جو گھی اور آٹا
ملا کر پکاتے ہیں۔
عَصْرٌ (رض) عَصْرًا۔ العَنْبُ أو الثَّوْبُ
انگور یا کپڑے کو پھوڑنا۔ الدَّمَلُ
پھوڑے کو پھوڑ کر پیپ نکالنا۔
الرُّكْنُ القَوِيُّ لِيَسِينُ لَانَا۔ الشَّيْءُ
عندہ۔ روکنا۔ خَلَاؤًا۔ قید کرنا۔
عطیہ دینا۔

عَصْرٌ۔ الشَّيْءُ۔ بار بار پھوڑنا۔ النُّزْعُ۔
کھیتی کا خوشے نکالنا۔ عَصْرَتِ
المَرْأَةُ عَوْرَتَ كَابَالِخٍ هَوْنًا۔ حیض آنا۔
أَعَصَرَ۔ وقت عصر میں داخل ہونا۔ أَعَصَرَتِ
المَرْأَةُ عَوْرَتَ كَابَالِخٍ هَوْنًا۔ عاتقہ ہونا۔
صفت مُعَصِرٌ۔ ج۔ مَعَاصِرٌ۔ و
مَعَاصِيرٌ۔ الرِّيحُ جُورٌ هَوَا كَابَالِخٍ
بگولہ لانا۔
أَعَصَرَ القَوْمُ۔ بارش برسایا جانا۔
عَاصِرَةٌ مُعَاصِرَةٌ۔ ہم عصر ہونا۔
تَعَصَّرَ۔ نچوڑا جانا۔ بہ۔ پناہ لینا۔
رَعْتَصَرَ العَنْبُ أو الثَّوْبُ وَرَحْوُهُمَا۔
انگور یا کپڑے وغیرہ کو پھوڑنا۔ العَصِيرُ۔
شراب بنانا۔ العَطِيَّةُ۔ عطیہ واپس
لینا۔ مِنْ فُلَانٍ مَالًا۔ تاوان یا کسی
دوسرے طریقے پر مال لینا۔ مَسَى
الشَّيْءُ۔ لِيَا۔ بِفُلَانٍ۔ پناہ لینا۔
عَلَيْهِ۔ بخل کرنا۔ کہتے ہیں: رَعْتَصَرَ
بِالمَاءِ مَا غَضَّ بِهِ مِنَ الطَّعَامِ۔
کھانے کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے
تھوڑا پانی پینا۔
أَعَصَرَ۔ نچوڑنا۔ العَنْبُ وَرَحْوُهُ۔ شرہ
نکل جانا۔
العَاصِرُ۔ فَاجٌ۔ عَصْرَةٌ وَعَاصِرُونَ۔
مؤنث عَاصِرَةٌ۔ ج۔ عَوَاصِرٌ وَ
عَاصِرَاتٌ۔ رَجُلٌ عَاصِرٌ۔ بے
برکت، بخیل۔
العَصْرُ۔ رات دن۔ دن کا آخری حصہ۔
آفتاب کے سرخ ہونے تک۔ صبح،
قبیلہ، گروہ، عطیہ۔ ج۔ أَعَصَرُ وَ
عَصُورٌ۔ العَصْرَانِ۔ صبح و شام دن و
رات کہتے ہیں: جَاعَتِي عَصْرًا وَد
ویر میں آیا۔
العَصْرُ وَالعَصْرُ وَالعَصْرُ۔ ر۔ ج۔
عَصُورٌ وَأَعَصَرُ وَعَصُورٌ وَأَعَصُرٌ۔ اور

العَصْفُورُ - چڑیا، ہر وہ پند کو کہ جس سے چھوٹا
 ہو جو۔ عَصَافِيْرُ مَوْنُ عَصْفُوْرَةٌ
 العَصْفُوْرُ - پیشانی، پیشانی کے بال
 اگنے کی جگہ۔ وہ لکڑی جس سے بالان کے
 سرے باندھتے ہیں۔ گھوڑے کی پیشانی کی
 اٹلی ہوئی لٹی جو دائیں بائیں دونوں جانب
 ہوتی ہیں۔ کتاب، کشتی کی میخ، سردار
 کہتے ہیں: لَقَّتْ اَوْصَاْحَتْ عَصَافِيْرُ
 بَطْنِهِ - بھوکا ہونا۔
 العَصِيْفُوْرَةُ - گل خیر و کارو پھول۔
 العَصْفُوْرُ - زردی۔ ج۔ عَصَاقِيْلُ -
 العَصَاقِيْلُ - بگولہ۔
 عَصَلُ رَسٍ، عَصَلَا - الشَّيْءُ - معنی کے
 ساتھ ٹیڑھی ہونا۔ صفت عَصَلٍ و
 اَعَصَلُ - مَوْنُ عَصَلَةٍ و عَصَلَاءُ
 ج۔ عَصَالٌ و عَصَلٌ رَسٍ وَاَعَصَلُ،
 سخت ہونا۔
 عَصَلُ رَسٍ، عَصَلَا - العَوْدُ - لکڑی کو
 ٹیڑھا کرنا۔
 عَصَلٌ - السَّمُّ - تیر کا ٹیڑھا ہونا۔ دیر
 کرنا۔
 العِصْلُ و العِصْلُ - اَنْتَ - ج۔ اَعْمَالٌ -
 العِصْلُ - مقروض پر سختی کرنے والا۔
 العِصَالُ و العِصِيْلُ - ٹیڑھے روال لاشی
 جس کو عوام مُعْقِلَةٌ - یا بَاكُوْرٌ کہتے
 ہیں۔ ڈنڈا۔ ج۔ مَعَاصِيْلُ -
 عَصَلَبٌ - سخت غضب ناک ہونا۔ سخت
 پٹھے والا ہونا۔
 العَصَلَبُ و العَصَلَبُ و العَصَلِيْبُ و
 العَصَلُوْبُ - بڑے ڈیل ڈول کا
 مضبوط مرد۔
 عَصَمَ رَسٍ، عَصَمَا - الرَّجُلُ - کائی کرنا
 - الشَّيْءُ - روک لینا۔ اَللّٰهُ هَلَاْنَا
 مِنَ الْمَكْرُوْبِ - محفوظ رکھنا۔ بچانا۔
 عَصَمَ الْقَرِيْبَةَ - محکم کو کسی سے

عَصَمَتِ الْحَرْبُ بِالْقَوْمِ - لڑائی نے
 قوم کو برباد کر دیا۔ عَصَفَ الدَّهْرُ -
 پہلے زمانے نے ہلاک کر دیا۔ وَ
 اَعْتَصَفَ عِيَالَهُ - اولاد کے لیے
 کمانا۔
 عَصَفَ رَسٌ عَصَفًا - الزَّرْعُ - کھیتی کو تیار
 سے پہلے کاٹ لینا۔
 اَعَصَفَ - الزَّرْعُ - کھیتی کاٹنے کے لائق
 ہونا۔ اَعَصَفَتِ الرِّيْحُ - ہوا تیز چلنا۔
 صفت مُعَصِفَةٌ و مُعَصِفٌ - ج۔
 مَعَاصِفٌ و مَعَاصِيْفٌ - الرَّجُلُ
 ہلاک ہوا۔ رستے سے ہٹ جانا۔
 اَعَصَفَتِ الْحَرْبُ يَهُودَ - تباہ
 کر دیا۔
 اِسْتَعَصَفَ - الزَّرْعُ - تناور ہونا۔
 العَصْفُ - کھیت کے پتے۔ عَصَفُ
 التَّيْنِ - جوسہ کے پتے۔ عَصَفُ
 الاَثِيْبِ و غيرِهٖ - اٹھ وغیرہ کا غبار۔
 العَصْفَةُ - عَصَفٌ كَالسَّمْرِ - قراب کی
 بدبو کھیتی کے ڈنٹھل کے پتے۔
 العَاصِفُ - سَفَرٌ عَاصِفٌ - نشاندہ سے
 بٹھا ہوا تیر۔ يَزُوْرُ عَاصِفٌ - تیز ہوا
 کا دن۔
 العَاصِفَةُ مَوْنُ عَاصِفٌ - ج۔ عَاصِفَاتٌ
 و عَمَاصِفٌ -
 العَصُوْبُ - تیز ہوا۔ ج۔ عَصَفٌ -
 العَصِيْفَةُ - وہ پتے جس کے درمیان خوشہ
 ہوتا ہے۔
 العَصَاقِلَا - وہ مکے جو خوشے سے گریں۔
 کوڑا کرکٹ جس کو ہوا اٹا کر لائے۔
 عَصْفَرٌ - الثَّوْبُ - کپڑے کو زرد رنگنا۔
 تَعَصْفَرُ - الثَّوْبُ - زرد رنگ کا ہونا۔
 تَعَصْفَرَتِ العُنُقُ - گردن ٹیڑھی ہونا۔
 العُصْفُرُ - زرد رنگ۔

اَعَصَارٌ كَمَجِّ اَعَاصِيْرٍ -
 العَصْرُ و العَصْرُ و العَصْرَةُ و العَصْرَةُ -
 پناہ گاہ۔
 العَصْرُ - عصر میں ایک لغت ہے معنی زمانہ۔
 خوشبو کی بھوک۔
 العَصْرَةُ - خوشبو کی بھوک، عَاصِرٌ كَمَجِّ
 غبار، بگولہ۔
 العَصِيْرُ و العَصِيْرَةُ و العَصَارُ - رَسٍ،
 پھول۔ العَصِيْرُ - پھول ہوا۔
 العِصَارُ - سخت غبار۔ وقت۔
 العِصَارَةُ - رَسٍ، پھول، بھوک، کہتے ہیں۔
 رَجُلٌ كَرِيْمٌ العِصَارَةُ - سوال کے
 وقت کریم دینی۔
 اِلْعِصَارُ - بگولہ۔ ج۔ اَعَاصِيْرُ و اَعَاصِيْرُ
 کہتے ہیں۔ وَعَدَةٌ اِعْصَارٌ لَيْسَ بَعْدًا
 لِعِصَارٍ - اس کے وعدہ کے لیے وفا
 نہیں۔ اس قول میں اِعْصَارٌ بمعنی بگولہ
 اور دوسرا اِعْصَارٌ مصدر ہے۔ اَعْصَرَ
 القَوْمُ - بمعنی بارش ہونا۔
 المَعْصَرَةُ و المَعْصَرُ - پھولنے کی جگہ۔
 کہتے ہیں: هُوَ كَرِيْمٌ المَعْصَرُ -
 سوال کے وقت سختی ہے۔
 المِعْصَرُ و المِعْصَرَةُ - انگوڑ وغیرہ کے
 پھولنے کا آلہ۔
 المِعْصَارُ - وہ چیز جس میں کچھ پھولیں۔
 المِعْصِرَاتُ - بادل۔
 العُصْعُصُ و العُصْعُصُ - دُم کی بڑی۔
 ج۔ عَصَاعِيْصٌ - العُصْعُصُ - کم
 بجلی والی اور۔ اَكْرَمُ مَزَاجٍ مَضْبُوْبٌ -
 العُصْعُصُ - دُم کی بڑی۔ ج۔ عَصَاعِيْصٌ -
 عَصَفَتْ رَسٌ، عَصَفَا و عَصُوفًا - الرِّيْحُ
 ہوا تیز چلنا۔ صفت عَاصِفَةٌ - و
 عَاصِفٌ - النَّاكَةُ بِرَاكِبِهَا -
 اونٹنی کا تیز لے جانا۔ الرَّجُلُ - دوڑا۔
 عَصَفَ الشَّيْءُ - مائل ہونا۔ کہتے ہیں۔

باندھنا۔ رالی فلان۔ پناہ لینا۔
 عَصَمَ دَس، عَصَمًا۔ الطَّيْبُ سَفِيدًا كَلْبًا
 والا ہونا۔
 اَعَصَمَ۔ بہ۔ پکڑنا اور لازم ہونا۔
 بِالْفَرَسِ۔ ایل پکڑنا۔ مِنَ الطَّيْبِ۔
 باز رہنا۔ الْقُرْبِيَّةُ۔ رسی سے باندھنا۔
 اَعْتَصَمَ بِهِ لِحْمًا مِنْ عَصَا جِبَالٍ
 لازم ہونا۔ بِاللَّهِ۔ اللہ کی مرہانی سے
 گناہ سے باز رہنا۔ مِنَ الضَّرِّ وَ
 الْمَكْرُوهِ۔ پناہ لینا اور باز رہنا۔
 اَلْعَصَمَةُ۔ محفوظ ہونا۔ کہتے ہیں۔ عَصَمْتُهُ
 فَا لَعَصَمَ۔ میں نے اس کی حفاظت کی
 تو وہ محفوظ ہو گیا۔
 اِسْتَعَصَمَ۔ بہ۔ مضبوط پکڑنا۔ لازم ہونا۔
 پناہ لینا۔ باز رہنا۔ بچانے والی چیز کا
 قصد کرنا۔
 الْعَصْمُ وَالْعَصْمُ۔ ہر چیز کا باقی حصہ۔
 خضاب وغیرہ کا اثر۔
 الْعَصَامُ۔ رُزْمہ، دم کا باریک حصہ۔ مِنَ
 الْقُرْبِيَّةِ۔ مشک باندھنے کی رسی۔
 مِنَ الْوَعَاءِ۔ دستہ، عمدہ مجاز آتا
 ہے، جو۔ اَلْعَصَمَةُ، عَصْمٌ، عَصَامٌ۔
 الْوَعَامِيُّ۔ عصام کی طرف نسوب ہے جو
 کہ نعمان بن منذر شاہ جو کا صاحب تھا۔
 ذَاتِ شُرَافٍ وَالَا۔ اسی سے شل ہے۔
 كُنْ عَصَاوِيًّا لَا عَقَاوِيًّا۔ عصام کی
 طرح ذاتی شرافت پیدا کرو، آباؤ اجداد
 پر فخر نہ کرو۔
 الْعِصْمَةُ۔ بجاؤ، گناہوں سے بچنے کا نکتہ۔
 الْعِصْمَةُ، كَلْبِيَّةٌ، پٹہ۔ جو۔ عَصَمٌ
 اَعَقَمَ، عِصْمَةٌ، جِجَاعُ عَصَامٍ۔
 الْعِصْمَةُ۔ گلوبند، پٹہ۔
 الْاَعْصَمُ۔ وہ جانور جس کے اگلے دو
 پاؤں سفید ہوں یا ایک سفید ہو۔
 مَوْنُكُ، عَصَمَاءُ۔ جو۔ عَصَمٌ۔

العصية۔ پید، ہر چیز کا باقی حصہ۔ خضاب
 و طبرہ کا اثر۔
 الْعَصُومُ وَالْعِصْمُومُ۔ بہت کھانے والا۔
 رذکر و مؤنث،
 الْعَاوِمَةُ۔ مدینہ منورہ کا لقب۔ دارالسلطنت
 جو۔ عَوَايِمُ۔
 الْبِعْصَمُ۔ کالی۔ جو۔ مَعَاوِمُ۔
 الْمُعْتَصِمُ۔ پناہ لینے کی جگہ۔
 عَصَا يَعْصُو عَصْوًا۔ الرَّجُلُ۔ لاشعری
 سے مارنا۔ الْجَوْحُ۔ زخم کو باندھنا۔
 الْقَوْمُ۔ نیکی یا بدی پر جمع کرنا۔
 عِصِي يَعْصِي عَصًا۔ لاشعری لیبنا۔ و
 اَعْتَصَى بِالسَّيْفِ۔ تلوار مارنا۔
 اَعْتَصَى الشَّيْءَ۔ کسی چیز کو لاشعری بنانا۔
 اَعْتَصَى عَلَيْهِ۔ ٹیک لگانا۔
 عَصَى تَعْوِيَّةً۔ فَلَانَا الْعَصَا۔ لاشعری
 دینا۔
 اِعْطَى اِعْصَاءً۔ الْكُرْمُ۔ شاخوں کا ٹکنا
 اور پھل نہ آنا۔
 عَامَاةٌ مُعَاصَاةٌ۔ قَحَاةٌ۔ لاشعری سے
 مار پیٹ کی اور غالب ہو گیا۔
 الْعَصَا۔ لاشعری، سہارے کی چیز مؤنث، جو
 عِصِيٌّ وَعِصِيٌّ، اَعْصَى، اِعْصَاءٌ
 اور تشبیہ عَصَوَانٍ ہے۔ الْعَصَاةُ
 اجتماع، جماعت، پنڈلی کی بڑی زبان
 کہتے ہیں۔ بَغْيُ الْعَصَا۔ جماعت کی
 مخالفت کی۔ اَلتَّفَقُّتُ عَصَا الْقَوْمِ۔
 آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ قَوِيَّةٌ لِي
 الْعَصَا۔ متنبہ کرنا۔ قَطْرَةٌ لِي الْعَصَا
 عنده۔ ظاہر کرنا۔ قَرَعَةُ بَعْصَا
 السَّلَامَةِ۔ حد سے زیادہ بلا مت کرنا
 اَلتَّقِي الْمَسَافِرُ الْعَصَا۔ مسافر اپنے
 مقام پر پہنچ گیا۔ اَلتَّقِي بَعْصَا الرِّجَالِ
 اس نے اقامت کی۔ النَّاسُ عِصِيَّةٌ
 الْعَصَا۔ لوگ ڈنڈے سے ڈرتے ہیں

الْعِصِيَّةُ۔ عصا کی تصغیر، چھوٹا ڈنڈا۔
 عِصِي يَعْصِي عَصًا وَمَعْصِيَّةً۔
 سَيِّدَةٌ۔ نافرمانی کرنا۔ تالفت کرنا،
 دشمنی کرنا۔ صفت عَاوِيں۔ جو۔ عَصَاةٌ
 وَعَاوُونَ۔ الطَّائِرُ۔ پرند کا اڑنا۔
 الْعِرْقُ۔ خونی نہ بند ہونا۔
 قَامَاةٌ مُعَاصَاةٌ وَتَعْصِيٌّ۔ عَلَيْهِ۔
 تَعْصِيًّا۔ نافرمانی کرنا۔ تَعْصَى الْأَمْرُ
 دھوار ہونا۔
 اِعْتَصَمْتُ اِعْتِصَاءً۔ التَّوَاةُ۔ گٹھلی کا
 سخت ہونا۔
 اِسْتَعَصَى۔ سَيِّدًا، مَالِكٌ كِي نافرمانی کرنا
 ۔ الشَّيْءُ عَلَيْهِ۔ دشوار ہونا۔ سخت
 ہونا۔
 الْعِصِيُّ۔ نافرمان، گنگار۔ جو۔ عِصِيُونَ
 وَاعْصِيَاءُ۔
 الْعِصَاءُ۔ نافرمان، گنگار۔ جو۔ عَصَاؤُونَ
 الْمَعْصِيَّةُ۔ گناہ، لغزش۔ جو۔ مَعَاوِي
 عِطَّةٌ دَس، عَصَاوُونَ عِصَاءً۔ دانت سے
 پکڑنا، کاٹنا۔ یا اور علی کے صلہ کے ساتھ
 عَصَى بِهِ۔ اور عَصَى عَلَيْهِ آتا ہے۔
 الْاَلْمَانُ۔ سخت ہونا۔ الشَّيْءُ۔
 لازم ہونا اور پکڑنا۔
 عِصْفُ۔ بہت کاٹنا۔
 عَاوَتُ مَعَاوَةَ وَعِصَاوَاتُ الدَّوَلَتِ
 جانوروں کا ایک دوسرے کو کاٹنا۔
 اَعَصَهُ الشَّيْءُ۔ دانت سے پکڑنا۔
 اَعْطَسَ الْبَيْتُ۔ بہت پانی والا ہونا۔
 تَعَاوَا۔ ایک دوسرے کو دانت سے کاٹنا۔
 الْعِصْفُ۔ بخل، خبیث، خیل، بہت قوی
 مصیبت، ہمسرا، مال کا منتظم۔ جو۔
 اَعْصَانٌ وَعُصُوفٌ۔ الْعِصْفُ۔
 چھوٹا کانٹے دار درخت۔ جو۔ اَعْصَانٌ
 الْعِصْفُ۔ جو، گیہوں، اسپت، سوکھی گھاس
 چھوٹا کانٹے دار درخت۔

الْعَضَادَةُ - من الطريق - راه کا پہلو۔
عَضَادَتَا الْبَابِ - دروازے کے دونوں
بازو۔ کہتے ہیں: فُلَانٌ عَضَادَةُ فُلَانٍ
مددگار۔

الْعَضَادِيُّ وَالْعَضَادِيَّةُ وَالْعَضَادِيَّةُ
موتے بازو والا۔

الْعَضِيدُ - کھجور کے درختوں کی قطار۔ درخت
سے کٹا ہوا۔ جہ۔ عَضَادَانٌ۔

الْأَعْضُدُ - دبلے بازو والا۔ جس کا ایک بازو
چھوٹا ہو۔

الْعَوَاضِدُ - کھجور کے درخت جو نہر کے دو
جانب ہوں۔

الْمِعْضُدُ - درخت کانٹے کی درانٹی۔ جہ۔
مِعَاضِدُ۔

الْمِعْضَادُ - بازو بند، بڑی کانٹے کی بڑی
چھری، درانٹی۔

الْمِعْضَدَةُ - تھیلی، بٹوہ۔

الْعَضْرُسُ وَالْعَضَارِسُ - سردی، اولے،
برف، ٹھنڈا۔ بیٹھا پانی۔ گورخر۔ جہ۔

عَضَارِسُ۔

الْعَضْرُوطُ - کھانے پر مزدوری کرنے والا۔ جہ۔
عَضَارِطٌ وَعَضَارِطَةٌ۔

الْعَضْرُوطُ وَالْعَضْرُوطُ - کینہ۔

قَوْمٌ عَضَارِيطٌ - فقیر لوگ۔

عَضَلَنَّ رَجُلًا عَضَلًا - علیہ تنگی کرنا۔

مَنَعَ كَرْنَا - بوا الامر۔ سمیت ہونا۔

- الرَّجُلُ عَضَلَهُ بِرَمَانًا -

عَضَلَنَّ رَجُلًا عَضَلًا رَجُلًا عَضَلًا وَ

عَضَلًا وَعَضَلَانًا - المراءاة عَيْنَ

النَّوْاجِرِ - نکاح سے روکنا، منع کرنا۔

الرَّجُلُ - رنڈوا کر دینا۔

عَضَلَنَّ رَجُلًا عَضَلًا - بہت سخت گوشت

والا ہونا۔ پٹلی کا عضلہ موٹا ہونا۔ صفت

عَضَلٌ وَعَضَلٌ۔

عَضَلَنَّ - علیہ تنگی کرنا۔ حصول مقصد میں

الْوَضَائِرُ - چکی کا پاٹ، دھول کا پتھر
عَضَدَ اللَّهُ عَضَدًا - مدد کرنا۔ بازو بہارنا
عَضَدَ رَجُلٌ عَضَدًا - الشَّجَرَةَ - درخت
کو درانٹی سے کاٹنا۔ اونٹوں کے لیے پتے
جھاڑنا۔

عَضَدَ رَجُلٌ عَضَدًا وَعَضَدَ عَضَدًا - بازو
میں درد ہونا صفت عَضَدٌ - مؤنث
عَضِدَةٌ۔

عَضَدًا وَعَضَدًا - السَّهْمُ - تیرکا دائیں
بائیں نکلنا۔

عَاضِدًا مِعَاضِدَةً - مدد کرنا۔

تَعَاضِدُوا - ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

رَاعَتْنَاهُ وَتَعَصَّدَتْ - بخل میں لینا۔

رَاعَتْنَاهُ - بہ۔ مدد مانگنا، مضبوط ہونا۔

رَاعَتْنَاهُ - الشَّجَرَةَ - درخت کو درانٹی

سے کاٹنا۔ الثَّمَرَةَ - پھل چننا۔

العَضُدُ - مہم۔ مددگار۔ گورخر۔ جہ۔

أَعْضَادُ۔

العَضُدُ وَالْعَضُدُ وَالْعَضُدُ - بازو۔

جہ۔ أَعْضَادُ وَأَعْضُدُ۔

عَضُدٌ كُلُّ شَيْءٍ وَعَضُدَةٌ وَأَعْضَادَةٌ۔

وہ چیز جس سے عارت کے آس پاس

کو مضبوط کیا جائے۔ جیسے عرض کے

کنارے پتھر کڑے کرتے ہیں۔ عَضُدٌ

الطَّرِيقِ - راہ کا پہلو۔ کہتے ہیں۔

فُتَّ فِي عَضِيدِهِ - اپنے مددگاروں

سے جدا ہو گیا۔

العَضُدُ - کٹا ہوا درخت، قوت۔ اونٹ

کے بازو کا ایک مرض۔ جھاڑ سے ہونے

پتے۔

العَضَادُ - بہت قدرندہ اور مؤثر، موٹے

بازو والا۔

العَضَادُ - بازو بند، تعویذ وغیرہ جو بازو

پر باندھے ہیں۔ درانٹی، اونٹ کے

بازو کا نشان۔

العَضَائِنُ - جو چیز دانت سے کاٹی اسکاٹ
جائے، موٹا درخت۔

العَضَائِنُ - دانت سے کاٹنا، کہتے ہیں۔
" هُوَ عَضَائِنٌ عَيْشٍ، سَمْتٌ زَنْجٍ "

پر صابر ہے۔

العَضِيضُ - مہم۔ سمیت کاٹ، ہمسر۔
العَضُوفُ وَالْعَضَائِنُ - بہت کانٹے والا۔

پتھر عَضُوفٌ - بہت پانی والا کواں۔

العَضَائِنُ وَالْعَضَائِنُ - ناک کا اوپر

والا سمیت حصہ۔

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - قطع کرنا۔

السُّرْعَى - حرکت سے روکنا۔

بِالرَّمِيحِ - نیزہ مارنا۔

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا - عَضِبَ رَجُلٌ عَضِبًا -

مائل ہونا۔ عَصَلُ الْمَرْأَةِ عَيْنُ
 التَّوَادُّعِ۔ نکاح سے روکنا۔ السَّكَاةُ
 تنگ ہونا کہتے ہیں عَصَلَتِ الْأَرْضُ
 بِأَهْلِهَا۔ کثرت کی وجہ سے زمین کا تنگ
 ہونا۔ عَصَلَتِ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ دَجَاجَتِهِ
 وَغَيْرُهَا مِنَ الْخِيَوَانِ يُولِدُهَا۔ وضع
 حمل کا دشوار ہونا۔ مَفَتٌ مُعْصِلٌ۔
 أَعْصَلَ الْأَمْرُ۔ سخت ہونا۔ مشکل ہونا۔
 أَعْصَلَتِ الْمَرْأَةُ وَنَحْوَهَا مِنَ
 الْخِيَوَانِ يُولِدُهَا۔ بچہ جننے میں مشکل
 ہونا۔ مَفَتٌ مُعْصِلٌ وَمُعْصِلَةٌ۔ چ
 مَعَاضِيلُ۔ اَعْصَلَ بِهِ الْأَمْرُ۔
 مشکل ہونا۔ جلد تنگ ہونا۔ الْأَمْرُ
 فَلَانًا۔ غالب آنا اور عاجز کر دینا۔
 أَعْصَلَنِي فَلَانٌ۔ کام کا تھکا دینا۔ عاجز
 کر دینا۔ وَتَعْصَلُ، الدَّاءُ الْأَطْبَاءُ
 بیماری کا لیسوں کو عاجز کر دینا۔
 الْعِضْلُ۔ بست بُرا۔ بڑا چالاک۔
 الْعِضْلُ۔ بڑا چالاک۔ ج۔ عِضْلَانٌ۔
 الْعِضْلَةُ۔ سخت گوشت، گوشت اور پیٹھے کا
 مجموعہ۔ ج۔ عِضْلٌ وَعِضْلَاتٌ۔
 الْعِضْلَةُ۔ درخت کینر کی مانند ایک
 درخت۔
 الْعِضْيَةُ۔ عضلہ۔ ج۔ عِضَائِلُ۔
 الْعِضْلَةُ مَمِيتٌ۔ ج۔ عِضْلٌ وَعِضْلٌ۔
 الْعِضَالُ۔ سخت۔ دَاءٌ عِضَالٌ۔ عاجز کر
 دینے والا مرض۔
 الْمُعْصِلُ۔ نا۔ بست بُرا۔ دَاءٌ مُعْصِلٌ
 تھکا دینے والا یا لا علاج مرض۔
 الْمُعْصِلَةُ۔ مُعْصِلٌ كَامُوتٌ، مشکل
 پیچیدہ مسئلہ۔ ج۔ مُعْصِلَاتٌ۔
 الْمُعْصِلَاتُ۔ سختیاں۔
 الْمُعْصِلَةُ وَالْمُعْصِلَةُ بِمِثْلِهَا مَعَالِمٌ
 الْعِضْمُ۔ کمان کا قبضہ۔ ج۔ عِضَامٌ۔
 گیہوں صاف کرنے کا شاخ دار آلہ۔ ج۔

عُضْمٌ وَأَعْقِمَةٌ۔
 عَضَهُ رَفٌ، عَضَهَا وَعَضَهَا وَعَضَهَا
 وَعَضِيهَةٌ۔ جھوٹ بولنا۔ چغل خوری
 کرنا۔ جادو کرنا۔ عَضَهَا، البعيرُ۔
 بول کا درخت کھانا۔ الرَّجُلُ صَرِيحٌ
 گالی دینا، بہتان لگانا۔
 عَضَهُ رَسٌ، عَضَهَا وَأَعَضَهُ۔ بہتان
 لگانا۔ جھوٹ بولنا۔
 الْعَاضَةُ۔ نا۔ جادوگر۔ حَيَّةٌ عَاضَةٌ
 عَاضِيهَةٌ۔ وہ سانپ جس کا ڈسافورا
 مرجائے۔ ج۔ عَوَاضَةٌ۔
 الْعِضَةُ۔ جھوٹ، جادو۔ ج۔ عِضُونٌ۔
 الْعِضَاءُ۔ ہر بڑا کانٹے دار درخت۔ واحد
 عِضَاهَةٌ وَعِضَةٌ کہتے ہیں۔ فَلَانٌ
 يَنْتَجِبُ غَيْرَ عِضَاهِهِ، غیر کے شعر
 کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔
 الْعِضَاهِيُّ وَالْعِضِيهِيُّ وَالْعِضْوِيُّ۔
 مِنَ الْإِبِلِ۔ وہ اونٹ جو کانٹے دار
 درخت کھائے۔ مَكَانٌ عِضَةٌ۔ کانٹے
 دار درختوں والی جگہ۔
 الْعَاضِيهَةُ۔ مُوتٌ عَاضِيهَةٌ۔ جھوٹ،
 بہتان۔ ج۔ عَوَاضَةٌ۔
 عِضَا يَعْضُوا عِضْوًا وَعِضِيًّا تَعْصِيهَةً۔
 الشَّيْءُ بِمُتَرَفِّقٍ كَرْنَا۔ الثَّاقَةُ۔ جدا جدا
 کرنا۔ عِضِي الْقَوْمُ۔ مبرنا۔
 الْعِضْوُ وَالْعِضْوُ۔ بدن کا حصہ۔ عضو کسی
 جماعت کا ممبر۔ ج۔ اَعْضَاءٌ۔
 الْعِضَّةُ۔ فرقہ، ٹکڑا، جھوٹ۔ ج۔
 عِضُونٌ۔
 رَجُلٌ عَاطِنٌ۔ مرد خوش عیش، مرفہ الحال۔
 عِطَارٌ، عِطَاوٌ وَعِطَطٌ وَاعْتِطَ۔
 الثَّوْبُ كِطْرًا يَهْرَأُ۔ صفت مفعول۔
 عِطِيطٌ۔ عِطَا الرَّجُلَ إِلَى الْأَرْضِ
 بچھاڑ دینا اور غالب ہونا۔
 الْعِطُّ۔ العودُ۔ لکڑی کا مڑنا۔ وَتَعَطَّطَ،

الثَّوْبُ كِطْرًا كَأَيْطَانًا۔
 الْعِطَاطُ۔ بڑا بہادر شیر۔
 الْأَعْطُ۔ لمبا۔
 عِطِبَ رَسٌ، عِطِبًا وَاعْتِطِبَ۔ ہلاک
 ہونا۔ الْفَرَسُ وَنَحْوُهُ كَهْرُطٍ وَغَيْرِهِ
 كَاتِفْنَا۔ عِطِبَ عَلَيْهِ۔ سخت غضبناک
 ہونا۔ رَاعِطِبَ النَّارُ۔ آگ کو صیقل
 میں لینا۔
 عِطِبَ رَسٌ، عِطِبًا وَعِطُوبًا۔ الْقَطَنُ۔
 روئی کا نرم ہونا۔
 عِطِبَ۔ الشَّرَابُ۔ خوشبودار کرنے کی
 تدبیر کرنا۔ الْكُومُ خَوْشَةُ الْكُورِ كِ
 گرہیں ظاہر ہونا۔
 أَعْطَبَهُ۔ ہلاک کرنا۔
 الْعُطْبُ وَالْعُطْبُ۔ روئی۔
 الْعُطْبَةُ۔ روئی کا ایک ٹکڑا۔ صیقل جس
 میں آگ لی جائے کہتے ہیں۔ أَجْدَرِيحٌ
 عُطْبِيهٌ۔ جلی روئی کی بو محسوس کرتا
 ہوں۔
 الْمُعْطِبُ۔ فقیر۔
 الْمُعْطِبُ۔ جلنے ہلاکت۔ ج۔ مَعَاطِبُ۔
 الْعُطْبِيُّ وَالْعُطْبِيُّ وَالْعُطْبُولَةُ وَ
 الْعِطْبُولُ۔ جوان۔ خوبصورت۔ دراز
 گرون عورت۔ ج۔ عِطَابِيلٌ وَعِطَابِيلُ
 الْعُطْبِيُّ وَالْعُطْبُولُ۔ دراز گرون بہن۔
 عِطْرٌ رَسٌ، عِطْرًا۔ خوشبودار ہونا۔ صفت
 عِطْرٌ۔
 عِطْرَةٌ۔ خوشبودار کرنا۔
 كَعِطْرٍ وَاسْتَعِطْرَ۔ خوشبودار ہونا۔
 تَعَطَّرَتِ الْبَيْتُ۔ بغیر نکاح کے والدین
 کے پاس رہنا۔
 الْعِطْرُ۔ خوشبو، ایک قسم کی نبات۔ ج۔
 عِطُورٌ۔
 الْعَاطِرُ۔ عطر بند کرنے والا۔ زیادہ عطر
 لگانے والا۔ ج۔ عِطْرٌ۔

العَطَّارُ: بہت خوشبودار۔ عطریچہ والا۔ اس
پیشہ کو العطَّارۃ کہتے ہیں۔
المِعْطَارُ والمِعْطَرُ: بہت خوشبودار۔
رند کروٹ کے لیے،
عَطَّارٌ: بدستارہ، فارسی میں اسے دیر
فلک کہتے ہیں۔ (منعوم اور غیر منعوم
دونوں طرح آتا ہے،
عَطَسَ رن من، عَطَسًا و عَطَّاسًا: چھینکنا
- الصُّبْحُ: پوچھنا۔ روشن ہونا۔
کہتے ہیں: عَطَسَ فلانٌ و عَطَّسَتْ
بِهِ اللُّجْمُ: یعنی مر گیا۔
عَطَسَ: چھینکنا۔
العَاطِسُ: نا۔ سامنے سے آنے والا، ہرن
صبح۔
العَاطِسُ: ناس عوام عَطَّسُ کہتے ہیں
ایک نموس چڑیا ہے۔
المُعْطَسُ والمُعْطَسُ: ناک۔ ج۔
مَعَاطِسُ: کہتے ہیں: اُرْعِمَتْ
المَعَاطِسُ و ظمن مغرب ہو گئے۔
عَطِشَ رن، عَطَّشًا: پیاسا ہونا۔ اَلْيَبُ
مستحق ہونا۔ صفت عَطَّشَانٌ۔ ج۔
عَطَّشَ رن، عَطَّشِي و عَطَّاشِي مُرْتَبِ
عَطَّشِي و عَطَّشَانَةٌ: ج۔ عَطَّاشِي
أَعْطَشَهُ و عَطَّشَهُ: پیاسا کرنا۔ أَعْطَشَ
الْحَبْلُ: پیاسے ماند والا ہونا۔
عَاطِشَةٌ: کَعَطَّشْتُهُ: پیاسے لگنے میں
فلہ کرنا اور غالب ہونا۔ صفت مفعول
مَعْطُوشٌ۔
كَعَطَّشِي: پیاسا بننا۔
العَطِشُ و العَطَّشُ: پیاسا۔ مُرْتَبِ
عَطَّشَةٌ و عَطَّشَانَةٌ۔
العَطَّاشِي: ایک بیماری جس میں پیاس
نہیں لگتی۔
المُعْطَشُ: پیاس کا وقت۔ ج۔ مَعَاطِشُ۔
المُعْطَشَةُ: زمین جہاں پانی نہ ہو۔ ج۔

مَعَاطِشُ -
المِعْطَاشُ: بہت پیاسا (رند کروٹ)،
عَطَّعَ القومَ عَطَّعَةً: رطان وغیرہ میں
بیخ پکار کرنا۔ عَطَّعَ الكلامَ: گنگو
کو خلط خلط کر دیا۔
عَطَّعَ رن، عَطَّعًا و عَطَّعُونَ: اَلْيَبُ۔
مائل ہونا۔ علیہ۔ مہربانی کرنا۔ عنہ
پہرنا۔ عَنِ الأَمْرِ: بٹا دینا۔
عَطَّعَ العِثَانَ: لگام پھیرنا۔ کَلِمَةٌ
عَلَى الأُخْرَى: حروف عطف سے ایک
کلمہ کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا۔
الوَسَادَةُ: تکیہ کو دوہرا کرنا۔ الشَّيْءُ
جھکانا ہونا۔ عَطَّعَتِ النَّاكَةُ عَلَى
وَلَدِهَا: ادٹنی کا اپنے بچہ پر مہربان
ہونا۔ اور اس کا دوہرا ہونا۔ عَطَّعَتْ
اللَّهُ قَلْبَهُ و رِقْلَهُ: دل کو مہربان
کر دینا۔
عَطَّعَ رن، عَطَّعًا: لمبی پلوں والا ہونا۔
عَطَّعَتْ: الوَسَادَةُ: تکیہ کو دوہرا کرنا۔
الناكَةُ عَلَى وَلَدِهَا: مہربان کرنا۔
الشَّيْءُ: جھکانا۔
عَطَّعَتْ: جھکانا اور مائل ہونا۔ عَلَيْهِ۔
رعمل ہونا اور احسان کرنا۔ الثَّوْبُ
وہاں الثَّوْبُ: اولہ حنا۔
أَعْطَّعَتْ: الثَّوْبُ: اولہ لینا۔
أَلْعَطَّعَتْ: مرنا۔
تَعَاطَّعَتْ: القوم: بعض کا بعض پر مہربانی
کرنا۔ فی مَشِيئَتِهِم: ناز کے ساتھ
سر ہلاتے چلنا۔
أَسْتَعَطَّعَهُ: مہربانی طلب کرنا۔ رعم ہا ہونا۔
العَطَّعُ: کمی، جھکاؤ۔
العَطَّعُ: بفل۔ میں کئی شے۔ ہر چیز کا کنارہ
یعنی القوم۔ کمان کا کنارہ۔
عَطَّعًا الرَّجُلُ: مرد کے دونوں پہلو۔
ج۔ أَعْطَافٌ و عَطَّافٌ و عَطَّوْفٌ۔

کہتے ہیں: تَمَنَّى عَطْفًا و عَطْفَةً: مجھ سے
اعراض کیا اور نہ یادگی بھولنے پر
عَطْفِيہ: بگربے، مہربانی، عَطْفِيہ
تکبر کے ساتھ چلا۔
العَطْفَةُ: انگور کی پیل کے نکلے ہوئے حصے۔
العَطْفُ: پلوں کی درازی۔ درخت پر لپٹنے
والی پیل۔ عشق بیہوشی۔ واحد عَطْفَةٌ۔
العِطَافُ: چادر، ازار، تلوار۔ ج۔ عَطَّافٌ
وَأَعْطَفَةٌ۔
العَاطِفُ: نا۔ ازار۔ گھوڑے کا چھٹا گھوڑا۔
جہ۔ عَطْفٌ و عَطْفَةٌ: و العَاطِفُ
عِنْدَ النَّحَابِ: حروف عطف، جیسے
وَأُوْرِنَا، ع، حقی وغیرہ۔
العَاطِفَةُ: مُرْتَبِ عَاطِفٌ: شفقت۔ ج
عَاطِفَاتٌ و عَوَاطِفٌ۔
العَوِطِيُّ: مَن النِّسَاءِ: نازک فرمانبردار
عورت۔
العَوِطِيَّةُ: کمان۔ ج۔ عَطَّائِفٌ۔
العَطْوُفُ: مہربان، محسن۔ اِمْرَأَةٌ عَطْوُفٌ
خاوند اور بچوں سے محبت کرنے والی۔
ج۔ عَطْفٌ: ر۔ العَاطُوفُ،
پسند جس میں ٹیڑھے سرے کی کڑی لگی
ہو۔ ج۔ عَوَاطِفِيَّةٌ۔
قوس عَطْفِيَّةٌ: ٹیڑھی کمان۔
المِعْطَفُ: چادر، تلوار۔ ج۔ مَعَاطِفٌ۔
مُنْعَطِفُ الوَادِي و مَنْعَطِفَةٌ: وادی
کا موڑ۔
المُعْطَفُ: گلا۔ ج۔ مَعَاطِفٌ۔
عَطَّلَ رن، عَطَّالًا: الرَّجُلُ مِنَ المَالِ
و الأَدَبِ و كذا القوسُ مِنَ الوَكْرِ
و الفرسُ مِنَ التَّسِينِ: خالی ہونا۔
صفت۔ عَاطِلٌ، عَطَّلٌ۔
ج۔ أَعْطَالٌ۔
عَطَّلَتْ رن، و عَطَّطَتْ: عَطَّالًا و
عَطَّوْلًا: المَرَأَةُ: عورت کا بے زیور

ہونا۔ مفت عا ط ل و عا ط ل ک و
 ع ط ل ج۔ کا ط ل ا و ع و ا ط ل و
 ع ط ل و ا ع ط ا ل۔
 ع ط ل د ن، ع ط ا ل ہ۔ ال ر ج ی ز۔ م ر و د کا
 بیکار ہونا۔
 ع ط ل۔ الش ی بیکار چھوڑ دینا۔ الم ر ا ک ا
 ز ی و د ا ت ا ر ل ی ن ا۔ الق و س۔ ک ا ن سے
 ت ا ن ت ک ا ل ل ی ن ا۔ ع ط ل ت ال ا ی ل۔
 ب ی ج و ا ہ کے ہونا ع ط ل ال ا ی ل۔
 ب ن چ ر و ہ کے چھوڑ دینا۔ ال ی س ت۔
 ک ن یں پ ر ج ا ن ا چھوڑ دینا، ہ ر و ہ چ ی ز ج س کو
 ر ل ی ج ک ر کے چھوڑ دیا ہو۔ اس پ ر ت ع ط ی ل ک ا
 ا ط ل ا ق ہوتا ہے۔ ک تے ہ یں: ع ط ل ت
 ال ح د و و د و ال ق و د۔ م ر ح یں ب ل ا
 م ا ف ظ چھوڑ دی گئیں۔ ع ط ل ت
 الم ز ا ی ع۔ ک م ی ت ی اں ج م ل ہ و ی ن یں
 گئیں۔ ع ط ل ت الت ر ع ی ت ہ ر ع ی ت
 ب ی ج و ا ل کے رہی، ایسی ق و م کو م ع ط ل و ن
 ک تے ہ یں۔
 ت ع ط ل۔ ب ی ک ا ر ہونا۔ ت ع ط ل ت و ا س ت ع ط ل ت۔
 الم ر ا ک ا۔ ع و د ت بے ز ی و د ہونا۔
 الع ط ل۔ گ ل ا، ش م ی ک تے ہ یں: م ا ا ح س ن
 ع ط ل ہ۔ اس کا ت د ک ی س ا م و د ل ہ یں۔
 الع ط ل ک۔ ب ی ک ا ر ی۔
 الع ط ی ل و الع ط ی ل۔ م ذ ک ر ک ہ ر کے خ ر شے
 ک ا ت م ہ۔ الع ط ی ل۔ خ ر ب ص و ر ت ل ی
 گ ر و ن و ا ل ا۔
 الع ط ل ا و۔ م ن ال ی س ا و۔ بے ز ی و د ع و د ت۔
 الم ع ط ا ل۔ م ن ال ی س ا و۔ بے ز ی و د
 رہنے والی ع و د ت۔
 الت ع ط ی ل۔ بے ک ا ر رہنا۔ م ن ہ ب
 الت ع ط ی ل۔ م ف ا ت ال ی کے نہ م لنے
 و ا ل و ک ا ن ذ ہ یب۔
 الم ع ط ل ک۔ ن ذ ہ یب ت ع ط ی ل کے م ا ننے والے۔
 ا ع ط ل۔ ال ر ج ل۔ ب ل ا ک ہونا۔ م ف ت

ع ا ط ل و ع و ط ل ج۔ ع ط ل۔
 الع ط ل۔ د م ن ہ ر ت ر و ی۔

ع ط ن د ن ض، ع ط ن ا۔ ال ی ج ل د ا۔ ک ا ل ک و
 گ ر ب ی ا ک م یں م ا ل ا۔ م ف ت م ف و ل۔
 ع ط ی ن و م ع ط و ن۔ ر۔ ع ط و ن ا،
 ا و ن س ی ر ا ب ہ ر ک ب ی م ت ا۔ م ف ت۔
 ع ا ط ی ن۔ ج۔ ع ط ا ن و ع ط و ن و
 ع ط ل ہ۔ م و ن ت ع ا ط ل ہ۔ ج۔
 ع ا ط ا ت و ع و ا ط ی ن و ع ط و ن۔
 ع ط ن د س، ع ط ن ا۔ ال ی ج ل د ا۔ ک ا ل ک ا ن ک
 ی ا گ ر یں ر ٹ ن ا۔ م ف ت ع ط ی ن۔
 ع ط ن۔ ال ی ج ل د ا۔ ک ا ل ک و ن ک ی ا گ ر یں
 ل ا ن ا ر۔ و ا ع ط ن، ال ا ی ل۔ د و ب ا ر ہ
 پ ا ن پ ل ا نے کے ل یے آ ر ا م د ی ن ا۔ ع ط ن
 ل ا ی ل۔ ا و ن ت کے بیٹھنے ک ر ج گ ہ ن ا ن ا۔
 ع ط ل ت ال ا ی ل۔ ا و ن ت ک ا س ی ر ا ب ہ ر
 ک ر بیٹھنا۔
 ا ع ط ن۔ ال ی ج ل د ا۔ ک ا ل ک ا ن ک ی ا گ ر
 یں ر ٹ ن ا۔

الع ط ن و الم ع ط ن و الم ع ط ن۔ ا و ن
 کے بیٹھنے کی ج گ ہ، ح و س کے آ س پ ا س
 ب ک ر یں کے بیٹھنے کی ج گ ہ۔ ج۔ م ع ا ط ی ن۔
 ال ع ط ا ن۔ و ہ گ ر ب ی ا ک م ج س یں ک ا ل ک و
 ل ا ا ہ ا نے ت ا ک ہ ہ ا ل ا ل گ ہ و ہ ا ن یں۔
 ر ج ل ع ط ی ن و ع ط ی ت ہ۔ ب د ہ و ا ل ا م ر و۔
 ع ط ا ی ع ط و ا ع ط ل ا۔ الش ی و ا ل ی ہ۔ ل ی ا۔
 ال ی ہ ی د ہ۔ ب ل ن د ک ی ا۔
 ع ط ل ک و ط ی ل ہ۔ ال ر ج ل۔ ج ل د ی ک ر ا ن۔
 خ ر م ت ک ی۔
 ا ع ط ل ا ع ط ا ل۔ الش ی و ا ل ی۔ ا ع ط ل
 ال ی و ی ز۔ ا و ا ع ط ل ال ی و ی ز ی ہ ی ہ۔
 م ی ط ع ہ و ا۔
 ع ا ط ل م ع ا ط ا ل و ع ط ا ل۔ ال ر ج ل
 الش ی و ا ل ی۔ ک۔ خ ر م ت ک ی۔
 ع ا ط ل ک و ط ی ل ہ۔ ال ر ج ل۔ ل ی ا۔ ال ا م ر و

م ش غ و ل ہ و ا۔ ال ر ج ل۔ ک س ی ہ ی ز ک و ک ر تے
 کے ل یے پ اؤں کی ا ن گ ل یوں پ ر کھ ر ا ہ و ا۔ ک تے
 ہ یں: ت ع ا ط ی ن ا ک ع ط و ن ہ۔ ہ م نے
 س خ ا و ت یں م ق ا ب ل ہ ک ی ا، ت و یں غ ا ل ب آ گ ی ا
 ت ع ط ل ک و ط ی ل ا۔ ج ل د ی ک ر ن ا۔ ال ا م ر۔
 م ش غ و ل ہ و ن ا۔

ت ع ط ل و ا س ت ع ط ل ا س ت ع ط ا ل۔ ع ط ی ہ م ا ن گ ل ا۔
 الع ط ا و الع ط ا ل۔ ع ط ی ہ۔ ج۔ ا ع ط ی ت ہ۔
 ج۔ ا ع ط ی ا ت۔
 الع ط ی ت ہ ع ط ا۔ ج۔ ع ط ا ی ا و ع ط ی ا ت۔
 الع ط ل و ا و الع ط ا و ا ع ط ا۔
 ال ی م ع ط ا ل۔ ب ت د ی ن ہ و ال ا ر م ذ ک ر و م و ن ت،
 ج۔ م ع ا ط و م ع ا ط ی۔
 ع ط ل د ن، ع ط ل ا۔ ب ا ل ا ر ض۔ چ پ ک ا د ی ن ا۔
 ع ط ل ہ ال ک ر ب۔ م ک ی ف پ ہ ن ا ن ا۔
 م ا ط ل ہ م ع ا ط ل ہ و ع ط ا ل ا۔ س م ت ی ک ر ن ا۔
 م ک ی ف پ ہ ن ا ن ا۔ م ا ط ل ا ل ق و م۔ ج ن گ
 یں ا ی ک د و ر ہ پ ر س م ت ی ک ر ن ا۔
 ا ع ط ل ہ۔ ج ن گ یں س م ت ی۔

ع ط ل د ن ض، ع ط ل ا و ع ط ل ہ ا۔ ج ل د ا ک ا
 ک ا ل ک ا ع ط ک ہونا۔ ل ی د ہ ک ا۔ ک ا م ک ر لے
 نے ت ا ق ہ ک ا م و ن ا ہونا۔

ع ط ل د ن ض، ع ط ل ا۔ ع ط ل ال ع ط ی ل۔ م ر ہ
 ب ر و ا م ت ک ر ن ا۔ م و ن ا ہونا۔ م ف ت
 ع ط و ت۔

ع ط ل ہ۔ ع ن ال ی و ی ز۔ م ا ل ا ب ا م ا م ک ر ن ا۔
 ع ط ل ال ع ط ل۔ م ا د ی ب ن ا ل ا ا و ر م ا ب ر
 ب ن ا ن ا۔

الع ا ط ل و الع ط ی ل۔ ج ن گ ل ا و ع ط ک م ا ت
 یں ا ت ر لے م ا ل ا۔

ع ط ی ل ال ع ط ی ل۔ ب د خ و۔
 ع ط و ر س، ع ط ل ا۔ ال ا ن ا و۔ ب ت ن ک و ب ہ ر ن ا۔
 ا ع ط ل و ا ل ق ر ا ب۔ م ع د ہ یں ل ق ی ل ہونا۔
 اس سے ال ع ط ا ل ا س م آتا ہے۔
 الع ط و ر۔ ش ر ا ب سے ب ی ر ش م۔ ج۔ ع ط ل و

العظام - شراب کی وجہ سے امتلا۔
 عَطَطَ - التَّهْمُ - بیکار کا ہوتے ہوئے
 بیڑھا ہونا۔ الجبان۔ بڑوں کا
 لڑائی میں پیٹھ پھیرنا۔ فی الجبلی۔
 پہاڑ پر چڑھنا۔
 عَطَلْ دَنْ، وَعَطَلْ رَسْ، عَطَلَا -
 کھانل، عَطَلَّ، وَعَطَلَّ -
 الکلبُ أو الجراد - کتے یا بڑی کا
 ایک دوسرے پر سوار ہونا۔
 عَاظَلَ الشَّيْءَ - سوار ہونا۔ الکلام۔
 کلام کو معتقد لانا اور نکرار کرنا۔ الشاعِرُ
 فی العاقِبَةِ - نصیبن کرنا۔ بالکلام۔
 اپنے پر لٹ کر آئے والی بات کہنا۔
 عَطَّلَ وَكَعَطَّلَ - القومُ علیہ۔ مارنے
 کے لیے ہجوم کرنا۔ کَعَطَّلَ فی اثْرِہ۔
 تلاش کرنا۔
 العَاظِلُ وَالْعَاظِلَةُ وَالْعَطَلِيُّ - من
 الجراد۔ ایک دوسرے پر چڑھی
 ہونے والی۔
 کَعَطَلَمَ - اللیلُ بسنت تاریک ہونا۔
 العَطَلَمَةُ - تاریکی۔
 عَطَلَمَكَ، عَطَلَمَا وَعَطَلَمَةٌ - بڑا ہونا
 صفت عظیم۔ ج۔ عَطَلَمَا۔
 عِظَامٌ وَعِظَمٌ - الامرُ علیہ۔ دشوار
 ہونا اور سخت سمجھنا۔
 عَطَلَمَ دَنْ، عَطَلَمَا - الکلبُ کتے کو
 بڑی مینار۔ عَطَلَمَةُ، التَّجَلَّجُ -
 بڑی پرانا۔
 اَعَطَمَ الامرُ - بڑا ہونا۔ الشیءُ - بڑا
 کرنا۔ بڑا سمجھنا۔ اَعَطَمَ الکلبُ
 عَطَمًا - کتے کو بڑی کھانا۔ کتے ہیں۔
 " مَا یُعْظِمُنِیْ اَنْ اَفْعَلَ کَذَا " -
 مجھے ایسا کرنے سے کوئی چیز ہول میں
 بتلا نہیں کر سکتی۔
 عَظَمَةُ - تعلیم دینے والی۔ عَطَلَمَ اثَّاقًا -

بڑی بڑی کاٹ دینا۔
 کَعَطَمَ - بکھر کرنا۔
 کَعَاظَمَ - بکھر کرنا۔ کَعَاظَمَهُ الامرُ -
 بڑا ہونا کتے میں: " هُوَ امْرٌ لَا
 یَتَعَاظَمُهُ الامرُ - یہ معاملہ سب
 سے بڑا ہے۔
 اسْتَعَطَمَ - بکھر کرنا۔ الامرُ - بڑا سمجھنا۔
 انکار کرنا۔ الشیءُ - بڑا حصہ لینا۔
 العِظَمُ - بڑی۔ ج۔ اَعْظَمُ وَعِظَامٌ
 وَعِظَامَةٌ۔
 عَظَمَ الشَّيْءَ وَعِظَمَةٌ - چیز کا بڑا حصہ۔
 ج۔ اَعْظَامٌ۔
 العِظْمُ وَالْعِظْمُ وَالْعِظْمُ - بڑائی۔
 عَظْمًا الطَّيْرُ - راستہ کا درمیان
 العِظَامُ وَالْعِظَامُ - بڑا۔ مؤنث۔
 عِظَامَةٌ وَعِظَامَةٌ۔
 العِظْمَةُ - بڑی کا ٹکڑا۔
 العِظْمَةُ - من الشاعِرِ أو اللسانِ
 کلاں یا زبان کا موٹا حصہ۔ ج۔
 عِظْمَاتُ - عِظْمَاتُ القومِ -
 سواران قوم رت۔ وَالْعِظْمَاتُ وَ
 العِظْمَةُ - غزور، سخت، فز۔
 العِظَامَةُ وَالْعِظَامَةُ وَالْعِظْمَةُ وَ
 الإِعْظَامَةُ - وہ گدی جس کو موتیوں
 بڑے سرین معلوم ہونے کے لیے
 باندھتی ہیں۔
 العِظْمَةُ - مؤنث عظیم۔ سخت مصیبت۔
 ج۔ عِظْمَاتُ - عِظْمَاتُ اللہِ -
 اللہ کے بڑے بڑے امور۔
 العِظْمِيُّ - سفیدی نال کبوتر۔
 مَعَطَمٌ - الشیءُ - چیز کا بڑا حصہ۔ ج۔
 مَعَاظِمٌ - کتے ہیں۔ " اَنْ یَفْلَحَ
 مَعَاظِمٌ وَاجِبَةُ المَرَاغَاةِ " -
 فلاں کے لیے بڑے بڑے حقوق مباحی
 کی رعایت ضروری ہے۔

المُعْظَمَةُ - سخت مصیبت۔
 عَطَا یُعْطُوا عَطْوًا - فلاں۔ غمگین کرنا۔
 غیبت کرنا۔ بھلائی سے روکنا۔ زہر
 پلانا۔
 عَطَلِ یُعْطِ عَطِيًّا - فلاں۔ غمگین کرنا
 العَطَايَةُ وَالْعَطَايَةُ وَالْعِظَاءَةُ وَ
 العِظَاءَةُ - ایک ہاں اور چھپکلی کے
 مشابہ۔ ج۔ عِظَاءٌ وَعِظَاءٌ - و
 عَطَايَاتٌ وَعِظَايَا -
 عَفَّ رَمْنٌ، عَفَا وَعِفَّةٌ وَعِفَانًا وَ
 عَفَاةٌ وَعَفْفٌ - جوام یا غیر مستحسن
 کام سے رکتا۔ پاک دامن ہونا۔ صفت
 نکر عَفِيفٌ وَعِفٌّ - ج۔ اَعِفَّةٌ
 اِعْفَاءٌ وَعِظُونٌ - صفت مؤنث۔
 عَفِيفَةٌ وَعِفَّةٌ - ج۔ عَفِيفَاتٌ وَ
 عَفَائِفٌ وَعِفَائِفٌ - عَفَّ عَنِ
 کذا۔ باز رہنا۔
 کَعَفَّتْ - بتکلف پاک دامن بننا۔ سخن کے
 بقیہ دودھ کو پینا۔
 اَعَفَّ - اللہ فلاں۔ پاک دامن کرنا
 کَعَاثٌ - الناقَةُ - اونٹنی کو دوسری بار دھونا
 - المرین - علاج کرنا۔
 اَعْفَفٌ وَاسْتَعْفَفَ - عَنِ الخَبِيثِ -
 رکتا۔ البعیرُ البیہِيسُ - اونٹ کا منی
 کے اوپر اوپر کی خفک گھاس چرنا۔
 العِفَّةُ - مہر۔ پارسائی۔ پاک دامنی۔
 طہارت بدن۔
 العِفَّةُ وَالْعِفَاةُ - سخن کا بقیہ دودھ۔
 اسی سے ہے: " سَأَلَهُ فَمَا اَعْطَاةُ
 اِلَّا عِفَاةً " مانگا تو تمھوڑا دیا۔
 العِفَاةُ - دوا کہتے ہیں: " جَاءَ عَلِيٌّ
 عِفَاةً کَذَا " وہ فلاں وقت آیا۔
 عَفَّتْ عَفَّتَا رَمْنٌ، الشیءُ - مرطنا۔ ترطنا۔
 - کَلَامَةٌ وَفِي کَلَامِهِ - بوجہ لکنت
 کے بولنے میں منہ ٹیڑھا کرنا۔ صفت:

پر کھینچنا۔ فریجیلہ۔ سرین پر
لات مارنا۔

عاقصہ: کشتی رونا۔ مزاولت کرنا۔ کچھ
ہیں: بات عاقصہ الامور۔ وہ
کاموں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔

تعافس و اعتفَس۔ القوم۔ آپس میں
کشتی رونا۔

العفس۔ فی التراب۔ خاک آلود ہونا۔
فی الماء۔ پانی میں غوطہ لگانا۔

العفاس۔ فساد۔

المعفوس۔ قیدی۔

عَفَشَ رَضًا، عَفَّأً۔ الشَّيْءَ۔ جمع کرنا۔

العفاسة: بے پروا برکت آدمی۔

الوعفش۔ کمزور بصرات والا۔

عَفَصَهُ رَضًا، عَفَصًا۔ اَكْمَرْنَا۔ موڑنا۔

الرجل: کشتی میں غالب آنا۔

عَفَصَ حَقْلًا مِنْهُ۔ اس سے حق

لے لینا۔

عَفَصَ وَأَعْفَصَ۔ القارورة۔ شیشی

میں کارک لگانا۔ أَعْفَصَ الْجَبْرُ

دو شتائی میں مازو ڈالنا۔

عَفَصَ۔ الثوب۔ کپڑے کو ماروسے

رنگنا۔

عاقصہ: عاقصہ: کشتی رونا۔

العفس۔ بازو مازو کا پیر۔ وضعت بلوط۔

العفس۔ ناک کا پیرھا ہونا۔

العفس۔ کھیلا۔

العفوصة۔ کھیلا ہوا۔

العفاس۔ کاک، لاک، شیشی کا سر بند۔

عَفَطَ رَضًا، عَفَطًا، عَفِطًا، عَفَا طًا۔

العائز۔ بکری کا ریح فارغ کرنا۔

العائز۔ بیڑ کا چھینکار۔ عَفَطًا،

التراعی۔ ہونٹوں سے بکری کے گوز کی

طرح آواز نکالنا۔ عَفَطًا، عَفِطًا،

عَفِطًا، عَفِطًا، عَفِطًا، عَفِطًا، عَفِطًا،

آواز نکالنا۔ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ۔
گنت کرنا۔

العافِطُ۔ فَا۔ ر۔ والعِفْطُ، بہت گوز
مارنے والا۔

العافِطَةُ۔ مؤنث عاقط۔ بیڑ کہتے ہیں
"مَالَهُ عَافِطَةٌ نَافِطَةٌ"۔ اس کے

ہاں مد بیڑ ہے، نہ بکری یعنی کچھ بھی

نہیں ہے۔

الأعْفَطُ۔ بیوقوف۔

العفاط والعفاط والعفط۔ بکلا

گنت والا۔

عَفَقَ رَضًا، عَفَقًا۔ الرجل۔ غائب ہونا

بلا ضرورت آنا جانا۔ تیز جانا۔ محوڑا

سونا۔ پھر جاگنا پھر سونا۔ عَفَقَهُ۔

بالتوسط۔ کورے سے بہت مارنا۔

عَنِ الْأَمِيرِ۔ رُكْنَا۔ العَمَلُ

کام کو ادھورا کرنا۔ الشَّيْءَ۔ جمع کرنا۔

۔ عَلَيْهِ الْقَيْدُ۔ فُكَّرَ كُورَهِنَا۔

الربيع الشَّيْءَ۔ پراگندہ کرنا۔ عَفَقَ

الجباز۔ گدے کا گوز مارنا۔

عَفَقَ۔ العنم۔ لَمَعَتْهَا عَلَى بَعِينٍ۔

بکریوں کو جمع کرنا۔

عَافَقَهُ مَعَاقِفَةً وَهَفَاقًا۔ قَرِيبٌ دِينًا

عَافَقَ الدَّائِبُ الْعَنَمَ۔ بکریوں کو

آگے جاتے بیڑیہ کا نقصان پہنچانا۔

أَعْفَقَ۔ بلا ضرورت کثرت سے آنا جانا۔

كَعْفَقِي۔ ہم۔ پناہ لینا۔

أَعْفَقِي۔ القوم بالشَّبْوَبِ۔ تلوار بازی

کرنا۔ الْأَسَدُ قَرِيبًا كَلَامًا سَخِيرًا

فُكَّرَ كُورَهِنَا۔

أَعْفَقَ۔ فی حاجتہ۔ جلدی کرنا۔

العفاقة۔ دبر۔

رجل وعفان الیاریا۔ بہت طاقت

کرنے والا۔

المُعْفِقُ۔ پانی پر سے واپس ہونے والا۔

عَفَكَ رَضًا، عَفَكَ۔ الكلام۔ سیدھی طرح
بات نہ کرنا۔ بیسودہ کلام کرنا۔

عَفَكَ رَضًا، عَفَكَ وَعَفَكَ۔ بہت

بیوقوف ہونا۔ صفت أَعْفَكَ و

عَفَكَ وَعَفِيكَ۔ مؤنث عَفَكَ و

عَفَكَ الِاعْفَكَ۔ بائیں ہاتھ سے

کام کرنے والا۔

عَفَنَ رَضًا، عَفَنًا وَعَفَنَ۔ اللَّحْمَ۔

گوشت کو بدبودار کرنا۔ عَفَنَ فِي

الجبَلِ۔ پار پر چڑھنا۔

عَفِنَ رَضًا، عَفِنًا وَعَفِنَةٌ وَعَفِنَ

۔ الشَّيْءَ۔ تری کی وجہ سے خراب ہونا۔

۔ اللَّحْمَ۔ گوشت کا بدبودار ہونا۔

صفت عَفِنٌ وَمَعْفُونٌ وَمَعْفِنٌ

وَمُعْفِنٌ۔

أَعْفَنَ۔ الشَّيْءَ۔ بدبودار پانا۔

هَفَا يَعْفُوا هَفْوًا۔ عَنهُ، لَهُ ذَنْبُهُ

وَعَفَا عَنِ ذَنْبِهِ۔ معاف کرنا۔

مزانہ دینا۔ اللَّهُ عَنهُ، گناہوں کو

معاف کرنا۔ عَنِ الشَّيْءِ، رُكْنَا۔

عَنِ الْحَقِّ سَاقَطًا۔ الشَّيْءَ۔

زیادہ کرنا۔ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ بَرٌّ

جَانًا۔ الصُّوفَ۔ اون کاٹنا۔

فَلَانًا، کسی کے پاس طلب معروف

کے لیے جانا۔ عَفَّتِ الْأَرْضُ، زَمِينٌ

کاسہزی سے ڈھک جانا۔ الشَّيْءَ۔

نیادہ اور لمبی ہونا۔ عَفَّتِ الْيَدِيْرُ

الْأَقْرَأُ وَالْمَنْزِلُ، طَارِيْنَا۔ ر۔

عَفَا عَفْوًا وَعَفَاوًا وَعَفْوًا،

الْأَقْرَأُ وَالْمَنْزِلُ، مَنَّا۔ الْفُؤْلَانِ

بلاک ہونا۔ مَرْنَا۔

عَفَا يَعْفُوا عَفْوًا وَعَفِيًّا يَعْفِي عَفِيًا۔

العفوة۔ باطل کو بھڑو دینا تاکہ وہ

بچے اور کئے ہو جائیں۔ العفوة۔ بال

بچے اور زیادہ ہونا۔

عَفَى تَعْفِيَةً - مٹانا۔ عَفَى الرَّبِيحِ
الْمَنْزِلِ - مٹا دینا۔ عَلَى مَا كَانَ
وَمَنْهُ - بگاڑنے کے بعد درست کرنا۔
عَفَى الْجِدَّةَ مَا حَبَبَهَا - ہلک
کرنا۔

عَاقَى مُعَاقَاةً وَ عِقَاءً وَ عَاقِبَةً -
اللہ مُفْلَانًا - صحت دینا۔ بلا اور
برائی سے بچانا۔

أَعْفَى لِعُقَاةٍ - اللہ مُفْلَانًا - مافیت
دینا۔ الشَّعْرُ بِالْوَلِّ كَوِطْرُصْنِ كَيْ يَبِي
بھوڑ دینا۔ الرَّجُلُ - بہت مالدار ہونا۔
زَامِدَال كَوِطْرُصْنِ كَرِيحًا - ذَا صِنِّ الْأَمْرِ
برمی کر دینا۔ نَبِيئًا بِحَقِّهِ - حق
کو پورے طور پر ادا کر دینا۔ الرَّجُلُ
دِينًا - الْمَوْبِيعُ - بیمار کا تندرست
ہونا۔

تَعْفَى تَعْفِيًا - مٹنا اور مضمحل ہونا۔
تَعَاقَى تَعَاقِيًا - مافیت ہانا۔ الشَّيْءُ -
چھوڑ دینا۔

لَا تُعْتَفَى لِعُقَاتِهِمْ - فُلَانًا كَيْ يَبِي
طلب معروف کے لیے جانا۔ لَا تُعْتَفَى
وَأَسْتَعْفَى الْإِلِيلُ الْبَيْبِيسُ -
اوپر اوپر سے نکل گھاس کا چرنا۔
لَا تُعْتَفَى الرَّجُلُ مَكْبَعُهُ - اسْتَعْفَى
دینا۔ معافی طلب کرنا۔ کہتے ہیں۔
لَا تُعْتَفَى مِنَ الْعُرْوِجِ كَمَا عَفَاةً -
تھکنے سے معافی مانگنا اور معاف کر
دینا۔

الْعَفَاءُ - مٹی، پاشن، گھروں کی بربادی۔
ہلاکت، آنکھ کا پھولا۔

الْعَفَاءُ - زیادہ لمبے بال بيشعر مرغ کے پر۔
اونٹ کے بال۔

الْعَفْوُ - عمدہ چیزِ فضل و معروف۔ مِنَ
الْمَالِ - خرچ سے زیادہ مال جس کا
دینا و خوار نہ ہو۔ زمین جس میں کوئی

نشان نہ ہو۔
الْعَفَا وَالْعَفْوُ وَالْعَفْوُ وَالْعَفْوُ كَرِهَ
کابچہ۔ ج۔ عَفَا وَعَفُوَ -
الْعَفْوَةُ - دیت گرمے کا مادہ۔ ج۔ ج۔
عَفْوٌ -

الْعَفْوَةُ وَالْحَفْوَةُ وَالْعَفْوَةُ - بانڈی کا
جھاگ۔ عَفْوَةُ الشَّيْءِ - چیز کا خالص
عَفْوَةُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ - عمدہ
کھانا پانی۔ الْعَفْوَةُ وَالْعَفْوَةُ - مرد
کے سر کے بال۔

الْعِفَاوَةُ - شوربے کا اچھا حصہ، جو کسی معزز
کو دیا جائے۔

الْعِفَاوَةُ - دیگ کا پتلا شوربہ۔
الْعِفَاوَةُ وَالْعِفَاوَةُ وَالْعِفَاوَةُ - بانڈی
کا جھاگ۔

الْعَفْوُ - معاف کرنے والا۔ بہت معاف
کرنے والا۔

الْعَاقِي - فَا بَخْشِيهِ وَالَا - دگر کرنے والا۔
لمبے بال والا۔ لُحْطٌ وَالَا - ج۔ عَفِيٌّ -
دیگ کا پتلا شوربہ۔ گھاس پانی طلب
کرنے والا۔ گھاس پر اترنے والا۔

ہمان۔ ہر طالبِ بخشش و رزق۔ ج۔ ج۔
عَفَاةً وَ عَفِيٌّ وَ عَاقِبَةً - کہتے ہیں
"كُنْتُ عَلَى الْكُرْبِيِّ عَاقِبَتَهُ"

کریم پر بخشش کے طلب کرنے والے
بہت ہوتے۔
الْعَاقِبَةُ - عَاقِي كَالْمَعْدِي أَسْمُ الْبَاطِلِ صِنِّ
ہر طالبِ نفع۔ ج۔ عَاقِبَاتٌ وَ
عَوَاتٍ -

الْمُعْتَقُ - فَا - سَاقِي جَوَسَلُوكَ كَالطَّالِبِ
نہ ہوا۔

عَفَى دِنًا، عَقَا - التَّوْبُ كَيْ يَطْرُقُهَا لَنَا -
عَقَبَتِ الرَّبِيحُ الْمَرْزُوقُ - بارش
برساتا۔ الدَّوْ - کنویں سے بھرا ہوا
ڈوا، کھانا۔ عَقْوَتَا مَعْقَلَةٍ -

عَقِي دِنًا، عَقَا - التَّوْبُ كَيْ يَطْرُقُهَا لَنَا -
عَقَبَتِ الرَّبِيحُ الْمَرْزُوقُ - بارش
برساتا۔ الدَّوْ - کنویں سے بھرا ہوا
ڈوا، کھانا۔ عَقْوَتَا مَعْقَلَةٍ -

الْوَلَدُ وَالِدًا - والد کی نافرمانی کرنا۔
اور شفقت نہ کرنا اور استغناء کرنا۔
صفت عَقَى وَ عَاقَى - ج۔ عَقَقَةٌ
وَأَعَقَّتْ وَأَعَقَى وَ عَقَقٌ وَ عَقُقٌ -
عَقَى رَسًا عَقَقًا - پھٹا۔

عَقَّتْ رَضًا، عَقَقًا وَعَقَقَانًا وَعَقَقَاتًا -
الطَّرِيسُ - گھوڑی کا عامل ہونا۔ صفت
عَقُوٌّ -

عَاقَى مُعَاقَاةً - آبَاةً - مخالفت کرنا۔
أَعَقَى - الْكُرْمُ - انگور کی پیل کی جڑوں سے
شاخ نکلنا۔ فُلَانٌ - نافرمانی کرنا۔

أَعَقَّتِ الطَّرِيسُ - گھوڑی کا عامل ہونا۔ صفت
عَقُوٌّ -

الْعَقَى - الْوَادِي - وادی کا گھرا ہوا ہونا۔
- الْعَبَارَةُ - غبار بلند ہونا۔ الْعَقْدَةُ -
گرہ کا مضبوط ہونا۔ الْجَبْقُ - بجل کا

بادل میں چھپ جانا۔ د۔ وَأَعْتَقَ
پھٹنا۔ لَعَقَى الشَّيْبُ - توار سونٹنا۔
- الْمُعْتَقُ - غدر کے بیان میں
مبالغہ کرنا۔

الْعَاقِي - اسْمُ فَاعِلٍ - ج۔ عَاقُونَ وَ
عَقَقَةٌ - أَعَقَّتْ بَرَكَةَ عَاقِلَةٍ -
ج۔ عَوَاقِي وَ عَاقَاتٍ -

الْعَقَى وَالْعَقَلَةُ - گرا گڑھا۔
الْعَقَى وَالْعَقَانُ - بَيْنَ الْمَاءِ - گڑھا
پانی۔

الْعَقَّةُ - لَوْزَايِدَةٌ جِجْجِ كَيْ يَبِي - ج۔ ج۔
عَقَقٌ -

الْعَقْوِيُّ - مِنَ الْكَيْلِ - عامل گھوڑی۔
طير عامل گھوڑی۔ ج۔ عَقَقٌ - ججج۔
عَقَانٌ -

الْعَقِيْبِيُّ - سرخ ہرے، واحد عَقِيْبِيَّةٌ -
وادی اور ہر پانی بہنے کی جگہ، جس کو
سیداب نے وسیع کر دیا ہو۔ ج۔ أَعَقَّتْ
لَوْزَايِدَةٌ جِجْجِ كَيْ يَبِي - ملک عرب میں

چند مقامات کے نام۔
 العقیقۃ: نونا پیدہ بچے کے بال، تو شرواً
 نرودہ بکرا یا بکری جو پیدائش کے
 ساتویں دن بعد بال مولد تے وقت
 دوح کی جلتے، تیر جس کو جاملی نمانے
 میں سنہم الاعتذار کہتے تھے اور
 خون کے بدلے کا فیصلہ کرنے کے لیے
 آسمان کی طرف پھینکتے تھے، اگر خون میں
 لہت پت واپس آتا تو قصاص لیتے،
 اور اگر صاف آتا تو دیت پر مصالحت
 کر لیتے تھے۔

عقائون الکرم والکحیل: وہ شاخیں
 جو انگور کی میل یا کجور کی جڑ سے
 نکلیں۔

عقب رضن، عقباً: ایڑ مارنا۔ عقب
 القوم أو التمسہ: پٹا پیٹنا۔
 عقباً وعقباً وعاقبہ: الرجُل
 او مکان الرجل: پیچھے آنا۔ جانشین
 ہونا۔ کہتے ہیں: عقب الشیء سیاہی
 کے بعد سپیدی آنا۔

عقب عقباً: ایڑی میں درد ہونا۔
 عقبہ: پیچھے آنا یا پیچھے لانا۔ عقب
 العلوۃ: نازیدی کر لینے کے بعد
 دفا وطرہ کے لیے بیٹھنا۔ کہتے ہیں۔
 عقب العقب سیاہی کے بعد
 سپیدی آئی۔ فی الأمر کسی چیز کے
 طلب کے لیے کوشش کرنا۔ اور آمد
 نقت کرنا۔ العاکب علی حکو
 سکوہ: حاکم کا اپنے سلسلے کے
 خلاف فیصلہ کرنا۔ طلیہ: بنام کرنا
 اور غلطیوں کو بیان کرنا۔
 عاقبہ معاقبہ: پیچھے آنا۔ عاقبہ فی
 التاجلہ: نوبت بہ نوبت سوار
 ہونا۔

عاقبہ عاقباً وعاقبہ: بدلنا اور

علی ذنبہ: مواخذہ کرنا۔ سزا دینا۔
 اسم العقبۃ:

أعقبہ: جالین ہونا۔ اچھا بدلہ دینا۔ کہتے
 ہیں: کاکنت الرجل: بہترین بدلہ
 دینا۔ قاقبہ: برابر بدلہ دینا۔

قاقبہ: اچھا بدلہ۔ عقبۃ: بُرا
 بدلہ۔ أعقبہ فی التاجلہ: نوبت
 بہ نوبت سوار کرنا۔ أعقب فلان
 مرنا اور اولاد چھوڑنا۔ الأمر:

اچھا انجام ہونا۔ الرجل: برائی سے
 بھلائی کی طرف لوٹنا۔ أعقببت
 الأرض: زمین کا چرے جانے کے
 بعد پھر برسر ہونا۔ کہتے ہیں: أعقبت
 عیسیٰ ذلۃ: اس کی عزت و ذلت
 سے بدل گئی۔

تعبہ: ملاش کرنا۔ عیب تلاش کرنا۔
 ہروی کرنا۔ جرم پر گرفت کرنا۔ تعقب
 فن العقب: فلک کی وجہ سے نمر
 کو دوسری مرتبہ پوچھنا۔ عقب منی
 امریہ: نادام ہونا۔

تعاقب: التراجلان أو اللیل والنہار
 ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ تعاقباً
 علی التاجلہ: نوبت بہ نوبت سوار
 ہونا۔ القوم فی الشیء أو الأمر
 باری باری کرنا۔ تعاقبوا علی فلان
 یا الضرب: مارنے میں ایک دوسرے
 کی مدد کرنا۔

أعقب: التالیع القلعة: قیمت پر
 قبضہ کرنے کے لیے سامان کو مدد لینا
 - الترجل: لید کرنا۔ من کذا
 قد املا: انجام میں ندامت اٹھانا۔
 القوم علیہ: مدد کرنا۔

استعقبہ: عیب و نقائص کو تلاش
 کرنا۔

العقب: ہرچیز آنے والی چیز۔

العقب والعقب: ایڑی، پٹا، پوتا۔ ج۔
 أعقاب: أعقاب الأمور: انجام
 کار۔ کہتے ہیں: جاء عقبہ وبعقبہ:
 جانشین ہوا۔ رجعت علی عقبہ:
 جلدی سے اسی راہ سے واپس گیا۔
 جس سے آیا تھا۔ فعد علی عقبہ:
 بعقبہ: قدم پر چلا۔ سافر علی
 عقب الشهر: مہینے کے آخر میں سفر
 کیا۔

العقب والعقب: انجام، نتیجہ۔ ج۔
 أعقاب:

العقب: وہ پٹا جس سے نانت بنائی
 جاتی ہے۔ ج۔ أعقاب:

العقبۃ: نوبت۔ بدل کہتے ہیں: تبت
 عقبک: تیری باری پوری ہو گئی۔
 أخذت من آسیبری عقبہ:

میں نے قیدی سے بدلہ لے لیا۔ العقبۃ
 من الجمالی أفرحس العقبۃ:
 شیرونی جو کھانے بعد کھائی جائے۔

شوربے کا باقی حصہ جو ہانڈی والے کو
 چھوڑا جائے۔ رات دن، کیونکہ یہ
 باری باری آتے ہیں۔ کہتے ہیں: هو
 عقبہ بنی فلان: وہ فلاں کا
 آخری ہے۔ ج۔ عقب: الوقبۃ
 سود:

العقبۃ: افرحس:

العقبۃ: دشوار گزار گھل۔ ہسار کا
 دشوار راستہ۔ ج۔ عقاب و
 عقبات:

العقبی: کام کا بدلہ، ہر چیز کا آخری آخرت۔
 العقبۃ: العقاب والمعاقبہ: ہی
 کا بدلہ سزا۔

العقاب: ایک تھکادی ہندہ۔ جو عقبات
 و أعقب: جہج۔ عقابین:

العقاب: ایک ستارہ۔ عرض کی

جانہ پانی کی نالی۔ ٹیلہ، وہ پتھر جس پر ساقی کھڑا ہوتا ہے۔
 العقیب - پرو، پیچھے آنے والا۔ کہتے ہیں "هُوَ عَقِيبًا" وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔
 العُقُوب - بھلے کاموں کی پروی کرنے والا۔ اچھا جانشین۔
 العاقب - فانا، نائب، اچھا جانشین۔
 العاقبة - مؤنث عاقب - نسل، ہر چیز کا آخر، اچھا بدلہ، جہ - عواقب۔
 العقبان - عاقبت۔
 العقیب - ایک شکاری پرند جو خرگوش اور چوہے کا شکار کرتا ہے۔ اس کو مُرْزَقٌ بھی کہتے ہیں۔
 البعقب - بلکنے میں ماہر اور معنی، بال۔
 البعقاب - جو موت ایک بار لڑکا، اور دوسری بار لڑکے بنے۔ وہ جگہ جہاں خفک انگوڑا رکھا جائے۔
 المعاقب - فانا، بدلہ لینے والا۔
 المعقبات - دن رات کے فرشتے، وہ تسبیحات جو نوبت بہ نوبت پڑھی جائیں۔
 البعقوب - زرخیز، جہ - بعاقیب۔
 یاد زائد ہے۔
 العقبول والعقبولة - سختی، بیماری یا عداوت کا بقیہ حصہ۔ بخار کے بعد ہونٹوں کی ہنسیاں، جہ - عقابیل۔
 عقد رمن، عقدان - الجبل، گرہ لگانا۔
 التبیعة او الیومین - بیع یا قسم کو پکا کرنا۔ الحاسب - حساب لگانا۔
 علی الشیء - معاہدہ کرنا۔ کہ الشیء - ضامن ہونا۔ الخط - دھگے میں گرہ لگانا۔ التیاء بعمار کا محراب بنانا۔ التیاء بالجمین - عمارت کو پلانے سے مضبوط کرنا۔ الزہر -

پھول کے اجزاء کا پھل بن جانا۔
 العصل ونحوہ - شہد کا گارٹھا ہونا کہتے ہیں "عقدنا وصیتہ" غصہ ہوا اور بُرائی کے لیے تیار ہوا۔
 عقد عنقہ الیہ - پناہ لینا۔
 عقد لہ التیاسة فی قومہ - قوم کا رئیس بنا دینا۔ عقد لہ علی الجیش - لشکر کا سردار بنا دینا۔
 عقد دس، عقدان - گرہ دار زبان والا ہونا۔ اللسان - زبان کا رکنا صفت اعقد و عقد۔
 عقد - البیت - محراب بنانا۔ الیومین - قسم کو پختہ کرنا۔ الجبل - رسی میں خوب گرہ لگانا۔ الکلام - بات کو مبہم کرنا۔ واعقد، الیومین ونحوہ - سفیرہ کو جوش دے کر گارٹھا کرنا۔
 عاقدة معاقدہ - معاہدہ کرنا۔
 تعقد - الیومین - سفیرہ کا گارٹھا ہونا۔
 التوفل - بیت کا تہ بہ تہ ہونا۔
 التصاب - بادل کا محراب کی مانند ہونا۔ الامر - دشوار ہونا۔ الاحاء - مضبوط ہونا۔
 لعقد - گرہ کا لگانا۔ الامر لطلان - خالص ہونا۔ الیومین - سفیرہ کا گارٹھا ہونا۔ الزہر - پھول کے اجزاء کا سمٹ کر پھل بن جانا۔
 تعاقد - القوم - ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنا۔
 اعتقد - المال - جمع کرنا۔ الامر - تصدیق کرنا، نہایت پختہ یقین رکھنا۔
 دین بنانا۔ الشیء - سخت ہونا۔ اس سے ہے "اعتقد القوی" گھٹیل سخت پڑ گئی۔ الاحاء بیتیہما - سچی محبت اور مضبوط محبت ہونا۔ بانہ ہونا۔

الدائر ونحوہ - موتی وغیرہ کے بار بنانا۔
 العقد - محراب - جہ - اعقاد و عقود - اعداد کے عقود و حائیاں کساتی ہیں۔
 جیسے دس، بیس، تیس، نوے تک۔
 العقد - بار - جہ - عقود۔
 العقد والعقد - ریت کا تودہ۔ واحد - العقد والعقدان۔
 العقدان - گرہ۔ ہاندا، شہر کی حکومت۔ حاکموں کی بیعت۔ من کل شیء - ہر شے کی مضبوطی، اتنی مقدار جو آدمی کو کافی ہو۔ بہت سارے درختوں والا مقام جو کسی چیز کو روک لے اور بانڈ لے، کہتے ہیں "تحتلت عقدان" اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔
 العاقدا - فانا، جہ - عقدان - کہتے ہیں "جاء عاقدا عنقہ" غرور سے گردن موڑتا ہوا آیا۔
 العاقدة - مؤنث عاقد - جہ - عواقدا وعاقداات - العاقداات - جاہ و گزیاں۔
 العقدان - زبان کی جڑ۔
 العقاد - بہت عقد کرنے والا۔ دعاگہ اور گنڈی کا بنانے والا۔ اونچے والا۔
 العقادان - دعاگہ، گنڈی بنانے کا پیشہ۔
 العقیدان - معاہدہ کرنے والا۔ وسی الیومین - گارٹھا سفیرہ۔ کہتے ہیں "فلان عقیدان اکرم او اللوم" فلان شخص طبعاً اکرم یا الشیم ہے۔
 العقیدان - جس پر پختہ یقین کیا جائے۔ جس کو انسان دین بنائے اور اس پر اعتقاد رکھے۔ جہ - عقایدان۔
 الاقعد - وہ شخص جس کی زبان میں گرہ ہو جس میں گرہیں ہوں۔ کتایا بھیڑ یا جس کی دم مڑی ہوئی ہو۔ مؤنث عقدان۔

ج۔ عَقْدٌ۔

العُقُودُ والعِنَادُ۔ مِنَ العَسْبِ و
نَحْوِہَا۔ جہا۔ جہا۔ عَنَاقِدُ۔المَعْقِدُ۔ گرہ بند کرنے کی جگہ۔ جوڑ، کتے
ہیں۔ هُوَ مَعْقِدٌ مَقْعَدُ الْاَزَارِہِ
وہ مرتبہ کے لحاظ سے تمہارے قریب
ہے۔ جہا۔ مَعَاقِدُ۔ المَعَاقِدُ۔ وہ
منزل جہاں بار بار لوٹ کر آئیں۔المَعْقَادُ۔ بچوں کے گلے میں ڈالنے کا تھوڑا
وغیرہ کی لڑی۔

المُعَقَّدُ۔ فا۔ جادوگر۔

المُعَقَّدُ۔ اعتقاد۔

عَقْرَةٌ رَضٍ عَقْرًا۔ زخمی کرنا۔ ذبح کرنا۔

عَقْرًا لِیْلِ۔ کو نہیں کاٹ دینا۔

عَقْرِبَہ۔ چلنے سے روک دینا۔

بِالصَّیْدِ۔ نثار کے پیچھے لگنا۔

عَقْرَتْ رَضٍ عَقْرًا وَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرَتْ رِکْ، عَقْرًا وَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

عَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا وَاوَعَقْرًا

- العَقِیْبُ۔ لگاتار بارش برسات۔

وَأَعْقَرُوا الْعَقْرَ قَلْبًا دَائِمًا

مِنَ الذَّحْلِ أَوِ الشَّرْبِ۔ ما نور کی

پیٹھ کا کھاوے یا زین سے زخمی ہونا۔

لِالعُقُوتِ قَوَائِمُ البَعِیْرِ۔ کو بچوں

کا کٹ جانا۔

كَعَاكِرٍ۔ الوَاعِیَانِ۔ اونٹ کے ذبح میں

مقابلہ کرنا۔

العُقُورُ گھر کا درمیانی حصہ۔ محلہ، قوم، بلند

عمارت، اترنے کی جگہ۔ دو چیزوں کے

درمیان کی کشادگی۔

العُقُورُ۔ سر۔ قوم کے اترنے کی جگہ۔ سوز

کا پچھلا حصہ۔ گھر کا درمیانی حصہ۔ گھر

میں عمدہ جگہ۔ بہترین گھاس۔ قصیدے

کا بہترین شعر۔ محل۔ جہا۔ آعَقَارُ۔

بِیَضْنَةِ العَقْرِ۔ مرغی کا پھلانڈا۔

العُقُورُ۔ بانجھ۔ وَالْعُقُورُ بڑی

آگ۔

العُقْرَةُ وَالْعُقْرَةُ وَالْعُقْرَةُ۔ بانجھ

العُقْرَاءُ۔ مونٹ اَعْقُرُ۔ اونچا ٹیلہ۔

العُقَارُ۔ سامانِ خادہ، عمدہ مال، عمدہ

گھاس، شراب۔

اِصْرًا عَقْرًا۔ رحم کی بیماری والی عورت

العُقَارُ۔ بہت زخمی کرنے والا۔ درخت،

بڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والا۔ دوا۔

جہا۔ عَقَائِرُ۔

العُقْرِیُّ۔ مالِہ کا میخ، درخت۔

العُقُورُ۔ کانٹے والا جانور۔ جہا۔ عَقْرُ

العُقْرَةُ وَالْعَاوِرُ وَالْمَعْقُورُ وَالْمَعْقَارُ

وَالْمَعْقُورُ۔ مِنَ الشَّوْبِ۔ پیٹھ

کو زخمی کرنے والا زین۔

العَقِیْرُ۔ زخمی، دہشت زدہ۔ جہا۔ عَقْرِیُّ

رَجُلٌ عَقِیْرٌ۔ بے اولاد۔

العَقِیْرَةُ۔ زخمی نثار۔ کئی ہوئی پنڈلی۔

گانے رونے یا پڑھنے والے کی آواز۔

کتے ہیں۔ رَفَعَ فَعِیْرًا۔ آواز بلند کی۔
نَحْلَةُ عَقِیْرَةٍ۔ کٹے ہوئے سرے کا
کھجور کا درخت۔

العَاقِرُ۔ بانجھ عورت۔ جہا۔ عَقْرٌ۔ و

عَوَاقِرُ۔ رَجُلٌ عَاقِرٌ۔ بے اولاد مرد

جہا۔ عَقْرٌ۔

الْاَعْقُرُ۔ وہ اونٹ جس کے دانت ٹوٹ گئے

ہیں۔ مَوْنِثٌ عَقْرَاءُ۔ جہا۔ عَقْرٌ۔

العَقْرِیُّ۔ جائداد۔

المَعْقُورُ۔ بہت جائداد والا۔

ارِضٌ مَعْقَرَةٌ۔ بہت بچھوڑوں والی سر

زمین۔

العُقُوبُ۔ بچھوڑی مادہ، اکثر مونٹ آتا

ہے۔ اُمٌّ عَوِیْطٌ، اُمٌّ سَاهِرَةٌ کِنِیْت

ہے۔ کتے ہیں کہ نر کو عَقْرَانٌ کہتے

ہیں اور مادہ کو عَقْرِبَہ۔ جہا۔

عَقَارِبُ۔ العَقْرِیُّ۔ آسمان کا

ایک بُرج۔ العَقَارِبُ۔ سختیاں،

چغلیاں۔ کتے ہیں دَبَّتْ عَقَارِبُہُ،

دَبَّتْ مِنْہُ عَقَارِبُ السَّبَاعِیَةِ وَاوَعَقْرًا

رَاقَہُ لَتَدِبُّ عَقَارِبُہُ۔ وہ لوگوں

کی بے آبروی کرتا ہے۔ عَیْشٌ ذُو

عَقَارِبُ۔ سختی اور تنگی کی زندگی۔

عَقَارِبُ المَقْتَلِ۔ ٹھنڈ کی شدت۔

عَقْرِبُ السَّاعِہِ۔ گھڑی کی سوئی۔

العُقْرِیَاءُ۔ مادہ بچھو۔

ارِضٌ مَعْقَرَةٌ۔ بہت بچھوڑوں والی

زمین۔

المَعْقُرُ۔ موٹا ہوا۔ ٹیڑھا۔ گٹھا ہوا۔

مضبوط جسم، کامل مددگار۔

العَقْرَطْلُ وَالْمَعْقِرُ۔ مادہ نامی

عَقَشَ رِیْحًا، عَقَشَا۔ العُقُورُ۔ لکڑی کو

موٹا۔ المَالُ۔ جمع کرنا۔

عَقَصَ رِیْحًا، عَقَشَا۔ الشَّعْرُ۔ بالوں

کی چوٹی بنانا یا گوندھنا۔ الْمَرْأَةُ

هَعَفَهَا - ہالوں کا جوڑا ہانڈھنا۔
 عَقَصَ رَسًا عَقَصًا - الثَّيْبُ - پیٹھے
 کا پیچھے کو مڑے سینگوں والا ہونا۔
 الرَّجُلُ - بخیل ہونا۔ بدخلق ہونا۔ مڑی
 ہوئی انگلی والا ہونا۔
 الْعَيْصُ - بخیل۔ بد خو۔ وہ حج شدہ ریت
 جس میں راستہ نہ ہو۔
 الْعُقَصَةُ - مِنَ الْقَرْنِ وَغَيْرِهِ۔
 سینگ وغیرہ کی گرہ۔ ج۔ عَقَصٌ۔
 الْعُقَصَةُ - چوٹی۔ ج۔ عَقَائِصُ وَعِقَاصُ
 الْعُقَيْصَةُ - چوٹی۔ ج۔ عَقَائِصُ و
 عِقَاصٌ۔
 الْعِقَاصُ - موباف۔ ج۔ عَقُصٌ۔
 الْأَعْقَصُ - مڑی ہوئی انگلیوں والا۔ جس
 کے دو دانت اندر کو ہوں۔ بخیل۔
 مِنَ الثَّيْبِ - پیٹھا، جس کے
 سینگ پیچھے کو مڑے ہوئے ہوں۔
 مُنْتِ عَقَصَاءٌ - ج۔ عَقُصٌ۔
 الْبِعْقَصُ - ٹیڑھا تیر۔ ج۔ مَعَارِقُصٌ۔
 الْبِعْقَاصُ - مڑے سینگ کی بیڑ، بکری۔
 عَقَقْتُ عَقَقَةً - الطَّائِدُ بِصَوْتِهِ۔
 گھڑی کی۔
 الْعَقَقُ - کوسے کی صورت کا ایک پرند۔
 کو۔ عام لوگ اسے عَقَقٌ کہتے ہیں
 اہل عرب اس سے بفالی لیتے ہیں۔
 عَقَفَ رَسًا عَقْفًا وَعَقَفَتِ - الْعَوْدُ
 وَنَحْوُهُ فَتَعَقَفَتْ وَالْعَقْفُ -
 کنارے سے موڑنا اور ٹیڑھا کرنا۔
 اور اس کا مڑ جانا اور ٹیڑھا ہو جانا۔
 صفت أَعَقَفْتُ وَمَعَقُوفٌ۔
 الْعَقْفَاءُ - مُنْتِ أَعَقَفْتُ - وہ گڑی یا
 لونا جس کا کنارہ کج ہو بڑے سینگ
 کی بکری۔ ج۔ عَقْفٌ۔ رَسًا وَالْعَقْفَاءُ
 ایک گھاس جس سے بکریاں مر
 جاتی ہیں۔

الْعَقُوفُ - مِنْ صُرُوحِ الْبَقَرَةِ - گائے
 کا تھن۔ سے دوسرے وقت وروہ
 کی دھار سیدھی نہ نکلے۔
 الْعُقَافُ - ایک بیماری جس سے بکریوں کی
 ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ ایسی بکری کو
 عَاقِفٌ کہتے ہیں۔ ج۔ عَوَاقِفٌ۔
 الْعُقَافَةُ - وہ گڑی جس کی ایک جانب
 کج ہو۔ شُوْكَةٌ عَقِيْفَةٌ - مڑا ہوا
 کاٹنا۔
 الْمَعْقُوفُ - مڑا ہوا۔ وہ جانور جس کو
 عَقَافٌ کی بیماری ہو۔ شَيْخٌ مَعْقُوفٌ -
 ٹیڑھی کروا لیا ہوا۔
 عَقَلَ رَسًا عَقْلًا - الدَّوَاءُ
 بَطْنُهُ - دوا کا تھمن کر دینا۔
 الْبَعِيْرُ - ٹانگ اور ران ملا کر رسی
 سے باندھنا۔ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا -
 کنگھا کرنا۔ الْقَتِيلُ - مقتول کی دیت
 دینا۔ عَنِ فُلَانٍ - کسی کی طرف سے
 تاوان یا دیت دینا۔ كَهْ دَمَ فُلَانٍ
 دیت پر راضی ہونا۔ اور قَعَامٌ چھوڑ
 دینا۔
 عَقَلَ رَسًا عَقْلًا وَمَعْقُولًا - الْغُلَامُ -
 لڑکا کا سمجھ دار ہونا۔ دانا ہونا۔ فُلَانٌ
 بَعْدَ الْقِيَامِ - غلطی کو سمجھ لینا۔ رَسًا
 عَقْلًا الشَّيْخُ - سمجھنا، تدبیر کرنا۔
 صفت عَاقِلٌ - ج۔ عَاقِلُونَ و
 عَقْلَاءٌ وَعُقَالٌ - صفت مُنْتِ
 عَاقِلَةٌ - ج۔ عَاقِلَاتٌ وَعَوَاقِلُ
 عَقَلَ رَسًا عَقْلًا وَمَعْقُولًا -
 الْمَصَارِعُ خَصْمَةٌ - ٹانگ میں ٹانگ
 ڈال کر گرا دینا۔ الْوَعْلُ - بلند پہاڑ
 پر چڑھنا اور محفوظ ہو جانا۔ اِلَيْهِ
 پناہ لینا۔
 عَقَلَ رَسًا عَقْلًا - الْبَعِيْرُ - اونٹ
 کا ٹیڑھی ٹانگوں والا ہونا۔ صفت

أَعَقَلَ - مُنْتِ عَقْلًا - ج۔
 عَقْلٌ۔
 عَقَلَ - الْغُلَامُ - لڑکا عقل مند ہونا۔
 الْغُلَامُ - لڑکے کو عقل مند بنانا۔
 الْبَعِيْرُ - اونٹ کی ٹانگ ران ملا کر
 باندھنا۔ الرَّجُلُ عَنِ حَاجَتِهِ -
 روک دینا۔
 عَاقَلَهُ مَعَاكِلَةً - سمجھ بوجھ میں مقابلہ
 کرنا۔
 أَعَقَلَهُ عَقْلًا بَانًا - أَعَقَلَ الرَّجُلُ -
 سال کی زکوٰۃ واجب ہو جانا۔
 تَعَقَلَ - الْغُلَامُ - لڑکے کا سمجھ دار ہونا۔
 بتکلف عقلمند بننا۔
 تَعَقَلَهُ - رُكْنَا - تَعَقَلَ الرَّجُلُ - پاؤں
 موڑ کر سرین پر رکھنا۔ التَّوْحَلُّ أَوْ
 الشَّرْحُ - کجاوہ یا زین پر پاؤں موڑ کر
 رکھنا۔
 تَعَاقَلَ - بتکلف عقلمند بننا۔ كَعَاقَلُوا
 دَمَ الْكَلْبِ - ادائے دیت میں
 شرکت کرنا۔
 أَعْتَقَلَ - التَّوْحَلُّ - نیزہ کو روکنا، اور
 پنڈلی کے درمیان رکھنا۔ الْبَعِيْرُ -
 اونٹ کی ٹانگ ران ملا کر باندھنا۔
 التَّوْحَلُّ أَوْ الشَّرْحُ - کجاوہ یا زین پر
 پاؤں موڑ کر رکھنا۔ مِنْ دَمِ فُلَانٍ -
 دیت لینا۔ الدَّوَاءُ بَطْنُهُ - دوا
 کا قبض کرنا۔ الرَّجُلُ - پاؤں موڑ کر
 سرین پر رکھنا۔ أَعْتَقَلَهُ - روکنا۔
 ٹانگ میں ٹانگ لگا کر بچاڑنا۔
 التَّحَاكُ - بکری کی ٹانگ کو اپنی ساق
 اور ران کے درمیان دھا کر دوہنا۔
 أَعْتَقَلَ - لِسَانُهُ - زبان کا بند ہو جانا۔
 الْعَقْلُ - روحانی نور جس سے غیر محسوسات
 کا ادراک ہوتا ہے۔ ولی دیت۔
 ج۔ عَقُولٌ۔

العُقَيْلُ وَالْحَقِيْلُ - مِنَ الْكَلَامِ بِشِبْهِ
كَلَامِ - الْعُقَيْلُ - نَادِي شُرَافَتِ وَاللَّ
الْمُعَقَّلُ - بَدِيْعٌ كَالْبُرِّ - رِيْضٌ كِ بَدِيْعٍ
كَمْ - ج - مَعْقِلٌ - مَعْقِلٌ - مَعْقِلٌ
النَّحِيْلُ - كَمُوْرٌ كِ جُوْرٌ -

الْمُعَقَّلُ مِنَ الرِّجَالِ - بِيْ اَوْلَادِ -
عَقَا يَعْقُوْ عَقْوًا اِعْتَقَى اِعْتِقَاءً -
كُنُوْلٌ كُوْدَانٌ اَوْرَاكِيْنٌ طَرَفٌ سَيْ سَوْتِ
نَكَالِنَا - عَقَا الْعَلْمُ - مَجْنُوْنٌ كَابْنِدِ
هَوْنًا - عَقَا الْاَمْرَ - مَكْرُوْهُ جَانِنَا -
فَلَانًا - رُوْكِنًا - اِعْتَقَى الرَّجُلُ - رُوْكِنًا -
عَقَاةٌ وَعَقَاةٌ - رُوْكِنًا -

الْعَقُوْقُ - كَمَرْ كِ اَسْ پَاسِ، مِيْدَانِ، مَحَلِّ -
ج - عِقَاءٌ -

عَقَى يَعْقِيْ عَقِيًّا - الْاَمْرَ - مَكْرُوْهُ جَانِنًا -
(- وَعَقَى) الْوَلَدَ - نِيْجِيْ كُوْكُنِيْ پَلَانًا -
عَقَى الطَّائِرُ - اِطْرَانِيْ فِيْ بَلَدِيْ هَوْنًا -
اَعْقَى اِعْقَاءً - اَكْرُوْلٌ مِيْطِنًا - الشَّيْءُ -
مَكْرُوْهُ جَانِنًا -

الْحَقُوْقُ - نُوْمُوْلُوْ كَابَاخَانَه - كُوَا - ج -
اَعْقَاءٌ -

الْحَقِيْبَانُ - خَالِصٌ سُوْنًا -
عَلَقَ رَنْ مَضِيْعًا - الْيَوْمَ - سَخْتٌ كَرْمِيْ

اَوْرُكُنٌ وَالاَدْنُ هَوْنًا - صَفْتٌ عَلَقٌ وَ
عَيْكِيْكٌ - عَلَقَهُ الْحَثِيْ - لِكَا تَارِ
بَخَارِ هَوْنًا - الرَّجُلُ - حَقِيْ فِيْ ثَالِ مَثُوْلِ
كِرْنَا - عَلَقَهُ عَنْ حَاجِيْتِه - بَا زِرْ كَهْنَا -

- كَابَالْحُجَّةِ - مَغْلُوْبٌ كِرْنَا - كَا
بِالْاَمْرِ اَوْبِ الْقَوْلِ - بَارِبَارِكِه كِرْتَهَا
دِيْنَا - كَابِالسُّوْطِ - كُوْرِيْ سَيْ مَارِنَا
- كَابِشِيْرٍ - بَارِبَارِكِرْنَا - الْكَلَامُ -
وَمُحَا حَتِ كِرْنَا -

عَلَقَ - كَرْمِيْ سَيْ جُوْشِ مَارِنَا - الرَّجُلُ -
سَخْتٌ بَخَارِ جِرْطَحْنَا -

عَاكَةٌ - عَلَيْهِ - مَائِلٌ كِرَانَا -

ہر سال ادا کرتی ہے۔ ج۔ معاقبت۔
المعقول۔ سمجھا ہوا۔ عقل، ج۔
محقولات۔ علم المعقولات،
وہ علم جس میں عقلی چیزوں سے بحث
کی جائے۔

عَقِمْتُ رَنْ، عَقِمْنَا وَعَقِمْنَا وَعَقِمْتِ
رَنْ، عَقِمْنَا وَعَقِمْتِ رَنْ، عَقِمْنَا وَ
عَقِمْتِ عَقِمْنَا وَعَقِمْنَا - الْمَرْأَةُ
اَو الرَّجُلُ - بِاِتْمَحِ هَوْنًا - صَفْتِ -
عَقِيْمٌ، عَقِيْمَةٌ مَقَا صِلَةٌ - جُوْرُوْلِ
كَاشِكِ هَوْنًا -

عَقِمْتُ رَنْ، عَقِمْنَا - خَامُوْشٌ هَوْنًا -
عَقِمْتُ رَنْ، عَقِمْنَا وَاعْقَمْتُ وَعَقِمْتُ -
اَللّٰهُ الْمَرْأَةُ - بِاِتْمَحِ كِرْنَا - عَقِيْمَةٌ -
خَامُوْشٌ كِرْنَا - عَقِمْتُ الشَّيْءُ - جِرَاثِيْمِ
كُوَا رِنَا -

عَا قِمَةٌ مَعَا قِمَةٌ - جِرْطَا كِرْنَا - خَصُوْمَتِ
كِرْنَا كَالِيْ دِيْنَا -

اِعْتَقَمْتُ - اِلَيْهِ - اَنَّا جَانِنًا - فِي الْاَمْرِ -
دَخَلُ دِيْنَا -

الْعَقْمُ وَالْعَقِيْمَةُ وَالْوَقِيْمَةُ - سُرْخِ
كِرْطَا نَقْشٌ وَنِكَارٌ كَالِيْ كِسْمِ -

الْمَرْأَةُ الْعَقِيْمَةُ - بِيْ اَوْلَادِ عَوْرَتِ - ج -
عَقَايْمٌ وَعَقْمٌ -

الرَّجُلُ الْعَقِيْمُ - بِيْ اَوْلَادِهِ - ج -
عَقِمْنَا وَعَقِمْنَا وَعَقِمْنَا - جَعْلٌ

عَقِيْمٌ - جِسْمِيْ كُوْلِيْ بِلَانِيْ نَهْ -
حَرْبٌ عَقِيْمَةٌ - سَخْتٌ لَطَانِيْ كِتِيْ هِيْ

الدُّنْيَا عَقِيْمَةٌ - دِيْنَا بِيْ بَرَكَتِيْ -
حَرْبٌ عَقَامٌ وَعَقَامٌ - سَخْتٌ لَطَانِيْ -

دَاءٌ عَقَامٌ - لَاعِلَانِ بِيَارِيْ - يَوْمٌ
عَقَامٌ - سَخْتٌ دَنْ - الْعَقَامُ - بِيْ

اَوْلَادِ - بَدُوْ -
الْعَقِيْمَةُ - مِنَ الْاَرْحَامِ - بِاِتْمَحِ - ج -
عَقَايْمٌ -

عَقَايْمٌ -

العقيلُ - نسب به عقل، جس میں حسن باطنی
کو دخل نہ ہو۔
العقلۃ - زبان کی روک۔
العقلۃ - جس سے باندھا جائے۔ ج۔
عقل۔

العقالُ - وہ رسی جس سے اونٹ کے
زانوں کو باندھا جائے، سر پہ باندھنے
کی رسی۔ العقالُ - اونٹ یا بکری کی
ایک سال کی زکوٰۃ۔ کہتے ہیں۔
اَدِيْتُ عَقَالَ سَنِيْ - اِيْكَ سَالِ كِ
نِكَاةٌ اَو اَكْرُوِيْ - عِقَالُ الْمِيْثُوْنِ -
وہ شریف جو قید کیا جائے تو دوسرو
اونٹوں کا قیدی دے۔

العاقِلُ نَا - سَمِجْ دَارِ - ج - عَقْلَاءٌ وَ
عَا قِلُوْتُ وَعَقَالٌ - عَوْرَتِ كُوْبِيْ

عَا قِلُ كِتِيْ هِيْ - الْعَا قِلُ - پھاڑی بکرا۔
دیت دینے والا۔ ج۔ عَا قِلَةٌ -

العاقِلۃُ - مُنْتِ عَا قِلُ - قُوْتِ نَمِ -
عَا قِلَةُ الرَّجُلِ - پَدْرِيْ رَشْتَه دَارِ -

الْعَقُوْلُ - سَمِجْ دَارِ - قَابِضٌ دُوَا -
الْعَقِيْلُ - مَعْقُوْلُ -

العاقولُ - دریا کا بڑا حصہ۔ موج۔
وادی کا نر کا موٹہ۔ بے نشان زمین۔ مہم

معاہلات۔ ج۔ عَوَا قِيْلٌ -
العُقَالُ - جانور کے پاؤں کی بیماری۔

العقيلةُ - مِنَ الْمَرْءِ - شَرِيْفٌ مَهْدِ
دَارِ عَوْرَتِ - مِنَ الْاِرْبَابِ - عَمْدِ

اَوْنِطٌ - مِنَ الْقَوْمِ - سُرُوَارِ - مِنَ
كُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا عمدہ ٹکڑا۔ عَقِيْلَةٌ

الْبَحِيْرُ مَوْتٌ - ج - عَقَايِلٌ -
المعقلُ - پناہ گاہ۔ اونٹوں کے باندھنے

کی جگہ۔ بند پھاڑ۔ ج۔ مَعَا قِلٌ -
المعقلۃُ - نون بہا تاوان۔ کہتے ہیں۔

صَارَ دَمُهُ مَعْقَلَةً عَلَي قَوْمِهِ -
قوم پر اس کا خون تاوان ہو گیا جس کا وہ

العَكَّةُ وَالْحِكَّةُ وَالْعَكَّةُ وَالْحِكَاكُ وَ
 الْحِكِيكُ. سَمْتٌ غَرْمِيٌّ كَثُرَ سَمْتُهُ
 الْعَكَّةُ الْعَكَّةُ. يَزِيدُ بِجَارِهِ غَرْمِيَّتِ
 الْعَكَّةُ. كَمِي كَاؤُ بِهِ. ج. عَكَّكَ وَ
 عِكَاكَ. اِسْمٌ سَمِيٌّ. تَسْمِيَةٌ
 الْقَبِيحَةُ حَتَّى صَارَ كَالْعَكَّةِ. بِجِهَةِ
 قُبْحِهَا كَمَا نَدُّوا بِهِيَ كَيْسَةَ
 عَكَّةً. سَمْتٌ غَرْمِيٌّ وَالسَّامِتُ. يَوْمٌ
 عَكَّكَ. سَمْتٌ غَرْمِيٌّ وَن. ج. عِكَاكَ.
 عَكَّكَتُ عَكْوِيَّادًا، اَوْنُوتًا كَمَا يَجُومُ كَرْنَا.
 - اَلْقِدْرُ. بَاؤُهَا كَبُوشَ مَارْنَا.
 عَكَبَ التَّوَجُّلُ. يَطْمِئِنُّ.
 عَكَبَ دَسَ، عَكَبًا. مَوْتٌ هُوَ نُوْتُ، اَوْر
 مَوْتٌ جَبْرٌ وَاللَّاهُوتَا. پَاؤُنَ كَالْعَكْبِ
 كَا قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ هُوْنَا. صَفْتٌ اَعْكَبُ،
 مَوْنُتٌ عَكْبَاءُ. ج. عَكَبُ.
 عَكَبَتِ - اَلْقَارُ. اَكَّ كَا دَهْوِيْنِ وَالِ
 هُوْنَا.
 تَعَكَّبَةُ اَلْمُهْمُوْمُ. غَمٌّ كَا يَجُومُ كَرْنَا. كَيْفِيَا.
 اَعْكَبُ - اَنْعَبَارُ. عِبَارٌ اَطْنَا - اَلْعِبَارُ
 عِبَارٌ اَنَا - اَلْمَكَانُ. عِبَارٌ وَالِ
 هُوْنَا - اَلِاِيْنُ. كَسِي جَكُّهُ فِي جَمْعِ هُوْنَا.
 اَوْر عِبَارٌ اَنَا.
 اَلْعَكْبُ دَا اَلْعَكُوْبُ وَالْعَاكُوْبُ وَالْعَاكَابُ
 عِبَارٌ - اَلْعَاكَابُ. دَهْوَالٌ، بَاؤُهَا كِي
 بِهَابُ.
 اَلْعَاكِبُ - فَا. بِهِيْرُ. اَبُوهُ. ج. عَكُوْبُ
 اَلْاَعْكَبُ وَالْحِكَاكُ وَالْعَكَبُ. عَتَكَبُوْتُ
 دَكْرِيٌّ كَا اِسْمٌ جَمْعٌ.
 اَلْعَاكُوْبُ. عِبَارٌ. اَيْكُ خَاوِدٌ اِسْبِيْرِيٌّ جُوْكِي
 اَوْبِيْكِي كَهَاتِي بَاتِي هُوْنَا.
 اَلْعَكْبُوْرُ. اَيْكُ خِيْرٌ جَسٌ كُوْشِدِيْكِي كَمِي پَرُو
 پَرُو كَا كَرَلَاتِي هُوْنَا اَوْر شَهْدِيْكِي جَكُّهُ فِي اِس
 كُوْرَكْتِي هُوْنَا.
 عَكَبَشَةُ. مَضْبُوْتُ بَاؤُهَا.

تَعَكَّبَشُ - فِيهِ اَلْفُضْنُ. لُحْنِي كِي
 كَانَتْ جَبْنًا.
 عَكَّدَ رَضَ، عَكَّدًا اَو اَعَكَّدًا - اَلْبِيءُ.
 پَنَاهُ لِيْنَا - عَكَّدًا اَلْاَمْرَ فَلَاْنَا. مَكْنُ
 هُوْنَا.
 عَكَّدَ دَسَ، عَكَّدًا - اَلْعَقَبُ. كُوْهُ كَا مَوْتَا
 هُوْنَا. صَفْتٌ عَكَّدًا.
 عَكَّدَ بِهِ، اَعَكَّدَاةً. لَازِمٌ هُوْنَا.
 اِسْتَعَكَّدَا - اَلْعَقَبُ. كُوْهُ كَا مَوْتَا هُوْنَا -
 اَلْمَاءُ. پَانِي جَمْعٌ هُوْنَا.
 عَكَّدَا - اَلشَّيْءُ. خِيْرٌ كَا دَرْمِيَانُ. كَتِي هِي
 عَكَّدَاكَ هَذَا اَلْاَمْرُ. فَلَا نَ مَعَاوِ
 مَحَارِي لِيْهِ غَايَتٌ هُوْنَا.
 اَلْعَكَّدَاةُ. دُمٌ كِي بَاؤِي، قُوْتٌ. كُوْهُ كَا
 سُوْرَاخُ.
 عَكَّدَاةُ اَللِّسَانِ. زَبَانُ كِي جَبْرُ.
 عَمَّكَرَدَنَ رَضَ، عَمَّكَرًا اَو عَمَّكَرًا. عَلَيْهِ.
 حَمَلٌ كَرْنَا. پَهْرْنَا. مَرَلْنَا. مَائِلٌ هُوْنَا. كَتِي
 هِي. عَمَّكَرَ عَلَيْهِ اَلْوَمَانُ بِخَيْرٍ
 زَمَانٌ اِسْ پَر خِيْرٌ وَبَرَكْتٌ كِي سَاةُ
 مَائِلٌ هُوْنَا.
 عَمَّكَرَدَسَ، عَمَّكَرًا - اَلْمَاءُ وَنَحْوُهُ. پَانِي
 كَدَلَا هُوْنَا. صَفْتٌ عَمَّكَرُ.
 عَمَّكَرًا اَو اَعَمَّكَرًا - اَلْمَاءُ. پَانِي كُوْهُ لَا كَرْنَا.
 اَعَمَّكَرًا اَللَّيْلُ. رَاةٌ كَا سَمْتٌ تَارِيْكِي
 هُوْنَا. اَعَمَّكَرًا اَلرَّجُلُ. مَرُو كَا دُو بَارُهُ
 حَمَلٌ كَرْنَا.
 اَعَمَّكَرًا عَلَيْهِ. حَمَلٌ كَرْنَا - اَللَّيْلُ.
 رَاةٌ كَا سَمْتٌ اَنْدَهِيْرِي هُوْنَا. اَلْمَطْرُ
 سَمْتٌ بَارَشٌ بَرَسْنَا. اَعَمَّكَرَتِ
 اَلْوَيْخُ. هُوَا كَا عِبَارٌ اَنَا. دَسُ وَ
 تَعَاكُرًا اَلْقَوْمُ فِي اَلْحَرْبِ كَمَسَانُ
 كِي جَنَكٌ كَرْنَا.
 اَلْعَاكُوْرُ. مَوَارِكَا مَوْرَجُهُ. مِيْنُ مَكْلُ شَيْءٍ
 تَلْمِيْحُ.

اَلْعَاكُوْرُ. اَصْلٌ جَبْرٌ، كَتِي هِي. رَجَمٌ فَلَا نَ
 اِلَى عَاكُوْرِهِ. فَلَا نَ اِنِّي اَصْلُ كِي طَرَفُ
 لُوْطٌ كِيَا. عَادَتُ.
 اَلْعَاكُوْرَةُ وَ اَلْمَعَاكُوْرُ. دُو بَارُهُ حَمَلٌ كَرْنَا.
 بَهَا كُنِي كِي بَعْدُ.
 اَلْعَاكُوْرَةُ. اَوْنُوتٌ كَا كَلْمٌ. زَبَانُ كِي جَبْرُ. ج
 عَاكُوْرُ. اَخْطَاوُ وَ اَلتَّبَاسُ. كَتِي هِي
 وَقَعُوْا فِي عَاكُوْرَةٍ. وَهْ كَرَلَا بَرِي
 بَرَكْتِي.
 اَلْعَاكُوْرُ. هَمْتٌ حَمَلٌ كَرْنِي وَ اَلِ
 عِلَامٌ عَاكُوْرُ. مَوْتَا تَا زَهُ بَرَكَا.
 اَلْعَاكُوْرَةُ. مَادَةٌ خَرَكُوْشِي.
 عَاكُوْرُمُ اَللَّيْلُ. رَاةٌ كَا اَنْدَهِيْرَا. عَاكُوْرَمَةُ
 مَعْرُفٌ هُوْنَا بِجَا لَتِ عَمِيْتٌ. اَلْعَاكُوْرَمَةُ
 كَبُوْتِي يَا قَمْرِي مَادَةٌ.
 عَاكُوْرَدَنَ، عَاكُوْرًا - اَلْوَمْعُ. نِيْزُهُ كَا رُنَا.
 بِالشَّيْءِ. رَاهُ پَانَا. وَ تَعَاكُوْرُ، عَمَلِي
 عَاكُوْرَتِي. دُؤْبُورٌ پَر سَهَارًا لِيْنَا.
 تَعَاكُوْرُ كُوْسِيْهٌ. كَانُ كُوْسَهَارًا بَنَانَا.
 عَاكُوْرَدَسَ، عَاكُوْرًا. سَكْرُنَا.
 عَاكُوْرُ. اَلْوَمْعُ. نِيْزُهُ فِي سَهْلٍ لَكَا نَا.
 اَلْعَاكُوْرُ. بَخِيْلٌ. بَدُوْهُ.
 اَلْعَاكُوْرُ وَ اَلْعَاكُوْرَةُ. دُؤْبُورٌ جَسُ كِي
 نِيْجِي سَهْلٍ لَكَا هُوْنَا. ج. عَاكُوْرِيْوُ وَ
 عَاكُوْرَاتُ.
 اَلْعَاكُوْرِيْلُ. بِجِهَةِ شِيْرُ.
 عَاكُسُ رَضَ، عَاكُسًا - اَلْكَلَامُ وَ نَحْوُهُ.
 بَاةٌ كُوَالَتٌ دِيْنَا - اَلشَّيْءُ. اَخْرَكُو
 اَو لُ كَرُوْنَا. زَبِيْنُ كِي طَرَفٌ جَمْعٌ كَانُوْنَا
 كَر كِي نِيْنَا اَوْر پَكُ دِيْنَا - اَلْبَحِيْرُ.
 اَوْنُتٌ كُوْنَكِيْلٌ لَكَا كَرَسِي كُوْشَانِكُ سِي
 بَاؤُهُ دِيْنَا - دَا سَمْتُ اَلْبَحِيْرِي. اَوْنُتُ
 كِي سَرُ كُوْمُوْنَا. دَسُ عِيْنُ اَلْمَوْبِيْرِي
 دِيْنَا. بِيْطَا دِيْنَا. عَمَلِي فَلَا نَ اَمْرُهُ.
 مَعَاوِ كُو اِسِي پَر لُوْطَا دِيْنَا - اَلطَّعَامُ.

کھانے میں دودھ ملا ہوا شوربہ ڈالنا۔
 عکس (رس) عکسا۔ تنگ عادت ہونا۔
 عاکس معاکسة و عکاسا۔ الکلام۔
 کلام کو پلٹ دینا۔ ک۔ ایک دوسرے
 کی پیشانی کو پکڑنا۔ عام لوگ مخالفت
 کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
 تعکس۔ فی مفرجه۔ رنگ کر چلنا۔
 تعکس و انعکس و انعکس۔ پلٹ
 جانا۔ انعکس۔ دودھ ملا ہوا
 شوربہ بنانا۔
 عکاس البعیر۔ میل کی رسی جو اونٹ کے
 گھٹنے پر باندھ دیتے ہیں۔
 العکاس۔ کڑی زر۔
 العکیس۔ وہ دودھ جو شوربے میں ملایا
 جائے۔ رسی جس سے اونٹ کو روکتے
 ہیں۔ درخت کی شاخ جس کو زمین کے
 نیچے دبا دیتے ہیں کہ اس سے درخت
 نکلے (ظلم)
 العکیسة۔ بہت سارے اونٹ، اندھیری
 رات۔
 عکش (رس) عکشا۔ الطعر۔ بالوں کا
 پیچیدہ اور تہہ پتہ ہونا۔ التبت۔
 نباتات کا بہت اور گنجان ہونا۔
 عکش (رس) عکشا۔ الشيء۔ جمع کرنا۔
 صفت فاعلی عکش۔ صفت مفعولی۔
 معکوش۔ الوجیل مضبوط باندھنا
 - علیہ۔ حملہ کرنا۔
 تعکش۔ الامر۔ دشوار ہونا۔ الشيء۔
 سکڑنا۔ الطعر۔ بالوں کا پیچیدہ اور
 تہہ پتہ ہونا۔
 العکش۔ من الطعر۔ پیچیدہ اور
 تہہ پتہ ہال۔ بیکار اور فضول انسان
 شجرة عکفة۔ بہت زیادہ شاخ
 والا گنجان درخت۔
 العکاش و العکاش و العکاشة۔

والعکاشة۔ کڑی احساس کا جالا۔
 حکصة (رس) عکصا۔ عن حاجتہ۔
 بٹانا۔ پھیر دینا۔
 عکص (رس) عکصا۔ بد خو ہونا۔ صفت
 حکص۔ عکصت الدابة۔
 سرکشی کرنا۔
 تعکص۔ بکذا علیہ۔ بخل کرنا۔
 رملة عکیصة۔ دشوار گزار ریت
 کا ٹیلہ۔
 عکظہ (رس) عکظا۔ مغلوب کرنا۔ فزکو
 رد کرنا۔ روکنا۔ الشيء۔ رگڑنا۔
 الایدیہ۔ چڑے کو دباغت کے لیے
 رگڑنا۔ عکظ بالشیء۔ فخر کرنا۔
 عکظہ و عکظہ عن حاجتہ۔
 بٹانا۔ پھیر دینا۔
 عاکظہ معاکظہ۔ ٹال دینا۔
 تعکظ۔ علیہ الامر۔ دشوار ہونا۔
 القوم۔ جمع ہونا۔ پھیر کرنا۔
 تعاکظ۔ القوم۔ مقابلہ کرنا۔ آپس میں
 فز کرنا۔ جھگڑا کرنا۔
 العکظ و العکیظ۔ چھوٹے قد والا۔
 عکاز۔ عرب کے ایک بازار کا نام جہاں
 عربی قبائل جمع ہوتے اور خرید و فروخت
 کرتے اور مفاہمت کے شعر پڑھا کرتے
 تھے (مذکورہ نون)
 عکفة (رس) عکفا۔ عن الامر۔
 منع کرنا۔ علی الامر۔ کسی چیز پر
 روکے رکھنا۔ عکفا و عکفا
 القوم حولة وہ۔ گردا گرد چکر
 لگانا۔ عکف علی الامر۔ ہمیشہ
 لازم رہنا۔ عکفت و عکفت
 فی المكان۔ بند رہنا۔
 عکف۔ الجوهر۔ تہہ پتہ رکھنا۔
 شقر۔ بالوں کو گھنٹا لے کرنا۔ ک۔
 عن کذا۔ روکنا۔ منع کرنا۔

عاکفة معاکفة۔ لازم رہنا۔
 العکف من الطعر۔ گھنٹا لے ہال۔
 العاکف۔ نا۔ مقيم۔ ج۔ کاکفون و
 عکفت و عکوف۔
 شقر معکوف۔ گھنٹی چوٹی کے ہونے
 ہال۔
 المعکف۔ مفع۔ مڑا ہوا۔ طرھا۔
 عکف (رس) عکفا۔ الشيء۔ بکھرنے
 کے بعد اکٹھا کرنا۔ المتاع۔ سامان
 تہہ پتہ رکھنا۔ الوجیل۔ پھاڑنا۔
 البعیر۔ اونٹ کو رسی سے بازو اور
 پاؤں ملا کر باندھنا۔ عکف فی الامر۔
 کوشش کرنا۔ فلان۔ مرجانا۔ د۔ و
 آعکف و آعکف، علیہ مشکل اور
 مشتبه ہونا۔ آعکف الذجل۔ جدا
 ہنا۔ الثوران۔ سیگوں سے لڑنا۔
 العکف و العکف۔ لیم، کینہ۔ ج۔
 آعکاف۔
 العاکف۔ نا۔ بخیل، چھوٹے قد والا۔ ج
 عکف۔
 العکال۔ اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی۔
 الیعکف۔ چرواہے کی سوٹی جس کو وہ درخت
 سے بنا لیتا ہے۔ ج۔ کعاکف۔
 عکم (رس) عکما۔ المتاع۔ سامان کی
 گھڑی باندھنا۔ علیہ۔ حملہ کرنا۔
 الوجیل۔ انتظار کرنا۔ عن الامر۔
 پیچھے ہٹنا۔ عن زیارینہ۔ پیچھے
 بٹانا۔ البعیر۔ اونٹ پر باندھنا۔
 لارین کذا۔ ارادہ کرنا۔
 عکم عنہ۔ ہٹایا جانا۔
 عکمت الابل۔ اونٹوں کا موٹا ہونا۔
 آعکمة۔ باندھنے میں مدد دینا۔ بندھوانا۔
 عاکمة معاکمة۔ علی فلان۔ مدد
 کرنا۔
 آعکم الشيء۔ ڈھیر لگانا۔

العکوم۔ جر۔ اَکَامٌ وَعُکُومٌ۔ العکام۔

جر۔ عکوم۔ گھڑی۔

الحکمہ۔ بوری، ہڈل، گھڑ، کتوں کی چسپھی،

خورتوں کے سامان کا بیگ۔ کتے

ہیں "مَالَهُ عُکُومٌ عَنِ كَذَا" اس

کے لیے مالا چیز سے پھرنے کی کوئی

جگہ نہیں۔

المعکومہ۔ پُڑ گوشت۔

تَعَكَّنَ۔ البطن۔ موٹا پہ کی وجہ سے

سلوٹیں پڑنا۔

العککة۔ پیٹ کی سلوٹ۔ جر۔ عکک و

أَعَكَانَ۔ دِرْعٌ ذَاتُ عُكَيْنَ۔ وریح و

کشادہ زرہ۔

العکبان۔ گلا۔

العکناء۔ مِنَ التُّوقِ أَوِ الشَّاءِ مَوْتٌ

ممن والی اوتنی یا بکری۔

العکنات۔ بہت اونٹ، بہت شتر مرغ۔

عَكَ يَعْكُو عَكْوًا۔ ذَنْبُ الدَّابَّةِ۔

جانور کی دم کو اس کی جڑ کی طرف

سے موڑنا کہتے ہیں "فَرَسٌ مَعْكُوٌّ"

دُمٌ مَرَّ اَکْوَٹًا۔ ؕ فِي الْحَدِيدِ يَدْرِ قِيدَ

کرنا اور باندھنا۔ عَكَتِ الرِّبِيلُ۔

موٹا ہونا۔ عَكَ الضَّبُّ يَدَّ ثِيْبَهُ۔

گدہ کا دم موڑنا۔ الدُّخَانُ۔ دھواں

اد پر چڑھنا۔ عَلِيٌّ قَوِيْمٌ۔ ماٹل ہونا۔

۔ بِرَازَارِهِ۔ انار باندھنے کی جگہ کو

سخت کرنا۔

العکوة و العکوة۔ جانور کی دم کی جڑ۔

زبان کی جڑ۔ انار بندی، موٹی گدہ۔

ہر چیز کا بڑا حصہ، ہر شے کی موٹائی

العکوة۔ محلا۔ جر۔ عک و عکاء۔

العکب۔ مِنَ الْبَابِ الطَّيْنِ۔ ایک

دوسرے پر دودھ دینا ہوا، اور

جا ہوا۔

الوعکلی۔ سخت دم کی جڑ والا۔ پیشانی والا۔

مؤنث عکواؤ۔

عکلی یعکلی عکلیا و عکلی و اعکلی۔ مرنا۔

عکلی بِرَازَارِهِ۔ انار باندھنے کی

جگہ کو سخت کرنا۔ بالمکان۔ اقامت

کرنا۔ صفت عالی۔ جر۔ عککاء،

اعککاء۔ مضبوط باندھنا۔ عکلی

الدُّخَانِ۔ دھواں کا اوپر کو

چڑھنا۔

عَلَّ رَضٌ، عَلَا و عَلَا و تَعَلَّهٗ۔

دو بار بار پینا۔ ؕ۔ دوسری بار پلانا

۔ ؕ قَبْرًا۔ لگاتار مارنا۔

عَلَّ عِلَّةً۔ مرین ہونا۔

عَلَّهٗ۔ بار بار پلانا۔ ؕ بَعْدًا۔ مشغول

کرنا۔ کھیل کود میں ڈالنا۔ عَمَلٌ

الشیء۔ علت بیان کرنا۔ دلیل سے

ثابت کرنا۔ الْعِلْمَةُ۔ کلمہ کی

تعلیل کی وجہ بیان کرنا، تعلیل کرنا۔

الْمَسْرُوقُ۔ بار بار پھل توڑنا۔

الْمَالُ۔ بہترین انتظام کرنا۔ ؕ

علاج کرنا۔

أَعَلَّ۔ الرَّجُلُ۔ گھونٹ گھونٹ پلانا۔

۔ ؕ اِنَّهٗ۔ بیجا کرنا۔ الْعِلْمَةُ۔

تعلیل کرنا۔

تَعَلَّلَ۔ محبت ظاہر کرنا۔ بَعْدًا۔ مشغول

ہونا۔

تَعَلَّلَتْ وَتَعَلَّلَتْ۔ الْمَرْأَةُ مِنْ

لِقَابِهَا۔ لباس سے پاک ہونا۔

تَعَالَلَ الصَّبِيُّ نَدَى أَيْمَهُ۔

بچے کا پستان سے تمام دودھ چوس

لینا۔

أَعْتَلَّ۔ مرین ہونا۔ بِالْأَكْمَرِ۔ مشغول

ہونا، عزیز بیان کرنا۔ أَعْتَلَّتِ۔

التَّوْبِيخُ۔ نرم ہونا۔ ؕ۔ بستان

لگانا سراسر سختی کلمہ۔ حرف

علت والا ہونا۔ الرَّجُلُ۔ دوسری

بار پینا۔ عنہ۔ بیمار پڑنا۔

العَلُّ۔ موٹا بکرا۔ بڑی عمر کا۔ لاغر بیماری

سے سکرے ہوئے چمڑے والا۔ بے

غیر وہ بے برکت۔ جر۔ أَعْلَالٌ۔

العَلَّةُ۔ بہلاوہ۔ سوکن۔ جر۔ عَلَاتٌ

کہتے ہیں "بَنُو عَلَاتٍ" ایک مرد

سے چند مادروں کے بیٹے، اس کے

برعکس کو خیاٹ کہتے ہیں۔

عَلَّ۔ عَلَّ فِي أَيْمٍ لَعْنَةٌ هِيَ۔

العِلَّةُ۔ بیماری۔ مشغول کرنے والا واقعہ

اسی سے ہے "لَا يَعْدَمُ صَانِعٌ"

عِلَّةً"۔ اس شخص کے بارے میں کہتے

ہیں جو عذر کرتا ہے اور اپنے مقبوضہ

مال کے بچانے کے لیے منع کر دیتا ہے

عِلَّةٌ الشَّيْءِ۔ سبب۔ جر۔ عِلَاتٌ

وَعِلَلٌ۔ جبر۔ أَعْلَالٌ۔ العِلَاتُ

حالات۔ مختلف احوال۔ کہتے ہیں

جَبْرِيٌّ عَلِيٌّ عِلَاتِيٌّ۔ بہر حال یا

باوجود مختلف احوال کے قبول کیا۔ و

العِلَّةُ فِي الْحُرُوفِ۔ وہ تغیر جو

ابیات کے عروض و ضرب میں لازمی

پر لاتی ہو۔ سوائے نادر صورتوں کے،

حروف العلة۔ الف، واو، یاء

العَلُّ۔ دوسری بار پینا کہتے ہیں "عَلَّ"

بَعْدَ كَهْلٍ۔ پہلی بار پیچے کے بعد

دوسری بار پینا۔

العَلَالَةُ وَالْعِلَّةُ۔ بہلاوہ۔ العِلَالَةُ

پہلی بار دودھ دینے کی حالت کے

بعد دوا ہوا دودھ۔ بقیہ دودھ۔

نیزہ بازی کے بعد نیزہ بازی۔ دوڑ کے

بعد دوڑ۔

العَيْلُ۔ مرین۔ جر۔ أَعْلَاءُ۔

المُعَلُّ وَالْمُعْلُولُ۔ بیمار

العَيْلَةُ۔ مؤنث علیل۔ وہ عورت جو

بار بار غم خورد لگائے۔ جر۔ عِلَالَاتٌ و

عَلَّابٌ - سفید عروص - پانی کا بیلا - سفید بادل - تہ برتہ امیر - بارش کے بعد بارش - وہ کوٹان والا اونٹ - ج - یَعَالِبُ - یاد ناند ہے - عَلَبَ رَسًا، عَلَبًا وَعَلَبٌ - الشَّيْءُ - کاٹنا - نشان لگانا - خواش لگانا - عَلَبَ رَسًا، عَلَبًا وَعَلَبًا - سخت ہونا - صفت عِلْبٌ وَعَلَبٌ وَعَلَبٌ وَاسْتَعَلَبَ - اللَّحْمُ - سخت ہونے کے بعد نو بدل جانا - عِلْبُ السَّيْفِ - دندانہ دار ہونا - الْعَلْبُ - مار کا نشان - ر - وَالْجَلْبُ وَالْعَلْبُ، ایسی سخت زمین جہاں کچھ نہ اُگے - سخت چیز - ج - عُلُوبٌ - کہتے ہیں یہ رجلٌ عِلْبٌ سخت ظالم انسان الْعُلْبَةُ - چڑے یا کڑی کا بڑا برتن - ج - عِلَابٌ وَعَلَبٌ - الْعِلْبَةُ - درخت کی موٹی گروہ - ج - عِلْبٌ - الْعِلْبَاءُ - گردن کے پہلو کا عضلہ - ج - عِلَابِيٌّ - کہتے ہیں تَشْنِيْبُ عِلْبَاءٍ وہ پورٹھا ہو گیا - عَلَّتْ رَسًا، عَلَّتَا - الشَّيْءُ - جمع کرنا - الشَّيْءُ بِالْفِعْلِ - لانا - کہتے ہیں عَلَّتْ الْبُرِّيَّ الْقَوِيْرَ - گیہوں جو میں ملا دیے - الزَّمْدُ - جھلق سے آگ نکلنا - عِلَّتْ رَسًا، عَلَّتَا - الْقَوْمُ - آپس میں سختی سے لڑنا - كَعَلَّتْ - کہہ الذاؤب - حید کرنا - مکر کرنا - یہ - چمٹنا - الشَّيْءُ - اچھی طرح بنانا - اِعْتَلَّتْ - بغیر انتخاب کے لے لینا -

الْعَلْفُ - گیہوں وغیرہ سے بھریز نکال کر پھینکنے کے قابل ہو، اس کو مادہ یا جائے وَالْعَلْفَةُ - گیہوں جو کے ساتھ ملا ہوا - الْعَلْفَةُ - دوسری شے سے ملی ہوئی شے اور دوسری سے جمع کرنے والا - اَعْلَاثٌ - الرَّادُ - جو بغیر چناؤ، اور عادت کے کھایا جائے - الْعَلِيْقُ - جو اور گیہوں کی روٹی - الْعَلِيْقُ وَالْمُعْتَلِقُ - جو باپ سے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب ہو - بیکار تیر - عِلْبَةُ رَسًا، معالجہ میں غالب آنا - عِلْبَةُ رَسًا، عِلْبًا - مضبوط ہونا - عَالِجَةٌ مَعَ الْعَالِجَةِ وَعِلَاجًا - مشق کرنا - السَّرِيْعُ - بیمار کا علاج کرنا - الْعَلِيْقُ - الرَّمْلُ - ریت اکٹھا ہونا - تَعَالَجٌ - علاج کرنا - الْقَوْمُ - آپس میں جنگ کرنا - اِعْتَلَجَ - الْقَوْمُ - آپس میں لڑائی کرنا - کشتی کرنا - اِعْتَلَجَتِ الْوَحْشُ - ایک دوسرے کو مارتا - الارض - لمبے لمبے سبزہ والی ہونا - الْأَمْعَاجُ - موجوں کا آپس میں ٹکرانا - کہتے ہیں - اِعْتَلَجَتِ الرَّهْمُومُ فِي صَدْرِهِ - غم موج مارنے لگے - الرَّمْلُ - ریت جمع ہونا - اِسْتَعَلَجَ - جلدتاً - کھال موٹی ہونا - فُلَانٌ - وَالرَّحْمَى نَكَلْنَا - الْعَلِيْقُ - گدھا - جنگلی گدھا - گور خسر - موٹا قوی عجمی کافر، بعض لوگ مطلق کافر پر اس کا اطلاق کرتے ہیں - ج - عُلُوبٌ، اَعْلَاجٌ عِلْبَةٌ - رَجُلٌ عِلْبٌ، عِلْبٌ، عِلْبٌ وَعِلْبٌ - سخت کاموں کا کرنے والا -

الْعَلَجُ - دوا - مشق - دفاع - الْعَلِيْقُ - چھوٹے چھوٹے کھجور کے دھندے - الْعَلُوبُ - پیغامبر پیغام - الْعَلِيْقَانُ - کانٹے دار درخت - الْعَلَجُ - لمبا اونٹ یا گدھا - تالاب بہت پانی والا - الْعَلَجُومُ وَالْعَلَجُومُ - بہت سیاہ - الْعَلَجُومُ - بہت سیاہ، باغ - سمندر کی موج - رات کی اندھیری، بینڈک نر - بینڈھا، پہاڑی بکرا - بوڑھا بیل، ایک سفید پرند، بطخ - زہر شتر مرغ - بہت پانی - جھاڑی، لوگوں کی جماعت - ج - عِلَابِيٌّ - عِلْدَ رَسًا، عِلْدًا - سخت مضبوط ہونا - صفت عِلْدٌ - الْعِلْدُ - گردن کا پٹھا - ج - اَعْلَادٌ - الْعَلْنَدِي وَالْعَلْنَدِي - مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سخت اور موٹا - ج - عِلَانِدٌ وَعِلَادِيٌّ - الْعَلْنَدَادُ - مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سخت اور موٹا - الْعَلْنَدَسُ - بہت سخت - الْعَلْنَدَسَةُ - مؤنث - الْعَلْدِيٌّ - پیٹو، بندہ شکم - عِلْدُ رَسًا، عِلْدًا وَعِلْدًا - بے چین ہونا - صفت عِلْدٌ - عِلْدًا إِلَى الشَّيْءِ مائل ہونا مشتاق ہونا - مِنْ كَذَا - بشکفت مرین بننا - اَعْلَزَا - عاجز کرنا - الْوَجَعُ - بے چین کر دینا - عَلَسَ رَسًا، عَلَسًا - الْمَاءُ - پینا - الْاِبِلُ - اونٹ کا کھانے کے لیے کچھ نہ پانا - عَلَسَ - الدَّاءُ - مرض سخت ہونا - الْعَجَلُ شوری جانا - کہتے ہیں - مَا عَلَسُوا تَعْلِيْسًا - انھوں نے کچھ نہیں کھلایا -

العَلَسُ وَالْعَلَّاسُ وَالْعُلُوسُ - خوراک کھانا۔
العَلَسُ - گیہوں کی ایک قسم۔ سور، ایک قسم کی چوٹی۔ چھڑی۔
المُعَلَّسُ - آزما یا ہوا۔
العُلُوسُ - گیدڑ یا بھیڑیا۔
عَلَصَتْ - التَّخَمَةُ فِي مَعْدَاتِهِ - بدھنی کے سبب درد ہونا۔
عَالَصَهُ عِلَاصًا - ایک دوسرے کو مارنا۔
إِعْتَلَصَ - مِنْهُ شَيْئًا - تھوڑا سا لینا۔
العُلُصَةُ - تھوڑا سا۔
العِلْوُصُ - بدھنی، یہ لفظ صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں: رَجُلٌ عِلْوُصٌ - بدھنی ہونا۔
عَلَصَهُ رَضٌ، عَلَصًا - الْوَقْدُ وَنَحْوَهُ - کھوٹی کو کھڑنے کے لیے بلانا۔
عَلَطَ (رَضٌ) عَلَطًا وَعَلَطًا - النَّاقَةُ - داغ لگانا۔ كُشِبَتْ - بدگوئی کرنا۔
عَلَطَ الْبَعِيرَ - پٹہ گردن سے نکال دینا۔
عَلَطَ - الْقَوْسَ - تانت چڑھنا۔
إِعْتَلَطَ - الرَّجُلُ وَبِهِ - جھگڑا کرنا۔
إِعْلُوطَ - الْبَعِيرَ - اونٹ کی گردن پر ٹک کر سوار ہونا۔ الامر - بلا سوچے سمجھے داخل ہونا۔
العُلُطُ - مِنَ التَّوْقِ - بے ہمار اور بے نشان اونٹنی۔ ج۔ اَعْلَطَ - اَعْلَطَ الْكَوَاكِبَ - بے نام ستارے۔
العُلُطَةُ - گردن کا پٹہ۔ ج۔ عُلُطَ - العِلَاطُ - گردن کا پلو۔ آفتاب کی شعاع۔
رطائی اور جھگڑا۔ اونٹ کی گردن کی رسی۔ ج۔ اَعْلَطَةُ وَعُلُطَ - ر - وَالْأَعْلِيظُ - اونٹ کی گردن کا نشان۔
عَلَفَتْ رَضٌ، عَلَفًا وَعَلَفًا وَعَلَفًا -

الذَّابَّةُ - جانور کو چارہ دینا۔ عَلَفَ الرَّجُلُ - بہت پینا۔
أَعْلَفَ وَعَلَفَ - الطَّلْمُ - پھلی نکلنا۔
تَعَلَفَ - چارہ ڈھونڈنا۔
إِعْتَلَفَتِ الذَّابَّةُ - ہنہنا کر چارہ مانگنا۔
العِلْفُ - بہت کھانے والا۔
العَلِيْفُ - چارہ ہی کھانے والا۔ ج۔ عَلَافٌ - المَعْلُوقَةُ - صرف چارہ کھانے والا۔
العَلْفُ - چارہ۔ ج۔ عُلُوقَةٌ وَعِلَافٌ وَعِلَافٌ -
العِلَافُ - چارہ بیچنے والا۔ ج۔ عَلَافَةٌ - العَلِيْفَةُ - صرف چارہ کھانے والا۔ ج۔ عَلَافٌ -
العُلُوقَةُ - چارہ ہی کھانے والا (واحد و جمع)۔
العُلُوقَةُ - چارہ۔ ج۔ عُلْفٌ - المَعْلَفُ وَالْمَعْلِفُ - مکان چارہ کھانے کی جگہ۔ ج۔ مَعَالِفٌ - عُلْفٌ - بول کی پھلی۔
عَلَفَطَ - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ - ملانا۔
عَلَقَ رَضٌ، عَلَقًا وَعُلُوقًا - الْبَعِيرُ وَنَحْوَهُ الثِّيَابَ وَمِنْ الثِّيَابِ - اونٹ کا اوپر اوپر سے چرنا۔ الثَّيْبِيُّ - انگلیاں چوسنا۔ عَلَقًا، الرَّجُلَ - گالی دینا۔ كُشِبَتْ - بدگوئی کر کے تکلیف پہنچانا۔
عَلَقَتْ عُلُوقًا رَضٌ، الْمَرَاةُ وَكُلُّ أَنْثَى يَأْوُلِدُ - حاملہ ہونا۔ الْوَحْلُ بِالْحَبَالَةِ - وحشی ہاندر کا جال میں پھنس جانا۔ الذَّابَّةُ - جانور کو پانی پیتے ہوئے چونک کا چمٹ جانا۔
الشَّرْكُ بِالثُّوبِ - کپڑے میں کانٹا گھس جانا۔ عَلَقًا، الْإِبِلُ فِي الْوَادِي - چرنے کے لیے جانا۔
عَلِقَ رَضٌ، عُلُوقًا وَعِلَقًا وَعِلَقًا وَ

عَلَاقَةٌ - فَلَانًا وَعَلِقَ بِهِ - محبت کرنا۔ حُبُّهُ بِقَلْبِهِ - محبت کرنا۔ کہتے ہیں: عَلِقَ مِنْهُ كُلُّ مَخْلِقٍ - اس نے اس سے محبت کی اور محبت دل کے پرووں میں داخل ہو گئی۔ عَلِقَ دَمٌ فَكَانَ قَتْلًا - قتل کرنا۔ بروہ چیز جو اپنے مقام میں واقع ہو اس کے لیے عَلِقَ مَعَالِيْقُهُ بولتے ہیں ر - عَلِقًا - أَمْرًا - جانا۔ عَلِقَ يَفْعَلُ كَذَا - کرنے لگنا۔
عَلِرَ - الرَّجُلُ - گلے میں چونک لگوانا۔ ایسے شخص کو مَعْلُوقٌ بولتے ہیں۔
عَلِقَ - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَعَلِيَهُ وَمِنْهُ - لٹکانا۔ الامر - چمٹنا۔ الْبَابُ - دروازہ بند کرنا۔ يَا بَا عَلِيٍّ دَارِيكَ - دروازہ لگانا۔
عَلَقَهُ - دَلَّ مَأْلٌ هُونًا -
أَعْلَقَ - الرَّجُلُ - چونک لگانا۔ الْقَوْسَ - کمان کو لٹکانے کے لیے علاقہ بنانا۔
الصَّارِدُ - فکاری کے حال میں شکار کا پھنسا۔ فَطَرَهُ بِالشَّيْءِ - ناخن چھوننا۔ الْبَشِيءَ بِالشَّيْءِ - لٹکانا۔
تَعَلَّقَ - الشَّيْءَ - لٹکانا۔ السُّلُوكُ بِالثُّوبِ - کانٹے کا کپڑے میں الجھنا۔
الصَّيْدُ بِالْحَبَالَةِ - فیکار لاجال میں پھنسا۔ وَأَعْلَقَ، فَلَاكًا وَبِهِ - محبت کرنا۔
العَلَقُ - مِمَّا كَتَبَ فِي تَرْبِهِ عَلَقٌ - کپڑے میں کسی چیز کے الجھنے سے پھنس جانا۔ ر - وَالْعَلَقُ - برف کے لٹھیرے۔
تَعَلَّقَ - ج۔ أَعْلَقَ وَعُلُوقٌ - کہتے ہیں: "هُوَ عَلِقٌ عِلْمًا" - وہ علم کا شائق ہے۔
العَلَقُ - مِمَّا - خُونٌ، مَا تَحْتَهُ مِنْ حَيْضَةٍ وَالْمِطَّةُ لَطَافٌ، سَوِيٌّ حَيْزٌ - درخت کا وہ حصہ

جہاں جانور پہنچ سکیں، چونکہ واحد
عَلَقَةٌ۔

العَلَقَةُ لُحَاةٌ كَانَتْ فِي نَوْبِهَا، بغير استینوں
کی قمیص، بہترین کپڑا۔

العَلَقَةُ: درخت کا وہ حصہ جہاں جانور
پہنچ سکتا ہو، وہ چیز جس کو کھانے سے
پہلے بطور ہلاوے کے کھائیں، تھوڑی
سی چیز۔ تَعَلَّقَ - جہاں - عَلَّقَ کہتے ہیں
وَلِي فِي هَذَا الْمَالِ عُلُقَةٌ: مجھے
اس مال سے تعلق ہے۔ لَمْ يَبْقَ
عِنْدَكَ عُلُقَةٌ: اس کے پاس کچھ بھی
نہیں رہا۔

العَلَقُ: موت، جماعت کثیرہ، اشغال۔
العَلَاقُ: درخت کا وہ حصہ جہاں جانور
پہنچ سکے، وہ چیز جو کھانے سے پہلے
بطور ہلاوے کھائیں۔

العَلَاقَةُ: دم۔ دوستی۔ دشمنی۔ موت۔
گذر بسر کا ذریعہ جس کا انسان سے تعلق
ہو، جیسے مال، زوجہ، اولاد، تعلق۔
محبت۔ جہاں - عَلَاقِيٌّ کہتے ہیں۔ لِي
فِي هَذَا الْأَمْرِ عِلَاقَةٌ: مجھے اس
معاملے سے تعلق ہے۔

العِلَاقَةُ: ٹائٹل وغیرہ لٹکانے کی چیز۔ جہاں
عَلَاقِيٌّ۔

العَلَوِيُّ: مصیبت، موت، جس کا انسان
سے تعلق ہو۔ بہت چلنے والا۔ دائی
پائی۔

العَلَوِيُّ: موت، چھلانگ، کیا بیسٹری۔
بھوک، دم۔

العَلِيُّ: جانوروں کا چارہ جیسے جوڈ وغیرہ۔
العَلِيُّ وَالْعَلِيَّةُ: ایک قسم کی گھاس
جو درخت پر پھٹی ہے، اس کا پھل
شہت کی طرح ہوتا ہے۔

العَلِيَّةُ: حاشیہ کتاب۔ جہاں
کَعَالِيَّةُ۔

المُعَلَّقَةُ: مُؤَنَّفَةٌ مُعَلَّقَةٌ۔ وہ عورت جس کا
شوہر لاپتہ ہو گیا ہو۔

المُعَلَّقَاتُ: زمانہ جاہلیت کے سات
قصیدے جن کو کعبہ میں لٹکایا گیا تھا۔
اسی لیے وہ معلقات کہلاتے ہیں۔
المُعَلَّقُ: وہ پیالہ جس کو سوار اپنے ساتھ
لٹکانے رہتا ہے۔

المُعَلَّقُ: زبان۔ ہر وہ چیز جس سے
لٹکایا جائے۔ جہاں - مَعَالِيْقُ - رَجُلٌ
وَعَلَاقٌ - جگر والو۔ عام لوگوں کے
نزدیک معلاق کا اطلاق ذبح شدہ
جانور کے پیپڑے اور جگر دل پر
ہوتا ہے، مگر فصیح مُعَلَّقَةٌ ہے۔

عَلَقَمَ - الشَّيْءُ: کڑوی ہونا۔ الطَّعَامُ
کڑوی چیز ملا دینا۔

العَلَقَمُ: انسان، خنظل، ہر کڑوی شے۔
عَلَّكَ دَنَاصُ، عَلَّكَ، العَلَّاقُ وَنَحْوُهُ

چبانے۔ نَاطِقِيَّةٌ: دانت پینا۔
عَلَّكَ - العِلْدَانُ: کھال کو اچھی طرح دبا
دینا۔ يَدِيهِ عَلَى مَالِهِ: نخل کی وجہ
سے ہاتھ روک لینا۔

العَلَّكُ: جو گوند چبایا جائے۔ جہاں - عَلَوِيُّ
وَأَعْلَاكُ: ایک ٹکڑے کو العِلْكَةُ
کہتے ہیں۔

العَلِيَّةُ: ٹھہ زمین جو پانی کے قریب ہو۔
العَلِيَّةُ: وہ لیس دار چیز جو ہاتھوں سے
چمک جائے۔

العَلَاكُ وَالْعَلَاكُ: جو چیز چبائی جائے۔
العَلَاكُ: بہت چبانے والا۔ گوند چیننے
والا۔

عَلِمَهُ دَنَاصُ، عَلِمًا: لٹکانے والا عَلِمَهُ
الشَّيْءُ: ہونٹ چمکانا۔

عَلِمَهُ دَنَاصُ، عَلِمًا: الرجلُ - حقیقت
علم کو پالینا۔ الشَّيْءُ: چمکانا۔ یقین

عَلِمَهُ دَنَاصُ، عَلِمًا: الرجلُ - حقیقت
علم کو پالینا۔ الشَّيْءُ: چمکانا۔ یقین

کرنا۔ الامر۔ مضبوط کرنا۔

عَلِمَهُ دَنَاصُ، عَلِمًا: اوپر کا ہونٹ چمکانا۔
صفتِ اَعْلَمُ۔

عَلِمَهُ تَعْلِيمًا وَعِلْمًا: الصَّنْعَةُ
وغيرها۔ سکھانا۔ عَلِمَهُ لَهْ
عَلَامَةٌ: پہچان کے لیے علامت
لگانا۔

أَعْلَمَهُ: الامر وبالامر۔ جتانہ۔

اطلاع دینا۔ أَعْلَمَهُ الفَرَسَ: رٹائی
میں رنگی اون کا نشان گھوڑے پر لگانا۔

الثَّوْبَ: کپڑے پر نشان بنانا نقش
ونگار بنانا۔ نَفْسَهُ: رٹائی کی

علامت لگانا۔ عَلِيٌّ كَذَا مِنَ الْكِتَابِ
وغيرها۔ علامت لگانا۔

عَالِمَةٌ: علم میں فہم کرنا۔

تَعَلَّمَ - سِكِنًا - الامر - مضبوط کرنا۔
تَعَلَّمَ صِيغَةً امراً عَلَّمَهُ كَيْفَ مَعْنَى يَسَّرَ

أَعْتَلَمَهُ - الماءُ: پانی بنانا۔ الشَّيْءُ
جاننا۔ البرقُ: پہاڑ میں بجلی چمکانا۔

تَعَالَى: القومُ الشَّيْءُ: جاننا۔

إِسْتَعْلَمَهُ: الخَبْرُ: خبر دریافت کرنا۔
العَلْمُ: کپڑے کا نقش، جھنڈا۔ قوم کا

سرور۔ جہاں - أَعْلَامٌ: العَلْمُ: راہ
کا نشان، اونچی پہاڑ، علامت، نشان

منارہ۔ جہاں - أَعْلَامٌ وَعِلَامٌ۔

العِلْمُ: مصدر - حقیقت شے کا ادراک۔
یقین و معرفت۔ جہاں - عُلُومٌ۔

عِلْمٌ: عقلی عرف جو اور ما استفہامیہ
سے مرکب ہے۔ الف صنف کر دینا
گیانیتہ۔

العَلَامَةُ: نشان۔ راہ کا نشان۔ جہاں -
عِلَامٌ وَعِلَامَاتٌ۔

العَالِمُ: ساری مخلوق، ماسوی اللہ۔ جہاں
عَوَالِمُهُ وَعَالَمَاتُهُ وَعِلَامَاتُهُ۔

عِلْمٌ: علم۔ جہاں - عِلْمٌ وَعِلْمُونَ۔

(- وَالْعِلْمُ موصوف بالعلم - ج
 عِلْمًا -
 الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ -
 بالعلم کے صیغے ہیں، جیسے زیادہ
 جاننے والا۔
 الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ - بطور ہان
 الْعِلْمُ - سبک روح، تیز فہم۔
 الْعِلْمُ - مع۔ عالم۔
 الْأَعْلَمُ - اسم تفضیل، وہ شخص جس کے
 اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو۔ مؤنث۔
 عِلْمًا - ج۔ عِلْمٌ - الْعِلْمَاءُ
 زہرہ۔
 الْأَعْلَمَةُ - علامت۔ ج۔ أَعْلَمُ -
 الْعِلْمَةُ وَالْعِلْمَةُ - اوپر کے ہونٹ
 کی پٹن۔
 الْعِلْمُ - سمندر بہت پانی کا کنواں۔
 بینک، مرطبانازک بدن (- وَالْعِلْمُ
 زہرہ - ج۔ عِلْمٌ وَعِلْمٌ -
 الْمَعْلَمُ - راہ کی نشانی، مَعْلَمُ الشَّيْءِ -
 چیز کے پائے جانے کی جگہ۔ ج۔
 مَعَالِمٌ - کتے ہیں خَفِيَّتْ مَعَالِمُ
 الطَّيْرِ - راہ کی نشانیاں پوشیدہ
 ہو گئیں۔
 الْمَعْلُومِيَّةُ - معلوم کی طرف نسبت۔
 الْعِلْمَارُ وَالْعِلْمَارَةُ - جس پر وہاگے کا
 گولہ بنایا جائے۔ ج۔ عِلْمَارَةٌ و
 عِلْمَارٌ -
 عِلْمٌ رَضِيٌّ، عِلْمٌ رَضِيٌّ، عِلْمٌ رَضِيٌّ،
 عِلْمًا، عِلْمِيَّةً، عِلْمًا، عِلْمًا،
 رَضِيَّةً - الامر۔ ظاہر ہونا۔ صفت
 عَالِمٌ، عَالِمٌ، عَالِمٌ -
 عَالِمٌ مَعَالِمَةٌ وَعِلْمًا - الْعِدَاوَةُ
 وَبِالْعِدَاوَةِ كَلِمٌ كَلِمًا مَعْنَى كَرَاهَا -
 عَالِمَةٌ وَأَعْلَمَةٌ - الامر وبالامر
 عِلْمَةٌ - ایو۔ ظاہر کیا۔

رَضِيَّةً - الامر وبالامر ظاہر کرنے
 کے درپہ ہونا۔
 الْعِلْمِيَّةُ - مع۔ کلم کلم کہتے ہیں رَجُلٌ
 عِلْمِيَّةً اس کا معاملہ ظاہر ہے۔
 ج۔ عِلْمِيَّةً -
 الْعِلْمِيَّةُ - جس کا معاملہ ظاہر ہو۔ ج۔
 عِلْمِيَّةً -
 الْعِلْمَةُ - جو شخص راز کو نہ چھپا سکے۔
 عِلْمَةٌ رَسٌّ، عِلْمًا، مَنَكٌ ہونا۔ متحیر ہونا۔
 خوفزدہ ہونا۔ بھوکا ہونا۔ قابلِ ملامت
 ہونا۔ گھبراہٹ سے آنا جانا۔ بد فطرت
 ہونا۔ صفت مذکر عِلْمَانٌ - ج۔
 عِلْمًا - صفت مؤنث عِلْمِيَّةٌ - ج۔
 عِلْمِيَّةٌ -
 الْعِلْمَةُ - وہ شخص جو شرارت پسند ہو۔
 وہ شخص جو حیران ہو کر آئے جائے۔
 الْعَالِيَةُ - شتر مرغ۔ وہ عورت جو ایک
 راہ پر نہ چلے، مختلف قسم کے
 ارادے والا۔
 الْعِلْمَةُ - مع۔ برائی، غم۔
 عِلْمًا يَعْطُونَ عِلْمًا وَعِلْمًا يَعْطُونَ عِلْمًا
 اَفْعَلِي - الشَّيْءُ أَوْ التَّمَارُ - بلند
 ہونا۔ كَلِمَةُ الرَّجُلِ - غالب ہونا۔
 بِالسَّيْفِ - تلوار سے مارنا۔ الْمَكَانُ
 وَبِهِ - چڑھنا۔ الشَّيْءُ - جانور
 پر سوار ہونا۔ عِلْمِيَّةً الْأَرْضِ - تکبر
 کرنا۔ عِلْمِيَّةً - بلند کرنا۔ الْأَمْرُ
 لَهُ - طاقت رکھنا۔ صفت عَالِمٌ،
 - بِالْأَمْرِ - مستقل ہونا۔ كَلِمَةٌ -
 ہمسرا پر غالب آنا۔
 عِلْمَتٌ - الْعَيْنُ عِلْمٌ فَلَاحٌ - نگاہ
 ناموافق ہونا۔ عِلْمًا وَعِلْمِيَّةً
 الْمَكَارِمُ - درجہ میں بلند ہونا۔ اَفْعَلِي
 الشَّيْءِ - قوی ہونا۔ غالب ہونا۔

عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ وَعَالِيٌّ - الشَّيْءُ - بلند کرنا۔
 عِلْمِيَّةً الْكِتَابُ - عِزَانٌ كُنَانٌ - عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ
 أَعْلَى وَعَالِيٌّ - الْمَتَاعُ عِبْنُ
 الدَّابَّةِ - اتارنا۔ عِلْمِيَّةً اللَّهُ و
 فَلَانًا - اللہ کا بلند کرنا اور عالی مرتبہ
 بنانا۔ عَالِيٌّ الشَّيْءُ وَبِهِ - چڑھنا۔
 کہتے ہیں۔ عَالِيٌّ عِلْمِيَّةً - مجھ سے دور
 رہو۔
 تَعَلَّى - التَّوَجُّلُ - آہستہ آہستہ چڑھنا۔
 تَعَلَّتْ الْمَرْأَةُ مِنْ مَرْفَعِهَا - صحت
 پانا۔ تَعَالَى - آہا۔ (فعل امر)
 اسْتَعْلَى - التَّمَارُ - بلند ہونا۔ كَلِمَةٌ -
 غالب ہونا۔ وَالْعِلْمِيَّةُ الشَّيْءِ -
 چڑھنا۔
 عَلٌّ - اسم بعی لوقی۔ جب معرف ہو تو
 مِنْ عَلٍّ، بِنِي عَلِيٍّ الْعِزْمُ، اور نکرہ کی
 صورت میں مِنْ عَلِيٍّ کہتے ہیں۔
 آتِيَّةٌ مِنْ عَلِيٍّ کہتے ہیں۔
 الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ - بلندی۔ خرافت۔
 الْعِلْمُ وَالْعِلْمِيَّةُ - بلند جگہ، کہتے ہیں۔
 "هُمَّ عَلِيٌّ الْقَوْمُ" - وہ لوگ سردارانِ
 قوم ہیں۔
 عِلْمُ الشَّيْءِ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ
 بلندی۔ کہتے ہیں "أَخَذُوا عِلْمًا"
 اس نے زیرِ پستی لے لیا۔
 الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ - مِنْ كَلِمَةٍ شَيْءٍ - ہر چیز کا زیادہ
 حصہ۔ بوجھ لا دلنے کے بعد ہر کچھ
 بٹکایا جائے، سرکاروں کا اور ہر کچھ
 ج۔ عِلْمِيَّةً وَعِلْمِيَّةً - کہتے ہیں۔
 "أَعْطَيْتُكَ أَلْفَ دِينَارٍ وَدِينَارًا"
 عِلْمِيَّةً - میں نے ایک ہزار دینار دیے
 اور ایک زائد دیا۔
 الْعِلْمُ - تَمَارٌ، بلند اونٹنی۔ ج۔ عِلْمَاتٌ
 وَعِلْمٌ -
 الْعِلْمُ - اللہ کے ناموں سے ایک نام۔

بند شریف سخت - ۳۔ عَلِيٌّ وَ
عَلِيَّةٌ۔ کہتے ہیں۔ هُوَ عَلِيٌّ
القوم۔ وہ سرداران قوم اور اشراف
قوم ہیں۔
العلي۔ بندی۔
العليون۔ نسبت حضرت علیؑ کی طرف۔
ج۔ عَلِيَّةٌ۔
العليَّةُ وَالعليَّةُ۔ بالاخانہ۔ ج۔
عَلِيٌّ۔ کہتے ہیں۔ هُوَ مِنْ عَلِيَّةٍ
قَوْمِيهِ وَصَلِيَّتِيهِمْ وَوَلِيِّتِهِمْ وَ
عَلِيَّتِهِمْ۔ وہ قوم میں رفعت و شرف
والا ہے۔
العالي۔ قا۔ رجل عالي الكعب۔ شریف
کہتے ہیں۔ اَلَيْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ۔ میں
اوپر سے اس کے پاس آیا۔
العالية۔ مؤنث عالی۔ نیزے کے اوپر
کا حصہ یا نیزے کا نصف اعلیٰ۔ ج۔
عَلِيَّاتٌ وَعَوَالٍ۔ العوالي نیزے
العوالي۔ نیزے کے آس پاس کے
گائل۔ ان کی طرف نسبت کے لیے
عَالِيٌّ وَعَلَوِيٌّ۔ کہتے ہیں۔ عَلِيَّةٌ
الشئ۔ چیز کا بلند حصہ۔ عَالِيَّةٌ
الواوئی۔ واوی کا وہ حصہ جہاں سے
پانی گرسے۔
الأعلى۔ اسم تفضیل زیادہ بلند۔ کہتے
ہیں۔ هُوَ أَعْلَى جَمِيعِ عَالِيَّةٍ وَه
لوگوں کے احوال کی زیادہ دیکھنا
کہتا ہے۔ مؤنث عَلِيَّةٌ ج۔ عَلِيٌّ۔
المُعَلِّيُّ۔ غیر۔
العليا والعليا۔ ہر بلند جگہ۔ کہتے ہیں۔
سُقَّةٌ عَلِيَّةٌ وَعَلِيَّاتٌ۔ اوپر کا
ہونٹ۔ العلياء۔ پہاڑ کی چوٹی۔
آسمان۔
العاليون۔ جنت علیؑ کا نام یہ علیؑ
کی جمع ہے۔ وہ لوگ جو شہر کے اونچے

مقامات پر رہتے ہیں۔ امیر اور شریف
لوگوں کو اہل علیین کہتے ہیں، پست
دو حصے والوں کو سَطْلِيَّةُونَ۔
العليان والعليان۔ مولا اور ہبا۔ کہتے
ہیں۔ نَجَلٌ عَلِيَّانٌ وَلَا مَرَّآةً
عَلِيَّانٌ۔ روبرو۔
العليان والعليان۔ بلند آواز۔
العليان۔ کتاب کا عنوان۔
المعلاة۔ شرافت و بلندی۔ ج۔ مقال۔
المعلی۔ حالات تیر جو کھیلے کا۔
الحرورُ المستعلية۔ رخ۔ ص۔ من
ط۔ طارخ، ق۔
عَلَوٌ عَلَوَةٌ وَعَلَوَانٌ۔ ایکتاب۔
خط پر ہم لکنا۔
عَلَوَانٌ الْكِتَابِ۔ سرنامہ۔
عَلِيٌّ يُعَلِّيُّ عَلِيًّا وَعَلِيَّةٌ السُّطْحِ
چڑھنا۔
العلى والعلى والعليا والعليا
والعليان والعليان والعليا
والعليَّةُ وَالعَلِيَّاتُ وَالعَلِيَّةُ
مادہ عل وین ویکو۔
علی۔ حرف جر ہے۔ مع ذیل معانی
کے لیے آتا ہے۔ :-
۱۔ استعلاء۔ جیسے عَلِيٌّ عَلَى الدَّائِرَةِ
چاند پر لادالیا۔
۲۔ معاخصہ۔ جیسے عَلِيٌّ عَلَى الْمَلِكِ
عَلِيٌّ الْقَطْرِ۔ ان کو بادجو فقر کے
بموجب کیا۔
۳۔ مجازت یعنی عَمَّا جیسے رَعِيٌّ
علیہ اسی رَعِيٌّ عَمَّا۔ وہ اس
سے راضی ہوا۔
۴۔ تعلیل جیسے عَلَامٌ تَعْمُرِيٌّ۔
بچے کیوں مارتے ہو۔
۵۔ ظرفیت جیسے دَخَلَ الْمَدِينَةَ
عَلَى حَيْثُ غَلَبَهُ۔ غم میں غفلت

کے وقت داخل ہوا۔
۶۔ موافقت ہاء۔ جیسے اَكْبَبَ عَلِيٌّ
لِاسْمِ اللَّهِ۔ اللہ کے نام سے
سوار ہو جاؤ۔
۷۔ استدراک جیسے عَلِيٌّ اَنَّ قُرْبَ
الدَّارِ يَخْتَلِفُ مِنَ الْبُعْدِ۔ گھر لائبر
دوری سے بہتر ہے۔
۸۔ فوق کے معنی میں اسم ہو کر مستعمل ہے
جبکہ من کے بعد آئے جیسے اَقَامَ
مِنْ عَلِيٍّ جَنَاحَ التَّمِيغِ۔ ہیکل
نے ہاتھ پر کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں۔ عَلِيٌّ
كَذَا وَبَكْدًا جِئْتَنِي اَتَانِدُ۔ عَلِيٌّ
زَيْدًا۔ زید کے ساتھ لازم رہو۔
عَلِيٌّ بَكْدًا۔ فلاں چیز کو لازم پکڑو
ایسی صورت میں یہ اسم فعل ہوتا ہے۔
عَمَّوْنٌ عَمُّوْمًا۔ الشئ۔ عام ہونا۔
۔ المَطْرُ الارضِ۔ بارش کا تمام
زمین پر برسنا۔ عَمَّا، القوم
بالعوطية۔ سب کو شامل کرنا۔
عَمُّوْمَةٌ۔ چچا بننا۔
عَمَّ رَأْسُهُ عَمَّا وَعِيْمًا۔ پگڑی
باندھی گئی۔ عَمَّ الرَّجُلُ۔ سردار
بنایا جانا۔
أَعَمَّ۔ معزز بچوں والا ہونا۔
عَمَّو۔ عام کرنا۔ كُ، عامہ بندھوانا۔
عَمَّوْ كَالْأَمْرِ۔ کسی معاملہ کو سپرد کرنا۔
رَعَمَّوْ وَرَعَمَّوْ وَاسْتَعَمَّوْ۔ حمام
باندھنا۔ کہتے ہیں۔ رَعَمَّوْ الْقَابِ
لبا ہو گیا۔ رَعَمَّوْ الْأَصْحَامِ
بالقبت۔ طے نباتات سے بھر گئے۔
گویا عامہ جیسا معلوم ہوتا ہے۔
رَعَمَّوْ۔ چچا کہہ کر پکانا
رَعَمَّوْ۔ چچا بنانا۔
القَمُّ۔ م۔ کثیر جماعت۔ چچا۔ ج۔
عَمُّوْمَةٌ وَأَعَمَّامٌ وَأَعَمُّوْ۔

نسبت کے لیے عمومی آتا ہے۔
والعُمدُ لیسے گھومنے کے پیر۔
العَمْدَةُ پھوٹی۔ جہ۔ عَمْدَاتُ۔
العَمْدَةُ۔ عامہ باندھنے کی بیٹ۔
رَجُلٌ عَمْدِيٌّ۔ عام۔
العُمْدُ۔ کمال جسم، جوانی اور مال وغیرہ کا
کمال۔
العَمْدُ۔ کثرت، اجتماع، عامہ کا اسم جمع
ہر معاملہ کا عام و شامل رَجُلٌ عَمْدٌ
کامل عقل والا۔ کامل الخیر۔ کہتے ہیں،
"استوی فلانٌ علی عَمْدِهِ"
العَمْدُ۔ مع۔ عمومیت، شمولیت، نسبت
کے لیے عمومی آتا ہے۔
الِعمامةُ۔ پگڑھی۔ خود کا وہ حصہ جو سر کے
برابر بنا کر ٹوپی کے نیچے پہنتے ہیں۔ جہ۔
عَمَائِمُ۔ وِعَمَامٌ کہتے ہیں: اَرْضِي
رِعَمَامَتَهُ: خوشحال ہو گیا۔ الِعمامةُ۔
قسط۔ کمال، قیامت۔
العَامُ۔ سب کو شامل ہونے والا۔ خاص کا
مقابل۔
العَامَّةُ۔ مرنٹ عام۔ عَامَّةُ النَّاسِ
عام لوگ۔ جہ۔ عَوَامٌ۔ کہتے ہیں۔
"جاء القومُ عَامَّةً": ساری قوم آئی۔
العَمِيضُ۔ ہر وہ چیز جو اکٹھی ہوا درہت
ہو۔ قوم کا خالص۔ ہر چیز کا کامل۔ جہ۔
عُمْدُ۔
العَمِيْمَةُ۔ مِنَ النَّسَاءِ۔ پردے کی
لبی عورت۔ نَحْلَةُ عَمِيْمَةٍ۔ لب
درخت خرماء۔ جہ۔ عَمْدُ۔
الاعْمَدُ۔ اسم تفضیل۔ جماعت کثیرہ۔ موٹا۔
الْبَعِيْدُ۔ صاحب خیر، فیض عام والا۔
العَمْدُ۔ وہ سرو اور جس کو قوم نے مقدا
مان لیا ہو۔
العَمِيْدُ۔ عنبر۔
عَمَّتْ (رض) عَمَّتْ دَعَمَتْ۔ الضَّرْفُ

اون کی بیوی بنا نا۔ عَمْتَةٌ۔ مغلوب
کرنا۔ مقصد سے برطانا۔ اندھا دھند
کڑھی سے مارنا۔
رَجُلٌ عَمِيْتٌ۔ ظریف، بہادر، عالم،
ذریک۔
العَمِيْتُ۔ نگہبان، سمجھ دار، ظریف، مدبوش
وہ شخص جو چلنے میں کسی طرف ہدایت نہ
پا سکے۔ جہ۔ عَمَامِيْتٌ۔
العَمِيْمَةُ۔ اون کی بیوی۔ جہ۔ عَمَامِيْتٌ
وَعَمَّتْ وَاَعَمَّتْ۔
عَمِيْرٌ (رض) عَمِيْرًا۔ پانی میں تیرنا۔ فی
سَمِيْرًا۔ دوڑنا۔ وَاَعَمِّيْرٌ،
السَّيْلُ اَوِ الْحَيَّةُ۔ وسمجھ دار ہونا۔
العَمِيْرُ وَالْعَمِيْرُ وَالْعَمِيْرُ۔ سانپ۔
عَمْدٌ (رض) عَمْدًا۔ السَّقْفُ۔ چھت
میں ستون لگانا۔ لِشَيْءٍ وَالِي الشَّيْءِ
قصد کرنا۔ رَأَى الرَّجُلُ۔ ارادہ کرنا۔
۔ الشَّيْءُ۔ گمانا۔ ستون سے
مارنا۔ كَالْمَرْمِي اَوِ الْاَمْرِ۔ دہلا
کرنا۔ تھکیت پہنانا۔ وَاَعَمْدُ
الْوَلْدُ۔ پتسمہ دینا۔ عَمْدُ السَّيْلُ
بند لگانا۔
عَمْدٌ (س) عَمْدًا اعلیٰ۔ غنیمت
ہونا۔ یہ۔ لازم ہونا۔ الشَّرِي
تر کرنا۔ مِنْهُ تَجِبُ كَرْنَا۔ فلان۔
درد مند ہونا۔ کہتے ہیں: عَمْدًا فِي
الْاَمْرِ قَعَمِدَاتٌ۔ معاملہ نے مجھے
درد مند کیا تو میں درد مند ہوا۔
اعْمَدُ۔ الشَّيْءُ۔ ستون لگانا۔
تَعَمَّدُ۔ الْاَمْرُ۔ قصد کرنا۔ وَاَعَمَّدُ
پتسمہ کرنا۔
رَاعَمْدًا۔ الْحَائِطُ وَعَلَى الْحَائِطِ۔ دیوار
سے ٹیک لگانا۔ رَاعَمْدًا اَوِ اعْمَدًا
علیہ۔ ہر وہ چیز کہتے ہیں۔ رَاعَمْدًا
مَارَاتُ

العَمْدُ۔ الشَّيْءُ۔ ستون کے بل کھڑا ہونا۔
العَمْدُ۔ مع۔ کہتے ہیں: قَعَلَهُ عَمْدًا اَوِ
عَمَّنْ عَمْدًا: جان بوجھ کر کیا۔ و
قَعَلَهُ عَمْدًا عَيْنٍ وَعَمْدًا اَعْلَى
عَيْنٍ: اس نے کوشش اور یقین کے
ساتھ کیا۔
العَمْدُ۔ وہ جگہ جس کو بارش نے جگودیا
ہو۔ کہتے ہیں: "هُوَ عَمْدُ النَّوِي" وہ
بڑا فیاض ہے۔
العَمْدَةُ۔ جس پر ٹیک لگائی جائے، جس
پر بھروسہ کیا جائے۔ لشکر کا پیغامبر۔
جہ۔ عَمْدًا۔
العمادُ۔ جس کا سارا لیا جائے۔ جہ۔
عَمْدًا وَعَمْدًا۔ بلند عمارتیں والی
الْحَيَاكَةُ۔ اور یہ عَمْدُ الْوَلَدِ
رہ پتسمہ دیا، سے اسم ہے۔ لشکر کا
پیغامبر۔ اَهْلُ الْعِمَادِ۔ بلند عمارتوں
والے، کہتے ہیں: "فَلَانٌ قَطِيْبٌ
الْعِمَادِ" اس کا مکان نائروں کے
لیے علامت ہے۔ "هُوَ رَفِيْعُ الْعِمَادِ"
وہ شریف ہے۔
العَمُوْدُ۔ ستون، سہارا، لوہے کا ٹکڑا۔
جہ۔ اَعْمَدًا وَعَمْدًا وَعَمْدًا۔
العَمُوْدُ۔ سرو اور لشکر کا پیغامبر۔
وہ رگ جو گھڑے کی سہاگہ کرتی ہے۔
کان کا بڑا حصہ۔ مَحْمَدٌ غَزِيْرٌ وَعَمُوْدُ
الْمَكِّيْنِ: پتسمہ کہتے ہیں: "عَمْرِيْبَةُ
عَلَى عَمُوْدٍ بَطِيْنَةٍ" اس نے پتسمہ
مارا۔ عَمُوْدُ الْمِيْرَانِ۔ حرازوں کی
ڈنڈی۔ عَمُوْدُ الْقَبِيْرِ۔ صبح کی
روشنی۔ عَمُوْدُ النَّسَبِ۔ جو خط
مستقیم پر واقع ہو۔ کہتے ہیں: "اِ
رَأَسْتَقَامُوا عَلَى عَمُوْدٍ رَاسِيْحَةٍ"
مٹوس رائے پر چمے رہے۔ اَهْلُ
الْعَمُوْدِ وَاَهْلُ الْعَمْدِ۔ مانہ بدوش

لوگ۔ العُمُودُ أُولُو الْخَطِّ الْعُمُودِيُّ
عِنْدَ الْمُهَنْدِسِينَ۔
وہ خط بودوسرے خط پر
واقع ہو جس کے دونوں
طرف دو برابر زاویے
نکلیں۔ بت عمویا خط عمودی۔
الْعَامِدُ۔ فَا۔ نُؤْتُ عَامِدَةً۔ نَيْلَةٌ
عَامِدَةً۔ لمی رات۔
الْعَمِيدُ۔ سخت غزوہ۔ وہ شخص جس کو عشق
نے سکتے خاطر کر دیا ہو۔ عَمِيدُ
الْقَوْمِ۔ قوم کا سردار۔ ج۔ عُمَدَاءُ،
عَمِيدُ الْأَمْرِ۔ قَوَامُ أَمْرٍ۔ عَمِيدُ
الْوَجْعِ۔ درد کا مقام۔ الْعَمِيدُ۔
وہ مہینے جو بیٹھنے کی قوت نہ رکھتا ہو۔
اور اسے نگلیوں کا سہارا دے کر بٹھایا
جاتے۔
الْمَعْمُودِيَّةُ۔ بیتہ۔
الْعُمْدُ وَالْعُمْدَةُ الْبُحْرَانِ۔
الْعَمِيدُ۔ مالک بدن لڑکا۔
عَمِيدُونَ، عَمْرًا۔ الْمَنْزِلُ بِأَهْلِيهِ۔
آباد ہوتا۔ المنزِلُ۔ آباد کرنا۔ صلوات
مغوی۔ مَعْمُودِيَّةُ الدَّارِ۔ گھر تعمیر
کرنا۔ اِسْمُ الْعِمَارَةِ۔ بالمکان
اقامت کرنا۔ عَامِدَةٌ۔ زینہ رکھنا۔
عَمَارَةٌ، اَللّٰهُ مَسْكُونَةٌ۔ آباد
کرنا۔
عَمُودٌ نِ عَمُودًا وَعِمَارَةٌ وَعَمْرَانًا
۔ الرَّجُلُ يَبْنِيهِ۔ لاد کرنا۔ عَمْرًا
كُنَا۔ زندگی بھر کے لیے دے دینا۔
رَبُّ عَمْرًا وَعِمَارَةً، رَبِّيَّةٌ۔ عبادت
کرنا۔ خدمت کرنا۔ دُفْنُهُ رَكْنًا۔ نماز
پر نماز۔ عَمْرًا دَعْمًا وَعِمَارَةً
دَعْمًا دَس، عَمْرًا دَعْمًا وَعِمَارَةً
لمی عمر پر دھمروں کو، وَعَمِيرٌ
دَس، عَمَارَةٌ۔ المال۔ مال کا

بہت ہوتا۔
عَمْرًا وَعَمْرًا۔ المنزِلُ۔ آباد کرنا۔
عَمْرًا وَعَمْرًا زِيَارَةً۔ زندگی بھر
کے لیے دے دینا۔ عَمْرًا الرَّجُلُ۔
لمی زندگی پانا۔ عَمْرًا اللّٰهُ۔ زندہ
رکھنا۔ عَمْرًا الثَّوْبُ۔ پرے کو اچھا
بٹنا۔ جب کسی کو خدا کی قسم دیتے ہیں کہ
فلاں کام عمر بھر کرے تو کہتے ہیں۔
"أَعْمُرُكَ اللَّهُ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا"
أَعْمُرُكَ الْمَكَانَ۔ آبادی کے لیے
دے دینا۔ أَعْمُرُ الْأَرْضَ۔ آباد پانا۔
أَعْمُرُ عَلَيْهِ۔ مالدار بنانا۔
رَاعَمْرًا۔ المکان۔ ارادہ کرنا۔ زیارت کرنا
کہتے ہیں۔ "جَاءَ فُلَانٌ مُّحْتَمِرًا" فلاں
زیارت کے لیے آیا۔ اِتَّخَذْنَا نَادِيًا
لَعَمْرُوكَ۔ ہم نے بیٹھنے کے لیے ایک
مجلس بنالی ہے۔ رَاعَمْرًا الرَّجُلُ
پگڑی باندھنا۔
اِسْتَعْمَرَ۔ فِي الْمَكَانِ۔ آباد کرنا۔
جیسے اِسْتَعْمَرَ اللّٰهُ عِبَادًا فِي
الْأَرْضِ، اللّٰهُ نَبِيَّهُ بِنَدْوَى كُوزِينَ
میں آباد کرنا چاہا۔
العمر۔ زندگی۔ ج۔ اَعْمَارٌ۔ دین، قسم
کھانے وقت کہتے ہیں۔ لَعْمُورِي وَعَمْرُ
اللّٰهُ وَعَمْرًا اللّٰهُ۔ العَمْرُ دَانُونَ
کا وہیانی گوشت۔ ج۔ عَمُورٌ۔
العمرات۔ حلقے کے کوسے کے دو جانب
لگا ہوا گوشت۔
العمر والعمر۔ زندگی، اہل عرب کے
نزدیک عمر کا اندازہ چالیس سال ہی تھا۔
العمر۔ مسجد، گرجا، دانوں کا درمیان
گوشت، مسوڑھا۔
عمر۔ علم ہے اور علمیت و عدل کی وجہ سے
غیر منصرف ہے۔ غلیظ ثانی کا نام ہے
العمر۔ عمری۔ ان کو فلاں مقام پر آباد چھوڑا۔

عَمْرًا۔ علم ہے۔ حالت رفسی و جری میں۔
غلیظ ثانی کے نام سے امتیاز دینے کے
لیے واؤ لگاتے ہیں۔ ج۔ عَمْرُورِي
اَعْمُرُ عَمُورًا۔ اُمُّ عَمِيرٍ۔ بچوں کی
کنیت ہے۔
العمرات۔ آبادی۔
العمر۔ مع۔ دین، عورتوں کے سر ڈھانکنے
کا روال۔
العمر۔ ہر وہ چیز جو سر پر رکھی جائے۔
جیسے تلج، پگڑی وغیرہ۔ اَبُو عَمْرٍو۔
بھوک اور افلاس کی کنیت ہے۔
العمر۔ آباد مکان کا ارادہ۔ اصطلاح
شرع میں طواف اور سعی بئین القضا
والمروة کا نام ہے۔ ج۔ عَمْرًا
عَمْرَاتٌ۔
العمر۔ سلام۔ بھول جس سے شراب کی
مجلس کو آراستہ کرتے ہیں۔
العمر۔ ہر وہ شے جو سر پر دھری
جاتے جیسے تاج، پگڑی وغیرہ۔ مزین
پڑے کا ٹکڑا جو نیچے میں لگاتے ہیں۔
بھولوں کا دستہ جو بادشاہ کو سلام کرتے
وقت پیش کرتے ہیں۔ بڑا قبیلہ، قبیلہ،
جنگی جہازوں کا بیڑا۔
العمر۔ مصر۔ جس سے مکان کی آبادی
ہو، چھوٹا قبیلہ۔
العمر۔ عمارت کی مزدوری۔
العمری۔ وہ مکان یا زمین جس کو تمام عمر
کے لیے دے دیا جائے۔
مکان عَمِيرٌ۔ آباد۔ ثَوْبٌ عَمِيرٌ۔
گاڑھا کپڑا۔
العمر۔ فا۔ گھر کا بننے والا۔ ج۔ عَمَارٌ۔
نُؤْتُ عَامِرَةً۔ ج۔ عَمُورًا۔
مکان عَامِرٌ۔ آباد مقام کہتے ہیں
"تَرَكْتُهُمْ عَامِرِينَ بِمَكَانٍ كَذَا"
ان کو فلاں مقام پر آباد چھوڑا۔

الْعَامِرُ - بھوکا بچہ - اُمّ عَامِرٍ - بچہ۔
 عَوَامِرُ الْبَيْوتِ - سانپ وغیرہ واحد
 عَامِرٌ وَعَامِرَةٌ -
 الْعَمِيرَةُ - شہد کا چھتہ - بڑا قبیلہ - ج
 عَمَائِرُ -
 الْعَمَارُ - بالغہ کا مہیہ - قوی ایمان والا۔
 متعل مزاج - وقار والا - مرتے دم تک
 امر وہی پر قائم رہنے والا - اچھی
 تعریف والا۔
 الْعَمَارُ - وہ جنات جو مکانوں میں رہتے
 ہیں - عامر کی جمع ہے۔
 الْمَعْمَرُ - آباد و خوشحال جگہ۔
 الْمُسْتَعْمَرَةُ - نوآبادی (مورد لفظ ہے)۔
 الْيَعْمُورُ - بکری کا بچہ، چھوٹی بیڑ - ج
 يَعَامِرُ -
 الْعَمْرُورُ - ہر چیز کا لمبا، خوش، قوی، سخت
 مزاج، مرد، ز شیر، بیڑیا۔
 الْعَمْرُوسُ - قوی مرد - الْعَمْرُوسُ - بچہ بڑ
 ج - عَمَارِيسُ -
 الْعَمْرُوطُ - کرش، پور - ج - عَمَارِطُ و
 عَمَارِيطُ و عَمَارِطَةٌ -
 الْعَمْرُوطُ - جوان، سبک، بہادر، بلا
 مصیبت۔
 عَمَسَ رَن، عَمَسًا - اکتیاب مٹ جانا
 - الامر - دیدہ و دانستہ جاہل بنا۔
 عَمَسَ وَاَعْمَسَ - الشیء - چھپانا۔
 عَمَسَ رَس، عَمَسَ رَك، عَمَسَا و عَمَسَا
 و عَمُوسَا و عَمَاسَةً - الیوم - سخت
 ہونا - تاریک ہونا۔
 عَامَسَهُ مَعَا سَاةً - باز بتانا - دشمنی
 چھپانا۔
 تَعَامَسَ - تغافل برتنا - منہ نہ جاننے
 والا ظاہر کرنا - کہتے ہیں: تَعَامَسَ
 عَلَيَّ - ہم رکھا اور شبہ میں رکھا۔
 الْعَمَسُ وَالْعَمَاسُ وَالْعَمُوسُ وَالْعَمِيَّةُ

مشکل کام - یوم عَمَاسٌ - سخت دن
 حَرْبُ عَمَاسٍ و عَمِيَسٌ - سخت
 لڑائی - كَيْلُ عَمَاسٍ - بہت اندھیری
 رات، الْعَمَاسُ - طاقتور شیر۔
 مصیبت - ج - عَمَسٌ و عَمَسٌ -
 الْعَمُوسُ وَالْمَعَامِيسُ - وہ شخص جو
 کاموں کو بے باکانہ کرے، جیسے نادان
 کرتا ہے۔
 امرٌ مَعَمَسٌ - سخت کام۔
 عَمِيسَتُ رَس، عَمَسًا - عَيْنُهُ - آنکھ کا
 کمزور ہونا، چنڈھا ہونا - صفت مذکر
 أَعْمَسٌ - صفت مؤنث عَمَسَاءُ -
 ج - عَمَسٌ - فیہ الکلام - کلام
 کا اثر کرنا۔
 عَمَسَهُ رَن، عَمَسًا - بلا قصد ماننا - الْوَلَدُ
 اِلَیْکَ کَلَّ عَمَسًا کرنا۔
 عَمَسَ وَاَعْمَسَ - عَنِ الشیء - غافل
 ہونا - عَمَسَهُ اللهُ - چنڈے پن کو
 دور کرنا۔
 اسْتَعْمَسَهُ - بے وقوف سمجھنا۔
 الْعَمْسُوشُ - وہ انگور کا خوشہ جس میں سے
 کچھ دانے کھالے گئے ہوں۔
 عَمَّارَن، عَمَّطًا وَاَعَمَّطًا - عَمَّطَهُ
 عیب لگانا بے آبروی کرنا۔
 عَمَّقَ رَن، عَمَّقَ رَس، عَمَّقًا -
 المکان او الظلْمَیْنِ - دور ہونا کفاد
 اور لبا ہونا - صفت عَمِیقٌ - ج
 عَمِیقٌ و عَمِیقٌ و عَمِیقٌ -
 عَمَّقَتُ رَن، عَمَّقًا و عَمَّقًا - الیوم
 و نَحْوَهَا - گہرا ہونا - صفت عَمِیقَةٌ
 ج - عَمَائِقُ -
 أَعَمَّقَ و عَمَّقَ وَاَعَمَّقَ - الیوم
 گہرا کرنا - کہتے ہیں: عَمَّقَ الظَّلْمَ
 فی الامور - اس نے مسالط میں
 گہرا کر دیا۔

كَعَمَّقَ - فی الامر - معلی کی تہ تک
 پہنچنے کی کوشش کرنا - فی کلامہ - خوب
 چرب زبانی سے بات کرنا۔
 الْعَمِیقُ وَالْعَمِیقُ وَالْعَمِیقُ - گہرائی
 الْعَمِیقُ وَالْعَمِیقُ - جو جنگل کے طرف
 سے دور ہو - ج - اَعَمَائِقُ -
 الْعَمِیقُ - حق و استحقاق - کہتے ہیں: لَہ
 فِیہ عَمِیقٌ - اس کے لیے حق و
 استحقاق۔
 الْعَمِیقَةُ - برتن کی تہ میں گئی کابیل۔
 رَجُلٌ عَمِیقٌ الْکَلَامِ - گہری بات کہنے
 والا۔
 عَمِلَ رَس، عَمَلًا - کام کرنا - محنت کرنا۔
 لِیَوْمِیْرِ عَلٰی بِلَادٍ - عامل بنا۔ حاکم
 بنا۔ عَلٰی الصَّدَاقَةِ - حد قہ جمع
 کرنے کی کوشش کرنا - الْبَرَقُ - بجلی
 کالگاتار چلنا - عَمِلَتِ الْکَلْبُ
 فی الْکَلْبَةِ - ایک کلمہ کا دوسرے میں
 اثر کرنا - اعراب دینا۔
 عَمَلَهُ - اجرت دینا - ذ عَلٰی الْبَدَنِ -
 عامل بنانا - حاکم بنانا - کہتے ہیں: عَمِلَ
 فُلَانٌ عَلَیْهِمْ فُلَانٌ - حاکم بنایا گیا
 اَعَمَلَهُ - عامل بنانا - حاکم بنانا - اَعَمَلَ
 الرُّمَحَ - صدر نیزے سے مارنا۔
 الْاَلَمَ او الرُّمَحَ - استعمال کرنا۔
 الْکَلْمَ فی الْمَلْکِ - کلمہ کو دوسرے
 کلمہ پر عامل بنانا - الرُّجُلُ - اجرت
 دینا۔
 عَامَلَهُ مَعَامَلَةً - عمل کی تکلیف دینا۔
 معاملہ کرنا۔
 تَعَمَّلَ - بگذا - عمل کو برواغت کرنا۔
 مِنْ اَجْلِ فُلَانٍ او حَاجَتِهِ - کوشش
 کرنا، درپے ہونا۔
 تَعَامَلَ - الْقَوْمَ - بعض کا بعض کے ساتھ
 معاملہ کرنا۔

کسی کا بدلہ نہیں دے گا۔
 ۳. تعیل جیسے ما فعل ذلک الاعین
 اضطراب اس نے ایسا مجبور کیا۔
 ۴. بعد جیسے عنق کلید تزی "تقریبی
 دیک کے بعد معلوم ہونے کا۔
 ۱۰۵. تعار بے اُحبت الاحسان
 ال الفقرا عن كثرة الصلوة۔
 میں نے فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک
 کرنے کو نماز پر ترجیح دی کبھی اسم ہو کر
 جانب کے معنی دیتا ہے، ایسے وقت
 اس پر حرف جرد داخل ہوتا ہے، جیسے
 جلس من عن كسار الخليفة۔
 خلیفہ کی بائیں سمت بیٹھا۔
 عن دن ض، عتاد عتئا و عنونا و
 اعتن۔ لہ الشیء۔ سامنے ظاہر
 ہونا۔ پیش آنا۔ عن عن الشیء۔
 اعراض کرنا۔ عن فلانا۔ گال دینا۔
 عن وعن کتاب الکتاب بعنوان لکھنا۔
 وعلیت الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ایک
 نون کو پار سے بدل دیتے ہیں۔
 عن وعن وعن۔ اللجام۔ لگام
 میں ڈور لگانا۔
 عن وعن۔ العرس۔ گھوڑے کو
 لگام سے روکنا۔
 عاتہ معانہ و عنان۔ مقابلہ کرنا۔
 العاق۔ خالی رسی۔ پھیلا ہوا بادل۔
 العائنة۔ مؤنث العاق۔ بادل۔
 العنة۔ رسی، اونٹ یا گھوڑوں کے لیے
 لکڑی کا بازو۔ چومنا یا ہڈی رکھنے کا۔
 العنات۔ بادل۔ والعنانة۔ بادل کا
 ایک ٹکڑا۔ عنان السماء۔ آسمان
 کی بندی۔ عنان الدار۔ گھر کا کنارہ
 گھر کا اردگرد۔
 اعنق۔ مم۔ لگام کی رسی۔ ج۔ آعنة
 وعنق۔ کہتے ہیں "هو قصبی"

العنان: وہ بے خیر انسان ہے۔ و
 رجل طویل العنان۔ فریفت مرد۔
 والی العنان۔ خوددار۔ و امعلا
 عنانہ۔ جب اپنی کوشش کو پسین
 بلے۔ و ذل عنانہ۔ تابع ہو گیا۔
 هما يجوبان في عنان۔ دونوں
 فضیلت میں برابر ہیں۔ جوی الفوس
 عنانہ۔ ایک چکر لگایا۔ کبنا
 عنانہ۔ اپنے چکر میں ٹھوکر کھا گیا۔ و
 ارنج من عنانہ۔ ڈھیل دے دو۔
 شوكة العنان۔ دو آدمیوں کا کسی
 خاص مال میں شریک ہونا۔ العنان
 سامنے آنے والی شے۔
 العنق۔ سامنے آنے والی شے، کہتے ہیں۔
 عنانك أن تفعل كذا۔ انتہا یہ
 ہے کہ تم ایسا کرو۔
 الاعنان۔ اطراف شجر۔ اعنان السماء۔
 اطراف فلک، افق۔
 العنان۔ بہت سبقت لے جانے والا۔
 البعق۔ بہرہ، محاطات میں دخل دینے
 والا۔ حلیب، مؤنث معنہ۔
 المعنوق۔ دیوانہ۔
 عنق۔ انکرم۔ انکور کی بیل میں انکروں
 کا آنا۔
 العنق۔ انکور۔ ج۔ اعناب۔ ایک دانہ
 کو عنبة کہتے ہیں۔
 العناب۔ انکور کا بیجیے والا۔ عنق
 الثعلب۔ کو۔
 العناب والاعناب۔ بڑی ناک والا۔
 العناب۔ عناب۔ ایک دوا۔ واحد۔
 عنابة۔
 عنبر الشیء۔ عنبر سے خوشبودار کرنا۔
 العنبر۔ ایک قسم کی خوشبو، زعفران۔
 ایک بڑی قسم کی مچھلی۔ وہ ڈھال جو
 مارفات

عنابر۔
 عنبر الشتاء و عنبر ثاء۔ مروی کی سختی
 عنبرة القطار۔ پیاز۔
 العنبری۔ عنبر سے معطر کی ہوئی شراب۔
 عنبت (س) عنقا۔ دشواری میں پڑنا۔
 مصیبت سے ہلاک ہونا۔ گناہ کرنا۔
 الشیء۔ خواب ہونا۔ العظم۔ دستی
 کے بعد ٹوٹ جانا۔ صفت عنبت۔
 عننتہ۔ سختی کرنا۔ ایسی چیز پر لازم کر لینا،
 جس کا کرنا مشکل ہو۔
 عننت۔ الشیء العظماء المجبور۔ درست
 شدہ بڑی کوتاہ دینا۔
 عننت۔ فی الجبل۔ پہاڑ پر چڑھنا۔
 اعنت۔ الجاہل الکثیر۔ جڑے ہوئے
 کوتاہ دینا۔ ٹوٹی چیز کی دیکھ بھال نہ
 کرنے سے فساد کا زیادہ ہونا۔
 الراكب الدابة۔ جانور پر سختی
 سے زیادہ لا دنا۔ الرجح۔ ہلاکت
 میں ڈالنا۔
 تعنتہ۔ تکلیف پہنچانا۔ کسی کی لغزش کی
 جستجو کرنا۔ تعنت الرجل وعلیه
 فی السوال۔ بطریق تبلیغ سوال
 کرنا۔
 العنوت۔ دشواری گزار ٹیلہ۔
 عنتر عنتر۔ لڑائی میں بہادری کرنا۔
 عنتر بالوصف منیر و لڑنا۔ عنتر
 العنہ۔ کسی پہنچانا۔
 العنور و العنور۔ کسی۔ نیلی کھی۔ واحد
 عنترہ ہے
 عنتل۔ الشیء۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 العنقل۔ سخت۔ ضیاع عنایتل۔ وہ
 جو ہوشکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔
 العنقة العنقة والعنقة۔ ایک
 مخصوص گس، جبکہ وہ خشک اور
 سیاہ ہوجائے، اصل نام۔ ج۔ عنقات

العَنْزُورُ - لُذِّبْنَا جِسْمًا نَحْمِيهِ مِثْلَ لُذِّبْنَا بِرَبِّهِ
عَنْزُورُ الْقَاهِي - مَهَادِلُهُ كِي دِهَار -
ج - عَنَزُورٌ وَعَنْزَارِيَّةٌ -
العَنْزُورُ وَالْعَنْزِيرُ - بَنَاتُ مَهِيْبَتِ -
عَنْسٌ رَضِيٌّ جَسَّاسٌ - الْعَنْزُورُ - كَلْبِيٌّ كُو
مُحْكِيًّا - مَوْزَا -
عَنْسَتٌ رَضِيٌّ عُنَيْسَتٌ رَضِيٌّ عُنُوسًا
عَنْسًا - عُنَيْسَتٌ وَعُنَيْسَتٌ وَ
أَعْنَسَتٌ - الْجَارِيَّةُ - رُكْلِي كَا
بَالِغٌ هُوَ بَعْدَ بَغِيرِ شَايِ كِي رِيْنَا -
صِفَتُ عَائِسٌ - ج - عَوَائِسٌ وَ
عُنُسٌ وَعُنُسٌ وَعُنُوسٌ - عُنُسٌ
الرَّجُلُ - بَرِيٌّ عَمْرُكٌ بَغِيرِ شَادِي كِي
رِيْنَا - صِفَتُ عَائِسٌ وَاعْنَسٌ -
الشَّيْءُ - مَتِيخِرٌ كَرْنَا - أَعْنَسَ الْعُيُوبُ
وَجَهَةٌ - بَرَهْلِي كَا چِرِي كُو بَدَل
دِيْنَا - كِتِي هِي "فَلَانٌ كَمُ كَعْنَسٌ
وَكَمُ كَعْنَسٌ السِّنُّ وَجَهَةٌ -
كَبْرِي سِي نِي فَلَان كِي چِرِي كُو مَتِيخِرِ نِي
كِيَا - عُنُسٌ الْجَارِيَّةُ أَهْلَهَا -
رُكْلِي كُو نِكَاحُ كَرْنِي سِي كَمُ وَالْوَالِي نِي
رُو كِي رِيْنَا - صِفَتُ مَعْنَسَةٌ - ج
مَعْنَسَاتٌ وَمَعَائِسٌ -
عُنَيْسٌ رَضِيٌّ عُنَسًا - هِرُو كِتِ آ بِنْدِي كِيَا
العُنُسُ - مَم - عَقَاب - اَوْثَنِي طَا قُور -
ج - عُنَسٌ وَ عُنُوسٌ -
العُنَسُ - آئِينِي - ج - عُنَسٌ -
عُنُسِي رَضِيٌّ عُنَسًا - الْعَنْزُورُ - كَلْبِيٌّ
كُو مَوْزَنَا - مَحْكَانَا - الرَّجُلُ - تَكْلِيْفُ
پَهْنِيَانَا - غَضْبِنَا كَرْنَا -
عَائِشَةُ مَعَاكُشَةُ وَعُنَائِشَةُ - لُذِّبْنَا
مِيَا كِي دُوسَرِي سِي پِشْنَا -
مَفَاخِرَتُ كَرْنَا -
رَاعْتَنَشَةُ - لُذِّبْنَا مِيَا كِي دُوسَرِي سِي
لِطُ جَانَا - ظَلَمُ كَرْنَا -

تَعَانَدًا - الْقَوْمُ - بَعْضُ كَا بَعْضُ كِي مَخَالِفَتُ
كَرْنَا -
اسْتَعْفَدَ - الْقَرِيْبُ - كُوْرِي كَا سُرُكُشِي كَرْنَا
مَنْ زُوْدُ هُوْنَا - كَا الْعُقَى - غَالِبٌ هُوْنَا
- فَلَانَا - ارَادَهُ كَرْنَا -
العَائِدُ - فَا - مِيَا نِي رُوِي سِي سِطْنِي وَالَا -
ج - عُنْدٌ وَعَوَائِدُ - كِتِي هِي -
طَلَعَتْهُ طَلَعْنَا عَائِدًا - دَائِي بَائِي
نِي زُوَارِنَا - دَمٌ عَائِدًا - كِيَا سَمْتُ
سِي نِي وَالْاَخُوْنُ -
العِنْدُ - دَلٌ مَعْقُوْلٌ -
العِنْدُ - جَانِبٌ كِتِي هِي "هُوَ عَيْشِي
وَسَطًا لَاعِنْدًا - دِي بِيچ مِي چَلْنَا
سِي - كِنَارِي سِي پَرِنِي چَلْنَا -
العِنْدُ وَالْعِنْدُ وَالْعِنْدُ - كُوْنِي -
العَنْزُورُ - مِيَا نِي رُوِي سِي سِطْنِي وَالَا - ج
عُنْدٌ - كِتِي هِي سَحَابَةٌ "عَنْزُورٌ -
مُوْسَادِ دِهَارِ بَرِي نِي وَالَا - عَقْبَةٌ
عَنْزُورٌ - دِشْوَارِ كَذَارِ كَهَانِي - رَجُلٌ
عَنْزُورٌ - بُو شَخْصِي كِي سَا مَقْدَمِي اَتَرِي
بَلَكُ تَهْنَا اَتَرِي -
عَنْزَارِي - الْمَطْوُورُ - سَمْتُ بَارِشِ هُوْنَا -
عَنْزَالٌ عِنْدَانِي - الْهَزَارُ - بَلِي كَا
پَهْنِيَانَا -
العِنْدَانِي - بَلِي - ج - عِنْدَانِي
العِنْدَانِي دَمُ الْاَخُوِيْنُ -
عَنْزَارِي رَضِيٌّ عُنَزَا - نِي زُوَارِنَا - عُنَزَا
رَاعْتَنَزَا - اسْتَعْتَنَزَا - عُنَزَا -
ظَهْرِي هُوْنَا اُوْرَا كِي كُو شِي مِي اَتَرْنَا
أَعْتَنَزَا - الشَّيْءُ - مَحْكَانَا -
كَعْنَزَا - لُذِّبْنَا سِي سِي هُوْنَا -
العَنْزُورُ - مَم - بَكْرِي، مَادِي چُكُوْرِي شُكْرِي مَادِي
بَرِي، كَدِي مَادِي - ج - عُنَزَا وَاعْتَنَزَا
وَ عُنُوزٌ -
العَنْزُورُ - بَكْرِي -

العَنْزُورُ - الْعَنْزُورُ مِمَّنْ عُنَزَهُ
ج - عُنَزِي - الْعَنْزُورُ - طُوْرِي
كِي بَال -
عُنَزِي عُنَزِيًا وَاعْتَنَزِي - الشَّيْءُ - كِي بِنَانَا -
الدُّوْرُ - دُوْلُ كُوْرِي سِي سِي بَانْدِيْنَا -
العِنَاجُ - دِرُو پِشْت - دِي رِي سِي جِي كُو
بُرِي دُوْلُ كِي نِيچِي بَانْدِي هِي - ج
أَعْتَنَزِي وَ عُنَزِي -
عُنَزِي - الْعَنْزُورُ - ج - بُو دِي كِي
رُوَارِي كَا بَانُو -
العَنْزُورُ - بَرَا -
العَنْزُورُ - جَنَكَلِي رِي مَان -
العَنْزُورُ - عَمْدِي كُوْرِي، عَمْدِي اُوْرِي، اُوْل
جُوَانِي - ج - عُنَزِي جِي -
عَنْزُوْرُ عُنَزُوْرُ - هُوْرُوْلُ سِي سِي بِي بَانَا -
العَنْزُورُ - شَيْئِي كَا غَلَاْف -
العُنْزِيَّةُ - بَرِي مُوْثِي شِي، اَكْرُ مَرُو -
عِنْدًا - طَرَفُ مَكَانٍ وَرَمَان - جِي سِي وَكَفْتُ
عِنْدًا الْبَابُ وَسَا فَرِي عِنْدًا
مَغِيْبُ الشَّمْسِ - مِي نِي كِي دَاخِلِ
هُوْنِي سِي مَجْرُوْرُ هُو جَاتَا سِي - جِي
أَتِيْتُ مِي عِنْدِي -
عِنْدَانِي رَضِيٌّ عِنْدَانِي رَضِيٌّ عِنْدَانِي رَضِيٌّ
عُنُوزًا عِيْنُ الْعُلُوْبِي كِي اُو الْقَصْدِي -
بِيَا فُوْرِي كَرْنَا - هِي كَا مَانَا - مَانِلُ هُوْنَا -
الرَّجُلُ - جَانِ بُو بِي كَرِي كِي مَخَالِفَتُ
كَرْنَا - صِفَتُ عُنَيْدِي - ج - عُنْدَا -
رِي وَاعْتَنَدَا - الْجَرِي كِي - رُكْلِي سِي
لُكَتَارِ رُوْنِ هُوْنَا - أَعْتَدَا فَلَانَا -
مَقَابِلُ كَرْنَا -
عِنْدَانِي، عُنُوزًا عُنْزَا مَحْكَانَا - سَمْتُ
مِي طِيحَرِي هُو جَاتَا -
عَائِدَا مَعَاكُشَةُ وَعُنَائِشَةُ - عَمْدِي هُوْنَا
مَقَابِلُ كَرْنَا - الشَّيْءُ - لَازِمُ هُوْنَا -
الرَّجُلُ - كِي كِي هِي سَا كَامُ كَرْنَا -

العائقاء۔ جھکی ہوئے کا سوراخ۔
 العقیق۔ گردن۔ بقل گیر ہونے والا۔
 المخبی۔ تیز دوڑنے والا۔ زمین کا سخت
 اور بند حصہ۔ لمبی گردن والا۔ ج
 معانیق۔
 المیناق۔ عمدہ گردن والا گھڑا۔ یا تیز دوڑنے
 والا۔ ج۔ معانیق۔
 المینقہ۔ پٹہ، بار۔
 عنقش بالشی۔ چمٹنا۔
 لعنقش بہر سخت ہونا۔ زریح کھانا۔
 عنک دن، عنکا و عنوگا و عنکف۔
 الرمل۔ ریت کا ڈھیر ہو کر بند ہونا
 صفت عنیک۔ ج۔ عنک۔
 عنک الباب۔ دروازہ بند کرنا۔
 الرجل سفر کرنا۔ الفرس۔ حملہ کرنا
 اور پھرنا۔
 عنک۔ طامت کرنا اور مشقت میں فالتا۔
 آعنک۔ الرجل۔ ریت کے تودہ پر
 لوٹنا۔ الباب۔ دروازہ بند کرنا۔
 العنک۔ تودہ ریگ۔
 العنکوت۔ کڑی ج۔ عناکب و
 عناکیب۔
 العنکبة و العنکبابة و العنکبابة۔
 کڑی مادہ ج۔ عناکب و
 عناکیب۔
 عن۔ البتان۔ پردوں کو غم سے
 رنگنا۔
 أعنت۔ الکاشیة۔ جانور کا غم
 گھاس پھنا۔
 العن۔ ایک درخت جس کا پھل سرخ ہوتا
 ہے۔ جس کے ساتھ رنگے ہوئے پردوں
 کو تشبیہ دیتے ہیں۔ واحد العنمة۔
 العنم۔ انور کی بیل کے دھاگے جو
 ٹیوں سے پیسے جلتے ہیں۔
 العنمة۔ انسان کے ہونٹ کی پھٹن۔

العقیق۔ خوب صورت چہرہ۔ سُرخ
 جھکتی ہوئی۔
 العینوم۔ زربینڈک۔
 عنّا یعنوا عنّا و عنوا۔ کہ
 حضور کرنا۔ جھکنا۔ فرماں بردار ہونا۔
 ذیل ہونا۔ صفت عان و عنی۔
 مؤنث عانیة و عنیة۔ الشی۔
 ظاہر کرنا۔ عنت الارض بالنبات
 سبزی اگانا۔ عنّا الامور۔ غم میں
 ڈالنا۔ عنّا الامر علیہ۔ دشوار
 ہونا۔ عنت الامور بفلان۔ نازل
 ہونا۔ و۔ عنوا، الکتاب۔ عنوان
 لکھنا۔ خط پر پتہ لکھنا۔
 عنّا یعنوا عنوا۔ زبردستی لے لینا۔
 صلح سے لینا۔
 عنّا یعنوا، عنی یعنا عنّا۔ فی القوم
 قیدی ہونا۔ صفت عان۔ ج۔
 عنّا۔ مؤنث عانیة۔ ج۔
 عانیات و عوان۔
 عنی تعنیة۔ الرجل۔ قید کرنا۔
 أعنی رعنا۔ الرجل۔ فرمان بردار کرنا۔
 ذیل کرنا۔ أعنت الاسمان
 الثبات۔ اگانا۔
 العانی۔ ہنسا ہوا خون یا پانی۔
 العنوا و العنا۔ گوشہ، کنارہ۔ ج۔
 أعنا۔ کہتے ہیں جاعنا أعنا
 قین الناس۔ ہمارے پاس مختلف
 قبیلوں کے لگ آئے۔
 عنون عنوتة۔ الکتاب۔ ویساچہ
 لکھنا۔
 عنوان الکتاب و عنوانہ عنیانہ
 عنیانہ۔ کتاب کا ویساچہ بخلاف
 کل شی۔ جس کے ظاہر سے باطن کا
 حال معلوم ہو۔ کہتے ہیں۔ الظاہر
 عنون الباطن۔ ظاہر باطن کا آئینہ

ہوتا ہے۔
 عنی یعنی عنیا۔ الامر بفلان۔ واقع
 ہونا۔ نازل ہونا۔ فیہ الاکل مفید
 ہونا۔ الارض بالنبات۔ اگانا۔
 و۔ عنیا و عنیة، بما قالہ کذا۔
 مراد لینا۔
 عنی۔ اللہ بہ عنایة۔ حفاظت کرنا۔
 عنی یعنی عنایة و عنیا۔ الامر
 فلانا۔ مشغول کرنا۔ فکر مند کرنا۔ عنی
 بالامر و عنی بہ عنایة یعنی
 عنّا۔ مشغول ہونا۔ فکر مند ہونا۔
 مشقت برداشت کرنا۔ صفت۔
 عان و عن۔
 عنی یعنی عناس۔ الاکل فیہ۔
 مفید ہونا۔
 عنی یعنی عنّا۔ ٹھکانا۔
 عنی تعنیة، أعنی رعنا۔ الرجل
 تکلیف پہنچانا۔ دشواریات کی تکلیف
 دینا۔ الکتاب۔ ویساچہ لکھنا کہتے
 ہیں۔ ما عنی فینما کسی شخص کو
 فائدہ نہیں پہنچایا۔
 عانی معانای۔ الشی بحکیف برداشت
 کرنا۔ الرجل ماله۔ مال کا سہاگت
 کرنا۔ ملاقات کرنا۔ الهموم
 فلانا۔ تفکرات کا پیش آنا۔
 تعنی تعنیاً۔ برداشت کرنا۔ ٹھکانا۔
 الامر۔ برداشت کرنا۔ تکلیف
 اٹھانا۔ فی الامر۔ قصد کرنا۔
 الحشی فلانا۔ بخار بار بار آنا۔
 اعنتی رعنا۔ بالامر۔ اہتمام کرنا۔
 پرواہ کرنا۔ الامر۔ واقع ہونا۔
 نازل ہونا۔ کہتے ہیں۔ هو بہ أعنی
 وہ زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔
 العنی۔ اہتمام کرنے والا۔ مؤنث۔
 عنیة۔

العُقَيَانُ - عنوان۔
 العُقِيَّةُ وَالْعَنَاءُ وَالْعَنَاءُ - يمكن۔
 الْمُعْتَبِيُّ - مقصود، معنی۔ الكلام۔ کلمہ کا
 مدلول۔ کلام کا مضمون۔ ج۔ مَعَانٍ
 معانی۔ انسانی صفات نمودہ کے لیے
 بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں "فَلَانٌ حَسَنٌ
 الْمُعَانِي۔ فلان اچھے اوصاف والا ہے۔
 الْمُعْتَبِيُّ - منسوب بمعنی۔
 مَعْنَى الْكَلَامِ، مَعَانِيهِ وَمَعْنِيَّتِهِ۔
 کلام کا مدلول۔
 عَهْدَ رَسٍّ، عَهْدًا - الْأَمْرَ - پھینچانا۔
 الشَّيْءَ - حفاظت کرنا۔ دیکھو بھال کرتے
 رہنا۔ فلان وَعَدَهُ - حفاظت کرنا
 اور پورا کرنا۔ عَهْدَ اللَّهِ - توجیہ بیان
 کرنا۔ فلانًا بِمَكَانٍ كَذَا - ملاقات
 کرنا کہتے ہیں "عَهْدِي بِهِ قَرِيبٌ"
 میری ملاقات اس سے قریب ہے۔
 عَهْدًا إِلَى فُلَانٍ - وصیت کرنا، اور
 شرط لگانا۔ الْيَوْمَ فِي كَذَا - وصیت
 کرنا اور ذمہ دار بنانا۔
 عَهْدًا - الْمَكَانَ - موسمِ ریح کی پہلی
 بارش ہونا۔
 عَاهِدَهُ - معاہدہ کرنا۔ حلیف بنانا۔
 أَعَاهَدَ - فلانًا مِنْ كَذَا - امین بنانا۔
 بری کرنا۔ ضمانت کرنا۔
 لَعَاهَدَ - الْقَوْمَ - ایک دوسرے سے
 معاہدہ کرنا۔ حلیف بنانا۔
 تَعَاهَدًا وَتَعَاهِدًا، اِعْتَهَدَ - الشَّيْءَ -
 حفاظت کرنا۔ دیکھو بھال کرنا۔ عہد کرنا۔
 تَجَدَّدَ كَرْنَا، تَعَاهَدًا وَأَعْتَهَدَ -
 آملاگہ۔ اپنے مالک کی حفاظت و
 اصلاح کرنا۔ تَعَاهَدَ بِمَعْنَى
 میں مستعمل ہے۔
 اسْتَعَاهَدَ - فلانٌ مِنْ صَاحِبِهِ - عہد
 لینا۔ اسْتَعَاهَدَ فُلَانًا مِنْ نَفْسِهِ

اپنے حوادثِ نفس کا ذمہ دار پھینچانا۔
 الْعَهْدُ - مَعْنَى - وَفَدَ ضَمَانَ - امان، ذمہ۔ دوتی
 وصیت، میثاق، قسم، شاہی فرمان۔
 ج۔ عَهْدُودٌ - وہ مقام جہاں کسی چیز
 کے بارے میں عہد کیا گیا ہو۔ وَبِئْسَ
 الْعَهْدُ - بادشاہ کا جانشین کہتے
 ہیں "كَانَ ذَلِكَ فِي أَوْعَلَى عَهْدٍ
 فُلَانٍ - فلاں کے دور میں تھا۔
 عَهْدِي بِهِ أَتَى لَكُرَيْمٌ - میرے
 علم میں وہ کریم ہے۔ هُوَ قَرِيبٌ
 الْعَهْدِ بكذا - وہ قریب الحال ہے۔
 عَلَى عَهْدِ اللَّهِ لَا فَعَلْتُ كَذَا - قسم
 بخدا میں ایسا کروں گا۔ کہتے ہیں "مَتَى
 عَهْدُكَ بِفُلَانٍ - تم نے اس کو
 کب دیکھا۔ الْعَهْدُ الْقَدِيمُ بِأَسْبَلِ
 کی وہ کتابیں جو مسیح علیہ السلام سے
 پہلے لکھی گئیں۔ الْعَهْدُ الْجَدِيدُ -
 بائبل کی وہ کتابیں جو حضرت عیسیٰ کے
 بعد لکھی گئیں۔
 الْعَهْدُ وَالْعَهْدَةُ وَالْعَهْدَةُ - ریح کی
 پہلی بارش۔ ج۔ عَهَادَةٌ -
 الْعَهْدَةُ - فصلِ ریح کی پہلی بارش۔
 الْعَهْدَةُ - ضمان، کفالت، اصلاح کے
 لیے واپسی۔ کہتے ہیں "بِئْسَ فِي الْأَمْرِ
 عَهْدَةٌ" - میں اصلاح کے لیے عنقریب
 لوگوں کا۔ خط یا عقل کا نقص۔ کہتے
 ہیں "بِئْسَ خَطْبُهُ عَهْدَةٌ" - اس کا
 خطر دی ہے۔
 الْعَهْدُ - عہدے کو پسند کرنے والا۔
 معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔
 الْعَهْدَانُ - ضمانت، کفالت۔
 الْعَهْدِيَّةُ - معاہدہ کرنے والا۔ معاہدہ
 کیا ہوا۔ پرانا۔
 الْعَهْدُ - وہ جگہ جہاں کوئی چیز معہود ہو
 لوگوں کی واپسی کی جگہ۔ ج۔ مَعَاهِدٌ

الْمَعْفُودُ - مفعول معروف و مشہور۔
 عَهْرُونَ، عَهْرًا وَعَهْرًا وَعَهْرًا
 عَهْرًا دَعْوُورَةً وَعَهْرًا
 عَهْرًا - ایسا۔ زنا کے لیے جانا۔
 صفت مذکر عاھر۔ ج۔ عَهْرًا
 صفت مؤنث عاھر و عاھرَة
 ج۔ عَوَاهِرُ -
 عَاهِرًا عَاهِرًا - زنا کے لیے جانا۔
 الْعَهْرُ - زنا کے لیے جانے والا۔ زنا کار۔
 الْعَاهِلُ - بڑا بادشاہ۔ بے خاوند عورت۔
 ج۔ عَوَاهِلُ -
 عَمَّنْ رِنٍ، عَهْنًا - بِالْمَكَانِ - اقامت
 کرنا۔ مِنْ الْمَكَانِ - نکلنا۔ فِي الْعَمَلِ
 کوشش کرنا۔ اِلَى فُلَانٍ - عہد لینا۔
 - بِفُلَانٍ مُرَادًا - جلدی پورا کرنا۔
 - الشَّيْءَ - ہمیشہ ہونا اور ثابت ہونا۔
 عَمَّنْ رِنٍ، عَهْنًا - جَوَائِدًا
 التَّخْلِيلِ - کجور کا درخت خشک ہونا۔
 عَمَّنْ رِنٍ، عَهْنًا - الْقَهِيْبُ شَاخٌ
 کا پکنا اور ٹوٹنے کے قریب ہونا۔
 عَمَّنْ رِنٍ، عَهْنًا - كَذَا - جلدی
 کرنا۔ الشَّيْءَ - حاضر ہوا۔
 الْعَهْنُ - اُون - رنگی ہوئی اُون - ج۔
 عَمُّونٌ - کہتے ہیں "هُوَ عَمُّونٌ مَالٍ"
 وہ مال کا بہترین قسم ہے۔
 الْعَهْمَةُ - شَاخٌ كِي يَكُ بُوْلُوْنُهُ كِ
 قریب ہو۔
 الْعَهْمَةُ - اُون - رنگی ہوئی اُون کا ٹکڑا۔
 ایک درخت جس کا سرخ پھول ہوتا ہے
 الْعَاهِرُ نَخًا - فقیر حاضر ثابت۔ جلدی
 کرنے والا۔ دُصِيْلًا - کابل۔
 الْعَوَاهِرُ - درخت غرما کی خشک شاخیں
 عَاهِنَةٌ - کی جمع ہے۔ کہتے ہیں "رَمَى
 الْكَلَامَ عَلَى عَوَاهِرِهِمْ" جو کچھ منہ پر آیا
 کہہ دیا خواہ صحیح ہو یا غلط۔

کھاٹ کی عورت عورتوں کا کھانا۔ کھانا۔
 عورت کھانا۔ بطور پناہ یہاں تک کہ تم
 پر ہائے۔ عورتوں۔ دیر کرنا۔
 کھوٹ۔ تمہارے۔

المعاش۔ مذہب۔ ملک۔ گنہگار۔
 کتے ہیں۔ ان کی عورتوں کے افسوس
 کھانا۔ میرے لیے اس میں گنہگار
 ہے۔ اس لیے کہ اس کا چھوڑنا ممکن
 نہیں ہے۔

خارج یعوض عوجا و معاجا۔ بالمکان
 اقامت کرنا۔ فلا فلان بالمکان۔ مقيم
 کرنا۔ الشاير۔ غیر۔ إلى أو من
 المکان۔ مائل و متوجہ ہونا۔ فلان
 عتھا حذم کلینو۔ بختہ آرامے سے
 ہٹ جانا۔ البعيد۔ اذرت کو گام
 سے پھیرنا۔ کتے ہیں۔ ما آخو بجر
 بکلامہ۔ اس کی بات کی میں پمناہ
 نہیں کرتا۔ عجا جاد و عجا، الیو
 مائل ہونا۔

عوجو یعوض عوجا۔ العود و عود
 کھڑی کا پیرھا ہونا۔ الإنسان۔ بدلت
 ہونا۔ صفت آخو بجر۔

عوجو عوجا۔ العود و عود۔ کئی
 کہ پیرھا کرنا۔ العضا و عود۔

عوجو عوجا۔ صفت منقول
 عوجا۔ ربکون میں، الثالث
 اوشی کہ پیرھا۔ عوجہ عتی الشی۔

عوجو عوجا۔ عوجو عوجا۔ عوجا
 العود۔ کھڑی پیرھی ہونا۔

العابج۔ لوجھا جھا۔ علیہ۔ مڑنا۔
 العابج۔ مائل و ملت، العابج۔ مائل
 دانت کا کھڑا۔

العابج۔ مائل و دانت کا پیرھے والا۔
 العوج۔ پیرھا ہون۔ و عوج۔

العوجا۔ عورت آخو بجر۔ کان۔ دہلی
 اوشی۔ جو۔ عوج۔

العابج۔ مع۔ پیرھے کی جگہ۔

عاد یعوض عودا۔ ہٹانا۔ عواد
 القائل۔ واپس کرنا۔ عواد فلا فلان

بالمعروفین۔ احسان اور بھلائی کرنا۔

عاد یعوض عودا، عودا و معادا
 ۔ یکذا اولی کذا۔ کسی کی طرف

مائل ہونا۔ اعراض کے بعد واپس ہونا۔

کتھوں۔ عواد کئی عود فلان
 عودا۔ فلان کی جانب سے مجھ

تکلیف پہنچی۔

عاد یعوض عودا و عیادا۔ الشی۔

دوبارہ کرنا۔ اسی سے ضرب المثل

ہے۔ العود احمد، عاد الامر
 کذا۔ بمعنی صائر۔ یہ افعال ناقصہ

سے ہے۔ کسی ایک حالت سے دوسری

حالت کی طرف انتقال کہلے آتا

ہے۔ عواد فلان عودا۔

فلان ہواں سے بڑھا ہوا ہو گیا۔

عاد عودا۔ عادت بنالینا۔

عاد یعوض عودا و عیادا و عیادا
 و عوادا۔ المریدین۔ بیمار پرسی

کرنا۔ صفت مکر عیادا۔ جو۔

عودا، عود، عودا۔ صفت عود
 کا پیرھا۔ جو۔ عواد۔ صفت

منقول۔ عود و عودا۔

عود۔ فلا فلان کذا۔ عادی بنالینا۔

العوج۔ اولی کا پیرھا ہونا۔

العوج۔ عروسیدہ ہونا۔

عید کعبیدا۔ عید میں حاضر ہونا۔

عاد عواد عوادا و عوادا۔ الرجل
 پہلے معاملہ کی طرف واپس ہونا۔

الشی۔ عادت بنالینا۔ کتے ہیں۔

عاد عواد العودی۔ بار بار پرسی آیا۔

عاقدا کا یا المسألة۔ بار بار
 سوال کرنا۔

عاد عادا۔ الامر او الكلام۔

لوٹانا، دوہرانا۔ الشی۔ عادت بنا

لینا۔ طاقت رکھنا۔ الشی۔ إلى

مکانہ۔ اس کی جگہ کی طرف لوٹانا۔

کتے ہیں۔ فلان ما یعید و ما
 یعیدی۔ کئی عید نہیں کر سکتا۔

رأیت فلانا ما یعیدی و ما یعید۔

کچھ بات نہیں کرنا۔ نہ ابتداء، نہ

انتهاء۔

تعود تعودا۔ المریدین۔ بیمار پرسی کرنا

۔ الشی۔ عادی ہونا۔

اعتادا و اعتیادا۔ الشی۔ عادی ہونا۔

تعواد۔ القوم فی الخوب۔ ہر گروہ

کا اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹنا۔

استعاد استعادا۔ لوٹنے کی درخواست

کرنا۔ الشی فلان و من فلان
 لوٹنے کو کرنا۔ الشی۔ عادی ہونا۔

عواد ہونا۔

عاد۔ عرب ہاندہ کا ایک شفی، ایک پرانا

قبیلہ جو اسی کے نام سے مشہور ہے

کتے ہیں۔ ما ادری آتی عاد ہوا۔

مجھے نہیں معلوم، وہ کون ہے۔

العادی۔ جس کام کی عادت ہو۔ پرانی

چیز۔ قدیم اقوام کے کھڑکات۔ جو

عادیات۔

العود۔ مع۔ بڑھا اونٹ، بڑھی بکری

جو۔ عودا۔ ہمانا رستہ، کتھوں

رجع عودا کئی بندو اور جمع

عودا کئی بندو۔ اس کا سفر مع

نہیں ہوا اور واپس آیا۔

العود۔ کڑی۔ کئی بولے خانہ سبک قسم

کی خوشبو جس کو بطور عطر استعمال

کئے ہیں۔ رہاں کی جڑ کی بڑی سارنگی۔

ج۔ عِيدَانُ، اَعْوَادُ، اَعْوَادُ.

عُودُ الصَّلِيبِ، عُودُ القَرْجِ، عُودُ
الْاَنْجَبَارِ۔ دواؤں کے نام۔

العِيدُ۔ عید۔ ہر وہ دن جس میں کسی بڑے
آدمی یا کسی بڑے واقعہ کی یاد منائی
جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عید کو اس لیے عید

کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے
دراصل عود تھا، اس کی جمع حسب

قاعدہ اَعْوَادٌ ہونی چاہیے تھی، مگر
عود بمعنی ٹکڑی کی جمع سے فرق کرنے

کے لیے اَعْيَادٌ آتی ہے۔ العِيدُ۔
بار بار آنے والا مرض یا غم وغیرہ۔

العَادَةُ۔ عادت۔ ج۔ عَادَاتٌ، عِيدٌ،
عَادٌ، عَوَائِدٌ رگو یا عَوَائِدٌ

عَائِدَةٌ کی جمع ہے،
العَوَادُ۔ سارنگی بجانے والا۔

الاعْوَادُ۔ زیادہ مفید و نفع، کہتے ہیں
”هَذَا اَعْوَادٌ عَلَيْكَ“ یہ تمہارے

لیے نافع ترین ہے۔
العَائِدَةُ۔ مُنْتِ عَائِدٌ۔ ج۔ عُوْدٌ و

عَوَائِدٌ و عَائِدَاتٌ۔ بھلائی، صلہ
مہربانی، منفعت۔ ج۔ عَوَائِدٌ۔

العَوَائِدُ۔ محمول۔
العَوَادُ۔ مہربانی، بھلائی کا کام۔ کہتے ہیں

”اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا عَوَادًا حَسَنًا“
ہمارے پاس تمہارے لیے وہ ہے جو

تم پسند کرو (عوادِ ثلثت عین کے
ساتھ آتا ہے)

العَوَادَةُ۔ م۔ ج۔ ایک مرتبہ لانے کے
بعد دوبارہ تھکان کے لیے لایا جانے۔

کہتے ہیں: لَكَ الْعَوَادَةُ، لَكَ الْعُوْدُ
وَالْعَوَادُ۔ تمہارے لیے واپسی کا

حق ہے۔
المَعَادُ۔ م۔ لوٹنے کی جگہ۔ آخرت جنت

ج۔ (والمَعَادَةُ) رولے، زورہ کرنے

کی جگہ۔ ج۔ مَعَادُودٌ۔

المُعِيدُ۔ ف۔ حَاقِقٌ، تَجْرِبٌ كَارٌ۔ عالمِ بامورد۔
بار بار جہاد کرنے والا۔ کہتے ہیں قُرَيْشٌ

مُبْدِئَةٌ مُعِيدَةٌ۔ سدھایا ہوا گھوڑا۔
المَعَادُودُ۔ ف۔ ہمیشگی کرنے والا۔ اپنے

کام میں ماہر۔ جو ائمرد۔
المُتَعِيدُ۔ غضب ناک، سخت ظالم۔

عَاذٌ يَعُوذُ عَوْدًا وَمَعَاذًا، عِيَاذًا
مَعَاذَةً، تَعُوذٌ۔

اِسْتِعَاذٌ۔ يَفْلَانُ مِنْ كَذَا۔ پناہ مانگنا
عَاذٌ بِالْفِعْلِ۔ لازم ہونا۔

عَعُوذٌ تَعْوِيذًا، اَهَاذًا عَاذَةً،
اَعُوذُ اِعْوَاذًا۔ الرجلُ حَفَاظَت

کرنا۔ دعا کرنا۔ اِعْيِيذُكَ بِاللّٰهِ
کرنا۔ جادو کرنا۔ عَعُوذُ الرَّجُلِ كَيْسِي

کو تعویذ پہنانا۔
تَعَاوُذٌ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کی پناہ

لینا۔ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔
العَوُودُ۔ پناہ، کہتے ہیں۔ ”تَعُوذُ بِاللّٰهِ

وَمِنْكَ“ میں تم سے خدا کی پناہ
مانگتا ہوں۔

العِيَاذُ۔ م۔ پناہ کی جگہ۔ کہتے ہیں۔
العِيَاذُ بِاللّٰهِ وَمِنْكَ۔ میں تم سے

اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔
العَوُودُ۔ جاتے پناہ۔ کراہت۔ مخرجون

سے گئے ہوئے تھے۔ ناکس و
فرمایا لوگ۔

العَوُودَةُ۔ ج۔ عَوُودٌ و التَّعْوِيذُ۔ ج۔
تَعَاوِيذٌ و المَعَاذَةُ۔ ج۔ مَعَاذَاتٌ

تعویذ، وہ اسماء و آیات، جو دفع
مرض کے لیے گئے وغیرہ میں باندھے

جاتے ہیں۔
العَوَاذُ۔ کراہت، کہتے ہیں: مَا تَرَكْتُ

فَلَانَا اِلَّا عَوَاذًا مِنْهُ“ فلاں کو
میں نے نہ چھوڑا کہ اسے چھوڑ دیا۔

چھوڑا۔

العَائِدَةُ۔ ف۔ ج۔ عُوْدٌ۔ نئی جننے والی
ہرنی، اونٹ یا گھوڑا۔ ج۔ عُوْدٌ و

عُوْدَانٌ۔ ج۔ عُوْدَاتٌ۔
العَائِدَةُ۔ مُنْتِ عَائِدٌ۔ ج۔ عَوَائِدٌ

وَعَائِدَاتٌ۔ العَوَائِدُ۔ چار
ستارے جن کے درمیان میں ایک

ستارہ اَبَح نام کا ہے۔
المَعَاذُ۔ م۔ پناہ گاہ۔ جادو۔ کہتے ہیں

”مَعَاذُ اللّٰهِ وَمَعَاذُ وَجْهِ اللّٰهِ و
مَعَاذَةُ اللّٰهِ وَمَعَاذَةُ وَجْهِ اللّٰهِ

اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔
المَعُوذُ۔ پٹکا ڈالنے کا مقام۔ تعویذ

لٹکانے کا مقام۔ گھروں کے آس پاس
اونٹوں کی چراگاہ۔

المَعُوذُ و المَعُوذُ و العُوْدُ۔ کانٹوں یا
درختوں کی جڑیں۔ پتھر کے نیچے کی

نباتات۔
عَارَةٌ يَعُوذُهَا عَوْدًا۔ کاناکر دینا۔ عَارٌ

الشَّيْءِ۔ لے جانا اور تلف کر دینا۔
وَأَعَارَ عَيْنَ الْمَاءِ أَوْ التَّوَكُّيَةَ۔

پانی کے چشمے یا کنوئیں کو بند کر دینا۔
عَارَتْ عَيْنَ الْمَاءِ أَوْ التَّوَكُّيَةَ۔

پانی کے چشمے یا کنوئیں کا بند ہونا۔
عَوْرٌ يَعُوذُ عَوَارًا و اِعْوَارًا۔ کاناکر ہونا۔

مفصلہ کر اِعْوَارًا۔ مفتح ہونے
عَوْرًا۔ ج۔ عَوْرٌ و عَوْرَانٌ۔

عَوْرَةٌ۔ کاناکرنا۔ فاعلُ الإِسْرَارِ۔ ہانڈ
رنگنا۔ عَوْرٌ عَلَيْهِ أَمْرٌ۔ قباحت

ظاہر کرنا۔ عَوْرٌ الْمَكَائِلِ۔ پیمانوں
کا اندازہ لگانا۔ عَيْنُ الْبَيْتِ۔ کنوئیں

کو مٹی سے بھر دینا۔ عَيْنٌ فَلَانٍ۔
دوسرے کی طرف سے چھوٹ بولنا۔

فَلَانًا۔ لوٹا دینا اور ضرورت پوری
نہ کرنا۔

أَعْوَرَةٌ رُغْوَارًا - کاتا کر دینا۔ اَعْوَرٌ
 الشَّيْءُ - ظاہر ہونا، چھپے ہوئے اعضا
 کا ظاہر ہوجانا۔
 أَعْوَرٌ - العَارِيں - سوار میں نیزہ لگنے کی
 جگہ کا واضح ہونا۔ الرَّجُلُ - رکت
 کرنا۔
 أَعَارَهُ عَارَةً - الشَّيْءُ دَمِينُ الشَّيْءِ -
 مانگی ہوئی چیز دینا۔ عَاوَرَ الشَّيْءُ -
 انتظار کرنا
 عَاوَرَةٌ - انشئ معَاوَرَةٌ - مانگی ہوئی چیز
 دینا۔ عَاوَرَ الشَّيْءُ - انتظار کرنا۔ عَاوَرَكَ
 الشَّمْسُ - انتظار کرنا۔ عَاوَرَكَ
 الشَّيْءُ - جیسا کوئی کرے ویسا ہی اس
 کے ساتھ معاملہ کرنا۔
 عَاوَرَ وَعَايَرٌ - المَكَائِيلُ - پیالوں کا
 اندازہ کرنا۔
 رَاعُوْرٌ - کانا ہونا رَاعُوْرَتٌ وَاَعُوْرَتِ
 العَيْنِ - آنکھ کا ن ہونا۔
 تَعَوَّرَ - العَارِيَّةُ - کوئی چیز مانگنا۔ ر - و
 تَعَاوَرُوا عَعُوْرَ القَدَمِ الشَّيْءِ -
 باہمی باہمی لینا۔ دست بدست لینا۔
 کتے ہیں۔ کَعَاوَرَتِ الرِّيَاحُ رَمَسًا
 التَّدَارِيءُ - مکان کے نقابوں و آثار پر
 مختلف قسم کی ہواؤں کی جھونکی، کبھی
 شمالی، کبھی مغربی اور کبھی مشرقی،
 کا چلنا۔
 اسْتَعْوَرَ - الرَّجُلُ - تنہا ہونا۔
 اسْتَعَارَ - الشَّيْءُ مِنْ فُلَانٍ وَاَسْتَعَارَ
 فُلَانًا الشَّيْءُ - کسی سے کوئی چیز عاریتہ
 مانگنا، اسی سے ہے۔ أَرَى الدَّاهِرَ
 يَسْتَعْوِرُنِي نِيَابِي - میں دیکھتا ہوں
 کہ زمانہ میرے کپڑے عاریتہ دیتے کو
 کہتا ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ
 آدمی بوڑھا ہو جائے اور اسے موت
 کا خوف ہو۔

العَوْرَةُ - وہ خلی جو سرحدت پر ہو، اور
 جس سے ڈر ہو۔ العَوْرَةُ مِمَّنْ
 الرَّجَالِ - شکاف۔ مِمَّنْ الشَّمْسِ
 بلتے طلوع و غروب، ہر وہ امر جس
 سے شرم کی جائے، انسان کے وہ عضو
 جن کو شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے۔
 جَزَعُوْرَاتٌ وِعَوْرَاتٌ -
 العَائِدُ - ثا۔ جس کی آنکھ میں تنکا ہو۔ آنکھ
 کا دکھنا۔ تنکا، ہر وہ چیز جو آنکھ کو
 تکلیف دے۔ العَائِدُ مِنَ السَّقَامِ
 أَوْ الحِجَارَةِ - وہ تیر یا پتھر جس کا
 پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ کتے ہیں:-
 أَصَابَهُ سَهْمٌ أَوْ حَجْرٌ عَائِدٌ -
 اس کو ایسا تیر یا پتھر لگا جس کا پھینکنے
 والا معلوم نہیں۔
 العَائِدَةُ - مؤنث عائِدٌ - کثرت، کتے ہیں
 لَهْ مِنَ المَالِ عَائِدَةٌ عَيْنِيْنِ -
 اس کے پاس اتنا مال ہے جو آنکھوں
 کو بھر دیتا ہے۔ عَيْنٌ عَائِدَةٌ -
 تنگے والی آنکھ۔ جَزَعُوْرَاتٌ -
 العَوْرَاتُ مِنَ الجِرَادِ - مڈیوں کی
 مختلف ڈاریں۔
 العَارِيَّةُ العَارِيَّةُ العَارِيَّةُ - مانگی ہوئی
 چیز۔ وہ چیز جس کا آپس میں لین دین
 ہو۔ عَوَارٌ وِعَوَارِيٌّ -
 العَوَارُ - بتقلید العَيْنِ - عیب کپڑے
 کا پھینکنا۔
 الأَعْوَرُ - کانا۔ مؤنث عَوْرَاءٌ - جَزَعُوْرٌ،
 عَوْرَانٌ، عَوْرَانٌ، المَعَارِي العَوْرُ -
 مشکل معانی۔ فَلَاحٌ عَوْرَاءٌ - ہے
 آپ جنگل۔ کَلِمَةٌ عَوْرَاءٌ - بری بات
 الِاعْوَرُ - کوا۔ ردی ضعیف، بزدل۔
 بری ہدایت دینے والا۔ کتاب پھینکی
 ہوئی۔ وہ شخص جس کا سگ بھانے نہ
 ہو۔ وہ راہ جس میں کوئی نشان نہ ہو۔

ج. اَعَاوَرُ -
 العَوْرُ - ردی بات، عادت۔ شئ عَعُوْرٌ
 وہ شے جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔ مؤنث
 عَوْدَةٌ -
 العَوْدُ - کوا۔
 العَبِيْرَانُ - مڈیوں کی مختلف ڈاریں۔
 العَوَارُ - تنکا، ابابیل، راہ سے ناواقف
 کمزور، بزدل۔ ج. عَوَاوِيْدُ -
 المَعَارُ - گھوڑا جو بلا کیا گیا ہو۔ بعض کے
 نزدیک دم نچے ہوئے گھوڑے کو
 کہتے ہیں۔
 المَعُوْرُ - مِنَ الأَمَكِنَةِ - خوفناک، رَجُلٌ
 مَعُوْرٌ - بری سیرت والا۔ شئ
 مَعُوْرٌ - جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔
 عَاوَرَ يَعُوْرُ عَوْرًا - الشَّيْءُ - مشکل ہونا۔
 باوجود ضرورت کے چیز کا کیا ب ہونا
 - الأَمْرُ - سخت ہونا۔ الرَّجُلُ
 محتاج ہونا۔ صفت عَوْرٌ وِعَائِدٌ و
 أَعْوَرٌ -
 أَعْوَرٌ رُغْوَارًا - الرَّجُلُ - محتاج اور
 بد حال ہونا۔ صفت مَعُوْرٌ و مَعُوْرٌ
 أَعْوَرَةٌ المَطْلُوْبُ - مقصود کا عاجز
 کر دینا۔ اور حصول کو مشکل بنا دینا۔
 أَعْوَرَ فِي الشَّيْءِ - محتاج ہونا اور قادر
 نہ ہونا۔ أَعْوَرَ الشَّيْءُ - دشوار ہونا۔
 - الدَّهْرُ فُلَانًا - زمانے کا کسی کو
 محتاج کر دینا۔
 رَاعُوْرٌ رُغْوَارًا - جلد کرنا بد حال ہونا۔
 العَوْرُ - مم۔ دانہ انور۔ واحد عَوْرَةٌ
 العَوْرُ - ضرورت، تنگی۔
 المَعُوْرُ و المَعُوْرَةُ - پرانا بوسیدہ کپڑا۔
 وہ کپڑا جس سے دوسرے کپڑے کی حفاظت
 ہو۔ ج. مَعَاوِرٌ و مَعَاوِرَةٌ -
 عَاسٌ يَعُوْسُ عَوْسًا وِعَوْسَانًا - شب
 کے وقت چکر لگانا۔ عَلِيٌّ عِيَالِهِ - اولاد

کے لیے منت سے کمانا۔ وکالہ۔
خوراک دینا۔ عوسا و
عیاسا، اللبیب۔ بیڑیے کا رات
میں خوراک تلاش کرنا۔ عوسا
الشیء۔ تعریف کرنا۔ معیشته
درست کرنا۔

عوس یعوس عوسا۔ ہنسنے وقت
رخسارے میں گڑھا پڑنا۔ صفت
اعوس۔

العوس۔ سفید مینڈھے، نسبت کے لیے
عوسیت کہتے ہیں۔ کبش عوسی۔
العوس۔ بالغ کا صیغہ ہے۔

عاص یعاص و عوص یعوص عیاصا
و عوصا۔ الشیء۔ سخت ہونا۔
مشکل ہونا۔ الکلام۔ کلام کا سمجھنے
میں دشوار ہونا۔

اعصا اعصیا۔ الامر حکیمہ۔
سخت ہونا، دشوار ہونا۔ پیچیدہ ہونا۔ جس
کی بنا پر صواب کو نہ پایا جاسکے۔

عوص۔ عمل و قوت میں راہ راست پر نہ
ہونا۔ العاصر آہا العویب، ایسا
شعر یا کلام کہنا جس کا سمجھنا دشوار ہو۔

اعوص عوصا عیاصا۔ والقیاس
اعواصلہ عوصہم و علی عوصہم
دلیلوں سے حیران کر دینا۔ فی الکلام
باریک بات کہنا۔

عاصه معاوصه۔ کشتی لڑنا۔
پہچاڑ دینا۔

العوص۔ باریک بات۔ مونک۔
عوصاء۔

العوصاء۔ مونک اعوص یعنی، ضرورت
کلمتہ عوصاء۔ نادر بات۔
العوص۔

العاص والعوص والعیصاء، دقت
ضرورت۔ العوص۔ نفس، قوت،

حکمت۔

العویص۔ من الامور۔ دشوار۔ من
الکلام۔ جس کا سمجھنا دشوار ہو۔
من الدواہی۔ سخت مصائب۔
مونک عویصہ۔ العویصہ۔
سختی، نفس، قوت، حکمت۔

عاص یعوص عوصا، عوصا عیاصا
وعوص، عاوص، اعاص
اعاصہ۔ فلانا من کذا۔ بدلہ
دینا۔

تعوص واعصا۔ منہ۔ بدلہ لینا۔
اعصا اعصا۔ فلانا بدلہ مانگنا
عوص۔ یہ کلمہ ہی ہے تینوں حرکتوں کے
ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس طرف
ہے مستقبل کے استغراق کا کام دیتا
ہے۔ جیسے لا افارتک عوص میں

کبھی تجھ سے جدا ہوں گا۔ استغراق
ماضی کے لیے بھی آتا ہے جیسے ما
رأیت و فکرت عوص۔ میں نے
اس جیسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نفی کے
ساتھ خاص ہے، بحالہ اضافہ۔
معرب ہوتا ہے۔ جیسے لا افعلہ
عوص العاصیین۔ یہ ایسا کبھی
نہیں کروں گا۔

العوص۔ ج۔ اعواص۔ العاصی و
المعوص۔ بدلہ۔

عاصک دن، عوصا و تعوصک
تعوصا۔ المراد اذ العاصا۔ حرکت
یا اونٹن کا کئی سال تک مال نہ ہونا،
بیر ہانہ ہونے۔ العلق۔ گروں
لمبی ہونا۔

العاصیط۔ جو بغیر ہانہ پن کے کئی سال مال
نہ ہو۔ ج۔ عوص و عوایط، عییط
عییط، عوصات۔

عاف یعوف عوا۔ العاف۔ پھندہ

کا منڈلانا۔

تعوف۔ الاسد۔ شیر کا رات میں شکار
ڈھونڈنا اور اس کو پھالنا۔

العاف۔ نرم۔

العوف۔ مم۔ حال، حصہ، ہمان، مرغ،
شیر، بیڑیا: آل اولاد کے لیے محنت
برداشت کرنے والا، پرندہ، ایک
خوشبودار نباتات۔ ابو عوف۔
نر ٹڈی۔ ام عوف۔ مادہ ٹڈی۔

العواف و العوافۃ۔ وہ شکار جس کو

رات کے وقت شیرھاڑے، غنیمت
عاقہ یعوقہ عوقا، عوقہ، عاقہ
عاقہ۔ رعناکہ رعنیاقا۔

عن کذا۔ روکنا۔ باز رکھنا، ہٹا دینا۔
کتے ہیں: اعوقی ہی الراد او
الدابة العواقا۔ بے سفر سے توجہ
یا سواری نے باز رکھا۔

تعوق تجھے ہٹنا۔ تعوق فلانا۔ باز
رکھنا۔ روک دینا۔

العوقی و العوقی۔ روکنے والا۔ بے فیض
انسان، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے
والا۔ وادی کاموں۔ ج۔ اعواقی۔

العوقی، العوقی، العوقی، العوقی،
العوقی العوقی۔ بزدل۔ روکنے
والا۔ رجل عوقی، عوقی،

عوقی، عوقی، عوقی۔ لوگوں کو
اچھے کاموں سے روکنے والا۔

العوقی۔ ہوک۔

العاقین۔ فا۔ ہر روکنے والی چیز۔ ج۔
عواقین و عوقی، عواقین الدھر۔
مشاغل زمانہ۔

العاقیة۔ مونک عاقین۔ عمل سے رکاوٹ
ج۔ عواقین۔

العیوقی۔ ایک ستارہ جو ثریا کے پیچھے
ہوتا ہے۔

العَوَانُ وَالْعَوَانِيَةُ - جانور کے پیٹ کی آواز جو چلنے میں نکلتی ہے۔
 عَاكَ يَعُوكَ عَوْكًا وَعَاكًا - علیہ
 علیہ کیا۔ متوجہ ہوا۔ ہم۔ پناہ لی۔
 مَعَاكَةً - کمان کی۔ صفت عَارِيكَ.
 تَعَاوُكَ - القوم۔ ہا ہم لڑنا۔
 اِعْتَوُكَ - القوم۔ ہجوم کرنا۔
 الْعَوُكُ - مہ۔ کہتے ہیں: عَابَهُ عَوْكٌ۔
 اس میں کوئی حرکت نہیں۔
 الْعَوِيكَةُ وَالْمَعْوَكَةُ - لڑائی۔
 الْمَعَاكُ - پناہ گاہ راستہ۔ برواغت۔
 عَالٌ يَعُوُّ عَوْلًا - بی حکیمہ۔ ظلم کرنا۔
 سیدھی راہ سے ہلنا۔ - يَعُوُّ
 عَوْلًا. عَالٌ يَعِيْلُ عَيْلًا، بی
 المیزان۔ خیانت کرنا۔ المَيْزَانُ
 گھٹنا۔ امر القوم۔ مضطرب ہونا
 - الطَّيْحُ فُلَانًا بَجَارِي هُونًا. عَالَتِ
 الْفَأَقَةُ ذَاتُهَا. اذْطَنِي كَادُم
 اظنانا۔
 عَالٌ يَعُوُّ عَوْلًا وَيَعِيْلُ عَيْلًا. کثیر
 اولاد ہونا۔
 عَالٌ يَعُوُّ عَوْلًا وَيَعِيْلُ عَيْلًا، عَوْلًا
 الْعَوَّلُ عَيْلًا. آل اولاد کے
 معاش کی کفالت کرنا۔ الْعَيْلُ
 کفالت کرنا کہتے ہیں: عَالٌ عَوْلَةٌ
 يَعِيْلُ عَوْلًا. اس کی ماں لے اسے
 گم کر دیا۔
 عَالٌ وَيَعِيْلُ - قصبت کا۔ بے صبر ہونا۔
 - الرَّجُلُ حَتَّارٌ هُونًا. صفت
 مَعْوَلٌ.
 أَعَالٌ إِعَالَةٌ، أَحْوَالٌ إِهْوَالٌ، أَحْيَالٌ
 إِهْيَالٌ - الرَّجُلُ - بہت اولاد والا
 ہونا۔ أَعَالٌ الرَّجُلُ - محتاج ہونا۔
 أَعَالٌ وَأَقْيَلٌ - جلدی ہونا۔ صفت
 مَعْوَلٌ، مَعْيَلٌ، أَعَالٌ عِيَالَةٌ۔

اہل و عیال کی روزی کے لیے کافی ہونا۔
 أَحْوَالٌ - چلا کر دنا۔ قَلِيٌّ فُلَانٌ وَهَمٌ۔
 مدد طلب کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ کہتے ہیں۔
 مَعْوَالٌ مَعْوَالٌ بِمَا يَهْتَمُّ. جو چاہو مدد
 لو۔ عَوَالٌ عَلَيْهِ مَعْوَالًا کہتے ہیں
 مگر تعویلاً نہیں کہتے اور اسم العَوْلُ
 ہے۔ اوس کہتے ہیں: عَوَالًا إِلَى فُلَانٍ
 یہی عَابَجُونًا فَوَجَدْنَا نَاهُ يَنْظُرُ
 الْمَعْوَالُ۔ ہم نے فلاں شخص سے
 اپنی ضرورت میں پناہ مانگی تو وہ بہترین
 پناہ گاہ ثابت ہوا۔
 عَيْلٌ كَعَيْلًا - عِيَالَةٌ - اہل و عیال کی
 معاش کے لیے کافی ہونا۔
 اِعْتَوَلٌ اِعْتَوَالًا - چلا کر دنا۔ کہتے ہیں
 كَالَهُ عَالٌ وَلَا مَالٌ. اس کے
 پاس کچھ نہیں ہے۔
 الْعَوْلُ وَالْعَوَالُ وَالْعَوِيلُ - پیچھے
 ہونے کی وجہ سے ہونا۔ الْعَوْلُ - ہر
 ایک تکلیف دہ کام۔ آل و اولاد کی
 غمراہی۔ مدد طلب کیا ہونا۔
 الْعَوْلُ - مدد طلب کرنا، بھروسہ، عمدہ،
 کہتے ہیں: فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ
 فُلَانٌ فَفُلَانٌ مَعْوَالٌ اِعْتَوَالًا۔
 الْعَاكَةُ - شجر مرغ، بارش سے بچنے
 کے واسطے چھوڑی جو کھڑی دھیرہ
 کی ہے۔
 عَيْلٌ - الرَّجُلُ - گھر کے وہ آدمی جن کا
 تان لنگھنا صاحب ہو مذکورہ ٹونٹ
 دونوں کو شامل ہے۔ جو - عِيَالٌ،
 عِيَالٌ، عَاكَةٌ۔
 الْمَعْوَالُ - کمان، پناہ گاہ۔ جو۔
 مَعَاوِلٌ۔
 الْمَعْوَالُ، جس سے زیادہ کہتے ہیں پر
 بھروسہ کیا جائے۔
 عَامٌ يَعُوُّ عَوْمًا - فی الماء۔ تیرنا صفت

قَائِمَةٌ. عَامَتِ الْعُقَيْبَةُ فِي الْمَاءِ
 کشتی چلتا۔ عَامَ الْعُقَيْبَةُ. عام ہلنا۔
 عَامَتِ الْمَجْرَمُ - ستاروں کا چلنا۔
 عَوَمٌ - کئی کیفیت کو دستہ دستہ رکھنا۔ عَوَمٌ
 الْعُقَيْبَةُ. کشتی چلانا۔ الْعَوَمُ۔
 ایک سال چھوڑ کر انکور کے درخت کا،
 پھل لانا۔ عَاوَمٌ فُلَانٌ فُلَانًا۔ سال بھر
 کے لیے کرایہ پر معاملہ کرنا۔
 اَعْوَمٌ اِعْوَامًا - ایک سالہ ہونا۔ اول سال
 میں ہونا۔
 الْعَامُ - عامتہ کی جمع ہے، دن، سال۔
 جو۔ اَعْوَامٌ - تصغیر عَوَيْمٌ۔ نسبت
 کے لیے عامی آتا ہے۔
 الْعَامَةُ - عامہ کا زینچ، سوار کا سر جو میدان
 میں دور سے نظر آئے گھنٹی۔ الْعَامَةُ
 کئی ہوتی کھیتی کے جمع شدہ گٹھے۔ جو
 عام۔
 الْعَوْمَةُ - ایک کپڑا جو پانی میں تیرتا ہے۔
 ایک قسم کا سانپ۔ جو۔ عَوَمٌ۔
 الْحَيَامُ - مبالغہ عاشر۔ تیز چال والا
 گھوڑا۔
 الْعَوَامَةُ - بنسی کی ڈوری کی وہ کڑی وغیرہ
 جھپالی پر تیری ہے جس کی حرکت سے
 اندازہ ہوتا ہے کہ چھل پھنس گئی ہے۔
 الْعَوَامُ - سوار کا سر جو دور سے میدان
 میں نظر آئے کہتے ہیں کہ: كَيْفِيَّتُهُ
 قَامَتِ الْعَوَيْمُ - یعنی میں سالوں
 میں کسی سال ملا۔
 الْمُشْتَعَامُ - جہاز، کشتی۔
 عَانَتِ كَعَوْنٍ عَوْنًا - الْمَرْأَةُ - عورت
 کا ادھر عروالی ہونا۔
 عَوْنُهُ، كَعَوْنِيْنَا، عَاوَنَهُ، مَعَاوَنَةً
 عَدَا، اَعَاكُهُ، اِعَاكُهُ عَلَى الطَّرِيقِ
 مدد کرنا۔ عَوْنُ الْمَرْأَةِ - ادھر
 عروالی ہونا۔

آعَاتَه مِّنْهُ، كَسَى كَرْمَانِي مِثْلًا -
 تَعَاوَنَ وَرَاعَتُونَ - القوم - ایک دوسرے
 کی مدد کرنا۔
 اسْتَعَانَ فُلَانًا وَيُعَلِّدُن - مدد مانگنا۔
 العَوْنُ - مع - مددگار، مدد کرنا۔ خادم۔
 رواج، جمع، مذکر، شکر، شکر، جہ۔
 اَعْوَانٌ -
 العَائِنَةُ - گدھی گورخر کا ریوڑ - پیر و سہرہ
 عَوْنٌ، عَائِنَاتٌ -
 العَوَانُ - بارش شدہ زمین، وہ جنگ ہو
 بار بار ہو۔ الحَرْبُ العَوَانُ - سخت
 لڑائی۔ العَوَانُ - ادھر طرہ - جہ۔
 عَوْنٌ -
 العَوَانَةُ - کھجور کا لمبا درخت، ایک کیڑا جو
 ریت میں ہوتا ہے۔ ایک جانور جو
 سہ سے مشابہ ہوتا ہے۔
 المَعَانَةُ، المَعُونَةُ، المَعُونُ - مدد۔
 المِعْوَانُ - بہتر مددگار۔ بہت مددگار۔
 جہ۔ مَعَاوِينٌ
 المِتْعَاوِنَةُ - بوڑھی عورت۔
 عَاةٌ يَعْوُّهُ عُوْدًا وَعِيَّةٌ - الزَّرْعُ
 کھیتی کا آفت زدہ ہونا۔ الرَّجُلُ
 آفت رسیدہ کھیت یا جانوروں کا
 مالک ہونا۔ صفت عَائِدٌ، عَارِيَةٌ
 عَاةٌ، اَعْوَاةٌ -
 عَوَاةٌ - الرَّجُلُ - آفت پہنچانا۔ د -
 اِعَاةٌ، اَعْوَاةٌ اِعَاةَةٌ اِعْوَاةٌ
 كَعْوَةٌ تَعْوَاهَا، آفت رسیدہ کھیت
 یا جانوروں کا مالک ہونا۔ عَوَاةٌ
 القوم - کچھ دیر سونے کے لیے سفر
 میں ٹھیرنا۔ عَوَاةٌ عَلَيْهِمْ مَطِيرًا
 اقامت کرنا۔
 العَاهَةُ - آفت - اَهْلُ الغَاهَاتِ
 آفت رسیدہ لوگ۔
 المَعِيُوَّةُ وَالمَعْوَةُ وَالمَعِيَّةُ - مَوْنٌ

المَعَايِشِي وَغَيْرَهَا - آفت رسیدہ
 عَابِي يَعْوِي عَوَاءً، عَابِيًا، عَوَاةٌ -
 عَوِيَّةٌ - الكَلْبُ اَوَالِدِي ثَبُ و
 اِبْنُ اَوِي - بھونکنا، کہتے ہیں۔ فُلَانٌ
 مَا يَعْوِي وَمَا يَنْجُرُ - کمزور ہے۔
 - القوم اِلَى الفِتْنَةِ - بلانا۔
 عَوَاةٌ يَعْوِيهِ عَابِيًا، عَنِ الشَّيْءِ -
 باز رکھنا۔ عَوِي القوس وَنَحْوَهُ -
 کمان کو جھکانا۔ الحَبْلُ اَوَالِدِي الشَّعْرَ
 رسی یا بال کو مٹھنا۔ عَنِ الرَّجُلِ
 جواب دینا اور غیبت کرنے والے
 کو جھٹلانا۔
 اِعْتَوَى اِعْتَوَاءً - الشَّيْءُ - موڑنا۔
 الكَلْبُ بَكَتْ كَابْهَوْنَا - عَادِي
 الكَلْبُ مَعَاوَاةً - بھونک کر کہتے کو
 بھونکنے پر اکسانا۔
 تَعَادَى تَعَاوِيًا - القوم عَلَى فُلَانٍ
 کسی پر ہجوم کرنا۔
 اِلْعَوَى اِلْعَوَاءً -
 اسْتَعْوَى اسْتِعْوَاءً - القوم فِرَادًا كَرْنَا
 فتنہ پر ابھارنا۔ ک - بھونکنا۔
 العَوَاةُ - کتاب جو خوب بھونکتا ہو۔
 العَوَاةُ - مع - آواز شور۔ العَوَاةُ
 پر تر۔
 المَعَاوِيَةُ - کتیا۔ بوڑھی کا بچہ۔
 عَابَ يَعْيبُ عَيْبًا - الشَّيْءُ - عيب وار
 بنانا۔ صفت فاعلي عَابِيٌ - صفت
 مفعول مَعِيِبٌ، مَعِيِبٌ - فُلَانًا
 عيب کی طرف متسوب کرنا۔ عَابَ
 الشَّيْءُ - عيب وار ہونا۔ صفت
 عَابِيٌ -
 عَيْبٌ، كَعَيْبٌ - الرَّجُلُ عَيْبٌ كِ
 طرف متسوب کرنا۔ عيب وار بنانا۔
 كَعَابِيٌ - القوم - ایک دوسرے کا عيب
 بیان کرنا۔

العَيْبُ - مع - برائی۔ جہ۔ عِيُوبٌ -
 العَيْبَةُ - ایک بار عيب جوئی کرنا، چڑھے
 کی زنبیل۔ کپڑوں کے محفوظ رکھنے کا
 صندوق۔ جہ۔ عَيْبٌ، عِيَابٌ،
 عَيْبَاتٌ - العَيْبَةُ مِنَ الرَّجُلِ
 بھیدل جگہ۔
 العَابُ - عيب، برائی۔
 العِيَابُ، العِيَابَةُ، العَيْبَةُ - بڑا
 عيب جو۔
 المَعَابُ المَعَابَةُ - عيب، برائی، جہ
 مَعَابِيٌ -
 المَعِيِبُ وَالمَعِيُوبُ - عيب وار۔
 المَعِيِبُ - زنبیل ساز۔
 عَابٌ يَعْيبُ عَيْبًا، عِيُونًا، عَيْبَانًا -
 الشَّيْءُ - فاسد کرنا۔ فِي مَا لَمْ -
 فاعول خرچی کرنا اور خرچ کرنے میں
 جلدی کرنا۔ صفت مذكر عَيْشَانٌ -
 صفت مؤنث عَيْشِيٌ -
 عَيْفٌ - اندھیرے میں اچھون سے ٹوٹنا۔
 کہتے ہیں۔ عَيْفٌ يَفْعَلُ كَذَا - وہ
 ایسا کرنے لگا۔
 كَعَيْفٌ اِلْبَلُّ سِيرَابِيٌّ كَمِ بَيْتَانَا -
 العِيُوثُ وَالعِيَابُ - بہت فساد مچانے
 والے۔ وَالْعَائِشَةُ شَيْرٌ -
 العَيْبَةُ - ایک بار کی فساد انگیزی، زم
 سر زمین۔
 عَابِرٌ يَعْجِبُ عَيْبًا بِالْقَوْمِ - پروا کرنا
 کہتے ہیں۔ لَا يَعْجِبُ بِكَلِمَةٍ -
 اس کا بات کی پروا نہیں کرتا۔ مَا
 عَجِبْتُ بِالشَّيْءِ - میں اس پر راضی
 نہیں۔ شَرِبْتُ الدَّوَامًا عَجِبْتُ
 بہ میں نے دوپٹی تو کچھ فائدہ نہ ہوا۔
 یہ ہمیشہ منفی استعمال ہوتا ہے۔
 عَابَ يَعْجِبُ عَيْبًا - جراتی کے ساتھ آنا جانا۔
 القوم - گھوڑے کا ناک کی سیدھی میں

بھاگ کر کوئی چیز اسے نہ پھیر سکے۔
اسم العیار فلانا۔ عیب لگانا۔
عَارَتِ الْقَوَيْدُ۔ قیدیوں کا مشہور ہونا۔
عَيْرٌ۔ فلانا۔ عار کی طرف نسبت کرنا، کسی کام کی برائی بیان کرنا۔ کہتے ہیں۔
عَيْرٌ كَذَا، عَيْرٌ كَذَا۔ عار دلانا۔ عَيْرُ الْمَاءِ۔ کان والا ہونا۔
عَايِرٌ مَعَايِرٌ، عِيَارٌ۔ ایسٹیاں اور ایسٹیاں۔ اندازہ کرنا۔ جانچنا۔ عَايِرٌ۔ فلانا۔ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔
أَعَارَ عَارَةً۔ الفوس۔ چرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ موٹا کرنا۔
تَعَايِرٌ۔ القوم۔ ایک دوسرے کا عیب بیان کرنا۔ ایک دوسرے کو شرم دلانا۔
العَارُ۔ عیب، ہر وہ قول و فعل جس سے آدمی کو شرم آئے۔ ج۔ اَعْيَارٌ۔
العَيْرُ۔ مہ۔ گدھا۔ گورخر۔ گورخر کے معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
ج۔ اَعْيَارٌ، عِيَارٌ، عِيُوسٌ، عِيُورَةٌ، عِيَارَاتٌ۔ ٹونٹ عَيْرَةٌ۔
العَيْرُ۔ بری بھری چیز، آکھ کی پتی۔
پلک، کھونٹی، کڑی جو ہودج کے آگے لگی ہوتی ہے، پاڑ، سرداب، بادشاہ، ڈھول۔ عَيْرُ الْقَدَمِ۔ قدم کے بیچ کا ابھرا ہوا حصہ۔ عَيْرُ الْوَرَقَةِ۔ پتے کا درمیان خط۔
العَيْرُ۔ قبیلہ حیر کا قافلہ بھرتام قافلوں پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ ج۔ عَيْرَاتٌ۔
العَايِرُ۔ فا۔ حیران، مزدور، چکر لگانے والا۔ سَمُّهُ عَايِرٌ جس تیر کا پھینکنے والا نہ معلوم ہو۔ شَاكَا عَايِرَةٌ۔
بکری ہودو گلوں کے درمیان پر یغان پھرے کہ کدم جائے۔

العِيَارُ۔ ج۔ عَيْرٌ۔ عِيَارُ الشَّيْءِ۔ ہر چیز کا اندازہ۔ ج۔ عِيَارَاتٌ۔ عِيَارٌ۔ الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَابِيرُ۔ دراہم و ذنابیر کا ٹھہ۔
العِيَارُ۔ بہت پھرنے والا۔ آوارہ گرد۔
فَرَسٌ عِيَارٌ۔ تیز رفتار گھوڑا۔
العِيَارُ۔ کسوٹی۔ ج۔ مَعَايِيرٌ۔
المُعَارُ۔ مِنَ التَّحِيلِ۔ گھوڑا جو مچ سوار کے رستے سے ایک طرف ہو جائے۔
المَعَايِرُ۔ عیوب۔
المُسْتَعْيِرُ۔ جو گدھے کے مشابہ ہو۔
موٹا گھوڑا۔
أَعْيَسَ اِعْيَاسًا۔ الزَّرْعُ۔ کھیتی کامر جھاتا خشک ہونا۔
تَعَيَّتِ الْاِبِلُ۔ بھورے رنگ والا ہونا۔
العَيْسُ وَالْعَيْسَةُ۔ بھورا رنگ۔
العَيْسُ۔ بھورے رنگ کا اونٹ۔ واحد۔
مذکر اَعْيَسٌ۔ واحد مؤنث عَيْسَاءُ۔
العَيْسُ۔ عمدہ قسم کے اونٹ۔
العَيْسَاءُ۔ ٹڈی مارہ۔
عَيْسِيٌّ۔ عبرانی کلمہ ہے۔ مسیح علیہ السلام کا نام ہے۔ نسبت کے لیے عَيْسِيٌّ، اور عَيْسِيٌّ آتا ہے۔
عَاشٌ يَعِيشُ عَيْشًا، عَيْشَةٌ، مَعَاشًا، مَعِيشًا، مَعِيشَةٌ، عَيْشُوشَةٌ۔ زندہ رہنا۔
عَيْشَةٌ، آهَانَةٌ، عَائِشَةٌ۔ زندہ رہنا۔
عَائِشَةٌ۔ سادہ زندگی گزارنا۔
تَعَيْشٌ۔ اسباب زندگی کے لیے کوشش کرنا۔
تَعَايَشُوا۔ بِاللُّغَةِ وَالْمَعْرُوفَةِ۔ محبت و پیار سے ایک ساتھ زندگی گزارنا۔
العَائِشُ۔ فا۔ کہتے ہیں: هُوَ رَجُلٌ عَائِشٌ۔ اس کی اچھی حالت ہے۔
العَيْشُ۔ مہ۔ زندگی، کھانا، روٹی۔ و

العَيْشَةُ، زندگی کی حالت۔
العَيْاشُ۔ روٹی فروخت کرنے والا۔ کھانا فروخت کرنے والا۔ عَائِشٌ كَالْبَاغِ۔
المَعَاشُ وَالْمَعِيشَةُ۔ کھانے پینے کی جس چیز سے گذران ہو سکے، ذریعہ زندگی۔ المعاش۔ زندگی کے گذران کو ڈھونڈنا، وقت، زمانہ۔ ج۔ مَعَايِشٌ۔
المُتَعَشِّشُ۔ فا۔ جس کے پاس گذر بسر کے لیے کچھ ہو۔
العَيْصُ۔ گنجان جھاڑی، اچھے درختوں کے اگنے کا مقام۔ اصل کہتے ہیں: هُوَ مِنْ عَيْصٍ كَرِيحَةٍ، وہ شریف اصل ہے۔ ج۔ اَعْيَاصٌ، عَيْصَانٌ۔
المَعِيشُ۔ درختوں کے اگنے کا مقام۔
عَاكَلَتْ اَعْيَطَ عَيْطًا۔ العُنُقُ۔ گردن کا لمبی ہونا۔ صفت مذکر۔ اَعْيَطُ۔
مؤنث عَيْطَاءُ۔ ج۔ عَيْطٌ۔
عَيْطٌ تَعْيِيطًا۔ چیخنا۔ چلانا۔
كَعَيْطٌ۔ غضب ناک ہونا۔ القوم۔ چیخنا۔ شور مچانا۔ تَعَيْطَتِ الْعُنُقُ۔ گردن لمبی ہونا۔ تَعَيْطُ الْعُودِ، لکڑی سے پانی جیسا بہہ کر گوند بننا۔
العَيْطُ۔ چیخ، پکار۔
العَايِرُ۔ فا۔ چیخنے والا۔ ج۔ عَوَظٌ، عَيْطٌ، عَيْطٌ، عَوَظٌ، عَيْطَاتٌ۔
مبالغہ کے لیے کہتے ہیں عَايِرٌ، عَيْطٌ، عَوَظٌ، عَوَظٌ۔
هَضْبَةٌ عَيْطَاءُ۔ اونچا ٹیلہ۔
عَاتٌ عَوَيْفٌ عَيْفًا، عَيْفًا، عَيْفًا، عَيْفَانًا۔ عَيْفَانًا۔ الطَّعَامُ وَغَيْرُهُ۔ کراہت کی بنا پر چھوڑ دینا۔
عَاتٌ عَوَيْفٌ عَيْفًا۔ الطَّيْرُ۔ پرند اڑا کر فال لینا۔
عَاتٌ عَوَيْفٌ عَيْفًا۔ الطَّيْرُ۔ منڈلانا۔ اسم عَيْفٌ ہے۔

کوئی نہیں ہے۔ کھرب میں عائن ہے۔
 عائن سے پانی سے پیا۔
 العائنة: مژگ عائن کہتے ہیں لہذا
 اقل عائنة او آذنی عائنة: ہر
 شے سے پہلے طاء۔ عائنة بنی فلان
 مال اور مالکین مال۔
 العین: مہم۔ آگہ۔ آگہ کا ڈھیلا۔ ہلک
 وغیر سمیت سب پر طلاق ہوتا ہے۔
 مژگ ہے۔ جو۔ آغون، عیون،
 عیون، آغیان، جہر آغیئات۔
 تصیر عیونہ۔
 العون: اہل شہر، اہل خانہ، بد نظری، کہتے
 ہیں یہ عیون۔ وہ بد نظر ہے، انسان
 اسی سے ہے کہا ہلک اور عیون: کوئی
 نہیں ہے۔ خاص، واضح، کہتے ہیں۔
 فاکر الحق یعینہ۔ خاص طریقہ پر
 حق کو بیان کیا۔ نکلیس۔ عزت، ہمنٹا
 عیون الایمان۔ سوئی کا ناکہ۔ دیدبان
 جاسوس، جماعت، ہر موجود چیز کہتے
 ہیں۔ لہذا عیون عیون۔ موجود کو
 موجود کے ساتھ بیجا، عمدہ شے، کمال
 کے چوڑے چوڑے طلق، دینار، نقد
 موجودات۔ ذات شے کہتے ہیں۔ ہو
 قہما اور عیون۔ سود، سوار، خربت
 قوم، کمال۔ ہر اول دستہ، آفتاب،
 شعاع آفتاب، مال تیار، مال، مال
 کے پانی کے گرنے کا مقام، کمزوری کے
 پانی پھولنے کی جگہ، پانی کا چھٹہ۔ جو
 آغون، عیون، تراژو کا جھکاؤ، گوشہ
 نظر، دیکھنے کی جگہ۔ کہتے ہیں: فلان
 عیون علی عیون فلان: فلان کا گہبان
 ہے۔ ہو عیون عیون او صدیق
 عیون۔ وہ دکھاوے کا خادم یا دوست
 ہے۔ لہذا عیون عیون۔ میں اس
 سے ملا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا لہذا عیون

اول عیون۔ میں نے سب سے پہلے
 طاقات کی۔ لا تطلب الا عیون
 عیون۔ معائنہ کے بعد اگر کو طلب مت
 کرو۔ یہ ایسے موقع کے لیے ضرب المثل
 ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور
 چھوڑ دے اور کم ہو جانے پر اس کے
 اثر کے وسیلے ہو جائے۔ صارحنا
 بعد عیون و آلف کلی عیون۔ تم
 میری مخالفت میں ہو، میری نگاہ میں
 تمہاری عزت ہے۔ ما هو عیون
 عیون۔ وہ لڑ ہے۔ فکلہ علی
 عیون و علی عیون و عند عیون
 و عند عیون و عند علی
 عیون۔ یقین کے ساتھ کوشش کی۔
 لقا عیون۔ لقا عیون۔ لقا عیون اور لقا
 کنا۔ لظم اللہ لک عیون۔ اللہ آگہ
 ٹھنڈی رکھے
 العین۔ نیل گائے۔
 العین۔ مہم۔ اہل شہر، جماعت۔
 العیان۔ مہم، شخص، کہتے ہیں لہذا آذنا
 آغیان۔ اس نے طاقات کی یاد دیکھا،
 اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں
 العیان۔ ہل کا پھل۔ جو۔ عیون،
 آغیونہ۔
 العیون۔ عمدہ مال۔ عیون الکل۔ عمدہ
 گھوڑے۔ العیون من العیون۔
 گری کی آگہ کا علاقہ۔ عیون العیون
 ماہ جب۔ ٹوٹ وینٹا۔ عمدہ کپڑا۔
 عیون العیون۔ کسی چیز کا اصل قیمت سے
 زیادہ ادھا رہنا۔
 العیون۔ من العیون۔ عیون گواہ۔
 العیون۔ عیون کی طرف حسب
 العیون۔ بد نظر جو۔ عیون و عیون۔
 العیون۔ جس کی پل بڑی اور چوڑی ہو۔
 مژگ عیون۔ جو۔ عیون۔ العیون

جنگل ہل۔ العیون۔ خصوصیت آنکھوں
 والی عیون۔ بہترین کلمہ کہتے ہیں آغون
 عیون۔ سبزی زمین۔
 المعائنہ۔ مہم۔ ہمداری۔
 المعان۔ منزل، کہتے ہیں: ہمدانک
 معان۔ وہ لوگ ایسے پر مقام پر ہیں کہ
 تم انہیں دیکھ سکتے ہو۔
 العیان و المعیان۔ بہت نظر لگانے والا۔
 الماء المویون و المعیون۔ جاری پانی۔
 عیون معیونہ۔ وہ چشمہ جس میں پانی
 بہت ہو۔
 المعین۔ اسم فاعل از تعین، علم ہند سسک
 اصطلاح میں ایسی شکل مسطح کا نام جس
 کے چاروں ضلع مستقیم و متساوی ہوں۔
 لیکن زاویے قائم نہ ہوں۔
 المعین۔ اسم مفعول از تعین، ساندہ
 لڑکاؤ۔ آنکھیں بڑی ہونے کی وجہ سے
 یہ نام پڑا۔
 ٹوٹ معیون۔ وہ کپڑا جس کے نقش و نگار
 میں وحشی جانوروں کی آنکھوں کے مثل
 خانے ہوں۔ نیز بولتے ہیں۔ زینت
 معیونہ و معیونہ۔ یعنی واضح اور
 کھلا ہوا ارادہ۔
 المعائن۔ پیٹوانے قوم۔ سبزہ اور پانی کی
 تامل کرنے والا۔
 عیون، عیون۔ آفت نازل ہونا۔
 العیونہ۔ بیخ، پکار۔
 العیونہ۔ آفت۔
 آغون معیونہ۔ آفت زدہ سبزی زمین۔
 عیون عیون یعنی عیون رس، عیون و عیون
 - یا عیون او عیون عیون کام سے عاجز
 ہو جانا، دست بڑ کر سکتا۔ عیون
 مراد کا جملہ گرنہ ہونا۔ عیون الامر۔ کام
 سے ناموافق ہونا۔ عیون رس و عیون
 بی المنطق۔ کلام کرتے کرتے ایک

دم رُک جانا۔ سخی و سخی۔ وہ شخص جو بولنے سے عاجز ہو گیا ہو۔
عَيَا نَعِيْبَةً وَ عَايَا مَعَايَاةً۔ الرجُلُ ایسا کلام کرا جس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے۔
عَايَا صَاحِبَةً۔ ساتھی سے ایسی بات کنا جس کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آئے۔
اَعْيَا اِعْيَاءً۔ المَاشِي پیدل چلنے والے کا تھک جانا۔ اِعْيَا۔ عجز سے کتر ہے۔
اَعْيَاةٌ۔ کسی کو تھکا دینا۔

اَعْيَا الدَّاءُ الطَّيِّبُ۔ بیماری کا لا علاج ہو جانا کہ طیب عاجز ہو جائے۔
اَمْرٌ عَلَيْهِ۔ کام کا کسی پر دشوار ہو جانا کہ عاجز ہو جائے۔
تَعَايَا اَلْاُمْرُ عَلَيْهِ وَ تَعَايَا عَلَيْهِ وَ تَعَايَاةً۔ کسی پر کام کا دشوار ہو جانا۔
تَعَايَا وَ تَعَايَا وَ اِنَّ تَعَايَا۔ بالامر۔ کام کو درست نہ کر سکتا۔
اَلْعِيَاةُ مِم۔ عاجز ہو جانا۔ دَاةٌ عِيَاةٌ۔

وہ بیماری جس سے صحت نہ ہو۔
العِيءُ۔ عاجز، تھکا ہوا۔ ج۔ اَعْيَاءُ۔
العِيءُ۔ عاجز از کلام۔ تھکا ہوا۔ ج۔
اَعْيِيَاءُ وَ اَعْيِيَةٌ۔
العِيَانُ۔ تھکا ہوا۔ عاجز۔
الْاَعْيِيَةُ۔ وہ کلام جس کے بیان کرنے سے عجز واقع ہو جائے۔
المُعِيءُ۔ تھکا ہوا۔ عاجز۔
‡ ‡ ‡

۱۰۰۰

غ

غَبَّتْ رَن، غَبًّا وَ غَبًّا۔ کئی روز کے بعد ملاقات کے لیے آنا۔ غَبَّتْ عَنْهُ۔
ایک دن آنا اور ایک دن نہ آنا۔
غَبَّتْ عَلَيْهِ الحَشِي، تیسرے دن کا بخار آنا۔ غَبَّتْ عِنْدَا۔ کسی کے پاس رات گزارنا۔ غَبَّتْ الرَّأْيِي۔ سوچ سمجھ کر رائے قائم کرنا۔
غَبَّتْ رَن، غَبًّا وَ غَبًّا وَ غُبُوبًا وَ غُبُوبَةً۔
الطَّعَامُ۔ کھانے کا باسی ہو جانا۔ مَطْرَبَانَا۔
غَبَّتْ اَلْاُمُورُ۔ کاموں کا انجام کو پہنچ جانا۔
غَبَّتْ رَض، غَبًّا وَ غَبًّا وَ غُبُوبًا۔ المَاشِيَةُ
چھوٹے کا ایک دن پانی پینا اور ایک دن نہ پینا۔
غَابَةٌ۔ ایسا چھپا ہوا جو ایک دن پیے اور ایک دن نہ پیے۔ ج۔ غَوَابٌ وَ غَابَاتٌ۔
اَغْبُتُ۔ المَاشِيَةُ۔ چھپانے کو ایک دن پینے اور ایک دن نہ پینے کا عادی بنانا۔
اَغْبَتُ۔ القَوْمُ۔ لوگوں سے ایک دن ناغہ کر کے ملنا۔ اَغْبَعَهُ الحَشِي وَ اَغْبَتُ
علیم۔ تیسرے دن کا بخار چھڑھنا۔

اَغْبَتِ الطَّعَامُ۔ کھانے کا متعفن ہو جانا مَطْرَبَانَا۔ اَغْبَتْ عِنْدَا۔ کسی کے پاس رات بسر کرنا۔
غَبَّتْ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا بگڑ جانا۔ فِی الرَّهْرِ۔ کام میں مبالغہ اور کوشش نہ کرنا
غَبَّتْ عَمْرُؤُ۔ لوگوں کی جانب سے مدافعت کرنا۔ غَبَّتِ الذَّنْبُ۔ بھڑیے کا بکری کو حلق سے پکڑنا۔
الغَابُ۔ اسم فاعل۔ باسی گوشت، نَجَسٌ غَابٌ۔ ستارہ ثابت۔
الغَيْثُ۔ مصدر۔ انجام۔ یعنی بعد۔ حَقِي الغَيْثُ۔ تیسرے دن کی باری کا بخار حَقِي غَيْثٌ۔ ترکیب تو صیفی بھی بولتے ہیں۔ مَاءٌ غَيْثٌ۔ پانی جو دور ہو ج۔ اَغْبَابٌ۔
الغَيْثُ۔ سمندر کا ایسا پانی جو خشکی کی تہوں میں گھس گیا ہو۔ نرم زمین۔ ج۔ اَغْبَابٌ غِيُوبٌ وَ غَبَانٌ۔
الغَيْبَةُ۔ زندگی بسر کرنے کا ضروری سامان۔
الغَيْبُ۔ مرغ اور گائے وغیرہ کے جڑے کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت۔ ج۔ اَغْبَابٌ۔

الغَيْبُ۔ باسی گوشت، ہاٹ یا زمین پر پانی بننے کا تنگ اور چھوٹا نالہ۔
الغَيْبَةُ۔ صبح کا دودھ جو رات سے ہی دوہ لیا جائے، پھر صبح کو بلو کر مکھن نکال لیا جائے۔
التَّغْبَةُ۔ جھوٹی گواہی۔
الْمَغْبَةُ۔ انجام ہے، بولتے ہیں۔ اَلْاُمْرُ مَغْبَةٌ وَ غَبْتُ۔ یعنی اس کام کا آخری نتیجہ اور انجام ہے۔
غَبَّتْ رَن، غَبًّا۔ الجَبْنُ بِالْمَسْمُونِ۔ پنیر کو گھی میں ملانا۔
اَغْبَتُ اَغْبَاتًا۔ رنگ کا خاک ہو جانا۔
اَغْبَتُ۔ خاک رنگ والی چیز۔
الغَيْبَةُ۔ ٹیلا پن۔
غَيْبَرٌ۔ دس غَبَّتَا المَاءُ۔ لگانا گھونٹ بھر کر پینا۔ غَبَّتْ غَبَّتْ پینا۔
الغَيْبَةُ۔ گھونٹ۔
غَبَّرَدَن، غَبُّورًا۔ گذر جانا۔ مَطْرَبَانَا۔ گرد آلود ہونا۔
غَبَّرَدَس، غَبَّرَا۔ الجَوْسُ۔ زخم کا قسار کے باوجود بھر جانا اور پھر پھوٹ پڑنا۔
ناسود بن جانا۔ ایسے زخم والے شخص کو

غیر کہتے ہیں اور اس کے معنی گرواؤ اور
کے بجا ہیں۔

غَيْرُ تَغْيِيرًا - غبار اٹھانا۔ غَيْرُ الشَّيْءِ - کسی
چیز کو غباراً لود کر دینا۔ غَيْرُ الرَّجُلِ
تھیل پھندا پڑھتے ہوئے یا گاتے
ہوئے آواز لہر دار نکالنا۔ گنگری بھرنا۔
معاورہ میں بولتے ہیں۔ غَيْرِي وَجِيه
فلاں۔ دوڑ میں فلاں سے آگے نکل جانا
گویا اس کے چہرے کو غباراً لود بنا دینا۔
أَغْبَرُ - غبار اٹھانا۔ گرواؤ لود ہو جانا۔ أَغْبَرُ
فِي الْأَمْرِ - کام پر توجہ کرنا، اور
کوشش کرنا۔
أَغْبَرَتِ السَّمَاءُ - آسمان سے شدید
بارش برسنا۔

أَغْبَرُ - غباراً لود ہونا۔ أَغْبَرُ الْيَوْمُ - دن
بھر شدید غبار رہنا۔

الغُبْرُ - کینہ، دل کدورت۔
الغُبْرُ - ج۔ أَغْبَارُ وَالغُبْرُ - ج۔ غُبْرَاتُ
باقی ماندہ شے، بھی بھی شے، باقی ماندہ
اثرات بیماری کو غُبْرُ الْمَرِيضِ
کہتے ہیں۔

الغُبْرَةُ - غباری رنگ القَبْرَةُ وَالغُبَارُ
خاک یا خاک کے باریک ذرات۔

الغُبْرُ بِقَادِثَاتٍ - ذابھیۃ الغُبْرُ - نہ
ٹپنے والی سخت مصیبت۔ الغُبْرُ نَجَاحُ

الغُبْرُ - غباراً لود ہونا۔ مصدر بر وزن
كَلَمَةٍ۔

الغُبْرُ - م۔ ناسور۔ جُذْرُ غُبْرٍ - وہ
زخم جو برابر پھوٹتا رہے۔

الأغْبَرُ - وہ چیز جس کا رنگ نکل ہو۔ بھیریا۔
قَالَ يَلِيْتُهُ هُنَّ لَا يُغَيِّرُ لَكَ عِزُّ

الدُّنْيَا قَائِمَةً أَغْبَرُ - یعنی دنیا کی
عزت سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ

وہ فانی ہے۔ ج۔ غُبْرٌ - جُوعٌ
شدید، دسخت بھوک کی صفت بھی

اظہر لاتے ہیں۔ معاورہ میں کہتے ہیں
الجُوعُ الْأَغْبَرُ وَالْمَوْتُ الْأَحْمَرُ -
یعنی سخت بھوک اور قاتل موت۔

الغُبْرَاءُ - مؤنث أَغْبَرُ - مادہ نخل۔ سرخ
چوپچ کا بیڑے کے ہم شکل کبوتر کے برابر
پرنہ جو اونچے محلّات میں آستیانہ
بناتا ہے۔ زمین، چنانچہ بے مثل شخصیت
کے لیے بولتے ہیں۔ "مَا أَظَلَّتِ
الْحَضْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْغُبْرَاءُ
مِثْلُ فَلَانٍ" - یعنی آسمان کے نیچے اور
زمین کے اوپر فلاں کی مثال نہیں۔
بَنُو الْغُبْرَاءِ وَبَنُو الْغُبْرَاءِ - فقراء مفلسین
سَنَةُ غُبْرَاءُ - قحط کا سال جس میں
بارش نہ برے۔

الغُبَيْرَاءُ - باجرہ جو ارکی شراب۔ ایک
قسم کا پودا۔

الغَايِرُ - اسم فاعل۔ گذشتہ، باقی ماندہ اخلاص
میں سے ہے۔ بولتے ہیں۔ "هُوَ غَايِرُ
بَنِي فَلَانٍ" - یعنی وہ فلاں خاندان کا
باقی شخص ہے۔ ج۔ غُبْرٌ وَغَايِرُونَ -
غُبْرُ الشَّيْءِ - کسی چیز کے بقایا حصے۔
غُبْرُ اللَّيْلِ - رات کے بچھے گئے۔
غُبْرُ النَّاسِ - مرتبہ میں گئے ہوئے۔
لُجْبٌ۔

الْمَغْيَارُ - مِنَ النَّخْلِ وَغَيْرِهَا - وہ کھجور یا
کوئی چیز جس پر غبار جا ہو۔

الْمَغْيَرَةُ - وہ لُجْبٌ جو خدا کا نام بات بات
پر پکارتے ہیں۔

غَيْبٌ (س) غَيْبًا وَغَيْبٌ وَغَيْبٌ
وَالْمَجَافِقُ - اللَّيْلُ - رات کا تاریک

ہوجانا۔ أَغْيَسُ - تاریک رات۔ ج۔
غَيْبٌ - أَغْيَسُ الشَّيْءِ - کسی چیز کا
خاکسری رنگ ہوجانا۔

الغَيْبَةُ وَالغَيْبُ - خاکسری رنگ۔
یعنی کدورت مائل سفیدی، اول شب

کی تاریکی۔

غَيْبٌ (س) غَيْبًا وَغَيْبٌ - اللَّيْلُ -
آخر شب میں روشنی کا تاریکی سے مخلوط
ہو کر پایا جانا۔

تَغْيِيشَةٌ - کسی کو دھوکا دینا۔ ظلم کرنا۔ جھوٹا
دعویٰ دائر کروینا۔

الغَايِشُ - ملاوٹ کرنے والا۔ دھوکے باز۔
ظالم۔

الغَيْبُ - رات کا باقی حصہ۔ آخر شب کی
تاریکی۔ ج۔ أَغْبَاشٌ۔

الغَيْبَةُ - رات کا باقی حصہ۔ لَيْلٌ غَيْبٌ وَ
أَغْيَسٌ وَكَيْلَةٌ غَيْبَاءُ - اندھیری
رات۔ ج۔ غَيْبٌ۔

غَيْبَتٌ (س) غَيْبًا - العَيْنُ - بہت
رونے کے سبب آنکھ سے ڈھیڈھیل یعنی
کشافت زیادہ نکلنا۔

الغَيْبُ - م۔ بننے والی ڈھیڈھیل آنکھ سے
بننے والا کثیف پانی، چنانچہ اسی معنی میں
بولتے ہیں۔ فِي عَيْنِهِ غَيْبٌ۔

غَبَطَ (ض) غَبَطًا - الْكَبْشُ - ہاتھ سے
ہینڈھے یا بکری کی کر ٹولنا، جس سے
اس کا موٹا یا ڈبلا ہونا معلوم ہو۔

غَبَطَهُ (ض) وَغَبَطَهُ غَبَطًا وَغَبَطَةً
کسی چیز کا نظروں میں چڑھ جانا۔

دوسرے کی نعمت وغیرہ کے مثل اپنے
لیے بھی چاہنا۔ مگر اس سے زوال کی
خواہش نہ ہو۔ یعنی کسی کے حال پر
رفک کرنا۔

الغَايِطُ - رفک کرنے والا۔ ج۔ غَبَطٌ۔
اسم فاعل۔

الْمَغْبُوطُ - جس پر رفک کیا جائے۔
اسم مفعول۔

غَبَطَهُ - کسی کو رفک کرنے پر آمادہ کرنا۔
کسی کے فعل کو قابل رفک قرار دینا۔

أَغْبَطُ - السَّحَابُ - بارش مسلسل برسا۔

میں وقت اور غم میں ڈالنا
 قَتْلَهُ بِالْكَلَامِ - لا جواب کر دینا۔ قَتْلُ
 الصَّيْفِ - مزہ پر ہاتھ ڈاکھڑا کر
 ہنسی کو چھانا۔ قَتْلُ الْمَاءِ - برتن کو
 مزہ سے بھلانے بغیر گھونٹ گھونٹ
 پانی پینا۔
 قَتْلُ وَأَهْلُ - الطعام - کھانے کو
 بگاڑ دینا۔
 قَتْلُ دَسٍّ، قَتْلُ الْمَكَانِ - کسی جگہ
 بہت سے درختوں کا اگنا، ایسی جگہ کو
 قَتْلُ کہتے ہیں۔
 آعْتَمَ - الزَّيْرَاقُ، اتنی کثرت سے کسی
 سے ملنا کہ وہ تنگ آجائے۔
 الْعُتْمُ - دم گھونٹنے والی سخت گرمی۔
 الْعُتْمُ - بات صاف کرنے کا۔
 الْأَوْعْتُمُ وَالْعُتْمِيُّ - فصیح بات نہ کر
 سکنے والا جو۔ عُتْمٌ وَأَهْتَامٌ -
 مؤنث عُتْمَاءٌ -
 كَتَمْتُ رَسْمًا، كَتَمْتُ كَتْمًا وَكَتَمْتُ
 الْقَاعَ - بکری کا دہلا ہونا۔ كَتَمْتُ
 دَبْلِي بَكْرِي - كَتَمْتُ اللَّحْمَ - گوشت
 دہلا ہونا۔
 كَتَمْتُ - كَتَمْتُ الْقَدَمَ - کلام کا فاسد
 باطل ہونا۔
 كَتَمْتُ رَحْمًا، كَتَمْتُ وَكَتَمْتُ - علیہ
 الْمَكَانِ - کسی کے لیے جگہ کا ناموافق
 ہونا۔ كَتَمْتُ الْجُرْمَ - زخم سے پیپ
 بنا۔ مامودہ۔ قَتْلَانٌ كَوَيْهَاتُ
 عَلِيٍّ شَيْءٌ - یعنی قتل کے نزدیک کوئی
 چیز یہی قابل ترک نہیں۔
 آعْتَمَى - لاف ہونا۔ فاسد ہونا۔ آعْتَمَى لِي
 الْكَلَامَ - بیکار کلام کرنا۔ آعْتَمَى اللَّحْمَ
 دہلا گوشت خرید لینا۔
 كَتَمْتُ - الْخَيْلُ - گھڑوں کو موسم بہار
 میں کم چرنے کا موقع دینا۔

كَتَمْتُ - الشَّيْءَ - کسی چیز کو خلیل و کم
 مقدار سمجھنا۔
 اسْتَعْتَمْتُ - الْجُرْمَ - زخم کا علاج کرنا۔
 اس میں سے پیپ نکالنا۔
 الْقَتْلُ - لَانْفِرَ، كَتَمْتُ الْجُرْمَ وَكَتَمْتُ
 زخم کی پیپ اور فاسد مادہ۔
 الْكَوَيْهَاتُ - بیکار چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اور
 عقل کی قربانی کو بھی۔
 كَتَمْتُ رَسْمًا، كَتَمْتُ - الْمَكَانَ بِالنَّبَاتِ -
 کھیتی کا اہلانا۔
 آعْتَمُوا - الْقَدَمَ - درخت سے گوند کی قسم
 کا سوال مادہ بنا۔
 كَتَمْتُ - الْعُتْمُ - پرانا ہونے کی وجہ سے
 کپڑے کا جگہ جگہ سے بھی جانا۔ گھس کر
 چھیدا ہونا۔
 الْكَتْمُ - کپڑے کے چھید۔
 الْعُتْمُ وَالْعُتْمِيُّ وَالْقَتْمُ وَالْقَتْمِيُّ
 بہت بلند کے لوگ۔
 الْقَتْمَةُ - فرائض پیداوار، قحط کی ضد۔
 الْقَتْمَةُ - بکری مائل سرخ رنگ۔
 الْآعْتَمُ - وہ چیز جس کا رنگ سرخی مائل ہو۔
 مؤنث كَتَمَاءٌ - جو۔ كَتْمٌ - وہ کبیل
 جس میں اون کے ریلے زیادہ ہوں، شیر
 بھلا۔ بانی کی کائی، جاہل۔
 الْمَكْتَمُ وَالْمَكْتَمِيُّ وَالْمَكْتَمِيُّ - گوند جو
 درخت سے پھلے گتے، شل شل کے
 ہوتے مگر بہ ہمارے جو۔ كَتَمْتُ الْقَيْزُ -
 ارضی مکتومیتا۔ وہ زمین جس میں
 کھیتی اہلنا سے ہوں۔
 كَتَمْتُ رَسْمًا، كَتَمْتُ - كَتَمْتُ كَتَمًا كَتَمًا كَتَمًا
 اچھی خاص قسم دینا۔
 الْقَتْمَةُ - سیاہی مائل سفیدی۔
 الْآعْتَمُ - سیاہی مائل سفید چیز مؤنث
 كَتَمَاءٌ - جو۔ كَتْمٌ -
 الْمَكْتَمُ - وہ چیز جس میں دوسری چیز

کی عادت ہو۔
 كَتَمْتُ يَعْشُوا عَشْرًا وَكَتَمُوا وَأَعْتَمَى رَحْمًا
 - الْوَادِي - نلے میں غٹا یعنی کورے
 کرکٹ کا زیادہ ہونا۔
 كَتَمُوا وَأَعْتَمَى - التَّيْلُ الْمَرْكَمُ - سیلاب
 کا چلا گاہ اور سبزہ زار کی تروتازگی کو ختم
 کر دینا اور ادھر ادھر سے ٹٹی جمع کر دینا۔
 الْعُتْمُ وَالْعُتْمَاءُ - سیلاب کے پانی کا جھاگ
 میں کورڈا کرکٹ، درختوں کے گلے لٹے
 پتے جو سیلاب کے جھاگ میں رلے
 ملے ہوں۔
 كَتَمْتُ يَعْشَى عَشْرًا - الْوَادِي - بمعنی عَتَا
 الْوَادِي -
 كَتَمْتُ - الْكَلَامَ - بات میں بھڑک سج ملانا۔
 كَتَمْتُ نَفْسِي عَشْرًا وَعَشْرًا وَكَتَمْتُ،
 كَتَمْتُ نَفْسِي - الْنَفْسُ - جی متلانا۔ عَتَمْتُ
 السَّمَاءَ بِالسَّحَابِ - گٹا چھا جانا۔ یا
 بادلوں کا شروع آنا ہونا۔
 كَتَمْتُ يَعْشَى عَشْرًا - الْكَلَامَ - ملاوٹ کی
 بات کرنا۔ كَتَمْتُ عَشْرًا، الْأَرْضَ
 بِالنَّبَاتِ - زمین میں سبزہ کا بہت
 ہونا۔
 عَتَمْتُ دَسٍّ، وَعَتَمْتُ هَدًا - الْبَعِيرُ - اونٹ
 کا طاعون شتر میں مبتلا ہونا۔
 عَتَمْتُ وَعَتَمْتُ وَأَعْتَمْتُ - غرود کی بیماری
 میں مبتلا ہونا۔ مَوْتٌ وَمَعْدُودٌ - وہ
 شخص جسے غرود کی بیماری ہو۔
 عَتَمْتُ - نَعِيْبَةٌ - اپنا حصہ لینا۔
 آعْتَمْتُ - غرود گھٹی، والا ہونا۔ آعْتَمْتُ
 علیہ کسی پر غصہ میں بھرا ہونا۔
 الْعَتَمُ - اونٹوں کا طاعون۔ گھٹی۔ جو
 عَتَمًا۔
 الْعَتَمَةُ - جو عَتَمًا۔ مال کا حصہ سوا
 الْعَتَمَةُ وَالْعَتَمَةُ - اونٹوں کا طاعون
 گھٹی۔ یعنی سخت گوشت کا ٹکڑا، جو

تَغْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تَتَغَشَى بِنَا.
یعنی میں ہلاک کرنے سے پہلے اس کو
ہلاک کرو۔

غَدَى - الرَّجُلُ - صَبَحَ كَاكْهَانَ كَلَانَا.
غَادِي مُغَادَاةً - الرَّجُلُ - كَيْسِي شَخْصٍ كَيْ
پاس سویرے اٹھنا، پہننا۔

الغَدُ - آئندہ کل کا دن - جو دن دور ہو۔
مگر اس کا انتظار ہو۔ مثلاً قیامت کا
دن - اس کا اسم منسوب غَدِيٌّ اور
غَدِيٌّ ہے۔

الغُدُوَّةُ - ج - غَدَى وَغَدُوْرُ الغَدَاةُ
ج - غَدَوَاتٌ - وَالغَدِيَّةُ - ج -
غَدَايَا وَغَدِيَّاتٌ - وَقْتُ صَبْحٍ،
طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے
درمیان کا وقت - دن کا شروع حصہ -
محاورہ - هُوَ ابْنُ غَدَاةٍ الْكَيْنِ - یعنی
وہ دو دن کا بچہ ہے۔

الغَدِيَّةُ - غَدَاةٌ كَيْ تَصْبِيحٍ
الغَدَاةُ - صَبْحٌ كَاكْهَانَ - ج - الْغَدِيَّةُ
الغَادِي - اسم فاعل بصير -

الغَادِيَّةُ - غَادِيٌّ كَاكْهَانَ - وَهَبَادِلُ جَوْ
صَبْحُ كَيْ وَقْتُ آتِيٍّ - صَبْحُ كَيْ بَارَشٍ - ج -
غَوَادٍ وَغَادِيَّاتٍ -

الغَدِيَّانُ - صَبْحٌ كَاكْهَانَ كَلَانَا -
الغَدِيَّانُ - مُنْثٌ غَدِيَّانُ -

الْمَغْدِي وَالْمَغْدَاةُ - صَبْحُ هَوْنِي كَيْ
جگہ -

غَدَرْنِي (ض) غَدَا - الشَّيْءُ - نَاتَمُّ كَيْ
دینا - الْجَوْرُوحُ - زَحْمٌ سَهْبٌ وَفِيهِ
کابہ پڑنا -

أَغْدَى لِمَغْدَاةٍ - السَّيْرُ فِي السَّيْرِ
تیز چلنا - الْجَوْرُوحُ زَحْمٌ سَهْبٌ
مادہ نکل پڑنا -

الغَادُ - حَشْرٌ كَاكْهَانَ كَلَانَا
ہو جس -

الغَدِيَّةُ - زَحْمٌ كَاكْهَانَ كَلَانَا - سَهْبٌ
کچھ نہو -

غَدَمٌ (ن) غَدَمًا - لَهْمٌ مِّنَ الْمَالِ كَيْ
کومال کی خاصی مقدار سے دینا -

غَدَمٌ (س) غَدَمًا وَغَدَمٌ وَغَدَمٌ
- الشَّيْءُ - كَوْنِي حَشْرٌ سَهْبٌ بِي
سے کھانا -

أَغْدَمٌ وَغَدَمٌ - الْفَصِيلُ مَارِي
ضَرْحٌ أَيْهٌ - بِحَمَلٍ كَامَا كَيْ تَهْنُ
سے سارا دودھ پی جانا -

الغَدَمَةُ - مَالٌ كَاكْهَانَ - ج - غَدَمٌ
وَالغَدَمَةُ - دَوْدُهُ كَيْ كَثِيرٌ مَقْدَارٌ - ج -
غَدَمٌ

بِئْرٌ غَدِيَّةٌ - بَرَاكَتَا
الغَدَمُ وَالْمُنْغَدِمُ - سَهْبٌ كَلَانَا
پیو کہ جو ملے کھا جائے -

غَدَمٌ مَرَّةً مَرَّةً - خَفَا هَوْنًا - الشَّيْءُ -
متفرق کر دینا - حَشْرٌ كَاكْهَانَ كَلَانَا
اندازہ سے فروخت کر دینا -

لَغْدَمَةٌ فِي الْمَجْلِسِ - حَضْرَةٌ
ہیچنا -

الغَدَمَةُ - مَمٌ - شَوْرٌ بِحَشْرٍ وَبِكَارٍ
ڈپٹ - ج - غَدَامِيَّةٌ -

غَدَاةٌ (ن) غَدَاةً - الرَّجُلُ بِالطَّعَامِ
کسی کو کھانا کھلانا - الطَّعَامُ الْعَيْشِيُّ
سیر ہونا، پیٹ بھر جانا - الْعَيْشِيُّ
رگ سے خون بہنا - الرَّجُلُ - تِيْرٌ

جَدَانَا - الْفَرَسُ - تِيْرٌ دَوْرَانَا -
غَدِيٌّ لَغْدِيَّةً - الرَّجُلُ - كَيْ كَاكْهَانَ
دینا - پورس کرنا - الْعَيْشِيُّ - خُونٌ

بِهْ بَرَانَا -
لَغْدِيٌّ لَغْدِيَّةً وَغَدِيٌّ لَغْدِيَّةً
غَدِيٌّ اور غَدَاةً كَاكْهَانَ كَلَانَا -
استغذی - الرَّجُلُ - كَيْ كَوْنِي سَهْبٌ
زمین پر گرا دینا، پھینکا دینا -

لَغْدِيٌّ لَغْدِيَّةً وَغَدِيٌّ لَغْدِيَّةً
غَدِيٌّ اور غَدَاةً كَاكْهَانَ كَلَانَا -
استغذی - الرَّجُلُ - كَيْ كَوْنِي سَهْبٌ
زمین پر گرا دینا، پھینکا دینا -

زَمِيْنٌ پَرَا دِيْنَا - پَهِيْنَكَا دِيْنَا -

الغَدَاةُ - وَهْ كَلَانَا كَلَانَا كَلَانَا
کے پریش بر - ج - الْغَدِيَّةُ -

الغَادِي اسم فاعل - غَادِي الْمَالِ -
مال کا انتظام و اصلاح کرنے والا - ج -
غَدَاةٌ وَغَدَوَاتٌ - مُنْثٌ غَادِيَّةٌ
ج - غَوَادِي -

الْغَدِي - زَبَادُهُ كَلَانَا كَلَانَا
الغَدِي - ج - غَدَاةٌ وَغَدَوَاتٌ - حَامِلٌ
جانوروں کے شکم میں جو کچھ ہو - یا
مخصوص بکریوں کے شکم میں چھوٹے

چوپاؤں پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے -
الغَدَاةُ - سَخْتٌ زَبَانٌ دَرَارٌ نَشَاطٌ
تیز چلنے والا گھوڑا -

غَدَاةٌ (ن) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
دینا - باطل کی رغبت دلانا - محاورہ میں
بولتے ہیں - مَا غَدَاةٌ بِلَفْلَافٍ - یعنی
تو نے اس کے خلاف کیسے حملت کی -

غَدَاةٌ - پَانِيٌّ دَانَا -
غَدَاةٌ وَغَدَوَاتٌ - الطَّيْرُ فَرَحَةٌ - پَرْدَةٌ
کابچہ کو بھرانا - چوگا دینا - الدَّارِعِيُّ -
اوشن کا چرانا - الْمَاءُ - جَذْبٌ هَوْنًا

غَدَاةٌ (ن) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
غَدَاةٌ - شَرِيْفٌ هَوْنًا -
غَدَاةٌ (ض) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - تَجْسِدٌ كَارٌ
عاقل ہونے کے بعد بے ہوش بچہ کے
مانند بن جانا -

غَدَاةٌ (س) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
الْوَجْدُ - حَرٌّ كَاكْهَانَ كَلَانَا
جانا - الشَّيْءُ - سَفِيْدٌ هَوْنًا -

غَدَاةٌ (ن) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
غَدَاةٌ (س) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
پیز کے لیے تباہی کا سامنا کر دینا -
الطَّيْرُ - پَرْدَةٌ كَاكْهَانَ كَلَانَا
کونا - الْعَيْشِيُّ - مَهْكٌ هَوْنًا -

غَدَاةٌ (ن) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
غَدَاةٌ (س) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
مانت اول اول کھانا -

غَدَاةٌ (ن) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
غَدَاةٌ (س) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
مانت اول اول کھانا -

غَدَاةٌ (ن) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
غَدَاةٌ (س) غَدَاةً وَغَدَوَاتٌ - دَهْوَةٌ
مانت اول اول کھانا -

كَأَنَّهَا بَرَارٌ مِّنْ بَرَارٍ - الطُّورِ .
 كسا دہلاڑی ہوجانا۔ غار القحطیۃ۔
 سلام کم کرنا۔
 قَارِبٌ - انفاق۔ اونٹنی کا دودھ کم ہوجانا۔
 كَقَدْحٍ بَحْرٍ - ستارہ پیشانی ہونا۔
 لَأَخْلَعَنَّ وَأَسْتَفْرَعَنَّ - کسی کے پاس
 بے غری میں پہنچ جانا۔ کسی کو غافل ہاکر
 حلا کرنے کی تلاش میں رہنا۔
 الغُرُومُ - زمین کا ننگاف۔ کپڑے یا جلد کی
 فکن۔ بولتے ہیں۔ کَلَوَيْتُ الشُّوبَ
 علی غتوہ۔ یعنی کپڑے کی تہ پہلی سکن
 پر کردی۔ زمین میں پٹی سی نمر۔ ج۔
 غُرُومٌ .

الغُرُومُ الْبَرَارُ - توار کی دھار۔
 الْبَرَارُ - تھوڑی سی نیند یا اور کوئی تھوڑی
 چیز کسا دہلاڑی ہونا۔ ناکہ کے دودھ
 کی کمی۔ ج۔ آخِرَةٌ - کہتے ہیں آتانا
 کھلی ہوا وہ ہمارے پاس جلد آیا۔
 الْبَرَارُ - تیرنیلے کا نمونہ۔ کہتے ہیں
 هُوَ كَهَلِي بَرَارٍ وَاجِدٍ - وہ ایک ہی
 طرز و نمونہ کے ہیں۔ وَلَدْتُ ثَلَاثًا
 بَيْنَيْنِ عَلِيٍّ وَبَرَارٍ - عورت نے پہ
 در پہ میں رز کے جلد۔ لَيْسَ الْقَوْمُ
 بَرَارٌ تَمَّهِمْ - لوگ ایک ماہ ٹھیرے

الْبَرَارُ فِي غِلْتِ، لَوْمِي .
 الْغُرُومُ - گھوڑے کی پٹھانی کی سفیدی۔
 وَنِ كَيْلِ نَهْمٍ - ہر چیز کا اجھانی اور
 بڑا حصہ۔ وَنِ الْقَوْمِ - قوم کا شریف
 - وَنِ الدَّجَلِ - جھوٹا، جس کی روشنی
 غلام، لومہ۔ ج۔ غُرُومٌ -
 الْغُرُومُ - مینہ کی پہلی تین باتیں۔
 الْبَرَارُ - ناخبرہ کار جوانی۔ مَوْنٌ غُرُومٌ وَ
 بَرَارٌ - ج۔ الْبَرَارُ -
 الْغُرُومُ - ناخبرہ کاروں کی جماعت۔

ج۔ غُرُومٌ
 الْغُرُومُ - ایک سیاہ آن پرندہ۔
 الْغُرُومُ - ہاکت کے درپے۔
 الْغُرُومُ - دھوکے کا درجہ، دنیا اور دنیا
 کی صفت بن کر بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں۔
 الدُّنْيَا الْغُرُومُ - غزرقہ کی دوائیں۔
 الْغُرُومُ - مہم۔ بیہودہ باتیں۔
 الْغَارُ - فا۔ غافل۔ کنواں کھودنے والا۔
 الْبَرَارُ - بہت دھوکا دینے والا۔
 الْغُرُومُ - اچھی عادت۔ کہتے ہیں "أَدْبَرُ
 قَبِيضٌ وَأَقْبَلُ هَرِيضٌ" اچھی عادت
 جاتی رہی اور بُری عادت آگئی۔ عمدہ
 زندگی۔ ج۔ الْغُرُومُ - کفیل، دھوکا
 خوردہ۔ ناخبرہ کار جوان۔ ج۔ آخِرَةٌ
 وَأَخْرَجَتْهُ - مَوْنٌ قَبِيضٌ - ج۔
 قَبِيضَاتٌ وَغُرُومٌ .

الْغُرُومُ - کہتے ہیں پٹھانی سے بڑا بھروسے
 رنگ کا ایک جانور۔ عرب کہتے ہیں
 الْغُرُومُ مِثْلُ الْغُرُومِ - اس کو بظہر
 اور غُرُومٌ بھی کہتے ہیں۔
 الْغُرُومُ - خوبصورت، ہر سفید چیز۔ اچھے
 افعال والا۔ شریف، سردار۔
 وَنِ الْآيَامِ - گرمی۔ وَنِ الْقَبِيلِ
 پٹھانی پر سفیدی رکھنے والا گھوڑا۔
 مَوْنٌ غُرُومٌ - ج۔ غُرُومٌ وَغُرُومٌ

الْبَرَارُ - ہوا بھینسا۔ ج۔ الْغُرُومُ
 الْبَرَارُ - پانی کے بلبے۔
 الْمَكَاثُ - غزرقہ سے ذوق والی اونٹنی۔ ج۔
 مَكَاثُ - فلاں مَكَاثُ الْكَلْبِ .
 فلاں بیل۔ ج۔
 الْمَشْرُومُ - مہم۔ دھوکا خوردہ۔
 غُرُومٌ دُنْ، كَقَرِيْبٍ - جانا۔ فلاں عَقَا
 جدا ہونا۔ عمدہ ہونا۔ فی تسکیرہ۔
 دور کا سفر کرنا۔ غُرُومٌ، الْعَجَلُ
 دور ہونا۔ التَّجَسُّمُ - ستارہ کا

غروب ہونا۔
 غُرُومٌ دُنْ غُرَابَةٌ وَغُرَابَةٌ -
 وطن سے جدا ہونا۔ پرولسی ہونا۔
 غُرُومٌ دُنْ، غُرَابَةٌ - الْكَلَامُ - کلام کا
 طیر واضح اور سمجھیرہ ہونا۔ الشَّيْءُ -
 طیر مالوس ہونا۔
 غُرُومٌ دُنْ، غُرَابَةٌ - بادِ سَمُومٍ سے سیاہ
 چھرو والا ہونا۔ غُرَابٌ - دور ہونا۔ وطن
 سے جدا ہونا۔ مغرب میں پہنچنا۔ دور
 کرنا۔ علمدہ کرنا۔ مسافرت پر اکسانا۔
 جلا وطن کر دینا۔ رُفِي الْأَرْضِ - دور
 تک لے جانا۔

أَغْرَبَ - مغرب میں جانا۔ ملک میں دور
 تک گھس جانا۔ اچھی حالت میں ہونا۔
 فَيَصِحُّ هُونًا - نوادرات بیان کرنا۔ وَفِي
 الْعُنْخَلِ وَكُحُوبِهِ - بست ہنسنا۔
 الْحَوْضِ - حوض بھرنا۔ الْغُرُومُ فِي
 جَدِيْبِهِ - گھوڑے کا بست دوڑنا۔
 الْغُرُومُ - گھوڑے کو دوڑا کر مارنا۔
 علمدہ کرنا۔

أَغْرَبَ وَأَغْرَبَ - الْعَرَبُ - بیمار کا
 بست وند مند ہونا۔ الْغُرُومُ عَلَيْهِ وَ
 بَابُ بَرَّاسُوكُ كَرْنَا .
 كَغُرُومٍ - وطن سے نکلنا، مغرب سے آنا۔
 الْغُرُومُ - وطن سے نکل جانا، بھرا کلاب
 میں خادی کرنا۔
 لَأَسْتَفْرَعَنَّ - الشَّيْءُ - بھرا کلاب پانا یا
 جاننا۔ الْدَّجَلُ - آسورنا۔ ج۔ وَ
 اسْتَفْرَعَنَّ - فِي الْعُنْخَلِ - بست
 ہنسنا۔

الْكَلْبُ - مہم۔ مطرب۔ سرچیز کا ابتداء۔
 دھار، نشاط، تیزی کہتے ہیں۔ لَارِي
 أَخَافُ تَهْلِكُ غُرُومٌ الْقَبَائِرُ -
 یعنی میں تمہاری جوانی کی تیزی سے
 ڈرتا ہوں۔ بَرَّادُوَلْ، ہمیشہ جاری

رہنے والی آنکھ کی رگ۔ آنسو چھنے کی جگہ۔ آنکھ کا اگلا حصہ۔ آنکھ کا پھلا حصہ۔ ڈوری، آنکھ کی پھنسی۔ گوشہ چشم کا ورم۔ بٹوک کی کثرت۔ تیز رو گھوڑا۔ سہمہ عرب و سہمہ عرب۔ تیر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ ج۔ عروبیہ۔
 الغریبۃ۔ دوری۔
 الغرب۔ مہم۔ سونا چاندی، پیالہ، شراب، پانی جو کنوئیں اور حوض کے درمیان ڈبل سے ٹکے۔ سہمہ عرب و سہمہ عرب۔ وہ تیر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔
 الغراب۔ کوا۔ ج۔ اغرب و غرب و غرابان و اغریبہ۔ وجج۔
 غرابین۔ طائر غرابہ۔ دم جو ان ہو گیا۔ أرض لا یطیر غرابھا۔ سرسبز زمین۔
 الغراب۔ اولہ۔ بخت، سر کا پھلا حصہ۔
 من کل شیء۔ ہر چیز کا شروع۔ دھار سیاہی۔ دوسری۔ صبح اٹھنے اور چوکس رہنے میں کوئے کی مثال دی جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ بگرت بگور الغراب میں کوئے کی طرح صبح سویرے اٹھا فلاں احد رہین الغراب۔ فلاں کوئے سے زیادہ چوکنا اسے کس ہے دقت ہذا شیب الغراب۔ کوئے کی سیاہی اس سے کم ہے۔ اغریبۃ الغریب۔ عرب کے سیاہ لوگ۔ الغراب۔ پرانی قسم کی ایک کشتی۔
 الغرابان۔ دونوں سرنیوں کے نچلے حصے جو رانوں سے ملتے ہیں۔
 الغارب۔ فا۔ کندھایا کوہان اور گردن کے درمیان کا حصہ۔ ہر چیز کا اوپر کا حصہ

ج۔ غلاب۔ غوارب الماء۔ بندھن میں۔
 الغریب۔ وطن سے دور۔ ج۔ غرباء۔ عجیب، غیر مانوس۔ من الكلام۔ دور از فہم کلام۔ مؤنث غریبۃ۔ ج۔ غراب۔ غریب۔
 الغریب۔ غریب۔
 المغرب۔ صبح۔ ہر چیز سفید، یا سفید کناروں والی شے۔
 المغرب۔ سورج ڈوبنے کی جگہ۔ شمالی افریقہ۔
 المغربی۔ مغرب کا باشندہ۔ مغربی البحر یا کا رہنے والا۔ ج۔ مغربۃ۔
 الغریب۔ بہت سیاہ دیر اکثر تاکید کے طور پر آتا ہے۔
 غریب غریبۃ۔ الجحظۃ۔ گیہوں چھانا۔ البلد۔ ملک کے باشندوں کا حال کھولنا۔ فی الارض۔ ملک میں جانا۔ الشیء۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 الگ الگ کرنا۔ القوم۔ قوم کو قتل کرنا۔ کچل ڈالنا۔
 الغریبال۔ چھلتی۔ دُف، چنل نور۔ ج۔ غرابیل۔
 المغربیل۔ مہم گھٹیا۔ مقتول۔ پھولا ہوا۔ زوال پذیر ملک۔
 غریب رس، غریب۔ بھوکا ہونا۔ صفت وغریبان، ج۔ غریبی وغرابی و غراب۔ مؤنث غریبی۔ ج۔ غراب۔
 غریب۔ الکلب۔ کتے کا بھوکا رکھنا۔
 الغریب والغریب۔ بھوکا۔
 غریب رس، غریب و غریب و غریب و غریب۔
 غریب۔ الطائر۔ پرندہ کا بلند آواز سے گانا۔ غریب الطائر۔ پرندہ کا آواز کی روشنی کرنا۔

استغردۃ۔ گانے کے لیے اگنا۔
 الاغردۃ والافردۃ۔ پرندہ کا میت اور اس کی سرئی آواز۔ ج۔ اغریب۔
 الغرد والغرد والغریب۔ گانے والا۔
 غردۃ (ض) غردا۔ بالابردۃ وغردھا سوئی وغیرہ چھوٹا۔ الراکب رجلہ فی العرز۔ رکاب میں پاؤں رکھنا۔
 عودا ابالارض۔ زمین میں لکڑی کاڑنا۔ غرنت الجرادۃ۔ لکڑی کا زمین میں ڈوم گاڑ کر انڈے دینا۔ صفت غارز وغایذۃ۔
 غریب رس، غردا۔ نافرمانی کے بعد اطاعت کرنا۔
 غرز۔ الابردۃ فی الشیء۔ کسی چیز میں سوئی چھوٹا۔ غرنت الجرادۃ۔ لکڑی کا انڈے دینے کے لیے زمین میں ڈوم چھوٹا۔ الغنم۔ بکری کا دودھ دہنا چھوڑ دینا تاکہ وہ موٹی ہو جائے۔
 اغرز۔ الابردۃ۔ بمعنی غرز۔ الوادی غرز نامی پودہ اگانا۔
 اغترز۔ فی الشیء۔ داخل ہونا۔
 اغترز۔ السیر۔ روانگی قریب ہونا۔ السیر۔ روانگی کے قریب ہونا۔
 سوار ہونا۔ الراکب رجلہ فی العرز۔ سوار کا رکاب میں پاؤں رکھنا۔
 الغرز۔ رکاب۔ زمین میں گاڑی ہوئی لکڑی۔ ج۔ غورز۔ الزم غرز فلاں۔ اس کی رکاب کو پکڑے رہو۔ اس کے فرمانبردار رہو۔
 الغرز۔ ایک چھوٹا پودا۔
 الغریبۃ۔ طبیعت، فطرت۔ ج۔ غرابز۔ فا۔ کم دودھ والی اونٹن۔ غیون عوارب۔ نہ بننے والا چشمہ۔
 الغریب۔ ج۔ لغابز۔ کھجور کا پودہ جو ایک جگہ سے اکھیر کر دوسری جگہ لگایا

الْمَغْرُزُ: گاڑنے کی جگہ۔ ج۔ مَقَارِزُ۔
 غَرَسَ رَضًا، غَرَسًا وَغَرَسَةً وَأَغْرَسَ
 - الشَّجَرَةَ. درخت لگانا۔
 رَغْرَسَ. درخت کا لگانا۔
 الْغُرْسُ - جو چیز زمین میں لگائی جائے۔ پانی
 جو بچکے ساتھ رحم میں سے آئے۔
 جھوٹا لٹوا۔ ج۔ اَغْرَاسٌ۔
 الطَّرِيبِيُّ. لگایا ہوا پودہ۔ بیڑ۔
 الْغَرِيْبَةُ. کھجور کا پودا جو ابھی اگا ہوا ہو
 ہوئی گھٹلی۔ انکور کی بیل جو ابھی بٹھائی
 گئی ہو۔ پودہ لگانے سے پہلے دار ہونے
 تک۔ ج۔ غَرَّاسٌ وَغَرَّاسٌ۔
 الْغِرَّاسُ. لگا یا ہوا درخت۔ لگانے کا
 وقت یا فعل۔
 الْمَغْرِسُ. پودہ لگانے کی جگہ۔ ج۔
 مَقَارِسُ۔
 الْغِرْشُ. مِنَ الْمَسْكُوْكَاتِ. ایک سکہ
 دو آنے کے مساوی۔ ج۔ غُرُوشٌ۔
 غِرْحِي (رَس)، غِرْحًا۔ ایہ مشتاق ہونا۔
 صفت (غِرْحٌ) منہ۔ اکتانا۔ طول
 ہونا۔ ڈرنا۔
 غِرْحُ رَضًا، غِرْحًا۔ الْإِنَاءُ۔ برتن
 بھرنا۔ غُرْحًا اساکم بھرنا۔ الشَّيْءُ تازہ
 چننا۔ وقت سے جلدی کرنا۔ روکنا۔ ایسا
 توڑنا کہ جہانہ ہود۔ طَرِبْنَا تازہ
 دو دھپلانا۔
 غِرْحٌ رَدًا، غِرْحًا۔ اللَّحْمُ گوشت
 کا تازہ ہونا۔ صفت (غِرْحِي) ج۔
 اَغْرَانِي.
 غِرْحٌ. مزاج کرنا۔ تازہ گوشت۔ الشَّيْءُ۔
 تازہ چننا۔ فی سَكَائِهِ۔ نہ بھرنا۔
 هُوَ يَغْرَحُ لَا يَغْرَحُ. وہ نہ ختم ہونے
 والا سمندر ہے۔
 غِرْحٌ. فَلَائِقًا۔ ستانا یا نیکدل کرنا۔ الْغِرْحُ
 صبح نغانہ پر مارنا۔ الْإِنَاءُ۔ برتن

بھرنا۔
 غَارِحٌ - الْإِبِلُ۔ اونٹوں کو صبح کے وقت
 پانی پر لانا۔
 تَغْرَحٌ وَرَغْرَحٌ - الْخُصْنُ۔ ٹٹنی کا
 مڑکھوٹنا۔ مگر جہانہ ہونا۔
 اَغْرَحٌ - الشَّيْءُ۔ شِست باندھنا۔
 اَغْرَحٌ فَلَانٌ۔ جوان مرجانا۔
 الْغَارِحُ۔ فاصح کو پانی پر آنے والا۔ لمبی
 ناک۔ اَتَيْتُهُ غَارِحًا۔ میں اس کے
 پاس دن کا اہتمام میں آیا۔
 الْغُرْحُ. م۔ ج۔ غُرْحَاتٌ وَغُرْحَاتٌ
 وادی کی ناقص شاخ۔ اَغْرَاحٌ وَ
 غُرْحٌ وَغُرْحَةٌ۔ ج۔ غُرْحٌ۔
 غُرْحٌ وَغُرْحٌ۔ کجاوہ کا تنگ۔
 الْغُرْحُ. م۔ حاجت، مقصد۔ نغانہ۔
 ج۔ اَغْرَاحٌ۔
 الْغُرْيِيُّ. خوش کن گیت۔ عمدہ گویا۔ ہر
 سفید تازہ چیز بارش کا پانی۔ وہ پانی
 جس پر صبح سویرے آئیں۔ تازہ
 گوشت و پھل۔
 الْإِطْرِيُّ. مشکوٰۃ۔ ہر سفید تر و تازہ۔
 ج۔ اَغْرَانِي.
 الْمَغْرُوحُ. مفع۔ بارش کا پانی۔ الْمَغْرُوحُ
 اونٹ کا تنگ۔ ج۔ مَقَارِحٌ۔
 الْغُرْحُوتُ. زخم بڑی جیسے ناک، کان
 وغیرہ کی ج۔ اَصْبِيْتُ الْغُرْحُوتَانِ
 اونٹ کے پاان نے ہر دو طرف کی
 لکڑیوں۔
 غُرْحُ غُرْحُوتًا۔ غرغہ کرنا۔ غُرْحُوتِ
 الْقِدْرُ۔ ٹانڈی کا بوش کے وقت
 آواز نکالنا۔
 غُرْحُوتًا۔ ذبح کرنا۔ غُرْحُوتًا بِالْمُصْبِحِ۔
 حلق میں نیزہ مارنا۔ الرَّجُلُ۔ گلوگیر
 آواز نکالنا۔ موت کے وقت غرغری
 آواز نکالنا۔ اللَّحْمُ۔ گوشت سے

بھینتے وقت آواز نکالنا۔
 تَغْرَحٌ بِالْمَاءِ أَوِ الدَّوَاءِ۔ پانی سے
 یا دوا سے غرغہ کرنا۔ تَغْرَحُوتِ
 الْعَيْنُ بِالْمَاءِ۔ آنکھ میں آنسوؤں
 کا ڈبڈبانا۔
 الْغُرْحُوتُ۔ جینی مرغی۔ واحد (غُرْحُوتًا)
 الْغُرْحُوتُ۔ پرندہ کا پوٹا، پیشانی کی سفیدی
 فَلَانٌ غُرْحُوتًا۔ فلاں شریف ہے۔
 غُرْحُوتِ رَضًا، غُرْحًا۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔
 نَاصِيئَتَهُ۔ پیشانی کے بال تراشنا۔
 وَاعْتَرَفَ الْمَاءَ بِمِيَدِيهِ۔ پانی سے
 چلو بھرنا۔
 تَغْرُوقًا۔ تمام لے لینا۔ اَلْغُرْفُ الشَّيْءُ۔
 کٹنا۔ مڑنا۔ ٹوٹنا۔ الْعَطْلُ۔ ہڈی
 کا ٹوٹنا۔ فَلَائِقٌ۔ مڑنا۔
 الْمَغْرُوقُ. م۔ (ر۔) وَالْغُرْفُ (وہ پودا جس
 سے چھڑارنگا جائے۔
 الْغُرْفَةُ. چلو بھرنے کی ہیئت۔ جوتا۔ ج۔
 غُرْفٌ۔ الْغُرْفَةُ۔ ج۔ غُرْفٌ۔
 وَالْغُرْفَةُ. چلو بھرنے کی ہیئت۔ ج۔
 غُرْفٌ وَغُرْفَاتٌ وَغُرْفَاتٌ وَ
 غُرْفَاتٌ۔ کوٹھری در کوٹھری۔ بلاخانہ
 بالوں کا گچھا۔
 الْغَارِقَةُ. مُزَكَّاةٌ الْغَارِقَةُ۔ مِنَ التَّوْبِ
 تیز رفتاری و ٹٹنی۔ ج۔ غُرْفَاتٌ۔
 الْغُرْفَاتُ۔ ایک بڑا بیاد۔
 الْغُرْفَاتُ۔ بہت چلو بھرنے والا۔ تَغْرُوقًا
 غُرْفَاتٌ۔ بہت پانی والی نہر۔ تَغْرُوقًا
 غُرْفَاتٌ۔ بہت بارش۔
 الْغُرْفُوتُ۔ مِنَ الْإِبَارِ۔ وہ کنواں جس سے
 پانی چلو سے لیا جائے۔
 الْغُرْفِيُّتُ۔ مِنَ الشَّجَرِ۔ بہت گنجان اور
 گھنا درخت۔ بَانَسٌ زَكَلٌ وَغَيْرُهُ
 جھاڑی۔
 الْغُرْفِيَّةُ۔ گھنا درخت جوتا۔ تلوار کے

سارس سے مشابہ ایک آبی پزندہ۔ خوبصورت
جوان لاکا یا راک۔ جو۔ غزائقی و
غزائینی و غزائینہ۔
غزاً یغزو غزواً۔ الرجل۔ تعجب کرنا۔
الجلد۔ سریش سے جوڑنا۔ الشحم
قلبہ۔ چربی کا دل کو دھک لینا۔
غزوی یغزی غزاً و غزاً و غزوی و
وغزوی و اغزوی۔ الغزویۃ۔ تالاب
کے پانی کا سرد ہونا۔ فلان۔ بہت
ناراض ہونا۔ غزاقاً۔ بہ۔ چلنا۔
لازم ہونا۔
غزوی تغزیۃ۔ الشیء۔ سریش سے جوڑنا
چھکانا۔
اغزوی۔ الرجل بکذا۔ ترغیب دینا۔
اکسانا۔ اغزوی العداۃ بینہم
آپس میں فساد کرنا۔
غازی غزاً و مغزاً۔ فلاناً۔ کسی
سے سخت جھگڑا کرنا۔ بین الشیثین
دو چیزوں کا جوڑنا۔ ایک کے بعد دوسرے
کا لگاتار کرنا۔
الغزاء و الغزواء۔ وہ چیز جس سے طلا کیا
جائے جس سے ورق یا کھال کو جوڑیں۔
الغزاء و الغزوی۔ کسی چیز کی بہت
خواہش یا اشتیاق۔ لاغزوی و لا
غزوی من کذا۔ کوئی تعجب نہیں۔
الغزویۃ۔ خوبصورت۔ عمدہ عمارت۔
الغزویان۔ حیرت کے علاقہ میں دو خوبصورت
عمارتیں تھیں۔
الغزواء۔ سریش لگانے کا اوزار۔
غزورن، غزوزا و غزوز۔ بھلاؤں
خاص کرنا۔
غازۃ مغالۃ۔ بہت کرنا۔ جھگڑانا۔
اغز۔ الشجر۔ درخت کے کانٹوں کا کثرت
سے ہونا۔ سخت مزہ۔ اغزوت
سورن ہانے کا مشکل سے پھر جانا۔

جلا جوڑہ کے لیے تریاق ہے۔
غزقات۔ الدجاجۃ بیضتھا۔ مرغی
کا کچا انڈہ ڈالنا۔ البیضۃ۔ کچا
انڈا کرنا۔
الغزوقی۔ انڈے کی سفیدی کی جھلی۔ انڈے
کی سفیدی۔
غزول (س) غزولاً۔ الصبیء۔ بچہ کا غیر نمٹن
ہونا۔ صفت اغزول۔ مونٹ غزولاً
جو۔ غزول۔
المغزول۔ ڈھیلا ڈھالا آدمی۔ بے تکالبا نیزہ۔
الاعزول۔ سرسبز کا سال۔ آسودہ زندگی۔
الغزولۃ۔ وہ کھال جس کو ختم کے وقت
کاٹا جاتا ہے۔ جو۔ غزول۔
غزوم (س) غزماً و غزماً و غزامة و
مغزماً۔ الدین و نکوۃ۔ قرض
وغیرہ ادا کرنا۔ فی التجارۃ۔ تجارت
میں ٹوٹا ہونا۔
اغزومۃ و غزومۃ۔ الدین قرض ادا
کرنے کے لیے مجبور کرنا۔
غزوم۔ برسا۔ اغزوم۔ بالشیء۔ بہت
مشاق و دلدادہ ہونا۔ صفت
مغزوم۔
اغزوم۔ تاوان برداشت کرنا۔ اپنے ذمہ لینا۔
اغزوم۔ قرض کی ادائیگی کا ذمہ لینا۔
الغزامة و الغزوم۔ قرض تاوان، ضرر،
مشقت۔ الغزوم۔ شوق، عشق،
ہلاکت، غلاب، دکھ۔
الغزومۃ۔ قرضخواہ۔ قرض دار۔ مخالف۔
جو۔ غزماً و غزماً۔
غزول (س) غزولاً۔ العیون۔ گوندھے
ہونے آٹے کا خفک ہونا۔
الغزول۔ ضعیف، کمزور۔
الغزولین و الغزولین۔ سیلاب کی لائی ہوئی
مٹی، جھاگ، بے وقوفی۔
الغزولین و الغزولین و الغزولین۔

پرستے کے نیچے کا چھڑا۔
المغزول۔ سیرت رکھنا۔ جو۔ مغزول۔
المغزول۔ جھم، ڈون۔
غزوق (س) غزوقاً۔ صفت رغزوق و
غازوق و غزوقی جو۔ غزوقی۔
غزوق فلان لکھنے پر واہ ہونا۔ غنی
ہونا۔
غزوقین غزوقاً۔ من اللبین۔ دودھ
وغیرہ کا گھونٹ لینا۔
اغزوق۔ فی الامیر۔ کام میں مبالغہ کرنا۔
حد سے بڑھنا۔
اغزوقۃ و غزوقۃ۔ ڈبونا۔
اغزوق و غزوق۔ فی القویں۔ کان کو
بہت کھینچنا۔ غزوق اللجام۔ پا
لیفتیۃ۔ لگام کو پانڈی سے مزین و
آراستہ کرنا۔
اغزوق۔ اعمالہ بالمعاصی۔ نیک عملوں کو
گناہوں سے برباد کر دینا۔
غزوقۃ۔ نزدیک آنا۔
اغزوق۔ النفس۔ زور سے ہنستا۔
البعیر التصدیق۔ اونٹ کی موٹائی
کی وجہ سے اس کے تنگ کا کس جانا۔
تنگ ہونا۔ القویں الخیل گھڑے
کا گھڑوں میں گس کر آگے بڑھ جانا کہتے
ہیں۔ فلان یغزوق العین۔
خوبصورتی کی وجہ سے جانب نظر ہونا۔
اغزوقی۔ الشیء۔ سبے لینا۔
الغایۃ۔ حد سے آگے بڑھنا۔ فی
الدم۔ گہری نیند سونا۔ فی الضحک
کھل کھلا کر ہنسا۔
اغزوقیت۔ العین۔ آنکھ کا آنسوؤں
سے بھر جانا۔
الغزوقۃ۔ دودھ وغیرہ کا گھونٹ۔ جو۔
غزوقی۔
الغزوقون و الاغزوقون۔ ایک پودہ کی

تَغَاظُ - القومُ الشَّيْءُ - آپس میں جھگڑنا۔
 الْغُزُّ - باجھ - ترکوں کی ایک قوم۔ واحد
 (غُزِيٌّ)
 غُزْرَانٌ، غُزْرَانٌ وَغُزْرَانٌ وَغُزْرَانٌ -
 المَاءُ وَتَحْمِيْرَةٌ - پانی وغیرہ کا بہت
 ہونا۔ غُزِيْتِ النَّاقَةُ - اونٹنی کا
 دودھ والی ہونا۔
 اَغْزُرُ - بہت دودھ والی اونٹیاں رکھنا یا
 بہت بارش میں ہونا۔ المَعْرُوفُ -
 بہت سخاوت کرنا۔
 تَغْزَرُ - الرجلُ - زیادہ گوشت والا ہونا۔
 موٹا ہونا۔
 غَازِرٌ وَاسْتَعْزَرُ - بہت لینے کی امید پر
 تھوڑا دینا۔
 الْغُزْرُ - مَمٌ - کھجور کی شاخوں کی ٹوکری -
 دوالغزارة (کثرت۔
 الْغُزْبُرُ - زیادہ بہت۔ ج۔ غَزَارُ -
 الْغُزْبُرَةُ - مُنْتِ الْغُزْبُرُ - مِنَ التَّوْفِي -
 بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ مِنَ
 الْعِيُونِ - بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔
 - مِنَ الْآبَارِ وَالْبِيْنَابِيْعِ - بہت پانی
 والے کنوئیں اور چشے۔ ج۔ غَزَارُ -
 الْبِغْزَارُ - مِنَ الْاِبِلِ - بہت دودھ
 دینے والی اونٹنی۔
 غَزَلٌ رَضٌ، غَزَلًا وَغَزَلًا - الصُّوْفُ
 سے لہلہا کا مٹنا۔
 غَزَلٌ رَضٌ، غَزَلًا - بِالنِّسَاءِ - عورتوں
 سے باتیں کرنا۔ عورتوں کی خوبصورتی
 اور جمال کی تعریف کرنا۔ ان سے عشق
 بازی کرنا۔
 غَاذِلٌ - الْمَرْأَةُ - عورت سے محبت و پیار
 کی باتیں کر کے پھسلانا۔
 غَاذِلٌ فَلَانٌ الْارْبَعِيْنَ مِنَ الْعُمُرِ -
 فلاں شخص عمر کے چالیسویں سال کے
 قریب پہنچا۔

اَغْزَلْتُ - الْغُزْبِيَّةُ - ہرنی کا بچہ والی ہونا۔
 الْمَرْأَةُ - عورت کا نکل پھینا۔
 تَغْزَلُ - فَلَانٌ - بشکلف عشق بازی کرنا۔
 تَغَازَلٌ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے
 محبت و پیار کی باتیں کرنا۔
 الْغُزْلُ - مَمٌ - کاتا ہوا۔
 الْغُزْلُ - مَمٌ - عورتوں سے لہو و لہب۔
 الْغَزَالُ - ہرن کا بچہ۔ ہرن۔ ج۔ غِزْلَةٌ
 وَغِزْلَانٌ۔
 الْغَزَالَةُ - ہرنی چڑھنے کے وقت کا سورج
 غَزَالَةُ الضَّمْنِي وَغَزَالَاتُهُ - چاشت
 کے وقت کا شروع۔
 الْغُزْلُ - عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں
 کرنے والا۔ کوشش میں کمزور۔
 الْغَازِلَةُ - مُنْتِ الْغَازِلُ - ج۔ غُزْلٌ
 وَغَوَازِلٌ -
 الْغُزْبِلُ - عورتوں سے باتیں کرنے والا۔
 الْغَزَالُ - بہت کاتنے والا۔
 الْاَغْزَلُ - غَزْلٌ كَا سْمِ تَفْضِيْلِ - مِنَ
 الْحُثِيِّ - بار بار آنے والا بھار۔
 الْبِغْزَلُ وَالْمَغْزَلُ وَالْمُغْزَلُ - نکلہ۔
 ج۔ مَغَازِلٌ -
 الْمُغْزِيْلُ - تَصْفِيْرٌ مَغْزَلٌ - ایک قسم کی
 باریک رسی۔
 غَزَاةٌ يَغْزُوْهُ غَزْوًا - طلب کرنا۔ قصد
 کرنا۔ غَزْوًا وَغَزَاوَةً وَغَزْوَانًا
 الْقَوْمُ - لڑنے کے لیے نکلنا۔ لڑنے
 کے لیے حملہ کرنا۔
 غُزِيٌّ وَاعْزِيٌّ - فَلَانًا - لڑائی کے لیے
 روانہ کرنا یا تیار کرنا۔ برا لگیجھ کرنا۔
 مقروض کو مہلت دینا۔
 اِعْزَوِيٌّ اِعْزَوًا - فَلَانًا - قصد کرنا۔
 باہ۔ دوستوں میں سے چن لینا۔
 مخصوص کرنا۔
 الْغَزْوَةُ - ایک لڑائی، ایک حملہ۔ ج۔

غَزَوَاتٌ
 الْغَاوِيٌّ - اسم فاعل - لڑائی کرنے والا۔ فاعل۔
 اسلام کا حامی۔ ج۔ غَزَاةٌ وَغُزْيٌ
 وَغُزْيٌ وَغُزَاةٌ - مُنْتِ غَاوِيَّةٌ
 ج۔ غَوَايزٌ وَغَاوِيَاتٌ -
 الْغَزَاةُ - مَمٌ، حِلَّةٌ، ج۔ غَزَوَاتٌ -
 الْغِزْوَةُ - جس کا قصد کیا جائے، جس کو
 طلب کیا جائے۔
 الْمَغْزِيٌّ - جنگ کرنا۔ جنگ کرنے کی جگہ۔
 مَغْزِيٌّ الْكَلَامُ - مقصد کلام۔ ج۔
 مَغَايزٌ - الْمَغَايزِيٌّ - فائزوں کے
 مناقب۔ فائزوں کے کارنامے۔ امْرَأَةٌ
 مُغْزِيَّةٌ - وہ عورت جس کا خاوند جنگ
 میں ہو۔ نَاقَةُ مُغْزِيَّةٌ - دیر سے
 چبنے والی اونٹنی۔
 غَسٌّ رِنٌ، غَسًّا - فِي الْبِلَادِ - ملک میں
 گھس جانا۔ الْكَلَامُ - کلام میں نقص
 نیکالنا۔ كَا فِي الْمَاءِ - پانی میں ڈبونا۔
 - الْهَيْدُ - بلی کو دھتکارنا اور غس
 کنا۔
 الْغُسُّ - فِي الْمَاءِ - ڈوبنا۔ الْغُسُّ -
 کمزور، حقیر۔
 غَسَّانٌ - مَن كَرِهَ اَبْنُ قَبِيْلَةٍ كَرِهَ
 كَلَامَ جَسَّانٍ - ایک قبیلہ کے بڑا کبر
 کا نام جس کے اولاد سے ملوکِ غسان
 تھے۔
 غَسْرَانٌ، غَسْرًا - عَلَى الْغُزْبِيِّ مَقْرُوْبٌ
 پر سختی کرنا۔
 كَفَسْرٌ - الْغُزْلُ - دھاگے کا پٹا ہوا اور
 اُلْحَا ہوا ہونا۔ الْاَصْرُ - کام کا پیچیدہ
 ہونا۔ صفت دَعْسَرٌ،
 الْغَسْرُ - کوڑا کرکٹ جس کو ہواتالاب میں
 ڈال دے۔
 اَغْسَفٌ - اندھیرے میں داخل ہونا۔ اِنْدَهِيْرٌ
 میں چلنا۔
 غَسَقٌ رَضٌ، غَسَقًا وَغَسَقًا وَغَسَقًا وَغَسَقًا وَغَسَقًا

أَغْسَقَ - الليل - رات کا ایک تاریک
 ہونا۔ اَغْسَقَ الرَّجُلُ - تاریکی میں
 داخل ہونا۔
 غَسَقَ رَمَضَانَ غَسَقًا وَغَيْبًا
 اس، غَسَقَانَا - الماء - پانی کا گرنا۔
 الغَيْمُ - بادل سے بارش پڑنا۔
 العَيْنُ - آنکھ میں آنسوؤں کا ڈبڈبانا۔
 اور آنکھ کا تاریک ہونا۔
 الغَسَقِي - رات کے پہلے حصہ کا اندھیرا۔
 الغَايِقِي - فاجانہ۔ رات جبکہ اس کی تاریکی
 بڑھ جائے۔ سیاہ ساپ۔
 الغَسَاقُ وَالغَسَاقُ - ٹھنڈا، سرد،
 بدبودار۔
 غَسَلَ رَمَضَانَ غَسْلًا وَغُسْلًا - الشَّيْءَ -
 چیز کو پانی سے پاک کرنا اور میل کھیل دور
 کرنا۔ غَسَلَ - تکلیف دہ مارنا۔
 غَسَلَ الشَّيْءَ - دھونے میں مبتلا کرنا۔
 الْغُسْلُ - دھلنا۔ الشَّيْءُ - بنا۔
 اَلْغُسْلُ - نہانا۔ بِالطَّيِّبِ - خوشبو لگانا۔
 الغُورُ - گھوڑے کو پسینہ آنا۔
 الْغُسْلُ وَالغُسْلُ - غسل۔
 الْغُسْلُ وَالغُسْلُ - ج۔ اَغْسَالٌ وَ
 الْغُسْلَةُ وَالغُسُولُ وَالغُسُولُ -
 دھونے کی چیز جیسے صابن وغیرہ۔
 الْغُسَالَةُ - مین الشَّيْءَ - صاف کرنے کا
 پانی۔ دھونے سے جو پانی خارج ہو۔
 نہانے میں جو پانی بدن سے گریے۔
 الْغُسُولُ - دھویا ہوا۔ خُطِيَا جِوَا - دھونے
 کے قابل کپڑا۔ ج۔ غَسَلِي وَغُسْلًا وَ
 مَرْتَبٌ غَسِيلَةٌ - ج۔ غَسَالِي -
 الْغَايِقِيُّ - صابن وغیرہ جو دھونے کے
 کام آئے۔ ایک پردہ کا نام جس سے
 دھوتے ہیں۔
 الْغَسَالُ - دھوئی، نہانے والا۔
 الْمَغْسَلُ الْمَغْسِلُ - ج۔ مَغَايِسِيلُ

وَالْمُغْتَسِلُ - ج۔ مُغْتَسِلَاتٌ -
 غسل خانہ، دھونے کا مکان۔ لائڈری۔
 الْمُغْتَسِلُ - وہ پانی جس سے نہایا
 جائے۔
 الْيَغْسَلُ - وہ چیز جس سے دھویا جائے۔
 الْمَغْسِلَةُ - دھونے کا برتن۔
 غَسَلِي - چھین لینا۔
 غَسَمَ رَمَضَانَ، غَسَمًا وَغَسَمًا - اللیل
 رات کا تاریک ہونا۔ صفت غَايِسٌ
 الْغَسَمُ - سیاہی۔ تاریکی۔ خاک تری۔
 الْغَسَمُ وَالْأَغْسَامُ - آسمان میں بادل
 کے ٹکڑے۔
 غَسَمَ رَمَضَانَ، غَسَمًا - الشَّيْءَ - چبانا۔
 غَسَمَاتُ الْقَلْبِ وَغَسَمَانَةٌ - دل کے
 انتہائی گوشے۔
 الْغَسَمَانُ وَالْقَيْسَانُ - جوانی کی تیزی۔
 مَا أَنْتَ مِنْ غَسَمَانِهِ أَوْ غَسَمَانِيهِ -
 تو اس کے مقابلہ کا نہیں۔
 الْغَسَمَانِي - بہت خوبصورت۔
 الْغَسَمَانَةُ وَالغَسَمَانَةُ - بالوں کا گچھا۔ ج۔
 غَسَمٌ وَغَسَمَاتٌ وَغَسَمَاتٌ -
 الْأَغْسَامُ - لوگوں کے اخلاق۔
 غَسَا يَغْسُو غَسْوًا وَغَسِي يَغْسِي
 غَسِيًا وَغَسِيًا - اللیل - رات کا
 تاریک ہونا۔
 الْغَسَاةُ - کچی کھجور۔
 غَسَمَةُ رَمَضَانَ، غَسَمًا وَغَسَمَةً - خلاف
 ضمیر ظاہر کرنا۔ دھوکا دینا۔ بددیانتی
 کرنا۔
 آغْفَهُ - خیانت میں ڈالنا۔ دھوکے میں
 ڈالنا۔ آغْفَهُ عَنْ حَاجَتِهِ - حاجت
 سے ہٹانا۔ باز رکھنا۔
 اِغْتَسَقَ وَاسْتَسَقَ - الرجل - دھوکے
 باز۔ یا منافق سمجھنا۔
 الْغِشُّ - فریب، دھوکا۔ کینہ، خیانت

دل کی سیاہی۔ ترشروٹی۔ ہر چیز کی کدورت
 جعلی سکتہ۔
 الْغُشُّ - ج۔ غُشُونٌ وَالغُشَاءُ - ج۔
 غُشَيْتُهُ وَغُشَائِي - بہت دھوکا
 دینے والا۔ منافق۔
 الْغُشِيَّةُ - گدلا پانی۔ جعلی سکتہ۔
 الْغُشَائِي وَالغُشَائِي - تاریکی کا شروع
 یا آخر۔
 الْمَغْسُوشُ - منعم کھوپڑا، جعلی۔ ملاوٹ والا۔
 غُشْمَةُ رَمَضَانَ، غُشْمًا وَغُشْمَةً -
 ظلم کرنا۔
 غُشْمَ رَمَضَانَ، غُشْمًا - الْحَاطِبُ - رات
 کو بغیر تیز کے لکڑی کا ٹٹا۔
 الْغَايِسُ وَالغُسُومُ وَالغَسَامُ - ظالم۔
 فاصب۔
 الْيَغْسَمُ - بڑا بہادر۔ ظالم۔ الْغَشْمَشْمُ
 بڑا بہادر۔ دلیر۔ بہت ظالم۔
 الْغَشْمَشْمَةُ وَالغَشْمَشْمِيَّةُ -
 جرات۔
 غَشْمَرٌ غَشْمَرَةٌ - السَّيْلُ - سیلاب کا
 آنا۔ الرجل - حق یا باطل میں خود رائے
 ہونا۔ اپنی مرضی پر چلنا اپنے اوپر
 بھروسہ کرنا۔ الامر - بے سوچے سمجھے
 کام کرنا۔ فلَانًا - ظلم کرنا۔
 الْغَشْمَرُ - علیہ۔ غضبناک و ناراض ہونا۔
 فلَانًا - زبردستی لینا۔
 الْغَشْمَرَةُ - مع۔ آواز۔ ج۔ غَشْمَرٌ
 الْغَشْمَرِيَّةُ - ظلم۔
 الْغَشْمَرِيَّةُ - سختی، شدت۔
 غَشَا يَغْشُو غَشْوًا - فلَانًا - کسی کے
 پاس آنا۔
 غَشِي رَمَضَانَ، غَشَاةً - الامرُ فلَانًا -
 ڈھانکنا۔ غَشَا، الغُورُ وَغَيْرُهُ -
 گھوڑے وغیرہ کا سر سے سفید ہونا۔
 غَشِي رَمَضَانَ، غَشِيَانًا - فلَانًا - کسی

کے پاس آنا۔ ۱۰ بالستوطا۔ کوڑے سے مارنا۔
 اِسْتَفْشَى - لوبہ ویشوبہ۔ اپنے آپ کو ڈھانکنا۔
 الْغُشْوَةُ وَالْغُشَاوَةُ - پردہ۔ ڈھکنا۔
 الْاَغْشَى - مِنَ الْخَيْلِ - گھوڑے کا سفید سرو والا ہونا۔ مَوْتٌ غُشْوَاءٌ -
 غُشْيٌ يَغْشَى غُشْيًا وَغُشَايَةٌ -
 الْاَوْفَانَا - ڈھانکنا۔ چھپانا۔
 غُشْيُ الْمَرْأَةِ - عورت سے خلوت کرنا۔
 - الْمَكَانَ - آنا۔ اللَّيْلُ - رات کا تاریک ہونا۔
 غُشِيَ عَلَيْهِ نَشِيًا وَغُشِيًا وَغُشِيَانًا -
 بے ہوش ہونا۔ غشی والا ہونا۔ صفت
 مفعولاً - مَغْشِيٌّ عَلَيْهِ -
 اَغْشَى - الْاَمْرَ فُلَانًا - ڈھکوانا۔ نازل کرنا۔
 اللَّيْلُ رَاتٍ كَاتَرِيكٌ هُوْنَا - اللہ تعالیٰ بَصِيرَةٌ - اللہ کا کسی کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا۔ اَغْشَانِي فُلَانًا کسی کے پاس آنے کے لیے آسانا۔
 غُشِيَ - الشَّيْءَ وَعَلَى الشَّيْءِ - ڈھانکنا۔
 كَغُشْيِي - بِشَوْبِهِ - اپنے آپ کو ڈھانکنا۔
 كَغُشْيِي الْمَرْأَةِ - عورت کے پاس جانا۔ كَغُشَاةِ الْاَمْرِ - کام نے اس کو چھپایا۔
 اِسْتَفْشَى - لُوبَةً وَبِشَوْبِهِ - خود کو ڈھانک لینا۔
 الْغُشَا - پردہ۔ ج۔ اَغْشِيَةٌ -
 الْغُشَايَةُ - اَتْعَايَةُ وَالْغُشِيَةُ - پردہ ڈھکنا۔ اَذْنِيَّةٌ وَالْغُشِيُّ - غُشْيٌ وَالْغُشِيَانُ - بے ہوشی، غشی۔
 الْغُشَايَةُ - مَوْتٌ الْغُشِي - پردہ۔ ڈھکنا۔
 مَلِكًا پَرْدَةً - ج۔ غَوَاشِي - مصیبت، قیامت۔ ایک اندولنی بیماری۔
 غَلَشِيَّةٌ - مَلَانَةٌ - انسان کے خادم ملنے

چلنے والے۔ جو اس کی زیارت کو بار بار بار آئیں۔
 غُشَى رَسٌ نَ غُصَصًا - بِالطَّعَامِ وَ الْمَاءِ - کھانے یا پانی سے پھندا لگنا۔
 صِفَتٌ (رِغَاقٌ وَ غُصَانٌ) الْمَكَانُ - بھجڑ۔ کسی جگہ کا بھر جانا۔ تنگ ہونا۔
 غُشَى رَسٌ نَ غُصَصًا - الشَّيْءَ - کالٹا۔ اَغْصَنَهُ - پھندا لگانا۔ کہتے ہیں - اَغْصَنَ عَلَيْنَا الْاَرْضَ - اس نے ہم پر زمین تنگ کر دی۔
 اَغْصَنَ - الْمَكَانَ بِهَجْرٍ - کسی جگہ کا تنگ ہونا۔
 الْغُصَّةُ - جس سے پھندا لگے۔ گلوگیر۔ اندوہ غم۔ ج۔ غُصَصٌ -
 غُصْبَةٌ رَسٌ نَ غُصْبًا - عَلَى الشَّيْءِ - بھجور کرنا۔ الشَّيْءَ - زبردستی چھین لینا۔ الْمَرْأَةَ - نیا یا بچر کرنا۔ الْجِلْدَ - کھال کے بال اور اون وود کرنا۔
 صِفَتٌ غَاصِبٌ - ج۔ غَاصِبَتَانٌ - وَغُصَابٌ -
 اِغْتَصَبَ - الشَّيْءَ - زبردستی چھین لینا۔ ظلم سے لے لینا۔ الْمَرْأَةَ - زنا بالجبر کرنا۔
 غَاصِبَةٌ - ایک دوسرے سے چھیننا۔ الْغُصْبُ - مہ۔ چھینی ہوئی چیز۔
 غُصَنٌ رَسٌ نَ غُصْبًا - الْغُصْنُ - ٹہنی کو کالٹنا۔ کھینچنا۔ الشَّيْءَ لِيُنَاقَ - عَنْ حَاجَتِهِ - حاجت سے پھیرنا۔ روکنا۔
 اَغْصَنَ وَغُصَنَ - الْغُصْنُ - نُوْشَةٌ - کاڑھے داتوں والا ہونا۔ اَغْصَنَتِ الشَّجَرَةَ - درخت کا شاخدار ہونا۔
 الْغُصْنُ - شَاخٌ - ٹہنی۔ ج۔ غُصُونٌ وَ اَغْصَانٌ وَغُصَيْتَةٌ -
 الْغُصْنَةُ - شاخ میں پھوٹی ہوئی کوئل۔

غُشَى رَسٌ نَ غُصَصًا وَغُصَاةً وَغُصَاةً وَغُصَاةً -
 وَغُصَاةً - طَرَفُهُ وَمِنْ طَرَفِهِ اَوْصُوْتُهُ وَمِنْ صَوْتِهِ - نظریا آواز کو پست کرنا۔ روکنا۔ الْغُصْنُ - شَاخٌ - کو بالکل نہ توڑنا۔ الشَّيْءَ - کم کرنا۔
 مِنْ فُلَانٍ - کسی کی قدر کو گھٹانا۔
 غُشَى بَصْرَهُ - نا جائز چیز سے نگاہ کو روکنا۔ غُضُّ لِي سَاعَةً - یعنی اپنی سواری کو تھوڑی دیر روکے رکھو، اور پھیرو۔
 غُضُّ رَسٌ نَ غُضَاةً وَغُضُوْصَةً - الْبَنَاتُ وَغَيْرُهُ - نباتات کا تروتازہ و سرسبز ہونا۔ صِفَتٌ (رِغَقٌ) - ج۔
 غُضَاةً -
 غُضَعٌ - تازہ چیز کھانا۔ نازک و نرم ہونا۔ ذلت و خواری لاحق ہونا۔
 الْغُضُّ - الْطَرَفُ - نگاہ کا بند ہونا۔
 كَغُضُّ - عَنَهُ - غفلت برتنا۔
 الْغُضَاعُ وَ الْغُضَاعُ - سُرَا اَكْلًا حَصَةً - یا پھرے کا اوپری حصہ۔
 الْغُضَّةُ - ج۔ غُضَعٌ وَ الْغُضِيَّةُ وَ الْغُضَاةُ - ج۔ غُضَاعُ - غُضَاعُ - ذلت، نقص، کمی۔
 الْغُضُّ - مہ۔ تروتازہ۔ نرم و نازک۔ ج۔
 غُضَاعُ -
 الْغُضِيَّةُ - تروتازہ۔ ناقص، ذلیل۔
 طَرَفٌ غُضِيَّةٌ - پست نگاہ۔ ج۔
 اَغْصَانٌ وَ اَغْصَانَةٌ - مَوْتٌ غُضِيَّةٌ - ج۔ غُضَاعُ -
 غُضِبَ رَسٌ نَ غُضِبًا وَغُضْبَةً -
 عَلَيْهِ - یعنی رکن۔ غضب ناک ہونا۔ صِفَتٌ رِغَبٌ وَغُضْبٌ وَغُضْبٌ وَغُضْبٌ وَغُضْبَانٌ - مَوْتٌ غُضْبِيٌّ وَغُضْبٌ - وَغُضْبَانَةٌ - ج۔ غُضْبِيٌّ وَغُضْبَانٌ - وَغُضْبَانِيٌّ وَغُضْبَانِيٌّ - غُضْبٌ مِنْ

الشیء بلا سبب غصہ ہونا۔
 اَغْضَبَهُ وَكَأَنَّهَا مُغَاضِبَةٌ غَضْرُكَ
 پر ہڑکانا۔
 غَاضِبٌ ناراض کرنا۔ ایک دوسرے کو
 ناراض کرنا۔
 اَغْضَبْتِ الْعَيْنُ۔ آنکھ سے تنکا وغیرہ
 نکالنا۔
 لَغَضِبَ وَاسْتَغْضَبَ۔ علیہ۔
 غضبتاک ہونا۔
 الغُضْبَةُ۔ غضب کا اسمہ۔ سر کی کھال۔
 پھل کی کھال۔
 الغِضَابُ وَالغَضَابُ۔ آنکھ کا تنکا۔
 الغَضَابِيُّ۔ بیزہ زندگی بسر کرنے والا۔
 المغْضِبُ وَالغَضْبَةُ وَالغَضْبَةُ وَ
 الغَضْبَةُ۔ غضبتاک۔
 غَضْرَةٌ (رَض) غَضْرًا۔ اللہ۔ خوشحال
 آسودہ حال کرنا۔ غَضْرُ الرَّجُلِ۔
 روکتا، منع کرنا۔ الشیء کاٹنا۔
 غَضْرُ (رَض) غَضْرًا وَغَضْرًا۔ آسودہ
 حال و مال دار ہونا۔ عمدہ زندگی والا ہونا
 غَضْرُ (رَض) غَضْرًا وَغَضْرًا۔ عَدَّة۔
 پٹنا۔ پڑنا۔ غَضْرٌ عَلَیْهِ۔ مائل ہونا۔
 یَقْلَبُ مِنْ مَّالِهِ۔ اپنے مال میں سے
 کسی کو کچھ دینا۔
 اَغْضَبُ۔ جوان مرنا۔
 الغَضَارُ۔ خالص چکنے والی مٹی۔ چکنی مٹی کا
 بنا ہوا پیالہ۔ بزرنگ کی ٹیکری جو نظریہ
 سے بچاؤ کے لیے رکھتے ہیں۔
 الغَضَارَةُ۔ مہر۔ نعمت اور عمدہ زندگی۔
 فَرَحٌ وَشَمَالٌ۔ نظریہ سے بچاؤ کے لیے
 بزرنگ کی خالص مٹی، بڑا پیالہ۔ جہ
 غَضَائِدٌ۔
 الغَضْرَاءُ۔ مِنَ الْأَرْضِ۔ زرخیز عمدہ
 زمین۔ خالص مٹی کی زمین۔ قِطَاعٌ پرنده
 کو بھی غَضْرَاءُ کہتے ہیں۔ جہ غَضَارِیُّ

کہتے ہیں۔ هُجْرِي غَضْرَاءٌ مِنْ
 العَيْشِ۔ وہ آسودہ حالی میں ہیں۔
 الغَاضِرُ۔ فَا۔ مانع عمدہ رنگی ہوئی کھال۔
 ضروریات کے لیے صبح سویرے جانے
 والا۔ مَوْتٌ غَاضِرَةٌ۔
 الغَضِيرُ۔ نرم و نازک۔ بزرنگ والا۔
 المغْضِرُ۔ صاحب نعمت و خوشحال۔ جہ۔
 مَغْضِرُونَ
 المغْضِرُ۔ صاحب نعمت و آسودہ حال۔
 جہ۔ مَغْضِرُونَ وَمَغَاضِرٌ۔
 غَضَعْنَ۔ الماء۔ کم کرنا۔ وَتَغَضَعْنَ
 الماءَ پانی کم ہونا۔ خشک ہونا۔
 غَضَفَ (رَض) غَضْفًا۔ العُودُ۔ ٹکڑی
 توڑنا۔ الْكَلْبُ اذُنُهُ۔ کتے کا اپنے
 کانوں کو ڈھیل کرنا۔ الْيُوسَادَةُ۔ ٹکیہ
 موڑنا۔ غَضُوقًا۔ آسودہ حال
 ہونا۔
 غَضِفَ (رَض) غَضْفًا۔ اللیل۔ رات کا
 تاریک ہونا۔ غَضِفَتِ الْأَذُنُ۔ کانوں
 کا پیدائشی ڈھیل ہونا۔ غَضَفَ غَضْفًا
 جہ۔ غَضَفٌ۔ غَضِفَ الْعَيْشُ۔
 زندگی کا خوشگوار ہونا۔ صفت
 اَغْضَفُ وَغَاضِفٌ۔
 اَغْضَفَ۔ اللیل۔ تاریک ہونا۔
 السَّحَابُ۔ بادل کا ظاہر ہونا اور
 اس سے بارش کے آثار کا نمودار ہونا۔
 غَضِفَ۔ الشیء۔ ٹھکانا۔
 لَغَضِفَتِ۔ الْجَارِيَةُ۔ رُحَى كَامِكْ رُحَى
 کرنا زواناز سے چلنا۔ الْحَيَّةُ۔
 سانپ کا کھٹل مارنا۔ لَغَضِفَتِ
 الدُّنْيَا عَلَیْهِ۔ دنیا اس کی طرف
 تیز کیے ہوئے ہے اور مائل ہے۔
 لَغَضِفَتِ عَلَیْهِ اللَّیْلُ۔ رات کا آنا
 ۔ البتْرُ۔ کنویں کا منہم ہونا۔
 اَلْغَضْفَتِ۔ البتْرُ۔ کنویں کا گرنا۔

بِالْغَضْفَتِ اذُنُهُ۔ کان کا ٹوٹنا۔
 الغَضَابُ۔ کھرا تہ بہ تہ ہونا۔
 القَوْمُ فِي الْغُبَارِ۔ قوم کا غبار میں
 داخل ہونا۔
 الغَاضِفُ۔ فَا۔ آسودہ زندگی والا۔ خوش
 عیش۔ وہ کتا جس کے کان کا بلند حصہ
 آگے کو جھکا ہوا ہو۔
 الغَضِفُ۔ درخت خربا کے مشابہ ایک درخت
 واحد۔ غَضْفَةٌ۔
 الغَضْفَةُ۔ قِطَاعٌ کے مانند ایک پرنده۔
 الاغْضِفُ۔ ڈھیلے کان کا کتا۔ موٹے پروں
 کا تیرتاریک رات۔
 غَضَنَهُ (رَض) غَضْنًا۔ عَرَجٌ كَذَا۔
 منع کرنا، روکنا۔ الناقَةُ۔ اونٹنی کا
 کچا بچہ گرانا۔ اسم (الغَضَانُ)
 اَغْضَنَ۔ السَّحَابُ۔ بادل کا لگاتار
 برسنا۔
 اَغْضَنَتْ۔ عَلَیْهِ الْحُثَّى۔ بخار کا سخت
 ہونا اور ہمیشہ رہنا۔ عَلَیْهِ اللَّیْلُ۔
 رات کا تاریک ہونا۔
 غَاضِنٌ مُغَاضِنَةٌ۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ کا
 جھپکانا۔ الْمِرَآةُ۔ آنکھ جھپکا کر
 عورت سے بات کرنا۔
 غَضْنَ۔ الشیء۔ موڑنا۔ سکن و سلوٹ
 ڈالنا۔ غَضِنَتِ السَّمَاءُ۔ آسمان کا
 لگاتار بارش برسانا۔ الناقَةُ۔ اونٹنی
 کا ادھورا بچہ گرانا۔
 لَغَضْنَ۔ مَرَّانًا۔ سلوٹ و سکن والا ہونا۔
 الغَضْنُ وَالغَضْنُ۔ کپڑے یا کھال وغیرہ
 کی سکن و سلوٹ۔ ظنن۔ غَضْنُ
 العَيْنِ۔ آنکھ کی ظاہری کھال۔ جہ۔
 غَضُونٌ۔ غَضُونُ الْأَذُنِ۔ کان
 کی سلوٹ۔ رَجُلٌ ذُو غَضُونٍ۔ پیشانی
 کے سلوٹوں والا آدمی۔ فِي غَضُونٍ
 ذَلِكِ۔ اسی اشارہ میں۔

الْعَضَّةُ وَالْعَضَّةُ - باریک پھلکا جو
 چیک کے داغ پر ہوتا ہے۔
 الْعَضِيْنُ - اڑھنی کا ادھورا گرا ہوا بچہ۔
 الْعَضْنُ - بھی ہوئی آنکھ والا۔
 عَضًا يَعْضُو عَضُوًا - اللیل - رات کا
 تاریک ہونا۔ البعیر - اونٹ کا
 درخت عضا چرنا۔ صفت عا حین۔
 (عَضُوًا) نعمت و خوشحالی میں ہونا
 صفت عا حین۔ مؤنث غا ضیئة۔
 ج۔ عوا حین۔
 عَضِيٌّ يَعْضِي عَضِيًّا - البعیر - درخت
 عضا چرنے سے اونٹ کے پیٹ میں
 درد ہونا۔ صفت (عَضِيٌّ) مؤنث
 عَضِيَّةٌ ج۔ عَضَايَا - عَضِيَّتِي
 الارض - زمین کا زیادہ درخت عضا
 والی ہونا۔
 اَعْضَى اَعْضَاءً - اللیل - رات کا
 تاریک ہونا۔ صفت (عَا حِين) -
 اَعْضَى عَيْنَهُ - آنکھ بند کرنا۔ غلی
 الامر - خاموش ہونا۔ مبر کرنا۔
 كَعْضَى عَنْهُ طَرْفَةً - نگاہ پھیر لینا۔
 اَعْضَى عَلَى التَّدَى - مبر کر کے
 معاون کر دینا۔
 تَعَاَضَى - آنکھیں بند کرنا۔ عنہ غفلت
 رتنا۔
 قَضًا جَهِادًا كَادِرًا - واحد عَضَاقُ
 جہاد میں۔ اهل العَضَا - نجد کے
 رہنے والے۔
 الْعَاضِبَةُ - مؤنث العَاضِي - تاریک روشن
 اور نیک غاضبہ تاریک رات
 نَارٌ عَاضِبَةٌ - روشن آگ۔ ج۔
 عوا حین۔
 اَعْضَى اَوْ عَضَا دَرْتَ اَكْنَعُ كَجَكْ
 عَطَّرَنَ ص. عَطَّادٌ اَعْطَّ - الشئ فِي
 اَنْعَامٍ پانی میں ڈبونا۔ غوطہ دینا

عَطَّةٌ (ن) اَعْطَا - زور سے پھوڑنا۔
 عَطَّرَ (ص) عَطِيطًا - التَّائِيحُ - سولے
 والے کا خولے لینا۔ البعير - اونٹ
 کا بلبانا۔
 تَعَاَطَى - الرَّجُلَانِ فِي الْمَاءِ - ایک دوسرے
 کو پانی میں ڈبونا۔
 اَنْعَطَ - فِي الْمَاءِ - پانی میں ڈوبنا۔
 عَطَّرَسَ عَطْرَسَةً - عَلَى فُلَانٍ - تکر
 کرنا۔ الرجل - اپنے ہم عمروں پر
 دست درازی کرنا۔ یا الشئ - خود
 پسند ہونا۔ خود ستا ہونا۔ ج۔
 غضبناک کرنا۔
 تَعَطَّرَسَ - تَكْبِرًا زَجَالَ جَلْنَا - اترانا۔
 غضبناک ہونا۔ بخل کرنا۔
 الْعَطْرَسُ ج۔ عَطَارِسٌ - وَالْعَطْرِيْسُ
 ج۔ عَطَارِيْسٌ - تکر - خود پسند۔
 عَطَّرَشَ - اللیل بَصْرَةً - رات کا آنکھ
 کو تاریک کر دینا۔ بَصْرَةً - آنکھ کا
 تاریک ہونا۔
 تَعَطَّرَفَ - تَكْبِرًا زَجَالَ جَلْنَا - تکر ہونا۔
 الْعَطْرَفَةُ - تَكْبِرٌ
 الْعَطْرَافُ وَالْعَطْرِيْفُ - سنی سردار
 خوش طبع خوبصورت جوان۔ ج۔
 عَطَارِفَةٌ وَعَطَارِيْفٌ - الْعَطْرِيْفُ
 باز کا بچہ، کمی۔ الْعَطْرُوْفُ و
 الْعَطْرُوْفُ - خوب صورت، خوش
 مزاج جوان۔
 عَطَسَ (ص) عَطَسًا - فِي الْمَاءِ - پانی
 میں ڈوبنا۔ ج۔ فِي الْمَاءِ - پانی میں ڈوبنا۔
 - فِي الْاِنَاءِ - برتن پر منہ لگا کر پینا۔
 عَطَسَهُ - فِي الْمَاءِ - پانی میں غوطہ دینا۔
 تَعَاَطَسُوا فِي الْمَاءِ - ایک دوسرے کو
 غوطہ دینا۔ تَعَاَطَسَ الرَّجُلُ -
 رتنا۔ برتنا۔
 الْعَاطِسُ - نَا - لَيْلٌ عَاطِسٌ - تاریک

رات۔
 الْعَطَّاسُ - نصرانیوں کی ایک عید۔
 الْعَطَّاسُ - پانی کی گہرائی میں غوطہ لگانے
 والا۔ ایک پرندہ جس کو غَوَّاصٌ بھی
 کہتے ہیں۔
 الْعَطَّوْسُ - رطایوں میں پیش قدمی کرنے
 والا۔
 الْمَغْطِسُ - غوطہ لگانے کی جگہ۔
 الْيَغْطِسُ - غوطہ لگانے کا برتن بڑا۔ جہ۔
 مَقَاطِسٌ -
 عَطَشَ (ص) عَطَشًا وَعَطَشَانًا -
 اللیل - رات کا تاریک ہونا۔ صفت
 رَعَاطِشٌ وَعَاطِشٌ -
 عَطَشَ (ص) عَطَشًا وَعَطَشَانًا - بیماری
 یا بڑھاپے کے سبب آہستہ آہستہ چلنا
 عَطِشَ (ص) عَطِشًا - کمزور نظر والا ہونا۔
 دھندلی نظر والا ہونا۔ صفت اَعْطَشُ
 وَعَطِشٌ مؤنث عَطِشَاءُ وَعَطِشَةٌ
 ج۔ عَطِشٌ وَعَطِشَاتٌ -
 اَعْطَشَ - اللیل - رات کا تاریک ہونا۔
 اللہ التَّيْلُ - تاریک کرنا۔
 تَعَطَّشَتْ - عَيْنُهُ - نگاہ کمزور ہونا۔
 تَعَاَطَشَ - عنہ - همان بھیکر ادھایا
 غافل بننا۔
 اِعْطَاشٌ - کمزور نظر والا ہونا۔
 الْعَطَّاشُ - رات کی تاریکی۔ الْعَطِشُ
 فِي الْعَيْنِ - آنسو پھینکے ساتھ نظر
 کی کمزوری۔ فَلَاحٌ عَطِشًا و
 عَطِشٌ وَعَطِشٌ - بے راستہ اور
 بے آب ریگستان۔
 عَطَّطَتْ عَطَّطَةً - الْقَدَارُ - ہانڈی
 کا زور سے جوش مارنا۔ النومُ عَلَى
 فُلَانٍ - نیند کا کسی پر غالب آنا۔ و
 تَعَطَّطَ الْبَحْرُ - سمندر کا بلند
 بلند موجیں اٹھانا۔ تَعَطَّطَ الشئ -

چھوٹی چھوٹی گھاس۔
الغفور والغفور والغفار۔ گردن کے
چھوٹے چھوٹے بال۔
الغفور والغفور۔ ہاڑی بکری کا بچہ۔ ج۔
غفرة وغفار وغفور۔
الغفور۔ گائے کا بچہ۔ کہتے ہیں رجل غفور
القفا وهي غفوة القفا
الغفور۔ گردن کے چھوٹے چھوٹے بالوں
والا۔

الغفار۔ رخسارہ پر نشان۔
الغفرة۔ ڈھکنا۔ الغفارة۔ ایک قسم
کا خود جو سپاہی کلاہ کے نیچے پہنا کرتا
ہے۔ عورت کے بال چھپانے کی اور صنی
مکڑا جس سے کمان کے گوشہ کو لپٹتے
ہیں۔ بروہ شے جس سے کسی چیز کو
چھپائیں۔

الغفارة۔ وسیع چادر یا جتہ جس کو اجار
یہود اور پارسی پہنتے ہیں۔
الغافر۔ فا۔ ج۔ غافرون وغفوة۔
الغفور۔ بست بنشنے والا (مذکر، مؤنث)
الغفار۔ مؤنث غفارة۔ بست بنشنے
والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمے حسنیٰ میں
سے ہے۔

الغفیر۔ مم۔ رواں کہتے ہیں۔ جاؤوا
جما غفیرا وجما الغفیر و
الجما الغفیرا۔ یعنی وہ سب
شریف و زویل آئے۔

الغفيرة۔ مم۔ اصلاح کا ذریعہ کثرت
زیادتی۔

المغفور والمغفرة۔ غور۔ ج۔ مغفور۔
المغفور والمغفور والمغفور۔ ایک
درخت کا گوند۔ ج۔ مغفور و

مغافیر۔
الغفص۔ آنکھ کا کچھرا۔
غافصہ غفاصا ومغافصہ۔ اچانک

المغففت والمغففت۔ المذابة۔
جانور کا موسم ہمارے چارہ پر پہننا۔
المغففت فلانا۔ کسی کو کچھ تھوڑا
سا دینا۔

المغففت۔ الإناء أو الصرع۔ برتن یا حق
کے باقی ماندہ کو لینا۔
المغف۔ سوکھے پتے۔
المغفة۔ سبز چارہ کا ایک لقمہ۔ سبز چارہ
کی کفایت۔ برتن وغیرہ کا بقیہ۔
گزارہ۔

غفور من غفرا۔ الشیخ۔ چھپانا۔
الشیب بالخصاب۔ بالوں کی سفیدی
کو خضاب سے چھپانا۔ غفرا و
غفیرا وغفیرة وغفرا نا و
مغفورة وغفورا، له الذنب
گناہ چھپانا، معاف کرنا۔ الامر۔
کام کی اصلاح کرنا۔

غفور من وغفور من وغفرا وغفیر
- التریین۔ ہمارا دوبارہ مرین
ہونا۔ غفور وغفیر۔ الجرحم۔ زخم
کا دوبارہ کھل جانا۔ غفورا الثوب۔
کپڑے کا روئیں دار ہونا۔

غفور۔ الشیخ۔ ڈھکنا۔ چھپانا۔ الرجل۔
کسی کو غفور اللہ کہہ کرنا۔

اغفرة۔ چھپانا۔ اغفرا المومنین۔ گوند
نکالنا۔

لغفور۔ درخت سے گوند نکالنا۔ حاصل کرنا۔
لغافروا۔ ایک دوسرے کی مغفرت کی
دعا کرنا۔

المغفرا لله ذنبه۔ گناہ بخشنا۔
اغفارت۔ الثوب۔ کپڑے کا روئیں دار
ہونا۔

استغفرو۔ اللہ الذنب وین الذنب
گناہ کی بخشش مانگنا۔

العفور والغفور۔ کپڑے کا روئیں۔ الغفور۔

بکرتا۔ متفرق ہونا۔
العطا غط۔ بکری کے مادہ نیچے۔ واحد۔
عظف۔

العظف۔ بیٹ تیر کی آواز کی نقل کرنا
عظف رس، عظفا۔ پلوں کا ادا نہ ہونا۔
صفت اعظف۔ مؤنث عظفاؤ۔
جر عظف۔

العظف۔ مم۔ زندگی کی آسودگی و فراخی۔
الاعظف۔ ون العیسیٰ۔ آسودہ زندگی۔
العظف۔ بڑا سمندر۔ وسیع الاخلاق آدمی۔
بڑی جماعت۔

عظمت۔ البخو۔ سمندر کا بلند موجوں والا
ہونا۔ القدر۔ بانڈی کا جوش میں
آنا۔ السیل۔ سیلاب کا نیچے گرتے
وقت آواز کرنا۔

العظمت۔ بڑا سمندر۔
عطا یعطو عطا وعطوا۔ الشیخ۔

چیز چھپانا۔ ڈھانکنا۔ الماء وغیرہ۔
پانی وغیرہ کا بلند ہونا۔ اللیل۔ رات
کی تاریکی کا ہر چیز کو ڈھانک لینا۔

عظی تعظیة واعظی اعطاء۔ الشیخ۔
چھپانا۔ ڈھانکنا۔ اعظی الکرم۔ انگو
کا بیل میں پانی جاری ہونا اور اس کی
شاخوں کا دراز ہونا۔

تعظی واعظی۔ چھپنا۔
العطاء۔ مم۔ ج۔ اعظیة۔

العظایة۔ عورت کی کرتی، بنیان۔
عظی یعظی عظیا وعظیا۔ اللیل۔
رات کا تاریک ہونا۔ المسباب۔

جوانی میں بھرتا۔ الماء۔ پانی کا بہت
ہونا۔ صفت رعایط، الشیخ وعلی
الشیخ۔ چھپانا۔ واعظی الشجر۔
درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔

اعطاء۔ چھپانا۔
العظیة۔ مؤنث العاطی۔ انگو کی بیل

آپکڑنا۔

الغافضة۔ بلائے ناگہانی۔ اچانک آئے
وال مصیبت۔ جو۔ غواض۔

عَفَقَةٌ رَضٍ، عَفَقًا۔ بالسَّوْطِ۔ چابک
سے بہت مارنا۔

عَفَوًا۔ علیہ کسی پر اچانک آجانا۔۔

الرجل۔ اچانک واپس آجانا۔

عَفَقَةٌ، تھوڑی سی نیند لینا۔

عَفَقًا۔ اُونگھنا۔

تَعَفَّقُ۔ الشَّرَابِ۔ تمام دن شراب پینا یا

گھڑی گھڑی شراب پینا۔

إِعْتَفَقَ۔ بہ۔ احاطہ کرنا۔

العَفَقُ۔ مسر۔ ہلکی بارش۔

المُعَفَّقُ۔ مرجح۔ واپسی کی جگہ۔

الْمُعَفَّقُ۔ واپس ہونے اور مڑنے کی جگہ۔

عَقَلَ رن، عَقُولًا وَعَقْلًا وَعَقْلًا۔

عقل۔ غافل ہونا۔ بھولنا۔ چھوڑنا۔

الشيء۔ چھپانا۔

عَقَلَهُ۔ غافل بنانا یا غافل سمجھنا۔ عَقَلَ

الشيء۔ چھپانا۔

أَعْقَلَ۔ الشيء۔ چھوڑ دینا۔۔ عا، غافل

نام رکھنا یا غافل شمار کرنا۔ الکتاب

نقطے نہ لگانا۔ عا کام کے وقت کو

پوچھنا اور فراغت کا انتظار نہ کرنا۔

عَاقَلَهُ وَتَعَقَّلَهُ وَإِسْتَعَقَلَ

غضبت کے وقت کا انتظار کرنا۔

إِعْتَقَلَهُ۔ غافل جاننا۔

تَغَافَلَ۔ غافل بتکلف بننا۔ غافل ہونے کا

بہانہ کرنا۔ غفلت کے وقت کا انتظار

کرنا۔ تَغَافَلَ عَنِ الْأَمْرِ۔ بھولنا۔

العَقْلُ۔ مصر۔ فراموشی زندگی۔ هُوَ فِي

عَقْلٍ مِنْ عَيْشِهِ۔

العَقْلُ۔ بے علامت، بے حسب آدمی۔

مِنَ الشَّعْرِ۔ جس کا قائل معلوم نہ ہو۔

مِنَ الْأَرْضِ۔ غیر آباد زمین۔ مَن

الرجال۔ وہ شخص جس سے نہ کسی بھائی

کی امید ہو اور نہ اس کے شر کا خطرہ۔

مِنَ الْكُتُبِ۔ جس کا مصنف نہ

معلوم ہو۔ مَن الشُّعْرَاءِ۔ مجہول

شاعر۔ جو۔ أَعْقَالَ۔

العَاقِلِ۔ فا۔ جو۔ عَاقِلُونَ وَعُقُولٌ وَ

عَقْلٌ۔

العُقْلَانِ۔ غافل۔ العُقْلَانِ۔ غافل۔

غفلت و لاپرواہی۔

المَعْقَلَةُ۔ لب زیریں کے بال۔

المُعَقَّلُ۔ منع۔ بے خبر آدمی۔ سادہ لوح۔

عَفَا يَعْفُو عَفْوًا وَعَفْوًا وَعَفِي

يَعْفِي عَفِيَّةً وَأَعْفَى۔ اُونگھنا۔

ہلکی نیند لینا۔ عَفَا الشيء چیز کا پانی

پر تیرنا۔ العَفْوَةُ۔ اُونگھ۔ نیند کی

بھینکی۔

عَفَى يَعْفِي عَفِيًّا وَأَعْفَى۔ الطَّعَامُ۔

غذہ کو صاف کرنا۔ أَعْفَى الطَّعَامُ۔

غذہ میں بہت کھڑا کرکٹ ہونا۔ أَعْفَى

الرجل۔ آدمی کا کھلیان میں بھوسہ

پر سو جانا۔

إِعْفَى۔ الشيء۔ ٹوٹنا۔ العَفَى۔ گیہوں کا

پھٹن۔

العَفَاءُ تَنَكُّهُ اور چھوڑنے گیہوں جو گیہوں میں

سے ہوتے ہوتے ہیں۔

العَفِيَّةُ۔ وہ بلند ٹیلہ جس پر پانی نہ چرچ

سکے۔

العَفَاعَةُ۔ آنکھ کا سفیدی۔

عَقَى رَضٍ، عَقًا وَعَقِيْقًا۔ القَارُ۔ قار

کا جوش کھانا اور آواز نکالنا۔ الصَّقْرُ

شکرہ کا آواز نکالنا۔ عَقَى الْمَاءُ وَ

عَقِيْقَةُ، کشادگی سے تنگی میں آنے پر

پانی کی آواز۔

عَقَلَهُ رن، عَقَلًا۔ فِي الشيء۔ داخل کرنا۔

عَقَلَ الْمَفَارِقَةَ۔ رگیستان میں داخل ہونا۔

الشيء۔ چیز کو چوری سے سامان میں

رکھ لینا۔ الماءُ بَيْنَ الْأَشْجَارِ۔

پانی کا درختوں کے درمیان جاری ہونا۔

بَصْرًا۔ نگاہ کا راہ راست سے

بھٹک جانا۔ عَقُولًا، خیانت کرنا۔

فِي الشيء۔ داخل ہونا۔ فِي الْبِلَادِ۔

ملک میں گھستے ہوئے دور تک چلا جانا۔

عَقَلَ رن، عَقَلًا وَعَقْلًا۔ العَقْلَانَةُ۔ غلام

پہننا۔ عَقْلًا وَعَقْلًا۔ ہتھکڑی یا

طوق ڈالنا۔

عَقَلَ رَضٍ، عَقَلًا وَعَقْلًا۔ صَدْرُهُ كَيْفَ

سے سینے کا پُر ہونا۔

عَقَلَ عَقْلًا وَعَقْلًا۔ سخت پیاسا ہونا۔ صفت

(عَقْلًا وَمَعْقُولًا وَمُعَقَّلًا)

أَعْقَلَ۔ الرجل۔ خیانت کرنا۔ أَعْقَلَ

الارض۔ زمین کا غلہ پیدا کرنا۔ غلہ والی

ہونا۔ أَعْقَلَ الْبَصْرَ۔ تیز نظر کرنا۔

أَعْقَلَ۔ خیانت کی طرف مشوب کرنا۔

عَلَى عِيَالِهِ۔ بال بچوں کے لیے غلہ لانا

۔ العَرِيْبُ۔ خطیب و واعظ کا اپنے

کلام میں حق بجانب نہ ہونا۔ الجَارِزُ

فِي الْجِلْدِ۔ قصاب کا کھال کھینچنے وقت

کچھ گوشت اور چربی کو کھال میں لگا

چھوڑنا۔

أَعْقَلَ وَتَعَقَّلَ۔ فِي الشيء۔ داخل ہونا۔

إِعْتَقَلَ۔ الرُّطْبَةُ۔ جانکالا کا غلہ لینا۔

الثَّوْبِ۔ کپڑے کا اور کپڑوں کے نیچے

پہننا۔

إِعْتَقَلَ وَتَعَقَّلَ۔ بِالْغَالِبِيَّةِ۔ خوشبو

لگانا۔

إِسْتَعَقَلَ۔ الارض۔ زمین سے غلہ لینا۔

عَبْدًا كَ۔ غلام کو غلہ لانے پر مجبور کرنا۔

العَقْلُ۔ کینہ، کھوٹ۔

العَقْلُ۔ پیاس، ہتھکڑی۔ طوق۔ جو۔

أَعْقَالَ وَعَقُولًا۔

الغلة: گھر کے کرایہ کی آمد یا زمین کا حاصل۔
ج۔ غلات و غلال۔

الغلة: سخت پیاس۔ کپڑوں کے نیچے
پینے کا کپڑا۔ وہ چیز جس میں کوئی چھپ
جائے۔ کونے کے سر پر باندھنے کا کپڑا
ج۔ غل۔

الغلل: پیاس۔ درختوں کے درمیان
بچنے والا پانی۔ چھنی۔ وہ گوشت جو
کھال اتارتے وقت کھال پر رہ جائے۔
ج۔ اغلال۔

الغلال: شلوکہ جو کپڑوں یا زرہ کے نیچے
پینتے ہیں۔ زرہ کے دو حلقوں کو جوڑنے
والی میخ۔

الغلیل: سخت پیاسا۔ سخت پیاس، کینہ،
محبت یا غم کی گرمی۔

الغلیكة: ٹونٹ الغلیل۔ زرہ یا زرہ کے
نیچے پینے کا کپڑا۔ ج۔ غلائل۔

المخلل: بست غلہ والا۔
المختل: پیاسا۔ انا مختل الیہ۔ میں

اس کا مشتاق ہوں۔
المغلات والمستغلات: زمین کا نفع

کرایہ کی شکل کی یا غل کی صورت میں۔
غلب الرجل وغلب علیہ رض، غلبا و

غلبا وغلبتہ ومعربا ومعربتہ و
غلبی وغلبی وغلبتہ وغلبتہ

فاغلبتہ۔ غالب آنا۔
غلبت رس، غلبا۔ مرنے کا ہونا۔

صفت راغلب، مؤنث غلباء۔ ج۔
غلب۔

غلبتہ۔ غالب کرنا۔ غالبہ غلابا و
مغالبہ۔ غلبہ پانے کے لیے مقابلہ

کرنا۔ غالب ہونا۔
تغلبت۔ علی البلد۔ شہر پر زور قابو

پالینا۔
تغالبوا۔ علی بلد۔ شہر پر قابض ہونے

کے لیے ایک دوسرے پر غالب آنے کی
کوشش کرنا۔

راغلوبت۔ الکفیب۔ گھاس کا گھنا ہونا
۔ القوم۔ قوم کا کثیر ہونا۔

راستغلبت۔ علیہ الضحک۔ ہنسی
کا غالب آجانا۔

الغلاب: بہت غلبہ پانے والا۔ ج۔
غلابون۔

الغالب: فا۔ ج۔ غالبون وغلبتہ۔
غالب آنے والا۔

الاعلب: اسم تفضیل۔ زیادہ طاقتور،
اکثر۔

الغلباء: مؤنث الاعلب۔ گھنے درختوں
کا باغیچہ۔ بڑا اونچا ٹیلہ۔ بڑا قبیلہ۔

الغلباء: مم۔ من الرجال۔ بہت
جلد غالب آنے والا۔

المغلب: صفع۔ غالب ظاہر کیا ہوا۔ بار بار
مغلوب کیا ہوا۔

المغلبتہ: مم۔ قلب فتح، فتح کی جگہ۔
غلت رس، غلتا۔ البیع أو الشراء

عمید و فروخت و فسخ کرنا۔
غلت رس، غلتا۔ حساب میں غلطی کرنا۔

تغلطت و اغلطتہ۔ اچانک آپکڑنا۔
الغلطتہ۔ رات کا پہلا حصہ۔ الغلطة۔

حساب غلطی۔
غلطت رس، غلتا۔ القوم۔ سختی سے

مقابلہ کرنا۔ و اغلطت، الزند۔
چھتاق کا آگ نہ دینا۔

غلطت رس، غلتا۔ الشیء بالشیء۔ ملانا۔
الغلط۔ مم۔ کوڑا کرکٹ جو غلہ میں ملا

ہوا ہو۔
الغلط۔ جھون (و المغالط) سخت

لڑاکا۔
الغلط والغلطت والمغلوط۔ من
البر۔ کوڑا کرکٹ ملا ہوا گیہوں۔

غلطت رض، غلطا و غلطانا۔ القوم۔
گھوڑے کا برابر رفتار پر چلنا۔

تغلطت۔ علیہ ظلم کرنا۔ الغلطت جوانی
کا عمدہ حصہ۔

الاعلوطج۔ نرم دمازک ٹہنی۔ ج۔ اغالیبج۔
غلطت۔ فی العلیل۔ آخر شب کی تاریکی

میں کام کرنا۔ الماء۔ آخر رات کی
تاریکی میں پانی پر پہنچنا۔ داغلتس،

آخر شب کی تاریکی میں چلنا۔
الغلطت۔ آخر شب کی تاریکی۔ ج۔

اغلتس۔
غلطت رس، غلطا و غلطانا۔ غلطانا۔

غلطت رس، غلطا۔ فی الامر۔ غلطی کرنا۔
صفت غارط۔ صفت مغولی (مغلوط)

فیہ۔
غلطتہ۔ غلطی کی نسبت کرنا۔

غالطہ غلاطا و مغالطہ و اغلطہ۔
غلطی میں ڈالنا۔

تغالط۔ القوم۔ ایک دوسرے کو غلطی
میں ڈالنا۔

المغلطتہ۔ ج۔ مغالط۔ والاعلوطتہ۔
ج۔ اغلطات و اغلیط و الغلوطتہ

وہ بہم مسئلہ یا بات جس سے آدمی کو
غلطی میں ڈالا جائے۔ وہ چیز جس میں

غلطی کی جگہ یا کثرت سے جس میں
غلطی واقع ہو۔ مسئلة غلوط۔

بہت پیچیدہ مسئلہ۔
المغلط۔ غلطی کرنے کا عمل۔

غلطت رس، وغلطانک، غلطانا و
غلطت رس، وغلطانک، غلطانا و

غلطت رس، وغلطانک، غلطانا و
غلطت رس، وغلطانک، غلطانا و

غلطت رس، وغلطانک، غلطانا و
غلطت رس، وغلطانک، غلطانا و

غَلَطَةٌ وَغُلَطَةٌ وَغُلْطَةٌ وَ
غُلَاظَةٌ. موٹا ہونا گاڑھا ہونا سخت
ہونا۔ صفت دغلیطًا، ج۔ غُلَاظٌ
و غَالِطٌ۔ ج۔ غُلْطَةٌ۔ غُلَطَتْ
السُّبُلَةُ۔ بالی میں دانہ پڑنا۔ الرجل
سخت و تند خو ہونا۔

غُلْطَةٌ۔ موٹا یا گاڑھا یا کھردرا یا مشکل بنانا
قسم کو مضبوط کرنا۔ عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ۔
قسم میں سختی کرنا۔

أَغْلَطَ۔ المسافر مسافر کا سخت زمین
پر اترنا۔ الشيء۔ چیز کو گاڑھا پانا۔
له في القول۔ کسی سے سخت
کلامی کرنا۔

غَالِطَةٌ مُعَالِطَةٌ۔ دشمنی کرنا مقابلہ کرنا۔
اسْتَعْلَطَ۔ موٹا ہونا۔ موٹا پانا۔ سخت ہونا۔
الغُلَاظُ۔ گاڑھا۔ موٹا۔ سخت۔

الغُلْطُ۔ ناہموار سخت زمین۔ الغِلْطَةُ۔
موٹائی، ناہمواری۔ کھردرا پن۔ سخت
کلامی۔ شدت۔ بَيْعُهُمْ غُلْطَةٌ۔
ان کے درمیان عداوت ہے۔

غُلْغُلٌ غُلْغُلَةٌ وَغُلْغُلٌ۔ جلنے میں
جلدی کرنا۔ غُلْغُلٌ وَغُلْغُلٌ۔ فی
الشيء۔ سختی سے داخل ہونا۔ رِسَالَةٌ
مُغْلِغَةٌ۔ ایک شہر سے دوسرے شہر
پہنچایا ہوا پیغام۔

الغُلْغُلُ۔ درخت کی گہری جڑ۔ ج۔
غُلَاغُلٌ۔

غُلْفَتٌ دُنْ، غُلْفًا۔ الشيء۔ ڈھانکنا۔
غلاف میں ڈالنا۔

غُلِفَتْ دُنْ، غُلْفًا۔ ختم شدہ نہ ہونا۔
غُلْفَتٌ۔ الشيء۔ غلاف میں ڈالنا۔ ڈھانکنا
چھپانا۔

أَغْلَفَتْ۔ الشيء۔ چیز کے نیچے غلاف بنانا۔
غلاف میں ڈالنا۔
تَغْلَفَتْ وَرَغْلَفَتْ۔ غلاف میں ہونا۔

تَغْلَفَتِ الرَّجُلُ۔ دائی میں عالیہ
خوشبو لگانا۔

الغُلْفَةُ۔ ایک درخت جس سے چمڑا
رنگتے ہیں۔

الغُلْفَةُ۔ وہ کمال جس کو ختم کرنے والا
کاتب ہے۔ ج۔ غُلْفٌ۔

الغُلْفَتَانِ۔ مونچھوں کی دونوں طرفیں۔

الأغْلَفُ۔ ختم نہ کیا ہوا۔ قَلْبٌ أَغْلَفٌ
وہ دل جو نہ سمجھے نہ یاد رکھے۔ عام

أَغْلَفْتُ۔ سرسبزی و ایزدانی کا سال۔

الغِلَافُ۔ غلاف۔ نیام۔ لفافہ، کیس۔ ج۔
غُلْفٌ وَغُلْفٌ وَغُلْفٌ۔

الغُلْفَاءُ دُمُوثُ الأَغْلَفِ۔ ج۔ غُلْفٌ۔

ارضٌ غُلْفَاءُ۔ نہ چری ہوئی زمین۔

سَنَةٌ غُلْفَاءُ۔ ایزدانی کا سال۔

غَلِقَ دُنْ، غُلْقًا۔ تنگ دل ہونا۔

غُلِقَ دُنْ، غُلْقًا۔ تنگ دل ہونا۔
رَغَلِقٌ، الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُدَّحِّينِ۔
رہن کا مرتن کی ملک میں آنا۔

أَغْلَقَ وَغَلَقَ۔ الباب۔ دروازہ
بند کرنا۔

أَغْلِقَ۔ عَلَيْهِ الأَمْرُ۔ معاملہ اس پر
مہم رہا۔ أَغْلِقَ القَاتِلُ فِي يَدِ الوَالِيِ
قاتل کا حاکم کے حوالہ ہونا۔ اسم
(الغَلَاقُ)

أَغْلَقَتْ۔ على كذا۔ مجبور کرنا۔

غَالَقَهُ مُعَالَقَةً۔ شرط لگانا۔

تَغَالَقَ۔ القوم۔ باہم شرط لگانا۔

الغُلْقُ۔ الباب۔ دروازہ بند ہونا۔ گھنٹا
مشکل ہونا۔

اسْتَعْلَقَ۔ الباب۔ دروازہ کا گھنٹا
دشوار ہونا۔ الكلامُ على فلانٍ۔
گفتگو کا بند ہو جانا۔

الغَلْقُ قفل تالا۔ بڑا دروازہ۔ معاموں
کی اصطلاح میں وہ پتھر جو محراب یا

قبت کے بیچ میں لگایا جاتا ہے۔ ج۔

أَغْلَقَ۔ وجهه أَعْلَقَ۔ كلامٌ

غَلِقٌ وَغُلِقٌ۔ مشکل اور دشوار ہم

کلام۔ بابٌ غُلِقٌ۔ بند کیا ہوا دروازہ۔

المغْلَقُ۔ جوئے کے تیروں میں سے ایک

فائدہ بخش شیر۔ ج۔ مَعَالِقُ۔

عَلِمَ دُنْ، عَلِمًا وَغُلْمَةً وَرَغْلَمًا

شہوت پرست ہونا۔ صفت د غَلِمٌ

و غَلِيمٌ وَرَغْلِيمٌ مَوْتٌ غَلِيمَةٌ

و غَلِيمَةٌ وَرَغْلِيمَةٌ وَرَغْلِيمَةٌ۔

أَعْتَلَمَ الشَّرَابُ۔ شراب کا جوش

مارنا۔ إِعْتَلَسَتِ الأمواجُ۔ موجوں

کا زوبہ سے اٹھنا۔

الغُلَامُ۔ نوجوان۔ غلام، مزدور۔ ج۔

غُلْمَانٌ وَغُلْمَةٌ وَرَغْلَمَةٌ۔

الغُلَامَةُ۔ مَوْتٌ غُلَامٌ۔ نونہلی۔

الغُلُومَةُ وَرَغْلُومِيَّةٌ وَرَغْلُومِيَّةٌ۔

نوجوان کی حالت۔ جوانی۔ الغَيْلَمُ

ترکھوا۔ بیدار۔ کنویں میں پانی کا سوت

بست بالوں والا نوجوان۔ مَا فِي الدَّارِ

غَيْلَمٌ۔ گھر میں کوئی نہیں۔

عَلَنَ دُنْ، غُلْنَا۔ القَبَابُ۔ جوان کا

پُرْجُوش ہونا۔ غُلُوانُ الشَّبَابِ۔

آغاز شباب اور نفاط جوانی۔

غُلَا يَغْلُوا غُلُورًا۔ زیادہ ہونا۔ بلند ہونا۔

الغَيْمَةُ۔ پودے کا گنجان اور بڑا ہونا

سہا لیا ہونا۔ زمین میں جو سخیلا اور

مضبوط ہونا۔

غُلَا غُلَاغًا۔ السَّحْرُ۔ زرخ کا منگایا

سستا ہونا۔ بھاؤ بڑھ جانا۔ صفت

(غَلٌّ وَغُلٌّ)

غُلَا يَغْلُوا غُلُورًا وَرَغْلُورًا۔ السَّهْرُ وَ

بِالسَّهْرِ۔ تیر کو انتہائی دور تک

پھینکنا۔ فِي الأَمْرِ۔ مبالغہ کرنا۔ حد

سے بڑھنا۔ بِالشَّيْءِ۔ قیمت چڑھنا۔

الغمر - غمر کر کے گاڑھا کیا ہوا دودھ۔
الغمر - جہ - غمر - چھوٹے معنی ستارے
ارض مغممة - بہت نباتات
وال زمین۔

غمرت (رض) غمنا - الطعام - کھانے
کا دل پر ثقیل ہونا اور انسان کو
بد ہوش کر دینا۔ کئی المایہ - پانی
میں غوطہ دینا۔ الشیء - ڈھانکنا۔
غمرت (رض) غمنا - کھانے کا دل پر
ثقیل ہو کر انسان کو بد ہوش کر دینا۔
غمر (رض) غمنا و غمر (رض)
غمنا - الماء - گھونٹ گھونٹ کر کے
برابر پانی پینا۔

الغمر والغمرة - گھونٹ - جہ - غمر
غمردن من، غمنا - السیف - تلوار
کو میان میں کرنا۔ الشیء چھپانا -
الامر - اصلاح کرنا۔

غمردن من غمنا - کنویں کے پانی کا
نیادہ یا کم ہونا رند غمردن اللیل -
رات کا تاریک ہونا۔

غمردن من غمنا - السیف - تلوار کو میان میں کرنا
- الاشیاء - ایک دوسرے میں
داخل کرنا۔

غمردن من غمنا - قصور چھپانا -
تغمدا الله یرحمته - اپنی رحمت
میں چھپالینا۔ رحمت کے سایہ میں رکھنا
تغمدا الیاء - برتن بھرنا۔

اغمر - اللیل - رات میں داخل ہونا۔
الغمردن - تلوار کا میان - کیس - غلاف -
جہ - غمردن و غمردن - سفینة
غامد و غامدہ - بھری ہوئی کشتی
جہ - غوامد - بئر غامد و
غامدہ - کنویں کے پانی کا مٹی سے
ڈھکا ہوا ہونا۔

غمردن، غمرا - الماء - پانی کا ڈھانکنا۔

غمر - علیہ الامر - معاملہ کا متقی ہونا۔
پوشیدہ و بیم ہونا۔

غمر (رض) غمنا - لہ بالہن والا ہونا۔
صفت داغمر، ثوب غمنا۔
جہ - غمر۔

اغمر - غمگین کرنا۔ اغمر الیوم - دن
کا سخت گرمی والا ہونا۔ اغمرت
السماؤ - آسمان کا بادل والا ہونا۔
ما اغمرک لی وعلی وای - کس
چیز - تم کو میرے لیے غمگین بنا یا۔
غامرہ مغممة - ایک دوسرے کو
غمگین کرنا۔

تغام - غم کا اظہار کرنا۔
الغمر - ڈھک جانا۔ وغمر غمگین
ہونا۔ اغمر النبات - نباتات
کا لبا ہونا اور بہت ہونا۔ اغمر
الرجل - پوشیدہ ہونا۔

الغام - گرم دن۔ غم کا دن۔
الغمر - جہ - غموم - والغمر - جہ -
غموم - غم بے چینی۔ جہ - غموم -
یوم غمر - گرم دن ہوئی غمر
وہ حیرت میں ہے۔ لیلہ غم وغمرة -
گرم یا غم کی رات۔

الاعمر - من السحاب - گہرا بادل
گھٹا ٹپ بادل۔
الغمر - غمت تاریکی - غبار۔
الغمر - بادل - غمنا - بادل کا ٹکڑا
جہ - غمنا - جہ۔

الغمر - نکام - الغمنا - منہ پر کا
چھینکا۔ کہی اس بندھن کہی غمنا
کہتے ہیں جو گھوڑے کی دو آنکھوں پر
اس غم سے باندھا جاتا ہے کہ وہ
صرف سامنے دیکھ سکے، نہ واپس بائیں
الغمر - الغمر - غم - اندوہ - بے چینی۔
گہرا ہٹ - مصیبت۔

مکلی قیمت پر خریدنا۔ عالی الرجل -
خوبی میں کسی آدمی کا مقابلہ کرنا۔

اعلیٰ - الشیء - منگا پانا۔ منگا خریدنا۔
السفر - بھاؤ کو گرا کرنا۔ الکوم
اگر ک بیل کے پتے اتارنا۔
اعلیٰ وکفالی وکفالی - الشجر -
درخت کا گنجان اور بڑا ہونا۔

اعلیٰ - البعد - اونٹ کا جلدی چلنا۔
استغلی - الشیء - منگا پانا۔
الغالی - فا - جہ - غلغلة - مؤنث عالیہ -
جہ - غالیات و غوالی - الغالی
چربی دار گوشت مرغمرہ یا الغالی
وہ بالعلی - میں نے اس کو منگا
فروخت کیا۔

الغلاء - مہ - منگائی - ایک قسم کی چھوٹی
پھلی۔ جہ - آغلیہ -

الغلاء - والغلاء - سردے گذرنا۔ و
الغلاء، جوانی کا آغاز اور نشاط۔
الغلاء - تیر مارنے کا انتہائی فاصلہ۔ جہ
غلاء و غلاء۔

الغلی والغلاء - تیر بہت دور فاصلے
پر مارا جانے۔ جہ - مقال۔

علی یعلی علیا وعلیانا - جوش مارتا۔
علی کفلیہ وعلی اعلاء - المقدس
بانڈی کو باننا اور جوش دینا۔
الرجل - دوسرے اٹھارہ سے سلام
کرنا۔

تغلی - خوشبو لگانا۔ الغالیہ - ایک مرکب
خوشبو ہے جو منگ غمرا کا نور سے
بنتی ہے۔ جہ - غوالی۔

غمردن (رض) غمنا - ڈھانکنا۔ غمگین کرنا۔
غمردن الیوم - دن کا بہت گرم ہونا۔
القمم النجوم - چاند کا ستاروں
کی روشنی کو ماند کر دینا۔ الشیء الشیء -
غالب ہونا۔

غَمْرِدَس، غَمْرَادُ غَمْرَا - صَدْرُهُ
عَلَى كَيْدِهِ بَهْرَجَانَا - غَمْرَتُ يَدَاكَ
ہاتھ میں گوشت کی چربی کا لگ جانا۔
غَمْرَدِن، غَمَارَةُ وَغَمُورَةُ - الْمَاءُ
پانی زیادہ ہونا۔ الرجلُ - آدمی کا
جابل ہونا۔
غَمْرٌ - عَلَيْهِ - بے ہوشی طاری ہونا۔ غَمْرٌ
وَجْهَهُ - چہرے پر زعفران ملنا۔
بِالشَّيْءِ - چیز کو پھینک دینا۔
أَغْمَرَهُ - الْحَرُّ - گرمی کا کم ہو کر سفر پر
جأت دلانا۔
غَامِرَةٌ مُغَامِرَةٌ - سخت لڑائی لڑنا اور
موت کی پروا نہ کرنا۔
إِغْمَرُوا وَتَجَمَّرُوا - چہرہ پر زعفران ملنا۔
إِغْمَرُوا وَالْغَمْرُ - پانی میں ڈوبنا۔ غَمْرٌ
الْمَاءُ الشَّيْءُ - پانی کا کسی شے کو
ڈبو دینا۔

الْغَمْرُ - مَمٌ - بہت پانی، سمندر کا بڑا حصہ
پیدا کپڑا۔ شریف۔ وسیع الاخلاق۔
جہ۔ غَمَارٌ وَغَمُورٌ - لیلِ غَمْرٌ
بہت تاریک رات۔ غَمْرُ النَّاسِ
لوگوں کی جماعت۔ غَمْرُ الْوِدَاعِ
نیاض و سخی اور صاحب الخیر۔
الْغَمْرُ وَالْغَمْرُ وَالْغَمْرُ - نا تجربہ کار۔
جابل۔ جہ۔ أَعْمَارٌ
الْغَمْرُ - کینہ۔ پیاس۔ الْغَمْرُ - زعفران۔
درس سے بنائی ہوئی ایک چیز جو منہ پر
لگاتے ہیں۔
الْغَمْرُ - مَمٌ - نا تجربہ کار۔ جابل۔ کینہ،
گوشت کی چکنابٹ۔ غَمْرُ النَّاسِ
لوگوں کی جماعت۔
الْغَمْرُ - چھوٹا پیالہ۔ جہ۔ غَمَارٌ وَاعْمَارٌ
الْغَمْرُ - بہت چربی دار۔ غَمْرَةُ الشَّيْءِ
سختی۔ جہ۔ غَمْرَاتٌ وَغَمَارٌ وَ
غَمْرٌ - غَمْرَاتُ الْمَوْتِ - موت کی

تکالیف و سختیاں۔
الْغَمْرَةُ - زعفران۔ الْغَمَارَةُ - جمالت و
ناواقفیت۔ وَالْغَمَارُ وَالْغَمَارُ
وَالْغَمَارَةُ، لوگوں کی جماعت۔
ابوہ۔
الْغَامِرُ - فَا - اجاڑ زمین۔ الْمَاءُ الْغَامِرُ
بہت پانی۔
الْغَمِيرُ - بہت پانی۔
الْمُغْمَرُ - مدہوش۔
الْمَغْمُورُ - مفع۔ گنام۔ غیر مشہور۔ مقہور۔
غَمْرُ رَضٍ، غَمْرًا - ہاتھ سے ٹھوننا۔
الْقَنَاقَةُ - نیزہ کو آزمانے کے لیے
دانتوں سے چباننا۔ هَا بِالْعَيْنِ أَوْ
الْجَفْنِ أَوْ الْحَاجِبِ - آنکھ یا ابو
وغیرہ سے اشارہ کرنا۔ غَمْرٌ بِالرَّجْلِ
وَعَلَيْهِ - طعنہ دینا اور برائی کی کوشش
کرنا۔ غَمْرٌ عَيْبُهُ وَدَاؤُهُ - ظاہر
ہونا۔ غَمْرَةُ الدَّابَّةِ - جانور کا سنگڑا
ہونا۔ غَامِرَةٌ مُغَامِرَةٌ - عیب
لگانا۔

أَغْمَرٌ فِيهِ - عیب لگانا۔ شان گھٹانا۔
گھٹیا مال جمع کرنا۔
تَغَامَرٌ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کی طرف
آنکھوں سے اشارہ کرنا۔
إِغْمَرَةٌ - طعنہ دینا۔ الْكَلِمَةُ - کلمہ کو
کزور سمجھنا۔
الْغَمْرُ - نیکے مویشی۔ کزور آدمی۔ جہ۔
غَمْرٌ وَاعْمَارٌ
الْغَامِرُ - فَا - نیزے کی آزمائش کرنے
والا۔
الْغَمَارُ - اسمُ مبالغَةِ مَوْنِ غَمَارَةٍ
الْغَمِيرُ - نمایاں عیب۔
الْمَغْمَرُ - عیب، طعن یا طبع کی جگہ۔ جہ۔
مَغَامِرٌ
الْغَمِيرَةُ - کزوری عقل یا عمل۔ رُائِي

نقص، الْمَغْمُورُ - مضم۔
غَمْسٌ رَضٍ، غَمْسًا - الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ -
پانی میں ڈوبنا۔ غوطہ دینا۔ الْبِسْتَانُ
فِي صَدْرِهِ - جملے کو سینہ میں داخل
کرنا۔ غَمُوسًا، الدَّجْمُ - ستارہ
کا ڈوبنا۔

غَمْسَةٌ - زور سے ڈوبنا۔ غَمْسُ الشُّرْبِ
کم پینا۔ الْاَيْلُ - اونٹ کو پانی پلا کر
واپس لے جانا۔
غَامَسٌ مُغَامِسَةٌ - اپنی جان کو لڑائی یا
خطرہ میں ڈالنا۔ فَلَانًا - ایک دوسرے
کو پانی میں غوطہ دینا۔ فِي الْاَمْرِ -
جلدی کرنا۔

الْغَمْسُ وَالْغَمْسُ - فِي الْمَاءِ - پانی
میں غوطہ لگانا۔ فِي الشَّيْءِ - داخل ہونا۔
الْغَمُوسُ - مصیبت میں ڈالنے والا معاملہ
- مِنَ الرِّجَالِ - سخت، بہادر۔
طَفْعَةٌ غَمُوسٌ - پارہ بولنے والی
نیزہ کی ضرب۔ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ
جھوٹی قسم جو ارادہ کھائی جائے۔ جہ۔
غَمُوسٌ

الْقَمِيْسُ - تاریکی۔ لَيْلٌ قَمِيْسٌ - تاریکی
رات۔ وَالْقَمِيْسَةُ، چھاڑی۔
درختوں کا جھنڈ۔

الْقَمِيْسَةُ - مرغابی پتھری۔ جہ۔ قَمِيْسٌ
غَمِيْسٌ رَضٍ، غَمِيْسًا - اٹک جھنکے
ساتھ چننا ہونا۔ صفت (أَغْمَسُ)
غَمِيْسَةٌ رَضٍ، غَمِيْسَةٌ رَضٍ، غَمِيْسًا -
حقیر جانتا۔ غَمِيْسٌ التَّوَقُّفُ - نعمت
کی ناشکری کرنا۔ عَلَيْهِ - جھوٹا لولہ۔
عَلَيْهِ كَلَامُهُ - عیب لگانا۔ غَمِيْسٌ
رَضٍ، غَمِيْسًا - آنکھ کا کپڑا والی ہونا۔
غَمِيْسَتْ عَيْنُهُ - آنکھ کا کپڑا ہانا۔
صفت (أَغْمَسُ)، آنکھ۔ غَمِيْسًا
جہ۔ غَمِيْسٌ

بڑھ جانا۔ کلام بالکلام۔ غالب ہونا۔
إغتمط الشيء۔ نکل جانا اور پھر کوئی
نشان نہ ملنا۔

الغَمَطُ۔ مہم۔ پست زمین۔
غَمَطَمَ غَمَطَةً۔ الشوہ۔ بیل کا خوف
کے وقت ڈکارنا۔ الأبطال۔ بہادروں
کا لڑائی میں آواز میں نکالنا۔ الكلام۔
غیر واضح کلام کہنا۔ الصبغی۔ بچہ کا
دودھ کے لیے پستانوں پر روپنا۔

تغمغم۔ الرجل۔ واضح کلام نہ کہنا۔
ڈوبے ہوئے کا پانی کے نیچے گڑا کر اٹانا۔
الغَمَطَةُ۔ مہم۔ خوف کے وقت بیلوں
کی لڑائی کے وقت بہادریوں کا شور۔
غیر واضح کلام۔ جہ۔ غمًا غمًا۔

غَمَقَ رَنًا، وَغَمَقَ رَسًا، وَغَمَقَ رَدًا،
غَمَقًا۔ المكان۔ ترو نہناک ہونا۔
النبات۔ نباتات کا نہناک سے
خراب ہونا۔ صفت (غَمَقٌ) مَوْنَتٌ
غَمِقَةٌ۔

غَمِقٌ۔ البعير۔ اونٹ کا غمق کی بیماری
میں مبتلا ہونا۔

الغَمِقَةُ۔ پیٹھ میں دگنے والی بیماری۔

المغموق۔ غمق کی بیماری میں مبتلا۔

غَمَلٌ رَنًا غَمَلًا۔ الشيء۔ چھپانا۔

فلا تانا۔ پیٹھ لینے کے لیے ڈھانکنا۔

البسور۔ گدڑ کھجور کی پال دہانا۔ العنب

فی التوتیبی۔ انگور کو زنبیل میں

تہ بہ تہ رکھنا۔ الشيء۔ درست کرنا

ر۔ وَتَغَمَلُ، التبات۔ ایک دوسرے

پر چڑھنا۔ الشيء۔ وسیع ہونا۔

غَمَلٌ رَسًا، غَمَلًا۔ تہ بہ تہ ہونے کی وجہ

سے بدبودار ہونا۔ العجور۔ پیٹھ کی

وجہ سے زخم کا خراب ہونا۔ صفت
(غَمِلٌ)

أغمل۔ الإهاب۔ کپے چڑھے کا چھوڑ

فلاں گنام و ذیل ہے۔

الغَمَضُ وَالغَمَاضُ وَالغَمَاضُ وَ

الغَمَاضُ۔ آنکھ کی چپکی نیند۔ مَا

أَلْتَحَلَّتْ عَيْنِي غَمَطًا أَوْ غَمَاضًا

أَوْ غَمَاضًا أَوْ تَغَمَاضًا أَوْ

تَغَمِيطًا۔ میری آنکھ نہیں لگی۔

الغَامِضُ۔ فاطمہ پست زمین۔ جہ۔ غَوَامِضُ

گنام۔ ذیل۔ امرٌ غَامِضٌ۔ بہم

معاہدہ۔ الغَلَخَالُ الغَامِضُ۔

پازیب جو پندلی کو بھروسے۔ الغَامِضُ

مِنَ الكُحُوبِ وَالسُّوقِ مَوْنَتًا

يَا مَوْنَتِي پندلی۔ غَوَامِضُ الأبل۔

چھوٹے اونٹ۔

الغَامِضَةُ۔ مَوْنَتُ الغَامِضُ۔ جہ۔

غَامِضَاتٌ وَغَوَامِضُ۔ الدَّارُ

الغَامِضَةُ۔ گھر جو راستوں سے

کنارہ پر ہو۔

الغَمِيطَةُ۔ عیب۔ الغَمُوضَةُ۔ عیب

المغمضُ۔ پست زمین۔ جہ۔ مَغَامِضُ

المُغَمِضَاتُ۔ گناہ جو جان بوجھ کر کیے

جائیں۔ مَغَمِضَاتُ اللیل۔ رات کی

تاریکیاں۔

غَمِطَةُ رَضًا، وَغَمِطَةُ رَسًا، غَمَطًا۔

خچر جانا۔ مفاہات کرنا۔ غَمَطَ

النعمۃ۔ نعمت کی ناشکری کرنا۔

الحق۔ حق کا انکار کرنا۔ الماء

زہ سے پانی کا گھونٹ بھرنے۔ الذریرۃ

ذبح کرنا۔

أغمط۔ علیہ الشيء۔ ہمیشہ ہونا،

دامی ہونا۔

غَامَطٌ مَغَامِطَةٌ۔ فی الشرب۔ لگاتار

گھونٹ لینا۔

تَغَمَطَ۔ علیہ التراب۔ بیل سے ڈھانکنا

یہاں تک کہ مار ڈالنا۔

أغمطہ۔ دوڑ میں ہارنے کے بعد آنکھ

إغتمصتہ۔ حقیر ماننا۔ گھٹیا سمجھنا۔

الغَمَضُ۔ مہم۔ آنکھ کا کچھ۔

الغَمُوضُ۔ جھوٹا رہنما۔ غَمُوضٌ۔ جھوٹی

قسم۔ رجلٌ مَغْمُوضٌ علیہ۔ دین

یا حسب میں عیب لگایا ہوا آدمی۔

غَمَضَ رَنًا، وَغَمَضَ رَدًا، غَمُوضًا۔

الكلام۔ کلام کا دقیق و پیچیدہ ہونا۔

غَمَضَ رَنًا، غَمَضًا۔ السیف فی

اللحم۔ تلوار کا گوشت میں گھسنا۔

چھیننا۔ الرجل فی الارض۔ ملک

میں پھرنے۔ عنہ فی البیع۔ خرید و

فروخت میں نرمی و رعایت برتنا۔

غَمِضَ رَسًا، غَمُوضَةً وَغَمَاضَةً۔

المكان۔ جگہ کا پست ہونا۔

غَمَضَ وَأَغَمَضَ۔ عینہ۔ آنکھ بند

کرنا۔ عنہ فی البیع۔ خرید و فروخت

میں رعایت و نرمی برتنا۔ غَمَضَ

الكلام۔ کلام کو بہم کرنا۔ غَمَضَ

عَنِ الإساءة۔ چشم پوشی کرنا۔

أغمضت العین فلا تانا۔ آنکھ کا

کسی کو حقارت سے دیکھنا۔ أغمض

عَنِ الشيء۔ تجاوز کرنا۔ چشم پوشی کرنا۔

أغمضت کلی لکذا۔ بغاوت کرنا۔

أغمض فی السلعة۔ پیمانہ کے

گھٹیا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت

گھٹانا۔ حده السیف۔ تلوار کی دھار

کو باریک کرنا۔ فلا تانا۔ دوڑ میں کسی

سے آگے نکل جانا۔

إغمض۔ طرفہ۔ آنکھ بند ہونا۔

أغمضت۔ البوق۔ بیل کا چھلکا بند ہونا۔

الرجل عَنِ الإساءة۔ چشم

پوشی کرنا۔ مَا اغتمضت عینائی۔

میری آنکھ نہیں لگی۔

لغمتس۔ مہم۔ پست زمین جہ۔ غَمُوضٌ

وَأَغْمَاضٌ۔ فلا تانا ذُو غَمِضٍ۔

دینے سے خراب ہونا
 الْفَمَل - الْأَدِيمُ - چڑھے کا خراب ہونا
 مَفْتٌ غَمِيلٌ
 الْقَمِيلُ مَجِيدٌ اَلِيٌّ بَرِيٌّ نَجِيٌّ كَمَاسٌ
 پست زمین - ج - غَمَلِيٌّ -
 الْمَغْمُولُ - مَفْعٌ - كَمَامٌ
 الْغَمْلَجُ وَالْفَمَلِيَّةُ وَالْفَمَلَاةُ وَ
 الْغَمْلُوجُ وَالْغَمْلِيَّةُ - فِرْمَسْتَل
 مَرَاةٌ آدَمِيٌّ مُؤْتٌ غَمْلَجٌ وَغَمْلَجٌ
 وَغَمْلُوجَةٌ وَغَمْلِيَّةٌ
 الْغَمْلَجُ وَالْغَمْلِيَّةُ - مَوْتًا - لَبَا -
 الْغَمْلُوجُ - سَايَةٌ فِي الْوَادِي مَرَاةٌ
 ج - غَمَالِيَّةٌ
 غَمَنَ (ر) غَمْنَا - الشَّيْءُ - چھپانا -
 الْبُسْرُ - كَرْمٌ كَرْمِيٌّ فِي الْوَادِي - فَلَانَا
 كَسِيٌّ كَرْمِيٌّ ذَالٌ كَرْمِيٌّ لَانَا
 غَمِنَ وَالْغَمَنَ - فِي الْأَرْضِ دَفِنَ كَيْبَانَا
 بِأَرْضِنَا - زَمِنَ فِي غَائِبِنَا
 غَمَّا يَغْمُوْنَ غَمًّا - الْبَيْتُ - كَرْمِيٌّ
 ج - اَمَلِيٌّ
 الْغَمَا - مَكَانٌ كِي حَمْتٌ يَأْمَتُ كِي مَطِيٌّ وَفِيهِ
 تَغْنِيَةُ غَمَوَانٍ - ج - اَمَلِيَّةٌ وَ
 اَغْمَاءُ
 غَمِيٌّ (ر) غَمِيٌّ وَغَمِيٌّ - الْبَيْتُ - بَعْنِي
 غَمَّا يَغْمُوْنَ
 غَمِيٌّ وَغَمِيٌّ - الْيَوْمُ - وَنَ بَعْرَابِ
 چھاپا رہنا
 غَمِيٌّ وَغَمِيٌّ - عَلِيٌّ الْمَرِيضُ - بِيَارِ
 پَرَبِ بَرَشِيٍّ طَارِيٍّ بَرُونَا - مَفْتٌ مَغْمِيٌّ
 وَغَمْمِيٌّ عَلَيْهِ
 الْغَمِيٌّ - وَفِيهِ جِسْمٌ سَيَمَنُ لَانِي كِي
 لِي كَرْمِيٌّ كَرْمِيٌّ جَانِي جَانِي - رَجُلٌ
 تَغْمِيٌّ غَمِيٌّ وَالْآدَمِيٌّ - رَجَالٌ غَمِيٌّ
 وَغَمْمَاءُ - غَمِيٌّ دَالِيٌّ آدَمِيٌّ - وَ
 الْغَمْمَاءُ - كَرْمِيٌّ حَمْتٌ - ج - اَغْمَاءُ وَ

اَغْمِيَّةٌ
 غَمِنَ (ر) غَمْنَا - التَّخَلُّ - كَجَمْرٍ كَاكِنَا -
 دَرَخْتُ طَرْمَا كَاكِي كَجَمْرٍ لَانَا - الْوَادِي
 وَادِيٌّ فِي دَرَخْتُ زِيَادَةٌ اَلْنَا - ر - غَمْنَا
 وَغَمْمَةٌ - كَلْمَانَا
 غَمَنَ - الْرَوْضُ - بَاغٌ كَوَسْرٍ سَبْرَاوَرِهَا
 بھرا کرنا
 اَغْمَنَ - الشَّجَرُ - دَرَخْتُ كَاكِنَا -
 الْوَادِيٌّ - وَادِيٌّ كَا زِيَادَةٌ دَرَخْتُ وَادِي
 بَرُونَا - الْرَوْضُ - بَاغٌ كَوَسْرٍ سَبْرَاوَرِ
 بَرَا بَرَا كَرْنَا - اَلدُّبَابُ - كَمِيٌّ كَا
 بَهْمِيَّانَا - الرَّجُلُ - زَمِنَ آوَا زَمَانَا
 الْغَمَانُ - كَمِيٌّ كِي بَهْمِيَّانَا - اَلْغَمَّةُ
 كَلْمَانَا
 الْاَغْمَنُ - كَلْمَانَا فِي اَلَا - بَسْتٌ دَرَخْتُ
 اَوْرَ كَمَاسٌ وَادِيٌّ وَادِيٌّ مُؤْتٌ غَمْمَاءُ
 الْقَرْيَةُ الْغَمْمَاءُ - اَبَاوَا كَاوَلُ -
 غَمِنْتُ (ر) غَمْنَا - الرَّجُلُ - سَانَسُ
 لِي كَرْمِيَّا - غَمْمَتٌ نَفْسُهُ -
 جِي مَتَلَانَا
 تَغْمَنَةُ - الشَّيْءُ - بُوَجَلُ بَرُونَا - بَحَارِيٌّ بَرُونَا
 چھٹنا
 غَمِيٌّ (ر) غَمِيٌّ وَغَمْمِيٌّ - نَاوَرُ نَحْرِهِ
 كَرْنَا - مَفْتٌ رَغْمِيٌّ وَغَمْمَانُ مُؤْتٌ
 رَغْمِيَّةٌ وَغَمْمَانُ
 الْغَمْمِيٌّ وَالْغَمْمِيٌّ وَالْغَمْمَانُ - نَاوَرُ نَحْرِهِ
 الْغَمْمَانُ - كَا جَلُ جِسْمِ كَرْمِيٍّ فَلَانَا كَرْمِيٌّ
 لِي اَسْتَمَالُ كَرْمِيٌّ
 الْاَغْمُوَّةُ - نَاوَرُ نَحْرِهِ كَرْمِيٌّ كَا چِيزُ - ج -
 اَغْمِيَّةٌ
 الْغَمْمَانُ وَالْغَمْمَانُ - مِنَ الْعَمَلَانِ
 مَوْتًا تَاوَرُ لَانَا
 غَمْمِيٌّ (ر) غَمْمِيٌّ - تَنَكُّ سَيَمَنُ اَلَا بَرُونَا
 غَمْمِيٌّ (ر) غَمْمِيٌّ - قَرِيْبٌ بَرَا كَرْمِيٌّ بَرُونَا
 - الْاَمْرُ فَلَانَا - مَشْكَلٌ بَرُونَا - غَمْمِيَّةٌ

وَغَمْمِيَّةٌ - غَمْمِيٌّ بَرُونَا
 غَمْمِيَّةٌ - مَعْنِي كَرْنَا - اِيكٌ دَوَسْرِيٌّ كَوَسْمَقْتِ
 فِي ذَالْنَا
 الْغَمْمِيَّةُ وَالْغَمْمِيَّةُ وَالْغَمْمَانُ وَالْغَمْمَانُ
 لَازِمِيٌّ رَجْعٌ وَغَمْمِيٌّ
 الْمَغْمُوَّةُ - مَفْعٌ - غَمْمِيٌّ
 غَمْمِيٌّ (ر) غَمْمِيٌّ - الشَّيْءُ - مَفْتٌ پَانَا
 - ر - غَمْمَانُ وَغَمْمَانُ وَغَمْمَانُ وَغَمْمِيَّةٌ
 وَغَمْمَانَا - غَمْمِيَّتٌ مَاصِلٌ كَرْنَا
 غَمْمِيَّةٌ - حَمْمِيٌّ نَاوَرُ دِيْنَا
 اَغْمَمِيَّةٌ - الشَّيْءُ - غَمْمِيَّتٌ بَانَا
 تَغْمَمِيٌّ وَغَمْمِيٌّ وَاسْتَقْمَمِيٌّ - الشَّيْءُ
 غَمْمِيَّتٌ سَبْمَانَا - تَغْمَمِيٌّ فَلَانَا - بَكْرِيَّا
 مَاصِلٌ كَرْنَا
 الْغَمْمِيَّةُ - ج - غَمْمَانُ - وَالْغَمْمِيَّةُ - ج
 غَمْمِيٌّ وَالْغَمْمِيَّةُ - غَمْمِيَّتٌ جَوَجَلُ
 فِي مَاصِلٌ كَرْمِيٌّ كَاوَلُ - غَمْمِيَّةٌ
 بَارِدَةٌ - غَمْمِيَّتٌ جَوَجَلُ مَفْتٌ كِي
 مَلِيٌّ
 الْغَمْمِيَّةُ - مَم - بَكْرِيَّا - وَاصِدٌ رَشَاقٌ - ج -
 اَغْمَمِيٌّ وَغَمْمِيٌّ وَغَمْمِيٌّ - غَمْمِيٌّ
 مَغْمِيَّةٌ وَغَمْمِيَّةٌ - بَسْتٌ تَعْدَادُ
 وَالَا - بَكْرِيٌّ كَارِيوَرُ
 الْغَمْمَانُ - جَرَوَانَا - بَسْتٌ بَكْرِيٌّ وَالَا - بَسْتٌ
 مَالٌ غَمْمِيَّتٌ مَاصِلٌ كَرْمِيٌّ وَالَا
 الْمَغْمِيَّةُ - غَمْمِيَّتٌ - ج - كَلْمَانَا
 غَمْمَانَا اَنَّا كَلْمَانَا كَرْمِيٌّ
 كَوَسْمَقْتِ كِي اَسْتَاوَرُ جِي كَرْمِيٌّ اِيَا كَرْمِيٌّ
 الْغَمْمِيَّةُ - غَمْمِيٌّ - بِي نَاوَرِي
 غَمْمِيٌّ (ر) غَمْمِيٌّ - الرَّجُلُ - نَكَاةٌ كَرْمِيٌّ
 غَمْمِيَّتٌ الْمَوْرَاةُ - مَمْتٌ كَاوَرُ بَرُونَا
 بَرُونَا كَاوَرُ جِي بَرُونَا بِي نَاوَرُ
 بَرُونَا - رَغْمِيٌّ مَعْنِي (ر) بِالْمَكَانِ -
 كَمِيٌّ كَرْمِيٌّ بَرُونَا - مَفْتٌ رَغْمِيٌّ -
 فَلَانَا - زَمِنَ رَهْمَانَا - غَمْمِيٌّ غَمْمَانَا

وَعُنِّيَانَا، مالدار ہونا۔ بالشی عَنْ
 غیریہ۔ کفایت کرنا۔ بس کرنا۔
 عَنِّي تَعْنِيَةً۔ آواز کرنا۔ الشَّعْرُ
 بالشعر۔ گانا و شعر پڑھنا۔ بالبراق
 عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔
 - الشاهو بقلان۔ مہج کرنا۔ ہجو
 کرنا۔
 عَنِّي وَأَعْنِي۔ مالدار بنانا۔
 أَعْنِي إِعْتَاءً۔ الرجل۔ مالدار کرنا۔
 عَنْهُ۔ کافی ہونا۔ أَعْنِي عَنْهُ عَنَاءً
 فَلَانٍ وَمَعْنَاً وَمَعْنَاً وَمَعْنَاً
 وَمَعْنَاً۔ قائم مقام ہونا۔ أَعْنِي
 عَنْهُ۔ دور کرنا۔ هَذَا أَمَا يَحْسَبُ
 عَنَّا شَيْئًا۔ یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں
 دے گا۔
 تَعْنِي تَعْنِيًا۔ مالدار ہونا۔ تَعْنَتِ
 الْمَرْأَةُ عَمْرًا كَانَتْ كَرْنَا۔
 تَعْنِي۔ ایک دوسرے سے غنی ہونا۔
 لَسْتُ غَنِيًّا بَعْدَ نِيَاظِهِ هُنَا۔ عَنْهُ بِهِ اِكْتِنَا
 كَرْنَا۔ اللہ۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا
 کہ وہ غنی کر دے۔
 الْغَنِيُّ وَالْغَنِيَّةُ وَالْغَنِيَّةُ وَالْقَبِيَانُ
 کفایت۔ دولت مندی۔ مَالَهُ عَنْهُ
 غَنِيٌّ وَغَنِيَّةٌ وَغَنِيَانٌ۔ اس کے
 بغیر اس کو چارہ نہیں۔
 الْغَنِيُّ وَالْغَنَاءُ۔ کفایت، دولت۔ کتے
 ہیں لَا غَنِيَّ عَنْهُ۔ مرنوی ہے، اس
 سے چارہ نہیں۔
 الْغَنَاءُ۔ مِنَ الصَّوْتِ۔ گیت، سر،
 راک۔
 الْأَغْنِيَّةُ وَالْإِغْنِيَّةُ وَالْأَغْنِيَّةُ وَ
 الْإِغْنِيَّةُ۔ گیت، سر، راک۔ ج۔
 أَغْنِيٌّ وَأَغْنَانٌ۔
 الْغَنِيُّ۔ دولت مند، مالدار۔ کتفی۔ ج۔
 أَغْنِيَاءُ۔

الغاني - فارغی۔
 الغانية - مؤنث غانی۔ حسن و جمال کی وجہ
 سے زینت و آرائش سے بے نیاز۔
 عورت، شادی شدہ عورت۔ ج۔
 غائيات و غوان۔
 المعنى - منزل۔ رہنے کی جگہ۔ جہ مغایر
 ماله عنده معنی۔ وہ اس سے بے
 پرواہ نہیں ہو سکتا۔
 غلب دس غلباً وأغلباً - عنده
 غافل ہونا۔ بھونا۔
 اغلب - اندھیرے میں چلنا۔ غلباً۔
 بلا ارادہ و بلا قصد کوئی کام کرنا۔
 الغلب - تاریکی، بہت سیاہ گھوڑا۔
 بہت تاریک رات۔ کندھیں۔ غافل۔
 مزور۔ ج۔ غلباً۔
 الغلبان - تاریکی پیٹ۔
 الغلبان - مؤنث غلبان۔ رطاب کا
 شہر۔
 غائنه يغور غوراً وأغائنه إغائنه
 ومغورته۔ مد کرنا۔
 غور - الرجل۔ مد کے لیے چلانا۔
 استغاث - الرجل وہب۔ مدوچا ہونا۔
 الغوث والغوات والغوات۔ مد۔
 الغوث والغيات والغويث۔ خوراک
 وغیرہ کی مد۔
 المغاويث - پانی۔
 كما جرحه جرحاً وتغويج -
 الغصن - شاخ کا بڑھنا۔ دوہرا
 ہونا۔ لغويج - الرجل نے
 قشیرہ۔ چال میں لپکنا۔
 غار يغور غوراً - پستی کی طرف آنا۔
 الماء - پانی کا زمین میں جذب ہونا
 صفت رغائير النهار - دن کا
 سخت گرم ہونا۔ الرجل۔ دوپہر میں
 سونا۔ الشئ أو القوم - طلب کرنا۔

تلاش کرنا۔
 آغارت لغور غوراً وغوراً - عينه
 آنکھ کا دھنس جانا۔ (د۔ غوراً وغوراً
 وغياراً، في الامر کسی معاملہ میں
 گہری نظر سے دیکھنا۔ في الشئ۔
 داخل ہونا۔
 غارت غياراً وغوراً - الشمس۔
 سورج کا ڈوبنا۔
 غور - پستی کی طرف آنا۔ الماء۔ پانی کا
 زمین میں جذب ہونا۔ الرجل۔ دوپہر
 میں چلنا، اترنا یا سونا۔ القوم۔
 شکست دینا۔
 غورت الشمس أو النجوم - ڈوبنا۔
 غروب ہونا۔
 غور - النهار۔ سورج کا ڈھل جانا۔
 آغار إغارة - چلنے میں تیزی کرنا۔ پستی
 کی طرف آنا۔ ملک میں سفر کرنا۔
 الجبل - رسی مضبوط بننا۔
 آغار إغارة وغارة ومغارة -
 عليهم - لوٹ ڈالنا۔ القوس۔
 گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ يهم واليهم
 مدد دینے کے لیے آپہنچنا۔
 غادر مغارة - العدو۔ دشمن پر
 لوٹ ڈالنا۔ القوم۔ ایک دوسرے
 پر لوٹ ڈالنا۔
 تغور - پستی کی طرف آنا۔ ظاهر
 العين - دھنسا۔
 تغاور - القوم۔ بعض کا بعض پر لوٹ
 ڈالنا۔
 اغتار رغبياً - نفع انداز ہونا۔ غلہ
 حاصل کرنا۔
 استغار - عليهم - لوٹ ڈالنا۔ الرجل
 پست زمین میں اترنے کا ارادہ کرنا۔
 موٹا ہونا۔ الجورم زخم کا سوجنا
 استغور استغواراً - فله مانگنا۔

الغَارُ: کھوہ۔ غار۔ ج۔ اَعْوَارٌ وَغَيْرَانِ
 ایک قسم کا درخت۔ واحد غَارَةٌ،
 غبار۔ بڑا شکر۔ انگوڑے کے پتے۔
 غیرت۔ چارہ۔ زخمندان۔ خانہ چشم
 کی بڑیاں۔ اوپر نیچے کے تالو۔
 الْغَارَةُ: فص۔ غارت گری۔ لوٹ۔ ج۔
 غَارَاتٌ: تیز غارت ڈالنے کے لیے
 گھوڑے۔ جَبَلٌ شَدِيدٌ الْغَارَةُ۔
 مضبوطی ہوئی رسی۔ شَقَّ الْغَارَةَ
 عَلَيهِمْ۔ غارت گری کے لیے گھوڑوں
 کو ہر طرف سے چڑھا لانا۔
 الْغَوْرُ: فص۔ پست زمین، زمین میں جذب
 ہونے والا پانی۔ گڑھا۔ غار۔ کہتے ہیں
 "فَلَانٌ يَبْعِدُ الْغَوْرَ" فلاں گہری
 نظر کا آدمی ہے۔ عَوَقْتُ غَوْرَ
 الْمَسْأَلَةِ: مسئلہ کی حقیقت کو میں
 پہچان گیا۔
 الْغَائِرَةُ: مونت غائِرٌ۔ دوپہر۔ دوپہر
 کا سونا۔
 الْغَوْرَةُ: سورج۔ قیلوتہ۔
 الْغَوْرُ: خون بہا۔
 الْغَوْدِي: گرائی۔
 الْمَغَارُ وَالْمَغَارُ وَالْمَغَارَةُ وَالْمَغَارَةُ
 غار۔ لوٹ۔ ج۔ مَغَاوِرٌ وَمَغَارَاتٌ
 - الْمَغَارُ: لوٹ کی جگہ۔
 الْمَغَاوِرُ وَالْمَغَاوِرُ: مِنَ الرِّجَالِ
 بہت لوٹ ڈالنے والے۔ قَرَسٌ
 مَغَاوِرٌ: تیز گھوڑا۔
 غَارَةٌ يَغْوُزُهُ غَوْرًا: قصد کرنا۔
 الْغَاوُ: پڑول، گیس (دخیل)، ج۔
 غَانَاتٌ
 غَاصٌ يَغْوِضُ غَوَّصًا وَغِيَاصًا وَ
 غِيَاصَةً وَمَغَاصًا: فِي الْمَاءِ -
 پانی میں غوطہ لگانا۔ صفت (غَائِصٌ)
 ج۔ غَوَّاصٌ وَغَاصَةٌ: غَاصٌ

عَلَى الشَّيْءِ: اچانک آجانا۔ عَلَى
 الْمَعَانِي: معانی کی تہ کو پہنچنا۔
 غَوَّصَهُ: فِي الْمَاءِ: پانی میں غوطہ دینا۔
 الْغَوَّاصُ: بہت غوطہ لگانے والا۔ موتی
 وغیرہ نکلانے کے لیے سمندر میں غوطہ
 لگانے والا۔
 الْغِيَاصَةُ: غوطہ زنی کا پیشہ۔
 الْغَوَّاصُ: ایک قسم کا پرندہ
 الْغَوَّاصَةُ: آبدوز کشتی۔ سب میرین کشتی۔
 الْمَغَاصُ: فص۔ غوطہ لگانے کی جگہ۔ پنڈلی
 کا اوپر کا حصہ۔ ج۔ مَغَاوِصٌ -
 غَاطٌ يَغْوُطُ غَوَّطًا: الْحَفْرَةُ: گڑھا
 کھودنا۔ فَيُو: داخل ہونا۔ ریت میں
 پاؤں گھس جانا۔ فِي الْمَاءِ: پانی میں
 غوطہ لگانا۔
 غَوَّطَ: اَيْسُرَ: کنویں کو گہرا کھودنا۔
 الطَّعَامُ: کھانے کے بڑے بڑے
 لقمے نکلنا۔
 تَغَوَّطَ: پانخانہ کرنا۔ تَغَاوَطَ فِي الْمَاءِ:
 ایک دوسرے کو غوطہ دینا۔
 الْغَاطُ: الْعَوْدُ: لکڑی کا مڑنا۔
 الْغَائِطُ: فَا: پانخانہ۔ قَضَائُ حَاجَتِكَ
 جگہ۔ پست زمین۔
 الْغَوُّطُ وَالغَاطُ وَالغَوَّطَةُ: پست
 زمین۔ ج۔ غَوُّطٌ وَأَغْوَاطٌ وَ
 غِيَاطٌ وَغِيَاطَانٌ - الْغَاطُ:
 جماعت۔
 الْغَوَّطَةُ: شام میں ایک جگہ کا نام۔ جہاں
 پانی اور درختوں کی بڑی کثرت ہے۔
 اس کو غَوَّطَةُ دَمِشَقٌ بھی کہتے ہیں۔
 بِنُو غَوَّيْطَةَ: گہرا کنواں۔
 الْغَاغُ: پودینہ۔ واحد غَاغَةٌ
 الْغَاغَةُ: بہت سے مخلط لوگ۔
 الْغَوَّغَاءُ: وہ بڑی جس کے پر نکل آئے
 ہوں۔ یا اڑنے کے لیے تیار ہو۔ بہت

سے مختلف لوگ۔ کہنے لوگ، شری
 لوگ
 عَالَهُ يَغْوُلُهُ غَوْلًا وَاعْتَالَهُ: ہلاک
 کرنا۔ اچانک پکڑ لینا۔ شراب میں کسی
 کا مدہوش ہونا۔
 تَغَاوَلَ مَعَاوَلَةً: جلدی چلنا۔ تَغَاوَلَا
 ایک دوسرے سے سبقت کرنا۔
 تَغَوَّلَ: معاملہ کا اہتر ہونا۔ مختلف رنگ یا
 شکل اختیار کرنا۔ گونا گوں ہونا۔ دگرگوں
 ہونا۔ ریگستان میں بے راہ ہونا۔
 چھلاوہ کا کسی کو بے راہ کر دینا۔
 الْغَوَّلُ: فص۔ دروسر۔ مدہوشی۔ ریگستان
 کی دوری۔ مشقت۔ پست زمین۔
 بہت مٹی۔
 الْغَوْلُ: مصیبت، ہلاکت۔ ج۔ اَغْوَالٌ
 وَغِيْلَانٌ: چھلاوہ۔ غول بیا بانی۔ ج۔
 اَغْوَالٌ: سانپ۔ ہر وہ چیز جس سے
 عقل ناکل ہو۔ گونا گوں شکلیں اختیار
 کرنے والا جن اور جا دوگر۔ موت۔
 الْغَيْلَةُ: پوشیدہ قتل۔
 الْغَائِلَةُ: مصیبت۔ ہلاکت، فساد، شر
 ج۔ غَوَائِلٌ -
 الْاَغْوَالُ: مِنَ الْعَيْشِ: آسودہ زندگی
 الْمِعْوَالُ: ہلاک کرنے کا آلہ۔ لمبی پیکان۔
 لاطلی جس کے اندر پتلی سی تلوار ہوتی
 ہے۔ گہتی۔
 الْمَغَالَةُ: ہلاکت، نقصان۔
 غَوِي يَغْوِي غِيًا وَغَوِي يَغْوِي -
 غَوَائِيَةً: گمراہ ہونا۔ ناکام و محروم
 ہونا۔ ہلاک ہونا۔ وَغَوِي وَغَوِي
 الرَّجُلُ: گمراہ کرنا۔
 غَوِي يَغْوِي وَغَوِي يَغْوِي غَوِي -
 الْفَوَّيْلُ: اونٹ کے بچہ کو بد معنی
 ہونا اور لاغری سے قریب بہ ہلاکت ہونا
 صفت (غَوِي)

تغادوی۔ بتکلف گمراہ و جاہل بننا۔
 استغوی۔ الرجل۔ گمراہ کرنا۔ کہتے ہیں
 بیت غوی و غویا و مغویا و
 مغویا۔ میں نے رات اکیلے گذاری۔
 الغیة والھیة۔ گمراہی۔ لائے والد
 غیة۔ وہ حرام زادہ ہے۔ ولد
 الزنا ہے۔
 العاوی۔ فا۔ ج۔ غاودون و عواة
 رأس غاؤ۔ چھوٹا سرد۔ والقوی
 والقوی والغیان، گمراہ، خواہش
 پرست۔
 الغاویة۔ مؤنث غاوی۔ پانی سے بھری
 مشک۔
 الغویة۔ مصیبت، ہلاکت۔ دزدوں کے
 شکار کے لیے گڑھا۔ ج۔ اغاوی۔
 المغواة۔ ج۔ مغاؤ والمغواة۔ ج۔
 مغویات۔ گمراہی کی جگہ۔
 غاب یغیب غیبا و غیبا و
 غیوبا و غیبا۔ عنہ۔ دور ہونا
 جدا ہونا۔ غابت الشمس غیابا
 و غیوبة۔ سورج کا ڈوبنا۔ چھپنا۔
 الشیء عن فلان۔ پوشیدہ ہونا۔
 غیر حاضر ہونا۔ عن بلادہ۔ سفر کرنا۔
 غاب یغیب غیابا و غیابا و غیبة
 و غیابة و غیوبة۔ الشیء فی
 الشیء۔ چھپنا۔
 غابہ غیبة و اغتایہ اغتایا۔
 عیب گیری کرنا۔ غیبت کرنا۔
 غیبة۔ دور کرنا۔ غیبة غیابہ۔ اس کو
 اس کی قبر سے چھپالیا، یعنی وہ اپنی قبر
 میں دفن ہوا۔
 اغابت۔ المرأة۔ عورت کے خاوند کا
 فائب و غیر حاضر ہونا۔ صفت یغیب
 و یغیب و یغیب
 غایبہ مغایبة۔ غائبانہ کہنا۔ لغیب

عنه۔ غائب ہونا۔
 لغایب۔ القوم۔ غائب ہونا۔
 الغیب۔ مم۔ شک، غائب و پوشیدہ
 چیز۔ راز۔ بھید۔ پست زمین۔ ج۔
 غیاب و غیوب۔
 الغیبة و الغیابة۔ پست زمین۔ قبر۔
 الغیابة من کل شیء۔ پردہ۔
 من الوادی او الجب۔ وادی یا
 کنویں کی گہرائی۔
 الغیبة۔ بدگوئی، غیبت۔
 الغائب۔ فا۔ ج۔ غیب و غیب و
 غیاب و غایبون۔ غیر حاضر۔
 الغایبة۔ بانس کی بھاڑی۔ پست زمین
 لوگوں کی جماعت۔ لمبائیزہ۔ ج۔
 غاب و غابات۔ غایبة البحر
 سمندری کیرٹوں کا متحجر درخت۔
 الغیاب۔ مم۔ قبر۔ غیاب الشجر و
 غیابہ۔ درخت کی جڑیں۔
 الغیوب و الغیاب۔ فائب کا اسم مبالغہ
 الغیوبیة۔ غروب۔
 غات یغیث غیثا۔ اللہ البلاد۔
 ملک پر بارش برسانا۔ غات الغیث
 الارض۔ بارش کا زمین پر برسنا۔
 صفت (مغیث و مغیثہ)
 غات النور۔ نور کا روشن ہونا۔
 لغیث۔ البحر۔ اونٹ کا موٹا ہونا۔
 الغیث۔ بارش، بارش سے آگی ہوئی
 گھاس۔ کبھی بادل کو بھی غیث ہوتے
 ہیں۔ ج۔ غیوث و اعیان و۔
 غیث مغیث۔ عام بارش۔ صحاب
 غیث۔ بہت بارش برسانے والا
 بادل۔
 غید یغید غیدا۔ الغلام۔ بچہ
 ہوئی گردن والا ہونا۔ نرم کندھوں
 والا ہونا۔ صفت مذکر (اغید)

صفت مؤنث غیدا۔ ج۔ غید۔
 تغاید۔ فی مشیتہ۔ نزاکت کی وجہ
 سے چلنے میں جھکنا۔
 العید۔ مم۔ نزاکت۔ الاغید۔ نرم و
 نازک پودہ۔ مکان اغید۔ بہت
 نباتات والی زمین۔
 العادة۔ نازک و نرم اندام عورت۔ تروتار
 درخت۔ ج۔ عادات۔ غیدان
 الشباب۔ آغاز جوانی۔ غید غید
 جلدی کرو۔ جلدی کرو۔
 غیداق۔ المطر۔ بارش زیادہ برسنے۔
 الغدق۔ مم۔ بہت پانی۔
 القیداق۔ برسر۔ فیاض۔ والقیداق
 و القیداقین، نرم و نازک، ملائم۔
 غار یغار غیرة و غیرا و غارا۔
 الرجل علی امراتہ من فلان
 وہی علیہ من فلانہ۔ غیرت کرنا۔
 صفت (غیران و غیر و غیر)
 مؤنث غیور و غیری۔ ج۔
 غیاری و غیاری و غیر و
 مغامیر۔ اسم (الغیرة)
 غارہ یغیرہ غیارا۔ نفع دینا۔ غارہ
 یخیر۔ خیر کا فائدہ پہنچانا۔
 غارہ یغیرہ غیارا و غیرہ۔ دیت
 دینا۔ خون بہا دینا۔ غیر الشیء۔ بدلہ
 تبدیل کرنا۔
 غایرة غیارا و مغایرة۔ تبادلہ کرنا۔
 مخالفت کرنا۔ بیخ میں مقابلہ کرنا۔
 غیر ہونا۔
 اغارہ اغارہ۔ غیرت پر اہازنا۔
 الرجل امراتہ۔ مرد کا دوسری
 شادی کے پہلی بیوی کو غیرت دلانا۔
 تغیر۔ بدل جانا۔ علی امراتہ۔ عورت
 پر غیرت کرنا۔
 تغایر۔ ایک دوسرے پر غیرت کرنا۔

اشیاء کا مختلف ہونا۔
 اِعْتَابَ غُيَّيًّا - الرجل - رسد مینا کرنا۔
 الغَيْرُ - مم - تبیلی اختلاف - بِنَاتُ غَيْرٍ - جھوٹ و باطل - غَيْرٌ - سوائے بمعنی لا - فَعَلَهُ غَيْرٌ مَرَّةً - اس نے اس کو کئی بار کیا عِنْدِي رَجُلٌ لَا غَيْرَ - میرے پاس صرف ایک آدمی ہے، اور نہیں۔
 قَبِضْتُ عَشْرَةَ لَا غَيْرَهَا أَوْ لَا غَيْرٍ - میں نے دس سے زیادہ نہیں لیے۔
 جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرَ فُلَانٍ فُلَانٍ كَيْ سَوَّابِ قَوْمِ آلِ - غَيْرَانُ - تاہم - غَيْرُ الدَّاهِرِ - زمانہ کے حادثات۔
 الغَيْرَةُ - خون بہا۔ دیت، نخت، غیرت۔ گندم کا ذخیرہ۔ جہ۔ غَيْرٌ - الغَيْرِيَّةُ - غیرت کے خلاف۔ دو چیزوں میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کے خلاف ہونا۔
 المَغِيرُ والمَغِيرُورُ - بارش سے سیراب شدہ جگہ۔
 غَاضٌ يَغِيضُ فَيُضَادُ مَغَاضًا - وَ كَغِيضٍ وَ لِنَاقِصٍ - الماءُ - پانی کا کم ہونا۔ نیچے اتر جانا۔ التَّمَنُّ - قیمت کا گھٹنا۔
 غَاضٌ وَ غِيضٌ وَ غَاضٌ - الماءُ أَوْ التَّمَنُّ - پانی یا قیمت کو کم کرنا۔ دَمَعَةٌ - آنسو روکنا۔
 الغِيضُ - مم - تھوڑی مقدار۔ کسی غیر کمل اسقاط شدہ بچہ۔
 الغِيضَةُ - جنگل۔ بن۔ بہت درختوں والی دلدلی جگہ۔ جہ۔ غِيَاضٌ وَ اَغْيَاضٌ وَ غِيَضَاتٌ المَغِيضُ - پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ جہ۔

مَغَايِضُ - غَاطٌ يَغِيضُ غَيْطًا - فِيهِ - داخل ہونا۔ المَغَايِطَةُ - خصومت الغَيْطُ - باغ۔ غَاظُهُ يَغِيظُهُ غَيْطًا وَ غَيْطَةٌ وَ اَغَاظُهُ وَ غَايِطَةٌ - غصہ پر آمادہ کرنا۔ تَغِيِظُ - الحَرُّ - گرمی کا تیز ہونا۔ وَ اِعْتَاظُ - غصہ ہونا۔ ناراض ہونا۔ الغَيْظُ - مم - غصہ یا سخت غضب۔ الغِيَاظُ - فم، مشقت۔ المَغِيِظُ - ناراض، رنجیدہ۔ غَاظَتْ تَغِيِظُ غَيْفَانًا وَ اَغْيَفَتْ وَ تَغِيِظُ - الشَّجَرَةُ - درخت کا دائیں بائیں ٹپکی ہوئی شاخوں والا ہونا صفت (رغيفَاءُ) غَيْفٌ - بھاگنا۔ بزدل ہونا۔ وَ تَغِيِظُ - هِيَ الامْرُءُ - کام سے ہٹنا۔ اَغَافٌ - الغُصْنُ - شاخ کو بھگانا۔ الغَافُ - ایک بہت میٹھے پھل کا درخت۔ واحد غَاقَةٌ الغَيْفُ - پرندوں کا جھڈ یا خول۔ الاغْيَفُ - نازک بدن۔ عَيْشٌ اَغْيَفٌ - آسودہ زندگی۔ شَجَرَةٌ غَيْفَاءٌ - جھک ہوئی شاخوں والا درخت۔ الغَيَاوُ - بہت لمبی وارھی والا۔ الغَيْفَانُ وَ الغَيْفَانُ - متکبرانہ چال۔ غَيْقٌ - المال - بگاڑنا۔ فاسد کرنا۔ فِي رَايِهِ - غیر مستقل مزاج ہونا۔ الطَّائِرُ - پرندہ کا اپنی جگہ پر پھرتا پھرتا۔ بَصْرَتَا - نگاہ کو پھیرنا۔ تَغْيِيقٌ - العَيْنُ - آنکھ کا تاریک ہونا۔ غَاقٌ - مبنی علی الکسر - کوئے کی آواز کی حکایت کائیں کائیں۔ الغَاقُ - کوا۔ (و الغَاقَةُ، مُرْغَابِي۔

غَالَتْ تَغِيْلُ غَيْلًا وَ اَغَالَتْ اِغَالَةً - المَرْأَةُ وَ لَدَهَا - بچہ کو حاملہ ہونے کی حالت میں دودھ پلانا۔ صفت (رغائِلَةٌ وَ مُغِيْلٌ وَ مُغِيْلٌ) غَالَةٌ يَغِيْلُهُ غِيَالًا وَ غِيَالَةٌ وَ غَوْرًا - چرانا۔ اَغْيَلْتُ اِغْيَالًا - المَرْأَةُ وَ لَدَهَا حاملہ ہونے کی حالت میں بچہ کو دودھ پلانا۔ الشَّجَرَةُ - درخت کا بڑا اور گنجان ہونا۔ الغَنَمُ - بکری کا سال میں دو دفعہ بچہ دینا۔ تَغْيَلٌ - القَوْمُ - قوم کے مویشیوں کا زیادہ ہونا۔ تَغْيَلْتُ وَ اسْتَغْيَلْتُ - الشَّجَرَةُ - درخت کا گنجان شاخوں والا ہونا۔ صفت (مغْيَالٌ) اِعْتَالَ اِغْتِيَالًا - الغلامُ - لڑکے کا موٹا تازہ ہونا۔ الغَيْلُ - مم - حاملہ عورت کا دودھ بہت موٹا لڑکا۔ مَوْتٌ غَيْلَةٌ - زمین پر بننے والا ہائی۔ وہ وادی جس میں چٹنے جاری ہوں۔ دور کی چیز کو نزدیک نظر آنے۔ جہ۔ اَغْيَالٌ - الغَيْلُ - بن۔ جنگل۔ بہت شاخوں والا گنجان درخت۔ پانی والی وادی۔ شیر کی جگہ۔ جہ۔ اَغْيَالٌ وَ غَيْوَالٌ - الغَيْلَةُ - دھوکا۔ غفلت سے مار ڈالنا۔ عمل کے وقت دودھ پلانا۔ الغَائِلَةُ - شہ پر شیدہ کینہ۔ حوض کا خشک ہونا۔ جہ۔ غَوَائِلٌ - الغَوَائِلُ - بھیبیبین المَغَالَةُ - شر۔ برائی۔ الاغْيَالُ - پرگوشت۔ موٹا۔ الغِيَالُ - شیر۔ المَغْيَالُ - گھنسا سیرا درخت۔ غَامَتْ تَغِيْمُ غَيْمًا وَ فَيَمَتْ وَ اَغَامَتْ

<p>گھومنا۔ منڈلانا۔ تَغَايُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ۔ انھوں نے ایک دوسرے کو اس کے خلاف مدد دی اور قتل کر دیا۔</p> <p>الغَايَةُ۔ انتہا۔ مدت۔ جھنڈا۔ مقصود و فائدہ۔ نتیجہ۔ ج۔ غَايَاتٌ وَغَايٌ۔ نسبت کے لیے غارِیٌ۔ غَايَتُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا۔ تمہاری انتہائی طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔</p> <p>الغَايَةُ۔ پھر پھرانے والا پرندہ۔ چڑیوں کے شکار کرنے۔ أَنْتَ بَعِيدُ الغَايَةِ۔ تمہاری رائے درست ہے۔</p> <p>الغَايَةُ۔ سورج کی شعاع کی روشنی۔ کنویں کی گہرائی۔ ہر چیز جو سایہ کے جیسے بادل و غبار۔ ج۔ غَايَاتٌ۔</p> <p>المُعْتَبَا۔ ایسا مقصد جس کی کوئی غایت ہو۔ کہتے ہیں۔ الغَايَةُ لَا تَدْخُلُ فِي الْمُعْتَبَا۔ حدِ محدود میں داخل نہیں۔</p>	<p>الغَيْنُ۔ مم۔ حروف تہجی میں سے ایک حرف بادل۔</p> <p>الغَيْنَةُ۔ گھنے درخت۔ الغَيْنَةُ۔ پیپ مروارے سے بننے والا مادہ۔ درختوں کا جھنڈ۔</p> <p>الأغْنُ۔ مِنَ الشَّجَرِ وَالنبَاتِ۔ سرسبز لباد درخت۔ مَوْنٌ قَيْنَاؤُ۔ ج۔ غَيْنٌ۔ الغَيْصَةُ۔ تاریکی۔</p> <p>غَيًّا تَغْيِيَةً وَغَيًّا غَبَاءً۔ الغَايَةُ ای البرایة۔ جھنڈا گاڑنا۔ غَيًّا لِلْقَوْمِ۔ جھنڈا گاڑنا۔ الطَيْرُ عَلَى الشَّيْءِ۔ پرندہ کا پھر پھرانا۔ أَغْيَا السَّحَابُ۔ بادل کا ایک جگہ پر پھر جانا۔ أَغْيَا الرَّجُلُ۔ شرافت اور معاملہ میں انتہا تک پہنچنا۔ الفرسُ فِي سَبَاقِهِ۔ گھوڑے کا گھوڑوڑ میں حد مقررہ پر پہنچنا۔</p> <p>غَايَا مُغَايَاةً۔ القومُ فَوْقَ رَأْسِهِ بِالسُّيُوفِ۔ سر پر تلواروں کا بلند کرنا۔</p> <p>تَغَايَتْ۔ الطَيْرُ عَلَى الشَّيْءِ۔ پرندہ کا</p>	<p>إِغَامَةٌ وَاعْتِمَتٌ إِغْيَامًا وَ تَغَيَّمَتْ۔ السماءُ۔ آسمان کا بادل والا ہونا۔ غَامٌ البعيرُ۔ اونٹ کا پیسا ہونا۔ صفت غَيَّامٌ۔ مَوْنٌ غَيْبِيٌّ۔ أَغْيِمُ الْقَوْمَ۔ پیسا ہونا۔ أَغْيَمُوا فِي الْمَكَانِ۔ اقامت کرنا۔ غَيِّمٌ۔ البعيرُ۔ اونٹ کا پیسا ہونا۔ صفت مَغْيُومٌ۔</p> <p>الغَيْمُ۔ مم۔ بادل۔ ج۔ غَيُومٌ۔ واحد (غَيْمَةٌ) پیس۔ اونٹ کی ایک پیس لگانے والی بیماری۔ يَوْمٌ غَيُومٌ۔ بدل کا دن۔</p> <p>عَانَ يَغِينُ غَيْنًا۔ پیسا ہونا۔ غَانَتْ نَفْسُهُ۔ جی متلانا۔</p> <p>عَانَتْ وَغَيَّتِ السَّمَاءُ۔ آسمان پر بادل چھا جانا۔</p> <p>غَيْنٌ وَاعْتِنُ۔ هَلِي قَلْبِهِ۔ خواہشات کا غالب ہونا۔</p> <p>أَغَانَ۔ السَّحَابُ السَّمَاءَ۔ بادل کا آسمان پر چھا جانا۔</p> <p>غَيْنٌ۔ غَيْبًا۔ حرف غین کھنا۔</p>
--	---	---

ف

<p>۷۔ ف زائدہ ہوتی ہے جیسے۔ زَيْدٌ فَلَا تَضْرِبُهُ وَخَرَجْتُ فَإِذَا الأسدُ فِي الدَّارِ۔ وَلَمَّا كُنْتُ قَهْمَنَا۔</p> <p>أَقْتَاتٌ۔ بَدَايِهِ۔ رُلُّهُ فِي مَفْرَدٍ هُونًا۔ عَلَى البَاطِلِ۔ امر باطل کو گھڑ لینا۔</p> <p>أَقْتَيْتُ۔ اچانک مر گیا۔</p> <p>فَادَةٌ (ف)، فَاوَةٌ۔ دل پر مارنا۔ دل پر لگانا۔ الخَوْفُ فَلَانًا۔ بزدل بنانا۔</p> <p>اللَّحْمُ فِي النَّارِ گوشت بھوننا۔</p>	<p>صَايَايَ۔ نیز شبہ جواب شرط میں بھی آتی ہے جیسے الَّذِي يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ۔</p> <p>۵۔ حرف فاو نامبر ہے جو کہ مضارع پر بتقدیر آن داخل ہوا کرتی ہے۔ جیسے لُدُنِي فَأَكْرِمَكَ۔</p> <p>۶۔ ف استیناف کے لیے بھی آتی ہے جیسے يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ اس میں يَكُونُ کو رفع ہے اس لیے کہ اصل عبارت فَهُوَ يَكُونُ ہے۔</p>	<p>الفاء۔ یہ حرف عطف ہے جو کہ کئی معنوں میں مستعمل ہے۔</p> <p>۱۔ ترتیب۔ جیسے قَائِمٌ زَيْدٌ فَحَمْرٌ</p> <p>۲۔ تعقيب۔ جیسے جَلَسَ زَيْدٌ فَكَلَهُ۔</p> <p>۳۔ سببیت۔ جیسے ضَرِبَ زَيْدٌ فَمَاتَ۔</p> <p>۴۔ یہ فاء حرف رابطہ ہے اس لیے وہ جواب شرط میں آتی ہے۔ جیسے۔ هِيَ كُنْتُ تَحْبُو نَبِيًّا فَاحْفَظُوا وَ</p>
---	--	--

الخُبْرُ رُوئِي كَوْجُوَيْلٍ فِي ذَالِنَا -
 فَيْدًا فَاوَادًا وَفَيْدًا رَسًا، فَاوَادًا - دَلَّ كِي
 بِيَارِي وَالْاِبُونَا -
 اَفْتَادًا - الرَّجُلُ - مَبْرُونَةَ كِي لِيَةِ اَكْ
 جَلَانَا - اللَّحْمُ فِي النَّارِ - كَوْشَتِ
 مَبْرُونَا -
 تَفَادَاتٍ - النَّارُ - اَكْ كَا جَلَانَا -
 الْفَوَادُ - دَلَّ - بِسَا اَوْقَاتِ عَقْلٍ بِرَبِي اِس
 كَا اِطْلَاقٍ مَبْرُونَةَ - ج - اَفَيْدَةً -
 الْفَيْدُ - اَكْ فِي مَبْرُونَا - اِيَسَا بَزْدَلِ جِس
 فِي دَلَاوَرِي كَا نَامُ نَبْرُو -
 الرَّفُودُ - مَبْرُولِ فِي بِي بُوئِي رُوئِي - مَبْرُولِ
 فِي رُوئِي رَكْنِي كِي جَلِي - ج - اَفَايِيدُ -
 الْمُفْتَادُ - اَكْ جَلْنِي كِي جَلِي -
 الْيَفَادُ وَالْيَفَادُ وَالْيَفَادَةُ - اَكْ
 كَرِي لِي كَا لُوَا - كَرِي - سِيخ - ج -
 مَفَايِيدُ وَمَفَايِيدُ -
 الْمَفُودُ - دَلَّ كِي بِيَارِي وَالَا - بَزْدَلِ -
 مَبْرُولِ كِي بِي بُوئِي رُوئِي - مَبْرُونَا
 كَوْشَتِ -
 فَادَرَفَ (فَاوَادًا) - التُّرَابُ - مِي كَهُونَا
 - الشَّيْءُ - دَفْنُ كَرْنَا - مَبْرُونَا -
 فَيَرَسَ (فَاوَادًا) - الْمَكَانُ - بَسْتِ مَبْرُونَا
 وَالَا مَكَانُ مَبْرُونَا -
 الْفَارُ - مَبْرُونَا - ج - فَيَرَاتُ وَفَيَرَاتُ - اِس
 كَا وَاحِدًا قَارَةً - مَذَكُ اَوْرُوئَتِ دُونِ
 كِي لِيَةِ مَسْتَعْلٍ هِي -
 الْقَارَةُ - مَشَكُ كَا نَا فَر -
 مَكَانٌ فَيَرُو وَارِضٌ فَيَرَةُ وَمَفَارَةُ -
 بَسْتِ مَبْرُونَا وَالَا مَكَانُ - بَسْتِ مَبْرُونَا
 وَالِي زَمِينِ -
 فَاسُ رَفَ، فَاسًا - الْحَشْبَةُ - كَرِي كِي
 كَلْبَارِي سِي مَبْرُونَا - الرَّجُلُ - كَلْبَارِي
 سِي مَبْرُونَا - سِرْ كِي مَبْرُولِ مَبْرُونَا -
 الْفَاسُ - كَلْبَارِي - كَبِي بَغِيرِ مَبْرُونَا كِي بِي

بولا جاتا ہے (فاس) اور یہ مونس
 سما ہے - ج - اَفُوسٌ وَفُودُوسٌ -
 فَاسُ الرَّائِسِ - سِرْ كِي مَبْرُولِ مَبْرُونَا
 اَبْرِي بُوئِي بُوئِي - فَاسُ الْفَجْرِ - مَبْرُونَا
 كَا وَه كَنَارِهِ جِس فِي دَانْتِ هِي - فَاسُ
 الْبِحَامِ - لَكَامُ كَا وَه لُوَا مَبْرُولِ مَبْرُونَا
 مَبْرُونَا مَبْرُونَا -
 فَافَا فَافَاةً - الرَّجُلُ - حَرْفُ فَا، كَا
 كَثْرَتِ سِي مَبْرُونَا - صِفَتِ رَفَا فَا وَ
 فَافَا
 فَاقَ دَن، فَوَاقًا - مَبْرُولِ مَبْرُونَا -
 الْفَوَاقُ - وَه مَبْرُونَا مَبْرُونَا سِي مَبْرُونَا
 لِيَةِ مَبْرُونَا -
 فَالَهُ تَفْيِيلًا - بِالشَّيْءِ - فَالِ لِيَنَا -
 تَفَالٌ وَتَفَاعَلٌ وَفَتَالٌ - مَبْرُونَا - اَبْرِي
 فَالِ لِيَنَا -
 الْفَالُ - نِيكُ شَكُونِ، جِي سِي مَبْرُولِ مَبْرُونَا
 "يَا سَالِحُ" كَتَبْتِ مَبْرُونَا سِي مَبْرُونَا
 يِي مَبْرُولِ مَبْرُونَا مَبْرُونَا مَبْرُونَا
 "لَا فَالَ عَلَيكَ" - لِيَةِ مَبْرُونَا اَوْرُوئِي
 مَبْرُونَا - ج - فَعُولٌ وَاقُولٌ -
 فَاهَرَفَ، فَاَمَّا - مَبْرُونَا - پَانِي سِي
 سِيَرَابِ مَبْرُونَا -
 فَاَمٌ دَقِيْمَةٌ فَاَمًا وَتَفَاَمٌ - الْبَعِيْرُ
 كَلْبَارِي سِي مَبْرُونَا -
 فَاَمٌ وَاقَاَمٌ - الْقَتَبُ - پَالَانُ كُووِي سِي
 كَرْنَا - اَفَاَمٌ الدَّلُو - مَبْرُونَا -
 الْفَتَامُ - لُوَا كِي مَبْرُونَا - اِس لَفْظُ كَا
 وَاحِدًا مَبْرُونَا آتَا هِي - ج - فَوَمٌ مَبْرُونَا
 جَاتَا هِي - قَطْعُوَا (فَوَمًا) لِيَةِ
 مَبْرُولِ مَبْرُولِ مَبْرُونَا -
 فَايَ يَفَايَ فَاوَا وَفَايَا - رَأْسُ
 فِلَانِ - كِي سِرْ كُووِي سِي مَبْرُونَا
 دِيَنَا -
 اَفَايَ - تَنَكُ وَادِي فِي مَبْرُونَا -

تَفَايَ - الْقَدَمُ - پِيَالِهِ كَا مَبْرُونَا -
 اَلْفَايَ - كَلْنَا - الشَّيْءُ - مَبْرُونَا -
 الْفَاوُ - دُو پَهَارُوں كِي دَرْمِيَانِ شَكَا فِ
 مَبْرُونَا - وَادِي فِي تَنَكُ كَا مَبْرُونَا - مَبْرُونَا
 جَلِي، رِيَتِ كَا تُووَه - رَاتِ - اَفْتَابِ
 مَبْرُونَا مَبْرُونَا كِي جَلِي - پَهَارُوں كِي دَرْمِيَانِ
 عَمْدَه زَمِينِ -
 الْفَيْتَةُ - جَمَاعَتِ، كَرُوَه - ج - فَيَاتُ وَ
 فَيُونُ -
 فَتَّ رَن، فَتًّا وَفَتَّتَ - الشَّيْءُ - اَنكَبِيں
 سِي مَبْرُولِ مَبْرُولِ مَبْرُونَا مَبْرُونَا
 هِي "فَتَّ فِي سَاعِيْدَةٍ" لِيَةِ اِس
 نِي اِس كُو كَزُوْرُ كَرُوِيَا - فَتَّ فِي عَضِدًا
 لِيَةِ اِس كِي قُوْتِ تُووَرِي - اَوْرَا سِي
 كِي اَعْوَانِ وَالنَّصَارِ كُو مَبْرُونَا مَبْرُونَا
 اِنْفَتَّ وَتَفَتَّتَ - مَبْرُونَا -
 الْفَتُّ - مَبْرُونَا - پَتْرِيں مَبْرُونَا - كَا جَاتَا هِي
 "هُمُ اَهْلُ بَيْتِ فَتِّ وَفَتِّ وَ
 فَتِّ - وَه لُوَا مَبْرُونَا -
 الْفَيْتَةُ وَالْفَيْتَةُ - خَشَكُ مَبْرُونَا
 تُووَرِي مَبْرُونَا اَوْرُوئِي كِي نِيچِي رَكْ كَر
 اَكْ رُوْشِ كِي جَلْنِي - كَا جَاتَا هِي "هَذَا
 لَا يَسَاوِي فَتَّةً" - يِي مَبْرُونَا كِي مَبْرُونَا
 نِيں هِي - مَبْرُونَا كَا مَبْرُونَا -
 الْفَتَاتُ - مَبْرُونَا - اَلْمَفْتُوتُ - مَبْرُونَا -
 الْفَيْتَةُ - رِيَزَه بِيَزَه مَبْرُونَا كَا اِيَكُ مَبْرُونَا
 ج - فَتَاتُ
 الْفَيْتَةُ وَالْفَيْتَةُ وَالْمَفْتُوتُ - مَبْرُونَا
 كِيَا مَبْرُونَا -
 فَتَارَفَ، فَتًّا - النَّارُ - اَكْ مَبْرُونَا -
 عَنِ الْاَمْرِ كِي كَامِ سِي رُوَكِ دِيَنَا -
 فَتِي رَسَ، فَتًّا - عَنهُ - رَكْنَا - مَبْرُونَا -
 كَا جَاتَا هِي - "مَا فَتَّا وَمَا فَتِي -
 يَفْعَلُ ذَلِكَ" - مَبْرُونَا مَبْرُونَا -
 اَوْرِي اَفْعَالِ نَا قَصْدِ سِي سِي مَبْرُونَا

سوائے ماضی و مضارع کے دوسرے
افعال کا اس سے استعمال نہیں ہوتا۔
فَتَحَ (ف) فَتْحًا - البَابُ - دروازہ
کھولنا۔ الْفَتَاةُ - پانی لینے کے لیے
نالی نکالنا۔ الْبِلَادُ - ملک پر غلبہ
حاصل ہونا۔ مَالِكٌ هُوَ - فتح کرنا۔
الْحَاكِمُ بَيْنَ النَّاسِ - حاکم کا
فیصلہ کرنا۔
فَتَحَ - اللهُ عَلَيْهِ سَكْرًا دِينًا - معرفت
بخشنا۔ سِرٌّ عَلَى فُلَانٍ - کسی پر
بھید ظاہر کرنا۔
فَتَحَ فَتْحًا وَفَتَاةً - اللهُ عَلَى فُلَانٍ
مدد کرنا۔
فَتَحَ - بِمَعْنَى فَتَحَ - تشدید کے ساتھ مبالغہ
کے لیے آتا ہے۔
تَفَتَحَ - کھلنا مطاوع فَتَحَ ہے۔ - رَفِي
الْكَلَامِ وَبِأَمَّا عَلَى فُلَانٍ - اظہار
کرنا اور فخر کرنا۔ كَلَّمَكَ الْأَكْمَةَ
عَنِ التَّوْبِ - کلی کا کھلنا۔
انْفَتَحَ - فتح کا مطاوع آتا ہے۔ انْفَتَحَ
عَنِ الشَّيْءِ - کسی شے کو کھول دینا۔
فَاتِحَةٌ - فیصلہ کے لیے لے جانا۔
بالامير - پہلے مخاطب کرنا۔ فُلَانٌ
بھاؤ کیا اور کچھ نہ دیا۔ الْبَيْعُ - بیع
میں آسانی کرنا۔
تَفَاتَحَ - الْقَوْمُ كَلَامًا بَيْنَهُمْ - آپس
میں چپکے چپکے باتیں کرنا۔
اِفْتَتَحَ - الْبِلَادَ - ملک فتح کرنا۔
اِسْتَفْتَحَ - الْاِبْوَابَ - دروازہ کھلوانا
کھولنا۔ الْاَمْرَ بَكْرًا - مشروع کرنا
- الرَّجُلُ - مدد طلب کرنا۔
الْفَاتِحُ - فَاءٌ - فَتْحَةٌ وَفَاتِحُونَ -
الْفَتْحُ - ممد - وہ روزی جو حق تعالیٰ
غایت فرمائے۔ دریاؤں کا جاری پانی
موسم بہار کی پہلی بارش۔ جہر فَتُوْحٌ۔

يَوْمَ الْفَتْحِ - قیامت کا دن۔
الْفَتْحُ - ایک قسم کی حرکت جس سے
مذکول جاتا ہے۔
الْفُتُوْحَاتُ - لڑائی سے جو مالک فتح
ہوں۔
الْفَتْحَةُ - ایک مرتبہ کھولنا۔ حرکت زبر کو
بھی کہتے ہیں۔
الْفَتْاحَةُ - ممد - مدد۔
الْفَتْاحَةُ وَالْفَتْاحَةُ - دودشمنوں کے
درمیان فیصلہ۔ کہا جاتا ہے: بَيْنَهُمَا
فَتْاحَاتٌ - یعنی ان دونوں کے درمیان
خصوصیتیں ہیں۔
الْفَتْحُ - کھلا ہوا وسیع دروازہ کھلی ہوئی
وسیع شیشی۔
الْفُتْحَةُ - کشادگی، اپنے علم و ادب یا
مال پر فخر کرنا۔ جہر فَتْحٌ۔
الْفَاتِحَةُ - مِنَ الشَّيْءِ - ابتداء۔ اور
اسی سے ہے فَاتِحَةُ الْكِتَابِ - جہر
فَوَاتِحٌ۔
الْفَتْوْحُ - موسم بہار کی پہلی بارش۔ جہر۔
فَتْوْحٌ۔
الْفَتْاحُ وَالْفَتْاحُ وَالْفُتُوْحَةُ - حکومت
الْفَتْاحُ - صیغہ مبالغہ۔ ماکم۔ قاضی۔
الْاِسْتِفْتَاْحُ - ممد۔ اور حروف اِسْتِفْتَاْحِ
نحوں کے نزدیک "ال" ہے۔
الْمَفْتَحُ - خزانہ۔ دینہ۔ جہر۔ مَفَاتِيْحٌ۔
الْمِفْتَحُ - پانی کی نالی۔ کبھی۔ جہر۔ مَفَاتِيْحٌ۔
الْمِفْتَاْحُ - کبھی۔ جہر۔ مَفَاتِيْحٌ۔
فَتَحَ (ف) فَتْحًا وَفَتْحًا - ممد اور کمزور
جوڑوں والا ہونا۔ صفت (اِفْتَتَحَ)
فَتَحَ (ف) فَتْحًا وَفَتْحًا - اَصَابِعُهُ -
انگلیوں کو مرولانا۔ نرم کرنا۔
اَفْتَحَ - الرَّجُلُ - سانس پھولنا۔ ٹھکانا۔
كَفْتَحَ - چھلا پننا۔
الْفَتْحَةُ وَالْفَتْحَةُ - جہر۔ بغير كينہ ك

انگوٹھی۔ کینہ والی انگوٹھی کو فَتْحًا
کہتے ہیں۔ جہر۔ كَفْتَحَ وَفَتْحَاتٌ وَ
فُتُوْحٌ وَفَتْحًا - فَتُوْحُ الْاَسَدِ
شیر کے پنچے۔
الْاِفْتَحُ - نرم کمزور اور ڈھیلے جوڑوں والا۔
موند فَتْحًا - جہر۔ فَتْحٌ - اَسَدٌ
اَفْتَحَ - پھوڑے ہاتھ پاؤں والا شیر
رَجُلٌ اَفْتَحَ الطَّرْفَ - کمزور نگاہ
والا مرد۔
الْفَتْحُ وَالْفَتْحَةُ - گٹے سے بازو تک
کا اندرونی حصہ۔
فَتَوْرَانٌ (ض) فَتُوْرًا وَفَتْاْرًا وَفَتْاْرًا
تیزی کے بعد ساکن ہونا۔ سختی کے بعد
نرم پڑنا۔ الْمَاءُ - حرارت کم ہونا۔
عَنِ الْعَقْلِ - کوتاہی کرنا۔
فَتَوْرًا وَفَتْرًا - جِسْمُهُ - نرم اور
کمزور جوڑوں والا ہونا۔
فَتَوْرًا وَفَتْرًا - الْحَرُّ - کم ہونا
فَتْوْرًا فَتْرًا۔
فَتَوْرًا تیزی کے بعد ساکن ہونا اور سختی کے
بعد نرم پڑنا۔ السَّحَابُ - بادل کا
ٹھہرنا۔ آمادہ بارش ہونا۔ سُكُونٌ
وزمی پر آمادہ کرنا۔ الْمَاءُ - گرم پانی
کی حرارت کو کم کرنا۔
اَفْتَوْرًا - کمزور پلوں والا ہونا۔ الشَّرَابُ -
شراب کا مست کر دینا۔ الدَّاءُ اَوْ
السُّكْرُ - بیماری یا نشہ کا کسی کو کمزور و
ضعیف کر دینا۔
اِسْتَفْتَوْرًا - الْفَرْسُ - گھوڑے کو مشقت
سے آزاد کر دینا۔
الْفَتُوْرُ - کمزوری۔ جہر۔ فُتُوْرٌ۔
الْمِفْتُوْرُ - دن (ض) انگشت شہادت اور
انگوٹھے کے سروں کے درمیان کا حصہ۔
کھلی ہوئی حالت میں۔
الْفَتُوْرُ - کھجور کی چٹائی جس پر آٹا چھانا

جاتا ہے۔

الْفَتْرَةُ - سُستی، کمزوری، صلح۔ بخار کی دو
باریوں کے درمیان کا زمانہ۔ دو نبیوں
کے درمیان کا زمانہ۔ جہ۔ فُتَوَاتٌ۔

الْفِتْرَةُ - ایک قسم کی پھل جس کے پکڑنے سے
پکپی پیدا ہو جاتی ہے۔

الْفُتَارُ - مہم۔ ابتدائی غشی۔ مَا عَا فَتُورٌ -
نیم گرم پانی۔

فُتْرَصَةُ فُتْرَصَةٌ - کاٹلہ

فُتَشَ (رض)، فُتَشَا وَفُتَشَ - الشَّيْءُ -
ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ فُتَشَ وَفُتَشَ

عنه - سوال کرنا اور بحث کرنا۔

الْفُتَّاشُ - صیغہ مبالغہ۔ بہت جستجو کرنے والا
بہت تلاش کرنے والا۔

فُتَّعَ رَفٌّ، فُتَّعَا - الشَّيْءُ - روند کر ریزہ
ریزہ کرنا۔

فُتَّعَ - ریزہ ریزہ ہونا۔

فُتَّتَ إِلَيْهِ - فُتَّتَهُ - چپے چپے بات
کنا۔ کہا جاتا ہے "مَا هَذِهِ الْفُتَّتَةُ"
وَالدُّنْدَنَةُ -

الْفُتَاتُ - پوشیدہ باتیں۔

فُتَّقَ (رض)، فُتَّقَا وَفُتَّقَ - الشَّيْءُ -

پھاڑنا۔ الثوب - کپڑے کی سیون توڑنا

أُدْحِطْنَا - المَسْكُ - مشک کی خوشبو

تکالنا۔ العَجِينُ - گندھے ہوئے

آٹے میں خمیر ڈالنا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ -

قوم میں اختلاف پیدا کرنا۔ الكلامَ

واصح کرنا۔

فُتَّقَ (رض)، فُتَّقَا - المكانَ - سرسبز ہونا۔

أَفُتَّقَ - القَوْمُ - قوم کا خوشحال ہونا۔

كُفَّتَقَ - قَرْنُ الشَّمْسِ - آفتاب کا

• بادلوں میں سے ظاہر ہونا۔ السَّحَابُ

• بادل کا کھل جانا۔ الرجلُ - مختلف

مصائب و آفات میں مبتلا ہونا۔

كُفَّتَقَ وَانْفَتَّقَ - پھٹنا۔ وَانْفَتَّقَتِ

الْمَاثِيَّةُ - مریخی کا موٹا ہونا۔ كُفَّتَقَ

فَلَانٌ بِالْكَلامِ - زبان کا رواں ہونا۔

الْفُتُقُ - مہم۔ کشادہ جگہ۔ کہا جاتا ہے۔

"تَحْوَجَّ فَلَانٌ إِلَى فُتُقٍ" فلاں آدمی

ایسے مقام کی طرف گیا جہاں بارش

نہیں اور اس کے ارد گرد بارش ہے۔

جہ۔ فُتُوُقٌ - کہا جاتا ہے "عَامٌ

ذُو فُتُوُقٍ" کم بارش کا سال۔

سرسبزی، قحط سالی۔ زندگی میں خلل۔

ایک بیماری کا نام جو نیچے کی کھال میں

ہوتی ہے۔

الْفُتُقُ وَالْفُتُقُ - صبح۔

الْفِتَاقُ - بڑا بوریا۔ آفتاب۔ آفتاب کی

شعاع۔ درخت خرما کی سفید جڑ۔

مختلف دواؤں کا مرکب۔ دوائیوں

کے ایک خاص مرکب کا نام۔

الْفُتُوُقُ - آفات، جیسے مرض۔ بھوک۔

فقیری۔ تھوڑی بارش۔

الْفَيْتِيُّ - موٹائی سے پھٹ جانا۔ الصُّبْحُ

الْفَيْتِيُّ - چکنے والی صبح۔ رَجُلٌ

فَتِيقُ اللِّسَانِ - تیز زبان مرد۔

إِمْرَأَةٌ فَتُقٌ وَفُتَّقَةٌ - تیز زبان۔

جلد جواب دینے والی عورت۔

الْمَفُتُّوقُ - مفع۔ فتق کی بیماری والا۔

الْفَيْتِيُّ - دربان۔ بڑھی، لوہار۔ بادشاہ۔

مَفُتَّقٌ - الْقَيْبِيُّ - قیس کا گریبان۔

فُتَّقَ (رض)، فُتَّقَا وَفُتَّقَا وَفُتَّقَا وَ

فُتُّوُكَا - الرجلُ - دلیر ہونا۔ بہادر

ہونا۔ نڈر ہونا۔ بِفُلَانٍ - غفلت

میں پکڑنا یا قتل کرنا۔ فِي الْأَمْرِ - کسی

کام میں اصرار کرنا۔ مبالغہ کرنا۔

فُتَّقَ (رض)، فُتُّوُكَا - فِي مَنَاعَةٍ -

اپنے پیشہ میں ماہر ہونا۔ فِي الْخَيْبِ

خباثت میں مبالغہ کرنا۔ الْقَطُنَ -

روٹی دھننا۔

أَفُتَّقَ - الرجلُ - فتق کے ہم معنی ہے۔

فَاتَّقَكَ مَهَانِكَةً - کلمہ کھلا قتال کرنا۔

فَاتَّقَ الشَّيْءَ وَالْأَمْرَ - کسی کام کو

سختی سے کرنا۔ ۵ - ہتر مندی میں مقابلہ

کرنا۔ مانگی ہوئی قیمت دینا۔

تَفَتَّقَ - يَا مَرْءُ - خود رائی سے کام کرنا اور

کسی سے مشورہ نہ کرنا۔

الْقَاتِكُ - فَا - دلیر، بہادر۔ جہ۔ فَتَاتُكَ -

کہا جاتا ہے "هُوَ فَاتِكُ الْقَلْبِ"۔

وہ کام کر گزرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے۔

"مَا أَفُتَّكَ" - یعنی وہ بہت جھگڑا لو

ہے۔

قَتَلَ (رض)، قَتَلًا وَقَتْلًا - الْحَبْلَ -

رسی بننا۔ وَجْهَهُ عَنَّهُمْ - ان سے

اپنے چہرہ کو چھپالیا۔ ذُو أَبْتَهْ

فَلَانٌ - یعنی اس کو رائے سے بڑا دیا۔

- الْبُلْبُلُ - چھپانا۔ مثل ہے "مَا

زَالَ الْقَتِيلُ مِنْ فَلَانٍ فِي الذَّرْوَةِ

وَالْعَارِبِ" - یعنی وہ تھلاں کی فریب دی

کے لیے چکر لگاتا ہے۔

قَتَلَ (رض)، قَتَلًا - بعید پہلوؤں والا ہونا۔

صفت رافِئِلُ، مَوْنُثٌ فَتَلَاؤُ -

تَفَتَّلَ وَانْفَتَّلَ - رسی وغیرہ بٹ جانا۔

مطالع فتق کا ہے۔

الْقَتْلَةُ - قَتَلَ کا اسم جو مرتبہ کے لیے آتا

ہے۔ ہاتھ کے پٹھے کی سختی۔ بیری اور

بول کے دانے رکھنے کا برتن۔ جہ۔

قَتْلٌ -

الْقَتْلَةُ - درخت عُرْفُط اور عَصَاؤُ کا دانہ

جہ۔ قَتْلٌ - کہا جاتا ہے "مَا أُغْنِي

عَنْكَ قَتْلَةٌ أَوْ قَتْلَةٌ" - یعنی میں تم

کو کچھ بھی فائدہ نہ دوں گا۔

الْقَتِيلُ - بٹی ہوئی بٹی۔ مَوْنُثٌ فَتِيلَةٌ -

گھجور کی گھٹلی کے شکاف میں باریک بٹی

(ب) الْقَتِيلَةُ، وہ بٹی جس سے چراغ

روشن کیا جاتا ہے۔ ج۔ فِتَائِلٌ و
فِتِيْلَاتٌ۔
الْفِتَالُ۔ بہت بٹنے والا۔ بیل۔
الْمِفْتَلَةُ۔ بٹنے کا آلہ۔
الْمَفْتُولُ۔ مفع۔ مَفْتُولُ الْخَلْقِ مضبوط
اور گٹھے ہوئے جسم والا۔
فَتْنَهُ رَضٍ، فَتْنَا وَفُتُونَا وَآفَتْنَهُ وَ
فَتْنَهُ۔ تعجب میں ڈالنا۔ مائل کرنا۔
فریفتہ کرنا۔ فتنہ میں ڈالنا۔
فَتْنٌ۔ الرجل۔ فتنہ میں پڑنا لازم و
متعدی، صفت فَاتِنٌ۔ ج۔
فَتَانٌ۔
فَتْنٌ رَضٍ، فُتُونَا وَفُتِنَ۔ اِلَى النِّسَاءِ۔
عورتوں سے بدکاری کا ارادہ کرنا۔
فَتْنٌ رَضٍ، فِتْنَةٌ وَصَفُوتُنَا۔ فَلَائًا۔
گمراہ کرنا۔ آزمائش کرنا۔
فَتْنٌ۔ فَتْنًا۔ الشَّيْءُ جَلَانًا۔ فَتْنٌ فَلَائًا
عَنْ رَأْيِهِ۔ روک دینا۔ پھیر دینا۔
فَتْنٌ۔ فِتْنَةٌ۔ الصَّائِغُ الذَّهَبِ۔
سنار کا سونے کو پگھلا کر کھوٹا کھرا
معلوم کرنا۔
فَتِنٌ وَآفَتِنٌ۔ معصیت زدہ ہو کر مال
یا عقل کا جاتا رہنا۔ فِي وَدَيْهِ۔
اعراض کرنا۔
رَافَتِنٌ۔ فتنہ میں پڑنا۔ رَافَتْنَهُ۔ فتنہ
میں ڈالنا۔
تَفَتْنَهُ۔ فتنہ میں ڈالنے کے لیے تکلف کرنا۔
الْفَاتِنُ۔ فَا۔ چور شیطان۔ حق سے
گمراہ۔
الْفَتْنُ۔ مَم۔ حال، فن، قسم، اور اسی سے
ہے الْعُمُرُ فَتْنَانٌ یعنی عمر کی دو
قسمیں ہیں۔ اچھی اور بُری۔
الْفِتْنَةُ۔ مَم۔ آزمائش۔ گمراہی۔ کفر۔
رسوائی۔ سب، دیوانگی، عبرت، عذاب،
مرض، مال و اولاد، اختلافِ آراء،

جنگ و جدل کا واقع ہونا۔ ج۔ فِتْنٌ۔
الْفِتَانُ۔ فتنہ انگیز۔ چور شیطان۔
الْمَفْتَانَاتُ۔ چاندی و سونا۔
الْفَتَانَةُ۔ کسوٹی۔ مَوْنَتُ فَتَانٌ۔
الْفَتِيْنُ۔ پتھر پل زمین کہ جس کے پتھر
مٹے چلے ہوئے ہوں۔ ج۔ فُتْنٌ۔
ذَهَبٌ فَتِيْنٌ۔ جلا ہوا سونا۔
الْفَيْتِنُ۔ بڑھی۔
الْمَفْتُونُ۔ مَم۔ مفع۔ دیوانہ۔ پاگل۔
فَتَا يَفْتُوَانِ، فَتُوَا۔ الرَّجُلُ سَخَاوَتِ
اور جو مزدی میں غالب ہوا۔
فَتِي دَسٍ، فَتِيٌّ وَفَتِيٌّ كَفْتِيًّا۔ جوان
ہونا۔
فَتِيٌّ كَفْتِيًّا وَفَتِيٌّ كَفْتِيًّا۔ فُتِيَّتِ
الْبِنْتُ وَتَفَتِيَّتْ۔ پردہ نشینی کرنا۔
لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے روکنا۔
تَفَتِي الرَّجُلُ۔ سخی ہونا۔ بتکلف
جوان بننا۔ کہا جاتا ہے "أَبْرَدُ مِنْ
شَيْخٍ يَفْتِي"۔
أَفْتِي إِفْتَاءً۔ فَلَائًا۔ فتویٰ دینا۔
فَاتِي۔ الرَّجُلُ۔ جو مزدی میں غالب ہونا
فتویٰ پوچھنا۔
تَفَاتِي۔ صاحب سخاوت ہونا۔ جو مزدی
ظاہر کرنا۔ تَفَاتِي إِلَى الْعَالِمِ۔
فتویٰ دریافت کرنے کے لیے عالم
کے پاس جانا۔
إِسْتَفْتِي إِسْتِفْتَاءً۔ الْعَالِمِ فِي
الْمَسْئَلَةِ۔ عالم سے فتویٰ طلب
کرنا۔
الْفَتَاءُ وَالْفُتُوَّةُ۔ جوانی۔ الْفُتُوَّةُ
سخاوت۔ مروت۔ کرم۔
الْفُتُوِي وَالْفُتُوِي وَالْفُتِيَّا۔ شرعی
مسائل میں ماہر شریعت کا فیصلہ۔ ج
الْفُتَاوِي وَالْفُتَاوِي۔
الْفُتِي۔ نوجوان۔ سخی۔ غلام۔ اس کا تشبیہ

فَتَوَانٍ وَفَتِيَانٍ۔ ج۔ فِتْيَانٌ و
فَتِيَّةٌ وَفُتُوَةٌ وَفُتُوَةٌ وَفُتُوَةٌ وَفُتُوَةٌ
فِتِيٌّ۔
الْفَتِيَانُ۔ دن اور رات۔
الْفَتَاةُ۔ نوجوان عورت۔ باندی۔ ج۔
فَتِيَاتٌ وَفُتَوَاتٌ۔
الْفَتِيُّ۔ ہر طاقتور جوان۔ ج۔ فِتَاءٌ وَفُتَاءٌ
مَوْنَتُ كَفْتِيَّةٌ۔
الْمُفْتِيُّ۔ فَا۔ ماہر علم فقہ۔ جو مسائل کا جواب
دے سکے۔ وہ آدمی جو فتویٰ دیتے کے
لیے مقرر کیا جائے۔
فَتْنٌ دَسٍ، فَتْنًا۔ الْقَفَّةُ۔ ٹوکری سے
بکھیرنا۔ الْحَاذِرُ بِالْبَارِدِ۔ ٹھنڈا کر دینا۔
جوش کم کر دینا۔
الْمُفْتِيُّ۔ الْعُودُ۔ لکڑی کا ٹوٹنا۔ الرَّجُلُ
غَمٌّ سَكَنَتْ دَلُّهُ هَوْنًا۔ تَمَرٌ قَتٌّ۔
متفرق کھجوریں۔
الْمُفْتِيَّةُ۔ زیادتی۔ کثرت۔
فَتَادَةٌ، فَتَاءٌ وَفُتَاءٌ۔ الْقِدَارُ بِالنِّدْيِ
کا جوش ٹھنڈا کرنا۔ الْعَضْبُ۔ غصہ
کی تیزی کم کرنا۔ الشَّيْءُ عِنْدَهُ رُكُونًا۔
أَفْتَاءً۔ ٹھنڈا۔ سست ہونا۔ بِالْمَكَانِ۔
اقامت کرنا۔
الْفَتَاءُ۔ الْحَرُّ۔ گرمی کا کم ہونا۔
فَتْبَةٌ وَآفْتَبَةٌ۔ الشَّيْءُ کم کرنا۔ الْمَاءُ
الْحَارُّ بِالْبَارِدِ۔ ٹھنڈے پانی سے
پانی کی گرمی کا کم کرنا۔
فَتْبَةٌ وَآفْتَبَةٌ وَآفْتَبَةٌ۔ بوجھل ہونا۔ کہا
جاتا ہے "فَلَانٌ بِحَرٍّ لَا يَفْتَبُهُ"۔
فلاں سمندر ناپیدا کنارے۔
الْفَاتِبَةُ۔ فَا۔ ماہر ادبیت۔ ج۔ فَوَاتِبَةٌ
الْفَاتُورُ۔ سنگ رخام کی میز۔ آفتاب کی
ٹکیہ۔ فرش۔ بڑا پیالہ۔ شراب کا برتن۔
جاسوس۔
فَتَخْرَفُ، فَتَخَا۔ رَأْسَهُ۔ پھوڑنا۔

فَجْرَدَن (فَجْرًا - القوس - کمان کھینچنا - فَجْرًا
مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ - دونوں پیروں کو کشادہ
دبید کرنا - فَجَّبَتِ النَّاقَةُ يَلْحَلِبُ -
اونٹنی کا دو بطنے میں ٹانگیں پھیلانا -
فَجْرَ (س) فَجَجًا - چلنے میں ٹانگوں کے
درمیان کشادہ ہونا - صفت أَفَجُّ -
مؤنث فَجَاءُ - ج - فُجِّ -
أَفَجُّ - مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ - کشادہ دبید
کرنا - صفت مُفَجِّجٌ - أَفَجَّ فِي
الْمَشْيِ - جلدی چلنا - أَفَجَّ الْأَرْضُ
بِالْمَحْرَاتِ - بل چلانا -
كَفَّاجٌ - ٹانگیں پھیلا کر چلنا -
الْفَجَّجَتِ - القوس - کمان کا کھینچ جانا -
الْفَتَجُّ - الرجل - درہ کوہ میں چلنا -
الفَجُّ - درہ - دو پہاڑوں کے درمیان
کشادہ راستہ - ج - فجاج -
الْفُجَّاجُ - درہ - دو پہاڑوں کے درمیان
کشادہ راستہ -
الْفِجْرُ وَالْفَجَّاجَةُ - مِنَ الْعَوَالِمِ وَ
غَيْرَهَا - کچا میوہ وغیرہ -
الْفُجَّةُ - دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی -
کہا جاتا ہے - "فَلَانٌ يَمْشِي (مُفَجِّجًا)
بِئِنِّي فَلَانٌ يَمْشِي بِحَيْلٍ كَرِيهَةٍ"
الْفُجِّيَّةُ - وسیع وادی - تنگ اور گہری
وادی -
الْفُجْبُجُ - ایسے کابل و سست لوگ کہ جن کی
صحبت کو ناپسند کیا جائے -
فَجَّادَن، وَفَجَّجِي (س) فَجَّجًا وَفَجَّجَةً وَ
فَجَّجَةً وَفَجَّجًا مُفَجَّجَةً وَفَجَّجًا
لِافْتِجَاءِ - الرجل - اچانک آجانا -
جلدی کرنا -
الْفَجَّاءَةُ - مم - اچانک حرف (المفاجأة)
لفظاً ذَاہِیَہ - جیسے تَخْرُجْتُ قِيَادًا
الْأَسَدُ بِالْبَابِ - اور اس کو اِذَا
"الْفَجَّاءَةُ" بھی کہا جاتا ہے -

فَجْرَدَن فَجْرًا - الماء - پانی بہانا - جاری
کرنا - الفتاة - نالی نکالنا - الله
الفَجْرُ - اللہ کا صبح کر دینا - فَلَانًا
بھلانا - نافرمانی کرنا - مخالفت کرنا -
فَجْرَدَن، فُجْرًا - عَنِ الْحَقِّ - تجاؤز
کرنا - عَنِ سَوْجِدِهِ - زمین سے ایک
طرف کو جھک جانا -
فَجْرَدَن، فُجْرًا وَفُجْرًا - جھوٹ بولنا -
زنا کرنا - گناہ کرنا - کمزور نگاہ والا
ہونا - أَمْرُهُمْ - بگڑنا - خراب ہونا -
- مِنْ مَرِيضَةٍ - صبح و تندرست ہونا -
فَجْرَدَن، فُجْرًا - فِضَائِي وَسَمَاعَاتِ كَرْنَا -
فَجْرًا - الماء - پانی بہانا - جاری کرنا - تشدید
مبالغہ کے لیے ہے - فَجْرَ الرَّجُلِ -
بدکاری کی طرف نسبت کرنا -
فَاجِرٌ - فِجَارًا وَفُجَّاجَةً - الْمَرْأَةُ -
زنا کرنا -
أَفَجْرٌ - جھوٹ بولنا - زنا کرنا - کفر کرنا -
حق سے تجاؤز کرنا - فجر میں داخل ہونا -
مال کثیر لانا - الْيَنْبُوعُ - چشمہ جاری
کرنا - فَلَانًا - فاجر پانا -
الْفَجْرُ - عَلَيْهِمُ الْعَدَاؤُ - دشمنوں کی
طرف سے بکثرت آجانا - وَتَفَجَّسَ
الماء - پانی کا جاری ہونا - الصُّبْحُ -
صبح کا روشن ہونا - بِالْعَطَاءِ - فِضَائِي
کرنا - لَفَجْرَ عَنْهُ اللَّيْلُ - رات کا
ختم ہونا -
لَفَجَّرَ - فِي الْكَلَامِ - گھڑنا - بناوٹی بات
کہنا -
لَفَجَّرَ - الْقَوْمُ - گناہوں میں منہمک ہونا -
الْفَجْرُ - بخشش، عطیہ، بھلال، مال -
کثرت مال -
الْفَجْرُ - مم - صبح کی روشنی - کہا جاتا ہے -
"طَرِيقٌ فُجْرٌ" یعنی کھلا ہوا صاف
راستہ -

الْفَجْرَةُ - فجر کا اسم بمعنی ایک بار - کہا جاتا
ہے "رَكِبَ فَجْرَةً" - وہ جھوٹ پر سوار
ہوا - یعنی جھوٹی بات بنائی - ایک بار - اور
یہ کلمہ تانیث اور علمیت کی وجہ سے
غیر منصرف ہے -
الْفَجْرَةُ - مِنَ الْوَادِي - وادی کا وہ
وسیع حصہ جس میں پانی بہ رہا ہو - ج -
فُجْرٌ -
الْفُجْرَةُ وَالْمَفْجْرَةُ وَالْمُنْفَجْرُ - پانی
سننے کی جگہ - مُنْفَجْرُ الرَّهْلِ - ریگستان
میں جو راستہ ہو -
فَجَّارٌ - الفجور کا اسم ہے اور معرفہ ہے -
جیسے حَمَلْتُ بَرَّةً وَاحْتَمَلْتُ فَجَّارًا
اور عورت کے لیے بھی فَجَّارٌ بمعنی فاجِرَةٌ
آتا ہے - اور صرف نداء ہی کی صورت
میں استعمال ہوتا ہے -
الْفَجَّارُ - وہ کشادہ راستے جو دو پہاڑوں
کے درمیان ہوں -
الْفَاجِرُ - فَا - زانی - گناہوں کا تابعدار -
جادوگر - ج - فَاجِرُونَ وَفَجْرَةٌ وَ
فُجَّارٌ -
الْفَاجِرَةُ - مؤنث فَاجِرٌ - کہا جاتا ہے -
يَبِينُ فَلَاجِرَةً - جھوٹی قسم -
الْفُجُورُ - زانیہ - زانی، گناہوں میں منہمک
ج - فُجُورٌ -
الْفَاجِرُ - زنا کار - گناہوں میں منہمک -
فَجَّسَ (س) فَجَّجًا - تکبر کرنا - شرارت گھڑنا
- فَلَانًا - غالب آنا -
أَفَجَّسَ - باطل پر فخر کرنا -
كَفَّجَّسَ - عليه - تکبر کرنا - بڑائی ظاہر
کرنا -
فَجَّعَهُ (س) فَجَّجًا وَفَجَّعَهُ - درد مند
کرنا - مصیبت زدہ بنانا - کہا جاتا ہے -
وَفَجَّعَ فِي مَالِهِ وَرِمَالِهِ : اس کو
مال کی وجہ سے مصیبت لاحق ہوئی -

دوسرے کے عیوب اور بھیدوں کی
تلاش و جستجو کرنا۔
فَحَصَّةٌ وَأَفْحَصَةٌ - غنہ - دور کرنا۔
تَفْحَصٌ وَلَا فُتْحَصٌ - غنہ - بکھود کرید
کرنا۔
الْفُحُصُ - بڑھاپہ امتحان - ہر رہنے کی جگہ۔
ج۔ فُحُوصٌ۔
الْفُحُصَةُ - فحوص کا اسم مرہ۔
الْفُحَيْصُ - ساتھی کے عیب اور بھید معلوم
کرنے میں لگا رہنا۔
الْفَحَاصُ - بہت تلاش و جستجو کرنے والا۔
الْمُفْحَصُ - وہ گڑھا جو سنگسنگوار نے اٹھے
دینے کے لیے بنایا ہو۔ ج۔ مَفَاحِصُ
کہا جاتا ہے: "لَيْسَ لَنَا مَفْحَصٌ
قَطَاةٌ"
الْأَفْحُوصُ - یعنی مَفْحَصُ - ج۔ آفَاحِصُ
فُحْفَحٌ - خراٹے لینا۔ آواز پڑ جانا۔
الْفُحْفَاحُ - وہ شخص جس کی آواز بڑھ گئی
ہو۔ بہت بولنے والا۔ مَوْنُوتٌ فُحْفَاحَةٌ۔
فَحَلَّ رَفٌ، فَحَلًّا وَفُتْحَلٌ - ایلکہ
فَحَلًّا كَوَيْبًا - عمدہ ساہ جفتی کے لیے
ڈھونڈنا۔
تَفَحَّلَ - سانڈ کے مشابہ ہونا۔ تَفَحَّلَ الشَّجَرُ
درخت کا بے پھل ہونا۔
اسْتَفْحَلَتْ - الامور بڑا ہونا۔ اسْتَفْحَلَتْ
النَّخْلَةُ - درخت خرما کا زکھجور
جیسا ہونا۔
الْفَحْلُ - سانڈ۔ ہر حیوان کا نر۔ ج۔
فُحُولٌ وَأَفْحَالٌ وَفَحَالَةٌ
وَفُحُولَةٌ۔
فُحُولُ الشُّعْرَاءِ - فضیلت رکھنے والے
شعراء۔ بھوکرنے میں غالب ہونے والے
شعراء۔
الْفَحْلُ وَالْفُحَالُ - زکھجور۔ ج۔
فَحَا جَيْلٌ۔

الْفَحْلَةُ - مِنَ النِّسَاءِ - تیز زبان عورت۔
ایسے اخلاق والی جو جنس عورت کے
لائق نہ ہو۔
الْفَحْلَةُ وَالْفُحُولَةُ وَالْفَحَالَةُ - مردانگی۔
الْفَحِيلُ - یعنی فعل۔ صاحب مردی۔
فَعْلٌ فَحِيلٌ - شریف، نسیل مرد۔
فَحْمَرٌ، فَحْمًا - جواب سے ساکت
ہو جانا۔
فَحْمَتٌ رَنٌ، فُحُومًا - البیڑ - پانی ٹھہرنا۔
فَحْمَرٌ رَسٌ، وَفَحْمٌ فَحْمًا وَفَحْمًا وَفُحُومًا
وَأَفْحَمٌ - الصَّبِيُّ - بچہ کی آواز
روتے روتے بند ہو جانا۔
فَحْمَرٌ، فُحُومًا وَفُحُومَةٌ - کالا ہونا۔
فَحْمَرٌ - الشَّيْءُ - کالا کرنا۔
أَفْحَمَةٌ - دلیل دے کر خاموش کرنا۔ کہا
جاتا ہے: "هَاجَاةٌ فَأَفْحَمَةٌ وَوَجَدَا
مُفْحَمًا" - یعنی وہ شعر کہنے پر قادر نہیں
اَفْحَمَ الرَّجُلُ - عشاء کے وقت
کی تاریکی میں داخل ہونا۔ الرَّهْمُ
الشَّاعِرِ - غم نے شعر کہنے سے منع کر
دیا۔
الْفَحْمُ وَالْفَحْمُ وَالْفَحِيمُ - کونڈہ۔
الْفَحْمَةُ - کونڈہ کا ٹکڑا۔ اللیل - سخت
تاریکی۔ ج۔ فَحَامٌ وَفُحُومٌ۔
الْفُحُومَةُ - سیاہی۔
الْفَحَامُ - کونڈہ بیچنے والا۔ ج۔ فَحَامَةٌ۔
الْفُحُومُ - جواب نہ دے سکنے والا۔
الْفَاحِمُ - فَا - مَاءٌ فَاحِمٌ - ٹھہرا ہوا
پانی۔ وَالْفَحِيمُ - کالا۔
الْمُفْحِمُ - فَا - جَوَابٌ مُفْحِمٌ خَامُوشٌ
کردینے والا جواب۔
الْمُفْحِمُ - مفعول۔ لا جواب شعور نہ کہہ
سکنے والا۔
الْمُفْحِمَةُ - کونڈہ کی جگہ۔
فَحَارٌ، يَفْحَرُ فُحُورًا وَفُحِي - بکلام

الی کذا۔ اپنے کلام سے کسی مضمون کی
طرف اشارہ کرنا۔
الْفَحَا وَالْفَحِي - مسالہ یا خشک مسالہ۔
ج۔ أَفْحَاءٌ۔
الْفُحُوي وَالْفُحُوءُ وَالْفُحُوءُ - مِنَ الْكَلَامِ
مضمون کلام۔ ج۔ فُحَاوٌ۔
فَحَّتْ رَضٌ، فَحًّا وَفَحَّةٌ وَفَحْحَا -
رَجُلًا - ٹانگوں کا کمزور ہونا۔ صفت
أَفْحَةٌ - مَوْنُوتٌ فَحًّا - ج۔ فُحٌ۔
فَحْرٌ رَنٌ، فَحًّا وَفَحِيًّا وَفَحْتَةٌ -
النَّايِمُ - خراٹے لینا۔
فَحَّتِ الرَّفْعِي - سانپ کا پھنکارنا۔
الرَّايِحَةُ - خوشبو کا بھرنے کا۔
الْفَحْرُ - جال۔ ج۔ فَحْرٌ وَفُحُورٌ۔
کہا جاتا ہے: "وَتَبَّ فُلَانٌ مِنْ فَحْرِ
الشَّيْطَانِ" - یعنی گناہ سے توبہ کر لی۔
الْفَحَّةُ - خراٹے لینے والے کی نیند۔ گندی
عورت۔
فَحَّتْ رَفٌ، فَحْتًا - السَّقْفُ - چھت
میں سوراخ کرنا۔ رَأْسُهُ بِالسَّقْفِ -
سر پر تلوار مارنا۔ الشَّيْءُ - کاٹنا۔
الاناء - برتن کھولنا۔ الرَّجُلُ - جھوٹ
بولنا۔
فَحَّتَتْ - الْفَاحْتَةُ - فاختہ کا کوکرنا
تَفَحَّتَتْ - فاختہ کی پال چلنا۔ تھب کرنا۔
انْفَحَّتْ - السَّقْفُ - چھت کا سوراخ
والا ہونا۔
الْفَحْتُ - مہم۔ جال۔ چھت میں گول سوراخ
چاند کی روشنی یا چاند کا سایہ۔
الْفَاحْتَةُ - ایک پرندہ کا نام۔ ج۔ فَوَاخَتْ
فَخْبَجَةٌ رَفٌ، فُحْبَجًا - الرَّجُلُ - بکڑ کرنا۔
- فُلَانًا وَبِهِ - ڈینگ مارنا۔ بڑائی
ظاہر کرنا۔
فَحْبَجٌ رَسٌ، فُحْبَجًا - جدا جدا رانوں والا ہونا
صفت آنی خبجہ۔

الْفَدَّادُونَ - چرواہے۔ اونٹ والے۔
گائے بیل والے۔ کاشتکار، نیزان
کے علاوہ جن کی آواز کھیتی باڑی اور
موشیوں میں بلند ہوتی ہو، ان کو بھی
کہتے ہیں۔
الْفَدَّادَةُ - فَدَّادٌ کا مؤنث۔ سینڈک۔
بزول۔
فَدَّ حَذْفٌ، فَدَّحًا - الامر والحمد
او الدائین۔ کسی معاملہ یا عمل یا قرض
کا گرانبار بنا دینا۔
أَفَدَّحَ وَلَا سْتَفَدَّحَ - الامر۔ بوجھل
پانا۔
الْفَادِحُ - مشکل شے۔ بوجھل کرنے والا۔ کہا
جاتا ہے: نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ فَادِحٌ۔
«وَرَكِبَهُ دَيْنٌ فَادِحٌ» اس پر امر
گراں بار آ پڑا۔ اس پر قرض گرانبار
ہو گیا۔
الْفَادِحَةُ - مصیبت۔ ج۔ فَوَادِحٌ - فَوَادِحُ
الدَّهْرِ - مصائب زمانہ۔
فَدَّحَ رَفٌّ، فَدَّحًا - الشئ۔ توڑنا۔
الْعَوْدُ - تازہ لکڑی توڑنا۔
فَدَّ رَضٍ، فَدَّارًا وَفَدَّوْرًا - اللَّحْمُ
الْمَطْبُوعُ - کپکپے ہوئے گوشت کا
ٹھنڈا ہونا۔
فَدَّرَ - الْجِبَارَةُ - چھوٹے بڑے پتھر
توڑنا۔
تَقَدَّرَ - الْحَجْرُ - پتھر کا ٹوٹنا۔
الْقَدَرُ - پہاڑی بکرا۔ ج۔ فَدُّورٌ -
الْقَدُّورُ - پہاڑی بکرا۔ ج۔ فَدُّرٌ -
الْقَدِيرُ - یوقوونہ۔ جلدی ٹوٹنے والی لکڑی۔
الْفِدْرَةُ - کپکپے ہوئے گوشت کا سر اور ٹکڑا۔
پھاڑ کا ایک حصہ۔ رات کا ایک ٹکڑا۔
ج۔ فِدْرٌ -
الْفِدْرَةُ - قوم سے غمخوار رہنے والا اور
تنہا چلنے والا۔

الْفَخَّارُ - ٹیکرا۔ بکی ہوئی مٹی۔ واحد
فَخَّارَةٌ۔
الْفَخَّارِيُّ - کھار۔ ٹیکری بیچنے والا۔
الْفَاخُوْرُ - ایک قسم کا پھول۔ ج۔
فَيَاخِيْرُ۔
الْمَفْخُوْرَةُ وَالْمَفْخُوْرَةُ - افعال حمیدہ۔
وہ اعمال و افعال جن پر فخر کیا جائے۔
ج۔ مَفَاخِيْرُ۔
فَخَّرَ رَفٌّ، فَخَّرَ دَسٌّ، فَخَّرَ وَفَخَّرًا
وَتَفَخَّرَ - تکبر کرنا۔ بڑائی ظاہر کرنا۔
الْفَخْرُ - مِم۔ فضیلت۔
فَخْفَخَةٌ فَخْفَخَةٌ - الرجل۔ باطل
پر فخر کرنا۔
الْفَخْفَخَةُ - مِم۔ کاغذ یا نئے کپڑے کی
کمز کھڑا ہٹ۔
تَفَخَّلَ - حلم و وقار ظاہر کرنا۔ عمدہ کپڑے
پہننا۔
فَخَّمَرَكُ، فَخَامَةٌ - موٹا ہونا۔ عظیم المرتبہ ہونا
فَخَّمَهُ - تعظیم کرنا۔ الْحُرُوفُ فِي اللَّفْظِ
حُرُوفٌ كَوَيْرٌ يَرْهِنَا -
الْفَخْمُ - عظیم المرتبہ۔ مِنَ الْمَنْطِقِ
درست بات۔
الْفَخِيْرَةُ - بڑائی۔ برتری۔
الْأَفْخَمُ - اعظم۔ بڑے مرتبہ والا۔
فَدَّ رَضٍ، فَدَّيْدًا - الرجل۔ آواز
بلند کرنا۔ دوڑنا۔ فَدَّ السَّطَائِرُ -
پزندہ کا پتھر پھوٹانا۔
فَدَّيْتُ - الِئِيلُ - اونٹ کا زین کو
کھروں سے روندنا۔ ایل مؤنث
سماعی ہے۔
فَدَّدَ - خريد و فروخت میں چلانا۔ تکبر و
غزور سے چلنا۔
الْفَدَّادُ - تکبر۔ بہت چلانے والا۔ بہت
روندنے والا۔ سیکڑوں سے ہزار
تک اونٹوں کا مالک۔ ج۔ فَدَّادُونَ

فَحَّادَةٌ رَفٌّ، فَحَّادٌ - ران پر مارنا۔ ران
کو توڑنا۔ فَحَّادٌ - اس کی ران
توڑی گئی۔
فَحَّادٌ - قَوْمَةٌ - قبیلہ قبیلہ کو پکارنا۔
بَيْنَهُمْ - مُجَادِبَاتٌ - الْقَوْمُ
عَنْ فُلَانٍ - مدونہ دینا۔ فَلَائِنَا -
قبیلہ سے بھگا دینا۔
تَفَحَّضَ - معاملہ سے ہٹ جانا۔ کسی
کی ران پر ران رکھنا۔
اسْتَفَحَّضَ - جھک جانا۔ مطیع ہو جانا۔
الْفَحَّذُ وَالْفَحَّذُ وَالْفَحَّذُ - ران رپہ
کلمہ مؤنث سماعی ہے، ج۔ أَفْحَاذٌ -
الْفَحَّذُ - قبیلہ۔ ج۔ أَفْحَاذٌ رِيبَ كَلِمَةٍ
مذکر ہے،
فَحَّرَ رَفٌّ، فَحَّرَ وَفَحَّرًا وَفَحَّارَةً
وَفَحَّارَةً وَفَحَّارَةً وَفَحَّارَةً
فَحَّرَ كَرْنَا - فخر کرنا۔
فَحَّرَةٌ - فخر کرنے میں غالب ہونا۔
فَحَّرَةٌ وَفَحَّرَةٌ وَفَحَّرَةٌ - عَلَى فُلَانٍ
فخر کرنے میں فضیلت دینا۔
فَحَّرَ مِنْهُ دَسٌّ، فَحَّرًا وَفَحَّرًا - سَمَّحًا -
ناک چڑھانا۔ تکبر کرنا۔
فَاخَّرَهُ فَحَّارًا وَمَفَاخِرَةً - فخر کرنے
میں غالب ہونا۔
تَفَاخَرَ - الْقَوْمُ - بعض کا بعض پر فخر کرنا۔ ہر
ایک کا اپنے اپنے مفاخر پر فخر کرنا۔
اسْتَفَخَّرَ - الشئ - قابل فخر سمجھنا۔
قابل فخر بنانا۔
الْفَخْرُ وَالْفَخْرُ - مِم۔ فضیلت۔ بڑائی۔
الْفَخْرَةُ - فخر۔
الْفَاخِيْرُ - فَا - ہر چیز میں کا عمدہ۔
الْفَخِيْرُ وَالْفَخِيْرَةُ - بہت فخر کرنے والا۔
(تاء مبالغہ کے لیے ہے)
الْفَخُوْرُ وَالْفَخِيْرُ - فخر کرنے والا۔
الْفَخِيْرُ - یعنی مغلوب فی الفخر بھی ہے۔

الفدور - چاندی - موٹا لڑکا۔

الفادور - پکا ہوا ٹنڈا گوشت، پہاڑی بکرا۔
علیہ رہنے والی اونٹنی - جہ - فدر و
قوادرو فدرور۔

الفادرة - فادر کا مونٹ - پہاڑ کی چوٹی
پر بڑی چٹان۔

المقدرة - بہت سے پہاڑی بکروں کے
رہنے کی جگہ۔

أفدس - الرجل - کسی کے گھر یا دروازہ پر
مکڑیوں کا ہونا۔

الفدس - مکڑی - جہ - قداسة۔

الفیدس - مٹکا - بڑا گھڑا۔

قدش دن، قدشا - راسہ - سر پھوڑنا۔

قدشه رض، قدشا - دغ کرنا۔

القدش - کڑی۔

قدع دس، قدعا - ٹیڑھے جوڑوں والا

ہونا - صفت آقدع - مونٹ قدعا

جہ - قدع۔

قدعه دن، قدعا - کچلنا یا تھوڑا پھاڑنا۔

قدعه - ٹیڑھے جوڑوں والا کر دینا۔

القدع - ہاتھ یا پیروں کے جوڑوں میں کچی

جوڑوں کی کچی۔

القدعة - جوڑوں کی کچی کی جگہ۔

قدعه دن، قدعا - توڑنا۔

القدع - ٹوٹنا - الشئ الیابس

نرم ہونا۔

المقدع - توڑنے کا آلہ - جہ - مقادع۔

قدقد فذقدقا - آواز بلند کرنا - بھاگتے

ہوئے دوڑنا۔

القدقد - سخت جگہ - بلند مکان - گندی جگہ

جنگل - جہ - قد اوند۔

القدقد والقدقد - سخت آواز والا۔

بلند آواز والا - بہت زیادہ زمین کو

دوسنے والا۔

قدک - القطن - روئی دھندا۔

قدک - القطن - روئی دھندا۔

قدم رض، قدما - الایبریق و علی

الایبریق - چھاگل پر سر بند لگانا۔

قدم دک، قدومة و قدامة - بیوقوف

ہونا۔

قدم و اقدم - قحہ الایبہ - برتن پر

سر پوش رکھنا۔

القدم - کلام میں عاجز - بیوقوف - کم سمجھ۔

گاٹھے خون والا - جہ - قدام - گری

سرخ رنگ والا - مونٹ قدامة۔

القدم والقدم - جہ - قدم والقدم و

القدامة والقدوم - پھوٹی سی

چھلنی یا کپڑا جو لوٹے وغیرہ کے منہ پر

باندھیں تاکہ جو کچھ اس میں ہے صاف

ہو جائے (القدم والقدامة)

پھینکا جو اونٹ کے منہ پر باندھ دیں

تاکہ کاٹ نہ سکے یا کھانہ سکے۔

المقدّمات - قبضہ والے لوٹے - ٹکے۔

قدن - الابل - اونٹ کو موٹا کرنا۔

البناء - عمارت کو بلند کرنا - الثوب

کپڑے کو سرخ رنگنا۔

القدن - سرخ رنگ - بلند عمارت - جہ

أقدان۔

القدان والقدان - بیوں کی جوڑی جو بیل

میں جتے ہوئے ہوں - جہ - قدن و

أقدانہ و قدانین - القدان

کھیتی - وفي المساحة - چار توڑ مزاج

زمین۔

القادین - وہ آلہ جس سے تعمیر کی دستگی کا

امتحان کیا جاتا ہے - جہ - قوادین۔

القدوکس - شیر مضبوط مرد۔

فدی یفدی رض، فدی و فدی و

قداء - الرجل من الأستروخوچہ

مال وغیرہ دے کر قید سے چھڑانا صفت

اسم فاعل (فادی) صفت اسم مفعول

مفیدی، کہتے ہیں: قدت المرأة

نفسها من زوجها - یعنی عورت

نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھٹکارا

حاصل کیا۔

فدی و فدی تقدینہ - فلانا

بہت سے - اپنے متعلق کہنا کہ میں تم پر

فدا کیا جاؤں۔

فادی فداء و مفاداة - الرجل -

فدی سے کر چھوڑنا یا فدیہ دیکر چھوڑنے

کی طلب کرنا۔

أفدی إفداء - فلانا الایسیر - کسی سے

قیدی کا فدیہ قبول کرنا - الرجل -

موٹا ہونا۔

تفادی تفادیا - القوم - ایک دوسرے پر

فدا ہونا - بعض کا بعض کے ذریعے سے

بچنا - الرجل من کذا - پرہیز کرنا۔

اور کیسو ہونا۔

إفدای إفداء - فدیہ دیا جانا۔

إفتدای - بلہ - فدیہ دینا - منہ بکذا

پرہیز کرنا کہتے ہیں: إفتدت المرأة

نفسها من زوجها - یعنی عورت نے

مال دے کر طلاق لے لی، اور چھٹکارا

حاصل کر لیا۔

القداء - جم - موٹا پا۔ ڈھیر، انبار - جو گیہوں

کھجور وغیرہ رکھنے کا برتن - تاجس کے

سامان، فلی وغیرہ کی جگہ - جہ - أقدیہ

الهداء والقدای والقدای - ہم - وہ

مال جو چھڑانے کے لیے دیا جائے - کہا

جاتا ہے: فدی لك أبی و قدأك

أبی: یعنی میں تمہارے اوپر اپنے باپ

کو فدا کرتا ہوں اور اس جملہ سے دعاؤ

الطہار محبت اور تعریف و توصیف کا

ارادہ کرتے ہیں اور کبھی فعل محذوف

ہوتا ہے اور صرف حرف باء کو باقی

رکھتے ہیں اور کہتے ہیں: یا ابی التلمیذ

اور اس مقصد کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ باقی حاجتوں کے فوت ہو جانے کی پروا نہیں کرتا۔
 أَصْرٌ فَرَجِيٌّ - من گھرت بڑا معاملہ۔
 فَرَّتْ دَن، فَرَّتْنَا - بدکار ہونا۔
 فَرَّتْ دَك، فَرَوْتَهُ - المَاءُ - پانی کا خوشگوار ہونا۔ میٹھا ہونا۔
 فَرَّتْ دَس، فَرَّتْنَا - ضعیف العقل ہونا۔
 الْفَرَات - ایک بڑا دریا جو بحر فارس میں گرتا ہے (عراق میں واقع ہے) بہت میٹھا پانی کہا جاتا ہے "مَاءُ فَرَاتٍ وَ مِيَاةُ فَرَاتٍ" الْفَرَات - سمندر۔
 الْفَرَاتَان - دریائے فرات و دجلہ۔
 فَرَّتْكَ فَرْتَكَةً - چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ الشیء - ریزہ ریزہ کرنا۔
 الْعَبْلَى - فاسد کرنا۔ بگاڑنا۔
 فَرَّتْنَن فَرْتَنَةً - چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔
 فَرَّتْنَن دَن، فَرَّتْنَا - وَالْفَرَّتْنَن - الْحَبْلَى - حاملہ عورت کا جی متلانا۔
 فَرَّتْ دَض، فَرَّتْنَا - كِبْدَاة - جگر پر مارنا۔
 فَرَّتْ دَس، فَرَّتْنَا - شَكْم سِير ہونا۔ الْقَوْمُ - متفرق ہونا۔
 أَفَرَّتْ وَفَرَّتْ - الْكُوش - اوجھ کو چیر کر اس سے گوبر نکالنا۔ الْحَبْ كِبْدَاة - محبت کا جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔
 تَفَرَّتْ - الْقَوْمُ - متفرق ہونا۔ تَفَرَّتْ الْحَبْلَى - حاملہ عورت کا جی متلانا۔
 الْفَرَّتْ - گوبر جب تک اوجھ میں رہے۔ ج فَرَوْتٌ -
 الْفَرَاتَان - اوجھ کا گوبر۔
 فَرَجَ دَض، فَرَجًا وَفَرَجًا - الشیء - کھولنا۔ کشادہ کرنا۔ اَللّٰهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ غم کو دور کرنا۔ نازل کرنا۔
 أَفْرَجَ - الْغُبَارُ - غبار کا دور ہونا۔ چھٹ

سے سر بھاڑ دینا۔ أَفَرَّتْ الْخَيْلُ او الْاَيْلُ - اونٹ یا گھوڑے کے دودھ کے دانت کرنا۔ أَفَرَّةٌ - بھگا دینا۔
 تَفَرَّتْ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے بھاگنا۔
 تَفَرَّرَ - بِالْشَيْءِ - ہنسنا۔
 اِفْتَرَّ - الْبُرْقُ - بجلی کا چمکنا۔ آہستہ آہستہ ہنسنا۔ الشیء - سوگھنا۔
 الْفَرُّ - مہر۔ بھاگنے والا۔ واحد و جمع اور مذکر و مؤنث۔ سب کے لیے یکساں مستعمل ہے۔ الْفَرُّ جَمْعُ فَارٌّ كِي ہے جیسے رَكْبٌ جَمْعُ رَاكِبٌ كِي۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فَرٌّ قَوْمِيَهُ وَفَرَّتْهُمْ" یعنی وہ اپنی قوم کا بہترین آدمی ہے۔
 الْفَرَّةُ وَالْأَفَرَّةُ وَالْأَفَرَّةُ - اختلاط شدت۔ مِنَ الْحَرِّ وَنَحْوِهِ - گرمی کی شدت اور اس کا ابتداء۔
 الْفَرَّةُ - مکر اہٹ۔
 الْأَفَرُّ - خوبصورت طریقے سے سننے والا اور مکرانے والا حسین دانتوں والا۔
 الْفَرَارُ وَالْفَرُورُ وَالْفَرُورَةُ وَالْفَرُورَةُ تِيَز بھاگنے والا۔ الْفَرَارُ، پارہ۔
 جو کہ معدنیات میں سے ہے۔
 الْفَرُورُ وَالْفَرِيْرُ وَالْفَرَارُ - بھیڑ اور بکری کا بچہ۔ بعض نے بمعنی حلال نقل کیا ہے د الْفَرِيْرُ مِنْهُ۔
 الْمَفَرُّ - بھاگنے کی جگہ۔
 الْمَفَرُّ - مِنَ الْخَيْلِ - تیز گھوڑا، اور وہ گھوڑا جو بھاگتے وقت کام میں آوے۔
 الْفَرَاُ وَالْفَرَاءُ - جھکی گدھا۔ ج۔ أَفْرَاءُ وَفِرَاءُ - اور اہل عرب کا قول:-
 "كُلُّ الْفَيْدِي فِي جَوْفِ الْفَرَّةِ" بغیر ہمزہ کے۔ مثل ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جس کی بست سی حاجتیں ہوں اور ان میں سے بڑی حاجت پوری ہو جائے

المجتهد یعنی میں اس پر اپنے باپ کو فدا کرتا ہوں۔
 الْبَعْدِيَّةُ - وہ مال جو بھڑانے کے لیے دیا جائے۔ ج۔ فِدْيٌ وَفِدْيَاتٌ۔
 كَذَّةٌ دَن، كَذًا - سستی سے دھتکار دینا۔
 أَفَذَّتْ - الشَّاةُ - بکری کا ایک بچہ جننا۔ صفت (مُفِيدٌ وَمُفِيدَةٌ) اور اگر یہی عادت ہو جائے۔ تو اس کو مُفِيدًا کہتے ہیں۔
 كَفَذًا وَاسْتَفَذًا - بِالْأَمِيرِ - مستقل مزاج ہونا۔
 الْفَذُّ - مہر۔ اکیلا۔ جوئے کے تیروں سے پہلا شیر۔ ج۔ أَفَذًا وَفَذُودٌ - اور کلمہ فَذَّةٌ وَفَذَاةٌ شاذ ہیں۔
 الْأَقْدُ - بے پرکائیر۔ کہا جاتا ہے:- أَكَلْنَا فَذًا ذِي وَفَذًا ذِي وَفَذًا ذَا وَفَذًا ذَا - یعنی ہم نے جدا جدا ہو کر کھایا۔
 فَذًا فَذًا فَذًا - اچانک کودنے کے لیے سٹپنا۔
 قَدْ لَكَ فَذٌ لَكَّةٌ - الْحِسَابُ - حساب سے فارغ ہونا۔ تُوْطِلُ لَكَا لِيْنَا -
 الْفَذُّ لَكَّةٌ - مہر۔ میزان کل۔ مفصل کا خلاصہ۔ حساب کا بویا کسی اور چیز کا۔
 فَرَّ دَض، فَرًّا وَفَرَارًا وَفَرًّا وَفَرًّا - بھاگنا۔ دوڑنا۔
 فَرَوْن، فَرًّا وَفَرَارًا وَفَرَارًا وَفَرَارًا - الدَا تَبَةُ - کسی جانور کی عمر معلوم کرنے کے لیے جانور کے دانتوں کو دیکھنا۔ اِلَى الشَّيْءِ - جانا۔ عَيْنِ الْأَمْرِ - کھود کر دیکھنا۔ کہا جاتا ہے:-
 "فَرَّ الْأَمْرُ جَدًّا عَا" - معاملہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا۔
 فَارَرْتَهُ - میں نے اس کے حال کی اور اس نے میرے حال کی تحقیق کی۔
 أَفَرَّ - اِفْرَارًا - رَأْسُهُ بِالسَّيْفِ - تلوار

جانا۔ القوم عین المکان۔ ملوہ
 ہونا۔ ہٹ جانا۔ اَفْرَجَتْ
 الدُّجَاجَةَ۔ مرغی کا بچوں والی ہونا
 صفت مُفْرِجٌ:
 تَفْرِجٌ۔ الغم۔ غم کا دور ہونا۔
 الفَرْجُ۔ کلنا۔ الغم۔ غم کا دور ہونا
 - مَا بَيْنَ الشَّيْبَيْنِ۔ کشادہ ہونا
 - الرَّجُلُ مِنْ صَبِيحِهِ۔ تنگی سے
 نجات پانا۔ ربائی پانا۔
 القَوْمُ۔ مہ۔ دو چیزوں کے درمیان کا
 فرج۔ سرمد۔ مِنَ الثَّوْبِ۔ کپڑے
 کی پھین۔ مِنَ الْإِنْسَانِ۔ شرمگاہ۔
 یعنی قبل اور دُبُر۔ دونوں پر اس کا
 اطلاق ہوتا ہے۔ ج۔ فُرُوجٌ۔ فَرْجٌ
 السَّوْدِي۔ وادی کا درمیانی حصہ۔
 فَرْجٌ الطَّرِيقِ۔ راستہ کا درمیانی حصہ
 الفَرْجُ وَالْفَرْجُ۔ تانت سے علوہ کمان
 (۔ وَالْفَرْجُ وَالْفَرْجَةُ) مِنَ
 الرِّجَالِ۔ بھید نہ چھپانے والا مرد۔
 الْفَرْجُ۔ کشادگی۔
 الْفَرْجَةُ۔ دو چیزوں کے درمیان کشادگی۔
 ج۔ فَرْجٌ۔
 الْفَرْجَةُ وَالْفَرْجَةُ وَالْفَرْجَةُ۔ سختی
 اور غم سے نجات پانا۔
 الْفُرُوجُ۔ بچے کی قمیص وہ تبا جس میں پیچھے
 سے پھاڑا گیا ہو۔ ج۔ فُرُوجٌ۔
 (۔ وَالْفُرُوجُ) مرغی کے چوزے۔ ج۔
 فُرُوجٌ۔ واحد الْفَرْجَةُ۔
 التَّفْرِجَةُ۔ دوائیوں یا دوا کھبوں کے
 درمیان کا فاصلہ۔ ج۔ تَفَارِجٌ۔
 التَّفْرِجَةُ۔ کمزور۔ بزدل۔ ج۔ تَفَارِجٌ۔
 التَّفْرِجَةُ۔ ظاہر کھلا ہوا۔ قَوْسٌ فَرْجٌ۔
 تانت سے علوہ کمان۔
 الْمَفْرِجُ۔ وہ مقتول جو جنگل میں پایا جائے
 اور اس کا قاتل معلوم نہ ہو۔ وہ شخص

جس کے مال یا اولاد یا کوئی اور رشتہ
 وار نہ ہو۔
 الْمَفْرِجُ۔ کنگھی۔ وہ شخص جس کی کہنی
 بغل سے دور ہو۔
 الْفَرْجَارُ۔ پکار۔ کہا جاتا ہے۔ "حَطَّ
 فَرْجَارِيٌّ" یعنی گول دائرہ۔
 فَرْجَنَ۔ فَرْجَنَةُ۔ الدَّائِمَةُ۔ جانور کو
 کھریا کرنا۔ یعنی کھریے سے جانور
 کو ملنا۔
 الْفَرْجُونَ۔ کھریا۔
 فَرْجٌ دَسٌ، فَرْجًا۔ بالشیء۔ خوش ہونا۔
 اَلرَّنَا۔ صفت فَرْجٌ وَفَرْجٌ۔
 فَرْجَةٌ۔ خوش کرنا۔
 اَفْرَجَةٌ۔ خوش کرنا۔ الدَّيْنُ۔ بوجھ
 کرنا۔ عَمَلٌ کرنا۔ جیسے تم کہو اَفْرَجْتَنِي
 الدُّنْيَا ثُمَّ اَفْرَجْتَنِي" یعنی دنیا
 نے مجھے خوش کیا پھر عَمَلٌ بنا دیا۔ اس
 میں ہمزہ سلب کے لیے ہے اس لیے
 معنی سلب کے پائے جاتے ہیں۔
 الْفَرْجُ۔ خوشی۔
 الْفَرْجَةُ وَالْفَرْجَةُ۔ خوشی۔ خوشخبری
 سنانے والے کا انعام۔ عوام اس
 انعام کو علوان اور بشارت بھی
 کہتے ہیں۔
 الْفَرْجَانُ۔ خوشی والا۔ مَوْنٌ فَرْجِيٌّ وَ
 فَرْجَانَةٌ۔ ج۔ فَرْجِيٌّ وَفَرْجِيٌّ۔
 الْفُرُوجُ۔ خوشی والا۔ ج۔ فُرُوجٌ۔
 الْمَفْرِجُ۔ مفع۔ فقیر محتاج۔ گنام
 نسب والا۔
 الْبُفْرَاحُ۔ بہت زیادہ خوش۔ مذکر و
 مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔
 الْمَفْرُوحُ۔ مسرور، جس پر خوشی کی جائے۔
 فَرْجٌ دَسٌ، فَرْجًا۔ اِلَى الْاَرْضِ۔ چمٹنا
 - الرَّجُلُ۔ گھبراہٹ دور ہونا۔
 فَرْجٌ۔ القَوْمُ۔ کمزور ہونا۔ گھبرانا۔

فَرْجَتٌ۔ الطَّائِرَةُ۔ پرندہ کا بچوں
 والا ہونا۔ صفت مُفْرِجٌ۔ الْبَيْضَةُ
 انڈے کا بچے سے جدا ہونا۔ فَرْجٌ
 الشَّجَرُ۔ درخت کا پھوٹنا۔ الاصرُ
 مشتبہ ہونے کے بعد انجام کا ظاہر ہو
 جانا۔ الرَّوْعُ۔ خوف دور ہونا۔
 اَفْرَجٌ۔ الرَّوْعُ۔ خوف دور ہونا۔ کہا
 جاتا ہے۔ "اَفْرَجٌ رَوْعَكَ" یعنی
 اپنی گھبراہٹ دور کرو اور اپنے دل
 کو مطمئن کرو۔ اَفْرَجَتِ الْبَيْضَةُ۔
 وَالطَّائِرَةُ۔ بمعنی فَرْجَتٌ۔ اَفْرَجٌ
 الاصرُ۔ اشتباہ کے بعد انجام کا ظاہر
 ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "اَفْرَجَ الْقَوْمُ
 بَيْضَتَهُمْ" یعنی قوم نے اپنا بھید
 ظاہر کر دیا۔
 اِسْتَفْرَجَ۔ الْحَمَامُ۔ کبوتری کو بچہ
 نکلنے کے لیے لینا۔ الْحَمَامُ۔ کبوتری
 کا بچہ والی ہونا۔
 الْفَرْجُ۔ پرندہ کا بچہ۔ پھوٹا پودہ یا حیوان۔
 - مِنَ الشَّجَرِ۔ درخت کی جڑ میں جو
 پودے نکل آتے ہیں۔ ج۔ فَرَاجٌ وَ
 اَفْرَاجٌ وَ اَفْرَجٌ وَ اَفْرَجَةٌ وَ
 فَرْجَانٌ وَ فُرُوجٌ۔ الْفَرْجُ۔
 کمزور۔ ذلیل۔ دھتکارا ہوا آدمی۔
 فَرْجٌ الرَّاسِ۔ دماغ۔
 الْفَرْجَةُ۔ پرندہ کا مادہ بچہ۔ ج۔ فَرَاجٌ۔
 چوڑی نوک والا نیزہ۔
 الْمَفْرِجُ۔ بچہ نکلنے کی جگہ۔ ج۔ مَفَارِجٌ۔
 فَرْدٌ، وَفَرْدٌ، وَفَرْدٌ، وَفَرْدٌ،
 فَرْدٌ، وَفَرْدٌ۔ اکیلا ہونا۔
 بِالْاَصْرِ۔ تنہا کام کرنا۔ فَرْدٌ عَيْنِ
 الشَّيْءِ۔ علیحدہ ہونا۔
 فَرْدٌ۔ لوگوں سے جدا ہونا۔ فقیہ ہونا۔
 بَرَّأَيْهِ۔ رائے میں اکیلا ہونا۔
 اَفْرَدَ۔ الشَّيْءُ۔ جدا کرنا۔ اِلَيْهِ رَسُوْلًا۔

قاصد بھینٹ۔ بالامر۔ تمہا کام کرنا۔
 اَفْرَدَتِ الْأُنثَىٰ - ایک بچہ جننا۔
 صفت (مفرد)
 تَفْرَدَ وَالتَّفَرُّدَ وَالتَّفَرُّدَ - بالامر۔
 کسی کام میں یکتا ہونا۔ بے نظیر ہونا۔ و
 التَّفَرُّدَ - اکیلا پانا۔ ساتھیوں میں
 سے نکال لینا۔ التَّفَرُّدَ - یکتا کولینا۔
 جس کا کوئی شیل و ثانی نہ ہو۔
 الفَارِدُ - فَا - وَالتَّفَرُّدُ - بِل - فَارِدٌ کا
 مؤنث الفَارِدَةُ - بمعنی بکری، جو گھر
 میں اکیلے رہ جائے۔ نَائِقَةُ فَارِدَةٌ -
 چراگاہ میں تنہا چرنے والی اونٹنی۔ ج
 فَوَارِدُ۔
 الفَرْدُ - ایک - طاق - ج - فَرَادٌ - بے مثال
 ج - اَفْرَادٌ وَفَرَادِي - دالہ کی
 ایک جانب - ایک ٹوے کی جوتی -
 ج - اَفْرَادٌ - کہا جاتا ہے - هَذَا
 شَيْءٌ فَرْدٌ - یہ منفرد چیز ہے -
 اَفْرَادُ النُّجُومِ وَفَرُودُهَا - الگ الگ
 طلوع ہونے والے ستارے - اَفْرَادُ
 النَّاسِ - بڑے لوگ -
 الفَرْدُ وَالفَرْدُ - ایک - کہا جاتا ہے -
 هَذَا اَنْفِثَ فَرْدًا وَفَرْدًا - یعنی یہ
 بے مثال تلوار ہے اور شئی فَرْدٌ و
 فَرْدٌ وَفَرْدٌ وَفَرْدٌ - یعنی یہ منفرد
 چیز ہے -
 الفَرْدَةُ - فرد کا مؤنث - ج - فَرْدَاتٌ
 وَاَفْرَادٌ وَفَرْدٌ -
 الفَرْدَانُ - ایک - کہا جاتا ہے - شَيْءٌ
 فَرْدَانٌ - یعنی منفرد چیز ہے - مؤنث
 فَرْدِي - کہا جاتا ہے - كَهَيْئَتِهَا
 فَرْدِيْنٌ - یعنی ہمارے ساتھ کوئی
 نہیں تھا -
 الفَرْدَةُ - تنہا جانے والا - کہا جاتا ہے -
 جَاؤْ اَفْرَادًا وَفَرَادًا وَفَرْدِي وَ

فَرَادًا وَفَرَادِي - یعنی وہ لوگ اکیلے
 آگے آئے - وَامد فَرْدًا وَفَرْدًا وَ
 فَرِيدًا وَفَرَادًا -
 الفَرِيدُ - ایک - یکتا - چھوٹا موتی جو سونے
 اور بڑے موتیوں کے بیچ میں ہو نفیس
 موتی - جو ہر جہ - فَرَائِدٌ -
 الفَرِيدَةُ - مؤنث فرید - نفیس جو ہر
 ریشہ کی بڑی کا وہ مہرہ جو دم کی بڑی
 سے ملا ہوا ہوتا ہے - ج - فَرَائِدٌ -
 کہا جاتا ہے - اتی بالفَرَائِدِ - یعنی
 ایسے الفاظ جو فصاحت و بلاغت
 اور عربی الاصل ہونے پر دلالت کریں -
 الفَرَادُ - موتیوں کا بیچنے والا -
 المَفْرُودُ - مفعول واحد - اور اس کا مقابل
 جمع ہے - جگلی بیل -
 المَفْرُودُ - مِنَ الذَّهَبِ - موتی لگا کر
 جدا کیا گیا -
 المَفْرُودُ - فَا - کہا جاتا ہے - رَاكِبٌ
 مَفْرُودٌ - وہ سوار جس کے پاس
 اپنے اونٹ یا گھوڑے کے سوا کچھ نہ ہو
 فَرُودَسَةٌ فَرُودَسَةٌ - بچھاڑ دینا - زمین پر
 پٹک دینا -
 الفَرُودُوسُ - باغِ جَنَّتِ، سرسبز وادی -
 مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہے -
 ج - فَرَادِيْنٌ -
 فَرْدُوسُ النَّعِيْمِ - ایک جنت کا نام -
 الفَرُودَسَةُ - مفعول - گنجائش -
 المَفْرُودِسُ - فَا - کشادہ سینہ والا -
 صَدْرٌ مَفْرُودِسٌ - کشادہ سینہ - کَوْمٌ
 مَفْرُودِسٌ - ٹٹی لگی ہوئی آگہری کی بیل -
 فَرَزْرَحِي، فَرَزَا وَاَفْرَزُ - الشَّيْءُ -
 مِنْ عَمِيْرَةٍ - جدا کرنا - علیحدہ کرنا -
 وَاَفْرَزَ الصَّيْدَ الصَّائِدَ - شکار کا
 شکاری کو فریب سے مارنے کا موقعہ
 دینا - فَلَائِي شَيْءٍ - خاص کرنا اور

کسی کو شریک نہ کرنا -
 فَرَزَ وَاَفْرَزَ - عَلَيَّ بِرَأْيِهِ - قطعی
 حکم لگانا -
 فَارَزَ - شَرِيكَةً - الگ کرنا -
 اَفْتَرَسَ - الامر - اپنے لوگوں کے مشورہ
 کے بغیر فیصلہ کرنا - کہا جاتا ہے اَفْتَرَسَ
 اَمْرًا دُونَ اَهْلِ بَيْتِهِ - اس
 نے اپنے معاملہ میں اپنے گھروالوں سے
 مشورہ کیے بغیر فیصلہ کر لیا -
 تَفَارَسَ - الشَّرِيكِيْنَ الشَّرِيكَةَ - شرکت
 کو فسخ کرنا -
 الفَرَزُ - مفعول - دو پہاڑوں کے درمیان
 کشادگی - دو ٹیلوں کے درمیان پست
 زمین -
 الفَرَزَةُ - سخت زمین میں شکاف -
 الفَرَسُ - ٹیلہ کا راستہ - ساتھی کے لیے
 علیحدہ کیا ہوا حصہ - ج - اَفْرَازُ وَفَرُوزٌ -
 الفَرَزَةُ - جدا کی ہوئی چیز کا ایک حصہ -
 الفَرَزَةُ - باری - فرصت - ٹیلہ کا راستہ -
 الفَارِزُ - فَا - کلام فَارِزٌ - صاف اور
 واضح کلام - لِسَانٌ فَارِزٌ - فیصلہ
 کن زبان -
 الفَارِزَةُ - ریت میں جو راستہ ہو -
 اِلْفَرِيْدُ - مِنَ الْحَارِطِ - دیوار کی کانس
 ج - اَفَارِيْزُ رِيءٍ کلمہ داخل ہے،
 الفَرَزْدَقُ - وہ روٹی جو توند میں گر پڑے
 روٹی کے ٹکڑے - گوند سے ہوئے آٹے
 کے پیڑے - وَامد فَرَزْدَقَةً - تصغیر
 فَرِيْزِقٌ وَفَرِيْزِدٌ - ج - فَرَايِقُ
 لیکن قیاس کے لحاظ سے فَرَايِدُ
 آتی چاہیے -
 الفَرَزْدَقُ - ایک مشہور شاعر کا لقب ہے
 جو کہ اہل بیت کی مدح کیا کرتا تھا -
 تَفَرَّعَ - اِلْجَلَاءُ - گھاس کا جمع ہونا -
 الفَرَّعُ - بنولہ -

الفَوْزَةُ - فَوْزَةٌ كَادَا حِدٍ - كَاسٌ كَا
 كَاسٌ - ج. فَوَائِحٌ -
 فَوْزَلَةٌ قَوْزَلَةٌ - قِيدٌ كَرْنَا -
 الفَوْزِيَّةُ - قِيدٌ مَهْطَلِيٌّ لَكَانَا - لَوَا كَا طِنَا
 كِي قِينِي -
 الفَوْزِيَّةُ - مَوْتَا آدَمِي -
 كَفْرُوتَاتٌ - اَبِيذَقِي - شَطْرَجٌ فِي سِيَادِه
 كَا مَلِكُهُ بِنَا -
 فَوْزَانٌ - شَطْرَجٌ كِي مَلِكُهُ - ج. فَوَائِحِي -
 فَوْسٌ دَمٌ، فَوْسَا وَفَوْسٌ - اَلْاَسَدُ
 فَوْسِيَّةٌ - شِيرٌ كَا رَدَنٌ تَوْرَانَا - شَكَارٌ
 كَرْنَا - اَلذَّبِيحَةُ - رُكٌ كَلُو كَا ط دِينَا
 - اَلْمَشِي - جَدَا جَدَا كَرْنَا -
 فَوْسٌ فَوَاسَةٌ دَمٌ، نَظْرٌ كَا جَمْنَا - كَسِي پَهِزِرُ
 ظَاهِرٌ نَظْرٌ سِي اَسْ كِي بَا طِنٌ كَا حَالٌ
 مَعْلُومٌ كَرْنَا -
 فَوْسٌ دِكٌ، فَوَاسَةٌ وَفَوْسَةٌ وَفَوْسِيَّةٌ
 شَهْ سَوَارِي فِي مَابِرٌ هُونَا -
 فَوْسَةٌ - اَلْمَشِي - پَچَا طِنَا كِي لِي پَهِشٌ كَرْنَا -
 اَفْرَسٌ - عَن بَقِيَّةِ مَالٍ - مَالٌ لِينَا وَر
 كَچْ بَاقِي پَچُوْر دِينَا - اَلرَّاعِي - چَوَا هِي
 كَارِيوْر كِي حَفَاظَتٌ سِي غَافِلٌ هُونَا وَر
 بَهِرِي كَا اِيكٌ بَكْرِي كُو پَچُوْر كَرَلِي جَانَا -
 - فَلَانٌ اَلْاَسَدُ جَمَارَةٌ - اِبْنِي نَجَاتِ
 كِي لِي كَرَمِي كُو پَچَا طِنَا كِي لِي شِيرِ
 كِي سَا مَنِي كَر دِينَا -
 تَفْرَسٌ - فَيَاوُ - نَظْرٌ جَا كَر دِي كَهْنَا - فَيَاوُ
 اَلْحَيَوُ - كَسِي كِي اَنَدَرٌ عِلَامَتٌ سِي
 خِيَر دِي كَهْنَا - اَلرَّجُلُ - بَتَكَلَفٌ شَهْ سَوَارِ
 ظَاهِرٌ كَرْنَا - كَمَا جَاتَا هِي - فَلَانٌ
 لَيْسَ بِقَارِي سِي وَدِي كَهْنَا يَتَفَرَسُ
 فَلَانٌ شَهْ سَوَارِي نِي سِي لِي كِنٌ وَهٌ شَهْ سَوَارِ
 بِنَتَا هِي -
 الفَوْسُ وَفَارِسٌ - مَلَكَتٌ فَارِسٌ كِي بَا شَنَدِي
 اِن كِي مَلِكٌ كُو فَارِسٌ اَوْدَانٌ كِي زَبَانٌ كُو

لغت فارسیہ کہتے ہیں۔
 الفَارِسِيُّ - فَارِسٌ كِي طَرَفٌ نَسُوبٌ - فَوْسٌ
 كَا وَاحِدٌ -
 الفَوْسُ - اِيكٌ قَسْمٌ كِي كَاسٌ -
 الفَوْسُ - كَهُوْرَا - كَهُوْرِي - مَذَكُرٌ كُو حِمَانٌ وَر
 مَوْنَتٌ كُو جَمْرٌ كَهتے هِي - اَوْر بَسَا اَوَقَاتِ
 مَوْنَتِ كِي لِي فَوْسَةٌ هِي اِسْتِحَالِ
 كَرْتِي هِي اَوْر فَوْسٌ كِي جَمْعٌ غَيْرٌ لَفْظٌ سِي
 نَجِيْلٌ آتِي هِي اَوْر اِسِي سِي اَفْرَاسٌ
 هِي - مِيْنٌ كَهُوْرُوْدٌ كِي لِي ثَلَاثَةٌ
 اَفْرَاسِي كَهِي سِي كِي - اَوْر جَمْعٌ كَشْرَتِ
 فَوْسٌ آتِي هِي - اَوْر عَرَبٌ كَا قَوْلٌ
 هَا كَفَرِي سِي رِهَانٌ - مَثَلٌ هِي اِن دُو
 شَخْصُوْدٌ كِي لِي جُو كَسِي اِيكٌ مَقْعَدٌ كِي
 لِي مَرَا بَقْتٌ كَرِي سِي اَوْر كُو شَشٌ وَتِيرَانَدَا زِي
 فِي سَاوِي دَرَجَهٌ رَكَهتے هِي -
 فَوْسٌ - اَلْبَحْرُ - اِيكٌ دَرِيَا تِي جَاوَرٌ هِي -
 جُو بُوْرِي جِسْمٌ اَوْر بُوْرِي سَرٌ كَا هُوْتَا هِي
 اَوْر اِس كِي ثَا لِي كِي اَوْر دَمٌ پَچُوْرِي هُوْتِي هِي
 اَوْر اِس كِي هَر ثَا نَكٌ فِي سِي چَا رُ كَرٌ هُوْتِي
 هِي اَوْر اِس كُو فَوْسٌ اَلْبَحْرُ اَوْر جَا مَوْسٌ
 اَلْبَحْرُ هِي كَهتے هِي -
 الفَوْسِيَّةُ - فَوْسٌ كِي تَصْغِيرٌ مَوْنَتِ كِي لِي -
 الفَوْسِيُّ - فَوْسٌ كِي تَصْغِيرٌ مَذَكُرِ كِي لِي -
 الفَوْسَةُ - فَوْسٌ كَا اِسْمَةٌ دَر - وَ اَلْفَوْسَةُ
 پَچُوْرَا جُو رَدَنٌ فِي هُوْتَا هِي -
 الفَارِسُ - فَا - كَهُوْرَا سَوَارِ - كَهُوْرِي وَ اَلَا -
 ج. فَوْسَانٌ وَ فَوَائِحٌ - كَمَا جَاتَا هِي
 "هُوَ فَارِسٌ بِالْاَمْرِ وَ هُوَ مَعَالِمٌ كَا
 جَلَنِي وَ اَلَا هِي -
 اَلْفَوْسُ شَهْ سَوَارِي كَا مَابِرٌ تَزَادَةُ مَجْمُودِ -
 اَبُو فَوَائِحِي - وَ اَلْفَوَائِحُ - شِيرٌ كَا لَقَبٌ
 اَلْفَوَائِحُ - ذَكِي -
 الفَوْسِيُّ - مَقْتُولٌ كَمَا جَاتَا هِي - تَوْسٌ
 فَوْسِيٌّ وَ بَقْرَةٌ فَوْسِيٌّ - ج. فَوْسِيٌّ

وہ حلقہ جو روسی کے سرے پر باندھا
 جاتا ہے۔
 الفَوْسِيَّةُ - فَوْسِيٌّ كَا مَوْنَتٌ - نِيَزٌ جِسْمٌ كُو
 شِيرٌ وَ غَيْرُهُ پَچَا طِنِي -
 الفَوَائِحُ وَ اَلْفَوَائِحُ - شِيرٌ - مَوْتِي رَدَنٌ
 وَ اَلَا - اَلْفَوَائِحُ - بَسْتٌ زِيَادَةُ بَهَادِرِ
 دِي بَاتِيُوْدٌ كَا چَوْدَهْرِي - ج. فَوَائِحَةٌ -
 اَلْمَفْرُوسُ - رَدَنٌ كِي پَچُوْرِي وَ اَلَا آدَمِي -
 فَوْسَةٌ فَوْسِيَّةٌ - اَلْمَشِي - كَشَادَةُ هُونَا -
 - وَ كَفْرُوتَاتٌ وَ اَلْفَوْسِيَّةُ، اَلْبَدُو
 اَو اَلْمَرَضِي - سَرْدِي بَا بِيَارِي كَا زِيَادَتِي
 كَا مَكٌ هُونَا - كَفْرُوتَاتٌ وَ اَلْفَوْسِيَّةُ -
 اَلهَمْدُ عِنْدَهُ - عَمٌ كَا دَوْرٌ هُونَا - نَأْمَلٌ هُونَا -
 اَلْفَوْسِيَّةُ - رَاحَتٌ سَكُونٌ - مَدَتٌ طَوِيْلٌ -
 مِيْشِرٌ رَهْنِي وَ اَلِي چِيْزٌ شَكَا فٌ - فَوْسِيَّةٌ
 اَلطَوِيْقُ تِيْنٌ مِيْلٌ مَشِي - اَوْر لِقَوْلِ اِبْنِ
 بَارِهٌ هَزَارٌ كَرٌ اَوْر يِهٌ تَقْرِيْبًا اَمْرٌ كَلُوْمِيْرٌ كَا
 هُوْتَا هِي - ج. فَوَائِحَةٌ - اِي كَلْمٌ
 فَارِسِي هِي -
 مَسَاوِيْلٌ (مَفْرُوتَاتٌ) كَشَادَةُ مَشَاوَرِ -
 اَلْفَوْسِيٌّ - اَوْنَتٌ كِي كَرٌ كَا كَنَارُهُ - ج
 فَوَائِحِي -
 رَجُلٌ (مَفْرُوسٌ) اَلوَجْهُ - پُرُوْرَتِ
 چَهْرِهِ وَ اَلْاَمْرُ -
 فَوْسٌ دَمٌ، فَوْسَا وَ فَوْسِيَّةٌ - اَلْمَشِي -
 پَچَا نَا - فَلَانَا اَمْرًا - كَشَادَةُ كَرْنَا -
 اَلرَّجُلُ - پَچُوْرٌ هُوْتَا - عِنْدَهُ - اِرَادَةُ
 كَرْنَا - تِيَارٌ هُونَا - فَوْسَا اَلنَّبَاتُ -
 نَبَاتَاتٌ كَا نَمِيْنٌ پَر پَهِلَنَدِ
 فَوْسِيٌّ - فَلَانَا بَسَا طَا - كَسِي كِي لِي پَچُوْرَا
 پَچَا نَا - اَلدَا رٌ - فَوْسٌ لَكَانَا - اِيْنَتٌ
 اَوْر پَچُوْرٌ پَچَا نَا - اَلزَّرْعُ - پَچِيْلَتَا اَوْر
 پَچُوْرِيُوْدٌ كَا بَرُ هُنَا - اَلطَاوِيْوُ - پَر نَدُهُ كَا
 پَچُوْرٌ پَچَا نَا -
 اَفْرَسَةٌ - بَسَا طَا - كَسِي كِي لِي پَچُوْرَا پَچَا نَا -

کڑی کا ثنا۔ چھیدنا۔ الامت۔ فرض کرنا
 معین کرنا۔ کہ کذا فی اللہ یوران
 خطبہ دینا۔ تنخواہ مقرر کرنا۔ یفلان
 کذا۔ فرض مقرر کرنا۔ لہ۔ وقت
 مقرر کرنا۔ اللہ الاحکام علی
 عباده۔ واجب ٹھہرانا۔
 قرضت (من) وقرضت (ک) فروضنا
 وقرضنا۔ البقرة۔ گائے کا عمر
 رسیدہ ہونا۔ صفت (فارض)
 فرض (ک) قرضت علم فرض کا جاننے
 والا۔ اور ماہر ہونا۔
 فرض۔ الخشبۃ۔ کڑی میں سوراخ کرنا
 الامر۔ واجب کرنا۔
 فرض۔ فلانا شیبًا۔ دینا۔ یفلان
 کذا۔ فرض قرار دینا۔ اقرضت
 المائشیت۔ نصاب کو پہنچنا۔ زکوٰۃ
 کے قابل ہونا۔
 افترض۔ اللہ الاحکام علی عباده۔
 واجب ٹھہرانا۔ القوم۔ قوم کا
 ختم ہو جانا۔ الجند۔ فوج کا
 تنخواہ لینا۔
 الفرض۔ مم۔ من القویں۔ چلہ کمان
 کی جگہ۔ ج۔ قرائض۔ الفرض۔
 اللہ کا بندوں پر مقرر کیا ہوا قانون۔
 اپنے اوپر لازم کی ہوئی چیز۔ علیہ
 تنخواہ۔ تنخواہ و فوج۔ ج۔ فرض
 و فرائض۔ الفرض۔ نصرانیوں کے
 عرف میں وہ فرض نماز جو وقت معین پر
 ادا کی جائے۔ کتاب الفرض۔ وہ
 کتاب جس میں فرض نمازوں کا بیان ہو۔
 الفرض۔ کثانی۔
 الفرضۃ۔ من النهیر۔ دریا کا دہانہ۔ وہ
 کڑی جس میں دریا کی چول ہو۔
 من البحر۔ بندگاہ۔ من القویں
 کمان کا سرا جو تانت لگانے کے لیے

کاٹا جائے۔ من الدواقی۔ دوات
 میں سیاہی کی جگہ۔ فرضۃ الجبل
 پہاڑ کے وسط میں پست جگہ۔ ج
 فرض و فرائض۔
 الفراض۔ کپڑا۔ دریا کا دہانہ۔
 الفراض۔ فا۔ موٹا۔ پرانا۔ ج۔ فرض۔
 مؤنث فارضہ۔ ج۔ قرضات۔
 و قوارض۔ و القرضین و القرضی
 و القراض۔ علم فرائض کا جاننے والا۔
 القرضۃ۔ فرض۔ زکوٰۃ۔ مقرر کردہ حصہ
 ج۔ قرائض۔ علم القرائض۔ وہ
 علم جس میں وارثین کے حصص بیان کیے
 جائیں۔ اکتساب القرائض۔ وہ
 وراثت جن کے حصے مقرر ہوں۔
 الیقرض و الیقرض۔ کاٹنے کا انداز۔
 المفروض۔ منع۔ اللہ کا حکم جو بندوں پر
 واجب ہو۔ کاٹنا ہوا۔ محدود۔
 فرط (ن) فروطاً۔ آگے بڑھنا۔ مقدم
 ہونا۔ فرطاً فی الامر۔ کوتاہی
 کرنا۔ منہ قول۔ بغیر کچھ بڑھے
 کنا۔ وندہ شیء۔ ہاتھ ہٹانا۔
 علیہ فی القول۔ پیش دستی کرنا اور
 حد سے گزرنا۔ علی فلان۔ جلدی
 کرنا۔ تکلیف دینا۔ فرطاً۔ غالب
 ہونا۔ فرط الیہ رسولاً۔ قاصد
 روانہ کرنا اور جلدی کرنا۔ وکذا۔
 چھوٹا بچہ مرنا۔
 فرط (ن من) قوطاً و فراطاً۔
 القوم۔ گھاس پانی کی طرف قوم سے
 چلے جانا۔ صفت فراط۔ ج۔ فراطون
 و فراط۔
 فرط۔ الشیء فی الشیء۔ ضائع کرنا۔
 متفرق کرنا۔ فی الشیء۔ کوتاہی کرنا۔
 عاجزی کرنا۔ قوطاً۔ چھوڑ دینا اور
 آگے بڑھ جانا۔ بدع کرنا یا بھوک کرنا۔

اور حد سے گزرنا۔ قوطاً عنہ۔ مہلت
 دینا۔ رکنا۔ الیہ رسولاً۔ قاصد بھیجا
 فرط اللہ عنہ ما یکرہ۔ دور کرنا۔
 ہٹانا۔ دفع کرنا۔
 افرط۔ زیادتی یا کمال کے لحاظ سے حد سے
 بڑھ جانا۔ جلدی کرنا۔ رسولاً۔
 قاصد بھیجا۔ الامر۔ بھولنا اور
 چھوڑنا۔ الاناء۔ برتن کو بالاب بھرنا
 بیدہ الی الشیف لیستک۔
 تلوار کھینچنے میں جلدی کرنا۔ علی الرجل
 طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ فلان
 ولدًا۔ نابالغ بچہ کا وفات پا جانا۔
 الشیء۔ بھولنا۔ چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے۔
 ما افرط منہم لحدًا۔ یعنی کسی
 کو نہیں چھوڑا۔
 فراطاً قراطاً و مفراطاً۔ سبقت
 لے جانا۔ پالینا۔
 تفرط۔ الشیء۔ وقت گزر جانا۔ الفرض
 الخیل۔ گھوڑے کا سابق ہونا۔ آگے
 بڑھ جانا۔
 تفرط۔ آگے بڑھنا۔ القوم۔ آگے
 بڑھنے کی کوشش کرنا۔ الشیء۔ وقت
 کا ہاتھ ہٹانا۔ کہا جاتا ہے۔ تفرطت
 الصلوٰۃ عنہ و قہرہا۔ نماز اپنے
 وقت سے بڑھ کر ہو گئی۔ تفرطت
 الصوم۔ غم کا لاجی ہونا۔
 افرط۔ کھلنا۔
 افترط۔ وکذا۔ ہم نے بچہ کو مرنا۔
 الیہ فی الامر۔ آگے بڑھنا۔ سبقت
 لے جانا۔ کہا جاتا ہے۔ فلان لا یفرط
 احسانہ۔ یعنی فلاں کے احسان
 کے فوت ہونے کا خوف نہیں کیا جاتا۔
 الفراط۔ مم۔ افراط کا اسم ہے۔ ٹیلہ کا سرا
 پہاڑ کی چوٹی۔ راستہ کا نشان۔ ج۔
 افرط و افراط۔ الفراط۔ وقت

کجا جاتا ہے۔ اُنہیں فرطاً ہیں
اس کے پاس چند دن کے بعد آیا اور
یہ پندرہ دن سے زائد اور تین دن سے
کم نہیں ہوتا۔ وَاَتَيْكَ فَرَطٌ يَعْرِمُ
او يَوْمَيْنِ: یعنی ایک یا دو دن
کے بعد آؤں گا۔ وَلَا الْقَائِدُ الْاَرَفِيُّ
الْفَرَطُ: یعنی چند ایام میں ایک مرتبہ
لوں گا۔

الْفَرَطُ: دامن کرہ۔ یہ خاص ہے۔ افراط
الصباح۔ صبح کی پہلی شعاعیں۔
الْفَرَطُ: پانی کی طرف قوم سے آگے
بڑھنے والا۔ اس میں واحد جمع برابر
ہیں۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ فَرَطٌ
قوم فَرَطٌ: اسی سے ہے: اَنَا
فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ: الفَرَطُ
پہلا پہنچا ہوا اجر۔ جلد بازی۔ وہ کام
جس میں کوتاہی کی جائے۔ نابالغ بچہ
کہا جاتا ہے: سَبَقَهُ فَرَطٌ كَثِيرٌ:
بہت سے نابالغ بچے مر گئے۔ اور بچہ
کی میت کے دعائیں تھے ہیں: اَللّٰهُمَّ
اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا: اے اللہ! اس
کو ہمارے لیے آگے پہنچنے والا اجر
بنادے۔

الْفَرَطُ: چھوڑا ہوا کام۔ حد سے گذرا ہوا۔
اسراف، ظلم و زیادتی۔ وہ تیز گھوڑا
جو سارے گھوڑوں سے آگے بڑھ
جائے۔

الْفَرَطَةُ وَالْفَرَطَةُ: نکلنا اور آگے بڑھنا۔
کہا جاتا ہے: هُوَ ذُو فَرَطَةٍ رِي
الْبِلَادِ: یعنی بہت سفر والے۔
الْفَرَاطَةُ: الماءُ الْفَرَاطُ: وہ پانی جو
چند قبیلوں کے درمیان مشترک ہو۔
اور جو اس تک پہنچے پہنچ جائے، اسی کا
ہو جائے، اسی طرح سَبَقُوا فَرَاطَةً
بھی کہا جاتا ہے یعنی مشترک کنٹناں۔

تَمَكَّنُوا فَرَاطًا: یعنی سوچے سمجھے اس کی
رہبان سے کچھ کلمے نکلے۔
مَفَارِطٌ: البلاد۔ اطرافِ بلاد۔
فَرَطَةٌ فَرَطَةٌ: الشَّيْءُ: چوڑا کرنا۔
رَأْسٌ فَرَطٌ وَمَفْرَطٌ: چوڑا سر
فَرَطِيٌّ: الْخَيْزُرِيُّ: فَرَطُوسَةٌ و
فَرَطِيْسَةٌ: سورا کا اپنی ناک کو
درا کرنا۔ جہر فَرَطِيْسِيٌّ: الْفَرَطِيْسَةُ
ناک کا بانہ۔

الْفَرَطَايُ: چوڑا۔
فَرَعٌ رَفٌّ، فَرَعًا وَفُرُوعًا: الْجَبَلُ:
پہاڑ پر چڑھنا۔ الْوَادِيَّةُ: وادی
میں اترنا۔ الْاَرْضُ: زمین میں چکر
لگانا۔ الْقَوْمُ: قوم سے شرافت اور
خوبصورتی میں فائق ہونا۔ الْفَرَسُ
بِالْحِجَامِ: گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا
- رَأْسُهُ بِالْعَصَا: سر پہ لٹکائی ماننا
- بَيْنَ الْقَوْمِ: روک بن جانا۔ یا
اصلاح کرنا۔ کہا جاتا ہے: هَذَا
أَوَّلُ صَيْدِي فَرَعَةٌ: یہ پہلا شکار
ہے جس کا خون گرایا۔

فَرَعٌ رَسٌّ، فَرَعًا: بہت بالوں والا ہونا
صفت مذکر اَفْرَعٌ: موزٹ فَرَعَاءُ
جہ: فَرَعٌ

فَرَعٌ: فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔
مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ سے اترنا۔
بَيْنَهُمْ: تفریق کرنا۔ الْمَسَائِلُ
مِنَ هَذَا الْأَصْلِ: قاعدہ یا دلیل سے
فروعی مسائل کا نکالنا۔ فِي الْاَرْضِ:
زمین میں چکر لگانا۔

أَفْرَعٌ: مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ سے اترنا۔
بِالْقَوْمِ: قوم کے پاس اترنا۔
الشَّيْءُ: طویل و بلند ہونا۔ الْأَمْرُ
شروع کرنا۔ الْحِجَامُ الْفَرَسُ:
گھوڑے کے منہ کو لہولہان کر دینا۔

أَفْرَعَتِ: الضَّبْعُ الْقَوْمُ اَوْ فِي الْقَوْمِ:
بچہ کا بکریوں میں تباہی ڈالنا۔ اور ان
کو مار ڈالنا۔ الْاِبِلُ: اونٹنی کا پہلا
بچہ جننا۔ الْقَوْمُ مِنْ سَفَرِهِمْ:
سفر کی واپسی کے وقت سے پہلے واپس
آجانا۔ الْاَرْضُ: زمین میں چکر لگانا۔
- الْفَرَعَةُ: پہلا بچہ ذبح کرنا۔
أَهْلُهُ: اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا
- حَاجَتُهُ أَوْ سَفَرُهُ: کام یا سفر کا
شروع کرنا۔

أَفْرَعٌ: بِفُلَانٍ: پکڑا جانا اور قتل کیا جانا۔
فَارَعًا: کفایت کرنا۔ اور کسی کا بار اپنے
ذمہ لے لینا۔

أَفْرَعٌ: الْبِكْرُ: کنواری لڑکی کی بکارت
رائل کرنا۔

تَفْرَعٌ: الْقَوْمُ: گالی دینا۔ فائق ہونا۔
الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ تَفْرَعَتِ الْأَغْصَانُ
شبنیل کا بہت ہونا اور ادھر ادھر
پھیلنا۔ تَفْرَعُ الْمَسَائِلُ: مسائل کا
اصول سے متفرع ہونا۔ الشَّيْءُ عَلَى
الشَّيْءِ: مرتب ہونا۔ مبنی ہونا۔

اِسْتَفْرَعٌ: الشَّيْءُ: شروع کرنا۔ الرَّجُلُ
پہلے بچہ کو ذبح کرنا۔

الْفَرَعُ: مَصٌّ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر شے کا
اوپر کا حصہ جو جڑ سے نکلا ہو۔ جیسے
فروع شجرہ۔ درخت کی شاخ۔
منفعت بخش مال۔ الْفَرَعُ فِي
الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ: مسائل قیاسیہ
یعنی وہ مسائل جو کسی دوسری چیز پر
مبنی ہوں اور اس پر ان کو قیاس کیا
گیا ہو۔ اس کے مقابل اصل ہے۔

فَرَعُ الْمَنَاءِ: حسرت کے سر کے بال
جوٹی۔ فَرَعُ الْقَوْمِ: خریف، بوجار۔
الْاُذُنُ: کان کا اوپر کا حصہ۔
فَرُوعٌ: الْفَرُوعُ: رُوَيْسٌ وَفَرَعَةٌ

ایک جڑی اور قرع جمع ہے۔ کہا جاتا ہے "صَوَّبَهُ عَلَى قَتْلِ الْيَتِيمِ" یعنی سرین کے اس حصہ پہاڑا جو کہ بیٹے میں زمین پر لگتا ہے۔

الْفَرَاغُ: گھاٹیوں کی طرف ہانی بننے کی جگہ۔ الْقَرْعُ: اونٹ یا بکری کا پہلا بچہ۔ قَرْعَةُ: تقسیم کیا جاتا ہے۔ "كُرَا ضَوْأً بِالْقَرْعِ" یعنی تقسیم پر راضی ہو گئے۔ الْفَرْعَةُ: راستہ کا بلند اور اوپر کا حصہ۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ج۔ فَرَاغٌ۔

الْفَارِغُ: فا۔ خوبصورت۔ بلند۔ اس کی مند مستعمل ہے۔

الْفَارِغَةُ: فارغ کا مؤنث۔ فَا رِغَاةٌ: الجبل۔ پہاڑ کا بلند حصہ۔ ج۔ فَوَارِغٌ رِفَارِغَةُ الْعَطْرِيقِ وَفَرَاغَةُ: راستہ کا اوپر والا اور وہ آخری حصہ جس پر راستہ ختم ہو جائے۔

الْبِفْرَغُ: لوگوں کے درمیان صلح کرنے والا۔ ج۔ مَقَارِعُ۔

الْمُفْرَعُ: برہمیز کا طویل۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ مُفْرَعٌ الْكُتْفِ: یعنی فلان شخص پورے اور بلند موڑ سے والا ہے۔

فَرَعَنَ قَرْعَةً: الرجل۔ بکری کرنا۔ مکار فریبی ہونا۔

تَفَرَّغَنَ: النَّبَاتُ: گھاس کا لمبی اور قوی ہونا۔ فُلَانٌ عَلِيْنَا: سرکش اور زبردستی کرنا۔ فَرَعُونَ جیسے اخلاق اختیار کرنا۔

فَرَعُونَ وَفَرَعُونَ وَفَرَعُونَ: یہ مصر کے بادشاہ کے لقب ہیں یعنی فریب سرکش۔ ج۔ قَرَا عِنَاةً۔

قَرَعَنَّ رَنَفٌ، قَرَاغَا وَفَرَاغَا، وَفَرَاغٌ رَسٌّ: مَن الْعَمَلِ: کام پورا کر کے خالی ہونا۔ کہ او لَئِيْهِ: قصد کرنا۔ وَقَرَعَنَّ الرَّجُلُ قَرَاغَا، مَرَجَانَا: قَرَاغٌ

دَمَلَةٌ: خون کا رائیگاں جانا۔ یعنی بدلہ کا مطالبہ نہ کیا جانا۔ مَن الْمَشِي: تمام کرنا۔ الْعَلْوَقَةُ: برتن کا خالی ہونا۔ قَرَعَمُ قَرَاغَا: عَلَيْهِ الْمَاءُ: پانی بہانا۔

قَرَعَنَّ رَنَفٌ، قَرَاغَةً بِي مَن هُونَا: مَهِرَانَا: قَرَعَتِ الطَّعْنَةُ: نِزْمٌ كَالْمُزْمِ: صَفْتٌ قَرِيْبَةٌ: کا چھڑا ہونا۔ صفت قریبہ۔

قَرَعَنَّ رَسٌّ، قَرَاغَا: الْمَاءُ: پَانِي كَالرَّغَا: أَرَعَمُ وَقَرَعَمُ: الْمَاءُ: پَانِي كَالرَّغَا: الْاِنَاءُ: برتن کو خالی کرنا۔ فَرَعَمُ

الْمَاءُ: خُونٌ بَسَانَا: کہا جاتا ہے۔ قَرَعَنَّ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبْرَ: یعنی اللہ اس کو صبر سے۔ أَرَعَمُ الذَّهَبِ وَتَحْوَةٌ: سونے وغیرہ کو کسی سانچہ میں ڈھالا۔

تَفَرَّغَ: کام سے خالی ہونا۔ الْاَمْرُ: کسی کام میں اپنی پوری طاقت لگا دینا۔ اور پوری پوری کوشش کرنا۔

رَاقَتَرَعَمُ: الْمَاءُ: اپنے اوپر پانی بہانا۔ اِسْتَفْرَعَمُ: قَرَاغَا: كَجَهْوَدَةٍ يَكْدَا: پوری طاقت لگا دینا۔

الْقَرْعُ: برتن کا وہ کنارہ جس سے پانی گرایا جائے۔ کہا جاتا ہے: هَذِهِ كَطَعْنَةُ ذَاتِ قَرْعٍ: یعنی یہ نیرے کا زخم چوڑا ہے جس سے خون بہ رہا ہے۔ قَطْرَةٌ زَيْنٌ: ج۔ قَرَاغَمُ۔

الْقَرْعُ: بَسْرُ الْفَاءِ: یہ بھی قَرَاغَمُ کے معنی میں ہے۔ کہا جاتا ہے: ذَهَبَ دَمُهُ قَرَاغَا وَقَرَاغَا: یعنی اس کا خون رائیگاں گیا۔

الْقَرِيْعُ: یعنی فَا رِغٌ۔ الْفَرَاغُ: ڈول کا وہ کنارہ جس سے پانی گرایا جائے۔ برتن۔ بڑا پیالہ۔ جانور کی پیٹھ پر لدے ہوئے بوجھ کا ایک طرف

کا حصہ۔ نیرے کا چوڑا حصہ۔ وہ جانور جو چلتے وقت کشادہ قدم رکھے۔ ج۔ اَفْرِيْعَةٌ: کہا جاتا ہے: رَجُلٌ قَرَاغٌ: یعنی وہ تیز رفتار آدمی جس کے قدموں کا درمیانی فاصلہ وسیع ہو۔

الْقَرِيْعُ: چوڑی ہموار زمین۔ گویا کہ وہ چوڑے قدم رکھنے والے جانور کا راستہ ہے۔ ج۔ فَرَاغٌ: رَجُلٌ قَرِيْعٌ: تیز زبان مرد۔ طَوِيْقٌ قَرِيْعٌ: کشادہ راستہ۔ فَهْرَبَةٌ قَرِيْعٌ وَقَرِيْعَةٌ: تلوار کا کشادہ زخم جس سے خون ہے۔

الْقَرِيْعَةُ: قَرِيْعٌ كَالْمُوْتِ: یہ بھی اسی کے معنی میں ہے۔ پَانِي كَالْمَهِكْلِ: الْاَفْرَعُ: فَا رِغٌ: مُوْتٌ قَرَاغَا: طَعْنَةٌ قَرَاغَا: کشادہ زخم۔ الْفَرَاغُ: کشادہ برتن۔

يَزْهَمُ مَفْرَعٌ وَمُفْرَعٌ: سا پنچ میں ڈھلا ہوا دم۔ جس پر شاہی نشان نہ ہو۔ قَرَسٌ مُسْتَفْرَعٌ: انتہائی تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

الطَّرْفُجُ: چکنی پھلنے والی زمین۔ قَرَقَرٌ: قَرَقَرًا: تیز چلنا اور قدم قریب قریب رکھنا۔ الْهَوِيْرُ: ہلکی کو جھاڑنا۔

الرَّجُلُ فِي كَلَامِهِ: کلام میں غلطی اور زیادتی کرنا۔ الشَّيْخُ يَجَاوِزُنَا: حرکت دینا۔ تَرَلْنَا: الْاَلْفُ الْاَلْفَا: لکڑے ٹکڑے کرنا۔ الرَّجُلُ: نسبت کرنا۔ اَبْرُ يَرْحَلُ كَرْنَا: قَرَاغَا: کسی پر چلانا۔

الْفَرَسُ الْهَامُ: گام کو سوسے علیحدہ کرنے کے لیے حرکت دینا۔ الْفَرَفُورُ وَالْفَرَفُورُ: چڑیا۔ الْفَرَفُورُ وَالْفَرَفُورُ وَالْفَرَفُورُ: وہ شیر جھانپنے ہمسراختی کو بھاڑ دے۔

بِئْرٍ يَابِكْرِي يَابِكْرِي كَالْبَحْرِ: حِوَانٌ رَطَا الْفَرَاغُ: بِي قَوْتِ: بہت بکرا اس کرنے

والا کہا جاتا ہے: **الْفَرْقُ يُقَرِّبُ**
الْجَمَامَ فِي قَيْدِهِ گھوڑے کا اپنے منہ
 میں لگام کو ہلاتے رہنا۔
الْفَرْقَارُ۔ ایک درخت ہے جس کے پیالے
 بنائے جلتے ہیں۔ اس کی لکڑی اس
 قدر سخت ہوتی ہے کہ آگ میں پڑ کر
 دیر تک جلتی رہتی ہے۔ جلدی سے خاکستر
 نہیں ہوتی۔
الْفَرْقَارُ۔ وہ شیر جو اپنے ہمسر کو پھاڑ دے۔
فَرْقٌ رَنْحٌ، **فَرْقًا** و **فَرْقَانًا**۔ **بَيْنَهُمَا**
 جدا کرنا۔ **الْبَحْرُ**۔ سمندر کا پھاڑ کر
 دو حصے کر دینا۔ **فَرْقًا**، **الشَّعْرُ**
 بالوں میں کنگھی کرنا۔ مانگ نکالنا۔
الطَّائِرُ۔ پرندہ کا بیٹ کرنا۔
فَرْقٌ رَنْحٌ، **فَرْقًا**۔ **لَهُ الطَّرِيقُ**۔ راستہ
 کا واضح ہونا۔ **الْأَمْرُ يَفْلُحُ**۔ ظاہر
 واضح ہونا۔ **فَرْقَتِ النَّاقَةَ**۔ اونٹنی
 کو دو روزہ شروع ہونا۔ **فَرْقٌ لَهُ**
عَيْنُ الشَّيْءِ۔ ایک شے کو دوسری سے
 ممتاز کر کے بیان کرنا۔
فَرْقِي (س)، **فَرْقًا**۔ **عِنْدَهُ**۔ گھبراتا۔ کہا جاتا
 ہے: **فَرْقِي خَيْرٌ مِنْ حُبِّ**؛ یعنی
 تیرا اس سے ڈرنا اور علیحدہ رہنا بہتر
 ہے۔ اس سے کہ تو اس سے محبت کر
 لے۔ **الرَّجُلُ**۔ مروج میں داخل ہونا۔
أَفْرَقَ۔ **الطَّائِرُ**۔ پرندہ کا بیٹ کرنا۔
الطَّائِرُ۔ پرندہ سے بیٹ کرنا۔
الْمَرْيَعِيُّ **مِنْ مَرْيَعِهِ**۔ مرین کا اذقہ
 پانا۔ تندہ سے ہوجانا۔ **عَقَّةُ** بکریوں
 کو ضائع کر دینا۔ گھودینا۔
فَرْقِي **تَفْرِيقًا** و **تَفْرِيقَةً**۔ **الشَّيْءِ**۔
 تقسیم کر کے جدا جدا کرنا۔ **الرَّجُلُ**۔
 خوف دلانا۔ **شَعْرًا** **بِالْمَنْطِقِ**۔ کنگھے
 سے بالوں کو جدا کر کے مانگ نکالنا۔
فَارَقَهُ **فِدَاقًا** و **مُفَارِقَةً**۔ علیحدگی و

جدائی اختیار کرنا۔
تَفَرَّقَ **تَفَرُّقًا** و **تَفَرُّقًا** و **فَاتَرَّقَ** و
تَفَارَقَ۔ **مِنْ** **تَجَمُّعٍ** و **تَجَمُّعٍ**
 اور **تَجَمُّعٍ** کی کہا جاتا ہے **تَفَرَّقَتْ**
بِحِجْمِ الطَّرِيقِ۔ یعنی ہر ایک ان میں
 سے الگ الگ متفرق راستوں میں
 چل دیا۔
الْفَرْقُ۔ **عَنْهُ**۔ جدا ہونا۔ **لَهُ الطَّرِيقُ**
 راستہ کا واضح ہونا۔
الْفَرْقُ۔ **مَم**۔ سر کے بالوں کا درمیان راستہ
 یعنی مانگ۔ **كَمَانٍ**۔
الْفَرْقُ۔ **بِالْكَسْرِ**۔ بچوں کی ٹولی۔ **جماعت**،
 گروہ۔ **الْقِسْمُ**۔ یعنی ہر چیز کا تقسیم
 میں آیا ہوا حصہ۔ **الْفَلَقُ مِنَ الشَّيْءِ**۔
 کسی چیز کا ٹوٹنا۔ **بِالْكَسْرِ**۔ **الْفَرْقُ**،
 ٹیلہ، مروج، بکری وغیرہ کا ریوڑ۔
الْفَرْقُ۔ **مَم**۔ گھبراہٹ۔ صبح یا ابتدائے
 صبح۔ **ج**۔ **أَفْرَاقٌ** و **أَفْرَاقٌ**۔
الْفَرْقُ۔ سامنے کے دو دانتوں کا
 فاصلہ اور دوری۔ **فِي الْخَيْلِ** گھوڑے
 کے ایک سر میں کا دوسرے سے اٹھا
 ہوا ہونا جو کہ ناپسندیدہ ہے۔
الْفَرْقَانِ۔ **مَم**۔ ہر وہ چیز جس سے حق و
 باطل میں امتیاز ہو۔ **دلیل**۔ **مدد**۔ **صبح**،
سحر، **اول صبح**۔ **توراة**۔ **قرآن**۔
الْفَرْقُ۔ ایک پیمانہ جس میں میں صاع یا
 سولہ رطل آئے۔
الْفَرْقَةُ۔ لوگوں کی ایک جماعت۔ **ج**۔
فَرْقٌ۔
الْفَرْقَةُ و **الْفِرَاقُ**۔ **جُدَائِي**۔
الْفَرْقُ و **الْفَرْقُ** و **الْفَارِقُ** و **الْفَرْقُ**
 و **الْفَرْقُ**۔ بہت گھبرانے والا۔ **مَنْوُثٌ**
فَرْقَةٌ و **فَرْقَةٌ**۔ **بُنْتُ** **فَرْقٌ**۔
 متفرق یا چھوٹی گھاس جو زمین کو نہ
 چھپا سکے۔

الْفَرْقَةُ و **الْفَرْقَةُ** و **الْفَارِقَةُ**۔ **مَرْدٌ**
 عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔
 بہت گھبرانے والا۔ **بزدل**۔
الْفَرْقُ۔ **رِيوِزٌ**۔ آدمیوں کا ایک گروہ اور
 بڑی جماعت۔ **فَرْقِي** **الْخَيْلِ**۔ دوسروں
 سے آگے بڑھنے والا گھوڑا۔ **ج**۔ **أَفْرَاقٌ**
 و **أَفْرَاقٌ** و **فَرْقٌ**۔
الْفَرْيَقَةُ۔ بکریوں کا ریوڑ۔ ایک قسم کا کھانا
 جو زچہ کے لیے پکایا جاتا ہے۔
الْأَفْرَاقُ۔ مانگ والا۔ جس کے داڑھی کے یا
 پیشانی کے بال جدا کیے ہوئے ہوں جس
 کے دانت جدا جدا ہوں۔ **دِيكَ** **أَفْرَقٌ**
 وہ مرغ جس کی کلنی شاخ در شاخ ہو
تَنْبِيئٌ **أَفْرَقٌ**۔ وہ مینڈھا کہ جس کے
 سینگوں میں دوری ہو۔ **مَنْوُثٌ** **فَرْقًا**۔
الغابِطُ۔ **فَا**۔ **مَنْوُثٌ** **فَارِقَةٌ**۔ **ج**۔
فَوَارِقٌ و **فَارِقَاتٌ**۔ بادل کا وہ
 ٹکڑا جو دوسرے بادلوں سے علیحدہ ہو
 وہ اونٹنی جو روزہ شروع ہوجانے پر
 دوسرے اونٹوں سے علیحدہ ہو کر اکیلی
 ہو گئی ہو۔ **ج**۔ **فَوَارِقٌ** و **فَرْقٌ** و
فَرْقٌ و **فَرْقًا**۔ **الْفَارِقُ**۔ ہر وہ چیز
 جو حق و باطل کو جدا کر دے۔
الْفَارِقُ۔ ہر وہ شخص جو امور میں فیصلہ
 کرے اور یہ لقب ہے حضرت عمرؓ بن
 خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ کہا جاتا ہے۔
مَنْوُثٌ **تَفَارِيقٌ** **مَتَاعِهِ**۔ اس نے
 اپنے متفرق سامان کو اکٹھا کیا۔ اور کہا
 جاتا ہے: **أَخَذَ حَقَّهُ** **بِالتَّفَارِيقِ**
 یعنی اس نے اپنا حق تھوڑا تھوڑا کر
 کے لیا۔
الْمَفْرُوقُ و **الْمَفْرُوقُ**۔ **مِنْ** **الطَّرِيقِ**۔ راستہ
 کا وہ حصہ جہاں سے مختلف راستے نکلیں۔
الْمَفْرُوقُ **مِنْ** **الشَّعْرِ**۔ بالوں کا وہ حصہ
 جہاں سے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے مانگ

نحال جاتی ہے۔ جدائی کی جگہ۔ ج۔
 مَفَارِقٌ۔ کما جاتا ہے: وَقَعَهُ عَلَيَّ
 مَفَارِقِي الْحَدِيثِ: یعنی اس کو
 حدیث اور گفتگو کے واضح طریقوں پر
 مطیع کیا۔
 الْفَرَقْدُ۔ وہ ستارہ جو قطب شمالی کے
 قریب ہے اور اس سے لگ راستہ
 معلوم کرتے ہیں۔ اور اس کی دوسری
 جانب میں ایک دوسرا ستارہ ہے جو اس
 سے روشنی میں کم ہے۔ پھر دونوں کو
 فَرَقْدَانِ کہتے ہیں۔ الْفَرَقْدُ مِنَ
 الْأَرْضِ۔ سخت ہموار زمین۔ الْفَرَقْدُ
 نیل گائے کے بچہ کو بھی کہتے ہیں۔ ج۔
 فَرَاقِدٌ۔
 فَرَقَعٌ فَرَقَعَهُ دَاخِرًا عِلْمًا تَبَرُّؤُهُنَّ۔
 گوز کرنا دباخانہ کے راستہ سے ہوا کا
 خارج ہونا، صفت فَرَقَاعٌ۔ فَرَقَعَ
 الْأَصَابِعَ۔ انگلیاں چٹمانا۔ فَلَانَا۔
 گردن مروٹنا۔
 تَفَرَّقَ وَفَرَّقَ۔ فَرَقَعُ كَمَا مَطَاوِعُ
 فِي مَعْنَى الْكَلْبِ كَمَا مَطَاوِعُ
 عَنْهُ۔ کسی سے علیحدہ ہو کر دور ہو جانا۔
 فَرَقٌ (ن) فَرَقًا۔ الثوبُ۔ کپڑے کو
 لٹنا۔ الشَّيْءُ عَنِ الثَّوْبِ۔ کسی چیز
 کو گرگڑ کر یا کھرچ کر کپڑے سے زائل
 کر دینا۔ الْجَوْشُ وَنَحْوُهُ۔ اخروٹ
 وغیرہ کو گرگڑ کر چھلکا اتار دینا۔
 فَرَكَةٌ (ر) فَرَكًا وَفَرُوكًا وَفَرُوكًا وَ
 فَرُوكًا نًا۔ بعض رکھنا اور کہا گیا ہے
 کہ یہ میاں بیوی کے بغض کے لیے
 مخصوص ہے۔
 فَرَكْتُ (ر) فَرَكًا۔ الْأَذُنُ۔ کان کی
 جڑ کا ڈھیلا ہونا۔ صفت فَرَكَةٌ وَ
 فَرُوكًا۔
 فَرَكٌ۔ رگڑنے میں مبالغہ کرنا۔ یعنی بار بار

رگڑنا۔

فَارَكَهُ مُفَارَكَةً۔ ایک دوسرے کو
 چھوڑ بیٹھنا۔

أَفْرَكٌ۔ السُّبُلُ یعنی صارف قویگا۔ یعنی
 جب اس قابل ہو جائے کہ اس کو مل کر
 اس کے دانے کھائے جائیں۔

تَفَرَّكَ۔ رفتار یا گفتگو میں الٹنا۔ ٹکڑے
 ٹکڑے ہونا۔ (وَالْفَرَّكَ) فَرَّكَ

اور فَرَّكَ کے مطاوع ہیں۔ کہا جاتا
 ہے: "الْفَرَّكَ مَكْبُتٌ فَلَانٍ" یعنی
 فلاں کا مونڈھا اتر گیا، اپنی جگہ سے
 ہٹ گیا۔

اسْتَفْرَكَ۔ الْحَيْثُ فِي السُّبُلَةِ۔ دانہ کا
 خوشہ میں سخت اور موٹا ہونا۔

الْفَرَّكَ۔ بَعْضُ بَعْضٍ زَوْجِينَ۔

الْفَرَّكَ۔ چھلکا اتر اہوا۔ کہا جاتا ہے: "كُوِّزَ
 فَرَّكَ" چھلکا ہوا ہوا۔

الْفَارِكُ۔ فَا۔ اِمْرَاةٌ قَارِكٌ۔ یعنی
 شوہر سے بغض رکھنے والی عورت۔ ج۔

قَوَارِكٌ۔
 الْفَرُوكُ۔ بعض رکھنے والا۔ شوہر سے بغض
 رکھنے والی عورت۔

الْفَرُوكُ۔ چھلکے سے نکلا ہوا دانہ۔ اور
 وہ کھانا جو گھی میں ملا کر بنایا جائے

الْمَفْرُوكُ۔ مَفْعٌ۔ مِنَ الْأَبْلِ۔ وہ اونٹ
 جس کے مونڈھے اپنی جگہ سے ہٹ گئے

ہوں۔ مِنَ الشَّيْبِ۔ بست گہرا رنگا
 ہوا کپڑا۔

الْمَفْرُوكُ۔ چھوڑا ہوا۔ مَخْمُومٌ۔
 أَفْرَمٌ۔ الْأَلَاءُ۔ برتن کو بھرننا۔

الْأَفْرَمُ۔ گرے ہوئے حالت والا۔
 الْفَرْمَانُ۔ پیمانہ شاہی درعایا کے لیے

شاہی احکام، جو۔ قَرَامِيَتِينَ۔
 الْفَرُونُ۔ وہ جگہ جو تنور کے علاوہ روٹی پکانے

کے لیے بنائی گئی ہو۔ ج۔ أَفْرَانٌ۔

الْفَرَانُ۔ مُتَطَلِّمٌ مَطِيحٌ۔ روٹی پکانے والا۔

الْفَارِكَةُ۔ روٹی پکانے والی۔

الْفَرُوقِيُّ۔ موٹی گول روٹی۔ واحد فَرُوقِيَّةٌ ہے
 سخت بدن کا آدمی۔

الْفَرِيْنْدُ۔ انار کا دانہ۔ تلوار۔ جوہر۔ تلوار۔ تلوار
 کا نقش و نگار۔ کہا جاتا ہے: "سَيْفٌ

فَرِيْنْدٌ" ہے مثل تلوار۔ ج۔ قَرَانِدٌ۔
 الْفَرِيْنْدُ۔ ایک قسم کا کپڑا۔ یہ فارسی لغت

برند کا معرب ہے۔
 الْإَفْرِيْنْدُ۔ جوہر تلوار۔ تلوار کے نقش و نگار

ج۔ إِفْرِيْنْدَاتٌ۔
 قِرَّةٌ (ر) فَرَهَا۔ خوش ہونا۔ اکرٹنا۔

صفت رَقِرَةٌ۔
 قِرَّةٌ (ر) فَرَاهَةٌ وَفَرُوهُةٌ وَفَرَاهِيَةٌ

ماہر ہونا۔ حاذق ہونا۔ خوش ہونا۔
 سَبَكٌ ہونا۔ صفت رَقَارَةٌ۔

أَفْرَةٌ۔ الرَّجُلُ۔ چست و چالاک غلام۔
 حاصل کرنا۔

اسْتَفْرَعُ۔ الدَّوَابُّ۔ عمدہ جانور چھٹنا۔
 الْقَارِكُ۔ ایسا چالاک جس کی عمارت ظاہر ہو

خوب کھانے والا۔ کہا جاتا ہے: "رَجُلٌ
 قَارِكٌ وَجَارِيَةٌ قَارِكَةٌ" ج۔ فَرَقَةٌ

وَفَرُهَةٌ وَفَرُهَةٌ وَفَرُهَةٌ وَ
 فَرُهَةٌ۔

الْقَارِكَةُ۔ قَارِكَةٌ كَامُونٌ۔ خوب صفت
 جوان لڑکی۔ ج۔ قَرَاوِيَةٌ وَفَرُوكٌ۔

الْأَفْرَكُ۔ کھانا ہوا ماہر۔
 فَرُهَدٌ۔ بھرتا۔ فَرُهَدَاتٌ لِنَفْسِهِ سَانِسٌ

کا پھولتا اور رنگ ہوتا۔
 لَعْرَهَدٌ۔ الْغَلَامُ۔ لڑکے کا موٹا ہونا۔

الْفَرُهْدُ وَالْفَرُهْدُ وَالْفَرُهْدُ۔ موٹا
 تازہ حسین لڑکا۔

الْفَرُهْدُ۔ اَيْضًا۔ بکری یا پہاڑی بکری کا
 بچہ۔ ج۔ فَرَاهِيْدٌ۔

فَرِي تَفْرِيبَةً۔ الْجَبَلَةُ۔ جبہ پر پوشین لگانا۔

فَزْرًا (فَزْرًا) فَزْرًا۔ پھلنا۔
 فَزْرًا (س) فَزْرًا۔ پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ
 پڑ جانا۔ صفت اَفْزَرُ۔
 فَزْرًا وَاَفْزَرُ۔ الشیءُ کسی چیز کو ریزہ
 ریزہ کرنا۔
 تَفَزَّرَ وَتَفَزَّرًا۔ پھٹنا۔ ٹکڑے ہونا۔
 الثوبُ کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
 الفَزْرَسُ۔ بکریوں کا چھوٹا سا ریوٹ۔ اور کہا گیا
 ہے کہ دس اور چالیس بکریوں کے درمیان
 بکری کا بچہ۔ شیر بھرا بچہ۔ جز۔ غُدود جو
 ران کے اوپر کے حصہ میں نکلے۔
 الفَزْرَسُ۔ پھٹن۔ شکاف۔ رگویا کہ یہ فزرة
 کی جمع ہے۔
 الفَزْرُورُ۔ پھٹن۔ شکاف۔
 الفَزْرُورَةُ۔ پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ۔ کشادہ
 راستہ۔ ج۔ فَزْرَسُ۔
 الفَايزَةُ۔ فَا۔ وہ کالی چوٹی جس میں سُرخ ہو۔
 کشادہ طویل راستہ۔
 الفَايزَةُ۔ فَايزَةُ۔ فَايزَةُ۔ ریگستان
 کا راستہ۔
 الفَزْرَاءُ۔ اَفْزَرُ۔ فَايزَةُ۔ پر گوشت بھرت
 قریب البلوغ لڑکی۔ ج۔ فَزْرَسُ۔
 الفَزَارَةُ۔ چیتے کی مادہ۔ یہ مونث من
 غیر لفظ ہے۔
 المَفْرُوسُ۔ مفع۔ کبڑا۔
 فَوْع (ف) فَوْعًا وِفْزَعًا۔ منہ۔ خوف
 کرنا۔
 فَوْع (س) فَوْعًا۔ دہشت زدہ ہونا۔ خائف
 ہونا۔ الیہ۔ فریاد چاہنا۔ پناہ لینا۔
 الرَّجُلُ۔ فریاد سی کرنا۔ مدد کرنا۔
 مِنَ نَوْمِهِ۔ بیدار ہونا۔ فَوْعًا،
 يَمِيحُ فَلَاحًا۔ یعنی کسی کے آنے کی وجہ
 سے تیار کرنا۔
 اَفْزَعَةُ۔ خوف دلانا۔ گھبراہٹ دور کرنا۔
 اَفْزَعُ الْقَوْمِ۔ فریاد سی کرنا۔ اَفْزَعَةُ

قرآن مجید میں ہے یہ آیت کریمہ: لَقَدْ
 جَعَلْنَا قُرْيَاكَ يَتِيمًا۔ یعنی تم نے ایسا
 کام کیا، حیرت و تعجب ہے۔ مؤنث۔
 قُرْيَةٌ۔ اور کہتے ہیں: الْقُرْيَةُ الْقَوِيَّةُ
 جلدی جلدی (القُرْيُ وَالْقُرْيَةُ)
 بڑا ڈول۔

القُرْيَةُ۔ تعجب، بزدل، کہا جاتا ہے: هَذَا
 اَفْرِي الْقُرْيُ۔ یعنی تمام جھوٹوں سے
 بڑا جھوٹ۔

فَزْرًا، فَزْرًا۔ اکیلا ہونا۔ عنده۔ جدا
 ہونا۔ عدول کرنا۔ الفَطْبِيُّ۔ ہرن کا
 گھبراتا۔ ف۔ دھوکا دے کر غالب آنا
 ہوش اڑا دینا۔ گھبرا کر نکال لینا۔
 فَزْرَةٌ عَنِ مَكَانِهِ۔ اس کے مکان
 سے نکالنا اور باہر لے آنا۔

فَزْرًا، فَزْرًا۔ الجَوْحُ۔ زخم سے خون
 پیپ وغیرہ کا بہنا۔ فَزْرًا، فَزْرًا و
 فَزْرًا، فَزْرًا۔ مضطرب ہونا۔ بھڑک
 اٹھنا۔

اَفْزَرُ۔ گھبرا دینا۔
 اَفْزَرُ۔ علیہ۔ غالب ہونا۔
 تَفَاوُزُ التَّجْلُكِيْنِ۔ ایک دوسرے کے مقابلہ
 کے لیے میدان میں نکل آنا۔

اِسْتَفْزَرُ۔ ہکا جانا۔ ذلیل سمجھنا۔ مضطرب
 کہنا۔ گھر سے باہر نکلنا۔ تفل کرنا۔
 اِسْتَفْزَرُ مِنَ الشَّيْءِ۔ نکالنا۔
 الفَزْرُومُ۔ ہکا چلنا آدمی۔ نیل گانے کا بچہ
 ج۔ اَفْزَرَسُ۔

الفَزْرَةُ۔ اضطرابی حالت میں کودنا۔ کہا جاتا
 ہے: يَتَعَدُّ مُسْتَفْزِرًا۔ یعنی غیر مطمئن
 ہو کر بیٹھنا۔

فَزْرًا (د) فَزْرًا۔ پھاڑنا۔ فزع کرنا۔ ڈرنا
 - بالعصا۔ لاشی سے پیٹھ پر مارنا۔
 الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ۔ ایک چیز کو دوسری
 چیز سے جدا کرنا۔

اِفْتَرَى۔ الفَرُو۔ پوستیں پھینا۔
 الفَرُوقةُ۔ مع بالوں کے سر کی کھال۔ حوریت
 کا سر بند۔ اور صنی۔ تاج۔ تو لگتی۔
 والداری۔ کہا جاتا ہے: هُوَ بَدَأَ عَلَى
 اُمِّ قُرْوَيْبَةَ۔ اس کی کھوپری پر مارا۔
 الفَرُوقةُ۔ فقیر کی جھولی۔ عقیدہ جس میں
 صدقہ کا مال لکھتا ہو۔ اونٹ کے بالوں
 سے تیار کردہ چادر۔ کیل۔ د۔ والفَرُو
 وہ پوستیں جس کا اندرونی حصہ (لومڑی،
 بی وغیرہ) جالوروں کی کھال سے تیار
 کیا جاتا ہے۔ ج۔ قَرَاءُ۔

الفَرَاءُ۔ پوستیں کا بنانے والا۔
 فَرُوْرٌ فَرُوْرَةٌ۔ مرنا۔

قُرْيٌ يَفْرِي قُرْيًا۔ علیہ الکذِبُ۔
 کسی کے ذمہ بہتان اور جھوٹی بات لگا
 دینا۔ الارض۔ زمین میں چلنا۔
 المُنَادَاةُ۔ ترشہ دان بنانا۔ البُرُقُ
 بجلی کا آسمان میں چمکنا۔

قُرْيٌ وَقُرْيٌ۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔ پھاڑنا۔
 چرنا
 قُرْيٌ يَفْرِي قُرْيًا۔ دہشت زدہ اور
 تمیز ہونا۔

اَفْرَى۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔ پھاڑنا۔ درست کرنا۔
 فَلَاحًا۔ لامت کرنا۔

تَفْرِي تَفْرِيًا فَالْقُرْيُ اَلْفَرَاءُ۔ پھینا
 کہا جاتا ہے: تَفْرِيَتِ اَلرَّحَى بِا
 لْعِيوِي۔ زمین میں چیتے بھرت پڑے۔
 اِفْتَرَى اِفْتَرَاءً۔ علیہ الکذِبُ۔ کسی
 پر بہت لگانا۔ جھوٹ یا دھنا۔

القُرْيَةُ۔ قُرْيٌ کا اسم مرہ۔
 الفِرْيَةُ۔ جھوٹ، تمہت۔

القُرْيُ۔ پھاڑنا۔ بنال ہوئی اور گھڑی ہوئی
 بات، عجیب شے۔ کہا جاتا ہے: فَلَاحًا
 يَفْرِي الْقُرْيُ۔ فلاں شخص تعجب خیز
 اور حیرت انگیز کام کرتا ہے اور اسی سے

مِنَ النَّوْمِ - بیدار کرنا۔ اَهْرَمَ عَنْهُ -
گھبراہٹ زائل کر دینا۔
فَزَعَهُ - خوف دلانا۔ فَوَّحَ عَنْهُ - گھبراہٹ
دور کرنا۔

الْفَوْحُ - مہم۔ گھبراہٹ فریاد سی۔
الْفُزَعَةُ - وہ شخص جس سے لوگ گھبرائیں۔
الْفُزَعَةُ - جو شخص لوگوں سے بہت گھبراتا ہو۔
الْفَارِزُ - خائف، فریادی۔ جہر فَزَعَةٌ -
الْفَزَعُ وَالْفَارِزُ - خائف، فریادی۔
الْفَرَاغَةُ - بہت گھبرانے والا۔ وہ شخص
جو لوگوں کو بہت گھبرا دے۔ کمیت کا
اُجکا۔ یعنی وہ شخص جو کمیت میں وحشی
جانوروں کے ڈرنے کے لیے کھڑی کر
دی جائے۔

الْمَفْرَجُ وَالْمَفْرَعَةُ - جلنے پناہ۔ کہا
جاتا ہے "فَلَانٌ مَّفْرَعٌ أَوْ مَفْرَعَةٌ"
لِلنَّاسِ؛ فلاں شخص لوگوں کے لیے
جلنے پناہ ہے، یعنی جب ان کو کوئی مہم
درپیش ہو تو اس کے پاس گھبرائے
ہوئے جاتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں۔
دونوں صیغے واحد جمع اور مذکر مؤنث
کے لیے یکساں مستعمل ہوتے ہیں۔

الْمَفْرَجُ - بہادر، بزدل۔
فَسَاكَ رَفًا - فَسَا - لاکھی سے مارنا۔ عَنِ
كَذَا - روکنا۔

فَسَاً وَفَسَاءً تَفْسِيَةً وَتَفْسِيَةً -
الثوب - کپڑا پھاڑنا۔

فَسِيحٌ (رَس) - فَسَا - پیٹھ کا اندر گھس جانا۔
اور سینہ کا باہر نکل آنا۔ صفت اَفْسَاً
مؤنث فَسَاؤُ -

تَفْسَاً كَا - لاکھی سے مارنا۔ تَفْسَاً الثوب
کپڑے کا پھٹنا۔ بوسیدہ ہونا۔ المرفق
نہیضہ۔ بیماری پھیلنا۔

تَفْسَاً تَفْسَاً سَوَاً - الرجل - پیٹھ اور
سرین کو نکالنا۔

الْفُسْتُقُ وَالْفُسْتُقُ - پستہ کا درخت۔
الْفُسْتُقُ - پستی رنگ والا۔

الْفُسْتَانُ - عورتوں کا ایک لباس بمنزلہ
قبا کے۔ جہر - فَسَاتَيْنِ -

فَسَبَجَ - پیشاب کرنے کے لیے ٹانگیں
پھیلانا۔

اَفْسَبَجَ - عنده - چھوڑنا۔

فَسَعَهُ رَفًا - فَسَحًا - کشادہ قدم رکھنا۔
لَهُ فِي السَّفَرِ - پروانہ راہلاری دینا۔

فَسَعَهُ فُسُوحًا وَفَسَحًا - لَهُ فِي الْمَجْلِسِ
مجلس میں جگہ دینا۔

فَسَعَهُ رَكًا - فَسَاخَةً - المكان - وسیع
ہونا۔ صفت فَسِيحٌ وَفَسَاخٌ و
فُسُوحٌ وَفُسُوحٌ - بالفہ کے لیے

میم کی زیادتی کے ساتھ۔
اَفْسَعَهُ - المكان - وسیع ہونا۔

فَسَعَهُ - المكان - وسیع کرنا۔ لَهُ فِي
الْمَجْلِسِ - اس کے لیے مجلس میں

جگہ کر دی۔
تَفَسَّجَ - کشادہ ہونا۔ لَه - کشادگی کرنا۔

کہا جاتا ہے "تَفَسَّجُوا فِي الْمَجْلِسِ
وَرَفَا سَمُوحًا" یعنی مجلس میں کشادگی

کو۔ دوسروں کے لیے جگہ نکالو۔
الْفَسَاخَةُ - المكان - کشادہ ہونا۔

صَدْرُكَ - کشادہ دل ہونا جہاں اَفْسَعَهُ
طَرَفُهُ - دھند ہے خناتی کی، یعنی تنگ

دل ہونا، وسیع النظر ہونا۔ دور تک
دیکھنا۔

الْفَسَاخَةُ - مہم۔ سفر کے لیے اجازت نامہ۔
رہا سپورٹ، وینا وغیرہ)

الْفُسَيْحَةُ - گنہائش۔ مکانوں وغیرہ کے درمیان
کی کشادگی۔ جہر - فُسَيْحٌ -

الْفَيْسِيحِيُّ - دونوں قدموں کے درمیان
فاصلہ کا بعید ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

يَمْتَشِي الْفَيْسِيحِي - یعنی وہ کشادہ

قدم رکھ کر چلتا ہے۔

فَسَعَهُ رَفًا، فَسَحًا - جاہل ہونا۔ ضعیف

العقل ہونا۔ رَأَى فُلَانًا - فاسد کر
دینا۔ الْأَمْرُ وَالْعَقْدُ - توڑ دینا۔

معاہدہ کو فسخ کر دینا۔ الشَّيْخُ - جدا جدا
کرنا۔ الْعُودُ وَالْمَقْصَلُ - کڑی یا

جوڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔
الثوب عنده - کپڑے کو اتار کر ڈالنا۔

فَسَعَهُ رَفًا، فَسَحًا وَفَسِيحًا رَسًا، فَسَحًا
- الرَّأْيُ - رائے کا فاسد ہونا۔

فَسَحًا - فسخ کرنے میں بالذکر کرنا۔
فَسَحًا - الْعَقْدُ أَوِ الْبَيْعَ - وَتَفَا سَحًا

- الْعَقْدُ أَوِ الْبَيْعَ - عقدا بیع کے
ٹوٹنے پر متفق ہونا۔ اور کہا جاتا ہے۔

تَفَا سَحَتِ الْأَقْوَامِ - یعنی اقوال
مناقضی ہو گئے۔

اَفْسَعَهُ - الْكِتَابَ - بھولنا۔
تَفَسَّجَهُ - کپڑے کپڑے ہونا۔ تَفَسَّجَهُ الشَّعْرَ

عَنِ الْجِلْدِ - بال کا کھال سے جھڑ جانا۔
(اور یہ میت کے لیے خاص ہے)

الْفَسَاخَةُ - الْعَزْمُ أَوِ الْعَقْدُ - ارادہ یا معاہدہ
کا ٹوٹ جانا ختم ہو جانا۔

الْفَسِيحَةُ - فسح کا اسمہ۔ یعنی فسح شدہ
کا ایک ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے "سَجَلٌ"

فَسِيحٌ - یعنی کمزور بدن یا ضعیف
العقل مرد۔

الْفَسِيحَةُ وَالْفَسِيحَةُ - وہ شخص جو اپنی
عامات میں کامیاب نہ ہو۔ اور لپٹے

امور کا صحیح انتظام نہ کر سکے۔ کمزور بدن
یا کمزور عقل والا۔ وہ کمزور جس کا ارادہ

شدت کے وقت ٹوٹ جائے۔
فَسَدَ رَأْيًا، وَفَسَدَ رَأْيًا فَسَادًا و

فُسُودًا - خواب ہونا۔ بگڑ جانا۔ یہ
صالح کی فہم ہے۔ صفت فَسِيحٌ - جہر

فُسْدًا وَآفَاسًا -

فَسَا يَفْسُو فُسُوًا وَفُسَاءً - بلا آواز کے گوز کرنا۔

تَفَاسِي - اخراج ریح کے لیے سرین اٹھانا۔
الْفُسَاءُ - مم - بلا آواز کا گوز۔ پھسکی۔

الْفُسُوقَةُ - ایک مرتبہ کی چکی۔ جہ فُسُوقَاتُ
فُسُوقَاتُ الضَّبَاعِ - کماۃ کی ایک قسم
دکماۃ ایک گھاس ہے جس کو بوگ سانپ
کی چپتری اور بعض بلا دیں کھنٹی بولتے
ہیں۔

الْفَاسِيَّةُ وَالْفَاسِيَاءُ - گبریا۔ جہ۔ قَوَائِمُ
الْفُسُوقُ وَالْفُسَاءُ - بہت گوز کرنے والا۔

الْمَفْسِيُّ - دُبر۔ گوز کھنے کی جگہ۔

فَشَقَّ رَنًا، فَشَقًّا، دُكَا رَلِينَا - آہستہ آہستہ

پھونکنا۔ الوَطْبُ - دودھ کی مشکیزہ

کا سر بند کھول کر بھری ہوئی ہوا کا نکالنا۔

مَكْحَنٌ تَكَالْنَا - النَّاقَةُ - اونٹنی کو جلدی

سے دوہنا۔ البَابُ - دروازہ کو کسی

تدبیر اور چالاک سے بغیر کھنٹی کے کھولنا۔

بَيْنَ الْقَوْمِ - چنل خوری کرنا۔ السَّقَاءُ

پانی کی مشکیزہ کا منہ کھول کر ہوا کا

نکالنا۔

الْفَشُّ - الْجَرْحُ - زخم کی سوجن میں سکون

اور کمی ہونا۔ اللَّبْنُ - دودھ جاری

ہونا۔ الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ سُسْنِيٌّ اور

کابلی کرنا۔ انْفَشَّتْ اِبْرِيحُ - مشک

وغیرہ کا منہ اور نسرہ کھلنے سے ہوا کا

نکلنا۔ عِلَّةٌ فُلَانٍ - بیماری کا زائل

ہونا۔

الْفَشُّ - مَم - وَالْفُسُوشُ - بے وقوف

کمزور رائے والا۔ باطل پر فخر کرنے والا۔

مُطَا كِبِلٌ - خُرُوبٌ جس کو خُرُوب بھی کہتے
ہیں۔ وہ جگہ جہاں پانی جمع ہو جائے اور
ٹھہرا رہے۔ وَالْفُسُوشُ - پانی ٹپکنے
والی مشک۔

الْفَشَّاشُ - صیغہ مبالغہ۔ بہت ٹپکنے والی۔

الْفَشِيشُ - آواز۔ اور اسی سے ہے۔

فَشِيشُ الْأَفْحَى - سانپ کی کھال
کی آواز جو خشک زمین پر چلتے وقت
نکلتی ہے۔

الْفَاشُوشُ - ارادہ اور رائے کا کمزور۔

رَجُلٌ مُنْفَشٌ - اِلْمُنْفَرِيْنُ - چھوٹے بانسہ

اور پھولے ہوئے ننھوں والا۔

فَشَجَبٌ رَمِي، فَشَجًا وَفَشِيحًا وَفَشَجَبًا

وَالْفَشِيحُ - الرَّجُلُ اَوِ الْبَجِيْرُ -

مرد یا اونٹ کا پیشاب کرنے کے لیے

ٹانگیں پھیلانا۔

فَشَخَذَ رَفًا، فَشَخًا - ظلم کرنا۔ بچوں کا

کھیل میں طمانچہ مارنا۔ فَشَخَمَ رَفِي

اللَّعِبِ - کھیل میں جھوٹ بولنا۔ اور

ظلم کرنا۔

فَشَنَمَ - الرَّجُلُ - اپنے جوڑوں کو ڈھیلا کرنا۔

الْفَشَطُ - الْعُوْدُ - ترکری کا ٹوٹ جانا۔

فَشَعَتُ رَفًا، فَشَعًا - الدَّارَةُ - مینا

کے اطراف کا سوکھنا۔

فَشَعَتُ رَفًا، فَشَعًا - بلند ہو کر ڈھانپ

لینا۔ بِالسُّوْطِ - کوڑا لے کر چڑھ

جانا اور مارنا۔ صفت فَاشِيحٌ - مُؤَنَفٌ

فَاشِيحَةٌ - الشَّيْءُ - وسیع ہونا۔

منتشر ہونا۔

أَفْشَعَةٌ - بِالسُّوْطِ - کوڑے سے مارنا۔

فَشَعٌ - بِمَعْنَى فَشَعٌ - فَشَعَةُ النَّوْمِ - نیند

کا غلبہ کرنا۔

تَفَشَعٌ - الشَّيْبُ فِيهِ وَتَفَشَعَةٌ - بڑھا

کا ظاہر ہونا اور تمام قوی اور اعضاء

بدن میں پھیل جانا۔ الْبَيُوتُ - گھروں

میں داخل ہو کر غائب ہو جانا۔ الرَّجُلُ

مُوْتٌ كَهَرْدٍ كَيْطَرٌ - پینے کی وجہ سے

کسل مند ہونا۔ تَفَشَعَتِ الْعُقْرَةُ -

پیشانی کے سفید بالوں کا پھیل کر آنکھ کو

گھیر لینا۔

الْفَشَّةُ - الشَّيْءُ - کشادہ ہونا۔ بہت ہونا۔

ظاہر ہونا۔

الْفَشَّةُ - اِسْمُ مَرَّةٍ - نرکل کا گودا۔

نَاصِيَةٌ فَاتِنَعَةٌ وَفَشَاءٌ - پیشانی جس

کے منتشر بال آنکھوں کو ڈھانپ لیں۔

الْفَشَاغُ وَالْفَشَاغُ - اکاس بیل روہ گھاس

جو بغیر پتوں کے ہوتی ہے اور رختوں پر

چڑھ کر ان کو خواب کر دیتی ہے،

الْفَشَاغُ - کابلی۔

الْأَفْشَغُ - مینڈھا جس کے سینگ وائیں بائیں

نکلے ہوئے ہوں۔ رَجُلٌ أَفْشَغٌ

الْأَسْنَانِ - جس کے دانت آگے پیچھے

نکلے ہوئے ہوں۔ برابر نہ ہوں۔ مُؤَنَفٌ

فَشَعَاءٌ - جہ - فَشَعٌ -

الْمِفْشَعُ - جو اپنے ساتھی اور دوست سے

براسلوک کرے۔

الْمُفْشَعُ - بے رفیق احسان جانے والا۔

فَشَفَقْتُ - رائے کا کمزور ہونا۔ بہت زیادہ

جھوٹ بولنا۔ غیر کی چیز کو اپنی طرف

نسوب کرنا۔ صفت فَشَفَاشٌ -

فَشَفَشَ بِبَوْلِهِ رَيْشَابًا كَيْحِيْنَةَ

دینا۔

الْقَشْفَاشُ - مِنَ النَّوْقِ - وہ اونٹنی کہ جس

کا دودھ کالتے وقت دودھ کی دھاریں

ادھار پڑیں۔

الْمُقْشَاشَةُ - وہ چیز جس میں صلابت

رستختی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے: تَخْرُجُ

الزُّبْدَةُ فَشَفَاشَةً - یعنی کھنڈم

نکلتا ہے۔

فَشِيقٌ دَسٌ، فَشَقًا - بہت حرص کرنا۔ حرص

کی ایسی زیادتی جس کی وجہ سے کسی کسی

چیز کو اٹھائے اور کبھی اس کو چھوڑ کر

دوسری اٹھائے۔ جس کا انجام بعض اوقات

دونوں کا ہاتھ سے نکل جانا ہوتا ہے۔

فَ - اچانک آجانا۔ الْفَشِيُّ - ہرن کے

سیکوں کے درمیان فاصلہ ہونا۔ صفت
 أَفْشَقُ - مُرْتَبِعٌ - كَفَقَاءٌ -
 كَفَقَ (رض) فَشَقًا - الشَّى - تَوَرَّنَا -
 فَاشَقَهُ - اچانک آجاتا۔
 كَفَقَ - بشوہ۔ کھڑے کو بدھی جیسا بنا
 کر پہننا۔
 الْفَشَقُ - مَم - دُونًا - جَاگ - نَشَاةُ -
 الْفَشَقُ - كَارْتُوس - وَاحِدٌ - فَشَكَةٌ -
 (یہ کلمہ دخیل ہے)
 فَيْشَلُ (س) فَشَلًا - لِرَائِي - اُور شدت کے
 وقت بزدلی کرنا۔ دیر لگانا۔ باہر نہ نکلنا
 صفت فَيْشِيلٌ - وَقَيْلٌ - وَقَيْلٌ -
 جہ - قَيْلٌ - وَأَفْشَالٌ -
 قَيْلٌ (رض) فَشَلًا - كَحَيْتَةٍ - ڈالھی کو
 پھٹکارنا۔
 فَشَلْتُ - وَتَفَشَلْتُ - وَأَفْشَلْتُ - الْمَرْأَةُ -
 عِدَّتْ كَيْ لِيءِ پَالِكِي كَا بَدُوهُ بِنَانَا -
 كَفَشَلُ - الْمَاءُ - پَانِي بِنَا - كَفَشَلُ الرَّجُلُ -
 مِتَّحَمًا مَرْأَةً - تَكَرَّجَ كَرْنَا -
 الْفَيْشَلُ - جہ - فَشُولٌ - وَالْمَيْفُشَلُ -
 جہ - فَفَاشِيلٌ - پَالِكِي كَا پَرْدَه - بَدُوَجْ كَا
 بَدُو - بَدُوَجْ كَيْ اَنْدَرُ بَجَانِي كِي بَجَر -
 الْبَيْفُشَلُ - وَهُ شَخْصٌ مَوْجُودٌ فِي خَدَايِ
 كَرِي تَا كِه اَوْلَادًا مَوْجُودًا -
 التَّفَشِيلُ - مَم - مَمَّنْ فِي بَقِيَّةِ دَوْدَه - جہ
 كَفَاشِيلٌ -
 فَفَايُفْشُوَادِنِ فَشُوَا وَفَشُوَا وَفَيْفُشَلُ -
 خَبْرًا وَفَضْلًا اَوْ مَرْكَا - خَبْرًا
 فَضِيلَتِ يَا بَيْدَا بَيْدَا بَانَا اُور شَهْرَتِ
 پَانَا - فَشَيْتِ الْمَاكُوشِيَّةُ - چَرَا گَاهِ فِي
 جَانَا - اَمُورٌ هُوَ - اَمُورٌ كَا مَتَرَفِقٌ هُوَنَا -
 اُور كَمَا جَانَا هُوَ فَشَيْتِ عَلَيْهِ
 طَبِيعَتُهُ - اس كِي جَانَا اَدَا كَا اَنْتِقَامِ
 كَبُرْ كِيَا - سَمَّ فِي نَهِي اَنَّا كِه كَسْ كُو
 سَبَمَانِي -

أَفْشَى إِفْقَاءً - الشَّى - بَحِيلَانَا - شَهْرَتِ
 دِينَا - سَوَاةً لِقَلَانِي بَحِيدًا بَرَكْنَا -
 الرَّجُلُ - بَهْتِ جَانُورُوں وَالَا هُونَا -
 تَفَشَيْتِي كَفَقِيْمِيَا - الْمَرْضَى الْقَوْمَ وَبِهِمْ
 قِيَمَتِي يَارِي بَحِيلَانَا - تَفَشَيْتِ الْقَرْحَةَ
 زَنَمٌ كَا چُوَلَا هُونَا -
 الْفَشَاءُ - مَوْلِيُوں كِي پِيدَاوَارِ اُور زِيَادَتِي -
 الْفَشِيَانُ - بے ہوشی -
 الْفَشُوَّةُ - عِدَّتْ كِي تَوَشُّوِيُوں كِي رَكْنِي كَا
 طَب - عَطْرِدَان -
 الْفَاشِي - خَا - مَوْزُتِ فَاشِيَّةُ - جہ - فَوَاشِي
 ر - وَالْفَوَاشِي (بھیلے ہوئے موشی -
 التَّفَشِي - مَم - بولتے وقت صرف کو
 مضمون کرنا۔
 فَصَّ (رض) فَصًّا وَفَصَّصَ - كَذَا مِنْ
 كَذَا - جَلَا كَرْنَا اَلْمَا رْنَا -
 فَصَّ (رض) فَصِيصًا - الْجَوْجُ - زَنَمٌ سِي
 نُونِ سِي كَا بِنَا - الْعَرَقُ - سِي بِنِي
 نِي كَا - الْوَلْدُ - بَجَر كَا آهَسْتِ آهَسْتِ
 دُونَا - فَصَّ الْحُنْدُبُ - طَلِي كَا اَدَا
 نَكَلَانَا -
 فَصَّصَ - الْخَاتَمُ - اَلْكُوْطِي بَزَكِيْنِي لَكَا نَا -
 بِحَيْثُ كَبُرْنَا -
 أَفْصَ - اَلِيُو شَيْئًا مِنْ حَقِيْقِهِ - كَسِي كُو اِنِي
 مَم كَا كَجْ حَصْرِي نَكَالِ كَر دِيْنَا -
 اَلْفَصَّ مِنْهُ - جِدَا هُونَا -
 اِسْتَفْصَى - مِنْهُ شَيْئًا - كَسِي سِي كَسِي
 بَجَر كُو طَبِيْرَه كَر دِيْنَا -
 الْفَصُّ - اَلْفَصُّ وَالْفَصُّ - وَهُ قِيْمَتِي بَطَرِ
 جُو اَلْكُوْطِي فِي لَكَا تِي فِي - اس فِي اَكْرَجْ
 فَا فِي تِيُوں حَرَكَتِي فَوَ كَسْرَه - فَصَّ
 مَسْتَعْمَلٌ فِي - لِي كِنِ فَوَ اَعْلَى اُور اَفْضَلُ
 هُوَ - الْفَصُّ تِيُوں حَرَكَتُوں كِي سَاوَتِ -
 اَلْكُوْ كِي سِيَا بِي - لَمَسْ كَا جُوَا - اَصْلُ اَمْرٍ -
 حَقِيْقَتُهُ اَلْمَرْ مَرُو دِيُوں كِي لَمَسْ كِي بَدَلِ

قَصُّ الْمَاءِ - بَلْبٌ - جہ - قُصُومٌ وَ
 قِصَامٌ وَ أَفْشَقُ -
 الْقَصَاصُ - تَكِيْمِي لَكَا نِي وَلا -
 الْقَصِيصُ - صَافِ چَكِي كَتَلِي كُو يَا كِه رُو عِن
 مَلِي هُو تِي هُو -
 قَصِيحٌ (ف) فَصِيحًا - الْعَصِيحُ فُلَانًا -
 صَبْحٌ ظَاهِرٌ هُونَا -
 قَصَمَ رَكَّ، فَصَاحَةٌ - فَيَصِحُّ هُونَا - نُوْشِ بِيَا
 هُونَا - صَفْتِ قَصِيحٌ - اَلْاَعْجَبِي
 عَرَبِي زَبَانِ فِي كَفَتُو كَرْنَا نَا اَللَّبِي -
 دُوْدَه سِي جَهَا كَا اَتَا رِيْنَا - صَفْتِ
 قَصَمٌ وَ قَصِيحٌ -
 قَصَمَ - اللَّبِي - دُوْدَه كَا بِي جَهَا كِي هُونَا -
 اَقْصَحَ - فَصَاحَتِ سِي بُونَا - فَيَصِحُّ هُونَا - مَرَادُ
 كُو ظَاهِرُ كَرْنَا - عَن كَذَا - خَلَاصَه كَرْنَا -
 عَنِ الشَّى - ظَاهِرُ كَرْنَا - بِيَا ن كَرْنَا - مِنْ
 كَذَا - نَكَلِ جَانَا - رِيَا تِي پَانَا - اَلْمَرْ -
 دَا صَحُّ هُونَا - اللَّبِي - دُوْدَه كَا بِي جَهَا كِي
 هُونَا - الْعَصِيحُ - صَبْحِ كِي رُو شَنِي بَحِيلَانَا -
 الْقُرُوسُ - كَهُوْرِي كَا صَافِ طُوْرٍ پَر
 بَهْنَانَا - الْبُوْلُ - بِيْشَابِ صَافِ رَنَكِ
 كَا هُونَا - اَلنَّصَارِي اَو اَلْيَهُودُ -
 نَصَارِي يَا يَهُودِ كَا عِيْدِ مَنَانَا - يَا اَن كِي عِيْدِ
 كَا زَمَانَه اَنَا -
 قَفَصَحَ - زَبَانِ اَدَه هُونَا - عَمْدَه نُوْشِ بِيَا ن هُونَا
 ر - وَ كَفَا صَمَّ، بَشَكَلِ فَيَصِحُّ هُونَا - يَا
 فَصِيحُوں كِي مَشَابَهَتِ اَخْتِيَارُ كَرْنَا -
 الْقَصَاحَةُ - مَم - بِيَا ن - كَلَامِ كَا تَعْقِيْدِ سِي
 خَالِي هُونَا - اُور هُو مَتَكَلِمٌ - كَلَامِ كَا تِيغُو
 كِي صَفْتِ فِي وَاقِعِ هُو تَا هُو - كَمَا جَانَا هُو
 "رَجُلٌ قَصِيحٌ" - كَلَامٌ قَصِيحٌ -
 كَلِمَةٌ قَصِيحَةٌ -
 الْفَصِيحُ - فَصَاحَتِ وَالَا جہ - قَصَمٌ وَ
 فَصِيحًا وَفَصَاحَةً - مَوْزُتِ قَصِيحَةٌ
 جہ - فَصَائِحٌ وَفَصِيحَاتٌ -

سال کے چار موسموں اور حصوں میں سے ایک حصہ۔ اودھ چار حصے یہ ہیں موسم بہار۔ گرمی۔ خریف۔ سردی۔ جہ فصل۔ الفصل۔ حق و باطل کے درمیان فیصلہ۔ قول فصل۔ قول حق جس میں باطل کا تاثیر نہ ہو۔ یوم الفصل۔ قیامت کا دن جس میں جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ اور فصل الخطاب سے مراد وہ خطاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو۔ نیز فصل الخطاب خلیفہ کے قول ابا بعد کو بھی کہتے ہیں۔

الفصلۃ۔ فصل کا اسم مرہ۔ کجور کا پودہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لگایا گیا ہو۔ الفصیل۔ شہر یاہ کے سامنے چھوٹی دیوار۔ اونٹنی یا گائے کا بچہ جو ماں سے علحدہ کیا گیا ہو۔ جہ فصل وفصلان وفصلان۔

الفصیلۃ۔ فصیل کا مؤنث۔ ران کے گوشت کا پارچہ یا کسی اور حصہ بدن کا ٹکڑا۔ قبیلہ اور خاندان کے وہ قریبی رشتہ دار جن کو کنہ اور گھرانہ کے لوگ کہا جاتا ہے۔ جہ فصائل۔ کہا جاتا ہے۔ جہ فصائل۔ یعنی وہ سب آئے۔

الفصائل۔ انعام حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی تعریفیں کرنے والا۔ سبعت فصائل۔ تیار قاطع۔

الفصائل۔ دودھ پھلانا۔

الفصائل۔ فار حکم فاصل۔ نافذ ہونے والا حکم۔

الفاصیلة۔ فاصل کا مؤنث۔ ہار کے دو عمروں کے درمیان ایک دوسرے رنگ کا تار۔ الفاصیلة الصغریٰ۔ یعنی علم العروض۔ علم عروض کی اصطلاح

میں اس صورت کو کہتے ہیں کہ کسی کلمہ میں تین حرف متحرک کے بعد چوتھا حرف ساکن ہو۔ جیسے ضربت۔ اور الفاصیلة الکبریٰ یہ ہے کہ چار حرف متحرک ہوں۔ اور پانچواں ساکن جیسے ضربتکسر اور بیچ میں فاصیلة کا درجہ وہی ہے جو شعر میں قافیہ کا ہے۔ جہ قواصل۔ الفیصل۔ حاکم۔ قاضی۔ وہ حکم اور فیصلہ جو حق و باطل میں امتیاز کرے۔ جو چیز چند امور میں فیصلہ کرے۔ توار قاطع۔ جہ قیاصل۔ فیصل۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ حکم فیصل۔ نافذ شدہ حکم حکومت فیصل۔ نافذ ہونے والی حکومت۔ ضربۃ فیصل۔ وہ مار جو دو ہمسروں میں فیصلہ کن ہو۔

الفیصلی۔ حاکم۔ بیج۔

المی فصل۔ بدن کے اعضا کا جوڑ۔ جہ

مفاصل۔

المفاصل۔ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہتھ۔ دو پہاڑوں کے درمیان کی ریگستانی یا پتھری زمین جس کا پانی نہایت ہلکا اور صاف ہوتا ہے۔ ذاق المفاصل۔ وہ بیماری کہ جس میں بدن کے جوڑوں میں امدان کے اطراف میں درد ہوتا ہے۔

المی فصل۔ زبان۔

المی فصل۔ جس کی حالت فیصلہ کی ہو۔

المفصلۃ۔ بڑھتیوں کی اصطلاح میں اس

قبضہ کو کہتے ہیں کہ جو کواڑوں میں اور

دروں میں کسے جاتے ہیں۔ اور ان کے

ذریعہ کواڑ دروازہ کی بانو سے علحدہ

رہتا ہے۔

قصود رضی فصما۔ الذمکج ونبجہ۔

باز مہندہ وغیرہ کو بغیر مہا کیے ہوئے کوڑنا

الشیء۔ کاٹنا۔

فصم۔ البیٹ۔ مکان کا گزنا۔

أفصم۔ منه المطر والعتی۔ بارش یا

بخار کا منقطع ہونا۔

تفصم وانفصم۔ منقطع ہونا۔ بغیر صدائی

کے ٹوٹنا۔ پھٹنا۔

القصیم والاقصم والمنفصم۔ ٹوٹا ہوا۔

کٹا ہوا۔ پھٹا ہوا۔

قضى یفصی فصیا۔ الشیء من الشیء

وعنه۔ جدا ہونا۔ زائل کرنا۔

قضى تفصیة۔ اللحم من العظم او

عن العظم۔ گوشت کو ہڈی سے

علحدہ کرنا۔ جدا کرنا۔ پھلانا۔

فاصاة مفاصاة۔ جدا ہونا۔

أفصی إفصاء۔ غیر یا شر سے نکل جانا۔

عتا المطر۔ بارش کا منقطع ہونا۔

الصایدا۔ شکاری کے جال میں شکار

کانہ پھیننا۔

تفصی تفصیا وتفصی إفصاء۔

من او عن الشدایة او غیرھا۔ رائی

پانا۔ کہا جاتا ہے۔ تفصی من الدایون

قرض سے نجات پائی۔ تفصی الرجل

من الرجل او عنه۔ جدا ہونا۔

الشیء۔ پورا لینا۔

القصی۔ خشک انگر کا دانہ۔ واحد فصاة۔

القصیة والقصیة۔ خیر سے عرومی شر سے

رہائی۔ ما بین الخیر والبر۔ موسم

کا اعتدال۔ کہا جاتا ہے۔ یوم قصیة

ویوم قصیة ویوم مفصی ولیلۃ

قصیة وقصیة ولیلۃ قصیة

معتدل دن رات۔ نہ گرم ہونہ سرد۔

قص دن، فصا۔ الشیء۔ کوڑ کرکڑے

ٹکڑے کرنا۔ فص حکم الکتاب و

الخط من الکتب۔ مہر لگانا۔

اللؤلؤة۔ موتی پوننا۔ القوم۔

قوم کو متفرق کرنا۔ جیسے کہتے ہیں فص

اللَّهُ جَمَعَهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنْ كَى
جمیت کو متفرق کر دے۔ وَقَضَعْتُ
حَلَقَةَ الْقَوْمِ۔ میں نے قوم کے حلقہ کو
توڑ دیا۔ فَضَّ الدَّمُومَ۔ آنسو بہانا۔
الشَّيْءَ عَلَى الْقَوْمِ۔ تقسیم کرنا۔
مَا بَيْنَهُمَا۔ کاٹ دینا۔ اللَّهُ فَاهُ
دانتوں کا گرادینا۔ اور اسی سے ہے
لَا لَفْظُ فَوْكٍ۔ اس شخص کے لیے
جو بہترین گفتگو کرے دعا ہے کہ تھارے
دانت نہ گرائے جائیں۔

فَضَّضَ۔ الشَّيْءَ۔ کسی چیز پر چاندی کا طبع کرنا
چاندی کی جڑائی کرنا۔
أَفَضَّ۔ الْعَطَاءَ۔ بہت دینا۔
الْفَضَّضَ۔ لُؤْثًا۔ الْفَضَّضَتِ الدَّمُومَ۔ آنسو
بہنا رہا۔ وَفَضَّضَ، متفرق ہونا۔
أَفَضَّضَ۔ الْمَاءَ۔ پانی آہستہ آہستہ گراتا۔
الْفَضَّضُ۔ مَم۔ کبھرے ہوئے لوگ۔ کہا جاتا
ہے۔ "فِي الْمَدِينَةِ فَضَّضٌ" یعنی شہر
میں متفرق لوگ ہیں۔ "وَتَمَرٌ فَضَّضٌ"
متفرق کھجوریں۔

الْفَضَّضُ وَالْفَضَّضُ وَالْفَضَّضَةُ
رینے، ٹھکے۔ کہا جاتا ہے "طَارُوا
فَضَّضًا" یعنی متفرق ہو کر اڑ گئے۔
الْفَضَّضُ وَالْفَضَّضُ۔ وہ پانی جو نہلے
وقت ادھر ادھر بکھر جائے۔ بہ متفرق و
مشتت چیز۔ کہا جاتا ہے "خَسِرَ جَمْعٌ
فَضَّضٌ مِنَ النَّاسِ" یعنی متفرق فرتے
نکلے۔ الْفَضَّضُ۔ لُؤْثًا ہوا۔ خوشگوار
پانی یا بہتا ہوا پانی۔

الْفَضَّضَةُ۔ چاندی (۔ وَالْقَطَّةُ) وہ زمین
جہاں پتھر ایک دوسرے کے اوپر
بکھرے ہوئے ہوں۔

الْقَضَّضَةُ۔ قاض کا مؤنث۔ مصیبت۔ ج
قَوَاعٍ۔
الْمِفْضَاضُ وَالْمِفْضَاضَةُ۔ بینگا

موتگری۔

الْفَضَّضَةُ۔ کشادگی۔

الْفَضَّضُ۔ کشادہ۔

لَفَضَّجَ۔ الرَّجُلُ عَرَقًا أَوْ بِالْعَرَقِ۔

بال کی جڑوں میں پسینہ آنا اور تر نہ ہونا

۔ وسیع ہونا۔ جَسَدَهُ بِالشَّحْبِ۔

جسم کا موٹاپے سے پھٹ جانا۔

الْفَضَّجَ۔ الرَّجُلُ عَرَقًا أَوْ بِالْعَرَقِ۔

بحقی لَفَضَّجَ۔ الْفَضَّجَ الْأَمْرُ۔

ڈھیلا اور کمزور ہونا۔ الْفَضَّجَ الْبَدَنُ

بدن کا بہت موٹا ہونا۔ الْقَرْحَةُ۔

زخم کا کشادہ ہونا۔ الْأَلْقُ۔ ظاہر

ہونا۔

الْفَضَّجُ۔ لُؤْثًا۔

فَضَّجَ (د) فَضَّجًا۔ برائیاں ظاہر کرنا۔

رسوا کرنا۔ فَضَّجَ الْمَعْتَبَ۔ معمر حل

کرنا۔ الْقَمَرُ النَّجْمُ۔ چاند کا ستاروں

پر غالب آنا۔ الصُّبْحُ۔ صبح طلوع

ہونا۔ الصُّبْحُ فَلَانًا۔ روشنی کا

غالب ہونا۔

فَضَّجَ رَسًا، فَضَّجًا۔ تھوڑا سفید ہونا۔ صفت

أَفَضَّجَ۔ مَوْنُثٌ فَضَّجًا۔ ج۔ فَضَّجٌ

فَضَّجٌ وَافَضَّجَ۔ الصُّبْحُ۔ صبح طلوع

ہونا۔ الثَّقَلُ۔ درخت خرما کا سرخ یا

زرد پھل والا ہونا۔

فَاضِحَةٌ وَفَاضِحًا۔ ایک دوسرے کو

رسوا کرنا۔ ایک دوسرے کی برائیوں کو

ظاہر کرنا۔

أَفَضَّجَ۔ الْأَمْرُ مَشْهُورٌ هُونًا۔ الرَّجُلُ

رسوا ہونا۔ برائیاں ظاہر ہونا۔

الْقَاضِحُ۔ فَاحٌ۔ صبح۔

الْقَضَّاحُ۔ صیغہ مبالغہ۔

الْفَضَّضُ وَالْقَضَّاحَةُ وَالْفَضَّضَةُ۔

وَالْقَضَّاحُ۔ رسوائی۔ برائیوں کا

ظاہر ہونا۔

الْقَضَّاحُ۔ رسوا کرنے والا۔ رسوا شدہ۔

الْقَضَّاحُ۔ مال یا مویشی میں بد انتظامی۔

الْقَضَّاحَةُ۔ قَضَّاحٌ۔ کا مؤنث۔ عیب۔

رسوائی۔ ج۔ قَضَّاحٌ۔

الْمَفْضَحَةُ۔ سبب رسوائی۔ ج۔ مَفْضَحٌ۔

فَضَّحَ (د) فَضَّحًا۔ الشَّيْءَ۔ کھوکھلی چیز کو

توڑنا۔ الدَّاسُ۔ سر کھینا۔ الْعَيْنُ۔

آنکھ پھوڑنا۔

أَفَضَّحَ۔ الْعُنُقُودَ۔ انگوڑ کے گھمے کا

پتھر لے جانے کے قابل ہونا۔

الْفَضَّحَةُ۔ لُؤْثًا۔ کشادہ ہونا۔ الْفَضَّحَتِ

الْقَرْحَةُ۔ زخم کا کشادہ ہونا۔ الْفَضَّحَةُ

لُؤْثًا۔ بہت رونا۔ الدَّكُوُّ۔ ڈول کا

پھلنا۔

أَفَضَّحَ۔ البُسْرُ۔ کچی کھجور کی تیز پکانا۔

قَضَّحَ۔ الماءُ۔ پانی کی چھلک۔

الْفَضَّحُ۔ وہ شراب جو پینے والے کو مست

بنا دے۔

الْقَضَّاحُ۔ شِيزَةُ الْكُوْرِ۔ کھجور کی شراب۔ بہت

پانی ملا ہوا دودھ۔

فَضَّضَ قَضَّضَةً۔ الثَّوْبُ أَوْ الْعَيْشُ

کشادہ ہونا۔ كُا۔ کشادہ کرنا۔

الْفَضَّضُ۔ كَشَادَةٌ كَبْرًا۔ خوش عیش۔ فیاض

أَرْضٌ فَضَّضَةٌ۔ وہ زمین جس میں

بارش کا پانی بہت جمع ہو۔ دَسَاعٌ

فَضَّضَةٌ وَفَضَّضَةٌ۔ کشادہ

تختابہ فَضَّضَةٌ وَفَضَّضَةٌ

بہت پانی والی بیل۔ جَارِيَةٌ فَضَّضَةٌ

پُكُوْشَتٌ أَوْ لُجْبَةٌ جَمْعٌ فَالِ رُكْنٍ۔

فَضَّلَ (د) وَقَضَّلَ (د) فَضَّلًا۔ باقی

رہنا۔ زائد ہونا۔ فَضَّلَ فَضَّلَهُ۔

فضل میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے فَضَّلَ

فُلَانٌ عَلَى غَيْرِهِ۔ جبکہ کوئی شخص نیتل

میں دوسرے پر غالب ہو جائے۔

فَضَّلَ (د) وَقَضَّلَ (د) فَضَّلًا۔ صاحب

فعل ہونا۔ صاحب فضیلت ہونا۔
 قُضِيَ - عَلَى عَمْرٍ - کسی پر فعل کا حکم لگانا۔ ترجیح دینا۔
 فَاضِلَةٌ فَضَالًا وَمُقَاضَاةٌ - فعل میں فز کرنا۔ فَاضِلٌ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ - دو چیزوں کے درمیان فضل کا مقابلہ کرنا۔
 أَفْضَلٌ - عَلَيْهِ - بڑھانے بھلائی کرنا۔ مہربانی کرنا۔ عَلَيْهِ فِي الْحَسَبِ - جب میں بڑھ جانا۔ أَفْضَلٌ عَلَيْهِ - زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "لَأَيُّتُ صَفَهُمْ" كَذَا أَفْضَلٌ عَلَى صَفِّكَ - میں نے ان کی صفت کو دیکھا کہ ہماری صفت سے بڑھ گئی ہے۔
 أَفْضَلٌ وَأَسْتَفْضَلُ - مِنَ الشَّيْءِ - بقیہ چھوڑ دینا۔
 تَفَضَّلَ - عَلَيْهِ - مہربانی کرنا۔ فضل کا دعویٰ کرنا۔ الرجل - شب خرابی کا لباس پہننا۔ یا کام کاج کے لیے لباس پہننا۔
 تَفَاضَلَا - الرَّجُلَانِ - ایک کا دوسرے پر فضل کا دعویٰ کرنا۔
 التَّفَضُّلُ - احسان، زیادتی، بقیہ نہ کہا جاتا ہے۔ "فَلَانٌ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا" فَضْلًا عَنِ دِيْنَاهُ - فلان آدمی وہ ہم کا مالک نہیں ہے۔ چہ جائیکہ دینار کا مالک ہو۔ گویا کہ یوں کہا گیا لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَكَيْفَ يَمْلِكُ دِينَارًا - یعنی درہم کا مالک نہیں تو دینار کا کیسے ہو سکتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ "فِي بَيْتِهِ فَضْلُ الزَّمَانِ" اس کے ہاتھ میں لگام کا کنارہ ہے۔ جو۔ فَضُولٌ -
 الْفُضُولُ - حاجت سے زائد مال۔ فَضُولُ الْبَدَنِ - جو طبعی طور پر بدی کے منافذ سے نکلے۔ جیسے پسینہ، خشک وغیرہ۔
 الْفَضْلَةُ - فَضْلٌ كَالسَّمْرِ - بقیہ خراب۔ جو

فَضَلَاتٌ وَفِضَالٌ - د۔ وَالْفُضْلُ وَالْفِضَالُ - وہ کپڑا جو نیند کے وقت یا کام کرتے وقت پہنا جائے یا جس کو گھر میں استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ فَضْلٌ - کام کاج کے کپڑے پہننے والا مرد۔ اور اسی طرح رَجُلٌ فَضْلٌ - کام کاج کے کپڑے پہننے والی عورت۔
 الْفَضَالَةُ - بقیہ ہے۔ جو۔ فَضَالَاتٌ - الْفَضَالُ - صیغہ مبالغہ۔ بہت فضل والا۔ الْفَضِيلَةُ - خوبی، زیادتی۔ فضل میں بلند مرتبہ۔ جو۔ فَضَائِلٌ - الْفَاضِلُ - فا۔ صاحب فضل۔ صاحب فضیلت جو تصحیح۔ فَاضِلُونَ - جو تکسیر۔ فَضْلَاءٌ - مؤنث فَاضِلَةٌ - جو۔ فَاضِلَةٌ وَفَوَاضِلٌ - الْفَاضِلَةُ - فضل میں بلند مرتبہ، برہ، نعمت۔
 قَوَائِلٌ - المَالِ - مال کے منافع۔ الْفُضُولُ - صیغہ مبالغہ۔ بہت فضل کرنے والا۔ الْفُضُولُ - مال غنیمت میں سے تقسیم کے بعد جو بچ رہے۔ الْفُضُولِيُّ - بے فائدہ چیزوں میں مشغول ہونے والا۔ دو شخصوں کے معاملہ میں خود بخود دخل دینے والا۔
 الْفَضِيلُ - صاحب فضیلت۔ صاحب فضل جو۔ فَضْلَاءٌ - الْاَفْضَلُ - فضل میں بڑھا ہوا۔ جو تصحیح۔ الْاَفْضَلُونَ - جو تکسیر۔ اَفْضَلٌ - مؤنث فَضْلِي - جو۔ فَضْلِيَّاتٌ وَفُضَيْلٌ - الْمُفَضَّلُ وَالْمُفَضَّلَةُ - بہت فضل والا۔ مُفَضَّلٌ - وہ شخص جس کے متعلق فضل کا حکم لگایا گیا ہو۔ الْمُفَضَّلُ وَالْمُفَضَّلَةُ - وہ کپڑا جو کام کرتے وقت یا سوتے وقت پہنا جائے۔ یا

گھریں پننے کا کپڑا۔ جو۔ مَقَاضِلٌ - الْمُفَضَّلُ - بہت فضل والا۔ مؤنث۔ مَقْضَاةٌ - فَضَالُونَ، يَفْضُوْنَ اَفْضُوْا وَفِضَالٌ - المكان۔ جگہ کشادہ ہونا۔ خالی ہونا۔ صفت (فائض)۔ ر۔ فَضُوْا الشَّجَرُ بِالْمَكَانِ - درخت بہت ہونا۔ اَفْضَى اَفْضَاءً - المكان۔ جگہ وسیع ہونا۔ - المكان۔ جگہ وسیع کرنا۔ اَلَيْهِ يَسِيرُ - بھید کو ظاہر کر دینا۔ بہ الی کذا۔ پہنچانا۔ بَقْلَانٍ - کشادہ میدان کی طرف لے جانا۔ الرَّجُلُ - محتاج ہونا۔ الْفَاضِي - فا۔ کشادہ، کہا جاتا ہے بِمَقَامِ فَاضِي - کشادہ مقام کھلی ہوا۔ خالی۔ الْفَضَاءُ - وسیع زمین۔ میدان۔ جو۔ اَفْضِيَّةٌ - کہا جاتا ہے۔ "مَكَانٌ فَضَاءٌ" کشادہ مکان۔ الْفِضَاءُ - زمین پر جاری پانی۔ بسا اوقات پائخانہ کے لیے کنایہ کرتے ہیں۔ الْفَضَا - خشک انگوڑا دانہ۔ سَمَلٌ فَضَاٌ - اکیلا تیر۔ طَعَامٌ فَضَاٌ - بلا جلا کھانا۔ کہا جاتا ہے "اِنَّ اَمْرَهُمْ فَضَاٌ" عَلَيْهِمْ - یعنی ان کا کوئی امیر نہیں۔ فَطَاَ كَافًا فَطًا - تُوْرْنَا - بِلِو الْاَرْضِ - زمین پر پٹک دینا۔ بِلِهْ عَن رَاْيِهْ - رائے سے ہٹا دینا۔ الْقَوْمُ - ایسی چیز لانا جو قوم کو بے ندرت ہو۔ قَطِيْعٌ رَسٌ فَطًا - دھنسی ہوئی پیٹھ اور اُھمے ہوئے سینہ والا ہونا۔ صفت اَفْطًا - مؤنث فَطَاةٌ - جو۔ فَطَاءٌ - فَاطَاً مُقَاطَاةً - بِلِو الْاَرْضِ - زمین پر پٹک دینا۔ اَفْطًا اَفْطَاءً - فَرَاخٌ مَالٌ هُوْنَا - بَدْفَطِي هُوْنَا - فَلَانًا - کھلانا۔ تَفَاطًا - سينا بھارنا اور پٹھو دھنسانا۔

عَنْهُ. پچھے ہٹنا۔ عین القوم۔
شکست کھانا اور حملہ آور ہونے کے
بعد لوٹنا۔

الْفُطَاةُ۔ سینہ کا اہرن اور پیچہ کا دھننا۔
فَطَحَ رَفًا، فَطْحًا وَقَطَعَ۔ الشیءَ۔ چوڑا
کرنا۔ العود۔ کڑی کو چھیلنا، اور
چوڑا کرنا۔ بِالْعَصَا۔ لاشی سے
ماننا۔

فَطِحَ رَسًا، فَطْحًا۔ رَاسَهُ اَوَّافَهُ۔ سر یا
ناک کا چوڑا ہونا۔ مَفْتَحٌ۔
رَاسٌ مَفْتَحٌ۔ چوڑا سر۔

الْفِطْحَلُ۔ بڑا سیلاب۔ جَمَلٌ فِطْحَلٌ۔
موٹا اونٹ۔ ج۔ فَطَّحِلٌ۔ فُطَّحِلٌ
العَمَاءُ۔ بڑے علماء۔ رَمَنُ الْفِطْحَلِ
بہت پرانا زمانہ۔ اور لوگوں نے کہا
ہے۔ وہ زمانہ کہ جس میں آدمی پیدا نہ
ہوئے تھے۔

فَطَرَ رَمَنًا، فَطْرًا۔ الشیءَ۔ پھاڑنا۔
الْأَمْرَ۔ پیدا کرنا، شروع کرنا۔ الْعَجِينُ
خمیر ہونے سے پہلے روٹی پکانا۔ نَابُ
الْبَعِيرِ۔ اونٹ کے دانت ظاہر ہونا۔
الرَّجُلُ الشَّاقُّ۔ انگلیوں کے اطراف
سے بکری کو دوہنا۔

فَطَرَ فَطْرًا اَوْ فُطْرًا اَوْ فُطْرًا۔ الْعَصَائِمُ۔
روزہ دار کا افطار کرنا۔

أَفَطَرَ الْعَصَائِمَ۔ کھانا اور پینا۔ افطار کا
وقت قریب ہونا۔ مَفْتَحٌ۔ ج۔
مَفَاتِيْرٌ۔ کہا جاتا ہے۔ "قومٌ
مَفَاتِيْرٌ"۔

أَفَطَلَ وَقَطَرَ۔ روزہ افطار کرنا۔ ناشتہ دینا
فَطَرَ الشیءَ۔ پھاڑنا۔

تَفَطَّرَ وَالْفَطَّرَ۔ پھٹنا۔ تَفَطَّرَتْ وَ
الْفَطَّرَتْ۔ الارضُ بِالنَّبَاتِ۔
زمین کا پھٹنا۔ اور نباتات کا نکلنا۔
الْفَطْرُ الْقَوْنِيْبُ۔ شاخ کے پتوں کا

نکلنا شروع ہونا۔

أَفَطَّرَ الْأَمْرَ۔ ایجاد کرنا۔

الْفَطْرُ۔ پھٹن۔ ج۔ فُطْرًا۔

الْفِطْرُ۔ انگر جبکہ اس کا سرا ظاہر ہو۔

الْفِطْرُ دَعِيْدُ الْفِطْرِ۔ ماہ رمضان
المبارک کے بعد عید۔

الْفُطْرُ۔ نباتات جو زمین سے اُگے۔ سانپ
کی چھتری کی ایک قسم۔ واحد فُطْرَةٌ۔

الْفِطْرَةُ۔ وہ صفت کہ ہر موم ہو اپنی ابتدا
پیدائش میں اس کے ساتھ متصف ہو
طبعی حالت، دین، سنت۔ طَرِيقَةُ
پیدائش۔ ج۔ فِطْرٌ۔

الْفُطُوْرُ وَالْفُطُوْرِيُّ۔ افطاری، ناشتہ۔

الْفِطِيْرُ۔ ہر وہ چیز جو وقت سے پہلے جلدی
میں کی جائے۔ کہا جاتا ہے۔ "هَذَا
رَأْيٌ فِطِيْرٌ" یعنی بدیہی رائے جو

بغیر سوچے دل میں آئے۔ عَجِيْنٌ
فِطِيْرٌ۔ بے خمیر کاندھا ہوا آٹا۔

خُبْزٌ فِطِيْرٌ۔ تازہ روٹی۔ الْفِطِيْرُ۔
تازہ دودھ۔ عِيْدُ الْفِطِيْرِ۔ یودیوں

کی ایک عید۔

سَيْفٌ فُطَارٌ۔ کند تلوار۔

الْفُطَارِيُّ۔ بے نفع مرد۔
الْأَفُطُوْرُ۔ ناک اور چہرہ میں پھٹن۔ ج۔

أَفَاتِيْرٌ۔

الْفَاطِرُ۔ جس کے دانت نکل آئے ہوں۔
فَطِسَ رَسًا، فُطِسًا۔ چوٹی ناک والا ہونا۔

مَفْتَحٌ أَفُطِسَ۔ اور چوٹی ناک کو بھی
أَفُطِسَ کہتے ہیں۔ مَوْنٌ فُطَسًا۔

ج۔ فُطَسٌ۔
فَطِسَ رَسًا، فُطَسًا۔ مَرًا۔ مَفْتَحٌ فَاطِسٌ

(ر۔ فُطَسًا) الْحَدِيْدُ۔ لوہے کو
چوڑا کرنا۔ بِالْكَلِمَةِ۔ روبرو کرنا۔
الْفُطَسُ۔ مَعْرَبٌ الْحَبِّ الْأَسْوَدِ۔ واحد
فُطْسَةٌ۔

الْفُطْسَةُ۔ مہر جس کا تعویذ بنایا جائے۔

الْفُطْسَةُ۔ ناک کا چھپا پن۔

الْفِطْيَسُ۔ بڑا ہتھوڑا۔ ج۔ فُطَاطِيْسٌ۔

الْفِطْيَسَةُ۔ سُورُكِي تَقْوَمَتِي۔ انسان کا ہونٹ۔

ہر درندہ کا ہونٹ۔

فَطَمَ رَضًا، فُطْمًا۔ الْحَبْلَ۔ رسی کا ٹٹا۔

فَطَمَ الْوَلَدَ۔ بچہ کا دودھ چھڑانا۔

فُطْمَةٌ عَنِ الْعَادَةِ۔ روکنا۔ منع کرنا۔

چھڑانا۔ کہا جاتا ہے۔ "لَا فُطْمَتَكَ عَمَّا
أَنْتَ عَلَيْهِ" یعنی میں تمہارے لالچ کو
منقطع کروں گا۔

أَفَطَمَ۔ الرَّضِيْعَ۔ دودھ پیتے بچہ کا

دودھ چھڑانے کے وقت پر پہنچنا۔ بچہ

کا دودھ چھڑانے کے قریب ہونا۔

الْفُطْمُ۔ دودھ چھٹنا۔ عَنْهُ۔ رُكْنَا۔

باز رہنا۔

تَفَاطَمَ۔ الْقَوْمَ۔ ایسے جانوروں کے

بچوں والا ہونا جو دودھ چھڑانے کے بعد

اپنی ماں سے لپٹے رہیں۔

الْفِطَامُ۔ دودھ چھڑانا۔ دودھ چھڑانے کا

زمانہ۔

الْفِطِيْمُ۔ دودھ چھڑایا ہوا۔ ج۔ فُطْمٌ۔

نَاقَةٌ۔ فَاطِمَةٌ وَقَاطِمَةٌ۔ وہ اونٹنی جس کا

بچہ دودھ سے چھڑا دیا گیا ہو۔ فَاطِمَةٌ

الزُّهْرَاؤُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی صاحبزادی کا اسم شریف۔

الْفُطَيْمَةُ۔ وہ بکری جس کا بچہ دودھ سے

چھڑا دیا گیا ہو۔

فَطَنَ رَسًا، وَقَطَنَ رَسًا، وَقَطِنَ رَسًا

فُطْنَا وَقُطْنَا وَقُطْنَا وَقُطْنَا وَ

فُطْنَا وَقُطْنَا وَقُطْنَا وَقُطْنَا وَ

وَقُطْنَا وَقُطْنَا وَقُطْنَا وَقُطْنَا وَ

لَا مِرْوَبَهُ وَالْيَهُ۔ اور اک کرنا۔

سبھنا۔ ماہر ہونا۔

فَقَطَنَهُ۔ بِالْأَمْرِ وَكَهْ وَالْيَهُ۔ سبھنا۔ فَطَنَ

استعمال کیا جاتا ہے۔
 الْفِعَالُ بِكسر الفاء۔ فعل کی جمع، جس کو
 بہت سے آدمی کریں۔ فِعَالُ النَّاسِ
 کھارے کا دستہ۔ جہ۔ فَعُلُ
 الْفَاعِلُ۔ فا۔ جہ۔ فَا جَلُونَ وَقَعْلَةٌ
 مؤنث فاعِلَةٌ۔ جہ۔ فَا عِلَاتٌ و
 فَوَاعِلُ۔

المُفْتَعَلُ۔ مفع۔ ہر وہ چیز جو بغیر خال سابق
 کے بنائی جائے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ
 فُلَانٌ بِالْمُفْتَعَلِ" یعنی فلان نے بڑا
 کام کیا۔ شَعْرٌ مُفْتَعَلٌ۔ عجیب و
 غریب شعر۔

فَعَمَدٌ، فَعَمَاءٌ وَقَعَمٌ وَأَفْعَمٌ۔
 الإِنَاءُ۔ برتن بھرنا۔ أَفْعَمَ الْمَسْكُ
 الْبَيْتُ۔ مہکاتا۔ خوشبو سے گھر کو بھر
 دینا۔ الرَّجُلُ۔ خوشی سے بھر دینا۔
 خوش کرنا۔

فَعَمَدٌ، وَقَعَمَدٌ، فَعَمَاءٌ وَأَفْعَمٌ
 الرَّجُلُ۔ غضبناک کرنا۔
 فَعَمَدٌ، فَعَامَةٌ وَفَعُومَةٌ۔ الإِنَاءُ
 أَوِ السَّاعِدُ۔ بھر جانا۔ صفت كَعَمَدٌ و
 فَعَمَلٌ دلام کی زیادتی کے ساتھ، کہا
 جاتا ہے "هُوَ فَعَمَدٌ الْأَعْمَاءُ" وہ
 تو مند ہے۔

أَفْعَمَ۔ بھر جانا۔ بہہ پڑنا۔
 سَيْلٌ مُفْعَمٌ۔ بھر دینے والا سیلاب۔
 الْأَفْعَمُ۔ بھرنے کی وجہ سے بھلنے والا۔
 قَعِي تَفْعِيَةٌ۔ الجَمَلُ۔ اونٹ پر سانپ
 کی شکل کا نشان بنانا۔
 تَفْعِيٌّ۔ بدخلقی میں سانپ کی طرح ہونا۔
 الْفَاعِيُّ۔ غصہ میں جھاگ نکلنے والا۔
 الْفَاعِيَّةُ۔ فاعی کا مؤنث۔ چنچل عورت۔
 حنا کے پھول۔

الْأَفْعِيُّ۔ بڑا سانپ۔ خبیث قسم کا سانپ۔
 اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر ایک

جانا۔ فُلَانٌ بِالْأَمْرِ وَمِنَ الْأَمْرِ۔
 کام کو بڑا سمجھنا اور اس کے انجام دینے
 کے لیے اعتماد نہ کرنا۔

أَقْطَعُ الْأَمْرَ۔ قباحت بڑھانا۔ أَقْطَعَةُ۔
 امر قبیح میں ڈالنا۔ أَقْطَعُ الْأَمْرَ قَبِيحٌ
 پانا۔ أَقْطَعُ۔ أَمْرٌ قَبِيحٌ مَبِيتٌ
 کا نال ہونا۔

قَطَعَ۔ الْأَمْرَ۔ قبیح بنانا۔ مبالغہ کرنا۔
 تَقَطَّعَ وَاسْتَقَطَّعَ الْأَمْرَ۔ قبیح پانا۔
 الْفَطِيْعُ۔ خوشگوار پانی یا آب زلال۔
 أَقْطَى إِنْطَاءً۔ الرجلُ۔ بدخلق ہونا۔
 فَعَفَ فَعْفَعَةٌ۔ بِالْخَنِيْمِ۔ بکریوں کو
 نفع کھرا کر ہانکنا۔ اور اس آواز کو
 نفع یا ففعا کہتے ہیں۔

تَفَعَّفَ۔ الرَّجُلُ فِي أَمْرٍ۔ جلدی کرنا۔
 فَعَلَ دِي، فَعَلًا۔ کرنا۔ بنانا اور اسم اس
 سے الْفِعْلُ ہے۔

فَعَّلَ۔ الْبَيْتَ الشَّعْرِيَّ۔ تقطیع کرنا
 اور وزن تقطیع کا ایسے اجزا سے ہو۔
 جس کا مادہ فاعل ہے۔

الْفَعْلُ۔ ہو جانا۔ متاثر ہونا۔
 افْتَعَلَ۔ الشَّيْءُ۔ ایجاد کرنا۔ النَحْطُ
 جلسہ بازی کرنا۔ کہا جاتا ہے "افْتَعَلَ
 كَلْبِيٌّ نَوْدًا وَكَيْدًا"۔ اس نے اس پر
 جھوٹ و بہتان باندھا۔

الْفِعْلُ۔ کام۔ جہ۔ فِعَالٌ وَأَفْعَالٌ۔ جہ
 أَفْعَالٌ۔

الْأَفْعَالُ وَالْفَاعِيَّةُ۔ علم عروض کی
 اصطلاح میں اشعار کے اوزان۔ اسرہ
 چاریں۔ فَعُولٌ مَفَاعِيلٌ مَفَاعِلٌ
 وَفَاعِلَاتٌ۔ اور تھی اوزان ان ہی
 چار سے ماخوذ ہیں۔

الْفَعْلَةُ۔ فعل کا اسم مرہ۔
 الْفَعْلَةُ۔ عادت۔
 الْفِعَالُ۔ اچھا فعل کر۔ اور کبھی خراب بھی

التَّوْبِيْحُ۔ خاگرد کو سمجھ دینا۔
 فَاظَنَهُ مَقَاطِنَةً۔ بالكلام۔ سمجھانے کے
 لیے کلام کو لوٹانا۔

تَفَقَّنَ۔ يَكَلِّمُهُ۔ سمجھنا۔ کہا جاتا ہے۔
 "تَفَقَّنَ لِمَا أَقُولُ لَكَ"۔ یعنی جو کہ میں
 تم سے کہ رہا ہوں اس کو سمجھو۔
 الْفِطْنَةُ۔ مارت۔ سمجھ۔ جہ۔ فِطْنٌ۔
 الْفَاطِنُ وَالْفِطْنُ وَالْفِطِينُ وَالْفِطُونُ
 وَالْفِطْنُ وَالْفِطْنُ۔ زیرک، سمجھ دار۔
 جہ۔ فُطْنٌ وَفُطْنٌ۔

الْفُطُونَةُ۔ زیرک، سمجھ دار۔ ہوشیار۔
 فُطَارَنَ، يَفُطُّوا فُطُوًّا۔ الدَّابَّةُ۔ جانور
 کو تیز ہانکنا۔
 فُطْرَسَ، فُطَاظَةٌ وَفُطَاظًا وَفُطَاظًا۔

سخت کلام اور بدخلق ہونا۔
 فُطْرَنَ، فُطَارًا وَفُطْرًا۔ جگلوں میں اوجھ
 کا پانی پھوڑنا۔ اور پینا۔ اور یہ اس
 طریقہ پر ہوتا ہے کہ اونٹوں کو سیراب
 کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے منہ کو باندھ
 دیتے ہیں تاکہ جگالی نہ کرنے پائیں اور
 پھر جب پیاس لگتی ہے تو اونٹ کا
 پیٹ چاک کر کے اوجھ کو پھوڑتے ہیں
 اور پیتے ہیں۔

الْفِطْرُ۔ ہم۔ بہت بدخلق اور سخت کلام۔
 جہ۔ أَفْطَاظَةٌ۔ اوجھ کا پانی جو جگلوں
 میں اونٹوں کی اوجھ سے پھوڑ کر پیا جاتا
 ہے۔ جہ۔ فُطَاظًا وَفُطُوًّا۔

الْفِطْرُ۔ بی شکل و صورت کا ایک آبی حیدرہ
 اور اس کے نزدیک اوپر کے جڑے میں
 دو لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں۔

الْفُطَاظَةُ۔ مکررا۔
 قُطِعَ دِي، فُطَاعَةٌ۔ الْأَمْرُ۔ قباحت
 بڑھ جانا۔ قباحت میں مد سے گذر جانا۔
 صفت قُطِعٌ وَقُطِيْعٌ۔

فُطِعَ دِي، قُطَاعًا۔ الإِنَاءُ۔ برتن کا بھر جانا۔

فُطِعَ دِي، قُطَاعًا۔ الإِنَاءُ۔ برتن کا بھر جانا۔

فُطِعَ دِي، قُطَاعًا۔ الإِنَاءُ۔ برتن کا بھر جانا۔

فُطِعَ دِي، قُطَاعًا۔ الإِنَاءُ۔ برتن کا بھر جانا۔

فُطِعَ دِي، قُطَاعًا۔ الإِنَاءُ۔ برتن کا بھر جانا۔

زبر بلا ہوتا ہے۔ جہ۔ آقارہ۔

الْأَقَارِي - رگیں۔ جو بن ران کی رگ سے پھلتی ہیں۔

الْأَنْعَوَانُ - نرسانپ۔

أَرْضٌ مَفْعَاةٌ - سانپوں والی سرزمین۔

الْأَفْعَاءُ - خوشبوئیں۔

الْمَفْعَاةُ - سانپ کی شکل کا نشان۔

فَمَدَنٌ، فَعَلَةٌ - الطيب - خوشبو مکننا۔

بهر کنا۔ کہا جاتا ہے: "فَعَلْتَنِي التَّوَابِعَةُ"

فَعْلًا - یعنی مجھ پر بہترین خوشبو مکی۔

فَعْرَدَنُ، فَعْرَاءٌ - فَاةٌ - منہ کھولنا۔

فَعْرَدَ وَالْفَعْرُ - فَوْةٌ - منہ کھلنا۔ الْفَعْرُ

النَّوْرُ - کلی کھلنا۔

الْفَعْرُ - مہ۔ گلاب کا پھول۔ جبکہ وہ کھل جائے

الْفَعْرَةُ - فَعْرُكَ اسمرہ۔ کہا جاتا ہے: "وَلَيْدًا"

بِالْفَعْرَةِ - یعنی ثریا کے طلوع ہونے کی

ابتدا میں پیدا ہوا۔ اور یہ ہارے کے زمانہ

میں ہوتا ہے۔

الْفَعْرَةُ - وادی کا دانہ۔ جہ۔ فَعْرٌ -

الْفَاعِيَةُ - ایک چھوٹے سے جانور کا نام۔

الْفَاعِيَةُ - ایک قسم کی خوشبو۔ کباب۔

بج نیلوفر۔

الْمَفْعَرَةُ - وسیع زمین۔ ہار کا شگاف۔

غار سے چھوٹا۔

فَعْرَدَنُ، فَعْمًا وَفَعْمًا - الطيب

فلانا۔ ناک کو خوشبو سے بسا دینا۔

(- وَفَاعَهُ مَفَاعَةً) فلانا۔

بوسہ لینا۔

فَعْرَدَنُ، فَعْمًا وَفَعْمًا - الْوَرْدُ

پھول کھلنا۔

فَعْرَدَنُ، فَعْمًا - بالشئ مشتاق ہونا

حریص ہونا۔ بالمکان۔ اقامت کرنا۔

أَفْعَبَ - المکان۔ گھر کو خوشبو سے بسا دینا

- الْإِنَاءُ - برتن کو بھرنے۔ الْوَجَلُ -

خوشی سے بھرنے۔

تَفَاعَى - ایک دوسرے کو بوسہ دینا۔

الْفَغْمُ - المکان۔ خوشبو سے بھر جانا۔

وَافْتَقَمَ - انزکام۔ زکام اچھا ہونا۔

الْفَغْمُ - مہ۔ کھانے کا وہ حصہ جو دانتوں

کے درمیان سے نکالا جائے۔

فَغْمَةٌ - الطيب - خوشبو کی بھری۔

الْفَغْمُ وَالْفَغْمُ - مِنْهُ - مَطْرِي مع

جرہوں کے۔

الْفَغْمُ - مشتاق۔ حریص۔ کہا جاتا ہے

"كَلْبٌ فِغْمٌ عَلَى الصَّيْدِ" کتا

شکار کا حریص ہے۔

الْمُفْعَمُ - مفعم۔

الْمُفْعَمُ - زکام زدہ۔ شئ مُفْعَمٌ -

خوشبو سے بسایا ہوا۔

فَعَا يَفْعُو فَعْوًا - الامر - پھیلنا۔

الزَّبْعُ - کھیتی کا خشک ہونا۔

أَفْعَى - الرِّيحَانُ - شگوفہ دار ہونا۔ فلان

غنا کے بعد محتاج ہونا۔ حُسن کے بعد

بد صورت ہونا۔ طاعت کے بعد نافرمان

ہونا۔ أَفْعَاةٌ - غضبناک کرنا۔ أَفْعَى

الشَّجَرُ - درخت میں کلی کھلنا۔

الْفَعْوُ - حنا کا پھول۔

الْفَاعِيَةُ - حنا کی کلی۔ اور کہا گیا ہے کہ

فاعیہ اس پھول کو کہتے ہیں جو حنا کی

شاخ کو اٹھا لگانے سے نکلتا ہے اور

وہ حنا کے پھول سے زیادہ اچھا ہوتا ہے

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فاعیہ بہتر خوشبودار

کلی کو بھی کہتے ہیں۔

الْفَعْوَةُ - خوشبو۔ کہا جاتا ہے: "فَعْوَةٌ"

الطيب - خوشبو کی بھری۔

فَقَاتٌ، كُنْفًا وَفَقًا لَفْقَةً - الدَّمَلُ

پھوڑے کو چیرنا۔ شگاف کرنا۔ الْعَيْنُ

آنکھ پھوڑنا۔

تَفَقَّأَ وَانْفَقَّ - شگاف ہونا۔ پھوڑنا۔

الْفَقُّ - وہ باریک ہی جھلی جو جنین کے سر

کے ارد گرد سرتی سے اور ولادت کے وقت

پھٹ جاتی ہے۔ جہ۔ فُقُوؤٌ -

الْفَقَاةُ وَالْفَقَاةَةُ - بمعنى الفَقُّ -

الْفَقُّ وَالْفَقِي - پتھر کا گڑھا۔ سخت زمین کا

گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔

فَقَّحَ دَفًا، فَقَّحًا وَفَقَّحَ - الْجُرُودُ - کتے

کے پتے کی آنکھیں کھلنا۔ الْمَنَابِتُ -

نباتات کا کلی دار ہونا۔ شگوفہ کھلنا۔

تَفَقَّحَ - کھلنا۔ شر کے لیے آمادہ ہونا۔

تَفَاقَحَ - القوم - ایک دوسرے کی طرف

پیٹھ کرنا۔

الْفَقَّحَةُ - مِنَ النَّبْتِ - کلی۔ دُبر کا حلقہ۔

جہ۔ فِقَاحٌ -

الْفَقَّاحَةُ - سبھیل۔

الْفُقَّاحُ - مِنْ كُلِّ نَبْتٍ - کلی۔ کہا جاتا ہے

"فَلَانٌ مُتَفَقِّحٌ لِلشَّرِّ" یعنی فلان

شر کے لیے آمادہ ہے۔

فَقَّحَ دَفًا، فَقَّحًا وَفَقَّحَ - الْوَقْدَانَا

وَفَقَّحُوا وَفَقَّحُوا - الْوَقْدَانَا - گم ہونا۔ معدوم

ہونا۔ کہا جاتا ہے: "مَا أَفَقَّحْتُكَ"

مُدًّا أَفَقَّحْتُكَ - یعنی جب سے میں نے

اس کو گم کیا ہے، تلاش نہیں کیا۔

أَفَقَّحَا - الشئ - گم کرنا۔

تَفَقَّحًا وَافْتَقَّحًا - گشردہ کی تلاش کرنا۔

تَفَاقَحَ - القوم - بعض کا بعض کو کھونا۔

الْفَاقِدُ - فادہ عیال جس کا شوہر یا لڑکا

مر گیا ہو۔

الْفَقِيْدُ - گشردہ۔ کہا جاتا ہے: "مَا تَغَيَّرَ"

فَقِيْدًا أَوْ غَيْرَ مَفْقُوْدًا" یعنی وہ مر گیا

اور اس کے مرنے کی کوئی پروا نہیں۔

فَقَّرَدَنُ، فَقَّرًا وَفَقَّرَ - كَمُوْدُنَا -

الْحَرَمُ - موتی پرونے کے لیے بندھنا

- الشئ - کاٹنا۔ اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

فَقَّرَتْهُ وَفَقَّرَتْهُ النَّاهِيَةُ - اس

پر ایسی مصیبت نازل ہوئی جس نے اس کی

رہے کہ بڑی کوتاہی سے۔ الفقیہ کی زمین
 تو پورا لگانے کے لیے کھودنا۔
 فقیر رس فقیرا۔ ریڑھ کی ہڈی میں مرض یا
 شکتی کی وجہ سے درد ہونا۔ صفت
 فقیر و فقیر و مفقور۔
 فقور (رس) فقارۃ و افتقر۔ مفلس ہونا۔
 افتقر الیہ۔ محتاج ہونا۔ صفت
 فقیر۔ ج۔ فقراء۔ مؤنث فقیرۃ۔
 ج۔ فقیرات و فقائر و فقراء۔
 افقرۃ۔ مفلس بنانا۔ الصید۔ شکار کا
 اپنی جانب سے موقع دینا۔ الارض
 زمین کو کھیتی کرنے کے لیے مستعار دینا۔
 ظهر مہرۃ۔ سواری کے لیے بھیرا
 مستعار دینا۔ افقر ظهر المہرۃ۔
 بھیرے کا سواری کے قابل ہونا۔
 ثقاقور۔ فقیری ظاہر کرنا۔
 الفقور مفلسی۔ غم۔ ج۔ فقور و ثقاقور۔
 پھین کاٹ۔ ج۔ افقر۔
 الفقور مفلسی۔ جانب۔ ج۔ فقور۔
 الفقورۃ۔ ریڑھ کی ہڈی۔ ج۔ فقور۔
 الفقورۃ۔ ریڑھ کی ہڈی۔ ج۔ فقور و
 فقورک و فقیرات۔
 الفقارۃ۔ ریڑھ کی ہڈی۔ ج۔ فقارۃ۔
 ذو الفقار۔ سید کا علی کرما اللہ وجہہ
 کی تلوار کا لقب ہے فقار الجوزا
 بھیرے جوزا کے ستارے۔
 الفقورۃ فقور کا اسم نوح۔ لغمان، پہاڑ یا
 کسی اور چیز کا۔ کلام یا جملہ کا طبع نکتہ
 قصیدہ کا عمدہ شعر۔ ج۔ فقور۔
 الفقورۃ۔ قرب۔ کہا جاتا ہے۔ ہومینک
 فقورۃ۔ یعنی وہ تم سے قریب ہے۔
 الفقورۃ۔ گڑھا۔ گریبان۔ امر عظیم۔
 ج۔ فقور و فقراء۔
 الفقاری۔ فقار طہر کی طرف منسوب
 ثقاقورۃ۔ سخت مصیبت جو گویا کہ ریڑھ کی

ہڈی کو توڑ دے۔ ج۔ قواقور۔
 الفقیر۔ مفلس۔ محتاج۔ مؤنث۔ فقیرۃ۔
 ج۔ فقیرات و فقائر و فقراء۔
 حوض کی نالی۔ گڑھا جس میں کھجور کا پودا
 لگایا جائے۔ عوام اسے بیش کتے ہیں۔
 ترتیب وار۔ کنویں جن کا پانی ایک
 دوسرے میں جاتا ہو۔ زکیۃ فقیرۃ
 کھدا ہوا کنواں۔
 الفقیر مصیبت۔
 المفقور۔ قوی مرد۔ سواری کے قابل بھیرا۔
 المفاقور۔ اسباب فقر۔ اس کے لیے کوئی
 واحد نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ فقر
 کی جمع ہے۔ خلاف قیاس جسے حسن
 کی جمع قحاسین۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے
 کہ یہ مفقورۃ بمعنی فقر کی جمع ہے۔
 المفقور۔ مضبوط ریڑھ کی ہڈی والا مرد۔
 کہا جاتا ہے۔ سیت مفقورۃ وہ تلوار
 جس کی پشت پر پھوار خراشے ہوں۔
 رجل مفقور۔ فرمانبردار مرد۔
 فقس (رض) فقسا۔ البیضۃ۔ انڈے
 کو ہاتھ سے توڑنا۔ پھاڑنا۔ الطائر
 بیضۃ۔ پرندہ کا انڈے کو توڑنا اور چب
 پکانا۔ اللحوان۔ قتل کرنا۔ الرجل
 بالوں کو کھرا کر کھینچنا۔ عین
 الامر۔ زبردستی ہنسانا۔ فقس
 الشیء۔ چھین لینا۔
 فقس فقسا۔ اچانک مرنے کو دینا۔
 تفقس و انفقس۔ الشیء۔ الٹ جانا۔
 تفقس۔ الٹ جانا۔ ایک دوسرے کے
 بالوں کو کھرا کر کھینچنا۔
 الفقس۔ جوڑوں کا مرض۔
 الفقوس۔ خربوزہ کی ایک قسم۔ واحد
 فقوسۃ۔
 الففقس۔ جال کی ٹکڑی جو ہندسے پر
 الٹ جاتی ہے۔

فقس (رض) فقسا۔ البیضۃ۔ انڈے
 کو ہاتھ سے توڑنا۔
 فقس (رض) فقسا و فقسا۔ البیضۃ
 و فقسا۔ انڈے وغیرہ کو ہاتھ سے توڑنا
 پھاڑنا۔ صفت مفعول۔ فقیرۃ و
 مفقورۃ۔
 تفقس و انفقس۔ البیضۃ عن
 الفرس۔ انڈے ٹوٹ کر بچہ کا ظاہر ہونا۔
 فقط۔ یہ مرکب کلمہ ہے جو فاء اور قط سے
 مرکب ہے اور اس کے معنی لاغیر کے
 ہیں یعنی صرف، بس۔
 فقط۔ الحساب۔ تعیین مقدار کے بعد فقط
 لکھنا تاکہ کوئی کچھ بڑھانے کے۔
 فقح (رض) فقحا و فقوحا۔ لونہ
 رنگ کا صاف اور خالص ہونا یا گہرا زرد
 ہونا۔ الرجل۔ سخت گرمی سے مرجانا
 ۔ الغلام۔ لڑکے کا بڑھنا۔ فقحا
 الشیء۔ چرانا۔ کہا جاتا ہے فقحۃ
 الکوارق۔ یعنی اس کو مصائب نے
 ہلاک کر دیا۔
 فقح (رض) فقحا۔ سرخ رنگ ہونا۔ گہرا رنگ
 ہونا۔ اور اس کا استعمال اکثر زرد رنگ
 کے لیے ہوتا ہے۔
 فقح بے معنی گفتگو کرنا۔ اصابعہ۔ انجیل
 پٹھانا۔ الورق۔ کلاب کی پتی کو ایک
 ایک ہاتھ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے
 مار کر پھاڑنا اور آواز نکالنا۔ الادیحہ
 چمڑے کو سرخ رنگنا۔
 افقح۔ محتاج ہونا۔ برا حال ہونا۔
 ثقافت۔ عینا۔ آنکھوں کا سفید ہونا۔
 الفقح۔ پھٹنا۔
 الفقح و الفقح۔ سانپ کی چھتری جو نرم
 اور سفید ہوتی ہے۔ ج۔ افقح و فقوح
 و فقحۃ۔ الفقح۔ محتاج
 الفقارۃ۔ فخالص صلا رنگ اور مشہور

یہ ہے کہ یہ صفت کے طور پر ضرور لگ کے لیے مستعمل ہے۔

الفارقعة۔ فاقحہ کا مؤنث۔ مصیبت۔ جہ فواقحہ۔

الافقہ۔ بہت زیادہ سفید مؤنث فقحاء جہ۔ فقہ۔

الفقیہ۔ مرد سرخ فام۔ کبوتر کی ایک قسم۔ فاحہ۔ فقیعہ۔

الفقمہ۔ سخت سپیدی۔ لون فقاہی۔ گمراہ لگ کہا جاتا ہے ابيض فقاہی۔ بہت سپید۔

الفقاع۔ بڑا سخت خبیث۔ الفقاع۔ بھوک شراب۔

الفقاعی۔ بھوک شراب پیچنے والا۔ الفقاہی۔ بلبہ۔ جہ۔ فقار قیہ۔

المفقع۔ لڑکھار موزہ۔ المفقعة۔ ایک کالے رنگ کا پرندہ جس کی دم کی جڑ سفید ہوتی ہے۔

فققن فققنہ۔ سخت محتاج ہونا۔ الکک ککے کا ڈرک وجہ سے بھونکنا۔

فققن فققنہ۔ سخت محتاج ہونا۔ (و فققن الرجل فی کلامہ۔ حلق سے نکالنا۔

الفققان والفققانہ۔ بے وقوف۔ بکواس کرنے والا۔

فقل دن، فقل۔ البیدس۔ کھلیان میں غلہ بھیننا۔

أقل۔ المكان۔ سرسبز ہونا۔ الفقل۔ مہم۔ سرسبز۔

المفقلہ۔ ظلمہ بکھیرنے کا آلہ۔ جہ مفقل فقل دن، فقلما و فقلما۔ الرجل او

الکلب۔ ناک پکڑنا۔ فقلہ رس، فقلما۔ الاناء۔ پڑھنا۔ کہا

جاتا ہے: أكل الرجل حتى فقلہ۔ مرنے کہا یا یہاں تک کہ نم ہو گیا۔ فقلما و فقلما، الرجل۔ سامنے کے

دانتوں کا باہر نکلنا۔ صفت آفقل۔ مؤنث فقلما۔ جہ۔ فقل۔ الرجل اکرنا۔

فقدس، فقلما و فقلما و فقلما و فقلما دن، فقلما و فقلما۔ الامر۔

عظیم ہونا اور ناہموار ہونا۔ صفت آفقل۔ فقلہ الشی۔ وسیع ہونا۔

الفقل والفقل۔ کتے کی تھوٹی کا کنارہ۔ ایک جڑ یا دونوں جڑے۔

الفقل۔ سمجھ دار آدمی جو اپنے مقابل پر غالب آئے۔

الفقل۔ منہ۔ الفقلہ والفقلہ۔ ایک قسم کی مچلی جو

کہ سمندوں میں ہوتی ہے اور یہ دودھ دینے والے جانوروں میں شمار ہوتی ہے۔

فقلہ رس، فقلما و فقلما۔ الشی او الکلام۔ سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: فقلہ

عقلہ الکلام۔ اس نے اس کی گتگو کو سمجھ لیا۔ و فقلہ۔ الرجل۔ علم فقہ

سیکھنا اور حاصل کرنا۔ فقلہ دن، فقلما۔ الرجل۔ علم میں

فقلہ و فقلہ۔ فلانا سکھانا۔ سمجھانا۔ فقلہ۔ فلانا۔ فقہ میں غالب ہونا۔

الفقلہ۔ کسی خطے کا جاننا اور سمجھنا۔ احکام شرعیہ کا علم۔ اولہ تفصیلیہ کے ساتھ

مذاقت۔ ریک۔ الفقلہ والفقلہ والفقلہ۔ بہت

سمجھ دار لوگ۔ عالم۔ علم فقہ کا جاننے والا۔ جہ۔ فقلما و فقلما۔ مؤنث فقلہ و فقلہ

جہ۔ فقلما و فقلما۔ المستفہدہ۔ لڑکھارنے والی کا ساتھ

دینے والی عورت۔ فقلما یفقل فقلما۔ آخرہ کسی کے نشان

قدم پر جانا یا پیچھے جانا۔

فقلوۃ۔ السہو۔ سو فار تیر۔ جہ۔ فقل۔ فقل دن، فقلما و فقلما۔ الرجل۔ بہت

بڑھا ہونا۔ فقل دن، فقلما۔ الشی۔ جدا جدا کرنا۔

العقلۃ۔ گرہ کھولنا۔ العقل۔ ہڈی کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ العقلہ

مٹ کر توڑ دینا۔ فقل دن، فقلما و فقلما و فقلما۔ الاسیر

قیدی کو چھڑانا۔ یذا۔ ہٹا کھولنا۔ فقل الإدغام۔ ادغام کو اٹھا دینا۔ جیسے

لا تتمدد۔ لا تتمدد میں۔ فقل رس، فقلما و فقلما و فقلما۔ الیھن

رہن چھڑانا۔ فقل رس، فقلما۔ والفقل۔ العقل۔

ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ فقل دن س، فقلما و فقلما۔ سست اور

بیوقوف ہونا۔ آقل۔ العقبی من الجمالہ۔ ہرن کا مال

میں سے نکل بھاگنا۔ فقلہ۔ علمہ علمہ کرنا۔ چھڑانا۔

فقلک۔ الگ الگ ہونا۔ چھٹنا۔ فقلک الفقلک۔ غصیب الولا کی پال چلنا۔

الفقل۔ جدا ہونا۔ کھلنا۔ العبد۔ غلام کا آزاد ہونا۔ کہا جاتا ہے: ما أفلک

یفلک کذا۔ وہ بیٹھ ایسا کرتا رہا۔ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور ما حرف

نقی اس کے لیے لازم ہے۔ استفعلہ۔ رہا طلب کرنا۔

الفقل۔ مہم۔ جہ۔ فقلک۔ الفکان والفکان۔ وہ شے جس سے دن

دیکھ کر چھڑایا جائے۔ الفکان۔ فاقہ۔ بہت بڑا حد بہت بیوقوف۔

جہ فقلک۔ والفکان۔ الفکان۔ میڈہ مبالغہ۔

الافک۔ وہ شخص جس کی ہڈی بڑھ سے ہٹ

چھوٹنا۔ اقلت و تقلت الی شیء
بھگڑ کرنا۔ تقلت علیہ۔ کودنا۔
فالتہ فلانا ومفالتہ۔ اچانک آنا۔
پانا۔

اقلت۔ الکلام۔ فی البدیہ کہنا۔
الامر۔ بلا توقف کام کرنا۔ علیہ
بغیر دوسرے کے کام کو پورا کر دینا۔
الشیء۔ جلدی سے لینا۔ بگڑنا۔
اقلت۔ اچانک مرنا۔ یا صیرکذا۔
تیار کرنے سے پہلے کسی کام میں لگنا۔
الشیء۔ کسی چیز کا اس سے اچانک
لیا جانا۔

استقلت۔ الشیء من یدیک بچھین لینا۔
اقلت۔ رہائی۔ چھوٹنا۔ کہا جاتا ہے "ما
لک منہ قلت" تیرے لیے اس سے
چھٹکارا نہیں۔

فوس قلتان۔ جر قلتان۔ وفلت
فلت تیز رفتار گھوڑا۔ رجل قلتان
چست دلیہ تیز طبیعت، شرک طرف
دوڑنے والا۔

القلتہ۔ قنت کا اسم مرہ۔ بمعنی آید
مرتبہ چھوٹنا جو کام عجلت میں بغیر استحکام
کے ہو جائے۔ مہینہ کی آخری رات۔ جر
قلتان۔ قلتان الکلام۔ کلام کی
لغزشیں۔ لایعنی باتیں۔ کہا جاتا ہے۔
"خروج الرجل قلتة" اچانک نکل
آیا۔ وحدث الامر قلتة۔ بغیر
سوچے کسی واقعہ کا ہو جانا۔ وهو فی
برودة لک قلتة۔ یعنی وہ ایسی چھوٹی
اور تنگ پلور میں تھا جس کے دونوں
کنارے مل نہیں سکتے۔

کساء قلوٹ۔ ایسی چھوٹی اور تنگ پلور جس
کے دونوں کنارے پہننے والے کے جسم پر
نہ مل سکیں۔

قلج من قلج وقلج۔ الشیء پھاڑنا

دو ٹکڑے کرنا۔ الخراث الارض۔
کاشتکار کا زمین کو جوتنا۔ الوالے
الجزیة بینہم وعلیہم۔ وال
کا جزیہ کو قوم پر حصہ وار مقرر کرنا۔ جزیہ
مقرر کرنا۔

قلج فلجاً وقلجاً۔ القوم او علی القوم۔
کامیاب ہونا۔ قلج سہمہ۔ تیر کا
کامیاب ہونا۔ قلج الرجل مقصد میں
کامیاب ہونا۔ علی خصمہ۔ مقابل پر
غالب آنا۔ لکہ مقابل کے برخلاف
اس کے حق میں فیصلہ کرنا۔ بحاجتہ
ثابت کرنا۔

قلج رس، قلجاً وقلجہ۔ قدموں یا ہاتھوں
یا دانتوں کے درمیان فاصلہ ہونا۔ صفت
اقلج۔ مؤنث قلجاء۔ جر۔ قلج۔
فلج زدہ ہونا۔

قلج۔ فلج میں مبتلا ہونا۔
فالجہ ققلجہ۔ کامیابی میں ایک دوسرے
پر غالب آنے کی کوشش کر کے غالب
آ جانا۔

قلج۔ الشیء تقسیم کرنا۔ الامر نظرو فکر
اور تدبیر کرنا۔

اقلج۔ مطلوب میں کامیاب ہونا۔ علی
مخصومہ۔ مقابل پر غالب آنا اور کامیاب
ہونا۔ اللہ قلاک علی فلان۔ اللہ
نے فلاں کو فلاں پر غلبہ دے دیا۔ اللہ
بڑھاتا ہے۔ دلیل ظاہر کرنا۔ دلیل پیش
کرنا۔ لی۔ مقابل کے برخلاف میرے
حق میں فیصلہ کیا۔

تقلج۔ پھٹنا۔

انقلج۔ الصیغہ۔ صبح کا روشنی ہونا۔

انقلج۔ مہم۔ آدھا۔ چاند۔ جر۔ قلوچ۔

د۔ و القلجہ و القلجہ۔ کامیابی
فتح منی۔

القلج۔ آدھا۔ و القلج، ایک قسم کا

پیمانہ۔ جر۔ قوالج۔
انقلج۔ صبح۔ وحشی جانور کے قدم پھٹنا اور
ٹخنے کا بٹ جانا۔

القلج۔ فا۔ ایک مرض ہے جو بدمی کے ایک
حصہ اور جانب میں پیدا ہو کر اس
جانب کے احساس اور حرکت کو باطل کر
دیتا ہے۔ دو کوبان والا اونٹ۔ من
السرہام۔ کامیاب تیر۔

القلجہ۔ نیمہ کا ایک حصہ اور ٹکڑا۔

المقلجہ۔ من الامتات۔ کشادہ دانت

المقلج۔ فلج زدہ۔ جر۔ مقالج۔

قلج رن، قلجاً۔ الارض۔ زمین جوتنا۔

فلاناً۔ مکر کرنا۔ قلاحة، یلقوم و

بالقوم۔ خرید و فروخت میں دھوکا دینا۔

نقصان پہنچانا۔

قلج رس، قلجاً۔ نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا

ہونا۔ صفت اقلج۔ مؤنث قلجاء۔

جر۔ قلج۔

قلج۔ بہ۔ ٹھٹھا کرنا۔ استہزاء کرنا۔ مکر کرنا۔

اقلج۔ الرجل۔ مطلوب میں کامیاب ہونا۔

کوشش میں کامیاب ہونا۔ کام کا درست

ہونا۔ بالشیء۔ نرمی کا گزارنا۔

استقلج۔ بہ۔ کامیاب و فتح مند ہونا۔

القلج۔ مہم۔ پھٹن۔ جر۔ قلوچ۔

القلج و القلاحة۔ نیچے کے ہونٹ کی

پھٹن۔ د۔ و القلاحة، کامیابی۔ خوشحالی

بقا۔ نجات۔ انزال میں کہا جاتا ہے۔

سحق علی القلاک۔ یعنی کامیابی اور

نجات کے راستہ پر آؤ۔

الفلاحة و القلاحة۔ کھیتی باڑی۔

القلاحة۔ کاشتکار۔ طاح۔ کراہیہ پر دینے

والا۔ جر۔ قلاحة و قلاحون۔

المقلجہ۔ باعث کامیابی۔

متقلج۔ العنقاہ او الیدین او

الکد مین۔ سروی کی وجہ سے جس کے

الْفُلُقُ - امر عجیب - مصیبت - بھاری ہوئی چیز کا آدھا۔
 الْفُلُقُ - صبح - کل مخلوق - اشکال کے بعد حق کی وضاحت کرنا - دو ٹیلوں کے درمیان ہموار زمین - دوزخ - پہاڑ کا شکاف - جہ - فُلُقَانٌ - پیالہ کی تلی میں جو دودھ باقی رہ جائے، حقارت کے طور پر کہا جاتا ہے - "یا ابنِ شاربِ الْفُلُقِ" وہ لکڑی کہ جس میں رسی کے کنارے ہاندھ کر مجرم کے دونوں پیروں میں ڈالی جاتی تھی - وَالْفُلُقُ مِنَ الْكَبَبِ - پھٹا ہوا دودھ - جہ - أَفْلَاقٌ - الْفُلُقَةُ - پھٹی ہوئی چیز کا آدھا۔
 الْفِلْقَةُ - جہ - فِلْقٌ - وَالْفِلْقَةُ - جہ - فُلَاقٌ - ایک ٹکڑا - الْفِلْقَةُ - پھٹی ہوئی چیز کا آدھا - مصیبت - جہ - فِلْقٌ - الْفَلِيقُ وَالْفَلِيقَةُ وَالْمَفْلَقَةُ وَالْفَلْقُ - مصیبت - امر عجیب - الْفَلِيقُ - گروں کی ابھری ہوئی رگ کو بھی کہتے ہیں۔
 الْفُلُقَانُ - خالص جھوٹ۔
 كَبَبٌ فُلَاقٌ وَفُلُوقٌ - جہ ہوا دودھ - کہا جاتا ہے "صَارَ اللَّبَنُ فُلَاقًا وَفُلَاقًا وَ أَفْلَاقًا" یعنی ترشی کی وجہ سے دودھ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
 الْعَمْرُ الْفَلِيقُ وَالْعَمْرُ الْمَفْلَقُ - خشک پھل جو کہ پھٹ کر گھٹل سے جدا ہو گیا ہو الْفَلِيقُ - بڑا لشکر - بڑا آدمی - جہ - فِلَاقٌ رَجُلٌ فِلِيقٌ - کا نام مرد - اَمْرًا فِلِيقٌ بڑی مالک شور مچانے والی عورت۔
 الْمَفْلِقُ - فا - شاعرِ مَفْلِقٌ - انوکھا کلام کہنے والا شاعر۔
 الْيَمْفَلَقُ - فواہش اور منکر کام کرنے والا۔
 لَمَسَ فُلَاقٌ - جہ - مَفْلَاقٌ - رَجُلٌ مَفْلَاقٌ - بڑا آدمی - کہید اور مذیل آدمی۔

فَلْقَمٌ - صافی الاناؤ - جو کچھ برتن میں ہو سب کو پی جانا۔
 تَفْلُقَةٌ - رانی القوم - خوشخبری دینا۔
 الْفَلْقُجِيُّ - ہنس مکھ۔
 فَلَکَ دَنٌ مُلْکًا - مُدْیُ الْجَارِيَةِ - رُلْکِ کے پستان کا گول ہونا۔
 لَمَلَّتْ وَ مَلَّتْ - الْجَارِيَةِ - رُلْکِ کا گول پستان والی ہونا - صفت فَالِکٌ - جہ - فَمَالِکٌ - فَلَکَ وَ أَمْلَکَ - الْمُدْیُ - پستان کا گول ہونا - الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ - کسی معاملہ میں اصرار کرنا۔
 تَفَلَّکَ وَ اسْتَفَلَّکَ - مُدْیُ الْجَارِيَةِ رُلْکِ کے پستان کا گول ہونا۔
 الْفَلَکُ - آسمان ستاروں کے چکر لگانے کی جگہ جہ فَلَکٌ وَ فَلَکٌ وَ أَمْلَاقٌ - ر - وَالْفَلَکُ مِنْ کُلِّ شَيْءٍ - ہر شے کا گول اور بڑا حصہ - مِنْ الْبَحْرِ - موج دریا - جہاں پانی ہر طرف سے میج ہو کر چکر کھانے لگے - ریت کا وہ ٹیلہ جس کے ارد گرد کھلا میدان ہو - زمین کے وہ ٹکڑے جو ارد گرد کی زمین سے بلند ہوں - وَاحِدٌ فَلَکَةٌ وَ فَلَکَةٌ - جہ - فَلَاقٌ - الْفَلَکُ - ابھری ہوئی ہڈیوں والا - سمند جوڑوں والا - وہ آدمی جس کے دلوں کی پھٹی میں درد ہو - رَجُلٌ فَلَکٌ - بڑے سُرمین والا مرد۔
 الْفَلَکِيُّ - فلک کی جانب منسوب - آسمان اور ساوی چیزوں کا جاننے والا۔
 الْفَلَکَةُ - فلک کا واحد یعنی ایک آسمان ہر وہ چیز جو ابھری ہوئی بلند اور گول ہو - جہ - فَلَکٌ وَ فَلَکٌ - فَلَکَةُ الْمَغْزَلِ چرنے کا دنگڑا - جہ - فَلَکٌ - الْفَلَکُ - کشتی - پندرہ اور نوٹ دونوں کے

یہ یکساں مستعمل ہے۔
 الْأَفْلَکُ - وہ شخص جو ریت کے ایسے ٹیلہ کا چکر لگائے جس کے چاروں طرف میدان ہو۔
 الْإِفْلَاقُ - حلق کے کوسے کے ارد گرد گوشت کے دو ٹکڑے۔
 الْمَفْلُکُ وَ الْمَفْلُکُ - مِنْ الْبِنَاءِ - گول پستان والی عورت۔
 اِفْتَلَمَ - آفَلَمَ - ناک کا ٹٹا۔
 فَلَاقٌ وَ فَلَاقَةٌ - ذوی العقول کے ناموں کی جگہ بطور کنایہ بولے جاتے ہیں - اسی لیے ان پر الف لام و علامت معرّفہ داخل نہیں ہوتے - فَلَاقَةٌ - غیر منصرف ہے۔
 کہا جاتا ہے "جَاءَ فُلَانٌ وَ جَاءَتْ فُلَانَةٌ" - کبھی کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی کنایہ ہوتے ہیں - اس وقت الف لام ان پر داخل ہوتا ہے - تم کہتے ہو - "رَكِبْتُ الْفُلَانَ - تَخَبَّطُ الْفُلَانَةُ" - فلاں جانور پر سواری کی اور فلاں جانور کا دودھ دونا۔
 فَلَاقٌ يَفْلُودُنْ، فَلَاقٌ وَ فُلُوقٌ - سفر کرنا۔
 بِالسَّيْفِ - تلوار سے مارنا - الْقَوْمُ - قوم کے درمیان میں آنا - وَ أَهْلِي وَ اِفْتَلَى، الصَّبِيحُ وَ الْمَهْرُ - بچہ یا بچی سے دودھ چھڑانا اور ماں سے جدا کرنا - الْغَلَامُ - لڑکے کی پرورش کرنا - اِفْتَلَاؤًا لِنَجْمِهِ - اپنے لیے لینا - أَلَى الرَّجُلِ - حلق کی طرف جانا۔
 یا اس میں داخل ہوتا - أَلَى الْكُرْسِيِّ گھوڑی کا بچیرے والی ہونا - یا بچیرے کے دودھ چھڑانے کے وقت پر پہننا۔
 صفت - مُفْلِقٌ وَ مُفْلِيقٌ - الْفُلُوقُ - جہ - أَفْلَاقٌ وَ فَلَاقَةٌ وَ الْفُلُوقُ الْفُلُوقُ - جہ - أَفْلَاقٌ وَ فَلَاقَةٌ - پھیرا۔
 یا گسے کا بچہ جو دودھ چھڑانے کے زمانہ میں ہو یا جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔

عَلَى الْأَمْرِ كَيْسِي كَامِ كِي طَلِبُ كَرْنَا - يَا
ارادہ رکھنا۔ تَفَنَّدَ مِنْ كَذَا - نادم و
پشیمان ہونا۔
تَفَنَّدَ - مَصْرَعًا جَزِيًّا كَفَرَانِ نَعْمَتٍ - ج
اُذْنَاؤُ
اِفْتَدَّ - بَرَّ اِبْرَاهِيمَ -
اِفْتَدَّ - بَرَّ اِبْرَاهِيمَ - تُسِي نُوْحٍ - مُنْفَقٌ - اِدْر
مجمع قوم۔ وہ زمین جس پر بارش نہ
ہوتی ہو۔ جہر۔ فَنُوْدٌ وَ اَفْنَادٌ - کہا جاتا
ہے: اَتُوا اَفْنَادًا - یعنی جماعتیں بن
رانے۔ اَفْنَادُ اللَّيْلِ - رات کے
بچنے۔
اَلشُّرُوقُ - مَرَلٌ - جہر۔ فَنَادِقٌ - بندوق۔
اَلْمُنْدَاقُ - حَسَابُ كَارِجِسْطَرٍ - جہر۔ فَنَادِقٌ
(دخیل)
اَلْمَنَارُ مَشْعَلٌ - رُشْنِي كَامِنَارًا جہر۔ فَنَارَاتُ
اَلْمَنَارِ مَشْعَلٌ - چغل خور۔ مَشْعَلٌ - لَالِيْنٌ - جہر
فَوَانِيْسُ
فَنَشَسٌ - فِي الْأَمْرِ وَ وُصِيْلٌ دِيْنَا -
اِفْتِطَاسٌ - كَشْتِي اَوْرَجَازِيْنِ مِيْطِي پانی کا
حوض۔ مِيْطِي پانی کے تقسیم کرنے کا
پیالہ۔ جہر۔ فَنَاطِيْسُ - اَلْفُ فَنَاطِيسُ
چوڑی ناک۔
اَلْفِنْطِيسُ - كَيْسِيْنِ چوڑی ناک والا۔ وہ
ناک جس کے تھمے چوڑے ہوں اور بانہ
چپٹا پھیلا ہوا ہو۔ جہر۔ فَنَاطِيْسُ -
اِفْتِطِيسَةٌ - سُوْرِكِي تَقْوَمَتِي -
فَنِيْعٌ رَسٌ فَنَعًا - مَانِدَارٌ بُوْنَا - صَفْتٌ فَنِيْعٌ وَ
فَنِيْعٌ
فَنَعْمٌ - مَمْرٌ - سَمَاوَتِ كِي زِيَادَتِي فِضْلٌ وَاسِعٌ
ہر شے کی کثرت۔ مُشْكٌ كِي مَسْكٌ -
اَلْمِفْنَعُ - اِحْجِي شَهْرَتٌ وَ اَلَا نِيْكِنَامٌ -
فَنَقِي وَ كَاتِقٌ - اَلْعَلَامُ - نَاز وَ نَعْمَتٌ
سے پانا۔
اَفْنُوْرٌ - سَمْحُوْرٌ نَعْمَتٌ بِنَعْمَتِ بُوْنَا -

تَفَنَّقَ - اَلْعَلَامُ - نَاز وَ نَعْمَتٌ سَمْعٌ زَنْدِكِي
بسر کرنا۔ اِحْجِي زَنْدِكِي كَذَا رَنَا - فِي الْأَمْرِ -
مبالمغہ کرنا۔
جَارِيَةٌ فَنَقٌ وَ صَفْنَقٌ - نَاز وَ نَعْمَتٌ مِيْنِ
پہلی ہوئی لڑکی۔
اَلْفَنِيْقُ - زَاوَنَةٌ كَمِ جَسْمِي كُو بُوْجِبِ اَسْمِكِي
شرافت کے نہ تو سواری کے کام میں لاویں
اور نہ اس کو تکلیف پہنچائیں۔ جہر۔ فَنَقٌ -
جہر۔ اَفْنَاقٌ
اَلْمُنِيْفَةُ - وَ هُوَ بُوْرٌ جُوْكَوْنٌ سَمْعٌ چھوٹا ہو۔
ناز و نعمت میں پل ہوئی عورت۔ جہر۔
فَنَائِقٌ
عَيْشٌ مُفَانِقٌ - نُوْرٌ عَيْشِ زَنْدِكِي
فَنَكٌ رَنٌ فَنُوْكَا - بِاَلْمَكَانِ - اَقَامَتٌ كَرْنَا
رہ۔ وَ اَفْنَكٌ - عَلَى الْأَمْرِ - مَدَامَتٌ
کرنا۔ فِي الْأَمْرِ - اَصْرَارٌ كَرْنَا - جھوٹ
بولنا۔
فَانَكٌ مَعَانِكَةٌ - فِي الْأَمْرِ - دَخَلٌ دِيْنَا
رہ۔ وَ فَنَكٌ تَفْنِيْكَا - فِي الشَّرِّ اَو
اَلْكِبْرِيَا - جھوٹ اور شر میں انماک۔
اَصْرَارٌ كَرْنَا -
اَلْفَنَكُ وَ اَلْفَنَكُ - تَعَجِبٌ - اَلْفَنَكُ -
رات کا حصہ۔ لومڑی کی جنس سے ایک
جانور جو لومڑی سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے۔
اور جس کی کھال کی پوستیں بہت عمدہ
ہوتی ہے۔
اَلْفَنَكُ - دَرَوَاذِ وَ - وَ اَلْفَنَكُ رَاثٌ
کا لکڑا۔
اَلْفَنِيْكُ - اِنْسَانٌ كَمِ جَبْرُوْنِ كَمِ طِنِي كِي
جگہ۔ رہ۔ وَ اَلْفَنِيْكُ - پِنْدِ كِي دَمِ
نیکنے کی جگہ۔
اَلْمُنْفِيْكَةُ - بے وَقْتِ عَوْرَتِ
اَلنَّهْ - مِيْلِكِي جہر۔ فَنَوَاتٌ - مَلُوْكَادَانِ
جہر۔ فَنَا
شَجْرَةٌ - فَنَوَاءٌ - بَسْتٌ شَاخُوْلٌ وَ اَلْاَسْرَابِيَّةُ

دربخت۔
فَنِي رَسٌ وَ فَنِي يَفْنِي رَضٌ فَنَاءٌ -
معدوم ہونا۔ الرَّجُلُ - بَسْتٌ بُوْرْهَا
ہونا۔ کہا جاتا ہے: صَارَ زَيْدٌ شَيْخًا
فَانِيًّا - یعنی زید بہت بوڑھا ہو گیا۔
فَانِي مُفَانَاةٌ - الرَّجُلُ - مَدَارَاتٌ كَرْنَا -
تسکین دینا۔ کہا جاتا ہے: كَانَ يَفَانِي
الْاِيَامَ لَاهِيًّا - یعنی وہ زمانے کو
کھیل کود میں بسر کرتا ہے۔ اَلْمَالُ -
اصلاح کرنا۔
اَفْنِي اِفْنَاءٌ - اَلشَيْءُ - مَعْدُوْمٌ كَرْنَا - بَلَاكٌ
کرنا۔
تَفَانِي - اَلْقَرْمٌ - بَعْضٌ كَالْبَعْضِ كُو بَاكٌ كَرْنَا
اَلْقَابِي - فَا - بَسْتٌ زِيَادَةٌ بُوْرْهَا كُو يَا كَمِ فَنَا
کے قریب ہے۔
اَلْقَنَاءُ - مَمْرٌ - اِتْمَاكِي مَدٌ - بَلَاكَتٌ -
اِفْنَاءٌ - كَمْرٌ كَمِ سَاغِي كَامِيْدَانِ - مَمْرٌ - جہر
اَفْنِيَّةٌ وَ فَنِي - كَمَا جَاتِبٌ - هُوَ
مِنَ اَفْنَاءِ النَّاسِ وَ هُوَ غَيْرُ مَعْرُوْفِ
النَّسَبِ - وَ اَمَدٌ فَنُوْ
فَنَاءٌ وَ فَنِيَّةٌ رَسٌ فَنَاهَةٌ - بُوْلٌ چال
میں درماندہ و عاجز ہونا۔ صَفْتٌ فَنَاءٌ
وَ فَنِيَّةٌ
فَنَاءٌ رَسٌ فَنَاءٌ - اَلشَيْءُ وَ عِيْنِ الشَّيْءِ -
بھولنا۔
فَنَاءٌ وَ اَفْنَاءٌ - اَللَّهُ الرَّجُلُ - عَاجِزٌ كَرْنَا -
اَفْنَاءٌ الشَّيْءِ - كَمِي تَمَعٌ كُو بُوْلُوْنَا -
اَلْفَنَاءَةُ - وَ كَمِ كَامُوْنَتِ - عَاجِزِي غَفْلَتِ
فَنَاءٌ رَسٌ فَنَاءٌ - سُوْنِي مِيْ اَلْاَكْرَطَانِي
لینے میں یا غصہ میں تیندے جیسا ہونا۔
کسی مذہبی کام سے غفلت کر کے سوچنا
سفت فَنَاءٌ وَ فَنِيْدٌ - فَنَاءٌ عِنْدُ
غافل ہونا۔
فَنَاءٌ رَنٌ فَنَاءٌ - اَلْبُلَانِ - كَمِي كَمِي
اس کی غیبت میں جھلان اور فعل جیل کرنا۔

قَامَ وَتَقَادَمَ - الزَّهْرُ يَهْلُ كَمَا مَكَتَا -
خوشبو بھرتا۔ قَامَ الْمَسْكُ او
الطَّيْبُ - مَسْكٌ بِخَوْشِبُو كَمَا مَكَتَا -
أَفَاخَ - الدَّمُ - خُونٌ غَرَانَا - الْقَدْرُ -
ہانڈی کو جوش دینا -

قَوْحٌ - الْحَيَّةُ - كَرْمِي كِي شَدَّتْ -
قَاخَتْ تَقْوَحُهُ قَوْحَانًا - الرَّيْبُ يَهْرُ بُوَا
چلتے وقت آواز نکلتا -
قَاخَ وَأَفَاخَ - الرَّجُلُ - كُوَزَ كَرْنَا -
أَفَاخَ الزَّقُّ - مَسْكٌ كَمَا مَكَتَا كَرْمَلُ كَر
ہوانکا لانا -

كَادَرَنَ، يَفُودُ فَمَدًا - مَرْنَا - قَادَ الشَّيْءُ
بِالشَّيْءِ - مَلَانَا - الْمَالُ يَفُودُ ثَابِتٌ
ہونا - اِدَاسُ كَا اسْمُ الْفَائِدَةِ آتَا
ہے -

أَفَادَ إِفَادَةً - الرَّجُلُ - مَارْنَا - بَلَكَ كَرْنَا
- فَلَانُ الْمَالِ - مَالٌ جَمْعُ كَرْنَا - كَمَا نِي كَرْنَا
- فَلَانَا مَالًا أَوْ عِلْمًا - مَالٌ أَوْ عِلْمٌ عَطَا
کرنے - نَفَعٌ پھینچانا -

تَفَوَّيَ - الْوَعْلُ فَوْقَ الْجَبَلِ - پَسَاوِي
بکری کا پہاڑ پر چڑھنا -
اسْتِفَادَةُ - حَاصِلُ كَرْنَا -

الْقَوْدُ - مَمٌ - كِنِيسِي كِنِيسِي كِي بَالٌ - كَمَا جَاتَا
ہے - "بَدَأَ الشَّيْبُ بِقَوْدِيهِ" - يَعْنِي
اس کی دونوں کنپٹیاں سفید ہو گئیں -

الْقَوْدُ - بَرَّاهِيْلًا - كُونٌ - فَوَجٌ - كَنَارُهُ
قَوْدُ الْخَبَاءِ أَوْ الْوَادِي - خِيْمَةٌ يَأ
وادی کا ایک کنارہ - ج - أَفْوَادٌ -
الْمِفْوَادُ - تَلْفٌ كَرْنَا وَآلَا -

الْقَوْدُ ج - هُوَجٌ - دِهْنٌ كِي پَالِكِي -
قَانَتْ تَقْوَرُ قَوْرًا وَقَوْرَانَا وَقَوْرًا -
الْقَدْرُ - ہانڈی کا جوش میں آنا - اِدَاسُ

ابننا - قَارُ الْمَاءِ - پانی کا زمین سے پھوٹنا
اِدَاسُ - الْعَرَقُ - مَسْكٌ كَمَا مَضْطَرَبٌ
ہونا - پھرتا -

قَارٌ وَقَوْرًا وَقَوْرَانَا - الْمَسْكُ - خَوْشِبُو
کابھرتا - قَارٌ قَوْرًا وَأَفَارًا - الْقَدْرُ
ہانڈی کو جوش دینا - قَارٌ الْيَمِينَانُ -
ترازو کے زبان کے ادھر ادھر کے
لوہے بنانا -

الْقَارُ - جَوَابٌ - وَاحِدٌ - قَارَةٌ - قَارَةٌ الْإِبِلِ
اونٹوں کی کھال کے تر ہو جانے کے بعد
کی بدبو -

الْقَوْسُ - مَمٌ - بَسْتُ جَلْدِي - كَمَا جَاتَا سَبْ -
رَجَعٌ مِنْ قَوْرَةٍ - بَلَا تَوَقَّفَ بَسْتُ
جلدی واپس ہوا - قَوْرٌ كَلَّ شَيْءٌ - ہر
چیز کا اول -

الْقَوْرُ - بَرِّيَا - وَاحِدٌ فَائِدَةٌ - كَمَا جَاتَا سَبْ -
"لَا أَفْعَلُهُ مَا لِأَلَاتِ الْقَوْرِ" - يَمِينُ
اس کو نہیں کروں گا جب تک ہرنیاں اپنی
دم ہلاتی رہیں گی، یعنی کبھی نہیں کروں گا -

الْقَوْرَةُ - مِنَ الْحَيَّةِ أَوْ الْعَقْبِيِّ - كَرْمِي يَأ
عصہ کی تیزی - قَوْرَةُ النَّهَارِ - دِنٌ كِي
ابتدا - النَّامِي - لَوَكُونُ كِي جَمْعٌ هُوَنِي

کی جگہ - الْعِشَاءُ - عِشَاءُ كِي نَمَازُ كِي
بعد کا وقت - كَمَا جَاتَا سَبْ - "أَخَذْتُ
الشَّيْءَ بِقَوْرِيهِ" - يَعْنِي يَمِينُ نِي نِي كِي

چیز کو اس کی ابتدا ہی میں لے لیا -
الْفِيَارَانُ - تَرَاذُلُ كِي زَبَانُ كِي اِدَاسُ اِدَاسُ
کے لوہے -

الْفَائِرُ - فَا - كَمَا جَاتَا سَبْ - "قَارٌ فَائِرَةٌ" -
يعني اس کا خاصہ بھرتا -
الْقَوَارِقُ - ہانڈی کا ابال -

الْقَوَارُ - بِالغَةِ كَالصِّغْرِ - بَسْتُ جَوَشِيْلًا -
الْقَيُّورُ - بَسْتُ جَلْدِي خَضْبَتَاكُ هُوَسَنَةُ وَآلَا -
الْقَوَارَةُ - قَوَارٌ كَامُونُثٌ - پَانِي كَا چَشْمَةُ -
توارہ -

قَارَنَ، يَفُودُ قَوْرًا - بِالْأَمِيرِ كَامِيَابُ
ہونا - مِنَ الْمَكْرُوَّةِ - نَجَاتٌ پَانَا -
الرَّجُلُ - بَلَكَ هُوَ جَانَا - مَرَجَانَا -

قَوَسٌ تَقْوِيضًا - الرَّجُلُ - كَنَدْنَا - مَرْنَا -
الطَّرِيقُ - ظَاهِرٌ هُوْنَا - التَّوَامِي بِأَيْلِهِ -
چرواہے کا اپنے اونٹوں کے ساتھ جنگل
طے کرنا - وَتَقْوَسُ، اِيكُ جُكَّةٌ سَبْ دَوْرِي
جگہ جانا -

أَفَارَ - فَلَانًا بَلَدًا - كَامِيَابُ كَرْنَا -
الْفَارَةُ - دَوَكْبِي وَآلَا سَابِيَانُ - خِيْمَةٌ - كَمَا
جاتا ہے - "خَوَّبَ الْفَارَةَ بِالْمَقَامَرَةِ"
اس نے بیابان میں خیمہ لگایا -

الْمَقَارَةُ - نَجَاتٌ كِي جُكَّةٌ يَأ نَجَاتٌ كَا سَبْبُ -
كَامِيَابِي كِي جُكَّةٌ يَأ مَسْ كَا سَبْبُ - بَلَكَتُ كِي
جُكَّةٌ يَأ سَبْبُ - وَهِيَ بِيَابَانُ جَسْ مِي پَانِي نِي
ہو - ج - مَقَارَاتٌ وَمَقَارِيذُ -

قَوَسٌ تَقْوِيضًا - اَلْيَهُ الْأَمْرُ - اِخْتِيَارُ
سپرو کر دینا اور عام بنا دینا - الْمَرْؤَةُ
عَوْرَتُ كَا بَغِيرُ مَهْرُ كِي نِكَاحُ كَرُونَا -

فَاوَضَهُ مَقَاوِضًا - فِي الْأَمْرِ - بَرَابَرُنَا
برابر کا شریک ہونا - يَأ مِمُّ بَاتٌ حَيْثُ كَرْنَا -
اور مذاکرہ کرنا -

تَفَاوَضَ - الْقَوْمُ فِي كَذَا - بَعْضُ كَا بَعْضُ
کے ساتھ شریک ہونا - الشَّرِيكَانُ
فِي الْمَالِ - بَرَابَرُ كَا شَرِيكَ هُوْنَا -

تَقَاوَضُوا فِي الْحَكَايِيثِ - بَاتٌ حَيْثُ
شروع کرنا - كَمَا جَاتَا سَبْ - "قَوْمٌ قَوَضِي"
ایسی جماعت کہ جس کا کوئی سردار نہ ہو -

سب برابر کے درجہ کے ہیں -
أَمْرُهُمْ قَوَضِي بَيْنَهُمْ وَقَوَضُوهُ
وَقَوَضُوا صَاءً - يَهُ لَوَكُ اَلْيَهُ شَرِيكَ

شریک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک شخص
دوسرے کے معاملہ میں تصرف کا حق رکھتا
ہے - أَمْوَالُهُمْ قَوَضِي بَيْنَهُمْ وَ
قَوَضُوهُ قَوَضُوا صَاءً - يَعْنِي وَهَبُ

مال میں برابر کے شریک ہیں، کسی کو دوسرے
پر ترجیح نہیں - كَمَا جَاتَا سَبْ - "شَوَكَةُ"
مَقَاوِضَةٌ - "ایسی شرکت کہ جس میں تمام

شریک مال اور تصرف اور یہی کے لحاظ سے برابر ہوں اور ہر ایک دوسرے کا وکیل اور کفیل ہو۔ اداس کے مقابلہ میں شرکت عثمان ہے۔ اس میں تصرف میں سب برابر نہیں ہوتے اور نہ کوئی ایک دوسرے کا کفیل۔ مقارنہ مکمل العلماء۔ علمی مسائل میں مذاکرہ اور مباحثہ کہ جس کی وجہ سے ایک کو دوسرے کی تحقیق معلوم ہو جائے۔

الْقُوْطَةُ - بیٹی جس کو خدام، بچہر اسی اردلی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ جر۔ قُوْطٌ۔ اور عوام کے نزدیک دستی رومال کو بھی کہتے ہیں کہ جس سے ہاتھ پونچھے جائیں۔ نیز اس کو المنشئة بھی کہتے ہیں۔

قُوْطَةٌ - پلنگہ اور پیٹی کا پہنانا۔

قَاظِرُنْ، يَفُوْطُ قُوْطًا وَقَوَاطَا - مرنا۔ کہا جاتا ہے "حَانَ قُوْطَةٌ" یعنی اس کی موت کا وقت قریب آگیا۔

الْقُوْعَةُ - مِنَ الطَّيِّبِ - خوشبو کی مہک۔

مِنَ السُّوْرِ - زہری تیزی۔

الشَّبَابِ - جوانی کی ابتدا۔

قَاظِرُنْ، يَفُوْطُ قُوْطًا - الطَّيِّبِ - خوشبو بھرنے کا۔

الْقُوْعَةُ - مِنَ الطَّيِّبِ - خوشبو کی مہک۔

الْقَائِقَةُ - تیز خوشبو ہونگ کو بھردے۔

الْقُوْعُ - عتہ کی موٹائی۔

الْاَقُوْعُ - موٹے منہ والا۔ کہا جاتا ہے "كَمُ اَقُوْعٌ مَوْلَانَهُ" ورجلٌ اَقُوْعٌ۔

موٹے منہ والا مرد۔

فَاتٌ يَفُوْتُ قُوْفًا - اگلوٹے اور شہادت کی انگلی کے ناخنوں کو ملا کر سائل کو اشارہ کرنا کہ تجھے اتنا سا بھی دہلے گا۔ یعنی تجھے کچھ نہیں دوں گا۔

الْقُوْفُ وَالْقُوْفُ - گائے ہل کا مشابہہ جواڑوں کے ناخنوں کی سفیدی۔ واحد قُوْفَةٌ و

وَقُوْفَةٌ - جر۔ اَقُوْفٌ۔

الْقُوْفُ وَالْقُوْفَةُ - فلد کے دانوں کے اوپر کا پھلکا۔

ثُوْبٌ اَقُوْفٌ وَثُوْبٌ مَقُوْفٌ - باریک کپڑا۔ وہ کپڑا جس میں طول میں سفید دھاریاں ہوں۔

فَاتٌ رَنْ، يَفُوْقُ قُوْفًا وَقَوَاقًا - الشَّيْءُ بِلِنْدٍ هُوْنَا - اَصْحَابُهُ بِالْقَضَلِ او الْعِلْمِ - معصروں سے بڑھ جانا۔

قَوَاقًا، بِيْحِي اَنَارٌ - قَوَاقًا وَقَوُوْقًا، الرَّجُلُ - مرنا۔ مرتے وقت سانس کا نکلنے کے قریب ہونا۔

فَاتٌ قُوْفًا - السَّهْمُ - سوار تیر کو توڑنا۔ الشَّيْءُ تُوْرْنَا۔

فَاتٌ يَفَاتٌ دَقِيْقٌ يَفُوْقُ فَاقًا وَقَوَاقًا وَقُوْفًا - السَّهْمُ - سوار میں کجی یا شکستگی پیدا ہونا۔

قُوْقَةٌ - عَلَي قَوْمِهِ - فضیلت دینا۔ قُوْقٌ السَّهْمُ - تیر میں سوار لگانا۔

الْقَهِيْلُ - بچہ کو رنگ رک کر دودھ پلانا۔

اَفَاتٌ اِفَاتَةٌ - مِنَ مَرَضِهِ - محتیب ہونا۔ الحَالِبُ - دودھ کے دودھ دوہنے کے بیچ میں بھرنے جانا۔ اَفَاتٌ النَّاَقَةُ - اونٹنی کے بھرنے میں دودھ جمع ہونا۔ صفت مُفِيْقٌ وَصَفِيْقَةٌ - جر۔ مَقَاوِيْقٌ - اَفَاتٌ السُّكْرَانُ مِنَ سُكْبِهِ - نشہ سے ہوش میں آنے۔

مِنَ النُّوْمِ - بیدار ہونا۔ الْمَجْتُوْنُ مِنَ بَضُوْبِهِ - دیوانگی کے بعد عقل کا لوٹ آنا۔ الزَّمَانُ - تنگی کے بعد فراخی لانا۔ عَنْهُ النَّعَاسُ - نیند کا اچٹ جانا اور سب سے مین کر دینا۔

مِنَ عَقْلِيَّتِهِ - چوکتا ہونا۔ زَا قُوْفٌ اَقُوْقًا وَاَوْفُوْقًا اِلَيْهَا - السَّهْمُ تِيرٌ يَحِيْكُنْ كَيْ لِي وَتَرَقُوسٌ بِرِ سُوْفَارِ

رکھنا۔

تَقُوْقٌ - السَّهَابُ - عموماً اقبور کر کے پینا۔

عَلَي قَوْمِهِ - اپنی برتری دکھانا۔

النَّاَقَةُ - ایک مرتبہ دوسرے کے بعد بچہ کو دودھ میں لگا کر دوبارہ دوہنا۔ الْقَهِيْلُ پہلی بار دودھ نکالنے کے بعد بچہ کا بھرنے میں لگنا اور دودھ پینا۔ مَالَةٌ - بچہ بھرنے کا خرچ کرنا۔

اِلْفَاتُ اِلْفَاتًا - السَّهْمُ سُوْفَارٌ تُوْرْنَا - الْجَمَلُ - اونٹ کا لاغر ہونا۔ ہلاک ہونا۔

اِفَاتٌ - الرَّجُلُ - محتاج ہونا۔ فقیر ہونا۔

اِسْتِفَاتٌ - الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ او مَرَضِهِ او عَقْلِيَّتِهِ - نیند سے بیدار ہونا۔ مرض سے صحت یاب ہونا۔ غفلت سے ہوشیار ہونا۔ النَّاَقَةُ - اونٹنی کو مہلت دے کر دوبارہ دوہنا۔

اِلْفَاتٌ - کھانے سے بھرا ہوا بڑا پیالہ۔ جنگل۔ کنگھا۔

اِلْفَاتَةٌ - حاجت۔ فقر۔ محتاجی، بھوکا رہنا۔

قُوْفٌ - مَرٌ - نقیض ہے تَحْتٌ کی یعنی اوپر۔ اور یہ طرف مکان ہے، کبھی زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اَقَمْتُ قُوْفًا شَهْرًا - یعنی میں نے ایک مہینہ سے زیادہ قیام کیا۔ کبھی زیادتی اور فضل پر دلالت کرتا ہے جیسے الْعَشْرَةُ قُوْفٌ اِلْتِسَاعًا - اور هَذَا قُوْفٌ ذَاكَ - اور کبھی بطور اسم کے استعمال ہوتا ہے۔

كَقَوْلِهِ - وَرَاذَا ذُكِرْتَ فَكُلُّ قُوْفٍ دُوْنُ الْقُوْقَانِي - او پروالا۔ محتاجی کی نقیض۔

الْقُوْفُ - سُوْفَارٌ - جر۔ قُوْفٌ وَاَقُوْقٌ - زبان کا کنارہ۔ ہلارا سہ۔ کہا جاتا ہے۔

"مَا رَأَيْتُ عَلَى قُوْفٍ" - یعنی گیا، اور لوٹا نہیں۔ وَلَهُ مِنْ كَذَا سَهْمٌ ذُو قُوْفٍ - یعنی اس کے لیے اس میں کثیر اور

کامل حصہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے: **هُوَ**
أَعْلَاهُمْ فَوْقًا؛ وہ ان میں سب سے
 زیادہ اعلیٰ والا ہے۔
الْفُوقُ۔ سو فار میں کمی اور شکستگی۔
الْفُوقَةُ۔ سو فار۔ ج۔ **فُوقٌ وَنُقًا**۔
الْفَيْقَةُ۔ وہ دودھ جو دو دفعہ دوہنے کے
 وقت درمیان میں تھن میں جمع ہو جائے
 - **مِنَ اللَّيْلِ**۔ رات کا اکثر حصہ۔
بَيْقَةُ الصُّحْبَى۔ چاشت کی ابتدا۔
 ج۔ **فَيْقٌ وَفَيْقٌ وَفَيْقَاتٌ وَأَفْوَاقٌ**
وَأَفَاوِيقٌ۔ جیسے تم بولتے ہو: **أَرْضَعْنِي**
أَفَاوِيقٌ بَرَّةً؛ یعنی اس نے میرے
 ساتھ بہترین احسانات کیے۔ **الْأَفَاوِيقُ**
 وہ پانی جو بادل میں جمع ہو جائے اور
 تھوڑا تھوڑا برسے۔
الْفَوَاقُ وَالْفَوَاقُ۔ دو دفعہ دوہنے
 کے درمیان کا وقت۔ دوہنے والے کے
 ہاتھ سے تھنوں کو دبانے اور ہاتھ کھولنے
 کے درمیان کا وقت۔ اور اسی سے ان کا
 قول ہے: **أَمِهُلْنِي قَدْرَ فَوَاقٍ**
 حالیہ؛ یعنی مجھے ذرا سی ہلت دو۔
وَلَهُ مِنْ كَذَا سَهْمٌ ذُو فَوَاقٍ۔
 اس کے لیے فلاں نئے سے حصہ کامل
 ہے۔ **الْفَوَاقُ**۔ جان کنی کے وقت کی
 بچکی۔ اس کو عوام عاذوقہ کہتے ہیں۔ ج۔
أَفُوقَةٌ وَأَفِيقَةٌ۔ جبر۔ **أَفُوقَاتٌ**۔
الْفَوَاقُ۔ افاق کا اسم ہے۔
اسْتَفَاقَ۔ **الْعَلِيلُ**۔ بیماری کے بعد نقاب
 کا لاسحق ہونا۔
الْفَائِقُ۔ فا۔ ہر نوع میں خالص اور عمدہ
 شے۔ ج۔ **فَائِقُونَ وَفُوقَةٌ**۔ **الْفَائِقُ**
 سر اور گردن کے جوڑ کی جگہ۔ **السَّهْمُ**
الْأَفُوقُ۔ وہ تیر جس کا سو فار ٹوٹ
 گیا ہو۔
شَاعِرٌ مَّفِيقٌ۔ شاعر بلیغ۔ اونچے درجہ

کاشاعر۔
طَعَامٌ مَّفُوقٌ۔ وہ کھانا جو تھوڑا تھوڑا لیا
 جانے۔
الْفُوقُ۔ لوبیا۔
الْفُوقَالُ۔ لوبیا بیچنے والا۔ لوبیا پکانے والا۔
قَوْمٌ۔ روٹی پکانا۔
الْقَوْمُ۔ لہسن، گیہوں، چنا، روٹی، ہر وہ غلہ
 جس کی روٹی پکائی جائے۔ ج۔ **قَوْمَانِ**۔
الْقَوْمَةُ۔ قَوْمٌ کا واحد۔ خوشہ۔ ایک
 چٹکی۔ یعنی اتنی مقدار جو دو انگلیوں سے
 اٹھائی جائے۔ ج۔ **قَوْمٌ**۔
الْقَامِيُّ۔ سبزی فروش۔ کنجڑا۔
فَاةٌ يَفُوهُ فَوْهًا وَتَفُوهٌ۔ بکذا۔ بولنا۔
وَتَفُوهٌ الْمَكَانُ۔ مکان کی فراخی میں
 داخل ہونا۔
فُوهَةٌ۔ رس، فُوہًا۔ فراخ دہن ہونا۔
قُوهَةٌ۔ فراخ دہن بنانا۔
فَاوَةٌ مَّفَاوَةٌ وَفَاهِي مَّفَاهَةٌ۔
 فلان! گفتگو کرنا۔ غزک باتیں کرنا۔
تَفَاوَةٌ۔ القوم بکذا۔ آپس میں گفتگو کرنا۔
اسْتَفَاهَ اسْتِفَاهًا وَاسْتِفَاهَةً۔ کمی کے
 بعد خوراک کا بڑھ جانا۔
الْفُوهُ وَالْفَاةُ وَالْفَيْهَةُ۔ منہ۔ ج۔ **أَفْوَاهٌ**۔
قُوٌّ۔ اسمائے ستہ کبرہ میں سے ایک ہے۔ اس
 کا ارباب حالت رنجی میں واؤ۔ حالت نعیمی
 میں الف اور حالت جری میں یار کے ساتھ
 آتا ہے۔ بشرطیکہ مفرد کبر ہو اور پائے
 منکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف
 مضاف ہو۔ پس اس کا استعمال بحسب
 حوالہ مختلف **فُوهٌ**، **فَاةٌ**، **فَيْهَةٌ** ہوگا۔
 مثل **فَمَذُومَةٌ قَوْمَةٌ**۔ تم کہتے ہو۔
سَقَطَ لَيْهِي۔ یعنی وہ اپنے منہ کے
 بل گر پڑا۔ **كَلِمَتُهُ فَاةٌ إِلَى فَيْ**۔ یعنی
 میں نے اس سے رو برو گفتگو کی۔ اس
 میں **فَاةٌ** حال ہونے کی وجہ سے منصوب

ہے اور جتنا قرار دے کر رفع بھی جائز
 ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ پورے جملہ کو
 حال قرار دیا جائے اور **كَلِمَتُهُ فُوهٌ**
 الی رفع کہا جائے۔
الْفُوهِيَّةُ۔ فوہ کی تصغیر۔ چھوٹا منہ۔
الْفُوهَةُ۔ منہ کی کشادگی۔ دانتوں کا لمبا ہونا اور
 ہونٹوں سے باہر نکلنا۔
الْفُوهَةُ وَالْفُوهَةُ۔ باریک لمبی اور سُرخ
 رنگ کی ایک درخت کی جڑیں جو رنگائی
 کے کام میں آتی ہیں اور بعض امراض کے
 علاج میں بھی مستعمل ہیں۔
الْفُوهَةُ۔ فَاةٌ کا اسم مرہ۔ منہ۔
الْفُوهَةُ۔ **مِنَ الْوَادِي وَالطَّرِيقِ وَ**
جَبَلِ النَّارِ۔ وادی یا راستہ یا آتش نشاں
 پہاڑ کا دہانہ۔ ج۔ **فُوهَاتٌ**۔
الْفَيْهَةُ۔ بہت بولنے والا۔ بلیغ۔ بہت
 کھانے والا۔ آدمی یا جانور۔ ٹوٹ
قَيْهَةٌ۔
الْفُوهَةُ۔ اول شے۔ **مِنَ الْوَادِي وَ**
الطَّرِيقِ وَجَبَلِ النَّارِ۔ وادی یا راستہ
 یا آتش نشاں پہاڑ کا دہانہ۔ ج۔
فُوهَاتٌ وَأَفْوَاهٌ وَفُوهَاتٌ۔
الْفُوهَةُ۔ گفتگو۔ فیت۔ کہا جاتا ہے
 "فلانٌ يَمْنَانُ فُوهَةً لِنَابِي"؛ یعنی
 فلاں شخص لوگوں کی صحبت سے خائف
 رہتا ہے۔ **أَكَلَهُ لَذَّةً فُوهَةً**۔ وہ
 بڑا تیز زبان، زبانی نوسہ ہے۔ **إِنْ رَدَّ**
الْفُوهَةَ لَيْهِي۔ منہ سے نکلی ہوئی
 بات لوٹانا و شواریات ہے۔
الْأَفْوَهُ۔ چوڑے منہ والا۔ ٹوٹ **فُوهَاءُ**۔
 ج۔ **فُوهَةٌ**۔ **طَعْنَةٌ فُوهَاءُ**۔ نیزے کا
 وسیع زخم۔
الْأَفْوَاهُ۔ ج۔ **أَفَاوِيحٌ**۔ مصالحے خوشبو کی
 ڈبیاں۔ قسیم۔ واحد **فُوهٌ**۔
الْمَفُوهُ۔ بڑا بولنے والا۔ بلیغ۔ کہا جاتا ہے

فَاحْتِ الْغَارَةَ . غارت کا وسیع ہونا
منتشر ہونا .
فَيْحٌ . الشیءُ کسی چیز کو کثرت اور وسعت
کے ساتھ تقسیم کرنا اور اسی سے ہے ۔
لَوْ مَلَكَتُ الدُّنْيَا لَفِيحْتُهَا فِي يَوْمٍ
وَاحِدٍ . اگر میں دنیا کا مالک ہو جاتا تو
ایک ہی دن میں لوگوں پر تقسیم کر دیتا ۔
أَفَاحٌ . القَدْرُ . جوش دینا . أَفَاحَ الدِّهَاءُ
خون بہانا .
الْقَيْحُ وَالْقَيْحُ . کشادگی .
فَيَاحٌ . اسم ہے غارت کا . کہا جاتا ہے ۔
فَيْحِي فَيْحِي فَيَاحٌ . اے غارت پھیل
جا اور منتشر ہو جا . غارت . لوٹ ڈالنے
والے گھوڑوں کو کہتے ہیں ۔
الْقِيَاحُ . صید مبالغہ . قِيَاضٌ . بَحْرٌ
قِيَاحٌ . بہت وسیع سمندر . رَجُلٌ
فَيَاحٌ . قِيَاضٌ مَرْدٌ . بڑا سخی آدمی . مَوْنٌ
قِيَاحَةٌ .
الْأَفْيَحُ . کشادہ . مَوْنٌ قِيَحَاءٌ . ج
فِيحٌ .
الْفَيْحَاءُ . وسیع مکان . نیز مذکور الذیل شہروں
کا لقب بھی ہے . بقرہ . دمشق . طرابلس
شام .
فَاحٌ يَفِيحُ فَيْحًا وَفَيْحَانًا بِعْنِي فَاحٌ .
كَيْفُوخٌ وَادِي .
فَادٌ يَفِيدُ فَيْدًا . مرنا . فَادَ الْمَالُ لَكَ
فماہت ہونا . اور بعضوں نے کہا کہ مال
کا جاتا رہنا . فَادَتْ لَكَ فَايِدَةٌ
حاصل ہونا .
فَادٌ وَفَيْدٌ . الرجلُ . ناسے چنا . فَيْدٌ
الذی آواز سے بنگالی لینا .
أَفَادَ فَاذَةً . الرجلُ مِمَّا أَوْمَأَ لِعَلْمِ
یامان کا عطا کرنا . أَفَادَ الرَّجُلُ . مارڈانا
۔ الجزوئی . ذبح کرنا .
اسْتَفَادَ . مِنْهُ عِلْمًا أَوْ مَالًا . علم یا مال

الشجرة وفي الشجرة . درخت سے
سایہ حاصل کرنا . سایہ ڈھونڈنا . کہا
جاتا ہے تَفِيحًا بِقَيْحِهِ . کسی کی پناہ
لینا .
اسْتِفَاءٌ اسْتِفَاءَةٌ . لوٹنا . المَالُ .
مال غنیمت لینا . الْأَخْبَارُ . خبروں کی
دیکھ بھال کرنا .
الْفِي . سایہ . غنیمت . مَخْرَجٌ . جہ . أَفْيَاءٌ
وَفِيوَةٌ .
الْفِي . پرندوں کی ایک طرحی .
الْقَيْحَةُ . اسم مرہ . رجوع . کہا جاتا ہے .
أَنَّ هَسْنَ الْقَيْحَةِ . وہ بہتر واپسی
واللہ ہے . کہا جاتا ہے : دَخَلَ عَلَى
تَقِيَّةٍ فَلَانٌ . یعنی فلاں کے نقش
قدم پر داخل ہوا .
الْمَفَاءُ . افاء کا اسم مفعول .
الْمَفْيَاةُ وَالْمَفْيُوءَةُ . وہ جگہ جہاں
دھوپ نہ آئے . ہمیشہ سایہ ہے .
سایہ دار جگہ .
أَفَاحٌ . فِي عَدُوِّهِ . دوڑنے میں دیر کرنا
۔ الْقَوْمُ فِي الْأَرْضِ . ملک میں
پھیل جانا .
الْقَيْحُ . پیک . پیالہ . اپنی . ہرکارہ . خادم .
لوگوں کی جماعت . پست زمین . ج
فَيْحٌ . یہ کلمہ و خیل ہے .
الْمَفَاحَةُ . دو پہلوؤں کے درمیان وادی
جہ . فَمَا يَحُ .
فَاحٌ يَفِيحُ فَيْحًا وَفَيْحَانًا . الْحَرُ . گرمی
کا تیز ہونا . فَاحَتْ الْقَدَارُ . ہانڈی کا
جوش مارتا .
فَاحٌ قِيَحًا وَفَيْحًا . الْكَيْحُ . سرسبز
ہونا . الدَّمُ . خون گرنا . بہنا .
الشَّجَّةُ . زخم کا بہت مقدار میں
خون بہانا .
فَاحٌ يَفِيحُ وَفَاحٌ يَفِيحُ كَشَادِهِ .

خَطِيئَتٌ مُفَوَّةٌ . عمدہ خطیہ دینے والا .
شَرَابٌ مُفَوَّوٌّ . غریبوں کی ہنسی شراب .
الْمَفْوُكُ وَالْمَفْوِيُّ . فُوَّةٌ سے رہا ہوا .
الْفُو . وہ گھاس کہ جس سے مرض و جح الجنب
اور دامالشلب کا علاج کرتے ہیں .
أَرْضٌ مُفَوَّاهٌ . وہ زمین جس میں گھاس
بہت ہو .
فِي . حرف جر . معانی و دل پر دلالت کرتا ہے
ظرفیت جیسے الْحَمْرُ فِي الزَّقِ .
مصاحبت جیسے قَمْتُ فِي شَرُوقِ
الشمس . تَعْلِيلٌ جیسے قَتِيلٌ فِي
ذَلْبِهِ . الْمُقَاتِلَةُ جیسے مَا عَلِمِي
فِي بَحْرَةِ الْأَقْطَرَةِ . اسْتِعْلَاءٌ جیسے
لَأَصْرَبَنَّكُمْ فِي جُرُوعِ النَّخْلِ
أَي عَلَى جُرُوعِهَا . نِيْرَاءٌ . آتِي مَنْ
کا مراد ہے اور ہم معنی بھی ہے جیسے
أَنْتَ بَهْرٌ فِي عَمَلِكَ . وَرَدٌ
يَدَا فِي جَيْبِهِ . وَمَضَتْ عَلَى
كَلْبَةٍ أَشْهَرِي فِي ثَلَاثِ سِنِينَ .
فَاحٌ يَفِيحُ فَيْحًا . لوٹنا . الظِّلُّ . سایہ کا
بٹ جانا . الْقَيْحَةُ . مال غنیمت کو
کو لینا اور غنیمت گزار دینا .
فَاحٌ فَيْحًا وَفَيْوَةً . الْأَمْرُ . کسی بات اور
امر کی طرف رجوع کرنا .
فَيْحًا تَفِيحَةً . الشَّجَرُ . درخت کا
سایہ دار ہونا .
فَيَاتٌ . الْبِيَاضُ الْفُصُونُ . ہوا کا
شہیں کو پلانا .
أَفَاحٌ أَفَاحَةٌ . الظِّلُّ . سایہ کا لوٹنا .
أَفَاةٌ . الْإِي كَدَا . لوٹنا . أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ
مَالِ الْقَوْمِ . قوم کے مال کو غنیمت دلاتا
أَفَاءَ عَلَى الْقَوْمِ فَيْحًا . ایک قوم کا
مال لے کر دوسروں کو بطور غنیمت کے
دینا .
تَفِيحًا تَفِيوَةً . الظِّلُّ . سایہ کا پلٹنا .

حاصل کرنا۔
تَفَايِدُ - القوم بالمال - ہر ایک کا دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔
تَفِيدُ - الرجل - ناز سے چلنا۔
الْفَيْدُ - زعفران کی پتی۔
الْفَيْدَةُ - وہ زیادتی جو انسان کو حاصل ہو۔
علم یا مال وغیرہ سے انسان جو چیز حاصل کرے۔ جو۔ قَوَائِدُ۔
الْفَيْادُ - اُوزر - والْفَيْادَةُ - ناز سے چلنے والا۔ کہا جاتا ہے: "هُوَ يَمْشِي عَلَى الارضِ ذَا اَمْيَادًا" وہ زمین پر ناز سے اڑتا ہوا چلتا ہے۔
الْفَيْرُوزُ وَالْفَيْرُوزِيَّةُ - الفَيْرُوزُ جُ و الفَيْرُوزِيَّةُ جُ۔ ایک قسم کا قیمتی پتھر۔
فَاشٌ يَفِيضُ فَيْضًا - فخر کرنا۔ تکبر کرنا۔ صفت فَاَيْشٌ۔
فَاشٌ - عَنِ الامْرِ - بزدل کرنا۔ پیچھے ہٹنا۔
فَاَيْشَةٌ فَيَا شَاءَ وَمُفَاَيْشَةٌ - مفاخرت کرنا۔
فَاَيْشُ الرَّجُلِ - زمین ڈینگ مارنا۔
فضول دھمکی دے دینا۔
تَفَيْسٌ - الامْرُ - لغو دعویٰ کرنا۔ بَعْدَهُ - عاجزی سے پلٹ جانا۔
نَفَايشٌ - القوم - ایک دوسرے پر فخر کرنا۔
الْفَيَاشُ - بہت فضیلت والا سوار۔ فخر کرنے والا۔
الْفَيْوُشُ - فخر کرنے والا۔ بزدل کمزور۔
فَاصٌ يَفِيضُ فَيْضًا - فِي الارضِ - جانا۔
منہ ہٹ جانا۔ اور کہا جاتا ہے۔
"مَا فَصْتُ اَفْعَلُ" یعنی ہمیشہ کرتا رہا ہوں گا۔
فَاصَةٌ - جدا ہونا۔
اَفَاصٌ - الكلام - ظاہر کرنا۔ اَفَاصَتْ يَدُهُ - انگلیوں کا کسی چیز کے پکڑنے سے عاجز رہنا۔ کہا جاتا ہے: "مَا لَكَ عَنْهُ تَفَيْضٌ" تمہارے لیے ہٹنے کی کوئی

جگہ نہیں۔
فَاصٌ يَفِيضُ فَيْضًا وَفَيْضَانًا وَفَيْوُضًا وَفَيْوُضًا وَفَيْوُضَةً وَفَيْوُضَةً -
السَّيْلُ - کثرت سے ہونا اور وادی کے کنارے سے ہونا۔ فَاَصٌ كُلُّ سَائِلٍ - جاری ہونا۔ کہا جاتا ہے: "فَاَصَتْ عَيْنُهُ" یعنی آنسو بہ پڑے۔ فَاَصٌ الخَبْرُ - پھیل جانا۔ الشئُ - بہت ہونا۔ ر۔
فَيْضًا وَفَيْوُضًا - مرنا۔ فَاَصَتْ لَفْسُهُ - روح نکلا۔ فَيْضًا - الاناء - برتن کا بھرنا۔ صَدْرُهُ بالسَّيْرِ - بھید کو چھپا نہ سکا۔
اَفَاصٌ اَفَاصَةٌ - الدَّمْعُ - آنسو بہانا۔ الماءُ - پانی گرانا۔ الاناءُ - برتن کو لبریز کر دینا۔ القومُ مِنَ المَكَانِ - متفرق و منتشر ہو جانا۔ القومُ فِي المَدِينِ - گفتگو میں مشغول ہو جانا۔ القومُ عَلَى الرَّجْلِ - غالب ہو جانا۔
بِالشئِ - پھینکنا، دفع کرنا۔ اور کہا جاتا ہے: "مَا اَفَاصَ بِكَلِمَةٍ" یعنی کچھ نہیں بولا۔
تَفَيْضٌ - الجَفْنُ - آنسو بہانا۔
اَسْتَفَاصٌ اَسْتَفَاصَةٌ - الخَبْرُ - پھیلنا۔
المَكَانُ - کشادہ ہونا۔ الوادِي - شجرًا - وادی کا وسیع ہونا اور اس میں بہت درختوں کا ہونا۔ القومُ فِي المَدِينِ مشغول ہونا۔ الرَّجُلُ - پانی بہانے کو کہنا۔ القِدَامُ وَبِالقِدَامِ تِيرٌ - جو اکیلنا۔
القَيْضُ - مَم - موت۔ کہا جاتا ہے: "ذَهَبْنَا فِي قَيْضِ فُلَانٍ" یعنی فلاں کے جنازہ میں گئے۔ مِنَ النَّوْجِ - بہت تیز گھڑا۔ ج۔ فَيْوُضٌ وَاقْيَاصٌ - کہا جاتا ہے۔
مَاءٌ قَيْضٌ - بہت پانی۔ اَعْطَاكَ غَيْضًا مِنْ قَيْضٍ - اس نے بہت

میں سے حق ادا دیا۔ رجلٌ قَيْضٌ - بہت سخاوت کرنے والا۔
الْقَيْاضُ - بہت پانی۔ رجلٌ قَيْاضٌ - بہت بخشش کرنے والا۔
حَدِيثٌ مُفَاضٌ وَصُتْفَيْضٌ وَصُتْفَاضٌ - پھیلی ہوئی بات۔
دَرْعٌ مُفَاضَةٌ - کشادہ ذہن۔
فَاَطَا يَفِيضُ فَيْضًا وَفَيْضَانًا وَفَيْوُضًا وَفَيْوُضَةً - مرنا۔
اَفَاطَةٌ - اللہ - موت دینا۔ کہا جاتا ہے: "صَرَبْتُهٖ حَتَّى اَفْطَتُ لَفْسَهُ" میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ قتل کر دیا۔
الْقَيْظُ - موت۔ کہا جاتا ہے: "حَانَ قَيْظُهُ" اس کی موت آگئی۔
القَيْفُ - ج۔ اَفْيَافٌ وَفَيْوُفٌ وَالقَيْفِيُّ وَالقَيْفَاءُ وَالقَيْفَاةُ - ج۔ قَيْافٌ - وہ جنگل جس میں پانی نہ ہو۔ ہموار جگہ۔
والْقَيْفُ مِنَ الارضِ - مختلف ہواؤں والی زمین۔ القَيْفَاءُ - چکنا پتھر۔
فَاقٌ يَفِيضُ قَيْضًا - جان دینا۔ مرنا۔
اَفَيْقٌ اَفْيَاقًا - السَّاعِرُ - عجیب کلام کہنا۔
القَيْقُ - مَم - مرغی کی آواز۔
قَالَ يَفِيضُ قَيْلَةً وَقَيْوَلَةً -
رَايَةٌ - رائے میں کمزور ہونا۔ غلط ہونا۔
صَفِيحٌ فَاَيْلٌ الرَّايِ وَقَالَهُ وَقَيْلُهُ وَقَيْلُهُ وَقَيْلُهُ - صِفَتِ الرَّايَةَ هَوْنًا -
قَالَ الرَّجُلُ - ہاتھی جیسا ہونا۔
قَيْلٌ - رَايَةٌ - غلط اور برا کہنا۔ الرَّجُلُ فِي رَايِهِ - صواب کو نہ پہنچنا۔
لَقَيْلٌ - رَايَةٌ - کمزور ہونا۔ التَّبَاتُ - تباہات کا بڑھنا۔ التَّبَاتُ - جوانی کا ڈھلنا۔ الرَّجُلُ - موٹا ہونا۔
الْقَالُ - شگون۔
الْقَيْلُ - ہاتھی۔ ج۔ اَفْيَالٌ وَقَيْلَةٌ وَ قَيْوَلٌ - مَوْتٌ قَيْلَةٌ - القَيْلُ - مرد فرود آ

<p>فَاتَ يَفِينُ قَيْنًا - آنا۔ القَيْنَةُ - زمانہ۔ وقت۔ القَيْنَانُ - خوبصورت لمبے بالوں والا۔ مؤنث قَيْنَانَةٌ - تَفِيرَهُنَّ - فی الکلام - بہت پھیلا کر گفتگو کرنا۔ - فی مَشِيهٍ - ناز سے چلنا۔ علیہ کذا۔ بڑا ہننا۔ القَيْهَاتُ - ہر کشادہ چیز۔ ج۔ قَيْهَاتٌ -</p>	<p>النَّفِيُولَاؤُ - ہاتھی کے بچے۔ القَيْلَجَةُ - ریشم کے کپڑے کا جال۔ ج۔ قَيْلَجٌ - القَيْلِقُ - بڑا شکر بڑا آدمی۔ ج۔ قَيْلِقٌ - القَيْلَجُ - بڑوں۔ کشادہ منہ کا کنواں۔ کنگھا۔ دسترخوان کے نیچے بچھانے کا چمڑا۔ تپھٹ کی کثرت۔ ج۔ قَيْلَجٌ - د۔ والقَيْلَمَانِي، بہت قد آور مونا آدمی۔</p>	<p>دَاءُ القَيْلِ - ایک بیماری ہے جس میں پاؤں سوچ جاتا ہے، اس کو قَيْلِ پاتے ہیں۔ القَيْالُ - ہاتھی کا محافظ، صوت۔ ج۔ قَيْالَةٌ - قالُ - الراي وقائِلُهُ وقَيْلَةٌ - کزور رانے والا۔ قَيْلٌ - اللَحِيحُ - بہت گوشت والا۔ الراي ضعيف الرانے۔ ج۔ اَقْيَالٌ - القَيْالَةُ - رانے کی کزوری۔</p>
---	--	---

ق

<p>ولا القَائِلَ ولا القَابَ - یعنی تو نہ امسال کا مہاب ہوگا نہ اگلے سال، نہ تیسرے سال۔ القَبَابُ - مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ریشم۔ القَبَابُ - مِنَ السُّيُوفِ ونحوها۔ تلوار وغیره جو بہت تیز ہو۔ القَبَابُ مِنَ الأَنُوفِ - بہت موٹی ناک۔ الأَقْبُ - مِنَ الخَيْلِ - پٹی کوکھ اور دبے پیش کا گھوڑا۔ مؤنث قَبَاءٌ - ج۔ قَبٌ - القَيْحُ - مسلسل روزہ رکھنے والا۔ جس کی کوکھ اور پیش فُبلے پتلے ہو جائیں۔ القَيْبُ - خشک شدہ گھاس۔ الأَقْبُ والمَقْبُ والمَقْبُوبُ - دبا پتلا۔ القَبِيحُ - چکور کے مشابہ ایک ہندہ۔ اس کا واحد قَبِيحَةٌ ہے۔ مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ قَبِيحٌ قَبِيحٌ وَقَبِيحَةٌ وَقَبِيحَاتٌ و قَبِيحَاتٌ وَقَبِيحَةٌ دَكْرَمٌ بدمست ہونا۔ بدنا ہونا۔ قَبِيحٌ قَبِيحٌ وَقَبِيحَاتٌ وَقَبِيحَةٌ (د)</p>	<p>قَبٌ وَقَبٌ قَبِيحَاتٌ - الخَصْرُ او البَطْنُ - کوکھ اور پیٹ کا پتلا اور دبا ہو جانا۔ قَبَبٌ - الرجلُ - گنبد تعمیر کرنا۔ قَبَبٌ البَيْتِ - مکان پر گنبد بنانا۔ قَبَبٌ التمرُ - کھجور کا خشک ہو جانا۔ قَبَبٌ الشيءُ - کسی چیز کے اطراف کو اکٹھا کرنا۔ تَقَبَّبَ القَبَّةُ - گنبد میں داخل ہونا۔ اَقْبَبْتُ يَدًا - کسی کا ماتھے کا ٹپنا۔ القَبُّ - نرسانہ، قوم کا سرواڑ۔ القَبُّ - ہر دو سرین کے درمیان اٹھی ہوئی بڑی القَبِيحُ - کوکھ کا پیٹ کا دبا ہونا۔ القَبَّةُ - عمارت جس کی چھت گول اور اندر سے خالی ہو۔ گنبد۔ ج۔ قَبَابٌ و قَبِيحٌ - قَبِيحَةٌ الاِسْلَامُ - بصرہ۔ قَبِيحَةُ الشَّهَادَةِ - ریبود کے نزدیک ایک نیمہ جس میں ہود تورات محمد پر شہید کرتے تھے اور اس کو قَبِيحَةُ الزَّمَانِ بھی کہا جاتا ہے۔ القَبِيحَةُ الخَضْرَاءُ او الذَّرْقَاءُ - آسمان۔ القَابُ - آئندہ آنے والا تیسرا سال۔ مجاور ہے کہ اِنَّكَ لَا تَفْجَعُ العامَ الحَاضِرَ</p>	<p>قَابٌ قَابَاتٌ، الطَّعَامُ - کھانا کھانا۔ قَابُ المَاءِ - پانی پینا۔ قَبَبٌ قَابًا وَقَابَاتٌ - مِنَ الشَّرَابِ زیادہ مقدار میں پینا۔ القَوَابُ - القَوَائِي - مِنَ الانَاءِ - وہ برتن جس میں زیادہ پانی سماتا ہو۔ القَوُوبُ - المَقَابُ - زیادہ پینے والا۔ القَابَاءُ - کوؤں کی آواز۔ القَيْحِيُّ - انڈے کی سفیدی۔ قَائِي قَائِيَاتٌ - الرجلُ - حریت کا حق مان لینا۔ مطیع ہونا۔ قَبٌ قَبَاتٌ - النَبَاتُ - گھاس کا خشک ہونا۔ قَبٌ الشَّيْءُ - اس کے اطراف کو جمع کرنا۔ قَبٌ القَبَّةُ - گنبد تعمیر کرنا۔ قَبٌ قَبَاتٌ - يَدُ فُلَانٍ - کسی کا ہاتھ کاٹنا۔ قَبٌ قَبِيحَاتٌ، اللَحْمُ ونحوهُ - گوشت وغیرہ کا خشک ہونا۔ سرومازگی کا جاتا رہنا۔ قَبٌ - القَوْمُ - قوم کا جھگڑے میں غور کرنا۔ قَبٌ قَبَاتٌ وَقَبِيحَاتٌ، الاَسَدُ او الفِئْلُ - دانت چبانے کی آواز آنا۔ قَبٌ كَطَّ الشَّوْبِ - کپڑے کو پھینا۔</p>
---	---	--

اللَّهُ عَنِ الْغَيْرِ. مَا كَأْسِي كُوغَيْرِ
دور کر دینا۔ مفعول مقبوضہ۔ کَبَّرَ لَهُ
وَجْهَهُ كَأْسِي كُوغَيْرِ اللَّهِ كَبَّرَ
الْبَيْضَةَ۔ اٹلے کو توڑنا۔ قَبَّرَ عَلَيْهِ
فِعْلَهُ۔ کسی کے کام کی خرابی ظاہر کرنا۔
قَبَّرَ لَهُ وَجْهَهُ۔ کسی کے کام کی
برائی کرنا۔

قَابِحَةٌ مُقَابِحَةٌ۔ ایک دوسرے کو گالی
دینا۔

أَقْبَحَ الرَّجُلُ كَأْسِي كُوغَيْرِ كَرْنَا۔

استقبح الشيء۔ کسی چیز کو برا سمجھنا۔

قُبْحٌ۔ قول یا فعل یا شکل کا برا ہونا۔

قَبِيحٌ۔ بُرَا۔ بد نما۔ جہ۔ قَبَاحٌ وَقُبْحِيٌّ وَ

قَبَاحِيٌّ۔ القَبَاحُ۔ ران اور پنڈلی

کے ٹٹے کی جگہ۔ بازو کی بڑی کانٹا رہ جو کہنی

سے متصل ہے۔

الْقَبِيحَةُ۔ بری بات۔ برا کام۔ جہ۔ قَبَاحٌ وَ

قَبَاحِيٌّ۔

قَبْرٌ قَبْرٌ أَوْ مَقْبَرٌ (رضن)، المَيِّتِ مَيِّتِ

کو دفن کرنا۔

أَقْبَرًا۔ کسی کے لیے دفن کرنے کو قبر بنانا۔

أَقْبَرُ الْقَوْمِ۔ قوم کو مقتول کے دفن کی

اجازت دینا۔ قوم کو مقتول دفن کے لیے

دینا۔

الْقَبْرِ۔ آدمی کے دفن کا مقام۔ قبر۔ جہ۔

قَبْرٌ

الْقُبْرَةُ وَالْقُبْرَةُ وَالْقُبْرَةُ وَالْقُبْرَةُ

چٹروں (ایک چڑیا کا نام) جہ۔ قَبْرٌ وَ

قَبْرٌ وَقَبْرٌ۔

الْقَبْرُ۔ رات کے شکار کے لیے چراغ۔ قوم جو

جال کے شکار کو کھینچنے کے لیے جمع ہو۔

الْقَبْرِيُّ۔ نشیبی زمین۔ المَقْبَرُ وَالْمَقْبَرَةُ

الْمَقْبَرَةُ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَقْبَرَةُ

قبرستان۔ گورستان۔ جہ۔ مَقَابِرُ

الْمَقْبَرِيُّ وَالْمَقْبَرِيُّ۔ منسوب بمقبرہ۔

الْقَبْرِيُّ۔ عمدہ تانا۔ بحرہم کا ایک بڑا جزیرہ۔
اس کی نسبت قَبْرِيٌّ۔ جہ۔ قَبْرِيَّةٌ۔

الْقَبْرِيُّ۔ بجانے کا ایک ساز۔

الْقَبْرِيُّ كَوَاتِهِ قَدِّمْنَا۔ بخیل۔

قَبَسَ (رض) قَبَسًا۔ مِنْهُ النَّارُ۔ آگ کو

بصورت شعلہ لینا۔ قَبَسَ النَّارَ۔ آگ

جلانا۔ قَبَسَ الْعِلْمَ۔ علم سے فائدہ

اٹھانا۔

قَبَسَهُ النَّارَ۔ کسی کے واسطے آگ لانا۔

أَقْبَسَ فَلَانًا الْعِلْمَ۔ کسی کو علم سکھانا۔

أَقْبَسَ فَلَانًا، كَأْسِي كُوغَيْرِ دِينَا۔

أَقْتَبَسَ۔ مِنْهُ النَّارُ أَوِ الْعِلْمَ۔ کسی سے

آگ یا علم حاصل کرنا۔ أَقْتَبَسَ مِنْ

الْعِلْمِ۔ علم سے فائدہ اٹھانا۔

أَقْتَبَسَهُ نَارًا۔ کسی سے آگ لینا۔

الْقَابِسُ (فاعل) آگ کا طالب۔ جہ۔

أَقْبَاسٌ۔

الْقَبْسُ۔ اصل۔

الْقَبْسُ وَالْمَقْبَاسُ۔ آگ کا وہ شعلہ جو بڑی

آگ سے لیا جائے۔

الْقَبْسَةُ۔ ایک مرتبہ آگ لینا۔ قَبْسَتُهُ

الْعَجَلَاتِ۔ جلدی کے بارے میں ایک

مثال ہے۔ یعنی اس شخص کی مانند جو

گھر میں داخل ہوا اور صرف آگ لینے

تک ٹھہرے۔

الْقَابُوسُ۔ خوبصورت و گورا آدمی۔

الْقَوَائِسُ۔ لوگوں کو خیر سکھانے والے۔

الْمَقْبِيسُ۔ کڑی کا جتا ہوا مقام۔ جہ۔

مَقَابِسُ۔

الْمُقْتَبِسُ۔ آگ کا انگارہ۔ جتا ہوا کوئلہ۔

الْمَقْبَاسُ وَالْمَقْبِيسُ۔ جس چیز سے آگ لی

جائے۔ آگ لینے کا آلہ۔

قَبَسَ (رض) قَبَسًا۔ الفرس۔ گھوڑے کا

اتنا تیز دوڑنا کہ صرف کھرا کانٹا زمین کو

گے۔ صفت قَبْوَسٌ۔ قَبَسَ الرَّجُلُ

آدمی کو سیراب ہونے سے قبل پینے سے
منقطع کر دینا۔ قَبَسَ الْغَلَامُ۔ لڑکے کا
بالغ ہونا۔ قَبَسَ الشَّيْءُ۔ انگلیوں کے
کنارے سے کسی چیز کو پکڑنا۔ چنگلی سے
کوئی چیز لینا۔

قَبَسَ رَسًا، قَبَسًا۔ کھوپڑی کا بڑا ہونا۔

در قَبَسٍ لَاحِقٍ ہونا۔ ہلکا اور چست ہونا۔

قَبَسَ وَتَقَبَسَ۔ الْجَوَادُ عَلَى الشَّجَرِ

ٹڈیوں کا درخت پر ٹوٹ پڑنا۔

أَقْتَبَسَ قَبْصَةً۔ مِنْ كَذَا۔ کسی چیز سے

چنگلی بھر لینا۔

الْقَبْصُ وَالْقَبْصُ۔ ریت کا بڑا تودہ۔

الْقَبْصُ۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد۔

الْقَبْصُ وَالْقَبْصُ۔ درد جگر جو چھوٹا رے

یا کھجور نار منہ کھانے اور اس پر پانی پینے

سے ہوتا ہے۔

الْقَبْصَةُ وَالْقَبْصَةُ۔ جہ۔ قَبْصٌ۔

وَالْقَبْصَةُ۔ وہ مقدار جو چنگلی میں آئے۔

الْقَبْصَةُ مِنَ الطَّعَامِ۔ وہ مقدار جو

ایک لپ میں سمائے۔ مٹی کا تودہ بکری

الْقَبْوَسُ۔ ہلکا اور چست۔ حَبْلٌ قَبْصٌ۔

رسی جو زیادہ لمبی نہ ہو۔

الْقَبْصِيُّ۔ نہایت تیز دوڑ۔

الْأَقْبَسُ۔ بڑے سرو والا۔ مِنَ الْخَيْلِ۔

چست و ہلکا گھوڑا۔ وہ شخص جو چلتے

ہوئے اپنے قدم کے اگلے حصہ سے اس

طرح مٹی لٹائے کہ ایڑی مقام پر پڑے

موت قَبْصًا۔ جہ۔ قَبْصٌ۔

الْقَبْصَاءُ۔ بڑی کھوپڑی۔ بڑا سر۔

الْقَبْصِيُّ۔ مٹی کا تودہ۔

الْقَوَابِصُ۔ گروہ۔ جماعتیں۔ واحد قَابِصَةٌ۔

الْمَقْبِصُ۔ وہ رسی جو گھوڑ دوڑ کے وقت

گھوڑوں کے سامنے تانی جاتی ہے۔ جہ۔

مَقَابِصُ۔

حَبْلٌ مَقْبِصٌ۔ وہ رسی جو زیادہ لمبی نہ ہو۔

قَبْضٌ رَضٍ، قَبْضًا - بَيْدًا وَ الشَّيْءَ وَعَلَى
 الشَّيْءِ - كَسَى حَيْزًا كَمَا تَحْتَهُ يَكْرَهُنَّ اَوَّلًا
 پرائگلیاں جمادینا۔ یلدا عین الشیء۔
 پکڑنے سے باز رہنا۔ عین الامر۔
 کسی کام سے باز رکھنا۔ روكنا۔ قَبْضُهُ
 اللہ۔ خدا کا کسی کو مار دینا۔ قَبْضَ
 الشَّيْءِ۔ سیتنا۔ مختصر کرنا۔ الحادی
 الریل۔ اونٹ کو تیز چلانا۔ الطائرُ
 جناحہ۔ بازو اور پروں کو جمع کرنا۔
 الدارُ ونحوها۔ مکان وغیرہ پر قابض
 ہونا۔ محاورہ ہے کہ اِنَّهُ يَقْبِضُنِي مَا
 قَبْضَكَ دَجْجَ بے چین کرتی ہے ہر وہ
 چیز جو تجھے بے چین کرتی ہے، یا فلانُ
 الخَيْرُ يَبْسُطُهُ وَالشَّرُّ يَقْبِضُهُ۔
 (فلان کو خیر کشادہ روکتی ہے اور شر
 اس کو برہم کرتا ہے) اللہ يَقْبِضُ و
 يَبْسُطُ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تنگی دیتا
 ہے اور کسی کو خوشحال کرتا ہے،
 قَبْضُ رَضٍ، قَبْضًا لا قَبْضَ - مِنْهُ
 المالُ۔ اپنے واسطے مال لینا۔ قَبْضَةٌ
 مٹھی بھرنا۔
 قَبْضُ رَضٍ، قَبْضًا وَ الْقَبْضُ - فِي
 حَاجَتِهِ۔ اپنی ضرورت کے لیے جلدی
 کرنا۔ تیاری کرنا۔ القومُ قوم کا جلدی
 کرنا۔ چلنا۔ الرجلُ عین القوم۔
 کسی آدمی کا قوم کو چھوڑ دینا۔ بَطْنَةٌ
 قبض ہونا۔ الْقَبْضُ الشَّيْءُ۔ اکٹھا
 ہونا۔ سمٹنا۔
 قَبْضُ - التَّوَلَّى - قَرِيبُ المَوْتِ ہونا۔
 مرجانا۔
 قَبْضُ - الشَّيْءُ۔ اکٹھا کرنا۔ سمٹنا۔ محاورہ ہے
 کہ قَبْضٌ وَجْهَةٌ كَتَقَبَّضْنَا رِاسِنَا
 اپنا منہ چڑھایا پس وہ سکر گیا، قَبْضُ
 مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ پیشانی پر بل ڈالنا۔
 قَبْضُ المَالِ فَلَانًا۔ مال کسی کے قبضہ

میں سے دینا۔
 قَابِضَةٌ مُقَابِضَةٌ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ
 دینا۔
 اَقْبَضُ - السَّيْفُ۔ تلوار کے لیے قبضہ بنانا
 - فَلَانًا المَتَاعُ۔ اسباب پر قبضہ
 کیے بھارنا۔
 تَقَبَّضُ سَكْرًا جانا۔ جمع ہونا۔ الجلدُ فی
 التَّارِ كَهَالِ كاسکر جانا۔ الرجلُ
 عین الامر۔ کسی چیز سے بچنا۔ متفر ہونا
 - رَأْيُهُ۔ کودنا۔ اچھلنا۔ عَنِ الامر۔
 کسی معاملہ پر توقف کرنا۔
 تَقَابَضَ المَتَابِعَانِ۔ بائع کا قیمت پر اور
 مشتری کا بیع پر قابض ہو جانا۔
 القَبْضُ۔ تیز چلنا۔ تیزی سے ہنکانا۔ محاورہ
 ہے۔ مَا زَالَ المَالُ فِي قَبْضِهِ۔ مال اس
 کی ملکیت میں آگیا۔
 القَبْضُ۔ مقبوضہ مال سکرنا۔ تیزی سے چلنا
 مال غنیمت جو تقسیم سے قبل جمع کیا جائے
 القَبْضَةُ۔ ایک مرتبہ قبض کرنا۔ محاورہ ہے
 صَارَ الشَّيْءُ فِي قَبْضِيهِ۔ چیز اس کی
 ملکیت میں آگئی۔ قَبْضَةُ السَّيْفِ
 تلوار کا قبضہ۔
 القَبْضَةُ وَالقَبْضَةُ۔ جس پر قبضہ کیا گیا ہو
 - مِنَ الشَّيْءِ۔ کسی چیز سے مٹھی بھر۔
 القَبْضَةُ۔ اپنی بکریوں کے بارے میں عمدہ
 تدبیر کرنے والا چمڑا۔ محاورہ ہے۔
 رَجُلٌ قَبْضَةٌ رُقْضَةٌ۔ وہ شخص
 جو کسی چیز کو جلدی پکڑے اور جلدی
 چھوڑ دے۔
 القَبْضُ وَالقَبْضَةُ۔ سکرنا۔ جلدی۔
 القَبْضُ وَالقَبْضَةُ۔ شدید قبض کرنے والا۔
 تیز ہنکانے والا۔
 القَابِضُ دَفَاعِلُ - مِنَ الطَّعَامِ۔ وہ کھانا
 جو زبان کو پکڑے۔ - مِنَ الأَدْوِيَةِ۔
 وہ دوائیں جو قبضہ خشک پیدا کریں۔ تیز

رفتار چلانے والا شخص۔ قَابِضُ الأَرَوَاحِ
 عزرائیل۔
 القَبِضُ۔ سکرنا ہونا۔ تیز رفتار۔ دانا۔ جو اپنے
 فنی کی طرف متوجہ رہنے والا ہو۔
 اَلقَبْضُ وَالْمَقْبِضُ وَالْمَقْبِضُ وَ
 اَلْمَقْبِضَةُ وَالْمَقْبِضَةُ وَالْمَقْبِضَةُ
 تلوار وغیرہ کا مٹھیا۔ قبضہ۔ جہ مَقَابِضُ
 قَبْطًا قَبْطًا (ن)۔ الشَّيْءُ حَيْزًا كَمَا تَحْتَهُ
 سے جمع کرنا۔ مخلوط کرنا۔
 القَبْطُ۔ مصر میں میسائیل کا ایک فرقہ۔ واحد
 قَبْطِيٌّ۔ جہ۔ اَقْبَاطُ۔
 القَبْطِيَّةُ وَالقَبْطِيَّةُ۔ کتان سے بنا ہوا
 کپڑا۔ قَبْطُك طرف منسوب۔ جہ۔ قَبْاطِيٌّ
 قَبْاطِيٌّ۔
 القَبَاطُ وَالقَبِيطُ وَالقَبِيطِيٌّ وَالقَبِيطَاءُ۔
 ایک قسم کی مٹھائی۔ ریوڑی۔
 قَبْعُ رَفٍ، قَبْوَعًا۔ القَنْطَرُ۔ سببہ کا اپنی
 کھال میں سر کو چھپانا۔ الرَّجُلُ فِي
 قَبِيبِهِ۔ آدمی کا گریبان میں سر داخل
 کرنا۔ دَاسَةٌ۔ سر کو اپنے کپڑے میں داخل
 کرنا۔ فِي الارضِ۔ زمین میں جانا۔ قَبْعًا
 الجَوَالِقُ۔ گون یا بورے کے کنارے
 موڑنا۔ قَبْعًا وَقَبْوَعًا) عَنِ اصْحَابِهِ
 اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جانا۔
 التَّجْحُؤُ۔ ستارہ کانکنا اور پھر غروب
 ہو جانا۔ الرَّجُلُ۔ آدمی کا عاجز و خستہ
 ہونا۔ المَرَأَى۔ عورت کا پوشیدہ ہونا۔
 قَبْعًا وَقَبَاعًا وَكَبَاعًا۔ الخَيْرِيُّ
 سور کا پھنکارنا۔ القَبِيلُ۔ ہاتھی کا
 چنگھاڑنا۔ وَاقْبَعُ المَزَادَةُ۔ مشکیزہ
 سے منہ لگا کر پینا۔
 القَبْعُ۔ الطَّائِرُ فِي وَكْرِهِ۔ پرندہ کا اپنے
 گھونسلہ میں داخل ہونا۔ الرَّجُلُ۔ آدمی
 کا اپنے سر کو کپڑے میں داخل کرنا۔
 القَبْعُ۔ بگل۔

القُبْعُ والقُبَاعُ۔ سیمہ ایک دریائی جانور۔
القُبَاعُ۔ بوقوف آدمی۔ ایک بڑا پیمانہ۔
القُبْعَةُ۔ ایک چھوٹا پرندہ۔ محاورہ ہے کہ
يَا ابْنَ قُبْعَةٍ وَيَا ابْنَ قَابِعَاؤَ۔
اے احمق۔

القُبْعَةُ۔ بچوں کے پینے کی ٹوپی۔

القُبَاعُ۔ سور۔ بزدل آدمی۔

القُبَاعِيُّ۔ بڑے سر کا آدمی۔

القُبَيْعَةُ۔ مِنَ السَّيْفِ۔ تلوار کے قبضہ
کے کنارے پر چاندی یا لوہے کا ٹکڑا۔

القُبَيْعَةُ والقُبَيْعَةُ۔ خنزیر کی ناک
کا تھقنا۔

القَوَابِعُ۔ وہ گھوڑے جو گھوڑوں میں پیچھے رہ
گئے ہوں۔

القُبْعَثَرِيُّ والقُبْعَثَرُ۔ بڑا اور سخت
زبردست اونٹ۔ ج۔ قُبَاعِثُ۔

قُبَيْبُ قُبَيْبَةٍ۔ الفحل۔ زاونٹ کا
بلبلانا۔ الرجل۔ آدمی کا احمق ہونا۔

القُبَيْبُ۔ پیٹ۔

القُبَيْبَةُ۔ گھوڑے کے پیٹ کی آواز۔

القُبَيْبُ۔ دریائی سپی۔

القُبَيْقَابُ۔ کھڑاؤں۔ ج۔ قُبَا قُبَيْبُ۔

القُبَا قُبُ والقُبَيْقَابُ۔ بہت بولنے والا۔

بکواسی۔ جھوٹا۔ اُجڈ۔

القُبَا قُبُ۔ آئندہ آنے والا تیسرا سال۔
محاورہ ہے کہ إِنَّكَ لَا تَعْلِمُ الْعَامَ
وَلَا الْقَابِلَ وَلَا الْقَابِقَ۔ تو اس سال

آئندہ سال اور تیسرے سال بھی کامیاب
نہ ہوگا۔

قَبِلَ رَسْمًا، قَبُولًا وَقَبُولًا۔ الشیء۔ کسی
چیز کو لے لینا۔ الكلام۔ کلام کی

تصدیق کرنا۔

قَبِلْتُ رَسْمًا، قَبِلًا وَقَبُولًا رِجْمًا الْقَبُولُ۔
باد صبا کا چلنا۔

قَبِلَ رَسْمًا، قَبِلًا۔ عَلَى الشَّيْءِ۔ کسی چیز کو

شروع کرنا۔ کسی چیز کو لازم پکڑنا۔ للمكان
کسی جگہ کی طرف توجہ کرنا۔ محاورہ ہے
قَبِلْتُ الْمُنَاشِيَةَ الْوَادِيَّ۔ مویشی
وادی کی طرف متوجہ ہوئے۔

قَبِلَ رَسْمًا، قَبِلًا۔ اليوم۔ دن کا نزدیک
ہونا۔

قَبِلْتُ قَبَالَةَ۔ الْمَرْأَةَ۔ عورت کا وادی
ہونا۔ الْقَابِلَةُ الْوَالِدَ۔ بچہ جننا۔

قَبِلَ رَسْمًا، قَبَالَةَ۔ بَلًا۔ کسی چیز کا
ضامن اور کفیل ہونا۔

قَبِلَ قَبَالَةَ رَسْمًا، قَبِلَ قَبَالًا۔ آنکھ میں بھینکا
پن ہونا۔

قَبِلَ۔ الْقَوْمُ۔ قوم کو باد صبا پہنچنا۔

قَبَلَهُ۔ کسی کو چھونا۔ قَبِلَ الْعَاقِلَ الْعَمَلُ
کسی کو ذمہ دار بنانا۔ اسم قَبَالَةَ ہے

قَبَلَتْهُ الْحُحِّيَّ۔ ہونٹوں پر بخار کے
دالے نکل آنا۔ د بخار کا پیشاب کر دینا،

قَابَلَهُ۔ بالمقابل ہونا۔ قَابَلَ الشَّيْءَ
بالشیء۔ دو چیزوں کو بالمقابل رکھنا۔

تاکہ دونوں کی مخالفت یا مشابہت
نظر آجائے۔

أَقْبَلَ الْيَوْمَ۔ دن کا قریب آ جانا۔ أَقْبَلْتُ
الأرضَ بالكلمات۔ زمین کا سبزہ پیدا

کرنا۔ أَقْبَلَ عَلَيَّ۔ کسی کی طرف آنا۔
لَأَقْبِيَهُ۔ آنا۔ عَلَى الشَّيْءِ۔ کسی چیز کو

فروع کرنا۔ لازم ہونا۔ الْقَوْمُ۔ قوم کو
باد صبا لگنا۔ فَلَانًا الشَّيْءَ۔ کسی چیز کو

لینے سامنے قریب کرنا۔ محاورہ ہے۔
أَقْبَلْتُ زَيْدًا مَرَّةً وَأَدْبَرْتُهُ
أَعْمَى۔ ایک مرتبہ میں نے زید کو آگے

چلتا کیا اور دوسری مرتبہ پیچھے۔ نیز محاورہ
ہے إِذْهَبْ بِهِ قَابِلَهُ الطَّبْرَيْنِ۔

اس کو لے جا اور راستہ بتلا اور آگے رکھ
لگائے۔ کسی چیز کو لے لینا۔ لَقَبِلَ الْعَمَلُ
کسی کام کو لازم پکڑنا۔ اِنَّهُ دُعَاةٌ۔

خدا کا کسی کی دعا کو قبول کر لینا۔ أَبَاكَ
باپ کے ہم شکل ہونا۔ لَقَبَلَتْهُ
السَّعَادَةُ۔ کسی میں نیک۔ بختی کا اثر
ظاہر ہونا۔

لَقَابِلَ الرَّجُلَانِ۔ دو آدمیوں کا ایک دوسرے
کی طرف متوجہ ہونا۔

أَقْبَلَ۔ الكلام۔ کلام فی البدیہہ کتنا۔
الاصو۔ نئے سرے سے کسی کام کو کرنا۔

الرجل۔ آدمی کا بوقوف ہونے کے
بعد وانا ہو جانا۔

أَقْبَلْتُ إِقْبَالَتَ عَيْنَهُ إِقْبَالًا و
إَقْبِيلًا۔ آنکھ میں بھینکا پن ہونا۔

أَسْتَقْبِلُ۔ الشَّيْءَ۔ کسی چیز سے دوچار ہونا۔
الرجل۔ کسی کی طرف متوجہ ہونا۔

قَبْلُ۔ پہلے۔ یہ طرف زمان معرب ہے۔ جیسے
مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَمَاتَ الْوَسِيْرُ

قَبْلَهُ وَمِنْ قَبْلِهِ۔ کبھی مضاف محذوف
ہو جاتا ہے تو ضمہ پر مبنی ہو جاتا ہے۔ یا

مع تنوین یا بلا تنوین معرب ہو جاتا ہے
جیسے مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَمَاتَ الْوَسِيْرُ

قَبْلُ وَمِنْ قَبْلُ وَقَبْلًا وَمِنْ قَبْلُ۔
قُبَيْلٌ۔ قبل کی تصغیر ہے۔ محاورہ ہے۔

جَاءَ فَلَانٌ قُبَيْلَ الْعَصْرِ۔ فلاں آدمی
عصر سے ذرا پہلے آیا۔

القَبِيلُ والقَبِيلُ۔ آگے کا حصہ ہر چیز کا۔
مِنْ الرَّمَايَةِ۔ زمانہ کی ابتدائی مدت۔

مِنْ الْجَبَلِ۔ پہاڑ کا واسطہ۔ دامن کوہ
ج۔ أَقْبَالٌ۔ محاورہ ہے۔ أَقْبَلَ

قَبْلَهُ۔ اس کا ارادہ کیا۔ اسی طرح
محاورہ ہے رَأَيْتُ قَبْلًا وَقَبْلًا و

قَبْلًا وَقَبْلًا وَقَبْلًا وَقَبْلًا۔ میں
نے اس کو کھلم کھلا دیکھا۔

القَبِيلُ۔ سامنے آنے والی بلند زمین۔ کھلا
راستہ۔ بکری کے سینگوں کا اس کے

پہرے کی طرف جھکنہ۔ محاورہ ہے۔ حَيًّا

اللہ قبلاً۔ اللہ تعالیٰ برقرار رکھے

اس کے آگے آنے والی چیز کو۔ دایہ کی

صابت بچہ نکلنے میں۔ ہر وہ چیز جو ابتدا

میں نظر پڑے۔ کلام کافی البدریہ کہتا۔

ہاتھی دانت وغیرہ کی نبی ہوئی چیز جو عورت

کے سینہ یا گھولے کے گلے میں لٹکانی

جاتی ہے۔ القبیل فی العین۔ آنکھ

کی سیاہی کا ناک کی طرف مائل ہونا۔

فی العینین۔ دونوں آنکھوں کی نظر کا

ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا۔

القبیل۔ طاقت۔ قدرت۔ جیسے عالیٰ یہ

قبیل مجھے اس پر قدرت نہیں۔ بولا

جاتا ہے کہ لی قبیل فلان دین۔

میرا فلان پر قرعہ ہے۔ اسی طرح

آتا ہے میں قبیلہ۔ اس کی طرف سے

میرے پاس آیا۔

القبیلۃ۔ اسم نوع ہے۔ جانب۔ قبیلۃ

المصلی۔ وہ جانب جس کی طرف نماز

پڑھی جائے۔ کعبہ۔ وہ چیز جس کی طرف

استقبال کیا جائے۔ محاورہ ہے۔ ما

کہ فی ہذا الامر قبیلۃ ولا دبرکۃ

اس کو اس معاملہ میں آگے پیچھے ہاتھ

مارنے کی گنجائش نہیں۔ فاجعلوا

بیوتکم قبیلۃ۔ اپنے مکانوں کو ایک

دوسرے کے سامنے کرو۔

القبیلۃ۔ بوسہ، ضمانت۔ ذمہ داری۔

القبیلۃ۔ جو قبیل۔ القبیلۃ والقبیلۃ

ایک قسم کا بادو گرنی کا ہرہ جس کو وہ

استعمال کرتے ہیں اور اس پر نتر پڑتی

ہے۔

القبالی۔ من التعل۔ ہونے کا قسم۔ محاورہ

ہے۔ رجل منقطع القبالی۔ بد

رائے شخص۔

القبالیۃ۔ دستادیز۔ وثیقہ۔ ضمانت۔ کہا

جاتا ہے۔ جلس قبائلہ۔ اس کے

ساتھ بیٹھا۔

القبول۔ عافیت اور نعمت کا اظہار۔ اچھی

بیٹھت، باد صبا۔ قابلہ (مذوالف)

القبیل۔ صنایع، کفیل۔ خاوند تین یا زائد

کا گروہ۔ جو۔ قبل و قبلاء۔

القبیل۔ خدک اطاعت اور ذبیحہ خدا کی

معصیت۔ من النساء۔ دائی۔ قابلہ۔

بولا جاتا ہے۔ ما یعرف قبیلہ من

ذبیحہ۔ وہ آنے والوں اور جانے والوں

میں امتیاز نہیں کرتا۔ نیز محاورہ ہے کہ

من قبیل ذلک۔ اس کی طرف سے

نیز رایت قبیلہ۔ میں نے اس کو

کلم کھلا دیکھا۔

القبیلۃ۔ ایک باپ کی اولاد۔ پتھر کی

چٹان کو جس کے منہ پر۔ کھال کا ہر ٹکڑا۔

جو۔ قبائل۔ قبائل الراس۔ سر کی

ہڈیاں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔

قبائل الطیر۔ پرندوں کی اقسام۔

قبائل الشجرۃ۔ درخت کی شاخیں۔

قبائل الثوب۔ کپڑے کے ٹکڑے۔

الاستقبال۔ من الزمان۔ زمان آئندہ

مستقبل۔

الاقبیل۔ بھیٹا آدمی۔ رجل اقبیل۔ وہ

آدمی جو تاک کی طرف دیکھتا ہو معلوم ہو

مؤنث قبلاء۔ جو۔ قبل۔

القبایل۔ موجودہ سال سے اگلا آئندہ

سال۔ قبول اور تاثر کی استعداد رکھنے

والا۔ جو۔ قبیلۃ۔

القبالیۃ۔ وہ کیفیت جس سے قبول یا تاثر

کی آمادگی ہو۔

القبیلۃ۔ قابل کی مؤنث۔ آئندہ شب۔

مذوالف۔ جو۔ کواہل و قاہلات۔

کواہل الامیر۔ موافق کے مبادی۔

المقابل الرجل المقابل۔ نجیب الطرفین

شریف النسل۔ محاورہ ہے کہ رجل

مقابل مد آبر۔ شریف النسل۔

المقبیل۔ مقبول۔ من الثیاب۔ پیوند لگا

ہوا کپڑا۔ رجل مقبیل الثیاب۔

وہ شخص جس میں کبرستی کے آثار ظاہر

نہ ہوں۔

المستقبل، المستقبل المستقبل۔

من الزمان۔ زمانہ آئندہ۔ مستقبل۔

قبن رض۔ قبوتاً۔ الرجل۔ زمین پر چلنا

پھرنا۔ دور دراز زمین پر چلنا۔

قبن۔ الشی۔ کسی چیز کو کانٹے سے تولنا۔

اقبن۔ دشمن سے مار جانا۔ امن کے ساتھ

تیز دوڑنا۔

القبیلۃ۔ حاجتوں میں دوڑ دھوپ۔

القبائل۔ بھاری اشیاء تلنے کی ترازو کا ٹاٹا

القبیلین۔ ضروریات میں مستعد اور جہد

کرنے والا۔ تیز رفتار۔

قبای قبوا (ان)۔ الیناء۔ عمارت کو

الطمان یا قبہ کی شکل پر بتانا۔ الزعفران۔

زعفران چننا یا جمع کرنا۔ الشی۔ انگلیوں

سے جمع کرنا۔ قب الشی۔ کمان جیسا بنانا

۔ الحروف۔ حرف کو ملانا۔

قبی قبیلۃ۔ المتاع۔ سامان تیار کرنا۔

۔ الثوب۔ کپڑے کو شیروانی کے لیے

قطع کرنا۔ علی فلان۔ کسی پر زیادتی

کرنا۔ حق پر تجاوز کرنا۔

تقبی۔ الشی۔ کسی چیز کا قبہ کی طرح ہو

جانا۔ القباع۔ شیروانی پہننا۔ الرجل

کسی کے پیچھے سے آنا۔

القبی عنہ۔ کسی سے مخفی ہونا۔

القبی۔ المتاع۔ سامان کو مہیا کرنا۔

القبو۔ وہ عمارت جس کے اجزاء باہم خوب

پیوست ہوں۔

القبوۃ۔ اسم مرۃ قبا کا۔ دونوں لبوں کو

ملانا۔

القباع۔ قبا، شیروانی، کپڑوں کے اوپر پہننے

کا ایک لباس۔ ج۔ اَقْبِيَّةٌ۔

الِقْبَاءُ۔ کسی چیز کی مقدار۔ محاورہ ہے۔

بَيْنَهُمَا قَبَاءٌ قَوْسَيْنِ وَقَابٌ

قَوْسَيْنِ۔ ان کے درمیان دو کمانوں

کے برابر فاصلہ ہے۔ مراد قریب

ہونا ہے۔

الْمَقْبُوءُ۔ ملا ہوا۔ جڑا ہوا۔

الْمَقْبِيُّ۔ بہت چربی والا۔

الْقَبِيُّ۔ مقدار۔

قَبَابَةٌ۔ وہ صحرا جس میں پانی نہ ہو۔

قَتَّ رَنًا قَتًّا۔ جھوٹ بولنا۔ الثوبُ۔

کپڑا کا ٹنا۔ الشئُ۔ تھوڑی تھوڑی جمع

کرنا۔ کم کرنا۔ تیار کرنا۔ قَتَّ إِلَى فُلَانٍ

يَا قَتَّ أَشْرَ فُلَانٍ۔ کسی کا ارادہ معلوم

کرنے کے لیے خفیہ طور پر پہنچا کرنا۔ قَتَّ

وَقَتَّتْ۔ الاحادیثُ۔ فساد اور

جھوٹ کے طور پر باتیں پہنچانا۔ قَتَّتْ

الْأَخَادِيَةَ۔ مختلف اشیاء کو ہانڈی

میں ڈالنا اور پکانا۔ بولا جاتا ہے۔

هُوَ يَقْتُّ الْحَدِيثَ۔ وہ بات کو

بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔

تَقَتَّتْ الْحَدِيثَ۔ بات کا کھوج لگانا۔

پہچھے لگ جانا۔

اِقْتَتَّ۔ الشئُ۔ کسی چیز کو برباد و ختم کرنا۔

الْقَتُّ۔ جھوٹ۔ ایک دوا۔ ایک دانہ

جس کو صحرائی لوگ کوٹنے کے بعد پکار

کھاتے ہیں۔ واحد قَتَّةٌ۔

الْقَتَاتُ۔ ایک جڑی ہے۔ کرنبوہ۔

الْقَتَاتُ وَالْقَتَوْتُ۔ چغل خور۔ اِمْرَاةٌ

قَتَاتَةٌ وَقَتُوْتُ۔ چغل خور عورت۔

الْقَيْتِيُّ جَعَلِي۔ رَجُلٌ قَيْتِيٌّ۔ چغل خور

آدمی۔ قَوْلٌ مَقْتُوْتُ وَمَقْتٌ۔

جھوٹی بات۔

قَتَّبَ رَنًا قَتْبًا۔ بھنی آنتیں کھلانا۔

اِقْتَبَّ۔ اَلْبَعِيْرُ۔ اونٹ پر پالان کسنا۔

اَقْتَبَهُ يَمِيْنًا۔ سخت قسم دینا۔ ؕ

الْمَدِيْنُ۔ کسی پر فرض کا بوجھ پڑنا۔

الْقَتْبُ۔ آنتیں۔ مذکر ہے لیکن کبھی مؤنث

بھی ہوتا ہے۔ وہ چیز جو پیٹ کے آس

پاس متصل ہو۔ کجاوہ۔ ج۔ اِقْتَابٌ۔

الْقَنْبَةُ۔ آنتیں۔

الْقَتْبُ۔ کجاوہ۔ آنتیں۔ ج۔ اِقْتَابٌ۔

محاورہ ہے کہ هُوَ قَتْبٌ يَعَصُّ

بِالْقَارِبِ۔ وہ بہت اصرار کرنے

والا ہے۔

الْقَيْبُ۔ جلدی غصہ ہونے والا۔ تند خو۔

الْقَتْوِيَّةُ۔ وہ اونٹ جس پر پالان رکھا جاتا

ہے رَجُلٌ مَقْتَبٌ الْكَاهِلِ۔ جھکے

ہوئے کندھوں والا۔

قَتَدَ الْقَتَادَ۔ قتاد کو کاٹنا۔ کانٹے دور

کرنا اور اونٹ کو کھلانا۔

قَتَدَ الْقَتَادَ۔ قتاد کے اطراف کو آگ

سے جلادینا۔

الْقَتَادُ۔ ایک سخت درخت ہے جس کے

کانٹے سوئی کی طرح ہوتے ہیں۔ بولا جاتا

ہے کہ مِنْ دُوَيْهِ نَحْرُطُ الْقَتَادَ۔

یہ کام بڑی مشقت سے ہی ہو سکتا

ہے اور اس کو کرنے کے مقابلہ میں ہاتھ

سے قتاد کے کانٹے اور چھلکا دور کرنا

زیادہ آسان ہے۔

الْقَتْدُ وَالْقَتْدُ۔ کجاوہ کی لکڑی۔ ج۔ اِقْتَادُ

اِقْتَدُ وَقَتُوْدٌ۔

قَتَرْدَنُ مِنْ قَتْرًا وَقَتُوْرًا۔ عَلِيٌّ عِيَالِيْهِ

اہل و عیال پر خرچ کرنے میں تنگی کرنا۔

فَاعِلٌ قَاتِرٌ وَقَتُوْرٌ وَاَقْتَرُ۔ قَتَرُ

الشئُ۔ بعض کو بعض سے ملانا۔

الدِّرْعُ۔ زرہ کی میخوں کے سر بنانا۔

الاصْرُ۔ کسی کام کو لازم پکڑنا۔ قَتَرُ

قَتْرًا وَقَتْرًا وَقَتُوْرًا۔ مَا بَيْنَ

الاصْرَيْنِ۔ اندازہ کرنا۔ تخمینہ کرنا۔

قَتَرُ الرَّجُلُ۔ کسی پر نفع میں تنگی ہونا۔

قَتَرْنَ مِنْ قَتْرًا وَقَتُوْرًا۔ وَقَتَرْنَ

قَتْرًا۔ الْبُخُوْرُ اَوِ اللّٰحْمُ۔

بدبودار ہونا۔ بُوْھَيْلِنَا۔ النَّاسُ۔

دھواں دینا۔

قَتَرْتُ عَلَيَّ عِيَالِيْهِ۔ اہل و عیال پر خرچ میں

تنگی کرنا۔ اللّٰحْمُ۔ بُسْ جَانَا۔ بدبو ہو

جانا۔ الصَّيَاذُ لِلْاَسَدِ۔ شکاری کا

شیر کی کھوہ میں گوشت رکھنا تاکہ بُوْھَاکِر

شیر نکل آئے۔ قَتْرَةٌ۔ غبار پر بچھاڑنا۔

الشئُ۔ کسی چیز کا بعض حصہ بعض

سے قریب ہونا۔ الرَّجُلُ۔ دھواں یا

بھاپ کی بُوْھَيْلَانَا۔ الْوَحْشُ۔ اونٹ

کے بالوں کی دھونی دینا تاکہ شکاری کی

بو محسوس کر کے نہ بھاگ جائے۔

مَا بَيْنَ الْاَصْرَيْنِ۔ کسی معاملہ کا

اندازہ کرنا۔

اَقْتَرُ۔ مال کا کم ہو جانا۔ عَلِيٌّ عِيَالِيْهِ۔ اہل و

عیال پر نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ الشئُ

کسی چیز کا ضروری ہونا۔ لازم ہونا۔

اللّٰهُ رَسْمًا قَةً۔ خدا کا کسی کے رزق کو

تنگ کرنا۔ النَّارُ۔ آگ کو دھوئیں

والی کرنا۔ اَقْتَرَتِ الْمَرْأَةُ۔ عود کی

دھونی دینا۔

تَقَتَّرَ۔ غصہ ہونا۔ طَائِيٌّ کے لیے آمادہ ہونا۔

لِلصَّيْدِ۔ شکاری کا ٹی کی آڑ میں چھپ

کر شکار کرنا۔ فُلَانًا۔ کسی کو قریب دیکھ

کا ارادہ کرنا۔ عَتَّةٌ۔ دود ہونا۔ اَلْاَصْرَا

تیار ہونا۔ اَلْاَصْرِيْكَذَا۔ کسی کام کے

لیے ترمی اختیار کرنا۔

لَقَاتَدَ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کو دھوکا دینا۔

اِقْتَتَرُوا۔ الصَّائِدُ۔ شکاری کا ٹی کی آڑ

میں چھپنا۔

الْقَتْرُ۔ معمولی ذریعہ معاش۔ تخمینہ۔

الْقَتْرُ۔ نشانہ کے تیر کی نوک۔ وہ بانس جو

کرنا اور بعض کا بعض کو قتل کرنا۔
 اِسْتَقْتَلَ۔ قتل کے لیے اپنے آپ کو سپرد
 کرنا۔ جیسے کہ اِسْتَمَاتَ بولا جاتا ہے۔
 مردانہ وار اپنے آپ کو قتل کے لیے
 پیش کر دینا۔ فی الاصر۔ اپنے کو ہلاک
 کے لیے پیش کرنا۔ کسی کام میں کوشش
 کرنا۔

الْقَتْلُ الْحَمْدُ۔ عداقت۔ جو قتل کہ ارادۃ
 ہو۔ الْقَتْلُ الْخَطَا۔ وہ قتل جو
 ارادۃ نہ ہو۔

الْقَتْلُ۔ دوست، دشمن، ہمسر، نظیر۔ لڑنے
 والا شجاع۔ ج۔ اَقْتَالَ۔ بولا جاتا ہے۔
 اِنَّهُ لَيَقْتُلُ شَيْءًا۔ وہ شر کو جانتا ہے۔
 الْقِتْلَةُ۔ اسم نزع۔ بولا جاتا ہے۔ قَتَلَهُ
 قِتْلَةً سَوْجًا۔ اس کو بری طرح قتل کیا۔
 الْقَتْلُ نَفْسٍ۔ قوت۔ بولا جاتا ہے۔ نَاقَةُ
 ذَاتُ قَتَالٍ۔ طاقتور اونٹنی۔

الْقَتُولُ۔ بہت قتل کرنے والا۔ مذکر
 مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ ج۔ قُتِلَ
 وَقُتِلَ۔

الْقَتِيلُ مَقْتُولٌ۔ مذکر مؤنث کے لیے۔ ج۔
 قَتَلْتُ وَقُتِلْتُ وَقَتَالِي۔

الْمَقْتُلُ۔ وہ عضو جس پر چوٹ لگنے سے
 ہلاکت کی نوبت آجائے، جیسے کنپٹی۔
 قتل کا مقام۔ قتل۔ ج۔ مَقَاتِلُ۔

الْمُقَاتِلَةُ۔ جنگ کرنے والا گروہ۔ تاء
 تانیث جماعت مراد ہونے کی وجہ سے
 لاحق کی گئی ہے۔ واحد مَقَاتِلٌ ہے۔

الْمُقْتَلُ۔ آگاہ۔ مجرب۔ تجربہ کار۔
 الْمُقْتَلُ۔ میدان کارزار۔

قَتَرْنَا، قَتَرْنَا وَقَتَرْنَا، قَتَرْنَا۔
 الْغَبَارُ۔ غبار اٹھنا۔ گرد اٹھنا۔

قَتَرْنَا، قَتَرْنَا وَقَتَرْنَا، قَتَرْنَا۔
 مائل ہونا۔ قَتَرْنَا وَقَتَرْنَا، قَتَرْنَا۔
 اَقْتَمَ الْيَوْمَ۔ دن میں غبار کا سخت ہونا۔

الْقَتْمُ۔ لکڑی کھانے والا سرخ کپڑا۔ واحد
 قَتْمَةٌ۔ بعض نے اس کے معنی دیکھ
 کیے ہیں۔

الْقَتْمَةُ۔ ذیل۔ بولا جاتا ہے کہ هُوَ
 اَقْتَمُ مِنْهُ۔ وہ فلاں سے زیادہ
 ذیل ہے۔ مؤنث قَتْمَاءُ ہے۔ ج۔
 قَتْمٌ۔

قَتَلَ رَنًا، قَتَلًا وَقَتَالًا۔ قتل کرنا۔ مار
 ڈالنا۔ فاعل قَاتِلٌ۔ ج۔ قَاتِلُونَ و
 قَتَلَةٌ وَقَتَالٌ۔ محاورہ ہے، کہ

قَتَلَهُ بِأَخِيهِ۔ اپنے بھائی کے انتقام
 کے لیے قتل کیا۔ قَتَلَ الْخَمْرَةَ۔
 شراب کو پانی کے ساتھ مخلوط کیا۔

الْجُوعُ أَوِ الْبُرُوعُ۔ بھوک یا سردی
 کی تیزی کو توڑنا۔ قَتَلَهُ اللهُ۔ اللہ
 کا کسی پر لعنت کرنا۔ بد دعا کے لیے بولا

جاتا ہے۔ اور کبھی تعریف و تحسین کے
 موقع پر بھی بولتے ہیں۔ محاورہ ہے۔
 قَتَلَ الشَّيْءَ خَيْرًا۔ یعنی کسی چیز کے

سر چلو کا علم حاصل کر لینا۔ قَتَلَ
 عَيْلِكَ۔ یعنی فلاں کو سیراب کیا اور
 اس کی پیاس زائل ہو گئی۔

قَتَلَ الْقَوْمَ۔ قوم کے بہت سے افراد کو قتل
 کرنا۔ قَاتِلٌ قِتَالٌ وَقِتَالٌ وَمُقَاتِلَةٌ
 لڑنا۔ دشمنی کرنا۔ قَاتَلَهُ اللهُ۔ خدا کا

کسی پر لعنت کرنا (بد دعا، کبھی تحسین
 کے لیے بھی بولا جاتا ہے) جیسے قَاتَلَهُ
 اللهُ مَا أَشْعَرَةً۔ یہاں بد دعا مراد

نہیں بلکہ صحت و تحسین مراد ہے۔
 اَقْتَلَهُ۔ قتل کے لیے پیش کرنا۔
 تَقَتَّلَ۔ ملک کر چلتا چلنے میں اِدْمَامُ

ہونا۔ لَلْأَمْرِ۔ کسی کے لیے ہمت دینا
 ۔ اِفْلَانٌ۔ کسی کے سامنے تواضع و
 خاکساری کرنا۔ اَقْتَلَّ وَقَاتَلَّ و

اِقْتَلَّ۔ اِقْتَلَّ۔ قوم کا باہم جنگ

نشانہ پر مارا جائے۔

الْقَتْرُ۔ غبار۔ اندازہ۔

الْقَتْرُ وَالْقَتْرُ۔ طرف۔ جانب۔ قطر کا
 دوسرا اطلاق ہے، ج۔ اَقْتَارٌ۔

الْقَتْرُ۔ منکبہ۔

الْقَتْرَةُ۔ اسم مرثیہ ہے۔ غبار۔

الْقَتْرَةُ۔ اسم نزع ہے قَتْرًا۔ واحد۔

أَبُو قَتْرَةَ۔ شیطان کی کنیت ہے۔

ابن قَتْرَةَ۔ ایک نہایت زہریلا سا پ
 جس کا کاٹا ہوا نہیں پچتا۔ ج۔ بَنَاتُ
 قَتْرَةَ۔ غیر منصرف ہے۔

الْقَتْرَةُ۔ شکاری کی ٹہنی۔ زرہ کا حلقہ۔ تنگ
 روزی ہونا۔ آر پار طاق۔ قَتْرَةُ
 البُسْتَانِ۔ باغ میں پانی داخل ہونے

کی نالی۔ قَتْرَةُ الْبَابِ۔ دروازہ کے
 بند کرنے کا مقام جس سے دروازہ بند
 ہو جاتا ہے۔ ج۔ قُتْرٌ۔

الْقَتَارُ۔ پکی ہوئی چیز کی بھاپ۔ دُھون۔
 گوشت، ہڈی، جلی یا بھی ہوئی چیز کی بو۔
 چڑا ہند۔

الْقَتَائِرُ۔ زرہ کی میخوں کے سر۔ زرہ۔ بڑھاپا
 بڑھاپے کا آغاز۔

الْقَائِرُ وَالْقَتُورُ وَالْقَتْرُ۔ بخیل جو اہل و
 عیال پر خرچ میں تنگی کرے۔ بولا جاتا
 ہے۔ سَوْرَجٌ قَائِرٌ وَمُقْتِرٌ۔ وہ

زمین جو پیٹھ پر ٹھیک بیٹھے۔ لَحْمٌ
 قَائِرٌ۔ وہ گوشت جس میں چکنائی کی
 وجہ سے بو ہو۔

الْأَقْتَرُ۔ جس کا رنگ خاک ہو۔
 التَّقْتِيرُ۔ صرف زندگی برقرار رکھنے کے
 مطابق روزی۔ قلیل معاش۔

قَتَمَ رَفًا، قَتَمُوا۔ ذیل ہونا۔ قَاتَعَةُ
 مَقَاتِعُهُ۔ جنگ کرنا۔ لڑنا۔
 الْقِتْمُ۔ شہد کا چھتہ کم گہرے گڑھے میں

یا چٹان میں۔

اِقْتَمَ اِقْتِمَامًا - الشئُ بجزیر کا سیاہ ہوجانا۔
 الْقَثْمُ - غبار۔
 الْقَثْمَةُ - رنگ جس میں سرخی و سیاہی ہو۔
 الْقَتَامُ وَالْقَثْمَةُ - سیاہ غبار۔ لڑائی کا غبار
 اندھیرا سیاہی۔
 الْقَاتِمُ سِیَاهٌ - بولا جاتا ہے۔ اَسْوَدُ قَاتِمٌ
 یعنی نہایت سیاہ۔ ج۔ قَوَاتِمٌ۔
 الْاِقْتَامُ - وہ چیز جس کا رنگ سرخ سیاہی مائل ہو۔
 قَتْنٌ دَنٌ، قَتُونًا - اِلْسُكٌ - مشک کا خشک
 ہوجانا اور اس کی تازگی کا زائل ہوجانا۔
 قَتْنٌ رَنٌ، قَتَانَةٌ، وَاَقْتَنٌ - کم گوشت و کم
 خوراک ہونا۔ جسم کا ضعیف و نحیف ہونا۔
 الْقَتَانُ وَالْقَتَانُ - غبار۔
 الْقَاتِنُ - فا۔ سیاہ مائل بہ سرخ۔ اَسْوَدُ
 قَاتِنٌ - نہایت سیاہ۔
 الْقَتِیْنُ - کم خوراک و کم گوشت۔ (مذکر و
 مؤنث یکساں ہے) حقیر۔ دُبل پتلا۔ ذلیل
 پتلا نیزہ۔ چھڑی۔ کیونکہ اس میں خون
 کم ہوتا ہے۔
 قَتَا یَقْتُو اَقْتُوا وَاَقْتُوا وَاَقْتُوا وَاَقْتُوا
 الْمُلُوكُ - بادشاہوں کی خدمت
 اچھی طرح کرنا۔ فاعل قَاتٍ۔
 اِقْتَوَى - الرَّجُلُ - کسی شخص سے خدمت
 لینا اس کی نظیر نہیں ہے کیونکہ یہ
 خلاف قاعدہ ہے،
 الْقَتْوَةُ - اسم مہر ہے قتا سے۔ چغل خوری۔
 الْمَقْتَى - مرف کھانے کے بدلہ ملازمت
 کرنے والا۔ شاہی نوکر کے لیے بولا جاتا
 ہے۔ ج۔ مَقْتُوْنٌ وَاَقْتَاوَةٌ
 وَاَقْتَاوَةٌ۔
 الْمَقْتُوْبُ - مرف کھانے کے عوض خادم۔
 قَثَّ دَنٌ، قَثَا - الشئُ - چیز کو کھینچنا۔
 الْاِبِلُ - اونٹ کو سیراب کرنا اِقْتَتَّ
 الشَّجَرُ - درخت کو کھا لانا۔
 قَثَّ دَنٌ، قَثَا وَاَقْتَتَّ - الْمَالُ - بہت

مال جمع کرنا۔
 الْقَثَاثُ - اسباب۔ بولا جاتا ہے۔ جَاءَ
 الْقَوْمُ بِقَثَاثِهِمْ وَقَثَاثَتِهِمْ - یعنی
 قوم اپنا کل اسباب لے کر آگئی اور
 پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔
 الْقَثَاثُ - چغل خور۔
 الْقَثَاثَةُ وَالْقَثِیْثَةُ وَالْمَقْتَةُ -
 لوگوں کی جماعت۔
 اَقْتَأَ - الْمَكَانُ - کسی جگہ کھیر زیادہ ہونا۔
 الْقَوْمُ - کسی قوم کے پاس کھیرے
 زیادہ ہونا۔
 الْقَثَاوَةُ الْقِثَاوَةُ - کھیرا۔ گڑھی۔
 الْمَقْتَاةُ وَالْمَقْتُوَّةُ - کھیرے پیدا ہونے
 کی جگہ۔ ج۔ مَقَاتِيٌّ - اَرْضٌ مَقْتَاةٌ
 وَمَقْتُوَّةٌ - کھیرے کی زمین۔
 اِقْتَتُوا - الشئُ - کسی چیز کو گھر کا اسباب
 بنانا۔
 تَقْتَرُ الرَّجُلُ - تردد کرنا۔ گھبرانا۔
 الْقَثْرَةُ - گھر کا اسباب۔
 قَثَقَتْ قَثَقَةً - الْوَتْدُ - بیخ کو اکھاڑنے
 کے لیے ہلانا۔ اِلْمَكْيَالُ - پیمانہ کو
 پورا کرنا۔
 قَثَمَ دَنٌ، قَثَمًا - الشئُ - کسی چیز کو شیر
 کے پاخانہ سے تعمیر کرنا۔ وَاَقْتَمَ
 الْمَالُ - مال زیادہ جمع کرنا۔ اِقْتَمَ
 الرَّجُلُ - کسی کو ذلیل کرنا۔ الشئُ -
 کسی چیز کو بڑے اکھاڑ دینا۔
 قَثَمَ دَنٌ، قَثَمًا - لَهُ مِنَ الْمَالِ - مال
 دفعہ دینا۔ فِي مَشِيهِ - چلنے میں
 تاخیر کرنا۔ آہستہ چلنا۔
 قَثَمَ دَسٌ، قَثَمَةٌ وَقَثَمًا - شِیر کے پاخانہ
 میں تعمیر کرنا۔
 قَثَمَ دَكٌ، قَثَمًا وَقَثَامَةً - غبار اُلوڈ
 ہونا۔ الْقَثَمُ وَالْقَثَمُ - خیر یا شر
 کا جامع۔ الْعَثَمُ - بہت عطا کرنے

والا۔ رقم سے معقول ہے۔
 الْقَاتِمُ - فا۔ معطی۔
 الْقَثْمُ - سخی لوگ۔
 الْقَثْمَةُ - خاک رنگ۔
 قَتَامٌ - (بینی برکسر) مادہ بجز۔
 قَتَا یَقْتُو اَقْتُوا وَاَقْتُوا یَقْتُو قَثَا وَاَقْتُوا
 اِقْتَتَّ - الْمَالُ - مال جمع کرنا۔
 الْقَثَا - ان اشیاء کا کھانا جو ڈالہ کے نیچے
 چباتے وقت آواز دیں۔ جیسے گڑھی
 وغیرہ۔
 قَثَمَ دَنٌ، قَثَمَةٌ وَقَثَامَةٌ - خالص ہونا۔
 الْقَثْمُ - ج۔ اَقْحَاہُ - الْقَحَاہُ - ہر چیز
 خالص۔ محاورہ ہے کہ فُلَانٌ کَرِیْمٌ
 قَثْمٌ یَا اَعْرَابِیٌّ قَثْمٌ - یعنی خالص کریم
 یا خالص اعرابی ہے۔ الْقَثْمُ - گنوار۔
 غیر منب۔ مَوْنُکٌ قَحَّةٌ - بولا جاتا ہے
 اَعْرَابِیَّةٌ قَحَّةٌ۔
 قَحَبَ دَنٌ، قَحَبًا وَقَحَابًا وَقَحَبٌ -
 کھانا۔ قَحَبَتِ الْمَرَاةُ - بدکار ہونا
 قَا حَبَّتْ وَتَقَحَّبَتِ الْمَرَاةُ - عورت کا
 زانیہ یا بدکار ہونا۔
 الْقَحْبُ - عمر رسیدہ۔ کھانسی کا مریض۔
 الْقَحْبَةُ - قَحَب کی مؤنث۔ زانیہ۔ بدکار
 بڑھیا عورت۔ ج۔ قَحَابٌ - سَعَالٌ
 قَا حِبٌ - شدید کھانسی۔
 قَحَصَ دَنٌ، قَحَصًا - الشئُ - سالم چیز کو
 لے لینا۔
 قَحَدَ دَنٌ، قَحَدًا وَاَقْحَدًا - الْبَعْدُ -
 اونٹ کی کوہان بڑی ہونا۔
 اِسْتَقْحَدَتِ النَّاقَةُ - ناقہ کا بڑی کوہان
 والی ہونا۔ نَاقَةٌ قَحْدَةٌ وَمَعْحَدَةٌ -
 ج۔ مَقَا حِیْدٌ - بڑی کوہان والی ناقہ۔
 الْقَحْدَةُ - کوہان۔ کوہان کی جڑ۔ ج۔
 قَحَادٌ وَاَقْحَدٌ
 الْقَحَادُ - تنہا آدمی۔ جس کا نہ بھائی ہو نہ لڑکا۔

المَقْحَدَةُ: کوہن کی جڑ۔

قَحْرَفٌ، قَحْرًا: کوہن۔ بے چین ہونا۔

گھرانہ قَحْرًا: مردہ کی طرح پڑ جانا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

قَحْرًا قَحْرًا: کسی کو پھانسا۔

تَوْرُنًا: الشیء۔ بنا کر لے جانا۔ مَا

فِي الْإِنَاءِ: برتن کا سب کچھ ایک دم

پی جانا۔ الْحَبَّ: دانے بکھیرنا تاکہ

بھوسہ علیحدہ ہو جائے۔ الرَّمَانَةُ

انار کو چھیننا۔ تَخَافًا: کھانسنے۔

رَأَتْ حَفَّ: مَرَّ فِي الْإِنَاءِ: ایک سانس

میں سب پی جانا۔ السَّيْلُ كُلُّ شَيْءٍ

سیلاب کا ہر چیز کو بہانے جانا۔

الْقَحْفُ: کھوپڑی کا وہ حصہ جو علیحدہ ہو

جائے، کڑی کا پیالہ جو نصف کھوپڑی

کی شکل کا ہو۔ ج۔ أَلْحَافٌ وَخُوفٌ

وَقِخْفَةٌ: بولا جاتا ہے کہ رَمَاكَ

يَأْتِي حَافٍ رَأْسَهُ: اس کو بڑے

معاملات میں پھنسا دیا۔ فَلَانٌ مَا

لَهُ قَدْ وَلَا قَحْفٌ: اس کے پاس

کچھ بھی نہیں۔ قَدْ: چڑھے کا پیالہ۔

الْقِحَافُ: یکدم پینا۔

الْقِحَافُ: بہانے جانے والا سیلاب۔

زبردست سیلاب

الْقِحَافَةُ: وہ چیز جو ایک سانس میں پی

لی جائے۔

القَاحِيفُ: فاج. ج. قَحْفٌ: عَجَاجَةٌ

قَحْفًا: شدید آندھی۔

الْمُقْحَفَةُ: دانے بھوسہ سے جدا کرنے کی

کڑی۔ ج. مَقَاحِيْفٌ: قَحْقَمَ الصَّوْتُ: آواز کا حق میں اٹکنا۔

الْقِرْدُ: بند کا ہنسنے۔

قَحَلٌ رَهْمٌ قَحُولًا: قَحَلٌ رَسٌ قَحْلًا

وَقَحْلًا، قَحَلٌ: الشیءُ: خشک

ہو جانا۔ فاعل قَاحِلٌ وَقَحْلٌ وَ

قَحَلٌ:

انْقَحَلَ وَقَحَلَ: بولنے کی طرف کھال

اور بڑی باقی رہنا۔ بہت بولنا ہو جانا۔

بولا جاتا ہے کہ كَيْفَ تَرُدُّ كَيْفَ تَحْكُمُ

وَقَدْ قَحَلَ: تمہارے بولنے کو کس

طرح واپس کریں۔ حالانکہ اس کی کھال

بھی مرنے کے بعد خشک ہو چکی ہے۔

انْقَحَلَ الشیءُ: چیز کو خشک کرنا۔ بولا

جاتا ہے۔ انْقَحَلَ الصَّوْمُ: روزہ نے

اس کی طرف کھال اور بڑی باقی رہنے کی

قَاحِلَةٌ مُقَاحِلَةٌ: کسی چیز سے لازم رہنا۔

تَقَحَّلَ الشیءُ: بڑھاپے سے کھال کا

خشک ہونا۔ تَقَحَّلَ فِي لَبُوسِهِ

وَحَالِهِ: بڑے لباس والا۔ اور

بد حال ہونا۔

القَاحِلُ: فاج. مِنَ الْجُلُودِ: خشک کھال۔

القِحَالُ: بکریوں کی وہ بیماری جس سے ان

کی کھال سوکھ جاتی ہے۔

القَحُولَةُ: خشکی۔

الْمُنْقَحِلُ: مِنَ الرِّجَالِ: خشک کھال

والا۔ بد حال۔

قَحَمَرٌ: قَحَمًا وَقَحَمًا: فِي الْأَمْرِ:

بغیر سوچے سمجھے کسی معاملہ میں داخل ہو

جانا۔ الیہ: نزدیک ہونا۔

قَحَمَرٌ: قَحَمًا: الْمَفَاوِزُ: صحرا کو

طے کرنا۔

قَحَمَةٌ وَأَقْحَمَةٌ: فِي الْأَمْرِ: کسی کو بلا سوچے

سمجھے داخل کرنا۔ قَحَمَ الْفَرَسَ رَاكِبًا

گھوڑے کا اپنے سوار کو منہ کے بل گرا دینا

أَقْحَمَ فَرَسَهُ التَّمَرُ: گھوڑے کو

جبراً نہر میں داخل کرنا۔ الْكَلِمَةُ: کسی

کلمہ کو مضاف و مضاف الیہ جیسے دو

متلازمہ کے درمیان داخل کر دینا۔ جیسے

رَجُلٌ كَالْفِطْرِ اس مثال میں یَدٌ اور

مَنْ كَالْمِثْلِ داخل کر دیا گیا ہے۔

قَطَعَ اللَّهُ يَدَ رَجُلٍ مَنْ قَالَهَا

حَالًا: اصل میں قَطَعَ اللَّهُ يَدَ مَنْ

قَالَهَا وَرَجُلًا: ہونا چاہیے تھا۔

أَجْمَعُ الْقَوْمَ: قحط کی وجہ سے اپنی سرزمین

کو چھوڑ کر کسی سبزہ و پانی کی سرزمین میں

چلے جانا۔

لَفْتَحَ الْفَرْسُ التَّمْرَ۔ نر میں داخل ہونا۔
- الْفَرْسُ يَرُكِبُهُ۔ سوار کو چہرہ کے
بل گرا دینا۔ الْأَمْرُ۔ اپنے آپ کو کسی

معاملہ میں پھنسا دینا۔

لَفْتَحَ الْأَمْرَ۔ اپنے آپ کو مشقت کے

ساتھ کسی معاملہ میں پھنسا دینا۔ فَلَانًا

کسی کو حقیر جانا۔ مَخَاوِرُهُ لَفْتَحَتْهُ

عَيْنِي۔ میری آنکھ نے اس کو حقیر جانا۔

لَفْتَحَ الْمَنْزِلَ۔ کسی مقام پر ہجوم

کرنا۔ النَّجْمُ سَتَارَهُ كَاغَابَ

ہونا وَالْفَحْمُ۔ بلا غور و فکر داخل

ہو جانا۔

الْفَحْمُ۔ عمر رسیدہ۔ دُبْلَابُ نَثِ قَحْمَةٌ

ج۔ قَحَامٌ

الْقَحْمَةُ۔ مشقت کا کام۔ ہلاکت۔ اندھا

دُضْدِلٌ وَيُنَا۔ قحط۔ ج۔ قَحْمٌ۔

قَحْمُ الطَّرِيقِ۔ دشوار راستہ۔

الْقَحْمُ مِنَ الْخُصُومَاتِ۔ وہ چیز

جو آدمی کو ناپسندیدہ چیز پر آمادہ کرے۔

بولاجاتا ہے۔ لِلْخُصُومَةِ قَحْمٌ۔

الْقَحْمُ مِنَ الشُّهُبِ۔ مہینہ کی تین

آخری راتیں۔

الْقَحَامَةُ وَالْقُحُومَةُ۔ بہت بڑھا پالا۔

الْقُحُومُ۔ بہت عمر والا۔

الْمُقْحَامُ۔ اسم بالغة قاحم۔ بڑی مشقتوں

میں داخل ہو جانے والا شخص۔ ج۔

مَقَا حَيْمٌ۔

الْمَقَا حَيْمٌ۔ ہلاکتیں۔ اس کا مفرد صلاب

قیاس قَحْمَةٌ ہے جیسے کہ صلابہ کا

مفرد لَمَحَةٌ۔

الْمُقْحَمُ۔ اسم مفعول۔ کمزور۔ وہ اعرابی جس

نے خشکی میں نشوونما پائی ہو۔

قَحَا يَفْحُوا قَحْوًا۔ الدَّقَاءُ۔ دوا میں

گل بابونہ ڈالنا۔ وَرَفْتَحَى الْمَالَ۔

تمام مال لے لینا۔

أَفْحَتِ الْأَرْضُ۔ زمین کا گل بابونہ پیدا کرنا۔

الْمُقْحَاةُ۔ بیلچہ۔

الْقَحْوَانُ وَالْأَقْحَوَانُ۔ گل بابونہ۔ واحد

قَحْوَانَةٌ وَالْأَقْحَوَانَةُ۔ ج۔ أَقْحَى

وَأَقْحَى۔ تصغیر أَقْحِيحَانٌ۔ واحد

أَقْحِيحَانَةٌ۔ أَقْحَى الْأَمْرِ۔ کسی

معاملہ کے مبادیات۔

قَدٌّ۔ کبھی اسم ہوتا ہے بمعنی حَسْبٌ۔ رکافی

ہے، جیسے قَدٌّ زَيْدٌ دِرْهَمٌ۔ اور

کبھی معرب ہوتا ہے جیسے قَدٌّ زَيْدٌ

دِرْهَمٌ۔ زید کو ایک درہم کافی ہے۔

قَدِيٌّ دِرْهَمٌ۔ بلانوں کے جیسے کہ

حَسْبِيٌّ۔

۲۔ اسم فعل بھی ہوتا ہے بمعنی کَفَىٰ يَأْ

يَكْفِيٌّ۔ جیسے قَدِّي دِرْهَمٌ۔ مجھے

ایک درہم کافی ہے۔

۳۔ کبھی بطور حرف مستعمل ہے اور صرف

فعل متعین خبری مثبت پر داخل ہوتا

ہے۔ جبکہ اس پر کوئی جازم یا ناصب

داخل نہ ہو رہا ہو۔ یہ فعل کے جزو کی

طرح ہے اور فعل میں کوئی عمل نہیں کرتا

نہ ہی فعل سے جدا ہوتا ہے۔ کیونکہ قسم

بھی اس کے مضمون کو مؤکد کرتی ہے۔

اس لیے گویا کہ دونوں متحد ہی ہیں۔

قَدٌّ مضارع کے ساتھ توقع اور امید

کے معنی پیدا کرتا ہے۔ جیسے قَدٌّ يَقْدَمُ

الْغَائِبُ الْيَوْمَ۔ توقع ہے کہ آج

غائب آجائے۔ کبھی تقبیل کا فائدہ دیتا

ہے۔ جیسے قَدٌّ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ

کبھی کبھی جمعوں میں سچ بول دیتا ہے۔

ماضی پر داخل ہوتا ہے تو کبھی تحقیق کے

معنی دیتا ہے جیسے قَدٌّ أَفْلَحَ مَنْ

الْتَقَى اللَّهَ۔ یقیناً فلاح پائی متقی نے۔

کبھی ماضی کو حال کے قریب کرنے کے

لیے آتا ہے۔ جیسے قَدَّ قَامَ فَلَانٌ۔ فلاں

آدمی ابھی ابھی کھڑا ہوا ہے۔ کبھی مضارع

میں زیادتی کے معنی بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسے

قَدَّ أَشْهَدُ الْفَارَةَ الشُّعْرَاءَ تَحْمِلُنِي

میں بڑی لوٹ کے اندر بہت شریک

ہوتا ہوں۔ جو مجھے برا لگتی ہے کرتی ہیں۔

قَدَّ رَنٌ، قَدَّ أَوْ قَدَّدَ۔ الشَّيْءُ۔ جڑے

کاٹ ڈالنا۔ لمبائی میں کاٹنا یا چیرنا۔

بولاجاتا ہے۔ قَدَّدْتُ الشَّيْءَ لِعُصْفَيْنِ

اور کبھی دوسرے مفعول پر رب بھی

زیادہ کر کے کہتے ہیں۔ قَدَّدْتُكَ بِنُصْفَيْنِ

کسی چیز کو نصفانصاف کرنا۔ قَدَّ

السَّافِرُ الْفَلَاةَ۔ مسافر کا بیابان کو

قطع کرنا۔ قَدَّ اللَّحْمُ۔ گوشت کے

پارچے بنا کر خشک کرنا۔

قَدٌّ۔ پیٹ کا درد لاحق ہونا۔

لَقَدَّدَ۔ پھٹنا۔ چرنا۔ الْقَوْمُ۔ قوم کا ہتھیار

ہونا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا خشک ہونا۔

الشُّوبُ۔ کپڑے کا پھٹنا اور بوسیدہ

ہونا۔ الْقَوْمُ۔ قوم کا مختلف آراء اور

خیالات میں بٹ جانا۔ الشُّوبُ عَلَيَّ

بَدَنِيهِ۔ کپڑے کا کسی کے بدن کے طول و

اندازہ کے برابر ہونا۔

لِنَقَدَّ۔ پھٹنا۔ چرنا۔

لِقَتَدَّ۔ الشَّيْءُ۔ بمعنی قَدَّ الشَّيْءُ۔ پھٹنا۔

الْأُمُورَ۔ معاملات کی تسخیر کرنا اور

ان میں تیز کرنا

لِسْتَقَدَّ۔ الْأُمُورَ۔ معاملہ کا برابر ہونا۔

جاری رہنا۔

الْقَدُّ۔ کسی چیز کی مقدار اور اس کی پیمائش

معاورہ ہے۔ هَذَا عَلَيَّ قَدًّا ذَاكَ۔ یہ

اس کے برابر ہے۔ آدمی کا قد۔ سَائِرُ

كوڑا۔ بزغالہ کی کھال۔ ج۔ أَقْدٌ وَقَدُودٌ

وَقِدَادٌ وَأَقْدَاةٌ۔

الْقَدُّ۔ کھال کا بنا ہوا برتن۔ تسمر کی طرح

لمی کٹی ہوئی کھال۔ کٹی ہوئی چیز۔ محاورہ میں بولا جاتا ہے: **مَا لَكَ قِدْحًا وَلَا قِحْفًا**۔ نہ اس کے پاس چمڑے کا برتن ہے نہ کڑی کا یعنی مفلوک الحال ہے۔ **ج۔ اَقْدَحُ**۔
الْقَدْحُ۔ ایک سمندری مچھلی جس کی ایک نوع سے مچھلی کا تیل نکالا جاتا ہے۔
الْقِدْحَةُ۔ چمڑے کا لباس سمہ۔ کسی چیز کا ٹکڑا مختلف رائے لوگوں کی جماعت۔ **ج۔ قَدْحٌ وَاقْدَحَةٌ**۔ بولا جائے گا۔ **كُنَّا كَطَرَائِقِ قَدْحًا**۔ ہم مختلف رائے گروم تھے۔
الْقَدَارُ۔ جنگل جو باسیہ۔ **قَفْد**۔
الْقَدَادُ۔ پیٹ کا درد۔
الْقَدِيدُ۔ خشک گوشت کے ٹکڑے۔ پرانا کپڑا۔
الْقَدِيدُ۔ ٹاٹ کا ٹکڑا۔
الْقَدِيدِيُونُ۔ شکر کے تابع کاریگر لوگ جیسے نائی وٹیرو۔
الْمَقْدُ۔ راستہ۔ ہموار جگہ۔
الْمَقْدُ وَالْمَقْدَةُ وَالْمَقْدُ۔ چھری۔
قَدْحٌ رَفِيٌّ، **قَدْحًا**۔ رفی عرضہ۔ کسی با آبرو پر عیب لگانا۔ نقص نکالنا۔ بولا جاتا ہے **قَدْحٌ فِي سَائِقِ أَخِيهِ**۔ اپنے بھائی کے ساتھ جمل سازی کی۔
قَدْحٌ الشَّيْءِ فِي صَدْرِي۔ فلاں چیز جو میرے قلب پر اثر انداز ہوئی۔ **قَدْحٌ يَخْتَكُمُ النَّجَابِيَةَ**۔ بڑے بھلے کی ٹھکر کو توڑنا۔ **الدُّوْرُ فِي الْأَسْنَانِ** او **الشَّجَرِ**۔ درخت یا دانت میں کیرا لگ جانا۔ **قَدْحٌ حَيْتُ الْعَيْنِ**۔ آنکھ کا اندر دھنس جانا۔ **الشَّيْءِ**۔ کسی چیز کو چلو میں لینا۔ **الطَّيِّبُ الْعَيْنِ**۔ طیب کا آنکھ کے اندر آترا ہوا پانی نکالنا۔ **فِي الْقَدْحِ**۔ تیرے بھل کی جھڑ میں

سوراخ کرنا۔
قَدْحٌ وَاقْتَدَحَ۔ بالزندی۔ چقماق سے آگ نکالنے کا ارادہ کرنا۔ عرب کا محاورہ ہے **أَضَيْتُ لِي أَقْدَحٌ كَلْتُ** تو میرا ہو جا، میں تیرا ہوجاؤں گا۔ **قَدْحٌ وَاقْتَدَحَ**۔ **المَرْقِيُّ**۔ شوربے کو چلو سے پینا۔ **الْقَدْرُ**۔ ہانڈی کی چیز کو چلو سے پینا۔ **واقْتَدَحَ الأمرُ**۔ کسی کام کی تدابیر کرنا۔
قَدْحٌ۔ **الفوق**۔ گھوڑے کو ڈبلا کرنا۔ **قَدْحٌ حَيْتُ الْعَيْنِ**۔ آنکھ کا اندر گرا جانا۔
قَادِحَةٌ و **تَقَادِحًا**۔ باہم طعنہ زنی کرنا۔ باہم مناظرہ کرنا۔
اسْتَقْدَحَ زِنَادًا۔ چقماق سے آگ نکالنا۔ **القَدْحُ**۔ کیرا جو دانت یا کڑی میں لگ جائے۔
الْقَدْحُ۔ نوک اور پر کے بغیر تیر۔ جوئے کا تیز ج۔ **قَدْحٌ وَاقْدَحٌ** و **اقْدَحٌ** و **قَدْحَانٌ**۔ **ج۔ اَقْدِيحُو** محاورہ ہے۔ **صَدَقَهُمْ وَسَمَّ قَدْحَهُ**۔ ان سے ٹھیک ٹھیک کہا۔
القَدْحُ۔ گلاس چھوٹا ہو یا بڑا۔ **قَدْحٌ** خالی گلاس کو اور گلاس بھرے ہوئے کو کہتے ہیں۔ بولا جاتا ہے **لَا تَجْعَلُونِي كَقَدْحِ الْبَرَاقِبِ** مجھے آخر میں نہ رکھو۔ کیونکہ سوار تمام اسباب میں سے گلاس یا پیالہ کو آخر میں رکھتا ہے۔
القَدْحُ القَرِيُّ۔ متبنی کو کہتے ہیں **ج۔ اَقْدَحُ**۔ **الْقَدْحُ**۔ آگ جلانا۔
الْقَدْحَةُ۔ اسم نوع **قَدْحٌ** کا۔
الْقَدْحَةُ۔ **مِنَ المَرْقِيِّ**۔ شوربے کا ایک چلو۔
الْقَدْحَةُ۔ گلاس بنانے کا پیشہ۔
القَادِحُ۔ فا۔ وہ سیاہی یا کیرا جو درخت

یا دانت کو لگ جاتا ہے۔ کڑی میں دراڑ۔ اکثر صفت ہے۔
القَادِحَةُ۔ ٹوٹا قادح۔ وہ کیرا جو دانت یا درخت میں سوراخ کر دیتا ہے **ج۔ قَوَادِحٌ**۔ بولا جاتا ہے۔ **حُطِّي قَادِحَةٌ**۔ نہایت شدید بخار۔
القَدْحُ۔ گلاس بنانے والا۔ سرسبز پودے کے اطراف، جھاڑی یا پودے کی کلیاں۔ **والْقَدْحَةُ**۔ چقماق کا پتھر۔ چقماق پر مارنے کا فولادی ٹکڑا۔
القَدِيحُ۔ شوربا۔ ہانڈی کے پینے میں رہی ہوئی چیز جو مشکل سے نکلے۔
الاقْدَحُ و **القَدْوُ**۔ مکھی۔
الْمَقْدَامُ و **الْمَقْدَحُ**۔ چقماق کا لوہا۔
الْمَقْدَحُ و **الْمَقْدَحَةُ**۔ چمچہ۔ کفگیر۔
اِقْدَحًا و **اِقْدَحَارًا**۔ الرجل۔ کسی آدمی کا گالی دینے یا مارنے کے لیے تیار ہوجانا۔
قَدْرٌ وَقَدِيرٌ (ن من س) **قَدْرًا** و **قُدْرَةٌ** و **مَقْدَارَةٌ** و **مَقْدَرَةٌ** و **مَقْدَرَةٌ** و **مَقْدَارًا** و **قَدَارَةٌ** و **قُدُورَةٌ** و **قُدُورًا** و **قَدْرَانًا** و **قَدَارًا** و **قَدَارًا**۔ **عَلَى الشَّيْءِ**۔ کسی چیز پر قوی و قادر ہونا۔
قَدْرٌ رَضِيٌّ، **قَدْرًا**۔ الامر۔ معاملہ کی تدبیر کرنا۔ **الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ**۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق اندازہ کرنا۔ دوسری چیز کی مقدار پر کرنا۔ **قَدَارًا**۔ **الشَّيْءِ**۔ کسی چیز کو تیار کرنا۔ معین کرنا۔
قَدْرٌ رَضِيٌّ، **قَدْرًا**۔ **لِأَمْرٍ كَذَا**۔ کسی کام کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی تدبیر کرنا۔
قَدْرٌ رَضِيٌّ، **قَدْرًا** و **قَدْرًا**۔ **اللَّهُ**۔ خدا کی تعظیم کرنا۔ **وَقَدَّرَ اللَّهُ**

عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَقَدَّرَ لَهُ الْأَمْرَ -
 کسی چیز کا فیصلہ کرنا یا اس کا حکم عائد
 کرنا۔ قَدَّرَ الرِّزْقَ رِزْقَ كَيْفِ تَقْسِيمِ
 کرنا۔ قَدَّرَ وَقَدَّرَ عَلَى عِيَالِهِ۔ اہل و
 عیال پر تنگی کرنا۔ قَدَّرَ عَلَى الشَّيْءِ -
 کسی چیز پر قادر ہونا۔ اس کو جمع کرنا اور
 بونکنا۔ قَدَّرَ الرَّجُلُ۔ اپنی تدبیر اور
 کام کی درستی میں غور کرنا۔ قَدَّرَ الشَّيْءَ
 بِالشَّيْءِ۔ کسی چیز کو دوسری چیز پر قیاس
 کرنا۔ ایک چیز کو دوسری چیز کی مقدار
 پر کرنا۔

قَدَّرَ دَسَّ، قَدَّرَا۔ گردن کا چھوٹا ہونا۔ عَلَى
 الشَّيْءِ۔ کسی چیز پر قادر ہونا۔
 قَدَّرَ وَأَقَدَّرَ اللَّهُ فَلَانًا عَلَى كَذَا۔ اللہ
 تعالیٰ کا کسی کو کسی چیز پر قادر کرنا۔
 أَقَدَّرَ الْإِنْسَانَ۔ ہانڈی میں پکانا۔
 قَادِرَةٌ مُّكَادِرَةٌ۔ ایک دوسرے پر قادر
 ہونے کی کوشش کرنا۔ ایک دوسرے پر
 قیاس کرنا۔ ایک کا دوسرے کی طرح
 کام کرنا۔ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ۔ دو اشیاء
 کے درمیان موازنہ کرنا تاکہ ایک کی مقدار
 بمقابلہ دوسرے کے معلوم ہو۔ بولا جاتا
 ہے۔ فَلَانٌ يُقَادِرُ بِنِيٍّ۔ فلاں میری
 برابری کا طالب ہے۔

تَقَدَّرَ۔ الثَّوْبُ عَلَيْهِ۔ کپڑے کا مقدار پر
 پورا کرنا۔ لَهْ كَذَا۔ کسی کام کے لیے
 تیار ہونا۔
 تَقَادَرُ الرَّجُلَانِ۔ ایک دوسرے کی
 برابری کا طالب ہونا۔

الْقَدَّرُ۔ مقدار پر پورا ترنا۔ بولا جاتا ہے
 قَدَّرْتُ الثَّوْبَ فَانْقَدَّرَ۔ میں نے
 کپڑے کا اندازہ کیا تو وہ ٹھیک آیا۔
 اقْتَدَرَ عَلَيْهِ۔ کسی پر قادر و غالب ہونا۔
 الرَّجُلُ۔ ہانڈی میں پکانا۔ الشَّيْءُ
 بِالشَّيْءِ۔ ایک چیز کو دوسری پر قیاس

کرنا۔
 اسْتَقْدَرُ اللَّهُ خَيْرًا۔ اللہ تعالیٰ سے
 غیر کا حصہ چاہنا۔

الْقَدَّرُ۔ کسی چیز کا انتہائی حصہ۔ ایک چیز کا
 دوسری چیز کے بلا کمی بیشی کے مساوی
 ہونا۔ بولا جاتا ہے۔ هَذَا أَقْدَارُ ذَلِكَ
 یہ اس کے مشابہ و مساوی ہے۔ طاقت
 و قدرت۔ عزت و وقار۔ مالداری۔
 مونڈھے کا اوپر والا حصہ۔ ج۔ اَقْدَارُ۔
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ رمضان کے عشرہ اخیرہ
 کی کوئی سی طاق رات۔

الْقَدَّرُ۔ ہانڈی (موت ہے) ج۔ قُدُورٌ۔
 تصغیر قَدِيرَةٌ وَقَدِيرٌ۔

الْقَدَّرُ۔ کسی چیز کا انتہائی حصہ۔ طاقت و
 قوت۔ خدا کا اندازہ اور حکم اشیاء
 پر۔ مشیت خداوندی۔ اشیاء کے ساتھ
 اوقات مقررہ میں۔ ج۔ اَقْدَارُ۔

القَادِرُ۔ فا۔ ہانڈی میں پکانے والا۔ جو
 ہانڈی میں پکا ہو۔ مَوْنٌ قَادِرَةٌ۔
 محاورہ ہے کہ بَيْنَنَا لَيْلَةُ قَادِرَةٌ۔
 ہمارے مابین آسان اور بلا مشقت
 والی رات ہے۔

الْقَدْرِیَّةُ۔ وہ فرقہ جو تقدیر کا منکر ہے۔
 اور ہر شخص کے مختار ہونے کا قائل
 ہے۔ فرقہ جبریہ کے اعتقادات اس
 کے بالکل برعکس ہیں۔

الْقَدَّرَةُ۔ کسی چیز پر قدرت و اختیار۔
 کسی چیز کے کرنے یا چھوڑنے کا اختیار۔
 الْقَدَّرَةُ۔ چھوٹی شیشی۔
 الْقَدَارُ وَالْقِدَارُ۔ قدرت۔

الْقَدَارُ۔ متوسط القامت شخص۔ پھر تیار رکھا
 ہانڈی میں پکانے والا۔ بڑا اثر دیا۔
 الْقَدَارُ۔ وہ پتھر جو پانی کے گرنے کی جگہ
 نصب کیا جائے۔ الْقَدَارَةُ وَ
 الْقُدُورَةُ۔ اقتدار کے مصدر ہیں۔

قوت۔ مالداری۔ خوشحالی۔

التَّقْدِيرُ۔ نحوین کے نزدیک کسی کلمہ کا
 لفظوں سے حذف کر دینا۔ مگر نیت میں
 مراد ہونا۔ متکلمین کے نزدیک اشیاء کو
 پیدا کرنے سے پہلے ان کی تحدید کرنا۔
 اندازہ ایزوی۔ ج۔ تَقَادِيرُ۔
 الْقَدِيرُ۔ قدرت والا۔ خدائے تعالیٰ کے
 اسماء میں سے ایک اسم۔ وہ گوشت جو
 ہانڈی میں پکا ہو۔

الْاَقْدَارُ۔ افعال التفضیل۔ تَحْنَأُ آدَمِي
 چھوٹی گردن کا آدمی۔

الْقَدْرَاءُ۔ اقدار کی مؤنث۔ مترسٹ کان۔
 بَنُو قَدْرَاءَ۔ مالدار لوگ۔

الْمُقَدَّرُ۔ قدرت۔ ہر چیز کی انتہا۔ وہ چیز
 جس کے فریضہ کسی چیز کا وزن یا اس کی
 تعداد ظاہر ہو۔ ج۔ مَقَادِيرُ۔

المُقْتَدِرُ۔ فا۔ ہانڈی میں پکانے والا۔
 شریک کار۔ ہر چیز کا وسط۔ بولا جاتا ہے
 رَجُلٌ مُّقْتَدِرٌ۔ درمیانہ قد آدمی۔

المُقَادِرَةُ۔ تنگ مکان۔

المُقَدُّورُ۔ طے شدہ معاملہ۔ محاورہ میں
 بولا جاتا ہے۔ اَمْرٌ مُّقَدُّورٌ عَلَيْنَا۔

وہ معاملہ جس کے کرنے پر انسان قادر
 ہو۔

الْمُقَدَّرَةُ وَالْمُقَدِّرَةُ وَالْمُقَدِّرَةُ۔
 قدرت۔ مالداری۔ الْمُقَدَّرَةُ۔ تقدیر

حکم خداوندی۔
 قَدْسٌ رِكٌ، قَدْسًا وَقَدْسًا۔ پاک ہونا
 بابرکت ہونا۔

قَدْسٌ اِلَهُ فُلَانًا۔ خدا کا کسی کو پاکیزہ کرنا۔
 برکت دینا۔ الرَّجُلُ اِلَهُ۔ خدا کی پاکیزگی
 بیان کرنا۔ خدا کے مقدس ہونے کا اقرار
 کرنا۔ الْكَاهِنُ عِنْدَ النَّصَارَى۔
 عیسائیوں کا نذرانہ ربانی قائم کرنا۔
 الرَّجُلُ۔ بیت المقدس میں آنا۔ قَدْسٌ

یٰلہ۔ خدا کی پاکی بیان کرنا۔ اور اسی معنی میں ہے۔ لَسْتُمْ لَكَ۔ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔

تَقْدَسُ۔ پاک ہونا۔
قِدَاسَةٌ۔ پاکی۔

الْقُدُسُ وَالْقُدُسُ۔ مصدر ہیں۔

الْقُدُسُ اور شلیم۔ بیت المقدس۔

قُدُسُ الْاَقْدَاسِ عِنْدَ الْيَهُودِ۔

مقام ہیکل جہاں بڑا عالم دین یہودی

سال میں ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے۔

رُوحُ الْقُدُسِ وَالرُّوحُ الْقُدُسُ۔

عِنْدَ النَّصَارَى۔ اصول ثلاثہ میں

سے تیسری اصل۔ رُوحُ الْقُدُسِ

عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ۔ جبریل۔

خَطِيْبَةُ الْقُدُسِ۔ جنت۔

الْقُدُسِ۔ وہ پتھر جو کنوئیں کے کم یا

زیادہ پانی کو معلوم کرنے کے لیے

پھینکا جائے۔

الْقُدُسُ وَالْقُدُسُ۔ چھوٹا پیالہ۔

الْقَادِسُ۔ بڑی کشتی۔ وہ پتھر جو پانی میں

ڈالا جائے تاکہ اونٹ سیراب ہو جائے

جو۔ قَدْحُ اَدِسْ۔ بیت الحرام۔ اُدِسْ

کا ایک جزیرہ۔

الْقَادِسُ۔ وہ طرف جس میں پیئے کے

وقت دانے ڈالے جائیں۔ عام لوگ

اس کو گوئی کہتے ہیں۔ وہ برتن جس

کے ذریعہ سے نالی سے پانی نکالا جائے۔

جو۔ قَدْحُ اَدِسْ۔

الْقُدَاسُ۔ وہ پتھر جو اونٹ کے حوض

میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اونٹوں کے

درمیان تقسیم کا اندازہ ہو جائے۔ وہ چیز

جو چاندی سے مٹی کی طرح بنائی جاتی

ہے۔ بڑی بزرگی۔

الْقَدَائِسُ۔ مٹی۔

الْقَدُوسُ۔ سخت اقدام کرنے والا۔

الْقُدَاسُ عِنْدَ النَّصَارَى۔ عیسائیوں کے

نزدیک حضرت عیسیٰ کو روٹی اور شراب

کی نذر و نیاز پیش کرنا۔ ج۔ قَدْحُ اَدِسْ۔

الْقَدُوسُ وَالْقَدُوسُ۔ ہر نقص و عیب

سے پاک۔ خدائے تعالیٰ کا نام ہے۔

الْقَدَائِسُ۔ خدائے نزدیک برگزیدہ وہ

مومن جو پاک و فاضل ہو کر مرا ہو۔

عیسائیوں کے نزدیک، مونٹ

قِدَائِسَةٌ۔

الْمَقْدِسُ۔ مقدس جگہ۔ بَيْتُ الْمَقْدِسِ

وَالْبَيْتُ الْمَقْدِسُ۔ بیت المقدس

جو فلسطین میں واقع ہے۔ نسبت کے

لیے مَقْدِسِيٌّ وَمَقْدِسِيٌّ۔ بولتے

ہیں۔ اَرْضُ الْمَقْدَسَةِ۔ مبارک زمین

ارضِ الْمَقْدَسَةِ۔ سرزمین فلسطین۔

الْمَقْدِسُ۔ عالم یہود۔ راہب۔

قَدْحُ رَفٍ قَدْحًا۔ الفرس۔ گھوڑے

کا دوڑنا۔ الْأَقْرَبُ۔ کسی کام کو جاری

کرنا۔ قَدَسَهُ بِاللَّحَامِ۔ لگام ہے

گھوڑے کو روکنا۔ السَّفِينَةُ۔ کشتی

چلانا۔ الْخَمْسِينَ مِنْ عُمُرِهِ۔ کسی

کی عمر پچاس سے متجاوز ہونا۔ مِنْ

الشَّرَابِ۔ پینے کی چیز گھونٹ گھونٹ

پینا۔ الدُّبَابُ عِنْدَهُ يَكْذِبُ۔ کسی چیز

سے نکمیں کا دفع کرنا۔ قَدَعَهُ وَ

اَقْدَعَهُ عَنِ كَذَا۔ کسی کو کسی چیز

سے روکنا۔ منع کرنا۔ اَقْدَعَ الرَّجُلُ۔

کسی آدمی کو گالی دینا۔

قَدْحُ رَسٍ، قَدْحًا۔ باز رہنا۔ قَدَاعَتْ

عَيْنُهُ۔ دیر تک دیکھنے سے نگاہ کا

ضعیف ہو جانا۔ مَخَارِجُ قَدَاعَتْ

بِئِ الْخَمْسُونَ۔ پندرہ سال

کے قریب ہو گیا۔

قَادَعَةُ بَعِيْرَةٍ۔ اونٹ کا خوشی و چستی

سے اپنی ہمار کو کھینچنا۔ کودنا۔

تَقْدَعُ۔ لَذَّ بِالشَّرْبِ۔ برائی کے لیے تیار

ہونا۔

تَقَادَعِ الْقَوْمِ۔ ایک دوسرے کو دفع کرنا یا

کھینچنا تاکہ کرنا۔ بِالرِّجَاحِ۔ ایک دوسرے

کو زبردستی مارنا۔

تَقَادَعُ۔ عَلَى الشَّيْءِ وَفِيهِ۔ ایک دوسرے

پر کرنا۔ بولا جاتا ہے۔ تَقَادَعُ

الدُّبَابُ فِي الْمَرْقِ۔ نکھیاں شوربے

میں ایک دوسرے پر گر پڑیں۔ الْقَوْمِ۔

ایک دوسرے کے پیچھے مرتے چلے جانا۔

اپنی اپنی جگہ لوٹ جانا۔

الْقَدَاعُ۔ رُكَّ جَانِبًا۔ باز رہنا۔ عَنِ الشَّيْءِ۔

کسی سے شرمانا۔

الْقَدْعُ۔ بہت رونے والا۔ مَاءُ قَدْعٍ۔

وہ پانی جو ٹمکین ہونے کی وجہ سے پیا

نہ جا سکے۔ اَلْمِرْأَةُ قَدِيْحَةٌ وَ

قَدُوْحٌ۔ یا حیا اور کم بولنے والی

عورت۔

الْقَدْعُ۔ بزدلی۔ انکساری۔ زیادہ رونے

کی وجہ سے نظر کمزور ہونا۔

الْقَدْعَةُ۔ بنیان۔ انگلیا۔

الْقَدَاوِعُ۔ کسی چیز پر گرنے والا۔ وہ ذلیل

جس کو دفع کیا جائے۔

الْمَقْدَعُ۔ پر شکن۔ سکا ہوا۔

مَقْدَعَةٌ۔ نکمیں کو بھگانے کی چوڑی

چھڑی۔ عصا۔

قَدَفَاتُ رِنٍ، قَدَفًا۔ الماءُ۔ پانی کو چلو سے

لینا۔ پانی بہانا۔

الْقَدَافُ۔ مٹکا۔ پیالہ۔

قَدَمٌ رِنٍ، قَدَمًا وَقَدُومًا۔ الْقَوْمِ۔

قوم سے سابق ہونا۔

قَدَمٌ كَسَّ قَدُومًا وَقَدَمًا وَقَدَمَانًا۔

الْمَدِيْنَةُ بِشَهْرِ مَنَا۔ مِنْ

مَنْفَرَةٍ۔ سفر سے لوٹنا۔ اِلَى الْأَمْرِ۔

کسی چیز کا ارادہ کرنا۔

الوجوه۔ ہرے کا سنے والا حصہ۔
- من الرجل۔ کھارہ کا اگلا حصہ۔
- مقادیر۔

المقدمة والمقدمة۔ من الجیش
براول دست۔ من الكتاب کتاب
کا ویسا ہے۔ المقدمة میں کل شیء
ہر چیز کا ابتدائی حصہ۔ پیشانی۔ ماقا۔
وہ چیز جس پر کوئی طے موقوف ہو۔ خواہ
مقلاً خواہ نقلاً خواہ عاداً۔

المقدم والمقدم۔ بہت اقدام کرنے
والا۔ اس میں تاد مبالغہ کے لیے ہے۔
- مقادیر۔ بولا جاتا ہے۔ هو
یمنی القديمة والقديمة و
التقدمية۔ وہ لڑائی کے لیے روانہ
ہوتا ہے اور دشمن پر بہت اقدام
کرنے والا ہے۔ یا بزرگی اور شرف
میں سابق ہونے والا ہے۔ اس جملہ میں
اصل اس طرح ہے قسطنطینیة
المستویة إلى قول الناس المقدم
والتقدم۔

القدموس والقدماس۔ پرائی۔ عذو
حسب قدموس وقدماس۔
قدیم عزت و شرافت۔ القدموس
والقدموس۔ بڑی چٹان۔

القدموس والقدماس۔ محنت۔
القدموس۔ ہرادل دست۔ ج
قدا انیس۔ جیش قدموس۔
بڑا لشکر۔

القدن کافی ہونا۔ پورا ہونا۔ بولا جاتا ہے۔
قدن زید زید۔ زید کو ایک
درہم کا فی ہے۔

قدا یقدا واقدا۔ قریب آنا۔ سفر سے
آنا۔ بہ قدرے۔ گھوڑے کا سوار
کو تیزی سے لے جانا۔

قدا یقدا واقدا وقیدی یقدا

قدا وقدا وقدا وقدا۔ الطعام
کھانے کا خوشگوار و خوشبودار ہونا۔
مفت کی وقدا ہے۔ فممت
قدا القدا۔ میں نے ہانڈی کی
خوشبو سوگھی۔

اقدا اقدا۔ نیکی اور دین کے راستہ
میں استقامت اختیار کرنا۔ معر ہونا۔
قریب الموت ہونا۔ من السقر۔
سفر سے آنا۔ المسك۔ مسک کی
خوشبو کا پھینا۔

تقدی تقدیا۔ علی ذابیبہ سواری کا
لپے سوار کو لے کر درمیان راستہ اختیار
کرنا۔ اقتدا اقدا۔ یفلان
فی کذا۔ کسی کی پیروی کرنا اور اس
جیسا کام کرنا۔

القدا۔ خوشبو۔

القدا۔ وہ جڑ جس سے شاہیں پھوٹی ہیں
ج۔ اقداء۔

القداوی۔ استقامت۔

القدا والقدا والقدا والقدا

والقدا۔ پیشوا۔ مقدا۔ جیسے
لی بک قدا۔ میزے واسطے تیرا
عمل نونہ ہے۔ بولا جاتا ہے کہ مس
اقدا طعام فلان۔ فلان کے کھانے
کی کیا اچھی خوشبو ہے۔

قدا یقدا قدا۔ الطعام۔ یعنی
قدا۔ بولا جاتا ہے کہ قدا قدا
تھپ میں بتلا قوم جو گل سے آئی۔

قدا یا الفری۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔
قدا مقدا۔ الرجل۔ کسی کا
مقابلہ کرنا۔

تقدی۔ ناز سے اڑا کر چلنا۔

القدا۔ سانپ کی ایک قسم۔ ج۔ قدا۔

القدا۔ پیشوا۔ مقدا۔

القدا والقدا بمقدار۔ جیسے بیچھنا

قدا رنچ۔ ان کے ماہی ایک نیزہ
کے برابر فاصلہ ہے۔ یہ لفظ گویا کہ قید
کا مقلوب ہے۔ قید۔ اندازہ۔

القدا۔ اسم نر ہے۔ طریقہ۔ سیرت۔ بولا
جاتا ہے۔ قدا فی ہدیک و قدا یتک
اپنی سیرت و عادت پر شروع کر
القادی۔ وہ قوم جو جنگل میں قحط میں مبتلا
ہو۔ ج۔ قوا۔

المتقدی۔ فد شیر۔

قدا، قدا۔ البریش۔ تیر کے پر کا

صاف کرنا اور اس کے اطراف کو کھرچنا۔
- الرجل۔ آدمی کے کان کے پیچھے مارنا
- الحجور و کل غلیظا۔ پتھر یا پتھر
جیسی کئی چیز پھینکنا۔ قدا الشعر۔
بال کا ٹٹا اور درست کرنا۔ قدا واقدا
السہم۔ تیر میں پر لگانا۔

تقداد۔ القوم۔ قوم کا متفرق ہونا۔

القدا۔ تیر کا پہ آدمی یا گھوڑے کا کان۔
ج۔ قدا وقدا۔ پستو۔ بچہ۔ ج۔

قدا۔

القدا۔ قدا کی جمع۔ پستو۔

القدا۔ پر یاد صحت کا برادہ۔ ج۔

قدا ذات۔ بولا جاتا ہے۔ ان لی

قدا ذات وجد ذات۔ میرے

پاس سونے کے اور چاندی کے رینے

ہیں۔ قدا ذات۔ سونے کے ٹکڑے۔

اور جد ذات۔ چاندی کے ٹکڑے۔

اور محاورہ ہے۔ قدا لا یداع

شاداً ولا قدا۔ فلان لڑائی

میں جس سے مقابل ہوتا ہے اس کو قتل

کر ڈالتا ہے۔ مہمہ اقد۔ اقداد

میں سے ہے۔ پر دار تیر کو بھی کہتے ہیں،

اور بلا پر کو بھی۔ ج۔ قدا۔ جچہ۔

قدا۔ محاورہ ہے صاکیہ اقد ولا

صیش۔ اس کے پاس کچھ نہیں۔

القَدَائِدُ - بڑھاپے کے سبب سے دونوں
کنپٹیوں کی سفیدی۔ پرندوں کے دونوں
بازوؤں کی سفیدی۔

المَقْدُ - ہر دوکان کے پیچھے کا حصہ۔ گدی۔
سر کے آگے یا پیچھے کا وہ حصہ جہاں سے
سر کے بال اگلے شروع ہوتے ہیں۔ مقدم
یا مؤخر سر میں بالوں کے کاٹنے کی جگہ۔

المَقْدُ والمَقْدَةُ - پر کاٹنے کی چھری۔
المَقْدُذُ والمَقْدُودُ - جس کے بال تراشے
ہوئے ہوں۔ ہر چیز جو درست کی ہوئی اور

سنواری ہوئی ہو۔ مزین۔

المَقْدُودَةُ والمَقْدُودَةُ - گول کان جو
تراشے ہوئے معلوم ہوں۔

قَادِحَةٌ مُقَادِحَةٌ - کسی کو گالی دینا۔
تَقْدِحُ يَفْدِحُ بالشَّيْءِ کسی کے
ساتھ شراکت کرنا۔

قَدَرٌ وَقَدْرٌ وَقَدَرٌ كَسٌّ قَدْرًا
وَقَدَارَةٌ - گندہ ہونا۔ میلا ہونا۔

صفت قَدْرٌ وَقَدْرٌ وَقَدْرٌ
وَقَدْرٌ۔

قَدَرٌ وَقَدْرٌ وَقَدْرٌ رَسٌّ قَدْرًا
وَقَدْرٌ الشَّيْءِ کسی چیز کو گندہ کرنا۔

قَدْرٌ الشَّيْءِ کسی چیز سے گھن کرنا۔
پرہیز کرنا۔ گندہ محسوس کرنا۔

أَقْدَرُهُ گندہ پانا۔ أَقْدَرُ فَلَانًا کسی کو
تنگ کرنا۔

تَقْدَرُ الشَّيْءِ دہنہ کسی چیز سے گندہ پن
کے سبب گھن کرنا۔

إِسْتَقْدَرُ الشَّيْءِ گندہ سمجھنا۔ میل کھیل کی
وجہ سے برا سمجھنا۔

القَدْرُ - میل۔ کبھی باخا نہ کو بھی کہتے ہیں۔ ج
أَقْدَارٌ۔ اور خلاف قیاس مقادیر

بھی آتی ہے۔
القَادُورَةُ - فحش چیز جیسے زنا وغیرہ۔ ج
قَادُورَاتٌ۔

القَادُورَةُ والقَادُورُ والقَادُورُ
ذُو كَادُورَةٍ - وہ شخص جو اپنی بد خلقی
کی وجہ سے لوگوں سے ہٹے۔ وہ شخص
جو کسی چیز کو گھن کرنے کی وجہ سے ہٹ

کھائے۔ القَادُورُ مِنَ الْمَيْسَاءِ - وہ
عورت جو مردوں سے یا عیب سے دور
ہو۔ رَجُلٌ قَدْرَةٌ - وہ شخص جو قابل
ملا مت اشیاء سے دور ہو۔ رَجُلٌ

مَقْدَرٌ - وہ شخص جس سے لوگ بچیں اور
پرہیز کریں۔

المَقَادِرُ - گندگیاں۔
المَقْدَرُ - فحاش کامرنگب۔ ج۔

مَقْدَرَاتٌ۔
القُدْرُوفُ عیب۔ ج۔ قَدَارِيْعَةٌ -

قَدَعُوفٌ، قَدَعَا - گالی دینا۔ فحش تہمت
لگانا۔

أَقْدَعُ فَلَانًا کسی کو گالی دینا۔ فحش بہتان
لگانا۔ يَفْدِئُ - کسی کے بارے میں
بری بات کہنا۔ القول - بری بات

کتابہ الرجل - فحش چیز کا ارتکاب
کرنا۔

قَادَعُهُ کسی سے گالی گلوچ کرنا۔
قَدَعٌ - گویہ کپڑے کو گندھا اور میلا کرنا۔

تَقْدَعُ كَدًا بالشَّيْءِ کسی کے پر خطرات
خزرت پر آمادہ ہونا۔ الرجل - ناکوار
سمجھنا۔

القَدَعُ - گندگ۔ بے شرمی فحش۔
القَدَعُ - گندھا۔ میلا کھیلنا۔

القَدِيْعَةُ - فحش گالی۔
القَدِيْعُ وَالْقَدْعُ وَالْقَدْعُ - فحش

گندہ۔ بولا جاتا ہے کہ۔ س مَا كَا
بِالْمَقْدِعَاتِ وَالْمَقْدِعَاتِ - اس

پر فحاش اور گندگی کی تہمت لگانا۔
القَدْعِيْلُ - موٹا اونٹ۔

القَدْعِيْلَةُ - ٹھکنی اور خسیں عورت۔ جوار
ماریاٹ.com

ہے کہ مَا عِنْدَنَا قَدْعِيْلَةٌ۔ اس کے
پاس کوئی چیز نہیں۔ مَا فِي السَّحَابِ
قَدْعِيْلَةٌ۔ آسمان پر کوئی ایسا گلوچا
نہیں ہے۔

قَدْفٌ رَضٌ قَدْفًا - تھے کرنا۔ المَقْدُحُ -
کشتی کہ چھوٹے چلانا۔ قَدْفٌ يَقُولُهُ

بِالْمَقْدُحِ - پتھر پھینکنا۔ قَدْفَةٌ
بِكَدٍّ - کسی چیز کی تہمت لگانا۔ بولا

جاتا ہے کہ هُنَّ بَيْنَ حَاذِفٍ وَقَادِفٍ
وہ عصا سے مارنے والوں اور پتھر

پھینکنے والوں کے درمیان ہیں۔ و
إِسْتَقْدَفُ فَلَانًا بِالْمَقْدِحِ - کسی کو

پتھر سے مارنا۔ الرجل - کسی شخص پر
بہتان لگانا۔

قَادَعَهُ - ایک دوسرے پر تہمت لگانا اور
باہم گالی گلوچ کرنا۔

تَقَادَفُ - الماءُ أو الفرسُ - تیز چلنا۔
القومُ - ایک دوسرے کو گالی دینا۔

بِالْمَقْدِحِ - ایک دوسرے کو پتھر
مارنا۔ تَقَادَفْتُ بِهِ الْأَمْوَاجَ - موجوں

کا ادھر ادھر دھکیلتا ہوا وہ ہے کہ
تَقَادَفْتُ بِهِ الْأَنْوَابَ - اس کے

دروازوں نے ایک دوسرے کی طرف
پھینک دیا یعنی ایک دروازہ دوسرے کی طرف

ہونا چاہتا تو وہ بند نہ کر دیتا۔ جوار
ہر دروازے میں داخل ہونے سے محروم رہا۔

القَدْفُ - پھینکا جانا۔
القَدْفُ وَالْقَدْفُ وَالْقَدْفُ - ہانپ۔

طرف۔
القَدْفُ وَالْقَدْفُ - وہ جگہ جہاں سے کوئی

گڑھے یا پھسل جائے۔
القَدْفُ وَالْقَدْفُ وَالْقَدْفُ وَالْقَدْفُ

دور۔ کہا جاتا ہے قَلَاةٌ أَوْ تَيْبَةٌ
قَدْفٌ وَقَدْفٌ - وہ جگہ اور یہاں

Marfat.com

جھلنے والے کو دور پھینک سے۔
 بَلْدَةٌ قَذُوْتُ - بہت دور کا شہر۔
 قَوْسٌ قَذُوْفٌ - دور تک پر پھینکنے
 والی کان۔ نَاقَةٌ كَاذِبَةٌ وَقَدَاغٌ
 وَقَدُوْتُ وَقَدُوْفٌ - تیز رفتاری
 اور تیزی جھلنے میں اونٹ سے آگے
 ہے۔
 الْقَدْفَةُ - جناب طرف۔ کنگرہ۔ پہاڑ کی
 چوٹیوں کا اٹھا ہوا حصہ۔ ج۔ قَدَاوٌ
 وَقَدُوْتُ وَقَدُوْفٌ وَقَدُوْفَانٌ -
 اَقْدَاوُ الْقَصْرِ - محل کے کنگرے۔
 الْقَدِيْفَةُ وَالْقَدَاوُ - پھینک کر مارنے
 کا آلہ۔ ج۔ كَدَايْفٌ - كَدَايِفُ
 الْمَدَائِفِجِ - توپ کے گولے، کارتوس
 الْقَدَاوُ - تیز رفتاری۔
 الْقَدَاوُ - تھوڑا پانی۔
 الْقَدَاوُ - اسم بالنسب ہے۔ سواری، میزان
 (ترازو) گوبیا۔ پتھر پھینکنے کا جھلی آلہ۔
 ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز دور پھینکی
 جائے۔
 الْمَقْدُوْفُ - جس میں زیادہ گوشت والی غاروں
 مَقْدُوْفٌ - وہ سواری جو لوٹ اور جنگ میں
 زیادہ شریک ہوتا ہو۔
 الْمَقْدُوْفُ - جو مَقْدُوْفٌ وَالْمَقْدَاوُ
 ج۔ مَقْدُوْفٌ - پتھر۔ لَنَقَاوَةٌ
 بِلَاكَيْسٍ - قَرَسٌ مَقْدَاوٌ - تیز رفتاری
 سَبْرٌ مَقْدَاوٌ - تیز چال۔
 قَدَلٌ رَمٌ كَدَلٌ لَمَكِيٌّ بِمَارِنَا - عیب
 لگانا عیب چلانا۔ كَدَلٌ قَدَلٌ
 تجاوز کرنا۔ ظلم کرنا۔ یعنی الْقَدْرُ -
 کوشش کرنا۔
 الْقَدَلُ - عیب۔
 الْقَدَالُ - گدی جو قَدَلٌ وَاَقْدَالَةٌ -
 قَدَمٌ رَمٌ، قَدَمًا - لہذا میں المان -
 ایک دم سے دینا۔

قَدَمٌ رَمٌ، قَدَمًا - الماء - پانی کا
 گھونٹ لینا۔
 الْقَدَمُ - تیز چلنا۔
 الْقَدَمَةُ - پانی کا گھونٹ۔
 الْقَدَمُ وَالْقَدَمُ - بہت بختی والا مردار
 الْقَدَمُ وَالْقَدَمُ - مِثْلُ الْبَارِ - بہت
 پانی والا کنواں۔ مِثْلُ قَدَمٍ - بہت
 پانی والا کنواں۔ ج۔ قَدَمٌ -
 الْقَدِيْمَةُ - مال کا وہ حصہ جو کوئی آدمی دے
 ج۔ قَدَايِمٌ -
 قَدِيْقِي قَدِيْقِي قَدِيْقِي وَقَدِيْقَانَا وَقَدِيْقَا
 رَمٌ، قَدِيْقٌ عَيْنُهُ - کسی کی آنکھ میں
 تنکا گر جانا۔ قَدِيْقَةٌ وَقَدِيْقَةٌ و
 مَقْدِيْقَةٌ - وہ آنکھ جس میں تنکا گر پڑا
 ہو۔ الشَّوَابُ - پینے کی ٹے میں تنکا
 گر جانا۔
 قَدِيْقِي رَمٌ، يَقْدِيْقِي قَدِيْقَا وَقَدِيْقِي و
 قَدِيْقَانَا وَقَدِيْقَانَا - قَدِيْقٌ عَيْنُهُ - آنکھ
 میں میل و کھراٹا۔ قَدِيْقٌ قَدِيْقَةٌ -
 لوگوں کی جماعت آئی۔
 قَدِيْقِي - عَيْنُهُ - کسی کی آنکھ میں تنکا گر جانا۔
 قَدِيْقِي - عَيْنُهُ - کسی کی آنکھ سے تنکا گر جانا۔
 قَدِيْقِي مَقْدَاوَةٌ - السَّوَابُ - کسی آدمی کو
 بلہ دینا۔
 الْقَدِيْقِي - الطَّيْرُ - ہند کا آنکھ سے تنکا
 گر جانا۔
 الْقَدِيْقِي - ج۔ قَدِيْقِي وَقَدِيْقَانَا - و
 الْقَدِيْقِي - آنکھ یا چوکر جو کسی کے
 والا تنکا گر کر کٹے۔ بولا جاتا ہے۔
 قَدَانٌ يَنْعِيْقُ عَلَى الْقَدِيْقِي - فسلاں
 شمشیر ظلم بہتا ہے اور ہنگوہ نہیں
 کتاب ہے۔ مَنَانُ الْقَدِيْقِي يَنْعِيْقُ
 عَيْنِهِ - فلاں معاملے اس کو پریشان
 کیا اور اس نے اس کے انال کی کوشش
 کی۔ ضرب المثل ہے۔ يَبْعُوْرُ اَحَدًا كَقَدِيْقِي

الْقَدِيْقِي فِي عَيْنِ اَيْحِيَا وَيُقْبَلُ فِي
 الْيَهُدِيِّ فِي عَيْنِهِ - تم دوسرے کی
 آنکھ میں تنکا دیکھ لیتے ہو اور اپنی آنکھ
 میں شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔
 الْقَوَادِي - جہ قادیانہ - وہ پہلی جماعت
 جو کسی کے پاس آئے۔
 الْقَدِيْقِي - بائیک مٹی۔ ج۔ قَدِيْقِي وَاَقْدَاوٌ
 رَجُلٌ قَدِيْقِي الْعَيْنِ - وہ شخص جس
 کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو۔
 الْاَقْدَاوُ - کم ورجہ کے لوگ۔
 قَدَرٌ - ض۔ س، قَدَا - اليوم - دن کا
 ٹنڈا ہونا۔ قَدَرٌ - ض۔ قَدَا - الْقَدِيْقِي
 بائنی میں ٹنڈا پانی ڈالنا۔ عَيْنُهُ
 الماء - کسی پر پانی ڈالنا۔ الْقَدَمُ
 فِي اَذُنَيْهِ - کسی کے کان میں منہ لگا
 کر بات کرنا۔
 قَدَرٌ رَمٌ، قَدِيْقِي - الْحَيَّةُ - سانپ کا
 آواز نکالنا۔ قَدَاوٌ قَدِيْقِي -
 الدُّجَا حَيَّةٌ - مرغی کا اپنی آواز کو
 منقطع کرنا۔
 قَدَرٌ رَمٌ، قَدَرَةٌ وَقَدَرَةٌ وَقَدَرَةٌ
 - عَيْنُهُ - کسی کی آنکھ ٹنڈی ہونا۔
 مطلوبہ چیز کا حاصل ہو جانا۔ قَدِيْقِي
 الْعَيْنِ يَا عَيْنُهُ قَدِيْقَةٌ - ٹنڈی
 آنکھ والا۔ مراد حاصل کرنے والا
 قَدَرٌ رَمٌ، قَدَرٌ وَقَدَرٌ وَقَدَرٌ
 وَقَدَرَةٌ - فی المكان او عَلَى الْأَمْرِ
 کسی جگہ یا کسی معاملہ پر قرار و سکون
 اختیار کرنا۔
 قَدَرٌ وَقَدَرٌ وَقَدَرٌ - سردی لگ جانا۔
 قَدَرَةٌ - بالامر - کسی معاملہ کا اقرار کرنا۔
 عَلَى الْحَيِّ - کسی پر حق ثابت کرنا۔
 حق کا احراز کرنا۔ كَذِبٌ فِي الْمَكَانِ
 او عَلَى الْعَمَلِ - کسی جگہ یا کام پر
 مقرر کرنا۔ بولا جاتا ہے۔ قَدَرٌ رَمٌ

عِنْدَهُ الْخَبْرُ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي سَلْبِهِ
 اس کو خبر کا یقین کرا لیا۔
 قَارٍ مَقَارَةٌ - الرجل کسی آدمی کے ساتھ
 قرار پکڑنا۔ موافقت کرنا۔ قَارِي فِي
 الصَّلَاةِ - نماز میں سکون اختیار کرنا
 اور حرکت نہ کرنا۔
 اقْرَأ قُرْآنًا - فلاناً فی المکان کسی کو
 قائم و ساکن کرنا۔ العَامِلُ عَلَى الْعَمَلِ
 کارندہ کو کام پر رہا پاتی رکھنا۔ بِالْحَقِّ
 حق کا یقین و اقرار کر لینا۔ الْكَلَامُ
 لہ کسی کو کلام سمجھانا۔ الطَّائِرُ فِي
 عَشِيهِ - پرندہ کو اس کے گھونسلے میں
 مطمئن رہنے دینا۔ اللَّهُ عَيْنُهُ وَ
 يَعْينُهُ - خدا کا کسی کو اس کا مقصد عطا
 کرنا۔ الرَّجُلُ - سکون و قرار پکڑنا۔
 تا بعد از ہونا۔ سر دی لگنا۔ اللَّهُ الرَّجُلُ
 خدا کا کسی کو سر دی پہنچانا۔ مَفْعُولٌ مَلَّافٍ
 تیس بجائے مَقْرُوءٍ کے مَقْرُوءٌ آتا
 ہے۔ الْقَيْدُ - بانڈی میں لگی ہوئی کوئی
 چیز صاف کرنا۔ اقْرَبْتَ الْعَاقِلَةَ -
 اونٹنی کا حمل قرار پانا۔ اس کی صفت
 مُقَرَّرٌ آتی ہے۔
 تَقَرَّرَ - ثابت ہونا۔ تَقَرَّرَ الْقُرْآنُ - کھرجن
 لینا اور اس سے سالن کا کام نکالنا۔
 تَقَارَى - فی المکان کسی جگہ سکون و
 قرار پکڑنا۔
 اقْتَرَى - فلاناً فی الْعَمَلِ و عَلَيْهِ - کسی
 کو کام پر لگانا۔ الرَّجُلُ - کھرجن کا
 سالن بنانا۔ مرد پانی سے نہانا۔ اقْتَرَتْ
 وَ تَقَرَّرَتْ الْاِبِلُ - اونٹ کا سہیر ہونا
 بہت فریب ہونا۔
 اسْتَقَرَّ - بِالْمَكَانِ - ساکن ہونا۔
 الْمَقْرُوءُ - مردوں کے سوار ہونے کی جگہ کجاوہ
 اہنڈین کے درمیان۔ بعض نے ہودج
 کہا ہے۔ قُرُوءُ الثَّوْبِ - کپڑے کی لپیٹ

یا تمہ۔ یَوْمُ الْقُرَى - وہ دن جو یوم النحر
 سے متصل ہے اور جس میں حجاج منی
 میں ٹھہرتے ہیں۔ یَوْمُ قُرَى - ٹھنڈا دن۔
 كَيْلَةُ قُرَى وَقُرَى - ٹھنڈی رات۔
 الْقُرَاتَيْنِ - صبح و شام۔
 الْقُرَى - ٹھنڈک۔ کسی جگہ قرار پکڑنا۔ قرار گاہ۔
 محاورہ ہے کہ وَقَعَتْ بِالْقُرَى - تو
 اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ مثلاً طالب انتقام
 کے لیے بولا جاتا ہے جب وہ انتقام
 لے لے۔ ایک لبا کیڑا پانی کی سطح پر
 گھومنے والا۔ جس سے قُرَى کی آواز
 سنائی دیتی ہے۔
 الْقَوَارِيءُ - وری۔ قصاب۔ وہ شہری جو
 طالب احسان نہ ہو۔
 الْقَرَأْسُ وَالْقَرَأَسُجُ - جائے قیام۔ ساکن
 اور اونچی زمین۔ قرار و سکون کا مقام۔
 محاورہ ہے کہ صَارَ الْاَرْضُ سُلْطَانِي
 قَرَارًا - معاملہ اپنی حد پر ساکن ہو گیا۔
 الْقَرَارُ - کسی مسئلہ کا وہ پہلو جس پر
 رائے طے پا جائے۔ اَهْلُ الْقَرَارِ
 شہر میں سکونت پذیر لوگ۔ اس کے
 مقابلہ میں اَهْلُ الْبَدْوِ - غماندہ بدو
 ہیں۔ قَارِ الْقَرَارِيسِ - آخر وقت القَرَارَةُ
 ٹھنڈا۔ وہ گول گڑھا جس میں بارش کا
 پانی جمع ہو جائے۔
 الْقَرَّةُ - اسم نزع ہے۔ سر دی عرب کی
 ضرب المثل ہے۔ حِقْوَةٌ عَلَى قَرَّةٍ
 اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو
 دل میں کچھ رکھتا ہو اور ظاہر کچھ اور
 کرتا ہو۔
 الْقَرَّةُ او قَرَّةُ الْعَيْنِ - ایک بولی ہے
 جو پانی کی نالیوں میں ہوتی ہے۔ یہ
 بولی جو حیر کے علاوہ ہے۔ کیونکہ یہ شہری
 ہوتی ہے اور جو حیر میں تیز فائقہ ہوتا
 ہے۔ قَرَّةٌ عَيْنٍ - آنکھ کی ٹھنڈک۔

وہ چیز جو باعث راحت ہو۔ اَبُو قَرَّةٍ
 گرگٹ کی کنیت ہے۔ کیونکہ سر دی اس
 پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اسی لیے یہ
 ہمیشہ اپنے سر کو سورج کے سامنے
 رکھتا ہے۔
 الْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ - مینڈک۔
 الْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ
 بانڈی کے نیچے والے حصہ میں لگی ہوئی
 چیز۔ کھرجن۔
 الْقُرَى - وہ سنی جو اس سے پینے کے بعد بھی
 لائق ہو جائے۔
 الْقَرَّةُ وَالْقَرَارَةُ وَالْقَرَارَةُ وَالْقَرَارَةُ
 وَالْقَرَارَةُ - وہ پانی جو بانڈی پکانے
 کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ
 جل جائے۔
 الْقَرَارُ - ٹھنڈا پانی۔
 الْقَارُورَةُ - آنکھ کا حلقہ۔ آنکھ کی پتلی۔
 کھجریا چھوڑنے کا برتن۔ پینے کی چیز
 رکھنے کا برتن۔ جہ۔ قَوَارِيرُ
 التَّقَارُّرُ وَالتَّقَرُّرُ - قرار و سکون۔
 الْقَارِءُ - قار۔ یَوْمٌ قَارٌ - ٹھنڈا دن۔
 الْقَارِءُ - قار کی مؤنث۔ عَيْنٌ قَارَةٌ -
 ٹھنڈی آنکھ۔ خُرْشِي
 الْاَقْرُ - اسم تفضیل۔ بولا جاتا ہے۔ اَدَى
 الْاَيْدِي - اَقْرُ - کولہاں سے ہاتھ نکالنا
 ہے۔
 الْمَقْرُءُ - مَقْرَأٌ وَالْمَقْرَأُ الْمَقْرَأُ
 قرار و سکون کی جگہ۔ مَقْرَأُ الْمَقْرَأِ
 کوئی شخص جس میں غم گرا جائے اور پانی
 کم ہونے کے وقت جمع ہو جائے۔
 الْمَقْرُوءُ - پانی کا حوض۔ بڑا مٹکا۔
 الْمَقْرُوءُ - ٹھنڈا۔ جس کو سر دی لگ گئی ہو
 كَرَأَ قَرَأً وَقَرَأَهُ وَقَرَأَ رَأْفًا
 واقترأ الکتاب - کتاب کو پڑھنا
 یا مطالعہ کرنا۔ قَرَأَ قَرَأَهُ رَأْفًا

عليه السلام۔ کسی کو سلام پہنچانا۔
 جب اس سے میثرا رہنا یا جانے کا
 کہا جائے گا قرآءاً علیہ السلام۔
 بلا حجت و مدعی کے سختی نہیں ہوتا
 لہذا قرآءاً السلام۔ جس کہا جا سکتا
 - قرآءاً و قرآنًا - الشیخ - ملانا۔ جمع
 کرنا۔ التناقلۃ۔ اوشن کا عامل ہونا۔
 المتعاقب۔ بچہ دینا۔
 قارءاً قرآءاً و مقارءاً۔ پڑھنے یا
 دوس میں ایک دوسرے کے ساتھ
 شریک ہونا۔
 اقراءاً لاقراء۔ الرجل کسی کو پڑھانا۔
 - فالسلام۔ کسی کو سلام پہنچانا۔
 اقراء من السفر۔ سفر سے لوٹنا۔
 الامر۔ گریب ہونا۔ عنہ۔ پھر جانا۔
 - النجوة۔ فائب ہونا۔ الرجل
 عارت گزار ہونا۔ الحاجة۔ ضرورت
 کو مؤخر کرنا۔ اقراءت الیہ۔ ہواؤں
 کا اپنے وقت پر چلنا۔ زینہ۔ پیچھے
 لوٹنا۔ الحاجة۔ ضرورت کا مؤخر
 ہونا۔
 تقرباً۔ عبادت کرنا۔ علم حاصل کرنا۔
 استتقرباً استتقرباً۔ فلاں۔ کسی سے
 پڑھنے کی خواہش کرنا۔ الاضواء۔
 حالات معلوم کرنے کے لیے گیس و
 تحقیق کرنا۔
 القراءۃ۔ پڑھنے کی کیفیت۔ ج۔ قراءات۔
 القربۃ۔ وقت۔ تاقیہ۔ ج۔ اقراء و قراء
 و اقراء۔ اقراء الشیخ۔ شعر کے
 مقاصد اور معنی۔
 القراءۃ۔ وہا۔
 القرآن۔ قرآن کریم
 القاری۔ ماہ۔ ج۔ قراء و قاریون
 و قراءۃ۔
 الاقراء۔ فیہ پڑھنے والا۔ زیادہ پڑھنے والا۔

القراءۃ۔ عمدہ طرز سے پڑھنے والا۔ ج۔
 قراءون۔
 القراءۃ۔ ماہ۔ ج۔ قراءون و
 قراءۃ۔
 المقرب و المقرب و المقرب۔ وہ نے
 جو پڑھی جائے۔
 المقرب۔ وہ چیز جس پر کتاب رکھ کر پڑھی
 جائے جیسے تہائی ڈیسک وغیرہ۔
 المتقرب۔ ماہ۔
 قریب و قریب قریباً و قریباً و قریباً
 رس۔ ک، قریب ہونا۔ قریباً و
 قریباً و قریباً و قریباً۔ کسی چیز کے
 قریب ہونا۔
 قریب قریباً۔ کوکے کے درمیان نکالنا ہونا۔
 قریب قریباً، السیف۔ تلوار کو میان
 میں کرنا۔ تلوار کے لیے میان بنانا۔
 بننے والا قریباً اور تلوار مقرباً
 ہے۔
 اقرب۔ الاقرب برحق کو بھرنے کے قریب
 کرنا۔ اقرب المتعاقب۔ عامل کا
 قریب الولادة ہونا۔ قریباً۔ میان
 بنانا۔ الراحم الیہ۔ جمع ہے کا
 رات کے وقت اونٹ کو لے جانا تاکہ
 اگلے صبح کو سیراب کیے۔ قابل قریب
 ہے اور مقرب نہیں، اور اونٹوں کو
 قریباً کہتے ہیں تاکہ مقرباً۔
 قریباً۔ کسی کو قریب کرنا۔ القربۃ الیہ۔
 امیر کسی کو اپنے حرام میں داخل کرنا۔
 قریب القربان۔ قوم، خدا کے سامنے
 قرآن پڑھ کرنا۔ القربان۔ قریباً
 جیسا تینوں کے نزدیک کسی کو قریب
 کرنا۔ قریباً۔ قریب قریباً۔ کسی کو
 حیات اللہ و قربت و ادک کرنا۔
 القرب۔ گھولے کا دھونا، قریباً
 گھولے کا دھونے جانا۔ القرب۔ کسی

شخص کا درو کو کھ میں مبتلا ہونا۔
 قاریباً مقاریباً۔ باہم قریب ہونا۔ اچھے
 کلام کے ساتھ بات کرنا۔ قاریب فی
 الامر۔ کسی کام میں درمیانہ طرز اختیار
 کرنا۔ کسی کام میں بالآخر ترک کرنا۔
 تقربت تقرباً و تقرباً۔ نداء لینا۔
 الی اللہ بالقربان۔ خدا کے سامنے
 نذرانہ یا قربانی پیش کرنا اور اس کی
 قربت طلب کرنا۔ الرجل۔ پہلو پر
 ہاتھ رکھنا۔ محاورہ ہے کہ تقربت یا
 رجل۔ رجلی کر، بعض نے کہا ہے
 کہ یہ معنی صرف امر میں پائے جاتے ہیں۔
 تقرباً۔ دونوں کا قریب ہونا۔ تقارب
 الیہ۔ کھیتی کا کینے کے قریب ہونا۔
 - اقرب الوعد۔ وعدہ کا قریب
 آجانا۔ الشیخان۔ دو چیزوں کا
 قریب ہونا۔
 استتقرب۔ الشیخ۔ کسی چیز کو قریب
 ماننا۔
 القرب و القرب۔ نزدیکی۔
 القرب و القرب۔ پہلو۔ کوکھ۔ ج۔
 اقرب۔
 القرب۔ وہ کتوں جس کا پانی قریب ہو۔ ج۔
 اقرب۔ والقربان۔ رات کو چلنا
 تاکہ صبح کو سیراب ہو سکے۔
 القرب و القرب۔ نیک و پسندیدہ اعمال
 جن سے خدا کی قربت حاصل ہو۔ ج۔
 قرب و قربات۔ القربۃ۔ مرتبہ
 یا جگہ کی قربت۔ القربۃ۔ مسکیزہ
 ج۔ قرب و قربات و قربات و
 قربات۔ عرب میں قرب المثل ہے
 کیفیت و عرق القربۃ۔ ج۔
 اس سے حکمت برمی۔
 القرب۔ میان۔ تلوار کو قریب۔ ج۔
 قرب و اقرباً۔

جہاں یا تو پلے کو ان نہ کہو آگیا ہوا
وہاں پانی نہ ہو۔

القرح زخم۔ مہلکا۔ شدید عارضہ جو
اونٹ کے بچوں کے لیے ہلک ہے
جو۔ قرح۔

القرح ہر چیز کا اول حصہ۔ کواں کہو دے
وقت پہلی مرتبہ جو پانی نکالا جائے۔ ہر
مہینہ کی ابتدا کی تین راتیں۔

القرح۔ اونٹ کو عارضہ نہ ہونے کی
حالت۔

القرحۃ والقرحة۔ وہ پرانا پھوڑا جس
میں پیپ جمع ہو۔ قرحة الشتاء
اوالصنیت۔ سردی یا گرمی کا ابتدائی
حصہ۔ القرحة فی وجع الفویس
گھوڑے کے ماتھے کی سفیدی یا پھوڑا
سفید نشان۔ هو قرحة أفتحایہ
وہ اپنے ساتھیوں میں افضل ہے۔

القرح۔ پھوڑے یا زخم والا۔
القرح۔ خالص پانی۔ وہ زمین جس میں نہ
پانی ہو نہ درخت۔ جو۔ قرحة۔

القرحان۔ من الابل۔ وہ اونٹ جس کو
بہنی عارضہ نہ ہوتی ہے۔ من النانی
وہ شخص جو کسی پھوڑے میں بتلاہ

ہو اور واحد جمع سب کے لیے،
القرحان والقرحی۔ کسی جنگ
میں فریب نہ ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے۔

انت قرحان وقرحی من الامیر
تو اس معاملے سے خارج ہے۔ مؤنث
قرحۃ ہے۔ القواحی۔ وہ شخص
جو ہمیشہ آبادی میں رہے اور کبھی جنگل
میں نہ سکے۔

القرحیتان۔ ہر دو پہلو۔ دونوں کو کہ
القارح۔ (فاعل)۔ من ذی الخاف
وہ کھروالا جانور جس کے دانت نکل آئے
ہوں۔ جو۔ قوارح وقرح وقرح وقرح

مؤنث قارحہ و قارحہ۔ جو۔
قارحات و قوارح۔ القارح۔

شیر۔ وہ کمان جو تانت سے جدا ہو۔
قارح الفویس۔ گھوڑے کی وہ عمر
جس میں اس کے دانت نکل آئیں۔

القریحہ۔ زخمی۔ جو قرخی وقراسی۔
پانی میٹرہ جو خالص ہو۔ سب سے
پلے ظاہر ہونے والا ابر۔ قریحہ

الستحایہ۔ ابر سے پرستا ہوا پانی۔
القریحۃ۔ ہر چیز کا پہلا حصہ۔

کنوں کا سب سے پہلا نکالا ہوا پانی۔
القریحۃ من الانسان۔ انسان کی
طبیعت۔ قریحۃ الشاعیر۔ او

الکاتب۔ وہ لکھ جس سے بہترین نظم
یا کتابت کا تصور ہو۔ جو۔ قوارح۔
القرح۔ اسم ثقیل۔ جمع۔ قرس

آقرح۔ وہ گھوڑا جس کی پنجانی پر
سفید نشان ہو۔ مؤنث قرحاء۔
جو۔ قرح۔ زوکتا قرحاء۔ وہ

بارج جس کا سبزہ الگ شروع ہوا ہو۔ یا
جس کے درمیان میں سفید پھول ہوں۔
القرح۔ من القرینی۔ وہ راستہ

جو لغات قدم کی وجہ سے واضح و
ظاہر ہو۔ والقرح۔ زمین پھوڑوں
والا۔ کہو کا مکان۔ آٹنے سانے

ملاقات کی۔
قید قرح اس، الکوین۔ ادھوڑی
میں کیر ایک کراس کو سوراخ دار گردینا۔

الکحل فی العین۔ سرمہ کا منتشر
ہوجانا۔ آسٹاکہ۔ دانتوں کا پھوڑا
ہونا اور سوراخ سے نکل جانا۔

العلائق۔ گوند کا ذائقہ تراب ہوجانا۔
وقرح الشجر۔ بالوں کا گھونگھریلے
ہونا۔ بالوں کا چکٹ ہونا۔

قود وقرود وقرود۔ عاج ہو کر خاموش

ہوجانا۔ زمین سے چٹنا۔ قرود کا۔
دھوکا دینا۔ قرود البعیر۔ اونٹ
کی چھڑی دور کرنا۔ آقرود وقرود۔

الینہ۔ کسی کی اطاعت کرنا۔ آقرود
المتحیر۔ ساکن ہونا۔ آقرود
البعیر۔ اونٹ کا چھڑی والا ہونا۔

ایسی نرم چال چلنا کہ سوار کو حرکت
نہ ہو۔

قرود قرود ارض۔ المان۔ مال کمانا۔
فی السقاء۔ مشکیزہ میں گھی یا دودھ
جمع کرنا۔

القرود۔ کوتاہ قد۔ گردن (مغرب)
القرود والقرود۔ چھڑی۔ واحد۔ قرود و
قرود ہے۔ جو۔ قرودان۔

القراد۔ سرپستان بھٹی۔ نزع
قراد فلان۔ فلاں کو دھوکا دینا۔

القرود۔ بندر۔ عام لوگ اس کو معدان
کہتے ہیں۔ جو۔ آقراد و آقرود و
قرود وقرود وقرود وقرود

مؤنث قرودج۔ جو۔ قرود۔
القرود۔ اُن وکتان کا ردی وناکارہ حصہ
کہوڑی وہ شاخ جس کی پتیاں جدا کر
دی گئی ہوں۔ واحد قرودج ہے۔

القرود۔ زبان کی رکاوٹ۔ ہکاپن۔ ابر
کے چھوٹے ٹکڑے جو ابھی مل کر بادل نہ
ہئے ہوں۔ القرود من الابل۔ بہت

چھڑی والا اونٹ۔ وہ ابر جو خوب چھا
جائے۔ رجل قرود العجا۔ وہ شخص
جس کے دانت پینڈا لیشی طور پر چھوٹے
ہوں۔ رجل قرود۔ ساکن قحلی۔

القراد۔ بندر کو سدھانے والا۔
قرودہ قرودحہ۔ اس چیز کا اراک کرنا
جو اس سے طلب کی جائے۔ بالعدار

ہونا۔ عوام ہتھیار بنانے اور اس کی
مرمت کرنے کے عمل میں استعمال

کرتے ہیں اور اس کام کرنے والے کو
 قَرَشٌ اور قَرَشٌ کہتے ہیں۔
 الْقَرَشُ الْقَرَشُ۔ کسی پرنا جانور یا دانی کرنا۔
 الْقَرَشُ وَالْقَرَشُ۔ بلا بند۔
 الْقَرَشُ وَالْقَرَشُ وَالْقَرَشُ۔ بالغ لڑکے
 کے گلے میں ایک گلی جیسا نرم بڑیوں
 کا اٹھار۔
 الْقَرَشُ۔ یلغیہ۔ طرارت پر آمادہ
 شر پر تیار۔
 الْقَرَشُ۔ ج قَرَشٌ۔ الْقَرَشُ۔ ج۔
 قَرَشٌ۔ وَالْقَرَشُ۔ سنت
 اور اونچی زمین۔ الْقَرَشُ۔ انسان
 کی پیٹھ کا درمیان۔ قَرَشٌ۔
 الْقَرَشُ۔ مالے کی سختی اور تیزی۔
 الْقَرَشُ الْقَرَشُ۔ پیٹھ کا بلند حصہ۔
 محاورہ میں بولا جاتا ہے کہ جَاءَ
 بِالْحَدِيثِ عَلَى قَرَشٍ۔ اس نے
 بات بر محل کی۔
 الْقَرَشُ۔ کلام کی سختی۔ وہ خط جو کرک
 وسط میں ہے۔ مرد کا سر۔ ہاتھ کا سرا۔
 ج۔ قَرَشٌ۔
 قَرَشٌ۔ مضبوط کرنا۔ قَرَشٌ۔
 جَزْوًا الْكَلْبُ۔ کتے کے بچے کو پکارنا۔
 الْقَرَشُ۔ سختی و شدت۔
 الْقَرَشُ۔ ذلت۔
 الْقَرَشُ۔ گردن۔ آج کل بقَرَشٍ۔
 اس نے اس کو گردن سے پکڑا۔
 قَرَشٌ۔ قَرَشٌ۔ کمرج کر صاف کرنا۔
 قَرَشٌ الْقَرَشُ۔ مٹی وغیرہ
 کی مٹی بھرنا۔
 الْقَرَشُ۔ سبیل۔ سخت زمین۔
 الْقَرَشُ۔ مٹی بھرنا۔
 قَرَشٌ۔ القارحہ۔ شاعر کا بی
 اشعار کہنا۔
 الْقَرَشُ۔ گھٹیا شاعر۔

الْمُقَرَّشُ۔ حقیر و کمینہ۔ بہت نسب والا۔
 رَجُلٌ مُقَرَّشٌ۔ وہ کوتاہ قد شخص
 جس کا جسم گٹھا ہوا اور ٹھوس ہو۔
 قَرَشٌ قَرَشٌ (مخ)، الماء۔ ٹھنڈا ہونا۔ جتنا
 ۔ البَرْدُ۔ سخت سردی پڑنا۔
 الْمُقَرَّشُ۔ سردی زدہ کا کام نہ کر
 سکتا۔
 قَرَشٌ قَرَشٌ (مخ)، البَرْدُ۔ سردی کا شدید
 ہونا۔ الرَّجُلُ۔ سرا زدہ ہونا۔
 قَرَشٌ الْعُودُ۔ لکڑی کا پانی اس میں جم جانا۔
 قَرَشٌ البَرْدُ أَسْوَءُ۔ سردی سے
 انگلیوں کا ٹھیکہ جانا اور کام کے قابل
 نہ رہنا۔
 قَرَشٌ وَقَرَشٌ۔ البَرْدُ فَلَئِمًا۔ سردی
 کا کسی کو آڑا دینا۔ بطور ادینا۔
 قَرَشٌ وَقَرَشٌ۔ الماء۔ ہائی پوجہ شدت
 سردی بھا دینا۔
 الْقَرَشُ وَالْقَرَشُ وَالْقَرَشُ۔ سخت
 جانا۔ الْقَرَشُ وَالْقَرَشُ۔ منجد، جما ہوا
 اَكْبَهُمُ الْمَاءُ قَرَشًا۔ پانی منجد ہو گیا۔
 الْقَرَشُ۔ چھوٹے پتھر۔
 الْقَرَشُ۔ شدید سردی۔ شئی قَرَشٌ و
 قَرَشٌ۔ پرانی چیز
 الْقَرَشُ وَالْقَرَشُ۔ مِنَ الْإِبِلِ و
 هَبْرُهَا بَرَادٌ۔ مَلِكٌ قَرَشِيٌّ۔
 زبردست ملک۔ جَزْوًا قَرَشِيًّا۔
 بلند عزت۔
 الْقَرَشِيًّا۔ ایک دفت جس میں سیاہ
 انگوٹھے مٹا ہوا پھل گتے ہیں۔ یہ کلمہ
 غیر عربی ہے اس کو قَرَشِيًّا ماد سے
 بھی اطلاق جاتا ہے۔
 قَرَشٌ قَرَشٌ (مخ)، قَرَشٌ۔ قَرَشٌ
 الْجَبِينُ بِالرَّصَاحِ۔ لکڑی کا نیزے
 مارنا۔ الشئ۔ کسی چیز کو ادھر ادھر سے
 جمع کرنا اور ملانا۔ مِنَ الطَّعَامِ بِقَوْلِهَا

سا کھانا حاصل کرنا۔ قَرَشٌ وَقَرَشٌ
 لِقَبَالِهِ۔ اہل و عیال کے لیے کرنا۔
 قَرَشٌ بَيْنَهُمَا۔ ایک دوسرے پر
 برا لگینے کرنا اور چغل خوری کرنا۔
 قَرَشٌ۔ قریش میں سے قرار دینا۔
 قَرَشٌ بہ۔ چغل خوری کرنا۔ کسی کے عیب
 کی خبر دینا۔ أَقْرَشَتُهُ الْمُنْجَةُ۔
 بڑی کالوٹنا اور زبردہ زبردہ نہ ہونا۔
 تَكَرَّشٌ۔ الْمَالُ۔ مال کو جمع کرنا۔ حَتَّى
 السَّهْمَاتِ۔ برائوں سے دور ہونا۔ ہاک
 ہونا۔ الشئ۔ کسی چیز کو ال ال اول لے
 لینا۔ الشئ۔ کسی چیز سے چمٹ جانا۔
 تَكَرَّشٌ الْقَوْمُ۔ قوم کا جمع ہونا۔
 تَكَرَّشٌ وَقَرَشٌ۔ الْقَرَشُ الْقَرَشُ۔
 نیزوں کا لڑائی میں باہم ٹکرانا۔ تَكَرَّشٌ
 الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کا باہم نیزہ مارنا
 اور ٹکرانے سے آواز کا پیدا ہونا۔
 قَرَشٌ لِقَبَالِهِ۔ کرنا۔ اَقْرَشَتِ
 الرِّمَاحُ۔ بعض کا بعض سے ٹکرانا۔
 بہ۔ کسی کی چغلی کرنا اور اس کے نقصان
 پہنچانے کا کام کرنا۔
 الْقَرَشُ۔ جہادِ عرہ صر سے جمع کیا جائے۔
 ج۔ قَرَشٌ۔ قَرَشٌ الشئ۔ کسی
 چیز کی آواز۔
 الْقَرَشُ۔ ایک ٹکڑی۔ ج۔ قَرَشٌ۔
 رد چیل ہے، الْقَرَشُ وَالْقَرَشُ۔
 ایک قسم کی پھل جس کو کلب الطیر کہتے
 ہیں۔ یہ چھانناٹ کو پانی میں تھار کی طرح
 دانت سے کاٹ دیتی ہے۔
 قَرَشٌ۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ۔ اس کی
 طرف نسبت کے لیے قَرَشِيٌّ اور
 قَرَشِيٌّ کہتے ہیں۔ رِمَاحٌ قَرَشِيٌّ
 لڑائی میں ایک دوسرے سے ٹکرانے
 اور داخل ہونے والے نیزے۔ جَبْرٌ
 قَرَشِيٌّ۔ بہت خشک پتیر۔

مِقْرَاطٌ مَبْقَا رُبْعَيْنِ كَتَمَ فِيهِ وَاحِدٌ كَوْنَهُ مِقْرَاطٌ
 كَتَمَ فِيهِ نَجْرٌ مَبْقَا رُبْعَيْنِ -
 الْمَقَارِضُ : مَخْمَرٌ كَيْتِي - بَطْرُ مَلِكِ الشَّرَابِ
 كَيْ بَرْتِنِ -

قَرُضَبٌ - الشَّيْءُ : كَيْ حَيْزٍ كَوْنَهُ مُتَفَرِّقٌ كَرْنَا -
 الرَّجُلُ : كَوْنِي خَطَكُ حَيْزٍ كَهَانَا -
 اللَّحْمُ فِي الْمُبْمَلَةِ : كَوْنِي شَتُّ كَرَانِي
 فِي حَيْجِ كَرْنَا - فَلَانٌ - مَعْرُتَانَا - اللَّحْمُ
 تَامٌ كَوْنِي شَتُّ كَوْنِي كَهَانَا - مَحَامِدُ هِيَ كَيْ
 قَرُضَبٌ الَّذِي تَبُ الشَّقَاةُ - يَهْرِي سَارِي
 كَبْرِي كَوْنِي كَهَانَا -

القَرُضَبُ - مَهْلِي فِي بَاقِي مَانِدُهُ فَعْنَلُهُ جَوْبِي نِيكُ
 دِيَا جَانِي - مَهْلِي -

الْقَرُضَابُ وَالْقَرُضُوبُ - بَسْتٌ تِي زَلْوَارُ -
 جَوْرٌ - خَطَكُ حَيْزٍ كَهَانِي وَالَا - فَعْبِرُ - جَوْرٌ
 قَرَا ضَبَبَةٌ -

القَرَاضِبُ - هِرْجِي كَوْنِي هِرْبُ كَرَجَانِي وَالَا -
 جَوْرٌ - قَرَاضِبُ -

قَرُضُومٌ - الشَّيْءُ : كَيْ حَيْزٍ كَوْنِي كَهَانَا - كَوْنِي حَيْزٍ
 لِيْنَا أَوْرَاسُ كَوْنِي كَهَانَا - كَوْنِي يَفْرُضُومٌ
 كَوْنِي شَيْءٌ - مَعْبِرُ حَيْزٍ لِي كَهَانَا -
 قَرُطٌ قَرُطَارِي : الْمَكْرَاتُ وَالْمَعْوَةُ - كَعْدَانَا
 دَهْرِي كَيْ كَرُطِي كَرْنَا -

قَرُطٌ قَرُطَارِي : الْقَائِي - كَبْرِي كَيْ
 كَانُ اسْمٌ مَرُجٌ سِي كَلِي هُونِي هُونَا كَوْنِي
 شَكْتِي رِي - مَعْنَتُ اقْرُطِي هِيَ -

قَرُطٌ - الشَّيْءُ : كَيْ حَيْزٍ كَوْنِي كَرُطِي كَرْنَا -
 - الْحَايِيَّةُ : لَوْنِي كَوْنِي بَانَا - الْقَرُطُ
 كَوْنِي كَوْنِي كَوْنِي دِينَا - الْمَيْسَرَا جَوْرٌ
 جَوْرٌ كَوْنِي كَوْنِي جَوْرَانَا - عَنِي الرَّجُلُ
 كَيْ شَيْءٍ كَوْنِي كَوْنِي كَوْنِي دِينَا - الْيَلُو
 رَسْمُولَا : كَيْ كَيْ فِي اسْمِ جَلْدِي قَاصِدُ
 مَيْجَانَا -

تَقْرُطُ السَّمَاةُ - بَالِيَا - مَهْنَا -
 الْقَرُطُ - كَيْ قَسْمُ كَعْدَانَا هِيَ -

الْقَرُطُ - بَالِيَا - كَانُ فِي سِنِي كَازِيور - جَوْرٌ
 اقْرَاطٌ وَقَرَاطٌ وَقَرُوطٌ وَقَرُوطَةٌ
 - الْقَرُطُ - كَيْ كَاشَعَلُهُ - مَعْنُ - كَيْ
 كَهَانُ جَوْرٌ مَسْتَكُ كَيْ مَانِدُهُ هُونِي هِيَ
 مَرُومِي رُبُوجُهُ مَشَابَهُتُ الْقَرُطُ مَعْنُ
 الْمَوْنِي وَغَيْرِي - كَيْلِي وَغَيْرِي كَاشَعَلُهُ -
 الْقَرُطَةُ وَالْقَرُوطَةُ : كَبْرِي كَيْ كَيْ هُونِي
 كَانُ كَالشَّكْتِي هُوَا حَصِدُ -

الْقَرَاطُ - جَوْرٌ - جَوْرٌ كَيْ كَوْنِي - وَالْقَرَاطَةُ
 بِي كَاطِلُ - بِي كَاطِلَا هُوَا حَصِدُ -

الْقَرَاطُ وَالْقَرَاطُ - دَانِي كَالنَّصْفِ وَزَنُ
 بَعْضُ نِي وَبِيَا كَيْ كَيْ حَصِدُ كَيْ
 جَوْرَانِي مَقْدَارُ بَتَلَانِي هِيَ أَوْرُ بَعْضُ نِي
 دَسُومِي حَصِدُ كَالنَّصْفِ كَهَانَا - هِرْجِي كَيْ
 جَوْبِي سَوَالُ حَصِدُ فِي الْمَسَاحَتِي - كَيْ
 انْعَلِي كَيْ عَرَضُ كَيْ بَرَابَرُ جَوْرَانِي رِي
 كَعْدَانِي هِيَ -

الْقَرَاطُ عِنْدَ الْيُونَانِي - كَيْ خَرُوبُ
 كَيْ دَانِي كَيْ بَرَابَرُ أَدْعَادَانِي وَرَبْمُ -
 اهل يونان كَيْ نَزِيكُ بَارِي دَانِي كَيْ
 بَرَابَرِي هِيَ - جَوْرٌ قَرَارِي يَطُ - الْقَرَارِي يَطُ
 اهل كَابِي جَوْرٌ -

الْقَرَارِي يَطُ : مَسْمُومِي كَالسُّبُ كَيْ
 جَانَا هِيَ رِي كَعْدَانِي هِيَ -

قَرُطِيَّةٌ قَرُطِيَّةٌ : حَيْزٌ مَبْقَا رُبْعَيْنِ
 الْجَوْرُومِي : كَوْنِي كَوْنِي كَوْنِي كَوْنِي
 الرَّجُلُ : كَوْنِي كَوْنِي كَوْنِي كَوْنِي
 مَبْقَا رُبْعَيْنِ - مَبْقَا رُبْعَيْنِ -

تَقْرُطُ عَلَى كَعْدَانَا : حَيْزٌ مَبْقَا رُبْعَيْنِ
 الْقَرَاطِي : مَعْنَتُ كَاطِلِي وَالَا -
 الْقَرُطِي : تَلْوَارُ -

قَرُطِيَّةٌ : انْدَسُ كَيْ كَيْ كَوْنِي كَوْنِي
 قَرُطِي : نَشَانُهُ مَبْقَا رُبْعَيْنِ -
 تَقْرُطُ الرَّجُلُ : بَلَاكُ مَهْنَا - الْقَرُطُ
 وَالْقَرُطُ وَالْقَرُطُ وَالْقَرُطُ

قَرُطِي : نَشَانُهُ مَبْقَا رُبْعَيْنِ -
 تَقْرُطُ الرَّجُلُ : بَلَاكُ مَهْنَا - الْقَرُطُ
 وَالْقَرُطُ وَالْقَرُطُ وَالْقَرُطُ

قَرُطِي : نَشَانُهُ مَبْقَا رُبْعَيْنِ -
 تَقْرُطُ الرَّجُلُ : بَلَاكُ مَهْنَا - الْقَرُطُ
 وَالْقَرُطُ وَالْقَرُطُ وَالْقَرُطُ

وَالْقَرُطَانُ : كَانُ - الْقَرُطَانُ :
 نَشَانُهُ - مَمْرِي مَادِرُ - كَيْ قَسْمُ كَوْنِي مَمْرِي
 مَمْرِي مَبْقَا رُبْعَيْنِ كَوْنِي لَوْنِي - جَوْرَانُ
 اذْنِي - جَوْرٌ - قَرَاطِي -

الْقَرُطِيَّةُ وَالْقَرُطِيَّةُ : مَمْرِي سِي حَيْزٍ
 الْقَرُطِيَّةُ وَالْقَرُطِيَّةُ : مَادِرُ -
 قَرُطَلَةُ فِي الْمَاءِ : كَيْ كَوْنِي فِي مِي دُونَا -
 الْقَرُطَلُ : نَشَانُ بَالِيَا مَسْمُومِي هِيَ بِي هُونِي
 دُونَا - مَمْرِي - مَعْنَتُ عَامِيَا مِي هِرْجِي
 كَوْنِي هِيَ - جَوْرٌ - قَرَاطِلُ -

الْقَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

قَرُطَلَةُ : كَعْدَانَا - كَعْدَانَا كَوْنِي
 الْقَرُطَالَةُ : بَالِيَا كَيْ نِي كَوْنِي كَوْنِي
 خَوْرِي - جَوْرٌ - قَرُطَالُ -

کھٹکھٹائے اور آڑ جائے وہ داخل ہو
 ہی جاتا ہے۔ الرجل۔ مارنا۔ قرع
 رأسه بالعصا۔ سر پر لاٹھی مارنا۔
 قضا کا کسی کے نفس و عیب ظاہر
 کرنا۔ ساقیہ الامیر کسی کام کے
 لیے خالی ہونا۔ المشی۔ اختیار کرنا۔
 بالحق۔ پھینکنا۔ البسوم الغایة
 تیر کا تشابہ پر لگنا۔ امر کسی معاملہ
 اچانک اور آڑنا۔ سئل۔ ندامت
 سے دانت پینا۔
 قرع قرحان، فلانا کسی پر قرعہ میں
 غالب آنا۔ قرع علیہ۔ تیر اندازی میں
 کسی شخص کا مار جانا۔
 قرع قرحا و قرحا دس، المکان کسی
 جگہ کا خالی ہونا۔ ماء البثور کنویں کے
 پانی کا ختم ہو جانا۔ الرجل۔ تیر اندازی
 میں مارنا۔ مشہور قبول کر لینا۔ قرحا
 الرجل۔ سر کے بالوں کا گر جانا۔
 قرع فلانا کسی کو لائٹنا۔ القرع۔ قوم کو
 پریشان کرنا۔ القویق۔ اونٹ کے
 بچہ کی فارش کا علاج کرنا۔ القفر۔
 باقن کو کاٹنا۔
 قارحاً قارحاً قارحاً۔ ایک دوسرے
 کے ساتھ تڑھانڈی کرنا۔ قارحاً قارحاً
 اس نے قوم، علاقے کو از رو صحت کیا۔
 قارحاً القوم و قارحاً قارحاً۔ قوم کے قریب
 انسانی کی باہم جنگ کرنا۔ بالیہ
 باہم بیرو باہمی کرنا۔
 قرع۔ باز رہنا، مشورہ قبول نہ کرنا۔ عتد
 باز رہنا۔ المسافر منزل کے قریب
 پہنچنا۔ العاکف و المناقر۔ غوطہ خور
 کا زمین تک پہنچنا۔ البشر۔ شر
 کا جاری رہنا۔ نخلہ۔ جوتے پر پھندا
 پیوند لگانا۔ الجور۔ گدھوں کا ایک
 دوسرے کو لاتیں مارنا۔ المشی۔ کسی

بیزکی طاقت رکھنا۔ قارحاً الجوا۔
 فرش مکان پر اینٹیں بچھانا۔ فلانا
 روکنا۔ لای الحق۔ حق کی طرف رجوع
 کرنا اور اطاعت کرنا۔ الرجل۔ کسی
 کو عمدہ مال دینا۔ الدائبة یا کجا و ہا
 چہا یہ کو لگام سے روکنا۔ بیق القوم
 قرع ڈالنا۔
 تقویم و القویم۔ لوٹنا۔ پلٹنا۔ انقرع
 عن الامر۔ کسی کام سے باز رہنا۔
 حق الحق۔ حق سے باز رہنا۔ تقویم
 الجلد۔ کھال کا گھنے پن کی وجہ سے
 چھل جانا۔
 اقتویم۔ الشیء۔ کسی چیز کو پسند کرنا۔
 النار۔ آگ روشن کرنا۔ القوم علی
 کذا۔ کسی معاملہ پر قرعہ اندازی کرنا۔
 استفدتم الحافیہ۔ کمر کا سخت ہونا۔
 انکرہل۔ اونٹنی کا رداں اڑھانا۔
 القوم۔ کدو۔ نکل۔ گیا۔ واحد قرعہ ہے۔
 البقرہ۔ اسم مرثا ہے۔
 القوم۔ سفید خارشتی پھینیاں جو اونٹ
 کے بچوں کو نکلتی ہیں۔ گنچ کی بیماری، جس
 سے سر کے بال گر جاتے ہیں، وہ مقام
 جو مقابلہ کرنے والوں کی حد کے طور پر
 مقرب کیا جاسکے۔ مہابقت۔ اونٹوں کا
 خالی ہونا۔ ہندین چین میں گھاس کے
 علاوہ کئی مہابی و فیو نہ ہو۔ فارش۔
 القرحا۔ ڈھال جو سپر سوہیں گئے پن کی
 تیار کی جگہ فرار پیندے والا تو شر
 جان۔ اونٹ سے خالی پاؤں۔
 القرحا۔ حصہ۔ قیمت۔ القارح القرحا
 قرعہ اندازی کرنا۔ تو مشہور وان۔ و
 القویق۔ بسترین مال۔ القریحہ
 گھریں سب سے اچھی جگہ۔
 القویق۔ وہ شخص جس کو پیندہ آئے مشورہ
 ملنے والا۔ قرحا قرحا۔ خراب شدہ

ناخن۔ ارض کی عتلا۔ بھڑوین۔
 القارحہ رموزت قارحہ قیمت۔ قاریحہ
 التطریق۔ راستہ کا بڑا اور بلند حصہ۔
 حادثہ۔ ہلاک کرنے والی آفت۔ جو
 قوارح۔ قرعنت قوارح الدھیر۔
 زمانہ کے سخت مصائب کا نازل ہونا۔
 نعوذ باللہ من قوارح فلان
 ہم فلاں کی زبان درازیوں سے پناہ
 مانگتے ہیں۔
 القوام۔ اسم مبالغہ۔ لصال۔ سخت سنگین۔
 مؤنث قواحہ ہے۔
 القویق۔ قرعہ انداز۔ قرعہ اندازی میں کامیاب
 ہونے والا۔ نیز ناکام ہونے والا۔ سردار
 نراونٹ۔ فلان قویق دھیر۔
 فلاں اپنے زمانہ کا ممتاز ہے۔ ہسو
 قویق الکتیبہ۔ وہ لشکر کا سردار
 ہے۔ قویق قویق۔ خارش میں مبتلا
 اونٹ کا بچہ۔ جو۔ قرعی۔
 القروم۔ کھولے پانی والا کنواں۔ وہ بری
 جس پر قرعہ اندازی کی جائے۔
 القویق۔ اسم مبالغہ۔ سردار۔
 القرحا۔ گنچا۔ جبیل آقرح۔ پیر سبزہ
 والا پہاڑ۔ عوڈ آقرح۔ وہ لکڑی جس
 کی مہال اتار دی گئی ہو۔ تو س آقرح۔
 سخت ڈھال۔ قدام آقرح۔ وہ
 تیر جس کو ٹیکری سے رگڑا جائے تاکہ
 اس کے خطوط و نقوش ظاہر ہو جائیں
 الآقرح۔ عمدہ فولاد کی تلوار۔ صین
 الحیات۔ وہ سانپ جس کے سر کے
 بال زیادہ زہریلا ہونے کی وجہ سے
 گرجائیں۔ مؤنث قرحا۔ جو۔ قرحا
 وقرحان۔
 القرحا۔ آقرح کی مؤنث۔ حادثہ آفت
 گھر کا حصہ۔ راستہ کا بلند حصہ۔ ارض
 قرحا۔ وہ زمین جس کی گھاس چرا

کبوتر یا مرغی کا آواز نکالنا۔ البھائی
 پیٹ کا گڑگڑانا۔ الرَّجُلُ فِي
 فَحْكِهِ۔ قمر لگانا۔ الشَّرَابُ
 فِي حَلْقِهِ۔ پانی وغیرہ کا حلق میں
 آواز دینا۔
 القُرْقُورَةُ۔ زور کا قمر۔ کبوتر کا آواز۔
 چرے اور چرے کے متعلقات کی
 جلد۔ والقُرْقُورُ۔ زم اور نشیبی
 سرزمین۔ جو۔ قُرْقُورٌ۔
 القُرْقَارُ۔ اونٹ کا بلبانا۔
 القُرْقَارِيُّ والقُرْقَارِيُّ۔ خوش نوا جدی
 خان۔
 القُرْقَارَةُ۔ بہت بولنے والی عورت۔
 والقُرْقَارَةُ۔ ببلانے کے وقت
 اونٹ کے جھاگ۔ القُرْقَارَةُ۔
 لمبی گردن کا کا پانچ کا پایلہ۔
 القُرْقُوسُ۔ لمبی کشتی۔ جو۔ قُرْقُوسٌ۔
 قُرْقُوسُ الكَلْبِ وہ کہتے کہ قُرْقُوسٌ
 کی آواز سے بلانا۔
 القُرْقُوسُ۔ پشم کے مانند ایک جانور۔
 القُرْقُوسُ۔ سخت میدان۔
 قُرْقُوسٌ بِالْجَبْرِ کہتے کے پتے کو بلانا۔
 القُرْقُوسُ کہتے کا پتہ۔ جو۔ قُرْقُوسِيٌّ۔
 قُرْقُومٌ قُرْقُومٌ۔ دھماکہ پیدا کرنا۔ دو
 سخت چیزوں کو باہم ٹکرا کر گرنے یا سخت
 آواز پیدا کرنا دیکھنا یہ لغت ہے،
 قُرْقُومٌ قُرْقُومٌ۔ مین البرز۔ سردی
 سے برزنا۔ قُرْقُومٌ البرزِ۔ جاتے
 کالرزہ پیدا کرنا۔ الرَّجُلُ فِي الصُّكِّ
 وَالْحَمَامُ فِي الصُّكِّ۔ آدمی کا
 شہرت سے ہنسنا اور کبوتر کا زور
 سے غٹھوں کرنا۔
 القُرْقُومُ۔ شراب۔ ٹھٹھاپانی۔ والقُرْقُومُ
 ایک چھوٹا پرندہ ہے۔
 القُرْقُومُ۔ صہم، شراب۔ دیکھو قُرْقُومُ

بلند آواز والا مرغی۔
 القُرْقُومُ والقُرْقُومُ۔ وہ قمر یا کبوتر جس
 میں آستین مدھم مدھم۔ قُرْقُومٌ۔
 قُرْقُومٌ الصُّبْحِ۔ بچہ کو بڑی خندا دینا۔
 القُرْقُومُ۔ وہ جو اپنی نشوونما کو نہ پہنچے۔
 القُرْقُومُ۔ ایک بگڑے والا پانی کا پرندہ۔
 قُرْمٌ قُرْمٌ وقُرْمٌ قُرْمٌ وقُرْمٌ قُرْمٌ
 رمن، والقُرْمُ۔ الصُّبْحِ وَالْبَهْمُ۔
 بچہ یا جانور کا سحر اور سحر اٹھانا یا کھانا
 قُرْمٌ قُرْمٌ رمن،۔ المشی۔ چھیننا۔
 الطَّعَامُ۔ کھانا۔ الرَّجُلُ۔ گالی دینا
 عقید کرنا۔
 قُرْمٌ قُرْمٌ رمن، إِلَى الدَّخْلِ۔ گوشت
 کی خواہش شدید ہونا۔ قُرْمٌ إِلَى
 لِقَائِهِ۔ اس کی ملاقات کا شدید
 مشتاق ہونا۔
 قُرْمَةٌ کھانا سکھانا۔ قُرْمٌ هَا قُرْمٌ۔
 الفَحْلُ۔ زور کو سواری اور کام میں نہ
 لینا تاکہ وہ سانس نہ ہوجائے۔
 اسْتَقْرَمَ البَكْرُ قِيلَ آوَانِهِ۔ زور کا
 قبل از وقت سانس نہ ہوجانا۔
 القُرْمُ۔ اونٹ کی ناک پر علامت۔ جوٹے
 کے تیر پر نشان سانس۔ بطور علامت۔
 جو۔ قُرْمٌ۔
 القُرْمَةُ والقُرْمَةُ۔ اونٹ کی ناک
 سے نکالنا اور بچھڑنے کا کلمہ۔ القُرْمَةُ
 القُرْمَةُ۔ وہ جگہ جہاں سے اونٹ کی
 ناک کی کھال کاٹی جاتے۔ القُرْمَةُ۔
 شروع ہونے یا بانی کبوتر۔
 القُرْمَةُ۔ اونٹ کی ناک سے کاٹی ہوئی
 کھال کا ٹکڑا۔ رومی کا وہ ٹکڑا جو تیر میں
 لگا ہوا رہ جاتے۔ عیب۔ اونٹ کی
 چھاتی۔
 الاقْرَمُ مَنِ الْجَمَالِ۔ وہ اونٹ جس کو
 ابھی تک رسی سے نہ باندھا ہو۔ ناک

پیداغ رکھنے والا اونٹ۔ مؤنث۔
 قُرْمَاءٌ۔ جو۔ قُرْمٌ۔
 القُرْمُ۔ ایک بوٹی ہے جو سفید اور موٹی
 ہوتی ہے۔
 قُرْمَةٌ قُرْمَةٌ۔ الکِتَابُ۔ کتاب کو
 باریک اور قریب قریب سلور میں لکھنا۔
 قُرْمَطٌ میں یہ بھی ایک لغت ہے۔
 المشی۔ قمر سے مزین و ملح کرنا۔
 القُرْمَةُ۔ وہ چیز جس سے زینت کے لیے
 ملح کیا جائے۔ جیسے زعفران اور گچ
 وغیرہ۔ بھیکری۔ پکی اینٹ (کلمہ دخیل)
 القُرْمُودُ۔ زرباڑی بکرا۔ پہاڑی بکرے کا
 بچہ۔ جو۔ قُرْمٌ۔
 القُرْمِيَّةُ۔ پکی اینٹ۔ گچ یا اس طرح کی
 زینت کے لیے کوئی مرکب۔ واحد
 قُرْمِيَّةٌ (یہ کلمہ بھی دخیل ہے،
 القُرْمِيَّةُ۔ پہاڑی بکری۔ جو۔ قُرْمِيَّةٌ۔
 القُرْمِيُّ۔ سرخ رنگ۔ عِنْدَ الأَسَاكِفِ
 وہ چڑا جو سرخ رنگا ہوا ہو۔
 القُرْمِيَّةُ۔ جو قرمز رنگ کا ہو۔
 قُرْمِيَّةٌ۔ فاسد کرنا۔ المشی۔ جمع کرنا۔
 القُرْمِيُّ والقُرْمِيُّ والقُرْمِيُّ۔
 مین التائیں۔ طے چلے لوگ۔ عام و خاص۔
 قُرْمِيَّةٌ قُرْمِيَّةٌ۔ قمراس میں داخل ہونا
 القُرْمِيَّةُ۔ قمراس بنانا۔
 القُرْمَانُ والقُرْمَانُ۔ وہ گڑھا جس کا
 پیندا فراخ اور منہ تنگ ہو۔ جس میں
 سرمازدہ کو گرمی پہنچائی جائے۔ جو بھیل
 جس پر روٹی سینکی جائے۔ کبوتر کا
 گھونسلا جس میں وہ انڈے دے۔ جو
 قُرْمِيَّةٌ۔ القُرْمِيَّةُ۔ وہ گڑھا
 جس میں خشکاری چھپ کر خشکار کھیتا
 ہے۔ زمین میں بنایا ہوا پرندہ کا گھونسلا۔
 قُرْمَطٌ قُرْمَطٌ۔ الکِتَابُ۔ کتاب کی
 سطریں قریب قریب اور باہم لکھنا۔

فِي كَخَطِيئَةٍ - بھوٹے ٹھنڈے قدموں سے چلنا۔
 الْقُرْمُوطُ - ایک قسم کی مچھلی۔ وہ مٹی یا گور کا گولہ جو گریٹا بناتا ہے۔ جہاں قَرَامِيْتُ الْقَرَابِطَةُ شیعوں کا ایک عالی مرتبہ ہے اس کا واحد قَرْمِيْتُ ہے۔
 قَرْمَلَةٌ - پچھاڑنا۔
 الْقَرْمَلُ - ایک بے کانٹے کا کڑورہ سخت واحد قَرْمَلَةٌ۔
 الْقَرْمَلُ - دو کوہن والا اونٹ۔ جہاں قَرَامِلُ۔
 الْقَرَامِلُ وَالْقَرَامِيلُ - مِنَ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ - بال یا اون کا وہ موہاف جو حوریں اپنے بالوں سے ملا کر باندھتی ہیں۔
 قَرْنٌ قَرْنَانِيٌّ، الشَّيْءُ يَأْتِيهِ - ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھنا۔
 مَانَا - الثَّوْرَيْنِ - جوئے میں سیل جوتنا۔ البَعِيرَيْنِ - ایک رسی میں دو اونٹوں کو باندھنا۔
 قَرْنٌ قَرْنَانِيٌّ، الْقَرْنُ - گھوڑے کے پچھلے قدموں کا اگلے قدموں کے نشانات قدم پر پڑنا۔ بَيْنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءِ - دو چیزوں کو جمع کرنا۔
 قَرْنٌ قَرْنَانِيٌّ، دُونِ اِبْرُوؤْنَ كَالْمَاهِ هُوَ - ہونا۔ صفت آقَرْنٌ ہے۔ قَرْنٌ ذُو الْقَرْنَيْنِ - بڑے سینگ والا ہونا۔
 قَرْنَةٌ - جمع کرنا۔ باندھنا۔ قَرْنَتِ الْاِسْتَارِي فِي الْبَلْبَالِ - قیدی رسیوں میں باندھے گئے۔
 قَارِبَةٌ قَرَابَاتٌ وَمَقَارِنَةٌ - کسی کے ساتھ اور متصل رہنا۔
 آقَرْنٌ بَيْنَ الْاَمْرَيْنِ - دو چیزوں کو جمع کرنا۔ قَرْنٌ زِيَادَةٌ نَفْسٌ هُوَ الرَّجُلُ دَوْتِيرٌ يَمْلِكُنَا - ایک رسی میں دو قیدیوں کو لٹانا۔ سینگ والے بیٹھے کی

قَرَابَاتِي كَرْنَا - ہر بات کو ایک سلمان سرمد لگانا۔ الدَّمُ فِي الْعُرْقِي نَحْنُ كَارِكٌ يَمِينُ لِسَادَةِ اِدْبَرِ جَمِشِ هُونَا - اَقَابِيْتُرُ وَجْهَهُ الْفَلَاوِمُ - ڈاڑھی نکلنے کے وقت لڑکے کے چہرے پر باریک بھنسیاں نکلنا۔ السَّمَاطُ - بارشیں جاری رہنا۔ کسی کے برابر کا ہونا کسی کو ایک ہمارے دوادستہ دینا۔ عَيْنِ الطَّرِيقِ - راستے سے ہٹنا۔ حَلِي عَوِيْمَةٌ - قرصا پر تنگی کرنا۔ اَقْرَنْتِ الْبَثْوِيَا بَلْتَدِي فِي ثِيَابِهَا مَتَّصِلٌ هُونَا - الدَّمْلُ - بھوڑے کا پکنا اور بھوڑے کے نزدیک پہنچنا۔ لِلْاَمْرِ - کسی چیز کی طاقت رکھنا اور اس پر قادر ہونا۔ عِنْدَهُ - کسی چیز سے عاجز ہونا۔
 تَفَارَنَ الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔
 اِقْتَرَنَ - الشَّيْءُ بِغَيْرِهِ - کسی چیز کے ساتھ متصل ہونا۔
 اِسْتَقْرَنَ - الدَّمْلُ - پکنا اور بھوڑے کے قریب ہونا۔ الدَّمُ فِي الْعُرْقِي - خون کا رگڑیں زیادہ ہونا۔ الرَّجُلُ لِلْاَمْرِ - کسی کام کی قدرت رکھنا۔
 يَفْلَانِ - کسی کے برابر مرتبہ والا ہونا۔
 الْقَرْنُ - سینگ۔ الْقَرْنُ فِي الْاِمْتِنَانِ - انسان کے سر کی وہ جگہ جہاں جانفہ کے سینگ لگتے ہیں۔ قَرْنُ الشَّمْسِ - آفتاب نکلنے وقت جو کہیں ظاہر ہوں الْقَرْنُ مِنَ الْمَطَرِ - بارشوں کا نور سے پڑھنا۔ هُوَ عَلَى قَرْنِي - وہ میرا ہم عمر ہے۔ الْقَرْنُ - ایک سو سال کا عرصہ۔ ایک زمانہ کے لوگ ایک امت کے بعد دوسری امت۔ زمانہ کا وقت۔ جہاں قَرُونٌ - الْقَرْنُ

بھوٹا پہاڑ۔ پہاڑ کی چوٹی۔ قلعہ۔ عورت کی بلفت۔ الْقَرْنُ مِنَ الْجَوَارِحِ - ٹڈی کے سر میں جو دو بال ہوتے ہیں۔ درخت کی پھال سے مٹی ہوتی رسی۔ بال یا اون کا مجموعہ۔ جہاں قَرَانٌ وَ قَرُونٌ - الْقَرْنُ مِنَ الْقَوْمِ - قوم کا سردار۔ مِنَ السَّيْفِ وَ نَحْوِهِ - تلوار وغیرہ کی دھار۔ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَ قَرْنَانَةٌ - شیطاں کے تابع لوگ۔ وَجْهَةُ الْقَرْنِ - گینٹا۔ ذُو الْقَرْنَيْنِ - اسکندر شاہ مقدونیہ کا لقب۔ مَنْدَابِنُ مَا رِ السَّمَاءِ كَالْقَبِ - الْقَرْنُ - ہمسرہ مقابل۔ شجاعت یا علم میں نظیر۔ جہاں قَرُونٌ وَ اَقْرَانٌ - الْقَرْنُ - جہاں اَقْرَانٌ - کسی کے ساتھ ملا ہوا۔ وہ رسی جس سے دو اونٹ باندھے جائیں۔ تَرَكْشُ - جہاں قَرَانٌ - تلوار۔ تیر۔
 الْقَرَانُ - وہ رسی جس سے قیدی کو باندھا جائے۔ رسی جو بیل کی گردن میں باندھی جاتی ہے۔ اونٹ کو کھینچنے کی رسی۔ جہاں قَرْنٌ - الْقَرْنَةُ - ہر چیز کا بلند کنارہ۔ تلوار یا نیزہ کی دھار۔ جہاں قَرْنٌ - الْقَارِنُ - فاعل۔ رَجُلٌ قَارِنٌ - وہ شخص جس کے پاس تلوار اور تیر دونوں ہوں۔
 الْقَرْنَيْنِ - متصل۔ ملا ہوا۔ مَطَابِعُ - قَبِيحٌ غَاوِنٌ - لَبْسٌ - جہاں قَرْنَانٌ - الْقَرْنَيْنِ الْعَيْنِ - سرسوال آنکھ۔
 الْقَرَانِي - متصل۔ تانت جو اونٹ کی کھال سے بنائی گئی ہو۔ جَاوُزُ اَقْرَانِي - وہ جمع ہو کر آئے۔
 الْقَرِينَةُ - قریب کی ٹوٹ۔ زوجہ۔ نفس۔ قَرِينَةُ الْكَلَامِ - وہ چیز جو مراد و

مقصود کو متعین کرے۔ ج۔ قرآئین
 دور قرآئین۔ ایک دوسرے کے
 بالمقابل مکانات۔
 القرآن۔ کاپی کی شیئی۔
 القرون۔ کھاتے وقت ایک دم دوتے
 کھانے والا۔ وہ جہان جس کے پھلے کمر
 لگے کھروں کے نشانات پر پڑیں۔ بیٹھے
 میں دونوں گھنٹیوں کو ملانے والی اونٹنی۔
 والقرون۔ نفس۔
 الاقرب۔ جس کے سینگ ہوں۔ ملی ہوئی
 ابروؤں والا۔ مؤنث قرناء۔ حیثہ
 قرناء۔ ایک قسم کا سانپ جس کے سر میں
 دو اچھار ہوتے ہیں۔
 القریبنا۔ لوبیا۔
 المہقرن۔ بیلوں کے کدھوں پر رکھنے
 کا جوا۔
 المقرون۔ دھاروار۔ اچھا والا۔ وہ چیز جس
 کے لیے سینگ کے مشابہ کوئی چید
 بنائی جائے۔
 المقرونات۔ مقرون کی مؤنث۔ ایک ذوسری
 سے متصل چھٹی پہاڑیاں۔
 القرنبی۔ لیے بیروں والا گبرلا کے مشابہ
 ایک کیرا۔ عرب میں ضرب المثل ہے کہ
 القرنبی فی حین ایما حسمتہ
 قرنبی جیسا بد صورت بھالہنی ماں کی نظر
 میں حسین ہے۔ قرنس و قرنس
 ابازوی۔ باز کو پکڑنے کے بعد اس کی
 آنکھیں سی دینا۔ قرنس الیدیک
 مرغے کا اپنے مقابل کی جنگ سے
 بھاگ جانا۔
 القرناس و القرناس۔ پہاڑ کے آگے کا
 نکلا ہوا حصہ۔ کاتنے کا کلا۔ سقفت
 مقرنس۔ وہ صحت جو زین کی ہیئت
 پر بنائی ہوئی ہو۔
 القرفل و القرفول۔ لنگ۔ واحد

القرفلة و القرفولة۔ ایک
 خوشبودار باغی پودہ۔
 المقرفل۔ من الاطعمة۔ لنگ ڈالا
 ہوا کھانا۔
 قیرا کھارہ۔ تقرة جلدی۔ مار کی
 زیادتی سے کھال کا چھل جانا یا نیل پڑ
 جانا۔ داہلی کثرت کی وجہ سے جلد کا
 سورخ دار ہونا۔ صفت اقرکا۔
 مؤنث قرہاء۔ ج۔ قرقا۔
 القارکا۔ رفاعل، من الجلد۔ خشک
 کھالی۔
 قرا ایقرو قروی۔ کسی کا ارادہ
 کرنا۔ بالر مخرج جلا نا۔ کسی کے نیزہ
 مارنا۔ صفت قارب۔ ج۔ قراق و
 قاروت۔ مؤنث قاریہ۔ ج۔ قبار و
 قاریات۔
 قری واقتری واستقری۔ الامر۔
 تلاش کرنا۔ استقری الدمل۔ ذنب
 میں پیپ پڑنا۔
 اقروی القواء۔ پیپ کے دروں کی شکایت ہونا۔
 القوا۔ پیپ۔ ج۔ اقراء و قیدان۔
 لوکی یا کدو۔
 القرو۔ نہر کی طرح لیا حوض جس سے اونٹ
 پانی پیس۔ زمین جو طے نہ کی جا سکے۔
 کو لھکا ہونالی جس سے تیل پکنا ہے
 چھوٹا برتن۔ کھجور کے درخت کا تہ جس
 کو کھو کر ٹیپہ بناتے ہیں۔ کروی کا پیالہ
 بانس جو کھوکھلا ہو۔ وہ چیز جو ایک ہی
 طریقہ پر ہی محاورہ ہے کہ کز کز
 قروا و اجندا۔ میں نے ان کو ایک
 ہی طریقہ پر چھوڑا۔ قھیند تان علی
 قرو و اجند۔ ایک ہی روی پر وہ
 قصیدے۔ کزکت الارض کزق۔
 بارش نے زمین ایک جگہ بنا دیا۔
 اصبت الارض قروا و اجندا۔

زمین کی سطح کا پانی میں چھپ جانا۔ ج۔
 قرو و اقراء و اقرو قری۔
 القرو و القرو۔ خستین کی کھال کی
 کھاوٹ۔ کزوک العایس۔ سر کا
 کنارہ۔
 القرو و القرو و القرو و القرو۔
 کتے کے پانی پینے کا برتن۔
 القرواء۔ عادت۔ کون۔ ناقہ قرواء۔
 لمبی کوبان والی ناقہ۔ جہنم اقروی
 نہیں کہا جاتا۔
 القروان۔ کمر وسط۔ ج۔ قروانات۔
 القروان۔ خستین کی کھال کی کھاوٹ
 کا مرین۔
 القروی۔ عادت۔ رجع الی قرواء۔
 اپنے پہلے طریقہ پر لوٹ جانا۔
 القروی۔ ہر چیز جو ایک ہی طرز پر ہو۔
 قروی القصیدہ۔ قصیدہ کی روی۔
 المقری۔ ٹیلوں کا سر یا اونچا حصہ۔ ج
 مقارب۔
 المقروی۔ لمبی پیٹ والا۔ شقا
 مقرو۔ بکری جس کے سر پر دو شاخ
 لکڑی لگا دیتے ہیں تاکہ اپنا دودھ نہ
 پی سکے۔
 قری یقروی قری و قراء۔ الضیف
 ہمان ماری کرنا۔ کروی و قریا۔ الماء
 فی الحوض۔ پانی کو حوض میں جمع کرنا۔
 البعیر و کل ما اجکرت۔ اونٹ یا
 جگالی کرنے والے جانور کا جگالی کو جڑے
 میں جمع کرنا۔ الجرح۔ پھوٹے کا
 پھوٹنا۔ المدا فی الجرح۔ پیپ
 کا جمع ہونا۔ قری فی شد قہ
 جورو۔ اپنے جڑے میں اخروٹ
 چھایا۔ قری یقروی قری و
 قریا و قری و استقری۔
 البلاد۔ شہروں کو تلاش کرنا۔ گورنا۔

آقزی (قزح) گانوں کو لادہ پکڑا۔ الشیء
 کسی چیز کو لادہ پکڑنا اور اصرار کرنا۔ و
 اشتغری۔ مبیعت طلب کرنا۔
 اقتری۔ معافی طلب کرنا۔ العقیقت۔
 مہانداری کرنا۔ البلاذ۔ سفہر کی
 جستجو کرنا اور ان میں گھومنا۔ اقتری
 فلا تا یقولہ۔ تلاش کرنا۔
 القری۔ وہ کمانا جو مہمان کے سامنے پیش
 کیا جائے۔ وہ پانی جو عرض میں جمع کیا
 جائے۔
 القریۃ والقریۃ۔ جائداد۔ بڑی بستی۔
 جماعت و گروہ۔ جو۔ قومی و قری
 اس کی طرف نسبت قروبی و قریبی
 ہے۔ قریۃ النمل۔ چیتھیوں کا
 مٹی کا گھر۔ قریۃ الأنصار۔ مدینہ منورہ
 القریۃ۔ مکہ معظمہ اور طائف۔
 القریۃ۔ گاڑھا دودھ۔ بیلہ کی جانب سے
 بارخ میں جانے والی پانی کی نالی۔ پانی
 کی چھوٹی نالی۔ جو۔ آقزیۃ و اقزاع
 و قریان۔
 القریۃ۔ لاشی، چیتھی کا گھر۔ بادبان کی
 وہ لکڑی جو عرضاً اوپر سے رکھی جاتی
 ہے۔ جو۔ قزایا۔
 القاری (فاعل) گافل کا ساکن۔ حجاج
 کل قاری و باجہ ہر شہر اور دیہات کا
 ساکن آیا۔
 القاریۃ۔ قاری کی مؤنث ہے۔ لوگوں
 کے مجمع سے بھرا ہوا مکان۔ تلوار کی دھا
 نیزہ کا زیریں یا بالائی حصہ۔ جو۔ قزایہ
 قزایہ اللہ۔ خدا کے ایسے اور شہداء
 و القاریۃ۔ ایک پرندہ جس کی
 ٹانگیں چھوٹی، چرخ لمبی اور پیٹہ سبز
 ہوتی ہے۔ جو۔ قزایہ و قزایہ۔
 القزاع۔ وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوں۔
 جو۔ قزایات۔

المقزی والمقزاع۔ وہ جگہ جہاں بارش
 کا پانی جمع ہو جائے۔
 المقزی والمقزاع۔ مہانوں کی میزبانی
 کرنے والا۔ بہت مبیعت کرنے والا۔
 مؤنث مقزاع و مقزاع۔ المقزعی
 والمقزاع۔ وہ پیالہ جس میں مہمان
 کو کھانا پیش کیا جائے۔ جو۔ مقزاع
 المقزعی۔ ماڈیاں۔
 قزقز (ازن من) کو دہنے کے لیے جسم کو
 سکیڑنا۔ کودنا۔ قزقزہ لفسی و
 قزقز عنہ لفسی۔ میرے نفس
 نے اس کو مکروہ اور برا جانا۔ قزقز
 و القزقز من الدائس و کل ما
 یستقدر ویستحب۔ نفرت کرنا
 بچنا۔ مکروہ جانا۔
 القزقز۔ ریشم کا کویا۔ دود القزقز۔ ریشم
 کا کپڑا۔ جو۔ قزقز (مکر و خیل ہے)
 القزقز و القزقز و القزقز و القزقز
 مکروہ چیز سے بچنے والا۔ عرب کا محاورہ
 ہے۔ ما فی طعامہ قزقز و لا قزقز و
 لا قزقز۔ اس کے کھانے میں کوئی
 قابل نفرت چیز نہیں ہے۔
 القزقز۔ بڑا اڑھما۔ القزقز (فاعل)
 شیطان۔
 القزقز۔ چھوٹی شیشی، طعصہ۔
 القزقز۔ تاج ریشم۔ ریشم کے کپڑوں کی
 پرورش کا ماہر و لغت عالمیہ۔
 قزقز (قزقز) القزقز۔ ہانڈی میں
 مصالحہ ڈالنا۔ الشیء۔ بلند ہونا۔
 قزقز و قزقز۔ القزقز جو پیش
 سے ہانڈی کے پانی کا پلے ہونا۔
 قزقز قزقز (قزقز) و قزقز۔ القزقز
 ہانڈی میں مصالحہ ڈالنا۔ قزقز
 الحدیث۔ بات کو زینت دینا اور
 بلا کوئی جھوٹ ملائے اس کی تکمیل کرنا۔

قزقز الشیء۔ درخت کی جڑ میں
 نشوونما کے لیے پیشاب ڈالنا۔
 قزقز۔ النبات او القبیح۔ نباتات
 یا درخت میں بہت سی شاخیں پھولنا۔
 القزقز۔ کتے کا پیشاب۔ مصالحہ۔ قزقز
 قزقز و قزقز قزقز۔ آسمان کی
 تیرکان۔ دھنک۔ قزقز کو اگر
 قزقز کی تقدیر پر لیا جائے، تو
 منفرد ہوگا اور اگر علم معدول کی
 تقدیر پر لیا جائے تو غیر منفرد ہوگا۔
 نیز اس کو قوس سے جدا کر کے استعمال
 نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ قزقز
 قزقز ما آیین قوسہ کفاجائز
 نہیں۔
 القزقز۔ مصالحہ۔ تخم پیاز۔ سانپ کا پاخانہ
 جو۔ اقزاع۔
 القزقز۔ قوس قزح کی ایک کثیر۔ جو۔
 قزقز۔
 القزقز۔ مصالحہ فروش۔
 القزقز (فاعل) سب قزقز۔ جنگا
 بہاؤ۔ مؤنث قزقز۔ جو۔ قزقز۔
 قزقز الماء پانی کے پلے۔
 القزقز۔ مصالحہ کے اجزاء۔
 القزقز۔ مصالحہ رکھنے کا برتن۔
 قزقز قزقز (قزقز) دیر کرنا۔ القزقز۔
 ہرن کا خوف نہہ جو کبھی گلابا افساد
 میں سے ہے۔
 قزقز القزقز۔ کسی کی طرف قاصد
 بھیجا۔ القزقز۔ گھوڑے کو دوڑوانے
 کے لیے تیار کرنا۔ الشارب۔ ٹوچوں
 کا کاٹنا۔ القزقز۔ گھوڑے کا تیسر
 دوڑنا۔ رأسہ۔ سر کو موٹنا اور
 اس کے آس پاس کا حصہ باقی رہ جانا۔
 قزقز۔ اقزاع۔ کسی کام کے
 لیے عالی کر دینا اور کسی کام میں نہ لگانا۔

أَقْرَمٌ كَذَا فِي الْقَوْلِ - کلام میں کسی پر زیادتی کرنا۔
 تَقْرَمٌ - الرَّأْسُ - سر کا درمیان سے منڈ جانا اور اطراف سے رہ جانا۔
 الْقَرْمُ - دوتے کے لیے تیار ہونا۔
 الْقَوْمُ - متفرق ہونا۔ السَّحَابُ - بادل کا پھٹ جانا۔
 الْقَرْمُ - بادل کے چھوٹے اور متفرق ٹکڑے چھوٹے اونٹ - کچھ بالوں کا موٹنا اور کچھ چھوڑ دینا۔ وادی کا کوڑا کرکٹ۔
 قَزَمُ السَّهْوِ - تیر کے پر کا پتلا حصہ ہر وہ چیز جو مختلف چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں ہو۔ اس کا واحد قَزْعَةٌ ہے۔
 الْقَزْعَةُ - وَلَدُ الزَّانَا - بادل کا ایک ٹکڑا۔
 سر کا حصہ جس کے بعض بال کاٹے گئے ہوں اور بعض بال چھوٹے گئے ہوں۔ مَا عِنْدَكَ قَزْعَةٌ - اس کے پاس کپڑے کا ٹکڑا ایک نہیں۔
 الْقَزْعَةُ وَالْقَزِيْعَةُ - بالوں کا وہ مجموعہ جو چوٹی کی طرح بچے کے سر پر چھوڑ دیا جائے خواہ بیچ میں یا اطراف میں۔
 الْقَزَامُ - کپڑے کا ٹکڑا۔ مَا فِي السَّمَاءِ قَزَامٌ - آسمان میں ابر کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں۔
 الْأَقْرَمُ - مِنَ الْكِبَائِشِ - وہ خیل ہا جس کی صوف ریح میں کہیں سے اکر گئی ہو اور کہیں باقی رہ گئی ہو۔
 الْمُقْرَمُ - ہلکا۔ تیز رفتار۔ وہ شخص جس کے سر پر چند متفرق بادل ہوں۔ وہ خوشخبری دینے والا شخص جو صرف خوشخبری کے لیے فارغ کر لیا گیا ہو۔
 - مِنَ الْغَيْلِ - ہلکی پیشانی والا گھوڑا۔ رَجُلٌ مُقْرَمٌ - وہ شخص جس کا تمام مال ہلاک ہو جائے اور

اس کے پاس صرف چھوٹے اونٹ رہ جائیں۔
 قَزَلٌ قَزَلًا وَقَزَلًا تَارِعًا، كَوْدَانًا، لَنْكَرًا كَرَجَلًا۔
 قَزَلٌ قَزَلًا وَس، لَنْكَرًا هُونًا - صفت آقَزَلٌ - الْقَزَلُ - بست بڑی لنگڑا ہٹ۔
 قَزَمٌ قَزَمًا رَضًا، عَيْبٌ لَغَانًا۔
 قَزَمٌ قَزَمًا رَسًا، كَيْبَةٌ وَلَيْمٌ هُونًا۔
 تَقْرَمٌ - سختی سے معاملات میں گھس جانا۔
 الْقَزْمُ - کینگی، خست - کوتاہی، گھٹیا مال - کینہ آدمی (واحد و جمع و مذکر و مؤنث سب کے لیے کیونکہ یہ مصدر ہے) محاورہ میں کہا جاتا ہے هُوَ لَأَعْرَبُ قَزْمٌ قَزْمٌ مَا فِيهِمْ كَرَمٌ - یہ کینہ قوم ہے، اس میں شرافت نہیں ہے، کبھی کبھی اس کا تشبیہ و جمع و مؤنث بھی بنائے جاتے ہیں۔ اور رَجُلٌ قَزَمٌ وَرَجُلَانِ قَزَمَانِ وَامْرَأَةٌ قَزَمَةٌ وَرَجَالٌ قَزَمٌ وَاقْرَامٌ وَقَزَامِي وَنِسَاءٌ قَزَمَاتٌ الْقَزْمُ وَالْقَزْمُ وَالْقَزْمُ - کینہ آدمی مؤنث قَزَمَةٌ وَقَزَمَةٌ وَقَزَمَةٌ قَزَمَةٌ وَقَزَمَةٌ۔
 الْقَزْمُ وَالْقَزْمُ - بہت قامت۔ جس سے کہیں خیر نہ پہنچے۔ ج۔ قَزْمٌ وَقَزَامٌ - رَجُلٌ قَزْمٌ - گھٹیا آدمی۔
 امْرَأَةٌ قَزَمَةٌ - بہت قد عورت۔
 الْقَزَامُ - کینے لوگ۔
 الْقَزَامُ - وہ شخص جس پر کوئی غالب نہ آسکے۔ اچانک موت۔ سُوْرَةٌ أَقْرَمٌ - مروای ہو قدیمی نہ ہو۔
 الْقَزْمَلُ - کوتاہ قد۔ بد صورت۔
 قَزَا يَقْرُو لَقْرًا - الارض بَعْصَاءَ - زمین کو گریدنا۔ الرَّجُلُ - عیب سے

دور ہونا۔ قَرِهٌ كَهَيْلًا۔
 أَقْرَمِي - صاف ہونے کے بعد عیب دار ہو جانا۔
 الْقَزْمَةُ - سانپ۔ عرب کا ایک کھیل۔ ج۔ قَزَاتٌ۔
 قَزَمِي - الرَّجُلُ - آدمی کو پچھلانا۔ قتل کرنا۔
 الْقَزْمِي - لقب۔ محاورہ ہے کہ يَنْسُ الْقَزْمِي هَذَا - یہ لقب بُرا ہے۔
 قَسَّ قَسًّا وَقَسًّا وَقَسًّا دَنًا، خَنْجَلٌ خَدْمِي كَرْنَا - الْقَوْمُ - بڑے کلام سے قوم کو تکلیف پہنچانا۔ قَسًّا - السَّيْرُ - چلنے میں تیزی کرنا۔ مَا عَلَى الْعَطِيَّةِ هُدًى كَمَا عَلَى الْغَطِيَّةِ هُدًى - ہڈی کا مغز نکالنا۔ قَسَسَ الْإِبِلَ - اونٹوں کو اچھی طرح چرانا۔ قَسَّ وَتَقَسَّسَ - اشیء - کسی چیز کی جستجو اور طلب کرنا۔ محاورہ ہے تَقَسَّسَ أَصْوَاتَهُمْ بِاللَّيْلِ - رات میں چپکے سے ان کی آوازیں سنیں۔ قَسَّ جَسَسَ قَسًّا وَقَسِيْسَةً - راہب ہو جانا۔ پادری بن جانا۔
 رَقَسَ الرَّسَدُ بِشِرْكَائِهِ خَوْرًا كَمَا تَلَّاشُ كَرْنَا - النَّاقَةُ - ناقہ کا تنہا چرنا۔
 الْقَسُّ - پادریوں کا ایک درجہ جو شماس اور اسقف کے درمیان میں ہے۔
 كَاهِنٌ - ج۔ قَسُوْسٌ - وہ اونٹ والا جو اونٹ سے علیحدہ نہ ہو۔ پالا۔
 الْقَسُّسُ - عقلا، ماہرین۔
 الْقَسَّاسُ - سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ ارمینیا کا ایک پہاڑ جس میں لوسہ کی کان ہے سَيُّوْفٌ قَسَّاسِيَّةٌ - اسی کی طرف نسبت ہے۔
 الْقَسَّاسُ - چغندر۔
 الْقَسِّيْسُ - پادری۔ راہب ج۔ قَسَّانٌ وَ قَسِّيْسُونَ وَأَقْسِيَّةٌ وَقَسَّاسَةٌ۔

القَيْبِيُّ مِنَ الدَّرَاهِيْرِ كَهَوْنِ دَرَاهِمٍ
 الْقَيْبَةُ: هَيُّوَانٌ كَانُوا
 الْقُسُوسَةُ وَالْقَيْبِيَّةُ: بِادِي كَاهِنَةٍ
 يَا حَالَتِ -
 قَسَبٌ قَسْبَارَةٌ، الْمَاءُ: بِأَنَّهُ يَأْتِي كَالْبَهْرِ
 جَانَا - الشَّمْسُ: سُرُوحٌ كَالْحَبْنَاءِ
 مُشْرَعٌ هَوْنًا -
 قَسَبٌ قُسُوبًا وَقُسُوبَةٌ رُكْنٌ، الشَّيْءُ
 سَخْتٌ هَوْنًا -
 الْقَسْبُ: سَخْتٌ، يَهْوَسُ نَخْشَكٌ كَهَجْرٍ جَوْ
 مِنْهُ رِيْزَةٌ رِيْزَةٌ هَوْنًا - وَاحِدٌ
 قُسْبَةٌ -
 الْقَسَايَةُ: رُودِيٌّ كَهَجْرٍ -
 الْقُسُوبُ: مَوْزَةٌ
 الْقَسْبُ وَالْقَيْبِيُّ: بِرَجِيْزٍ مَوْزِيٍّ
 أَوْ طَوِيلٍ هُوَ -
 قَيْبِيُّ الْمَاءِ: بِأَنَّهُ يَأْتِي كَالْبَهْرِ
 قَسَعٌ قَسَاعَةٌ وَقُسُوحَةٌ رُفٌّ، سَخْتٌ
 هَوْنًا - الْحَيْلُ: رَسِيٌّ هَوْنًا -
 قَاسِحَةٌ: سَخْتٌ أَوْ خَشْيَةٌ كَالْحَيْلِ
 الْقَاسِيَةُ وَالْقَاسِحُ وَالْقَسُوحُ: سَخْتٌ
 يَهْوَسُ: كَوَيْبٌ قَاسِيَةٌ كَالْحَيْلِ
 رُمْعٌ قَاسِيَةٌ: سَخْتٌ أَوْ مَضْبُوطٌ نِيْزَةٌ -
 قَسْرٌ قَسْرًا رَضٌ، وَاقْتَسَرَ عَلَى الْأَمْرِ
 كَسِيٌّ بِرَجْمٍ كَرْنَا: خِلَافٌ مَضْبُوطٌ
 قَسُورٌ الرَّجُلُ: مَعْمَرٌ هَوْنًا - الْبَيْتُ: سَبِيْزِيٌّ
 كَالْبَكْرِتِ هَوْنًا
 الْقُسُورُ وَالْقُسُورَةُ: غَالِبٌ، شِيْرٌ
 مَضْبُوطٌ: بِهَادِرٍ لَاحِكًا - جَرٌّ - قَسَاوِرٌ
 وَقَسَاوِرَةٌ: الْقُسُورَةُ: رَاتٌ كَالْحَيْلِ
 الْكُرْحَصُ: أَيْ مِيْدَانِيٌّ عِلَاقَةٌ كَالْحَيْلِ
 جَرٌّ - قَسُورٌ -
 قَسَطٌ قَسَطًا وَقُسُوطًا رَضٌ، حَتَّى يَسِيْرَ
 تَجَاوَزَ كَرْنَا: حَتَّى يَكُونَ خِلَافٌ كَرْنَا
 قَاسِطٌ هُوَ: جَرٌّ قَاسِطٌ قَاسِطُونَ

قَسَطٌ قَسَطًا رَضٌ، وَاقْسَطَ
 الْوَالِي: عَادِلٌ هَوْنًا: يُوَلَّجَاتَانِ هُوَ
 اقْسَطَ فِي حُكْمِهِ وَاقْسَطَ بَيْنَهُمْ
 وَالْيَهُودُ: رَانَافٌ كِيَا، وَ
 اقْسَطَتِ الْوَيْجُ الْعِيْدَانُ: هُوَ
 كَالْمَرْوِيِّ كَوَيْجُ كَرُونَا -
 قَسِطٌ قَسَطًا رَضٌ، الْعَنْقُ: كَرُونٌ
 كَالنَّخْلِ هَوْنًا - الدَّائِلَةُ: جَانُوْرُكِيٌّ
 ثَانِيٌّ سِيْدِيٌّ هَوْنًا: قَسُوطًا: الْعِظَامُ
 لَازِمِيٌّ سِيْدِيٌّ كَالنَّخْلِ هَوْنًا -
 قَسَطَ الشَّيْءُ: يَتَفَرَّقُ كَرْنَا: الْأَعْدَاْسُ
 يُوْدُوْنَ كِيَا بَرَابَرٍ مَقْرَهٌ فَاصِلَةٌ
 جَهْرًا: الدَّائِنُ: قَرْضٌ كَالْقَسَطِ
 مَقْرَهٌ كَرْنَا: يُوَلَّجَاتَانِ قَسَطَ الْخِرَاجُ
 عَلَيْهِمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ: اِنْ كَرْنَا
 دَرْمِيَانِ مَالٍ أَوْ مَحْصُولِ كِيَا قَسَطَ مَقْرَهٌ
 كِيَا هُوَ: قَسَطَ عَلَى عِيَالِهِ: اِنْ دَرْمِيَانِ
 عِيَالٍ بِرَتْنِ كَرْنَا -
 اقْسَطَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ: مَالٌ كَوَيْجُ كَرْنَا
 دَرْمِيَانِ تَقْسِيْمٍ كَرْنَا -
 تَقْسَطَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ: كَوَيْجُ كَرْنَا
 مَسَاوِيٌّ طَوْرًا تَقْسِيْمٍ كَرْنَا -
 الْقِسْطُ: اِنْصَافٌ: هُوَ أَوْ هُوَ قَسِطٌ
 وَهُوَ عَادِلٌ هُوَ: حَصْرٌ مَقْرَهٌ
 مَقْدَارٌ: مِيْزَانٌ - اِنْصَافٌ صَارِعٌ كَالْبِيَانَةِ
 رِزْقٌ: قَرْضٌ كِيَا قَسَطٌ: جَرٌّ - اقْسَاطٌ
 الْقُسُطُ: أَيْ دَوَا كَانَامٌ كَوَيْجُ - هُوَ قَسِطٌ
 الرَّجُلِ وَقَسِطُهَا: سَخْتٌ أَوْ
 سِيْدِيٌّ بِأَوَّلِ وَالْجَسْرِ كِيَا
 جَلِيٌّ مِيْزَانٌ هُوَ
 الْقَسِطُ: اَعْضَاؤُهَا خَشْيَةٌ أَوْ سَخْتٌ -
 الْاَقْسَطُ: بِيْلِيٌّ كَرُونٌ وَالْاَبُوْنَةُ قَسَطًا
 جَرٌّ: قَسِطٌ: رَجُلٌ قَسِطًا: يُوَلَّجَاتَانِ
 بِأَوَّلِ - عَنْقٌ قَسِطًا: بَخْشِكٌ كَرُونٌ
 رُكْبَةٌ قَسِطًا: وَهُوَ كَالْحَيْلِ بَخْشِكٌ

اور سخت ہو جائے اور مڑنے کے ج
 قَسَاطٌ -
 الْقَسَطَانُ: غُبَارٌ -
 الْقُسَطَانُ وَالْقُسَطَانَةُ وَالْقُسَطَانِيُّ
 وَالْقُسَطَانِيَّةُ: قَوْسٌ - قَرْحٌ وَصَنْكٌ
 الْمُسَطُّ: عَادِلٌ: خَدَا كَانَامٌ -
 قَسَطَرٌ اَلدِّرْهَمُ: دَرِهْمٌ كَوَيْجُ كَرْنَا -
 الْقُسَطُ وَالْقُسَطَارُ: غَيْرُ مَعْمُولٌ ذِيْنٌ -
 الْقُسَطَرِيُّ: دَرِهْمٌ كَوَيْجُ كَرْنَا: اَلْاَنْهَاتِ
 زِيْرُكٌ وَعَقْلَمِدٌ: عَظِيْمٌ اَلْجَسَدُ - جَرٌّ -
 قَسَاطِرَةٌ -
 الْقُسَطَانُ وَالْقُسَطَانُ: تَرَاوُزٌ -
 الْقُسَطُ وَالْقُسَطَالُ وَالْقُسَطُولُ
 وَالْقُسَطَلَانُ: رِثَاوِيٌّ مِيْلِيٌّ
 وَالْاَنْهَارُ: جَرٌّ - قَسَاطِلٌ: اَمْ قَسَطِلٌ
 حَادِثَةٌ مَوْتٌ: نَحْمٌ قَسَطَالٌ: وَهُوَ نَهْرٌ
 جَسْرِ كِيَا اَوَّازٍ پِيْدَا هُوَ -
 الْقَسَطَلَةُ: اَوْنَتٌ كِيَا بِلَا مِيْثُ -
 قَسَطَلَةُ الْمَاءِ: بِأَنَّهُ يَأْتِي كَالْبَهْرِ
 اَوَّازٌ: قَسَاطِلُ الْعَيْلِ: كَوَيْجُ
 كِيَا اَوَّازٍ -
 الْقَسَطَلَانِيَّةُ: شَفَقٌ كِيَا سَرْحِيٌّ - غُبَارُ كِيَا
 كَثْرَتٌ - وَالْقَسَطَلَانِيُّ: وَصَنْكٌ
 قَوْسٌ: قَرْحٌ
 قَسَمَ قَسْمًا رَضٌ، الشَّيْءَ: تَقْسِيْمٌ كَرْنَا -
 الدَّهْرُ الْقَوْمُ: زَمَانَةٌ كَوَيْجُ كَرْنَا
 كَرُونَا - فُلَاوٌ اَمْسَةٌ: اِنْجِيْمٌ كَامٌ
 تَحْمِيْنَةٌ كَرْنَا: كَامٌ كَانَا زَمَانَةٌ كَرْنَا
 طَرَحٌ كِيَا جَانَا -
 قَسَمَ قَسَامَةً: الْفَلَامُ: لُكَّةٌ كِيَا
 حَيْبٌ وَجَمِيْلٌ هُوَ -
 قَسَمَ الشَّيْءَ: كِيَا جِيْرٌ كَوَيْجُ كَرْنَا
 لُكَّةٌ كَرْنَا: قَسَمَ الدَّهْرُ الْقَوْمُ -
 زَمَانَةٌ كَرْنَا: قَوْمٌ كَوَيْجُ كَرْنَا: الشَّيْءُ
 كِيَا جِيْرٌ كَوَيْجُ كَرْنَا: اَوَّازٌ

قاسمہ المال۔ ہر ایک کا اپنے حصہ کو لینا
قاسمہ علی کذا۔ کسی کو کسی امر پر
قسم دینا۔

اقسم بالله۔ خدا کی قسم کھانا۔
تقسّم الشيء۔ کسی چیز کو متفرق کرنا۔
الشيء متفرق ہونا۔ تقسمتہ
المہموم۔ رنجیل کا کسی کو پرگندہ خاطر
کردینا۔ تقسم فلان۔ دو معاملوں
کے درمیان غور و فکر کرنا۔

تقاسم القوم۔ باہم قسم کھانا۔ واقسم
القوم المال۔ مال میں سے ہر ایک کا
اپنے حصہ کو لینا۔

التقسّم منقسم ہونا۔
استقسم۔ تقسیم طلب کرنا۔ دو امور کے
درمیان غور و فکر کرنا۔
استقسم بالله۔ کسی سے خدا کی قسم
لینا۔

القسّم۔ عطیہ۔ رائے، شک، عادت،
خلق، بارش، پانی، بانڈی، قلب میں
ظن پیدا ہونا جو بعد میں یقین تک پہنچ
جائے۔ حصّۃ القسیر۔ وہ ککری
جو عرب سفر کے دوران میں پانی کی کمی
کے وقت کسی تن میں ڈالتے تھے
اور اس پر پانی ڈالتے تھے تاکہ وہ
چھپ جائے۔ پھر اس کو ایک شخص پی
لیتا تھا اور اسی طرح ہر شخص کو دیا جاتا
تھا تاکہ کسی کو کمی یا زیادتی کی شکایت
نہ رہے۔

القسّم۔ تقسیم شدہ چیز کا ایک جزو غیر کا
ایک حصہ۔ جہ اقسام جہ اقسام
القسّم۔ قسم جلت۔ جہ اقسام۔
القسمۃ۔ اقسام کا اسم۔ حصہ۔ جہ
قسّم۔

القسمۃ والقیمۃ۔ حسن، چہرہ۔
والقسیم۔ عطار کی بچی عطر فروش کا

ڈبہ۔ جہ۔ قسّمات و قسیمات۔
القسّام۔ حسن۔ شدت کی گرمی۔

القسّامۃ۔ حسن مصالحت۔ جماعت جو کہ
کسی چیز پر حلف اٹھا کر اس کو لے لے
وہ حلف جو خون کے اولیاء کو دی جائے۔
مجاورہ ہے۔ حکم القاضی بالقسامۃ
یہاں قسامۃ، اقسام کا اسم ہے
جو مصدر کی جگہ رکھا گیا ہے۔

القسّامۃ۔ مال مدقہ۔ وہ جس کو تقسیم
کرنے والا اپنے لیے مخصوص رکھے۔
القسّاجی۔ پہلی مرتبہ پٹے کو پھیننے والا، کہ
اس کی تہ کے نشان پڑ جائیں۔ وہ چیز
جو دو اشیاء کے درمیان ہو۔

القسّام۔ قاسم کا اسم مبالغہ۔
القسیم۔ جہ۔ اقسیماء۔ حصہ منقسم
شے کا ایک حصہ۔ جہ۔ اقسیماء و
قسّماء۔ اپنا حصہ لینے والا۔ جہ
قسّم۔ خوبصورت۔

القسیمۃ۔ ٹونٹ عطر فروش کا ہندوق۔
بازار۔ خوبصورت چہرہ والا۔ جہ
قسائم۔ الاقسامۃ۔ جہ
مقاسیم۔ حصہ۔

الاقسامۃ۔ اقسام کا واحد (لوگوں کے
میان منقسم شدہ حصص)۔
المقسیم۔ تقسیم، تقسیم کی جگہ۔ جہ
مقاسیم۔ صاحب المقاسیم
نائب امیر۔ مل غنیمت کو تقسیم کرنے
والا۔

المقسّم۔ قسم۔
المقسّم۔ بگین۔ خوبصورت، تقسیم شدہ۔
شیء مقسّم۔ مزین و خوبصورت چیز۔
اقسن الرجل۔ کام کی وجہ سے ہاتھوں
کا سخت ہو جانا۔

اقسان۔ اقسینانا و قسانینۃ۔
العود۔ لکڑی کا خشک اور سخت ہو

جانا۔ الرجل۔ عمر رسیدہ اور خشک
ہونا۔ فی العمل۔ کام کو جاری کرنا۔
اللیل۔ اندھیرے کا سخت ہونا۔

المقسین۔ وہ شخص جو جوانی کے آخر اور
بڑھاپے کے اول میں ہو۔
قسا یقسوا قسوا و قسوة و قساة
وقساة۔ سخت اور ٹھوس ہونا۔
فاعل قاس۔ جہ۔ قساة ہے۔

اللیل۔ رات کا اندھیری ہونا۔ الیوم
درہم کا کھوٹا ہونا۔ صفت قسین ہے۔
قسی قسیۃ و اقسی اقسا۔
الشیء۔ کسی چیز کو سخت بنانا۔

قاسی مقاساة۔ الاکم۔ تکلیف اٹھانا
سختی برداشت کرنا۔

القیسی۔ سخت۔ من الدارہم۔ کھوٹا
درہم۔ جہ۔ قسبان۔ عشیۃ قسیۃ۔
ٹھڈی شام۔ یوم او عام قسین۔
سخت دن یا سال بوجہ سوری یا گرمی یا

قسط۔ سیرتاً سیراً قسیاً۔ ہم تیز چلے
ارض قاسیۃ۔ بجز زمین۔ کلیلۃ
قاسیۃ۔ سخت اندھیری رات۔
مجاورہ ہے۔ هو اقسی من الصخر
(وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے)

المقساة۔ وہ چیز جو سخت بنائے۔ بولا جاتا
ہے۔ الذنب مقساة للقلب۔
گناہ قلب کو سخت کرنے والا ہے۔

قسش قسوشارن، لاغری کے بعد ٹھیک
ہو جانا۔ فلان۔ لاغری کی چال چلنا۔
من موصیہ۔ مرض سے تندرست
ہونا۔

قسش قسارن من، النبات۔ نباتات کا
خشک ہونا۔ الشیء۔ کسی چیز کو جمع
کرنا۔ کسی چیز کو ہاتھ سے ہٹانا، تاکہ
ہموار ہو جائے۔ فلان۔ مدق کے
ٹکڑے کھانا۔

قَشَّ قَشًّا (ن من) قَشَشَ - اِدْعُرْ اِدْعُرًا
سے کھانا - قَشَشَهُ بِكَلَامِهِ بِرَأْبِلًا
کہنا - تکیف پہنچانا۔

قَشَّ وَاَقَشَّ وَاَنْقَشَ الْقَوْمَ - جَلَبَانًا
بھاگ جانا - اَقَشَّ مِنَ الْمَرْضَى
تندرست ہونا - اَقَشَّتِ الْاَرْضُ -
زمین کی خشکی زیادہ ہونا - اَنْقَشَ
الْقَوْمَ - متفرق ہو جانا۔

تَقَشَّشَ وَاَقْتَشَّ مَا وَجَدَ - جَوَلَى
اس کو کھا جانا۔

الْقَشَّ - بَرَادُول - رَوَى كَهْجُور - كَوْرَا كَرِطَ -
القَشَّةُ - بندریا اس کا بچہ بچے جسم کی
چھوٹی لڑکی - گریے کی طرح کا ایک کپڑا
تار کول لگانے کا صوف جو بعد از
استعمال پھینک دیا جائے۔

الْقَشِيْشُ - سانپ کی کھال کی رگڑ کی آواز
الْقَشِيْشُ وَالْقَشَّاشُ وَالْقَشَّاشِيْ
راستہ میں پڑی ہوئی چیز جو کسی کو
مل جائے۔

الْقَشَّاشُ - پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھانے
والا - وَاَقَشَّانُ وَاَقَشَّوْشُ
جو حقیرا شیار خوردنی کو اٹھا کر کھالے
اسقَشَّهٗ - بھاڑو۔

قَشَبَ قَشْبًا رَضًا، فَلَانَا السُّمُّ - كَسَى
کوز ہر کھانا - قَشَبَ عَلَيْهِ - بہتان
لگانا - الرَّجُلُ - عار و لانا - عیب جوئی
کرنا - کسی کے حق میں بری بات کہنا -
السَّيْفُ - تلوار کو صیقل کرنا -

قَشَبَهُ الدُّخَانُ - ناک کے سوراخوں
میں دھواں بھر جانا - بولا جاتا ہے
قَشَبِيْ دِيْجَهٗ، اس کی ٹونے مجھے
تکیف پہنچائی - قَشَبَهُ الْمَالُ - مال
کا کسی کی عقل بگاڑ دینا - الشَّيْءُ
خواب کر دینا - قَشَبَ لَهُ - زہر پلانا
قَشَبَهُ يَشِيْرًا - برائی کی طرف منسوب

کرنا کہ اس کے ساتھ مشور ہو جائے
قَشَبَ الرَّجُلُ - تدمت یا تعریف
حاصل کرنا - قَشَبَ دَقَشَبَ الطَّعَامَ
بِالسُّمِّ - کھانے میں زہر لانا -

فَلَانَا يَسُوْرًا - کسی برائی میں ملوث
کرنا - قَشَبَتِ الرَّيْحُ فَلَانًا - بُوْكَ
کسی کو تکیف دینا - قَشَبَ الشَّيْءَ
کسی چیز کو میلا کھیل کر دینا۔

قَشَبَ قَشَابَةً دَكَّ، الشَّيْءَ - پَاكِيْرَهٗ
نغیس ہونا۔

اَقْتَشَبَ - تعریف یا مذمت حاصل کرنا۔
تَقَشَّبَ السَّيْفُ - تلوار پر زنگ چڑھ جانا
اِسْتَقَشَبَهُ - نفرت کرنا۔

الْقَشْبُ - نفس، لہے کا زنگ، سخت
خشک زہر - مِنَ الطَّعَامِ - کھانے
کا وہ حصہ جو اچھانہ ہونے کی وجہ سے
پھینک دیا جائے - ج - اَقْشَابُ
رَجُلٌ قَشَبٌ خَشْبٌ - ناکارہ
آدمی (آخری کلمہ اتبائما استعمال

کیا گیا ہے،

الْقَشْبَةُ - جس میں کوئی خیر نہ ہو، خسیں آدمی
الْقَشْبُ - زہر - ج - اَقْشَابُ -

الْقَشْبُ - جدید - پُرَانَا رَاهِدًا مِّنْ سَعَى
ہے، سَيْفٌ قَشْبٌ - صیقل شدہ یا
زنگ آلود تلوار (راہدہ)

الْقَشِيْبُ - جدید، پاکیزہ - سفید - ج
قَشْبٌ وَقَشْبٌ - سَيْفٌ قَشِيْبٌ
چمکدار یا زنگ آلود تلوار (راہدہ)

الْقَشْبَانِيَّةُ - پرانی چادر -
الْمُقَشَّبُ - غیر خالص، حَسْبٌ مُّقَشَّبٌ وَا
رَجُلٌ مُّقَشَّبٌ الْحَسْبُ - کینہ
حسب کا آدمی۔

قَشَدَ قَشْدًا (ن من) بَرِهَتْ كَرْنَا -
الْقَشْدَةُ - رتیق کھن، ایک بہت
دودھ والی گھاس - وَالْقَشْدَةُ

گھی کا تلچھٹ۔

قَشْرَةُ قَشْرًا (ن من) وَقَشْرًا - كَهَال
یا چھلکا اتارنا - الْقَوْمَ - قوم پر بد فالی
لانا - قَشْرَ قَشْرًا (ن من) مَوْتًا چھلکا
ہونا۔

تَقَشَّرَ وَانْقَشَرَ - چھل جانا۔
اِقْتَشَرَ الرَّجُلُ - برہنہ ہو جانا - صفت
مُقْتَشِرٌ ہے۔

الْقَشْرُ - چھلکا قدرتی ہویا عارضی، جسم کو
چھپانے والا - بَاسٌ - ج - قَشْوَرٌ
وَالْقَشْرُ - ایک بالشت کے برابر
ایک مچھلی ہے - الْقَشْرَانُ - ٹڈی کے
بہر دو بازو - الْقَشْرُ - سخت سُرخی۔

الْقَشْرُ وَالْقَشِيْرُ - بہت چھلکے والا -
تَمْرٌ قَشِرٌ وَقَشِيْرٌ - بہت چھلکے
والی کھجور۔

الْقَشْرَةُ وَالْقَشْرَةُ وَالْقَشْرَةُ - سَطْحٌ
زمین کو چھیننے والی بارش - الْقَشْرَةُ -
شوم و منحوس۔

الْقَشْرَةُ - چھلکا چھال، یہ قشر کے مقابلے
میں زیادہ خاص ہے جیسے قَشْرَةُ
الْبَيْضَةِ -

الْقَاشِرُ - رِغَالٌ مِّنَ الْخَيْلِ كَهَوْدِ مِثْلِ
آخر تک جاری رہنے والا گھوڑا۔

الْقَاشِرَةُ رَمُوْثٌ قَاشِرٌ - بَلِي رِغْلٌ وَرِخْمٌ جَو
کہ کھال کو چھیل دے - وہ عورت جو
اپنے چہرہ کو رگڑے تاکہ اس کا رنگ
صاف ہو جائے۔

الْقَاشِرُ وَالْقَاشِرَةُ - مِّنَ الْأَعْوَامِ -
وہ قحط کا سال جو ہر چیز کو متاثر کر دے
سَنَةٌ قَاشِرَةٌ وَقَاشِرٌ - قحط
والا سال - الْقَاشِرُ - مَنْحُوسٌ -

مِنَ الْخَيْلِ كَهَوْدِ مِثْلِ يَحْمِرُ بِنِي
والا گھوڑا۔
الْقَشَارُ - سانپ کی کھال۔

القَشَارَةُ: وہ کھل جو پھل سے نکلے۔

اتاری گئی ہو۔

الأَقْشُرُ: وہ چیز جس کی کھال اتر گئی ہو۔

وہ شخص جس کی ناک گرمی سے پھل گئی

ہو۔ نہایت سُرخ۔ پھلہری کامریض۔

بہت سوال کرنے والا۔ مِنَ الْأَرْضِ

چکبری زمین۔ مُنْتَقَشُوا: ج

قَشْرٌ: شَجَرَةٌ قَشْوَاءُ: وہ درخت

جس کا بعض حصہ پھلا ہو اور بعض حصہ

پھلا ہوا نہ ہو۔ حَيَّةٌ قَشْوَاءُ: وہ

سانپ جس نے کینچی اتاری ہو۔

القَشُورُ: غازہ۔ اُتْنَا: چہرے کا رنگ

نکھارنے والا مرکب۔

المُقَشَّرُ مَفْعُولٌ، جَوَابٌ مُقَشَّرٌ:

واضح اور ریح جواب۔ رَجُلٌ

مُقَشَّرٌ: برہنہ آدمی۔

المُقَشَّرُ: سوال میں اصرار کرنے والا

قَشْرَةٌ قَشَطَانٌ (ص) لائٹی سے مارنا

قَشَطَ عُنْهُ كَذَا: کھولنا اور اس

سے کپڑے اتارنا۔

قَشَطَ الرَّجُلُ: چھین لینا۔

تَقَشَطَ وَانْقَشَطَ: برہنہ ہوجانا۔

تَقَشَطَتِ وَالْقَشَطَاتُ السَّمَاءُ:

آسمان کا صاف ہوجانا۔

انْقَشَطَ: دودھ یا دہی کی ملائی دھت

عامیاتی

القَشَاةُ: ننگا پن دکشاٹ کا دوسرا اطا

القَشَاةُ: چھین لینے والا۔

المِقَشَطُ: پھلکا اتارنے کا چاقو۔ ج

مَقَاشِطٌ:

المِقَشَطَةُ عِنْدَ الْعَقَادِيِّينَ: ایک آلہ

ہے جس کے ذریعہ عرب کے دھاگوں کی

گہریں درست کی جاتی ہیں۔

قَشَعٌ قَشَاعَاتٌ، الْقَوْمُ بِمُتَفَرِّقٍ وَبِأَكْثَرٍ

كُنَا: قَشَعْتُ وَأَقَشَعْتُ الرِّيْحَ

السَّحَابَ: ہوانے ابر کو منتشر کر دیا

أَقَشَعُ الْقَوْمَ: قوم کا متفرق ہوجانا

أَقَشَعُوا عَنِ الْمَاءِ أَوِ الْمَكَانِ:

پانی یا جگہ سے دور جا پڑنا۔ أَقَشَعَهُ

السَّحَابَ: ابر کا چھٹ جانا۔ بادل کا

صاف ہونا۔

قَشَعٌ قَشَاعَاتٌ، الشَّيْءُ خَشَكٌ هُوَ جَانَا:

النَّقَشُ اللَّيْلُ: رات کا آخر ہونا۔

النَّقَشُ وَتَقَشَعُ السَّحَابُ: ابر کا کھلنا

تَقَشَعُ الْقَوْمَ: قوم کا منتشر ہوجانا۔

النَّقَشُ الْقَوْمُ عَنْ أَمَا كَيْبِهِمْ: قوم کا

اپنی جگہوں سے دور دراز جا پڑنا۔

الهِمَّةُ عَنِ الْقَلْبِ: غم کا دل سے

زائل ہونا۔

القَشَعُ: پرانی پرستین۔ احمق بشر مرغ

کے پر پڑے کا گھر۔ ج۔ قَشُوعٌ:

پرانہ مشکیزہ۔ وہ شخص جس کا گوشت

بڑھاپے کی وجہ سے ٹکنے لگا ہو۔

زنبیل۔ زبجو۔ وہ خشک مٹی جو پھٹ

جائے، خشک کھل۔ ج۔ قَشَعٌ:

القَشَعُ وَالْقَشَعُ: زائل ہونے والا

بادل۔ القَشَعُ وَالْقَشَعُ وَالْقَشَعُ

کھلا کرٹ جو جام میں سے نکالا جائے

القَشَعَةُ: ج۔ قَشَاعٌ وَالْقَشَعَةُ

ج۔ قَشَعٌ: خشک کھال کا ٹکڑا۔

ابر کھل جانے کے بعد جو ابر کا کوئی ٹکڑا

باقی رہ جائے۔ القَشَعَةُ: اسم مرہ

ہے، پرانی پرستین کا ٹکڑا۔ وہ خشک خند

مٹی کا ٹکڑا جو پھٹ جائے، بڑھیا۔

ہوائے شمالی۔

القَشَعُ: خشک، وہ شخص جو ایک معاملہ

پر قرار نہ پکڑے۔ مَشَاةٌ قَشَعَةٌ:

لازکری۔ آراگہ قَشَعَةٌ: گنے

پتوں والا پلو کا درخت۔

القَشَاعُ: پرانا ٹکڑا۔ ہوند

القَشَاعُ: مادہ بچو کی آواز۔

القَشَاعَةُ: ناک کی ریش جو پھینکی جائے

القَشِيْعُ مِنَ الْكَلَامِ: متفرق کلام۔ هُوَ

أَقَشَعٌ مِنْهُ: وہ اس سے اشراف ہے

أَقَشَعَرُ حَيْدَةً: لرزنا۔ سکرانا۔ سخت

اور کھورا ہونا۔ رنگ متغیر ہونا۔ صفت

مُقَشَعَرٌ: ج۔ مُقَشَعِرُونَ و

قَشَاعِيرٌ: أَقَشَعَرَتِ السَّنَةُ:

سال کا بلا بارش اور قحط والا ہونا۔

الأَرْضُ: بارش نہ ہونے کی وجہ سے

زمین کا زیادہ خشک ہوجانا۔ أَقَشَعَرُ

الشَّعْرُ: ڈیریا سردی سے روٹنے لگے

ہوجانا۔

الْمُنْقَشِعُ: کانپنے والا۔

القَشَعِرِيَّةُ: لرزہ بدن۔ کپکپی اشرک

اسم ہے۔

القَشَاعِيرُ: کھورا محسوس ہونے والا۔

القَشَعُ: زیادہ عمر والا آدمی یا عورت یا

گدھ، ہر چیز کا پرانا، بڑا، شیر۔ ج

قَشَاعِمٌ وَقَشَاعِيْمٌ: أُمٌّ قَشَعِيْمٌ

لڑائی، آفت، بچو، موت۔

القَشَاعِمُ وَالْقَشَاعِيْمُ: الْقَشَاعِيْمُ

بڑا مذکر۔ گدھ، عمر رسیدہ آدمی یا گدھ

القَشَاعِمَةُ: درندوں کو پکڑنے کا بچہ نما

آلہ۔

القَشَعُومُ: حقیر الجتہ، چچڑی۔

قَشِفَتْ قَشْفَاتٌ، وَقَشِفَتْ قَشْفَةٌ

رُكٌ، وَقَشِفَتْ: بدمال و تنگ دست

ہونا۔ گندہ بدن والا ہونا۔ صفت

قَشِفَتْ وَقَشِفَتْ وَقَشِفَتْ تَقَشِفَتْ

تنگی سے گند کرنا۔ فِي لَيْسِيَةٍ: لباس کا

پیوند والا اور میلا ہونا۔

قَشِفَتْ اللَّهُ عَيْشَهُ: خدا کا کسی کی

زندگی تنگ اور مشکلات سے پر کر دینا۔

عَامٌ أَقَشِفَتْ: سخت سال۔

قَشَقَشَهُ - مِنَ الْجَرَبِ أَوِ الْجُدْرِيِّ
 قَشَقَشَ - كَهَجَلِي يَأْجِجُكَ سَيْسِي
 كوشقا دینا اور اس کا شفا پانا۔
 الْقَشَقَشَةُ - آگ میں گوشت بھوننے کی
 سناہٹ۔
 قَشَمَ قَشْمًا (ن) الطَّعَامَ - بہت کھانا
 کھانا۔ عمدہ کھانا کھانا۔
 قَشَمَ قَشْمًا (ض) الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ -
 گھر میں داخل ہونا
 اقْتَشَمَ - اِدْرَادِ صِرْفِ كَهَانَا -
 الْقَشْمُ وَالْقَشْمُ - زَمِينٌ فِي مِيْنِ پانی کی نالی
 مُرْخٌ أَوْ رُبَّمَا هُوَ كُوشْتٌ - الْقَشْمُ
 طبعیت، جسم، حال و ہیئت، چربی،
 جڑ۔ ج۔ قَشْمُومٌ -
 الْقَشَامُ وَالْقَشَامَةُ - دَسْتَرُوَانٌ پَرِيچَا
 ہوا بیکار کھانا۔
 الْقَشِيْمُ - خَشْكٌ سَبْزِي - ج۔ قَشْمُومٌ -
 موت۔
 الْمَقَشْمُ - قَشْمٌ كَا سَمِ لَطْرَفٍ مَحَاوِرِهِ
 ہے مَا أَصَابَتْ الْإِبِلَ مَقَشْمًا -
 اونٹ کو چرنے کی جگہ نہ ملی۔
 الْقَشْمُومُ - پست قامت، غلیظ و ٹھوس
 جسم والا۔
 قَشَا يَقْشُوْنَ قَشْوًا وَقَشِي - الْعُوْدُ - كَلْبِي
 کو چیلنا۔ الوجلة۔ چہرہ کو لٹنا۔
 قَشَاةٌ عَنِ حَاجَتِهِ - اس کو اپنی
 ضرورت سے روکا۔
 اقْتَشَى اقْتِشَاءً - مال داری کے بعد
 تنگ دست ہونا۔
 لَقَشِي الشَّيْءُ - كَسِي چِيزًا كَاجْهَلٍ جَانَا -
 الْقَائِي شِيْءٌ - كَهُوْبَا پيسه۔
 الْقَشَاةُ - مَحْرُكٌ -
 الْقَشْوَةُ - كَهُوْرُ كَبْرِيٍّ سَمِي بِنِي هُوِي
 ڈلیا جو عورتوں کے روئی اور خوشبو
 رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ج۔ قَشَاةٌ و

قَشَوَاتٌ -
 الْقَشْوَانُ مِنَ الرَّجَالِ - كَزُوْرَادِي - مُوْنِثٌ
 قَشَوَانَةٌ -
 الْقَشِيُّ مِنَ الدَّرَاهِيْدِ كَهُوْبَا دَرِيْمٍ -
 الْمَقَشُوْمَا لِمَقَشِي - پھیلا ہوا۔
 قَصَّ قَصًّا (ن) الشَّعْرَ وَنَحْوَهُ - بِالْمِيْزِ
 قینچی سے کاٹنا۔ التَّسَابُجُ الثَّوْبُ -
 پارچہ بان کا کپڑے کے زائد دھاگے
 کاٹنا۔ قَصَّةٌ - كَانُ كَالْمَعَالِي حَصْرٌ
 کو کاٹنا۔ مَا يَقْصُ فِي يَدِي شَيْءٌ -
 اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ٹھرتی ہے
 نہ قائم رہتی ہے۔ وَأَقْصَى الْمَوْتُ
 فَلَانًا - مَوْتٌ كَا كَسِي سَمِي قَرِيْبٍ هُوِي جَانَا
 محاورہ ہے کہ قَرِيْبَةٌ حَتَّى قَصَّةٌ عَلَي
 الْمَوْتِ أَوْ أَقْصَى مِنَ الْمَوْتِ -
 اس کو اتنا مارا کہ موت کے قریب کر
 دیا۔ قَصَّتْ وَأَقْصَتِ الشَّاةُ - كَبْرِي
 کا محل ظاہر ہو جانا۔ صَفِيْتٌ مُقْصِيٌّ -
 اور جَرِيْمٌ مَقْصِيٌّ - أَقْصَى الْأَمِيْرُ
 فَلَانًا مِنَ فَلَانٍ - اَمِيْرٌ كَا كَسِي شَخْصٍ كَا
 انتقام کسی سے لینا۔ أَقْصَى الرَّجُلُ
 مِنْ لَفِيْهِ - اِپْنِيْ اِپْنِيْ كُوْبِدْلِهِ دِيْنِي
 کے لیے سپرد کرنا۔
 قَصَّ قَصًّا (ن) عَلَيهِ الْخَبْرَةُ - كَسِي كُو
 خبر دینا۔ قَصًّا وَقَصًّا اَثْرَةً -
 بتدریج اتباع کرنا۔ قَصَّصَ الشَّيْءَ
 كَسِي چِيزًا كُوْمَكْرِيْ كُوْمَكْرِيْ كَرِنَا -
 قَاصٌّ قِصَا صَادٌ مَقَا صَةٌ - الرَّجُلُ
 بِمَا كَانُ لَهُ قَبْلَهُ - بَدْلِهِ فِي اِسْمِ كِي
 مثل کو روکنا۔ قَا صَةٌ - كَسِي پَرِ قِصَا صِ
 ڈالنا۔ بَدْلِهِ دِيْنَا - كَسِي كِي فَعْلٌ كِي طَرِحٌ
 فعل کرنا۔
 لَقَّصَّصَ اَثْرَةً - كَسِي كِي اَثْرُ كِي اِتْبَاعُ كَرِنَا
 - الْكَلَامُ - يَادُ كَرِنَا -
 لَقَّصَّصَ الْقَوْمُ - حَا بٌ وَغَرِهِ فِي اِيْ كِي

دوسرے کو بدلہ دینا۔
 لَقَّصَّصَ - كُتْ جَانَا -
 لَقَّصَّصَ اَثْرَةً - كَسِي كِي اِتْبَاعُ كَرِنَا - مِيْنِ
 فَلَانٍ - قِصَا صِ لِيْنَا - الْحَدِيْثُ
 روایت کرنا۔
 اِسْتَقْصَصَهُ - كَسِي سَمِي خَوَابِرُ كَرِنَا كُوْبِدْلِهِ دِيْنِي
 سے انتقام لے۔
 الْقِصُّ وَالْقِصُّ - سِيْنَةٌ اُوْر اِسْمٌ كِي
 بڑی ج۔ قِصَا صٌ - قِصُّ الشَّاةِ
 بکری کی کاٹی ہوئی اون۔
 الْقِصَّةُ - قِصٌّ كَا اِسْمٌ مَرَّةٌ هُوِي - كُجٌ يَأْجُوْنَا
 ج۔ قِصَا صٌ -
 الْقِصَّةُ - اِسْمٌ نَرَعٌ هُوِي - قِصَّةٌ، وَاقِعَةٌ،
 حَالٌ - ج۔ قِصَّصٌ وَأَقَا صِيْنٌ -
 الْقِصَّةُ - پِشَانِي كِي بَالٌ جُوَا مَحْتِ كِي
 مقابلے میں کاٹے جائیں۔ بَالُوْنٌ كَا جُمُوعَةٌ -
 ج۔ قِصَّصٌ وَقِصَا صٌ -
 الْقِصَا صٌ - اِيْ كِي پُوْرَا هُوِي جِسْمٌ كُو شَدِي كِي كَلْبِي
 چوستی ہے۔ وَاحِدٌ قِصَا صَةٌ هُوِي -
 الْقِصَا صٌ - جَرِيْمٌ كَا بَدْلُ اِنْتِقَامٍ -
 الْقِصَا صٌ - سَمِي پَرِ قِصِي چِلْتِكِي جِكِي - قِصَا صٌ
 الشَّعْرُ رَقَا فٌ كَا تِيْنُوْنِ حَرَكَاتِ كِي
 ساتھ سرو کے آگے یا پیچھے کا وہ حصہ
 جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں۔
 الْقِصَا صَةٌ - بَالٌ يَأْنَا حِي كَا تَرَا خِي -
 الْقِصِي صٌ - سِيْنَةٌ پَرِ بَالِ اِگْنِي كِي جِكِي -
 اِيْ كِي كَاسٌ جُو كِنِي كِي جُرِيْمِ اِگْتِي هُوِي
 اور اس کے پانی سے سرد ہوا جاتا ہے
 وَاحِدٌ قِصِي صَةٌ - ج۔ قِصَا صِيْنٌ -
 الْقِصِي صَةٌ - وَهُ اُوْنِثٌ جُو سَوَارِيُوْنِ كِي
 اتباع کرے۔ قِصَّةٌ، پِستٌ اُوْنِثٌ حَسِي
 پَرِ اِسْمِ كِي كَزُوْرِي كِي وَجْهٌ سَمِي كَهَانَا اُوْدِ
 اسباب لاوا جائے۔ كَسِي جِكِي پَرِ جَمِيْعِ
 ہونے والا گروہ۔ محاورہ ہے کہ
 تَرَكَتُهُمْ قِصِي صَةٌ وَاحِدَةٌ - مِيْنِ

لے ان کو ایک جگہ میں جمع شدہ چھوڑا۔
 القاصُ - قصہ گو۔ خلیب۔
 القصاصُ - وہ شخص جو اجرت لے کر لوگوں
 کے اجتماع میں قصہ بیان کرے۔ وہ
 شخص جو اونٹ وغیرہ کی اٹن کرتے
 کا پیشہ کرتا ہو۔
 المقصصُ - وہ شخص جس کی پیشانی پر بال
 ہوں۔ وَجُلُّ مَقْصَصٌ - بڑے
 سینہ والا۔
 المقصصُ - اثر، علامت۔
 المقصصُ - کترنے کا آلہ۔ قینچی۔ جر۔
 مقاصُ -
 قصبہ قصباءرض کا طنا۔ قصب الشاة
 بکری کے عضو عضو کو جدا کرنا۔ قصباً
 وقصوباً۔ البعير۔ اونٹ کا پانی
 پینے سے رک جانا۔ الإنسان وغيره
 کسی کو پینے سے روک دینا۔ سیراب
 ہونے سے قبل روک دینا۔ الرجل
 گالی دینا۔
 قصبه کسی کو گالی دینا۔ قصب الشعرة
 بال کو گھونگھریالے بنانا۔ المنوسع
 کھیتی کے تنوں کا مضبوط ہونا۔ فلانا
 نامتوں کو گردن پر باندھنا۔
 اقصب المكان - جگہ کا نکل والی ہونا۔
 - التراسی - چرواہے کے اونٹ کا
 پانی سے کڑا ہوت کرنا۔
 اقتصت الشيء - کوئی چیز کا طنا۔
 القصب - پیٹے، آنت۔ جر۔ اقصاب
 القصب - ہر وہ گھاس جس کے پورے
 اور گریں ہوں واحد قصبہ ہے۔
 ایک قسم وہ ہے جس سے بانسری بنائی
 جاتی ہے اور اس سے مکانوں کی چھتیں
 پائی جاتی ہیں۔ اور ایک قسم وہ ہے جس
 سے قلم بنائے جاتے ہیں۔ قصب
 السکر گنا۔ القصب بالتمہیروں

کی تلی۔ ہر گول اور لمبی بڑی جو پولی ہو
 ہر گودے والی بڑی۔ حلق کی شاخیں
 اور سانس کے راستے اور نالیاں۔
 مستطیل جو ہر چشموں کے پانی جاری
 ہونے کی نالیاں۔ چکدار موتی یا قوت
 کے ساتھ مزین چکدار زبرد۔ بولا
 جاتا ہے۔ اخذ قصب السبق
 وہ سبقت لے گیا۔ اس کی اصل یہ ہے
 کہ مسابقت کے میدان میں انتہار پر
 ایک بانس گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کو
 جو شخص اکھاڑ کر لے جاتا تھا، وہی
 سابق شمار کیا جاتا تھا۔
 القصبه قصب کا واحد۔ شہر یا ملک
 کی سب سے بڑی بستی۔ گاؤں یا
 گاؤں کا وسط۔ تیا کھدا ہوا کنواں۔
 بالوں کا لپٹا ہوا گچھا۔ قصبه الاصبع
 انگلی کا پورا۔ قصبه المرئی
 حلق سے معدہ تک غذا کی نالی۔ نخرا
 قصبه الالف - ناک کا بانس۔
 قصبه التوتج - سانس کی نالی۔
 القصبی - واحد قصب۔ السی کا نرم و
 ہاریک کپڑا۔
 القاصب بانسری بجاتے والا۔ قصاب
 بہت آواز والی گرج۔ جر۔ قصاب
 والقصب من الابل۔ وہ اونٹ
 جو پانی پینے سے باز رہے اور پانی سے
 مناٹھے۔ بولا جاتا ہے۔ بعير
 قصب وناقہ قصبه
 القصباء۔ بانسوں کا مجموعہ۔ بانسوں کے
 پیدا ہونے کی جگہ۔ واحد قصباء
 آجمہ قصباء۔ بانس کی جھاری۔
 القصاب۔ بانسری بجانے والا۔ نے نواز،
 قصاب۔
 القصابہ۔ قصاب کی ٹونٹ۔ لوگوں کی
 عیب جوئی کرنے والا۔ جر۔ قصاب۔

القصابہ باجر۔ قصاب۔ والقصبه
 والقصبه۔ جر۔ قصاب و
 قصاب۔ بالوں کا لپٹا ہوا گچھا۔
 القصابہ۔ بانسری۔ نے۔
 القصبه۔ پوری۔ گرہ۔ بالوں کا گچھا۔
 جر۔ قصاب۔
 القصابہ۔ قصاب کا پیشہ۔ بالوں کا لپٹا
 گچھا۔
 القصب من الغنم بکری جس کی اون
 کاٹی گئی ہو۔
 المقصبہ۔ بانس یا نرکل اگنے کا وقت
 یا جگہ۔ ارض قصبه ومقصاب و
 مقصبه۔ وہ جگہ جہاں نرکل یا بانس
 بہت ہوں۔
 المقصب۔ وہ شخص جو سبقت لے جائے
 دودھ جس پر گاٹھے جھاگ ہوں۔
 المقصب من الثياب۔ لپٹا ہوا، تہ کیا
 ہوا کپڑا۔ شعر مقصب۔ وہ بال جو
 گھونگھریالے بنائے ہوئے ہوں۔
 قصد قصد ارض الرجل وکله والیہ
 کسی کی طرف توجہ کرنا۔ الیہ۔ کسی پر
 اعتماد کرنا۔ قصد قصداً۔ کسی کی
 طرف چلنا۔ فی مشیہ۔ سیدھا ہو کر
 چلنا۔ فلانا علی الامر۔ کسی کام پر
 مجبور کرنا۔ بولا جاتا ہے۔ لا قصد
 بذراعک۔ اپنے نفس پر قابو رکھو۔
 وقصد الشيء۔ کسی چیز کو توڑنا۔
 قصد وقصد الشاعر۔ قصیدہ گوئی
 کو دراز و طویل کرنا۔ قصد القصائد
 قصیدوں کو عمدہ اور منیب بنانا۔
 قصد قصد ارض، واقصد فی الامر
 کسی معاملہ میں اعتدال و میانہ روی کرنا۔
 فی النفقة۔ خرچ میں اعتدال اختیار
 کرنا۔ واقصد فی امرہ۔ کسی کام میں
 استقامت اختیار کرنا۔

قَصْدٌ قَصَادَةٌ رَكٌّ، البَعِيرُ، اَوْنُكُ كَا
موٹا ہونا۔

اَقْصَدْتُ: کسی کو اس طرح نیزہ مارنا کہ خطا
نہ کرے۔ الحَيَّةُ فَلَانًا سَابَ كَا

ایسا ڈسنا کہ جانبر نہ ہو سکے۔

اَقْصَدْتُ الشَّرْفُ: کسی کو ایسا تیر

لگنا کہ موقع پر ہی ڈھیر کر دے۔

اَقْصَدَ الشَّاعِرُ: قصیدہ کوئی جاری

رکھنا۔ محاورہ ہے اَقْصَدَنِي اِلَيْكَ

الْأَمْرُ: مجھے ایک کام نے تیرے پاس

آنے کے لیے برا لگینے کیا۔

تَقَصَّدَ الكَلْبُ وَغَيْرُهُ: مرجانا۔ تَقَصَّدُ

کسی کا ارادہ کرنا۔ کسی کو موقع پر ہی

مار دینا۔ تَقَصَّدَ وَانْقَصَدَ التَّرْفُ

نیزہ کا ٹوٹ جانا۔

القَصْدُ: راستگی استقامت، اعتدال و

میان روی۔ رَجُلٌ قَصْدٌ: وہ آدمی جو

نہ موٹا ہو نہ لاغر۔ طَرِيقٌ قَصْدٌ: سیدھا

راستہ۔ اِنَّهُ عَلَى قَصْدٍ: وہ ہدایت

پر ہے۔ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ:

اللہ پر ہے بیان کرنا سیدھے اور

حق تک پہنچانے والے راستے کا۔

هُوَ قَصْدُكَ اَوْ قَصْدُكَ: وہ تمہارا

سامنے ہے۔

القَصْدُ مِنَ الْعَوَسِيمِ وَنَحْوِهِ: عوسج

وغیرہ کی نازک شاخیں۔ ہر خاردار

پودہ جب وہ اُگے۔ واحد قَصْدَةٌ:

القَصْدُ: بھوک۔ رَمَحَ قَصْدًا و

قَصِيدًا اَوْ قَصَادًا: ٹوٹا ہوا نیزہ۔

القَصِيدَةُ مِنَ الشَّعْرِ: وہ اشعار جو تین

یا اس سے زائد ہوں، بعض نے کہا ہے

کہ سولہ اور اس سے زائد وہ اشعار

جو عمدہ اور منب کیے ہوئے ہوں۔

القَصِيدُ: زیادہ مرغن گودا خشک

گوشت۔ لاطنی، فرہ و جوان اونٹنی

چریلا کوٹان۔

القَصْدَةُ: توڑی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ ج

قَصْدٌ:

القَصْوُدُ: زیادہ روغن والا گودا۔

القَصِيدَةُ مِنَ الشَّعْرِ: وہ اشعار جو سات

یا دس سے زیادہ ہوں۔ لاطنی۔ قَصِيدٌ

کا واحد۔ ج قَصِيدٌ و قَصَائِدٌ۔

القَاصِدُ: مِنَ السَّفْرِ: آسمان اور قریب

سفر۔ طَرِيقٌ قَاصِدٌ: ہموار راستہ

ج۔ قَوَاصِدٌ۔

القَاصِدَةُ: قاصد کی ٹونٹ۔ محاورہ ہے

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ كَيْلَةُ قَاصِدَةٍ

ہمارے اور پانی کے درمیان ایک بغیر

تھکن و دیروالی رات کی مسافت ہے

ج۔ قَوَاصِدٌ۔

المُقَصَّدُ: جو بیمار ہو کر جلد مر جائے۔

المَقْصِدُ: قصد کی جگہ۔ کہا جاتا ہے

بَابِكَ مَقْصِدِي: تیرا دروازہ میرا

مقصود ہے۔ ج۔ مَقَاصِدُ: رَجُلٌ

مَقْصِدٌ و مَقْصِدٌ: وہ آدمی جو نہ

بھاری جسم والا ہو اور نہ لاغر۔

السَّقَصِدُ: اونٹوں کے کان کا ایک

نشان۔

قَصْدِيٌّ: ایک دھات ہے جس کا ٹانکا

لگایا جاتا ہے اور اس کی قلعی کی جاتی

ہے۔ رنگ، اس کا ایک ٹکڑا۔

قَصْدِيَّةٌ: ہے۔

قَصَرَ قَصْوَدًا: وہ الشَّيْءُ مَنَاقِصٌ ہونا

سستی ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ: کسی چیز

سے رک جانا اور عاجز ہونے کی وجہ

سے اس کو ترک کر دینا۔ عَنَهُ

العَقَبُ: اَوْ الوَجْعُ: غصہ یا درد کا

فرد ہو جانا۔ الشَّهْرُ عَنِ الْهَدَاةِ

تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ يَتَا الْبُقَعَاتِ:

جگہ کا مقصد تک نہ پہنچانا۔ الطَّعَامُ

کھانے کا زیادہ ہونا۔ اللَّحْمُ:

گوشت ہنگا ہونا۔ قَصُورًا:

قَبِيلُ البَعِيرِ: اونٹ کی زنجیر یا کوٹنگ کرنا

الصَّلَاةُ وَمِنَ الصَّلَاةِ: قصر نماز

پڑھنا۔ الشَّيْءُ: روکنا۔ السَّيْرُ:

پردہ کرنا۔ بِهَ اللَّيْلِ: رات کا کسی کو

روکنا۔ الدَّارُ: گھر کو دیوار سے

مضبوط کرنا۔ محاورہ ہے قَصَرْتُ

بِكُنْ اَنْفُسُكَ: تیرے نفس نے معمولی

اور حقیر سی چیز طلب کی۔

قَصْرَةٌ قَصْرًا: رضی، فِي بَيْتِهِ: گھر میں

محبوس کرنا۔ قَصْرَةٌ عَلَى الْأَمْرِ:

کسی کو کسی کام پر لوٹانا۔ قَصَرَ الشَّيْءُ:

علی کذا: کسی چیز پر اقتصار کرنا اور

اس سے تجاوز نہ کرنا۔ قَصَرَ نَفْسَهُ

علی کذا: کسی چیز پر قناعت کر لینا

اور دوسری چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھانا۔

الظَّلَامُ: غلط ملط ہونا۔ كُدُّهُ: ہو جانا

قَصَرَ عَلَى نَفْسِهِ نَاقَةً: اونٹنی کو

اپنے دودھ پینے کے لیے خاص کر لینا

وہ ناقہ مَقْصُورَةٌ کہلاتی ہے۔

الشَّيْءُ: کسی چیز کو کوتاہ کرنا۔

قَصَرَ قَصْرًا اَوْ قَصَارَةً رَكٌّ:

چھوٹا ہونا۔ قَصَرَ قَصْرًا: اس گدن

کا خشک ہونا۔ دَرِدٌ: گدن میں بتلا ہونا

صفت قَصْرٌ و اَقْصَرُ: بونٹ کی قَصْرَةٌ

و اَقْصَرُ:

قَصَرَ بِالشَّيْءِ: کسی چیز کو چھوٹا کرنا۔

الثَّوْبُ: کپڑے کو کوٹ پیٹ کر سفید

کرنا۔ فِي الْعَطِيَّةِ: عطیہ کو خفیف و

قلیل کرنا۔ فِي الْأَمْرِ: سست ہونا۔

قَصَرَ عَنِ الْأَمْرِ: ہا وجود قدرت کے

کسی کام سے باز رہنا۔ مِنَ الشَّعْرِ:

بال کترنا۔ عَنِ الشَّيْءِ: عدم قدرت

کی وجہ سے کسی چیز کو ترک کر دینا۔

عَنْهُ الْوَجَعُ أَوْ الْعَقَبُ. در دیاغصر
 کو سکون ہونا۔
 اقصرہ کسی چیز کو چھوٹا کرنا۔ لمبائی کم کرنا
 کوتاہ و مختصر کرنا۔ فلان شام کے
 وقت میں داخل ہونا۔ اقصدت
 المرأة عورت کے چھوٹے چھوٹے
 بچے پیدا ہونا۔ اقصر المحل۔ بارش
 کا ٹھہر جانا۔ الكلام مختصر کلام کہنا۔
 من الصلوة قصر نماز پڑھنا۔
 وتقاصر عن الامر کسی کام کو
 قدرت ہونے کے باوجود چھوڑنا۔
 تقاصر الرجل تصور کوتاہی
 ظاہر کرنا۔ تقاصر الظل سایہ کا
 قریب ہونا اور سکڑنا۔ تقاصرت
 نفسه بتکلف چھوٹا اور لاغر بننا۔
 تقصر بفلان کسی کے ساتھ
 مشغول ہونا۔
 اقتصر علی کذا کسی چیز پر اکتفا کر لینا
 لاقتصرہ کسی کی گردن کی اصل
 بکڑنا۔
 استقصرة کسی کو کوتاہ قد یا کوتاہی کرنے
 والا جاننا۔
 المقاصر ماء قاصر گھاس سے دور
 پانی، بعض نے کہا ہے کہ ٹھٹھائیانی۔
 کلاً قاصر گھاس اور پانی کے درمیان
 اتنا فاصلہ کہ گتے کے بھونکنے کی آواز
 پہنچ جائے۔
 القاصرة قاصر کی مؤنث۔ امرأة
 قاصرة الطريف وہ عورت جو اپنے
 خاوند کے علاوہ کسی مرد کی طرف نظر نہ
 اٹھائے۔
 القصر خشک کڑی محل کوٹھی قصر
 المسجد شرافت و بزرگی کی کان۔
 ج۔ قصور۔
 القصر چھوٹا پن۔

القصر والقصر والقصر و
 القصار والقصور۔ کوتاہی تقصیر
 القصار والقصر سستی۔
 القصر والقصار والقصار
 کوشش و انتہاء۔ محاورہ عرب ہے
 قصرك او قصارك او قصارك
 او قصارك ان تفعل كذا۔
 تیری انتہائی کوشش و آخری معاملہ
 اور قدرت یہ ہے کہ تو ایسا کرے۔
 بولا جاتا ہے۔ هو ابن عتي قصره
 او قصره۔ وہ میرا قریب النسب
 چچا کا لڑکا ہے۔
 القصر والقصر والقصر و
 القصر والقصر والقصر چھپتی میں
 باقی ماندہ اناج کا فصل۔ کلیان کے
 بعد جو دانے بالوں میں باقی رہ جائیں۔
 القصر والقصر۔ ایک قسم کا سانپ
 القصری۔ موائل کا انجام۔
 القصریان۔ وہ پسلیاں جو ہنسی کے
 قریب ہیں۔
 القصری والقصری کلیان کرنے
 کے بعد جو دانے بالوں میں باقی رہ
 جائیں۔ رجل قصری خاص شخص
 اور اس کی نظیر عیبیٰ بمعنی عام ہے۔
 القصرة۔ کڑی کا ٹکڑا۔ پزندہ کی دم کی
 اصل۔ مٹی گردن کی جڑ۔ ج۔ قصر
 والقصار وقصرات۔ القصرة
 سستی۔
 القصار۔ چار دیواری والا کشادہ گھر
 قسرة الأرض فریب سطح والی اور
 نذیر زمین۔
 القصار۔ دھوبی کا پیشہ۔ کوتاہ قد عورت
 امرأة قسرة۔ ٹھکنی عورت۔
 قیصر۔ روم کے ہر بادشاہ کا لقب۔ ج
 قیصرة۔

التقصار والتقصارة۔ گردن بند ہار
 ج۔ تقاصیر۔
 القصیر۔ کوتاہ قد۔ سئل قصیر۔
 سیلاب جو وادی میں پوری طرح نہ پھیلے
 قصیر العلو۔ کم علم۔ ج۔ قصار
 وقصواء۔ مؤنث قصیرة۔ ج
 قصار وقصیرات وقصائر
 الاحادیث القصار۔ جامع و مفید
 کلام۔
 القصیرة والقصور والمقصورة۔
 من النساء۔ وہ عورت جو گھر کے
 اندر مقید ہو اور اس کو گھر سے نکلنے
 کی اجازت نہ ہو۔ هو ابن عتی
 قصیرة۔ وہ میرا قریب النسب
 چچا زاد بھائی ہے۔
 القصار۔ اسم بالغہ ہے۔ دھوبی۔
 الاقصو۔ اسم تفصیل۔ ج۔ اقصرو
 اقصرون۔ مؤنث قسری۔ ج
 قصر۔
 الاقصیر۔ بعض عرب کا ایک بت۔
 المقصر والمقصر۔ دھوبی
 کا پڑا۔
 المقصر والمقصر والمقصر۔
 شام کا وقت۔ ج۔ مقاصر و
 مقاصیر۔ مقاصر الطریق
 راستہ کے اطراف واحد۔ مقصرہ
 محاورہ ہے جو جاری مقاصیری
 اس کی کوٹھی میری کوٹھی کے بالمقابل ہے
 المقاصیر۔ درخت کی جڑیں۔ واحد
 مقصور۔
 المقصورة۔ محفوظ وسیع مکان۔ دلہن کا
 پھیرکھٹ یا کرہ مقصورة الدار
 کرہ جڑ۔ هو ابن عتی مقصورة
 وہ میرا قریبی چچا زاد بھائی ہے۔
 قصر قصارف پانی کے گھونٹ نکلنا۔

گیہوں کو یلوں کے ذریعہ بھوسے سے
 علوہ کتا۔ المداہنہ وعلیہما جانہ
 کو چارہ دینا۔ جو کا پودہ کھلانا۔ حنقہ
 گردن پر مارنا۔
 تَقَصَّلَ وَانْقَصَلَ مِنْطَعٌ ہونا۔
 اِقْتَصَلَ الشَّيْءُ کسی چیز کو کاٹنا۔ الشَّيْءُ
 کاٹ جانا۔
 اِقْصَالَہ کسی پر قبضہ کرنا۔ بالمکان
 کسی جگہ قیام کرنا۔
 الْقَصْلُ وَالْقِصْلُ وَالْقِصَالُ وَالْقِصَالَةُ
 گیہوں کے دلتے نکالنے کے بعد جو فصل
 پھینک دیا جاتا ہے یا وہ حصہ جس کو
 دوبارہ گالا جائے۔ الْقِصْلُ۔ احمق
 وہ چیز جس میں کوئی خوبی نہ ہو ضعیف
 مؤنت۔ قِصْلَةٌ۔
 الْقِصْلَةُ وَالْقِصْلَةُ۔ اونٹوں کا گلہ۔
 سَيْفٌ قَاصِلٌ وَقِصَالٌ وَمِقْصَلٌ
 بہت کاٹنے والی تلوار۔ لِسَانٌ
 مِقْصَلٌ تیز طرز زبان۔ الْقِصَالُ
 شیر۔
 الْقِصِيلُ۔ وہ سبز جو پکنے سے قبل
 جانور مل کو کھلانے کے لیے کاٹ لیے
 جاتے ہیں۔ جمعیت۔ جہ۔ قِصْلَانٌ۔
 الْمِقْصَلَةُ۔ ہاک کرنے کا ایک آلہ۔
 اس کے سرے پر ایک چمرا ہوتا ہے
 جو چمروں کے سر پر گرا کر اس کو کاٹ
 ڈالتا ہے۔
 قَصَمَ قِصْمًا (ض) الشَّيْءُ۔ توڑنا۔
 الرَّجُلُ۔ ہاک کرنا۔ فُلَانٌ۔ واپس
 ہونا اور اپنے قصد کی جگہ پر نہ پہنچنا۔
 قَصَمَ اللهُ ظَهْرَ الظَّالِمِ۔ خدا
 ظالم کی کمر توڑ دے۔ قَصَمَ اللهُ
 عَمْرًا الْكَافِرَ۔ خدا کافر کی عمر تمام
 کر دے۔
 قَوَّضْتُ قِصْمًا (س) سِنَّةٌ۔ دانت کا

چمرا جانا۔
 تَقَصَّمَ وَالْقَصَمَ۔ ٹوٹنا۔
 الْقَصْمُ۔ سمنے کے دانتوں کا نصف
 حصہ ٹوٹنا۔ ٹیڈیوں کے انڈے۔ واحد
 قِصْمَةٌ۔
 الْقِصْمَةُ وَالْقِصْمَةُ۔ چمرا۔
 الْقِصْمَةُ۔ اسم مرہ۔ سیرھی بکڑا۔ تَنَلَّتْ
 بِعَيْنِهَا قِصْمَةَ الظَّهْرِ۔ ان پر ہاک
 نازل ہوئی۔
 الْقِصْمُ وَالْقِصِيمُ۔ جلدی ٹوٹ جانے
 والا۔ ضعیف
 الْقِصِيمَةُ۔ قِصِيمٌ کی مؤنث۔ وہ ریتی جگہ
 جو کثرت سے غذا گاتی ہو۔ جہ۔
 قِصِيمٌ وَقِصْمٌ وَقِصَائِمٌ۔
 ذَهَبُوا يَحْطَبُونَ فِي الْقِصِيمِ
 وہ غضا کے جنگل میں ایندھن لینے گئے
 الْقِصْمُ۔ ہر چیز کو توڑ دینے والا۔
 الْأَقْصَمُ۔ جس کے سامنے کے آدمے
 دانت ٹوٹ گئے ہوں۔ مؤنث قِصْمَاءُ
 جہ۔ قِصْمٌ۔
 الْقِصْمَاءُ مِنَ الْمَغْزِ۔ بیرونی سینگ
 ٹوٹی بکری۔
 قَعَمَلُ الرَّجُلِ چلنے میں قریب قریب
 قدم رکھنا۔ قِصْمَلَةٌ۔ پچھاڑنا۔
 الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔ الطَّعَامُ۔ تمام کھا
 جانا۔ وَقَعَمَلُ الْقِصِيلِ۔ اونٹ
 کے بچے کو قِصَمَلِ کا مرض لاحق ہونا۔
 وہ ایک بیماری ہے جس سے اونٹ کے
 بچے مر جاتے ہیں الْقِصِيلُ وَالْقِصَمَلُ
 سخت آدمی۔ الْقِصِيلُ بشیر۔
 التَّقْمَةُ الْقِصْمَلِيَّةُ۔ اس کو شدت
 کے ساتھ قہر بنایا۔
 قَصَا يَقْصُوا قِصْمًا وَقِصْمًا وَقِصْمًا
 قِصْمًا وَقِصْمًا قِصْمًا قِصْمًا۔
 المکان۔ دور ہونا۔ الرَّجُلُ عَنِ

القوم۔ دور ہونا۔ جُدَالٌ اِخْتِيَارٌ كُنَّا۔
 قَصَى يَقْصُوا قِصْمًا۔ التَّقَاةُ او
 الشَّقَاةُ۔ ناقہ یا بکری کے کان کا کنارہ
 قطع کرنا۔ قِصْمِيَّةٌ تَقِيبَةٌ۔ التَّقَاةُ
 کان کا ٹھوسا کنارہ کاٹنا۔
 الْأَطْفَارُ۔ ناخن تراشنا۔ مُقَاصَاةُ
 الرَّجُلِ۔ کسی کو دور کرنا۔ محاورہ ہے
 قَاصَاتِي فَقِصْوْتُهُ، اس نے مجھ
 سے دوری اختیار کی۔ میں اس سے
 زیادہ دور ہو گیا۔ یہ افعال مغالیہ میں
 سے ہے۔ هَلُمَّ أَقْصِيكَ آيْتًا
 أَبْعَدُ مِنَ الشَّيْءِ۔ آؤ ہم مقدار کریں
 کہ ہم میں سے کون شے سے دور ہے
 أَقْصَى۔ فَلَانًا عَنْهُ۔ کسی کو کسی چیز سے
 دور کر دینا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کی انتہاء
 تک پہنچانا۔ بولا جاتا ہے۔ تَنَزَّلْنَا
 مَنَازِلًا لَا يُقْصِيهِ الْبَحْرُ۔ ہم ایسی
 منزل پر اترے کہ نظر اس کی انتہاء تک
 نہیں پہنچ سکتی۔
 تَقَصَّى تَقِيبًا۔ دور ہونا۔ وَاسْتَقْصَى
 الْمَسْئَلَةَ وَفِيهَا۔ کسی مسئلہ کی
 بحث میں انتہاء کو پہنچنا۔ تَقْصَا هُوَ
 ان کو انتہاء سے بلانا۔
 الْقِصَا۔ بعید نسب۔ جانب۔ حُطْبِي
 الْقِصَا۔ مجھ سے دور ہونا۔ ذَهَبْتُ
 قِصْمًا۔ میں اس کی طرف چلا۔
 الْقِصِي۔ اونٹنی کے کان کا ذرا سا
 کنارہ کاٹنا۔ الْقِصَاءُ۔ مکان کا صحن
 الْقِصْوَةُ۔ کان کے اوپر کی طرف داغ۔
 الْقِصِيَّةُ۔ بعید۔ دور۔ جہ۔ أَقْصَاءُ۔ مؤنث
 قِصِيَّةٌ۔ جہ۔ قِصَايَا۔ رَمِيَتْ
 الْمَرْمِيَّةُ الْقِصِيَّةُ۔ تو گمان اور تاویل
 میں بہت دور پہنچ گیا۔ الْمِصِيَّةُ
 عمدہ نسل کی شریف اونٹنی در ذیل اونٹنی
 اضداد میں سے ہے)

القاصی (فاعل) بعید۔ ج۔ قاصون و
أقصاء۔

القاصیة۔ مؤنث قاصی۔ طرف۔ تعجبة
قاصیة۔ بہت بڑھی بھیڑ۔

القاصیة من الشاء۔ گلہ سے
علمدہ ہونے والی بکری۔

الأقطی۔ مؤنث قصواء و المقصوء

والمقصی والمقصی من الجمال

وہ اونٹ جس کے کان کا تھوڑا سا

کنارہ کاٹ دیا گیا ہو۔ شاة مقصوءة

ومقصاة۔ کان کا کنارہ کٹی ہوئی

بکری۔ الأقطی۔ اسم تفضیل۔ انتہائی

دور۔ ج۔ آقاص۔ مؤنث قصوی

وقصیبا۔

القصوی والقصیبا۔ وادی کا کنارہ۔

انتہائی دور چیز۔

قص قصابان، الشوی۔ سوراخ کرنا۔

باریک کرنا۔ الوند۔ میخ اکھاڑنا۔

الحایط۔ دیوار کو سختی سے ڈھانا۔

علیہم الخیل۔ کسی قوم پر سواروں

کو بھیجنا اور منتشر کرنا۔ الطعام

اس میں شکر یا قندک قسم سے کوئی

خشک چیز ملانا۔

قص قصبان رض، السیرا و الوتر

ٹوٹنے کی سی آواز آنا۔ تزترانا۔

نص قصبان رض، المكان أو الطعام

چھوٹی کنکریاں گر پڑیں۔ علیہ

المضجع۔ خواجگاہ کا بلند و سخت

ہونا۔ قص الرجل۔ آدمی کا اطمینان

سے نہ سونا۔ آقص المكان و الطعام

کنکریوں کا مل جانا۔ المضجع

خواجگاہ کا سخت ہونا۔ آقص علیہ

المضجع۔ خواجگاہ کا خاک آلود اور

سخت ہونا۔ آقص علیہ الہد

اس پر غم نازل ہوا۔ آقص اللہ

مصنجة۔ خلا تعالیٰ کسی کی خواجگاہ
کو سخت کرنا۔ الرجل۔ معلے کی
باریکیوں کے پیچھے لگنا۔ ادنی چیزوں
کے درپے ہو جانا۔

القص۔ لڑنا۔ الجدار۔ دیوار کا پھٹ

جانا۔ گر پڑنا۔ انقصت الخیل

على القوم۔ گھوڑوں کا قوم پر پھیل

جانا۔ بولا جاتا ہے۔ قضضنا علیہم

الخیل فانقضت علیہم۔ ہم

نے ان پر گھوڑے ڈالے پس وہ ان

پر جا پڑے۔ و تقضض الطائر۔

اترنے کے لیے پرندہ کا نیچے کی طرف

مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ تقضضی

تقضیبا۔ یعنی دوسرے ضاد کو یا اسے

تبدیل کر لیا جاتا ہے جیسا کہ تقطن

میں تقطنی کہا جاتا ہے۔ بعض نے

کہا ہے کہ قص تفعیل میں دوسرے

ضاد کو یا اسے تبدیل کیے بغیر

استعمال ہی نہیں ہوتا۔

القاص الجدار۔ دیوار کا گر پڑنا۔

استقص المضجع۔ خواجگاہ کو سخت

پایا۔ الطعام و المكان۔ کھانے

یا جگہ میں کنکریوں کا زیادہ ہونا۔

الہد۔ غم کے ٹوٹنے کی خواہش

کرنا۔ القص و القضض مصدر

ہیں۔ چھوٹی کنکریاں اور ان کے ریزے

القضض۔ علی جو فرش پر چڑھ

جائے۔

القص و القصبین و الأقص۔ جس میں

کنکریاں ہوں۔ محاورہ ہے۔ جاء

القوم قضضہم و قضضہم و

قضضہم و قضضہم و قضضہم

تمام قوم آگئی۔ قص وغیرہ کو مقرب

پڑھنے کی وجہ سے ہے کہ اس کو مصدر یا

حال مرادیا گیا ہے۔ یعنی قوم جمع ہو کر
آئی۔ اور مرفوع پڑھنے کی وجہ سے ہے کہ
اس کو کلمہ کے قائم مقام کیا
گیا ہے۔

القضبة۔ اسم مرہ ہے۔ قضاض کا واحد

چٹانیں جو ایک دوسرے پر چڑھی

ہوئی ہوں۔ چھوٹا ٹیلہ۔ چھوٹی کنکری

یا اس کا ریزہ۔ کسی چیز کا بقیہ۔ دھاگوں

کا چھوٹا گولہ۔ أرض قضبة۔ کنکری

والی زمین۔

القضبة۔ اسم جنس ہے۔ چھوٹی کنکریاں۔

ج۔ قضبات۔

القضبة و القضبة۔ عیب۔ نقص

قضی یقضی قضار، الشوی۔ کھانا

۔ السقاء۔ مشک کا فاسد ہونا اور

بدبودار ہونا۔ العین۔ آنکھ کا سرخ

ہونا۔ الثوب أو الجبل۔ پرانا اور

بوسیدہ ہونا۔ قضا و قضاءة۔

حسبہ۔ نسب کا فاسد و خراب

ہونا۔

أقضاة۔ کھانا۔ تقضا من فلان أن

یزوجه۔ نسب کو حقیر جانتے ہوئے

کسی سے نکاح نہ کرنا۔

القضاة و القضاة۔ عیب، فساد۔ عاد

القضی۔ خراب و بدبودار۔ مبقاء

قضی۔ بدبودار مشک۔ قریبة

قضبة۔ بدبودار مشکیزہ۔

قضب قضبان رض، الشوی۔ کاٹنا۔

الرجل۔ چٹری سے مارنا۔ العاقبة

سدھانے سے قبل ناقہ پر سوار ہونا۔

قضب الشوی۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الکرم۔ انگور کی شاخیں فصل برب

میں کاٹنا۔ و تقضب شعاع

الشمس۔ سورج کی شعاعوں کا دل

ہونا۔ تقضب الشوی۔ ٹکڑے ٹکڑے

ہونا۔
 أَقْضَيْتِ الْأَرْضَ - زمین میں زیادہ پودے
 سبزی ہونا۔
 الْقَضْبُ مَنْقُوعٌ هُونًا - انگڑائی سے
 مکانہ جگہ سے منتقل ہونا۔
 اقْتَضَبْتُ الشَّيْءَ - کاٹنا۔ الكلام في
 البديهة كتمان - التناقض - تردید
 دینے سے پہلے ناقہ پر سوار ہونا۔
 فلانا - کسی شخص کو ایسے کام کی
 تکلیف دینا جس کو کرنے کے وہ قابل
 نہ ہوا ہو۔
 القضب - ہر وہ درخت جس کی شاخیں لمبی
 ہو کر ٹلک جائیں۔ درخت کا نام جس
 سے کمائیں بنائی جاتی ہیں۔ کٹی ہوئی
 شاخیں۔ واحد قضبة ہے۔
 القضبة - ج۔ قضبات - شاخ - بیج
 درخت کا تیر۔ ج۔ قضب - وہ سبزی
 جو تازہ کاٹ کر کھائی جائے۔
 القضية - اونٹوں یا بکریوں کا گلہ۔ ہلکا اور
 نازک آدمی یا ناقہ۔
 القضيبة - ج۔ قضبات وقضبان -
 کاٹی ہوئی شاخ۔ وہ ناقہ جس کو سدھایا
 نہ گیا ہو۔ ج۔ قضب - بہت کاٹنے
 والی تلوار۔ کمان جو بغیر چھری ہوئی شاخ
 سے بنائی گئی ہو۔ سيف قاضب
 ج۔ قواضب وقضاب و
 قضابة وقضيب - بہت تیزی
 سے کاٹنے والی۔ رجل قضابة
 معاملات کو طے کرنے والا اور ان پر
 قدرت پانے والا۔
 القاضية - قاضی کی مؤنت - ما في
 فيه قاضية - اس کے منہ میں
 دانت نہیں۔
 القضاية - کاٹی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔
 المقضب - دانتی۔

المقضب - دانتی۔ بہت کاٹنے والی چیز
 أرض مقضب - وہ زمین جو زیادہ
 سبزہ اگاتی ہو۔
 المقضية - سبزی اگنے کی جگہ۔ ج
 مقاضب ومقاضيب -
 المقترض - کسی کام کو اچھی طرح کرنے
 کے قابل ہونے سے پہلے مکلف کیا ہوا
 شرکاء میں سے ایک بھر کا نام۔
 من الشعر والكلام - فی البديهة
 کہا ہوا شعر یا کلام۔
 قضعة قضعان - کسی پر غالب آنا۔
 انقض عنه - کسی چیز سے دور ہونا۔
 القضم والقضم - ٹکڑے ٹکڑے
 ہونا۔ متفرق ہونا۔ القضم والقضاع
 والتقصيع - آدمی کے پیٹ کا درد
 اور اس میں مروڑ ہونا۔
 القضاة والقضاة - آٹے کا باریک
 غبار۔ دیوار کی جڑ سے جھڑی ہوئی چیز۔
 القضاة - چیتا۔
 القضم - عمر آدمی جس کے دانت گر
 چکے ہوں۔
 قضفت قضفا وقضفا وقضافة -
 کڑوا اور ڈبلا ہونا۔ صفت قضيف
 ہے۔ ج۔ قضاف وقضفات و
 قضفاء۔
 القصف - ٹوٹ جانا۔
 القصف - رقیق پتھر۔
 القصف - ٹیڈ جو پتھر کی طرح دکھائی
 دے۔ زمین کا ٹکڑا جو اوپر کو اٹھا ہوا
 اور قدرے لمبا ہو۔ بھٹ تیر کی طرح
 کا ایک پرندہ۔ ج۔ قصف و
 قضاف وقضفات وقضفات -
 القصف - ریت کا ٹیڈ جو درمیان میں
 سے ٹوٹا ہوا اور جلا ہو۔
 القصفية من النساء - لاغرد کم گوشت

والی عورت۔ ج۔ قضاف۔
 قضف قضفا وقضفا - العظم - ہڈی
 کا ٹوٹے وقت آواز دینا۔ الأسد
 قبيسته - شیر کا اپنے فکا کو ٹوڑنا
 اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 تقضفت - ٹوٹنا۔ متفرق ہونا۔
 القضا من والقضا من والقضا من
 شیر۔
 القضا من - زمین کا ہموار حصہ۔
 قضمة وقضمة قضما من س، الشئ
 دانتوں کی ٹوک سے جہاں کھانا۔
 محاورہ ہے هو يقضم الدنيا
 قضما - وہ دنیا میں رغبت نہیں رکھتا
 اور حقیر چیز پر قانع ہے۔
 قضمت قضما رس، السنت - دانت کا
 چر جانا یا اس کے کنارہ کا ٹوٹ جانا
 قضمة الرجل - آدمی کا ٹوٹے ہوئے
 دانت والا ہونا۔ قضمة السيف
 تلوار کا ایک عرسہ تک پڑے رہنے سے
 کند ہو جانا۔
 قاضم مقاضمة - کسی چیز کے خریدنے یا
 بیچنے کے بعد تھوڑی چیز لینا۔ یہ خرید
 فروخت نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایک
 گٹھری خریدی جاتی ہے اور اکٹھی کاٹھ
 نہیں خریدی جاتی۔
 قضمة الدابة - جانور کو جو کا چارہ دینا
 واستقضم القوم - زمانہ قحط میں
 تھوڑا سا توشہ حاصل کرنا۔
 القضم من الأسنان والتجالي و
 السبوف - کنارے گڑے ہوئے
 دانت اور ایسے دانت والا آدمی۔ کند
 دھار والی تلوار۔
 الاقضمة - ٹوٹے ہوئے اطراف دندان والا۔
 مؤنت قضما - ج۔ قضم۔
 القضم - تلوار۔ قضم کی جمع مصدر۔

القُضْمَةُ وَالْقَضَامُ وَالْمَقْضَمُ. وہ چیز جو
دانتوں کے کناروں سے کاٹی جائے۔
بولاجاتا ہے۔ مَا ذُقْتُ قُضْمَةً وَ
قَضَامًا وَمَقْضَمًا۔ میں نے کوئی چیز
دانتوں سے نہیں کاٹی۔

القَضِيْمُ۔ وہ چیز جو اطراف و انداز سے
کاٹی جائے۔ دھار گری ہوئی تلوار۔
گٹھری۔ خط۔ رقعہ۔ والقَضِيْمَةُ
وہ چڑے کا فرش جو جلاؤ کے قتل
کرنے کے وقت مجرم کے نیچے بچھایا
جاتا تھا تاکہ خون ادھر ادھر نہ بے۔
ادھوڑی کا چمڑا۔ سفید کھال جس پر
لکھا جاتا ہے۔ جانور کے لیے جو کا چارہ
چاندی۔ جہر قَضْمٌ وَقَضْمٌ وَ
أَقْضَمَةٌ۔

القَضَامُ۔ کھجور کا وہ درخت جو زیادہ لمبا
ہونے کی وجہ سے کم اور خشک پھل والا
ہو گیا ہو۔

قَضَى يَقْضِي قَضَاءً۔ الشَّيْءَ بِمَضْبُوطٍ
کے ساتھ بنانا اور اندازہ کرنا۔
حَاجَتَهُ، ضرورت کو پورا کرنا اور
اس سے فارغ ہونا۔ وَطَرَفٌ۔
اپنی مراد کو پہنچنا۔ عَبْرَتَهُ۔ سر میں
جس قدر آنسو ہوں ان کو نکال ڈالنا۔
- الدَّيْنِ قَرْضًا أَوْ كَالِ ذُنَابِ
نماز کو ادا کرنا۔ الْأَمْرَ إِلَيْهِ۔
معاہدہ کسی تک پہنچانا۔ الْعَهْدَ نَاقِذًا
کرنا۔ عَلَيْهِ عَهْدًا۔ کسی کو
وصیت کرنا۔ قَضَى الرَّجُلُ وَ
قَضَى نَجْوَةً وَقَضَى أَجَلَهُ وَ
قَضَى عَلَيْهِ۔ مرجانا۔ ضَرْبٌ
قَضِيٌّ عَلَيْهِ۔ اس کو مارا اور وہ
مرگیا۔ قَضَى مِنْهُ الْعَجَبُ۔ اس سے
انتہائی تعجب کیا حتیٰ کہ تعجب کا حق
ادا کر دیا۔ لَا أَقْضِي مِنْهُ الْعَجَبُ

معاہدہ کے برابر ہونے کے سبب پورا
تعجب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
قَضَى يَقْضِي قَضَاءً أَوْ قَضِيًّا وَ
قَضِيَّةً۔ بَيْنَ الْخَعْمَيْنِ فَيْصِلُهُ
کرنا۔ الْأَمْرَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ۔ کسی
معاہدے کے حق میں یا خلاف فیصلہ کرنا۔
- الشَّيْءَ۔ اطلاع دینا اور واضح
کرنا۔

قَضَى تَقْضِيَةً وَقِيضًا أَوْ وَطَرَةً
اپنی مراد حاصل کرنا۔ الْأَمْرَ كَيْ
معاہدے کو جاری و نافذ کرنا۔ فَلَانًا
منصف بنانا۔ تَقْضِيَةً، مرجانا۔
قَاضِي مَقَاضَاتٍ۔ فَلَانًا إِلَى الْحَاكِمِ
حاکم کے پاس کسی کو لے جانا۔ قَاضَاكَ
عَلَى مَالٍ۔ کسی سے مال پر صلح کر لینا۔
تَقْضَى۔ الْبَايِعِيُّ۔ باز کا کرنا۔ تَقْضَى كِي
اصل تقاضی تھی، تخفیف کی غرض سے
آخری ضاد کو یا سے تبدیل کر لیا گیا
ہے۔ وَالْقَضَى الشَّيْءَ۔ نفا ہونا۔
ناہود ہو جانا۔ گذر جانا۔

تَقَاضِيًا إِلَى الْحَاكِمِ۔ دو شخصوں کا
حاکم کے پاس فیصلہ کے لیے جانا۔
تَقَاضَاةُ الدَّيْنِ وَغَيْرُهُ وَ
بِالدَّيْنِ۔ قرض مانگنا اور اس پر
قبضہ کرنا۔

إِقْتَضَى إِقْتِضَاءً أَوْ الْحَالَ كَذَا، حالت
کا اس طرح تقاضا کرنا۔ إِقْتَضَاةُ
الدَّيْنِ وَغَيْرُهُ۔ قرض مانگنا۔
مطالبہ کرنا۔ إِقْتَضَى الْأَمْرَ
الْوَجُوبَ۔ امر کا وجوب کو چاہنا
اور لزوم پر دلالت کرنا۔ إِفْعَلُ مَا
يَقْتَضِيهِ كَرْمُكَ۔ جو تمہارے
کرم کا تقاضا ہو وہ کرو۔

إِسْتَقْضَى اسْتِغْنَاءً أَوْ فَلَانًا الدَّيْنِ
کسی سے ادائیگی کا مطالبہ کرنا۔

إِسْتَقْضَى۔ السُّلْطَانُ فَلَانًا عَلَيْنَا۔
بادشاہ کا کسی کو قاضی مقرر کرنا۔
إِسْتَقْضَاةُ۔ کسی کو قضا کے لیے
طلب کرنا۔ اسْتَقْضَى فَلَانٌ۔ کسی
کو قاضی بنایا جانا۔

القَضَى وَالْقَضَاءُ۔ حکم۔ ادائیگی۔ جہ
أَقْضِيَةً۔
القَضِيُّ۔ موت۔ رَجُلٌ قَضِيٌّ۔ جلدی
فیصلہ کرنے والا۔

القَضِيَّةُ۔ قضا کا اسم۔ اہل منطق کے
نزدیک وہ مقولہ جس کی تصدیق یا تکذیب
ہو سکے۔ جہ۔ قَضَايَا۔

القِصَّةُ۔ ایک ترش بوٹی۔ جہ۔ قِضَى
وَقِضَاتٌ وَقِضُونَ۔

القَاضِيُّ۔ حاکم شرعی۔ جہ۔ قُضَاةٌ۔
قَاضِي الْقَضَاةِ جَيْفٌ جِسٌّ۔
سب سے قاضی۔ زہر قاتل۔

القَاضِيَّةُ۔ قاضی کی مونت۔ موت۔
أَتَتْ عَلَيْهِ الْقَاضِيَّةُ۔ اس کو
موت آگئی۔

القَضَاءُ۔ قاضی کا بالقہ مضبوط زرہ۔
قَطَّ قَطَارًا، وَأَقْتَطَ۔ الْقَلَمَ وَ
نَحْوَهُ۔ قلم وغیرہ کو قٹ دینا۔ الْبَيْطَارُ
حَافِظُ الدَّابَّةِ۔ جانور کے کھڑا رشتا
اور ہموار کرنا۔

قَطَّ قَطْرًا وَقَطَّ وَقَطْرًا رَيْنًا،
التَّهَوُّ بِمَادَّةٍ جَدِيدَةٍ مَانًا۔ ہونگا ہونا۔
صفت قَطْرٌ وَقَاطٌ وَقَاطِلٌ۔ قَطَّ
وَقَطَطَ قَطَطًا وَقَطَّاطَةً وَس
الشَّعْرَ۔ بالوں کا گھونگھولے اور چھوٹا
ہونا۔ صفت قَطٌّ وَقَطَطٌ۔

قَطَّطَ النَّخْرَاطَ الْخَشْبَةَ۔ برصی کا
لکڑی کو تراش کر ہموار کرنا۔

إِقْتَطَّ وَالْقَطُّ الشَّيْءُ مُنْقَطِعٌ هُونًا۔
قَطٌّ۔ یہ حسب کے معنی میں بھی ہوتا ہے

اور اصل۔ محاورہ عرب ہے کہ هُوَ قُطْبُ ذَلِكَ الْأَرْضِ۔ مدارِ عالم ہے صاحب الجیش قُطْبُ دَجِي الْحَدَبِ جنگ کا مدار۔ سردار قبیلہ و قوم۔ جیسے فَلَانٌ قُطْبُ بَنِي فُلَانٍ۔ سردار قبیلہ ہے۔ ج۔ أَقْطَابٌ وَقُطُوبٌ وَقِطْبَةٌ۔ اہل جغرافیہ کے نزدیک زمین کے محور کا کنارہ اور یہ قطب دو ہیں، ایک قطب شمالی، دوسرا قطب جنوبی۔ الْقُطْبُ رِابِلٌ ہندسہ کے یہاں متحرک کرہ پر ایک نقطہ ثابتہ ہے۔

الْقُطْبُ۔ کوئی چیز پہلے تعیین کر کے حساب و اندازہ پر بلا وزن لے لینا کہتے ہیں أَخَذَهُ قُطْبًا۔ تخمینہ پر بلا وزن لے لینا۔

الْقُطْبَةُ۔ چکی کی میخ جس پر اُور کا پاٹ گھومتا ہے۔ ایک گھاس کا نام۔ ج۔ قُطْبٌ۔ اہل جغرافیہ کے نزدیک قطب یا زمین کے محور کے کنارہ کو کہتے ہیں۔ الْقِطْبِيُّ۔ ایک گھاس جس سے رسی بنائی جاتی ہے۔

الْقُطْبَانُ۔ ایک گھاس۔ الْقِطَابُ۔ مزاج، تخلیط، ملاوٹ، گریبان یا اس کے نیچے کا مقام اتصال۔ الْقُطَابَةُ۔ گوشت کا ٹکڑا۔

الْقِطْبِيُّ وَالْمَقْطُوبُ۔ پینے کی مخلوط چیز۔ الْقِطْبِيُّ وَالْقِطْبِيَّةُ۔ اونٹ اور بکری کا مخلوط دودھ۔

الْقَاطِبُ وَالْقُطُوبُ۔ ترش و شیر۔ کیونکہ وہ بھی تند خور ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے جَاءُوا قَاطِبَةً وَيَقُطِبُ بَيْتَهُمْ۔ تمام قوم آگنی۔ قَاطِبَةٌ حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے۔

قَطْرَ قَطْرًا (ن) سخت کچھاڑنا۔ قَطْرَ

جوقریب قریب قدم رکھ کر چلتا ہو۔ الْقِطَاظُ۔ بالوں کا گھونگھریلا پن۔ جانور کے کھر کا دائرہ۔ پار کا کنارہ۔ وہ نظیر جس کی تقلید کی جائے۔ ج۔ آقِطَةٌ۔ وَالْقِطِيطَةُ۔ غار کا بند کنارہ۔ ج۔ قَطَائِظُ۔ محاورہ ہے جَاءَتِ النَّخِيلُ قَطَائِظُ۔ گھوڑے گروہ درگروہ آئے۔

الْقَطَاظُ۔ اسم مبالغہ ہے۔ خردی۔ يَسْعُرُ قَاطِظًا وَقَاطِظًا وَمَقْطُوطًا۔ ہنگا بھاؤ۔

الْمِيقَظُ وَالْمِيقَظُطُ۔ وہ بڑی بالکڑی جس پر قلم کو قَط لگایا جائے۔ الْمَقْظُطُ۔ گھوڑے کی پسلیوں کا پچلا حصہ۔ علمدہ ہونے کی جگہ۔

قُطِبَ قُطْبًا (ض) الشئ کا ٹٹا۔ جمع کرنا۔ الشَّرَابُ پینے کی چیز کو ملانا۔ الإِنَاءُ۔ برتن کو بھرنا۔ الْوَجْلُ کسی کو غصہ میں لانا۔ الْجَوَائِقُ۔

گون کے دو حصوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا۔ پھر موڑ کر دونوں کو جمع کرنا۔ الْقَوْمُ۔ جمع ہونا۔

قُطِبَ قُطْبًا وَقُطُوبًا (ض) وَقُطِبَ الْوَجْلُ۔ منقہ پر شکن ڈالنا۔ ترشرونی کرنا۔ صفت قُطِبٌ ہے قُطِبَ الشَّرَابُ۔ پینے کی چیز میں کئی چیز ملانا۔

أَقْطَبَ الشَّرَابُ۔ ملانا۔ الْقَوْمُ۔ جمع ہونا۔ الْقُطْبُ وَالْقِطْبُ وَالْقُطْبُ وَالْقُطْبَةُ۔ ج۔ أَقْطَابٌ وَالْقُطْبَةُ۔ ج۔ قُطْبٌ۔ چکی کی آہنی میخ جس پر چکی گردش کرتی ہے۔

الْقُطْبُ۔ ایک ستارہ جو صہی اور فرقدین کے مابین واقع ہے۔ اس پر قبیلہ مخصوص کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کا مدار

جیسے قِطِيٌّ وَقِطْكُ وَقِطْرٌ رِيْدٌ دِنْهُمُ۔ جیسے کہ حَبِيْبِيٌّ وَحَبِيْبٌ رِيْدٌ دِنْهُمُ۔ کہا جاتا ہے مگر قِطْرٌ بَنِي ہے اور حَبِيْبٌ مَعْرَبٌ ہے کبھی قِطْرٌ اسم فعل بمعنی یکتبی ہوتا ہے تو نون و قایہ برائے حفاظت بناء علی سکون اضافة کر کے قِطْبِيٌّ کہا جاتا ہے۔ اگر تقلیل ظاہر کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو تخفیف کرتے ہوئے آخر کو ساکن کرتے ہیں جیسے مَا عِنْدِي إِلَّا هَذَا قِطْرٌ۔ میرے پاس صرف یہی ہے۔ اور اگر قِطْرٌ کے بعد ہمزہ وصلی آجائے تو آخر کو کسرہ دیا جاتا ہے جیسے مَا عَلِمْتُ إِلَّا هَذَا قِطْرَ الدَّهْرِ۔ اور کبھی تَحْسِينُ لفظ کے لیے اس پر فاء داخل ہو جاتی ہے جیسے رَأَيْتُهُ قِطْرًا فَقِطْرٌ۔ یعنی صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا۔ قِطْرٌ ظرف زمان ہے۔ احاطہ زمان ماضی کے لیے اور یہ منفی کے لیے خاص ہے جیسے مَا قَعَلْتُ هَذَا قِطْرٌ۔ میں نے اپنی گذشتہ عمر یہ کبھی نہیں کیا۔ اس کو کبھی قِطْرٌ اور قِطْرٌ بھی بولتے ہیں۔

الْقِطْرُ۔ ج۔ قِطَاظٌ وَقِطِيطَةٌ۔ بلی قِطْرُ الرَّبَادِ۔ لفظ رباد کی طرف مراجعت کی جائے۔ واحد قِطْرٌ ہے الْقِطْرُ قسمت، رات کی ایک گھڑی۔

حساب کار جِسْرُ النعام کا چک۔ ہندی ج۔ قُطُوطٌ۔ رَجُلٌ قِطْرٌ وَقِطْرٌ۔ وہ آدمی جس کے بال چھوٹے اور گھونگھریالے ہوں۔ ج۔ قُطُوتٌ وَقِطَاظٌ وَأَقْطَاظٌ وَقِطُوتٌ۔ امْرَأَةٌ قِطْلَةٌ وَقِطْطٌ گھونگھریالے بالوں والی عورت۔ قِطَاظٌ۔ اسم فعل ہے بمعنی حَسِبُ الْقِطُوطِيٌّ۔ وہ شخص

الْبَعِيرِ - اونٹ کو تار کول ملنا -
 الثَّوْبِ - کپڑا سینا - محاورہ ہے لَا
 أَدْرِي مَنْ قَطَرَهُ أَوْ مَنْ كَطَرَ
 بِهِ - میں نہیں جانتا کہ اس کو کون
 نے گیا ہے - یہ نفی کے ساتھ خاص
 ہے - قَطْرًا الرَّجُلُ - دانے وغیرہ
 کے بورے یا گھٹے کو تولنا اور پھر باقی
 کو بلا وزن کیے اسی تخمینہ پر لینا -
 قُطُورًا فِي الْأَرْضِ - زمین پر چلنا -
 قَطْرًا وَقُطُورًا وَقُطْرَانًا - الماءُ
 پانی کا جاری ہونا - بہنا - قطرہ قطرہ
 جاری ہونا - الصَّمْعُ مِنَ الشَّجَرَةِ
 درخت سے گوند نکالنا -
 قَطَرَ قَطْرًا رِنًا، وَقَطَرًا وَقَطْرًا -
 الابل - اونٹوں کو ایک ترتیب میں
 کرنے کے لیے قریب قریب کھڑے
 کرنا - بولا جاتا ہے - قَطَرَ الْبَعِيرَ
 إِلَى الْبَعِيرِ - اونٹوں کو ایک نظم میں
 کر دیا - قَطَرَ الْمَاءَ وَأَقَطَرَ - قطرہ
 قطرہ پانی جاری کیا - قَطَرَ الدَّوَاءَ
 دوا کا قرع انبیق کے ذریعہ عرق
 نکالنا - قَطَرَ الثَّوْبَ - کپڑے کو
 عود کی دھونی دینا - أَقَطَرَ النَّبْتَ
 نباتات خشک ہونے لگنا - الشَّيْءُ
 کسی چیز کا ٹپکنے کے نزدیک ہونا -
 محاورہ ہے - طَعَنَهُ قَطْرًا
 اس کو نیزہ مار کر ایک پہلو پر گرا دیا
 أَقَطَرَ الْمَاءَ - پانی کا بہنا -
 تَقَطَّرَ - عود کی دھونی دیا جانا - الماءُ
 پانی کا قطرہ قطرہ ٹپکنا - الرَّجُلُ
 آدمی کا اپنے آپ کو اوپر سے گرا دینا
 گر پڑنا - عَنَ كَذَا - پیچھے رہ جانا -
 بہ - پہلو پر گرا دینا -
 تَقَطَّرَ الْقَوْمُ - قوم کا ایک دوسرے
 کے پیچھے مسلسل آنا - الماءُ قطرہ

قطرہ گرنا اور بہنا - وَتَقَطَّرُوا -
 دو چیزوں کے کنارے بالمقابل ہونا -
 أَقَطَرَ وَأَقَطَرَهُ خَشَكٌ هَوْنَةً
 الناقۃ - اونٹنی کا دم کھڑی کرنا اور
 سر کو بلند کرنا - قَطْرًا الرَّجُلُ
 غضبناک ہونا -
 اسْتَقَطَرَ الْمَاءَ وَغَيْرَهُ - پانی کو ٹپکانا -
 عرق نکالنا -
 القَطْرُ - بارش - ٹپکنے یا بہنے والی چیز کا
 قطرہ - ج - قَطْرًا -
 القَطْرُ - ایک قسم کا تانبا پگھلا ہوا تانبا -
 ایک قسم کی چادر -
 القَطْرُ - ولایت و ملک - جانب - طرف
 ج - أَقَطَرُ - أَقَطَرُ الدُّنْيَا -
 دنیا کے چاروں گوشے - قَطْرُ
 الدُّنْيَا - (علم ہندسہ میں) خط
 مستقیم جو کہ دائرہ کو تقسیم کر دے
 اور محیط کو مرکز سے گذرتے ہوئے
 برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر
 دے - قَطْرُ الْمُرْتَجِعِ وَالْمُسْتَوْبِلِ
 وَالْمُعِينِ - وہ خط جو دو متقابل
 زاویوں کو باہم ملائے -
 القَطْرُ وَالقَطْرُ - وہ اگر کی لکڑی جو
 دھونی دینے کے کام آتی ہے -
 القَطْرُ - کسی چیز کی کچھ مقدار وزن کر کے
 لینا اور پھر باقی مقدار کو بلا وزن
 اسی تخمینہ کے حساب سے لے لینا -
 القَطْرَةُ - اسم مرؤۃ - نقطہ - ج
 قَطْرَاتٌ - رَمَاكَ الْفُلُ بِقَطْرَةٍ -
 خدا اس پر کوئی بلا نازل کرے -
 القَطْرَةُ وَالقَطِيرَةُ - کم قیمت اور
 گھٹیا چیز
 القَطْرَانُ وَالقَطْرَانُ - القَطْرَانُ
 ایک روغنی سیال مادہ جو صنوبر جیسے
 درخت سے حاصل کیا جاتا ہے -

تار کول -
 القَطْرُ وَالقَطْرُ وَالْمِقَطْرُ -
 بہت برسے والا بادل - القَطْرُ - وہ
 زہر جو بوجہ کثرت کے ٹپکتا ہو -
 القَطْرَةُ - کسی چیز کا ٹپکا ہوا حصہ -
 تھوڑا پانی -
 القَطْرُ - مِنَ الْإِبِلِ - اونٹوں کی قطار
 یا لائن - ج - قَطْرًا وَقَطْرَاتٌ -
 ریل گاڑی -
 القَطْرَةُ - اونٹوں کو ایک قطار میں
 ترتیب و نظم کے ساتھ باندھنا -
 محاورہ ہے کہ مَدَّتْ بِهِ قَطْرَةَ
 جَمَالٍ - اس کے پاس اونٹوں کی
 قطار گری -
 القَطْرِيُّ وَالقَطْرِيَّةُ - سانپ
 القَطْرُ - ہر ٹپکنے والا گوند -
 دم الاخوین (دوا)
 القَطْرَةُ - قَا طِرُ كِي مُنْث - ریلوے
 انجن -
 المِقَطْرُ وَالْمِقَطْرَةُ - وہ انگیٹھی جس
 کو عود وغیرہ کی دھونی کے لیے کام میں
 لاتے ہیں - ج - مِقَاطِرُ - المِقَطْرَةُ -
 وہ لکڑی جس میں متعدد سوراخ ہوتے
 ہیں اور ان میں بھروں کے پیر پھسلنے
 جاتے ہیں - کاٹھ -
 المِقَاطِرَةُ - کوئی چیز پہلے تھوڑی مقدار
 میں وزن یا پیمانہ کے ذریعہ لینا اور
 پھر باقی کو اسی اندازہ و حساب پر
 بلا وزن لینا - بولا جاتا ہے اِكْوَاكَ
 مِقَاطِرَةً - اس کے آمد و رفت پر
 کرایہ کیا -
 المِقَطْرُ - مفعول - جس پر تار کول ملا
 گیا ہو - اَرْضٌ مِقَطْرَةٌ - وہ زمین
 جس پر بارش ہوئی ہو -
 قَطْرَبَ - جلدی کرنا - قَطْرَبَهُ كَسَى كُو

بچھاڑنا۔

الْفَطْرُبُ - سر کو بلانا۔

الْقَطْرُبُ - چور۔ وہ بھڑیا جس کے بال

گرچے ہوں۔ ذکر جہت۔ چھوٹے

جہات۔ ایک کیڑا جو حرکت کرتا رہتا

ہے۔ رات کو چمکنے والا کیڑا۔ جاہل۔

کمیتہ۔ بچھاڑا ہوا۔ نامرد، چھوٹا کتا۔

دماغی امراض میں۔ بے جنون کی قسم کا

ایک مرض۔ ایک پودا جس کے کانٹے

گزرنے والے کو لپیٹ جاتے ہیں۔

قَطْرُونَ الْبَجِيْرُ - اونٹ کو قنطان ملنا۔

قَطَعَ قَطْعًا وَمَقْطَعًا وَتَقَطَّ عَارِفٌ

الشَّيْءُ - کاٹنا۔ علیحدہ و جدا کرنا۔

قَطَعَهُ عَنْ حَقِيْقَةٍ - حق سے روکنا۔

قَطَعَ السُّلُوَّةَ - نارا کو باطل کرنا۔

فِي الْقَوْلِ - یقین کرنا۔ الطَّرِيْقُ عَلَى

السَّابِلِيْنَ - راستہ کو چلنے والوں سے

روکنا اور خوف دلانا۔

قَطَعَ قَطْعًا وَقَطُوْعًا عَارِفٌ، النَّهْرُ نَهْرٌ

كُوْبَارٌ كَرْنَا - قَطَعَهُ بِالْقَطِيْعِ أَوْ

السُّرُوْبِ - چھڑی یا کوڑے سے مارنا۔

قَطَعَهُ بِالْحُجَّةِ - دلیل سے خاموش

کرنا۔ لِسَانُهُ - احسان کے ذریعہ

خاموش کرنا۔

قَطَعَ قَطْعًا وَقَطِيْعَةً رَفٌ، رَجِمَهُ -

رشتہ داری توڑنا۔ تعلق رشتہ ختم کرنا۔

قَطَعَةُ الصَّيْدِيْقِ - دوست کو

چھوڑنا۔

قَطَعَ قَطْعًا عَارِفٌ، الْحَوْصُ - حوض آدھا

بھر کر چھوڑ دینا۔ فَلَانٌ الْحَبْلُ أَوْ

يَحْبِلُ - رسی سے اپنا گلہ گھونٹنا۔

عُنُقٌ وَآبَتُهُ - چھاپا یہ کو فروخت کرنا۔

لَهُ قَطْعَةٌ مِنَ الْمَالِ - کسی کو

دینے کے لیے مال کا ایک حصہ علیحدہ

کرنا۔ قَطِيْعَةٌ - الشَّيْءُ عَلَى عَبْدٍ

آقا کا اپنے غلام پر ٹیکس عائد کرنا۔

عَمَامَةٌ يَجِبُ قَطْعُهَا الشُّبُّ - میرے

قد کے لیے کافی کپڑا ہے۔

قَطَعَ قَطُوْعًا وَمَقْطَعًا عَارِفٌ،

مَاءٌ اِبْتِيْرٌ - کنویں کا پانی کم یا ختم ہو

جانا۔ قَطَعَتِ الطَّيْرُ - پرندوں کا

سر و ٹک سے گرم ٹک کی طرف کوچ

کرنا۔ پرندوں کی صفت قَوَّاطِعٌ ہے

قَطَعَ قَطْعَةً - کلام پر قادر نہ ہونا

- لِسَانُهُ - زبان کی روانی اور تیزی کا

زائل ہو جانا۔

قَطَعَتْ قَطْعًا وَقَطْعًا وَقَطْعَةً وَ

قَطْعًا عَارِسٌ، يَدَا - ہاتھ کا بوج

مرض یا قطع جدا ہو جانا۔

قَطَعَ النَّفْسُ - سانس کا منقطع ہو جانا۔

- الرَّجُلُ - عاجز و مایوس ہونا۔

بہ - کسی چیز کا اُمید اور امیدوار کے

درمیان مائل ہو جانا۔ اس امیدوار

کو مَقْطُوْعٌ بہ سکتے ہیں۔

قَطَعَ - الشَّيْءُ - ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الشَّعْرَ شَعْرًا كِي تَقْيِيْعٌ رَحِيْلٌ عَرَوْضِيٌّ،

کرنا۔ الخَمْرُ بِالْمَاءِ - شراب کو

پانی میں ملانا۔ الفَرَسُ الْخَيْلُ -

گھوڑے کا گھوڑوں کی جماعت سے

سبقت لے جانا۔ اَللَّهُ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

- قسم قسم کا عذاب دینا اور ٹکڑے کرنا۔

- الْفَرَسُ الْبَحْرِيُّ - گھوڑے کا

خوشی میں متعدد قسم کی چال چلنا۔

قَطَعَنِي الشُّبُّ - کپڑا میرے قد

کے لیے کافی ہے۔ هَذَا الشُّبُّ

يَقْطَعُكَ قَيْمِيْنًا - یہ کپڑا تمہاری

قیمتوں کو کافی ہے۔ قَطِعَ فِي بَطْنِيْهِ -

کسی کے پیٹ میں مروڑ بچھیں ہونا۔

قَاطَعَهُ مَقَاطِعَةً - کسی کی ملاقات یا

مراست منقطع کرنا۔ بائیکاٹ کرنا۔

قَاطَعُ الْأَجْبَرِ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ

الْأَجْبَرِ أَوْ الْعَمَلِ - اجرت معینہ پر

کام سونپنا۔ ظنیکہ دینا۔ فَلَانٌ

فَلَانًا يَسِيْقِيْهِمَا - دو آدمیوں کا اپنی

اپنی تلوار کو مقابل کرنا کہ کس کی تلوار

زیادہ تیز ہے۔ قَاطَعُوا الْحَوْصَ مَهْمُومٌ

بِالسَّيْفِ - ایک دوسرے کا گوشت

تلوار سے کاٹنا۔

أَقْطَعَ الرَّجُلُ - کسی آدمی کا لاجواب ہو کر

خاموش ہو جانا۔ عَنْ أَهْلِيْهِ - اہل و

عیال سے جدا اور منقطع ہونا۔ مَاءٌ

اِبْتِيْرٌ - پانی کا ختم ہونا۔ فَلَانًا -

نہر سے کسی کو پار اتارنا۔ أَقْطَعَهُ

الْحَطْبُ - ایندھن کا ٹسے کی اجازت

دینا۔ أَقْطَعَهُ بِالْحُجَّةِ - دلیل سے

لاجواب و چپ کرنا۔ الْأَمِيْرُ

الْجُنْدَ الْبَلَدِ - لشکر کو کوئی شہر

جاگیر میں دے دینا۔ أَقْطَعَكَ

الشَّيْءُ - کسی چیز کا تجھ سے منقطع ہونا

أَقْطَعَتِ السَّمَاءُ بِمَوْضِعٍ نَازِلًا

کسی جگہ بارش نہ ہونا۔ أَقْطَعَ

الْقَوْمُ كَمَا قَوْمٌ بِرَبَارِشٍ كَارِكًا -

- الدَّجَاجَةُ - مرغی کا انڈے دینے

سے باز رہنا۔ كُرْطُكُ هَوْنَا - أَقْطَعَنِي

الشُّبُّ كِطْرًا مِرَّةً قَدَّ كَيْفَ

کافی ہے۔

تَقْطَعُ - کٹ جانا۔ تَقْطَعُ الْبَطْلُ - ساہ

کا گھٹنا اور سکرنا۔ تَقْطَعُوا

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ - اپنے درمیان

معاملہ کو تقسیم کرنا۔ تَقْطَعَتْ عَلَى

هَذَا الْجَوَادِ أَعْنَاقُ الْخَيْلِ

گھوڑوں کی گردنیں اس گھوڑے سے

متصل نہ ہو سکیں۔

الْقَطْعُ الشَّيْءُ - منقطع ہونا۔ کٹ جانا۔

وَقْتُ خْتِمْ هَوْنَا - جیسے لَقَطْعُ الْحَرِّ

أَوِ الْبُرْدِ - گرمی یا سردی کا زمانہ گزر گیا
 - السَّيِّئَاتِ - تلوار کی دھار گزنا -
 هَاءُ الْبَيْتِ - کونوں کا پانی ختم ہو جانا -
 الْقَيْثُ - بارش کا رکنا - الكلامُ -
 کلام کا جاری نہ رہنا - رُكْ جَانَا -
 انْقَطَعَ النَّهْرُ - نہر کا بند یا خشک
 ہونا - اللَّيْنُ - دودھ کی تری خشک
 ہو کر گانٹھ بندھ جانا - لِسَانُهُ -
 زبان کی طلاقت و روانی کا زائل ہونا -
 - إِلَى فُلَانٍ - کسی کے پاس خصوصی
 صحبت رکھنا -
 انْقَطَعَ - بالمسافر - مسافر کی سواری کا
 ہلاک ہو جانا یا ز اوراہ ختم ہو جانا -
 اور سفر منقطع ہو جانا، ایسے مسافر کو
 مُنْقَطِعٌ بہ کہا جاتا ہے - تَقَاطَعَا
 ایک دوسرے سے تعلقات ختم کرنا -
 تَقَاطَعَتِ الشَّيْءُ - کسی چیز کا ایک حصہ
 دوسرے سے منقطع ہونا -
 اِقْتَطَعَ مَالٌ فُلَانٍ - کسی کا مال اپنے لیے
 لینا - مِنَ الْمَالِ قِطْعَةٌ - مال سے
 کچھ حصہ لینا - مَا فِي الْإِنَاءِ - برتن کی
 چیز کو پی جانا -
 اسْتَقَطَعَهُ بَلَدًا او توباً - کسی سے جاگیر
 طلب کرنا یا کپڑا کٹوانا -
 اِقْطُوطِعَتِ الْقَلْبُ - بندوں کا سرد ملک
 سے گرم ملک کو ملے جانا -
 انْقَطَعُ مِمَّا قِطْعًا - بمعنی یقیناً - جیسے
 الامر واقع قطعاً - یعنی بلا شک
 واقع ہے - اِنْنِي اَقْطَعُ بِذَاكَ
 قِطْعًا - میں اس کا یقین رکھتا ہوں -
 القِطْعُ - ج - اَقْطَاعٌ وَاقْطَعٌ و
 قِطَاعٌ - درخت کا کٹا ہوا حصہ - نیزہ
 کا چھوٹا اور چوڑا پھل - ج - قُطُوعٌ
 وَاقْطَاعٌ - نوگیر اور موٹی چادر جو سوار
 کے نیچے بچھائی جاتی ہے - ایک نقش و

نگار والا کپڑا - رات کا ایک حصہ -
 ثَوْبٌ قِطْعٌ وَاقْطَاعٌ - کاٹا ہوا
 کپڑا -
 القِطْعُ - پیٹ کا درد اور مروڑ - سانس کا
 انقطاع - وَالْقِطْعَةُ - گرمی اور
 حدت سے کونوں کا پانی ختم ہو جانا -
 القِطْعُ - فِي الْقُرْبِ - گھوڑے کی کھوپڑوں
 کا کٹ جانا -
 القِطْعُ وَالْقِطْعَةُ - رشتہ داری قطع
 کرنے والا -
 القِطْعُ - جس کی آواز منقطع ہو جائے -
 القِطْعَةُ - کسی چیز کا ایک حصہ - ج
 قِطْعٌ -
 القِطْعَةُ - مِنَ الشَّجَرَاتِ یا دس
 یا اس سے کم اشعار - القِطْعَةُ -
 زمین کا جدا کردہ ٹکڑا - پلاٹ - کسی چیز
 کا کاٹا ہوا ٹکڑا - میدہ - میدہ کی بھوسی -
 کتاب کی ایک فصل - ج - قِطْعٌ و
 قِطْعَاتٌ - القِطْعَةُ وَالْقِطْعَةُ
 کاٹنے کی جگہ - ہاتھ کٹے آدمی کا باقی ماندہ
 ہاتھ کا حصہ - ج - قِطْعٌ وَقِطْعَاتٌ -
 قِطْعَاتُ الشَّجَرِ وَقِطْعَاتُهَا و
 قِطْعَاتُهَا - درخت کی گانٹھوں کے
 کنارے جو کاٹنے کے بعد چھوٹتے ہیں
 القِطَاعُ - کاٹنے کا آلہ - ج - قِطْعَةٌ -
 القِطَاعُ وَالْقِطِيعُ - رات کے ابتدائی
 تہائی حصہ کا مجموعہ - القِطَاعُ و
 القِطْعُ - درہم -
 القِطَاعَةُ - کاٹنے سے جو تراشہ گرے -
 کسی چیز کا کاٹا ہوا حصہ - وہ لقمہ
 جس کا آدھا حصہ کھالیا جائے اور
 آدھا واپس اگل دیا جائے -
 القِطَاعَةُ - (عام نصاریٰ کی اصطلاح میں)
 چند مقررہ ایام میں بعض خاص اغذیہ
 اور گوشت سے پرہیز کرنا -

القِطِيعُ - ج - قِطْعَانٌ وَقِطَاعٌ وَاقْطَاعٌ
 ج - ج - اَقَاطِيعُ - چوپایوں یا بکریوں کا
 گلہ - ریوڑ - قِطِيعٌ - ج - قِطْعَانٌ و
 قِطَاعٌ وَاقْطِيعَةٌ وَاقْطِيعٌ و
 اَقَاطِيعٌ وَقِطْعٌ وَقِطْعَاتٌ - وہ
 شاخ جس کو تراش کر تیرنا یا جائے -
 درخت یا شاخ کا کٹا ہوا حصہ - ج
 قِطْعَاءٌ وَاقْطِيعَاءٌ - نظیر - مثال -
 جیسے هُوَ قِطِيعَةٌ - وہ جسم اور قد
 میں اس کا مشابہ ہے - هُوَ قِطِيعٌ
 القِيَامُ - وہ بوجہ موٹاپے یا بڑھاپے
 کے اچھے نہیں سکتا - اِمْرَأَةٌ قِطِيعٌ
 الکلام - وہ عورت جو جب زبان نہ
 ہو - رَجُلٌ قِطِيعٌ - وہ شخص جو سانس
 پھولنے کی وجہ سے بول نہ سکے - مَوْتٌ
 قِطِيعٌ - اِمْرَأَةٌ قِطِيعٌ وَقُطُوعٌ
 وہ عورت جو اٹھنے میں سستی و تاخیر
 کرے - اَلْقُرُوءُ الْقِطِيعَاءُ - ایک
 دوسرے سے قطع تعلق کرنے سے
 بچو -
 القِطِيعَةُ - مُدَائِي - وظيفہ، خراجی - زمین
 کا ٹیکس - جاگیر - ج - قِطَائِعٌ -
 الإِقْطَاعَةُ - خراجی - زمین کا وہ حصہ جو
 لشکر کو ان کی معاش کے طور پر دیا جائے
 جاگیر - ج - اِنْقِطَاعَاتٌ -
 السَّقِطِيعُ - پیٹ میں مروڑ - قِطِيعٌ
 التَّجِيلُ - آدمی کا قدر و قامت - ج
 قِطَائِيعٌ -
 الأَقْطُوعَةُ - وہ چیز جو بطور علامت قطع تعلق
 ایک لڑکی دوسری کو بھیجے -
 القِطَاعُ - رکنے والا - کاٹنے کا آلہ - کپڑے
 یا کسی چیز کے بنانے کے لیے نمونہ -
 محاورہ ہے کہ قِطْعُ الْأَدْيَمِ عَلَى
 القِطَاعِ - چھڑا نمونہ پر کاٹا گیا ہے
 لَبِنٌ قِطَاعٌ - کٹا دودھ - بُرْهَانٌ

قَاطِعٌ - حجت ختم کرنے والی دلیل۔
سَيْفٌ قَاطِعٌ - تیز تلوار۔ قَاطِعٌ
النَّظِيرُ - چور۔ ڈاکو۔ قَطَعُوا
قَطَاعًا -

القَاطِعَةُ - قاطع کی ٹوٹ۔ ج۔
قَوَاطِعٌ - طائر قَوَاطِعٌ - وہ
پندے جو جاٹے اور گرمی میں
ایک جگہ نہ ٹھہریں۔ اس کے مقابلے
میں طائر اَدَايِدٌ ہے۔

القَطَاعُ - اسم مبالغہ ہے۔ معماروں کی
اصطلاح میں وہ شخص جو عمارت
کے پتھر تراشے۔ القُطُوعُ - بہت
کاٹنے والا۔ مِنَ التُّوقِ - وذاقہ
جس کا دودھ جلدی منقطع ہو جائے۔
الاقْطَعُ - جس کا لہجہ کٹ گیا ہو۔ ہرا۔
تُونْتٌ قَطَاعٌ - ج۔ قَطَعٌ وَقُطَاعٌ
رَجِحٌ قَطَاعٌ - وہ رشتہ داری جس
کو قطع کر دیا گیا ہو۔

المُقَطَّعُ - کاٹنے یا کٹنے کا مقام۔ ج۔
مَقَاطِعُ - شَرَابٌ لَذِيذٌ المَقَطِعِ -
وہ مشروب جس کا آخری حصہ لذیذ ہو
مَقَاطِعُ الأَنْهَارِ - نہروں کے وہ
مقامات جو عبور ہو سکیں۔ مَقَاطِعُ
الكَلَامِ - وہ وقفہ جہاں کلام رُك
جاتا ہے۔ کلام میں ٹھہرنے اور وقفہ
کرنے کے مواقع۔ مَقَطِعُ الحَقِيقِ
جس سے باطل کو قطع کر دیا جائے۔
مَقَطِعٌ - حرکت کرنے والا حرف۔
دو حرف جن کا دوسرا حرف ساکن ہو
مَقَطِعُ الحُرُوفِ - حرف کا مخزج۔
المُقَطِّعُ - وہ شخص جس کی حجت منقطع ہو
چکی ہو۔

المُقَطِّعُ - اجنبی۔ وہ شخص جس کا نام عطایا
کے رجب میں نہ ہو۔ یا وہ شخص جس
کے برابر والوں کو تو حصہ دیا جائے مگر

اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مُقَطِّعُ النَّهْرِ
نہر کا وہ مقام جہاں سے پار ہو سکیں۔
المُقَطِّعُ - آلہ قطع۔ چھڑا یا کپڑا قطع
کرنے کے لیے نمونہ۔ سَيْفٌ وَمَقَطِعٌ -
تیز تلوار۔

المُقَطِّعُ - بجائی چارے پر قائم نہ رہنے
والا۔ بَطْرٌ وَمُقَطِّعٌ - وہ کنواں جس
کا پانی جلد ختم ہو جائے۔ مَقَطِّعُ
الكَلَامِ - لوگوں کے کلام کو قطع کرنے
کا عادی۔

المَقَطِّعَةُ - کاٹنے کی جگہ یا سبب۔
محاورہ ہے المِجْرُ مَقَطِّعَةٌ
لِئَلْوَدِّ - جدائی قطع محبت کا سبب
ہے۔

المَقَطِّعَةُ وَالْمَقَطِّعَاتُ - چھوٹے
کپڑے۔ یہ اسم جنس ہے اور اس کا
واحد نہیں ہے۔ یہ چھوٹے کپڑوں
کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے۔

مَقَطِّعَاتُ الشَّيْءِ - وہ طریقے جن
کی طرف شے کی تجللیں یا جن سے شے
کی ترکیب ہو۔ المَقَطِّعَاتُ مِنَ
الشَّيْءِ - چھوٹے اشعار یا ترانے۔
المُنْقَطِعُ - مِنَ الوَادِي وَنَحْوِهِ -
وادی کا وہ کنارہ جہاں وادی ختم ہو۔
المُنْقَطِعُ - فاعل۔ مُنْقَطِعُ القُرْبَيْنِ
جس کا کوئی ہمسرنہ ہو۔ بے نظیر
مُنْقَطِعُ العُقَالِ فِي الشَّيْءِ - شے
میں بے لگام۔

المُنْقَطِعُ - فاعل۔ كَوْتَاهُ قَد - غُرَّةٌ
مُنْقَطِعَةٌ - گھوڑے کے منہ کی
وہ سفیدی جو نتھنوں سے آنکھ
تک ہو۔

قَطْفَةٌ قَطْفَارٌ - وَقَطْفَةٌ جَمِينَةٌ -
خراش پیدا کرنا۔ قَطَفْتُ وَقَطَفْتُ
وَأَقْتَطَفْتُ - الثَّمَرُ - پھل چیننا۔

الشَّيْءِ - کسی چیز کو ایک لینا۔ چھین
بھاگنا۔ قَطَفْتُ مَعْسَكَةَ الشَّهْدِ كِ
چھتے سے سارا شہد نکال لینا۔

أَقْتَطَفْتُ الكَلَامَ - کلام کا خلاصہ کرنا۔
قَطَفْتُ قَطَافًا وَقَطُوفًا (ن ض) -
القُرُوسُ وَغَيْرُهَا - گھوڑے کی چال
سُت اور کم ہونا۔

أَقَطَفْتُ الكَرِيمَ - انگریز کا چننے کے قابل
ہو جانا۔ الرَّجُلُ سُت سَوَارِي
والا ہونا۔

القَطْفُ - خراش۔ ج۔ قُطُوفٌ -
القَطْفُ - اثر۔ ج۔ قُطُوفٌ - ایک
قسم کا پہاڑی درخت جس کی ٹکڑی مضبوط
ہوتی ہے۔ بتھوے کا ساگ۔ واحد
قَطْفَةٌ -

القَطْفُ - چنے ہوئے پھل۔ انگریز کا گچھا
جب وہ چننا جائے۔ ج۔ قَطَافٌ
وَقُطُوفٌ -

القَطْفَةُ - ایک کانٹے والا ساگ جس کا
اندرونی حصہ سُرخ اور پتے ٹیالے
رنگ کے ہوتے ہیں۔

القَطَافُ وَالقَطَاتُ - پھلوں کے چنے
جانے کا وقت۔ خراش۔

القَطَافَةُ - انگریز چننے کے وقت جو
نیچے گر جائیں۔

القَطُوفُ - مِنَ الدَّوَابِّ - بُرِي اور
سُت رفتار والا جانور۔ ج۔ قَطْفَةٌ
القَطِيفُ - چننا ہوا پھل۔

القَطِيفَةُ - مخملی چادر جو اوڑھی جاتی ہے
ج۔ قَطَفْتُ وَقَطَائِفُ - القَطَائِفُ
ایک کھانا جو آٹے میں پانی ملا کر بنایا
جاتا ہے۔ ایک بوٹی ہے، جس کو
سالف العروس بھی کہتے ہیں۔

المَقَطِّفُ - جس میں پھل چن کر رکھے جائیں
ج۔ مَقَاطِفُ -

الْمُقَطَّفُ - وہ درانتی یا چاقو جس سے پھل چنا جائے۔ گچھے کی ڈنڈی۔ ج۔ مَقَاطِفُ۔

الْمُقَطَّفَةُ - کوتاہ قد آدمی۔

قَطَّقَتِ قَطْقَطَةً - السَّحَابُ ابر کا اولے یا پھوار برسانا۔ قَطَّقَتِ الْحَبْلَةَ - چکور کا بولنا۔

تَقَطَّقَ - الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ كَيْسِي مَعَاظِمِ

میں آدمی کا سر پر سوار ہونا۔ جی

اِبْلَادٍ - شہروں میں جانا۔ الدَّوْلَةُ

إِلَى الْبَيْتِ - ڈول کا کنویں میں گرنا۔

- الرَّجُلُ - قدم قریب قریب رکھ کر

تیز رفتار چلنا۔

الْقَطْقَطُ - اولاً - پھوار۔

الْقَطْقَاطُ - تیز رفتار۔ جَاءَتِ الْخَيْلُ

قَطَائِطٌ - گھوڑے گلہ در گلہ آئے۔

قَطَلَ قَطْلًا رَدْنًا، وَقَطَلَ الشَّيْءَ -

کاٹنا۔ قَطَلَ عُنُقَهُ - گردن پر مارنا

قَطَلَهُ بِحِجَابٍ نَائِيًا يَلُوهُ - گرانا۔

تَقَطَّلَ - الْجُدْعُ - جڑ سے کٹ جانا۔

الْقَطْلُ وَالْقَطِيلُ - مِنَ الشَّجَرِ

وَنُحُوبِهِ - درخت وغیرہ کٹا ہوا۔

بَوْلَا جَاتَا بِي - نُحْلَةٌ قَطِيلٌ و

جَذْعٌ قَطْلٌ وَقَطِيلٌ - جڑ سے

کٹا ہوا۔

الْقَطِيلَةُ - کبیل کا وہ ٹکڑا جو پانی وغیرہ خشک

کرنے کے کام آتا ہے۔

الْمُقَطَّلُ - مفعول۔ بختہ۔

الْمُقَطَّلَةُ - کھٹنے کا آلہ۔ ج۔ مَقَاطِلُ۔

الْقَطْلَبُ - ایک درخت ہے جس میں انگور

کی طرح سبز دانے آگتے ہیں جو کہ پک

کر سرخ ہو جاتے ہیں، ان کا ذائقہ

میٹھا اور کھیلا ہوتا ہے۔ واحد

قَطْلَبَةٌ۔

قَطْمَةٌ قَطْمًا رَضًا، چبانا۔ چکھنا۔

قَطْمَ الْعُودِ - لکڑی کو دانت سے

چبانا۔ الشَّيْءُ - کاٹنا۔ اللَّحْمَ

وغيره کا۔ گوشت وغیرہ کی خواہش

کرنا۔ الْقَشْرُ إِلَى اللَّحْمِ - بھکرہ

کا گوشت کے لیے مشتاق ہونا۔

قَطِمَ قَطِيمًا رَسًا، گوشت وغیرہ کی خواہش

کرنا۔ صفت قَطْمٌ ہے۔

قَطْمَ الشَّارِبِ - پینے والے کا مشروب کو

چکھ کر بڑا مزہ بنانا۔

الْقَطَامُ - شکرہ۔ وہ شکرہ جو گوشت کا

بت مشتاق ہو۔

الْقَطَائِمِيُّ وَالْقَطَائِمِيُّ - تیز نظر شکرہ جو

شکار کے لیے براٹھائے رکھتا ہو۔

الْقَطَائِمِيُّ وَالْقَطَائِمِيُّ - تیز نبیذ۔

رَجُلٌ قَطَائِمِيٌّ - معاملات میں مند

کرنے والا۔

الْقَطَامَةُ - وہ چیز جو مزہ میں چبا کر چھیک

دی جائے۔

الْقَطِيمُ - غضبناک

الْقَطِيمَةُ - ذائقہ بدلا ہوا دودھ۔ ٹکڑا

کھانے کی ایک لپ بھر مقدار۔ شئی

مُرًا الْقَطِيمُ كَهَيْئَةِ ذَائِقَةٍ

وال چیز۔

الْمُقَطَّمُ - پنہ۔ ج۔ مَقَاطِمُ

الْمُقَطَّمُ - مہر میں ایک پہاڑ کا نام ہے

جو قاہرہ کے نزدیک واقع ہے۔

الْقَطِيمِيُّ وَالْقَطِيمَارُ - وہ باریک پردہ

یا بھلی جو چھوٹے رے کے گودے اور

گھٹلی کے درمیان ہوتی ہے۔ محاورہ

ہے کہ مَا أَصْبَتْ مِنْهُ قَطِيمًا -

مجھے اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔

حقیقتی۔

قَطْنٌ قَطُونًا (د) فِي الْمَكَانِ وَبِهِ -

کسی جگہ مقیم ہونا اور وطن بنانا۔

الرَّجُلُ - خدمت کرنا۔

قَطْنٌ قَطْنًا رَسًا، ظمؤہ۔ کمر جبک جانا۔

صفت اقطن۔

قَطْنَهُ بِالْمَكَانِ - کسی کو مقیم کرنا۔ قَطْنٌ

الْكُزْمُ - انگور کی بیل گرہیں پھوٹنا۔

الْقَطْنُ - جلنے اقامت۔ پرندہ کی دم کی

جڑ۔ ریڑھ کی آخری ہڈی کے اوپر

والی جگہ۔ انسان کی کمر کے نیچے والا

پست اور ہموار حصہ۔ ج۔ اقطان۔

الْقَطْنُ وَالْقَطْنُ - کیاس۔ روٹی۔ اس کے

ایک ٹکڑے کو قَطْنَةٌ کہتے ہیں۔ یہ

اسم جنس ہے۔ کبھی جمع اقطان

بناتے ہیں۔

الْقَطْنَةُ وَالْقَطْنَةُ - ادھیری کا پرت

حصہ۔ ست پڑا۔ الْقَطْنَةُ - دونوں

کولہوں کے درمیان والا گوشت۔

الْقَطَانُ - ہودج کی لکڑی۔ ج۔ قطن۔

الْقَطَانَةُ - بانڈی۔

الْقَطْنِيَّةُ وَالْقَطْنِيَّةُ - وہ دانے جن

کا سالن پکایا جائے۔ جیسے مسور، چنا

باقلا۔ ج۔ قَطَائِمِيٌّ - سوتی کپڑے۔

الْقَاطِنُ دَافِعٌ ج۔ قَطَانٌ وَقَاطِنَةٌ

وَقَطِينٌ۔

الْقَطِينُ - قاطن کے مترادف اور جمع بھی

ہے۔ اہل خانہ۔ خدام و ماتحت لوگ

واحد و جمع دونوں کے لیے نیز۔ ج۔

قَطْنٌ ہے قَطِينٌ فَلَانٌ - قاتل

کے خدام و حاشیہ نشین۔ قَطِينٌ اللّٰهُ

ساکین حرم خدائی۔

الْقَطِينَةُ - اہل خانہ۔ اہل خاندان۔

الْقَطَانُ - کیاس کا کاروبار کرنے والا۔

قَاطِنَاتُ مَكَّةَ وَقَطْنَهَا - کہ کے

کبوتر۔

الْقَيْطَانُ - ریشم وغیرہ سے جوڑی کی طرح

بٹا ہوا ہو۔

الْمَقَطْنَةُ - وہ زمین جس میں کیاس بویا

جائے۔
الْيَقِطِينُ - وہ بیل جس کا تنہ نہ ہو جیسے
گکڑی وغیرہ کی بیل۔ مگر زیادہ تر گھیا،
لوک کو کہتے ہیں۔ واحد يَقِطِينَةٌ

قَطَا يَقْطُوا قَطْوًا - بھاری چال چلنا۔
- القَطَا - قطا کا بولنا۔ المَا شَيْءُ
چھوٹے قدموں سے چلنا یا اٹھنا
چلنا۔

تَقَطَّى - دیر کرنا۔ الفَرَسُ گھوڑے کے
بالکل آخری حصہ پر سوار ہونا۔
لَا ضَحَايَةَ - اپنے دوستوں کو
دھوکا دینا۔ بَوَّجْهَهُ عَنَّهُ -
اعراض کرنا۔ منہ پھیرنا۔

لَا قَطْوُ طَى - قریب قریب قدم رکھ کر چلنا
ناز و ادا کے ساتھ چلنا۔

القَطَاةُ - کبوتر کے برابر ایک ریگستانی
پرندہ۔ بھٹ تیر۔ ج۔ قَطَا و

قَطْوَاتٌ وَقَطِيَّاتٌ - القَطَاةُ
مِنَ الدَّائِبَةِ - سواری کے جانور کا

پٹھا۔ پھلی سواری کے بیٹھنے کی جگہ۔
کمر کی آخری حد کے بعد والا حصہ۔

ذَهَبُوا فِي الارضِ يَقْطَا - وہ زمین
پر منتشر طور پر گئے۔

القَطْوَانُ وَالْقَطْوَانُ وَالْقَطْوُ طَى
بھاری آدمی جو آہستہ آہستہ چلے۔

القَطْوُ طَى - لمبی ٹانگوں والا۔
قَعْدَةُ قَعْدَانٍ - بے خوف بات کرنا۔

أَقْعَمَ - القَوْمُ - کھاری پانی کھود کر نکالنا
افساس پر ہجوم کرنا۔

القَعْمُ وَالْقَعَاعُ - مِنَ المِيَاهِ نہایت
شدید کھاری پانی۔

قَعَبَ الحَا فِرْوُ - کھڑکا پیالہ کی طرح
تہہ نما ہونا۔ فَلَانٌ فِي الكَلَامِ -

کلام کو طوق کی گھرائی سے نکالنا۔

القَاعِبُ - چینی والا بھیریا۔

القَعْبُ - بڑا اور موٹی تہہ والا پیالہ۔ ج
أَقْعَبُ وَقِعَابٌ وَقِعْبَةٌ -

قَعْبُ الكَلَامِ - کلام کی گھرائی۔
القُعْبَةُ - پہاڑ کا غار۔

القُعَيْبُ - بڑی تعداد۔ عدد کثیر۔
القُعْبَلُ وَالقُعَيْلُ - ایک قسم کی کھنبی۔

سانپ کی چھتری۔ القُعْبَلُ - دودھ
دوہنے کا بڑا پیالہ۔ اکھڑ مزاج۔ تیز
مزاج آدمی۔

قَعَّتْ قَعْتًا وَقَعْتَةٌ دَنٌ، لَهٌ مِّنَ
الشَّيْءِ - کسی چیز کا دونوں ہاتھ بھرنا
دینا۔

قَعَّتْ وَقَعَّتْ الشَّيْءِ - کسی چیز کو جڑ
سے کھودنا۔

أَقْعَفَ - فِي مَالِهِ - فضول خرچی کرنا۔
لَهُ العَطِيَّةُ - بہت عطیہ دینا۔

أَقْعَفَتْ - الحَا فِرْوُ - کنویں سے بہت سی
مٹی نکالنا۔ لَهُ العَطِيَّةُ - بہت
عطیہ دینا۔

أَقْعَفَتْ - جڑ سے اکھڑنا۔ الحَا فِرْوُ -
دیوار کا جڑ سے گزرتا۔

القَعِيثُ - آسان و سہل۔ بارش کثیر۔
بڑا سیلاب۔

قَعْدًا قَعْدًا وَمَقْعَدًا دَنٌ، كَهْرَبُ
ہونے کی حالت سے بیٹھنا۔ قَعْدًا
کھڑا ہونا راضی دین سے ہے، قَعْدًا

بِهِ - بٹھانا۔ كَعْدٌ عَنِ حَاجَتِهِ -
مؤخر ہونا۔ فَلَانٌ يَقْرِيهِ - کسی کے

ہم رتبہ ہونا۔ كَعْدِي فَلَانٌ فَسُقِلَ
تیرے پاس آنے سے مجھے ایک کام

نے روک لیا۔ لِلحَرْبِ - جنگی
آدمیوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنا۔

قَعْدَتِ النَّمْلَةَ - کھجور کا ایک
سال چھوڑ کر چل دینا۔ القَيْبَةُ -

پودے کے لیے تنہ پیدا ہونا۔ المَرَاةُ
عورت کا اپنے خاوند کو گم کرنا۔ نیز
قَعْدٌ بِمَعْنَى صَارَ وَطَفِقَ بِمَعْنَى آتَا بِه
جیسے قَعْدٌ يَشْتَمِيهِ - وہ تجھے کالی
دینے لگا۔

قَعْدًا - خدمت کرنا۔ قَعْدًا أَبَاهُ - اس
نے اپنے باپ کو کمانے سے فارغ کر دیا
قَعْدًا عَنِ كَذَا - کسی چیز سے روکنا۔
أَقْعَدًا - بٹھانا۔ أَقْعَدًا عَنِ
الأَمْرِ - کسی کام سے روک دینا۔
أَقْعَدَ بِالمَكَانِ - کسی جگہ اقامت
کرنا۔ المَرَجُلُ - کھڑا کرنا۔ خدمت کرنا
- أَبَاكَ - اپنے باپ کو کمانے کی فکر
سے فارغ کر کے بٹھانا۔ المَبْتُورُ -
کنویں کو بیٹھنے کی حد تک کھودنا۔ کنویں
کو اس قدر کھودنا کہ پانی نہ نکلے۔
أَقْعَدَ - کسی کو مرض قعاد لاحق ہونا۔
مرض قعاد میں آدمی چلنے سے معذور ہو
جاتا ہے۔ گھٹیا کی بیماری۔
تَقَعَّدَ تَوَقَّفَ كَرْنَا -
تَقَعَّدًا - ضرورت سے توجہ پھیرنا۔ حاجت
سے روکنا۔ کام کا انتظار کرنا۔ تَقَعَّدَ
عَنِ الأَمْرِ - کسی کام کی طلب کو
چھوڑنا۔
قَاعَدًا مَقَاعَدًا - کسی کے ساتھ بیٹھنا
اور صحبت رکھنا۔
تَقَاعَدَ بِهِ فَلَانٌ - کسی کا حق نہ دینا۔
أَقْعَدَ الدَّائِبَةَ - چوپایہ کو سواری بتانا
مَا أَقْعَدَكَ عَنْهُ - اس سے تجھ کو
کس چیز نے روکا۔
القَعْدُ - وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہ ہوں
وہ لڑنے والے لوگ جن کا وظیفہ مقرر
نہ ہو۔ خَوَارِجُ -
القَعْدَةُ - اسم مرؤۃ - انسان کی سواری۔ وہ۔
چادر جس پر بیٹھے ہیں۔ وَالقَعْدَةُ -

وہ جگہ جو بیٹھنے والے کے نیچے آئے۔
 يَأْتِي الْقُعْدَةَ - بیٹھے ہوئے انسان
 کی لمبائی کے برابر کنواں - ذُو
 الْقُعْدَةِ - بھری سال کا گیارہواں
 مہینہ۔
 الْقُعْدَةُ - زمین وغیرہ جس پر آدمی بیٹھے
 ہیں۔ گدھا - مِنَ الْإِبِلِ - وہ اونٹ
 جس پر ہر ضرورت کے وقت چرواہا
 سوار ہو۔ ج - قُعْدَاتٌ -
 الْقُعْدَةُ - لوگوں کی سواری۔ نقشین

قالین یا درمی۔
 الْقُعْدَةُ - بہت بیٹھنے والا۔ قُعْدَةُ
 ضَبْحَةٍ - بہت بیٹھنے اور بیٹھنے
 والا۔

الِاقْعَادُ وَالْقُعَادُ ایک مرض ہے جو
 چلنے پھرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔
 گھٹیا۔

الْقُعَادُ - زوجہ۔
 الْقَاعِدُ - فاعل۔ جہر قُعُودٌ - وہ گونیس
 جو غلہ سے بھری ہوئی ہوں۔ وہ عورت
 جو خاندان و بچوں سے خالی اور
 محروم ہو۔

الْقَاعِدَةُ - مونت قاعدا۔ قَاعِدَةُ
 التَّمَنِّيَاتِ مجسمہ کا چوترا۔ الْقَاعِدَةُ
 مِنَ الْبَيْتِ گھر کی نیو بنیاد۔
 مِنَ الْقُودِ جہر۔ ہودج کی لکڑی۔
 مِنَ الْبِلَادِ کسی ملک کا سب سے
 بڑا شہر۔ جہر قُوعِدٌ - اصطلاح
 میں قاعدہ، اصل، قانون و ضابطہ
 کو کہتے ہیں۔ وہ کئی ضابطہ جو اپنے تمام
 جزئیات پر منطبق ہوتا ہو۔

الْقُعْدِيُّ وَالْقُعْدِيَّةُ وَالْقُعْدِيَّةُ
 بہت بیٹھنے والا۔ الْقُعْدِيُّ - عاجز
 قُعْدِيُّ ضَبْحِي - بہت بیٹھنے
 اور بیٹھنے والا۔

الْقُعُودُ وَالْقُعُودَةُ - مِنَ الْإِبِلِ -
 ہر ضرورت میں چرواہے کی سواری کا
 اونٹ۔ الْقُعُودُ - اونٹ کا بچہ۔
 نوجوان اونٹ۔ یہاں تک کہ وہ شناہا
 دانت نکالے۔ جہر آقْعِدَةُ وَقْعْدُ
 وَقْعِدَانٌ وَقْعَائِدٌ۔

الْقَعِيدُ - واحد و جمع و مذکر و مؤنث تمام
 کے لیے ہم نشین، ہم صحبت، محافظ۔
 وہ ٹڈی جس کے پر ٹھیک نہ ہوئے
 ہوں۔ پیچھے سے آنے والا پرندہ یا
 ہرن جو بد حال سمجھی جاتی ہے۔

تَطِيئُهُ اس کا مقابل ہے۔ قَعِيدًا
 كُلِّ أَمْرٍ - دائیں دایں کے محافظ
 فرشتے۔ فَلَانٌ قَعِيدُ النَّسَبِ
 قریب النسب۔

الْقَعِيدُ - قُعُودٌ کی تصغیر۔ محاورہ ہے۔
 إِتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ -
 لوگوں نے اس کو اپنی تمام حاجتوں
 میں خادم بنایا۔

الْأَقْعُدُ النَّسَبِ - وہ رشتہ دار جو جدِ اعلیٰ
 سے قریب النسب ہو۔

الْقَعِيدَةُ - عورت، کیونکہ وہ گھر میں
 بیٹھتی ہے۔ بیٹھنے کا فرش وغیرہ۔
 خشک گوشت یا بسکٹ وغیرہ بھرنے

کا تھیلا۔ بوری۔ جہر قَعَائِدٌ۔

الْمُقْعَدُ - بیٹھنے کی جگہ۔ جہر - مَقَاعِدُ -

الْمُقْعَدَةُ - بیٹھنے کی جگہ۔ آدمی کا پچلا

حصہ جسم۔ قضاء حاجت کا برتن۔

الْمُقْعَدُ - اپنا بیج گھٹیا کا مریض۔ اُطْعَى

ہوئی چھاتیاں جو لٹکی نہ ہوں۔ گدھ کے

نیچے۔ مُقْعَدُ الْأَلْفِ - وہ شخص جس

کے نعتے کشادہ ہوں۔ مُقْعَدُ

الْحَسَبِ غیر شریف حسب والا۔

الْمُقْعَدَةُ - مؤنث مُقْعَدٌ - وہ کنواں

جس کو گدھ نے کے بعد اس میں پانی

نہ نکلا ہو اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔
 الْمُقْعَدَاتُ - مینڈک قطا کے نیچے، جو
 ابھی چلتے پھرنے کے قابل نہ ہوں۔
 الْقُعْدُ وَالْقُعْدُ وَالْقُعْدُ وَالْقُعْدُ

جدِ اعلیٰ سے قریبی رشتہ دار جدِ اعلیٰ
 سے بعید النسب (امداد)۔ الْقُعْدُ

نامرد۔ تمکینہ۔ شرافت سے دور گنام۔

قَعْرَةُ قَعْرَارٍ، بچھاڑنا۔ قَعْرَ

الشَّجَرَةَ - درخت کو جڑ سے اکھاڑنا

- الْإِنَاءُ - برتن کا تمام کچھ پی جانا۔

الْبَيْتُ - کنویں میں اترنا۔ اس کو گہرا

کرنا۔ قَعْرَتِ الشَّاةِ - بکری کا ناتمام

بچہ ڈال دینا۔

قَعْرَ قَعَارَةَ رِكِّ، المَاءُ - پانی کا گہرا

ہونا۔

قَعْرَ الْبَيْتِ - کنویں کو گہرا کرنا۔ - فِي

كَلَامِهِ - بات کو حلق سے زور دے

کرنا لینا۔ الْوَجْلُ - جھنڈا۔ الشَّيْءُ -

کسی چیز کو مقعر اور گہرا بنانا۔ پیمانہ نما

کرنا۔ قَعْرَتِ الشَّاةِ - قبل از وقت

بچہ ڈالنا۔

أَقْعَرَ الْبَيْتَ - کنویں کو گہرا کرنا۔ الْبَيْتُ

پیالہ وغیرہ برتنوں میں ستارہ کا ظاہر

ہونا۔

تَقَعَّرَ - گہرا ہونا۔ بچھاڑنا۔ الْبَيْتُ

فِي كَلَامِهِ - بات کو حلق سے نکالنا۔

- الشَّيْءُ - مقعر گہرا ہونا۔

الْقَعْرُ - گہرا جانا۔ مر جانا۔

الْقَعْرُ - مین کُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کی گہرائی

اور پیندا۔ پیالہ کلاں۔ پست زمین۔

کامل عقل۔ قَعْرُ الْفَيْءِ - منہ کا

اندرونی حصہ۔ جہر - قُعُودٌ - کہا جاتا ہے

مَا فِي هَذَا الْقَعْرِ مِثْلُهُ اس شہر

میں اس کی مثال نہیں ہے۔ جَلَسَ

فُلَانٌ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ - فلاں گھر کو

لازم پکڑ کر بیٹھا ہے۔
 القَعْوَةُ والقَعْوَةُ کسی شے کی وہ مقدار جو پیالہ کی گرائی کو چھپا لے۔
 القَعْوَةُ پست زمین۔ اِنَاءٌ قَعْوَانٌ وہ مقدار۔ وہ برتن جس کا پیندا زیادہ گہرا ہو۔ قَصْعَةٌ قَعْرِيٌّ وہ پیالہ جس میں کوئی چیز اس کے پینے کو پوشیدہ کرنے والی موجود ہو۔ كَدَحٌ قَعْوَانٌ گہرا پیالہ۔
 القَعْوُورُ والقَعِيْرُ بہت گہرا۔
 القَيْعَرُ والقَيْعَارُ والقَيْعَارُ وہ شخص جو کلام کو تکلف حلق سے نکالے۔
 قَعْبٌ مَقْعَارٌ چوڑا اور گہرا پیالہ۔
 المَقْعَرُ گہرا۔
 المَقْعَرُ مِنَ الخَطُوْطِ گہری ہوئی گہری لکیریں۔
 قَعَسَ قَعَسًا رَسًا وَاقْعَسَسَ۔
 پیدا شدی طور پر سینہ آگے کو نکلا ہوا اور پیٹ اندر کو جھکی ہوئی ہونا۔ یہ حَدَبٌ دُكْبُیٌّ ہے، کے رضاف ہے۔ صفت قَعَسٌ جہ قَعَسَانٌ۔
 دوسرا معنیہ اَقْعَسَ مَوْنَتٌ قَعَسًا جہ قَعَسٌ ہے۔
 قَعَسَ قَعَسًا رَسًا اَقْعَسَ كِ طَرَحٍ چلنا۔
 الشَّيْءُ مَرَّطًا۔
 قَعَسَ قَعَسًا رَسًا بتکلف اقص کی طرح چلنا۔
 اَقْعَسَ۔ مالدار ہونا۔ غنی بننا۔
 تَقَاعَسَ سَیْنَهُ آگے کو نکالنا۔ عَنِ الْأُمُوْرِ کسی کام سے مؤخر ہونا۔
 فُلَانٌ بِمَشْكَلٍ وَبَتَكْلَفٍ اَقْعَسَ كِ طَرَحٍ چلنا۔ اَقْعَسَ وَغَيْرُهُ۔
 گھوڑے کا باگ پکڑنے والے سے سرکشی کرنا۔ العِزُّ ثَابِتٌ وَمُسْتَقِلٌ ہونا۔

القُعَاسُ۔ بکریوں کی ایک بیماری جس میں وہ مر جاتی ہیں۔
 الأَقْعَسُ۔ اونچا۔ جِزْرًا اَقْعَسٌ مُسْتَقِلٌ مَرَّتٌ۔ مَوْنَتٌ قَعَسًا۔ جہ۔ قَعَسٌ۔ عِزَّةٌ قَعَسًا۔ ثَابِتٌ وَبِأَيْدَارٍ عَزَّتٌ۔ كَيْلٌ اَقْعَسٌ۔ بہت لمبی رات۔ بَعِيْرٌ اَقْعَسٌ۔ وہ اونٹ جس کا سر اور گردن اور پیٹ بھکے ہوئے ہوں۔ قَوْسٌ اَقْعَسٌ۔ تپتی پیٹھ کا گھوڑا۔
 المُقْعَسِيسُ۔ شدید، مستقل، مضبوط۔ جہ مَقَاعِيسٌ وَمَقَاعِيسٌ۔
 تَقْعَوَسَ الشَّيْءُ۔ بہت بڑھا ہونا۔
 البَيْتُ۔ مکان منہدم ہونا۔ الرَّجُلُ عَنِ الْأُمُوْرِ۔ آدمی کا پیچھے ہونا اور پیش قدمی نہ کرنا۔
 القَعْوَسُ۔ بولھا کھوسٹ، موٹی اور مضبوط کروالی ہر چیز۔
 قَعَسَرُ قَعَسَرَةً۔ سختی سے پکڑنا۔
 عَلَيْهِ۔ کسی پر غالب اور قوی ہونا۔
 الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا ٹھوس اور سخت ہونا۔
 القَعَسِيْرِيُّ۔ مضبوط اور موٹا اونٹ۔
 كَيْسِيٌّ كَيْسِيٌّ۔ دست کی کا دستہ۔ عِزٌّ قَعَسِيْرِيٌّ۔ قدیمی عزت۔
 قَعَسَ قَعَسًا رَسًا الحَائِطُ۔ دیوار کو منہدم کرنا۔ الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔
 اَلْقَعَسُ۔ منہدم ہونا۔ القَوْمُ۔ قوم کا چلا جانا۔
 القَعَسُ۔ ہرج کی طرح عمدتوں کی ایک سواری جہ۔ قَعْوَشٌ۔
 قَعَصَهُ قَعَصًا رَسًا، وَاَقْعَصَ۔ الرَّجُلُ۔ موقع پر ہی ہلاک کر دینا۔
 فَوْزًا قَتْلًا كَرَمًا۔
 قُعِصَتِ المَقَاةُ۔ بکری کو قعاص کا مرض

لاحق ہونا۔
 اَلْقَعَصُ۔ موقع پر ہی ہلاک ہو جانا۔
 الشَّيْءُ مَرَّطًا جَانًا۔
 القُعَاصُ۔ سینہ کی ایک بیماری جو گردن توڑ دیتی ہے۔
 القُعَصُ۔ فوری موت۔ مکان کا شکستہ حصہ۔
 القُعَاصُ وَالْمُقْعَصُ وَالْمُقْعَاصُ۔ فوری مازڈالنے والا شیر۔
 القُعُوصُ۔ وہ بکری جو دودھ دوہنے والے کو مارے اور دوہنے نہ دے۔
 قَعَصَ قَعَصًا رَسًا الغُصْنُ۔ ڈالی کو موڑنا۔
 اَلْقَعَصُ مَرَّطًا جَانًا۔
 القُعَصُ۔ مڑا ہوا۔ عَوْدٌ قَعَصٌ مَرَّطًا ہوئی ٹکڑی۔ مصدر کو بالذات کے لیے صفت بنایا گیا ہے۔
 قَعَطَ قَعَطًا رَسًا زَوْرًا سَیْنَتًا۔ چلانا نامردی دکھانا۔ تھک ہونا۔ فَلَانًا دَقَعَ كَرَمًا۔ بچھاڑنا۔ الشَّيْءُ۔ ضبط کرنا۔ عَنِ وَجْهِهِ۔ کھولنا۔ عَلَيْهِ غَضَبًا ہونا۔ وَلَا قَعَطَ العِنَامَةَ۔ پکڑی سر پہ باندھنا۔ قَعَطَ وَ قَعَطَ الدَّائِمَةَ تِيزًا جَلَانًا۔ صفت قَعَاظٌ ہے قَعَطَ وَ قَعَطَ عَلَيَّ عَرِيْمًا۔ قرصدار پرنگی اور سختی کرنا۔ قَعَطَ فِي القَوْلِ الخَوِيَاتُ بَكْنَا۔
 قَعَطَ قَعَطًا رَسًا ذَيْلٌ وَخَوَارٌ ہونا۔
 اَقْعَطَ۔ زور سے پکارنا۔ فِي القَوْلِ۔ نفویات و فواہش بکنا۔ اَقْعَطَهُ اِلْمَاتُ كَرَمًا۔ القَوْمُ عَنَّهُ۔ قوم کا چلا ہو جانا۔ فِي اَثَرِهِ۔ کسی کے تعاقب میں تیز چلنا۔
 تَقَعَطَ وَ اَلْقَعَطُ۔ السَّحَابُ۔ بادل

کا کھل جانا۔

القَاعِطُ۔ قرضدار پر تنگی کرنے والا۔

القَعَاطُ وَالْمُقْعِطُ۔ انتہائی شکر۔

القَعُطُ۔ بہت سی بکریاں۔

السَّقْعُ وَالسَّقْعَةُ۔ عامہ، سر پر

باندھنے کا کپڑا۔

قَعَطَبُ الشَّيْءِ۔ کاٹنا۔

قَعَطْرُهُ۔ پچھاڑنا۔ باندھنا۔ قَعَطْرَ

الْإِنَاءِ۔ برتن کو بھرنا۔

إِقْعَطَرُوهُ۔ سانس منقطع ہونا۔

قَعَطَلَهُ۔ پچھاڑنا۔ علیٰ غریبہ۔ قرض

کا مطالبہ کرنے میں سختی کرنا۔

القَعَطْلُ۔ تیز رفتار۔

قَعَفَ قَعْفَادُ، التُّرَابُ۔ تیز چلنے

کی وجہ سے پاؤں سے غبار اڑانا۔

النَّخْلَةُ۔ جڑ سے اکھاڑنا۔ مَا فِي

الْإِنَاءِ۔ برتن کا سب کچھ ہٹ کر جانا

۔ الْمَطَرُ الْحِجَارَةُ۔ تیز بارش کا

پتھر کو زمین سے ہٹا دینا۔

قَعَفَ قَعْفَادُ، الْحَائِطُ۔ دیوار

کا گر جانا۔

تَقَعَفَ وَالْقَعَفَ وَالْقَعَفَ۔

الْحَائِطُ۔ دیوار کا جڑ سے منہدم ہو

جانا۔ الْجُرْفُ۔ کنارہ کا ڈھلانا۔

الشَّيْءِ۔ اپنی جگہ سے پھسل جانا۔

إِقْتَعَفَ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو انتہائی

رغبت سے لینا۔

القَعْفُ۔ چھوٹے پہاڑ جو ایک دوسرے

پر واقع ہوں۔

القَاعِفُ۔ فاعل۔ شدید بارش۔ سَيْلٌ

قَعَافٌ۔ وہ سیلاب جو سب کچھ ہا

لے جائے۔

قَعَفَ الرَّجُلُ۔ ران اور گھٹنے ملا کر

اکڑوں بیٹھنے والے کی طرح بیٹھنا۔

فِي مَشِيهِ۔ چھوٹے قدموں سے چلنا

لَهُ الْكَلَامُ۔ سختی سے کلام کر کے

کسی کو اپنے آپ سے دور کرنا۔

تَقَعَفَ الرَّجُلُ۔ آدمی کا بیٹھنا۔

إِقْعَفَزَ۔ اس شخص کی طرح بیٹھنا، جو

کودنے کے لیے تیار ہو۔

قَعَقَ قَحْقَعَةً۔ السِّلَاحُ۔ ہتھیار کا

کا آواز کرنا۔ قَعَقَتْ عُنْدَهُمْ۔

قوم کا کوچ کر جانا۔ الشَّيْءُ الْيَأْسُ۔

خشک چیز کو حرکت دینے سے آواز

کا پیدا ہونا۔ الْقِدَاحُ۔ قمار میں

تیروں کا گھمانا۔ فِي الْأَرْضِ۔ جانا۔

فَلَانٌ لَا يُقْعَقُ لَهُ بِاللِّتَانِ۔

فلاں زمانہ کے حادثوں سے نہیں

گھبراتا اور بے اصل چیزیں اس کو

خوفزدہ نہیں کرتیں۔

تَقَعَقَ۔ مضطرب ہونا۔ متحرک ہونا۔

متحرک ہونے کے وقت آواز نکالنا۔

تَقَعَقَتْ عُنْدَهُمْ۔ قوم کا

کوچ کرنا۔

التَّقَعُّعُ۔ سفید سیاہ رنگ۔ لمبی

دم کا کوا۔

القَعْقَاعُ۔ ہتھیاروں کی آواز۔ خشک

کھجور۔ جاڑے کا بخار۔ دشوار گزار

راستہ۔ وَالْقَحْقَاعِيُّ۔ وہ شخص

جس کے چلنے کے وقت پاؤں کے

جوڑوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دے۔

القَعَاقِعُ۔ سخت گرج کی آواز کا تسلسل۔

یہ قَحْقَعَةٌ کی جمع ہے۔ القَعْقَعَةُ

مانتوں کی کڑکڑاہٹ۔

القَعَاقِعُ۔ بہت آواز دینے والا۔

أَقْعَلَ وَاقْعَالَ إِقْعَلًا لِأَنَّ النَّوْرَ

پھول کے کبھے پھوٹنا۔ إِقْعَالَ

النَّارِ۔ سیدھا کھڑا ہونا۔

إِقْتَعَلَ الْقَعَالَ۔ درخت سے ہاتھ کے

ذریعہ جھاڑ کر پھول کر لانا۔

القَعَالَةُ۔ قَعَالَ کا واحد پھول کی ڈنڈی

اور اندرونی حصہ جو جھڑ جائے۔ اونٹ

کی گنے والی اون۔

قَعَمَ قَعْمَارٌ، السِّنُّوسُ۔ بلی کا

آواز کرنا۔

قَعِمَ قَعْمَارٌ، وَأَقْعَمَ۔ الرَّجُلُ

ایسا مرض لاحق ہونا جو فوری موت کا

موجب ہو۔

أَقْعَمَتِ الْحَيَّةُ فُلَانًا۔ سانپ کا

ڈس کر ہلاک کرنا۔ الشَّمْسُ۔

سورج کا چڑھنا۔

القَعْمُ۔ ناک کا ٹیڑھا پن۔

الْإِقْعَمُ۔ ٹیڑھی ناک والا۔

قُعْمَةُ الْمَالِ۔ بہترین مال۔

القُعْمُوطُ وَالْقُعْمُوطَةُ۔ پوترے۔

نوزائیدہ بچے کو لپیٹنے کے کپڑے۔ ج

قُعَامِيَّطًا۔

قَعِنَ قَعْنَارٌ، الْأَنْفُ۔ ناک میں

نہایت چھوٹا پن ہونا۔ ناک کی ٹوک کا

بلند ہونا۔ صفت آقَعُنْ۔ مؤنث

قَعْنَاءُ۔ تصغیر قَعِينٌ۔

القَعْنُ۔ بڑا تغاریا کوشا جس میں اٹا

گوندھا جاتا ہے۔

قَعْوَشَةُ۔ پچھاڑنا۔ قَعْوَشُ الْبَيْتَاءِ۔

توڑنا۔

تَقَعْوَشُ الْبَيْتِ۔ مکان کا منہدم ہونا۔

الْبَيْتُ۔ تہ کا ٹیڑھا ہونا۔

قَعِيٌّ يَقْعِيُّ قَعًا۔ ناک کی جوڑے کا بلند

ہونا اور پھر اس کا ناک کے بانسہ کی

طرف جھکتا۔ صفت آقَعِيٌّ۔ مؤنث

قَعْوَاءُ۔

آقَعِيُّ الْكَلْبِ۔ کتے کا چوڑے ٹوکرا اور پھیٹنا

۔ أَنْفُهُ۔ ناک کی ٹوک کا بلند اور

بانسہ کی طرف مائل ہونا۔ قَرَسَةٌ۔

گھوڑے کو واپس لوٹانا۔

پنجوں کے بل بغیر اڑی کائے چنے والا
سخت ہاتھ پیروں اور چھوٹی انگلیوں
والا۔ ٹونٹ قفداء۔ اعظم
القفداء أو القفد۔ عامر باندھنا
اور شملہ نہ چھوڑنا۔
القفدان والقفدانہ۔ سر مردانی کا
غلاف۔ عطر وغیرہ کے لیے چمڑے کی
تھیلی دونوں کلمے ذیل ہیں،
قفرا قفرا دن، و قفرا و قفرا۔
الاقفرا۔ اتباع کرنا، تعاقب و تلاش
کرنا۔ اقفرا العظم۔ بڑی کو
چوسنا۔
قفرا قفرا رس، مالہ۔ مال کم ہونا۔
صفت قفرا ہے۔ الطعام کھانا
بغیر سالن کے ہونا۔ قفرا الثراب
مٹی کو جمع کرنا۔ اقفرا بے پانی و
چارہ والے جنگل کی طرف جانا۔
المکان۔ آدمی و پانی و گھاس سے
خالی ہونا۔ الرجل من اھلہ۔
اپنے اہل و عیال سے جدا ہو کر تنہا رہ
جانا۔ رأسہ من الشجر۔ سر کا
بالوں سے خالی ہونا۔ الرجل بھوکا
ہونا۔ کھانے کا چلا جانا۔ سالن کا باقی
نہ بچنا۔ بلا سالن کے روٹی کھانا۔
البدن۔ شر کو آدمیوں سے خالی پانا
۔ العظم۔ بڑی پر گوشت نہ
چھوڑنا۔ القفرا۔ ج۔ قفاس و
قفوس و القفورا۔ ج۔ قفوات
زمین کا وہ میدان جس میں نہ گھاس ہو
نہ پانی نہ آدمی۔ أرض قفرو أرض
قفار۔ چیل میدان جس میں گھاس و
پانی نہ ہو۔ محادہ ہے منزلنا
ببینی فلان قفنا القفرا ہم
فلاں قبیلے کے پاس مہمان گئے۔ مگر
انھوں نے ہماری مہمانی نہ کی۔ بات

القفة والقفة۔ من المتجال۔
پستہ قد آدمی بکڑو شخص۔ القفة
والقفة والقفة۔ لڑہ اور
پھیری جو بخار سے ہوتی ہے۔
القفة۔ اسم نوع۔ نوزائیدہ بچے کے
پیٹ سے پہلی مرتبہ بولنا نکلے۔
کارٹ۔
القفات۔ وہ صراف جو دراپہم کو انگلیوں
میں چرالے۔
القفا۔ امین بھاجاتا ہے آیتہ
علی قفاں ذلیف۔ میں اس کے
پیچھے آیا۔ هذا قفا نلہ۔ یہ اس کا
وقت ہے۔
قفی۔ قفا رس، المکان کسی جگہ کی
سبزی کا بارش سے یا مٹی پڑنے سے
خراب ہونا۔
اقفرا الخورن۔ چمڑے کی اشیاء کو
مکرسینا۔
قفرا الشی۔ جلدی سے ہالے جانا۔
قفرا قفرا دن، مکہ و سجھا۔ ترک
کرنا۔ الشی۔ دو کی طرح پھانکنا۔
قفرا عن الشی۔ باز رہنا۔
القفیحة۔ وہ مکھن جس پر بکری کا دودھ
دو لاجائے۔
قفرا قفرا دن قفا خادف، مارنا۔
کھوکھل یا خشک چیز۔ یا سر پر مارنے
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
القفیحة۔ کھانا۔
قفرا قفرا دن، الرجل۔ کام کرنا۔
محادہ ہے ما زلت اقفرا لك
منذ الیوم۔ میں آج دن بھر تمہارے
لیے کام کرتا رہا۔ قفرا۔ گتھی پر
دھول مارنا۔ بغیر شملہ کے پگڑی باندھنا
قفرا قفرا رس، اقفرا ہونا۔
الاقفرا۔ مٹی ہوئی یا مٹی کے دیوں والا

القفوا۔ لو ہے کا ٹھوس۔ لاط۔ القفوان۔
دو لو ہے یا لکڑی کی سلاخیں جن میں
ٹھوس ہوتا ہے یا جن کے درمیان چرخی
گردش کرتی ہے۔ ج۔ قفی۔
القفوا۔ چٹھا۔ ران کی جسط۔ ج۔
قفی۔
قفرا قفرا دن العطب او
الشجر۔ شدت خوف سے رونگٹے
کھٹے ہونا۔ الشی۔ ایک کا جزو
دوسرے میں گتھا جانا اور سکر جانا۔
کہ وہ قفہ کی طرح معلوم ہو۔ الثوب
کپڑے کا دھونے کے بعد سوکھنا۔
الصیفری۔ صراف کا اپنی انگلیوں
میں درہم چرانا۔
اقف۔ چراگاہ کو خشک پانا۔ اقفت
الذجاجہ۔ مرغی کا کڑک ہونا۔
انڈوں سے رگ جانا۔ العین۔
آنکھ کے آنسو ختم ہونا۔
استقف۔ سکرنا۔ سمٹنا۔
القف والقفیة۔ عمدہ سبزیوں جو
خشک ہوں۔
القف۔ کوتاہ قد۔ کسی چیز کا ظاہر بکھلاڑی
کا سوراخ۔ کھلاڑی جیسی چیز زمین کا
بلند حصہ۔ وہ پتھر جو ایک دوسرے
کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور ان کے
ساتھ پست زمین نہ ہو۔ بادلوں کی
بڑی گٹھا جو سیاڑ کی طرح معلوم ہو۔
قف۔ ایٹیر۔ کنویں کی من۔ کنویں
کے چاند طرف کا چوڑا۔ من
الناس۔ گٹھیا اور ادنیٰ درجہ کے
لوگ۔ ج۔ قفات و اقفات۔
القفة خشک درخت۔ ٹھنڈی زمین۔
خشک کدو۔ کھلاڑی کی طرح کوئی
چیز۔ بلند زمین۔ کھجور کے پتوں کی بنی
ہوئی ڈلیا، لکڑی۔ ج۔ قففت۔

فَلَانٌ الْقَفْرُ وَالْوَحْشُ - فلاں کی
مہان داری نہیں کی گئی - القفر - وہ
بچھڑا جو کھیتی کی فرض سے اپنی مال سے
بچھڑا یا جائے -

القفر - بال -
القفر - کم بالوں والا - بھڑیا جو بیابان میں
رہتا ہو - خُبْرٌ قَفْرٌ وَقَفَارٌ - بلا سالن
کی روٹی -

القفیر - شہد کا چھتہ رلعت عامیانہ ہے
ٹو کری - بغیر سالن کی روٹی - ج -
قَفْرَانٌ -

القافور والقفور والقفور - کجور
کے پھولوں کا غلاف - اَرْضٌ مَقْفَارٌ -
خالی زمین -

قَفْرٌ قَفْرًا وَقَفْرَانًا وَقَفَارًا وَقَفُورًا
رض (مرجانا - الغزال - کودنا -
قَفْرٌ قَفْرًا ارض، القفر - گھوڑے کی
اگلی ٹانگوں کا گھٹنوں تک سفید ہونا -
اور کھپلی کا سفید نہ ہونا -

قَفْرَةٌ - کودانا -
تَقْفَرٌ بِالْحِجَابِ - ہاتھ پیروں کو ہندی
سے رنگین کرنا -

تَقْفَرُ الْقَوْمُ - قوم کا باہم کودنا -
القَفْرِيُّ - کودنا - عَدَاتُ الْحَيْلِ الْقَفْرِيُّ
گھوڑے کا اچھتے ہوئے دوڑنا -

القافرة - مؤنث قافرة - تیز رفتار گھوڑا -
سینک - ج - قَوَافِرٌ -

القفايز - پیانہ - من الارض - ایک سو
پچاس گز ایک گز ایک ہاتھ بھر کا
قَفْرَةٌ وَقَفْرَانٌ -

الاقفر والامة قفر - من الخبيل - وہ
گھوڑا جس کی صرف اگلی ٹانگیں گھٹنوں
تک - فید ہوں

نقفاؤ - غورتوں کے ہاتھ اور پاؤں کا
زیور - دستانہ - عامیانہ لغت

كُفُوفٌ بِلَا جَانِبٍ - ج - قَفَا فَيَزُ
القفاؤ - بہت اچھلنے والا -

القفايزي - بچوں کا ایک کھیل ہے جس
میں ایک لکڑی گاڑ کر اس پر سے
کودتے ہیں -

قَفَسٌ قَفْسًا وَقَفُوسًا ارض، مرنا -
- الشئ - چھین کر اور غصب کر کے
لینا - فُلَانًا - بال پکڑ کر نیچے

گھسیٹنا - قَفْسًا - القبطي - ہرن کے
ہاتھ پیر باندھنا - قَفَسًا - جوڑوں
میں تشخ کی قسم کا مرض ہونا -

قَفَسٌ قَفْسًا - ناک کی نوک کے کنارہ
کا بڑا ہونا -
تَقْفَسُ الْقَطْبِيُّ - کودنا -

تَقْفَسُ الرَّجُلَانِ بِشَعُورِهِمَا - اچھل
کر ایک دوسرے کے بال پکڑنا -

القافيسة - مؤنث قافس - کینے اکتھاص
قفايس (کسر پر مبنی ہے) کینی
لونڈی -

الاقفيس - لونڈی لڑکا - ہر وہ چیز جو لمبی
ہو کر جھک جائے - عِبْدٌ اَقْفَسٌ
کینہ غلام -

القفساء - مؤنث اقفس - کینی لونڈی -
معدہ اور پیٹ -

قَفْسٌ قَفْسًا ارض، الطعام - شدت
کے ساتھ کھانا - الشئ - لینا، اور
جمع کرنا - قَفْسَةٌ بِالْمَعْنَا - لاشی

سے مارنا - الناقلة - جلدی دو ہونا -
- مَا فِي الْقَمْرِ - جو کچھ مہن میں ہو
اس کو دو ہونا - قَفْسًا وَقَفُوسًا - مرنا -

انقفس وانقفس دا قففسش -
العنكبوت ونحوه - سکڑنا اور
اپنے پنوں اور ٹانگوں کو جسم سے
بچھڑا لینا -

القفش - بھڑیا ہونا -
marfat.com

القفش - جود -

قَفَصٌ قَفْصًا ارض، القبطي - ہرن کی
ٹانگوں کو سکڑ کر باندھنا - الشئ
کسی چیز کے اجزاء قریب قریب کرنا -

جوڑنا - الرَّجُلَ - تکلیف دینا -
اليغسوب - شہد کی مکھیوں کے
سردار کو دھاگے میں باندھ کر چھتہ

میں رکھنا -

قَفِصٌ قَفْصًا ارض، ہلکا اور چست ہونا -
سروی سے سکڑنا اور اکڑنا - القفص
گھوڑے کا اپنی پوری دور کو ظاہر نہ

کرنا - صفت قفص -
قَفْصٌ الْقَطْبِيُّ - ہرن کی ٹانگیں جمع کر
کے باندھنا -

تَقْفَسٌ - سکڑنا - سمٹنا -
تَقَافِصٌ - اجزاء کا ایک دوسرے میں
داخل ہونا - سکڑنا -

اَقْفَصُ الرَّجُلُ - پسندہ کے پنجرہ کا
مالک ہونا -

القفص - پنجرہ - القفص - وہ برتن جس
میں گھیوں وغیرہ جمع کر کے صاف کیا
جائے - غدا افشاں - ج - اَقْفَاصٌ

والقفص والقفص - وہ چیز جس
کے اجزاء ایک دوسرے کے اندر
داخل ہوں - گڑا -

القاقصة - مؤنث قاقص - ج - قَوَافِصٌ
کینے لوگ -

القفاص - پہاڑی بکرا - ایک مرض جو
چوپایوں کو عارض ہوتا ہے اور ان کی
ٹانگوں کو خشک کر دیتا ہے -

المققص - مفعول - ثوب مققص -
پنجرہ جیسے خطوط سے منقش کپڑا -
قَفْعَةٌ قَفْعًا ارض، بالمقعدو - چھڑی

سے مارنا - قَفْعَةٌ عَنْ كَذَا - کسی کو
کسی چیز سے باز رکھنا -

قَفَعَتْ قَفَعَادِسَ، وَتَقَفَعَتِ اللُّدُنُ

کان کے اطراف کا سمٹنا اور سکڑنا۔

ایسے کان کی صفت قَفَعَاءُ، اور

ایسے کان والے کی آقَفَعُ ہے۔

الرَّجُلُ: قدم کی انگلیوں کا پیچھے کی

طرف ہڑنا۔ الشَّاقُ: بکری کی دم

چھوٹی ہونا۔ تَقَفَعُ الشَّيْءُ: سکڑ

جانا۔

قَفَعُ الشَّيْءُ: برتن میں رکھنا۔ البَرْدُ

أَصَابِعُهُ: سردی کا انگلیوں کو سکڑنا

اور اکرادینا۔

انْقَفَعَ النَّبَاتُ: نباتات کا خشک اور

سخت ہونا۔ عَنَهُ: باز رہنا۔

انْقَفَعُ: جنگ کے آلات میں سے ایک

آلہ ہے جس کو فلعوں کے فتح کرنے

کے وقت استعمال کرتے تھے۔ اس

کے اندر آدمی داخل ہو جاتے تھے۔

اور اس کو قلعہ کی دیوار تک پہنچاتے

تھے اور اس کے اندر بیٹھ کر قلعہ میں

نقب لگاتے تھے۔ واحد قَفَعَةٌ ہے

القَفَعُ: تنگی، مشقت، تکلیف، تنگی۔

القَفَعَةُ: وہ ٹوکری جس کا پتلا حصہ قراخ

اور اوپر کا حصہ تنگ ہو۔ ج: قِفَاعٌ

دَقَفَعَاتٌ۔

القَفَعَةُ: ٹوٹی دل۔

القَفَعُ وَالْقَفَاعُ: بکری کی ٹانگ کی

ایک بیماری جو اس کو لنگڑی کر دیتی ہے۔

القَفَاعُ: اسم مبالغہ۔

القَفَاعَةُ: کھجور کی شاخ سے بنی ہوئی چیز

جس کو پرندہ پر پھینک کر اس کا شکار

کیا جاتا ہے۔

الأَقْفَعُ: سکڑے ہوئے اطراف کے کانوں

والا۔ ایسے پیروالا جس کی انگلیاں قدم

کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ ہمیشہ سر کو

نیچے لٹکانے والا۔ چھوٹی دم والا۔

القَفَعَاءُ: آقَفَعُ کی مؤنث۔ ج: قَفَعٌ۔

ایک بوٹی ہے جس میں انگوٹھی جیسے حلقے

لگتے ہیں۔ مگر انگوٹھی کے حلقوں کی طرح

ان کے دونوں سرے جڑے ہوئے

نہیں ہوتے۔ فُحَاةٌ قَفَعَاءٌ: چھوٹی

دم والی بکری۔

المَقْفَعُ: ہمیشہ سر کو جھکانے والا آدمی۔

رَجُلٌ مَقْفَعٌ اليَدَيْنِ: اکڑے

ہوئے ہاتھوں والا مرد۔

المَقْفَعَةُ: وہ لکڑی جس سے ہاتھ یا انگلی

پر ضرب لگائی جائے۔

تَقَفَعَتْ قَفَفَةً دَتَقَفَعَتْ: جاڑے

وغیرہ سے لرزنا۔ التَّبْتُ: نباتات

کا خشک ہونا۔

تَقَفَعَا الطَّائِرَ: پرندہ کے دونوں بازو۔

تَقَفَعَا البَعِيرَ: اونٹ کے دونوں

جڑے۔

قَفَلَ قَفْلًا وَقَفُولًا (میں) سفر سے

واپس آنا۔ فی الجبَلِ: چڑھنا۔

الأميرُ الجندُ: امیر کا لشکر کو

واپس بلانا۔ الشَّيْءُ: تخمینہ کرنا۔

قَفَلُوا الطَّعَامَ: جمع اور ذخیرہ کرنا۔

قَفَلَ قَفُولًا (رض): القَرَسُ:

گھوڑے کا لاغر ہونا۔ صفت قَافِلٌ:

قَفَلَ قَفُولًا (م) وَقَفَلَ قَفْلًا (م)

المَجْدُ: کھال کا سوکھ جانا۔

قَفَلَ: المَجْدُ: کھال کا خشک ہونا۔

الأبوابُ: دروازوں کو بند کرنا۔

أَقْفَلَ البَابَ وَعَلَى البَابِ: مکان کو

قفل لگانا۔ البَابُ: دروازہ بند

کرنا۔ القَوْمُ: مابین نظر کو قوم کے

پیچھے جمانا۔ أَقْفَلَهُمْ عَنْ مَبْعَثِهِمْ

جس جگہ بھیجے گئے تھے، وہاں سے

واپس بلانا۔ المَجْدُ: کھال کو

خشک کرنا۔ المَالُ: تمام مال۔

عطا کرنا۔ القَوْمَ عَلَى الأَمْرِ: کسی

معاہدہ پر قوم کو جمع کرنا۔ الجَيْشُ:

لشکر کا واپس آنا۔

تَقَفَلَ وَالتَّقَفَلَ دَأْتَقَفَلَ البَابُ:

دروازہ کا بند ہونا۔ تَقَفَلَ فِي

الجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔ التَّقَفَلَ

الغُرَاةُ: مجاہدین کا واپس آنا۔

الرَّجُلُ: جس معاہدہ میں مصروف ہو اس

کو جاری رکھنا۔

اسْتَقْفَلَ البَابُ: دروازہ بند کیا جانا۔

الرَّجُلُ: بخیل ہونا۔ اسْتَقْفَلَتْ

مِيْدَانَهُ: بخیل، کنجوس آدمی۔ صفت

مُسْتَقْفِلٌ ہے۔

القَفْلُ: مصدر۔ والقَفْلَةُ والقَفْلَةُ:

درخت کا خشک حصہ۔ القَفْلَةُ:

گدی۔ کوئی چیز ایک دم دے دینا۔

مجاورہ میں بولا جاتا ہے أَعْطَاكَ

أَلْفًا قَفْلَةً: ایک ہزار بیک وقت

دے دیا۔

القَفْلُ: تالا۔ ج: أَقْفَالٌ وَأَقْفُلٌ وَ

قَفُولٌ۔

القَفْلُ: اسم جمع ہے بمعنی قافلہ۔

القَفْلَةُ: بہرہ نشی ہوئی بات کو یاد کرنے

والا۔

القَافِلُ: فاعل۔ خشک کھال یا ہاتھ والا۔

لٹنے والا۔ ج: قَافِلَةٌ وَقَافِلٌ۔

القَافِلَةُ: مؤنث قافل۔ سفر شروع کرنے

والے یا واپس لوٹنے والے ساتھی۔

سفر شروع کرنے والے کو تَقَاءٌ لَأَ

قافلہ کہتے ہیں۔ ج: قَوَافِلُ۔ خَيْلٌ

قَوَافِلُ: لاغر گھوڑے۔

القَفِيلُ: خشک درخت۔ کوڑا تنگ درہ

جِلْدٌ قَفِيلٌ: خشک کھال۔

القَفَالُ: اسم مبالغہ۔

القَفَالُ: ہاتھ میں کسی کے پاس ایک رگ

ہے جس کی فصد کی جاتی ہے۔ رَجُلٌ
مُقْفَلٌ الْيَدَيْنِ وَمُقْفَلُهُمَا
مُقْفَلُهُمَا۔ کبھوس آدمی جس کے
ہاتھ سے کوئی خیر نہ صادر ہو۔

قَفْنَهُ قَفْتَانٌ، گدی پر مارنا۔ کوٹے
یا لالھی سے مارنا۔ الْكَلْبُ۔ کتے کا
برتن میں منہ ڈالنا وَقَفْنٌ وَقَفْنٌ
- الْقَفَاةُ۔ گردن کی طرف سے ذبح
کرنا۔ ایسی ذبح شدہ بکری قَفِينَةٌ
ہے۔

قَفْنٌ قَفُونًا رَضٍ، مرنا۔

قَفْنٌ رَأْسُهُ، سر کا ٹٹا۔

الْقَفْنُ مِمْدٍ، موت جنگ۔

الْقَفْنُ وَالْقَفْنُ، گدی۔

الْقَفْنُ، گنوار۔ بے تہذیب۔

الْقَفَانُ، این۔ توڑنے کا کاٹنا۔ قَفَانٌ

كُلُّ شَيْءٍ، کسی چیز کا کل علم۔ شَاةٌ

قَفِينٌ، مذبح بکری۔

قَفَا يَقْفُو قَفْوًا وَقَفْوَانٌ، الرَّجُلُ

گدی پر مارنا۔ صراحتہ فسق و فجور کی

تہمت لگانا۔ اَثْرَةٌ، پیچھا کرنا۔

اِنَّهُ اَثْرَةٌ، کسی کے اثر کو مٹانا۔

وَاقْفِي وَاقْتَفِي، الرَّجُلُ بِأَمْرِ

کسی کو کسی امر کی وجہ سے تزجیح دینا۔

يَا خَاصُّ كَرْنَا، آقْفِي كَذَا عَلَيَّ كَذَا،

کسی کو کسی پر فضیلت دینا۔ اِقْتَفَاةٌ

کسی کی اتباع و پیروی کرنا۔ اِقْتَفَى

الشَّيْءَ، کسی چیز کو منتخب کرنا۔ اِقْتَفَى

بِفُلَانٍ، اپنے آپ کو کسی کے ساتھ

مخصوص کرنا۔

قَفِي تَقْفِيَةٌ، آنا۔ فُلَانًا زَيْدًا و

بِزَيْدٍ، کسی کو زید کے پیچھے چلانا۔

قَفِي عَلَى اَثْرِهِ بِفُلَانٍ فُلَانٌ كُو

کسی کے پیچھے چلانا۔ کسی کی پیروی کرنا

قَفِي عَلَيْهِ، لے جانا۔

تَقْفِيٌّ، الرَّجُلُ، آدمی کے پیچھے چلنا۔

الْاَكْمَةُ، ٹیلہ کی چوٹی پر چڑھنا۔

الشَّيْءَ، منتخب کرنا۔ يَفْلَانُ بَعْرَت

کرنے میں مبالغہ کرنا۔ وَاسْتَقْفَى

فُلَانًا بِالْعَصَا، کسی کے پیچھے سے

گدی پر عصا مارنا۔ تَقْفَى الرَّجُلُ،

کسی پر غلط و جھوٹ تہمت لگانا۔

الْقَوْمُ، قوم کا ایک دوسرے پر

بتان لگانا۔

الْقَفَا وَالْقَفَاءُ، گدی۔ گردن کی پشت۔

مذکر ہے مگر کبھی مؤنث بھی آتا ہے۔

ج۔ اَقْفٌ وَاَقْفِيَةٌ وَاَقْفَاءُ

وَقَفِيٌّ وَقَفِيٌّ وَقَفُونٌ، کہا جاتا

ہے لَا اَفْعَلُهُ قَفَا الدَّهْرِ، میں

زمانہ بھر نہیں کرونگا۔

الْقَفْوَةُ، بارش کے وقت اٹھنے والا

غبار۔ صَفْوَةٌ قَفْوَةٌ، مختار و

پسندیدہ و برگزیدہ۔ يَتَسَّ الْقَفْوَةُ

قَفْوَتَكَ، اس شخص کو کہا جاتا ہے

جو اچھا انتخاب کرنا نہ جانتا ہو۔

الْقَفْوَةُ، تہمت، بُرَى جِزْرًا اِلْزَامًا، گناہ

جُزْمٌ۔

الْقَفَاةُ، شفقت و مہمان کی عزت و

استقبال۔ دعوتِ طعام۔ جس چیز

سے مہمان کی تواضع کی جائے مودوں

عزت۔

الْقَفِيَّةُ، وہ گڑھا جس میں چھپ کر شکاری

فشار کھیلتا ہے۔

الْقَفِيَّةُ، عیب۔

الْقَفِيٌّ، مشفق، مہربان، مہمان۔ معزوز۔

وہ کھانا جس کے ذریعہ خاطر و تواضع

کی جائے۔ منتخب بھائی، متم بھائی۔

هُوَ قَفِيَّتُهُمْ وَقَفِيَّتُهُمْ، ان

کا وہ جائزین اور قائم مقام ہے۔

الْقَفِيَّةُ، کسی پر فخر کرنے اور فضیلت

جانب و جہت۔ وہ کھانا جو مہمان کو پیش
کیا جائے۔ شَاةٌ قَفِيَّةٌ، وہ بکری جو
گدی کی طرف سے ذبح کی گئی ہو۔ بولا
جاتا ہے۔ لَا اَفْعَلُهُ قَفِيَّةَ الدَّهْرِ
زمانہ بھر اس کو نہیں کرونگا۔

الْفَاقِيَّةُ، گردن کا پچھلا حصہ۔ شعرا کا

آخری کلمہ یا آخری حرف ساکن، مع

اس کے ما قبل متحرک کے۔ ج۔

قَوَاتٍ، قَائِيَةٌ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز

کا آخر۔ اَتَيْتُهُ عَلَى قَائِيَةِ الشَّيْءِ،

میں اس کے پاس شئی کے بعد آیا۔

الْكَلَامُ الْمُقْفَى، (شعرا کے یہاں)

کلام کا آخری حرف میں مطابق یکدیگر

ہونا۔ کلام میں سجع پایا جانا۔ سجع

کلام۔

التَّقْفِيَّةُ، مصدر۔ شعراء کے نزدیک

کلام کا آخری حرف پر مطابق ہونا۔

الْمُقْفَى، مِنَ الْقَفْرِ، وہ بکری جس کو

گردن کی طرف سے ذبح کیا گیا ہو۔

رَجُلٌ مُقْفَى وَمُقْفَى بِهِ، معزوز

مکرم شخص۔

قَفِي يَقْفِي قَفِيًّا، الرَّجُلُ، گدی پر

مارنا۔ بے حیائی کی تہمت لگانا۔

الْقَفِيَّةُ، اس کے معنی ما قبل میں

مذکور ہو چکے ہیں۔

الْقَائِلَةُ، ایک ہندوستانی بوٹی جس کا

پھل لالچی ہے۔ لالچی۔ التَّقَاتِي

شمکین گھاس مثل اشتان کے۔ لانی

بوٹی۔

الْقَائِمُ او الْقَائِمُ، نیوے کی شکل کا

اور اس سے بڑا ایک جانور جس کا رنگ

گرمی میں گہرا سرخ اور سردی میں اجلا

سفید ہوتا ہے۔

قَلَّ قَلًّا وَقَلًّا وَقَلًّا رَضًا، کم ہونا۔

الرَّجُلُ، مال کم ہونا۔ الْجَسْمُ، لانی

اور کم ہوتا۔ تَمَلَّ عَنِ كَذَا۔ کسی چیز سے چھوٹنا ہوتا۔
 قَلَّ الصَّبْرُ۔ بلند ہونا۔ کبھی قَلَّ کے ساتھ
 کہا بھی لاحق ہوتا ہے اور بولا جاتا
 ہے قَلَّمَا جُمْتُكَ۔ میں تیرے پاس
 بہت کم آیا۔ یہ مَا قَلَّ کو رفع مینے
 سے ہا زہر کہتا ہے۔ اسی لیے اس کے
 بعد فاعل کی ضرورت نہیں رہتی۔ قَلَّمَا
 سے کبھی کل لفظ مراد ہوتی ہے اور کبھی
 کوئی قلیل چیز ثابت ہوتی ہے۔
 قَلَّ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو اٹھانا۔ قَلَّهٗ
 عَنِ الارضِ۔ زمین سے بلند کرنا۔
 قَلَّ الشَّيْءُ۔ بھڑا کرنا۔ الشَّيْءُ
 فِي عَيْنِ فُلَانٍ۔ کوئی چیز کسی کی نظر
 میں قلیل دکھانا۔ اَقَلَّ الشَّيْءُ۔ کم
 کرنا۔ النَّجْلُ بَعَثِي حَيْزَ لَانَا۔
 مال کم ہونا۔ فقیر ہونا۔ الشَّيْءُ۔ بلند
 کرنا۔ اَقَلَّتْهُ التَّوَعُّدَةُ۔ کسی کو
 لڑھ لاتی ہونا۔ قَالَ لَهُ الْعَطَاءُ۔
 کسی کو کم عطا کرنا۔
 تَقَالَّتِ الشَّيْءُ۔ کسی کو کم سمجھنا۔ تَقَالَّتِ
 الشَّمْسُ۔ آفتاب کا بلند ہونا۔
 تَقَلَّلَ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو کم دیکھنا۔
 اسْتَقَلَّ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو اٹھانا یا بلند
 کرنا۔ کم دیکھنا یا سمجھنا۔ الطَّائِدُ
 فِي طَيْرَانِهِ۔ پرندہ کا اونچی اڑان
 اڑنا۔ القومُ كَرِحَ كَرَانًا۔
 اسْتَقَلَّتْهُ الرَّعْدَةُ۔ لڑھ میں
 مبتلا کرنا۔ اسْتَقَلَّ بِرَأْيِهِ۔ اپنی
 رائے انفرادی پر جم جانا۔ يَكْدَا
 کسی چیز کو لے کر علیحدہ ہونا اور اس میں
 کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ فُلَانٌ
 حَضَبًا۔ فرط غضب کی وجہ سے
 جگر سے اچھل پڑنا یا چلے جانا۔
 بِالْأَمْرِ۔ کسی امر کی طاقت رکھنا۔

السَّحَابُ۔ ابر کا بلند ہونا۔
 القَوْلُ۔ چھوٹی دیوار۔ لڑھ۔
 القَلُّ وَالْقَلُّ۔ قلیل۔ مِنَ الشَّيْءِ۔
 کسی چیز کا کم از کم حصہ۔ رَجُلٌ
 قَلٌّ۔ تنہا شخص جس کا کوئی نہ ہو۔ هُوَ
 قَلُّ ابْنِ قَلٍ۔ وہ بھی غیر معروف ہے
 اور اس کا باپ بھی غیر معروف ہے۔
 قُلُّ رَجُلٍ وَأَقَلُّ رَجُلٍ يَقُولُ
 ذَلِكَ الْأَزِيدُ۔ یہ بات زید کے
 علاوہ کوئی اور نہیں کہتا۔
 القَلَّةُ۔ تنگ دستی یا بیماری سے نجات
 پانا۔
 القَلَّةُ۔ سب سے اوپر کا حصہ۔ سر کا یا
 پہاڑ کا یا کسی بھی چیز کا لوگوں کی ایک
 جماعت۔ بڑا مٹکا۔ چھوٹا کوزہ۔
 قَلَّةُ السَّيْفِ۔ تلوار کے قبضہ پر
 چاندی یا لوہے کی کوئی زینت دینے
 والی چیز۔ ج۔ قَلَّلُ وَقِلَالٌ۔
 قِلَالَةُ الْجَبَلِ۔ پہاڑ کی چوٹی۔
 القِلَّةُ۔ کمی مرض یا تنگ دستی سے نجات
 لڑھ۔ ج۔ قَلٌّ۔ طَوِيلُ القِلَّةِ
 دراز قدم کہا جاتا ہے۔ اَتَّخَذَا
 بِقَلْبَيْتِهِ وَبِقَلْبَيْتِهِ وَبِقَلْبَيْتِهِ
 وَبِقَلْبَيْتِهِ۔ اس نے سب کچھ لے
 لیا۔ رَحَلُوا بِقَلْبَيْتِهِمْ۔ وہ اپنے
 سب سامان کے ساتھ کوچ کر گئے
 اور پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ أَكَلَ القَبْطِ
 بِقَلْبَيْتِهِ۔ گڑھ کو بڑیوں اور کھال
 سمیت کھالیا۔
 القَلْبِيَّةُ۔ گرجا جیسی عمارت۔
 القَلِيلُ۔ کم، لاغر۔ ج۔ قَلِيلَاتٌ وَأَقِلَالٌ
 وَقَلَّلٌ وَمَلَكُونَ مَوْنٌ قَلِيلَةٌ۔
 ج۔ قَلِيلَاتٌ وَقَلَائِلٌ۔ قَلِيلٌ
 التَّخْيِيرُ۔ خیر نہ کرنے والا۔ قَلِيلٌ
 مِنَ الرِّجَالِ يَقُولُ ذَلِكَ۔ یہ

کوئی بھی نہیں کہتا۔ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
 قَلِيلَةً وَلَا كَثِيرَةً۔ میں نے اس
 سے کچھ نہیں لیا۔ قَلِيلٌ پرتا، تانہ پتہ
 صرف بحالت نفی داخل ہوتی ہے۔
 القَلَالُ وَالقَلَالُ۔ کم۔ ج۔ قَلَّلُ۔
 القَلَالُ۔ وہ ستون جو انگور کی بیوں کو
 زمین سے اٹھانے کے لیے گاڑے
 جاتے ہیں۔ القَلُّ مِنَ النَّاسِ مختلف
 متفرق لوگ۔
 الأَقَلُّ۔ بہت کم۔ وَالْمُقَلُّ۔ فقیر قدرے
 مال والا۔
 القُلِيُّ۔ کوتاہ قد لوٹری۔ عُلَّتِي لُطِي۔ قَدُمُ
 أَيْقَلَّةُ۔ کمینتی قوم۔
 الْمُقَلَّلُ۔ مفعول۔ مِنَ السَّيْفِ۔ وہ
 تلوار جس کے موٹے کے کنارہ پر چاندی
 یا لوہے کا ٹکڑا لگا ہو۔
 المُسْتَقَلُّ۔ فاعل۔ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ۔
 اپنے کام کا ذمہ دار منتظم۔ یا اختیار۔
 قَلَّبَ قَلْبًا رَضِيَ، الشَّيْءُ۔ رُخ یا حالت
 کو پلٹنا۔ اوپر کے حصہ کو نیچے کرنا۔
 اندر کے حصہ کو باہر کر دینا۔ القومُ
 وَاپس کرنا۔ پھیرنا۔ قَلَّبَ المُعَلِّمُ
 الصِّبْيَانَ۔ معلم کا بچوں کو گھرواپس
 بھیجنا۔ المَجْنُونُ عَيْنَهُ۔ غصہ
 ہونا۔ قَلَّبَتِ البُسْرَةُ۔ کچی کھجور کا
 سُرخ ہونا۔ قَلَّبَ الأَرْضَ لِلزُّوَادِ عَدَّةَ
 بل کے پھالے سے زمین کو الٹ پلٹ
 کرنا۔ محاورہ ہے کہ قَلَّبَ الأَمْرُ
 ظَهْرَهُ البَطْنِ۔ کسی معاملہ کو اچھی طرح
 جانچنا۔
 قَلَّبَ قَلْبًا رَضِيَ، دل کو لاحق کرنا۔
 قَلَّبَ النَّخْلَةَ۔ مفر۔ نکالنا۔ اَللَّهُ
 قَلَانَا إِلَيْهِ۔ موت دینا۔
 قَلِبَ قَلْبًا دَسًا، الٹے ہوئے ہونٹ والا
 ہونا۔ صفت أَقَلِبُ۔ قَلْبَةُ القَمْعَةِ

مؤنث کا الٹ جانا۔ مؤنث کی صفت
قَلْبًا ءُوبٌ ہے۔
قَلْبٌ اِبْعَیْرُ۔ اونٹ کو بیماری قلب
لاحق ہونا۔

قَلْبَهُ۔ پلٹنا یا الٹنا۔ سختی سے یا بار بار۔
قَلَبْتُ كَفَّيْهِ۔ تادم ہونا۔ قَلَبْتُ
الْأُمُورَ۔ معاملات کے انجام و عواقب
کو دیکھنا۔

أَقْلَبَ الشَّيْءَ رُوحَ تَبْدِيلِ كَرْنَا۔
أَقْلَبَهُ اللهُ إِلَيْهِ۔ خدا کا کسی کو موت
بھیجنا۔ أَقْلَبَ الْعَنْبُ۔ انگور کا
ادب پر حصہ خشک ہونا۔ الْخُبْرُ
رُوِي كَاتِرٌ پُرْلَطٌ جَلْتِ كَقَابِلِ
ہونا۔ الْقَوْمُ۔ قوم کے اونٹوں کو دل
کا مرض لاحق ہونا۔

تَقَلَّبَ رُوحٌ كَوْتَبْدِيلِ كَرَلِينَا۔ مڑ جانا۔
عَلَى فِرَاشِهِ۔ بستر پر کروٹیں بدلتا۔
فِي الْأُمُورِ۔ معاملات میں تعریف
کرنا اور ایک امر سے دوسرے کی
طرح منتقل ہونا۔ محاورہ ہے أَنَا
أَنْقَلَبُ فِي نَعْبَاتِيهِ۔ میں ہر
حالت میں اس کی نعمتوں سے بہرہ
اندوز ہوں۔

أَنْقَلَبَ. الٹ جانا. پلٹنا. مڑنا. مڑنگوں
ہونا۔

الْقَلْبُ مصدر قلب. دل. عقل. جی۔
قَلْبُ الْعَجِيشِ. لشکر کا وسط۔
قَلْبُ كُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز کا مغز اور
خلاصہ۔ بولا جاتا ہے۔ جَمْعُكَ
رَهْطًا الْأُمُورِ قَلْبًا۔ میں تمہارے
پاس صرف اسی امر کے لیے آیا۔ قَلْبُ
الْأَقْرَبِ۔ چاند کی منزلوں میں سے
ایک منزل۔ ج۔ قَلْبٌ۔ أفعال
الْقَلُوبِ طَرَقٌ وَحَسِبَ وَغَيْرِهِ
اصطلاح نحو کے افعال۔ رَجُلٌ

قَلْبٌ۔ خالص نسب والا شخص۔ اس
میں مذکر مؤنث و جمع سب مساوی
ہیں۔ البتہ کبھی اِمْرَأَةً قَلْبَةً بھی
بولتے ہیں۔

الْقَلْبُ وَالْقَلْبُ وَالْقَلْبُ۔ مِنَ
الشَّجَرِ۔ درخت کے تنہ کا اندرون
زرم حصہ۔ ج۔ أَقْلَابٌ وَ قَلُوبٌ وَ
قَلِيَةٌ۔

الْقَلْبُ عورت کے گنگن۔ سفید سانپ۔
الْقَلْبَةُ مَرْخِي۔
الْقَلْبَةُ۔ وہ مرض جس کی وجہ سے بیمار
بستر پر کروٹیں بدلتا رہے۔

الْقَلَابُ۔ دل کا مرض۔
الْقَالِبُ۔ فاعل سُرُخِ شَدِّ كَعَجْرٍ شَاةٌ
تَبَالِبُ لَوْنٍ۔ وہ بکری جس کا رنگ
اس کی ماں کے برخلاف ہو۔ و
الْقَالِبُ۔ سانچہ کسی دعوات وغیرہ
کو ڈھالنے کا ڈھانچہ۔ جوڑے کو ٹھیک
کرنے کے لیے سانچہ۔ قالب۔ ج۔
قَوَالِبُ۔

الْقَلْبُ۔ پلٹنے والا۔ بہت الٹ پلٹ
ہونے والا۔ حَوْلُ قَلْبٍ يَأْخُذُ
قَلْبِي۔ جلد باز۔ الٹ پلٹ کرنے
میں ماہر۔

الْقَلُوبُ۔ بہت الٹ پلٹ ہونے والا۔
وَالْقَلَابُ۔ بھیڑیا۔

الْقَلِيْبُ۔ کنواں۔ پرانا کنواں (مذکر ہے
اور نسبی مؤنث) ج۔ قَلْبٌ وَقَلْبٌ
وَأَقْلِبَةٌ۔

الْقَلُوبُ وَالْقَلُوبُ وَالْقَلِيْبُ۔
خیز بھیڑیا۔

الْمَقْلَبُ۔ مصدر۔ مقام انقلاب۔ مرجح
كُلُّ أَمْرٍ يُصْبِرُ إِلَى مُنْقَلَبِهِ
بر آدمی اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے۔
الْمَقْلُوبَةُ۔ مفعول۔ کان۔

قَلَبْتُ قَلْتَارِسَ، ہلاک ہونا۔
أَقْلَبْتُ۔ ہلاک کرنا۔ أَقْلَبْتُ الْمَرْأَةَ وَ
كُلُّ أَنْثَى۔ اولاد زندہ نہ رہنا۔ ایک
بچہ کے بعد پھر بچہ نہ ہونا۔ صفت
مَقْلَاتٌ اور اسم قَلْتٌ ہے۔
أَقْلَبْتُ فَقَلَيْتُ۔ اس کو خراب کیا۔
اور وہ خراب ہو گیا۔

الْقَلْتُ۔ چٹان یا آنکھ وغیرہ کا گڑھا۔ ج۔
قَلَاتٌ۔ قَلْتُ الْمَخَاصِرَةَ۔ کوکھ کا
گڑھا۔ قَلْتًا تَرَقُّوتِيهِ۔ سینہ کی
ہنسیوں کے ہر دو گڑھے۔ ہر عضو کی
گہری جگہ یا گڑھے کو قَلْتُ کہتے ہیں
رَجُلٌ قَلْتُ وَقَلْتُ۔ کم گوشت
آدمی۔

الْقَلْتَةُ۔ دونوں مونچھوں کے درمیان میں
ناک کے نیچے کا گڑھا۔ شَاةٌ قَلْتَةٌ
جس بکری کا دودھ میٹھا نہ ہو۔ اس کو
کھا جاتا ہے۔

الْمَقْلَتَةُ۔ جائے ہلاکت۔ خطرناک مقام۔
الْمَقْلَاتُ۔ وہ مؤنث جس کا بچہ زندہ نہ
رہتا ہو۔ جو ایک مرتبہ جننے کے بعد
بہر حال نہ ہو۔ ج۔ مَقَالِيْتُ۔

قَلِحٌ قَلْحًا دَسٌ، دانوں پر زرد میل
چڑھنا۔ قَلِحَتْ أَسْنَانُهُ۔ دانوں
پر زرد میل چڑھا ہوا ہونا۔ صفت
قَلِحٌ وَأَقْلِحٌ۔ مؤنث قَلِحَةٌ وَ
قَلِحَاءٌ۔ ج۔ قَلُوحٌ۔

قَلْحَةٌ۔ دانوں کو زرد میل سے صاف کرنا
تَقْلَحٌ۔ میلے کپڑے والا ہونا۔ تَقْلَحُ
الْبِلَادَ۔ قحط کے زمانہ میں شہروں
میں کانٹے کے لیے جانا۔

الْقَلْحُ۔ بوڑھا گدھا۔ انْقَلَحُ وَالْقَلَاحُ۔
نرد میل جو دانوں پر چڑھ جاتا ہے۔
الْقَلْحُ۔ میلا کپڑا۔

الْأَقْلَحُ۔ گریلا۔ گوبر کا کپڑا۔ رَجُلٌ

اقلح - تجزیہ کار آدمی جس پر واقعہ
 پتا ہو۔
 اقلح - تجزیہ کار ماہر۔
 اقلح الوجل - بہت بوڑھا ہوجانا
 اقلحتم اپنے آپ کو بوڑھا جاننے والا
 گھمنڈی - بوڑھا۔
 قلحہ قلحاً وقلیحاً (ف) الشجرۃ -
 درخت کو اکھاڑنا۔
 قلح قلحاً وقلیحاً وقلحاً -
 (ف) اقلح - اونٹ کا بیلانا۔
 قلحہ بالسوط - کورے سے مارنا
 قلح اقلحاً - نباتات کا تہ مضبوط
 وسخت ہونا۔
 اقلح - مصدر - پولا بانس - کھوکھلا
 نزل - بوڑھا گدھا - و اقلحاً -
 بڑی کھوپری والا۔
 قلند قلنداً (ص) الحبل - رسی بٹنا۔
 الحیدیندۃ - لڑے کو پتلا کرنا اور
 کسی چیز پر موڑنا یا موڑ کر گھمانا۔
 الرجل السیف - تلوار کو گلے
 میں ڈالنا۔ انما فی الحوض او
 الشراب فی البطن - حوض میں پانی
 یا پیٹ میں مشروب جمع کرنا۔ الموزع
 سیراب کرنا۔ السیف - موڑنا۔ العقی
 قلنا - ہر روز بخار چڑھنا۔
 قلندۃ السیف - گردن میں تلوار کا
 لٹکانا۔ قلندۃ اقلادۃ کسی کے
 گلے میں بارواٹا۔ قلندۃ العکل
 کسی کے ذمہ کام مقرر کرنا۔ قلندۃ
 الذین - قرع سے سپرد کرنا۔ قلند البیڑ
 اونٹ کے گلے میں رسی باندھنا جس سے
 اس کو کھینچا جائے۔ قلندۃ القملۃ
 فی سبکۃ کسی کو کسی شکر کا
 قاضی مقرر کرنا۔

قلند حبلہ رومہ آزاد کر دیا گیا
 قلندۃ فاکنا - کسی معاملے میں با
 غور و فکر کسی کی پیروی کرنا۔
 اقلد البحر علیہم - سمندر کا لوگوں کو
 غرق کرنا قلندۃ المرآۃ اقلادۃ
 عورت کا ارہننا - قلندۃ الاقرۃ
 کسی معاملہ کا ذمہ دار بننا - پتھار پر
 لازم کرنا - برداشت کرنا۔
 تلوار کو حائل کرنا۔
 قلندۃ القوم الماء - قوم کا پانی کو
 باری باری لینا۔
 اقلد الماء - پانی کو چلو سے لینا
 اقلود الناس قلاناً - بیند کا طاری
 وغالب ہونا۔
 اقلد - مصدر - پتھار اگلن سو اقلد
 ایک رسی پر لٹی ہوئی دوسری رسی۔
 ج اقلاد وقلود۔
 اقلد - بخار کی باری - چوتھیا بخار کا
 مرض جس میں دن اُس کی باری ہو۔ پانی
 کا حصہ یا باری - جماعت - آسمان کی
 سیرانی - مہفتہ وار - محاورہ سے۔
 سقنا السماء قلنداً فی کل
 السنین - ہم کو آسمان نے ہر مہفتہ سیراب
 کیا۔ - سیرانی کا دن یا رسی بڑے
 پیالہ کے مشابہ برتن - ج
 میں نے
 اپنے معاملہ کا اختیار اُس کو سپرد کر دیا۔
 اقلدۃ - گلی کا ٹپٹ - کھجور۔
 اقلدۃ - موٹیوں کے درمیان میں
 ناک کے بالکل نیچے کا گڑھا۔
 اقلاد و اقلیدۃ - تانبے یا تیل
 کا تار جس کو اُس میں استعمال کیا جاتے
 یا اُس سے بالی یا انگھوٹی کا حلقہ بنایا
 جائے۔
 اقلادۃ - ارن - نیکس ج اقلادۃ

وقلادۃ - پھرتاروں کا نمکا جڑوس
 کے نام سے مشہور ہیں۔ قلندۃ الشی
 وہ اشعار جو ہمیشہ یاد کے لئے ہوں اور
 ہر جہ نفاست فراموش نہ ہوں۔
 اقلود - بہت پانی والا کنواں
 اقلید و اقلود - پتھار۔
 اقلید و اقلاد - حنرانہ۔
 اقلید مصدر ج اقلید
 و اقلیدات - اقلید -
 نیاری کے نزدیک وہ مقام یا امور
 عبادت جو سلف سے خلف تک پہنچے
 اور کئی کو منجانب اللہ بتلائے گئے
 ہوں، مگر اُن کو ضبط تحریر انجیل میں نہیں
 لایا گیا۔ سلطان یا امیر کا وہ حکم جو
 ماتحت کے حاکم کو دیا گیا اور جس میں
 اُس کو تقلید حکم کا صراحتہ پابند کیا گیا
 ہو وہ بھی تقلید کہلاتا ہے۔
 اقلید ج اقلید و اقلیدات
 مقالید - کنبی - چالی - صاف
 مقالید او مقالید کا معاملات
 کا کسی پر تنگ ہونا۔ اقلی الیہ
 مقالید الامور - معاملات کا
 انتظام کسی کے سپرد کرنا۔ اقلد
 برتن - دانہ کھلانے کا توبرہ، پیمانہ
 ٹیڑھے سروال اعضا۔
 اقلد - مفعول - سردار قوم۔ وہ گھوڑا
 جو سابق ہونے کی وجہ سے بلور علامت
 کوئی چیز پہنایا گیا ہو۔ ہار پہننے کی
 جگہ۔ تلوار کو حائل کرنے کی جگہ دونوں
 ہونڈیوں کے درمیان مقالیدات
 الشیخ - وہ مختار جو زمانہ واز گزر
 جاننے کے باوجود باقی رہیں اور فکاح
 کی وجہ سے ان کو حفظ کیا جائے۔
 قلندۃ قلندۃ (ص) اقلندۃ
 اقلندۃ بکصاہ - چھڑی سے زمیں

کریدنا بيسهيمه اوبقيته بيسهيمه
يا قے کرنا۔ الرجل کسی نوعیت کا
مشروب پینا۔ حیت و خوش ہونا۔ کرنا
نگرا ہوتا۔ قلزہ الماء۔ ایک
ایک گھونٹ پانا۔ وقلزوا قلزوا
الجزاد۔ بڑی کا دم کوزمین میں گڑھا
تقلز۔ حیت و خوش ہونا۔ الوعل
بھاری بکرے کا دوڑنا۔
اقتلوا کائن۔ پیالہ سے ایک ایک
گھونٹ پینا۔
القلزمین الرجل۔ ہلکا آدمی، کمزور
القلزوا والقلزوا۔ وہ تانبا جس پر
لوہے کا اثر نہ ہو سکے۔ مضبوط آدمی
موت قلزوا وقلزوا۔
قلزم وقلزم الشیء کسی چیز کو
نگنا۔ قلزم الرجل۔ نجل سے
مرجانا۔
القلزم کینہ۔
القلزم۔ ایک شہر جو مصر اور مکہ کے درمیان
ہے۔ بحر قزاق کی طرف غروب
ہے کیونکہ اس کے کنارہ پر ہے۔
القلزما۔ مصدر کینگی، شور و
شہر۔
قلص قلصا وقلصا تارضا الرجل
پیٹ سے منہ بھرنا کہ تا وغیرہ منہ تک
آنا۔ اگر غالب آجائے اور مضبوط نہ
ہو سکے تو اس کو قی کہا جاتا ہے
زیادہ بیز پینا۔ قلصہ طبیعت
متلانا۔ آنگائیں یا لشراب باب
بونے کی وجہ سے چھلنا۔ الا ناء
برتن کا ہنا، سمندر کا چھلنا خون
کا ہنا۔ الرجل الغسل کسی
کا شہد اگنا۔ السحابی الندای
بادل کا چھوار برسنا۔ الرجل باج
دکانا گاتے وقت عمدہ گانا گانا۔

قلص۔ دف بجانا اور گانا بجدہ کرنا القوم
قوم کا دف بجا کر اور ترانہ گا کر اور کھیل
کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کرنا۔
کہ کسی کے سامنے تعظیماً لیت ہوتا
اور سینہ پر ہاتھ رکھنا۔ الرجل
ٹوپی پہنانا۔
القلص۔ پیٹ سے منہ تک جو کانا یا مشر
بد معنی کی وجہ سے آجائے۔ قے۔
قلص البحر۔ ابر۔
القلص۔ وہ شخص جس کے منہ تک کانا
وغیرہ پیٹ سے آجائے
القلص۔ اسم مبالغہ۔ کلاہ ساز۔
بجر قلصی۔ جھاگ چھینکنے والا
سمندر۔ زخار۔
القلصی۔ شہد کی مکھی۔ شہد۔
قلصی الرجل۔ ٹوپی پہنانا۔
تقلصی تقلصیا۔ ٹوپی اور صنا۔
الا تقلصی والا تقلصی۔ بام
مچلی۔
القلصی۔ سکر اہوا۔ چوٹا سا۔
القلصی۔ چھوٹا پین سکر اہوا۔
القلصی والا قلصی۔ جید ساز۔
(کلمہ دخیل ہے) اور
قلص قلوصا۔ (من الرجل) کودنا۔
القوم جمع ہو کر چلنا۔ القوم عن الدار
قوم کا ہلکا ہونا اور چلنے کا وقت قریب
ہونا۔ الماء پانی کا چھوٹنا ختم ہونا
اور غائب ہونا۔ البئر کنویں کا اوپر
تک آجانا۔ اطل عن کذا۔ سایہ
کا سمٹنا۔ صفت قاصی۔ الثوب
بعد الغسل کپڑے کا دھو کے کے
بد سکرنا وسمٹنا۔ العلم۔ جوان
ہونا الشفة۔ ہونٹ کا اوپر کا جانب
سکرنا۔
قلصت قلوصا من وقلصت

قلصا من نفسه۔ جی متلانا۔
قلص قلیصه قلصی هو۔ اس نے
قمیص کو سکیرا تو وہ سکر گئی سمٹنا
سمٹنا۔ سکیرنا۔ سکرنا۔ قلصت
الدراع۔ زرہ کا سمٹنا اور گتہ جانا
التاقت بواکبها۔ ناقہ کا سوار
کو تیزی سے لے جانا۔ اور اپنی روانی
کو جاری رکھنا۔ القوم، اونٹنیوں پر
سوار ہونا۔
القلص البعیر۔ اونٹ کی تھوڑی سی
کران ظاہر ہونا التاقتہ گرمی میں
ناقہ کا فریہ ہونا۔ ناقہ کا فریہ ہونا۔
ناقہ کا دو دو خشک اور ختم ہونا۔
تقلص۔ سمٹنا۔ سکرنا۔ ایک دوسرے
کے قریب ہونا طبعی کے نزدیک
تمدد کی ضد و عکس۔
القلصا۔ پانی کانویں میں بلند ہونا۔
جر قلص وقلصا ت بولاجاتا ہے
ما وجدت فی البئر الا قلصا
قین الماء میں نے کنویں میں صرف
تھوڑا سا پانی پایا۔
القلوص من الابل ایسی مانگوں والی
اونٹنی جہاں اونٹنی چلتے والی اونٹنی
وہ اونٹنی جس پر پہلے پہل سواری کی
جائے۔ جہ قلصی وقلصی
قلص وقلصان القلوص۔ جاری
پرندہ کا چوڑہ۔ جوان عورت۔ وہ بیٹے
والی نر میں میں غلاظت وگنگی چھنکی
جاتی ہو۔
القلصی کثیر۔ من الیاء۔ بلند پانی جو
بہر میں ختم ہو جائے۔
القلص من الیاء۔ بلند پانی جو بہر میں
ختم ہو جائے۔
المقلص۔ اونٹنی کو دھونے والا۔
من التوتی۔ وہ ناقہ جو موسم گرمی میں

وقت نکل کر اٹ جائے ہر جہ قلعہ
 اقلاع الحصى ومقلعہ...
 المقلعہ - پھر اٹھانے کی جگہ - جہ
 مقایعہ -
 المقلعہ - پھر اٹھانے کی جگہ - فلاخن
 جہ - مقایعہ -
 قلعے کی مشیہ - اس طرح چلنا
 جیسے کھجور سے نکلتا ہے -
 اقلعہ الشعر - بالوں کا بہت ہی
 گھنگریالے ہونا - فلاخن - اپنی ہی
 رائے سے ملک میں جانا -
 اقلعہ الشعر - بالوں کا گھنگریالے
 اور سخت ہونا -
 المقلعہ - فاعل - ڈر کر جاگنے والا
 سخت گھنگریالے بالوں والا سر جس
 کے بال لیے نہ ہوتے ہوں -
 اقلعت الشیء - سمننا، سکروتا -
 انا میل فلان - پڑھا ہے یا جاڑ
 سے انگلیوں کا سکر دیا جانا -
 اقلعہ - بالوں کا اتھانے کا گھنگریالا
 بن -
 قلع قلعاً (رض) الشجرۃ - درخت
 کی چھال اتارنا - الشیء - پلٹنا -
 اقلعہ - واقفیت الطغر -
 ناخن کو کاٹنا اور برہے اٹھانا -
 قلع قلعاً (رض) القلعہ - چشمہ
 کے اوپر کی چھال کاٹنا - جتن کرنا -
 قلع قلعاً (رض) القلعہ -
 شے کے سر کی ہڈی اٹھانے کا -
 قلعہ الشیء - کسی کے گھونٹ
 کو روکنا - اور نہ بیان
 میں تار کو پھینکا - اس قلعہ
 قلع الجرد - روٹ کے اعضاء
 اٹھانے کا -

قلع قلعاً (رض) القلعہ - پتھر کا
 غیر نمون ہونا یا اس کے حشف کی
 کھال کا بڑا ہونا - صفت اقلع
 قلع القشر وعن الشجرۃ - چمکے
 کا درخت سے جدا ہونا - اقلعت
 الشجرۃ - ناف کا پھول جانا -
 القلع - درخت کی چھال واحد قلعہ
 ہے - کھرودی و سخت جگہ -
 القلعۃ - جڑ سے اٹھانا یا ناخن -
 القلعۃ والقلعۃ - عضو تامل
 کے سرے کی کھال - حشف کی کھال
 جہ - قلع -
 القلعۃ من الشفاہ - موٹا ہونے
 القلافتہ - درخت و نیزہ کی چھال
 القلیف - جہ - قلع قلعاً
 جہ - قلیف والقلوفا - جہ
 مقلوفا - کھجور کھنے کی بڑی
 لڑکی -
 القلیف والمقلوف - وہ ٹھکانے
 کی مٹی اٹھانے کی مٹی - القلیف
 ٹھکانے میں - دریا کی کھجور جس کا
 چمکا ہوا ہوا ہوا - واحد قلیف
 الاقلع - غیر نمونہ جس کے حشف
 کی کھال بڑی ہو ہوتی قلعاً -
 جہ - قلع -
 اقلع القلب (رض) غیر کھجور
 نہیں کرتا - قلعہ -
 کاسال - قلیف - اقلع - پڑ
 لطف زندگی -
 القلیف - وہ کھجور جس کی کھال
 کھال کے کھجور کے ہونے کی لڑکی میں
 محفوظ کر دی گئی ہوں - قلعہ
 الطعام - تمام کھانا کھا لینا -
 قلعہ عندہ الشیء - چل جانا
 ہٹ جانا -

القلعہ والقلعہ - پتھر کی مٹی
 کو اٹھانے کے وقت جو ریز سے
 اٹھانے ہوں -
 القلعۃ - کھنسی - زمین پر مٹی کا وہ
 اٹھا ہوا چمکا جس کے نیچے کھنسی ہو -
 اونٹ کی کھال پر جو لیے لیے چمکے کی
 شکل کے داغ اٹھاتے ہیں -
 قلع قلعاً (رض) پریشان و بے چین
 ہونا - صفت قلع و مقلعہ ہے
 قلع قلعاً (رض) الشیء - حرکت دینا - بلانا
 اقلعہ - بے قرار و پریشان کرنا -
 اقلع الشیء من مکانہ - جگہ سے
 حرکت دینا - القوہ المسیوف -
 فی الغمد - تلوار کو میان سے نکالنے
 کے پہلے تجزیہ حرکت دینا - تاکر نکالنے
 وقت دشواری نہ ہو -
 القلقاس - آدمی گتیاں رکھو خیل
 ہے
 قلقل قلقلہ - اواز دینا - قلقلہ
 وقلقلاً وقلقلاً - اقلع -
 حرکت دینا - القلعہ -
 مٹی کی جگہ سے اٹھانے کا
 زمین پر چلنا -
 قلقل - حرکت کو نہا شہری کا دھڑکی
 دکھانا - فی البلاء - ملک میں گھومنا
 ہر جگہ
 القلقل والقلقلان - کھجور
 سے جو نار کھنسا ہے - اس میں کلی
 برج کھنسا اور کھنسا واصل گتے
 ہیں - حروف القلقلیہ - وہ
 حروف کے ادا کرتے وقت آواز
 میں جنبش ہوتی ہے یہ پانچ حروف
 ہیں جن کا مجموعہ قطب جہ ہے
 القلقال - ہمیشہ سفر میں رہنے والا -
 القلاقل والقلقل - حروف حرکت

دسترخوان پر موجودہ تمام چیزوں کو
 کھالینا۔ اِقْتَمَّ الشَّيْءُ تَمَدِيرًا
 اختیار کرنا۔ اعمتا کرنا اور نہ چھوڑنا
 قَمَمًا خشک کرنا۔ قَمَمَ التَّجْمُ
 تارے کا آسمان میں بالکل سر رہنیا
 تَقَمَّ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ جَوْكِهِ
 دسترخوان پر ہوسب کھا جانا۔ اَقْسَى
 کسی چیز کے اوپر چڑھ جانا اَلتَّخَذَ
 کھجور کی چوٹی پر چسپڑنا۔ الرَّجُلُ
 قَرْنًا اپنے ہسر پر سبقت لے جانا۔
 الْقَمَمَةُ ہر چیز کی انتہائی بلندی۔ لوگوں
 کی جماعت۔ بدن۔ قد۔ جہ۔ قِسَمٌ
 الْقَمَمَةُ جو مقدار شیر ایک مرتبہ میں
 لے۔ کوڑی۔ گندگی ڈالنے کی جگہ۔
 الْقَمِيمُ خشک شدہ سبزی، ستر۔
 الْقَمَامَةُ کرڑا کرکٹ۔ لوگوں کی
 جماعت۔ جہ۔ قُمَامٌ
 الْمُقَمُّ وَالْمُقَمَّةٌ وہ شخص جو
 دسترخوان پر موجود ہر چیز کو کھائے۔
 الْمُقَمَّةُ جھاڑو، جہ۔ مَقَامٌ
 وَالْمُقَمَّةُ کھروالے جانوروں
 کے دونوں ہونٹ۔
 قَمَارَانٌ وَقَمَوْرَانٌ قَمَاءَةٌ
 وَقَمَاءَةٌ وَقَمَاءَةٌ وَقَمَاءَةٌ
 حقیر و ذلیل ہونا۔ صفت۔ قَمِيْرٌ
 جہ قَمَاءٌ وَقَمَاءٌ
 قَمَاءٌ قَمَاءَاتٌ الْمَكَانُ وہ کسی جگہ
 داخل ہوتا۔ قیام کرنا۔
 قَمَاءَةٌ مَآئِنٌ اِكْمَالًا
 قَمَاءَاتٌ قَمَاءَاتٌ وَقَمَوَاتٌ
 قَمُوْنًا وَقَمُوْدَةٌ وَقَمَاءٌ
 قَمَاءٌ اَوْ قَمَاءَةٌ (رَبِّ) الْمَائِدَةِ
 جھاڑو کا موٹا ہونا۔ بِالْمَكَانِ بَشْرًا
 کسی جگہ قیام کر کے
 فرہ ہونا۔

أَقَمَّ الرَّجُلُ ذَلِيلًا كَرَمًا۔ الشَّيْءُ
 أَوْ الْمَكَانُ فُلَانًا۔ کئی جگہ یا چیز
 کا بہت پسند آنا۔ اَقَمَّ مَتَا
 الْمَائِدَةِ جَالُو كَافِرِيهِ هَوْنَا۔
 قَامَا لَا مَقَامًا۔ موافقت کرنا۔
 قَامَا الْمَكَانُ۔ جگہ کا موافق
 آنا۔
 تَقَمَّ فُلَانٌ الْمَكَانَ جگہ کا موافق آنا
 اور قیام کرنا۔ الشَّيْءُ تَمَدِيرًا
 جمع کرنا۔ کسی چیز کا عمدہ حصہ لینا۔
 اِقْتَمَّ الشَّيْءُ جمع کرنا۔
 الْقَمُوْدُ وہ جگہ جہاں اونٹ اور اونٹنی
 قیام کرنے سے فریب ہوں، نیز وہ
 جگہ جہاں قیام کرنے سے مرد و عورت
 مرے تازے ہو جائیں۔
 الْقَمَاءَةُ جہ، قَمَاءٌ وَالْمَقَامَةُ
 وَالْمَقَمَةُ۔ وہ جگہ جہاں دھوپ
 نہ پڑتی ہو۔
 الْقَمَاءَةُ وَالْقَمَاءَةُ خوش حالی۔
 آرام وطمینان۔
 الْقَمِيْرُ ذلیل۔ حقیر۔ کمینہ۔
 قَمَحٌ قَمُوْحَانٌ اَوْ قَامَحٌ و
 تَقَمَحٌ وَالْقَمَحُ الْبَيْرُ اَوْ
 کاسیراب ہو کہ بیٹے سے بانہ بننا اور
 سر اٹھانا۔ قَمَحٌ قَامَحٌ قَمَحٌ
 وَقَمَحٌ قَمَحٌ الشَّرَابُ
 مِنَ الْقَمِيْرَاتِ بِشْرَابٍ كَمِْرٍ اِيْمَانًا
 قَمَحٌ قَمَحَاتٌ اَوْ قَمَحٌ و
 تَقَمَحٌ الشَّرَابُ سُرْمًا
 الشَّرَابُ بِشْرَابٍ كَمِْرٍ اِيْمَانًا
 رکھ کر چلنا۔
 قَمَحٌ فُلَانًا حق واجب سے کم سے کم
 دفع کرنا۔
 اَقَمَّ السُّبُلُ خوشنویں دانہ پڑنا
 البر۔ گندم کا پک جانا۔ الرَّجُلُ

سراٹھانا اور آنکھ بند کرنا۔ بِالْمَكَانِ
 ناک اور نچی رکھنا۔ اَنْعَلَ الْأَمِيرُ قَدْرِي
 کاسراٹھا ہوا چھوڑنا اور چھوڑنے کے
 فُلَانٌ بند پینا۔
 الْقَمَحُ گندم۔ گیسوں کے ایک دانہ کو
 قَمَحًا کہتے ہیں۔
 الْقَمْحَةُ کھانے کی چیز یا پانی کی وہ
 مقدار جو منہ میں سمائے وَالْقَمْحَانُ
 وَالْقَمْحَانُ۔ زعفران
 الْقَمْحَانَتَا کھوپڑی کی بڑی اور گدی
 کے گڑھے کے درمیان کی جگہ۔
 الْقَمِيْحَةُ۔ چورن۔ بھٹکی، دو واغیرہ
 کی رَجُلٌ قَمُوْحٌ لِلْقَمِيْدِ
 بہت بند پینے والا آدمی۔
 الْقَمْحَادُ وَ قَمْحَادِي كَمِيْرٍ اَوْ
 بڑی۔ کھوپڑی کی پھلی بڑی۔ جہ۔
 قَمَاحِدٌ۔
 قَمَدًا قَمَدًا اَوْ قَمُوْدًا رَضًا
 انکار کرنا۔ باز رہنا۔ نیک یا ہر کام
 میں مسلسل رہنا۔
 قَمِيْدٌ قَمَدًا اَوْ قَمِيْدًا اَوْ قَمِيْدًا
 وَالْقَمِيْدُ صِفَتٌ اَوْ قَمِيْدٌ مَرْتَبَةٌ
 قَمِيْدٌ
 اَقَمَدًا الرَّجُلُ گدوں اور نچی کرنا۔
 الْقَمَدُ وَالْقَمَدُ وَالْقَمَادُ بَحْتٌ
 قوی ہونا۔ بھٹنا۔
 الْقَمَدُ وَالْقَمَدُ وَالْقَمَدُ
 قوی گدوں والی اور بھٹنے والی
 کہ نچی اور بھٹی گدوں والی۔ قَمَحَاتٌ
 قَمَحَاتٌ اَوْ قَمَحَاتٌ اَوْ قَمَحَاتٌ
 قمار بازی کرنا۔ الرَّجُلُ يَمُوْدُ
 جیسا کہ غالب آنا۔ قَمُوْدًا
 رَدٌّ عَنِ الرَّجُلِ مَالًا۔ کسی آدمی
 کا مال چھیننا۔ قَمُوْدًا الشَّيْءُ
 نہایت سہل ہونا۔ الرَّجُلُ يَمُوْدُ

سمندر
 الْقَمُوشُ - وہ کنواں جس میں زیادہ پانی
 کی وجہ سے ڈول ڈوب جائیں۔
 الْقَمُوشُ - شریف آدمی جو، قَمَاشُ
 وَقَمَاشِيَّةُ
 الْقَوْمُوسُ - امیر - سمندر کا زیادہ پانی
 والا حصہ۔ ج: قَوْمُوسُ الْقَوْمِ
 حائضے، آنتیں - مصائب۔
 قَمَشٌ قَمَشَانٌ (من) وَقَمَشٌ
 الْقَامِشُ - ادھر ادھر سے جمع کرنا
 تَقَمَشٌ - جوڑے اس کو کھا لینا خواہ گھیا
 اِقْتَمَشَ الْقَمَاشُ - ادھر ادھر سے
 کھانا۔
 الْقَمَاشُ - سطح زمین پر چرانی اشیا
 میں قَمَاشٌ کاشی، ہر چیز کی
 گھیا اور ردی قسم۔ قَمَاشٌ
 الدَّاسِ - ادنیٰ دیکھنے لوگ۔ قَمَاشُ
 الْبَيْتِ - اسباب خادداری۔
 فَرَسٌ جَرٌّ أَقْمِشَةٌ
 الْقَمَشُ - مصدر - ہر چیز کا ردی حصہ
 الْقَمَاشُ - اسباب فروشن پر چون
 فروش - کباڑی۔
 قَمَصٌ قَمَصًا وَقَمَا صًا وَقَمَصًا
 (ن من) الْقَمَصُ دَعِيْرٌ كَرُورٌ
 دینہ کا اگلے دونوں پاؤں یکدم اٹھانا
 اور یک دم چکنا اور پھلپھلانی تاکوں کو
 اپنی حالت پر رکھنا۔ الْعِيْرُ: کودنا
 جھاگنا۔ قَمَصًا مَشًا - جھاگنا۔
 دگر دانی کرنا۔ الثَّاقَةُ بَارُوْلِيْفُ
 ناقہ کا سوار کرسی کے ساتھ بے جانا
 وَقَمَصَ الْبَحْرُ بِالْحَفِيْفِيَّةِ
 سمندر کشتی کو اچھلنے والے اونٹ
 کی طرح حرکت دینا قَمَصًا قَمِيسُ
 پہنانا۔ قَمَصَ التَّوْبَ كَبْرُوسَ

کی قمیص تلخ کرنا۔
 تَقَمَصَ - قمیص پہننا۔ استعارہ کے
 طور پر کہا جاتا ہے تَقَمَصَ الْوَلَايَةَ
 وَالْاِمَارَةَ - اُس نے ولایت و
 امارت حاصل کی) وَتَقَمَصَ لِبَاسِ
 الْعِزِّ - عزت کا لباس زیب تن کیا)
 تَقَمَصَتِ الرَّوْحُ - روح کا ایک
 جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا
 تناسخ ارواح (فلا سفر ملاحہ کے
 نزدیک)۔
 الْقَمِصُ - ٹڈی جو ابھی ابھی تڑپے
 سے نکلی ہو۔ چھوٹی چھوٹی مکیاں
 جو پانی پر اڑتی ہیں واحد قَمِصَةٌ
 الْقَمَاصُ - مصدر - پریشانی، ملق۔
 الْقَمِيصُ - کرتا۔ حرک و مؤنث و مؤنث
 طرح مستعمل ہے ج: اَقْمِصَتْ
 وَقَمِصَتْ وَقَمِصَاتٌ - الْقَمِيصُ
 مغیرہ بچے پر لپی ہوئی جلی۔ دل کا
 غلاف بخاور ہے جتد الخوق
 قَمِيصٌ قَلْبِي (خوف سے اس کے
 دل کا غلاف پھٹ گیا) الْقَمِيصُ
 وَالْقَمُوشُ - اچھے سوار کہلے کر
 اچھلنے والی سواری الْقَمُوشُ -
 غیر - مضرب و بے پین آدمی۔
 فُلَانٌ كَمُوشٌ الْحَبْرَةُ -
 (فلاں چھوٹا ہے)۔
 كَمِطَةٌ كَمِطَانٌ وَكَمِطَةٌ
 اُتْرَاقٌ اَنْدَلُسِيَّةٌ جَمَلٌ كَمِطَانٌ
 میں بچے کپڑوں میں لپیٹ دینے جاتے
 ہیں۔ اَلْاَيْلُ - ایک قلعہ میں لانا
 - طَحَمَ الشَّيْءُ بِكَمِطَةٍ
 الشَّيْءُ بِكَمِطَةٍ
 الْقَمِيْطُ - رسی جس سے لاندھا جاتے
 وہ چوڑا کپڑا جو سپر کو گوارہ کی رکھتے
 وقت اس کو لپیٹ دیتے ہیں ج:

قَمِطٌ - وَالْقَمِيْطُ - وہ رسی
 جس سے بکری کو ذبح کرتے وقت
 اُس کے پاؤں باندھتے ہیں عَامٌ
 قَمِيْطٌ - کال ایک سال۔ حَوْلٌ
 قَمِيْطٌ - پورا سال۔ كَمِطٌ قَمِيْطٌ
 تمام مہینہ۔
 الْقَمِيْطُ - چور۔ بچوں کے پوتے بنانے
 والا۔
 الْقَمِيْطُ - بہت سے چور۔
 قَمَطٌ قَمَطٌ - الشَّيْءُ جَمْعٌ هُوَ
 الشَّيْءُ جَمْعٌ كَرْنَا - الْقَمِيْطُ
 مشکیزہ کو بند سے باندھنا۔ جھڑنا
 الْقَمِيْطُ - جھاگ جانا۔
 اِقْمِطَ - منتشر ہونا۔ سکرنا۔ اِلْمِطَ
 شرک کے لئے تیار ہونا۔ اَلْيَوْمُ
 شدید ہونا اَلْيَوْمُ الشَّيْءُ بِكَمِطَةٍ
 جمع ہونا۔
 اَلْقَمِيْطُ اَلْقَمِيْطُ - ہر دو ان کا نام
 رکھنے کا قبیلہ۔ اَلْمُرُورُ كَمِطٌ
 میں ڈالنے کا کلمہ۔ ہر ما اور کھانا
 آدمی۔ اَلْمُرُورُ كَمِطٌ
 کبھی تلکا انا اور کبھی اَمْرًا
 قَمِطَةٌ - کتے ہیں۔ ج: قَمِطٌ
 اَلْقَمِيْطُ وَالْقَمِيْطُ - کتے
 شریک شہید ایام۔
 اَلْقَمِيْطُ - ہر ماہیت قد آدمی اچھا
 کے ساتھ چلنا۔
 قَمَعًا قَمَعًا (من) وَرَفَعَهُ
 سے ہٹانا۔ قَمَعًا سے ہٹانا۔ اَلْقَمِطُ
 ذلیل کرنا قَمَعًا الْقَمِيْطُ بِكَمِطَةٍ
 کلام یا ہر کوڑنا قَمَعًا فِي الشَّيْءِ
 داخل ہونا۔ اَلْقَمِطُ وَرَفَعَهُ
 اچھی ایسی جن لینا۔ اور بڑی چھوٹی
 دینا۔ قَمَعَتِ الرَّوْحُ اَلْقَمِطُ
 بِالْحَمَامِ اَلْقَمِطُ كَمِطَةٍ كَمِطَةٍ

جو خبیث کمازوں کو پسند کرے۔
 الْقَامِقُ۔ ایوں کے مہینے کے بارہ دن
 جن میں بعض لوگوں کے خیال کے مطابق
 سال بھر کے ہر مہینے کی ہفتا کے متعلق تین
 اور قیاس کیا جاتا ہے۔
 الْقَمِيقُ۔ پڑھو جو پینے سے پہلے خشک
 ہو جائے۔ الْقَمِيقَةُ۔ قَمِيقُ
 کے معنی میں مستعمل ہے قَمِيقٌ قَمَلًا
 (ی) الْقَوَمُ۔ قوم کی تعداد زیادہ ہونا
 خوش حال ہونا قَلَانٌ۔ ماضی ہونے
 کے بعد فریہ ہونا۔ رَأْسُهُ۔ سر میں
 جوئی پڑتا۔ جوئی زیادہ ہو جانا۔
 صفت۔ قَمِيلٌ بَطْنُهُ۔ پیٹ موٹا
 ہونا۔ قَمِيلٌ وَاقْمَلُ الْمَرْعَى
 چراگاہ میں سبزہ پھوٹنا اور سیاہ ہونا
 اور ایسا معلوم ہونا کہ اس پر جوئی
 ہوں۔

تَعَمَلُ الرَّجُلُ۔ آدمی کے جسم پر قد سے
 موٹاپا ظاہر ہونا۔
 الْقَمْلُ۔ جوں۔ پیش۔ واحد قَمْلَةٌ
 ذَبَّ قَمْلًا۔ موٹا ہونا۔ قَمْلٌ
 قَرْنِيٌّ۔ صنوبر کا پھل۔
 الْقَمَالُ۔ جوں۔
 الْقَمَلُ۔ چھریاں جو اونٹ کے لافڑ ہونے
 کے بعد لاتی ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھریاں
 واحد۔ قَمَلَةٌ۔
 الْقَمَلُ۔ وہ شخص جو نگہ تری کے بعد
 مال و دار ہو۔
 تَعَمَّتِ الْأَرْضُ۔ کسی کام کا ارادہ کرنا
 خاص ارادہ کرنا۔ الْقَمِيُّ، کسی چیز
 کو پسند کرنا۔
 الْقَمِيَّةُ۔ قریب پریشہ دار۔ قال ملائک
 مذکر و مؤنث و واحد و جمع و ثنیه۔
 قَمِيَّةٌ۔ قَمِيَّةٌ۔ قَمِيَّةٌ۔ قَمِيَّةٌ۔
 قَمِيَّةٌ۔ وطن ہے۔ قَمِيَّةٌ۔
 قَمِيَّةٌ۔ وطن بنانے اور کثرت کرنے

کے لائق جگہ حَسْبُ بِالْحَدِيثِ عَلَي
 قَمِيَّةٍ رَمِيَتْ بَابِ اس کے طور
 طرز پر بیان کی۔
 الْقَمِيَّةُ۔ قابلِ وِلايَةٍ۔ تیز رفتار قریب
 رَاحَةً قَمِيَّةً۔ بدل
 الْقَمِيَّةُ۔ تیز رفتار۔ لائق و مستحق۔ حمام کی
 جیسی قَمِيَّةٌ اور قَمِيَّةٌ کے بعد پانہ
 یا عین یا لام کا صلہ لایا جاتا ہے اور
 بولاجاتا ہے هُوَ قَمِيَّةٌ وَ قَمِيَّةٌ
 بَكْنَا أَيَا مِينُ كَذَا أَيَا يَكْنَا۔ ج
 قَمِيَّةٌ وَ قَمِيَّةٌ مَوْتٌ قَمِيَّةٌ
 ج۔ قَمِيَّةٌ وَ قَمِيَّةٌ أَقْوَمُ
 بَعْدَ الْأَمْرِ رَأْسُ كَامٍ كَيْسِي
 موزوں ہے۔ هَذَا الْأَمْرُ مَقْمِيَّةٌ
 لِيَا كَيْسِي۔ یہ معاملہ اس کے لئے موزوں ہے
 الْقَمِيَّةُ۔ سٹا ہوا۔ سکا ہوا۔
 قِمَّةٌ قَمُو كَهَا (من) الْقَمِيَّةُ۔ اونٹ کا پانی
 نہ پینا اور سر اٹھانا۔ الْقَمِيَّةُ فِي الْمَاءِ
 کسی چیز کا کسی ڈوب جانا اور کسی اوپر
 اُجْرَانَا۔

تَقَمَّتْ فِي الْأَرْضِ۔ زمین پر چلنا سفر کرنا
 تَحْرَجَ فُلَانٌ يَتَقَمَّتُهُ۔ فلان نکل
 کھڑا ہوا اگر اس کو معلوم نہیں کہ کہاں
 جاتا ہے
 الْقَمَمَةُ۔ بھوک کم لگنا۔
 الْقَامِيَةُ۔ فاعل جہ۔ قَمِيَّةٌ
 الْقَمِيَّةُ۔ مریانا۔ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْعِيَّةُ
 سرائٹھانا۔ بِالرَّكْبَانِ۔ ایک جگہ
 اقامت کے لئے سفر کرنا۔ تیز رفتاری
 الْقَمِيَّةُ۔ کینہ اصل آدمی۔ یہ صورت
 قَامَاةٌ مَقَامَاةٌ رِيَاءٌ ہے (مواقف
 کرنا مَقَامًا مَبْنِيًّا هَذَا الْقَمِيَّةُ
 یہ چیز مجھے موافق نہیں ہے)۔
 قَمِيَّةٌ كَمِيَّةٌ، ان کے پاس چال کر تلاش کرنا
 راجھی سے مارنا۔ قَمِيَّةٌ فِي الْحَبْلِ۔

بھاڑ کی بندھا پر چڑھنا۔
 الْقَمِيَّةُ۔ غلام بنانا۔ خاموش ہونا۔
 وَقَمِيَّةٌ اقْتِنَانًا۔ سیدھا کھڑا ہونا
 اسْتَقَمَّتْ بِالْأَمْرِ۔ مستقل ہونا۔ بکریوں
 کے ساتھ مقیم رہنا اور اس کا دودھ
 پینا۔
 الْقَمِيَّةُ۔ بھاڑی۔ وَالْقَمَانُ قَمِيَّةٌ
 اسْتَمِيَّةٌ۔
 الْقَمِيَّةُ۔ وہ غلام جس کے ماں یا پاپھی غلام ہوں
 مفرد و جمع و مذکر و مؤنث سب کے
 لئے مستعمل ہے اور بھی اس کی جمع
 الْقَمَانُ وَ الْقَمِيَّةُ۔ آتی ہے۔
 الْقَمَانَةُ وَ الْقَمِيَّةُ۔ غلامی
 الْقَمِيَّةُ۔ بھاڑی۔ بھاڑ کی چوٹی کَمِيَّةٌ
 کئی شئی ہے۔ ہر چیز کا بلند ترین حصہ
 جہ۔ قَمِيَّةٌ وَقَمِيَّةٌ مَقْمِيَّةٌ وَ
 قَمَانَةٌ۔
 الْقَمِيَّةُ۔ سکا کی ایک رسی یا ایک دھارا
 جہ۔ قَمِيَّةٌ۔
 الْقَمِيَّةُ۔ طرز۔ طریقہ۔
 الْقَمِيَّةُ۔ مغروب ہونے کے لئے
 کا رخ کا برتن۔ بول جہ۔ قَمِيَّةٌ
 وَقَمِيَّةٌ۔
 الْقَمَانُ۔ اصل۔ قابل۔ ہر چیز کا
 ایک تابعدار والا یا چھری۔ قَمِيَّةٌ
 رُكْبَانِيَّةٌ۔
 قَمِيَّةٌ۔ مریانا۔ الْقَمِيَّةُ۔ مریانا
 سرائٹھانا۔ بِالرَّكْبَانِ۔ ایک جگہ
 اقامت کے لئے سفر کرنا۔ تیز رفتاری
 الْقَمِيَّةُ۔ کینہ اصل آدمی۔ یہ صورت
 قَامَاةٌ مَقَامَاةٌ رِيَاءٌ ہے (مواقف
 کرنا مَقَامًا مَبْنِيًّا هَذَا الْقَمِيَّةُ
 یہ چیز مجھے موافق نہیں ہے)۔
 قَمِيَّةٌ كَمِيَّةٌ، ان کے پاس چال کر تلاش کرنا
 راجھی سے مارنا۔ قَمِيَّةٌ فِي الْحَبْلِ۔

قَنَا قَنَارًا وَأَقْنَا الرِّجْلَ
 قن کرنا کسی کے قتل پر برکتیجھ کرنا
 أَقْنَا الْأَدْيَمَ - چمڑے کو فاسد کرنا
 الشَّيْءُ قَلَاغًا - قدرت دنیا پر بڑا
 قَنِي قَنُوءًا (اس) مرنا - الْأَدْيَمَ
 فاسد ہونا - أَخْمَرُ قَانِي عُنَايَتِ
 تیز سرخ
 الْمَعْتَاكَ وَالْمَقْنُوءَةَ - وہ مقام جہاں
 دھوپ نہ پڑتی ہو۔
 الْقَنْبِيلُ - بھٹی کی گردن، ٹھکنی عورت
 قَنْبٌ قَنْبُيَارٌ (جن) فی الشَّيْءِ
 داخل ہونا - الشَّمْسُ غُرُوبُ
 ہونا - الْكُرْمُ - انگور کی بیل کے
 اس حصہ کو کاٹ دینا جس کا اٹھانا
 تکلیف دے۔
 قَنْبُ الذَّرِيعِ - کھیتی کے خوشوں کے
 پتے ظاہر ہونا - الرَّبْرُ - چھوٹا
 کلیوں سے نکلا - الْكُرْمُ - انگور
 کی بیل کے زائید حصہ کو قلم کرنا - الْفَسْكَ
 بِمِخْلَبٍ - خیر کا اپنے پیچھے کو اپنے
 کت میں داخل کر لینا - قَنْبِيَتْ وَ
 أَقْتَنْبِيَتْ وَأَقْتَنْبِيَتْ الْخَيْلُ -
 لُوث کے لئے گھوڑوں کی جماعت ہونا
 قَنْبُوءٌ أَوْ قَنْبُوءٌ أَوْ الْعَدَاوِ
 (وہ جماعت جو کہ لُوث والہ کے لئے
 دشمن کی طرف گئے) قَنْبُ الرِّجْلِ
 قَانِيَتْ - داخل ہونا
 أَقْنَبٌ - چلنے میں دور نکل جانا توڑنا
 سے یا اپنے سے بڑے شخص سے
 ہونا۔
 قَنْبُ الرَّهْرِ - چھوٹا غلات - جہاں
 قَنْبُوبٌ -
 الْقَانِيَةُ - فاعل - چینیے والا چھوٹا
 تیز رفتار نامہ زماں - ایک مقام ہے
 دوسرے مقام تک چھوٹا پنچا ہوا

وَأِدْقَانِيَّةٌ - وہاں جس کا سیلاب
 دوسرے آتا ہو۔
 الْقَنْبُ - بڑا اوبان - شیر کا پیچہ۔
 مِثْ كَفِّ الْأَمْسِ - شیر کے پیچہ کا
 وہ نرم حصہ جس پر وہ اپنے ناخن چھالتا
 ہے۔
 الْقَنْبِيُّ وَالْقَنْبِيُّ وَالْقَنْبِيُّ
 تیرا کہ وہ ڈوہی جس میں واڈ کا خوش
 ہوتا ہے الْقَنْبِيُّ - شیر کا پیچہ کمان
 کی مانند۔
 الْقَنْبِيُّ وَالْقَنْبِيُّ - ٹھگ - ایک سن
 کی قسم کا درخت جس کی چال سے ریاں
 اور ڈوہی بنائی جاتی ہے۔
 الْقَنْبِيُّ - لوگوں کی جماعت بہت گہری
 گھٹا۔
 الْقَنْبِيُّ - قلعہ تیز رفتار مردانہ
 کی۔
 الْقَنْبِيُّ - بمولوں کی جماعت جو لوٹ
 کے لئے جمع ہوا ہے۔ كَفَّ الْقَنْبِ وَ
 الْقَنْبِيُّ - شیر کا پیچہ الْقَنْبِيُّ
 شیر کا کت کہنا جاتا ہے مِخْلَبُ
 الْأَكْبَادِ فِي مِخْلَبِهِ (شیر کا پیچہ)
 اس لئے کہ کت میں ہے (شکل کی) کہ
 تھیلہ جس میں تمکا رکھا جاتا ہے۔
 الْقَنْبِيُّ وَالْقَنْبِيُّ الْكَنْبِيُّ
 جس کو چاندول (دیر چکاؤ) کہتے ہیں
 جو قناریہ الْقَنْبِيُّ پر رہنے کے
 لئے رکھتے ہیں۔ ناند پر کھنی
 و جلیبی، خنڈ اور توتہ۔ کھنی والی
 مری۔
 الْقَنْبِيُّ - ساق بکراہ قد ثورث
 قَنْبِيَّةٌ -
 الْقَنْبِيُّ - چھوٹا گہری جس کو ہم
 قَنْبِيَّةٌ کہتے ہیں۔
 قَنْبِيَّةٌ فِي بَيْتِنَا - گہری چھپانا

قَنْبَعَتِ الشَّجَرَةَ - درخت کے چھول
 یا چھل کا غلاف میں ہونا - الرَّجُلُ
 غصہ سے چھول جانا۔
 الْقَنْبَعُ - درخت کے چھول کا غلاف
 میں ہونا یا چھل کا - گہروں کی بال میں
 دانہ پر غلاف - کھینڈ - کوتاہ قد آدمی۔
 الْقَنْبَعَةُ - یعنی الْقَنْبَعُ چھول کی
 کپڑے کی ایک قسم کی ٹوپی - کوتاہ قد مرد
 كَنْبَعَةُ الْخَيْلِ - سواری ناک
 کی ٹھیکار۔
 الْقَنْبِيلُ وَالْقَنْبِيلَةُ - لوگوں کی جماعت
 یا گھوڑوں کا گروہ جہاں چلے۔
 الْقَنْبِيلُ - بڑے سردالا۔ وَالْقَنْبِيلُ
 مولیٰ اور مضبوط آدمی۔
 قَنْتَ قَنْوَتَارًا - اطاعت کرنا
 تمام وکال خاموشی کے ساتھ نماز میں
 کھڑا ہونا - خدا تعالیٰ کے آگے خستہ
 و خضوع کرنا - قَنْتَ اللّٰهَ اور
 قَنْتَ اللّٰهَ دونوں طرح بولا جاتا ہے
 قَنْتَ لَمَّا - عاجزی و نزاری کرنا۔
 قَنْتَ قَنَا قَنَا رَكَّ - کم خوراک ہونا۔
 أَقَنْتَ - نماز میں طویل قیام کرنا۔ خدا
 کے لئے عاجزی و نزاری دکھانا۔
 دُشْمَنُ كَيْسٍ بَدْعًا كَرْنَا - ہمیشہ ج ادا
 کرتا۔ ویر تک جھاڑ کرنا۔
 أَقْتَنْتَ - مطیع ہونا۔
 الْقَانِيَةُ - فاعل - بندگی پر قائم و دائم
 رہنے والا نمازی جہاں قَنْتَ
 الْقَانِيَةُ - رند کو مونس و دلوں کے
 لئے کم خوراک سبھاؤ قَنْتَ - کہ
 خشک جس سے پانی نہ ٹپکے نہ رہے۔
 أَفْرَأَقٌ قَنْوَتٌ - شوہر کی مطیع عورت
 قَنْبَلُ الرَّجُلِ - چلنے میں مٹی اڑانا۔
 الْقَنْجَلُ - ندام۔
 قَنْحَ قَنْحَارًا - الْعَوْدُ - بکری کا برا

مورڈ کر بید کی طرح کرنا الشارب،
 سیراب ہونے کے بعد سر اٹھانا میرانی
 کے بعد مزید پینے کو مکروہ سمجھنا۔
 وَاَقْتَحَ الْبَابَ - دروازہ کو کھلانا
 سے اٹھانا۔
 قَحَّحَ الْبَابَ - دروازہ پر قنار لگانا
 تَقَحَّحَ - میرانی کے بعد مزید پینے کو مکروہ
 سمجھنا۔
 الْقَتَّاحُ - دروازہ کے پیچھے کی آڑ تاکہ
 دروازہ تکھل سکے۔
 الْقَتَّاحَةُ - لمبی اور لمبی دم کی کبھی۔ وہ کھڑکی
 جس کو کسی دوسری موٹی لکڑی کے نیچے
 اڑا کر اس کو حرکت دی جائے۔
 سانگ لگانے کی لکڑی۔
 الْقَتَّاحُ ج، قَتَّاحٌ وَالْقَتَّاحُ -
 عظیم الجثہ چیرا آف قَتَّاحُ جِرْ -
 موٹی ناک۔ الْقَتَّاحُ جِرْ - چوڑے
 نتھنے اور منہ والا۔ شدید و کرخت
 آواز والا۔
 الْقَنْخُولَةُ وَالْقَنْخِيرَةُ و
 الْقَنْخُورَةُ وَالْقَنْخُورُ -
 بڑی چٹان۔
 الْقَنْدُ - ج قَنْوَدٌ وَالْقَنْدُ بَدِيدٌ
 ج، قَنْدٌ بَدِيدٌ بَدِيدٌ كَانَتْ الْقَنْدُ بَدِيدٌ
 کا نور۔ زعفران سے بنی ہوئی خوشبودار
 خوشبودار شراب جَاءَ بِأَيِّ لَذَائِقٍ
 عَلَى قَنْدٍ وَبَدِيدٍ (وہ ساگر اپنے
 طرز پر لایا) سَوَيْفٌ مَّقْنَدٌ و
 مَقْنُودٌ قَنْدٌ هُوَ اسْتَوَى
 كَلَامٌ مَّقْنَدٌ رَشِيحٌ كَلَامٌ رَجِيحٌ
 مَقْنُودٌ كَلَامٌ سَمِيحٌ كَلَامٌ مَقْنُودٌ
 والا۔
 الْقَنْدَارُ - (ایک پانی کا جانور ہے جس کا
 رنگ سرخ اور دم چوڑی ہوتی ہے
 اور اس سے پرستین بنائی جاتی ہے

قَنْدَسٌ گناہ کے بعد توبہ کرنا۔
 فِي الْأَرْضِ - اپنے رُوح پر جاننا۔
 الْقَنْدَسُ قَنْدَارٌ -
 الْقَنْدَقُ قَنْدَقٌ - احمق۔ نادان۔
 قَنْدَلٌ - بڑے سرو والا۔ صفت قَنْدَلٌ
 وَقَنْدَلٌ وَقَنْدٌ وَجَيْلٌ رَأْسٌ
 قَنْدَلٌ - موٹا اور سخت سر
 الْقَنْدِيلُ - چراغ ج۔ قَنْدِيلٌ -
 (کھڑکیل ہے)۔
 الْقَنْدُولُ - ایک خاردار درخت۔
 واحد قَنْدُولَةٌ -
 الْقَنْدُ - چھٹی گھڑیا سے پینا۔
 الْقَانِزُ وَالْقَنْزَارُ - شکاری صیاد
 الْقَنْزُ - شکار۔
 الْقَنْزَعَةُ وَالْقَنْزَعَةُ وَالْقَنْزَعَةُ
 وَالْقَنْزَعَةُ وَالْقَنْزَعَةُ - بالوں کا
 ایک جھومر جو سر پر چھوڑ دیا گیا ہو سر
 کے آس پاس کے بال۔ باقی ماندہ پر
 مرغ کی کلنی یا چوٹی۔
 الْقَنْزَعَةُ - بہت ٹھنڈی عورت ج۔
 قَنْزَعَاتٌ وَقَنْزَاعٌ -
 الْقَنْزَارُ - عاویض ہوا کلام عجز و ک
 الْقَنْسُ الْوَجِيلُ - کبھی کبھی کفار علی
 نسل کی مدت منسوب ہوتا۔
 الْقَيْسُ وَالْقَيْسِيُّ - اصل نسل بنو قیس
 الْقَيْسِيُّ ج، قَيْسِيُّ وَالْقَيْسِيُّ ج
 قَوَائِمٌ هُوَ الْقَيْسِيُّ مَرَكَبٌ جَوِيٌّ
 بڑے کی خود کی چوٹی۔ راجہ کا درمیان
 فریل کے دونوں کالوں کے درمیان انہی
 ہوتی ہڈی۔
 الْقَيْسِيُّ - بیل ج۔ بَرَقِيَّاسِيٌّ -
 قَنْسَرٌ شَدُّ الشَّدِّ أَمْدٌ أَوَّالِيٌّ
 سختیوں یا سالوں کی وجہ سے بلوغت ہونا
 قَنْسَرٌ - بڑھا ہونا۔ سکڑنا۔
 الْقَنْسَرُ وَالْقَنْسَرِيُّ وَالْقَنْسَرُ -

بہت بڑھا۔
 الْقَنْسَرُ شَدِيدٌ - شدید۔
 قَنْسَرٌ تَقْيِيثًا - کم کرنا۔ قَنْسَرٌ فِي الْأَرْضِ
 کسی چیز میں کم دیا جانا یا تنگی پانا۔
 قَنْصٌ قَنْصًا (رض) الطير - پرندہ کو
 شکار کرنا۔
 تَقَنَّصٌ وَاقْتَنَّصٌ الطير أَو الطير
 پرندہ یا پرن کو شکار کرنا۔
 الْقَنْصُ - اصل۔
 الْقَنْصُ - شکار۔
 الْقَنْصُ - صیاد، شکاری
 الْقَنْصُ - بہت سے صیاد۔
 الْقَنْصُ - شکاری شکار۔ مؤنث
 قَنْصَةٌ
 الْقَانِصَةُ لِلطير - پرندوں کا پوڑ۔
 ج قَوَائِمٌ - شکاری پارٹی۔
 الْقَنْصَلُ - مٹھنا۔ سفیر ایک حکومت
 کا نامندہ جو دوسری حکومت میں رہے۔
 ج قَنْصَلٌ (کھڑکیل ہے)۔
 الْقَنْصَلِيَّةُ - کرنسولٹ۔ قَنْصَلُ
 کے رہنے کی جگہ
 قَنْطَ قَنْطَارُ (س) وَقَنْطَ قَنْطَا
 (ن من) وَقَنْطَ قَنْطَا (ك)
 نا امید و مایوس ہونا صفت۔ قَنْطَ
 وَقَانِطٌ وَقَنْطَاطٌ -
 قَنْطَرٌ قَنْطَارٌ (ن من) بولنے سے کرنا
 قَنْطَرٌ وَقَنْطَرٌ - کسی کو مایوس کرنا
 قَنْطَرٌ
 قَنْطَرٌ الْقَنْطَرُ - بہت سے مال کا مالک
 ہونا جس کو قنطار سے وزن کیا جا سکے
 صحرانوردی چھوڑ کر شہر میں سکونت کرنا
 عَلَيْنَا - طویل قیام کرنا اور نہ ملنا۔
 الشئ بانڈ صفا۔ مضبوط کرنا۔
 الْقَنْطَرُ - ایک پرندہ۔ وَالْقَنْطَرِيُّ
 حادثہ۔ آفت۔

القنطرة - بي - مصدر - بفتح حاء
 ج: قنطرة -
 القنطار - ايک دن جن کی مقدار مختلف
 اوقات میں مختلف ہوتی رہی ہے۔
 ايک سو درل بہت سال ج: قنطرة
 القنطار يوتون - ايک تلخ برقی جو مقوی
 مودہ ہے (کمر و خیل ہے) قنطرة
 مقنطرة - کامل یا بہت سال۔
 (بیا لنگے لئے ہے)۔

قنح قنحاً وقنحاً وقنحاً
 (اس) جو کچھ حصہ میں آئے اس پر پیر کرنا
 قنح قنوحاً (ف) عاجزی دکھانا اور
 لنگنا - الجبل - پہاڑ پر چڑھنا
 قنعت وقنعت قنحاً (ف) ت
 الابل اوٹوں کا اپنے ٹھکانے کی طرف
 مڑنا اور اپنے مالوں کی طرف آنا۔
 قنعت قنحاً (ف) واقعتاً و
 استقنعت المشاة - تمہیں کا ہزار
 ہونا، حالانکہ اس کے تمہیں اتار رہے

قنحاً (ف) رہتی کرتا۔ قنح المزاة
 بھرت کر اور معنی اوسانا۔
 قنحاً بالشيف او العصا -
 تلوار یا لاشی سے سر پر مارنا۔ قنحاً
 خذية ف حاداً کسی کو سوال و جواب
 میں مبتلا کرنا۔ قنح الذب
 مزاج کا سر کے پتوں کو کھرا کر ناقصاً
 الشيف حماراً بڑھاپے کا ناپ

قنحاً (ف) آواز اور صوت اپنے سر یا آواز
 کو بلند کرنا بیدار یا فی الصلوة
 ہاتھوں کو لیا کر کے خدا سے رحم کی طلب
 کرنا الاشارة۔ برتن کو چھکانا تاکہ
 اس میں سے کوئی چیز نکلے۔ برتن کو
 پانی کے بہاؤ کی طرف کرتا تاکہ وہ پھر

جائے۔ اقنح الاشارة في التبريد
 برتن کو پھرنے کے بہاؤ کی طرف کرنا تاکہ
 پھر جائے۔ اقنح الاشارة في البرد
 کی طرف پھیرنا۔ مالکوں کی طرف متوجہ
 کرنا۔
 قنح - بھگت قناعت کرنا کچھ اور
 - في التلاكم بہتیار لگانا۔
 قنعت المرأة بالقنح۔
 اور معنی اور صفا۔

اقنح بالشيء - کسی چیز پر راضی ہونا
 اور قناعت کرنا الاشارة اپنے
 ٹھکانے پر واپس آنا۔ الرجل
 الاشارة او الغنم ليا و اھا۔
 اونٹ یا بکری کو ٹھکانے پر واپس لانا۔
 القنح - ج: اقنح والقنح ج: ج
 قنح بہتیار القنح والقنح
 کھری کی لنگڑوں سے نئے ہلے پشت
 یا رے میں کھانا دکھا جاتا ہے۔
 القنح - ہلکے نزدیک باقیماندہ
 پانی۔ ریت کا پیرا پیرا ج: قنحاً و

القنحاً - دو ٹیلوں کے درمیان سے تلخ
 مستوی ج: قنح وجہ قنحاً
 القنح - سوال۔ دیوار کا طاق۔
 القنح منبت الذب او القنح
 پھار یا کھان کی لنگڑی، انسان کے
 سر کا اجرا اور حصیہ، ایک رنگ۔
 القنح - اور معنی دو پیرا۔ کھانا رکھنے
 کا برتن لنگڑی یا پشت ج: ج
 اقنح واقنحاً کقنح القنح
 عن الشيء کسی چیز کو کھرا کر ناقصاً

پان کرنا۔
 القنح - قنح۔
 القنح ج: قنح واقنح۔ ج: ج
 قنحاً - قنح۔

القنح - فاعل۔ جو کچھ حصہ میں آئے اس
 پر راضی ہونے والا عاجزی دکھا کر
 سوال کرنے والا ایک مقام سے
 دوسرے مقام کی طرف نکلنے والا قوم
 کا خادم و نوکر ج: قنحاً وقنحاً و
 قنحاً - رجل قنحاً - تھوری
 سی چیز پر راضی ہونے والا۔ شاہد
 قنحاً - وہ گواہ جس پر یا جس کی گواہی
 پر اکتفا کر لیا جائے اس میں مذکور
 مؤنث واحد و جمع سب یکساں ہیں۔
 رجل قنحاً - جس کی رائے پسند کی جائے
 القنح - طمع و رغبت۔ سوال و عاجزی
 قناعت شاہد مقنح۔ وہ گواہ
 جس کی شہادت پر اکتفا کر لیا جائے
 ج: مقنحاً فقلان کنا مقنحاً۔
 رطلان ہمارے لئے کافی رہتا مذہبی
 کا باعث ہے، المقنح والمقنحاً
 اور معنی، چھوٹا دوپٹہ۔

المقنح - مفعول وہ شخص جس کا سر خلع
 اوپر کھڑا رہے قنحاً مقنحاً جس
 کے دانت اندر کی طرف مڑے ہوں۔
 المقنح - فاعل۔ سر کو اٹھا کر دیکھنے

والا۔
 المقنح - سر پر لوہے کا خود اور معنی والا
 کپڑوں میں ڈھانپا ہوا، سر کو ڈھانپنے
 والا۔

القنحات - جس کے جسم اور چہرہ پر بہت
 بال ہوں۔
 قنحاً (ف) القنح: کسی جگہ کی
 مٹی بھٹ جانا۔ القنح: گھوڑے
 کی گدی کا سفید ہونا۔

قنحاً بالشيف - ٹوکڑے کرنا
 اقنح - کان کا لنگنا۔ اور وسیلہ ہونا
 بہت لشکر والا ہونا۔ واقنحاً
 اپنی معاش کے لئے اس کی تدبیر اور

رہنے کا قرار دیکر پلانا۔ استفتت
 المجلس۔ مجلس کا گول ہونا۔
 القنف۔ مصدر۔ کان کا چھوٹا اور
 سر سے چپکا ہوا ہونا۔
 القنف۔ سیلاب سے آبدہ بھی ہوئی مٹی
 جو سطح زمین پر پھیل کر چھت کی ہو۔
 القنف۔ متفرق باؤں والا کم بالوں
 والا۔
 القنات والقنات۔ بڑی ٹناک والا
 القنیف۔ لوگوں کی جماعتیں بہت پالی
 والا بادل۔ کم کھانے والا شخص۔
 القنف۔
 الاقنفت۔ چھوٹے کانوں والا میت
 الخیل۔ سفید گدی والا گھوڑا۔
 مؤنث۔ قنفاؤ من انسان کا وہ کان
 جس کا خم اور محیط نہ ہو۔
 القنف۔ ج۔ قنفاؤ والقنف
 والقنف۔ قنفاؤ۔ یہ۔
 ایک خاردار جانور تہی کے برابر جس
 کے جسم پر تلک کی طرح کانٹے مرتے
 ہیں اور خطرہ کے وقت ان کو پھیلا کر
 ان میں چھپ جاتا ہے۔ مؤنث۔
 قنف۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔
 القنف۔ ج۔ ریت کے دریاں
 کا درخت۔ رگ کا ٹیلہ قنفذ
 لیں خیلور۔ قنفاؤ۔ پہاڑ پر
 لیے نہیں۔
 قنفتا قنفتا۔ جلدی سے
 جمع کرتا۔
 قنفتا۔ سکرونا۔
 القنات۔ ج۔ چیل ہوئی ٹناک والا۔
 بد متع رازمی والا۔
 القنفتی۔ قائل۔ فی البتاسی
 بد۔ منع لباس والا۔ ہو۔ قنفتی
 لہیتا۔ وہ اپنی وارسی کر رہی طرح

جمع کرنے والا ہے۔
 قنفت القنفذ۔ مسکرتا
 القنفذ۔ نحس۔ ممکن۔ والقنفذ
 جوی۔
 القنفذ۔ مقعد۔ مادہ سیدہ۔
 القنفذ۔ ایک نوع کا چرما۔
 سمندری سلیپی اس کا واحد قنفتی
 ہے۔
 القنفذ۔ رہنا۔ گاند۔ والقنات
 ج۔ قنات۔ وہ انجینر جو زمین کے
 نیچے پانی کی شناخت رکھتا ہو۔
 (دخیل)۔
 قنم قنما (س) الجوز۔ اخروٹ
 کا خواب ہونا۔ صفت کا قنم القنم
 ونحوہ۔ پہلے ترکان پھر اس پر بار
 پھیر کر میلا ہونا۔ القنم او
 اللحم و الشحان و غیرہا۔
 قاسد اور بڑا اور ہونا۔ صفت قنم
 اور آقنم۔ قنم قنم
 القنم (اس کے پتے تیل سے بھر دیا
 میں) القنم تیل و غیرہ کا بڑا
 متغیر ہونا۔
 الاقنم۔ شخص۔ ج۔ جہا آقنم
 (کر و نعل ہے)۔
 قنی یعنی قنوا و قنوا و قنوا
 و قنوا۔ قنوا۔ جمع کرتا۔ اپنے
 لیے ہمارے کرتا۔
 قنوا قنوا۔ ج۔ اللہ علیٰ عرشہ
 کرتا۔ قنوا القنی۔ نہایت
 شرف ہونا۔
 قنوا یعنی قنوا و قنوا
 قنی و اقنی و اشقنی
 القنات۔ شرم کو لازم کر دینا۔ قنی
 القنات۔ نالی کہو نا آقنہ اللہ
 خدا کا کسی کو بہ نیا کرنا اور اس کو

مال عطا کرنا۔
 اقنت السماء۔ بارش کا روکنا۔
 قنی یعنی قنوا الالف بانہ کا دریا
 حصہ کا بلند ہونا اور نمنوں کا تنگ
 ہونا صفت اقنی۔
 قنی۔ خرچ کے بعد مال کا بچنا اور اس کا
 ذخیرہ کرنا۔
 القنوا والقنی والقنوا والقنوا
 کھجوروں کا خوشہ گچا ج۔ اقنوا
 وقنیان وقنیان وقنوان
 وقنیان
 القنات۔ نیزہ ج قنات جیسے جبل کی
 جہ جبال۔ قنی۔
 القنوا والقنوا۔ کب کانی۔
 قنم قنم قنم وقنم۔
 (کریاں خاص کر اس کی ملک میں)
 القنوا۔ بدلہ جوا۔
 القنات۔ ج۔ قنی و قنی و قنوا
 وقنیان۔ نیزہ کی کڑھی۔
 صلب القنات۔ سیدھے قد والا۔
 ج۔ قنی و قنات و قنوات
 لاشی جھل گائے وہ گڑھا جس میں کھجور
 کا پودہ گا یا جائے۔ پالی کی نالی۔
 القنات۔ نالی۔ اقنم قنات
 گرا۔
 القنوات۔ ج۔
 القنی و القنی۔ کبھی یا
 ج۔
 القنات والقنی۔ نیزہ والا۔
 القنات۔ پانی کی نالیاں باندھے والا۔
 الاقنی میں الاقنات ہند باندھنا
 نمنوں والی ٹناک۔ ہو۔ اقنی
 الالف۔ وہ بلند بانس اور نمنوں
 والی ٹناک کا ہے) مؤنث۔ قنوا۔
 القنات والاقنات۔ قنات الحالیط

تیز رفتاری جیتی۔

القَهْوَرَةُ: کرتاہ قد۔

القَهْوَرَةُ: مصدر۔ مِنَ النِّسَاءِ

بہت ٹھکی عورت۔

أَقْهَى: ہمیشہ قہرہ پینا۔

القَهْوَةُ: خالص ہودھ، کال شکم

میر ہونا۔ شراب۔ شراب کو اس

لئے قہرہ کہتے ہیں کہ شراب پینے

والے کی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ بُو

طَيِّبُ قَهْوَةِ النِّعَمِ: منہ کی خوشبو

والا۔ مولدین کے نزدیک قہرہ کا مشو

کبھی قہوہ کا اطلاق بن یہ بھی آتا

ہے۔ نیز قہرہ کے بول کو بھی مجازاً

قہوہ کہتے ہیں جیسے کہ ناز سے مجازاً

جنم مراد ہوتی ہے جو: قَهْوَاتُ

القَهْوَانُ: ممر رسیدہ۔ مولے سینگوں

والا کبیرا۔

قَهْوَسٌ وَقَهْوَسٌ: تیز رفتا ہونا

قَهْوَسَ الرَّجُلُ: گھبرا کر بھاگنا

تَقَهْوَسَ: گھبرا کر اور جبک کر چلنا

کبڑا ہونا۔

قَهَى قَهَى رَسًا وَأَقْهَى إِهْمَاءً

عَنِ الطَّعَامِ كَمَا نَكَى خِرَاطِشَ كَمْ هَوْنَا

قَهَى عَنِ الشَّرَابِ: مشروب

کا چھوڑنا۔

أَقْهَى عَنِ الطَّعَامِ: کھانے کی خواہش

کم ہونا یا نہ ہونا۔

أَقْهَى: تیز زول والا۔ منتشر

عَنِيشٌ قَا: خوش حال زندگی۔

قَابَ يَقُوبُ قَوْبًا الْأَرْضِ: زمین

کو گول کھودنا۔ التَّكْرِيرُ: پرندوں

کا ایلوں کو توڑنا۔ الرَّجُلُ: نزدیک

ہونا۔ بھاگنا

قَوْبَ الْأَرْضِ: زمین کو گولائی میں کھودنا

معدن زمین میں نشان بنانا۔ الشَّيْءُ

اکھا لونا۔

تَقَوَّبَ: جڑ سے اکھڑنا۔ مہاور ہے

تَقَوَّبَ مِنْ رَأْسِهِ مَوَاضِعُ

(اس کے سر میں کئی جگہیں چلی گئیں)۔

وَأَنْقَابَ الْمَكَاتِ: کسی جگہ کا کچھ

حصہ درخت اور گھاس سے صاف

کرنا۔ تَقَوَّبَتْ وَأَنْقَابَتْ

الْبَيْضَةُ: اندھے کا بھٹ جانا

أَنْقَابَ الْأَرْضِ: زمین کا پھٹنا۔

أَنْقَابَ الشَّيْءِ: کسی چیز کو

منتخب کرنا۔

القَابُ: مقدار۔ اندازہ۔ کمان کے

کو نہ سے قبضتک کا فاصلہ۔ هُوَ

عَلَى قَابِ قَوْسَيْنِ (وہ نہایت

قریب ہے)۔

القَوْبُ: چودہ ہیر: القَوَابُ۔

القَوْبُ: آفت۔ حادثہ۔

القَيْبُ: مقدار قَيْبُ قَوْسٍ

کمان کے برابر فاصلہ۔

القَابَةُ وَالْقَابِيَةُ: چوزہ، ادا

مثال ہے تَخَلَّصًا قَابِيَةً أَوْ

قَابِيَةً مِنْ قَوْبٍ (چوزہ اڑے

سے بھاگ گیا، نہیں کئی اچھے ساتھی

سے بھاگنا)۔ تری مثال بولنا ہے

القَوْبُ: ادا ہونے کے چیکے۔

القَوْبِيُّ وَالْقَوْبِيَّةُ: قَوْبُ

وَالْقَوْبِيُّ وَالْقَوْبِيَّةُ: داد

کارمن جس سے خیم پر خارش ہو کر

پھینکا تہہ رہتے ہیں عام لوگ اس

کو کھنڈا کہتے ہیں۔ القَوْبِيَّةُ

وہ شخص جو ہمیشہ گھبریں مچھا رہے۔

القَوْبِيُّ: چوزے کا سب سے بڑا۔

القَوْبِيُّ: جھلا ہوا۔ وہ شخص جس

کی کھال سے خارش نے بال اڑا

دیئے ہوں۔ مِنَ الْحَيَاتِ

کھال اٹنا یا ہراسنا۔

قَاتَ يَقُوتُ قَوْمًا وَقِيَّتًا

الرَّجُلُ: روزی دینا۔ رزق دینا

کفالت کرنا۔

أَقَاتَ إِقَاتَةً فَلَانًا وَعَلَى فُلَانٍ

روزی عطا کرنا۔ حفاظت کرنا قدرت

رکھنا۔

إِقَاتَاتُ إِقِيَاتًا وَتَقَوَّتْ بِالشَّيْءِ

کھانا۔ إِقَاتَاتُ الشَّيْءِ: کسی چیز

کو غذا بنانا۔ إِقَاتَاتُ الْكَلَامِ

گفتگو کرنا۔

إِسْتَقَاتُ إِسْتِقَاتَةً: فُلَانًا:

کسی سے روزی طلب کرنا۔

الْقَاتُ: ایک درخت ہے۔

الْقَوْتُ: محرک۔ غذاء الحَوَاتِ

الْقَائِيَةُ وَالْقَيْتَةُ الْقَيْتَةُ

وَالْقَوَاتُ: غذا۔ روزی۔

القَائِيَةُ مِنَ العَيْشِ: کفالت

ہونے کا قَائِيَةُ مِنَ العَيْشِ (وہ

گزارہ کے قابل روزی دینے ہے)۔

المُقَاتُ: فاعل۔ صاحب اقتدار۔

کسی چیز کا نگہبان و محافظ۔

قَاخٌ: يَقُوتُ قَوْحًا وَتَقَوَّتْ

لَقَوْحًا: الجرح۔ پھوڑے کا

متورم ہونا اور کھانا۔ قَاخٌ وَتَقَوَّتْ

الْبَيْتُ: گھر کے چالنا۔

أَقَاخٌ أَقَاخَةً: الرجلُ: سوال کے

بعد میں کرنے کا مرحوم کرنا۔

القَاخَةُ: صمن۔ قَاخَةُ الدَّارِ

گھر کا صمن۔ یہ قَوْحٌ

قَاخٌ يَقُوتُ قَوْحًا: جو فہم ہمارا

سے منہ کا خراب ہونا لیتا۔ قَاخٌ

تاریک رات۔

قَادِ يَقُودُ قَوْدًا وَقِيَادَةً

مَقَادَةً وَقِيَادَةً

قود تَقْوِيدًا مَقْتُولًا
 الْقَوْدُ بِرُحْمَةٍ جَوَابُ رِيٍّ رِيٍّ بِرُحْمَةٍ
 آگے جینا۔
 قَادَ يَقْوُدُ قِيَادَةً الْيَمِينِ بِشَكْرِ
 کا سردار ہونا۔ الْقَائِلُ إِلَى
 مَوْجِهَةِ الْقَتْلِ قَاتِلُ كَوْتَلِ كَيْ
 مقام پر لے جاتا۔
 قَيْدُ الْمَذْقِينِ آٹے کا گول بنایا
 جانا اور پکایا جاتا۔
 قَوْدٌ يَقْوُدُ قَوْدًا الْفَرَسُ وَ
 غَيْرُهُ الْكُوْرُ كَيْ يَهْدُوهُ رُكُودًا
 لمبی ہونا۔ صفت آقود مژنٹ
 قَوْدًا ج: قَوْدٌ
 آقَادٌ آگے بڑھنا۔ الْغَيْثُ
 بارش چلنا۔ آقَادَةٌ تَخْلُدُ كَيْ
 کو گھوڑو لوٹتا تاکہ وہ آگے سے کھینچے
 الْقَائِلُ بِالْقَتْلِ مَقْتُولِ كَيْ
 قصاص میں قاتل کو قتل کرنا۔
 قَاوِدَةٌ مَقَاوِدَةٌ بِأَمْرٍ جِنَا
 الْقَادُ الْيَقِيَادُ الْبَقْلَانِ كَيْ كَانَا بِلَدٍ
 ہونا۔ غنیمت و زاری کہ تاہم الطریق
 ابی سکتا۔ کسی چیز کی طرف راستہ
 نمایاں ہونا۔ آقَادٌ الْيَقِيَادُ
 کھینچنا۔ الْقَتْلُ الْيَقِيَادُ
 چوپایہ کو آگے سے کھینچنے کا لازم
 اور مشورہ دونوں طرف سے ہونا۔
 تَقَاوُدٌ الْفُكَاكُ جِجْرَا مَهْرًا مَهْرًا
 التَّجْلَانِ دُورًا مَهْرًا كَيْ تَمْرِي
 حصے اس طرح دوڑنا کہ ایک دوسرے
 کو کھینچتے ہوئے معلوم ہوں۔
 اسْتَقَادَ دَلِيلٌ وَمَتَوَالِحٌ هُونًا
 لہذا کسی کا مطیع ہونا۔ الْيَمِينُ
 امیر سے خواہش کرنا کہ وہ قاتل سے
 مقتول کا قصاص و لالے معاوضہ
 ہے اسْتَقَادَ الْأَمِيرَ مِينًا

الْقَائِلِ قَا قَادَةٌ مَهْرًا رَأْسُ
 نے امیر سے طلب کیا کہ وہ قاتل سے
 قصاص و لالے چاہے امیر نے
 قَصَاصٌ وَ لَالَةٌ
 الْقَادُ وَالْيَقِيَادُ مَقْدَارُ فَاصِلِ
 کہا جاتا ہے مَبْنِيًّا قَادٌ كَوْدِي
 اَوْ قِيَادٌ كَوْدِي رَأْسُ كَيْ رِيٍّ
 ایک کمان کے برابر فاصلہ ہے۔
 الْقَوْدُ مصدر۔ وہ گھوڑا جس کو
 بغیر سوار ہونے سے لے لیا جائے۔ كَوْتَلِ
 گھوڑا۔
 الْقَوْدُ مصدر باب سجع۔ قصاص
 مقتول کے پر لیں قاتل کا قتل۔
 الْقِيَادُ رِيٍّ وَغَيْرِهِ جِسْمٌ كَيْ جَوَابُ رِيٍّ
 کھینچنا۔ سَلِسٌ الْقِيَادُ
 خواہش کے مطابق تابدار آقادی
 فَلَانٌ بِالْقِيَادِ خَوْفًا مَعَهُ تَابِدَارُ
 ہر جانا اور بعض کے کہا ہے کہ مہوراً
 تَابِدَارٌ هُونًا قَوْدِي قِيَادٌ وَ
 كَيْ وَ قَوْدٌ كَوْدٌ وَ قَوْدٌ كَوْدٌ
 فرما بزرگ گھوڑا۔
 الْقَوْدُ إِذَا سَمَّ بِمَا لَيْسَ
 الْقَوْدُ مَطِيْعٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ كَوْدٌ
 کہان بھگت کی وجہ سے سخت گردن
 وَلَا تَقِيْلُ كَيْ يَمْرِي كَيْ هُونًا
 توجہ کرنے والا کہ چھوڑتا ہے۔
 وَالْمَقْوَدُ مَطِيْعٌ مَهْرًا
 الْقَائِلُ كَيْ كَيْ جِجْرَا وَ قَوْدٌ
 قَا قَادَةٌ جِجْرَا قَادَاتٌ
 میں لے لیا گیا تاکہ لالہ پھاؤ کا لالہ
 ہوا۔
 الْقَائِدَةُ مَوْجِهَةٌ قَائِدٌ مِينًا كَالْبَا
 يَلِيهِ أَعْلَاكُ مَقَادٌ كَيْ كَوْدِي
 تابدار ہو گیا۔
 الْيَقْوُدُ كَيْ رِيٍّ وَغَيْرِهِ جِسْمٌ جَوَابُ رِيٍّ

کو آگے کی طرف کھینچا جائے۔ ج: ۱
 مَقَاوِدُ
 الْمَقْوُدُ مَفْعَلٌ۔ اصل کی رعایت
 کرتے ہوئے مَقْوُودٌ بھی ہونا
 جاتا ہے۔ كَوْدِيٌّ مَقَادٌ
 سیدھا راستہ۔
 قَارَ يَقْوُرُ قَوْرًا بِرِيٍّ كَيْ يَمْرِي
 پر چلنا تاکہ آسٹ نہ ہو۔ الْصَيْدُ
 شکار کو دھوکا دینا۔ فَلَانًا
 کسی کی آنکھ چھوڑنا۔ وَ قَوْرٌ كَقَوْرًا
 وَ اقْتَارَ اقْتِيَارًا اَوْ اقْتَوَسَ
 اقْتَوَارًا۔ الشَّيْءُ كَيْ رِيٍّ
 میں سے گول کر کے کاٹنا۔ اقْتَارَ
 الرَّجُلُ مَتَمَاحٌ هُونًا۔ اقْتَارَ
 حَدَّ يَتَهَمُ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
 قَوْرٌ يَقْوُرُ قَوْرًا رِيٍّ الرَّجُلُ
 کاٹنا ہونا۔
 تَقْوَرُ السَّرْحَابُ بَاوِلٌ كَاوِلٌ
 مکر سے ہونا۔ گول گول مکر سے ہونا
 اللَّيْلُ رَاتٌ كَاوِلٌ حَصْرٌ كَيْ رِيٍّ
 الْحَيْثُ سَانِبٌ كَاوِلٌ مَارٌ كَيْ رِيٍّ
 اقْتَارَ اقْتِيَارًا واقع ہونا۔
 اقْتَارَتِ الْبَيْتُ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
 اقْتَارِيًا۔ مائل ہونا۔
 اقْوَرٌ اقْوَرًا رِيٍّ الْفَرَسُ كَيْ كَيْ
 و بلا ہونا۔ الْجِدُّ اَيْضًا۔ اَكْرَانًا
 لاغری کی وجہ سے سکڑنا۔ واصل پڑنا
 اقْوَدَتِ الْأَرْضُ زَمِيْنٌ كَيْ كَيْ
 کا ختم ہونا۔ فَلَانٌ فَرِيٌّ هُونًا۔
 الْقَارُ۔ ایک سیاہ رنگ کا مادہ جس کو کشتی وغیرہ
 پر لپتے ہیں بعض کے نزدیک تار کول کا نام
 ہے۔ ایک تلخ درخت۔ و اسْتَقَادَ
 اونٹوں کی ایک بڑی جماعت۔
 الْقَوْرُ مصدر۔ نئی روٹی۔ بروت کی روٹی۔
 الْقَارَةُ۔ چھوٹی پانٹا جو ہر پہاڑوں

کے سلسلے سے علیحدہ ہو۔ مادہ، ریکھ، ج
 قَارٌ وَقَارَةٌ وَهُوَ وَجْهَانُ
 الْقَوَارَةِ۔ کپڑے کے درمیان سے کالی ہوتی
 چندی کسی چیز کے اطراف سے کانا ہوا
 حصہ۔ وہ چیز جس میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ
 لیا گیا ہو۔

الْقَوَارِءُ۔ فراخ، کشادہ ج۔ قَوَارِءُ
 الْأَقْوَارِيَّاتِ وَالْأَقْوَارُونَ۔ بڑی
 صیبتیں بلائیں۔

الْمَقْوَرُ۔ مفعول۔ تارکول ملا ہوا۔ لاغر
 گھوڑا۔

قَوَزٌ تَقْوِيزًا۔ النبت۔ کثیر ہونا۔
 بہت گھاس اگنا۔

تَقْوَزُ الْبَيْتِ۔ مکان کا منہدم ہونا۔
 التَّوَعْلُ۔ پہاڑی کبے کا دوڑنا

اِقْتَارَ الشَّرِيْعَةَ كَمَا جَانَا۔
 قَاسَ يَقْوِسُ قَوْسًا الْقَوْمَ قَوْمًا
 سے سبقت لے جانا۔ الشَّيْءُ كَمَا فِيهِ

وَبِأَيِّ شَيْءٍ كَرِهَ كَرِهَ مِثَالًا بِرَأْدِ زَهْرَانَا۔
 قَوْسٌ قَوْسًا (س) وَقَوْسٌ وَ
 اسْتَقْوَسَ۔ الرُّجُلُ كَرَاكُجُكُ
 جانا۔ قَوَسَتِ السَّحَابَةُ

بادل کا موٹا دھار بارش برسانا۔
 قَاوَسْنِي قَوْسَتَهُ أَقْوَسَهُ

اس نے کمان کی عمدگی میں میرا مقابلہ کیا
 اور میں اس سے عمدہ کمان والا ثابت
 ہوا۔

تَقْوَسَ۔ مڑنا اور کمان کی طرح ہونا۔
 قَوْسًا۔ کمان کا اٹھانا۔

قَوْسًا الشَّيْبُ۔ بڑھاپے کا
 بالوں کو آدمی کے کالے ادا دھے سیاہ کرنا

قَوْسًا الشَّيْبُ۔ کسی چیز کا اندازہ کرنا
 بَقْلَانٍ۔ کسی کی اقتداء کرنا۔

قَوْسًا۔ مصدر۔ کمان۔ موزن ہے اور
 مذکر بھی مستعمل ہے تصغیر قَوْسِيَّةٌ

وَقَوْسِيٌّ ج۔ قَيْسِيٌّ وَحَيْسِيٌّ وَأَقْوَاوِسُ
 وَرِقْيَاوِسُ وَأَقْوَسِيٌّ وَأَقْوَاوِسِيٌّ نَبْتٌ
 الی القوس کے لیے قسوی کہا جاتا
 ہے تفسیر کے لئے قوس کی اصناف کر

دیتے ہیں جیسے قَوْسِيٌّ مَدَائِقُ
 رُوْحِيَّةٌ كِي كَمَا نِ۔ قَوْسِيٌّ نَبْلٌ
 تیر کی کمان (دھیرہ)۔ الْقَوْسِيٌّ۔

ہر وہ چیز جو کمان کی شکل پر ہو۔ جیسے
 پل کے دروازہ جہات۔ محراب دھیرہ

قَوْسِيٌّ كَزَجْرٍ وَهَكَذَا كَوْسِيٌّ
 الرَّجُلُ جَلِيٌّ هُوَ يُوْجِيءُ۔

الْقَوْسِيُّ۔ راہب کا معبد۔ شکاری کا گھر
 الْأَقْوَسِيُّ۔ جھکی ہوئی کمر والا۔ ریت کا

اوپر تونہ جو گھیرے کی طرح ہو۔
 لَيْسَ الْقَوْسِيُّ۔ سخت اندھیری رات

بَلَدًا الْقَوْسِيُّ رُوْدُورٍ وَرَأْسُ ثَمَرٍ
 وَالْقَوْسِيُّ وَالْقَوْسِيُّ مِنَ الْيَوْمِ

لے اور کھنڈن آگام۔
 الْقَوْسِيُّ۔ کماندار۔ کمان بنانے والا۔

کمان چلانے والا۔ الْقَوْسِيُّ۔
 راہب و پادری و سفیر کا خادم۔ اس

کی خاص دروی ہوا کرتی ہے۔
 الْقَيْسِيُّ۔ کمان ساز۔ وَالْمَقْوَسِيُّ

گھوڑوں کو چھوڑنے والا۔
 الْقَوْسِيُّ وَالْقَوْسِيُّ۔ جھکی سی

کمان۔ الْقَوْسِيُّ۔ ایک
 گھاس کا نام۔

الْمَقْوَسِيُّ۔ کمان رکھنے کا طریقہ۔ میدان
 رسی میں پر گھوڑ دوڑ کے وقت

صفت بنائی جاتی ہے۔ وہ جگہ جہاں
 گھوڑے جاری ہونا شروع ہوتے ہیں

جہ مقادیر۔
 تَقْوَسَ۔ بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

الْقَوْسِيَّةُ وَالْقَوْسِيَّةُ۔ بانس کا
 ظرف جس میں کھجور وغیرہ رکھی جاتی ہیں۔

قَاوِسٌ يَقْوِسُ قَوْسًا وَقَوْسًا الْبِنَاءُ
 منہدم کرنا۔ قَوْسًا الْقَوْسُ وَ
 الْمَجَالِيْسُ مَنْتَشِرَةٌ مَتَفَرِّقَةٌ كَمَا
 جاتا ہے نبی قَلَانٌ تَقْوَسَ قَوْسًا۔

رغلاں نے پیسے اچھا کیا پھر بریا کیا۔
 تَقْوَسَ۔ آمدورفت رکنا اور کسی جگہ

قرار نہ پکڑنا۔ الْخَلْقُ وَالصَّفْوَةُ
 خلقوں یا صفوں کو منتشر و پراگندہ ہونا

تَقْوَسَ وَانْقَاطَ الْبِنَاءُ۔
 عمارت کا منہدم ہونا۔

الْقَوَاطُ۔ بکریوں کا گھ۔ جہ اقواط
 الْقَوَاطِمُ۔ بڑا ٹوکرا۔ ڈالا۔

الْقَوَاطُ۔ بکریوں کے گلہ کا چرواہا
 قَاعٌ يَقْوَعُ قَوْعًا يَحْبِلُ بِأَوَّلِ رُؤْسِهِ

وَتَقْوَعٌ۔ ٹیرے ہو کر اور ادھر ادھر
 پھرتے پھرتے جیسے کہ کانٹے دار جگر میں

آوی چلتا ہے۔
 الْقَاعُ۔ نرم اور پست زمین جس سے پہاڑ

اور ٹیلے و دروں میں جہ اقواع
 وَأَقْوَعٌ وَوَجْعٌ وَقَبْعَانٌ قَبْعَةٌ

الْقَوْعُ مصدر۔ گھبرانا اور کھجور وغیرہ
 خشک کرنے کا کھیلان جہ اقواع

الْقَاعَةُ۔ مکان کا صحن۔ جہ
 الْقَوَاعُ۔ جینے والا بھیرا

الْقَوَاعُ۔ خرگوش۔ مرنٹ
 قَاوِسٌ يَقْوِسُ قَوْسًا وَأَقْوَاتٌ

اگر قَلَانٌ کسی کے نقش قدم پر چلنا۔
 پیروی کرنا۔

تَقْوَسَ الْقَوْسِيَّةُ۔ کسی کی اتباع کرنا
 تَقْوَسَ فِي الْمَجَالِسِ۔ محفل میں کسی

کے کلام کو پکڑنا اور اس کو کہنا کہ اس
 اس طرح کہہ۔ هُوَ يَتَقَوَّسُ عَلَيَّ

ملائی (وہ مال کو مجھ سے روکتا ہے)۔
 الْقَائِفُ۔ فاعل ہے کہ اعضاء کو دیکھ

کہ اوپر راست سے نسب کو پہچاننے

والاج قافۃ۔ والقوافی و
 القوافی۔ اشارہ کر چنانچہ والا اور
 جس کو کہنے والا۔
 الا قوف۔ اسم تفضیل هو القوف الناس
 بلا قدر وہ لوگوں میں سب سے زیادہ
 جس کو کہنا ہے۔
 القوف۔ کان کا اور کاحہ
 القوفی۔ مرغوشہ دار دھونی
 القاف والقوف والقوفۃ
 من التاقیۃ۔ وہ بال جو گدی کے
 اوپر کے گڑھے میں سے نکلنے ہیں۔
 اخذتہ بعوف رقبۃہ (میں نے
 اس کو پوری گردن کے ساتھ کپڑا)
 قانت قوف قوقا۔ الذجاجة
 مرغی کا کڑکڑانا
 القاق۔ جلد پیش میں آنے والا۔ امتی
 والقوف والیقین من الرجال
 ہا تڑکھا آدمی۔ القاق والقوف
 ایک پالی کا پرندہ۔
 القادوق۔ ایک ایسی لڑی جو اکثر مالک
 پیر میں استعمال ہوتی ہے ج
 قوادیق۔ (کھڑیل ہے)۔
 القوقۃ۔ ایک پرندہ جو غیر آباد جگہوں
 کو پسند کرتا ہے۔
 قوقات قوقا۔ الذجاجة
 مرغی کا کڑکڑانا۔
 قوقان قوقۃ۔ الرجل فی الجبل
 پہاڑ پر چلنا
 قوقی القوقاۃ وقیقا۔ چینا
 کھانا۔
 قال یقول قولاً وقالاً وقیلاً
 وقولۃ ومقالاً ومقالۃ
 بونا۔ کہنا۔ بکنا۔ حکم گانا عقاد
 رکنا۔ بیدار۔ اتمہ بھگانا اور
 کپڑنا۔ بیدار۔ سر سے اشارہ

کرنا۔ پوجیہ پنا۔ عنہ۔
 روایت کرنا علیہ۔ بیان اور اہتمام
 لگانا الخایط۔ دیر اور کا کرنا۔
 کہ مخاطب ہونا۔ فیہ و عنہ۔
 اجہاد کرنا۔ بیویہ۔ کپڑا اپنا
 اٹھانا۔ یہ پسند کرنا اور
 اپنے واسطے خاص کرنا القوم
 بکلان۔ قتل کرنا۔ نیر سینی مرنا۔
 غالب آتا۔ مان ہونا۔ متویر ہونا۔
 استراحت کرنا بھی مستعمل ہے نیز
 کام کی تیاری اور قابلیت کے لئے
 بھی آتا ہے جیسے قال قنا کل
 (تیار ہو کر کھایا) قال فترت
 (مارنے کے لئے مستعد ہوا اور پھر مارا)
 نیز ظن کے معنی میں بھی آتا ہے اور پھر
 ظن ہی کا عمل بھی کرتا ہے بشرطیکہ لفظ
 استقبال اور صیغہ مخاطب کا ہو اور
 اس کے پہلے استفہام ہو اور فعل و
 استفہام کے درمیان میں ظرف کے علاوہ
 کوئی فاعل نہ ہو جیسے انقول
 ذیلاً منطلقاً کیا تو دیکھ چھنے والا
 گمان کرتا ہے۔ بعض سوری قال
 کو با کسی قید کے ظن کے معنی میں لاتے
 ہیں یعنی خواہ مستقبل میں ہو یا ماضی
 میں اور خواہ مخاطب میں ہو یا نہ ہو
 جیسے قلت ذیلاً منطلقاً میں
 نے دیکھ کر چھنے والا گمان کیا)
 قول و اقال اقالۃ و اقوال
 اقوالاً فلا تاملتہ یقول
 کسی پر ناگفتہ قول کا دعویٰ کرنا کسی
 کی طرف بلانے کوئی بات منسوب کرنا
 قولہ بونا سکھانا کسی کو پڑھنے
 کے لئے حکم دینا قاولہ مقاولہ
 فی الافی کسی سے کسی معاملہ میں بحث
 اور جھگڑا کرنا۔

تقول علیہ القول کسی پر صورت پھرنا
 تقاد لوائی الافر کسی معاملہ میں باہم
 گفتگو کرنا۔
 اقبال الشیء کسی چیز کو منتخب کرنا
 علیہم۔ مقصد کا مطالبہ کرنا یا التوب
 توباً۔ ایک کپڑے کو دوسرے سے
 بدلنا۔
 اقبال والقیل۔ مصدر۔ بات گفتگو
 اقبال۔ آغاز سوال۔ کہتے والا
 رجل قال۔ بہت بولنے والا آدمی
 اقیل۔ جواب۔
 القیل۔ رئیس، سردار، حمیر کے سلاطین
 میں سے ایک بادشاہ ج، اقوال
 و اقیال و قیول۔
 القول۔ کلام، بات۔ لفظ۔ ج،
 اقوال حج اقادیل۔
 القایل۔ قابل ج قول و قیل
 و قالۃ و قیول۔
 القالۃ و القولۃ و المقال
 و المقالۃ۔ قول، بات المقالۃ
 کتاب کا ایک حصہ مقالہ القالۃ
 لوگوں میں فاش شدہ بات خواہ اچھی ہو
 خواہ بُری۔ و وہیر میں سونا۔
 القولۃ و القوال و القوالۃ و
 القوول و القوول ج،
 قول و قول و القولۃ و
 القوالۃ۔ شیریں کلام والا۔
 بہت بولنے والا القوال۔ گامیالا
 گویا۔ ج قولۃ القیول
 و المقال و مقالۃ۔ خوش
 بیان۔ شیریں زبان القیول۔ زبان
 ج مقال و مقالۃ۔ امرأۃ
 مقول و مقوال۔ چوب زبان
 اور خوش کلام عدت۔
 المقول و المقوول۔ اسم مفعول

قیمتہ مقولہ۔ وہ کلمہ جو بار بار
دہرایا جائے۔

قَامَ لِقَوْمٍ قَوْمًا وَقَوْمًا وَ
قِيَامًا وَقَوْمًا۔ کھڑا ہونا۔
قیام کرنا۔ چلنے سے رکن چلنے چوتے
کو کہا جاتا ہے۔ قَمَدِي (سپے
لئے دراطھرو) الْمَاءُ پانی کا کسی
راستہ کے نہ لٹنے سے ٹھہرنا قَامَتْ
يَهْدِي آيَتًا۔ سواری کا تھک جانا
اور رُك جانا۔ قَامَ مِيذَاتُ
النَّهَارِ۔ دن کا نصف ہونا۔ الْأَمْرُ
اعتدال پر آنا۔ الْمَاءُ پانی کا جنا۔
قَامَتِ السُّوقُ۔ بازار کا گرم ہونا
قَامَ الْحَقُّ حَقًّا ثَابِتًا اور ظاہر
ہونا۔ الْمَتَاعُ يَكُونُ أَيْضًا
بدلے میں اسباب کا معاملہ طے ہونا۔

عَلَى الْأَيْمَنِ قَامَ وَبِرَّ رَارِيًّا۔
یہاں کلہم کلہا کسی چیز سے پیٹھ کو
وردناں کرنا یا لایم کسی کام کا
ذمہ دار ہونا۔ عَلَى الْأَيْمَنِ نَكْبَانِي
کرنا علی غریبہ قرض دار سے ملنا
کرنا فِي الصَّلَاةِ۔ نماز شروع کرنا
آهكًا۔ اہل دیہال کے کام انجام دینا
اور خبر گیری کرنا۔ کہا جاتا ہے قَامَ
يَفْعَلُ كَذَا (وہ ایسا کرنے لگا)
قَامَتِ الصَّلَاةُ۔ نماز شروع
کرنا۔ کہا جاتا ہے قَامَ فِي وَقْعَةٍ
میری طرف سے بڑی خبریں پھیل گئیں۔

قَوْمَ الشَّيْءِ کسی چیز کی تعیین و تعین
کرنا۔ اسی سے بنایا گیا ہے تَقْوِيمُ
الْبُلْدَانِ کیونکہ اس میں شہروں کا
طول و عرض بیان کیا جاتا ہے۔ قَوْمُ
دَدَّ طَرَفِيں کو سیدھا کرنا۔
الْمَتَاعُ۔ اسباب کی قیمت مقرر کرنا۔
قَادِمَةٌ قَوْمًا وَمَقَادِمَةٌ کسی

کے ساتھ قیام کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ قَامَ
مقام ہونا۔ قَادِمُ الْمَتَاعِ۔
قیمت سامان کے قائل مقام ہے۔

أَقَامَهُ إِقَامَةً وَقَامَةً۔ کھڑا
کرنا أَقَامَ الْمَائِلَ أَوْ الْمَعْوَجَ
ٹھیک کرنا سیدھا کرنا صیغہ تعجب
میں مَا أَقَامَهُ مَيِّمًا کہا جاتا ہے مگر
شاذ ہے کیونکہ مزید یہ ہے صیغہ تعجب
نہیں آتا ہے۔ أَقَامَ الشَّيْءَ
کسی چیز کو قائل و دائم رکھنا۔ بِالْمَكَانِ
کسی جگہ ہمیشہ رہنا۔ طِينٌ بِنَانًا۔
الْحَقُّ حَقًّا كَرَاهًا۔ الصَّلَاةُ
نماز کو پورا کرنا۔ لِيَقْلُوبَ۔ نماز
کے لئے مہیکر کرنا۔ السُّوقُ۔ بازار
لگانا۔

تَقْوَمُ الشَّيْءُ۔ سیدھا ہونا۔ قَوْمَتُهُ
تَقْوَمُ (میں نے اس کو سیدھا کیا تو
وہ سیدھا ہو گیا)۔

تَقَاوَمَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ کسی چیز
کی اپنے درمیان میں قیمت مقرر کرنا
تَقَاوَمُوا فِي الْحَرْبِ رَائِيًّا
میں ایک دوسرے کے دوش بدوش کھڑا
ہونا۔

أَقْبَمَ إِقْبَامًا مَائِلًا۔ ناک کاٹنا۔
إِسْتَقَامَ اسْتِقَامَةً۔ سیدھا ہونا۔
معتدل ہونا۔ اسْتَقَامَ كَمَا الْأَمْرُ
(اس کا کام ٹھیک ہو گیا)۔ الْمَتَاعُ
سامان کی قیمت مقرر کرنا۔ الشُّعْرُ
شعر کا موڑوں ہونا۔

الْقَوْمُ۔ لوگوں کی ایک جماعت جہ:
أَقْوَامٌ وَأَقَاوِمٌ وَأَقَائِمٌ
وَأَقَادِيمٌ قَوْمُ الرَّجُلِ۔
وہ رشتہ دار جو ایک دادا کی اولادوں
الْقَوْمُ، دشمن جہ، قِيَامٌ۔ وَالْقَوْمُ
کسی جگہ مقیم ہونا الْقَوْمُ۔ قصد ارادہ

الْقَوْمَةُ۔ مصدر۔ اہم قرۃ، انسان کا قد
رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔
الْقَوَامُ۔ سیدھا پن۔ اعتدال۔

قَوَامُ الْإِنْسَانِ انسان کا قد اور
اس کی خوبصورت لمبائی۔ الْقَوَامُ
وَالْقَوَامُ۔ وہ روزی جو انسان کی
زندگی کو کافی ہر قوت لایموت
قَوَامُ الْأَمْرِ وَقِيَامُهُ کسی معاملہ
کا دار و مدار اور اس کا ایہ انتظام
هُوَ قَوَامُ أَهْلِهِ وَقِيَامُهُ
وہ اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار و مدار
ہے، الْقَوَامُ سیدھا کھڑے قَوَامُ
سیدھا نیزہ۔

الْقَوَامُ۔ چوپایوں کے پاؤں کی ایک بیماری
الْقَامَةُ۔ مصدر۔ لوگوں کا گروہ الْقَامَةُ
مِنَ الْإِنْسَانِ آدمی کا قد۔ جہ
قَامَاتٌ وَحَيْمَةٌ۔ کنوئیں پر پانی
کھینچنے کی چرخ اور اس کا سامان۔
اسْتَقْوَا عَلَى الْقَامَةِ (انہوں
نے چرخ پر پانی نکالا)۔

الْقِيَامَةُ۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ
ہونا۔ يَوْمَ الْحَشِيرِ۔ قبر سے
اٹھنے کا دن۔

الْقِيَمَةُ۔ قام سے اسم نوع۔ قیمت
جہ حَيْمَةٌ۔ قِيَمَةُ الْإِنْسَانِ
آدمی کا قد۔

الْقِيَمِيُّ۔ قیمت کی طرف منسوب
الْقَامَةُ مصدر۔ إِقَامَةُ الْعَبْدِ
نوجوان کی ڈیوٹی جہ اِقَامَاتٌ۔

طَوَى بِطَاةٍ الْأَقَامَةَ كَرِيحًا
الْقَوِيمُ۔ مصدر تَقْوِيمُ الْبُلْدَانِ
شہروں کے طول و عرض اور ان کی ارضی
کے محصل وغیرہ کا بیان۔ دمانوں اور
ان کے متعلقات کو بھی تَقْوِيمًا کہا
جاتا ہے جنہی جہ: تَقَاوِيمٌ۔

(یہ اس سے زیادہ تلخ ہے)
 الْقِيَاطُ - ایک وزن ہے۔
 قِيَاطَانٌ - مغرب میں ایک شہر کا نام ہے
 الْقِيَاطَانُ - گھوڑوں کا گروہ۔ لشکر
 کا بڑا حصہ۔ قافلہ۔ کارواں ج:
 قِيَاطَانَاتٌ (رجل ہے)۔
 قَاسٌ يَقِيسُ (من) قَيْسًا وَقِيَاسًا
 اٹھلا کر اور او اسے چلنا۔ تیز چلنا۔
 سبھا ہونا قَاسًا کسی سے سابق ہونا
 قَيْسًا الطَّيِّبُ الْجَوَاحِدُ طَيِّبٌ
 کا زخم کی گہرائی ناپنا۔ فاعل۔ قَاسٌ
 الشَّيْءَ بِغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ وَإِلَيْهِ
 کسی چیز کے نمونہ پر اندازہ کرنا۔
 قَاسٌ قِيَاسًا وَمَقَاسَةً بَيْنَ
 الْأُمُورِ - تینوں چیزوں کے درمیان
 موازنہ کرنا الشَّيْءَ بِكَذَا أَوْ إِلَى كَذَا
 کسی چیز کی مثال سے اندازہ کرنا۔
 الرَّجُلُ - ایک دوسرے کے مقابلے میں
 اندازہ کرنا قَاسًا إِلَى كَذَا کسی
 چیز میں سبقت لے جانا۔
 تَقْيِيسٌ - قبیلہ قیس غیلان کے مشابہ
 ہوتا۔ قبیلہ قیس کی طرف منسوب ہونا
 قبیلہ قیس سے تعلق رکھنا خواہ حلیف
 ہونے کے سبب سے یا پڑوسوں کے سبب
 سے یا ولاد کے سبب سے۔
 الْقَاسُ - اندازہ میں آنا۔
 الْقَاسُ الشَّيْءَ كَمَا قِيَسَ كَمَا
 الْقَاسُ بِأَيْدِيهِ - اپنے باپ کے نقش
 قدم پر چلنا۔
 الْقَاسُ وَالْقَيْسُ - مقدار۔ اندازہ
 بَيْنَهُمَا قَاسٌ رُفِعَ أَوْ قَيْسٌ رُفِعَ
 ان دونوں کے درمیان ایک نیزہ کی
 مقدار فاصلہ ہے۔
 الْقَيْاسُ - مصدر هَذَا الْقَيْاسُ ذَاكَ
 (یہ اس کے مشابہ ہے)۔

الْقَيْاسُ قِيَاسُ الْمَنْطِقِ - جذ تفسیروں
 سے مرکب قول جس کو تسلیم کرنے کی وجہ
 سے ایک اور قول لا محالہ تسلیم کرنا پڑے
 الْقَيْاسُ سِوَى - جو چیز قیاس یا تقاضے
 قیاس کے مطابق ہو۔
 الْقَيْاسُ - بہت قیاس کرنے والا۔
 الْقَيْاسُ - مقدار، پیمانہ وہ اندازہ
 جس کے ذریعہ دوسری چیزوں کا اندازہ
 اور تخمینہ کیا جلتے جہ مَقَاسِيٌّ -
 الْقَيْسِيُّ - بَرَامِينَ الْإِذِلِ عَنِيمِ الْجِدِ
 اونٹ۔ ج۔ قَيْسِيٌّ وَقَيْسِيَّةٌ
 قَيْسَارِيَّةٌ قَيْسَرِيَّةٌ - کی تحریف
 ہے۔ کئی شہروں کا نام ہے جو شام، ان
 روم کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ ان میں
 سے زیادہ مشہور قَيْسَارِيَّةٌ -
 قَلَسْطِينِ اور قَيْسَارِيَّةٌ فِيلَسُ
 اور قَيْسَارِيَّةٌ کیا دو کیا ہیں۔
 قَاسَتْ تَقْيِيسُ (من) قَيْسًا إِلَيْهِ
 دانت کا جوڑے کرنا۔ قَاسَ الْبَطْنُ
 پیٹ کا متحرک ہونا۔
 الْقَاسُ وَتَقْيِيسُ الْحَايِطِ - دیوار کا
 جھکنا اور گرنا۔ الْقَرْمُوسُ - ڈاڑھ
 کا گرنا یا لمبائی میں چر جانا تَقْيِيسَتْ
 الْبِئْرُ كُنُوزٍ كَمَا جَانَا -
 انْقَاسَتْ الْبِئْرُ - کنویں میں آنا
 زیادہ پانی ہونا کہ دھانے کے
 قریب ہو جائے۔
 قَاسٌ يَقْيِيسُ قَيْسًا - الشَّيْءَ كَمَا قِيَسَ
 کوجینا۔ چھاڑنا۔ الشَّيْءُ جَرْنَا -
 بیٹنا۔ الْقَسْتُ - دانت کا ہلنا۔
 الْقَسِيُّ بِالشَّيْءِ - ایک چیز کو کسی چیز
 کے ساتھ تشبیہ دینا۔ الْقَسِيُّ تَمِيَّتْ
 الشَّيْءُ - ایک چیز کو دوسری کے بدلہ
 میں لینا۔
 قَيْسَتْ الْبِئْرُ - کنویں میں بہت پانی

ہونا۔
 قَيْسُ اللَّهِ لَكَ حَقًّا - قادر بنانا۔
 مقدر کرنا اللَّهُ خَلَقْنَا يَخْلُقُ
 خدایا کسی کو کسی کے پاس لانا۔
 قَاسٌ قَيْاسًا وَمَقَاسَةً فَلَانَا
 بَكْدًا کسی سے کوئی چیز تبدیل کرنا۔
 تَقْيِيسَتِ الْبَيْضَةَ - انڈے کا بیڑ
 جانا۔ تَقْيِيسُ كَذَا كَذَا کسی کے
 لئے مقدر ہونا اور سبب بننا تَقْيِيسُ
 أَبَا هُ - باپ کے مشابہ ہونا وَأَنْفَاضُ
 الْحَايِطِ - دیوار کا گرنا مہنم ہونا
 انْقَاسَتِ الرُّكْبَةَ أَوِ السِّتْرَ
 طول میں چر جانا۔ لمبائی میں چھٹ جانا
 تَقَايَسَ تَقَايُسًا الرَّجُلَانِ ایک
 دوسرے سے تبدیل و عوض کرنا۔
 انْقَاسُ الشَّيْءِ - کوئی چیز جوڑے اکھاڑنا
 الْقَيْسِيُّ - مصدر۔ انڈے کا خشک
 جھکا وَالْقَيْاسُ مَسَادِي وَمَقِيَّتْ
 هَذَا الْقَيْسُ أَوْ قَيْاسٌ بِكَذَا (یہ
 اس کے مساوی و مماثل ہے) هَمَّا
 قَيْسَانِ (وہ دونوں ایک جیسے ہیں)۔
 الْقَيْسِيَّةُ - بڑی کا چھوٹا کرنا۔ ج
 قَيْسٌ -
 الْقَيْسُ وَالْقَيْسِيَّةُ - وہ پتھر جس کو
 گرم کر کے بکری کی گدی کو داغ دیتے ہیں
 الْقَيْسِيُّ - انڈوں کے جھکوں کی جگہ پٹو
 مَقْيِيسَةٌ - چھوٹا ہوا انڈا۔
 قَاسٌ يَقْيِيسُ (من) قَيْسًا الْيَوْمَ - دن کا
 شدید گرم ہونا قَيْسٌ تَقْيِيسًا وَقَاسًا
 الْقَوْمُ بِالْمَكَانِ - قوم کا موسم گرم
 کسی جگہ مقیم رہنا قَيْسٌ الْقَوْمُ پَرِغْرِي كَيْ بَارِشِ
 پڑنا قَيْسَةً الشَّيْءُ - کسی چیز کا گرمی
 کے موسم کے لئے کافی ہونا۔
 قَاسِيَةٌ قَاسًا وَمَقَاسِيَةٌ - کسی کے ساتھ
 گرمی کا موسم گزارنا۔ گرمی کی مدت بھرنا کسی

کے ساتھ معاملہ کرنا۔

الْقَيْظُ - سخت گرمی۔ سخت گرمی کا وقت۔ جہاں
أَقْيَاطٌ وَقَيْوُظٌ -

الْقَائِظُ وَالْقَيْظُ - سخت گرمی کا وقت۔ قَائِظٌ
سخت گرم دن۔ قَيْظٌ قَائِظٌ - انتہائی
شدید گرمی۔

الْقَيْظِيُّ - گرمی کے موسم میں پیدا ہونے والا
الْمَقَائِظُ وَالْمَقَيْظُ وَالْمَقَيْظُ - وہ
جگہ جہاں موسم گرما کے وقت قیام کیا
جائے۔

الْمَقَيْظَةُ - موسم گرما تک سرسبز رہنے والی
سبزی۔

قَاعٌ يَقِيْعٌ قَيْعًا - الخبز زبر بوز کا چلانا
قَيْفٌ وَقَيْفٌ أَثْرَةٌ - نشان کی
تفتیش کرنا۔

الْقِيَاْفَةُ - نشانات سے پتہ لگانا۔ بَرَاغٌ لِقَانًا
قَائَتْ تَقِيْقٌ قَيْقًا - الدُّجَابَةُ -
مرعی کا کرکڑاانا۔

الْقَيْقُ - احمق۔ کم عقل۔ ایک پرندہ کا نام جو
کبوتر کے برابر ہوتا ہے اس کے دونوں ہاتھ
پر مختلف رنگ کی لکیریں ہوتی ہیں اور دم
کالی ہوتی ہے یہ جانور بہت بولتا ہے اور
اس کو ابو زریق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے
قَيْقِيَّةُ الْبَيْضَةِ انڈے کے بالائی
سخت ہلکے کے نیچے والا باریک پردہ۔

الْقَيْقَاءُ وَالْقَيْقَاءَةُ - موٹی سطح والی
سخت زمین جہاں قَوَاقِقٌ وَقِيَّاقٌ وَقَيْقُ

الْقَيْقَبُ - ایک درخت جس کو فارسی میں آزاد
درخت کہا جاتا ہے۔ گھوڑے کی زین کا
تسمہ۔ گام کا وہ حصہ جس کو دریاں میں نہر

میں رہنے والا لوبہ ہوتا ہے وَالْقَيْبَانُ
گھوڑے کی زین۔ بکڑی جس سے زین

بنائی جاتی ہے قَالَ يَقِيْلُ مَرَضٌ كَيْلًا
وَقَائِيْلًا وَقَيْلُو كَتَمَ مَقَالًا وَمَقِيْلًا
دوپہ میں سونا تیلو کرنا۔ قَيْلًا دودھ

دوہنا اور دوپہر کے وقت پینا۔

قَيْلًا - کسی کو دوپہر کے وقت پلانا
قَائِيْلًا - معاوضہ دینا۔ تبادلہ کرنا۔

أَقَالْنَا أَيْ بَاعْنَا الْبَيْعَ - بیع کو فسخ کرنا
اللَّهُ عَثْرَتَكَ - گر پڑنے کے بعد خدا
کا اڑھانا دینا۔ غلطی سے درگزر کرنا قَالَ

الزَّيْلُ - دوپہر کے وقت اونٹوں کو سیرا کرنا
تَقِيْلٌ - دوپہر کے وقت سونا۔ تَقِيْلٌ
آپاؤ۔ باپ کے مشابہ ہونا۔ الْمَاءُ -
پانی کا جمع ہونا۔ تَقِيْلَتِ الزَّيْلُ
اونٹوں کا دوپہر میں پانی پینا۔

تَعَايَلُ الرَّجُلَانِ الْبَيْعَ - بیع کو طے
کرنے کے بعد فسخ کرنا۔

إِقْتَالَ شَيْئًا يَعْنِي - ایک چیز کو دوسری
چیز سے تبدیل کرنا۔

إِسْتَقَالَهَا اسْتَقَالَةً الْبَيْعَ - کسی
سے بیع کو فسخ کرنے کا مطالبہ کرنا۔
إِسْتَقَالَهَا عَثْرَتًا - کسی سے کہنا کہ
اس کی خطا سے درگزر کرے۔ گرے ہوئے
کو اٹھانے کے لئے کہنا۔

الْقَيْلُ - سردار۔ حیرانانہ کے بادشاہوں
میں سے کوئی بادشاہ۔ وہ اونٹنی جس کو
دوپہر میں دوبا جائے۔

الْقَيْلُ وَالْقَيْوَلُ - وہ دودھ جو
دوپہر کو پیا جائے۔

الْقَيْدَةُ وَالْقَيْوَلَةُ - وہ اونٹنی جس
کو دوپہر میں دوبا جائے۔

الْقَائِلُ - دوپہر میں سونے والا جو
قَيْلٌ وَقَيْلٌ وَقَيْلٌ -

الْقَائِلَةُ - مؤنث ناکل۔ دوپہر کا وقت۔
الْقَائِلَةُ وَالْقَيْلُولَةُ - دوپہر میں سونا

دوپہر میں آرام کرنا خواہ نیند آئے۔
رَجُلٌ قَيْالٌ -

الْأَقَالَةُ - مصدر۔ بیع کو فسخ کرنا
الْمَقَيْلُ - مصدر۔ قیل کرنا۔

دوپہر میں سونا۔ دوپہر میں آرام کرنا۔

الْمَقِيْلُ - دوپہر میں دوہے جانے کے لئے
برابر تین ذَوْحَةٌ مَقِيَالٌ - وہ درخت

جس کے نیچے بہت زیادہ تیلو لکھا جاتا
قَانَ يَقِيْنٌ قَيْنًا - الخبز زبر بوز
دو درخت کرتا قَانَ الْإِنَاءُ - برتن

کی اصلاح و مرمت کرنا الشَّيْءُ يَجْمَعُ
كِرْنَا - ملانا۔ اللَّهُ فُلَانًا عَلَى كَذَا
کسی خاص وضع پر پیدا کرنا قَائِتُ الْمَرْأَةِ
الْمَرْأَةِ - ایک عورت کا دوسری عورت
کے لئے بناؤ سنگھار کرنا۔

قَانَ يَقِيْنٌ قَيْنًا وَقِيَانَةٌ - لوبہ ہونا
لوہے کا کام کرنا۔

قَسْنَةٌ - زیب و زینت کرنا۔
تَقِيْنٌ - مزین ہونا۔ التَّبْتُ نَبَاتٌ

کا خوبصورت ہونا۔
إِقْتَانٌ إِقْتِيَانًا - التَّبْتُ نَبَاتٌ

کا خوبصورت ہونا۔ التَّبْتُ نَبَاتٌ
کا سرسبز و شاداب ہونا۔ الرَّجُلُ

زيب و زینت والا ہونا۔
الْقَانُ - ایک درخت ہے جس سے کمانیں

بنتی ہیں۔ واحد قَائِنٌ ہے۔
الْقَائِنُ ج قِيَانٌ - علم۔ ج قِيَوَانٌ

وَأَقْيَانٌ - لوبہ۔ ہر کار کے کوئی
کہتے ہیں۔

الْقَيْسَةُ - گانے والی لوندی۔ کنز
تائیں۔ بناؤ سنگھار کرنے والی۔

یہ لوندی ہر گام کا سب سے نیچے والا
منکا۔ ج،

قِيَانٌ -
الْمَقِيْسَةُ - مؤنث مَقِيْسٌ

زیب و زینت کرنے والی عورت
بناؤ سنگھار کے فرائض انجام

دینے والی عورت۔
ما شطہ۔

ک

ک۔ ۱۔ ضمیر منصوب اور مجرور مخاطب کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے جیسے
 ضَرَبْتُكَ - كَتَبْتُكَ - وَضَرَبْتُكُمْ وَ
 كَتَبْتُكُمْ - وَضَرَبْتُكُمْ وَ كَتَبْتُكُمْ
 وَضَرَبْتُكُمْ وَ كَتَبْتُكُمْ۔
 ۲۔ حرف جار کبھی تشبیہ کے لیے ہوتا ہے
 جیسے زَيْدٌ كَأَسَدٍ - اور کبھی تعلیل
 کے لیے جیسے اُذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
 هَدَاكُمْ - اللہ کو یاد کرو کیونکہ اس
 نے تمہیں ہدایت دی - کبھی تاکید کے
 لیے آتا ہے۔ اس صورت میں یہ زائد
 ہوتا ہے۔ جیسے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔
 ۳۔ حرف غیر جار۔ اس صورت میں بھی
 خطاب کا مفہوم متصور ہوتا ہے۔ اور
 اسم اشارہ ضمیر منصوب منفصل، اور
 بعض اسماء افعال کے ساتھ آتا ہے
 جیسے ذَلِكَ - يَلِك - اِيَّاكَ وَ
 دُوَيْدَكَ۔
 گَيْبٌ يَكْتُمُ دَسًّا، كَابًا وَ كَابَةً وَ
 كَابَةً۔ غمگین ہونا۔ شکستہ دل ہونا۔
 بری حالت میں ہونا۔ صفت گَيْبٌ وَ
 كَيْبٌ۔ مجازاً کہا جاتا ہے اَرْضٌ
 كَيْبَةٌ اَلْوَجْهِ۔
 اَكْبَابُ الرَّجُلِ۔ مرد کا غمگین ہونا۔ ہلاکت
 میں واقع ہونا۔ الرَّجُلِ۔ رنج پہنچانا۔
 اِكْتَابٌ۔ رنجیدہ ہونا۔
 اَلْكَابَاءُ۔ سخت رنج۔ اِمْرَاةٌ كَابَاءٌ۔
 سخت رنجیدہ عورت۔ کہتے ہیں۔ مَا
 اَكْبَاؤُكَ۔ وہ کس قدر رنجیدہ ہے۔
 الْمَكْتِيبُ۔ رَمَادٌ مُكْتِيبٌ۔ سیاہی
 مائل راکھ۔
 كَابَجُوفٌ، كَابَجَاءُ الرَّجُلِ۔ زیادہ

بیوقوف ہونا۔

ایکتابجہ۔ نادانی۔ حماقت۔

كَأَدْرَفٌ، كَادًا۔ دل شکستہ اور رنجیدہ
 ہونا۔ غم سے بڑا حال ہونا۔

كَتَاةٌ وَ كِتَاةٌ۔ الْاَمْرُ فَلَئِنَّا كَامُ كَا
 مشکل ہو جانا۔ الْاَمْرُ۔ کسی کام میں
 تکلیف اٹھانا۔

كَأَوْدًا۔ الشَّيْخُ۔ بڑھاپے کی وجہ سے
 رعنتہ ہونا۔

الْكَادَاءُ۔ رنج، سختی، پرہیز۔ اندھیری
 رات۔

عَقَبَةٌ كَادَاءٌ وَ كَوُودٌ بِيحْيِدِهِ كَاهِي۔
 اَلْكَوُودَاءُ۔ رنج یا ٹھکن کی وجہ سے
 سانس کی تنگی۔

الْكَاسُ۔ پیالہ (مؤنث)۔ جہ۔ كُوُوسٌ
 وَ اَلْكَوُوسُ وَ كَاَسَاتٌ وَ كَيْسَاتٌ۔

كَاسُ الزَّهْرَةِ۔ بہن پتوں کا غلاف
 جو پھول کے چاروں طرف ہو۔

الْكَاسُ۔ شراب۔

كَاصَةٌ رَفٌ، كَاَصًا۔ ذیل کرنا۔ مغلوب
 کرنا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا بہت کھانا
 یا پینا۔ محاورہ ہے كَاَصْنَا عِنْدًا
 مِّنَ الطَّعَامِ مَا شِئْنَا۔ ہم نے اس
 کے پاس جو کچھ چاہا خوب کھایا۔

كَأَمَّا كَأَمَّا كَأَمَّا۔ کمزور ہونا۔ بزدل ہونا
 اور بھیجے ہٹنا۔ الْقَوْمُ عَلَيْهِ۔ قوم کا
 کسی پر جمع ہونا۔ فِي كَلَامِهِ۔ گفتگو
 میں عاجز ہو جانا اس بات نہ کر سکا۔
 اَلْكَأَاءُ۔ بزدلی۔ چور کی بھاگتے وقت
 کی دوڑ۔

الْمُتَّكَاةُ رَفًا، پستہ قد۔

كَأَلْ رَفٌ، كَالْمَاةِ وَ كَوُودَةٌ۔

قرض کے بدلے میں کوئی چیز قرض خریدنا
 یا بیچنا۔

اَلْكَوَالُ اَلْاَكُوْمِلَاةُ۔ پستہ قد ہونا۔
 كَان رَفٌ، كَانَا۔ الرَّجُلُ۔ سخت ہونا۔

كَانَ۔ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اسم کو
 نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع۔ یہ ذیل
 کے معانی میں مستعمل ہے۔

۱۔ تشبیہ جیسے كَانُ زَيْدًا اَسَدٌ۔
 گویا زید شیر ہے۔

۲۔ اس کا اصل اور عام استعمال یہی ہے،
 ۳۔ شک اور گمان جیسے كَانُ زَيْدًا
 قَاتِلًا۔ شاید زید کھڑا ہے۔

۴۔ تقریب جیسے كَأَنَّكَ بِاللَّيْتَاءِ
 مُقْبِلٌ۔ قریب ہے کہ تمہارے پاس
 موسم سہرا آئے۔

كَأَيُّ رَفٍ، يَكَايُ۔ كَايَا۔ الرَّجُلُ۔
 گفتگو سے تکلیف پہنچانا۔ اَكَايُ
 عَندهُ۔ ناپسند کرنا۔

كَأَيُّنَ يَأْكَايُ۔ یہ اسم کاف تشبیہ آئی
 سے مرکب ہے۔ کچھ خبریہ کی طرح عام
 طور پر کثرت اور بہت کے معنوں میں
 آتا ہے جیسے كَأَيُّ مِّنَ الرَّجُلِ۔ یا
 كَأَيُّ رَجُلًا كَأَيُّ۔ میں نے بہت
 سے آدمی دیکھے۔ یہ لفظ بہت کم
 استفہام کے معنی میں استعمال ہوتا
 ہے جیسے حضرت ابن ابی کعب سے
 حضرت مسعود نے پوچھا تھا۔ كَأَيُّ
 تَقْرَأُ سُورَةَ الْاَحْزَابِ۔ تم کتنی
 مرتبہ سورہ احزاب پڑھتے ہو۔ انہوں نے
 جواب دیا تہتر مرتبہ۔

كَبٌّ رَنٌ، كَبًّا۔ الْاِنَاءُ۔ برتن کو اوندھا
 کر دینا۔ الرَّجُلُ عَلٰى وَجْهِهِ۔ بچھاڑ

کتاب (ن) کبّا۔ الْاِنَاءُ۔ برتن کو اوندھا
 کر دینا۔ الرَّجُلُ عَلٰى وَجْهِهِ۔ بچھاڑ

کتاب (ن) کبّا۔ الْاِنَاءُ۔ برتن کو اوندھا
 کر دینا۔ الرَّجُلُ عَلٰى وَجْهِهِ۔ بچھاڑ

کتاب (ن) کبّا۔ الْاِنَاءُ۔ برتن کو اوندھا
 کر دینا۔ الرَّجُلُ عَلٰى وَجْهِهِ۔ بچھاڑ

Marfat.com

دینا۔ الغزل۔ کاتے ہوئے سوت کا گولہ بنانا۔ المشی۔ بھاری ہونا۔ کبت۔ کباب بنانا۔ اکبت۔ فلاکتا۔ پھار دینا۔ الوجل۔ پھرا جانا۔ علی العلو و غیرہ میں پورے انہماک کے ساتھ وغیرہ میں مشغول ہونا۔ اکبت عکبہ۔ کسی کو بچانے کے لیے اس پر چھا جانا۔ تکبت۔ کپڑے میں بیٹنا۔ التمل او الشجر۔ ریت یا درخت کا تہ بہ تہ ہونا۔ تکبت الابل۔ اونٹوں کا بیماری وغیرہ کی وجہ سے کرنا۔ تکاب۔ القوم علی الشیء۔ کسی چیز پر بھڑک کر جمع ہونا۔ رکت۔ علی الامر۔ کسی کام میں محو ہو جانا۔ الکت۔ ایک قسم کی کراوی گھاس۔ الکتہ۔ گھوڑوں کی جماعت۔ بڑے اونٹ۔ بوجھ۔ کتہ الغزل او الخیوط۔ کاتے ہوئے سوت یا دھاگے کا گولہ۔ ج۔ کبت۔ الکتہ والکتہ۔ لڑائی کا حملہ۔ کہا جاتا ہے کانت لہم کتہ فی الحرب اصفوں نے لڑائی میں بہت شور و غل کیا۔ بھیر۔ دو گھوڑوں کے درمیان ٹکراؤ۔ الکتہ۔ لوگوں کی جماعت۔ کتہ النار۔ آگ کا بڑا حصہ۔ کتہ الشتاء۔ سردی کا ایک دم شدت کے ساتھ آنا۔ الکتب۔ کباب جو آگ پر بھونا جاتا ہے۔ الکتب۔ بہت سے اونٹ اور بکری۔ چکنے والی مٹی۔ تہ بنہ ریت۔ المکتب۔ دھاگا یا سوت پیٹنے کی ریل۔ ج۔ مکتب و مکتب۔

المکتب و الکتب۔ زمین کی طرف بہت نظر کرنے والا۔ کتہ رعی، کبتا۔ پھار دینا۔ ذیل کرنا۔ لوتانا۔ پھیرنا۔ لوتنا۔ غصہ سے رد کرنا۔ بلاک کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ کتہ یوجہہ۔ اس نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ کتہ فلان غیظہ فی جوفہ۔ فلان نے اپنے غصے کو اندر ہی اندر ضبط کر لیا۔ کتہ اللہ العذو۔ خدا دشمن کو ذلیل کرے۔ انکت۔ کت کا تابع یعنی پھرا گیا۔ ذیل ہوا۔ لوٹ گیا۔ پھر گیا۔ المکتب۔ رنج سے بھرا ہوا۔ رنجیدہ۔ کت (س) کبتا۔ اللحم۔ گوشت کا خراب اور بدبودار ہونا۔ صفت کبت و مکتب۔ کت السیفینہ۔ کشتی کو زمین کی طرف جھکانا۔ ایک کشتی کا سامان دوسری کشتی میں رکھنا۔ کتہ رف، کبتا۔ الذابۃ بالبحام۔ چوپائے کو گام کھینچ کر ٹھہرانا۔ کتہ عن الحاجۃ۔ ضرورت سے باز رکھنا۔ کتہ بالسیف۔ تلوار سے مارنا۔ کتہ الخایط السیف۔ دیوار کا تیر کو واپس کرنا اور گھٹنے نہ دینا۔ اکتہ۔ الذابۃ بالبحام۔ چوپایہ کو گام کھینچ کر لڑانا۔ کتہ مکتبہ۔ ایک دوسرے کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا۔ اکتہ المسکان۔ مکان کا بلند ہونا۔ صفت مکتب و مکتب۔ الکتب۔ فابیشگونی اور بدفالی کی چیز۔ ج۔ کو اکتہ۔ بجز اکتہ۔

کبت رعی، کبتا۔ جگر پر مارنا۔ کبت الامر۔ کسی کام کا ارادہ کرنا۔ الکتہ القوم۔ سردی کا تکلیف دہ ہونا۔ کبت رس، کبت او کبت۔ درد جگر میں مبتلا ہونا۔ صفت مکتب۔ کبت کتیا او مکتب کت۔ الامر۔ کسی کام میں تکلیف برداشت کرنا۔ المسافر الیل۔ مسافر کا رات کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے سفر جاری رکھنا۔ کبت الشمس السماء۔ سورج کا آسمان کے درمیان پہنچ جانا۔ تکبت۔ الامر۔ کسی کام کا ارادہ کر لینا۔ تکلیف اٹھانا۔ المکان۔ مکان کے وسط میں پہنچنا۔ الشمس السماء۔ سورج کا آسمان کے وسط میں پہنچنا۔ الکت۔ دودھ کا گاڑھا ہونا۔ الکت و الکت و الکت۔ من الاضواء۔ جگر، کلیجہ (مذکر و مؤنث)۔ ج۔ الکت و کت۔ الکت۔ اندرونی حصہ۔ درمیانی حصہ۔ کسی چیز کا بڑا حصہ۔ کبت القوم مکان کے علاقے کے دونوں طرف کا درمیانی حصہ۔ کبت الارض۔ زمین کی کافوں کی چیزیں۔ جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ کہا جاتا ہے فلان تفریب الکتہ الکت۔ الکت۔ فلان کی طرف لوگ علم وغیرہ حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے آتے ہیں۔ الکت و الکت و الکت۔ من السماء۔ آسمان کا وسط۔ الکت۔ ہتھکلی۔ ریت کا وہ تودہ جس کا درمیانی حصہ بڑا ہو۔ وہ مکان جس کا

دست پوری، سخیل میں پڑا جاسکے۔
 الکیبڈ پیٹ کا بڑا ہونا۔ مشقت، ہوا۔
 سختی۔ ریت کا درمیانی حصہ۔
 الکیبڈۃ۔ کبڈ کا اسم مرہ۔ محبت کا مرہ۔
 الکیبڈ۔ دروگر۔ الکیبڈ۔ چکو ترہ
 دعائی زبان میں،
 الاکبڈ۔ ایک قسم کا پرندہ، درمیان سے
 موٹا، آہستہ سے چلنے والا۔ بڑے
 جگر والا۔ وہ شخص جس کے جگر کی
 جگہ بلند ہو۔ مؤنث کبڈاء۔ ج۔
 کبڈ۔
 الکیبڈ۔ رفا، مشقت برداشت کرنا۔
 کبڈرس، کبڈا و مکتبوا۔ فی السین۔
 عمر رسیدہ ہونا۔
 کبڈون، کبڈا۔ فلانا بالسنین کسی
 سے عمر میں بڑا ہونا۔
 کبڈ کبڈا و کبڈا۔ فی القدر مرتبہ
 میں بڑا ہونا۔
 کبڈ علیہ الاوصو۔ کام کا دشوار ہونا۔
 سخت ہونا۔ بھاری ہونا۔
 کبڈ الرجل فی مالہ۔ مال کا ظلم اور
 زبردستی سے لے جانا۔ صفت
 صکا بڈ علیہ۔
 کبڈ تکبیرا و کبڈا۔ اللہ اکبر کہنا۔
 الشیء کسی چیز کو بڑا بنانا۔
 کابڈا۔ دشمنی رکھنا۔ مخالفت کرنا۔ غلبہ
 حاصل کرنا۔ علی حقیقہ۔ حق کا انکار
 کرنا۔ اکبڈ الاوصو۔ کام کو بڑا سمجھنا
 الرجل۔ بڑا شمار کرنا۔ تعظیم کرنا۔
 تکبڈ و تکبیر۔ تکبر کرنا۔ مغرور ہونا۔
 تکبیر الرجل۔ اپنے آپ کو بڑا اور
 بلند مرتبہ ظاہر کرنا۔
 استکبیر۔ تکبر کرنا۔ الاوصو۔ کام کو
 بڑا سمجھنا۔
 الکیبڈ تکبر بڑا گناہ۔

الکبیر و الکبیر۔ کسی چیز کا بڑا حصہ۔
 شرافت و بلندی۔
 الکیبڈ کفر و شرک۔
 الکیبڈ و الکیبڈۃ و الکیبڈۃ۔ بڑھاپا۔
 الکیبڈۃ۔ گناہ عظیم کہا جاتا ہے ہو
 کبڈھو و کبڈھو و کبڈھو
 و کبڈھو و کبڈھو و کبڈھو
 و الکیبڈھو۔ وہ ان کا بڑا بڑھا
 ہے یا سب میں ان سے زیادہ
 قریب ہے۔ "فلان کبڈۃ و کبڈ
 ایہ"۔ فلان اپنے باپ کی اولاد میں
 آخر ہے۔ اس میں واحد، جمع، مذکر،
 مؤنث سب برابر ہیں۔
 الکیبڈ۔ ڈھول (دخیل) ج۔ کبڈا و
 الکیبڈ۔ ایک درخت کا نام۔
 الکیبڈیا۔ بزرگی، عظمت، غرور۔
 الکیبڈ و الکیبڈا و الکیبڈ۔ بڑا۔
 الکیبڈ۔ بلند مرتبہ، سردار، مؤنث اعلیٰ۔
 الکیبڈ۔ بڑا ج۔ کبڈا و کبڈا۔
 معلم۔ رئیس، اللہ تعالیٰ کے اسمائے
 مبارکہ میں سے ہے۔
 الکیبڈۃ۔ کبیر کا مؤنث۔ بڑا گناہ۔ ج
 کبڈاۃ و کبڈا۔
 الاکبڈ۔ اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے الاکبڈ
 والاوصو۔ یعنی کبیر و صغیر۔ ج۔
 اکبڈ و اکبڈون۔ اکبڈ
 القوم۔ قوم کے شریف لوگ۔
 کہا جاتا ہے۔ فلان اکبڈ النھار
 فلان میرے پاس دن چڑھے آیا۔
 الاکبڈ و الاکبڈ۔ ایک میٹھی چیز جو
 خشک حلوائے کی مانند بہت زیادہ
 میٹھی نہیں ہوتی۔ موم اور شہد کے
 علاوہ ہے جسے موم کی مکھی موم کی
 طرح جمع کرتی ہے۔
 الکیبڈی۔ اکبر کا مؤنث ہے۔ ج۔

وکبریات۔ کہا جاتا ہے۔ "ہذا
 التجاریۃ من کبیری بنات
 فلان"۔ یہ لڑکی فلاں کی بڑی لڑکیوں
 میں سے ہے۔
 الکیبڈ و الکیبڈۃ و الکیبڈۃ۔
 عمر کی بڑائی۔ الکیبڈراء۔ اسم جمع
 بمعنی کبڈاء۔ کبڈت الشیء کسی
 چیز پر گندھک ملنا۔
 الکیبڈیت۔ گندھک۔ سُرخ ہونا۔ سُرخ
 یا قوت۔ محاورہ ہے "ذہب کبیریت
 و فیضہ کبیریت"۔ خالص سونا
 چاندی۔
 کبیس رض، کبیساً۔ علی الشیء۔ دبانہ
 اور بھینچنا۔ الکیبڈ۔ کنویں کو مٹی سے
 پاننا۔ داسۃ فی الثوب۔ سر کو
 کپڑے میں داخل کرنا۔ القوم دارۃ
 گھر پر چانک حملہ کرنا۔ الشیء
 پیڈوم۔ سال میں ایک دن زیادہ کرنا
 التا صیۃ جبرہتہ۔ پیشانی کو
 چھپالینا۔
 کبیس رس، کبیساً۔ سر کا بڑا ہونا۔ صفت
 الکیبڈ۔ مؤنث کبیساء۔ ج۔
 کبیس۔
 کبیس۔ الجسد۔ جسم کو ہاتھوں سے مل
 کر نرم کرنا۔ علی الشیء کسی چیز میں
 گھس جانا۔
 تکبیس و رائکبیس۔ النھو و الکیبڈ۔
 نہریا کنویں کا مٹی سے بھر جانا۔
 تکبیس الرجل۔ سر کو گریبان میں داخل
 کرنا۔ علی الشیء گھس پڑنا۔
 الکیبڈ۔ کنواں پاننے کی مٹی۔ بڑا سر۔
 پہاڑ کی جڑ میں غار۔ خزانہ، اصل
 مٹی کا گھر۔
 الکیبڈۃ۔ کھجوروں کا گچھا۔ ج۔ کبیس
 جبال کبیس و مکبیس سخت پہاڑ۔

الکیبڈی۔ اکبر کا مؤنث ہے۔ ج۔

الأصلية. سخت اور مضبوط انگلیوں
والامرد. مؤنث مکتوبہ۔
کبا یکتبوا کبوا وکبوا۔ یکتبہ۔ منہ
کے بل گرتا۔ التفتد۔ جتھاق سے
آگ نہ نکلنا۔

کبت النار۔ آگ کی چنگاری کارا کھ میں
پوشیدہ ہونا۔ کبت الثور۔ روشنی
کم ہونا۔ القبت۔ نباتات کا مرجھانا
۔ الغبار۔ غبار کا اوپر چڑھنا۔
الجنم۔ چنگاری کا بلند ہونا۔ لون
الصبیح أو الشمس۔ صبح یا آفتاب
کا تاریک ہونا۔ السهم۔ تیر کا
نشانہ پر نہ لگنا۔ ماء فی الرعاء
برتن میں پانی ڈالنا۔ الشیء۔ کسی چیز
کو صاف کرنا۔ المکون۔ کوزہ سے
گرادینا۔ البیت۔ گھر میں جھاڑو
دینا۔

کبتی تکبیت۔ النار۔ آگ پر راکھ
ڈالنا۔ ثویة یا یکباء۔ کپڑے کو
عود بخور سے دھوئی دینا۔

الکبی الکباء۔ التفتد۔ جتھاق سے
آگ نہ نکلنا۔ جتھاق سے دھواں نکلنا۔
الکبی وجھت۔ چہرہ تبدیل کرنا۔

کابا مکتابا۔ السیف۔ تلوار کا میدان
میں رکھنا۔

تکتبی۔ علی المیض۔ عودان پر کپڑے
ڈالنا۔

الکتبی بالعود۔ عود سے دھوئی دینا۔
انگبی۔ منہ کے بل گرتا۔

الکباء۔ بلند۔
الکبا والکبی۔ ج۔ کباء۔ والکتبہ۔ ج
کیون۔ کوڑا کرکٹ۔

الکباء۔ زمین پر پڑی ہوئی متفرق چیزیں
پانی کے چاروں طرف سخت جھاگ۔
الکباء۔ دھوئی دینے کی عود۔ جہر کبی۔

الکتبۃ۔ کبا کا اسم مرہ۔ تیرگی۔
الکتبۃ۔ دھوئی دینے کی انگلی۔

الکابی۔ فا۔ محاورہ ہے۔ فلان کابی
التمارد۔ فلان بہت راکھ والا ہے
یہ اس بات کا کنا یہ ہے کہ وہ مہمان
نواز ہے۔ الفحص الکابی۔

بجھا ہوا کوئلہ جو آگ سے خالی ہو۔
رجل کابی۔ جو بھلائی کی طرف لانے
کے باوجود متوجہ نہ ہو۔ عبا کابی
بہت عبا۔

الکابیۃ۔ کابی کا مؤنث۔ جھاگ۔ نار
کابیۃ۔ راکھ میں دبی ہوئی آگ۔

گتہ دن، گتہ۔ شمار کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
أتانا بجیش ما یکت۔ وہ
ہمارے اوپر بیٹھا فوج لے کر آیا۔

کت و آکت و آکت۔ الکلام فی
أذینہ۔ کان میں چپکے چپکے کتنا۔

کت دن، کتیتا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔
کت دن، گتہ۔ البعبع۔ اونٹ کا آہستہ

آہستہ چلنا، بڑبڑانا۔ کتت۔
القدر۔ ہڈی کا ابلنا۔ کتت

الرجل۔ مرو کو ذیل کرنا۔ بجیدہ کرنا۔
اکتت الحدیث۔ بات سننا۔

تکتت الثامن۔ لوگوں کا شور کے ساتھ
جمع ہونا۔

الکتی۔ مع۔ کم گوشت (مرو یا عورت) ڈبلا۔
الکتی۔ کتا کا اسم مرہ۔ زمین کی سبزی۔

الکتی۔ مدنی مال۔
الکتیت۔ مہم۔ ہڈی اور شراب ابلنے

کی آواز۔ بیل۔ محاورہ ہے۔ رجل
کتیت البیدین۔ یعنی بھیل مرد۔

الکتیتۃ۔ ایک قسم کا حلہ۔
کتب دن، کتبا وکتبا وکتبۃ و

کتبۃ۔ الکتاب۔ کھا۔ کتب
علیہ کذا۔ کسی چیز کے متعلق تہجد

کرنا۔ واجب کرنا۔ کہا جاتا ہے کتب
اللہ علی عبادہ الطاعة وعلی
نفسیہ الرحمۃ۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں کو اطاعت کا حکم دیا ہے
اور اپنی ذات پر رحمت کو ضروری
قرار دیا ہے۔

کتب القویۃ کتبا۔ مشک کو دوسرے
تسموں سے سینا۔

کتب الکتاب۔ لکھنا۔ الولد۔ بچے کو
لکھنا سکھانا۔ الجنود۔ فوج کو

تیار کرنا اور انہیں دستوں میں تقسیم کرنا۔
کاتبہ مکتبۃ۔ خط و کتابت کرنا۔

ساتھ مل کر لکھنا۔
کاتب العبد۔ غلام کو مال معین کے ادا

کرنے کی شرط پر آزاد کرنے کا معاہدہ
کرنا۔

الکتبۃ۔ لکھنا سکھانا۔ اسے لکھنے والا پانا۔
القصيدۃ۔ قصیدہ لکھواتا۔

القریۃ۔ مشک کا باندھنا۔
تکتب الرجل۔ کپڑے سمیٹ کر ہوشیار

رہنا۔
تکتب الکتائب۔ فوج کے دستوں کا

جمع ہونا۔
تکتب القوم۔ ایک دوسرے سے

خط و کتابت کرنا۔
الکتب الکتاب۔ لکھنا۔ املا کرنا۔ لکھانا۔

لکھنے کی درخواست کرنا۔ لکتب
القویۃ۔ مشک کو دوسرے تسمے

سے سینا۔ بطنہ۔ بند ہونا۔
الرجل۔ رجسٹر میں اپنا نام لکھنا۔

اسی سے ہے۔ لکتب یمال او
لعانۃ۔ اس کا نام اور اس کی مالی

امداد کھی گئی ہے۔
استکتبۃ۔ الشیء۔ کسی سے کچھ لکھنے کو

کنا۔ القصیدۃ۔ نظم املا کرنے کو

کننا۔ فلام۔ لڑکے کو کاتب بنانا۔
 الکتبۃ: ممبر کتاب کی نقل، حالت کسی
 حصہ یا رزق کا رجسٹر میں درج ہونا۔
 الکتبۃ: سینے کا تسمہ، مشک وغیرہ کی
 دوز۔
 الکتاب: ممبر جس میں لکھا جائے۔ خط،
 صحیفہ، فرض، حکم، اندازہ، ج۔ کتب
 و کتب۔ والکتاب علی الاطلاق
 ہر وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل
 ہو، الہامی کتاب۔ اهل الکتاب
 وہ لوگ جو الہامی اور آسمانی کتاب
 کے پیرو ہوں۔ أم الکتاب: اصل
 کتاب، سورہ فاتحہ۔
 الکتیب: کتابوں کا محافظ، کتب فروش۔
 الکتیبۃ: جو لکھا جائے، مال معین کے
 ادا کرنے پر غلام کو آزاد کرنا۔
 الکتیب: بندھن سے بندھی ہوئی مشک۔
 الکتیبۃ: شکر کا ایک حصہ، گھوڑوں کا
 ریوڑ، ج۔ کتائب۔
 الکاتب: اسم فاعل، عالم، منشی، محرر۔
 ج۔ کاتبون، کتبۃ و کتاب۔
 الکتاب: ج۔ کاتب، مکتب۔
 تعلیم گاہ، ج۔ مکتیب۔
 المکتب: تعلیم گاہ، لکھنے کی جگہ، ج۔
 مکتیب۔
 المکتب: فاعل، رجل مکتب، جس کے
 پاس کتابیں ہوں، جسے لوگ لکھتے
 رہتے ہوں۔
 المکتب: کتابت کی تعلیم دینے والا۔
 المکتوب: مفعول، خط جو کوئی دوسرے شخص
 کے پاس بھیجے، ج۔ مکتیب۔
 کتب دف، کتبا، الطعام، شکم سیر
 ہو کر کھانا۔
 کتبا التویجر: ہوا کا گرد و غبار اڑانا
 - الدبی الارض: کیڑے مکوڑوں کا

نباتات اور درخت وغیرہ کو چاٹ جانا۔
 الکتد و الکتید: دونوں انسانی کندھوں
 کے درمیان کا حصہ، ج۔ کتاد و
 کتوڈ: کہا جاتا ہے "تخرجوا
 علینا کتادا و کتادا" وہ
 ہمارے خلاف گروہ درگروہ ہو کر
 نکلے۔
 الکتد: وہ شخص جس کے کندھوں کا
 درمیانی حصہ ابھرا ہوا ہو۔
 الکتو و الکتو و الکتو و الکتو:
 بلند کولان۔
 الکتو: بلندی، عمارت، اندازہ، چھوٹا۔
 ہودہ، ہر چیز کا درمیانی حصہ۔
 الکتو و الکتو: لاکھڑا ہٹکی چال۔
 الکتو: تپہ، گنبد، کولان کا ایک ٹکڑا۔
 کتشی کتفا: لاہلیہ، گمانا۔
 کتب دس، کتفا، سکڑنا، لہجا ہونا۔
 فی العمل مستعد ہونا، کوشش کرنا۔
 کتب دف، کتفا، ہم، لے جانا۔
 کتوفا: فی الارض، دود ہونا
 اور بھاگنا۔
 کتف اللحم: گوشت کے ٹکڑے کرنا۔
 کاتفا اللہ: خدا سے تباہ کرے۔
 تکاکف: التوجلان، ایک دوسرے کا
 پیچھا کرنا۔
 الکتف: ج۔ کتفات و الکتیف: ذیل،
 الکتیف: تن تنہا، اکیلا، کہا جاتا ہے
 "ما بالذاری کتیف" او کتاف: یعنی
 گھر میں ایک ہی نہیں، جمل کتیف
 پورا سال۔
 الکتفۃ: ج۔ کتاف، و الکتفۃ: ج۔
 کتف، و الکتفۃ: ج۔ کتف۔
 چھوٹا ڈول۔
 کتف: ج۔ کتفا، جو مؤنث کی ناکید
 میں مستعمل ہوتا ہے، کہا جاتا ہے

"اشتویت ہذا الدار جمعا"
 کتفا: میں نے اس کے سامنے
 گھر کو خرید لیا۔ "رأیت اخواتک
 جمع کتفا" میں نے تیری تمام
 بہنوں کو دیکھا، کتف وصف اور
 عدل کے دو اسباب کی بنا پر غیر منصرف
 ہے اور کتف کو جمع کے بعد استعمال
 کرتے ہیں۔ یہ جمع کے بغیر تنہا نہیں
 آتا، کیونکہ یہ اس کا تابع ہے۔
 الکتف: لہجا، جس کی انگلیاں پستی کی
 طرف مڑی ہوئی ہوں۔ یہ لفظ جمع
 کا تابع بھی ہے۔ اس موقع پر جمع
 کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ کہا جاتا
 ہے "رأیتہم اجمعین کتفین"
 میں نے ان سب کو دیکھا۔ مؤنث
 کتفا۔
 الکتفا: بوٹی، یہ بھی مؤنث کی تاکید کے
 لیے جمع کا تابع ہے۔ مثال -
 "اشتویت الدار جمعا"
 کتفا: میں نے سارا کا سارا مکان
 خرید لیا، رأی مکتف، متفکرانے
 یہ محاورہ بھی ہے "جاء مکتفا و
 مکتفا" وہ تیز رفتاری سے آیا۔
 کتف رض، کتفا کتفا، آہستہ
 چلنا یا کندھا ہلاتے ہوئے چلنا، کجاوہ
 کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے
 کے ساتھ باندھنا۔ فی الامر نرمی
 کرنا۔ کتفا و کتفا، التوجیل مرد
 کی مشکیں کسنا، کندھے پر سارنا۔
 التوجیل بالدابة: زمین کا کندھے
 کو زخمی کرنا۔ الاناء: برتن کو لوہے
 وغیرہ کے پتر سے جوڑنا۔ الامر۔
 کسی کام کو ناپسند کرنا کتفا و
 کتفاناً - الطائر: پندہ کا بازوؤں
 کو پیچھے کی طرف مٹا کر اڑنا۔

کَيْفَ دَس، كَتَفًا. چھڑے یا بڑھے کندھوں
 والا ہونا۔ کندھے میں مدد نہ لھیت ہونا
 كَيْفَ الرَّجُلُ. مرد کا آہستہ چلنا۔
 كَتَفَ الرَّجُلُ. کسی کی مشکیں کسنا۔
 کندھوں کے پیچھے ہاتھوں کو باندھنا۔
 الإِنَاءُ. برتن کو لہجے وغیرہ کے پتر سے
 بولنا۔ اللَّحْمُ وَتَحْوُهُ. گوشت
 کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔
 الفرس. گھوڑے کا چلنے میں کندھوں
 کو بلانا۔
 كَتَفَ. سینے پر ہاتھ باندھنا
 كَتَفَتِ الخَيْلُ. گھوڑے کا چلنے میں
 کندھوں کو اٹھانا۔
 الكَيْفُ وَاكْتَفُ وَاكْتَفُ. شانہ.
 کندھا۔ مؤنث ہے۔ ج۔ كَتَفَةٌ و
 آكْتَاوُ. ضرب المثل ہے "إِنَّهُ
 لَيَعْلَمُ مِنْ آيِنٍ تُؤَكِّلُ الْكَيْفُ"
 اس چالاک شخص کے حق میں بولتے
 ہیں جو معاملات کے دائرہ سے خوب
 واقف ہو۔
 الكَتَفُ. کندھے کے درد کی وجہ سے
 جانوروں کی ننگا ہٹ۔ کندھے کی
 کوتاہی و کمی۔
 الكَتَاوُ. کندھے کا درد۔
 الكَيْفَاتُ. مشکیں کسنے کی دسی۔ ج۔ اَكْتَفَةٌ
 وَكَتَفٌ وَكَتَفٌ.
 الكَاكْفُ. فانا۔ ناپسند کرنے والا۔
 الأَكْتَفُ. مِنَ الخَيْلِ وَالْجَمَالِ. وہ
 گھوڑا یا اونٹ جس کے کندھے میں درد
 ہو۔ مؤنث كَتَفَاءُ۔ ج۔ كَتَفٌ۔
 الأَكْتَفُ مِنَ الرِّجَالِ. وہ مرد جس
 کے کندھے میں درد ہو۔ مِنَ الخَيْلِ
 وہ گھوڑا جس کے کندھے کے اوپر کا
 حصہ چوٹا ہو اور اس میں کشادگی ہو۔
 الكَيْفُ. لہجے وغیرہ کا چھڑا پتر۔ چوڑی

تلوار۔ ج۔ كَتَفٌ۔
 الكَوَيْفَةُ. دھواڑے کی بی یا چھنی عجات
 کینہ۔ ج۔ كَتَايَفُ۔
 الكُتْفَانُ وَاكْتِفَانُ. ٹڈیاں جو پہلی مرتبہ
 اڑیں۔ اس کا واحد كُتْفَانَةٌ ہے۔
 الكُتْفَانُ. وہ جانور جس کا شانہ زمین سے
 زخمی ہو گیا ہو۔
 كَتَفَتِ الرَّجُلُ. بغیر قہقہہ کے ہنسنا۔
 كَتَفَتِ كَتَفًا. آہستہ آہستہ چلنا۔ چھوٹے
 چھوٹے قدم سے تیز چلنا۔
 الكُتْفَاتُ. جلدی جلدی بہت بولنے والا۔
 كَتَلَهُ دَن، كَتَلًا. قید کرنا۔ باز رکھنا۔
 كَتَلَ دَس، كَتَلًا. چٹنا۔ صفت کتیل۔
 الجَمَارُ. گدھے کا زمین پر لوٹنے سے
 غبار اُرد ہونا۔
 كَاتَلَهُ اللهُ. اللہ سے غارت کرے۔
 كَتَلَ الشَّيْءَ. کسی چیز کو جمع کرنا اور اسے
 گول بنانا۔
 كَتَلُ القَصِيرُ. پتہ قد کا چھوٹے
 چھوٹے قدم سے چلنا۔ جیسے وہ لڑاکا
 رہا ہو۔ الشَّيْءَ. جمع ہونا۔ تہ بتہ ہونا
 اور گول ہونا۔
 الكُتْلُ. گذرنا۔ جانا۔
 الكُتْلَةُ مِنَ الطَّيْنِ وَتَحْوُهُ. مٹی
 وغیرہ کا جمع شدہ تہ بتہ ڈھیر۔ گوشت
 کا ٹکڑا۔ کھجور کا گچھا۔ ج۔ كُتْلٌ۔
 الكُتَالُ. نفس۔ ضرورت و حاجت جو
 پوری کی جائے۔ مشقت۔ درست کیا
 ہوا لباس یا کھانا۔ تنگ زندگی۔
 گوشت۔ قوت۔
 الكُتْلُ. موٹاپا۔ کہاوت ہے۔ أَلْقَى عَلَيْهِ
 كُتَالَهُ. اس نے اس پر اپنا بوجھ ڈالا۔
 الكَيْتِلَةُ. دخت خوا جو ہاتھ سے اونچا
 ہو۔ ج۔ كَتَايِلٌ۔
 الأَكْتَلُ. سخت مصیبت۔

الْمَكْتَلُ وَاكْتَعَلَهُ. کھجور کے پتوں سے
 بنا ہوا ٹوکرا۔ ج۔ مَكَايِلٌ۔
 المَكْتَلُ. مصائب زمانہ میں سے ایک
 مصیبت۔
 الكَاكُولِيكُ. رومن کیتھولک جو پطرس
 کے جانشین، پاپائے روم کے پیرو ہیں
 واحد کا تو لیکھی اور جمع کا تو لیکھیوں
 (یہ لفظ ذخیل ہے)۔
 كَتَمَ دَن، كَتَمًا وَكَتَمَانًا وَكَتَمًا وَ
 لَأَكْتَمًا۔ اشیء کسی چیز کو پوشیدہ
 کرنا۔ چھپانا۔ بعض اوقات كَتَمَ دَن
 مفعولوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔
 جیسے كَتَمْتُ زَيْدًا الحَدِيثَ. میں
 نے زید سے بات چھپائی۔ مفعول اول
 میں مِنْ بھی بڑھایا جاتا ہے۔ جیسے
 كَتَمْتُ مِنْ زَيْدٍ الحَدِيثَ۔
 كَتَمَ۔ اشیء۔ کسی چیز کو بہت چھپانا
 (مبالغہ)۔
 لَأَكْتَمَ الشَّيْءُ. زرد ہونا۔
 كَتَمَ دَن، كَتَمًا وَكَتَمَانًا۔ الإِنَاءُ۔
 برتن کا دودھ یا پینے کی چیز کو بہنے سے
 روکے رکھنا۔
 كَاتَمَهُ مُكَاثِمَةٌ۔ السِّوُ. بھید چھپانا۔
 كَاتَمَهُ العَدَاوَةُ. دشمنی کو چھپانا۔
 كَاتَمَ۔ الرَّجُلَانِ الحَدِيثَ۔ ایک
 دوسرے سے بات پوشیدہ رکھنا۔
 لَأَكْتَمَ۔ چھپنا۔ کتھکا تابع۔
 اسْتَكْتَمَ۔ السِّوُ فَلَانًا۔ کسی کو بھید چھپانے
 کے لیے کہنا۔
 الكَيْتَمَةُ۔ پوشیدگی۔
 المَكْتَمُ وَاكْتِمَانُ۔ وہ دسمہ جس سے خفا
 بناتے ہیں اور اس سے لکھنے کے لیے
 روشنائی بناتے ہیں۔
 الكَاتِمَةُ۔ فانا۔ کہا جاتا ہے "سِوُ كَاتِمَةٌ"
 بمعنی مَكْتَمٌ۔ یعنی چھپا ہوا۔ بھید۔

قَدْسٌ كَاتِمٌ. ثابت کمان جس میں
کون شگاف وغیرہ نہ ہو۔

الْكُتْمَةُ: کتھا اسم مرہ ہے۔ محاورہ
ہے: "مَا رَاجَعْتَهُ كُتْمَةٌ" میں
نے اس سے ایک لفظ بھی جواب
میں نہیں کہا۔

الْكُتْمَةُ وَالْكُتَامُ وَالْكُتَامَةُ: بھید
کو بہت چھپانے والا۔

الْكُتُومُ: بھید چھپانے والا۔

الْكُتَيْمُ: من القبيح. ثابت اور
دست کمان۔ یادہ کمان جس سے

آواز نہ نکلے۔ كُتَيْمٌ: درز جو
کشاہ نہ ہو اور پانی نہ ٹپکے۔

الْكُتْفُ: بڑے پیٹ والا بشکم سیر۔
المُكْتَرَمُ: فَا. سَحَابٌ مُكْتَرَمٌ۔

بادل جس میں گرج نہ ہو۔
كَتَمَ رَسًا، كَتَمًا: اَوْتَسَخَ عَلَى الشَّيْءِ۔

میل کا کسی چیز پر جمننا۔ الشَّيْءُ: میل
کچیل لگنا۔ دھوئیں سے سیاہ ہونا۔

النَّحْلَةُ: درخت خرما کی جڑوں پر
مٹی چڑھ جانا۔ فَلَانٌ سِيَاهٌ لِبِ هُنَا۔

گٹن و آگٹن۔ الشَّيْءُ: کسی چیز کو چکپانا
تَكَتَمَتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا بُرُوعِ دستانے

اور موزے پھنسا۔
الْكُتْنُ: ہونٹ کی سیاہی۔ دیوار کا دھوئیں

سے سیاہ ہونا۔ میل کچیل چکپنا۔ کھجور
کی جڑ کی مٹی۔

الْكَيْتُنُ وَالْكَيْتِي: پیالہ۔ سِقَاءٌ كَيْتِيٌّ
میل کچیل مشک۔

الْمُكْتَانُ: السی کا پودا جس سے پٹے
تیار ہوتے ہیں۔

الْمُكْتَانُ: سبز کائی جو پانی کے اوپر ہوتی
ہے۔ لَيْسَ الْمَاءُ كُنَاتَهُ: پانی پر

کائی بجم گئی، اس کا سر سبز ہو گیا۔
الْمُكْوَقَةُ: کابن کی قمیص جسے وہ خدمت

کے موقع پر پہنتا ہے۔ (دو خیل،
كُتَا يَكْتُو كُتْوًا: چلنے میں قریب قریب
قدم رکھنا۔

الْقِي كُتَاةً: دشمن پر غالب آنا۔
الْقَوِي كُتَيْتَاةً: بہت غصہ میں ہونا

بغیر عمل کے بہت زیادہ اپنی تعریف
کرنا۔

كُتِيَ رَضًا، كُفَاةً وَكُفُوَةً وَكُتِيَ
رَسًا، كُفَاةً: گالڑھا اور گھٹنا ہونا۔

الشَّعْرُ: بالوں کا گھنا ہونا۔
الْيَحِيَّةُ: ڈاڑھی کا گھنی اور گھونگھریالی

ہونا۔ سِلْجِحٌ: پاخانہ کرنا۔
اَكْتَفَى: الرَّجُلُ: مَرَدٌ كُفِيَ: اَلرَّجُلُ رُكِنًا۔

صفت کُتِفٌ: جَم. كُفَاتٌ.
اَكْتَفَى: مَوْنٌ كُفَاةً: جَم. كُتِفٌ.

الْكُتْفُ وَالْكُفَيْفُ: گھنی کیفیت۔ کہا
جاتا ہے: "هُوَ كُتِفٌ الْيَحِيَّةِ وَ

كُفَيْفَهَا" وہ مرد گھنی ڈاڑھی والا
ہے: "رَأْسًا كُفَاةً وَكُفَاةً"۔

گھنے بال والی عمدت۔
الْكُفَيْفُ: بٹن وغیرہ کا ہار یک دھاگا

جو بکھر جائے۔
الْكَاثُ: کٹی ہوئی کھیتی کے منتشر دانے

جو دوبارہ اگ آئیں۔
كُفَارَةٌ، كُفَاةٌ وَكُفَاةٌ وَكُفَاةٌ:۔

اللَّبْنُ وَكُفُوَةٌ: دودھ کا پانی کے
اوپر آنا اور صاف پانی کا نیچے آنا۔

الْقُدْرُ: ہانڈی کا جھاگ دینا۔
الْيَحِيَّةُ: ڈاڑھی کا لمبا اور گھنا ہونا۔

الذَّرْعُ: کھیتی کا سخت اور گنجان
ہونا۔ الْقُدْرُ: ہانڈی سے جھاگ

علحدہ کرنا۔ الرَّجُلُ: مرد کا بالائی
کھانا۔ أَوْبَارُ الْإِبِلِ: اونٹ کے

بال کا نکلنا۔
اَلْكَفَاتُ الْيَحِيَّةُ: ڈاڑھی گھنی اور

لمبی ہونا۔
الْكُفَاةُ وَالْكُفَاةُ: مِنَ اللَّبَنِ۔

بالائی۔ مِصْقُ الْمَاءِ: وہ چیز جو پانی کی
سطح کے اوپر آجائے۔ كُفَاةٌ

قُدْرِكٌ: اپنی ہانڈی کے جھاگ
علحدہ کرو۔

كُتِبَ دُنْضًا، كُتِبًا: الشَّيْءُ: کسی چیز کو
جمع کرنا۔ الشَّيْءُ: جمع ہونا۔ الْقَوْمُ

اَكْتَهَا هُونًا: فِي الْمَكَانِ: داخل ہونا۔
المَاءُ: پانی گرانا۔ الثَّرَابُ:

مٹی اڑانا۔ عَلَيْهِ: کسی پر حملہ کرنا۔
الصَّيْدُ فُلَانًا: شکار کا قریب

ہونا۔ کہاوت ہے: "كُتِبَكَ الصَّيْدُ
فَأَرْوَاهُ: شکار تمہارے قریب

ہے، تیر چلاؤ۔ جَاءَ يَكْتُوبُهُ: وہ
اس کے پیچھے آیا۔

كُتِبَ: كَبِنُ الثَّقَلِ: اونٹنی کا دودھ
کم ہونا۔

كُتِبَ الشَّيْءُ: کسی چیز کا کم ہونا۔
كَاتِبُ الْقَوْمِ: قوم سے قریب ہونا۔

اَكْتَبَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ وَهَنَهُ وَكَلَهُ:
قریب ہونا۔ فَلَانًا: کسی کو غورٹا

پلانا۔
اَلْمُكْتَبُ الرَّضِيُّ: ریت کا جمع ہونا اور

ایک دوسرے پر منتشر ہونا۔
الْمُكْتَبُ: قریب۔ نَزَلِي: کہا جاتا ہے

"رَمَاكَ مِنْ كُتْبِ أَوْعَنْ كُتْبٍ"
اس نے اس کو قریب سے مارا۔

الْكُتْبَةُ: غھوڑا پانی یا دودھ۔ ہر غھوڑی
جمع شدہ چیز۔ ہاٹ کے درمیان پست

زمین۔ جَم. كُتْبٌ۔
الْكَاثِبَةُ: کاتیب کا مونت۔ مِنَ

الْفَرَسِ: گھوڑے کی پیٹھ کا بالائی
حصہ۔ جَم. كُثَابٌ۔

الْكُثَابُ: بہت، کثیر۔

الکتاب والکتاب۔ بغیر بیان اور بغیر

پرکاتیر۔

الکثیر۔ ریت کا ٹیلہ۔ بحر کثیر۔ کثیر۔

والکثیر۔

الکثیر۔ مٹی۔

کثیر۔ رن، گفجا۔ من الطعام۔ بقدر

کفایت کھانا۔ ایک جگہ سے دوسری

جگہ تلے جانا۔

کثیر۔ رن، الشیء۔ کسی چیز کو جمع کرنا،

بکھیرنا۔

کثرت التوبیخ الثواب علیہ۔ بھاکا

غبار اوانا۔

کثیر۔ من المال۔ مال خواہش کے

مطابق ہونا۔

کثیر۔ عن کذا۔ کھونا۔ کہا جاتا ہے

کثرت التوبیخ۔ اس کو ہوا نہ کھلیا۔

تکثیر القوم بالسیوف۔ آپس میں

شمیر زنی کرنا۔

تکثیر بالخطی۔ بہ نکت ککریوں

کے مارنا۔

الکثیر۔ من الناس۔ چھوٹی سی جماعت

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

صفت کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثرت حد پر فز کرنا۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔ کثیر۔

الکثیر۔ بہت۔

الکثیر۔ جاہیں، کہا جاتا ہے۔

الکثیر۔ لوگوں کی جماعتیں ہیں۔ یہ الفاظ

صرف جانداروں کے لیے مستعمل ہیں۔

الکثیر۔ بہت فیاض مرد۔

الکثیر۔ مالدار۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

الکثیر۔ بہت بولنے والا۔

<p>الکحوف جسم کے اعضاء۔ کحل دفن، کحل و کحل۔ العین آنکھوں میں سرمہ لگانا۔ صفت کاحل و کحال۔ کحل الشفا عینہ۔ بیلادی کا کنایہ ہے۔ بیخوابی۔ کحل دفن، کحل و کحل۔ العام۔ سخت خشک سالی ہونا۔ السنوی القوم۔ قحط پڑنا۔ کحل و کحل و کحل و کحل و کحل و کحال۔ المکان بالخضرت کسی جگہ نباتات کی ابتدائی سبزی ظاہر ہونا۔ کحلت کحل و کحلت۔ العین۔ آنکھ کا سرگیں ہونا۔ کحل الرجل۔ سرگیں آنکھ والا ہونا۔ کحل و کحل۔ آنکھوں میں سرمہ لگانا۔ کحل۔ فلان۔ نرمی کے بعد سختی میں مبتلا ہونا۔ الشفا۔ بیلاد ہونا۔ اور نیند نہ آنا۔ و کحلہ یا کحلہ۔ چہرہ پسینے کا اثر ظاہر ہونا۔ محادہ ہے۔ ما کحل کحل عینی ہک۔ میں نے تم کو نہیں دیکھا۔ کحل۔ مع۔ سخت قحط کا سال۔ کحل کحل کحل۔ غیر منصرف ہیں۔ آسمان کے نام ہیں۔ کہا جاتا ہے "صرت کحل" جبکہ آسمان میں بادل نہ ہوں۔ کحل۔ سنگ سرمہ۔ ہر وہ چیز جو آنکھوں میں شفا کے لیے ڈالی جائے۔ مال کثیر۔ کحل۔ پیدائشی طور پر آنکھوں کا سرگیں ہونا۔ الکحال۔ سنگ سرمہ۔ الکحل و الکحلہ۔ مرہ تعویذ اور</p>	<p>کحل۔ حیران ہونا۔ توقف کرنا۔ چھپنا۔ کحل۔ نمکین ہونا۔ عن وجہ کذا۔ پھر جانا۔ الکحل و الکحل۔ عن العین و قحط۔ گاڑھا کپڑا وغیرہ۔ کحل۔ الکحل۔ راستہ کا ظاہری حصہ کہا جاتا ہے۔ "وما عن کحلہ" اس نے اس پر قریب سے تیر مارا۔ الکحل۔ چڑا راستہ۔ وطب الکحل دودھ سے بھرا ہوا برتن۔ الکحلہ۔ گلدستہ۔ الکحل۔ خالص۔ کہاوت ہے۔ "هو عربی کحل" وہ خالص عربی ہے۔ کحل۔ الکحل۔ کچا انگوڑا ظاہر ہونا۔ الکحل۔ کچا انگوڑا۔ واحد کحلہ۔ الکاحل۔ بہت۔ کہا جاتا ہے۔ "عندنا ذرا کحل کاحلہ" اس کے پاس بہت دوا ہم ہیں۔ کحل دفن کحل۔ کحل من المالی۔ وہ نول ہاتھوں سے مال دینا۔ کحل دفن، کحل۔ الاقر۔ نشان لٹنا۔ الکحل بستر مرغ کا زمین میں اس طرح جانا کہ وہ دکھائی نہ دے۔ الرجل۔ پیٹھ پر رکھا گنا کحل۔ ابلی فلان۔ مٹانا۔ محو کرنا۔ ہر جیلہ۔ پاؤں سے کریدنا۔ الارض۔ زمین سے غبار اڑانا۔ الشیء کوٹھا۔ کحل کحل۔ الاقر۔ نشان مٹانا۔ الکاحل۔ نا۔ پیر سے کریدنے والا۔ مؤنث کا حصہ۔ ج۔ کحل کحل اطلال کحل کحل۔ مکان کے مٹے ہوئے نشانات۔ کحل دفن، کحل۔ الطعام۔ قحط۔ خشک سالی ہونا۔ صفت کاحل۔</p>	<p>الکحلہ۔ گارا۔ کپڑا۔ کحل مٹی۔ الکحل۔ نا۔ امرأہ مکحلہ۔ وہ عورت جس کے ہونٹوں یا مسوڑھوں سے بہت خون نکلے۔ کحل دفن، کحلہ و کحلہ۔ موٹا ہونا۔ بہت ہونا۔ گنجان ہونا۔ صفت کحیف۔ دودھ۔ کحلہ۔ موٹا کرنا۔ کحیف کرنا۔ گاڑھا کرنا۔ الکحل و کحل۔ قریب ہونا۔ امکان۔ استکحل۔ کسی چیز کا کحیف یا گاڑھا ہونا۔ الشیء۔ کسی چیز کو کحیف پانا یا سمجھنا۔ الامر۔ کسی کام کا بلند اور اونچا ہونا۔ الکحل۔ جماعت۔ الکحیف۔ کثافت والا۔ گاڑھا۔ کہا جاتا ہے۔ "رجل کحیف" سخت اور بد حال کی زندگی بسر کرنے والا مرد۔ الکحاف۔ بہت۔ کحل الرجل۔ کحل و کحل۔ کحل الکحل و الکحل۔ کحل مٹی۔ سنگریزے کحل دفن، کحل۔ الشیء۔ جمع کرنا۔ الکحل۔ گروہ۔ جامع۔ الکحل و الکحل۔ کحل کا دنبالہ۔ الکحل۔ رومن کیتھولک فرقہ۔ کحل و کحل۔ کحل۔ الشیء۔ جمع کرنا۔ الاقر۔ اتباع کرنا۔ پیروی کرنا۔ الشیء۔ مذ میں رکھ کر ڈرنا۔ کحل من الامر۔ کسی چیز سے باز رکھنا۔ کحل من کحل۔ حکم سیر ہونا۔ بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت الکحل۔ کحلہ۔ قریب لانا۔ میل ملاپ رکھنا۔ الکحل۔ القویۃ۔ معک بھڑنا۔ فی بنیہ۔ گھر میں روپوش ہونا۔ الکحل۔ الشیء۔ نکار کا قریب ہونا۔</p>
--	--	--

بقول بعض مرہ نظر بد۔ عین
 کجیل و کجیل و کجیل۔ سرگیں
 آکھ۔ ج۔ گجلی و گجائل۔
 آغین گجلاء۔ سرگیں آنکھیں۔
 الگجیل۔ نقطہ قطران جو اونٹوں پر پڑا
 جاتا ہے۔
 الاکحل۔ سرگیں مرد۔ بازو کی ایک رگ کا
 نام جس کی فصد کھولی جاتی ہے۔
 الگجلاء۔ الاکحل کا مونت۔ ج
 کحل۔ وہ عورت جس کی آنکھیں
 بہت سیاہ ہوں۔ سفید جسم اور سیاہ
 آنکھوں والا مینڈھا۔
 الگجلاء و الگجلاء۔ گاؤ زبان۔
 الگجلی۔ سرمہ ساز۔
 الیکحل و الیکحل۔ سرمہ کی سلائی
 مکحلہ۔ سرمہ دانی۔
 کخی یکنجی گجیا۔ اشیء خراب ہونا
 فاسد ہونا۔
 گجر رض، گجاء و گجیجا۔ فی نومہ
 خولے لینا۔
 گد دن، گد ا۔ سخت کام کرنا۔ روزی
 تلاش کرنا۔ سائل کی طرح انگلی سے
 اشارہ کرنا۔ مانگنے میں اصرار کرنا۔
 الرجل۔ ٹھکانا۔ الرأس۔ سر میں
 کنگھی کرنا یا سر کو بہت کھجاتا۔
 اشیء۔ کسی چیز کو ہاتھ سے پھیننا۔
 گد دہ۔ سختی سے ہٹانا اور جدا کرنا۔
 گد دہ۔ تکلیف برداشت کرنا۔
 آگد و اکتد۔ کنجوسی کرنا۔
 اکتد۔ اشیء۔ کسی چیز کو ہاتھ سے
 پھیننا۔
 اکتدہ و استگدہ۔ کام میں محنت
 کرنا۔
 الگد۔ مہ۔ کوشش، محنت، وہ چیز جس
 میں کوئی چیز کوٹل جائے جیسے ہاون۔

مخادرہ ہے۔ کئیس ہذا من
 کدک و لا من کد آینک۔ یہ
 تمھاری اور تمھارے باپ کی کوشش
 سے حاصل نہیں ہوئی۔
 الگدہ و الگدید۔ سخت زمین۔
 الگدید۔ موٹا موٹا پسا ہوانک۔ وادی
 سے زیادہ فراخ زمین۔
 الگدادہ و الگدادہ و الگدادہ
 ہانڈی کی کھرچن۔
 کد ادہ التمیم۔ گھی کی تلچٹ۔
 کد ادہ الکلاد۔ تھوڑی گھاس۔
 الگدوڈ۔ بہت محنت کرنے والا آدمی۔
 بخیل۔ پتھر گدوڈ۔ وہ کنواں جس کا
 پانی مشکل سے نکل سکے۔
 الایگدہ۔ چری ہوئی چراگاہ کا بقیہ حصہ۔
 قوم الگداد و اکادید۔ ان الفاظ
 کا واحد مستعمل نہیں ہے۔ کہا جاتا
 ہے۔ رأیتہم الگداد و اکادید
 میں نے انھیں لوہوں میں دیکھا۔
 ایل الگداد۔ تیز چلنے والے اونٹ
 الیگد۔ کنگھی۔
 الگدوڈ۔ مفع۔ مغلوب۔ ارض
 مگدوڈہ۔ کھوں سے روندی
 ہوئی زمین۔
 گد ا و گدی رف س، گد او کدو و ا
 ۔ السنت۔ نباتات کا سروی یا پانی
 نہ پہنچنے کی وجہ سے مرجھانا۔ اور نہ
 بڑھنا۔
 گدی گد ارس، الغراب۔ کوسے کا
 تھے کرنے جیسی آواز نکالنا۔ البقل
 سبزیوں کا چھوٹا اور خراب ہونا۔
 الیل۔ اونٹ کا کم بال والا ہونا۔
 گد ا و گد ا۔ البزء العبات۔
 سروی کا نباتات کو زمین سے اوپر
 بڑھنے نہ دینا۔ ارض گاوشہ۔

الأوبار۔ کم بال والے اونٹ۔
 الگدب و الگدب و الگدب۔ جوانوں
 کے ناخن کی سفیدی۔ واحد گدبہ۔
 دم گدبہ۔ تازہ خون۔
 گدیج دن، گد جا۔ الرجل۔ بقدر
 کفایت پینا۔
 کد ح رف، گد جا۔ فی العی کام
 میں بہت محنت کرنا۔
 کد ح۔ لقیامہ۔ اہل وعیال کے لیے
 کمانا۔ رأسہ یا لیشیط۔ کنگھی
 سے سر کے بالوں کو علیحدہ کرنا۔
 کد ح الوجہ۔ چہرہ کو نوچنا۔
 اکتد ح۔ لعیالہ۔ اہل وعیال کے لیے
 رزق کمانا۔
 تگد ح الیجلد۔ خراش آنا۔ کہا جاتا
 ہے۔ "وقع من الشطیح تگد ح"
 وہ چھت سے گر پڑا اور اسے خراش
 آئی۔
 الگد ح مہ خراش۔ ج۔ کدو ح۔
 گد س دن، گد ر د، و کد زرس
 گد راہ گد ارہ و کدو را و
 کدو رة و کد رة۔ گدلا ہونا۔
 میلا ہونا۔ کد ر علی فلان۔ وہ
 فلاں پر ناراض ہوا۔ کد ر العیش۔
 زندگی تلخ ہوئی۔
 کد ر۔ اشیء۔ گدلا کرنا۔ میلا کرنا۔ کہا
 جاتا ہے۔ کد ر عیش فلان
 فلاں کی زندگی تلخ کر دی۔
 تگد ر و اکتد۔ اشیء۔ گدلا ہونا
 میلا ہونا۔
 اکتد ر۔ فی الشیر۔ تیز دوڑنا۔ علیہ
 القوم۔ قوم کا کسی پر ٹوٹ پڑنا۔
 الگد رة۔ مہ۔ من الألوان۔ ٹیالا۔
 الگد رة۔ من الحوض۔ کچھڑ یا کائی
 وغیرہ۔ کائی ہوئی کھیتی کا مٹی بھر حصہ۔

ج۔ کدڑ۔

الکدڑ والکدڑ والکدیر۔ من العیش أو الألوآن وغیر ذلک۔

غیر صاف۔ میلا۔ گدلا۔ مکر۔

الکدڑ۔ سخت قوی بدن کا جوان۔

جماڑ کدڑ۔ بھدا موٹا گدھا۔

الکد آرج۔ ہانڈی میں گھی کی تلچھٹ۔

الکدڑ۔ ٹیلا۔ مکر مرث کدڑ راء۔

ج۔ کدڑ۔ سخت سیلاب۔ عیش

آکدڑ۔ مکر زندگی۔

کد مسہ (رض) کد سا و کد اس۔ دفع

کرنا۔ ہٹانا۔ کدس بید الارض زمین

پر پھچاڑ دینا۔ کدست الدآبہ۔

چوپائے کا پھینکنا۔ المثقل فی

سنیرہ۔ گراں بار آدمی کا دوڑنا۔

الخبیل۔ گھوڑوں کا چلنے میں ایک

دوسرے پر سوار ہونا۔ کد سا۔

بدشگونی کرنا۔ بدفالی لینا۔

کدس الحصید۔ کٹی ہوئی کھیتی کا ڈھیر

ایک دوسرے کے اوپر لگانا۔

تکدس۔ کدس کا تابع۔ ڈھیر ایک

دوسرے کے اوپر ہونا۔ تکدست

الخبیل۔ گھوڑوں کا چلنے میں ایک

دوسرے پر سوار ہونا۔

تکدس۔ الرجل۔ کندھے ہلاتے ہوئے

سینہ ابھار کر تیز چلنا۔ القرس۔

گھوڑے کا گرانبار کی مانند چلنا۔

الکدسہ والکد اس۔ جانوروں کی

پھینک۔ کبھی انسان کے لیے بھی

استعمال کیا جاتا ہے۔

الکد اس۔ من الثلیج أو الحصید

أو ما أشبه۔ برف یا کٹی ہوئی کھیتی

کا ڈھیر۔

الکدس۔ ج۔ آکد اس۔ والکد اس

ج۔ کد ادیس۔ کائی ہوئی کھیتی کا

ڈھیر۔

آکد اس الرمل۔ ریت کا تہ بننے ڈھیر۔

الکد اسہ۔ ایک دوسرے پر اکٹھا کیا

ہوا ڈھیر۔

الکادس۔ فلوہ چیز جس سے بدفالی

جلے، جیسے پھینک وغیرہ۔ ج۔

گو ادس۔

المشکادس۔ فا۔ من الشجیر۔ گنجان

درخت۔

کد شہ (رض) کد شفا۔ خواش لگانا۔

تلوار یا نیزے سے مارنا۔ سختی سے

ہٹانا۔ کاٹنا۔ نکال دینا۔

کدش۔ یعیالیہ۔ اہل و عیال کے لیے

روزی تلاش کرنا۔

آکدش واکتدش۔ من خلون

عطاء۔ کسی سے بخشش حاصل کرنا۔

ینخبیر۔ تھوڑی سے خبر دینا۔

تکدش۔ الرجل۔ کسی کے پیچھے کے

دھکے سے کرنا۔

الکدش زخم۔ کہا جاتا ہے "جلد کدش"

زخمی کھال۔

الکد اش۔ بہت کمانے والا۔ باصرار

مانگنے والا۔

کد عہ (رف) کد عہ ہٹانا۔ دفع کرنا۔

الکد عہ۔ ذیل ورسوا ہونا۔

آکد ف۔ القرس۔ گھوڑے کے ٹاپ

کی آواز سنائی دینا۔

الکد فہ۔ گھوڑے کی ٹاپ یا پاؤں کی آواز۔

کد کد۔ الرجل۔ بہت زیادہ ہنسنا۔

چلنے میں گرانبار ہونا۔ علیہ۔ حملہ

کرنا۔

کد کدہ وکد کدہ۔ سختی سے ہٹانا

اور نکال دینا۔

الکد کدہ۔ مہ۔ سخت چیز پر کسی چیز کے

مارنے کی آواز۔

کدن دن ض، کدما۔ اگلے دانتوں سے

کاٹنا اور چوننا۔ الصبید۔ شکار کو

بھگانا۔ محاورہ ہے: کدما فی غیر

مکدیم: بے موقع طلب کیا۔

کادمت الدآبہ الخشیش۔ چوپائے

کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔

آکدیم۔ الایسیئر۔ قیدی کا اچھی طرح سے

باندھا جانا۔

تکاد مؤابا لآخواج۔ ایک دوسرے کو

دانت سے کاٹنا۔

الکدام۔ اثر، نشان۔ ج۔ کدوم۔

الکدام۔ دانتوں سے بہت کاٹنے والا۔

بہت جنگ جو۔ سبز سرکالی ٹڈی۔

واحد کد مہ۔

الکد مہ۔ کدم کا اسم مرہ۔ داغ۔ نشان۔

الکد مہ۔ حرکت۔

الکدوم و الکدام۔ دانتوں سے بہت

کاٹنے والا۔

الکدام۔ گھاس کی شکستہ جڑیں جو

بارش کے بعد پھراگ آئیں۔ بوڑھا

مرد۔

الکدامہ۔ کھائی ہوئی چیز کا بقیہ حصہ۔

دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔

الکدامہ و الکدام۔ کھائی ہوئی چیز کا

بقیہ حصہ۔

المکدام۔ دانت سے کاٹنے کی جگہ۔

المکدام من الجبال والاکیسیہ۔

مضبوط ٹی ہوئی رسیاں وغیرہ۔ فذخ

مکدام۔ موٹے دل کا شیشہ کا پیالہ۔

ایسیئر مکدام۔ رسی سے بندھا

ہوا قیدی۔

المکدام۔ دانت سے کاٹا ہوا۔ رجل

مکدام۔ جنگ کا زخمی شدہ۔

کدن کدنا۔ بالتوب۔ پشکا باندھنا۔

الکدن والکدن۔ کپڑا جس کو عورت

مارنے کی آواز۔

کدن دن ض، کدما۔ اگلے دانتوں سے

کاٹنا اور چوننا۔ الصبید۔ شکار کو

بھگانا۔ محاورہ ہے: کدما فی غیر

مکدیم: بے موقع طلب کیا۔

کادمت الدآبہ الخشیش۔ چوپائے

کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔

آکدیم۔ الایسیئر۔ قیدی کا اچھی طرح سے

باندھا جانا۔

تکاد مؤابا لآخواج۔ ایک دوسرے کو

دانت سے کاٹنا۔

الکدام۔ اثر، نشان۔ ج۔ کدوم۔

الکدام۔ دانتوں سے بہت کاٹنے والا۔

بہت جنگ جو۔ سبز سرکالی ٹڈی۔

واحد کد مہ۔

الکد مہ۔ کدم کا اسم مرہ۔ داغ۔ نشان۔

الکد مہ۔ حرکت۔

الکدوم و الکدام۔ دانتوں سے بہت

کاٹنے والا۔

الکدام۔ گھاس کی شکستہ جڑیں جو

بارش کے بعد پھراگ آئیں۔ بوڑھا

مرد۔

الکدامہ۔ کھائی ہوئی چیز کا بقیہ حصہ۔

دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔

الکدامہ و الکدام۔ کھائی ہوئی چیز کا

بقیہ حصہ۔

المکدام۔ دانت سے کاٹنے کی جگہ۔

المکدام من الجبال والاکیسیہ۔

مضبوط ٹی ہوئی رسیاں وغیرہ۔ فذخ

مکدام۔ موٹے دل کا شیشہ کا پیالہ۔

ایسیئر مکدام۔ رسی سے بندھا

ہوا قیدی۔

المکدام۔ دانت سے کاٹا ہوا۔ رجل

مکدام۔ جنگ کا زخمی شدہ۔

کدن کدنا۔ بالتوب۔ پشکا باندھنا۔

الکدن والکدن۔ کپڑا جس کو عورت

مارنے کی آواز۔

کدن دن ض، کدما۔ اگلے دانتوں سے

کاٹنا اور چوننا۔ الصبید۔ شکار کو

بھگانا۔ محاورہ ہے: کدما فی غیر

مکدیم: بے موقع طلب کیا۔

کادمت الدآبہ الخشیش۔ چوپائے

کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔

آکدیم۔ الایسیئر۔ قیدی کا اچھی طرح سے

باندھا جانا۔

تکاد مؤابا لآخواج۔ ایک دوسرے کو

دانت سے کاٹنا۔

الکدام۔ اثر، نشان۔ ج۔ کدوم۔

الکدام۔ دانتوں سے بہت کاٹنے والا۔

بہت جنگ جو۔ سبز سرکالی ٹڈی۔

واحد کد مہ۔

الکد مہ۔ کدم کا اسم مرہ۔ داغ۔ نشان۔

الکد مہ۔ حرکت۔

الکدوم و الکدام۔ دانتوں سے بہت

کاٹنے والا۔

الکدام۔ گھاس کی شکستہ جڑیں جو

بارش کے بعد پھراگ آئیں۔ بوڑھا

مرد۔

الکدامہ۔ کھائی ہوئی چیز کا بقیہ حصہ۔

دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔

الکدامہ و الکدام۔ کھائی ہوئی چیز کا

بقیہ حصہ۔

المکدام۔ دانت سے کاٹنے کی جگہ۔

المکدام من الجبال والاکیسیہ۔

مضبوط ٹی ہوئی رسیاں وغیرہ۔ فذخ

مکدام۔ موٹے دل کا شیشہ کا پیالہ۔

ایسیئر مکدام۔ رسی سے بندھا

ہوا قیدی۔

المکدام۔ دانت سے کاٹا ہوا۔ رجل

مکدام۔ جنگ کا زخمی شدہ۔

کدن کدنا۔ بالتوب۔ پشکا باندھنا۔

الکدن والکدن۔ کپڑا جس کو عورت

مارنے کی آواز۔

کدن دن ض، کدما۔ اگلے دانتوں سے

کاٹنا اور چوننا۔ الصبید۔ شکار کو

بھگانا۔ محاورہ ہے: کدما فی غیر

مکدیم: بے موقع طلب کیا۔

کادمت الدآبہ الخشیش۔ چوپائے

کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔

آکدیم۔ الایسیئر۔ قیدی کا اچھی طرح سے

باندھا جانا۔

تکاد مؤابا لآخواج۔ ایک دوسرے کو

دانت سے کاٹنا۔

الکدام۔ اثر، نشان۔ ج۔ کدوم۔

الکدام۔ دانتوں سے بہت کاٹنے والا۔

بہت جنگ جو۔ سبز سرکالی ٹڈی۔

واحد کد مہ۔

الکد مہ۔ کدم کا اسم مرہ۔ داغ۔ نشان۔

الکد مہ۔ حرکت۔

الکدوم و الکدام۔ دانتوں سے بہت

کاٹنے والا۔

الکدام۔ گھاس کی شکستہ جڑیں جو

بارش کے بعد پھراگ آئیں۔ بوڑھا

مرد۔

الکدامہ۔ کھائی ہوئی چیز کا بقیہ حصہ۔

دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔

الکدامہ و الکدام۔ کھائی ہوئی چیز کا

بقیہ حصہ۔

المکدام۔ دانت سے کاٹنے کی جگہ۔

المکدام من الجبال والاکیسیہ۔

مضبوط ٹی ہوئی رسیاں وغیرہ۔ فذخ

مکدام۔ موٹے دل کا شیشہ کا پیالہ۔

ایسیئر مکدام۔ رسی سے بندھا

ہوا قیدی۔

المکدام۔ دانت سے کاٹا ہوا۔ رجل

مکدام۔ جنگ کا زخمی شدہ۔

کدن کدنا۔ بالتوب۔ پشکا باندھنا۔

الکدن والکدن۔ کپڑا جس کو عورت

مارنے کی آواز۔

کدن دن ض، کدما۔ اگلے دانتوں سے

کاٹنا اور چوننا۔ الصبید۔ شکار کو

بھگانا۔ محاورہ ہے: کدما فی غیر

مکدیم: بے موقع طلب کیا۔

کادمت الدآبہ الخشیش۔ چوپائے

کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔

آکدیم۔ الایسیئر۔ قیدی کا اچھی طرح سے

باندھا جانا۔

تکاد مؤابا لآخواج۔ ایک دوسرے کو

دانت سے کاٹنا۔

الکدام۔ اثر، نشان۔ ج۔ کدوم۔

الکدام۔ دانتوں سے بہت کاٹنے والا۔

بہت جنگ جو۔ سبز سرکالی ٹڈی۔

واحد کد مہ۔

الکد مہ۔ کدم کا اسم مرہ۔ داغ۔ نشان۔

الکد مہ۔ حرکت۔

الکدوم و الکدام۔ دانتوں سے بہت

کاٹنے والا۔

الکدام۔ گھاس کی شکستہ جڑیں جو

بارش کے بعد پھراگ آئیں۔ بوڑھا

مرد۔

الکدامہ۔ کھائی ہوئی چیز کا بقیہ حصہ۔

دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔

الکدامہ و الکدام۔ کھائی ہوئی چیز کا

بقیہ حصہ۔

المکدام۔ دانت سے کاٹنے کی جگہ۔

المکدام من الجبال والاکیسیہ۔

مضبوط ٹی ہوئی رسیاں وغیرہ۔ فذخ

مکدام۔ موٹے دل کا شیشہ کا پیالہ۔

ایسیئر مکدام۔ رسی سے بندھا

ہوا قیدی۔

المکدام۔ دانت سے کاٹا ہوا۔ رجل

مکدام۔ جنگ کا زخمی شدہ۔

کدن کدنا۔ بالتوب۔ پشکا باندھنا۔

الکدن والکدن۔ کپڑا جس کو عورت

مارنے کی آواز۔

کدن دن ض، کدما۔ اگلے دانتوں سے

کاٹنا اور چوننا۔ الصبید۔ شکار کو

بھگانا۔ محاورہ ہے: کدما فی غیر

مکدیم: بے موقع طلب کیا۔

کادمت الدآبہ الخشیش۔ چوپائے

کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔

آکدیم۔ الایسیئر۔ قیدی کا اچھی طرح سے

باندھا جانا۔

تکاد مؤابا لآخواج۔ ایک دوسرے کو

دانت سے کاٹنا۔

الکدام۔ اثر، نشان۔ ج۔ کدوم۔

الکدام۔ دانتوں سے بہت کاٹنے والا۔

بہت جنگ جو۔ سبز سرکالی ٹڈی۔

واحد کد مہ۔

الکد مہ۔ کدم کا اسم مرہ۔ داغ۔ نشان۔

الکد مہ۔ حرکت۔

الکدوم و الکدام۔ دانتوں سے بہت

کاٹنے والا۔

الکدام۔ گھاس کی شکستہ جڑیں جو

بارش کے بعد پھراگ آئیں۔ بوڑھا

مرد۔

الکدامہ۔ کھائی ہوئی چیز کا بقیہ حصہ۔

دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔

الکدامہ و الکدام۔ کھائی ہوئی چیز کا

بقیہ حصہ۔

المکدام۔ دانت سے کاٹنے کی جگہ۔

المکدام من الجبال والاکیسیہ۔

مضبوط ٹی ہوئی رسیاں وغیرہ۔ فذخ

مکدام۔ موٹے دل کا شیشہ کا پیالہ۔

ایسیئر مکدام۔ رسی سے بندھا

ہوا قیدی۔

المکدام۔ دانت سے کاٹا ہوا۔ رجل

اَلْكَذِبُ نَفْسُهُ. جھوٹ بولنے کا اقرار کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَلْكَذِبُ فُلَانٌ: جبکہ آواز دی جائے اور وہ خاموش پڑا رہے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ سویا ہوا ہے۔ اس کا اسم الایکذاب ہے۔

كَاذِبَةٌ كِذَا أَبُو مَكَاذِبَةٍ. جھٹلانا کسی کو یہ کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تَكْذِيبٌ. بتکلف جھوٹ بولنا۔ فُلَانًا وَعَلَيْهِ. جھوٹا سمجھنا۔

تَكَذَّبَ. الْقَوْمُ. ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا۔

الكَذِبُ ابْتِثَالٌ الْكَافِ. وَالْكَذِبُ ابْنُ الْكَذِبِ بَانٌ. جھوٹ۔

الْكَذِبُ وَبِهِ. جھوٹ۔ ج. اَلْكَاذِبُ. اَلْكَاذِبُ. ف. ج. كَذِبَةٌ وَكَذَابٌ وَكَذِبٌ.

الْكَاذِبَةُ. كاذب کا مؤنث۔ ج. كَاذِبَانٌ وَكَوَاذِبٌ. جھوٹ۔

الْكَذُوبُ. ج. كَذِبٌ. وَالْكَذِبَانُ وَالْكَذِيبَانُ وَالْكَذِيبَانُ. بڑا جھوٹا۔ اَلْمَكْذُوبُ. نفس۔

الْمَكْذِبَةُ وَالْمَكْذِبَةُ. ج. مَكَاذِبٌ وَالْمَكْذُوبُ وَالْمَكْذُوبَةُ. مَكَاذِيبٌ. جھوٹ۔

التَّكَذِيبُ. جھوٹی باتیں، لغو و باطل باتیں۔

كَذَا. دو طریقوں سے مستعمل ہے۔

۱۔ دونوں لفظ یعنی کاف حرف تشبیہ

اور ذَا اسم اشارہ اپنی اصلی حالت

پر برقرار ہیں۔ جیسے رَأَيْتُ زَيْدًا

فَأَضِلُّهُ وَرَأَيْتُ عَمْرُوًا كَذَا

میں نے زید کو قابل دیکھا اور میں

نے عمرو کو بھی ایسا دیکھا۔ اس صورت

میں ہا کلمہ تشبیہ بھی داخل ہوتا ہے

اور کہا جاتا ہے هَكَذَا۔

۲۔ یہ لفظ صرف انہی دو کلموں سے

مرکب ہو رہا، داخل نہیں ہوگی اور

اس سے تعداد کی طرف اشارہ اور

کنا یہ ہوگا۔ جیسے قَبَضْتُ كَذَا و

كَذَا اِدْرَهْمًا، میں نے اتنا اور

اتنے درہم وصول کیے۔ یا تعداد کے

علاوہ دوسری چیز کی طرف کنا یہ ہوگا

جیسے بِمَكَانٍ كَذَا و كَذَا۔

گَرْدَنٌ، كَرُوسَةٌ، لُطْمَانٌ، طَرْنَانٌ، جیسے

اَلْمُهْزَمُ عَنْهُ ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ۔

اس نے اس سے شکست کھائی،

اور پھر حملہ کے لیے لوٹ پڑا۔ یعنی

پنیرا بدلتے کے لیے وہ بھاگا، پھر

اس نے دوبارہ حملہ کیا۔ صفت

كَرَّارٌ ہے۔ محاورہ ہے الْجَوُّ

يَصْلُحُ بِلُكْرٍ وَالْفَرُّ بِكُفْرٍ اَلْكَوْنِ

اور حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے

۔ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ رات دن کا

باری باری آنا۔

كَرَّ كَرًّا۔ الرَّجُلُ لُطْمَانًا وَكُرُوسًا

وَتَكْرَارًا۔ الْفَارِسُ عَلَى الْعَدُوِّ

شہسوار کا دشمن پر حملہ کرنا، اور

ٹوٹ پڑنا۔

كَرَّوْنٌ، كَرِيْمًا۔ الْمَرِيضُ مَرِيضًا

جان وے دینا۔

كَرَّ كَرًّا۔ صَدْرُهُ. گلا گھونٹے ہوئے

کی طرح آواز نکلنا۔

كَرَّ تَكْرَارًا و تَكْرِيْرًا و تَكْرُوةً۔

الشیء کسی کو بار بار کرنا۔

تَكْرُسًا۔ بار بار ہونا۔

اَلْمَكْرُ. مہم۔ کھجور کے پتوں کی کھجور کے

درخت پر چڑھنے کی رسی۔ جہاز کا رتہ

ج۔ كَرُوسَةٌ۔

اَلْكَو. کواں۔ ج۔ كِيَوَارٌ۔ ایک پیمانہ جو

چالیس ادب کا بیان کیا جاتا ہے۔

چادر۔ ج۔ اَلْكَوَسَا.

اَلْكَو. نماز پڑھنے کا رومال۔ ج۔ اَلْكَوَارُ

و كَرُوسَةٌ۔

اَلْمَكْرُةُ. لڑائی میں حملہ۔ مؤنثین یا حساب

دانوں کے نزدیک ایک لاکھ۔ ج۔

كِرَاتٌ. طری ہوئی بینگیاں۔ جس

سے زرہ کو صاف کیا جاتا ہے۔ صبح و

شام، ان دونوں کو كِرَاتَانِ و

قِرَاتَانِ کہتے ہیں۔

اَلْبَكْرِي. لڑائی میں حملہ۔

اَلْكَرِيْرُ. گلا گھونٹے ہوئے کی طرح ڈھلے

ہوئے کی مانند سینے کی آواز وغیرا وغیرہ

کی وجہ سے گلوگرتگی۔

اَلْمَكْرَارُ و اَلْمَكْرُ. لڑائی میں دوبارہ بہت

حملہ کرنے والا۔ قَوْمٌ مَكْرٌ و مَكْرٌ

گھوڑا ایسا سدھ ہوا ہو کہ حملے کے

وقت حملہ کرے۔ اور جب بھاگنے کا

ارادہ ہو تو لے کر بھاگ جائے۔ نَاقَةٌ

مَكْرَةٌ۔ وہ اونٹنی جس کو ایک دن

میں دو مرتبہ دونا جائے۔

كَرْبٌ دَنٌ، كَرْبًا۔ اَلْحَبْلُ. رسی بٹنا۔

۔ الْقَيْدُ عَلَى الْمُقَيَّدِ. قیدی پر

بڑی کوتنگ کرنا۔ هُ الْاَمْرُ. کام کا

دشوار ہونا۔ هُ الْخَطُّ. سخت رنج

ہونا۔ الدَّائِرَةُ. ڈول کے دستے میں

چھوٹی رسی باندھنا۔ کھجور کے درخت

کے تنے سے متصل ٹہنی کی جڑ لینا۔

كَرْوَبًا. غریب ہونا۔ السَّارُ. آگ

بچھنے لگنا۔ آفتاب کا غروب ہونے کے

قریب ہونا۔ فُلَانٌ. کھجور کے تنے

کے قریب چنی ہوئی کھجوریں کھانا۔

بے آب و گیاہ والی زمین میں کھیتی کرنا۔

كَرْبٌ الشَّاقَّةُ۔ اونٹنی کو بو جھل کرنا۔

كَرْبٌ فعل مقارب بھی ہے۔ جیسے

کسی چیز کو تلوار سے کاٹنا۔ قَوَائِمًا
طانگیں جدا کرنا۔

تَنَكُّوبًا۔ پیٹھ کے بل گرنا۔
کَوْبَلٌ۔ کیچڑ میں چلنا۔ پانی میں گھسنا۔
الشیءُ بالشیءِ۔ ایک چیز کو دوسری
چیز میں ملانا۔ العَصْفَةُ۔ گیہوں
چھاننا۔ صاف کرنا۔

الکُوْبَالُ۔ گیہوں چھاننے کی چھلنی۔ رُوْنِي
دھننے کی کمان۔ جہ۔ کَوَابِلٌ۔

الکُوْبَلَةُ۔ مہم۔ پاؤں کی سستی اور
نرمی۔ کہاوت ہے۔ جَاءَ يَمَشِي
مُكُوْبِلًا۔ وہ اس طرح آیا۔ گویا

کیچڑ میں چل رہا ہے۔
كُرْتَحَلًا۔ بچھاڑنا۔ تَكَرَّتَ فِي
مَشْيِهِ۔ تیز گزر جانا۔

كُرْتَرَنَ صُ، كُرْتَاوَا كُرْتًا۔
العَمْرُ قُلَانًا۔ بہت رنجیدہ ہونا۔

الكَوْبَةُ۔ الحَبْلُ۔ رسی کا ٹوٹنا۔
اِكْتَرَتْ۔ يَلَاؤُهَا۔ کام کی پرواہ کرنا۔

کہتے ہیں: "هُوَ لَا يَكْتَرِتُ بِهَذَا
الْأَمْرِ"۔ وہ اس معاملہ میں پرواہ
نہیں کرتا۔

الكَوَاتُ وَالكَوَاتُ۔ گیندنا۔ ایک
بدبودار قسم کی ترکاری۔ جس کی بعض
قسمیں پیاز اور بعض لہسن کے مشابہ
ہوتی ہیں اور بعض کے سرے نہیں
ہوتے۔ واحد كَوَاتَةٌ۔

الكَارِثُ۔ سخت غم انگیز معاملہ یا واقعہ
جہ۔ كَوَارِثُ۔

الكَوَيْثُ غَمٌ اَنْكَبَ مَعَالَهُ۔ کہا جاتا ہے۔
يَتَنَتُّ الْكَوَيْثُ الْأَمْرُ، جبکہ کوئی
پچھے بٹے اور بزدلی اختیار کرے۔

كُوْتًا وَتَكُوْتًا۔ الشَّعْرُ وَنَحْوَهُ۔ بال
وغیرہ کا گنجان ہونا۔

کُوْتِيٌّ۔ تہ بہ تہ بادل۔ اندے کے اوپر

میں کُوْتٌ پڑھتے ہیں۔ جہ۔ کُوْتِيٌّ۔
کبھی عبرانی لفظ کو بھی استعمال کرتے
ہیں۔ واحد كُوْتِيٌّ۔

الكَوَيْبُ۔ بانس کی گرہ۔ تانباؤ کا
بیلن۔

الكَوَيْبُ۔ مِنَ الْأَرْضِ۔ بے آب و
گیاہ زمین۔ وَالْمَكُوْبُ۔ رنجیدہ
پریشان۔

الكَوَيْبَةُ۔ کویب کا مونت۔ سخت
مصیبت۔ جہ۔ كَوَابِثُ۔ کہا جاتا
ہے۔ مَا فِي الدَّارِ كَوَاتٌ، گھر میں
کوئی نہیں ہے۔

الْاِكْوَابُ۔ مہم۔ جلد بازی۔ محاورہ ہے
"خُذْ رَجْلَيْكَ بِالْاِكْوَابِ"
جانے میں جلدی کرو۔

الْمَكُوْبُ۔ مِنَ الْمَقَاصِلِ۔ پھٹوں
سے بھرا ہوا مضبوط رسی کا عمارت یا
جوڑو وغیرہ۔ حَافِرٌ مَكُوْبٌ۔
مضبوط گھر۔

الْكُوْبِيُّ۔ دکان یا دکان کا سامان۔ جہ
کَوَابِجُ۔ (دخیل)

كَسْبًا۔ فِي عَدْوٍ۔ دوڑنے میں زور
لگانا۔ تیز دوڑنا۔

كُوْبَسٌ۔ بڑی پٹے ہوئے شخص کی طرح چلنا۔
تَنَكُّوْبَسٌ۔ مِنْ ظَهْرِ قَرِيْبَةٍ۔ گھوڑے
کی پیٹھ سے گر پڑنا۔

الکُوْبَاتُ سٌ۔ کھردرا کپڑا۔ شراب چھاننے کی
چیز۔ جہ۔ كَوَابِيسٌ۔ رَجُلٌ مَكُوْبِسٌ
الذَّائِمِ۔ گول سرو الامرد۔

كُوْبِسٌ۔ چھلانگ لگانے کے لیے
طانگوں کو اکٹھا کرنا۔ بڑی پٹے ہوئے
کی طرح چلنا۔ الشیءُ۔ کسی چیز کو

لینا اور باندھنا۔
تَنَكُّوْبِسٌ۔ اِلْجَلْدُ۔ کھال کا سلٹنا۔

کُوْبَعَةٌ۔ بچھاڑنا۔ الشیءُ بالشیءِ۔

كُوْبٌ يَفْعَلُ۔ وہ کرتے لگا۔
كُوْبٌ كُوْبًا وَكُوْبًا۔ الْأَرْضُ لِلدَّرَجِ۔
کھیتی کے لیے زمین جوتنا۔

كُوْبٌ كُوْبًا۔ الرَّجُلُ۔ ڈول کے دستہ
کی رسی کا ٹوٹنا۔

كُوْبٌ۔ سَخٌ وَغَمٌ هُونًا۔
كُوْبٌ۔ الدَّوْلُ۔ ڈول کے دستہ پر
چھوٹی رسی باندھنا۔ الرَّجُلُ۔ بے

آب و گیاه زمین میں کھیتی کرنا۔ تنز کے
قریب گری ہوئی کھجوریں کھانا۔

اَكُوْبٌ۔ قَرِيْبٌ هُونًا۔ الْأَمْرُ۔ کام کا
قریب الوقوع ہونا۔ الْإِكْمَاءُ۔ برتن
کا بھرنے کے قریب ہونا۔ فِي السَّيْرِ

تِيْزَ چلنا۔ الْقَرِيْبَةُ۔ مشک بھرنے۔
كَارِيْبَةُ مُكَارِيْبَةٌ وَكَوَابًا۔ ایک دوسرے
کے قریب ہونا۔

تَنَكُّوْبٌ۔ تنز کے قریب کی کھجوریں چننا۔
اِكْتُوْبٌ اِكْتُوْبًا وَاِكْتُوْبًا اِكْتُوْبًا۔
سخت رنجیدہ ہونا۔

الكَوْبُ۔ جہ۔ كُوْبٌ۔ وَالْكَوْبَةُ۔ جہ
كُوْبٌ۔ رنج و مشقت۔

الكَوْبُ۔ ڈول کے رے کو اس کے کڑی
کے رے سے ملانے والی چھوٹی رسی۔

کھجور کی ٹہنی کی موٹی چوڑی جڑ۔ واحد
كُوْبِيَّةٌ۔

الكَوْبِيَّةُ۔ وہ کڑی جس میں خیمے کے ڈنکے
کا سر رکھا جاتا ہے۔

الكَوَابِيَّةُ۔ سخت مصیبت۔ جہ۔ كَوَابِثُ
۔ وَالْكَوَابِيَّةُ۔ کھجور جو ٹہنی کی جڑ

سے کٹنے کے بعد چنی جائے۔ جہ۔
اَكْرِيْبَةٌ۔

الکُوْبَابُ۔ وادی میں پانی کے نالے۔ واحد
كُوْبِيَّةٌ۔

الكَوُوْبِيُوْنُ وَالْكَوُوْبِيَّةُ۔ فرشتوں
کے سروار۔ مقرب فرشتے۔ عبرانی زبان

<p>الکوسن - چرواہے کا تھیلا۔ چھوٹی بوری۔ کوسن الجھل - گبریل کی گولی۔ ج۔ آکواز و کوسن - الکوسن - ایک درخت جس کا پھل شفتالو یا آڑو کی مانند مگر اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ واحد کوزة۔ و الکوز - حاذق۔ بخیل۔ باز۔ ج۔ کوارس - الکاز و الکاروسن - واعظ اور انیل کی بشارت دینے والا۔ ایکراسن - ج۔ کوزان - الیکزان شیشی یا تنگ منہ کا کوزہ۔ الکواز - چرواہے کا تھیلا۔ کھانے والا بے سینگ کا بیٹھا۔ من المعز گھٹی والی بکری، جس کے پیچھے باقی ریوڑ ہوتا ہے۔ ج۔ گواریز۔ الکوئیز - ترش دودھ سے بنایا ہوا پیاز الکوئسنا - عیسائی تعلیمات کا وعظ۔ کوسنم کوسنمہ - الرجل - دوپہر کے وقت کا کھانا۔ الکوئزم - بہت کھانے والا۔ چھوٹی تاک والا۔ کلہاڑا۔ الکوئسٹم و الکوئینیم - کلہاڑا۔ سخت مصیبت۔ ج۔ گوازہ و گوازیئم۔ کوسن - البناء - عمارت کی بنیاد رکھنا۔ - الأستفقت البیعة والأقانی الکنیسہ وغیرہا۔ وقت کرنا۔ خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کرنا۔ دھرنی دھیل لفظ آکرس - التکان - بول و براز سے آلودہ ہونا۔ آکرسہ - بول و براز والی جگہ میں داخل کرنا۔ تکوسن - بنیاد رکھا جانا۔ وقف ہونا۔</p>	<p>کے دستہ دستہ بنانا۔ اشیء۔ کسی چیز کو باندھنا۔ بیڑی ڈالنا۔ بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔ الخمار گدھے کو تیز چلاتا۔ الرجل۔ کسی کو پھپھارنا۔ کوزیس - الرجل - ماتھے پاؤں اکٹھا باندھا جانا۔ تکوزس - سکراتا اور ایک کا دوسرے پر جمع ہونا۔ الکوڈوس - کندھے کی ہڈی۔ کوڈوسہ - گھوڑوں کا بڑا گلہ۔ ہر وہ ہڈی جس پر گوشت ہو۔ ہر جوڑ کی دونوں ہڈیاں۔ ج۔ گوادیس و کسادیس - گوادیس الفوس گھوڑے کے جوڑ۔ الکوڈوس - گھٹے بدن والا۔ کوڈم - موٹے پستہ قد آدمی کی طرح دوڑنا۔ القوم - قوم کو جمع کرنا۔ تکوڈم - گھبرا کر دوڑنا۔ الکوڈم و الکوڈوم - من الرجال موٹا پستہ قد۔ ج۔ گوادیم و گوادیم۔ الکوڈم - بہادر۔ کوسن رض - کوسن - داخل ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔ الی فلان - پناہ لینا کوسن - وعظ کرنا اور انجیل کی بشارت دینا۔ کوسن - البازی - باز کو سدھانے کے لیے اس کی آنکھوں کو سینا اور کھلانا۔ کوسن - البازی - باز کے پروں کا گرنا۔ کارر مکاررہ - الی المکان - دوڑ کر کسی جگہ چھپنا۔ عتہ - بھاگنا - بھاگنا اور عاجزی ظاہر کرنا۔ - القوم - قوم کا ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو لینا۔</p>	<p>کا چھلکا۔ الکوڈسہ و الکوڈسہ - گنجان نباتات گریج رس، گریجا و گریج و اگریج و تگریج - الخبوز - روٹی کا خراب ہونا۔ پھپھوندی لگنا۔ عوام عفن کہتے ہیں۔ الکوڈج - ایک قوم کا نام۔ واحد کوڈجی۔ الکوڈجی - پھیرے کی شکل کی ایک چیز جس پر کھیلا جاتا ہے۔ الکوڈجی - محنت الکوڈج - راہب کا گھر۔ ج۔ آکساح۔ کوڈم رف، کوڈخا - الماء الی مواضعہ - پانی کو اس کے مقامات تک لے جانا۔ کوڈون، کوڈا - الدابة - جانور کو ہانکنا۔ العداو - دشمن کو دور کرنا۔ اشیء کسی چیز کو کاٹنا۔ کاررہ مکاررہ - دور کرنا۔ نکالنا ہٹانا۔ الکوڈ - گردن کی جڑ۔ کہتے ہیں: آخذہ یکوڈہ او یکوڈیہ: اس نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ الکوڈ والا کراڈ - ایشیا کی ایک قوم کا نام۔ واحد کوڈی۔ کوڈم - پستہ قد کی طرح دوڑنا۔ فلاناً کسی کو پھپھارنا۔ تکوڈم - فی عدوہ - پستہ قد کی طرح دوڑنا۔ فلاناً - کسی کو پھپھارنا الکوڈم - بڑھیا، مضبوط اور سخت مرد۔ الکوڈم - پستہ قد الکوڈاس - دوڑنے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے والا۔ الکوڈخہ - مہم۔ تیز دوڑنا الکوڈس - نا۔ ذیل و حقیر۔ کوڈس - الخیل - گھوڑوں کو جمع کرنا۔</p>
--	---	---

الشیءُ چھٹنا اور سخت ہونا۔
 اُسُ ایسائو۔ عمارت کی بنیاد کا
 مضبوط ہونا اور تہ بہ تہ ہونا۔
 الحَبَّتْ وَنَحْوُهَا۔ دانہ وغیرہ جمع
 کرنا۔

اِنکُوسَ۔ عَلَیْهِ۔ اوندھا ہونا۔ فی
 الشیء۔ کسی چیز میں اوندھا ہو کر
 داخل ہونا۔

المکُوسُ۔ ہر چیز کا ڈھیر بول و براز سے
 نظری ہوئی جگہ۔ بکریوں کے بچوں
 کا باڑا۔ جڑ، اصل۔ ج۔ اَکُوسُ
 جج۔ اَکَادِیْسُ وَ اَکَادِیْسُ۔
 کُوسُ الحَوْضِ۔ حوض کے ارد گرد
 بول و براز سے آلودہ جانوروں کا بارہ
 اِنکُوسَةُ وَ اِنکُوسُ۔ کتاب کا جزو۔
 پمفلٹ۔ رسالہ۔ چھوٹا مجموعہ جو کتاب
 سے کمتر ہو۔ ج۔ کُورِیْسُ۔

اِنکُوسِی۔ تخت۔ کُوسِی جس پر بیٹھا جائے
 ج۔ کُورِیْسِی وَ کُورِیْسِی۔ کُوسِی
 الِاسْتِقْفِی۔ پادری کی قیام گاہ۔
 کُوسِی الْمَلِکِ۔ تخت شاہی۔
 وَ اِنکُوسِی۔ علم۔ کہا جاتا ہے۔
 "هُوَ مِنْ اَهْلِ اِنکُوسِی" یعنی
 وہ اہل علم میں سے ہے۔ یہ بھی کہا
 جاتا ہے۔ لَاجَعْلُ لِهَذَا الْحَاثِطِ
 کُوسِیَا۔ اس دیوار کے لیے پشتہ
 بنا دو۔ کُوسِی الْجُوزَاءِ۔ ستارے
 اِنکُوسِی۔ علاو۔

اِنکُوسِی۔ چھت کے اوپر کا پاخانہ۔
 ج۔ کُورِیْسِی۔

اِنکُوسِی۔ بڑے سروالا۔ ہر ضخیم چیز
 سیاہ۔

المکُوسُ وَ المکُوسُ۔ مفعول۔ مِنَ
 المکُوسِی۔ دودھ گاؤں میں علمدہ
 علمدہ موتی اور خروں سے گوندھ کر

بڑے ہروں سے جوڑا ہوا ہار۔
 المکُوسُ۔ جوان پستہ قد۔ پُر گوشت۔
 کُوسَعٌ کُوسَعَةٌ۔ الرَّجُلُ۔ دوڑنا۔
 فَلَائًا۔ گٹے کے چھنگلیا والے حصہ
 پر مارنا۔

اِنکُوسُوعٌ۔ گٹے کا چھنگلیا کی طرف کا حصہ
 ج۔ کُورِیْسِی۔ کُوسُوعٌ القَدَمِ۔
 ٹخنے کا جوڑ۔

اِنکُوسَعَةٌ وَ اِنکُوسُوعَةٌ۔ لوگوں کی
 جماعت۔

المکُوسَعُ۔ گٹے کی چھنگلیا کی طرف کا
 اہر ہوا حصہ۔

کُوسَعٌ۔ اِنکُوسَعَةٌ۔ چوپائے کی کوچ
 کا ٹنا۔ اَبْعِیْرٌ۔ اونٹ کے پاؤں
 باندھنا۔ اَلدَّوَاقِی۔ دوات میں
 صوف ڈالنا۔

تَکُوسَعٌ۔ کُوسَعٌ کا تابع۔ کوچ کُوسَعٌ۔
 پاؤں بندھنا۔ دوات میں صوف
 ہونا۔ الشیء۔ کسی چیز کا دوسری چیز
 میں داخل ہونا۔ کُوسَعٌ۔

اِنکُوسَعَةٌ۔ آنکھ کی کدورت۔
 اِنکُوسَعٌ وَ اِنکُوسُوعٌ۔ روٹی۔
 اِنکُوسَعَةٌ وَ اِنکُوسُوعَةٌ۔ روٹی کا
 ٹکڑا۔ دوات کا صوف۔

اِنکُوسَعَةٌ وَ اِنکُوسِیْعَةٌ۔ ایک پودا
 جس کا بیج غلاف میں ہوتا ہے۔ یہ
 موشیوں کے چارے کے کام میں آتا
 ہے۔ اس کے بیج کو گاؤ دانہ کہتے ہیں
 اودھ دوا میں استعمال ہوتا ہے۔

کُوسُ دس، کُوسُ۔ اِلْجَلْدُ۔ کھال کا
 آگ کے اثر سے سکڑنا۔ الرَّجُلُ
 تنہائی کے بعد کسی کے پاس لشکر
 جمع ہونا۔

کُوسُ۔ ترشروٹی کرنا۔ مَکُوسَةٌ۔ ایک
 قسم کا کھانا تیار کرنا۔

مَکُوسٌ۔ وَجْهَةٌ۔ ترشرو ہونا۔ سکڑنا۔
 القومُ۔ قوم کا جمع ہونا۔
 اِسْتَمکُوسُ۔ الجدی۔ بکری کے بچے
 کے پیٹ کا بڑا ہونا۔ اور اس کا کھلنے
 لگنا۔

اِسْتَمکُوسَتْ۔ اِنْفِخَتْ الجدی۔ بکری
 کے بچے کی آنت (لَا نَفْخَتْ) کا اوجھ
 (کوش) جبکہ وہ گھاس چرنے لگے
 ۔ الرَّجُلُ۔ مرد کا تیور سی چڑھانا اور
 سکڑنا۔

اِنکُوسُ وَ اِنکُوسُ۔ جگالی کرنے والے
 جانور کی اوجھ جو ان کے لیے انسانی
 معدہ کی مانند ہوتی ہے (مؤنث) ج
 کُوسُوشٌ۔

اِنکُوسُوشٌ وَ اِنکُوسُوشٌ۔ لوگوں کی جماعت۔
 مرد کے اہل و عیال، چھوٹی اولاد۔ عمدہ
 قسم کی گھاس۔ خوشبو کا ڈبہ۔ کپڑے
 کی گھڑی۔ ج۔ اَسْکُوسُوشٌ وَ
 کُوسُوشٌ۔

کُوسُوشٌ۔ القوم۔ قوم کا بڑا حصہ۔
 کُوسُوشٌ کُوسُوشٌ۔ ہر چیز کا اجتماع۔
 اِنکُوسُوشٌ۔ اوجھ میں پکا ہوا کھانا۔

اَلْاِنکُوسُوشٌ۔ مِنَ التَّوْحَالِ۔ بڑے پیٹ
 والا۔ بقول بعض زیادہ مال والا۔
 مؤنث کُوسُوشٌ۔ ج۔ کُوسُوشٌ۔
 قَدَمٌ کُوسُوشٌ۔ پُر گوشت بھرے
 ہوئے تلوے اور چھوٹی انگلیوں والا
 قدم۔ دَلُوٌ کُوسُوشٌ۔ بڑا گول۔
 اَمَّانٌ کُوسُوشٌ۔ بھرے ہوئے
 کھر کی گدھی۔

اِنکُوسُوشٌ۔ کھانا جو گوشت، چربی اور
 اوجھ ملا کر پکاتے ہیں۔
 کُوسُوشٌ (رض) کُوسُوشٌ۔ الشیء۔ کسی چیز کو
 کاٹنا۔ ہاتھ سے چھوڑنا۔
 کُوسُوشٌ۔ پنیر کھانا۔

اَلْكُوْفُ - الشَّيْءُ - جمع کرنا۔
 اَلْكُوْفِيُّ - تَرَشُ دُوْدِهِ سے بنا ہوا پیپر پیپر
 بنانے کی جگہ۔
 اَلْمَكُوْفِيُّ - دُوْدِهِ دُوْجِنے کا برتن۔
 كُوْفٌ دِنٌ، كُوْفٌ مَاءٌ - الشَّيْءُ - ایک دوسرے
 پر اکٹھا کرنا۔
 كُوْفٌ دِنٌ، كُوْفٌ مَاءٌ - فِي عِرْضِ فُلَانٍ -
 عزت میں بڑھ لگانا۔ کہا جاتا ہے۔
 "هُوَ مَكُوْفٌ الْحَسَبِ" اس کے
 حسب میں عیب لگایا گیا ہے۔
 كُوْفٌ دِنٌ، وَ كُوْفٌ دَسٌ، كُوْفٌ دَوْدٌ وَ كُوْفٌ مَاءٌ -
 فِي الْمَاءِ اَوْ الْاِنَاءِ - پانی یا برتن
 میں منہ لگا کر پانی پینا۔
 كُوْفٌ دِنٌ، كُوْفٌ مَاءٌ - پِنْدَلِيٌّ پَرْتِرْمَانَا -
 كُوْفٌ مَاءٌ، كُوْفٌ مَاءٌ - پِنْدَلِيٌّ كِي تَكْلِيْفٍ مِيں مِتْلَا
 ہونا۔ پایہ کھانے کا شوقین ہونا۔
 بَارِيْكٌ پِنْدَلِيٌّ وَ اَلَا هُوْنَا - اَلشَّاقُ -
 پِنْدَلِيٌّ كِي اَكْلِهِ حَصَّةٌ بَارِيْكٌ هُوْنَا -
 كُوْرَعَتِ السَّمَاءِ - آسْمَانِ كَا بَارَشِ
 برسانا۔
 اَكُوْرَعَةُ الصَّيْدِ - شَكَارُ كَا قَرِيْبٌ اَوْ
 دَسْتَرَسٌ مِيں هُوْنَا -
 اَلْكُوْفُ - اَلْقَوْمُ - مَن لَّكَ اَكْرَمِيَّةٌ كِي قَابِلِ
 پَانِي پَانَا -
 تَعَكَّرَةٌ - الرَّجُلُ - اَطْرَافِ پَر پَانِي
 بہانا۔
 اَلْكُوْفُ - مَمٌ - مَن لَّكَ اَكْرَمِيَّةٌ كِي قَابِلِ پَانِي -
 جَانْرِكِ ثَانِيْكِيں - ذِيْلِ اَوْ بَاشِ اِنْسَانِ
 كِي سِنْدِي يَه لَفْظٌ وَ اَحَدٌ وَ جَمْعٌ دُوْنُوں كِي
 يَه مَسْتَعْمَلٌ هُو - رَجُلٌ كَرِيْمٌ وَ
 رَجَالٌ كُوْفٌ دُوْنُوں طَرَحِ كَمَا جَاتَا
 هُو -
 اَلْكُوْفُ - مِيں اَلْبَقِيَّةُ وَ اَلْغَلْوُ - گَانِي
 كَبْرِي كِي پَانِي دَنْدَكِرُ وَ مَوْزَنُ، اَوْ
 بَعُوْلُ بَعْضِ اَلْكُوْفِ مِيں اَلدَّوَابِّ -

ٹخنوں سے نیچے کا حصہ۔ وَاَلْكُوْفُ
 مِيں اَلْاِنْسَانِ - گھٹنے سے نیچے کی
 پِنْدَلِي كَا اَكْلَا حَصَّةٌ هُو - ج - اَلْكُوْفُ
 وَ اَكْرَامٌ -
 اَلْكُوْفُ - گھوڑے، انچر، گدھے، ہر چیز
 كَا كُنَارُهُ - كُوْفٌ اَلْاَرْضِ - زِيْنِ
 كَا گُوْنُفُ - كَمَا جَاتَا هُو - اَلْمِيْشِ فِي
 كُوْفِ اَلطَّرِيْقِ - رَاسْتِي كِي
 كُنَارِي پَر چلو۔
 اَكْرَامُ اَلْاَرْضِ - زِيْنِ كِي اَخْرِي حِدِيں
 اَوْ كُنَارِي -
 اَلْكُوْفِيُّ - پَانِي پِيْنِي وَ اَلَا -
 اَلْكَارِيْمُ - فَلَ پَانِي مِيں گھسنے وَ اَلَا - خَوَاهِ
 پَانِي پِيْنِي يَانِي پِيْنِي -
 اَلْكَارِيْعَاتُ - پَانِي كِي اَوْ پَر كَهْرُ كَا دَرَخْتِ
 اَلْكَارِيْعَةُ - مَوْزَنُ - ج - كَارِيْعَاتُ -
 اَلْكُوْرِيْعُ - بَرْتَنِ نَه هُونِي كِي وَ جِہ سے اَوْ كِ
 سے پِيْنِي وَ اَلَا -
 اَلْكُوْرَاعُ - اَسْمٌ مَبَالِغَةٌ - كِي نُوں سے دُو سْتِي
 كَرْنِي وَ اَلَا - بَارَشِ كِي پَانِي سے مِيْرَابِ
 كَرْنِي وَ اَلَا -
 اَلْمَكُوْفُ - جَانْدُوں كِي پَانِي پِيْنِي كِي جِگہ
 ج - مَكَارِيْمُ -
 فَرَسٌ مَكُوْرِيٌّ اَلْقَوَائِيْمُ - مَغْضُوْبٌ اَوْ
 سَخْتٌ ثَانِيْكُوں وَ اَلَا گُوْرَا -
 اَلْمَكُوْرِيْعَةُ - مِيں اَلنَّجِيْلِيٌّ وَ اَلْغَيْرِيَّةُ -
 پَانِي مِيں لگایا ہوا درخت۔
 كُوْفٌ دِنٌ، كُوْفٌ مَاءٌ وَ كُوْفٌ مَاءٌ وَ
 اَكْرَفٌ - اَلْحَمَارُ وَ اَلْغَيْرَةُ - گدھے
 كَا پِيْتَابِ كُو سُو گدھ كُر سَر اَطْلَانَا اَوْ
 مَوْزَنُوں كُو پِلْتَانَا -
 اَلْمَكُوْفُ - اِيْكٌ هِي چَرِيے كَا ڈُوْل -
 كُوْفَاتُ اَلْقَدْرِ - مَانْدِي كَا اَبْنِي كِي
 يَه جھاگ نكَلَانَا -
 كُوْفَاءُ اَلْقَوْمِ - قَوْمِ كَا خَلْقٌ مِلْطٌ هُوْنَا -

تَكُوْفًا اَلشَّعَابُ - بَادَلِ كَاتِه مِتْه هُونَا -
 اَلْكُوْفِيُّ - اَوْ بِنَا بَادَلِ - كُوْفِيَّةٌ - اَوْ بِنِي
 بَادَلِ كَا مَكْرَا - اَنْدِيے كَا اَوْ پَر كَا حَصَّة -
 اَلْمَكُوْفِيُّ - بِد مَوْزَنِ -
 كُوْفَسٌ كُوْفِيَّةٌ - بِيْرِي پَر سے هُونِي كِي
 طَرَحِ چِلْتَا - اَلْبِيْعِيْرُ - اَوْزَنُ كُو تَنگ
 باندھنا۔
 تَكُوْفَسٌ - مِلْتَا - اِيْكٌ چِيْز كَا دُو سَرِي چِيْز مِيں
 دَاخِلِ هُونَا -
 اَلْكُوْفَسُ - رُوِي -
 اَلْكُوْفَسُ - اَبْوَانٌ (دَخِيْلِ)
 اَلْكُوْفِيُّ - سَارَسٌ - ج - كُوْفِيَّةٌ -
 اَلْكُوْفَانُ - كِيْنْدَا - اَسْمٌ كُو مِيْرُو مِيْسِيں
 بِيْهِ كِيْتِي هُوں - عَوَامٌ كُو كُوْفَانُ كِيْتِي
 هُوں -
 كُوْرُكُوْرُ كُوْرُكُوْرُ - اَلشَّيْءُ - كِي چِيْز كُو بَارِ
 بَارِدٌ دُو هِرَانَا - اَعَادِهِ كَرْنَا - اَلرَّحِيْلِي
 چَكِي گھمانَا - اَلْحَبُّ - دَانِي پِيْنَا -
 اَلشَّيْءُ - كِي چِيْز كُو جَمْعِ كَرْنَا - اَلرَّجُلُ
 كِي اَدْمِي كُو قِيْدِ كَرْنَا - فِي اَلْعِيْنِيْكِي
 بِيْتِ هِنْتَانَا - اَلرَّجُلُ - هِنْتَانَا -
 شَكْسْتِ كَهَانَا - اَلْبِيْرِيْحُ اَلشَّعَابِ -
 جَوَا كَا بَادَلِ كُو اَطْرَافِ دِيْنَا - بَادَلِ كُو مَنْتَشِرِ
 كَرْنِي كِي بَعْدِ سے اَكْطَا كَرْنَا -
 اَلْاَمْرُ عِنْدَهُ - دَفْعِ كَرْنَا - بِيْطَانَا دُو كَرْنَا
 - بِاَلدَّجَا جِيْجِي - مَرْعِي كُو پَكَارِ كَر بَلَانَا -
 تَكُوْرُكُوْرُ - فِي اَلْاَمْرِ - كِي كَامِ مِيں تَرَقُّدِ
 كَرْنَا - اَلْمَاءُ - پَانِي كَا نَالِيُوں مِيں
 لُوْطِ جَانَا - اَلطَّرِيْقُ - پَر نَدِيے كَا
 فِصَا مِيں مَنْدَلَانَا -
 اَلْكُوْرُكُوْرُ - اِيْكٌ اَبِي پَر نَدِي -
 اَلْكُوْرُكُوْرُ - مَمٌ - گَاڑْ هَا دُو دِي - پِيْٹِ
 كِي گُرُو گُرُو اَبِيْٹِ -
 اَلْكُوْرِيْقَةُ - سُمٌ وَ اَلِي جَانُوْر كَا سِيْنِدِ -
 لُوگوں كِي جَمَاعَتِ - ج - كُوْرَا كُوْرُ -

گھوڑے کے بول۔

الکُوْرُوْرَقَا: گہری وادی۔

کُرُوْرَسُ الشَّيْءِ: روکنا۔ ہٹانا۔

الدَّائِبَةُ: چھپائے کو باندھنا۔ و

تَلْكَرُوْرَسُ الْوَلْتَانِ: اوپر سے

نیچے لڑھکتا۔

الکُرُوْرَكْمُ: زعفران: صطگی۔ ایک نباتات

کی جڑ کہ وہ درس ہے یا اس کے

مشابہ۔

الکُرُوْرَكْمُ: سرخ رنگ کا گوند۔ گینڈا۔

كُرُوْرَمُ دِكْ: کرم کا گوند۔ گینڈا۔

معز و خریف ہونا۔ آسانی سے دینا۔

بخشش کرنا۔ فیاض ہونا۔ السَّحَابُ:

بارش لانا۔

كُرُوْرَمَةُ دِنٍ: کرم میں غالب ہونا۔

کہا جاتا ہے۔ کادَمَةُ فَكُرُوْرَمَةُ:

اس نے اس سے کرم میں مقابلہ کیا

اور غالب آگیا۔

كُرُوْرَمَةُ فَكُرُوْرِمَا وَتَكُرُوْرَمَةُ: تعظیم کرنا۔

عزت دینا۔

كُرُوْرَمُ: السَّحَابُ: بادل میں بہت پانی

ہونا۔

كَادَمَةُ: کرم میں مقابلہ کرنا۔

كَارَمَتْ فُلَانًا: میں نے اس کے پاس

تحفہ بھیجا تاکہ وہ مجھے اس کا بدلہ دے۔

اَكْرَمَ: شریف اولاد والا ہونا۔ فُلَانًا:

کسی کی تعظیم کرنا۔ نَفْسُهُ عَيْنُ

الْمَعَايِي: اپنے آپ کو گناہوں

سے بچانا۔ اور محفوظ رکھنا، تعجب

کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے

"مَا اَكْرَمَةُ لِي: وہ میری کس قدر

زیادہ تعظیم کرتا ہے۔ مگر یہ فعل رباعی

ہونے کی وجہ سے شاذ ہے۔

تَلْكَرَمَ: بہ تکلف کرم کرنا۔ وَتَلْكَارَمَ:

هَنْ كَذَا: بچنا۔ دور رہنا۔

اِسْتَكْرَمَ: عمدہ چیزوں کا انتخاب کرنا۔

- الشَّيْءِ: عمدہ چیز طلب کرنا۔ کریم

پانا۔

الکُرُوْرَمُ: مصر۔ درگن، بخشش۔ فیاضی۔ بار

میں ایک قسم کی کاریگری۔

الکُرْمُ: صفت بمعنی کریم و طیب۔ یہی

لفظ واحد جمع، مذکر و مؤنث سب

کے لیے مستعمل ہے جیسے رَجُلٌ

كُرْمٌ وَنِسَاءٌ كُرْمٌ وَارْضٌ

كُرْمٌ۔

الکُرْمُ: انگور کی بیل۔ گنجان درختوں والا

باغ جس کے چاروں طرف دیواریں

ہوں رعایہ، ج۔ کُرْمٌ۔ بِنْتُ

الکُرْمِ اَوِ الْكُرْمِ اَوِ الْكُرْمِ

شَرَابٌ۔ بار۔

الکُرْمَةُ: انگور کی بیل۔ یہ کرم سے

خاص ہے۔ ران کی ہڈی کا گول سرا۔

کہا جاتا ہے: رَجُلٌ كُرْمَةٌ:

کریم مرد۔

الکُرْمَةُ: مصر۔ کہا جاتا ہے: اَفْعَلُ

ذَلِكَ حُبًّا وَكُرْمَةً لَكَ: میں

اسے تمہاری محبت اور تعظیم کے

خیال سے کرتا ہوں۔ "لَهُ عَلَيَّ

كُرْمَةٌ": اسے مجھ پر بزرگی

حاصل ہے۔

الکُرْمَةُ: خلاف عادت کام کا اولیاء اللہ

کی طرف سے ظاہر ہونا۔ كُرْمًا وَ

كُرْمَةً وَكُرْمَةً وَكُرْمِي وَ

كُرْمَانًا وَكُرْمَةً: عَيْنُ لَكَ:

تمہاری تعظیم کے لیے۔

الْاَكْرَمَةُ: کریمانہ فعل۔

الکُرْمَةُ: مصر۔ تکیہ، جس کے پاس

انسان کو عزت کے طور پر بٹھایا جائے

انگریز۔ بخشش کرنے والا۔ درگزر کرنے

والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں

سے ہے۔ رَجُلٌ كُرْمِيٌّ: سخی مرد۔

ج۔ كُرْمًا وَكُرْمًا: لفظ کریم کا

اطلاق ہر اچھی، عمدہ اور قابل تعریف

چیز پر کیا جاتا ہے۔ جیسے رِزْقٌ

كُرْمِيٌّ۔ اچھی روزی۔ قَوْلٌ

كُرْمِيٌّ۔ عمدہ بات۔ كِتَابٌ

كُرْمِيٌّ۔ مفید اور پسندیدہ کتاب۔

وَجْهٌ كُرْمِيٌّ۔ پاکیزہ چہرہ۔

الکُرْمِيَانِ: حج و جہاد۔

الکُرْمِيَّةُ: گریٹھ کا مؤنث۔ ج

كُرْمِيَّاتٌ وَكُرْمِيَّةٌ وَكُرْمًا:

انگریزیت۔ ہر عضو شریف، جیسے: تہ

اور کان۔

الکُرْمِيَّتَانِ: دونوں آنکھیں۔ كُرْمِيَّةُ

الْوَجْهِيَّةُ: بیٹی۔

الکُرْمِيَّةُ: کرم اور شرافت والا۔ جیسے

فُلَانٌ كُرْمِيَّةٌ قَوْمًا: فلاں اپنی

قوم میں شریف ہے۔ اس میں تاء

مبالغہ کے لیے ہے۔

كُرْمِيَّةُ الْمَالِ: عمدہ اور بہترین مال۔

الکُرْمُ: کریم۔ ج۔ كُرْمًا وَ

الکُرْمًا: انگور کی بیل والا اور اس کی

نگہبانی کرنے والا۔

الکُرْمُ وَالکُرْمَةُ: بہت زیادہ کرم

کرنے والا۔ ج۔ كُرْمًا وَ

الْمَكْرُمَانِ: کریم۔ بہت وسیع اخلاق

والا۔ یہ ندا ہی کے لیے مخصوص ہے

اس طرح کہا جائیگا۔ يَا مَكْرُمَانِ:

الکُرْمُ وَالْمَكْرُمَةُ: شریف۔ فیاض۔

ج۔ مَكَرْمٌ: اَرْضٌ مَكْرُمَةٌ

بِلْتَبَاتٍ: عمدہ زرخیز زمین۔

الْمَكْرُمُ وَالْمَكْرُمَةُ: کریمانہ فعل۔

کریم۔ کہا جاتا ہے: فِعْلٌ الْخَيْرِ

مَكْرُمَةٌ: نیک کام کرم یا تعظیم کا

ذریعہ ہے۔

الْمَكْرَامُ - لوگوں کی عزت کرنے والا۔
بست فیاض۔

الْمَكْرَمُ - مفع. معزز شخص۔

الْمَكْرُوبُ وَالْمَكْرُوبَةُ - کرم کلا۔ بندگی بھی۔
الْمَكْرُوبِيَّةُ - ایک قسم کا کھانا جو کرم کلا سے
بنایا جاتا ہے۔

كَوْنَفَتٌ - الْمَكْرَانِيَّةُ - کھجور کے تنہ کو
ٹہنیوں، باقی ماندہ شاخوں کی جڑوں کو
کاٹنا۔

كَوْنَفَةٌ بِالْعَصَا - لاشی سے مارنا۔

كَوْنَفَتُ الشَّيْءِ بِالشَّيْفِ - کسی چیز کو تلوار
سے کاٹنا۔ التَّخْلُفَةُ - کھجور کے تنہ
کو ٹہنیوں کے باقی ماندہ حصہ سے
صاف کرنا۔

الْمَكْرَنَاتُ وَالْمَكْرَنَاتُ - کھجور کی ٹہنیوں کو
کاٹ لینے کے بعد تنہ کا باقی ماندہ حصہ۔
واحد مَكْرَنَةٌ - ج. كَوْنِيْفَةٌ -

أَنْفٌ مَكْرَنَةٌ - موٹی ناک۔

كَرِهْرَسٌ، كُرْهًا دَكْرَهًا وَكَرَاهَةً وَ
كَرَاهِيَةً وَمَكْرَهَةً وَمَكْرَهَةً -
الشَّيْءِ - ناپسند کرنا۔ اسم فاعل
كَارَةٌ - اسم مفعول مَكْرُوَةٌ -

كُرْهًا دَكْرَهًا، كُرَاهَةً وَكَرَاهِيَةً -
الْأَمْرُ وَالسَّنْظَرُ - بدنام ہونا۔ صفت
كَوْنِيَّةٌ -

أَكْرَهُ - فَلَانًا عَلَى الْأَمْرِ - زبردستی کام
پر مجبور کرنا۔ الرَّجُلُ نَاطِسِدِيَّةٌ
کام پر آمادہ کرانا۔

تَكَرَّهُ وَتَكَارَهُ - الشَّيْءِ - کسی چیز کو
ناپسند کرنا۔

تَكَرَّهُهُ وَتَكَارَهُهُ - عصب ہونا۔

لِشُّكْرَةِ الشَّيْءِ - کسی چیز کو بُرا سمجھنا یا پانا
الْمَكْرَهُ وَالْمَكْرَهُةُ - مفع. انکار۔ جبر یہ
مشقت۔ بعض کے بقول كُوْدَةٌ بالضم

وہ کام جس پر خود اپنے آپ کو مجبور

کیا جائے اور كُوْدَةٌ بالفتح جو دوسروں
کو زبردستی سے کیا جائے۔ کہا جاتا ہے
شئٌ كُوْدَةٌ - ناپسندیدہ چیز۔ رَجُلٌ
كُوْدَةٌ - ناپسندیدہ شخص۔ وَجْهٌ
كُوْدَةٌ - قبیح چہرہ۔ كَعْلَهُ كُوْدَهَا -
اس نے اسے مجبور کیا۔

الْمَكْرَهُةُ - کریمہ۔ قبیح۔

الْمَكْرَاهَةُ - مفع. سخت زمین۔

الْمَكْرَاهِيْنُ - کراہت۔ کہا جاتا ہے

”أَتَيْتُكَ كَرَاهِيْنًا أَنْ تَغْضَبَ“

میں تیرے پاس تیرے ناراض ہونے کی
کراہت کی وجہ سے آیا۔

الْمَكْرِيْمَةُ - مُؤْنَتٌ كَرِيْمَةٌ - لڑائی کی
قدت۔ مصیبت۔ ج. كَرَايَةُ -

ذُو الْمَكْرِيْمَةِ - شمشیر قاطع۔ کہا جاتا
ہے: “لَقِيْتُ دَوْقَهُ كَرَايَةً وَ
مَكَارَةً“ میں اس کے قریب مصائب

و مکر وہ بات سے دوچار ہوا۔

الْمَكْرَهُةُ - مکروہ۔ ج. مَكَارَةٌ -

الْمَكْرَهَةُ الْمَكْرَهَةُ - ناپسندیدہ،
اورد شوار کام۔ ج. مَكَارَةٌ -

الْمَكْرُوَّةُ - مفع. نثر ناپسندیدہ چیز۔
الْمَكْرُوَّةَةُ - سختی۔ شدت۔ کہا جاتا ہے

”هُوَ ذُو مَكْرُوَّةَةٍ“ - وہ سختی
میں ہے۔

كُرًا يَكْرُوْنِي كُرُوًّا - الارض - زمین
کھودنا۔ الْأَمْرُ - کسی کام کو بار بار

کرنا۔ الْبَيْتُ - کنویں کا من درخت
کے تنوں سے بنانا۔ بَانِكْرُوَّةٌ -

گیند سے کھیلنا۔

كَوْنَتِ الدَّائِمَةُ - جانور کا تیز دوڑنا۔
كَوْنِيْتُ تَكْرُوْنِي كُوًّا - السَّقَا -

پنڈلی کا پتلا ہونا۔ الْمَرْأَةُ - عورت
کے بازوؤں کا موٹا ہونا۔

الْمَكْرَاءُ - بازوؤں کا ضخیم اور موٹا ہونا۔

کے پنچوں کا قریب ہونا۔ اور ایلڑیوں کا
دور ہونا۔ پنڈلیوں کی باریکی۔ كُوْوَانٌ
کا ذکر۔

الْمَكْرُوَانُ - بھورے رنگ اور لمبی چھریج کا
ایک پرندہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ
رات کو نہیں سوتا ہے۔ اس کا نام

اس کی عادت کے خلاف ہے۔ کیونکہ
کوی کے معنی نیند کے ہیں۔ مؤنث

كُوْوَانَةٌ - ج. كُوْوَانٌ وَ
كُوْوِيْنٌ -

الْمَكْرَةُ - ہر وہ چیز جسے تم گما سکو۔ ہر گول
چیز۔ صفت نسبتی كُوْوِيْنٌ - كُوْوِيْنٌ -

ج. كُوْوِيْنٌ وَكُوْوِيْنٌ وَكُوْوِيْنٌ وَ
كُوْوَانٌ وَكُوْوِيْنٌ -

الْمَكْرُوِيَا وَ الْمَكْرُوِيَاةُ - زیرہ (دخیل)
کری ٹیکری کُرِيَا - الرَّجُلُ تِيْزِدُوْرُنَا

- الْفَهْرُ - نہریا دریا میں گڑھا کھودنا
- بِالْمَكْرُوَةِ - گیند کھیلنا۔

كُوْوِيْنٌ يَكْرُوِي رَسًا، كُوْوِيَا - اِدْغَمًا صفت
كُوْوِيْنٌ كُوْوِيَانٌ وَكُوْوِيْنٌ -

كَارَاةٌ مُكَارَاةٌ وَكِيَاةٌ - الدَّائِمَةُ
أَو الدَّارُ - چوپائے یا گھر کو کرانے پر

دینا۔ صفت مُكَارٍ -

أَكْرُوِي الْمَكْرَاءُ - الشَّيْءُ - زیادہ ہونا۔
کم ہونا دندا - فَلَانٌ - کسی کا خدا

کی عبادت میں بیدار رہنا۔ الْأَمْرُ -
کسی کام کو طوی کرنا۔ يَحْمِيْ طَالِنَا -

الْحَدِيْثُ - گفتگو راز کرنا۔ فَلَانٌ -
دَائِمَةٌ أَوْ دَارَةٌ - چوپائے یا گھر کو

کرایہ پر دینا۔

الْمَكْرُوُو وَالْمَكْرُوُوَّةُ - اسم ہے۔
تَكْرُوِي تَكْرُوِيَا - سونا۔

الْمَكْرُوِي - مِنْهُ الدَّارُ وَغَيْرُهَا مَكَانٌ
وغیرہ کرایہ پر لینا۔
الْمَكْرَاءُ وَالْمَكْرُوَّةُ - کرایہ۔

انگریزی۔ اوٹنگھنڈالا۔ کرایہ پر لینے والا۔
 کرایہ پر دینے والا۔ ج۔ مکارون۔
 اب اکثر گیسے اور پچر والوں پر بولا جاتا ہے۔
 انگریزی۔ من الیبل۔ آہستہ اور نرم رفتار اونٹ۔
 گزرن، گزرا۔ الشیء۔ تنگ کرنا۔
 گزرت خطاۃ۔ اس کے قدم قریب ہو گئے۔ العزاة ملہا۔ عورت کا بازو بند سے بازو کو بھر دینا۔ گزاة و کوزاة۔ سکرنا۔ خشک ہونا۔
 گز۔ سردی سے لڑھ طاری ہونا۔ زکام ہونا۔ گز۔ اللہ فلانا۔ اللہ کسی کو لڑھ دیکھنے کی بیماری میں مبتلا کرنا صفت مفعول۔ مکزوتنا۔
 اکتوز۔ سکرنا۔
 انگز۔ مہر۔ سکرنا ہوا۔ خشک۔ کہا جاتا ہے۔ "وجه گز"۔ بد صورت چہرہ۔ ذہب اوجمل گز۔
 بہت ٹھوس یا مضبوط سونا یا اونٹ۔ فلان گز انیدین۔ فلان بخیل ہے۔ ج۔ گز۔
 انگزۃ۔ گز کا مونٹ ہے۔ کہاوت ہے۔ "قوس گزۃ"۔ ایسی کمان جس کی لکڑی خشک ہے، مرنے نہیں ہے۔ بکرۃ گزۃ۔ صحت و تنگ چرخ۔
 انگزین۔ بخل۔ کنجوسی۔
 انگزاش و انگزاش۔ صحت سردی سے لڑھ یا ایک بیماری۔
 گزب رس، گزبا۔ پاؤں کی ہڈیوں کا چھوٹا ہونا اور سکرنا۔
 انگزیرۃ و انگزیرۃ۔ دھنیا کا پودا۔ دھنیا کو جلیان بھی کہتے ہیں۔
 گزمن دن، گزما۔ منہ بند کرنا اور خاموش

رہنا۔ الجوزۃ و نحوھا۔ اخروٹ وغیرہ کو اگلے دانوں سے توڑنا اور گری نکالنا۔
 گزمنہ۔ دانوں سے صحت کا ٹنا۔
 گزمن رس، گزما۔ بخیل ہونا۔ بہت شائق ہونا۔ ناک یا انگلی کا چھوٹا ہونا۔ صفت انزم۔ پیش قدمی سے ڈرنا۔
 گزمن۔ البرد اصابعہ۔ سردی کا انگلیوں کو سکیڑنا۔
 انزم۔ سکیڑ۔ الطعام۔ بہت کھانا۔ یہاں تک کہ خواہش باقی نہ رہے۔
 انگزم۔ انفاکھۃ۔ پھل کو چھیلے بغیر کھانا۔
 انگزم۔ تنگ پھیلی۔ چھوٹی انگلیوں والا۔
 انگزم۔ بخل۔ بہت کھانا۔ ناک یا انگلیوں کی کوتاہی، گھوٹے وغیرہ کے ہونٹ کی چھوٹائی اور موٹائی۔ کہا جاتا ہے۔ "فی یدہ گزمن"۔ اس کے ہاتھ بھلائی کے لیے نہیں کھلے ہوئے ہیں۔
 انکیزم۔ من الوجال۔ بزدل ڈرپوک۔ انگزمان۔ من الوجال۔ اتنا کھانے والا کہ سے ناپسند کرنے لگے۔
 اننگزم۔ چھوٹی پھیلی اور پاؤں والا۔
 کس دن، گشا۔ باریک کوٹنا تاکہ وہ سٹوکی طرح ہو جائے۔
 کس رس، گسنا۔ چھوٹے دانے ہونا تاکہ چھوٹا ہونا۔ صفت انکس۔
 ٹونٹ گشا۔ جو۔ کس۔
 ایکینس۔ ٹوٹی ہوئی روٹی۔ شکر۔ بقول بعض جو اور چنا سے بنی ہوئی شراب کھجور کی بنید۔ خشک کیا ہوا گوشت جسے سفر میں توشہ کے لیے کوٹ کر سٹوکی طرح باریک کر لیتے ہیں۔

انکسوس۔ مفعول۔ ٹوٹی ہوئی روٹی۔
 کسارۃ رف، گسا۔ پیچھا کرنا۔
 کسارۃ الدابة۔ چوپائے کو بانکنا۔
 القوم۔ جھگڑے میں غالب آنا۔
 کسارۃ۔ بالسیف۔ تلوار سے مارنا۔
 انکسار۔ من الکیل۔ بات کا ایک حصہ۔
 انکس و انکسو۔ من کل شیء۔
 پچھلا حصہ۔ ج۔ انکسار۔ کہا جاتا ہے۔ کت کسارۃ۔ وہ گردن کے بل گرا۔ اتینافی انکسار الشہر۔
 ہم بیٹے کے آخر میں آئے۔ صرؤا فی انکسار المنہزمین اوعلی انکسارھم۔ وہ شکست خوردہ جماعت کے نقش قدم پر اور ان کے پیچھے گزرے۔
 کسب رض، کسبا و کسبا و تکسب و لا کتسب۔ مال اوعلمنا۔ مال یا علم حاصل کرنا۔ طلب کرنا۔ نفع حاصل کرنا۔ الشیء۔ کسی چیز کو جمع کرنا۔ الاثم۔ بارگناہ اٹھانا۔
 لاھلہ۔ اہل و عیال کے لیے روزی تلاش کرنا۔
 کسب و کسب و کسب۔ فلانا مال اوعلمنا۔ کسی کو مال یا علم حاصل کرانا۔
 انکسب و تکسب۔ فلانا۔ کمانی کرانا۔
 تکسب۔ الرجل۔ کمانے کی کوشش کرنا۔ انکسب۔ مہر۔ کمانی۔
 انکسبۃ و انکسبۃ۔ کمانی۔
 انکاسیب۔ داسم ناعل، انکاسیبۃ۔ کاسب کا ٹونٹ۔ ج۔ گو اسیب۔
 انوز کاسیب۔ بھیڑیا۔
 انکواسیب۔ انسان یا پرندے کے اعضاء

اور موڑ داس آخری معنی کی صورت میں
اس لفظ کا واحد مستعمل نہیں ہوگا،
هَذِهِ الْأَرْضُ ذَاتُ كُسُورٍ۔ یہ
زمین اونچی نیچی ہے۔
الْكُسْرَةُ: کسرا کا اسم مرہ۔ زیر کی حرکت
شکست۔ وَكَعَتْ عَلَيْهِمُ
الْكُسْرَةَ۔ وہ شکست کھا گئے۔
يَعْنِيهِ كُسْرَةٌ مِنَ السَّهْوِ۔ اس
کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہے۔ ج
كُسْرَاتٌ وَكُسْرَاتٌ۔
کسروی و کسروی۔ ایران کے قدیم
بادشاہوں کا لقب۔ ج۔ آگاسیو۔
وَكَسَايِرَةٌ وَكُسُورٌ۔ صفت
نسبتی کسروی و کسروی و
کسروی۔
الْكُسَارُ وَالْكُسَارَةُ۔ مِنَ الْحَطَبِ
وَنَجْوَةٍ۔ ایندھن کی چھپٹیاں، اور
ٹکڑے۔
الْكُسَيْرُ: ٹوٹا ہوا۔ ج۔ کسوی و
کساری۔
الْإِكْسِيرُ۔ وہ چیز جو چاندی وغیرہ کو
سونا بنا دے۔
الْكُسَيْرِيُّ: انجینیروں کے نزدیک پیمائش
کو کہتے ہیں۔
الْبَكَايِرُ۔ ج۔ کسور۔ عقاب۔ کہا جاتا
ہے عقاب کا سر۔ چھپٹا مارنے
والا یا فکار کو توڑ دینے والا عقاب۔
الْبَكَايِرَةُ: کاسر کا ٹونٹ۔ ج۔
کایسرات و کسور و گوایسو۔
الْبَكَايِرُ: شکاری پرندے۔
الْكُسَارُ: اسم مبالغہ بہت توڑنے والا۔
الْمَكْسِيرُ: توڑنے کی جگہ۔ مگسیر
الشَّجَرَةَ: درخت کی جڑ یا درخت
کا تنہ، جہاں سے ٹہنیاں توڑی جائیں
ج۔ مگاسیر۔ آزمائش۔ کہا جاتا

ہے: فَلَانٌ طَيِّبُ الْمَكْسِيرِ
فلاں آزمائش کا وقت اچھا ہے۔
الْمَكَايِرُ۔ مِنَ الْبَحِيرَاتِ۔ پڑوسی
جس کے مکان کا حصہ تمہارے مکان
کے حصے سے ملتا ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ جَارِي مَكَايِرِي"۔ وہ میرا
پڑوسی ہے جس کے گھر کا حصہ میرے
مکان کے حصے سے ملتا ہے۔
الْمَكْسَرُ۔ مفع۔ الْمَكْسَرُ مِنَ
الْأَرْضِيَّةِ۔ وادی کی وہ گھاٹیاں اور
موڑ جن میں سیلاب آگیا ہو۔ الْجَمْعُ
الْمَكْسَرُ۔ جمع سالم کی ضد جس میں
واحد کے حروف ٹوٹ گئے ہوں۔
يَسِي رَجُلٌ سِرَجًا۔ مَسْجِدٌ
سے مَسَاجِدٌ۔
الْمَكْسُورُ۔ مفع۔ صَوْتُ مَكْسُورٍ۔ نرم و
کمزور آواز۔
الْمُتَكْسِرُ: فَا۔ کہا جاتا ہے: رَأَيْتُهُ
مُتَكْسِرًا۔ میں نے اسے سُست
اور شکستہ دیکھا۔
كَسَعَهُ (ف) كَسَعًا۔ دھتکارنا۔
دھتکارتے ہوئے سچھا کرنا۔ پشت پر
ہاتھ یا لات مارنا۔
كَسَعٌ۔ السَّيْفِيَّةُ فِي الْبَحْرِ: کشتی کو
دھکیلنا اور چلانا۔
كَسَعَهُ۔ يَكْدُ: کسی کو اپنا تابع بنانا۔
کہا جاتا ہے: وَرَدَتِ الْخَيْلُ
يَكْسِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا۔ گھوڑے
اس حالت میں آئے کہ وہ ایک دوسرے
کے پیچھے تھے۔ لَا تَبِعَ فَلَانٌ
أَدْبَارَهُمْ يَكْسِعُهُمُ بِالسَّيْفِ۔
فلاں آدمی ان کے پیچھے گیا۔ ایسی
حالت میں کہ تلوار کے ذریعہ انہیں
باہر دھکیل رہا تھا۔ كَسَعَتِ الرَّجُلَ
بِمَا شَاءَ: میں نے گفتگو کے آخر

میں اس آدمی سے ایسی بات کہی جو
اسے بُری لگی۔
كَسَعَتْ دَاكْتَسَعَتْ۔ الْخَيْلُ
بِأَذْنَابِهَا۔ گھوڑوں کا ٹانگوں میں
دم دبا لینا۔
تَكْسَعُ۔ فِي ضَلَالٍ: گمراہی میں جانا۔
الْمَكْسَعُ۔ گھوڑوں کے گھر کے پاس جوڑوں
کے ارد گرد سفیدی۔
الْمَكْسَعُ: روٹی کے ٹکڑے۔
الْمَكْسَعَةُ: پیشانی پر سفید داغ۔ پرند
کی دم کے نیچے سفید پر۔ ج۔ كَسَعُ
کام کرنے والے بیل۔ گدھے۔ غلام۔
الْمَكْسَعُ۔ مِنَ الْخَيْلِ: گھر کے پاس
جوڑوں کے ارد گرد سفیدی۔ گھوڑا۔
- مِنَ الطَّيْرِ: دم کے نیچے سفید
پر والا پرندہ۔
رَجُلٌ مَكْسَعٌ: غیر شادی شدہ مرد۔
كَسَفَتِ رَضٍ كَسْفًا۔ الثَّوْبُ: کپڑے
کاٹنا۔ اللَّهُ الشَّمْسُ أَوْ الْقَمَرُ
خدا کا چاند سورج میں گہن لگانا۔
بَصْرًا: نگاہیں نیچی کرنا۔ الشَّمْسُ
النَّجُومُ۔ آفتاب کی روشنی کا
ستاروں پر غالب آنا۔ الشَّيْءُ:
کسی چیز کو ڈھاٹنا۔ پوشیدہ کرنا۔
كَسَفَهُ الْحُزْنَ وَغَيْرَهُ: رنج و غم
وغیرہ کا مسلط ہونا۔
كَسَفَتِ رَضٍ كُسُوفًا۔ الشَّمْسُ:
سورج میں گہن لگانا۔ وَجْهَةٌ:
تیورھی چڑھنا۔ متغیر ہونا۔ خَالِدٌ:
حالت کا خراب ہونا۔ كَسَفَتِ
أَمَلُهُ: امید منقطع ہونا۔ كَسَفَتِ
بَالُهُ: دل کا برائی کی طرف آمادہ ہونا
امید منقطع ہونا۔
تَكْسَفَتِ الشَّمْسُ: آفتاب میں گہن
لگانا۔

اَلْكَسْفُ وَالْكَسْفُ وَالْقَمْسُ - چاند سورج میں گمن گنا۔
 اَلْكَسْفُ - مم۔ عرب کی کہاوت ہے اَلْكَسْفُ وَالْمَسَاكُ - کیا ترشروئی اور بخل بھی ہے۔ یہ کہاوت ترشروئی و بخل کے لیے مستعمل ہوتی ہے۔
 اَلْكَاسِيَةُ - فا۔ کہا جاتا ہے۔ "فَلَانٌ كَالْكَاسِيَةِ الْبَالِ" - فلاں بڑے حال میں ہے۔ کاسیہ اَلْوَجْهِ - ترشرو۔
 يَوْمَ كَاسِيَةٍ - سخت اور خوفناک دن۔ رَجُلٌ كَاسِيَةٌ - رنجیدہ مرد جو رنج و غم کی وجہ سے دبلا اور تڑھال ہو گیا ہو۔
 اَلْكَسْفَةُ - ٹکڑا۔ جہ۔ كَيْفٌ وَكَيْفٌ وَكَسْفٌ وَكَسْفٌ - اَلْكَسْفُ وَكَسْفٌ - اَلْكَسْفَةُ - ٹکڑا۔
 كَسْفٌ كَسْفٌ - الشَّيْءُ بِسَخْتِ كَوْنِهِ - اَلْكَسْفُ - موٹاپا پتہ قدمرد۔
 اَلْكَسْفَةُ - مم۔ وقف کی حالت میں کاف منیر موزنٹ کے ساتھ میں ملانا جسے پکس و اَلْكَسْفُ مَكْسٌ - بَلْ اور اَلْكَسْفُ مَكْسٌ کے بجائے یہ لفظ لغت بنویم ہے۔
 اَلْكَسْفُ - ایک کھانا ہے جو آٹے سے بنایا جاتا ہے۔
 كَيْسٌ رَسٌّ، كَيْسٌ وَتَكَايَسٌ - سُسْتٌ ہونا۔ جس کام میں سستی نہیں کرنی چاہیے اس میں سستی کرنا۔ صفت کيس و كَسْلَانٌ - جہ۔ كَسَالِيٌّ وَكَسَالِيٌّ - كَسِيٌّ - مَزْنٌ كَسِيٌّ وَكَسْلَانَةٌ - كَسِيٌّ - كَسَلٌ الْاَمْرُ فَلَانًا - سُسْتٌ بِنَانَا - اَلْكَسَالَةُ - بیکاری۔
 اَلْكَسُولُ - سُسْتٌ - کابل۔ ناز پروردہ۔ وہ لڑکی جو ایک جگہ بیٹھی رہے۔

اَلْكَسَلُ وَالْكَسَلُ - دُھنیا کے کان نیت جبکہ اتار دی جائے۔ كَسْبٌ وَكَسَلٌ - وہ نسب جسے سرداری اور لچھے کاموں میں خودداری اور غیرت مندی کا وصف حاصل نہ ہو۔
 اَلْكَسَلَةُ - سُسْتی پیدا کرنے والا۔ سبب۔ کہا جاتا ہے۔ "الشَّبَعُ مَكْسَلَةٌ" - حکم سیری سُسْتی کا باعث ہے۔
 فَلَانٌ لَا كَسِيْلَةَ اَلْمَكَايِلُ - فلاں کو کاپلی کے اسباب سُسْت نہیں بناتے۔
 اَلْكَسَالُ - سُسْت دندرو موزنٹ، خوشحال لڑکی جو اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔
 كَسَمَ رَضٌ، كَسَمًا - اَلْيَايِسُ - خفک چیز کو ہاتھ سے ریزہ ریزہ کرنا۔
 عَلِيٌّ عِيَالِيٌّ - اہل و عیال کے لیے کمانے میں محنت کرنا۔ نَاسٌ اَلْمَحْرَبُ - لڑائی کی آگ بھڑکانا۔
 اَلْكَسْمُ - خشک چیز کا چورہ جو ہاتھوں میں باقی رہ جائے۔
 اَلْكَسُومُ - کام کو پورا کرنے والا۔
 اَلْكَسُومُ - بہت کھا جائے۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ رَوْضَةٌ كَيْسُومٌ" و اَلْكَسُومُ وَكَيْسُومٌ - یہ سرسبز و شاداب باغ ہے۔ کھیل آگایسوم بہت سے گھوڑے جو ایک دوسرے کے اوپر ہوں۔
 كَسَا يَكْسُوْا كَسُوًا وَكَسِيٌّ - اَلثَّوْبُ فَلَانًا - کسی کو کپڑے پہنانا۔ كَسَا حُ شَعْرًا - اشعار کے ذریعہ تعریف کرنا۔
 كَسِيٌّ يَكْسِيٌّ وَكَسِيٌّ كَسَا - اَلثَّوْبُ کپڑا پہنانا۔
 كَسِيٌّ يَكْسِيٌّ كَسَاءًا - شریف ہونا۔
 كَسِيٌّ تَكْسِيًّا - بانکسایہ۔ اولیٰ رضا پہنانا۔

كَاسِيٌّ مَكَايَسَةٌ - فَلَانًا - ایک دوسرے پر فخر کرنا۔
 اَلْكَسِيٌّ - لباس پہنانا۔ اَلْكَسْتِ الْاَرْضُ بِالْبَنَاتِ - زمین کا پودوں سے چھپ جانا۔
 اَلْكَسِيَّتُكَ ثَوْبًا - کپڑے پہنانا۔
 اَلْكَسِيٌّ فَلَانًا - کسی سے لباس مانگنا۔
 اَلْكَاسِيَةُ - فا۔ لباس پہننے والا۔ جہ۔
 كَسَاةٌ - برہنہ کا عکس۔
 اَلْكَسَاءُ - شرافت و بزرگی۔
 اَلْكَسَاءُ - کپڑا۔ کبل۔ جہ۔ اَلْكَسِيَّةُ - اَلْكَسُوَّةُ وَ اَلْكَسُوَّةُ - لباس۔ جہ۔
 كَسِيٌّ وَكَسِيٌّ -
 اَلْاَلْكَسِيٌّ - بہت پہننے والا۔ بہت لباس دینے والا۔ عرب کی کہاوت ہے "هُوَ اَلْكَسِيٌّ مِنْ بَقْلَةٍ" - یہ اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کپڑے پہنا ہوا ہو۔
 اَلْكَسِيٌّ - پشت کا پچھلا حصہ۔ ہر چیز کا پچھلا حصہ۔ جہ۔ اَلْكَسَاءُ - کہا جاتا ہے۔ "رَكْبٌ اَلْكَسَاءُ" - وہ پچھلی گردن کے بل گرا۔
 كَشَى رَضٌ، كَشَا وَكَشِيْنَا - آگ نکلنے وقت سائیں سائیں کی آواز نکلا۔
 اَلْجَزَّةُ - شراب کے مٹکے۔
 جوش آنا۔
 كَشَتٌ كَشِيْنَا - اَلْحَيَّةُ - سانپ کی کھال سے آواز نکلا۔ اَلْجَمَلُ - اونٹ کا پہلی مرتبہ بڑبڑانا۔ اَلْبَقْرَةُ - گائے کا آواز نکالنا۔ كَشَا الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ - کسی آدمی وغیرہ کو دھتکارنا دھمکانا۔
 كَشَا شَتِ الْاَفَاعِي - سانپوں کا آپس میں آواز نکالنا۔
 اَلْكَشُ - وہ چیز جس سے کھجور کے درخت

کو چھلوانے کے لیے ہوند لگا یا جائے
 الْكُشَّةُ - پیشانی یا سر کے اگلے حصے کے
 بالوں کا گچھا۔
 الْكَيْشِيُّ - خراب کے بوش کی آواز۔
 كَشَّافٌ دَفٌّ كَشْفٌ - الشَّيْءُ - کسی چیز کو چھپانا
 کسی چیز کو گلے دانتوں سے نکالی کی
 طرح کاٹ کر کھانا۔ فَلَانًا بِالسَّيْفِ
 تلوار سے مارنا۔
 الْكُفَّاءُ اللَّحْمُ - گوشت بھون کر خشک
 کرنا۔ صفت مفعول۔ كَيْشِيٌّ -
 كَشْفٌ - الرَّجُلُ - بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا
 کھانا۔
 كَشَيْتٌ - كَفٌّ وَكَشَاءٌ - يَدُكَ - ہاتھ
 کا پھٹنا یا اس کی جلد کا سکڑنا۔ کھال
 میں جھریاں ہونا۔
 كَفٌّ وَكَيْشِيٌّ كَفٌّ وَكَشَاءٌ اِدْتَكَشَأَ -
 الرَّجُلُ مِنَ الطَّعَامِ - شکم سیر ہونا۔
 صفت كَيْشِيٌّ وَكَيْشِيٌّ -
 كَفَّشَأَ - الشَّيْءُ - کسی چیز کا چھل جانا۔
 اللَّحْمُ - خَشَكٌ بھنا ہوا گوشت کھانا۔
 كَفَّأَ كَفَّيْتَهُ - اللَّحْمُ - خَشَكٌ بھنا ہوا
 گوشت کھانا۔
 الْكُفَّاءُ - عَيْبٌ - کہا جاتا ہے۔ مَا فِي
 جَسَدِهِ كَفَّاءٌ - اس کے جسم میں
 کوئی عیب نہیں ہے۔
 كَشَبَ رَضٌ كَشَبٌ وَكَشَبٌ - اللَّحْمُ -
 بہت کھانا۔
 الْكَشْتَبَانُ - درزی کا انگشتانہ۔ جو
 كَشَا تَبِينٌ - زَهْرًا الْكَشْتَبَانِ -
 ایک قسم کا پودا۔
 الْكَشُوْثُ وَالْكَفُوْثِيُّ وَالْكَفُوْثِيُّ وَ
 الْكَفُوْثِيُّ - ایک قسم کی گھاس ہے
 جو کانٹوں اور درختوں پر لپٹی ہوتی ہے
 نہ اس کی جڑ ہوتی ہے نہ اس کے
 پتے ہوتے ہیں۔

كَشَمَ دَفٌّ كَشَمًا - الْبَيْتُ - گھر میں
 جھاڑو دینا۔ الْقَوْمُ - قوم کو منتشر کرنا
 اور نکالنا۔ عَيْنُ الْمَاءِ - پانی سے
 واپس ہونا۔ لَهُ بِالْعَدَاوَةِ -
 دشمنی رکھنا۔ اَللَّهَ اِقْبَهُ - چوپائے
 کا دونوں ٹانگوں کے درمیان دم
 دبانا۔ الطَّائِرُ - پرندہ کا تیزی سے
 واپس آنا۔ الظَّلَامُ وَالضُّوْءُ -
 تاریکی یا روشنی کا زائل ہونا۔
 كَشَمٌ - الْعُوْدُ - لکڑی کو چھیلنا۔
 الْبَيْجِيُّ - اونٹ کے پلوں میں آگ
 سے داغ لگانا۔
 كَشْحَةٌ - پلوں میں داغ لگانا۔
 كَشِيْحٌ - الرَّجُلُ - پلو داغ دیا جانا۔
 صفت معنوی مَكَشُوْمٌ -
 كَشَمَ الْقَوْمَ مَعْنِ الْمَاءِ - پانی کے
 چشمہ سے منتشر ہونا۔
 كَشَمَ دَسٌ كَشْحًا - پلوں میں درد ہونا۔
 كَاثَمَ كَشَا حًا وَمَا كَشْحَةٌ - فَلَانًا
 بِالْعَدَاوَةِ - دشمنی رکھنا۔
 اِنْتَكَشَمَ - الْقَوْمَ مَعْنِ الْمَاءِ - منتشر ہونا
 پر اگندہ ہونا۔
 الْكَشْمُ - پلو۔ جو كَشُوْمٌ - کہا جاتا
 ہے۔ طَوِي كَشْحَةٌ عَنْ فَلَانٍ
 اَوْ طَوِي كَشْحًا عَنْهُ - اس نے
 پلو تہی کی اور کنارہ کشی اختیار کی۔
 طَوِي كَشْفَهُ عَلَى الْأَمْرِ - اس
 نے کام جاری رکھا۔
 الْكُفْمُ - پلو کی بیماری جس کا علاج داغ
 لگانے سے کیا جاتا ہے۔ بقول بعض
 ذَاتُ الْجَنْبِ كِي مَارِي يَعْنِي نَزِيَا كَرِي
 کہتے ہیں۔
 الْكَاشِمُ - فَا - پوشیدہ عداوت رکھنے
 والا۔ بقول بعض وہ شخص جو دشمنی کی
 بنا پر پلو تہی کرے یا وہ جو کنارہ کشی

اختیار کرے۔
 الْكِشَاخُ - پلو کا داغ۔
 الْكُفَّاحَةُ - پوشیدہ دشمنی۔
 الْيَكْشَمُ وَالْيَكْشَامُ - تلوار کی دھار۔
 الْيَكْشَامُ - کھار۔
 كَشَدَ رَضٌ كَشْدٌ - الشَّيْءُ - کسی چیز کو
 دانتوں سے کاٹنا۔ اَلنَّاقَلَةُ - اونٹنی
 کو تین انگلیوں سے دوہنا۔
 الْكُشْدٌ - خالص مکھن بنانا۔
 الْكُفْدَةُ - مکھن۔
 الْكَاشِدُ وَالْكَشُوْدُ وَالْكَفْدُ - اہل و
 عیال کے لیے بہت محنت سے روزی
 کمانے والا۔ ج - كُشْدٌ -
 كَشَرَّ رَضٌ كَشْرًا - عَنْ اَسْتَايِهِ - ہنسی
 وغیرہ میں دانت نکالنا۔ اسم اس کا
 الْكِشْرَةُ ہے۔ السَّبْعُ عَنْ نَابِهِ
 درندے کا مقابلے کے لیے دانت
 نکالنا۔ فَلَانٌ لَهُ - درندے کی طرح
 کسی کو دھمکانا۔
 كَشَرَّ دَسٌ كَشْرًا - بھاگنا۔
 كَشَرَّ - عَنْ اَسْتَايِهِ - بمعنی دانت نکالنا۔
 اس میں تشدید مبالغہ کے لیے ہے۔
 كَاشْرَةٌ مَكَاشْرَةٌ - آپس میں ہنستا اور
 دانت نکالنا۔
 الْكَشْرُ - كَهْ عَنْ اَنْيَابِهِ - دھکی دینا۔
 الْكَشُوْرُ - مصر۔ سوکھی روٹی۔
 الْكَشُوْرُ - انگوڑا خورخیز جس کے انگوڑے کھائے
 جا چکے ہوں۔
 الْمَكَاشِرُ - فَا - الْحَارُ الْمَكَاشِرُ - قریبی
 پروسی۔
 كَشَطَ رَضٌ كَشَطًا وَاسْتَكَشَطَ -
 الشَّيْءُ - کسی چیز سے اس کا ٹھکانا اتارنا
 - الْمَجَلُّ عَنِ الْقَرِيْبِ وَالْغَطَاءِ
 عَنِ الشَّيْءِ - گھوڑے کی جھول یا کسی
 چیز کے ڈھکنے کو اتارنا۔ الْحَرْفُ

حرف کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔
 البَعِيْزِ - اونٹ کی کھال اتارنا۔
 تَكْشَطُ - السَّمَابُ فِي السَّمَاءِ - آسمان
 میں بادل کا ٹکڑے ہونا اور بکھر جانا۔
 اِنكشَطَ - كَشَطَ كَاتِبٌ - اتارا جانا۔
 التَّوَعُّمُ - خوف زائل ہونا۔
 اَلْكَطَاطُ - قصائی۔
 اَلْكَشَاكُ - انکشاف - اتری ہوئی کھال۔
 اَلْكَشَطَةُ - کھال اتری ہوئی اونٹوں کے
 مالکان۔
 كَشَعَ رَفٌ، كَشَعًا - القَوْمُ قَتِيْلٌ -
 قوم کا مقتول کو چھوڑ کر منتشر ہو جانا۔
 كَشَعَ رَسٌ، كَشَعًا - تنگ ہونا۔ بددل
 ہونا
 كَشَفَ رَضٌ، كَشَفًا وَكَاشَفَةً - الشَّيْءُ
 وَحِينَ الشَّيْءِ ظَاهِرًا - کھولنا۔ کھا
 جاتا ہے: كَشَفَ اللهُ غَظَبَهُ اللهُ
 اس کے غم کو زائل کرے۔
 كَشَفَتَهُ اَلْكَوْشِيْفُ - یعنی اسے رسوا
 کر دیا۔
 كَشِيْفَ رَسٍ، كَشَفًا - شکست کھانا۔
 الرَّجُلُ اَوِ الْفَرَسُ - کھل پیشانی
 والا ہونا۔
 كَشَفَ - الشَّيْءُ كَهَوْنًا - ظاہر کرنا۔
 فَلَانًا عَيْنَ الْاَمْرِ - کسی کو ظاہر کرنے
 پر مجبور کرنا۔
 كَاشَفَهُ بِكَذَا - کسی بات سے خبردار
 کرنا۔ ظاہر کرنا۔ يَالْعَدَاوَةِ
 کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرنا۔
 اَكْشَفَ - ہنسنے میں سوڑھوں کو نمودار
 کرنا۔
 اِنكشَفَ الشَّيْءَ - ظاہر ہونا۔
 تَكْشَفَ الشَّيْءَ - کسی چیز کا ظاہر ہونا۔
 اَلْبُرْقُ - بجلی کا آسمان پر پھیلنا۔
 الرَّجُلُ - کسی آدمی کا رسوا ہونا۔

تَكْشَفَتَ - القَوْمُ - ایک پر دوسرے کے
 عیب کا ظاہر کرنا۔
 اِنكشَفَ - الشَّيْءَ - کسی چیز کا کھولنا۔
 ظاہر کرنا۔ اسی سے ہے "اَلْاِنكشَافَاتُ"
 وہ نئی تحقیقات جو امور طبیعیہ صناعیہ
 میں ظاہر ہیں۔
 اِنكشَفَ - عَنِ الشَّيْءِ - کسی چیز کو
 ظاہر کرنے کو کہنا۔
 اِنكشَفَ - مَصْرٌ - اہل عروض کے نزدیک
 ساتریں متحرک کو گرا دینا۔
 اِنكشَفَ - سِرُّكَ اِغْلَى حَصَّةِ بَالٍ گر
 جانا۔ فِي اِنكشَفَ - گھوڑے کے دم
 کے بالوں کی پیچیدگی۔
 اِنكشَفَةً - سِرُّكَ اِغْلَى حَصَّةِ وَهْ جِگہ
 جہاں سے بال گرتے ہوں۔
 اِنكشَفَ - فَا - کھولنے والا۔ ج۔
 كَشَفَةٌ -
 اِنكشَفَةً - مِمٌّ - کاشف کا مؤنث۔
 رسوائی۔ ج۔ گو اَشِيْفُ -
 اِنكشَفَاتُ - اسم مبالغہ۔ کہتے ہیں "هُوَ
 كَشَفَاتُ الْعَمَلِ" وہ غموں کا
 زائل کرنے والا ہے۔
 اَلْاِنكشَفَةُ - وہ جس کے سر کے بال گر
 گئے ہوں۔ وہ گھوڑا جس کی دم کے
 بالوں میں پیچیدگی ہو۔ وہ شخص جس کے
 پاس لڑائی میں نہ ڈھال ہونے خود ہو۔
 لڑائی میں شکست خوردہ۔
 اِنكشَفَاءُ - اِنكشَفَ - اِنكشَفَ - اِنكشَفَ -
 اِنكشَفَ - یعنی مکشوف۔ کھلا ہوا۔
 ظاہر۔
 اِنكشَفَ - جُوکا پانی۔ آش جو۔
 اِنكشَفَ - عوام کے نزدیک ایک قسم کا
 کھانا جو موٹے سنو کو دودھ میں بھلو کر
 خمیر اٹھنے کے بعد پکایا جاتا ہے۔
 ایک قسم کی گنبد دار عمارت جو گھوکے

باقی حصے سے زیادہ ابھری ہوئی ہو۔
 (دخیل)
 كَشَفَشَ كَشَفَةً - بھاگنا۔ اَلْحَيَّةُ -
 سانپ کا اپنی کھال سے آواز نکالنا۔
 اِنكشَفَتَهُ - مِمٌّ - منیرکاف خطاب مؤنث
 کو شین سے بدل دیتا ہے۔ جیسے
 "اَلْاِنكشَفَتُكَ وَعَلَيْكَ كَيْ بَجَائِ
 اَلْاِنكشَفَتُكَ وَعَلَيْشِ بُولِنَا -
 اِنكشَفُولٌ وَاِنكشَفُولَةٌ - بھکاریوں کا
 چنبیل جس میں وہ اپنی بھیک کا کھانا
 وغیرہ رکھتے ہیں۔ ہما الدین آملی کی
 کتاب کا نام کَشَفُولُ ہے، اسی لیے کہ
 اس میں مختلف موضوعات پر مضامین
 ہیں۔
 كَشَمَ رَسٌ، كَشَمًا وَكَشَمًا وَكَشَمًا -
 اَلْاِنكشَفَ - ناک جڑ سے کاٹنا۔
 كَشَمَ رَسٌ كَشَمًا - کسی کی خلقت یا
 خاندان میں عیب ہونا۔ صفت۔
 اِنكشَمَ -
 كَشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - اَلْقَتَاءُ اَوِ الْجَوْرَئَا
 کڑی یا گاجر بہت شوق سے کھانا۔
 اِنكشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - جڑ سے
 کٹی ہوئی ناک۔
 اِنكشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - تیندوا۔
 كَشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - رولے کے سُر، زیادہ ہونا۔
 اِنكشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - اپنی ناک کو توڑ دینا۔
 كَشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - کشمیر کے علاقہ کا نام۔ جہاں
 کپڑے عمدہ ہوتے ہیں۔
 كَشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - کشمیر۔ کشمیر کے علاقہ کا نام۔ جہاں
 کپڑے عمدہ ہوتے ہیں۔
 كَشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - ایک دانہ کو کَشَمَ رَسٌ
 کہتے ہیں۔
 كَشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - كَشَمَ رَسٌ، كَشَمًا -
 مہ سے کاٹ
 کر نکالنا۔
 اِنكشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - گوہ کے پیٹ کی جہلی یا اس کی
 دم کی جڑ۔ ج۔ كَشَمَ رَسٌ -
 كَشَمَ رَسٌ، كَشَمًا - القَوْمُ - لوگوں کا جمع

ہونا۔ کھینچنا۔ اٹھنا۔ پالنا۔
 پانی پر لوگوں کی بھڑ ہونا۔ کھٹا و
 کھینچنا۔ اصوات۔ آواز کا
 باریک ہونا۔
 آکھ۔ بھاگنا اور ہلکتا کھانا۔
 کھٹا و کھٹا۔ انقوم۔ لوگوں کا جمع
 ہونا اور بھڑ کرنا۔
 انکھینچنا۔ ہم۔ سخت تکلیف کی وجہ سے
 بیچ و تاب۔ خوف و پریشانی۔ اضطراب
 ہڈی کی آواز۔ موٹا پستہ قدم۔ مکروہ۔
 انکھینچنا۔ جماعت۔ ہرن کے شکار کا
 پھندا۔ ج۔ کھٹا۔
 کھٹکھٹ۔ تیز چلنا۔
 کھٹہ۔ رمی۔ کھٹو۔ پیٹھ موڑنا۔ پشت
 دکھانا۔ کھٹا۔ دانتوں سے کاٹنا۔
 الرجیل۔ کسی کو سختی سے ہٹانا۔
 کھٹی۔ کھینچی کھٹیا۔ رفت کے بعد
 چھیس ہونا۔
 کھٹل۔ کھٹلا۔ ہٹانا۔ دور کرنا۔
 گھٹان۔ گھٹا۔ الطعام۔ فلاتا۔ زیادہ
 کھانے سے سانس نہ لے سکتا۔
 الفیظ صدرہ۔ غصے میں بھرا ہوا
 ہونا۔ الحبل۔ رسی باندھنا۔
 خصمہ۔ چاند طرف سے گھبرینا
 تاکہ نکلنے کا راستہ نہ ملے۔ گھٹا کھا
 و کھٹا کھٹا۔ الامر۔ فلاتا۔ رنج
 پہنچانا۔ بوجھل کرنا۔ المیل۔ پالنا۔
 پانی کی کثرت کی وجہ سے بہاؤ کی جگہ
 کا تنگ ہونا۔
 کا کھٹہ۔ کھٹا کھٹا۔ کھٹا۔ جنگ میں
 سخت ہم کر طویل عرصہ تک مقابلہ کرنا۔
 کھٹا کھٹا۔ انقوم۔ میدان جنگ میں دشمنی
 میں حصے گزرنے۔
 کھٹا۔ میں الطعام۔ زیادہ کھانے
 سے سانس نہ لے سکتا۔ المیل

پالنا۔ پانی کی زیادتی کی وجہ سے
 بہاؤ کی جگہ کا تنگ ہونا۔ المخل
 جگہ کا لوگوں سے بھر جانا۔
 انکھٹا۔ الفیظ۔ بہت غصے میں ہونا۔
 انکھٹا۔ بد معنی حکم پڑی کی تکلیف۔
 انکھٹا۔ ہم۔ بھگن۔ سختی۔ غم۔ عداوت۔
 انکھٹا۔ ہم۔ رجیل۔ کھٹا۔ سخت گیر
 مرد۔ و انکھٹا۔ و انکھٹا۔
 انکھٹو۔ کام میں گھرا ہوا۔ بہت
 غضبناک۔
 انکھٹا۔ و انکھٹو۔ شکم میر۔
 انکھٹا۔ بھڑ۔ انبوہ۔ کہا جاتا ہے۔
 "علی باب فلات کھٹا۔" فلان
 کے دروازے پر بھڑ ہے۔ طعام
 مکھٹا۔ بد معنی والا کھانا۔
 کھٹ دکن کھٹو۔ بہت موٹا ہونا۔
 کھٹرن۔ کھٹرا۔ القوس۔ کمان
 کے کنارے پر تانت لگانے کے لیے
 دندان بنانا۔ انکھٹا۔ چھتاق میں
 دندان بنانا۔
 انکھٹو۔ کمان کے کناروں پر تانت کا
 حلقہ لگانے کی جگہ۔ گردہ کی چسپی۔
 و انکھٹو۔ گردہ کی جگہ جبکہ
 گردے نکال لیے جائیں۔
 انکھٹو۔ نسلی کی پٹی کے درمیان کی جگہ۔
 کھٹہ۔ رمی۔ کھٹا۔ الباب۔ دروازہ
 بند کرنا۔ انکھٹو۔ نہ کرنا۔
 انکھٹو۔ منکب بھڑنا اور منہ باندھنا
 ۔ انکھٹو۔ پالنا۔ انکھٹا۔ اونٹ کو
 نکیل ڈالنا۔ الشی و حلی الشی۔
 کسی چیز کو روکنا۔ کھٹو۔ البوہر۔
 اونٹ کا جگال کرنے سے روکنا کہتے
 ہیں۔ ما کھٹہ۔ فلان علی جرتہ۔
 فلان کے بیٹ میں بات نہیں بیتی۔
 کھٹہ۔ کھٹو۔ غیظہ۔ غصہ کو

پالنا۔
 کھٹو۔ کھٹو۔ چپ رہنا۔
 انکھٹو۔ سانس کی نالی۔ ج۔ انکھٹو و
 کھٹا۔ کھٹے ہیں۔ انکھٹو۔
 اس کورنج میں مبتلا کر دیا۔
 انکھٹا۔ و ہمیز جس سے کسی چیز کو بند کیا
 جائے۔ کہا جاتا ہے۔ انکھٹا۔
 الامیر۔ اس نے بھروسہ کے لائق
 کام کو اختیار کیا۔
 انکھٹا۔ وادی کا وہاں۔ اونٹ کی
 نکیل۔ ترازو کی رسیوں کا حلقہ۔ کہا
 جاتا ہے۔ عقدا انکھٹو۔
 الیمینون۔ اس نے ترازو کی ڈبلی
 کے دونوں حلقوں میں دھاگے
 باندھ دیے۔
 انکھٹا۔ زمین کے اندر پانی کی نالی۔
 کھٹا۔ الباب۔ دروازہ بند
 کرنے کی چیز۔ ج۔ کھٹا۔
 انکھٹا۔ ذوقیہ کے کنوؤں
 کے درمیان دو زنالی۔ انکھٹا۔
 توشہ دان۔ ج۔ کھٹا۔
 انکھٹو۔ نا۔ خاموش۔ ج۔ کھٹو۔
 بعیر۔ کھٹو۔ پیاسا اونٹ۔
 ایل۔ کھٹو۔ وہ اونٹ جو جگال
 نہ کرے۔
 انکھٹو۔ و انکھٹو۔ مصیبت زدہ۔
 انکھٹو۔ دروازہ بند کرنے کی چیز۔
 کھٹا۔ کھٹو۔ کھٹو۔ کھٹو۔ گوشت
 سخت ہونا۔
 کھٹو۔ کھٹو۔ سمٹا۔ فریب کی وجہ سے
 گوشت کا بلند ہونا۔ ارض کا کھٹو۔
 خشک زمین۔
 کھٹو۔ کھٹو۔ کھٹو۔ کھٹو۔ کھٹو۔
 و کھٹو۔ کھٹو۔ کھٹو۔ کھٹو۔
 کھٹو۔ کھٹو۔ کھٹو۔ کھٹو۔ کھٹو۔

- فِي كَلَامِهِ - گفتگو میں رکنا۔
 الخَوْفُ فَلَانَا - ارادہ سے روکنا۔
 الكَمُّ وَالكَاعُ - کمزور۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانُ كَمُّ أَوْجُهٍ" فلاں سبک رخسار ہے۔
 كَعْبَتُ رَنْ مِ، كَعُوبًا وَكَعُوبِيَّةً وَ كِعَابِيَّةً - الحَارِيَّةُ - لڑکی کی پستانوں کا بھرنہ۔ کعبیا۔ الائتاء برتن بھرنہ۔ فُلَانًا - کسی کو سر وغیرہ پر مارنا۔
 كَعَبَ الْإِنَاءِ - برتن بھرنہ۔ الشَّيْءُ - کسی چیز کو مکعب بنانا۔
 كَعْبَتِ الْحَارِيَّةِ - لڑکی کی پستانوں کا بھرنہ۔
 كَعْبٌ - تیزی سے چلنا۔
 الكَعْبُ - جہ۔ كَعُوبٌ - دو پودوں کے درمیان کی گڑ۔ نیزہ کی گڑ۔ ہر بلند و مرتفع چیز بزرگی اور شرافت کہا جاتا ہے "أَحْلَى اللَّهُ كَعْبُهُ" اللہ ان کی شان بلند کرے۔ وَذَهَبَ كَعْبُهُمْ - ان کی عزت جاتی رہی رَجُلٌ عَلِيٌّ الكَعْبِ - بڑی شان و شوکت والا مرد۔
 الكَعْبُ - کھیل کا پانسہ۔ گھی کا ٹکڑا۔ برتن کا باقی ماندہ دودھ۔ جہ۔ كَعْبٌ وَ كِعَابٌ -
 الكَعْبُ - فِي عِلْمِهِ التَّهْدِيسَةُ - وہ مجسم جس کی چھ مربع مساوی سطیوں ہیں۔ جہ۔ كِعَابٌ وَ كَعُوبٌ وَ الكَعْبُ -
 الكِعَابُ - نرو کے مہرے۔ واحد كَعْبٌ وَ كَعْبَةٌ -
 الكَعْبُ - اجمری ہوئی پستان انگلیتہ۔ نرو کے کھیل کا بڑا مہرہ۔ ہر مربع گھر۔ جھروکہ، خانہ کعبہ بیت اللہ

المحرم جو مکرم میں ہے۔ جہ۔ كِعَابٌ وَ كَعْبَاتٌ -
 الكَعْبَةُ - لڑکی کی پوشیزگی اور بیکارت۔
 حَارِيَّةٌ كِعَابٌ وَ مُكْعَبٌ - اجمری ہوئی پستانوں والی لڑکی۔ کہا جاتا ہے وَجْهٌ مُكْعَبٌ -
 الكِعَابُ - مین الجوارى والشدى - اجمری ہوئی پستانوں والی لڑکی۔ یا اجمری ہوئی پستان۔ جہ۔ كِعَابٌ الكَعْبُ - وہ مجسم جس کی چھ سطیوں ہوں اور لبائی، چوڑائی، موٹائی سب برابر ہو۔ حساب میں کعب عدد وہ ہے جو چھ گنے کا حاصل مرتب ہو جیسے آٹھ، آدو کا کعب ہے۔ فِدْوِيٌّ مُكْعَبٌ - اجمری ہوئی پستان وہ نادر ہے،
 مُكْعَبَةٌ - کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زنبیل جو کھجوریں رکھنے کے لیے کام میں لائی جاتی ہے۔
 كَعْبَةٌ كَعْبَةٌ - بالسيف تلوار سے کاٹنا۔
 الكَعْبَةُ - مہ۔ مین التيسار۔ عجمی اکھڑ عورت۔
 الكَعْبُورُ - مین العسل۔ شہد جو شہد کے چھتے میں جمع ہو۔
 الكَعْبُورَةُ - سمت گڑہ دار بڑی۔ بندبست گوشت کا ٹکڑا۔ ہر جمع شدہ چیز سر کی جڑ۔ موٹا سرین۔ گیہوں کا کوٹا کرکٹ جو صاف کرتے وقت پھینک دیا جاتا ہے۔ اونٹ کا پانخانہ جو اس کی دم پر خشک ہو جائے۔
 كَعْبُورَةٌ الكَعْبُورَةُ - موندھے کا گول حصہ۔
 كَعْبُورَةُ الوظيفت - پنڈل کے نچلے حصہ کے تلے کی جگہ۔ جہ۔ كَعَابُورٌ -
 الكَعَابُورُ - بڑیوں کے سرے۔
 الكَعْبُورَةُ - گڑہ۔ جمع شدہ کھانے کی

چیزوں میں سے جو پھینک دیا جائے۔
 الكَعْبَةُ الرَّجُلُ - تیز چلنا۔ بیٹھنا۔ غصہ سے بھول کر سوار ہونا۔
 الكَعْبَةُ - پستہ قدم۔ ثؤنت كَعْبَةٌ -
 الكَعْبَةُ - شیشی کا سر بند۔
 كَعْبَرٌ - تیز چلنا۔ تیز دوڑنا۔ فِي مَشِيهِ - مستانہ چال چلنا۔ چلنے میں لڑکھڑانا۔
 الكَعْبُورُ - چڑیا کی مانند پرندہ۔
 كَعْبُورٌ - كَعْبَرًا - الصَّبِيُّ - بچہ کا پُرشکم ہونا۔ موٹا ہونا۔
 كَعْبُورٌ وَ كَعْبَرٌ - البَعِيرُ - اونٹ کے کوبل میں گڑہ دار چربی ہونا۔
 الكَعْبُورُ - کوبلن۔ الكَعْبُورَةُ - غدود کے مانند گوشت میں گڑہ۔
 كَعْبُورٌ - كَعْبَرًا - انگلیوں سے کسی چیز کا جمع کرنا۔
 كَعْبَتُ كَعْبَتَهُ - الرَّجُلُ - دوڑنا۔
 بھاگنا۔ تیز چال۔ مستانہ چال چلنا۔
 كَعْبَتُ كَعْبَتِهِ - پیٹھ دے کر بھاگنا۔
 الكَعْبُورُ - گود خ۔ جنگلی گڑھا۔ جہ۔ كَعَابُورٌ وَ كَعَابُورٌ -
 كَعْبَلٌ كَعْبَلَةٌ - تیز دوڑنا۔ پیدہ انگڑائی لینا اور ہاتھ پھیلاتا۔
 الكَعْبُ - ایک۔ واحد۔ كَعْبَةٌ - جہ۔ كَعْبَاتٌ - (خیل)
 كَعْبَمٌ كَعْبَلَةٌ - الرَّجُلُ - کسی آدمی کو اس کے راستے سے روکنا۔ كَعْبَلَةٌ - عَن كَذَا - کسی چیز سے باز رکھنا۔
 فِي كَلَامِهِ - گفتگو میں رکنا۔
 كَعْبَلٌ - رک جانا۔ بزدل ہونا۔
 الكَعْبَلُ - بزدل۔ کمزور۔
 كَعْبَلٌ - التَّمْرُ وَ نَحْوُهُ - کھجور وغیرہ کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھا ہوا ہونا۔
 الكَعْبَلُ - مالدار۔ کنجوس۔ وَ الكَعْبَلُ - سیاہ

ٹنگنا۔ دلپستہ قدم مرد۔

المَكْفَلُ۔ غصہ سے پھولا ہونا۔

كَعَمَرَفٌ، كَعَمًا۔ الوَعَاءُ۔ بتن کا منہ باندھنا۔ البَعِيْرُ۔ اونٹ کا منہ بند کرنا۔ تاکہ وہ نہ کاٹ سکے نہ کھا سکے۔ الخَوْفُ فُلَانًا۔ خوف کا کسی کو روکنا تاکہ وہ لوٹ نہ سکے۔

الِكِعَامُ۔ ج۔ كَعُوٌّ وَالِكِعَامَةُ۔

تھوٹنی جس سے اونٹ کے منہ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ کھا اور کاٹ نہ سکے۔

كَعُوْمٌ۔ الطَّرِيقُ۔ راستے کے دھانے بَعِيْرٌ مَكْعُوْمٌ۔ تھوٹنی چڑھایا ہوا اونٹ۔

اَلْعَنَ۔ الرَّجُلُ سُسْتُ بَوْنًا مَسْتَعْدَىٰ میں کسی ہونا۔

تَكْعَشُ۔ الطَّائِرُ۔ پرندہ کا حال میں پھینسا۔ فُلَانٌ فِي الشَّيْءِ۔ کسی چیز میں مستغرق ہونا۔

كَعَا يَكْعُوْا كَعُوًّا۔ بدل ہونا۔

الكَاعِيُّ۔ فَا۔ شِكْسْتُ خَرْدَه۔

الْاَلْكَعَاءُ۔ بزدل لوگ۔

الكَاعِدُ وَالكَاعِدُ۔ کاغذ۔

الكَاعِدِيُّ۔ کاغذ بیچنے والا۔

كَفَّ رَنًا، كَفًّا وَكَفَاكَةً۔ الثَّوْبُ۔

کپڑے کی گوٹ کو لنگر کرنے کے بعد

دوبارہ سینا۔ كَفًّا۔ الِاِنْمَاءُ۔

بتن کو بہت بھرنا۔ الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔

رَجَلُهُ۔ پاؤں میں جیترا لپیٹنا۔

الْيَقْبَلَةُ۔ قلب کے ایک گوشہ کو

اختیار کرنا۔ مَاءٌ وَجْهَهُ۔ آبرو۔

بچانا اور سوال نہ کرنا۔ عَنِ الْأَمْرِ۔

کسی کام سے روکنا۔ باز رہنا۔

كَفَّهٗ۔ عَنِ الْأَمْرِ۔ کسی کو کسی کام سے

روکنا۔

كَفَّهٗ كَهْوْفًا۔ التَّاقَةُ۔ اونٹنی کے

بڑھاپے کی وجہ سے چھوٹے دانت

ہونا۔

كَفَّ وَكَفَّ۔ بَعْرُفٌ۔ اندھا ہونا۔

تَكَلَّفَتْ۔ النَّاسُ۔ لوگوں سے مانگنے کے

لیے ہاتھ پھیلانا۔ الرَّجُلُ۔ کسی چیز

کو ہاتھ میں لینا یا سٹی بھر کھانا۔ یا

بھوک روکنے کے لائق کھانا۔ مانگنا۔

عَنِ الْأَمْرِ۔ کسی کام کو چھوڑنا۔

دَمَعَةٌ۔ آنسو کا رگنا۔

تَكَافَىٰ۔ عَنِ الْأَمْرِ۔ کسی کام سے باز

رہنا۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کو

روکنا۔

رَأَيْتُكَ۔ باز رہنا۔ رَكْنَا۔ عَنِ الْمَكَانِ

جگہ چھوڑ دینا۔

اِسْتَكْفَيْتُ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو ہاتھ میں

لینا۔ النَّاسُ۔ لوگوں کے سامنے

مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔

اِسْتَكْفَيْتُهُ۔ عَنِ الشَّيْءِ۔ کسی سے باز

رہنے کی درخواست کرنا۔ النَّاسُ

خَوْلَةٌ۔ لوگوں کا دیکھنے کے لیے اس

کے چاروں طرف جمع ہونا۔

اِسْتَكْفَيْتُهُ الْحَيَّةُ۔ سانپ کا گھول مارنا

۔ التَّاقُطُ۔ دھوپ سے بچنے کے

لیے بھڑوں پر ہاتھ رکھنا۔ عَيْنُهُ۔

میں سے لے آنکھ پر ہاتھ کا سایہ

کرنا۔ حَيْثُكَ۔ ہاتھ کے نیچے سے

دیکھنا۔ فُلَانٌ بِالصَّدَقَةِ۔ صدقہ

مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ يَدُهُ

النَّاسُ۔ لوگوں کا اسے چاروں

طرف سے گھیر لینا۔ الشَّعْرُ۔

بالوں کا جمع ہو جانا۔ الشَّيْءُ۔ کسی

چیز کا گول ہونا۔

الْكَفُّ۔ مَمٌّ۔ ہاتھ یا ہتھیلی انگلیوں

سمیت۔ ج۔ اَلْفُ وَكُفُوْفٌ وَ

كُفْفٌ۔

كَفَّتِ السَّبْعُ وَكَفَّتِ الْكَلْبُ وَكَفَّتِ

الذَّبْتُ وَكَفَّتِ مَرْيَمُ وَكَفَّتِ

اُدْمٌ وَكَفَّتِ الْأَسَدُ۔ وَكَفَّتِ

الضَّبْعُ وَكَفَّتِ الْقُرْدُ وَكَفَّتِ

الْأَجْزَمُ وَكَفَّتِ الْجَزْمَاءُ وَ

كَفَّتِ عَالِشَةُ۔ یہ سب پودوں

اور گھاس کی قسمیں ہیں۔

الْكَفُّ۔ نعمت۔ اہل عروض کے نزدیک

ساتویں ساکن حرف کا ساکن کر دینا۔

جیسے فاعلان کا نون۔

الْكُفَّةُ۔ كَفٌّ کا اسم مرہ۔ كُفَّةٌ

الْمِيزَانِ۔ ترازو کا پلڑا۔ دبا فتح ایک

روایت کے مطابق کہتے ہیں "رَأَيْتُهُ"

كُفَّةً كُفَّةً لِمَنِي بَرْنِجٍ وَكُفَّةً"

يَكُفُّ وَكُفَّةً عَنِ كُفَّةً۔" میں نے

اسے آنے سے روک دیکھا۔

الْكِيفَةُ۔ ہر گول چیز۔ گڑھا جس میں پانی

جمع ہو۔ مِنَ الْمِيزَانِ۔ ترازو کا

پلڑا۔ تَشْنِيهُ كِفَّتَانِ۔ مِثْلِ الدَّقِ

ڈھول یا دف کا ڈھانچا۔

كَيْفَةُ الصَّائِدِ۔ شکاری کا جال۔ ج

كَيْفٌ وَكِفَافٌ۔

الْكَيْفَةُ الْجَنُوبِيَّةُ وَالْحِكْمَةُ

الشَّمَالِيَّةُ۔ دوستاروں کے نام۔

کما جاتا ہے "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

وَالْكَيْفَةُ بِالْكَيْفَةِ" سونے کے

برے سونا اور ذہن میں برابر ہو۔

جِثْنَةُ فِي كَيْفَةِ الْكَيْلِ۔ میں

رات کے شروع میں اُس کے پاس

آیا۔

الْكُفَّةُ۔ کسی چیز کا کنارہ۔ گوٹ، حاشیہ

۔ مِنَ الشَّجَرِ۔ درختوں کی حداور

انتہا۔ الصَّائِدُ۔ شکاری کا جال

۔ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں کی جماعت۔

قریب جگہ والے۔ مِّنَ الْقَيْحِ
 بادل کا کنارہ۔ مِّنَ اللَّيْلِ۔ جہاں
 دن رات ختم ہوتے ہیں، مشرق میں
 یا مغرب میں۔ مِّنَ الدَّرَجِ۔ زرہ
 کا دامن اور پچلا حصہ۔ مِّنَ الرَّمْلِ
 ریت کا ٹیلہ جو لمبا اور گول ہو۔ مِّنَ
 الثَّوْبِ۔ کپڑے کے اوپر کی دھاری
 جس میں جھول نہ ہو۔ مِّنَ اللَّحْمِ
 مسوڑھے کا لٹکا ہوا حصہ۔ الْقَيْمِصِ
 کرتے کے دامن کے ارد گرد کی گوٹ۔
 ج۔ كُفُوفٌ وَكُفَاتٌ۔

اَلْكُفُوفُ۔ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔
 مِّنَ الرَّشْقِ۔ گنارے کے لائق
 روزی۔ مِّنَ الْوَشْبِ۔ گندے
 کے حلقے گڑھے جس میں چشمے ہوں۔
 اَلْكُفَاتُ۔ مِّنَ الرَّشْقِ۔ گنارے کے
 لائق روزی جو لوگوں کو بے نیاز کر
 دے۔ کہتے ہیں "هُوَ تَهْ كُفَاتٌ"
 حَاجَتِهِ؛ اس کا گنارہ کمی بیشی کے
 بغیر اس کی ضرورت کے مطابق ہے۔
 فَلَانٌ لَّحْمُهُ كُفَاتٌ لِذَمِيمِهِ۔
 فلاں کا چمڑا اس کے بدن کے گوشت
 سے بھرا ہوا ہے۔

كُفَاتٌ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کے مانند۔ کہا
 جاتا ہے "دَعْنِي كُفَاتٌ" تو
 مجھے چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا
 طَارَ الْبُرُوقُ فِي كُفَاتِ السَّحَابِ
 بادل کے کناروں میں بجلی کوندی۔
 جَنَّتْ فِي كُفَاتِ اللَّيْلِ۔ میں اس
 کے پاس رات کی ابتدا میں آیا۔
 اَلْكُفَاتُ۔ مِّنَ الشَّيْءِ۔ کسی چیز کا گمیز۔
 مِّنَ الثَّوْبِ۔ کپڑے کی گوٹ۔
 السَّيْفُ۔ تلوار کی دھاب۔ السَّحَابُ
 بادل کا کنارہ اور اس کا پچلا حصہ۔ ہر
 وہ چیز جو کسی چیز کا مقام اتصال ہو۔

كُفَاتٌ۔ خَلَا كُفَاتُ الْاِذْنِ۔ ج۔
 اَلْكُفَاتُ۔

الكاف۔ فاعل۔ ج۔ كُفَعَةٌ۔ نَاقَةٌ
 کاٹ۔ بڑھاپے کی وجہ سے گھسے ہوئے
 دانت والی اونٹنی۔

كُفِيلٌ كَافٌ۔ اپنے نفس کو کسی چیز سے
 روکنے والا ہر۔

اَلْكَافَةُ۔ کاف کا مؤنث۔ جماعت۔ کہا
 جاتا ہے "جَاءَ النَّاسُ كَافَةً"
 سب لوگ آئے۔ اس پر الف لام
 نہیں ہوتا اور نہ اضافت ہوتی ہے۔
 بلکہ ہمیشہ حال کی حیثیت سے منصوب
 ہوتا ہے۔

اَلْكَافَةُ۔ بوزی اونٹنی۔
 اَلْكَفُوفُ۔ مِّنَ الثَّوْبِ۔ بڑھاپے کی
 وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی
 اونٹنی۔

اَلْمَكَافَةُ۔ ایک دوسرے کو روکنا۔
 اَلْمُكْفُوفُ۔ ج۔ مَكَافِيْفٌ۔ اَلْكَفِيْفُ
 اندھا۔

اَلْمُسْتَكْفِتُ۔ گول۔
 اَلْمُسْتَكْفَاتُ۔ گڑھوں کے چشمے۔
 اکٹھے اونٹ۔

كُفَاتٌ دَفٌ، كُفَاتٌ۔ پھربا شکست کھانا۔
 لوٹنا۔ مِّنَ الْقَصْدِ۔ اعتدال سے
 متجاوز ہونا۔ الرَّجُلُ۔ کسی آدمی کو
 دھتکارنا۔ كُفَاتٌ وَاَلْكُفَاتُ۔
 اَلْاِنَاءُ۔ برتن کو الٹ دینا۔ اوندھا
 کر دینا تاکہ جو کچھ اس میں ہے وہ
 بہ نہ جائے۔

كَافًا۔ الرَّجُلُ عَلٰی مَا كَانَ مِثْلَهُ۔
 کسی آدمی کو اس کے کام میں مدد دینا۔
 فَلَانًا۔ نگرانی کرنا۔ مقابلہ کرنا۔
 بہنہ ہونا۔ برابری کرنا۔ مدافعت کرنا
 مِّنَ الْفَرَسَيْنِ بِرُمُحِهِ۔

ایک گھوڑے کے بعد دوسرے گھوڑے
 کو نیزہ مارنا۔

اَلْكُفَاتُ۔ جھکنا۔ اَلْاِنَاءُ۔ برتن الٹ دینا
 اَلْكُفَاتِ الْاِبِلِ۔ اونٹ کا بہت نیچے
 دینا۔ الْبَيْتُ۔ گھر کا پردہ لٹکانا۔
 اَلنَّعَايِرُ۔ شاعر کا شعر کے آخر کو
 حرفِ رومی کے بدلنے سے یا کسی اور
 طریقے سے خواب کرنا۔

تَكْفَاتٌ۔ فِي مِثْلِيَّتِهِ۔ چلنے میں لاکھڑانا۔
 اَلْكُتْفَا۔ اَلْاِنَاءُ۔ برتن کو جھکانا۔ الٹ
 دینا۔ الْاِبِلِ۔ اونٹوں کو لوٹ کر
 لے جانا۔

تَكْفَاتٌ۔ اَلْفُؤْمُ۔ ایک دوسرے کے
 برابر ہونا۔

اَلْكُفَاتُ۔ اَلْفُؤْمُ۔ لوگوں کا منتشر ہونا۔ واپس
 جانا۔ شکت کھانا۔ رالی کڈنا۔
 جھکنا۔ اَلدُّوْنُ۔ رنگ کا بدلنا۔

اِسْتَكْفَاتٌ۔ فَلَانًا اِبْلَةً۔ کسی سے ایک
 سال کے لیے اونٹوں کی پیدائش مانگنا۔
 اِسْتَكْفَاتُ اِسْتَكْفَاتُ اِبْلَةً
 فَا كُفَاتِيَهَا۔ میں نے اس سے اس
 کے اونٹ کی پیدائش کو ایک سال
 کے لیے مانگا تو اس نے مجھے اس کا
 دودھ، اون اور اس کے بچے سب
 دے دیا۔

اِسْتَكْفَاتٌ۔ فَلَانًا۔ میں نے اس سے
 مطالبہ کیا کہ جو کچھ اس کے برتن میں
 ہے وہ میرے برتن میں اتار دے۔
 اَلْكُفَاتُ وَ اَلْكُفَاتُ۔ وہ حالت جس
 کے ذریعہ کوئی چیز دوسری چیز کے برابر
 ہو جائے۔ مساوی حالت۔

اَلْكُفَاتُ۔ كَافًا كَامُصَدَّرٌ۔ کہا جاتا ہے
 "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كُفَاتُ الْوَاجِبِ"
 (واجبی تعریف) کے برابر خدا کی
 تعریف ہے۔ "هَذَا كُفَاتُ"۔ یہ

اس کی مانند ہے "وَلَا يَكْفَاءُ كَفًا"
 اہل کون نظر نہیں ہے۔
 كِفَاءُ الْبَيْتِ - غیمہ کے اوپر سے نیچے
 تک کا پردہ جو آخر میں لگایا جاتا ہے
 ج۔ اَكْفَيْتُهُ
 الْكِفَاءُ وَالْكِفَاءُ وَالْكَفَاءُ. مثل ونظیر
 ج۔ اَكْفَاءٌ وَكِفَاءٌ -
 الْكُفُوُّ وَالْكَفُوُّ وَالْكَفِيُّ - و
 الْكَفِيَّةُ: ماثل
 الْكِفَاءُ وَالْكَفَاءُ - مِنَ الْخَيْلِ كَهَجْر
 کے درخت کی سالانہ پیداوار۔
 الْإِبِلِ - اونٹ کی ایک سال کی
 پیداوار یا ایک سال اور اس سے زائد
 کچے ناغہ کی پیداوار۔ فِي الْأَسْنِ مِنْ
 سَالٍ بَهْرٍ كَيْفِي كَتَبْتُمْ هِيَ "مَنْحَتُهُ"
 كِفَاءٌ عَنِّي - میں ایک سال کے
 لیے دودھ، اون اور بچے بکریوں کے
 سب دینے دیے۔ بشرطیکہ سال بھر کے
 بعد ان کی ماؤں کو واپس کر دے۔
 الْكِفِيُّ - ماثل و مشابہ۔ بطن وادی کہا
 جاتا ہے "هُوَ كِفِيُّ الدُّوْنِ" اس
 کارنگ پھیلا ہے۔
 كَفْتُ الْعَادِي - وادی کا اندرونی حصہ۔
 الْإِكْفَاءُ - اَكْفَاءُ كَمَا مَعْدُ شِعْرَاءُ اور
 اہل عروص کے نزدیک حرف روی کو
 بدل بدل کر لانا۔ مثلاً کہیں میم کہیں
 ڈال کہیں نون استعمال کیا جائے۔
 یہ بتا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: رَأَيْتُ
 مَكْتَفِيَّ الدُّوْنِ وَمَكْفَاءَ الدُّوْنِ
 میں نے اس کارنگ پھیلا اور بدل
 ہوا دیکھا۔
 كَفْتَهُ رَضًا، كَفْتَا - کسی کو اس کے رُح
 سے پھینکا۔ اَللَّهُ - خدا کا موت دینا۔
 کہا جاتا ہے: اَللَّهُمَّ اَكْفَيْتَهُ
 إِلَيْكَ - اے خدا تو اسے موت دید

كَفْتُ - اَلشَّيْءُ - کسی چیز کا الٹ جانا۔
 وَكَفْتُ الشَّيْءَ إِلَى تَقْسِيمِهِ - کسی
 چیز کو اپنے ساتھ ملانا۔ اَلشَّيْءُ - کسی
 چیز پر قبضہ کرنا۔ فَلَانَ ذَيْبَةً -
 کسی کا اپنے دامن کو سمیٹ لینا اور
 اسے اپنی طرف ملا لینا۔
 كَفْتُ رَضًا، كَفْتَا وَكِفَاتَا وَكَفَيْتَا وَ
 كَفْتَانَا وَكَفْتِ الطَّائِرِ وَ
 غَيْرُهُ - پرندے وغیرہ کا تیز اڑنا یا
 دوڑنا اور سملنا۔
 تَكَفَّتْ - فِي مَسِيرِهِ - تیز چلنا۔
 تَكَفَّتِ الثَّوْبُ - کپڑے کا سملنا۔
 كَانَتْ مَكَافَتَهُ وَكِفَاتَا - الرَّجُلُ -
 دوڑنے بھاگنے میں مقابلہ کرنا۔
 اَتَكَفَّتْ - پھینکا۔ سَمْنَا - اَلْفَرَسُ -
 گھوڑے کا دہلا ہونا۔
 اَتَكَفَّتْ - الْمَالُ - سب مال لے لینا۔
 اَلْكَفْتُ - مَم - موت۔ الٹ پلٹ ہونا۔
 کہا جاتا ہے: "خُبْرُ كَفْتِ بَيْتِ سَالِنِ
 كِي رَجُلٍ - رَجُلٌ كَفْتٌ - دُبلتا پتلا مرد
 اَلْكِفْتُ - چھوٹی ہنڈیا۔
 اَلْكِفْتُ وَالْكَفْتَةُ - مِنَ الْخَيْلِ
 بشرط اچھلتے کودنے والا گھوڑا، جو
 فنوار نہ ہونے سے۔
 اَلْكِفَاتُ - مَم - وہ جگہ جہاں کوئی چیز جمع
 کی جائے۔ اَلدُّخْرُ - جمع کی ہوئی چیز۔
 اَلْكِفِيَّةُ - مَم - رُشْمُ دَان - جس میں
 کھانا رکھا جائے۔ مِنَ الرَّجَالِ
 بَلَا بَلَا كَمَا لِي مَرْدٌ - وہ شخص جو تم سے
 آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔
 عَدُوٌّ كَفِيٌّ - تیز چلنے والا دشمن۔
 کہا جاتا ہے: مَاتَ كِفَاتَا وَ
 مَكَافَتَهُ - وہاں تک مر گیا۔
 اَلْكِفَاتُ - فَعَالٍ كَيْ وَنِ كَيْ بِرَأْسِ مَبَالِغِ
 سفیر۔

اَلْمَكْفُوتُ - جو دو زرہیں کو پھینکے اور دونوں
 کے درمیان کپڑا ہو۔
 كَفَحَ رَفًا، كَفَحَا - الْعَدُوُّ - دشمن
 کے رو برو ہونا۔ آسنے سامنے ہونا۔
 لَا طَعْلِي مَعِي مَارْنَا - لِحَامِ الدَّابَّةِ
 سواری کے جانور کو ٹھہرانے کے لیے
 اس کا لگام کھینچنا۔ اَلشَّيْءُ - کسی چیز
 کا سر پوش اتارنا۔
 كَفَحَ رَضًا، كَفَحَا - عَنهُ - شرمندہ ہونا
 بزدل ہونا۔
 كَا قَحَرٌ - الْقَوْمُ اَعْدَا اَعْتَمَدٌ - دشمن کا
 ڈھال وغیرہ کے بغیر جنگ میں مقابلہ کرنا
 کہا جاتا ہے: "هُوَ يَكْفَحُ الْأُمُورَ"
 وہ کاموں کو خود سر انجام دیتا ہے۔
 كَا قَحَرٌ - عَنهُ - مَافَعَتٌ كَرْنَا -
 اَكْفَحَ - الدَّابَّةُ - چوپائے کو ٹھہرانے
 کے لیے لگام کھینچنا۔ فَلَا يَمَّا عَنِّي
 نَفِيَهُ - کسی کو بھٹانا۔ دَفَعٌ كَرْنَا -
 تَكَافَحَ - الْقَوْمُ - آسنے سامنے مقابلہ
 کرنا۔
 تَكَافَحَتِ الْأُمُورُ - موجوں کا ایک
 دوسرے سے ٹکراتا۔ اَلْيَبَاسُ
 مینڈھوں کا ایک دوسرے کو سینگ
 مارنا۔
 اَلْيَفَاحُ - مَم - کہا جاتا ہے: "لَقِيْتُهُ"
 كِفَاحًا - میں نے اس سے آسنے
 سامنے ملاقات کی۔
 اَلْكَفِيَّةُ - مَم - شہر نامگامی
 آنے والا مہمان۔
 اَلْكَفِيَّةُ - كَالَا - سیاہ۔
 اَلْكَفِيَّةُ - چھوٹی سی جماعت۔
 كَفَحَهُ رَفًا، كَفَحَا - ٹھہرانا۔
 بِالْعَصَا - لَاطَعِي سَعِي مَارْنَا -
 اَلْكَفِيَّةُ - جمع شدہ سفید کھن۔ رَجُلٌ
 مَكْفَعٌ - طاقتور مرد۔ عَمُودٌ مَكْفَعٌ

مضبوط ستون۔
 كُفْرًا كُفْرًا وَكُفْرًا - الشئىءِ كسى
 چیز کو چھپانا۔ کہتے ہیں "كُفْرًا دُرْعَةً"
 پتھریلے: اس نے اپنی زدہ کو اپنے
 کپڑے سے چھپایا۔ اللیل الشئىءِ
 علی الشئىءِ۔ رات کا کسی چیز کو
 چھپانا اور ڈھانکنا۔ "الجهل
 علی علی فلان"۔ جہل کا علم پر
 غالب آنا۔ كُفْرًا او كُفْرًا و
 كُفْرًا او كُفْرًا نًا۔ نَعَمَ اللهُ
 وِ بِنِعْمِهِ۔ خدا کی نعمتوں کی ناشکری
 کرنا۔ خدا کو نہ ماننا۔ ایمان نہ لانا۔
 انکار کرنا۔ بکذا۔ کسی چیز سے
 بیزاری ظاہر کرنا۔ كُفْرًا الشئىءِ۔
 کسی چیز کو چھپانا۔ الرَّجُلُ۔ کفر
 پر کسی کو آمادہ کرنا یا کفر کا الزام
 لگانا۔ لَهْ۔ تعظیماً کسی کے سامنے
 سینہ پر ہاتھ رکھنا اور سر جھکانا۔
 كُفْرًا۔ اللهُ لَهُ الذَّنْبُ۔ خدا کا اس
 کے گناہوں کو معاف کرنا۔
 كُفْرًا عَنِ اِثْمِهِ او يَمِينِهِ۔ قسم یا گناہ
 کا کفارہ ادا کرنا۔
 كُفْرًا۔ لِلْمَلِكِ۔ بادشاہ کو تاج پہنایا
 جانا کہ جس کے دیکھنے سے تعظیم کی
 جا سکے۔
 كَا فَرَمًا قَدْرًا۔ فَلَانًا حَقَّهُ۔ کسی
 کے حق سے انکار کرنا۔
 اَكْفَرًا۔ اطاعت اور ایمان کے بعد کفر
 اختیار کرنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کو کافر
 کہنا۔ کفر کی طرف منسوب کرنا۔ کافر
 بنانا۔ کفر کی طرف آمادہ کرنا۔
 اَكْتَفَرًا۔ دیہات میں رہنا۔
 تَكْفَرًا۔ الْمُحَارِبُ فِي سَلَا حِهِ۔
 جنگجو کا ہتھیار بند ہونا۔ کہا جاتا
 ہے "تَكْفَرًا يَتَوَيْدُكُ" اپنا

لباس پہننا۔
 اَلْكُفْرُ۔ لوگوں سے دور دراز زمین۔
 قبر۔ چھوٹی لالٹی۔ مٹی۔ دیہات۔ ج
 كُفْرًا۔ و اَلْكُفْرُ و اَلْكُفْرَةُ
 رات کی تاریکی اور سیاہی۔
 اَلْكُفْرُ و اَلْكُفْرَانُ۔ ایمان کے خلاف
 عقیدہ۔ کافری۔
 اَلْكُفْرَانُ۔ ناشکری۔ اَلْكُفْرُ۔ ایرانیوں
 کا اپنے بادشاہ کی تعظیم کرنا۔
 اَلْكُفْرُ و اَلْكُفْرَى و اَلْكُفْرَى۔
 اَلْكُفْرَى۔ کھجور کے شگوفے کا غلاف
 اَلْكُفْرُ۔ پہاڑ کی گھاٹیاں۔ واحد كُفْرَةٌ۔
 اَلْكُفْرُ۔ مین الجبال۔ بڑا پہاڑ۔
 اَلْكَا فِرُ۔ خدا کی نعمتوں کا انکار کرنے
 والا۔ ج۔ كَا فِرْتٌ و كُفْرَةٌ و
 كُفْرًا و كُفْرًا۔ خدا کا انکار
 کرنے والا۔ كُفْرًا۔ اس کافر کی
 جمع میں اکثر استعمال ہوتا ہے جو
 مومن کی ضد ہے اور کفرہ کا استعمال
 عام طور پر اس کافر کی جمع کے لیے
 ہوتا ہے جو بمعنی ناشکر گزار ہے۔
 اَلْكَا فِرُ۔ تاریک رات۔ سمند۔ بڑی وادی
 تاریک بادل۔ تاریکی۔ کھجور کے
 شگوفے کا غلاف۔ بڑا دریا۔ زدہ۔
 وہ شخص جس نے زدہ کو اپنے کپڑوں
 سے چھپا کر اس کے اوپر پہن رکھا
 ہو۔ لوگوں سے دور اور الگ جگہ
 زمین۔ ہموار زمین۔ پودے۔ کاشتکار
 ہتھیار بند۔ پوشیدہ طور پر رہنے
 والا۔
 اَلْكَا فِرُ۔ مین الخیل۔ کالا گھوڑا۔
 اَلْكَا فِرَةُ۔ کافر کا مؤنت جہ کافیات
 و کوا فیر۔
 اَلْكُوَا فِرُ۔ شراب کے ٹکے۔
 اَلْكُفُورُ۔ کافر۔ ج۔ كُفْرًا۔ اس کی جمع

سالم نہیں ہے۔
 اَلْكَا فِرُ۔ ایک خوشبودار گھاس۔ کافر۔
 کھجور کا شگوفہ۔ کھجور کے شگوفے کا
 غلاف۔ خوشہ انگور نکلنے کی جگہ۔ ج
 كُوَا فِرُ و كُوَا فِرُ۔
 اَلْكُفَارُ۔ اسم بالغہ۔ رَجُلٌ كُفَارٌ۔
 اللہ کی نعمتوں کا بہت انکار کرنے
 والا۔
 اَلْكُفَارَةُ۔ كُفَارٌ کا مؤنت۔ وہ نیکی جو
 گناہ کے بدلے میں کی جائے۔ صدقہ یا
 روزہ جو کفارہ میں ادا کیا جائے۔
 اَلْمُكْفِرُ و اَلْمُتَكْفِرُ۔ ہتھیار بند مسلح
 اَلْمُتَكْفِرُ۔ منفر۔ وہ محسن جس کی ناشکری
 کی جائے۔ لوہے میں جکڑا ہوا۔
 طَا يَرُ مُكْفَرًا۔ پرندوں میں چھپا
 ہوا پرندہ۔
 كَفَسٌ رَسٌ اَكْفَسًا۔ الصَّبِيُّ۔ بچے
 کے پاؤں کا ٹیڑھا ہونا۔ صفت اَكْفَسٌ
 مؤنت كُفَسًا۔ ج۔ كُفَسٌ
 اِنْكُفَسًا۔ الرَّجُلُ۔ مرد کا دوہرا ہونا۔
 اَلْمِكْفَسُ۔ بچے کے بدن پر باندھنے کا
 کپڑا۔ بدن سے ملے ہوئے کپڑے۔
 اوپر کا کپڑا اور چادر۔
 كُفْكُفَةً۔ عَنِ كَذَا۔ کسی چیز سے باز
 رکھنا۔ منع کرنا۔
 كُفْكُفَتَ۔ اَلدَّ بُو۔ بار بار آنسو پونچنا۔
 - الرَّجُلُ۔ قرض دار سے زری اختیار
 کرنا۔ قرض دار کو اذیت پہنچانے والے
 کو کھنکنا۔
 كُفْكُفَتَ۔ عَنهُ۔ کسی سے باز رہنا۔
 کھنکنا۔
 كُفْلٌ دُنْ كُفْلًا و كُفَالَةً۔ فَلَانًا۔
 کسی کے نان و نفقہ اور خبر گیری کا
 ذمہ دار ہونا۔ فی صیامہ۔ لگاتار
 روزے رکھنا۔ اَلشئىءِ اِلَيْهِ۔ کسی

کافی کفًا أو مكَافَاةً - الرَّجُلُ -
 بدلہ دینا۔ کافی ہونا۔
 تَكْفَى - النَّبَاتُ - پردوں کا طویل ہونا۔
 اِكْتَفَى - بَكْدًا - قناعت کرنا۔ بے
 نیاز ہونا۔
 اِسْتَكْفَى - الرَّجُلُ الشَّيْءَ - کسی سے
 کافی چیز طلب کرنا۔ ... کہتے ہیں۔
 "اِسْتَكْفَيْتَهُ الْأَمْرَ فَكَفَانِيهِ"
 میں نے اس سے کافی چیز کی درخواست
 کی تو اس نے مجھے کافی دے دیا۔
 اِكْفَايَةٌ - مَم - وہ چیز جو کافی ہو اور
 غیر سے بے نیاز کر دے۔
 اِكْفَى وَاكْفَى وَاكْفَى - جس سے
 ضرورت پوری ہو جائے۔ کہتے ہیں۔
 "رَجُلٌ كَفِيكَ مِنْ رَجُلٍ"
 ایسا آدمی ہے جو تمہیں دوسرے
 فرد سے بے نیاز کر دے۔ اس میں
 واحد، تشبیہ، مذکر و مؤنث، سب
 برابر ہیں۔
 اِكْفَى - اَنْدَرُونَ وَاوَادِي - جہ - اَكْفَاءُ
 اِكْفِيَةٌ - گزارا۔ چلتھاری زندگی گزارنے
 کے لائق ہو۔ جہ - كَفَى -
 اِكْفَى وَاكْفَى - جو تمہارے لیے
 کافی ہو اور تمہیں دوسروں سے
 بے نیاز کر دے۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
 رَجُلٌ كَفِيكَ مِنْ رَجُلٍ و
 رَجُلَانِ كَفِيَاكَ مِنْ رَجُلَيْنِ و
 رَجَالٌ كَفُواكَ مِنْ رَجَالٍ"
 یہ مرد تمہیں دوسرے مرد سے بے
 نیاز کر دے گا۔ كَفَى الرَّجُلُ -
 مرد کا قائم مقام۔ اِكْفَى - بارش -
 اَلْمَكَافَاةُ - مَم - احسان کا احسان یا
 اس سے زیادہ چیز سے بدلہ دینا۔
 کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَكَافَاتٌ"
 میں نے تم سے مکافات کی امید رکھی۔

كَلٌّ رَضٍ، كَلَاوِكَلَةٌ وَاكَلَاوُ و
 كَلُولًا وَاكَلَاوَةٌ وَاكَلُولَةٌ يَكَلُّونَ
 صفت کال ہے۔ والد اور اولاد
 کے بغیر ہونا۔ السَّيْفُ وَاكَلُولَةٌ
 تلوار وغیرہ کا کند ہونا۔ صفت کَلٌّ
 وَاكَلُولٌ اللِّسَانُ أَوِ الْبَصَرُ -
 زبان یا نگاہ کا اچھی طرح سے کام
 نہ دینا۔
 كَلَّلَ - السَّيْفُ - تلوار کا کند ہونا اور
 نہ کاٹنا۔ عَيْنُ الْأَمْرِ - بزدل ہو کر
 رگنا۔ فِي الْأَمْرِ - کسی کام میں
 کوشش کرنا۔ الرَّجُلُ - مرد کا
 چلا جانا اور اپنے اہل و عیال کو ضائع
 ہونے کے لیے چھوڑ دینا۔ السَّبْعُ -
 درندے کا حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "كَلَّلَ تَكْلِيلَةَ السَّبْعِ" اس
 نے درندے جیسا حملہ کیا۔ عَلَيْهِ
 بِالسَّيْفِ - تلوار سے حملہ کرنا۔
 كَلَّلَهُ - تاج پہنانا۔ بِالْحِجَارَةِ -
 کسی کے اوپر پتھراؤ کرنا -
 السَّحَابُ بِالْمَاءِ - بادل کا
 آسمان پر چاروں طرف سے چھا
 جانا۔
 اَكَلَّ - الْبُكَاءُ بَصَرَةً - رونے کا
 نگاہ کو دم مہم کر دینا۔ الْبَعِيرُ -
 اونٹ کو تھکا دینا۔ الرَّجُلُ - مرد
 کے اونٹ کا تھک جانا۔
 تَكَلَّلَ - تاج پہنانا۔ الشَّيْءَ بِه - کسی
 چیز کا احاطہ کرنا۔
 تَكَلَّلُوهُ - لوگوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔
 وَاكَلَّلَ - السَّحَابُ عَنِ الْبَرْقِ
 بادل میں بجلی کا آہستہ آہستہ چمکنا
 اِكْتَلَّ الْعَمَامُ بِالْبَرْقِ - بادل
 میں بجلی کا چمکنا۔
 اِنْتَكَلَ - السَّيْفُ - تلوار کا کند ہونا۔

الْبَرْقُ - بجلی کا آہستہ آہستہ چمکنا۔
 - الرَّجُلُ - سُكَرَانًا - السَّحَابُ
 عَنِ الْبَرْقِ - بادل میں بجلی کا
 آہستہ آہستہ چمکنا۔
 اِنْتَكَلَ - مَم - کمزور۔ جس کے والد اور
 اولاد نہ ہو۔ - تيم، بھاری سبے خیر -
 چھری یا تلوار کا پھللا حصہ۔ وکیل۔
 بُت - مصیبت۔ محتاج۔ عیال۔
 بوجه۔ اس لفظ کا اطلاق واحد جمع
 سب پر ہوتا ہے، بعض اس کے
 مذکر و مؤنث کی جمع کُلُولُ کہتے ہیں۔
 كَلٌّ - سب ہر ایک۔ یہ ایسا اسم ہے جو
 متعدد افراد کا احاطہ کرنے کے لیے یا
 واحد کے اجزاء کو عام کرنے کے لیے
 وضع کیا گیا ہے۔ یہ اضافت کے
 بغیر مستعمل نہیں ہے۔ خواہ لفظ ہو
 یا تقدیراً۔ ما مصدر یہ ظرفیہ کے
 داخل ہونے کی تکرار کا مفہوم ادا کرتا
 ہے۔ جیسے "كَلَّمَا آتَاكَ زَيْدٌ
 اَكْرَمُهُ" جب کبھی زید تمہارے
 پاس آئے تم اس کی عزت کرو۔ یہ
 نکرہ اور معرفہ کی صفت کے طور پر
 بھی مستعمل ہے۔ اس موقع پر وہ
 موصوف کی صفت کی انتہائی حد کو
 ظاہر کرتا ہے جیسے هُوَ الْعَالِمُ
 كَلُّ الْعَالَمِ - وہ عالم علم کی انتہائی
 حد کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ معرفہ و نکرہ
 محدودہ کی تعریف کے لیے بھی آتا
 ہے۔ جیسے سَيِّدَةُ الْمَلِكَةِ كَلْمُهُ
 تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اَقَمْنَا
 حَوْلًا كَامِلًا كَلَّةً - ہم تمام سال
 رہے۔ کُلُّ كَالْفِظِ مَفْرُودٌ وَنَكَرٌ
 اور مضاف الیہ کے لحاظ سے اس کا
 مفہوم ہوگا۔ اگر نکرہ کی طرف مضاف
 ہوگا تو اس کے معنی کا لحاظ رکھنا ضروری

ہوگا اور اس کے بعد ضمیر یا مفرد و مذکر آنے کی جیسے کُلُّ شَيْءٍ قَعْلُوهُ كَمَا يَحْكُمُونَ۔ انہوں نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ کیا۔ یا مفرد مؤنث (جس حال) جیسے کُلُّ نَفْسٍ ذَا أَلْبَانٍ الْمَوْتِ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یا ثنی دشنیہ جیسے وَكُلُّ نَفْسٍ رَّحِيلٌ وَرَانٌ هُنَا۔ یا جمع مذکر ہر گل جیسے وَكُلُّ أَنَاثٍ سَوَّوَتْ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ۔ تمام لوگوں کے درمیان تم داخل ہو گے۔ یا جمع مؤنث جیسے وَكُلُّ مُصِيبَاتِ الزَّمَانِ وَجَدْتُهَا۔ اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو لفظ کی رعایت ہی جائز ہے اور معنی کی بھی۔ جیسے کُلُّ الْقَوْمِ خَضِرُوا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کُلُّ الْقَوْمِ خَضِرُوا۔ اگر یہ لفظ اضافت کے بغیر آئے تو اس صورت میں بھی لفظ دو معنی دونوں میں کسی ایک کے مطابق اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کُلُّ خَضِرُوا وَكُلُّ خَضِرُوا۔ کہا گیا ہے کہ جب مضاف الیہ مقدر اور مفرد نکرہ ہو تو مفرد لانا واجب ہے۔ اور اگر جمع معرفہ کے ساتھ ہو تو جمع لانا واجب ہے۔ اجماعت نہ ہونے کی صورت میں اسی لفظ پر توہین مضاف الیہ کے بدلے میں ہے جتنا چہ اوپر کی مثال میں مفرد مضاف الیہ پہلی مثال میں کُلُّ أَحَدٍ خَضِرُوا ہے اور دوسری مثال میں کُلُّهُمْ خَضِرُوا ہے۔

اگر لفظ کُلُّ نفی کے بعد واقع ہو تو بعض افراد کی نفی ہوگی جیسے۔ مَا جَاءَ كُلُّ الْقَوْمِ۔ پوری قوم نہیں آئی کچھ آئی کچھ نہیں آئی۔ اگر لفظ کُلُّ

پہلے اور نفی بعد میں ہو تو سارے افراد کی نفی ہوگی جیسے۔ كَلَّمَهُمْ لَمْ يَقُومُوا۔ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اس لفظ سے الف لام نہیں داخل ہوتا مگر اس وقت جب وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہو۔ یا کال ہی کا مفہوم مراد لیا جائے۔ جیسے الْكُلُّ لِأَحَاطَةِ الْإِنْفِرَادِ۔

کَلَا۔ ہرگز نہیں۔ یہ حرف روکنے اور تشبیہ کے لیے مستعمل ہے۔

الْكَلَّةُ۔ کَلُّ کا اسم مرہ۔ کند چھری اور دھار۔

الْكَلَّةُ۔ دیر تاخیر۔ کُلُّ كَامُونٌ۔ جیسے كَلَّةٌ أَمْرًا۔ کُلُّ أَمْرٍ۔

الْكَلَّةُ۔ بازیک پردہ۔ بچہ روانی۔ ہودج کے سرے پر شرح اون۔ بچہ۔ کَلُّ وَكَلَاتٌ۔

الْكَلُّ۔ حالت۔ کہا جاتا ہے۔ "بَانَتْ بِكَلِّ سُوِّ"۔ اس نے بری حالت میں رات گزاری۔

الْكَلَالَةُ۔ ٹھکن۔ جس کے والد اور اولاد نہ ہو۔ وہ شخص جس کا نسبی رشتہ دار نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ "هُوَ ابْنُ عَجْدٍ الْكَلَالَةُ وَابْنُ عَجْدٍ كَلَالَةٌ"۔ وہ شخص خاندان کا فرد ہے مگر قریبی نسبی رشتہ دار نہیں ہے۔

الْكَلِّيُّ۔ کُلُّ کی طرف منسوب۔ الْعَلْمُ الْكَلِّيُّ۔ علم النبی۔

كَلِيَّةٌ۔ الشیء۔ کسی چیز کا مجموعی اور کل حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ "أَخَذَ بِكَلِيَّتِهِ"۔ اس نے وہ چیز پوری پھیل لی۔

الْكَلِيَّاتُ۔ فی عرف المنطقین۔ وہ مفہوم جو بہت افراد پر صادق ہو۔ اس کی پانچ قسمیں ہیں۔ جنس۔ وہ کلی جس

کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں جیسے حیوان۔ نوٹ۔ وہ کلی جس کے افراد کی حقیقتیں متحد ہوں۔ جیسے انسان۔ فصل۔ وہ کلی جو دوسرے اقسام سے اپنے افراد کو ممتاز کر دے جیسے ناطق۔ خاصہ۔ وہ کلی عرض جو ایک حقیقت کے ساتھ مخصوص ہو جیسے ضابطہ۔ عرض عام۔ وہ کلی جو ایک سے زائد اقسام کے ساتھ مختص ہو۔ جیسے ماشی۔

الْكَلِيلُ۔ تاج۔ جو ابر سے مرصع ہوگا۔ ج۔ اِكْلَةٌ۔ وَاكْلَانٌ۔ ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔

الْكَلِيلُ الْبَلْبَلِيُّ۔ ایک قسم کی نباتات۔ ناخن۔ الْكَلِيلُ الْجَبَلِيُّ۔ ایک قسم کی نباتات۔

الْكَلِيلُ۔ تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ "بَعَثَ كَلِيلٌ كَرْدًا نِجَاهًا"۔ سَيْفٌ كَلِيلٌ۔ کند تلوار۔ ج۔ كَلَالٌ۔

كَلَاءٌ دَفٌّ، كَلَاءٌ وَكَلَاءٌ وَكَلَاءَةٌ۔ اِنَّهُ فُلَانٌ حَفَاطٌ كَرْنَا۔ كَلَاءٌ بِالسَّوْطِ۔ کوڑے مارنا۔ كَلَاءٌ بَصْرَةٌ فِي الشَّيْءِ۔ بار بار دیکھنا۔ النَّجْمُ مَتَى يُطْلَعُ۔ ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا۔ كَلَاءٌ وَكَلُوَةٌ۔ الدَّيْنُ۔ قرض کی ادائیگی میں دیر ہونا۔ صفت گاربی۔ وَاكَالٌ۔ عَمْرٌكَ۔ عمر کا ختم ہونا۔ كَلَاءٌ وَكَلِيٌّ رَسٌّ، كَلَاءٌ۔ الْمَكَانُ جگہ کا سبزہ نادر ہونا۔

اَكْلَاتٌ۔ اِنَاقَةٌ۔ اونٹنی کا سبزہ کھانا۔ كَلَاءٌ تَكْلِيًّا وَتَكْلِيَّةً۔ السَّيْفِيَّةُ۔ کشتی کو کنارے کے قریب کرنا۔ الرَّجُلُ۔ باز کھنا۔ رُكْنَا۔ فِي الْاَمْرِ۔ کسی کام پر غم کرنا۔ رَالِي

فَلَانٍ فِي الْأَمْرِ - آگے بڑھنا۔
 تَكْلِيْفًا - بیعانہ لینا۔ تَكْلِيْفَةٌ -
 ہوا سے پناہ کی جگہ آنا۔ فِي الطَّعَامِ
 وَغَيْرِهِ - بیخ سلم کرنا۔
 كَالْأَنَّهُ مَكَالَةٌ وَكِلَاءٌ - انتظار
 کرنا۔
 تَكْلَوٌ وَاسْتَكْلَوٌ - اِسْتَكْلَوٌ - بیعانہ لینا۔
 اِسْتَكْلَوٌ - المکان - کسی جگہ سبزہ
 زیادہ ہونا۔
 اِكْتَلَوٌ - كَلَوٌ - بیعانہ لینا۔
 اِكْتَلَوْتُ - عَيْتُهُ - بخوابی میں مبتلا ہونا
 اور نہ سونا۔
 اِكْتَلَوٌ - مِنْ فُلَانٍ - کسی سے بچنا۔
 اِكْلَوٌ - گھاس۔ سبزہ۔ جہ۔ اَكْلَوٌ - اس
 میں سوکھی اور سبز گھاس دونوں شامل
 ہیں۔
 اِسْكَلَوٌ - بندرگاہ۔ دریا کا کنارہ۔
 اِسْكَالِيٌّ وَاسْكَالِيٌّ - بیعانہ۔ ادھار۔ جہ
 گَوَالِيٌّ وَگَوَالِيٌّ - مَكَانٌ كَلِيٌّ وَ
 مَكَلِيٌّ - بہت سبزہ والا مقام مَوْنَت
 كَلِيَّةٌ وَمَكَلِيَّةٌ - رَجُلٌ كَلَوٌ
 الْعَيْنِ - بیدار چشم مرد۔ جس پر نیند
 غالب نہ آسکے۔ عَيْنٌ كَلَوَةٌ -
 بیدار آنکھ۔
 اِسْكَلَوَةٌ - بیعانہ۔ ادھار۔
 الْاِكْلَوِيُّ - اسم تفضیل - کہا جاتا ہے۔
 " بَلَّغَ اللّٰهُ بِكَ اَكْلًا الْعُمُرِ "
 خدا تمہاری انتہاں عمر کرے۔ اَرْضٌ
 مَكَلَوَةٌ - بہت سبزہ والی زمین۔
 الْمَكْلَوُ - بندرگاہ۔ دریا کا کنارہ۔ وہ جگہ
 جہاں ہوا سے پناہ لے سکیں۔
 كَلَبٌ (ن) كَلْبًا - الفوس۔ گھوڑے کو
 ممیز بارنا۔ الْمَوَازِدَةُ - توشہ دان
 میں تسمہ لگانا۔
 كَلَبَ رَضٌ كَلْبًا - الرَّجُلُ يَرُدُّكَ اَكْتَوں

کی طرح آواز نکالنا تاکہ لے سن کر
 کہتے بھونکنے لگ جائیں اور ان کا
 پتہ چل سکے۔ جبکہ کوئی آدمی ویران
 جگہ میں ہو۔ اِنْكَلِبُ کہتے کالاگو
 اور دیوانہ ہو جانا کہ لوگوں کو کھانے
 کا عادی بن جائے۔
 كَلِبٌ (س) كَلْبًا - پیا سا ہونا۔ اِنْكَلِبُ
 کہتے کا دیوانہ ہونا۔ الرَّجُلُ - مرد
 کا پاگل کہتے کے کاٹنے سے دیوانہ
 ہو جانا۔ عَلَى الْأَمْرِ - کسی کام پر
 حریص ہونا۔ فِي كَذَا - کسی چیز کی امید
 رکھنا۔ عَلَى الرَّجُلِ - اصرار کرنا۔
 الرَّجُلُ سِيرَ بَوْنَةً بِغَيْرِ بَسْتٍ كَهَاتَا -
 دیوانے کہتے کا کاٹنا۔ دیوانے کہتے
 کیے کاٹنے سے چیخنا۔ غصے ہونا۔
 اِنْكَلِبُ - کہتے کالاگو ہونا۔ اَلْقِدُّ
 عَلَى الْأَسْبِيْرِ - خشک ہو کر کاٹنا۔
 الشَّجَرُ - درخت کی سیرابی نہ ہونے
 کی وجہ سے پتوں کا خشک ہونا اور
 گذرنے والے کے کپڑوں سے الجھنا۔
 الشِّتَاءُ وَالزَّمَانُ - سردی اور زمانے
 کا سخت ہونا۔
 كَلَبٌ كَلَابًا - الرَّجُلُ کہتے کے کاٹنے
 کی وجہ سے دیوانہ ہونا
 كَلَبٌ - اِنْكَلِبُ - کہتے کو سدھانا۔
 كَالْبِ كَلَابًا وَمَكَالِبَةٌ - الرَّجُلُ -
 کسی سے کلم کھلا دشمنی کرنا اور اسے
 تنگ کرنا۔
 كَالْبِتِ الْاِبِلِ - اونٹوں کا کانٹے دار
 درخت چرنا۔
 اَكْلَبٌ - الْقَوْمُ - لوگوں کے اونٹوں کا
 پیا سا ہونا۔
 تَكَالِبٌ - الْقَوْمُ - کلم کھلا آپس میں
 دشمنی کرنا۔ عَلَى كَذَا - ایک دوسرے
 پر حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے " تَكَالِبُ

النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا - لوگ دنیا کے
 بہت حریص ہو گئے۔
 اِسْتَكْلَبٌ - الرَّجُلُ - کتوں کی طرح
 بھونکنا۔ اِنْكَلِبُ - کہتے کالاگو ہونا۔
 انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔
 اِنْكَلِبُ - كِتَابٌ - كَلَابٌ - وَجَعٌ -
 اَكَالِبٌ وَكَلَابَاتٌ - چمکی کے دھبے
 کالاگو۔ کجاوہ کے کنارے کی میخ جس
 پر مسافر اپنا توشہ وغیرہ لٹکاتے۔ دیوار
 کو سہارا دینے کی لکڑی ٹیلے کا کنارہ۔
 تلوار کے قبضے کی میخ۔ اِنْكَلِبٌ مِنْ
 الْفَرَسِ - گھوڑے کی پیٹھ کی دھاری۔
 کہا جاتا ہے: اِسْتَوَى عَلَى كَلْبٍ
 قَوَسِيٍّ: وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر
 جم کر بیٹھ گیا۔ نیز کہا جاتا ہے: كَفَّ
 عَنَّهُ كَلَابِيَّةٌ: اس نے اس کو گالی
 دینی اور اذیت پہنچانی چھوڑ دی۔ اسی
 طرح یہ بھی محاورہ ہے " فُلَانٌ
 يَوَادِي الْكَلْبِ: یعنی اس کا کوئی
 گھربا۔ نہیں ہے۔ جہاں وہ ٹھکانہ
 لے سکے۔
 اِنْكَلِبٌ - وادی میں پانی کا پھلا اضافہ۔ ہردہ
 چیز جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔
 جیسے چمڑے کے دو کناروں کو ایک
 تسمے سے باندھ دیا جائے۔ كَلْبٌ
 الْمَاءِ اَوْ كَلْبٌ - بَحْرٌ - ایک قسم کی
 پھلی جو کہتے سے مشابہ ہوتی ہے۔ دم
 لمبی اور کان اور ٹانگیں چھوٹی چھوٹی ہوتی
 ہیں۔ رنگ سرخی سیاہی مائل ہوتا ہے
 اِنْكَلِبٌ وَكَلْبٌ الْجَبَارِ وَالْكَلْبُ الْاَكْبَرُ
 وَكَلْبٌ الْاَصْفَرُ وَكَلْبٌ الْعَرَابِيُّ الْا
 ستاروں کے نام۔ كَفَّ اِنْكَلِبٌ -
 ایک قسم کی پھلی ہوتی گھاس۔ لِسَانُ
 اِنْكَلِبِ - ایک قسم کا پودا۔
 اِنْكَلِبٌ کہتے کے کاٹنے سے دیوانگی۔

الکلب۔ کلب کا مصدر۔ کتے کی دیوانگی
 کامرض۔ سخت پیاس۔ موسم سرما کا
 آغاز۔ کہا جاتا ہے: "دَقَعْتُ
 عَنْكَ كَلْبَ فَلَانٍ" میں نے تم سے
 فلاں کے شر کو دور کر دیا۔
 الكلبية۔ کتیا۔ کاٹا۔ اُمُّ كَلْبَةٍ۔
 بخار۔
 الكلبتات۔ لوہار کا زبور۔ دانت اکھاڑنے
 کا زبور۔ اسے کلابہ بھی کہتے ہیں۔
 الكلبية۔ سختی۔ تنگی۔ قحط۔ سخت سردی۔
 بلی کتے کی تھو تھتی کے دونوں طرف
 کے بال۔ شراب فروش کی دکان۔
 الكلاب والكلوب۔ ہمیز۔ آگ لگانے
 کے لیے مڑے ہوئے سر کی سلاح۔
 آنکھیں۔ ج۔ کلابیہ۔ کلابیہ
 البازي۔ باز کے بچے۔ کلابیہ
 الشجر۔ درخت کے کانٹے۔
 الكلاب والكلاب۔ کتے والا۔ الكلاب
 فکاری کتوں کو سدھانے والا۔ کجاوہ
 کے کنارے۔ کچھ لٹکانے کے لیے
 میخ یا لوہا۔ گوشت وغیرہ لٹکانے کے
 لیے لوہے کا کٹرا۔ ج۔ کلابیہ۔
 الكلاب والكلاب۔ کتوں کا گروہ۔
 الكلب۔ ج۔ کلیون والكلاب۔ ج۔
 کلبی۔ باولے کتے کے کالنے سے
 دیوانہ۔ عام کلب۔ سختی اور قحط
 کا سال۔ دھو کلب۔ سختی اور
 غم انگیز زمانہ۔ مساویل کلب۔ بہت
 اصرار سے مانگنے والا۔ کہا جاتا ہے۔
 "هُوَ كَلْبٌ عَلَى كَذَا" وہ اس چیز
 کا بہت حریص ہے۔
 الكلبية۔ کلب کا مؤنث۔ خاردار درخت۔
 أرض كلبية وأرض كلبية۔
 الشجر۔ خشک زمین۔
 المكلب۔ مفع۔ بٹری پڑا ہوا قیدی۔

كَلَابٌ مُكَلَّبَةٌ۔ سدھے ہوئے
 کتے۔
 المكلب۔ کتوں کو سدھانے والا شکار
 پکڑنے والے جانور۔
 المكالب۔ دلیر۔ أرض مكلبة۔ بہت
 کتوں والی زمین۔
 كَلَّتْ رَضًا كَلْنَا۔ الشئ۔ کسی چیز کو
 جمع کرنا۔
 كَلَّتْ۔ بہہ پھینکا۔ كَلَّتْ فِي الْإِنَاءِ۔
 برتن میں اٹھ لینا۔ الفرس۔ گھوڑے
 کو چلانا۔
 انكلت۔ الماء۔ پانی گرنے۔ الرجل۔
 مرد کا پریشان ہونا۔
 انكلت۔ الماء۔ پانی پینا۔
 الكلبية۔ کھانے کا حصہ۔
 الكلبية والكلبية۔ لمبا پتھر جس سے
 بچو کے بھٹ کو بند کیا جائے۔
 كَلَبْتُ كَلْبَةً۔ فی امرہ۔ کام میں
 سستی کرنا۔
 انكلتب والكلتب۔ کام میں سستی
 کرنے والا۔
 كَلَشَمَ كَلْمَةً۔ لَحْمِ الْوَجْبِ۔ ترش روئی
 کے بغیر چہرے کا گوشت سمٹنا۔
 الكلثوم۔ چہرہ اور رخسار پر زیادہ گوشت
 ہونا۔ جھنڈے کے سرے پر ریشم کا ٹکڑا۔
 الكلبج۔ بہاد۔ سخی۔
 الكلبج۔ طاقتور لوگ۔
 كَلَمَ رَفًا، كَلُوْحًا وَكَلَاْحًا۔ وَجْهَةٌ۔
 تیسری چڑھا ہوا ہونا۔ صفت کا ربح۔
 کہا جاتا ہے: "كَلَمَ فِي وَجْهِ
 الصبي او المجنون بچے یا پاگل
 کو گھبرا دینا۔
 كَلَمَ۔ وَجْهَةٌ۔ تیسری چڑھا ہونا۔
 وَجْهَةٌ۔ تیسری چڑھانا۔
 كَالِحٌ۔ فَلَانٌ۔ ایک دوسرے کا قوت میں

مقابلہ کرنا۔ القمتر۔ چاند کا باطل میں
 چھینا۔
 تكلمح۔ الوجه۔ تیسری چڑھا ہوا ہونا۔
 البوق۔ بجلی کا لگاتار چکنا۔ الرجاء۔
 مسکرانا۔
 الكلوح۔ وَجْهَةٌ۔ تیسری چڑھانے میں دانت
 نکانا۔ کہا جاتا ہے: "دَهْرٌ كَلَوْحٌ۔
 تنگی کا سخت زمانہ۔
 كَلَاجٌ۔ بنی برکسرہ۔ قحط کا سال۔
 الكلحة۔ منہ اور اس کے آس پاس کا حصہ۔
 الكايح۔ فا۔ وہ شخص جس کے ہونٹ کھلے
 ہوئے ہوں۔ کہا جاتا ہے: "دَهْرٌ أَوْ
 يَشْتَاءُ كَالِحٌ" سخت زمانہ یا سخت
 سردی۔
 الكلوبج۔ پیا۔
 كَلَبْتُ كَلْبَةً۔ تلوار سے ہارنا۔
 كَلَدَ رَضًا، كَلَدًا وَكَلَدًا۔ الشئ۔ تہ
 بہت جمع کرنا۔
 تكلد۔ الرجل۔ گوشت کا موٹا، اور
 سخت ہونا۔
 الكلد۔ سخت زمینیں۔ واحد كَلْدَةٌ۔
 الاكليد۔ کنجی۔ کلید۔ اقلید بھی کہتے ہیں۔
 اور یہ دخیل ہے۔
 كَلَزَ رَضًا، كَلَزًا وَكَلَزًا۔ الشئ۔ جمع کرنا۔
 الكلاش۔ الكلاش۔ البازي۔ باز کا شکار
 کرنے کے لیے سمٹ جانا۔ الرجل۔
 مرد کا سکرطنا۔
 الكلوز۔ مضبوط پٹھے والا۔ گٹھا ہوا مرد۔
 كَلَسَ۔ البتيت۔ چمنے سے استرکاری کرنا۔
 الشئ۔ کسی چیز کو گچ یا چونے کی مانند
 ہونا۔ قنن قدقہ۔ حریف کے سدنے
 سے بزدل بن کر بھاگنا۔ من الماء۔ پانی
 سے سیراب ہونا۔
 تكلس۔ چونا یا گچ ہونا یا چونے یا گچ کی مانند
 ہونا۔ من الماء۔ پانی سے سیراب ہونا۔

الکلیس۔ چوتنایا چونارا کہ ملا ہوا۔
 الکلیس۔ جھورا رنگ سیاہی مائل۔
 الکلیس۔ چمنے کے رنگ والا۔
 الکلیس۔ چنوا والا۔ چونا بیچنے والا۔ سیف
 کلاسی۔ تیز تلوار۔
 الکلیس۔ تیز دوڑنے والا۔
 الکلیس۔ ایک بھلی جو سانپ کی مانند
 ہوتی ہے اس کو حنکلیس بھی کہتے
 ہیں (دخیل)۔
 کلمہ۔ ایہ۔ قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔
 الرجل تیزی کے ساتھ جانا بستی کی
 وجہ سے حقوق ادا کرنے میں تاخیر کرنا۔
 کلمہ۔ الرجل۔ بھاگنا۔
 کلیت (س) کلمہ۔ قدمہ۔ پاؤں کا
 میلا ہونا اور پھٹنا۔
 کلیہ رس، وکلمہ کلمہ۔ الوسخ علی
 رأیہ ادنی رأیہ۔ سر پمیل کا
 خفک ہونا۔ کلمہ رأسہ۔ سر کا میلا
 ہونا۔ کلیت قوائم الدابة
 چوپائے کی ٹانگوں میں سخت خارش ہونا
 کلمہ وکلمہ۔ البعیر۔ اونٹ
 کے گھروں کا پھٹنا۔
 الکلمہ۔ الوسخ۔ میل کچیل کا چڑھنا
 اور تیز ہونا۔
 کلمہ۔ القوم۔ لوگوں کا جمع ہونا۔ اور
 آپس میں قسم کھانا۔
 الکلمہ۔ بدنامی کہنے شخص۔ جہ۔ کلمہ۔
 الکلمہ۔ پاؤں کی میل۔ پھین۔
 الکلمہ۔ گندہ انسان جس پر بہت میل کچیل
 جمی ہوئی ہو۔ مؤنت کلمہ۔ کہا جاتا
 ہے: "هو أسود کلمہ" وہ کالا ہے
 اور اس کی سیاہی میں کچیل کی مانند ہے
 الکلمہ۔ بکریوں کے ريوڑ کا ایک حصہ۔
 بہت سی بکریاں۔
 الکلمہ۔ اونٹوں کی ایک بیماری جو ان کو

ان کے بدن کے پچھلے حصے میں لاحق
 ہوتی ہے۔
 الکولع۔ میل کچیل۔
 الکلام۔ ہم۔ ہمت اور سختیوں کو
 برداشت کرنا۔ جنگ کے مواقع۔
 کلیت رس کلمہ۔ الوجہ۔ چہرہ پر
 جھائیاں ہونا۔ چہرہ پر سرخی اور ٹیلا پن
 کا چھاجانا۔ صفت مذکر الکلف۔ صفت
 مؤنت کلمہ۔ بہ کسی سے بہت
 زیادہ محبت کرنا۔ صفت کلف۔
 الامور۔ مشقت پر آمادہ کرنا۔
 کلمہ۔ مشکل کام کا حکم دینا۔
 الکلمہ۔ یکذا۔ کسی چیز کا شوقین بنا دینا۔
 تکلف۔ الامور۔ خلاف عادت و شوارکام
 کو برداشت کرنا۔
 الکلف الکلفا۔ جھائیں کے رنگ
 کا ہونا۔
 الکلفی۔ سیاہی زردی مائل جھائیاں۔
 الکلف۔ عاشق مرد۔
 الکلمہ۔ جھائیں کا رنگ سرخ ٹیلا مائل
 رنگت یا سیاہی سرخی مائل رنگت۔
 مشقت مضیبت یا حق پر رنج۔ جہ
 کلمہ۔
 الکلمہ۔ تکلیف و مشقت۔ جہ۔
 تکلیف۔ شاعر کہتا ہے: "سینت
 تکلیف الحیاة" میں زندگی کی
 مشقتوں سے گھبرا گیا ہوں۔
 الکلمہ۔ مشکل کام۔
 الکلمہ۔ سخت محبت و اشتیاق۔
 الکلمہ۔ کلف کا مؤنت۔ بیوسرخ
 شراب جو سیاہی مائل ہو جائے۔ سرخی
 سیاہی مائل شراب کا مشکا۔
 الکلمہ والکلمہ۔ بیکار باتوں میں
 پڑنے والا۔ تکلف کرنے والا۔
 الکلمہ۔ چھوٹی کشتیاں جو عراق کے

دریاؤں میں چلتی تھیں۔ جہ۔ کلمہ کلمہ۔
 الکلمہ۔ جہ۔ کلمہ کلمہ۔
 سینہ۔ ہنسی کی لہروں کے درمیان
 کا حصہ۔ من القومین۔ گھوڑے کے
 سینہ کا وہ حصہ جو بیچنے کی حالت میں
 زمین پر لگے۔ الکلمہ کلمہ۔ جماعتیں۔
 الکلمہ والکلمہ۔ مضبوط گٹھے بدن
 کا پستہ قدمرد۔ مؤنت کلمہ و
 کلمہ۔
 کلمہ رضن، کلمہ۔ زخمی کرنا۔ کہا
 جاتا ہے: "هذا امنا یکلم العوض
 والدین" یہ وہ چیز ہے جو آب و اور
 دین کو زخمی کرتی ہے۔
 کلمہ کلمہ۔ زخمی کرنا۔ تکلمہ و
 کلمہ۔ بات چیت کرنا۔ گفتگو کرنا۔
 کلمہ کلمہ۔ گفتگو کرنا۔ کہا جاتا
 ہے: "کانا یحصار مین فاصبحا
 یتکلمان" وہ دونوں ایک دوسرے
 کو چھوڑنے ہوئے تھے پھر ایک دوسرے
 سے گفتگو کرنے لگ گئے۔ اس موقع
 پر یتکلمان نہیں کہا جائے گا۔
 تکلمہ تکلمہ و تکلمہ۔ الرجل
 کلمہ و کلمہ۔ بات کرنا۔ بولنا۔
 الکلمہ۔ مع۔ زخم۔ جہ۔ کلمہ و
 کلمہ۔
 الکلمہ۔ جہ۔ کلمہ کلمہ۔ و
 الکلمہ (جہ۔ کلمہ۔ والکلمہ
 جہ۔ کلمہ۔ لفظ مفرد یا مرکب جو
 انسان بولے کلمہ توحید لا الہ الا
 اللہ محمد رسول اللہ کلمہ التقوی
 ینس اللہ الرحمن الرحیم۔
 الحکم الکلمات۔ خداوند تعالیٰ کے
 دس احکام جو بنی اسرائیل پر نازل
 ہوئے تھے۔
 الکلمہ و کلمہ اللہ۔ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کا لقب۔ کلمۃ کا اطلاق
خطبہ اور قصیدہ پر بھی ہوتا ہے۔
الکَلَامُ۔ قول۔ گفتگو۔
الکَلَامُ۔ سخت زمین۔
الکَلَمَانِي وَالکَلَمَانِي وَالکَلَمَانِي
وَالکَلَمَانِي۔ فصیح اور عمدہ گفتگو
کرنے والا۔ بہت بولنے والا۔ ہر ایک
کے آخروں تا لگانے سے ٹونٹ کا
صیغہ ہوجائے گا۔ رَجُلٌ تَكَلَّمَ وَ
تَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ۔
ابھی اور فصیح گفتگو کرنے والا۔
الکَلِيمُ۔ مجروح۔ ج۔ کَلِيٌّ۔ بمکلام۔
الکَلِيمُ وَکَلِيمُ اللّٰهِ۔ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کا لقب۔ رَجُلٌ كَلِيمٌ
بہت بولنے والا۔
الْمُتَكَلِّمُ۔ علم کلام کا ماہر۔
الْمُتَكَلِّمُ۔ گفتگو کی جگہ۔ کہتے ہیں "مَا
أَجِدُ مُتَكَلِّمًا" میں گفتگو کی کوئی
جگہ نہیں پاتا ہوں۔
كَلِيٌّ يَكَلِيُّ كَلِيًّا۔ الرَّجُلُ۔ کسی مرد کے
گردے پر ضرب لگانا۔ صفت مفعولی
مَكَلِيٌّ۔
کلی دس، کلیا و لا کتلی۔ گردے پر
چوٹ لگانا۔
اَلرَّجُلُ الْاَكْرَهُ۔ گردے پر ضرب لگانا۔
کلی۔ درد گردہ میں مبتلا ہونا۔
کلی تکلیف۔ پوشیدہ جگہ آنا۔
اَلرَّجُلُ الْاَكْرَهُ۔ شکست کھانا۔
الکَلْبَةُ وَالکَلْوَةُ۔ گردہ۔ نئی۔
کَلْبَتَانِ وَکَلْوَتَانِ۔ ج۔ کلی و
کَلْبَاتٌ وَکَلْوَاتٌ۔
کلی الوادی۔ وادی کے اطراف و جوانب
کما جاتا ہے: غَلْمٌ حَمْرًا
الکَلِيٌّ: دہلی پتی بکریں: و لَقِيْتَهُ
بِشَحْحِ كَلْبَةٍ: میں نے اس سے

آغاز جوانی اور ایام نشاط میں ملاقات
کی۔
الکَلْبَةُ۔ مِنَ الْقَوَسِ۔ کمان کے
قبضے سے تین بالشت۔ رَمِيَتْ
السَّحَابِ۔ بادل کے نیچے کا حصہ۔
الکَلِيٌّ۔ مِنَ الطَّيْرِ۔ پرندے
کے بازو کے چار پر۔
الکَلِيٌّ۔ درد گردہ کا مریض۔
كَلَا وَكَلَّتَا۔ یہ دونوں اسم لفظاً مفرد اور
معنوں کے لحاظ سے ثنی و ثننیه ہیں
کَلَا سے مذکر کی اور کَلَّتَا سے مؤنث
کی تاکید ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ ایسے
کلمہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں جو معرف
اور ثننیه پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ جب
اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں
تو الف اپنی حالت پر باقی رہتا ہے
اور ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔
جیسے: "رَأَيْتُ كَلَا الرَّجُلَيْنِ وَ
كَلَّتَا الْمَرْأَتَيْنِ" مگر جب یہ ضمیر
کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ثننی
جیسا اعراب ہوتا ہے جیسے: "جَاءَ
الرَّجُلَانِ كَلَاهُمَا وَرَأَيْتُ
الرَّجُلَيْنِ كَلِيَهُمَا وَالْمَرْأَتَيْنِ
كَلْتِيَهُمَا" جب ان کی طرف ضمیر
راجع ہوتو ان کا لفظ مفرد ہونے کی
وجہ سے مفرد کا صیغہ لایا جاتا ہے۔
جیسے کَلَّتَا الرَّجُلَيْنِ اِنَّتُ
اَكَلَمَا۔ دونوں باغیوں نے اپنا پھل
دیا۔ زَيْدٌ وَعَمْرٌو كَلَاهُمَا
قَائِمٌ۔ یہی طریقہ زیادہ فصیح ہے
مگر معنوں کے لحاظ سے ثنی کا صیغہ
بھی لایا جاسکتا ہے جیسے كَلَاهُمَا
قَامَا زَيْدٌ وَعَمْرٌو قَائِمَانِ
گلاس کا استعمال بہت کم ہے۔ تاہم
كَلَاهُمَا مُحِبَّتٌ لِصَاحِبِهِ۔ دونوں

میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے محبت
کرنے والا ہے۔ جیسے جلوں میں رعایتی
لفظ ہے۔ کیونکہ اس میں کَلٌ مِنْهُمَا کا
مفہوم متعین ہے۔
الرَّجُلُ الْكَلْبِيُّ۔ مگر جا کے خادم۔ اس میں
پھولے بڑے پادری بھی شامل ہیں۔
واحد اکلیریکی۔ ج۔ اَكْلِيرُ كَلْبِيٌّ۔
لفظ عیسائی مذہب کی طرف سے داخل
ہوا ہے۔
کَلْمٌ۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔
۱۔ استفہامیہ۔ اس کا مینر صوب ہوتا
ہے جیسے کَلْمٌ دَرَهْمًا لَكَ۔ تمہارے
کتنے درہم ہیں۔
۲۔ خبریہ یعنی کثیر۔ اس کا مینر مجرور ہوتا
ہے جیسے کَلْمٌ عَبْدٌ اَوْ عَبْدٌ مَلَكَتُ
میں بہت سے غلاموں کا مالک ہوں۔
کَلْمٌ دَنٌ كَلْمًا۔ چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔
الْبَعِيْرُ۔ اونٹ کے منہ پر تھوٹھی چڑھانا
۔ النَّاسُ۔ لوگوں کا جمع ہونا۔
كَمَّتْ وَكَمَّتْ دَكْمًا وَكَمُومًا۔
النَّخْلَةُ۔ کھجور کے درخت میں شکوفہ
آنا۔ صفت۔ مَكْمُومٌ۔
كَمَّهْ وَكَمَّهْ۔ الْقَمِيْصُ۔ کرتے میں
آستین لگانا۔
كَمَمْتُ وَكَمَمْتُ۔ النَّخْلَةُ۔ کھجور
کے درخت کا شکوفہ دار ہونا۔
كَمَمْتُ۔ بِثِيَابِهِ۔ کپڑے پہننا۔ اُدْرَهْنَا۔
كَمَمْتُ۔ بَدْرْنَا۔ لپیٹنا۔
كَمَمْتُ۔ الْقَوْمُ۔ مدہوش ہونا۔ ڈھانکا
جانا۔
الکَلْمُ وَالکَلْبِيَّةُ۔ مقدار۔ الِکْبِيُّ۔ کم
کی طرف نسبت۔ مَلَتْ كَلْبِيَّةٌ۔
الکَلْمُ۔ آستین۔ ج۔ اَكْمَامٌ وَكَمَمَةٌ
الکَلْمَةُ۔ گول ٹوپی۔ ڈھکنا۔
الکَلْمُ۔ غلاف شکوفہ۔ ج۔ اَكْمَةٌ وَ

اَلْکَمَامُ وَکَمَامٌ دَاکَا مِیْمٌ۔
 اَلْکَمَّةُ الْخَیْلُ۔ توڑے جو گھوڑوں کے
 سروں پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ واحد
 کَمَامٌ۔
 اَلْکِمَامَةُ۔ پھول کا غلاف۔ کھجور کے
 شگوفہ کا غلاف۔
 اَلْکِمَامَةُ وَاَلْکِمَامُ۔ تھوٹتی جس سے
 جانور کے منہ کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ
 نہ کھا سکے اور نہ وہ کاٹ سکے۔
 اَلْکَمُوْمُ۔ ملمع۔ مِنَ الْخَیْلِ کھجور کا وہ
 درخت جس میں شگوفہ کا غلاف نکل آئے
 اَلْکِمَّةُ۔ تھوٹتی۔ ایک عقلی جیسی چیز جو
 چوپائے کے منہ پر ڈال دی جائے۔
 گِیْحَی رَسٌ کَمَّ۔ پوشیدہ ہونا۔ چھپنا۔
 عَنِ الْاَخْبَارِ۔ خبروں سے ناواقف
 ہونا۔ بے خبر ہونا۔
 کَمِیْتُ۔ يَدَا مِنَ الْبَرْدِ اَو الْعَمَلِ
 ہاتھ کا سردی یا کام سے پھٹ جانا۔
 کَمَّ رَفٌ کَمَّ۔ سانپ کی چھتری۔ ایک
 قسم کا خود رو پودہ۔ کھلاتا۔
 اَلْکَمَاءُ اَلْکَمَاءُ۔ الْمَكَانُ۔ کسی جگہ
 سانپ کی چھتری یا فراط ہونا۔
 الرَّجُلُ۔ کسی کو سانپ کی چھتری
 کھلاتا۔ السِّنُّ فُلَانًا۔ بوڑھا کر دینا۔
 تَلَمَّأَ۔ ناپسند کرنا۔ برا جاتا۔
 تَلَمَّأَتْ عَلَیْهِ الْاَرْضُ۔ پوشیدہ
 کرنا۔ غائب کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَوَّبَجَ
 النَّاسُ يَتَلَمَّأُونَ"۔ لوگ سانپ
 کی چھتری چننے کے لیے نکلے۔
 اَلْکَمْرُ۔ مَم۔ سانپ کی چھتری۔ کھبی، اس
 کو شَمُو الْاَرْضِ بھی کہتے ہیں۔ جو
 اَلْکَمُوْمُ وَکَمَّ۔ یہ پودا بہار کے
 موسم میں زمین کے نیچے پایا جاتا ہے
 = ادوی کی طرح گول جڑ ہوتی ہے جس
 کا تہہ ہوتا ہے نہ رگیں۔ اس کا رنگ

ٹیللا پن کی طرف مائل ہوتا ہے۔
 اَلْکَمَاءُ۔ سانپ کی چھتری چننے والا۔ یا
 چننے والا۔
 اَلْمَكْمَاةُ وَ الْمَكْمُوَّةُ۔ سانپ کی
 چھتری کے پیدا ہونے کی جگہ۔
 کَمَّتْ رَاکٌ کَمَّاتًا وَ کَمَّتَةً
 - الْفَرْسُ۔ گھوڑے کا کیت ہونا۔
 کَمَّتَ کَمَّاتًا - الْغَيْظُ۔ غصہ کو ضبط
 کرنا۔
 کَمَّتَ - الثَّوْبُ۔ کپڑے کو سیاہی مائل
 سُخِ رَنگنا۔
 کَمَّتَتْ کَمِّیَّتًا - الْخَمْرُ وَالْفَرْسُ
 وَ غَیْرَهُمَا۔ شراب اور گھوڑے وغیرہ
 کو کیت کے رنگ کا بنایا جانا۔
 اَكَمَّتْ وَ اَكَمَّتْ وَ اَكَمَّاتٌ - الْفَرْسُ۔
 گھوڑے کا کیت ہونا۔
 اَلْکَمِیَّةُ۔ کیت کا رنگ۔
 اَلْکَمِیَّةُ - مِنَ الْخَیْلِ۔ تذکر اور
 مَوْنُثٌ، سُخِ اَوْ سِیَاهِ رَنگ والا
 گھوڑا۔ یہ اَكَمَّتْ کی خلاف قاعدہ
 تصغیر ہے۔ جو کَمَّتٌ۔ اَلْکَمِیَّةُ
 سیاہ و سُخِ شراب کو بھی کہتے ہیں۔
 کہا جاتا ہے: "خَیْلٌ اَلْمَاتِیُّ"
 یعنی کیت گھوڑے۔
 اَلْکَمِیَّةُ۔ جڑ۔ اصل کہتے ہیں۔
 "اَخَذَهُ بِکَمِیَّتِهِ"۔ اس نے اسے
 اصل سمیت لے لیا۔
 کَمَّتُو۔ چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔
 الْقَوْبَةُ۔ مشک کو بندھن سے
 باندھنا۔ اَلْیَقَاءُ۔ مشک بھرنے۔
 الْقَصِیْرُ۔ پستہ قد کا دوڑنا۔
 اَلْکَمْتُورُ اَلْکَمَاتِرُ۔ موٹا۔ پستہ قد
 سخت مضبوط۔
 کَمَّتُو۔ الشَّیْءُ۔ کسی چیز کا اکٹھا ہونا اور
 ایک دوسرے میں گھسنا۔

اَلْکَمَاتِرُ۔ چھوٹا۔
 کَمَّتُو۔ امرود۔ واحد کَمَّتَاتٌ۔
 اَلْکَمْبَرُ۔ بِن رَان۔
 کَمَّتَرَفٌ کَمَّحًا - الدَّائِبَةُ۔ چوپایہ
 کو کھینچ کر ٹھہرانا۔
 اَلْکَمْبَرُ - الدَّائِبَةُ۔ چوپائے کو کھینچ کر
 ٹھہرانا۔ اَلْکَمْرُ۔ انگور کی بیل کے پتوں
 کے نکلنے کا وقت قریب ہونا اور انگور کا
 خوشہ نکلنے کی جگہ ظاہر ہونا۔
 اَلْکَمْبَرُ - الْوَجَلُ۔ بڑا بنایا جانا۔
 اَلْمَكْمَبَرُ۔ بڑا بنایا ہوا۔ اونچا۔
 کَمَّتَرَفٌ کَمَّحًا - بِالْبَیْضِ۔ بکیر کرنا۔
 - الْفَرْسُ بِالْبِجَامِ۔ گھوڑے کو
 لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔
 اَلْکَمْبَرُ - اَلْکَمْرُ۔ پتے نکانے کے وقت
 خوشہ انگور نکلنے کی جگہ کا ظاہر ہونا۔
 اَلْکَمْبَرُ۔ تکبیر بڑا جتنا۔
 اَلْکَمْبَرُ۔ سَان۔ بعض نے سر کے کھٹنی
 کے لیے مخصوص کیا ہے۔ جو گَوَامِبَرُ
 (دخیل)
 کَمِدَ رَسٌ کَمَدًا۔ رنگ بدلتا۔ الرَّجُلُ
 رَسٌ دَخَمٌ سے دل کی بیماری ہوتا۔ صفت
 کَامِدٌ وَ کَمِدٌ وَ کَمِیْدٌ۔
 کَمِدَ الثَّوْبُ۔ پرانا ہونے کی وجہ سے
 کپڑے کا رنگ بدلتا۔
 کَمِدَارٌ کَمَدٌ اَو کَمُوْدٌ - الْقَصَارُ
 الثَّوْبُ۔ دھوپ کا کپڑے کو کوٹنا۔
 اس کا اسم اَلْکَمَادُ ہے۔
 اَلْکَمَدُ - الْمَوَدُّ فُلَانًا۔ غمگین کرنا۔
 اداس کرنا۔ دل کو بیمار کرنا۔ وَ کَمَدَ
 الْعُظْمُورَ لَمُورًا۔ سینکا۔ صفت
 مفعولی۔ مَكْمُوْدٌ۔
 اَلْکَمَدُ وَ اَلْکَمَدُ وَ اَلْکَمَدُ۔ رنگ
 کا بدلتا اور اس کی صفائی کا جاتا رہنا
 رَسٌ۔ سخت غم۔

الکَمَادُ - ٹکڑ کرنا۔ سیکنا۔ وَالکَمَادَةُ
 سیکنے اور ٹکڑ کرنے کی ٹیلا۔
 اَکْمَدُ - اللّوْنُ - بدلا ہوا رنگ۔
 اَلکَمْرُ - ہر وہ عمارت جس میں محراب جیسی
 طرز ہو۔ جیسے پل وغیرہ۔
 کَمْرَدَنُ، کَمْرَا - العَجِينُ وَنَحْوَهُ -
 گندے ہٹے آٹے کے پیڑے بنانا۔
 اَلکَمْرَةُ - کھجور وغیرہ کا گچھا۔ ریت یا مٹی کا
 ٹیلہ۔ جہ۔ کَمْرٌ۔
 کَمَسَ دَنَ کَمُوْسًا - توری پڑھانا۔
 اَلکَمَسُ - بودیکہ نہ سکتا ہو۔
 کَمَسَ دَنَ، کَمَسَا - اَلنَّاقَةُ - اونٹنی کے
 نعن بانڈھنا تاکر وہ اپنے بچہ کو دودھ
 نہ پلا سکے۔ فَلَانًا بِالسَّيْفِ - تلوار
 سے اعضا کاٹنا۔ اَلرَّادُ - توشہ
 ختم ہونا۔
 کَمَشَ دَنَ، کَمَسَا - پھرتیلا اور مضبوط
 ارادے کا ہونا۔
 کَمَشَ دَنَ، کَمَشَا - بہادر ہونا۔
 کَمَشَتِ الْمَرْؤَةُ - عورت کی پستانوں کا
 چھوٹا ہونا۔ وَالکَمَشُ فِي السَّيْرِ
 وغیرہ۔ تیز چلنا۔
 اَکَمَشَ - بِالنَّاقَةِ - اونٹنی کے پوسے
 نعن کو بانڈھنا۔
 کَمَشَ - الْحَاوِي بِالسُّوقِ - حدی
 پڑھنے والے کا قسمت سے ہانکنا۔
 فَلَانًا - حلی کرنا۔ ذَبِيلَةٌ - دامن
 سینٹا۔
 اِنکَمَشَ وَکَمَشَ - الرَّجُلُ - دوڑنا۔
 تَمَشَ - اَلبَلْدُ وَنَحْوَهُ - کمال وغیرہ
 کا سکرنا۔
 اِنکَمَشَ الشَّوْبَ بَعْدَ النَّسْلِ - کپڑے
 کا دھونے کے بعد سکرنا۔
 اَلکَمَشُ وَالکَمِشُ وَالکَمِيشُ -
 مین الیجالی۔ پھرتیلا۔ مضبوط

ارادے والا۔ عرب کا محاورہ ہے
 کَمِيشُ الْاَزَابِ - ازار سیننے والا۔
 یعنی پھرتیلا۔ مضبوط ارادے والا۔
 اَلکَمِيشُ وَالکَمِوشُ وَالکَمِيشَةُ وَ
 اَلکَمِيشَةُ - مین الْاَنَاتِ - چھوٹے
 نعن یا پستان والی۔
 اَلکَمِشُ - چھوٹے پاؤں والا۔ جو تغزیبا
 نہ دیکھ سکتا ہو۔ مَوْنُ کَمِشَاءَ -
 جہ۔ کَمِشٌ۔
 کَمَعَ دَنَ، کَمَعَا - فِي الْاِنَاءِ - برتن
 میں منہ لگا کر پینا۔ قَوَائِمُ الدَّائِمَةِ
 چوپائے کی ٹانگیں کاٹنا۔ فِي الْمَاءِ
 پانی میں اترنا۔
 کَمَعَتِ الدَّائِمَةُ - چوپائے کا آہستہ
 آہستہ چلنا۔
 کَامَعَةٌ - اپنے ساتھ لانا۔ ہم بستری
 کرنا۔
 اَلکَمَعَةُ الْاِنَاءِ - برتن میں منہ لگا کر پینا۔
 اَلکَمَعَةُ - اٹھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ
 فِي کَمَعِهِ - فلان اپنے گھر اور مقام
 میں ہے۔ وادی کا گوشہ۔ قباء۔ پست
 زمین۔ اَلکَمَعُ وَالکَمِيعُ - ہم
 خواب۔
 اَلکَمَعُ - ران کی گرہ۔
 اَلکَمَامُ - فَا۔ قریب کا ساتھی جس سے
 کوئی بات پوشیدہ نہ رہے۔
 تَمَمَّکُمْ - گول ٹوپی پہنا۔ فِي ثِيَابِهِ -
 کپڑے پہنا۔
 اَلکَمَامُ - پستہ قد، گٹھے بدن کا مؤنث
 گنٹا مہ۔
 کَمَلُ دَنَ، وَکَمَلُ دَنَ، وَکَمِلُ دَنَ،
 کَمَلًا وَکَمُولًا وَکَمَلًا وَکَمَامِلًا
 وَکَمَمَلًا - پورا ہونا۔ کامل ہونا۔
 کَمَلٌ وَاسْتَمَلٌ - اَلشَّيْءُ - کسی چیز
 کو پورا کرنا۔ وَکَمَلُ الشَّيْءِ - کسی

چیز کا مجموعہ بیان کرنا۔ جمع کرنا۔
 اَلکَمَلُ - کامل۔ پورا۔ کہا جاتا ہے۔
 " اَعْطَيْتُهُ الْمَالَ کَمَلًا " - میں نے
 اسے پورا مال دیا۔ یہ لفظ واحد جمع
 دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہ نہ تو مصدر
 ہے نہ صفت۔ یہ بعینہ اسی طرح
 مستعمل ہے جیسے ہم یہ کہیں اَعْطَيْتُهُ
 الْمَالَ کَمَلًا۔
 اَلکَمَالُ - مہ۔ اسم مصدر۔ کہا جاتا ہے
 " لَفَّ کَمَالُ الشَّيْءِ - تمھارے لیے
 تمام چیز ہے۔
 اَلکَمِيلُ - کامل۔ اَلکَامِلُ - فَا۔ جس
 کے اجزاء پورے ہوں۔ جس کی مکمل
 صفات ہوں۔ ناقص۔ جہ۔ کَمَلَةٌ۔
 تَمَمَّکُمْ - اَلشَّيْءُ - جس سے کوئی چیز
 مکمل کی جا سکے۔
 اَلبِکْمَلُ - نیکی یا برائی میں کامل مرد۔
 کَمَنَ دَنَ، وَکَمِنَ دَنَ، کَمُونًا -
 چھپنا۔ پوشیدہ ہونا۔ سمجھ میں نہ آنے
 والے کام میں دخل دینا۔
 کَمَنَ دَنَ، کَمُونًا - اَلشَّيْءُ - کسی چیز
 کو پوشیدہ کرنا۔
 کَمِنَ دَنَ، وَکَمِنَ دَنَ، کَمُونًا - آنکھ
 میں اندھیرا یا پلکوں میں درم ہونا۔
 اَکَمَنَ - اَلشَّيْءُ - کسی چیز کو چھپانا۔
 تَمَمَّکُمْ وَکَمَمَنَ - چھپنا۔ پوشیدہ
 ہونا۔
 اَلکَمَمَةُ - آنکھ میں اندھیرا یا پلکوں میں
 درم ہونا۔ ایک قسم کی بیماری جس سے
 آنکھ کی پلکیں سرخ ہو جاتی ہیں۔
 اَلکَمِینُ - بغیر سمجھے ہوئے کام میں دخل
 دینے والا۔ جہ۔ کَمَمًا - ایک
 جماعت جو گھات میں لگی رہے۔
 اور موقع پا کر دشمن پر حملہ کر دے۔
 کہا جاتا ہے: " هَذَا اَمْرٌ فِیْهِ

کونین: یہ معاملہ ایسا ہے جس میں ناقابل فہم خرابی ہے۔
 ایکموت: زیرہ۔ الکتون الملو۔ انیسون۔ واحد کتوتہ۔
 ایکممن: چھپنے کی جگہ۔ جہ۔ مکامن۔ ایکممن۔ رنجیدہ۔
 ایکمجتہ: دوتارا۔ سارنگی (دخیل) کپہ (دس) گمھا۔ اندھا ہونا۔ رات کو دکھائی نہ دینا۔ التھار۔ دن کا غبار آلود ہونا۔ الرجل۔ کسی کا رنگ بدلنا اور عقل زائل ہونا۔ بصرفہ: آنکھ میں تاریکی کا چھا جانا اور دکھائی نہ دینا۔ صفت اکمہ۔ پونٹ کتھا۔ جہ کمنہ۔
 الکتہ۔ پیدائشی اندھا۔ کتہ۔ فی الارض۔ زمین میں بھٹکے پھرنا۔ صفت گامہ و متکرتہ۔ کہا جاتا ہے: ذہبت ایلہ کتھی۔ اس کے اونٹ بھٹک گئے۔
 مکتہ العینین۔ وہ شخص جس کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔ کھل۔ الرجل۔ کسی کا کپڑوں کو سیٹ کر سفر کے لیے باندھنا۔ علینا۔ حق روکنا۔ الحدیث بات چھپانا اور سے معمہ بنا دینا۔ المال۔ مال جمع کرنا۔ تکمہل۔ الشیء۔ کسی چیز کا جمع ہونا۔
 اکمہل۔ الرجل۔ سمٹ کر بیٹھنا۔ کتی یکتی رض، گمیا۔ واکھی شہادتہ وغیرہا۔ گواہی دینا۔ چھپانا۔ شلی وکشی۔ نفسہ۔ اپنے آپ کو

زرہ و خود سے چھپانا۔ اکھی۔ علی الامر۔ پختہ ارادہ کرنا۔ المتارب۔ فوج کے زرہ پوش بہادر کو قتل کرنا۔ الساجل منزلة۔ گھر کو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کرنا۔ تکتی۔ الشیء۔ کسی چیز کا چھپنا۔ الشیء۔ کسی چیز کی حفاظت کرنا اور چھپانا۔ تکتت۔ القنتہ الناس۔ فتنہ کا لوگوں کو گھیر لینا۔ تکتی۔ الجیش۔ فوج کے بہادر زرہ پوش کا قتل ہونا۔ القوم۔ لوگوں کا مدہوش ہو جانا اور نسنے میں آنا۔
 انکتی۔ پوشیدہ ہونا۔ اکتھی۔ اجتماع۔ چھپنا۔ الکتی۔ بہادر۔ بستیار۔ بند۔ زرہ پوش رازدان۔ جہ۔ کماقا واکتھا۔ المتکتی۔ بستیار بند۔ کن دن، کتا وکتونا وکتن و اکن۔ الشیء۔ گھر میں چھپانا۔ اور دھوپ سے بچانا۔ العتہ وغیرہ فی نفسہ۔ علم وغیرہ کو دل میں چھپانا۔
 اکتق۔ الرجل۔ مرد کا چھپنا۔ الشیء کسی چیز کو چھپانا۔ تکتی تکتیا۔ ہمیشہ گھر میں رہنا۔ (اصل لفظ تکتن ہے)۔
 استکتق۔ چھپنا۔ گھر کی طرف لوٹنا۔ ایکن۔ ہر چیز کی حفاظت اور اس کو چھپانا۔ گم۔ جہ۔ اکتان واکتہ۔
 الکتہ۔ کنق کا اسمہ ہے۔ ہو یا بھاج۔ جہ۔ گتائین۔
 اکتہ۔ کسی چیز کی حفاظت اور پردہ پوشی

سفیدی۔
 اکتہ۔ حجبہ۔ الکتی۔ کٹھری کے اندر چھوڑ کر پڑی۔ جہ۔ کتات وکتان۔ اکتان۔ چیز کی حفاظت اور اس کی پوشیدگی۔ جہ۔ اکتہ۔
 اکتانہ۔ ترکش۔ تیردان (چمڑے یا لکڑی کا) جہ۔ گتائین وکتان۔ کاتون الاول وکاتون الثانی۔ رومی میں، مطابق دسمبر و جنوری۔
 اکتون واکتوتک۔ انکتی۔ چولھا۔ جہ۔ گواہین۔ گراں اور بار خاں شخص جس کی صحبت سے کنارہ کشی کی جائے وہ شخص جو بیٹھ کر واقعات کا پتہ چلائے اور ان کی تحقیقات کرے۔
 اکتین۔ چھپا ہوا۔ المستکتہ۔ کینہ۔ کتب دن، کتوبا۔ الرجل۔ سخت ہونا۔ فقیری کے بعد مالدار ہونا۔ کتب رض، کتبا۔ الشیء فی جرابہ۔ جمع کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔
 کتب رس، کتبا۔ الید۔ ہاتھ کا کام کرنے سے سخت ہونا۔ اکتب۔ الشیء والید۔ سخت ہونا۔ علیہ لسانہ۔ زبان رکنا۔ علیہ بظلمہ۔ ظلم کا سخت ہونا۔
 اکتیب۔ فا۔ حکم سیر۔ اکتب۔ مہ۔ کام کرنے سے ہاتھ کی سختی۔ اکتاب۔ خوفنا۔ اکتیب۔ خفک و رخت۔ اکتیبہ۔ ظالم خبیث۔
 اکتب واکتیب۔ کھونے والا جس کے ہاتھ کام کی وجہ سے سخت ہو گئے ہوں۔ حافظہ کتب وکتیب۔ سخت کمر۔
 اکتیب۔ پستہ۔ سخت بدلی والا۔

کَنْبَتٌ وَتَكْنَبَتٌ - الرَّجُلُ سَكْرَانًا -
 رَجُلٌ كُنْبَتٌ وَكُنَابَتٌ - گھٹے
 بدن کا مرد مضبوط اور طاقتور مرو۔
 اَلْكَنْبَاتُ - گرنے والی ریت۔
 اَلْكَنْبَرَةُ - ناک کا موٹا سرا۔
 تَكْنَبَشٌ - القوم - لوگوں کا خلط مط
 ہونا۔
 اَلْكَنْبُوشُ وَالْكَنْبُوشُ - زمین کے نیچے
 کا ندہ - عرق گیر - منہ چھپانے کا برقع۔
 جہ - گنابیش (دخیل)۔
 كَنْتَ دَنًا، كَنْتَا - فِي خَلْقِهِ - طاقتور
 ہونا۔
 كَنْتَ دَسًا، كَنْتَا - السِّقَاءُ - مَشْكًا كَا
 كَهْرُوزًا اور سخت ہونا۔
 اَكْتَنَّتْ - الرَّجُلُ - اطاعت کرنا۔
 خوش ہونا - سِقَاءٌ كَنْبِيَّتٌ - پانی
 روکنے والی مشک جو ٹپکتی نہ ہو۔
 اَلْمُكْنَبِيُّ - قوی - مضبوط۔
 كَنْفَاتٌ كَنْفَاةٌ - اللِّحْيَةُ - طَرِصِي
 کالمبا اور گھنا ہونا - دَجَلٌ كَنْفَاةٌ
 اللِّحْيَةُ وَكَنْفَاءُ هَا - لِي اَوْ رَهْنِي
 طَرِصِي وَالْاَمْرُو -
 كَنْدَدِي، كَنْوَدَا - النِّعْمَةُ - نِعْمَتٌ
 میں نہ مٹکی کرنا - كَنْدَا - الشَّيْءُ -
 کسی چیز کو کاٹنا۔
 اَلْكَنْدَقُ - پھاڑ کا ایک ٹکڑا۔
 اَلْكَنْدُ - ناسکر اور ذکر و ثنوت۔
 اَلْكَنْدُ - ناسکر گزار - بخیل - گناہگار۔
 خدا کو طاعت کرنے والا۔ نعمتوں کو
 بھولنے والا۔ اور مہلتا کو شمار کرنے
 والا۔ (ذکر و ثنوت) اَرْضٌ كَنْوَدٌ
 بجز زمین۔
 اَلْكَتَاةُ - ناسکر گزار - بہت کاٹنے والا۔
 اَلْكَنْدُرُ - ایک خاص درخت کا گوند۔
 مضبوط بناوٹ والا۔ جمع کی صورت میں

کما جائیگا۔ قَتِيَانٌ كِتَادٌ سَمَاءٌ -
 مضبوط بناوٹ کے جوان۔
 اَلْكَنْدَرَةُ - باز کے بیٹھنے کی جگہ - سخت
 اور اونچی زمین۔
 اَلْكَتَارُ - بید (دخیل)۔
 اَلْكَتَارِيُّ - ایک خوش الحان پرندہ ہے
 جس کے بازو کے لگے پر لیے ہوتے
 ہیں اور اس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے
 اور جزائر کناریہ کی طرف منسوب ہے
 جو جزائر خالوات بھی کہلاتے ہیں۔
 اَلْكَتَارَةُ وَالْكَتَارَةُ - بربط - ڈھول
 یادف - جو گفانیرو و کتارات۔
 اَلْكَتَارَةُ - کتان کے کپڑے کا ٹکڑا
 (دخیل)۔
 كَنْزٌ رَضٌ، كَنْزَا - المَالُ - مال جمع کرنا۔
 ذخیرہ کرنا۔ زمین میں دفن کرنا۔ الرَّحْمَةُ
 نیزہ کوزمین میں گاڑنا۔ الشَّيْءُ فِي
 وَعَاةٍ اَوْ اَرْضٍ - کسی چیز کو برتن یا
 زمین میں ہاتھ سے دبانا۔ السِّقَاءُ
 مشک کو بھرنا۔ كَنْزَا اَوْ كِنَازَا
 - التَّمْرُ - ذخیرہ کرنا۔
 اَلْكَتَنُّ - بھرجانا۔ جمع ہونا۔ اللِّحْمَةُ
 گوشت کا جمع ہونا اور سخت ہونا۔
 الشَّيْءُ فِي الْوِعَاةِ - کسی چیز کو برتن
 میں ہاتھ سے دبانا۔
 كَنْزٌ - لَحْمَةٌ - گوشت کا اکٹھا ہونا۔
 اور سخت ہونا۔
 اَلْكَنْزُ - مہم - ہر ذریعہ کی ہوتی عمدہ چیز۔
 زمین میں دفن کیا ہوا مال۔ وہ چیز
 جس میں مال محفوظ کیا جائے۔
 صندوق، خزانہ وغیرہ۔ جہ - كَنْزٌ
 کہا جاتا ہے۔ نَسَدٌ كَنْزٌ الْقُرْبَانَةُ
 اس نے مشک بھری۔ رَجُلٌ كَنْزٌ
 اللِّحْمُ وَكَنْزٌ كَا وَكَنْزٌ كَا وَ
 مَكْنَزٌ كَا - بہت اور سخت گوشت

والا مرد - كِتَابٌ مَكْتَبٌ
 بِالْقَوَائِدِ - فوائد سے بھری ہوئی
 کتاب۔
 اَلْكَتَارُ - کھجور یا گیہوں ذخیرہ کرنے کا وقت۔
 اَلْكَتَارُ - ٹھوس اور مضبوط گوشت والا۔ کہا
 جاتا ہے - "جَارِيَةٌ اَوْ نَاقَةٌ كِنَازٌ"
 ٹھوس اور بہت گوشت والی اونٹنی یا
 اونٹنی۔ جہ - كَنْزٌ وَ كِنَازٌ -
 اَلْكَنْبِيَّةُ - کھجوریں جو سردی کے زمانہ کے
 لیے جمع کی جاتی ہیں۔
 اَلْكَتَارُ - مال کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے
 والا۔
 اَلْمَكْنَزُ - جہاں ذخیرہ کیا جائے۔ جہ۔
 مَكَانِيذٌ -
 كَنْسٌ دَنًا، كَنْسَا وَ كَنْسٌ - اَبِيَّتٌ -
 گھر میں جھاڑو دینا۔ کہا جاتا ہے۔
 "كَنْسٌ فِي وَجْهِ فُلَانٍ" اس نے
 فلاں سے مذاق کیا۔ "صَرُوْا اَرْهَضُ
 فَلَ كَنْسُوْهُ" وہ ان کے پاس سے
 گزرے اور ان کی تیخ کٹی کر دی۔
 كَنْسٌ دَنًا، كَنْوَسَا وَ كَنْسٌ - اَلنَّطِيُّ
 ہرن کا غائب ہو کر اپنی پناہ گاہ میں
 پناہ لینا۔
 تَكْنَسٌ - الرَّجُلُ - مرد کا اپنے خیمے میں
 داخل ہونا۔ تَكْنَسَتِ الْمَرْأَةُ -
 عورت کا ہودہ میں داخل ہونا۔
 اَلْكَتَسَاتُ اَلنَّطَاءُ وَ اَلْبَقْرُ - ہرنیوں
 یا گائے کا اپنی پناہ گاہ میں داخل ہونا۔
 اَلْكَتَسَةُ - کوڑا کرکٹ۔ کوڑا کرکٹ کی
 جگہ۔
 اَلْكَتَشُ - توڑا۔ یہودیوں کا عبادت خانہ۔
 اَلْكَتَيْسَةُ - عند المنصاری۔ گرجا۔
 عیسائی اپنے مذہب کے مومنین پر بھی
 اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہودیوں کا
 عبادت خانہ۔ جہ - كَنْتَسِي -

الکِنَاسُ . ہرن کی پناہ گاہ۔ ج۔ اَکْنَسَهُ
وَكُنَسَ .
الکَانِيسُ . فا۔ ہرن جو اپنی پناہ گاہ میں داخل
ہو۔ ج۔ كُنَسَ و كُنُوْسٌ و
گَوَانِيسٌ يَهْجُوْنَ اِلَيْهَا لِكُنَسِ .
ستارے، نیل گائے یا ہرنیاں .
الْمَكْنَسُ . خاکروب۔ جھاڑو دینے والا۔
الْمِكْنَسَةُ . جھاڑو۔ ج۔ مَكَانِيسٌ .
الْمُكَانِيسُ . ہمیشہ پناہ گاہ میں رہنے والا۔
الْمَكْنَسُ . وحشی جانوروں کی جھاڑی۔
جہاں وہ گرمی میں پناہ لے سکیں۔
كُنَسَ رَنًا، كُنَسَا . اثوب . کپڑے
کے کنارے بننا۔ اَلْمِسْوَاكُ
الْحَيْثُ . سخت مسواک کے سرے
کو نرم کرنا۔
اَلْكُنْفَةُ . عَنِ الْاَصْرِ . کام جلدی کرنا۔
اَلْكُنْفَةُ . نوٹ بک ریاض، جس میں
مفید اور نادر باتیں لکھی جائیں۔
اَلْكُنْفَاتُ . جڑیں جس سے شاخیں پھوٹیں
واحد كُنْفَةٌ .
اَلْكُنْفَاءُ . مِنَ الْوَجَالِ . چھوٹے چھوٹے
گنگھریالے بال والا۔ بد صورت مرد۔
نَخَصٌ . متغز کے طور پر ناک کو حرکت دینا۔
اَلْكُنْفَاةُ . طاقتور اونٹ وغیرہ۔
كُنْفَرٌ رَنٌ ، كُنْفَاةٌ وَكُنْفَاةٌ .
الْاَصْرُ فُلَانًا . رنجیدہ کرنا۔
اَلْكُنْفَاةُ . رنج و غم . دباؤ .
كُنْعٌ رَفٌّ ، كُنْعُوْعًا . سٹنا . ملنا۔ عَنِ
الْاَصْرِ . بزدل ہونا۔ جھاگنا۔
النَّجْوُ . ستاروں کا غروب ہونے
کے قریب ہونا۔ اَلْيَهُ . عاجزی
کرنا اور نرم ہونا۔ فَيَهُ . لالچ کرنا۔
بِاللَّهِ . خدا کی قسم کھانا۔ الْاَصْرُ
کسی کام کا قریب ہونا۔ اَلْمِسْكُ
بِالْثُوبِ . مُسْكٌ كَاكُطْرٍ سَے چپکنا

۔ الْعُقَابُ . عقاب کا حملہ کرنے
کے لیے ہانڈوں کو سمیٹنا۔ اَصَابِعُهُ
انگلیوں کو مار کر خشک کرنا۔
كِنْعٌ دَسٌّ ، كِنْعًا . خشک ہونا۔ سکرنا۔
صفت كِنْعٌ . الرَّجُلُ . مرد کا
پچھاڑا جانا۔ الشَّيْءُ . کسی چیز کا لازم
ہونا اور ہمیشہ رہنا۔
كِنْعٌ . الشَّيْءُ . کسی چیز پر قبضہ کرنا اور
سمیٹنا۔ يَدًا كَانَتْ . ہاتھ کو شل
کرنا۔ خشک کرنا۔ فَلَانًا بِالسَّيْفِ
کسی کی ہاتھ کی کلائی پر تلوار مارنا۔
عَنْهُ . الگ ہونا۔ کنارہ کشی
کرنا۔
اَلْكِنْعُ . عاجزی کرنا۔ نرم ہونا۔ رَسْوَانٌ
کے قریب پہنچنا۔ سوال کرنا۔
العُقَابُ . عقاب کا بھپٹنے کے لیے
بازوؤں کو سمیٹنا۔ الْقَوْمُ . لوگوں کا
جمع ہونا۔ الْاِبِلُ . اونٹوں کو قریب
کرنا۔
مَكْنَعٌ . تلو بند ہونا۔ الْاَسْبِيْرُ فِي قَيْدِهِ
قیدی کا تسم سے باندھا جانا۔ یہ
تعلق رکھنا۔ چھٹنا۔
اَلْكِنْعُ . حاضر ہونا۔ قریب ہونا۔ عَلَيْهِ
مہربان ہونا۔ الْقَوْمُ . لوگوں کا
جمع ہونا۔ فَلَانٌ مِّنِي . قریب
ہونا۔
اَلْكَانِيزُ . فا۔ نزدیک و قریب۔ جو ایک
دوسرے سے قریب ہو۔ کہا جاتا ہے
اَلْفُ كَانِيزٌ . چھٹی ناک جو چہرے
کے قریب ہو۔ اَسْبِيْرٌ كَانِيزٌ . تسم
سے بندھا ہوا قیدی۔ رَجُلٌ كَانِيزٌ
وہ شخص جو مع اہل و عیال کسی کے
پاس رہے اور اس کے احسان و
بخشش کا امیدوار ہو۔
اَلْكِنْيَةُ . سکرنا ہوا۔ راستہ سے ہٹا ہوا۔

ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا۔ مِنَ الْجُورِ .
سخت بھوک۔
اَلْكِنَاعُ . بیماری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کا
چھوٹا ہونا اور ایسا معلوم ہونا کہ اس کے
ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے یا مڑے ہوئے
ہیں۔
اَلْاَكْنَعُ . مِنَ الْاَصْرِ . ناقص کام۔ ج۔
كُنْعٌ . يَدٌ مَكْنَعَةٌ . مثل ہاتھ۔
اَلْمَكْنُوْعُ . دونوں ہاتھ کٹا ہوا۔
كُنْفَتُ رَنٌ ، كُنْفًا . الشَّيْءُ . کسی چیز کی
حفاظت کرنا۔ اپنے میں شامل کرنا۔
اَلْاِبِلُ وَ الْاِبِلِ . اونٹوں کے لیے بارہ
باندھنا۔ عَنْهُ . کسی سے الگ ہونا۔
کنارہ کشی کرنا۔ الدَّارُ . گھر میں پردہ
کی چیز باندھنا یا پانہ بنانا۔ يَدًا .
پانی وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اوک
کی طرح ہاتھوں کو ملانا۔ فُلَانًا عَنِ
الْاَصْرِ . کسی کو کام سے روکنا۔
كُنْفَتُ وَ اَكْنَفَتْ وَ كَانَتْ . الرَّجُلُ
کسی کی مدد کرنا۔
كُنْفَتُ . الرَّجُلُ . کسی کو گھیر لینا۔ عَاظُ
کرنا۔
اَلْكُنْفَتُ . اونٹوں کے لیے بارہ بنانا۔
مَكْنَفَتُ . الْقَوْمُ فُلَانًا . کسی کو گھیر لینا۔
اَلْكُنْفَتُ الْقَوْمُ . سناہ بنانا۔
اَلْكِنْفُ . سو اگر یا چھوٹے کے سامنے
رکنے کا بیٹھنا۔
اَلْكِنْفَتُ . جانبہ سایہ . پردہ کا بانو۔ ج۔
اَكْنَاوُ .
كُنْفَتُ الْاِنْسَانِ . انسان کا پہلو یا دونوں
بانو یا سینہ . کہا جاتا ہے : اَنْتَ
فِي كُنْفَتِ اللّٰهِ . تم اللہ کی حفاظت اور
رحمت میں ہو۔ وَاَلْكِنْفَةُ . گوشہ۔
کنارہ۔ ناجیہ۔
اَلْكِنْفَةُ . پردہ . پردہ کرنے والا۔ وَاَلْ

موشیوں کے لیے درختوں کا بارہ پانچ
دروازہ کے اوپر کا چھجہ۔ جہ۔ کُنْفُ
وَكُنْفُ۔
الْكَايْفَةُ۔ روکنے والا۔ کہا جاتا ہے۔
مَكْنَفُ النَّحِيَّةِ۔ بڑی اور کئی درختی
والا مرد۔
كُنْفَانٌ۔ گھریں بیٹھنا۔ کابل کرنا۔ بھاگنا۔
اَكْتَنَهُ وَاكْتَنَهُ۔ اَشْيَاءُ۔ اصل حقیقت
معلوم کرنا۔
اَلْكُنْفُ۔ حقیقت۔ اصلیت۔ ماہیت۔
مقصد۔ وقت۔
كُنَا يَكْنُوْنَ اَوْ كُنِيَ يَكْنِي كِنَايَةً۔ بالشیء
عَنْ كَذَا۔ کنایہ کرنا۔ ایک لفظ دونا
اور دوسرے مفہوم کا ارادہ کرنا۔ مثلاً یہ
کہا جائے زَيْدٌ كَفِيٌّ بِالرِّمَادِ۔
زید بہت راکھ والا ہے۔ مگر اس سے مراد
یہ ہے کہ زید بہت سخی ہے۔ مشکل کو
گان اور لفظ کو مکنی عنہ کہتے ہیں۔
كُنِيَ يَكْنِي كُنْيَةً وَكُنْيَةً وَكُنِيَ۔
كُنْيَةً وَ اَكْنَى اَلْكُنَا اَزَيْدًا اَبَا
فُلَانٍ وَ كُنَاةً وَ كُنَاةً بِاَيِّ فُلَانٍ۔
کسی کی کنیت رکھنا۔
كُنِيَ يَكْنِي وَ اَكْنَى اَلْكُنَاةَ اَلْكُنَاةَ اَلْاَبَا
بِكَذَا۔ اپنی کنیت رکھنا۔ كُنِيَ
الرَّجُلُ۔ کسی آدمی کا کنی کنیت رکھنا
تاکہ وہ اس نام سے مشہور ہو جائے۔
چھپنا۔
اَلْكُنْيَةُ وَ اَلْكُنْيَةُ وَ اَلْكُنْيَةُ وَ اَلْكُنْيَةُ
وہ نام جو کسی کی تعظیم یا علامت کے
لیے بولا جائے۔ وہ نام جو اَبٌ۔ اُمٌّ
اَبْنٌ یا بِنْتُ سے شروع ہو۔ جہ۔
کنی و کُنِيَ۔
اَلْكِنَايَةُ۔ مع۔ اصطلاح میں کنایہ اس کو
کہتے ہیں کہ کسی مفہوم کو ایسے لفظ سے ادا
کیا جائے جو اس مفہوم کو صاف طور پر

ادانہ کرتا ہو۔ تاکہ عام لوگ اس بات
کو نہ سمجھیں۔
اَلْكَايْفَةُ۔ جہ۔ كُنْفَةُ وَ كَاوُنٌ۔
اَلْكُنْيَةُ۔ ایک ہی کنیت والا۔ ہم کنیت۔
کہتے ہیں۔ هُوَ كُنْيَةٌ۔ دونوں کی
ایک ہی کنیت ہے۔ جیسے یہ کہیں
هُوَ سَمِيَةٌ۔ وہ دونوں ہم نام ہیں۔
كَهَبُ دَسٍ وَ كَهَبُ رِكٍ كَهَبًا وَ
كُهُوبًا۔ سیاہی مائل بھورا ہونا۔
صفت کا هَبٌ وَ اَكْهَبٌ۔
اَلْكُهَابُ وَ اَلْكُهَيْبَانَا۔ لَوْنُهُ۔
رنگ تبدیل ہونا۔
اَلْكُهَيْبَةُ۔ سیاہی مائل بھورا رنگ۔
رَجُلٌ اَكْهَبُ اللَّوْنِ۔ رنگ
تبدیل کرنے والا مرد۔
كَهْدَرٌ، كَهْدَرٌ، كَهْدَرٌ اَدْكَهْدَانَا۔ اَلْحَاوُ
گدھے کا دوڑنا۔ اَلْحَاوُ۔ گدھے کو
دوڑانا۔ اَلرَّجُلُ فِي الطَّلَبِ۔
مطالبہ میں اصرار کرنا۔
اَكْهَدٌ۔ تھکنا۔ فُلَانًا۔ کسی کو تھکانا۔
اَلْكَهْدُ مَشَقٌ۔ اَلْكَهْدَاءُ۔ لَوْنِي۔
کہا جاتا ہے۔ اَتَانُ كَهْوَدُ اَلْيَدَيْنِ
تیز رفتار گدھی۔
كَهْدَرٌ، كَهْدَرٌ، فُلَانًا۔ کسی سے بوجھ
حقارت ترشرونی سے پیش آنا۔ جھڑکنا۔
تھر کرنا۔ خسوا مادی کا تعلق رکھنا۔
اَلتَّهَارُ۔ ذَنٌ چڑھنا۔ اَلرَّجُلُ۔
ہنسنا۔ اَلْحَرُّ۔ گرمی کا سخت
ہونا۔
اَلْكُهْرُورُ اَلْكُهْرُورِيُّ۔ بد اخلاق ترشرو
جو لوگوں کو جھڑکے۔ جہ۔ كَهَارٌ جِدْرٌ۔
اَلْكُهْرُورَةُ۔ ترشرونی۔
كَهْدَبٌ۔ اَشْيَاءُ۔ کسی چیز میں بجلی کی
طاقت بھڑنا۔
اَلْكُهْرُبَاءُ وَ اَلْكُهْرُبَاءُ۔ ایک درخت کا

گوں ہے جسے اگر گرگڑا جائے تو تنکا دنیو
کو کھینچ لیتا ہے۔ دماصل یہ لفظ فارسی
کا ذخیل ہے جو اس طرح تھا۔ کاہ رُبا۔
یعنی گھاس تنکے وغیرہ کو کھینچنے والا۔ بجلی
جو حرارت یا گرگڑا یا کیمیائی عمل سے پیدا
ہوتی ہے اور اس کا عمل جذب و کشش
روشنی دینا۔ حیوانی اعصاب کو برا لگینے
کرنا۔ پانی کی تحلیل وغیرہ ہے۔
اَلْكُهْرُبَايَةُ وَ اَلْكُهْرُبَايَةُ۔ بجلی کی
طاقت۔
كَلْهَفٌ۔ اَلْجَبَلُ۔ پہاڑ میں غار ہونا۔
اَلْكَلْهَفُ۔ غار میں داخل ہونا۔
اَلْكُهْفُ۔ پہاڑ میں کھدایا ہوا ایک وسیع
گھر۔ کہوہ (غار) اور کھفت میں
یہ فرق ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور
کھفت وسیع ہوتا ہے۔ جائے پناہ۔
كَهْلَةٌ۔ اَلْمَقْرُوسُ۔ سردی زدہ کا
سانس سے ہاتھوں کو گرم کرنا۔ اَلْاَسْدُ
وَ اَلْبَعِيْرُ۔ شیر اور اونٹ کا کہ کہ کی آواز
نکاتا۔ اَشْيَاءُ۔ کسی چیز کا گرم ہونا۔
كَلْهَكَةٌ۔ عَنَةٌ۔ ضعیف اور کمزور ہونا۔
اَلْكَهْفَةُ۔ مَصْرٌ۔ گرمی بشیر یا اونٹ
کی آواز کی نقل۔ تَنْيِخٌ كَهْفَةٌ۔
بوڑھا جو سانس سے اپنے ہاتھ گرم
کرتے۔
اَلْكَهْكَاءُ وَ اَلْكَهْكَاهَةُ۔ کمزور۔
خوف ناک۔
كَهْلٌ (ف)، كَهْوَلٌ وَ كَهْلٌ كَهْوَلَةٌ۔
ادھیڑ عمر کا ہونا۔
كَاهَلٌ مَكَا هَلَةٌ۔ اَلرَّجُلُ۔ شادی
کرنا۔ ادھیڑ عمر کا ہونا۔
اَلْكَهْلُ۔ ادھیڑ عمر کا ہونا۔ كَهْلٌ بِالذَّنْبِ
پودے کا پوری لبائی کا ہونا۔
اَلْكَهْوَلَةُ وَ اَلْكَهْوَلِيَّةُ۔ ادھیڑ عمر۔ ادھیڑ میں۔
اَلْكَهْلُ۔ ادھیڑ عمر کا۔ تیس سے پچاس سال

کھ کی عمروالا۔ ج۔ کھنوت و
 کھول و کھمال و کھلاؤ و
 کھن۔
 الگھلہ۔ کھل کا ٹوٹ۔ ج۔ کھلاؤ و
 کھلاؤ۔
 الگاہل۔ فہ۔ گردن کے قریب پیٹے کا بالائی
 حصہ۔ ج۔ گواہل۔ گاہل
 القوم۔ قوم کا معتد۔ کما جاتا ہے۔
 "قلین شدید الگاہل" فلاح
 صاحب جاہ و جلال ہے۔
 الگھول۔ کڑی۔
 گھمت (ف) گھما۔ القدا اید فلوئا۔
 مشکلات کا کسی کو ڈرانا۔ آگے بڑھنے
 سے بزدل بنانا۔
 گھم (دس) و گھم (دک) گھامہ و
 گھوما۔ کمزور ہونا۔ السیف۔
 تلوار کا کند ہونا۔
 گھم گھم (ف) گھامہ و گھم۔
 الوجل۔ لڑائی اور مدد سے سستی کرنا۔
 الگھم۔ بصرہ۔ نگاہ کمزور ہونا۔
 الگھام و الگھیم۔ سست۔ عمر سیدہ۔
 جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ جمع کی
 صورت میں بھی قوم "گھام" کہا جاتا
 ہے۔
 گھمس۔ الوجل۔ چلنے میں دونوں
 پاؤں کو قریب قریب رکھنا۔ چلنے میں
 عبا رانا۔
 الگھمس بشیر۔ بھیڑیا۔ بد صورت
 پستہ قدم۔
 گھن رن نہ گھانہ و گھنن گھننا
 و گھیننا۔ بفلات غیب کی باتیں
 بتانا۔
 گھنن (دک) گھانہ۔ کاہن بن جانا یا کمانت
 کی عادت اختیار کرنا۔ طبیعت اور مزاج
 میں کمانت سرائت کر جانا۔

کاہن مکھنہ۔ بخشش کرنا۔ میل
 ٹاپ کرنا۔
 الگھانہ۔ کاہن کا پیشہ۔
 الگھنوت۔ کاہن کا فریضہ۔ کاہن کا مرتبہ
 یسوا الگھنوت۔ مسیحی مقدس کنیسہ
 کے سات باندوں میں سے ایک راز
 ہے جس کی بدولت کاہن حضرت مسیح
 کے جسم اور ان کے خون کو مقدس تلاوت
 میں پاک قرار دیتا ہے اور گناہوں کو
 معاف کرتا ہے وہ کلمہ عیسائیت
 سے دخیل ہے)
 الگاہن۔ فہ۔ وہ جو اسرار الہی اور غیبی
 باتوں کے علم کا مدعی ہو۔ یہود اور
 بت پرستوں کے نزدیک وہ شخص جو
 ذبیحے اور قربانیاں پیش کرے۔ پروہت
 عیسائیوں کے نزدیک وہ شخص جو
 گھنوت کے درجہ تک ترقی کر کے پہنچ
 جائے۔ وہ شخص جو کسی کی حاجت روان
 کے لیے کوشش کرے۔
 گھلی کھلی کھلی۔ چہرہ پر جھائیاں ہونا۔ گندہ
 دہن ہونا۔ بزدل اور کمزور ہونا۔
 کاہن مکھاؤ۔ الوجل۔ باہم فخر
 کرنا۔
 الگھلی۔ انگلیوں کے اطراف کو سانس سے
 گرمی پہنچانا۔ حین الطعام۔ کھانے
 سے ہانڈ رہنا۔
 الگھماؤ الگھماؤ۔ تنظیم و احترام کرنا۔
 الگھلی۔ چہرے میں جھائیں والا۔ گندہ دہن
 بزدل۔ بے شکاف کا پتھر۔
 الگھماؤ۔ شریف لوگ۔
 گاء یگوؤ و گوؤ و گاؤ۔ عینہ۔
 کسی سے ڈرنا۔ بزدل ہونا۔
 آگاء کا لگاء اور گاء۔ کسی کام کا
 ارادہ کر کے اچانک اس سے خوفزدہ
 ہو کر چھوڑ دینا۔

الگاء و الگاء و الگاء و الگاء و الگاء۔
 کمزور۔ بزدل۔
 کاب یگوب کو باؤ اکتاب۔ بے دستے
 کے کوزہ سے پینا۔
 گوب۔ الشی۔ بٹے۔ بے کوشا۔
 الگوب۔ بے دستہ کا پیالہ۔ ج۔ آگوب۔
 الگوبہ۔ گذری ہوئی بات پر حسرت و
 افسوس۔
 الگوبہ۔ شطرنج۔ زو۔ ڈگڈگی۔ طبلہ،
 دوا پینے کا بٹ۔
 گوٹ۔ الذم۔ کھیتی میں چار پارچہ پتوں
 کا ہونا۔
 الگوٹ۔ جوتا۔
 الگوٹہ۔ ہر سبزی و خوشحالی۔ عمدہ
 پیداوار ہونا۔
 الگوٹر۔ العیار۔ غبار کا زیادہ اور تہ بہ تہنا
 الگوٹر۔ بہت اور تہ بہت غبار۔ بہت بڑا
 فیاض سوار۔ جنت کی ایک نمر۔
 الگوئل و الگوئل۔ جانا کا پھلا حصہ
 کاخہ یگوخہ کوخا و گوخہ و
 کاوخہ مکاوخہ و آکاوخہ
 لگاخہ۔ لڑائی میں غالب آنا۔
 کاخہ۔ الشی۔ پانی میں ڈبونا۔ مٹی میں
 دہانا۔
 گوخہ۔ کسی کو غالب کرنا۔ زور ڈالنا۔
 ذیل کرنا۔ رو کرنا۔
 گوخہ۔ الزمام البیض۔ اونٹ کو قابو کرنا۔
 کاوخہ۔ گالی گلوچ کرنا۔ کلم کھلا کرنا۔
 آکاخہ۔ ہلاک کرنا۔
 تکاؤخہ۔ الوجل۔ دوا دہوں کو آپس
 میں جنگ و جدال کرنا۔
 کاوخہ کمال گلوچ کرنا۔ کلم کھلا۔
 الگاخہ و الگیکہ۔ دامن کوہ۔ ج۔ گیووخہ
 و الگیاخہ۔ کہا جاتا ہے۔ رجوع لائی
 گوخہ۔ اس نے نیک کام کر کے اس

سے جمع کر لیا۔
 الْكُوْنُ وَالْكَائِنُ۔ جھونپڑی۔ اسی سے
 كُوْنُ الْعَاوِلِ ہے۔ کھیت یا باغ
 کی جھونپڑی جس کو کاشتکار کھیت کی
 حفاظت کے لیے اور باغبان باغ کی
 حفاظت کے لیے بناتے ہیں۔ ج۔ اَلْوَاحُ
 وَكُوْحَانٌ وَكَيْخَانٌ وَكُوْحَةٌ۔
 تیکہ۔ کاج۔ اندھیری رات۔
 الْكَافِيَّةُ۔ اہل سیاست کے نزدیک حاکم کا
 معتد اور پرائیویٹ سیکرٹری (رازدان)
 یہ اصل میں کتھا تھا بگو کر کافیتہ بن
 گیا۔ ج۔ گواہ۔ رد خیل،
 كَادَةٌ يَكُوْدُ كُوْدًا۔ کسی کو روکنا۔ کاد
 یتنقیہ۔ جان دینا۔
 كَادَ يَكَادُ كُوْدًا وَكَادًا وَكَادَةً۔
 کام کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا جیسے
 كَادَ يَهْوِبُ۔ وہ مارنے ہی والا تھا۔
 مگر مارا نہیں۔ یہ افعال مقاربہ سے متعلق
 ہے۔ اس کی خبر کے ساتھ اُن بہت کم
 آتا ہے۔ یہ کبھی ارادے کے معنی میں بھی
 آتا ہے جیسے آكَادُ أَخْفِيهَا۔ یعنی
 اسے چھپانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ عَرَفَتْ
 مَا يَكَادُ مِنْهُ۔ یعنی جو ارادہ کیا
 جائے چھپا لیا۔ کاد کے بجائے
 كَيْدٌ يَفْعَلُ كَيْدًا۔ بھیستا گیا۔ کبھی
 كَادَ زَائِدٌ يَأْتِيهِ اور کلام کامل واقع
 ہوتا ہے جیسے كَدَّ كَدِيْرًا هَا۔ اس
 نے نہیں دیکھا۔ یعنی كَدَّ يَدَهَا۔
 كُوْدٌ۔ الشئ۔ کسی چیز کو جمع کرنا۔ اور ایک
 لائبریرینا۔
 اَلْكَوْدُ اَلْكَوْدُ اَدَا۔ بڑھا ہونا اور
 رخصت میں بتلا ہونا۔
 الْكُوْدَةُ۔ مٹی وغیرہ کا تودہ۔
 الْمَكَادَةُ۔ مم۔ کہا جاتا ہے۔ لَاهِمَةً
 لِي وَفَلَا مَكَادَةَ۔ نہ مجھے اس کا ارادہ ہے

اور نہ میں اس کے قریب ہوں۔
 الْكُوْدُنُ وَالْكَوْدِيُّ۔ غیر اصل گھوڑا۔ خچر۔
 ٹٹو۔ باقی۔ کُوْدُنُ کی جمع گُوَادِنُ۔
 كُوْدٌ۔ اَلْاَزَارُ۔ ازار کا گر کر ران کے اوپر
 کے حصہ تک آجاتا۔
 الْكَادَةُ۔ ران کے اوپر کا بھرا ہوا گوشت۔
 الْكَادِيُّ۔ کیوڑہ۔
 كَادَ يَكُوْدُ كُوْدًا۔ الْعِمَامَةُ وَنَحْوَهَا۔
 علی راسہ۔ سر پر پگڑی باندھنا۔
 الْاَرْضُ۔ زمین کھودنا۔ فِي مَشِيْبِهِ۔
 تیز چلنا۔ الْحَمَلُ الْكَارِقُ۔ مزدور
 کا گھڑی اٹھانا۔ كِيَاْرًا۔ الْقَدْسُ
 ذَنْبُهُ۔ گھوڑے کا دوڑنے میں دم
 اٹھانا۔
 كُوْرٌ۔ الْعِمَامَةُ۔ سر پر پگڑی باندھنا۔
 كُوْرًا۔ بچھاڑنا۔ نيزہ مار کر گرادینا۔
 الْمَتَاعُ۔ سامان کا ایک دوسرے پر
 لکنا۔ اَللّٰهُ الْكَيْلُ عَلَى النَّهَارِ۔ خدا
 کلمات کو دن میں داخل کرنا۔
 كُوْدَتِ الشَّمْسُ۔ سورج کی روشنی کو سمیٹ
 لینا۔ بقیہ بعض روشنی کا کم کرنا اور ختم کر
 دینا۔
 اَلْكَادَةُ۔ عَلَيْهِ كُوْرٌ مَجْنُوْنٌ ذَلِيلٌ كَرِيْمٌ۔
 تگڑی۔ گنا۔ بچھڑنا۔ تیز چلنا۔
 اَلْكَتَارُ الْكُوْيَاْرَا۔ پگڑی باندھنا۔ الْقَدْسُ
 گھوڑے کا دوڑنے میں دم اٹھانا۔
 الشئ۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر پٹکنا
 الْوَجَلُ۔ تیز چلنا۔ بچھڑنا۔ گنا۔
 کہا جاتا ہے۔ كُوْدَةٌ فَالْكَتَارُ۔
 اس نے لے لے بچھاڑا اور وہ گر گیا۔
 الرَّجُلُ بِالْوَجَلِ۔ کسی مرد کا دوسرے
 مرد کو گالی دینے کے لیے آمادہ ہونا۔
 اِسْتِنَكَارًا اِسْتِنَكَارَةً۔ تیز چلنا اپنی
 پیٹھ پر گھڑی اٹھانا۔
 الْكَارُ۔ ایک قسم کا جہاز یا کشتی۔ ج۔

كَارَاتٌ۔
 الْكُوْسُ۔ مم۔ عامہ کا پیچ۔ بہت جماعت۔
 اونٹوں یا گایوں کا ریوڑ۔ زیادتی۔ ج
 اَلْكَوَارُ۔
 الْكُوْسُ۔ طبیعت۔ عادت۔ جیسے كَهْ كُوْسًا
 كُوْبِيْمًا۔ اس کی شریف طبیعت ہے۔
 الْكُوْسُ۔ مٹی کی انگلیٹی۔ ج۔ اَلْكَوَارُ
 اَلْكَوْرُ كِيْرَانٌ وَكُوْرَانٌ۔ بھڑوں
 کا چھتا۔
 الْمَكُوْسُ۔ اونٹ کا کجاوہ مع سامان۔
 الْكَارَةُ۔ مِنَ الشِّيَابِ۔ دھوبی کے
 کپڑوں کی گھڑی۔ غلہ اور کھانے کی ایک
 مقررہ مقدار۔ ج۔ كَارَاتٌ۔
 الْكُوْدَةُ۔ ضلع۔ پگڑی۔ ج۔ كُوْرٌ۔
 اَلْكَوَارَةُ وَ الْكُوَارَةُ وَ الْكُوَارَةُ۔
 شہد کی نکھوں کا چھتہ جو لہسن یا مٹی کا بنا
 ہوا ہو۔ موم سمیت شہد۔
 الْكُوَارَةُ۔ عامہ۔ پگڑی۔ اَلْكَوَارَةُ۔
 تیز دوڑ۔
 الْمِكُوْرُ وَالْمِكُوْرَةُ۔ پگڑی۔
 الْمَكُوْرِيُّ وَالْمَكُوْرِيُّ۔ کینہ زدلیں۔
 چوڑے جسم کا پستہ قد۔
 كَارَ يَكُوْرُ كُوْرًا۔ کوزہ اور پیالہ سے
 پینا۔ الشئ۔ جمع کرنا۔
 تَكُوْرٌ۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا جمع ہونا۔
 اَلْكَتَاتُ۔ کوزہ سے پانی پینا۔ الْمَاءُ۔
 کوزہ سے پانی لینا۔
 الْكُوْرُ۔ کوزہ۔ ج۔ اَلْكَوَارُ وَ كِيْرَانٌ وَ
 كُوْرَةٌ۔ (دخیل)
 مَكُوْسٌ۔ الدَّائِرُ۔ لمبے سرو والا۔
 كَاسٌ يَكُوْسُ كُوْسًا۔ الْبَيْزِيُّ۔ ایک
 ٹانگ کے زخمی ہونے کی وجہ سے اونٹ
 کاتین ٹانگوں پر چلنا۔ فِي السَّيْرِ۔
 آہستہ چلنا۔ کہا جاتا ہے۔ فَلَاقٌ
 يَكُوْسُ فِي السَّيْرِ۔ فلاں چلنے میں

دیر کرتا ہے۔ علی راسہ۔ سر کے
بال الٹ پڑنا۔ فی البیج۔ قیمت کم
کرنا۔ کہتے ہیں: لَا تَكْسِبِي يَا هَلَانِ فِي
الْبَيْجِ۔ اسے فلاں میرے بے قیمت
مہت کم کر۔ انْحَبِطْ۔ سانپ کا کھڈل
مارنا۔

كَاسَهُ وَاكْسَهُ اِكْسَهُ۔ پچھاڑنا۔
كُوسٌ۔ الشئ على راسه۔ کسی چیز کو
سر پر اٹھانا۔

تَكْوَسُ۔ الرَّجُلُ۔ سرنگوں ہونا۔
تَكَادَسُ۔ لَحْمُهُ۔ گوشت کا تہ بہ تہ جمع
ہونا۔ الْعُشْبُ۔ گھاس کا گنجان اور
بہت ہونا۔

اِكْتَسَسَهُ۔ عَن حَاجَتِهِ۔ مزورت سے
انکاس۔ گاس کا مخفف یعنی پیالہ۔
انكوس مع۔ سمندر کا ظالم۔ سمندر میں ڈوبنے
کے قریب ہونا۔

انكوس۔ ڈھول۔ کڑی کا ایک مثلث
پیمانہ جیسے بڑھی استعمال کرتے ہیں اسے
زاویہ بھی کہتے ہیں۔ جہ کو مسات۔
(دخیل) نُسْعَةُ كُوسًا۔ گھاس
کا گٹھا جس میں گھاس ایک دوسرے
پر لپٹی ہو۔ جہ۔ کوس۔ رِصَالٌ
کوس۔ تہ بہ تہ جا ہوا ریت۔

لَلْكُوسِيَّةِ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ بھولی ٹانگوں والا
گھوڑا۔ مَوْنَتٌ كُوسِيَّةٌ۔
الْمَكَاسُ۔ سانپ کے کھڈل مارنے کی جگہ
الْمِكُوسُ۔ چکل کے پتھر درست کرنے کی
پھینی۔

كُوسِيَّةٌ وَتَكُوسِيَّةٌ۔ الرَّجُلُ۔ ٹھوڑی
میں بال ہونا۔ رخصاروں پر بالوں کا
نہ ہونا۔

انكوسية۔ وہ شخص جس کی ٹھوڑی پر
داڑھی ہو۔ اور رخصاروں پر بال نہ ہوں
کم دانوں والا۔ آہستہ چلنے والا گھوڑا۔ یا

ٹو۔ جہ۔ گواہیجہ۔ ایک قسم کی پھیل جس
کی ناک آہ کی طرح ہوتی ہے۔
کاش بیکوش کوشا۔ بہت گھبرانا۔
کوع رس، کوعا۔ کلائی کا بڑا ہونا یا
ٹیڑھا اور مڑا ہوا ہونا۔ صفت مذکر
اَکُوْعٌ۔ صفت مؤنث کُوْعَاءُ۔ جہ
کُوْعٌ۔

كَاعٌ يَكُوْعُ كُوْعًا۔ انکلب۔ کتے کا
گرمی کی وجہ سے ہاتھوں کے جوڑوں پر
چلنا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے بند دست
پر چلنا۔

كُوْعَاءُ۔ بِالسَّيْفِ۔ تلوار مارنے سے
بند دست (کلائی) کو ٹیڑھا کر دینا۔
تَكُوْعَتٌ۔ يَدَا۔ ہاتھ کی کلائی کا ٹیڑھا
ہونا۔

الكَاعُ وَالْكُوْعُ۔ انگوٹھے کی جانب کلائی
کا کنارہ۔ جہ۔ اَکُوْعٌ۔
انكوع۔ مصدر۔ ہاتھ کی کلائی کی ہڈی میں
ٹیڑھا پن۔ پیر کے انگوٹھے کا دوسری
انگلیوں کی طرف بہت جھکاؤ۔

كَافٌ يَكُوْفُ كُوْفًا۔ الاوینہ۔ چڑے
کے کناروں کو مار کر سینا۔
كُوفٌ۔ الاوینہ۔ چڑے کو کھڑے کھڑے
کرنا۔ الشئ۔ کسی چیز کو الٹ کرنا۔

نہ انکاف۔ حرف کاف لکھنا۔ الرَّجُلُ
کوفہ میں آنا۔
تَكُوْفٌ مَكُوْفًا وَكُوْفًا رَجُلًا غَيْرِ
الْقِيَايَا۔ القوم۔ جمع ہونا۔
الرَّجُلُ۔ کسی کا اہل کوفہ سے مشابہ یا
ان کی طرف منسوب ہونا۔

انكوية۔ عراق کا مشہور شہر۔ ریت کا گول
سُرخ لیلہ۔
انكوفی۔ کوفہ سے منسوب اور اسی سے
بے خط کوفی۔

انكوفيون۔ کوفہ کے قدیم نحوی اصحاب۔
تَكْوَلٌ۔ القوم۔ لوگوں کا اکٹھا ہونا۔

انكوفية۔ کوفی کا مؤنث۔ سر پر بیٹھنے کا درمال
علامہ سے انكوفية کہتے ہیں۔

انكوفان و انكوفان و انكوفان و انكوفان
ریت کا گول تودہ۔ گول چیز۔ عزت و
شوکت۔ مشقت۔ زکل۔ بانس۔ کڑھی
کا جھنڈا۔ کہتے ہیں: تَطَلَّوْا فِي
الْكُوفَانِ مِنْ أَمْرِ هَذَا۔ ان کا
معاملہ گڑ بڑ ہو گیا ہے۔ وَهَذَا فِي
كُوفَانٍ مِنْ ذَلِكَ۔ وہ عزت
اور نشان و شوکت میں ہیں۔ یہ بھی کہا
جاتا ہے: النَّاسُ فِي كُوفِيٍّ مِنْ
أَمْرِ هَذَا۔ لوگوں کے معاملہ میں
خلط ملط ہے۔

كُوكِبٌ۔ اَلْحَدِيدُ۔ لوہے کا چمک اٹھنا۔
چم چم کرنا۔

انكوكب۔ ستارہ۔ تلوار۔ پانی۔ سخت گرمی۔
لوہے کی چمک دک۔ لمبی نباتات۔ قوم
کا سردار اور شہسوار۔ بیخ۔ قید خانہ۔
ہتھیار بند۔ قریب البیوع لڑکا۔ باغ کی
کلی۔ فرج جو زدہ کبوتر کی وجہ سے چکتی نظر
آتی تھی۔ پہاڑ۔ آنکھ کا پھولا۔ چیز کا بڑا
حصہ۔ کُوكِبٌ اِيْمَانٌ۔ کنویں کا
سوت جہاں سے پانی برآمد ہو۔ جہ
کُوكِبٌ۔ کہا جاتا ہے: ذَهَبُوا
تَحْتَ كُلِّ كُوكِبٍ۔ پتھر کے
اور منتشر ہو گئے۔ و يَوْمَ ذُكُرِكُمْ اَكْبَرُ
سختیوں والا دن۔

انكوكبة۔ ایک ستارہ کی جماعت۔
انكوكب۔ آنکھ کے پھولے والا۔
کُوكِيٌّ كُوكُوْكٌ۔ الرَّجُلُ۔ تیز چلنے میں
تھوڑا۔ پستہ قد کا دوڑنا۔

انكوكاة و انكوكيبة۔ پستہ قد۔
انكوكي۔ جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔
کیڑا۔
تَكْوَلٌ۔ القوم۔ لوگوں کا اکٹھا ہونا۔

وَأَنْكَالٍ لِّكَيْبٍ - انقوم
 عَلِيٍّ - مارپیٹ اور گالی گلوچ کے
 لیے کسی پر پل پڑنا -
 تَكَوَلَّ - الرَّجُلُ - کوتاہی کرنا - باز
 رہنا -
 الْكَوْلَانُ وَ الْكَوْلَانُ - بدی نام کی
 گھاس - واحد كَوْلَانَةٌ -
 الْأَكْوَالُ - پہاڑ کی مانند اونچی زمین - جہ
 آكَاوُلٌ -
 كَوْمٌ تَكْوِيمًا - التَّوَابُ - مٹی کو
 جمع کر کے اس کے ڈھیر تیار کرنا -
 الْمَتَاعُ - سامان کو تہ بہ تہ جمانا -
 تَيَابَةٌ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ - کپڑوں کو
 ایک کپڑے میں باندھنا -
 الْكَتَامُ لِكَيْبًا - الرَّجُلُ - پاؤں
 کی انگلیوں کے کناروں پر بیٹھنا -
 الْكَوْمُ - اونٹوں کا گھ - جہ - الْكَوْمُ -
 طیلے کی طرح بلند مقام - جہ - كَيْبَانُ -
 الْكَوْمَةُ وَ الْكَوْمَةُ - مٹی وغیرہ
 کا اونچا ڈھیر - جہ - كَوْمٌ وَ
 الْكَوْمُ - بلند - بلند کوبان والا اونٹ -
 مَوْثٌ كَوْمًا - جہ - كَوْمٌ -
 كَانَ يَكُونُ كَوْنًا وَ كَيْبًا وَ كَيْبَةً
 - الشَّيْءُ - واقع ہونا پایا جانا -
 ہونا - جب یہ فعل ناقص کی حیثیت
 سے ہو تو مبتدا خبر پر داخل ہوتا
 ہے - مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب
 دیتا ہے - ایسے موقع پر یہ خبر کو
 مبتدا کے لیے ثابت کرتا ہے - جتا
 كَانَ كَا اسم کہلایا جاتا ہے - جیسے
 كَانَ زَيْدًا أَقَامًا - زید کھڑا
 تھا -
 کبھی یہ فعل تام کی حیثیت سے بھی
 آتا ہے - جیسے فَقَالَ اللَّهُ يَكُونُ

كَوْمًا فَكَانَ تَوْبًا - اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا نور ہو جائے تو نور پیدا
 ہو گیا - یہ موجود ہونے اور ثابت
 ہونے کے لیے بھی آتا ہے - جیسے
 كَانَ اللَّهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ - اللہ
 موجود تھا جبکہ کوئی چیز اس کے ساتھ
 نہیں تھی -
 اور حصر کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے
 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُتِجْهُ
 إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ -
 یہ وقع کے معنی میں بھی آتا ہے - جیسے
 مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ -
 یہ يَتَّبِعُ کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے
 مَا كَانَ كَكُمْ أَنْ تُثْبِتُوا
 شَجْرَهَا - تمہارے لیے مناسب
 نہیں ہے کہ تم اس کے درخت کو اکاؤ
 استقبال کے معنوں میں - جیسے
 يُخَافُونَ كَانِ شَرْعًا
 مُسْتَقِيمًا - وہ اس دن سے ڈرتے
 ہیں جس کی برائی الٹی ہوئی ہوگی -
 منقطع زمانہ ماضی کے معنوں میں جیسے
 كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ
 رَهْطٍ فَمِنْهُمْ نُوَيْرٌ وَ تَحِيَّةٌ
 زمانہ حال کے لیے جیسے كُنْتُمْ خَيْرَ
 أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ - تم
 بہترین قوم ہو جو لوگوں کے لیے نکالی
 گئی ہے -
 کبھی یہ دوام و استمرار کے مفہوم بھی
 ادا کرتا ہے جیسے كَانَ اللَّهُ عَظِيمًا
 وَ جَبِيًّا - اللہ ہمیشہ بھٹے والا مہربان
 ہے کہا جاتا ہے - مَا سَأَلَ إِلَىٰ
 كَانَ - یعنی وہ مر گیا - اسی کے مطابق
 فَمَلَىٰ أَوْرَعًا فِي "صَارَ إِلَىٰ كَانًا"
 "صَارُوا إِلَىٰ كَانُوا" بولا جائے گا
 "كُنْتُ الْكُوفَةَ" میں کوفہ میں

تھا - مَنَازِلُ أَفْقَرَتْ كَانَ
 لَمْ يَكُنْهَا أَحَدٌ - گھر خالی ہو
 گئے گو یا کہ وہاں کوئی نہیں تھا - وَ
 كُنَّا هُمْ - بمعنی كُنَّا لَهُمْ -
 ایک محاورہ یہ بھی ہے - دَخَلَ
 الْأَمْرُ فِي خَيْرٍ كَانَ - یہ معاملہ
 گذر گیا اور ختم ہو گیا -
 كَانَ يَكُونُ كَوْنًا وَ كَيْبًا نَأَىٰ عَنَّا
 فَلَانَ - کسی کا ضامن ہونا - ذمہ دار
 بننا -
 كَوْنٌ تَكْوِيمًا - الشَّيْءُ - کسی چیز کو
 پیدا کرنا - ایجاد کرنا -
 تَكْوِينٌ - پیدا ہونا - ایجاد ہونا - متحرک
 ہونا -
 الْكُنَانُ كَيْبًا نَأَىٰ - بِفُلَانٍ وَ
 عَلِيٍّ - ذمہ دار ہونا - ضامن بننا -
 الْكُنَانُ اسْتِكَانَةٌ - بِفُلَانٍ -
 عاجزی کرنا - مطیع ہونا -
 الْكُونُ - مم - كَانَات - عالم وجود -
 الْكُونِي - کون کی جانب منسوب -
 الْكُونِي - عمر رسیدہ - بڑی عمر والا -
 الْكِيَانُ - مم - فطرت - طبیعت -
 الْكِيَانَةُ - كِفَالَت - ضمانت -
 الْكُونِيْنُ - مم - ناپید کو عدم سے
 وجود میں لانا - سَطَرُ الْكُونِيْنِ -
 تورات کی پہلی کتاب جو کتاب پیدائش
 کے نام سے مشہور ہے -
 الْكَايْنُ - فَا - ہونے والا واقعہ -
 الْكَايْنَةُ - كَايْنُ كَاوْنٌ - حادثہ -
 واقعہ - جہ - كَايْنَاتُ وَ كَوَايِنٌ -
 الْكَايِنَاتُ - موجودات -
 الْكُنْتِي وَ الْكُنْتِي - بڑی عمر والا -
 یہ لفظ "كُنْتُ فِي شَيْءٍ كَذَا"
 وَ كَذَا - کو محضف کے بنا یا گیا
 ہے - یہ بھی کہا جاتا ہے "أَصْبَحْتُ

جر کینٹ۔

الکینکۃ۔ انڈا۔ جر۔ اکتیا کی تصغیر
کینکۃ و کینکۃ۔کال یکنیل کینلا و مکینلا و مکالو
و کینل۔ القمۃ ہو غیرۃ۔ گیوں
وغیرہ کی مقدار کو کسی پیمانہ سے ناپنا۔
یہ کبھی دو مفعولوں کی طرف متعدی
ہوتا ہے۔ جیسے "کلتک زیداً
الطعام"۔ کبھی مفعول اول پر لام
داخل ہوتا ہے۔ جیسے کلتک زید
الطعام۔کال۔ الدراہم۔ دراہم کا وزن
کرنا۔ الشیء بالشیء۔ اندازہ
کرنا۔ کہا جاتا ہے "هذا طعام
لا یکنیئج"۔ اس خوراک کا پیمانہ
میرے لیے کافی نہیں ہے۔کال یکنیل کینلا۔ الزند۔ چقماق
سے آگ نہ نکلنا۔کینل۔ القمۃ۔ گیوں ناپنا۔ الرجل۔
بزول ہونا۔کایدہ مکایدہ۔ دوسروں کی بات
کے مانند کہنا یا اسی طرح کرنا۔ گالی بڑھ
چڑھ کر دینا۔ کہا جاتا ہے "کایدت
فلاناً"۔ میں نے اس کے لیے پیمائش
کی اور اس نے میرے لیے پیمائش
کی۔ دونوں کو مکایلان کہا جائے
گا۔ کاین القوس القوس فی
الجوی۔ ایک گھوڑے نے
دوسرے گھوڑے کا دوڑ میں مقابلہ کیا
کایننا ہمد صاعاً بصریح۔ ہم
نے ان کو پورا پورا بدلا دیا۔
ککینل۔ الرجل۔ میدان جنگ میں
آخری صف میں کھڑا ہونا۔ککایل۔ الرجلان۔ گالی دینے اور کینہ
ہونے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔
ایک دوسرے کے لیے ناپنا۔اکتال اکتیالاً۔ منہ و علیہ۔
اپنے لیے ناپنا۔انکال۔ ایک ٹیڑھا سا آلہ ہے جو قلعہ
گرنے کے کام آتا ہے (دخیل)انکینل۔ مہ۔ ناپنے کا آلہ۔ چنگاری جو چقماق
سے گرے۔ جر۔ اکتیال۔انکینۃ۔ کال کا اسم مرۃ۔ ناپنے کا
برتن۔ صوائے شام میں دو ٹوکا پیمانہ۔جر۔ کینلات۔ کسوت سے
اعشفا و سوء کینکۃ۔ کیابری کھجور بھی اور بری تول بھی۔
(دونوں چیزیں جمع کرتے ہو)انکینۃ۔ کال کا اسم اور اسم نوع۔
ایکیالہ۔ ناپنے کا پیشہ۔ ناپنے کی اجرت۔انکتیال۔ وہ شخص جو ناپنے کا پیشہ
اختیار کرے۔انکتیول۔ میدان جنگ کی آخری صف
اوپنی زمین۔ بزول۔ و انکتیل۔چنگاری جو چقماق سے جھڑے۔
الیکیل و الیکینکۃ۔ جر۔ مکاپیل۔و الیکیال۔ جر۔ مکاپیل۔ جس
سے ناپا جائے۔الیکیل و الیکیول۔ ناپا ہوا۔
الیکیمیاء و الیکیمیاء۔ ایک اکیسجس کے بارے میں خیال تھا کہ اس
سے سونا بن جاتا ہے۔ علم۔الیکیمیاء او الیکیمیاء و متقدمین
کے نزدیک وہ علم ہے جس میں اس کابیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح ایک معدنی
چیز دوسرے کی طرف بالخصوص سونےمیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی اکیس
کے ذریعہ جسے حجر الفلاسہ کہا جاتا
ہے یا اس کے ذریعہ ایسی دو معلوم
کی جائے جو تمام امراض کے لیے اکیس
دوا ہو۔متاخرین کے نزدیک وہ علم جس میں
مختلف اجسام کے خواص و مزاج
تخلی و ترکیب کے ذریعہ معلوم کیے
جائیں۔ اس کی صفت نسبتی کیمیائی
و کیمیائی ہے اور جمع کیمیائیون
و کیمیائیون ہے۔کان یکنین کینتاً۔ یغلان۔ مطیع
ہونا۔ عاجزی کرنا۔اکانہ اکانۃ۔ اللہ۔ خدا کا کسی کو عاجز
کرنا۔ مطیع و فرمانبردار بنانا۔اکتال اکتیالاً۔ ریجیدہ ہونا اور ریج
کو پوشیدہ کرنا۔استکانت۔ اس کی توضیح کون کے
مادہ میں ہو چکی ہے۔الکینتۃ۔ بیک کا پھل۔ ضمانت و کفالت۔
الکینتۃ۔ ذیل کرنے والی سطح۔حالت۔ کہا جاتا ہے: بات فلان
یکینکۃ سوء۔ اس کے بری حالتمیں رات گذاری۔
ایکینتاً۔ کونین۔ وہ دوا جو امریکا کےایک درخت کی ہے۔ یہ بتائی جاتی
ہے۔ اور بخار کے دور کرنے کے لیےاستمال کی جاتی ہے (لفظ دخیل)
کاکا یکینۃ کینتاً۔ فلاناً منہ سونگھکر ہو معلوم کرنا۔
انکینۃ۔ وہ شخص جو اپنی تدبیر وحیلہ سے عاجز آچکا ہو اور لاچار
ہو گیا ہو۔

ل

یہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ جار۔ جازم۔ غیر عامل۔
 (جار) یہ اسم ظاہر اور یا کے متکلم کے
 ساتھ مکسور اور ضمیر اور مستغاث کے
 شروع میں مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے
 لَوَيْدٍ زَيْدٍ کے لیے۔ لَكَ تیرے
 لیے۔ يَا لَيْلَى اے خدا بدو فرما۔
 یہ کسی معنوں میں آتا ہے۔
 (۱) اخصاص جیسے الْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِ
 جنت مومن کے لیے خاص ہے۔
 (۲) استحقاق جیسے الْعِزَّةُ لِلَّهِ
 عزت کا مستحق اللہ ہی ہے۔
 (۳) ملک۔ جیسے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور
 زمین میں ہے ان کا مالک اللہ ہی ہے۔
 (۴) تبلیغ جیسے قُلْتُ لَهُ فِي هَذَا
 سے کہہ دیا۔
 (۵) تعدیہ جیسے مَا أَشَدَّ حُبَّ زَيْدٍ
 لِعَمْرٍو۔ زید کو عمرو سے کتنی شدید
 محبت ہے۔
 (۶) قسم جیسے لِلَّهِ لَا فَعَلَنَّ خُدا کی
 قسم میں اس کو ضرور کروں گا۔
 (۷) صیروت جیسے وُلِدَ الْإِنْسَانُ
 لِحَيَاتِهِ أَبَدِيَّةً انسان ہمیشہ کی
 زندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔
 (۸) معنی علی والی دنی و عند و بعد بھی آتا
 ہے نیز کبھی زائد بھی ہوتا ہے جیسے قَتَلَ
 زَيْدٌ فِي هَذَا مَلِكًا۔
 (۹) تعلیل کے لیے جیسے جُنْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي
 میں تیرے پاس آیا تاکہ تو مجھے تعلیم دے۔
 (۱۰) تاکید نفی کے لیے۔ ہر صیورت کان
 منفی اس سے پہلے آتا ہے جیسے مَا
 كَانَ زَيْدٌ يَكُونُكَ زَيْدٌ تِيرِي

تعلیم کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔
 (لام جازم) جیسے لِيُحْكَمْ اللَّهُ۔ خدا
 فیصلہ کرے۔
 (لام غیر عامل) یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے
 اور وہ لام ابتدا ہے۔ جیسے لَوَيْدٍ زَيْدٍ
 زید کا ہے وَاِنَّ زَيْدًا لَقَانِمٌ زَيْدٌ
 ضرور کھڑا ہے۔
 اور لام جواب میں آتا ہے لَو لَوْلَا وَتَم
 کے جیسے لَوْعَدْتُمْ لَعَدْنَا۔ اگر تم
 واپس ہوتے تو ہم بھی واپس ہوتے۔
 لَوْلَا زَيْدٌ لَهْلَكْنَا الزَّيْدُ ہوتا تو ہم
 ہلاک ہو جاتے۔ وَاللَّهِ لَوَيْدٌ كَرِيمٌ
 بخدا زید فیاض ہے۔ اور لام زائدہ جیسے
 اَرَاكَ تَشَارِقَنِي فِي تَحْتِ اِنْسَانٍ كَالِي يَنْبِ
 والا خیال کرتا ہوں۔ اور لَوَيْدٌ وَ
 قَدْ فِي مِي يَمِي لَام غَيْرِ عَامِلِهٖ ہے۔
 "لا" تین طریقہ پر استعمال ہوتا ہے۔
 (۱) نافیہ۔ اور یہ بھی چار طرح کولوں کے خلاف،
 یعنی نفی جیسے لَا رَجُلٌ فِي السَّارِ
 گھر میں کوئی آدمی نہیں رہا، یعنی نہیں
 جیسے لَا رَجُلٌ قَائِمًا اَدْمِي كَمَا نَحْنُ
 (۲) لام نافیہ پر اسے عطفت جیسے جَاءَ
 نَجْدٌ لَأَسْمَرَ زَيْدًا يَأْتِيهِ كَرَمٌ۔
 (۳) حرف جواب نعم کا نفیض۔ جیسے
 أَقَامَهُ زَيْدٌ "کیا زید کھڑا ہے" کے
 جواب میں کہا جائے "لا" نہیں۔
 (۴) لام نفی۔ جیسے لَا تَفْعَلْ مَتَّ كَر۔
 (۵) تقویت معنی کے لیے زائدہ جیسے مَا
 مَنَّكَ اَنْ لَا تَقْوَهُ بِمَعْنَى مَانَعَهُ
 اَنْ تَقْوَهُ۔
 (۶) لات۔ یہ حرف نفی لیس کے معنی
 دیتا ہے اور اس کا صرف ایک معمول

ہی ذکر کیا جاتا ہے اور عموماً اس کا اسم
 محذوف ہوتا ہے۔ خبر مذکور ہوتی ہے۔
 جیسے فَذَكَرَ الْبَغَاةَ وَذَاتَ سَاعَةٍ
 مُنْذَرًا لِعَيْنِي بِأَعْيُنِي بَعْدَ وَقْتِ نَادِمٍ بَرُّنِي۔
 الْمَلْتَبِ سِيدِهَا۔ اللّٰهُ زَوْرِدِ لَازِ
 لَا تُطْلَعُ دَن، لَا تُطْلَعُ۔ اصرار کرنا۔ لَطَّ
 عَلَي فُلَانٍ۔ سختی کرنا۔ لَا تُطْلَعُ
 تِير مَارِنَا۔ لَا تُطْلَعُ فُلَانٌ فِي هَذَا كَبِي
 طرف التفات کے بغیر تیر بھاگنا۔ فُلَانَا
 کسی کو جیت تک وہ غائب نہ ہو جائے
 دیکھتے رہنا۔ بِالْحَصْبَى۔ لاشی سے مانا
 لَا تُطْلَعُ دَن، لَا تُطْلَعُ۔ اُدَّاسُ كَرِنَا وَتُكَارِنَا
 مقابلہ کرنا۔ سختی کرنا۔
 لَا تُطْلَعُ دَن، لَا تُطْلَعُ۔ الطَّعَامُ اِجْمَعُ طَرِيقِ
 سے کھانا۔
 الْاَلَاكَةُ الْاَلَاكَةُ۔ اِلَى فُلَانٍ۔ پیغام
 پہنچانا۔ اَلِكْتِي اِلَى فُلَانٍ۔ میرا
 پیغام اس کو پہنچا دو۔ د اِصْلٍ مِ
 الْاَلَاكَةُ ہے۔
 اسْتَلَاكَ لَه۔ پیغام لے جانا۔
 الْمَلَاكُ۔ وَالْمَلَاكَةُ۔ پیغام
 الْمَلَاكُ وَالْمَلَاكُ۔ پیغام رساں فرشتہ
 (۲) صَلَاةُ لَيْلَةٍ وَصَلَاةُ لَيْلَةٍ۔ وَاَمَلَاكُ
 زَاكَاةٌ لَزَاكَاةٍ۔ النُّجْمُ اِدْبَارُ
 ستارہ یا بجلی کا چلنا۔ اَكَّ كَا تَهْرُكَا۔
 لَا لَأُ التَّوْرِدُ نَبْه۔ بِلِ كَا دَم
 بلانا۔ لَا لَأُ التَّوْرِدُ نَبْه۔ بِلِ
 کرنے والی عورتوں کا ہاتھوں کو
 اوپر نیچے کرنا۔ لَا لَأُ التَّوْرِدُ نَبْه۔ بِلِ
 تَلَاةٌ لَزَاكَاةٍ بِمَعْنَى لَا لَأُ لَزَاكَاةٍ۔ وَجْه۔ چہرہ
 کا دکھنا۔
 اللُّوْلُو۔ موتی۔ وَاِحَدُ (لَو لَوَاة) ج۔

بار کی جگہ۔
لباد (ن) لباد۔ الشاة۔ بکری کی پوسی
 دونوں۔ لبادت الأدم ذلکھا۔ مال کا
 بچہ کو پوسی پانا۔ لبا الزرع۔ کھیتی کو
 پوسی بار پانی دینا۔ و البنا، القوم۔
 پوسی کھلانا۔ البادت الشاة۔ بکری
 کا پوسی انا۔ الجدی۔ بکری کے
 بچہ کا خود پوسی پی لینا۔ الباء القوم
 بہت پوسی والا ہونا۔ الفصیل۔
 پوسی پینے کے لیے منہ تھن سے لگا دینا۔
لبادت تلبیئة۔ الشاة۔ بکری کے
 تھن میں پوسی اترنا۔ صفت رملی
لبا بالحج۔ لبيك اللہ ربک
 کہنا۔
اللباء۔ الشاة۔ بکری سے پوسی دھنا
اللبا۔ پوسی پینا۔
اللباء۔ پوسی کھین۔
اللباۃ و **اللباۃ** و **اللباۃ** و **اللباۃ**
واللباۃ و **اللباۃ** و **اللباۃ** و **اللباۃ**
اللبا۔ شیرنی۔ ج۔ لبات و لباء و لبو
والبوات۔
لبت (ن) لبتا۔ بیکہ۔ ہاتھ مروڑنا۔
 فلانا۔ کسی کے سینہ، پیٹ، گھر پر لٹھی
 مارنا۔
لبت (س) لبتا و لبتا و لبتا و لبتا
 و لبتا و لبتا و لبتا و لبتا و لبتا
 بالکان۔ ٹھہرنا۔ "ما لبت ان فعل"
 اس نے اس کے کرنے میں دیر نہیں کی۔
لبت و البت۔ فلانا فی المکان کسی
 کا کسی کو ٹھہرنا۔ مقیم کرنا۔
تلبت۔ بالکان۔ کسی جگہ ٹھہرنا۔
استلبت۔ سست پانا۔ سست سمجھنا۔
اللابت و اللبت۔ بالکان ٹھہرنے
 والا۔
اللبیئة۔ تصور اقام۔ اللبیئة مختلف

قبائل کی جماعت۔ ج **لباٹ**
لبج (ن) لبحا۔ بی الارض۔ زمین
 پر کسی کو پھینا دینا۔ لبح
 بالرجل او البعیر آدمی یا اونٹ کا
 بیماری یا ٹھکن سے زمین پر گرنا۔ صفت
 (لبح) ہا بالعصا۔ لٹھی سے مارنا۔
اللبحۃ و اللبحۃ۔ ایک شاخ دار
 لوباس سے پھیرے کو شکار کیا جاتا
 ہے۔ ج **لبح و لبح**
اللباح۔ بے وقوف کمزور عقل والا۔
لبح (س) لبحا و لبح و لبح
 الرجل۔ بوڑھا ہونا۔
اللبح۔ بوڑھا۔ عمر سیڑھ۔ بہادری۔
لبح (ف) لبحا۔ فلانا۔ مارنا۔ گالی دینا
 قتل کرنا۔ الرجل۔ پکڑنے کے لیے جیلہ
 کرنا۔ الشی۔ لینا (لبوخوا) جسہ۔ بدن
 کا بہت گوشت والا ہونا۔ صفت (لبح)
لابحۃ لباحا و ملاحۃ۔ ہارم طمانچہ
 مارنا۔ مارنا۔
تلبح۔ خوشبو لگانا۔ اللبح۔ ایک درخت
 جس کے پتے اخروٹ کے پتوں سے مشابہ
 ہوتے ہیں۔ واحد۔ لبحۃ۔
اللبح۔ بہت گوشت والا۔
اللبحۃ۔ شک کا نافر۔
لبد (ن) لبو۔ بالکان۔ اقامت کرنا
 القوم بالرجل لازم ہونا۔ گھیرنا۔ بالشی
 چمٹنا۔ الشی بالشی۔ گتہ جانا۔ الشوب
 گہرے میں پیوند لگانا۔
لبد (س) لبدا۔ بالکان اقامت
 کرنا۔
لبد (ض) لبدا۔ الصوف۔ اون کا نمد
 بنانا۔
لبد۔ بمعنی لبدا۔ الکساء۔ پیوند لگانا
 الشی نمدہ کی طرح ہونا۔ المطر الارض۔
 بارش کا زمین کو نر کرنا۔ شعرة بالوں کو

گوند وغیرہ سے چپکا کر نمدہ بنا کرنا۔
 الکساء وغیرہ پیوند لگانا۔
اللبد۔ الارض۔ زمین سے چمٹنا۔ بالکان
 اقامت کرنا۔ السرج۔ زمین کے لیے
 نمدہ بنانا۔ الفرس۔ گھوڑے پر نمدہ
 کسنا۔ الشی بالشی۔ چمکانا۔ الرجل
 دروازہ میں گھستے وقت سر جھکانا۔
 الخرق۔ پیوند لگانا۔ بصر المصلی۔
 سجدہ کی جگہ نگاہ کا چمٹنا۔
تلبد۔ الصوف و نحوہ۔ اون کا نمدہ بنانا
 الطائر بالارض۔ پرندہ کا زمین پر چمٹنا
 الرجل۔ دیکھ کر معلوم کرنا۔ الارض بالمطر
 زمین کا بارش سے ٹھوس ہونا۔
التبدا۔ الورق و نحوہ۔ پتے وغیرہ کا
 آپس میں چمٹنا۔ الشجرة۔ درخت کا
 بہت پتوں والا ہونا۔
اللبد۔ نمدہ۔ مالہ سبب و لا لبدا
 یعنی اس کے پاس تصور بہت کم نہیں
اللبد۔ تہ بہت ہاں۔ اللبدا و اللبدا۔
 گھر ہی میں رہنے والا۔ سفر نہ کرنے والا
 تنہائی پسند۔ مال لبدا۔ بہت
 مال۔
اللبد۔ تہ بہت جماتے ہوئے ہاں یا اون
 زمین کے نیچے کا عرق گیر۔ ج لبود و
اللباد۔ فلان لا یحیف لبدا فلان
 کا عرق گیر خشک نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیشہ سفر
 میں رہتا ہے۔
اللباد کا۔ پتھر پر پینے کی اون کی ایک چیز
 پانڈے کی بنا۔
اللبد کا۔ تہ بہت جمے ہوئے ہاں یا اون
 کپڑے کا ٹکڑا جس سے فیض ملے سائے
 کا پیوند لگایا جائے۔ ران کا اندرونی
 حصہ۔ ٹڈی۔
اللبد کا۔ شیر کی ایاں۔ ج لبدا و لبدا
 و الباد و لبود

اللابد - نا - شبر - مال لا بد بہت مال -
ج لبدا -

اللباد - ندرگ - اللبود - چھری
اللبید - تو برا - بورا - چھوٹا پھیلا -
اللبید - غیر - شبر - زمین سے چھٹنے والا -
لبوا - من - لبوا - سخت مارنا - بہت کھانا
بر القب دینا - توڑنا -

لبس - من - لبسا - علیہ الامر - کسی امر کو
مشتبہ بنانا - خلط ملط کرنا -

لبس - من - لبسا - اثوب - کپڑا پہننا -
فلانا - کسی کی صحبت سے مدت تک فائدہ
اٹھانا - فلانا علی ما فیہ قبول کرنا -
برداشت کرنا - لبست علی ذلک اذنی
یعنی میں خاموش رہا کچھ بات نہ کی -

لبس - علیہ الامر - خلط ملط کرنا - الشئ -
عیب چھپانا -

اللبسة - چھپانا - پوشیدہ کرنا - کپڑہ پہننا -
للبسة - طانا - میل جول کر کے اندر دنی
حالت معلوم کرنا - استقلال سے کام کرنا
تلبس - بالامر وبالثوب - کام میں لگنا - کپڑا
پہننا - الطعام بالید - کھانا ہاتھ سے چکپنا -
تلبس فی الامر - تعلق ہونا - علی الامر
مشتبہ ہونا - مشکل ہونا -

التلبس - علی الامر - مشتبہ ہونا - شکی ہونا -
مشکل ہونا -

اللبس واللبس واللبسة واللبسة
واللبونة واللبونة - شہ - دشواری
اختلاط -

اللبس - پہننے کی چیز - ج - لبوس - کھان
اور گوشت کے درمیان کی باریک جھلی -

اللباس - پوشاک - پہننے کے کپڑے - ج ،
لبس واللبسة - خاوند - بوی اجراع
اشلوط - لباس الزہود - کل کا خلاف

لباس التقوی - جبار - شرم -
اللبسة - ایک قسم کا کپڑا - پہننے

کا طریقہ -

اللبوس - کپڑے - زورہ - بہت لباس والا -

اللبیس - کپڑا - بوسیدہ کپڑا - نظیر - مانند -
التلبیس - مع - حقیقت چھپا کر خلاف حقیقت
ظاہر کرنا -

اللباس - بہت لباس پہننے والا - بہت
خلط ملط کرنے والا -

الملبس والملبس - لباس - ج - فلاس
الملبس - رات -

الملبس - مضرب - شکر چڑھا با دام وغیرہ -
لبط - من - لبطا - بفلان الارض - زمین
پر کھپاڑنا - بکنا - لبط بہ - گرایا جانا -

بیماری وغیرہ سے گر پڑنا - زکام زدہ ہونا -
لبط - من - لبطا وتلبط التبط البعد
او البقل - اونٹ یا بچہ کا زمین پر پاؤں

ماننا - دور نے میں لات بکنا - التبط
وتلبط الوجل - زمین پر لوٹنا مضرب
وجیران ہونا - فی الامر - کوشش کرنا - محنت

کرنا - حیلہ زنا -
اللبطة - زکام - اللبطة - التباط کا
اسم - نگرے کی دوڑ -

اللباط - چڑے - واحد (لبط)
الملبوط - مضرب - متحیر -

لبق - من - لبقا ولبق - الشئ - نرم کرنا -
لبق - س - لبقا ولبق - لباقہ
باہر ہونا - زمین ہونا - نرم اخلاق ہونا -

اللبق واللبیق - نرم خود نرم اخلاق والا
پاکیزہ اخلاق والا - زمین - ذکی - مؤث -

لبقة ولبقة
لبک - من - لبکا ولبک - الامر او الشئ
ملانا - کام کو چھیدہ کرنا - خرید کو کھانے کے
پے اکٹھا کرنا -

لبک - من - لبکا ولبک ولبک
الامر - غلط و مشتبہ ہونا -

لبک - بخش کلامی کرنا - گفتگو میں غلطی کرنا -
marfat.com

اللبک واللبكة - مخلوط چیز

اللبكة - تقریباً خرید کا ایک حصہ -

اللباكة واللبكة - جماعت - لبنة
الموااة بولواها - عورت کا اپنے
بچے سے لادو پیار کرنا - اللغات

بولواها بعد الوضع - بکری کا
اپنے بچے کو پیدائش کے بعد چاٹنا -

لبب القوم - متفرق ہونا -
الملبب والملبب - اپنے اہل سے

فہرانی کرنے والا - اپنے پڑوسیوں سے
لیک سلوکی سے پیش آنے والا - لباب
الغنم - بکریوں کا شور اور ان کی آواز -

لبن - من - لبنا - الرجل - کسی کو دودھ
پلانا - فلانا - زور سے لاکھی مارنا - من ،
لبنا - الرجل - بہت کھانا -

لبن - من - لبنا - الرجل - تکبیر کی وجہ سے
گردن میں درد ہونا - الشاط - بکری کا
دودھ زیادہ ہونا -

اللبن - القوم - بہت دودھ والی ہونا صفت
اللبون ولبنون - اناقة - اونٹنی
کے قطنوں میں دودھ اترنا - الرجل -

تلبینہ بنانا -
لبن - اینٹ بنانا - فیصلے کرنے کے لیے
مجلس بنانا - الشئ - چھوڑنا -

تلبن - دودھ چوسنا - استلبن دودھ
طلب
اللبن - مع دودھ - ج - البان لبنا
الشجر - درخت کا دودھ - اللبن
واللبن واللبن - انیس - واحد
اللبنة

اللبن واللبن - دودھ کا بہت دلدادہ
دودھ پینے والا - لبن القمبص کرتے
کی کلی -

اللبنة واللبنة - دودھ والی -
اللبان - سینہ یا دونوں پستانوں کا درمیان

لبنة ولبنة - دودھ والی -
اللبان - سینہ یا دونوں پستانوں کا درمیان

لبنة ولبنة - دودھ والی -
اللبان - سینہ یا دونوں پستانوں کا درمیان

لبنة ولبنة - دودھ والی -
اللبان - سینہ یا دونوں پستانوں کا درمیان

لبنة ولبنة - دودھ والی -
اللبان - سینہ یا دونوں پستانوں کا درمیان

لبنة ولبنة - دودھ والی -
اللبان - سینہ یا دونوں پستانوں کا درمیان

اللشدة - صيرنے والی اور نہ کوڑھ کرنے والی
جماعت۔

لشظ (رض) لشظاً فلانا آہستہ آہستہ مارنا۔
آہستہ پھینکنا۔

اللشعة - دانتوں کی جڑوں سے ہونٹ
کا ملا ہوا حصہ۔

الألشع - ہکلا۔ مونث لشعاء۔ ج
لشع۔

لشع (س) لشعاً وتلاشع - ہکلا ہونا
صفت (شع) مونث لشعاء۔

ج لشع - اللشعة - ہکلا پن۔
اللشعة - منب۔

لشيق (س) لشيقاً - ایوم۔ دن کا کم ہوا
دالا اور نناک ہونا۔ المسافر کیچڑ میں

پڑنا۔ نیابہ۔ کپڑوں کا تر ہونا۔ الطائر
پرندہ کے پردوں کا تر ہونا۔ صفت

لشيق (س) لشيقاً - فاسد کرنا تباہ کرنا۔
الشي تر کرنا۔ اللشيق واللشيق

تر ہونا۔
اللشيق - تزی۔ نمی۔ کچھ۔ گارا۔

اللشيق - چکنے والی مٹی۔
لشلت المطر - بارش کا چند دن تک برسا

الرجل - کمزور ہونا۔ علی فدان - اصرار
کرنا۔ وعن كذا - منع کرنا۔ روکنا۔

في التراب - مٹی میں بٹانا۔ لشلت
البعير - اونٹ کو تھکانا۔ كلام

صاف نہ کہنا۔ لشلواينا - ہمیں
ٹھوڑا سا آرام کرنے دو۔ وثلثت

في الامر - ترور کرنا۔ وير لگانا۔ بالمكان
اقامت کرنا۔ ثلثت في الثواب

خاک میں بیٹنا۔ الغيم والسحاب
ابرو ہادل کا آنا جانا۔

الثلث والثلثات والثلثات
والثلثات - ہر معاملے میں دیر کرنے والا۔

کمزور۔ خام ارادہ والا۔
لشم (رض) ولشم لثماً - انقم او الوجه۔

منبر یا چہرے کا بوسہ لینا۔
لشم (رض) لثماً انفة - ناک پر مکارنا

البيجا تخف العيون - پتھر کا اونٹ
کے پاؤں کو زخمی کرنا۔ خون اود کرنا۔

البيجو الحجاره يخفه اونث کا
پتھر کو ٹھوکر سے توڑ دینا۔

لشم ولشم ولشم وتلشم
واللشم - الرجل - منہ یا ناک پر کپڑا

لثمة - بوسہ لینا تلاثماً - ایک
دوسرے کا بوسہ لینا۔

اللشم - ص - ناک اور اس کا ارد گرد۔
اللاثم - ن - لشم - اللثمة - بوسہ

لینے کی سیت۔
اللاثم - کپڑا جو ناک اور اس کے ارد گرد

لپٹا جائے۔ نقاب - ج لشم
لشي يثي لشي - فقور پانی پینا۔ القدر

ہانسی کو خوب چائنا (والشي) شجر
السمر - درخت کا گوند بہانا۔ لثيت

اليد من طين - ہاتھ مٹی میں لٹھرنا
دودھ کی چکناہٹ سے چکنا ہونا۔

لثي والثي - گوند جمع کرنا۔
الاثي - ص - گوند۔ دودھ کی چکناہٹ۔

لثي - لثي الثوب کپڑے کا میل۔
اللثة - مسورھا۔ ج لثي و لثات

لثي۔
اللثات - گلے کا کوا۔ الحروف اللثية

لج (رض) س) لجا و لجا و لجا
صند سے جھگڑنا۔ دشمنی میں مداومت

کرنا۔ فی الامر - لازم ہونا۔ بہ التهم ونحوہ
غم لگنا۔ علی فلان فی المسئلة - اصرار

کرنا اور فیصلہ میں تیزی کا مطالبہ کرنا۔
لجج واليج - قوم کا پانی گہرے

لجج واليج - قوم۔ قوم کا پانی گہرے
حصے میں داخل ہونا۔ ألجج الایب

اونٹ کا آواز نکانا اور بڑ بڑانا۔
لاجج - خضمہ - مقابل سے جھگڑنا جھگڑنے

میں مداومت کرنا۔
تلجج واستلجج - متاع فلان - کسی کے

سامان پر دعویٰ کرنا۔
استلجج يمينه - یہ گمان کر کے کہ

صادق ہے قسم کا کفارہ ادا نہ کرنا اور
اصرار کرنا۔

التجج - البحر - سمندر کا ایجان و طوفان میں
آنا۔ متلاطم ہونا۔ الارض بالسراب - موج

جیسا ہونا۔ الامر والموج - معاملہ یا موج
کا عظیم ہونا۔ النظام - اندھیرے کا

گھٹاؤپ ہونا۔
التجج الارض - زمین کا کثیر اور لمبی

نباتات والی ہونا۔ الاصوات - آوازوں
کا مخلوط ہونا۔

الدجج - پانی کا بڑا حصہ۔ بڑی جماعت۔
داوی کا کنارہ۔ تلوار۔ پار میں سخت جگہ

فہم اذہم ليج - سخت کھلا کھورا۔
اللجة - پانی کا بڑا حصہ۔ کھرا

بڑی جماعت۔ چاند کی لیمے۔ حجج
ولجا ج۔

الليجي - ليج کی جانب منسوب۔ جھولتی
ظوفانی اور بے پایاں سمندر۔

اللجة - بڑا اونٹ۔
اللاجج واللاجج واللاجج

واللاجج واللاجج - بڑا
جھگڑاؤ۔

المتججة - بہت سیاہ آنکھ۔ بہت سرسبز
زمین۔

لجارت لجا و لجوع و ليجی (س) لجا
والتجج الى الحصن او غيره۔

قلعہ وغیرہ میں پناہ لینا۔

لَجَا تَلَجُّتَ - فلان مالہ ماں کو بعض ورثا کے لیے خاص کر دینا۔ رَدَّ الْجَا فَلَانَا مجبور کر دینا۔ والجماعا۔ بجانا۔ حفاظت کرنا۔ الْجَا أَمْرًا إِلَى اللَّهِ - اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا۔

تَلَجَّأ - ایہ۔ سہارا لینا۔ من القوم۔ قوم سے جدا ہو کر دوسروں کی پناہ میں آنا۔ اللَجَاءُ - مہ۔ قلعہ۔ جاتے پناہ۔ ج۔ الجاءُ وارث۔ بیوی۔ ایک قسم کا کچھو جو خشکی اور تری دونوں میں رہتا ہے۔ واحد (لجاءٌ)

التَلَجُّتُ - مہ۔ ایسے فعل پر مجبور کرنا جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو۔ المَلَجَا - پناہ کی جگہ قلعہ پناہ لینا۔ ج۔ مَلَايَجِي -

لَجِبَ (رس) لَجِبَا - البحر۔ سمندر کا ہیجان میں آنا۔ القوم۔ قوم کا شور مچانا۔ لَجِبَتِ رَاكِبٌ لَجُوبَةً وَ لَجِبَتِ الشَّامُ کم یا بہت دودھ والی ہونا۔ (صد) لَجِبَةٌ بِالسَّيْفِ - تلوار سے کاٹنا۔ اللَجِبُ - مہ۔ گھوڑوں کی بہنا بہت۔ بہادوں کا شور۔

اللَجِبُ - شور مچانے والا۔ سخت شور مچانے والا۔

اللَجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ - زیادہ یا کم دودھ دینے والی بکری۔ ج۔ لَجَابٌ وَ لَجَبَاتٌ -

لَجَذَ (رن) وَ لَجَذَ (رس) لَجَذًا وَ لَجَذًا الكلب الإناث۔ کتے کا برتن کو اندر سے چاٹنا۔ (لجذا) الرجل کھانا۔ ایک دفعہ دینے جانے کے بعد زیادہ سوال کرنا۔ المھار۔ گدھے کا پہلی بار چرنا۔ الماشية الكلاء۔ مولشی کا گھاس کھانا۔ من الشئ۔ مھوڑا سا لینا۔ فلانا۔

کسی کو اگسانا۔

لَجَفَ (رن) لَجَفًا - سخت مارنا۔

لَجَفَتِ (رس) لَجَفًا - البئر۔ کنوئیں کا گردا گرد سے کھودنا اور وسیع ہونا۔ صفت لَجَفَاءُ -

لَجَفَ - البئر۔ کنوئیں کو پہلوؤں سے کھودنا اور وسیع کرنا۔ الشئ۔ پہلوؤں سے وسیع دکشادہ کرنا۔

تَلَجَّفَ البئر کنوئیں کو جوانب سے کھودنا۔ تَلَجَّفَتِ وَ التَلَجَّفُ - البئر۔ کنوئیں کا پہلوؤں سے کھدا ہوا ہونا۔ کنوئیں کا گرنا۔ منہدم ہونا۔

اللَجْفُ - مہ۔ کنوئیں کے جانب میں گرنا۔ یا اس کے اطراف میں پانی کی گرانی ہوتی جہیں۔ سیلاب کے بند ہونے کی جگہ۔ وادی کا وسط۔ ج۔ اللجاف۔

اللجاف۔ پہاڑ کا غار کے اوپر بڑھا ہوا حصہ۔ دروازہ کی دلیز۔ ج۔ اللجفة وَ لُجْفٌ -

اللجيفة۔ دروازہ کا پہلو۔ لَجَلَجَ لَجَلَجَةً وَ تَلَجَلَجَ - فی صدره شئ۔ کوئی چیز کھلنا۔ لَجَلَجَ اللقمة فی فمہ۔ رقمہ کو منہ میں بغیر جباتے گھمانا۔ تَلَجَلَجَ بالشئ چیز کے لینے میں جلدی کرنا۔

اللجلاج - توتلا۔ لَجَمَ (رن) لَجْمًا - الثوب۔ کپڑا سینا۔

النجمة۔ الدابة۔ جانور کے لگام لگانا۔ القند۔ ہانڈی کے کڑے میں لکڑی ڈال کر اٹھانا۔ الناقہ۔ اونٹنی کے لگام سے داغ لگانا۔ ه عن حاجتہ۔ حاجت سے روکنا۔ تَلَجَمَ فَأَجَمَتَهُ وَ أَلَقَمَتَهُ العجبة۔ وہ بولا تو میں نے اس کو بند کر دیا۔ أَلَجَمَ وَ لَجَمَ - الماء فلانا۔ پانی کا منہ تک پہنچنا۔

التَجَمَّتِ الدابة۔ جانور کے لگام لگانا۔ أَسْتَلَجَمَ - فلانا الفرس۔ گھوڑے کو لگام لگانے کے لیے کسی کو کھینا۔ اللججم۔ متوسط زمین۔ ج۔ اللجام وَ اللججم وَ اللججم۔ گرت۔ مینڈکیں۔ ایک قسم کا منحوس جانور۔

اللججم۔ ہوا۔ اللججام۔ لگام۔ ج۔ لجم۔ لجم وَ اللجم۔ اونٹوں کا نشان۔

اللججام۔ لگام بنانے والا۔ اللججام جس سے بد شکونی لی جاتے۔

الملجمة وَ المَلَجَمُ - لگام لگانے کی جگہ۔ اللججة۔ لجم کا واحد۔ زمین کے لیے علم۔ لجمة الوادی۔ وادی کا کنارہ۔

اللججة۔ سطح پہاڑ۔ لجن (رن) لجننا وَ لَجْنٌ - درق الشجر وَ نحوه آنا یا جو ملنے کے چارہ تیار کرنا۔

لجن (رن) لجننا وَ لَجْنًا - البعير اونت کا اڑیل ہونا۔ فی الشئ۔ آہستہ چلنا۔ لجن (رس) لجننا۔ بہ۔ چمٹنا۔

تَلَجَّنَ - الشئ۔ لیسار ہونا۔ اللجن۔ میلنا۔

اللجین۔ پتوں وغیرہ کے مالیدے اور آٹے یا جو سے تیار کیا ہوا چارہ۔ اللجينة۔ جماعت۔ پارٹی۔

اللججون۔ من الجمال والنوق۔ نست اونٹ یا اونٹنی۔

اللجین۔ چاندی۔ لحتت (رن من) لحتا۔ القرابت بیننا۔ قرابت کا نزدیک ہونا۔

لحتت (رس) لحتا وَ لَحَحًا - العین۔ آنکھ کا کچھ سے چمکنا۔

اللع - فی السوال۔ سوال میں اصرار کرنا۔ السحاب بالمطر۔ بادل کا لگتا ہوا برسنا۔ المظی۔ سواری کا تھک کر سست ہونا۔

الْقَتَبُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ - پالان
کا جانور کی پیٹھ کو زخمی کرنا۔ اَلْجَمْدُ
اونٹ کا اڑیل ہونا۔
الْمَلْحُ - مہ۔ قریبی قرابت۔ اللّاحُ -
تنگ جگہ۔

الْمِلْحَاحُ - جانور کی پیٹھ کو زخمی کرنے والا۔
پالان۔ بہت امحاح سے مانگنے والا۔
لگانا برسے والا بادل۔

لَحَبَّ رَن (لَحَبًا) - الطريق - راستہ کو واضح
کرنا۔ الشئ - اثر کرنا۔ بقدن الارض -
زمین پر پھینکنا۔ ہ بالسفر - تلوار سے
مارنا۔ اللحم - گوشت کو لمبائی میں کاٹنا۔
اللحم عن العظم - گوشت کو ہڈی پر سے
چھیننا۔ الرجل - سیدھا چلنا یا تیز چلنا۔
(لَحْوِيًا) الطريق - راستہ کا واضح ہونا۔

لَحَبَّ (رَس) لَحَبًا - الرجل - بڑھاپے کا
کسی کو لاغر و دُبل کرنا۔ لحم زبید - لاغر
ہونا۔

لَحَبَّ - الشئ - اثر کرنا۔ نشان چھوڑنا۔
طُكْرُطْ طُكْرُطْ سے کرنا۔ فُلَانًا - ذیل کرنا۔
ہ بالسيف - تلوار سے مارنا۔

التَّحَبَّ - الطريق - راستہ چلنا۔
اللَّحَبُ - مہ۔ (و اللّاحِبُ) صاف اور
کھلا راستہ۔ فراخ سُرُك -

اللَّحِيْبُ - دہلی اونٹنی۔ المِلْحَبُ
گالی دینے والا۔ بد زبان۔ کاسنے یا
چھیلنے کا اوزار۔ نِصْحُ زَبَان -

المَلْحُوبُ - مہ۔ واضح سُرُك - لاغر
آدمی۔
نَحَّتْ رَن (لَحْتًا) - العصا - لاشی کو
چھیننا۔ فُلَانًا بالعصا - لاشی سے مارنا

الرجل - کسی سے سب کچھ لے لینا۔
اللَّحْتُ - مہ۔ خالص۔ اللّحَاتَةُ - آٹاری
ہوئی جھان۔

لَعَجَةٌ رَن (لَحَجًا) - مارنا۔ بعینہ - نظر

لگانا۔
لَحَجَّ (رَس) لَحَجًا - السيف دُخُوذُ تلوار کا
میان میں چپٹ کرنا۔ بالمكان - جگہ
کو لازم پکڑنا۔ الشئ - تنگ ہونا۔ اللّحی
کچ ہونا۔ صفت (لَحَجًا)

لَحَجَّ - عليه الخمر - غلط خبر دینا۔ الحجرا لیبہ -
مجبور کرنا۔
التَّحَجَّ - ایہ۔ مائل ہونا۔ فُلَانًا ایہ۔ مائل
کرنا۔ مجبور کرنا۔

التَّلَحَّجَّ - الامر على فلان - ضمیر کے خلاف
ظاہر کرنا۔

استلجج - الباب - دروازہ کا بند ہونا۔
اللحجج - مہ۔ آنکھ کا گڑھا۔ اللّحجج -
آنکھ کا گڑھا۔ گھر کا گوشہ۔ اونٹ

کا پالان۔ پہاڑ کا ابھرا ہوا حصہ۔ وادی
کا کنارہ۔ ج الحجاج - اللّحجج - آنکھ
کا چرک۔

المَلْحَجُّ وَالْمَلْتَجُّ - جائے پناہ۔ ج
مَلَا حَجَّ -
المَلَا حَجَّ - تنگ جگہیں۔ یا حالتیں۔
المَلَا حَجَّ - پہاڑوں میں تنگ راستے۔
لَحْوَجَّ - خبر غلط بتانا۔

لَحْدًا رَن (لَحْدًا) - المیت - میت کو
دفن کرنا۔ اللّحد - لحد کھودنا۔ للمیت
میت کے لیے لحد کھودنا۔ السهم عن
الهدف - تیر کا نشانہ خطا کرنا۔ الی فلان
مائل ہونا۔ فی الدین - مذہب سے پھر
جانا۔ لحد ہونا۔ علی فی شہادۃ - گنہگار
ہونا۔

أَلْحَدًا رَن (لَحْسًا) - الدُّوْدُ الصُّفْرُ
اُون کو کیرا لگانا۔ الجراد الخضر - ٹڈی
کا سبزی کو چاٹ جانا۔

لَحْسًا رَن (لَحْسًا) - لَحْسًا وَ لَحْسَةً وَ
لَحْسَةً وَ مَلْحَسًا - اقصعتہ
پیالے کو زبان یا انگلیوں سے چاٹنا

لَحْسًا رَن (لَحْسًا) - لَحْسًا وَ لَحْسَةً وَ
لَحْسَةً وَ مَلْحَسًا - اقصعتہ
پیالے کو زبان یا انگلیوں سے چاٹنا

اور خدا کی ذات میں شک لانا۔

فی المحرم بے حرمتی کرنا۔ السهم الہدف
تیر کا نشانہ کے ایک پہلو میں لگانا۔
بہ۔ بدنام کرنا۔ عیب لگانا۔

لَا حَدَّ مَلَا حَدًّا - صاحبزادہ۔ ہر ایک کا
دوسرے سے کچی اختیار کرنا۔
الْتَحَدَّ - عن الدین - دین سے پھرنا۔
الی کذا - مائل ہونا۔ الی فلان - پناہ
لینا۔

الْحَدُّ وَاللَّحْدُ - بغلی قبر۔ ج
الْحَادُّ وَ لَحْوَدُ -
الْمَلْحَادُ - کفر۔ المَلْحُودُ - مائل ہونے
والا۔

الْمَلْحَادُ - کافر۔ ج۔ مَلَا حِدَّةً وَ مَلْحِدْرًا
دہریہ۔ نیچری۔

الْمَلْحَدُ وَ الْمَلْحُودُ - بغلی قبر۔ قبر۔
الْمَلْحَادَةُ - دین میں بہت طعن کرنے
والا۔

الْمَلْحَدُ - جائے پناہ۔
لَحْزَرَس (لَحْزًا) - بخیل و کجوس ہونا
صفت لَحْزٌ وَ لَحْزٌ -
لَحْزًا رَن (لَحْزًا) - اصرار کرنا۔

تَلَحَّزَ - بخیل ہونا۔ ترش چیز کے لیے منہ
میں پانی بھر آنا۔ لڑنے یا سفر کرنے
کے لیے دامن اٹھانا۔ عنہ - تیغے
ہٹنا۔

تَلَا حَدًا - القوم - گفتگو کرنے میں مقابلہ
کرنا۔

الْمَلْحَزُ - تنگ جگہ۔ ج۔ مَلَا حَزُ
لَحْسًا رَن (لَحْسًا) - الدُّوْدُ الصُّفْرُ
اُون کو کیرا لگانا۔ الجراد الخضر - ٹڈی
کا سبزی کو چاٹ جانا۔

لَحْسًا رَن (لَحْسًا) - لَحْسًا وَ لَحْسَةً وَ
لَحْسَةً وَ مَلْحَسًا - اقصعتہ
پیالے کو زبان یا انگلیوں سے چاٹنا

لَحْسًا رَن (لَحْسًا) - لَحْسًا وَ لَحْسَةً وَ
لَحْسَةً وَ مَلْحَسًا - اقصعتہ
پیالے کو زبان یا انگلیوں سے چاٹنا

ابو لاحق - باز -

اللاحيقة - پہلے پہل کے بعد کا پھل -

ج - نواحق -

اللويحق - ایک شکاری پرندہ -

الملحقاق - تیز تیر پھینکنے والی کمان -

نیزرواؤنٹی جس سے اونٹ آگے

نہ بڑھ سکیں -

لحک (ن) لحکا ولحک و تلاحک

الشيء بالشيء - چٹانا - تلاحک الشيء

ایک دوسرے میں داخل ہونا -

لحک العصبى - بچہ کے منہ میں دوا

ٹیکانا -

لوجکت - فقار ظہرہ - پیٹھ کے منکوں

کا ایک دوسرے میں پھنسا ہوا ہونا

لحک (س) لحکا - العسل - شہد چاٹنا -

اللحكة واللحكاء - ریت میں بنے

والی ایک قسم کی پھل -

الملاحك - تنگیاں - تنگ جلیں -

تنگ درے -

لحلح و تلحلح - القوم - اپنے مقام پر

قائم رہنا - دور جانا -

اللحلح - تنگ جگہ - الملحلح - قوم

کا بڑا سردار -

لحم (ن) لحمًا - الامر مضبوط کرنا -

القصاب العظم - قصائی کا ہڈی سے

گوشت اتارنا - ہ نقصان پہنچانا -

تکلیف دینا -

لحمه (ن) لحمًا - گوشت کھلانا -

لحم (س) لحمًا - بالمكان - لازم ہو کے

رہنا - الصقر ونحوه - گوشت کی خواہش

رکھنا -

لحم (س) لحمًا ولحم (ن) لحمًا

بہت گوشت والا جسم رکھنا - گوشت

کا مشتاق ہونا -

لحم لحمًا - قتل کیا جانا صفت رحیم،

لأحم - الجبل - رسی مضبوط بننا - الشيء

بالشيء - ملانا - شادی کے تعلق سے

ملانا -

الحم - الثوب - کپڑا بننا - الشعر - شعر

نظم کرنا - الزرع - کھیتی میں دانہ پڑنا

بين القوم شرًا - قوم کے درمیان فساد

ڈلوانا - ہ بصرہ - نیز نظری سے دیکھنا

الحم الرجل - غمگین کرنا - فلانا الارض -

زمین پر گرا دینا - پھار دینا - عرض

فدان - گالی دینے کا موقع - الحمى

المدابة - جانور کا چلتے چلتے ارجانا

الحم بالمكان - اقامت کرنا - الرجل -

گھر میں بہت گوشت رکھنا - القوم

گوشت کھلانا - الشيء درست کرنا -

الحم الرجل - مرنا -

فلأحم - القوم - باہم مقابلہ کرنا - تلاقت

الشعبة - زخم پر انگور آنا - (والتحم) الشيء

بوجاننا - التخميت الحرب بينهم

ان کے درمیان گھسان کی لڑائی ہوتی

التحم الجرح - زخم کا انگور لانا -

استلحم - الطريق - راستے کا کشادہ ہونا

الطريق او الطوية - پیچھے پڑنا -

الخطب فدانًا - مشغول کرنا - الزرع

کھیتی کا گنجان ہونا - استلم الرجل - لڑائی

میں پھنس جانا -

اللحم واللحم - گوشت - ج - لحم

ولحم ولحمًا ولحمًا والحكم

لحم شئ - ہر چیز کا گودا - اكل لحم

ورقع لى لحمى - میری غیبت کی -

الحمه - گوشت کا ایک ٹکڑا - لحم الثوب

کپڑے کا بانا -

الحمه - قرابت - کپڑے کا بانا - شکار

میں سے باز کا حصہ - ج لحم -

اللحم - پھنس کو جوڑنے والی چیز -

اللحم - گوشت بیچنے والا -

الملاحم - گوشت کھلانے والا -

گوشت رکھنے والا -

اللحم - بدن پر بہت گوشت رکھنے والا

گوشت کا بہت دلدادہ -

اللحم - شیر -

اللحم - جسم میں زیادہ گوشت والا ہونا -

مقتول -

الملحم - مغم - گوشت کی خوراک والا -

قوم سے بظاہر - قیدی - ایک قسم کا

کپڑا جس کا تانا سفید ابریشم کا ہوتا

ہے -

الملحم - نا - گوشت کھلانے والا - یا بہت

گوشت رکھنے والا -

الملحمه - گھسان کی جنگ کا موقع -

ج - ملأحم -

الملاحم - من الجبال - مضبوط بٹی ہوئی

رسی -

المستلحم - نا - شیر -

لحن (ن) لحنًا ولحنًا ولحنًا و

لحانًا ولحانية - لحنیۃ - نى كلامه او

فى القراءة - اعراب میں خطا کرنا - اعرابى

غلطی کرنا - صفت لاجن و لحن و لحنانہ

دعنا لغان کسی سے کنایہ میں بات کرنا

کہ وہی سمجھ سکے نہ دوسرا - صفت لاجن

ایہ قصد کرنا - مائل ہونا - قولہ - سمجھنا -

لحن (س) لحنًا - الرجل - دانا و ذہین ہونا

دلیل جان لینا - الكلام - کلام سمجھنا -

لحنه - غلطی و خطا کھانا - لحن فى القراءة

قرابت میں نرم کرنا - سر سے پڑھنا -

لاحن - القوم - ڈہراتا - سمجھ میں غالب آنا -

الحن - فلانا القول - کسی کو بات سمجھانا -

اللحن - من الاصوات - آواز - سر

لجو - بولنے کی طرز - مطلب کلام -

اعراب کی غلطی - تعریف - کنایہ سے

بات کرنا - ج - الحان و لحن -

<p>اللَّحْمَةُ - لکڑی یا درخت کی چھال۔ اللّٰحِيَان - لمبی دارھی والا۔ مونث۔ اللّٰحِيَةُ - دارھی۔ زح لحنی و لحنی نسبت کے لیے لحنی۔ لحنی الحمار۔ لحنی التیس والرائی والمغزی۔ پودوں کے نام۔ اللّٰحِيَان - فقور پانی۔ سیداب کے بنائے ہوئے گڑھے۔ الّٰلْحِي وَاللّٰحِيَانِي - لمبی دارھی والا۔ لَحْمَةٌ دَن، لَحْمًا - تھپڑ مارنا۔ لَحْمٌ الخبز لوری خبر معلوم کرنا۔ فی الکلام۔ غیر واضح گفتگو کرنا۔ ہ۔ بالطیب۔ خوشبو لگانا۔ فی الجبل۔ پہاڑ میں پھینکا کرنا۔ فی الحفر کھودنے میں جھکنا۔ لَحَّتْ لِحًا وَلِحِيًا وَلِحْجَتِ (س) لَحْنَا - عینہ۔ زیادہ آنسوؤں اور موٹی پلکوں والی ہونا۔ صفت (لحنتہ) التَّخُّعُ الامر۔ کام کا پیچیدہ ہونا۔ العشب گھاس کا گنجان و گھنا ہونا۔ تَلَاخٌ - الوادی۔ وادی کا تنگ ہونا اور درختوں سے بھری ہوتی ہونا۔ اللَّحَّةُ - ناک۔ گندی عورت۔ اللَّحْوُخُ - معیوب۔ المَلْتَمَعُ - محبوب الحواس۔ شرابی۔ بہت گنجان درختوں والی وادی۔ لَحْبَةٌ (دَن، لَحْبًا) وَلَاخِبَةٌ مَلَاخِبَةٌ لِحًا نَجْمًا مَارِنًا۔ اللَّحْبُ - درخت گول۔ المَلْتَمَعُ - تھپڑ مارا ہوا۔ لَحِصٌ (س) لَحِصًا - گوشت دار پہلوؤں والا ہونا۔ آنکھ کا متورم ہونا۔ لخص کی صفت (لخص) آنکھ کی صفت۔ (لخصاء) لخص۔ لَحِصٌ - الکلام۔ کلام کو مختصر کرنا۔ بیان کرنا۔ الشیء۔ خالص لینا۔ اللَّحِصُ - آنکھ کے پہلوؤں کی پیدائش موانی</p>	<p>صناعة الالمان۔ گانے کا ہنرموستی اللَّحْنُ - لغت۔ ذہانت۔ ۱ اللَّحْنُ ذہین۔ اللَّاحِنُ - نا۔ نتائج کلام کو جاننے والا اللَّحَّةُ - وہ جس کی غلطی لوگ بہت پکڑیں۔ اللَّحْتَةُ - بہت غلط تلفظ کرنے والا۔ لوگوں کی غلطی بہت پکڑنے والا۔ الّٰلْحَنُ - زیادہ ذہین۔ سربلی آواز سے گانے والا۔ یا پڑھنے والا۔ لَحَا يَلْحُو لَحْوًا وَالتَّحْيُ التَّحَا الشجرة۔ درخت کا چھلکا اتارنا۔ لِحَاةٌ - گالی دینا۔ المَلْحَى - لکڑی چھیننے کا اوزار۔ لَحْوَجٌ لَحْوَجَةٌ - علیہ الخبز۔ خبر کو ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔ لَحِيٌّ لِحِيًا - الشجرة۔ درخت چھیننا۔ فَلَانًا - ملامت کرنا۔ گالی دینا۔ عیب لگانا۔ صفت فاعلی (لأح) صفت مفعولی (لحنی) لِحَا اللّٰهُ فَلَانًا - اللّٰهُ تعالیٰ فلاں پر لعنت کرے۔ لَا تَحِي لِحَاءً وَمَلَاخَاةً - الرجل کسی سے جھگڑنا۔ فَلَانًا - دفع کرنا۔ منع کرنا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ أَلْحَى اللّٰحَاءَ - قابل ملامت کام کرنا۔ تَلْحَى تَلْحِيًا - پکڑی کو ٹھوڑی کے نیچے سے لپٹنا۔ تَلَاخِي تَلَاخِيًا - القوم۔ ایک دوسرے کو گالی دینا۔ آپس میں جھگڑنا۔ لعنت ملامت کرنا۔ بغض و حسد رکھنا۔ التَّحْيُ التَّحَاةً - دارھی نکلنا۔ دارھی چھوڑنا۔ العود۔ لکڑی چھیننا۔ اللَّحِي - جبر۔ دارھی نکلنے کی جگہ لِحَا اللّٰهُ تالاب کے دونوں کنارے۔ ج۔ اُنْحَ رِحِي</p>	<p>اللَّحْمَةُ - آنکھ کے اندر کا گوشت۔ ج۔ لخاص۔ الّٰلْحَمِصُ - ظاہر۔ مختصر۔ المَلْحَصُ - مفہم۔ مختصر کیا ہوا۔ خلاصہ لَحْفَةٌ - (دَن) لَحْفًا - زور سے مارنا۔ اللَّحْفُ - تپتے جھاگ۔ اللَّحْفَةُ - سفید۔ باریک۔ پتھر۔ ج۔ لِحْفًا - لَحْمَةٌ دَن، لَحْمًا - لِحْمًا مارنا۔ الشیء کاٹنا۔ لَحْمٌ دَن، لَحْمًا - الرجل۔ پُر گوشت چہرہ والا ہونا۔ لَحْمَةٌ لِحَامًا وَمَلَاخِمَةٌ - ایک دوسرے کے تھپڑ مارنا۔ لِحْمًا مارنا۔ اللَّحْمَةُ - سستی۔ افسردہ دلی۔ اللَّحْمَةُ وَاللَّحْمَةُ - سُت - ناکارہ کینہ۔ لَحْنٌ (س) لَحْنًا - بدبودار ہونا۔ الرجل قبیح کلام کرنا۔ گندہ بغل یا بین ران ہونا۔ صفت (لحن) مونث لحناء۔ ج۔ لحن۔ لَحَاةٌ يَلْحُوهُ - لَحْوًا - ناک سے دوائی وغیرہ چڑھانا۔ لَحَاةٌ يَلْحِيهِ لِحِيًا وَاللَّحَاةُ - مال دینا ناک سے دوائی چڑھانا۔ لَحِيٌّ يَلْحِي لَحِيًا - بہت بکواس کرنا۔ لَا تَحِي لِحَاءً وَمَلَاخَاةً - الرجل دوستی کرنا۔ فَلَانًا علی فلاں کسی کو کسی کے خلاف اُکسانا۔ غیبت کرنا۔ چغلی کھانا۔ التَّحْيُ التَّحَاةً - العصبی۔ بچے کا تر کی ہوئی روٹی کھانا۔ اسم لِحَاءً۔ اللَّحَاةُ وَاللَّحِي وَاللَّحَاةُ وَالْمَلْحِي - جس سے ناک میں دوائی چڑھائی جائے الّٰلْحِي - بکواسی۔ بے ہودہ گو۔ لَدَانٌ، لَدَاؤُا لَدَاؤُا دَاؤُا مَلَاؤُا</p>
---	---	--

وَالذَّ - الرجل - سخت جھگڑا کرنا۔
 جھگڑے میں غالب آنا۔ لَذَّ عَنْ شَيْءٍ
 منع کرنا۔ روکنا۔ لَا ذَّعْتُهُ مَدْفَعْتُ كَرَامًا۔
 لَذَّ رَنُ الذَّ او لَذُّ ذَا وَالذَّ الرجل
 منہ کے گوشے سے دوا پلانا۔
 لَذَّ الذَّوود - لہر دو دواتیار کرنا۔
 الذَّكَ - سخت جھگڑا پانا۔ الذَّ
 بہ مانا۔
 لَذَّوَسَ (لَذَّوَسًا) - بہت جھگڑا ہونا۔
 صفت (الذَّ)
 لَذَّوَكًا - حیران کرنا۔ لَذَّوَبًا - بدنام
 کرنا۔
 تَلَذَّذَ - حیران ہونا۔ دائیں بائیں دیکھنا
 فی المكان کسی جگہ ٹھہرنا
 الذَّوَدُ - منہ کے کنارے سے دوا پیا۔
 عَنْ شَيْءٍ - نابل ہونا۔ ایک طرف کو
 ہوجانا۔ الذَّوَرَا۔
 الذَّذَّ - سم۔ سخت جھگڑا۔
 الذَّوَالِدُ وَالذَّوُودُ وَالذَّوُودُ۔
 الذَّوَالِدُ وَالذَّوَالِدُ - موت۔ لَذَّ
 الذَّوَالِدُ وَالذَّوَالِدُ - سخت جھگڑا۔
 الذَّوَالِدُ وَالذَّوَالِدُ - منہ کے گوشے سے
 دینے کا دوا۔ الذَّوَالِدُ ان گردن یا
 وادی کے پتھر۔
 الذَّوَالِدُ - گردن۔
 لَذَّوَسَ رَنُ الذَّوَالِدُ - شے۔ پانا۔
 ہ۔ بیدہ۔ ہاتھ سے مارنا۔ ہ۔ بچر۔
 پتھر سے مارنا
 لَذَّوَسَ - الخوف - موزے میں پیوند لگانا
 اور اس کو درست کرنا۔
 الذَّوَسَاتُ - الارض - زمین کا کچھ سبزہ
 اگانا۔
 الذَّوَسُ - سست وزم۔ اللذیس۔
 مہنا۔ ج۔ الداس۔

المذَّس - گھٹلی اڑنے کا پتھر۔ ج۔
 مَلَاوَسَ -
 لَذَّوَعَهُ رَنُ لَذَّوَعَهُ تَلَذَّذَ اِنَّا - دسنا
 الذَّوَعُ - العقرب - فلانا - کسی پر
 بچھو چھوڑنا کہ وہ اس کو کاٹ لے۔
 الذَّوَعُ - نا۔ موت کا دغہ۔ الذَّوَعُ
 کاٹنا یا اس کا لڑکھا کرنا۔
 الذَّوَعَةُ - من الرجال - طعن و تشنیع
 کرنے والا آدمی۔
 الذَّوَعُ رَنُ لَذَّوَعَهُ مَوْتًا - ج
 لَذَّوَعًا -
 المذَّوَعُ - گھٹنگو سے ڈسنے والا۔ طعن
 تشنیع کرنے والا۔
 لَذَّوَعًا (رَنُ) لَذَّوَعًا - بہ چکنا
 لَذَّوَعًا - (رَنُ) لَذَّوَعًا - طمانچہ مارنا۔
 کسی بھاری چیز سے مارنا جس کے
 لگنے کی آواز آئے۔ الخبز من الملتہ
 روٹی کو بھولھل سے نکالنا۔ (وَلَذَّوَعًا)
 الثوب - کپڑے میں پیوند لگا کر درست
 کرنا۔
 الذَّوَعَاتُ - علیہ الحمی - کسی کو ہمیشہ بخار
 رہنا۔
 تَلَذَّذَ - بوسیدہ ہونا۔ پیوند لگانے
 کے قابل ہونا۔ الثوب - کپڑے میں
 پیوند لگانا۔
 التذَّوَعُ - مضطرب و پریشان ہونا۔
 التذَّوَعَاتُ النساء - عورتوں کا نام
 میں منہ پر طمانچہ مارنا۔ التذَّوَعَاتُ
 مارنا۔ ہٹانا۔
 الذَّوَعُ - زمین پر پتھر کے گرنے کی آواز۔
 الذَّوَعُ - عزت - قرابت۔
 الذَّوَعُ - نا۔ ج۔ لَذَّوَعًا - اللذَّوَعُ - پیوند
 اللذَّوَعُ - پیوند لگانے والا۔ اللذَّوَعُ
 من الثياب - بوسیدہ پیوند والا کپڑا۔
 المذَّوَعُ - لے روٹی - بھاری بھاری گوشت۔
 marfat.com

أَم مِلْدَم - بخار۔
 لَذَّنَ رَنُ لَذَّوَعًا وَ لَذَّوَعًا - نر۔
 ہونا۔ صفت (لذَّن) موت لہوند
 ج۔ لَذَّنَ و لَذَّنَ -
 لَذَّنَ - اشئی - نرم کرنا۔ ہ فی الامر ٹھہرانا
 بالمكان - اقامت کرنا۔ علیہ - دیکھنا۔
 المذَّن - من الطعام - خراب پکا ہونا۔
 لَذَّنَ و لَذَّنَ و لَذَّنَ و لَذَّنَ و لَذَّنَ
 طرف زمان و مکان یعنی عمدہ۔ پاس
 موجودگی میں۔ "لی الیہ لَذَّوَعًا"
 مجھے اس سے حاجت ہے۔
 الذَّوَعُ - الذَّوَعُ - زیادہ ہم عمروں والا
 ہونا۔
 المذَّوَعُ - ندی - پاس - قریب۔
 اللذَّوَعُ - ہم عمر - ہم تربیت۔ ہ لغات
 و لَذَّنَ -
 اللذَّوَعُ - وقت ولادت۔
 لَذَّوَعًا (رَنُ) لَذَّوَعًا و لَذَّوَعًا - ایسی
 چیز کا لذیذ ہونا۔ خوش مزہ ہونا۔ مرغوب
 ہونا۔ مزے دار ہونا۔ صفت۔ لَذَّوَعًا
 و لَذَّوَعًا -
 لَذَّوَعًا (رَنُ) لَذَّوَعًا و لَذَّوَعًا
 ایسی۔ دبیرہ۔ دامتکنا۔ شئی۔ لذیذ
 ہونا۔
 لَذَّوَعًا - لذیذ ہونا۔ لَذَّوَعًا ایک دوسرے
 سے لذت حاصل کرنا۔
 الذَّوَعُ - ہم لذیذ۔ مرغوب۔ نیند۔ طبیعی
 گفتگو کرنے والا شیریں کلام آدمی۔
 الذَّوَعُ - زیادہ لذیذ
 الذَّوَعُ - مزہ۔ خوشی۔ آرام۔ لذت۔
 شراب۔ ج۔ لَذَّوَعَاتُ -
 اللذَّوَعُ - مرغوب مزے دار شراب
 ج۔ لَذَّوَعًا -
 المذَّوَعُ - لذت کی جگہ۔ ج۔ مَلَاوَعًا -
 المذَّوَعُ - خواہش۔ ج۔ مَلَاوَعَاتُ

لَذَابٌ رَانَ لُذُوبًا وَكَاذِبٌ مُلَاذِبَةٌ
بالمكان اتاهمت کرنا۔
لَذَجَهُ رَانَ لُذُوبًا۔ سوال میں امرار
کرنا۔ لَذَنَ الْمَاءُ۔ گھونٹ لینا۔
لَذَعَ رَانَ لُذُوبًا۔ فلانا بلسانہ۔ کام
سے دکھ ہو نجانا۔ آگ کا چیز کو جلانا۔
لَذَعَ الْحَلْبُ قَلْبَهُ۔ محبت کا دل کو
تکلیف پہنچانا۔ لَذَعَ الْبَعِيرُ اِرْتِثًا
کو داغنے کے لوتے کے سرے سے۔
داغنا۔ الرجل بذر کانه۔ ذہانت سے
بلدی سمجھ جانا۔ الطائر۔ پرندہ کا
پھر پھرا کر بازوؤں کو فقور سا بلانا۔
لَذَعَ۔ دابیں دابیں متوجہ ہونا۔ تیز قدم
ہونا۔ ذہین ہونا۔ آگ کا بھڑکنا۔
الذَّاعُ۔ درد میں لڑنا ہونا۔
الذَّائِقَةُ۔ موت اللذیع۔ ج اذ ذع
لواذع الکلام۔ تکلیف رسال گفتگو۔
الذَّاعُ۔ لاذع کا مبالغہ۔ کہتے ہیں "رجل
لذاع"۔ لذاع۔ آدمی وعدہ خلاف ہے۔
اللذوع واللذوعتی۔ تیز ذہن۔ تیز فہم۔
سمجھ دار۔ فصیح لسان۔ خوش بیان۔
الذَّائِقَةُ۔ شام کے ایک شکر کا نام۔
لَذَنَ لُذُوبًا۔ پھر تیز ہونا۔ اللذلاذ
چست و پھر تیز۔ جلدی کرنے والا۔
بھیرنا۔
لَذِمَهُ رَانَ لُذُوبًا۔ لُذُوبًا۔ اچھا لگنا۔
بھلا معلوم ہونا۔
لَذِمَ رَانَ لُذُوبًا۔ بالمکان۔ کسی جگہ
لازم ہونا۔ ٹھہرنا۔ بالشیء۔ کسی چیز پر
شیفتہ ہونا۔ کسی چیز کا حریف ہونا۔
الذمه۔ الشیء وہم۔ حریف بنانا۔
شیفتہ کرنا۔ ہ بقدان۔ لازم کرنا۔
الذم بالمکان۔ ثابت رہنا۔
لُذِمَ بَقْدَانٍ۔ فریقہ کیا جانا۔
الذمة۔ گھر سے جدا ہونے والا۔

رجل۔ لَذِمَ وَكَذِبًا وَمِلْزَمًا
بالشیء۔ چیز کا شوقین۔
بالمذم۔ بہادر۔ شجاع۔
الذَّائِقُ وَالذَّائِقَةُ۔ ایک قسم کا گوند۔
لَذِي يَلْذِي لَذِيًّا۔ بالامر۔ چمٹنا۔
شوقین ہونا۔
الذی۔ اسم موصول ہے۔ اس میں لڑج
لغات ہیں الذی والذی والذی
والذی والذی۔ موت۔ الذی
تثنیہ الذیان والذیان والذیان
ج۔ الذی الذی والذی الذی والذی
بعض کے نزدیک الذی الذی بحالت
رفع اور الذی الذی بحالت نصب وجر۔
الذی کی تصغیر الذی الذی اور تثنیہ
کی الذی الذی اور جمع کی الذی الذی
لذ۔ (ن) لَزَاوُ كَزَاوُ لَزَاوُ الشیء
بالشیء۔ باہنڈنا۔ ملانا۔ لازم کرنا
الشیء بالشیء۔ ملنا۔ القوم۔ اکٹھا
ہونا۔ بھیر کرنا۔ لَزَاوُ بِالرَّجْلِ۔ نیرو مارنا
ہ الی کذا۔ مجبور کرنا۔
لَزَاوُ الشیء فلانا۔ مضبوط جسم والا بنانا۔
لَا زَاوُ لَزَاوُ أَوْ مَلَا زَاوُ۔ چمٹنا۔ مخالفت
کا جھگڑے میں تنگ کرنا۔
الزَّوَا۔ الشیء۔ باندھنا۔ چمٹانا۔
الزَّوَا۔ بہ چمٹنا۔ ملنا۔
الزَّوَا۔ مصر۔ دوازہ کی کنڈی۔
اللزوا واللزوا۔ دوازہ کی چمٹی۔ دروازہ
کی پٹی۔ سخت جھگڑا۔ چمٹنے والا۔
فلان لَزَاوُ لَزَاوُ لَزَاوُ شَرَارَتِ
سے باز نہ آسکتے والا۔ ناقابل اصلاح
اللزویة۔ موت اللزویة۔ لَزَاوُ
اللزوا۔ سینہ کی ہڈیاں۔
الملزاة۔ سخت جھگڑا۔
لَزَاوُ رَانَ لُذُوبًا۔
الانام برتن بھرنا۔ الماشیة۔ مویشی

کو سیر کرنا۔ لَزَاوُ فلانا۔ دینا۔
لَزَاوُ۔ الانام۔ برتن بھرنا۔
لَزَابٌ رَانَ لُذُوبًا۔ مضبوطی سے قائم
ہونا۔ بہ چمٹنا۔ لزبت السنہ۔ قحط
سالی ہونا۔
لَزَابٌ رَانَ لُذُوبًا۔ العنقرب۔ فلانا
بچھو کا کسی کو ڈسنا۔
لَزَابٌ رَانَ لُذُوبًا۔ لَزَابٌ رَانَ لُذُوبًا
وَلُذُوبًا۔ الھین۔ مٹی کا سنت اور
چمکنے والی ہونا۔ لَزَابٌ الشیء۔ بعض
کا بعض میں داخل ہونا۔
لَزَابٌ۔ الشیء۔ تہ تہ ہونا۔
اللزوب۔ تنگ راستہ۔ اللزوب۔ تا
ہاتھ میں چمکنے والی مٹی۔
اللزوب۔ قحوراً۔ لم۔ ج۔ لَزَابٌ۔ ہو
عزب لَزَابٌ۔ وہ کنوارا ہے
اللزوب۔ سختی۔ قحط۔ ج۔ لَزَابٌ وِلزَابٌ
الملزوب۔ بڑا بھیل۔ ج۔ ملازب۔
لَزَجٌ رَانَ لُذُوبًا۔ لَزَجًا وِلزُوجًا۔ لیسدار
ہونا۔ چمکنے والا ہونا۔ صفت (لَزَجٌ)
لَزَجٌ۔ چمکنے والا ہونا۔ البقل سبزی
کا نرمی کی دہرے سے ایک دوسرے پر
جھکنا۔ الدابتہ البقول۔ سبزی کے لیے
جانا۔
اللزوجة۔ چمک۔ چسپدی۔ رجل
لَزَجَةٌ وِلزَجَةٌ وِلزَجَةٌ۔ گھر پر بسنے
والا آدمی۔
لَزَقٌ رَانَ لُذُوبًا۔ التزق بہ چمٹنا
چمکنا۔ لَزَقًا الرثمة بالجنب۔
پایس کے سبب پھیپھڑے کا پوسے
چمکنا۔
لَزَقَةٌ لُذُوبًا وِلزَقَةٌ۔ چمکانا۔
اللزقہ بہ۔ چمکانا۔
لَزَقٌ الشیء۔ چمکانا۔ کچا کمزور کام کرنا۔
اللزق۔ پہلو۔ ساتھی۔ "ہو لَزَقٌ وِلزَقٌ"

وہ میرے پہلو میں ہے۔ وہ میرا ساتھی ہے۔

اللِّزَاقُ - مہم - لٹی - لیس جس سے چپکایا جاتے۔ اُذُنُ كِرْتَاؤُ - سر سے چپکا ہوا کان۔

اللِّزُوقُ وَاللِّازُوقُ - زخم پر چپک کر اس کو اچھا کر کے ہٹنے والا مرہم۔ اللِّزِيقُ - قریب بہ پہلو۔ بے تکلف ساتھی۔ اللِّزِيْقَاءُ وَاللِّزِيْقِيُّ - چھپاپن۔ جو بارش کی صبح کو پتھروں کی جڑوں میں پیدا ہوتا ہے۔

المَلِّزِقُ - منہ بولا بیبا۔ لَزِمَ (س) كَزُومًا وَّلِزَامًا وَّلِزَاوًا وَّلِزَامَةً -

وَلِزَامًا - الشَّيْءُ - لازم رہنا۔

ہمیشہ ثابت رہنا۔ بلیتہ - گھر میں رہنا اور گھر سے جدا نہ ہونا۔

المال - مال واجب ہونا۔ العَرِيمُ و بے قرصن دار کو چھوٹے رہنا۔ الأَمْرُ

حکم واجب ہونا۔ كَذَا عِن كَذَا - لازم آنا۔ نتیجہ نکلنا۔ كَذَا مَا جُدَا

كِرْنَا - مہمیز کرنا۔

لِزَامَةً لِزَامًا وَمَا وَصَلًا زَمَةً - ہمیشہ ساتھ رہنا۔

الزَّوْمَةُ الزَّوَامَا - الشَّيْءُ - لازم کرنا۔ ہمیشہ رکھنا۔ ہ المال والعمل او

بالمال والعمل - واجب کرنا۔

الْمُتَزَمَةُ - بمعنی لازمہ۔ فلَانًا - گردن پکڑنا۔ المال او العمل اپنے اوپر

واجب کر لینا۔ القَرِيْبَةُ او العَشْرَةُ غَيْرِهَا - مال گذاری و عشرہ وغیرہ کا

ضامن ہونا۔

اِسْتَلْزَمَ - الشَّيْءُ - ضروری سمجھنا۔ ضروری کرنا۔

اللِّزَاؤُ - م - موت حساب فیصلہ

بہت چٹنے والا (وَاللِّزْمُ) فیصلہ کرنے والا۔

لِزَاؤُ - لگانا پیوستہ۔ اللِّزْمَةُ - جدا نہ ہونے والا۔ چھپانے

والا۔

اللِّزُوْمِيَّةُ - لِيْزَمَ كَا اسْم - اللِّاْزِم - نا - مونث - لاْزِمَةٌ - ج

كُوَاْزِمٌ - ضروری۔ صارا لَشْيْءٌ ضروریہ لازم۔ یہ چیز ضروری ہوگئی۔

المِلْزَمَةُ وَالْمِلْزَمُ - لُكْرِي يَالُو هِے كَا تُسْكِنُه - ج - طازم۔

المَلْزُومُ - لازم کیا ہوا۔

لَزِن (ن) كَزِنًا وَّلِزْنًا وَّلِزْنًا وَّلِزَانًا وَّلِزَانًا - لَزِنًا وَّلِزَانًا - القوم - لوگوں کا بھیڑ

کرنا جھمکھا کرنا۔ المَلْذَنُ - مہم - سغتی - عیش لَزْنٌ - تنگ

زندگی۔ مکان لَزْنٌ - وِلْزِنٌ وَّلِزُونٌ بھیڑ والی جگہ۔

الْمَلْزُومَةُ وَالْمَلْزُومَةُ - سغتی مصیبت والی رات لَزْنٌ - زمان لَزْنٌ - سخت

زمانہ۔

لَسَقَ (ن) لَسَاً - پیالہ چاٹنا۔ کھانا چرنا۔ أَلَسَ - المكان - کسی جگہ کا شروع سبزہ

اگانا۔

المُلْسَاؤُ وَالْمُلْسَاؤُ - ایک کھردری گھاس۔

المُلْسُ - ماہر۔ ہوشیار اونٹ والے۔ لَسِبْتُهُ (منا) لَسَاً الحِجْتَةُ - سانپ کا دنا

لسبہ بالسوط - کورے سے مارنا۔ ہ بلسانہ سخت سخت کہنا۔

لَسِبَ (س) آتًا - بہ چپکنا۔ العسل - شہد چاٹنا۔

الْأَسْبُ - الحِجْتَةُ فلَانًا - سانپ سے ڈسوانا رجلٌ لَسَابَةٌ - لوگوں پر طعن و تشنیع

کرنے والا آدمی۔

المَلْسُوبُ وَاللَّسُوبُ - لَسَدَ (س) لَسَدًا وَّلِسَدًا لَسَدًا

الاناء - برتن چاٹنا۔ العسل - شہد چاٹنا

أَمْرٌ - مال کا تمام دورہ بی لینا۔

لَسَعَهُ (ف) لَسَعًا - دُسنًا - لعفن کے نزدیک دُنگ سے دُسنے کے لیے لَسَعٌ ہے۔

اور منہ سے دُسنے کے لیے لَدَغٌ - لَسَعْتُهُ بلسانہ - کسی کو زبان دبات سے تکلیف پہنچانا۔ دُكْرٌ دِينًا - لَسَعٌ فِي الارض

زمین میں سفر کرنا۔ أَلْسَعٌ - فلَانًا عَقْرَبًا - بچھوسے ڈسوانا۔

بِين القوم - قوم میں اختلاف ڈوانا۔ بھوٹ ڈالنا۔

لَسِيعٌ - الرجل - خانہ نشین ہونا۔ المَلْسَاعُ وَالْمَلْسَعَةُ - باتوں سے دُكْرٌ

ہونے والا۔ المَلْسِيعُ - دُسا ہوا۔ ج لَسَعِي وَّلِسَعَاءُ -

المَلْسُوعُ - بہت سے شکاف۔ المَلْسُوعُ - ماہر رہبر۔

المَلْسَعَةُ - گھر پر ہی رہنے والا۔ المَلْسَعَةُ - مقیم گروہ۔

لَسِقَ (س) لَسِقًا وَّلَسِقًا وَّلَسِقًا وَّلَسِقًا - چپکنا۔

المَلْسِقُ - مقبلی۔ منہ بولا۔ بیبا۔ لَسَمَ (ن) لَسَمًا - چکھنا۔

لَسَمَ (س) لَسَمًا - بول نہ سکا۔ جیا کی وجہ سے چپ رہنا۔

لَسَمًا لَسَمًا - لازم ہونا۔ أَلْسَمٌ - کلام سمجھنا۔ کلام سکھانا۔

الطَّرِيقُ - راستہ اختیار کرنا۔ أَلْسَمٌ وَاِسْتَلْسَمَ الشَّيْءُ - جز طلب کرنا

لَسِقَ (س) لَسَمًا - فصیح و بلیغ ہونا۔ خوش بیان ہونا۔

لَسَقَ (ن) لَسَمًا - فلَانًا کسی سے ہنرمیان والا ہونا۔ برائی سے یاد کرنا۔ گفتگو میں

<p>التَّصَبُّبُ - الشيء تنكب هوذا - اللُّصْبُ وادي كاتنگ عتہ - پہاڑ کی چوٹی - گھائی - ج لَصُوبٌ و لَصَابٌ - اللُّصْبُ - بخیل - تنگ اخلاق والا - اللُّوَصِبُ - تنگ گروے - کنوئیں - اللُّصْتُ - چور - لَصُوتٌ - لَصَعٌ - لَصُوغًا - الجلد - جلد کا بڈی پر خشک ہونا - لَصَفَ (ر) لَصْفًا - الجلد - چمڑے کا بڈی پر خشک ہو کر چمٹنا - لَصَفَ لَصْفًا - البحارة - پتھر کو ترتیب سے جوڑنا - لَصْفًا و لَصِيفًا و لَصُوفًا لونہ - رنگ چکنا - لَصِقَ لَصِقًا و لَصُوقًا و التَّسِقُ - باشی چپکنا - چمٹنا - الصَّقُ - الشيء بالشيء - چپکانا - اللِّصْقُ و اللِّصِيقُ - نزدیک رہنے والا - ساتھی - ہو لَصِقِي و لَصِيقِي و لَصِيقِي وُه میرے پہلو کے ساتھ رہتا ہے - اللُّصُوقُ - زخم پر چمکاتے جانے والا مرہم عضو پر بندھنے کی پٹی - المُلَصَّقُ - مفع متبني - منہ بولا بیٹا - مُونْتٌ - مُلَصَّقَةٌ - لَصَلَصَ - اَلْوَتْدُ و نَحْوُهُ - مینج وغیرہ کو نکلنے کے لیے بلانا - لَصَا يَلْصُقُ لَصُوقًا - المرأة - عورت پر تہمت لگانا - گالی دینا - لَصِيَ يَلْصِي لَصِيًا و لَصِيَ يَلْصِي لَصِيًا ایہ - تہمت یا تنگ کی وجہ سے ملنا - لَصَا لَصِيًا - عیب لگانا - لَصِيَ الرجلُ - گنہگار ہونا - اللِّصَاةُ - عیب - لَصَلَصَ لَصَلَصَةً - دائیں بائیں بہت دیکھنا - اللِّصْلَاصُ - رہنمائی میں ماہر -</p>	<p>المَلْسُونُ - جھوٹا - لَسًا يَلْسُو لَسْوًا - فقور اٹھانا - لَسْتُهُ (ن) لَسْوًا - دھتکارنا - اللُّسُ ماش - سِمَاقٌ - لَسَلَسَ - ڈر سے بے قرار ہونا - اللُّسَلَسُ - ڈر سے بے قرار ہونے والا - لَسًا يَلْسُو لَسْوًا - خسیس ہونا - زبوں ہونا - لَأَشْيٌ مَلَا شَاةً - الشيء - معدوم کرنا - تَلَا شَيْءٌ تَلَا شَيْئًا - الشيء - معدوم ہونا - نیست ہونا - التَّلَاثِي - اضمحلال - لَصَّ (ر) لَصًّا و لَصَا و لَصُومِيَّةً و لَصُومِيَّةً - چور ہونا - لَصَّ (ن) لَصًّا - الباب - دروازہ بند کرنا - الشيء پُرَانًا - پوشیدہ طریقہ سے کرنا - لَصَصَ - البَيَانُ - عمارت مضبوط کرنا - تَلَصَصَ پور ہونا - چوروں سے اخلاق والا ہونا - التَّنَقُّ - الشيء به - چمٹنا - اللَّصُّ و اللَّصِقُ و اللَّصْقُ - چور - ج - لَصُومٌ و اللَّصَامُ و لَصِصَةٌ و لَصَا و مُونْتٌ لَصَّةٌ و لَصَاتٌ و لَصَائِصٌ - اللَّصَصُ - مع - کندھوں کی یادانتوں کی آپس کی نزدیکی - اللَّلا لَصُّ - نزدیک دانتوں یا کندھوں والا اللَّصَاةُ - مُونْتٌ - الأَلَصُّ - تنگ پیشانی آگے پیچھے سینگوں والی بکری - ج لَصَّ المَلَقَّةُ - بہت چوروں والی زمین - لَصِبٌ (ر) لَصِبًا - الجلد بالجم دُبے پن کی وجہ سے چمڑے کا بڈی سے لگ جانا - الخاتم في الإصبع - انگوٹھی کا انگلی میں تنگ ہونا - السيف في العنق - تلوار کا میان میں چمٹ جانا -</p>	<p>غالب آنا - لَسْتَةُ العَرَبُ - بچھو کا ڈسنا - (و لَسَنَ) الشيء - چیز کو زبان کی طرح نوک دار بنانا - لَأَسَنٌ مَلَأَسَنَةٌ - الرجل - جھگڑے یا باتوں میں کسی پر غلبہ پانا - المَسَنَ - فلاناً قولاً و در سائے بات یا چمٹی کسی تنگ پہنچانا - تَلَسَّنَ - على فلان - کسی پر جھوٹ بولنا - افترا کرنا - الجمر - چنگاری کا بھڑکنا - اللِّسَنُ - زبان - نعت - کلام - اللِّسَنُ - فصاحت - اللِّسَانُ - زبان (مذکر مونث) و السِّنَّةُ و السُّنُّ و لُسُنٌ و لِسَانَاتٌ - نعت - خط - رُتْعَةٌ - لِسَانُ العَرَبِ لِسَانُ القوم - قوم کا نمائندہ - لِسَانُ الحَالِ - زبان حال یا ظاہری حالت سے جو کیفیت معلوم ہو - لِسَانُ العِدْقِ - اچھی شہرت - لِسَانُ المِيزَانِ - ترازو کا وہ حصہ جو تولتے وقت ہاتھ میں رہتا ہے - لِسَانُ النَّارِ - آگ کا شعلہ - حُرُوفٌ لِسَانِيَّةٌ - رز میں شش ص ص ض - فلاں ذو لِسَانِيْنٍ - فلاں منافق ہے - دغا باز و فریبی ہے - اللِّسِينُ - زبان کی شکل والا - (و اللِّسِنُ) خوش بیان - فصیح - مُونْتٌ لَسْنَاءُ و لَسْنٌ - المُلْسِينُ - نا - فصیح - بہت بولنے والا - المَلْسِينُ - وہ پتھر جو دروازے کے اوپر شکار کے لیے لٹکاتے ہیں - المُلْسِنُ - مفع - زبان کی طرح نوک دار بنایا ہوا - المَلْسِينُ - نا - فکر و حیرانی میں زبان کو چبانے والا -</p>
---	--	--

لَضْمَةً (ض) اَضْمًا - سختی کرنا - اصرار کرنا -
اَضْمًا يَلْضُمُونَ لَضْوًا - الرجل - اچھا رہتا ہونا -
لَطَّ (ض) لَطًّا - الباب - دروازہ بند کرنا -
الشيءُ جِيبَانًا - الشترُ پردہ لگانا -
الزَّيْبُ حَقْفَةٌ وَضَمْنٌ حَقْفَةٌ كَسَى كَسَى حَقْفًا
انکار کرنا - غنہ وغنہ الجبَر - کسی سے شہر
چھپانا - بالامرِ لازم ہونا - الشيءُ بَكْزًا -
پیکانہ - نشت الناقۃ بذنبہا - اونٹنی کا
درتے دنتے - دُم کو رانوں میں دبانا -
لَطَّهَ (ن) لَطًّا - بالعصا - لاٹھی سے مارنا
الطَّ - عليه الامرُ جِيبَانًا - الرجل جھگڑے
یا کام میں سخت ہونا - الغريمُ حق روگنا -
فلانًا - مدد کرنا -

الطَّ - بالحجاب - پردہ چھوڑنا - (وَتَلَطَّطَ)
حق فلانٍ - کسی کے حق سے انکار
کرنا -

التَّطَّ - جھپنا - الشيءُ جِيبَانًا - التَّنْطَ
بالسک - خشک میں لٹھوٹنا -
الطَّط - مم - ہار یا خنظل کے سُرخ دانوں
کی مالا - ج لَطَّاطٌ -
الطَّط - خصم -

الطَّط - قرض کا انکار - دانتوں کا گرنایا
کھایا جانا - چیز کا چھپانا -

الطَّاطُ وَالْمَلَطَّاطُ - پہاڑ کی چوٹی کا
کنارہ - پہاڑ کا پہلو -

الطَّاط - وادی کا کنارہ -

الطَّاطُ وَالْمَلَطَّاطُ - خبیث - بدعاش -

الْأَلَطُّ - وہ جس کے دانت گر گئے ہوں
یا کھائے گئے ہوں اور صرف جڑیں

باقی ہوں -

الْمَلَطَّاطُ - سندر کا ساحل - غام شاہراہ

گھر کا صحن - بیٹے کی کرنی - بیلن - چکی

یا ہتھوڑکی - دماغ تک پہنچنے والا زخم

وادی کا کنارہ -

المَلَطَّوطُ - مغم - اونٹنی کی ہوتی ڈھال -

لَطَّارَاتُ لُطُوًا وَلِطِيٌّ (س) لَطَّارٌ زَمِينٌ
سے چھینا - كَطَّاهُ بالعصا - پیٹھ پر
لاٹھی مارنا -

الْمَلَّاطِيَّةُ - اچھانہ ہونے والا چھوڑا -
دماغ تک پہنچنے والا زخم - چھوٹی
لُطِيٌّ جو سر سے چپکی ہوئی ہو -

الْمَلَّاطُ وَالْمَلَّاطَاةُ - سر کی بڈی اور اس کے
گوشت کے درمیان کا باریک پردہ -

لَطَّطَهُ (ن) لَطَّطًا - چوڑی چیز سے مارنا -

تَقَطَّرَ مَارِنًا - ہجرت پتھر مارنا - لَطَّطَ الشَّيْءُ

جمع کرنا - الشيءُ خَرَّابٌ ہونا - ہ الامرُ

کسی پر - کوئی کام مشکل ہونا -

مَلَّاطُطٌ - المونج - موہوں کا ٹکرانا - القوم

ہاتھوں سے ایک دوسرے کو مارنا -

المَلَّاطُطُ - جسم کے ضرب رسیدہ ہونے -

لَطَّحَهُ (ن) لَطَّحًا - تَقَطَّرَ مَارِنًا - لَطَّحَ بِهِ

زمین پر پسیدینا -

لَطَّعَ (ن) لَطَّعًا - الشيءُ بالمداد و غيره -

آلودہ کرنا - تَقَطَّرَ مَارِنًا

المَلَّطُخُ - مم - تَقَطَّرَ حَسَنَةً - المَلَّطُخُ - گندی

غذا کھانے والا -

المَلَّطُوحُ - جس سے چیز آلودہ کی جاتے -

المَلَّطُحَةُ - ج - لَطَّحَاتٌ وَالمَلَّطُوحُ - احمق

بے ذوق -

لَطَّسَهُ (ن) لَطَّسًا - طمانجہ ارنہ - چوڑی

چیز سے مارنا - باریک پینا ہجرت پتھر

مارنا - الشيءُ سَمَّيْتُ رَوْدَانًا - الحَجْرُ بِالْحَجْرِ

پتھر کو پتھر سے مارنا -

لَطَّسَهُ مَلَّاسًا - تَقَطَّرَ مَارِنًا - آلودہ ہونا -

تَلَّاسُطٌ - المونج - لوں کا آپس میں ٹکرانا -

المَلَّاسُطُ - ج - مَلَّاسٌ وَالمَلَّاسُطُ

ج - مَلَّاسٌ - گھٹی کو ٹھنکے کا پتھر -

پتھر توڑنے کا ہتھیار - اونٹ کی تلی -

لَطَّعَ (ن) لَطَّعًا - لَطَّعًا - الشيءُ بلسانہ

زبان سے چاٹنا - فلانًا پیچھے سے لات

مارنا - لَطَّعَ الغرض - نشانہ پر مارنا -
فلانًا بالعصا لاٹھی مارنا - عَيْنُهُ - آنکھ
پر تھپڑ مارنا - الكعبُ والذئبُ الماءُ
گتے یا بھیرے سے پانی پینا - اسمہ - نام
کو دیوان سے مٹانا - دیوان میں نام لکھنا
لَطَّعَتِ البئرُ - کنوئیں کا پانی خشک ہونا
لَطَّعَ اصْبًا - مر لیا -

لَطَّعَ (س) لَطَّعًا - دانتوں کا گرنے اور صرف

ان کی جڑوں کا باقی رہنا - سفت راطع

مَلَّطَعَتِ - الابلُ - اونٹ کے دانت بسبب

بڑھاپے کے گر جانا -

الْمَلَّطَعُ - برتن یا حوض کا سب پانی پی جانا

الشيءُ جِيبَانًا -

المَلَّطَعُ - مم - تالوج الطارح -

المَلَّطَعَاءُ - مونٹ - الالطع - لاغر -

لَطَّعَ -

المَلَّطَعُ - مم - ہونٹ کے اندر لی سفیدی -

المَلَّطَاخُ - کھانے کے بعد انکیا اں چاٹنے

والا -

لَطَّفَ (ن) لَطْفًا - بغدان و بغدان - مہربانی

کرنا - الشَّيْءُ قَرِيبٌ هُونًا -

لَطَّفَ (ن) لَطْفًا وَلَطْفًا - چھوٹا ہونا

باریک ہونا - صفت اللطيف - کلام

کلام کا نرم ہونا -

لَطَّفَ - الشيءُ - نرم بنانا - لطيف بنانا -

لَطَّفَ لَطْفًا - نرمی کا برتاؤ کرنا - نرم

بات کرنا -

الطَّفُ السُّوَالُ - اچھی طرح سوال کرنا -

نرمی سے سوال کرنا - ہ بکذا - تحفہ دینا

مہربانی کرنا -

تَلَطَّفَ - خاکساری کرنا - بہ جیلہ کر کے عیدوں

کو معلوم کرنا - الامرُ دُنَى الامرِ - نرمی برتنا -

تَلَطَّفَ - القوم - آپس میں میل ملاپ کرنا -

نرمی کا برتاؤ کرنا -

اَسْتَلْطَفَهُ - لطیف پانا چمانا۔

اللُّطْف - احسان - تحفہ - مہربانی۔

تَقَوُّرًا كَهَانَ - ج - الطَّافُ - بھولاء
الطَّافُ فُلَانٌ - یہ فلاں کے دوست و
رشتہ دار ہیں۔

اللُّطْفَةُ - تحفہ - ہدیہ - اللُّطْفُ - مہم۔

مِنَ اللّٰهِ - توفیق و حفاظت الہی - ج

الطَّافُ - اللطیف - باریک - پاکیزہ

نرم - مہربان - ج - لَطَانٌ و لَطْنَاءٌ

اللطیف - اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ

میں سے ہے - یعنی بندوں پر احسان

کرنے والا - باریک سے باریک بات

کا جاننے والا - اللطیف من الکلام ایسا

کلام جس کے معنی مخفی ہوں - من الالہام

نازک جسم -

اللُّطَّافُ - بہت نرمی برتنے والا۔

اللُّطِيفَةُ - موت - اللطیف - نفس میں

انبساط پیدا کرنے والا نکتہ - ج لَطُفٌ -

اللُّوْاطِفُ - من الاضداد - سینہ سے ملی

ہوتی پسلیاں -

اللُّطْفَانُ - مہربان - نرمی کرنے والا۔

لَطْمُهُ (ف) لَطْمًا - تھپڑ مارنا - ہ بکذا

چپکانا۔

لَطْمٌ - الفرس - گھوڑے کا ایک رخسارے

پر سفید داغ والا ہونا - صفت (لطیم)

(مذکر مؤنث) ج - لَطْمٌ و لَطِيمٌ الرجل -

ظلم کیا جانا۔

لَطْمَةٌ - زور سے تھپڑ مارنا - لَطْمٌ الْكِتَابُ

خط پر نمر لگانا۔

لَا طَمَةَ لَطَامًا و مَلَا طَمَةً - ایک دوسرے

کے تھپڑ مارنا - تھپڑ مارنا۔

تَلَطَّمَ و جَبَّ - چہرے کا خاکستری رنگ کا ہونا۔

تَلَا طَمْتٌ و التَّلَطُّتُ - الامواج موجوں

اور لہروں کا آپس میں ٹکراتا - القوم

ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔

اللُّطْمَةُ - تھپڑ - ج لَطْمَاتٌ -

اللُّطِيمُ - تھپڑ مارا ہوا - ایک رخسار پر

سفیدی والا گھوڑا - گھوڑ روڑ - کالواں

گھوڑا - مشک - تراونٹ - وہ لڑکا

جس کے ماں باپ مر گئے ہوں۔

اللُّطِيْمَةُ - مشک - نافہ مشک - عطاروں

کا بازار - ج - لَطِيمٌ -

المَلَطَمُ - رخسارہ - المَلَطَمُ - بچوانے

کا پڑھ۔

المَلَطَمُ - وہ جگہ جہاں سمندر کی موجیں

ٹوٹیں۔

المَلَطَمُ - مفع - لیتیم۔

لَطًا يَلِطُو لَطْوًا - بارش وغیرہ سے کسی

غار یا چٹان میں پناہ لینا۔

لَطِيٌّ يَلِطِي لَطِيًّا - الرِّمْلُ زَمِينٌ مِّنْ جَدْنَا -

لَطِيٌّ (س) لَطِيٌّ - الرجل - جو جھل کرنا - فحاشا

بذاتک - کسی چیز کے متعلق گمان کرنا۔

تَلَقَّى تَلَقًّا - علی العدد - دشمن کی غفلت

کا انتظار کرنا۔

اللُّطَاةُ - زمین - جگہ - پیشانی - یا پیشانی

کا وسط - لَطَاةُ الرَّجُلِ - آدمی کا سامان

و اسباب - القی بطایرہ - اُس نے اپنا

بوجھ اتار دیا۔

اللُّطَاظُ - قریب کے چور۔

المِلْطِيُّ و المِلْطَاةُ - باریک جھلی جو سر کی ہڈی

اور گوشت کے درمیان ہوتی ہے۔

لَبَّطَهُ (ن) لَطًّا و لَطِيًّا - لازم ہونا - ادارہ

کرنا - لَبَّطَهُ لَطًّا و لَطِيًّا -

لَا طَمَةَ لَطَامًا و مَلَا طَمَةً - فی الحرب اصرار

کرنا۔

الظُّ - اصرار کرنا - المرط - بارش کا لگنا

تار برسننا - بالمكان - اقامت کرنا - باشئ

چمٹے رہنا۔

تَلَاظُ القوم فی الحرب - لڑائی میں ایک

دوسرے کو مٹانا۔

تَلَطَّطَتْ تَلَطُّطًا - الجئته - ساپ کا

سخت غصہ سے سر ہلانا۔

اللَّفْظُ - مہم - سخت بیعت المِلْمَةُ -

و المِلْمَاةُ - اصرار کرنے والا۔

اللُّظَاءُ - تقویٰ چیز۔

لَطِيْتُ تَلَطُّطِي لَطِيًّا - النار - آگ کا بھڑکانا

لَطِيُّ تَلَطُّطِيَّةٌ - النار - آگ کا بھڑکانا۔

تَلَطَّفٌ و التَّلَطُّتُ - النار - آگ کا بھڑکانا

غصہ سے جل اٹھنا۔

اللُّطِيٌّ - مہم آگ یا اس کی بھڑک - لَطِيٌّ (س) لَطِيٌّ

دورخ۔

الْعَ - زمین کا ابتدائی رویدگی والی ہونا۔

تَلَقَّى - اللعاع - ابتدائی کھانا۔

ابتدائی رویدگی - جمع کرنا۔

اللُّعَاعُ - ابتدائی واحد لعاعة

اور اسی سے ہے الدنیا لعاعة یعنی

دنیا ابتدائی رویدگی کی طرح ہے۔

جس کو بقا نہیں۔

اللُّعَاعَةُ - کاسنی - ارزانی سال - دنیا

ایک گھونٹ - لعاعة الاناء برتن کا

خالص حصہ - ج - لعاع -

اللُّعَاعَةُ - بہ تکلف سرنکالتے والے۔

اللُّعَاعَةُ - پاک دامن خوبصورت عورت۔

لَعِبٌ و لَعِيْبٌ (س) لَعِبًا - الصبى - بچے

کے منہ سے رال پکنا۔

لَعِبٌ (س) لَعِبًا و لَعِيْبًا و لَعِيْبًا و لَعِيْبًا

کھیلنا - مزاح کرنا - لذت و تفریح کی

خاطر کوئی نفل کرنا - ایسا فعل کرنا جس

پر کوئی فائدہ مرتب نہ ہو - بکذا - کھیل

کی چیز بنانا - فی الامر - کام کو حقیر جاننا۔

لَعِبَتِ الرِّبَاةُ بِالذِّبَارِ مَكْمَرًا و لَعِبَتِ

کھیل میں - یعنی ہواؤں نے گھر کو خراب

کر دیا۔

لَعِبٌ - معنی لعبت - اللعب معنی لعب

ہ - کھلانا - یا کھیل کی چیز لانا - الصبى

لَعَطَ (ف) لَعَطًا - جلدی چلنا۔ اونٹوں کا
مکانوں کے ارد گرد چرنا۔ گردن پر
داغنا۔ شعروں میں بھوکرنا۔ تیر مارنا
یا نظر لگانا۔ حق میں ٹال مٹول کرنا۔
جانور کا نباتات چرنا۔
الْعَطَّ - الرجل - پہاڑ کے دامن میں چلنا۔
اللَّعَطُ - سم واحد الالعاط کالے یا زرد
خطوط جو عورت اپنے چہرے پر ڈالتی
ہے۔

اللُّعْطُ - پہاڑ یا دیوار کا پہلو۔ پہاڑ کا دامن
ج العاط -
اللُّعْطَةُ - بد نظری۔ بھیر کی گردن کا سیاہ
داغ۔ شکرے کے چہرے کی تیرگی۔
اللُّعْطَاءُ - گردن پر سیاہ داغ رکھنے والی
بکری۔

المُّلْعَطُ - گھروں کے ارد گرد کی چراگاہ۔
ج - مَلْعَطُ -

الْعَفَّ وَتَلَعَّفَ - دہک کر بیٹھنا۔ اونٹ
یا شیر کا بار بار آنکھ کھولنا۔ بند کرنا۔ شیر
کا غصہ میں آکر حملہ کے لیے تیار ہونا۔
لَعِقَ (س) لَعَقًا وَكُعْفَةً وَكُعْفَةً - العسل
د بخورہ۔ شہد وغیرہ کو زبان یا انگلی سے
چاٹنا۔ صفت (لا عقی) ج لَعَقَةٌ "لَعِقَ
فَإِنَّ إِصْبَعَهُ" فلاں مر گیا۔

الْعَقَّ وَلَعَقَ - فلانا العسل - شہد چٹانا۔
العنق النساج الثوب - ہلکے سوت کا
کپڑا بننا۔

التَّحَقَّ - لَوْنُهُ زَنْجٌ بَدِنًا -
اللُّعْقَةُ - دم۔ سبز چراگاہ کا بقیہ حصہ۔
اللُّعْقَةُ - دم چھپ بھر۔ کتے میں رُجُلٌ وَتَقَى
لَعَقٌ - حرلیں آدمی۔

المُّعَاقُ - چائی ہوئی چیز کا منہ میں بقیہ جتہ۔
اللُّعُوقُ - چٹنی۔ چاٹنے کی چیز۔ ٹھوڑا
توشہ۔

المُنْعَقَةُ - حچہ۔ فاشق۔ ج - مَلْعَقُ -

سوچنا۔ ہٹ جانا۔
لَعَجَ (ف) لَعَجًا - الضرب فلتاناً - چوٹ کا
تکلیف دینا اور سوزش پیدا کرنا۔
الشيء في صدره كهلننا - الحب او الحزن
قبضہ محبت یا غم کا کسی کے دل کو جلانا۔
لَأَعَجَهُ - مَلَأَعَجَهُ - الامر سخت ہونا۔
الْعَجَ - آگ جلانا۔
اللاجج - فاجدانے والی محبت۔ ج -
لَوَاعِجُ -

اللُّعَجُ - برجانے والی چیز۔ چوٹ کی تکلیف
جلن۔

اللُّعْذَمَ - في الامر - سُستى کرنا - تَلْعَذَمَ
عن الكلام - حیرانی سے متروک ہونا۔
تَلْعَذَمْنَا شَيْئًا - ہم نے کچھ نہیں کھایا۔
اللُّعْذَمِيُّ - حرلیں۔

لَعَزَا (ف) لَعَزًا - ہٹانا۔ مکا مارنا۔
لِعَزَبِ الناقة ففعلها - اونٹنی کا بچہ
کو چاٹنا۔

لَعَسَهُ (ف) لَعَسًا - دانتوں سے کاٹنا۔
لِعَسَ (س) لَعَسًا - سیاہی مائل۔ سُرخ
اونٹ وال ہونا۔ صفت (العس) نوث
لَعَسَاءُ - ج لُعَسٌ - اللُّعْسَةُ - سیاہی
مائل۔ سُرخ رنگ۔ مازقت لُعُوسًا
میں نے کچھ نہیں چکھا۔

اللُّعُوسُ - ٹھوڑا کھانے والا۔ کھانے کا
حرلیں۔ بھیر یا۔ ج - لَعَادُوسُ -
اللُّعْسُ - من النبات - گنجان پودہ۔
الْمُتَاعِسُ - من الرجال - بہت کھاؤ۔

تَلْعَسَمَ - في امره - دیر لگانا۔
لِعَصَ (س) لَعَصًا - الامر - کام کا دشوار
ہونا۔ الرَّجُلُ - في الاكل او الشرب
کھانے پینے میں بہت حرلیں ہونا۔

صفت (لِعَصُ)
تَلْعَصَ - علينا - سختی کرنا۔ بہت مشکل ہونا۔
کھانے پینے میں حرلیں ہونا۔

کھانے پینے میں حرلیں ہونا۔

رال ٹپکانا۔
كَأَعْبَهُ مَلَاعِبَةً - آپس میں کھیلنا۔
تَلَاعِبَ وَتَلَعَّبَ - بمعنی لعب۔
اسْتَلْعَبْتِ - النخلة - پھل باقی رہتے
ہوتے دوبارہ شگوفہ نکالنا۔
اللُّعْبَةُ - کھیل۔ کھیل کی نوبت دوبارہ
جس سے کھیلا جائے۔ مثلاً شطرنج
وغیرہ۔ بے وقتوں جس سے سفری کی
جائے۔ ج - لُعْبٌ

الْأَلْعُوبَةُ - کھیل۔
اللُّعَابُ - منہ کی رال۔ لعاب النخل - شہد
لعاب الحبیبہ - سانپ کا زہر۔ لُعَابُ
الشمس - سورج کی کرنیں۔

اللُّعَابِيُّ - منسوب بلعاب۔
اللُّعَابِيَّةُ - پھولوں کا رس۔
اللُّعْبُ - دم۔ کھیلنے والا۔ کھلاڑی۔
اللُّعُوبُ - ناز و انداز والی سینہ۔ ج -
لَوَاعِبٌ وَلُعَابٌ -

اللُّعْبَةُ وَاللُّعَابُ وَاللُّعِيْبُ وَ
التُّلْعَابُ وَالتُّلْعَابُ وَالتُّلْعَابِيَّةُ
والتُّلْعَابِيَّةُ وَالتُّلْعَابُ التُّلْعَابِيَّةُ
والتُّلْعَابِيَّةُ وَالتُّلْعَابِيَّةُ
بُرُاسْمُودُ -

اللُّعَابُ - بازی گر۔ المَلْعَبُ - کھیلنے کی
جگہ۔ ج - مَلْعَبٌ - مَلْعَبُ الرِّيحِ
ہواؤں کی آمد و رفت کی جگہیں "ترک نہانی
مَلْعَبِ الْجَنِّ - میں نے اس کو گم نام جگہ
پر چھوڑا۔

المَلْعَبَةُ وَالمَلْعَبَةُ - بے استین کی
فتیوں جس کو پس کر کے کھیلتے ہیں۔
المَلْعَبُ - کھیل کا ساتھی۔ المَلْعُوبُ
لعاب دہن بہانے والا بچہ۔ ج مَلْعِبٌ

لَعِثَ (س) لَعِثًا - سست ہونا۔ صفت
رَاعِثٌ - مونت۔ لَعِثَاءُ - ج لَعِثٌ
لَعِثُوا وَتَلْعَثُوا - في الامر پس و پیش کرنا۔

لَعِثَ (س) لَعِثًا - سست ہونا۔ صفت
رَاعِثٌ - مونت۔ لَعِثَاءُ - ج لَعِثٌ
لَعِثُوا وَتَلْعَثُوا - في الامر پس و پیش کرنا۔

لَعِثُوا وَتَلْعَثُوا - في الامر پس و پیش کرنا۔

لَعَلَّ - حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع۔ توقع کے معنی دیتا ہے اور خوف کے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ کبھی اس کے شروع سے لام حذف کر کے -عَلَّ بھی کہتے ہیں اور اس پر ما کا ذہب بھی لاتے ہیں جیسے لعننا۔ اس کے معنی ہیں شاید۔ ہو سکتا ہے۔ جب یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی واجب کے ہوتے ہیں۔

لَعْلَع - العظم ونحوہ۔ بڑی وغیرہ توڑنا۔ الرعد۔ بادل کا گرجنا۔ السراب۔ سراب کا چمکنا۔ من الشئ چیز سے تنگ ہونا۔ من الجوع۔ بھوک سے ٹمگین ہونا۔ بالعائر۔ پھینکنے والے سے نغ یا تلغ یا لعا کہنا۔

تَلَعَّع - ٹوٹنا۔ من الجوع۔ بھوک سے پیچ ذباب کھانا۔ الرجل۔ تھکن بیماری سے کمزور ہونا۔ السراب۔ سراب کا چمکنا۔ الکتب۔ کتے کا پیاس کی وجہ سے زبان لٹکانا۔

اللَعْلَع - سراب۔ بھیڑیا۔ ایک حمازی درخت۔

اللَعْلَاعُ - بزدل۔ اللَعْمُ - لعاب۔ لَعْمَطٌ لَعْمَطَةٌ وَلِعْمَاطًا - اللحم گوشت کو بڑی سے نوچنا۔

اللَعْمَطُ وَاللَعْمُوطُ وَاللَعْمُوطَةُ - حریں۔ لَعَامِيَّةٌ وَلَعَامِيَّةٌ -

اللَعْمُوطُ - بن بلایا مہمان۔ رولی پر خدمت کرنے والا۔

لَعْنٌ رَفٌّ، لَعْنًا - فُلَانًا - لعنت کرنا شرمندہ کرنا۔ گالی دینا۔ نیکی سے دور کرنا۔ دھتکارنا۔

لَعْنَةٌ - تَلْعِينًا - عذاب دینا۔ لَاعْنَةٌ لِعَانًا وَمَلَاعِنَةٌ - ایک دوسرے

پر لعنت کرنا۔ المحاکم بینما۔ حاکم کا دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔

تَلَاعَنَ وَالتَّعَنَ - ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔

التَّعَنَ - اپنے آپ پر لعنت کرنا۔

المَلْعَنُ وَاللَّعْنَةُ - لعنت۔ عذاب۔ ج لَعْنَاتٌ دَبْحَانٌ - "أَبِيتَ الْمَلْعُونُ" -

جاہلیت کے زمانے میں بادشاہ کا سلام یعنی اسے بادشاہ تو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے تو طاعت کا مستحق ہو۔

اللَّعَانُ وَاللَّعَانِيَةُ - لعنت۔

اللَّاعِنُ - فَا - أَمْرٌ لَاعِنٌ - باعث لعنت کام کرنا۔

المَلْعَانُ - بہت لعنت کرنے والا۔

المَلْعَنَةُ - جس پر لوگ ہمیشہ لعنت کریں۔

المَلْعَنَةُ - جو لوگوں پر بہت لعنت کرے۔

ج - لُعْنٌ -

المَلْعِينُ - لعنت کیا ہوا۔ بد بخت۔ منحوس

منع کیا ہوا۔ رسوا۔ ہلاک شدہ شیطان

کھیت میں قائم کیا ہوا ڈراوا (دھوکا)

المَلْعَنَةُ - پانخانہ۔ ج - مَلَاعِنٌ (والمَلَاعِنَةُ) وسط راستہ۔

المَلْعُونُ - مغم۔ ج ملاعین۔

تَلَعَّى - العسل - شہد کا گارھا ہونا۔ بادل اکٹھی کرنا۔

اللَعْوُ - بد خلق۔ کینہ۔ حریں۔ ج لَعَاءٌ

اللَعْوَةُ - سرپستان کے ارد گرد کی

سیاہی۔ لَعْوَةُ الجوع - بھوک کی

شدت (واللَعَاةُ) کتیا۔ ج - لَعَاءٌ

وَلَعَوَاتٌ - اللامعی - فَا - بہت ڈرپوک

اللَامِعِيُّ - فَا - بہت ڈرپوک۔

اللَاعِيَةُ - مونث اللامعی - ایک درخت

جس کے زرد رنگ کے خوشبودار پھول ہوتے ہیں۔

اللَعَا - حریں۔ لَامِيٌّ - لَعَالِكٌ - ٹھوکر

کھانے والے کے لیے۔ یعنی خدا تجھے اٹھائے اور کھڑا کرے۔ اور كَالْعَالِكِ

بد دعا کے موقع پر بولتے ہیں۔

الْأَلْعَاءُ - انگلیوں کے پورے۔

لَعَوَى - کام میں تیزی کرنا۔ اللَعْوَى - کم عقل۔

لَعْبٌ رَفٌّ، وَلَعِبٌ رَكٌّ، لَعْبًا وَ

لَعُوبًا وَلُعُوبًا وَلَعِبًا رَسٌّ، لَعْبًا -

بہت تھکنا۔

لَعْبٌ رَفٌّ، لَعْبًا - القوم جھوٹی بات کہنا۔

عَلِيمٌ - فساد ڈالنا۔ الکتب فی الالاء

کننے کا برتن میں منہ ڈالنا۔

لَعِبٌ وَاللَعِبُ ذَلَعِبٌ - السبْرُ فُلَانًا -

بہت تھکانا۔ لَعِبٌ دابنہ۔ جالور پر

بوجھلا کر تھکا دینا۔ تھکا ہوا پانا۔

اللَعِبُ فُلَانًا - تھکانا۔ تلغِبُ الانسان

والحيوان - انسان یا حیوان کو دور بھگا

دینا۔

اللَّاعِبُ - فَا - ضعیف۔ کمزور۔ ج - لَعِبٌ

کہتے ہیں "اتانا ساعبًا - لا عبادة ہمارے

پاس بھوکا تھکا ماندہ آیا۔

اللَّاعِبَةُ - مونث۔ اللَّاعِبُ - ج -

لَوَاعِبٌ -

اللَّعِبُ وَاللَّعُوبُ - ضعیف۔ احمق۔

اللَّعِبُ - کلام فاسد۔

اللَّعِبُ وَاللَّعِبُ وَاللَّعِبُ وَاللَّعِبُ

خراب پر۔

اللَّعَابُ - خراب تر شاہراہ تیز۔

اللَّعَابَةُ وَاللَّعُوبَةُ - کمزوری بے وقوفی

لَعْدَانٌ، لَعْدًا - الابل العواند - اونٹوں

کو سیدھے پرتے پر لانا۔

ه عن كذا - روکنا۔ فُلَانًا - کسی کے لغزور

پر مارنا۔

اللَّعْدُ - ج - اللَّعَادُ وَاللَّعْدُودُ و

اللَّعْدِيدُ - ج - لَعَادِيْدٌ حلق کا

گوشت۔ حلق کا کوا۔ کان کے اندرونی حصہ کا زاید گوشت۔

الْمَتَلِّخِدُ غصّہ سے بھرا ہوا۔

لَغَزَنٌ لَغَزَاً الشَّيْءُ حَيْزٌ كَمَا اس سے

صحیح طریق سے پھیر دینا۔ فی بینه قسم

کھانے میں تلبیس کرنا۔ (روالغز)۔

البکر بوع حجرہ۔ جنگلی پرے کا اپنے

سوراخ کو بیج دار کھودنا۔ لَغَزُوا لَغَزًا

فی الکلام والغز الکلام بیج دار کلام

کرنا۔ غیر واضح کلام کرنا۔

لَاغَزَاً صَلاَحًا زَكَاً۔ پسلی کی طرح کلام

کہنا۔

اللُّغُزُ وَاللُّغُزُ وَاللُّغُزُ۔ جو ہے یا گوہ

کابل۔

اللُّغُزُ وَاللُّغُزُ وَاللُّغُزُ۔ ج الغاز

وَاللُّغُزَاءُ وَاللُّغُزِيُّ وَاللُّغُزُوتَةُ

من الکلام۔ معرہ۔ چیشان۔ پسلی۔

الالغاز۔ بیج دار راستے۔

اللُّغَارُ۔ چغل خور۔ تہمت لگانے والا۔

المُّلُّغُزُ۔ پیچیدہ و مشکل کام۔

لَغَطَرْتُ لَغَطًا وَلَغَطًا وَآ لَغَطًا

وَلَغَطًا۔ القوم۔ شور کرنا۔

لَغَطَرْتُ لَغَطًا وَلَغِيطًا۔ السحام

او انقطاع۔ کبوتر یا بھٹ تیر کا

غوں غوں کرنا۔

اللُّغَطُ۔ مہ۔ دروازے کے آگے کا

صحن۔ (رواللغط)۔ شور۔ آواز۔

ج۔ الغاط۔

لَغِفْتُ (س) لَغْفًا۔ الاناء برتن چاٹنا۔

الادام۔ لقمہ بنانا۔

لَغَفْتُ (ن) لَغْفًا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔

لَاغْفَةُ مَلَغْفَةٌ۔ بوسہ دینا۔ دوستی کرنا۔

الغف۔ تیز دوڑنا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔

چوروں کے ساتھ صحبت رکھنا۔ فلانا

الادام۔ سالن کے لقمے دینا۔ ہ بُرا

معاہدہ کرنا۔ اور ظلم کرنا۔

اللُّغْفَةُ۔ لقمہ۔ اللِّغِيفُ۔ آدمی کے خاص

لوگ۔ چوروں کا ساتھی۔ جوان کے

کپڑوں وغیرہ کی حفاظت کرے۔

مگر چوری میں شرکت نہ کرے۔ ج۔

لُغْفَاءُ۔

اللِّغِيفَةُ۔ ایک قسم کا کھانا۔ المُلَغْفَةُ

چوروں کا گروہ۔

الغلفَةُ۔ کلام میں نکتہ۔

لَعَمَ (ن) لَعْمًا۔ البعیر۔ اونٹ کا جھاگ

ڈالنا۔ ہ۔ منہ چومنا۔ الرجل۔ یقینی خبر

نہ دینا۔ (روالعم) فلانا با لطیب

منہ پر خوشبو لگانا۔

لَعَمَ (س) لَعْمًا وَ لَعْمًا۔ غیر یقینی خبر

دریافت کرنا۔

الْعَمَّ۔ سونے وغیرہ کو پارہ سے ملانا۔

التَّعَمَّ۔ پارہ سے ملنا۔ تَلَعَمَ۔ بالطیب

ناک و منہ پر خوشبو لگانا۔ القوم بالکلام

کلام کرنے میں منہ کے کناروں کو ملانا۔

الغتم بالغبوب بالشراب۔ تر ہونٹوں

والی ہونا۔

المُّعَمَّ۔ قحطی خوشبو۔ زبان کی رگیں۔

المُّغَامُّ۔ اونٹ کے منہ کے جھاگ۔ لعاب

اللغماء۔ سفید منہ کی بکری۔

اللغیم۔ بھید۔ راز۔ الملمغم۔ منہ

ناک اور ان کا گردا گرد۔ ج۔ ملاغم۔

الغاق۔ النبت۔ نباتات کا گنجان و درواز

ہونا۔ الارض۔ بہت گھاس والی ہونا۔

اللغین۔ جوانی کا جوش۔

لَعَا يَلْعُو لَعْوًا۔ بکذا۔ بولنا۔ الشئ باطل

ہونا۔ عن الطريق۔ راستے سے ہٹ

جانا۔

لَعَا يَلْعُو لَعْوًا وَ لَعَا يَلْعُو وَ لَعَا يَلْعُو

لَعَا يَلْعُو لَعْوًا وَ لَعَا يَلْعُو وَ لَعَا يَلْعُو

فی قولہ۔ بے سوچے سمجھے بولنا غلطی کرنا۔

لَعَا يَلْعُو لَعَا يَلْعُو۔ بالامر۔ شوخین ہونا۔ بالماء

بہت پانی پی کر بھی سیر نہ ہونا۔ لازم ہونا

اور حیدر نہ ہونا۔ الطیر یا صواہبہ۔ پرندوں

کا گانا۔ ہم یلعون فی الحساب۔ وہ حساب

میں غلطی کرتے ہیں۔

لَعَا يَلْعُو لَعَا يَلْعُو۔ الرجل۔ مذاق کرنا۔ العنی

الشئ۔ باطل کرنا۔ فلانا۔ محروم کرنا۔

استلغی۔ گفتگو کرنا۔ لغت سنا۔

اللغاء۔ مہ۔ آواز۔ غلطی۔ ردی کلام۔

اللغۃ۔ ہر قوم کا اپنا مصطلح کلام۔ ج۔

لغی و لذات و لغون۔ برائے نسبت

لغوی۔ علم اللغۃ۔ علم معرفت اوضاع

مفردات۔ کتب اللغۃ۔ علم لغت کی

کتابیں۔ اہل اللغۃ۔ فن لغت کے ماہرین

کبھی "علم اللغۃ" سے تمام علوم عربیہ مراد

لیتے ہیں۔

اللغو۔ مہ۔ بے ہودہ کلام وغیرہ۔ کتے کی

آواز۔

اللاغیۃ۔ بے ہودہ کلام وغیرہ۔ کلمہ لاغیہ۔

قیح کلمہ۔

اللغاق۔ آواز۔ اللغوی۔ قحط کا شور۔

بے ہودہ کلام۔

لَعَفَ (ن) لَعْفًا۔ الشئ۔ لپیٹنا۔ ملانا۔ جمع کرنا۔

المیت فی الکفانہ۔ میت کو کفن میں لپیٹنا

الکتبتین۔ لڑائی میں لشکر کے دو دستوں

کو ملانا۔ فی الاکل۔ تمام قسم کی خوراک

ملا لینا۔ الشئ بالشئ۔ چیز کو چیز سے

ملانا۔ جوڑنا۔ حقہ۔ حق روکنا۔

لَعَفْتُ الاشجار۔ درختوں کا گنجان ہونا۔

لَعَفْتُ (س) لَعْفًا وَ لَعْفًا۔ پر گوشت رانوں

والا ہونا۔ صفت (الفت) مونث۔ لَعْفًا

ج۔ لَعْف۔

لَعَفْتُ۔ الصقر الصید۔ شکرے کا شکار پر

جھپٹ پڑنا۔ اور اس کو پاؤں میں دبوچ

لینا۔ لَعَفْنَا القوم۔ ہم قوم سے مل گئے۔

الْفَّ - الطائرُ راسه - پرندہ کا اپنے سر کو بازوؤں میں کر لینا - الرجلُ راسه - جبہ میں سر کو چھپا لینا -
 التَّفُّ وَتَلَفَّتْ - فی ثوبہ - کپڑے میں لپٹنا -
 عليه القوم - قوم کا کسی پر جمع ہونا -
 التَّفُّ الثَّباتُ - گنجان اور گھنا ہونا -
 له على الحق - غضبناک ہو کر لپٹنا - الشئُ
 گنجان ہونا - القوم - آپس میں ملنا -
 اللَّفُّ - معہ - جاؤ وا - بلفهم و بلفهم - وہ
 بے جگے ہوتے لوگوں کے ساتھ آتے -
 اللف - پارٹی - گروہ - جمع شدہ قوم - ادھر
 ادھر سے جمع کیا ہوا - گنجان بارغ - ج -
 انفاف و نفود - کہتے ہیں - جاؤ وا
 ومن لف بلفم - وہ اپنے ہی آدمیوں
 کے ساتھ آتے - رؤسہ لف و لف
 و لفة و لفة و لفاء - گنجان و رختوں
 والا بارغ -
 اللِّفَاقَةُ - لپٹنے کی چیز - دل کے اوپر کی
 چربی - سگریٹ - ج - لفائف -
 اللَّفَف - پٹھے کا مروڑ یا کچھاؤ - زیادہ اور
 ملا جلا کر کھانا -
 اللِّفِيف - جھنڈو دار اور گھنے درخت - مخلوط
 گروہ - ہولیف فلان - وہ فدان دوست
 ہے -
 اللِّفِيف - مجموعہ - اونٹ کی پیٹھ کا گوشت -
 سگریٹ - ج - لفائف -
 الالاف - کلائی کی ایک رنگ صاف گفتگو
 نہ کر سکنے والا - کام میں سست - بے
 ہوتے ابروؤں والا - لوگوں سے بھری
 ہوئی جگہ - مونث - لفافہ - ج - لف -
 التلايف - گنجان گھاس -
 اللف و اللفاف - کبل اور رھنے کی چیز
 لحاف وغیرہ - بجلی کا تار - لپٹی ہوئی سلاخ
 چکر جس پر تار لپٹا جاتے -
 لفان لفان و لفان العود - لکڑی چھیننا -

اللحم عن العظم - بڈی پر سے گوشت
 اتارنا - الريح الشهاب عن وجه الارض -
 ہوا کا بادلوں کو پراگندہ کرنا - فلانا
 عن مرادہ - رد کرنا - ہٹانا - ہ - غیبت
 کرنا - ہ - حقہ - حق سے کم دینا - حق گھٹا
 دینا - حق پورا پورا دینا - (صد) ہ بالعصا
 لاصحی سے مارنا -
 لَفِي رَسْ لَفَاً - الشئُ چیز کا باقی رہنا -
 اَلْفَاً اَلْفَاً - الشئُ چیز کو باقی رکھنا -
 اَلتَّفَاً - العود - لکڑی چھیننا -
 اللَّفَاً - مٹی - تھوڑی چیز - حق سے کم -
 اللِّفِيفَةُ - بغیر بڈی کے گوشت کا ٹکڑا - ج -
 لفايا و لفي -
 لَفَّتْ - (رض) لَفَّتَا - الشئُ چیز کو دائیں بائیں
 موڑنا - ردائہ عن عنقه - چادر کو گردن پر
 موڑنا - الریش علی الشہم - تیر پر پر - کیفنا
 اتفق لگانا - الراعی المسائتہ - چرواہے
 کا مویشی کو بُری طرح مارنا - اللحاء عن
 الشجر - درخت سے چھال اتارنا - الكلام
 لا پر وہی سے گفتگو کرنا -
 لَفَّتْ الشئُ - موڑنا - التَّفَّتْ وَتَلَفَّتْ -
 الیہ - چہرہ پھیرنا - مڑ کر دیکھنا - پروا کرنا
 خیال رکھنا -
 اللِّفْت - شلغم - کسی چیز کا نصف یا پہلو -
 گاتے - بے وقوف عورت -
 اللَّفَّتْ - بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا -
 فی انیس - مینڈھے کے سینگ کی
 خمیدگی -
 اللَّفَات - بے وقوف - سخت خو -
 اللَّفْتة - جانوروں کو ہمیشہ مارنے والا
 چرواہا -
 الالفت - وہ مینڈھا جس کا ایک سینگ
 بیچ دار ہو - مضبوط ہاتھ والا - بائیں ہاتھ
 سے کام کرنے والا - بے وقوف - خمینگا
 مونث - لفافہ - ج - لفٹ -

اللفوت - سخت مزاج - چغل خور عورت
 وہ اونٹنی جو دو دو دوتے وقت بے چین
 ہو - وہ عورت جس کی نظر ایک جگہ نہ
 ٹھہرے -
 اللِّفِيفَةُ - ایک قسم کا گاڑھا حلوا -
 المُنْتَلِفَةُ - کندھے کی بڈی کا اوپری حصہ -
 الففج - مال جاننا رہنا - اور مفلس ہو جانا -
 عم وغیرہ کی وجہ سے زمین سے چھیننا -
 فلانا - محتاج بنانا - مجبور کرنا -
 اللَّفَج - ذلت - المُلْفَج والمُستَلْفَج -
 مفلس - لاغری سے زمین سے چھیننے
 والا -
 لَفَّحَ (رف) لَفَّحَا - فلانا بالسیف - تلوار سے
 مارنا - لَفَّحَتْ (رف) لَفَّحَا و لَفَّحَانَا
 النار او السموم بجرہ - فلانا - آگ یا باد
 سموم کا کسی کے چہرے کو جھلس دینا - نار
 لَفَّوْحٌ و لَفَّوْحٌ - جلدانے والی آگ - ج -
 لَوَافِع -
 اللَّفَاح - ایک قسم کا پودا ہے -
 لَفَّخَهُ (رف) لَفَّخَا - فی او علی راسہ -
 سر پر مارنا -
 لَفَّظَ - (رض) و لَفَّظَ (س) لَفَّظَا - الشئُ و بالشئُ
 عن قہر - منہ سے پھینکنا صفت مفعولی -
 (لفظ و مفعول) الجور و ابته - سمندر کا جانور
 کو کنارہ پر پھینک دینا - فلان نفسہ او
 غضبہ مرنا - جاء و قد لفظ لجامہ یعنی وہ
 پیاس اور تھکن سے چور ہو کر آیا - (لفظ)
 بالکلام - بولنا -
 اللَّفْظ - بولے جانے والے کلمات - کلام -
 ج - الفاظ -
 اللَّفْظَةُ - کلمہ - ج - لفظات -
 اللَّاظِفَةُ - مونث اللاظف - سمندر - چکی
 دنیا -
 لاظفہ - سمندر -
 اللَّفَاط - پھینکا ہوا - اللَّفَاط - سبزی -

اللُّغَاظَةُ - منسے پھینکا ہوا۔ دسترخوان سے
بھاڑا ہوا۔ کسی چیز کا تھوڑا سا بقیہ۔

لُغَاظٌ وَ لُغَاظَاتٌ -

اللُّغِيظَةُ - پھینکی ہوئی۔ چیز۔

لَفَعَ رَأْسَهُ لَفْعًا - الشیب راسہ بالوں کی

سفیدی کا پورے سر کو ڈھانک لینا۔

لَفَعَتِ النَّارُ - اس کو آگ کا شعلہ پہنچ

گیا۔

لَفَعَ - یعنی لفع۔ الغلام۔ جوان کو بغل گیر

کرنا۔ فَنَانٌ - بہت کھانا۔

تَلَفَعَ - سفید سر ہونا۔ تَلَفَعَتِ النَّارُ - آگ

کا بھڑکنا۔ الحَرْبُ بِالشَّرِّ سَبَّهِى كُو

گھیر لینا۔ المال۔ مویشی کو چرنے سے

نفع پہنچنا۔ القوم۔ دشمن کی فوج کو گھیر

لینا اور سب کو موت کے گھاٹ

اُتَارَنَا -

والتَّفَعُّ - الرَّجُلُ - بالثوب والشجر بالوَرَقِ

آدمی کا کپڑے سے اور درخت کا پتوں

سے ڈھکنا۔ التَّفَعَّتِ الارضُ - زمین کا

سبزہ سے ڈھک جانا۔

أَلْتَفَعَ - كَوْنُهُ - رَنُكَ بَدَلْنَا -

الْبِفَاحِ - چادر یا کپل۔ اُونٹنی کے اگلے

نخن۔

الْبِفَاعَةُ وَالْبِفَاعَةُ - کرتے کا پیوند۔

الْمَلْفَعَةُ - چادر۔ کپل وغیرہ۔

لَفَعَ - (رَض) لَفَعًا - الثوب کپڑے کو

دوہرا کر کے سینا۔ الامر کام طلب کرنا

اور نہ پانا۔ الصنْفُ - شکرے کا شکار پر

چھوڑا جانا مگر شکار نہ کرنا۔

لَفَّقَ - الحدیث - کلام کو جھوٹ سے مزین

کرنا۔ الرجل - کام طلب کرنا اور نہ پانا۔

الشَّقِيْتَيْنِ - دونوں سرے ملا کر سینا۔

تَلَفَّقَ بِهِ - جا ملنا۔ ما بنیم۔ درمیان کے

معاملات کا درست ہونا۔

تَلَفَّقَ - القوم - معاملات کا درست ہونا۔

الْبِقُّ - چادر کا ایک پاٹ۔ "بُها لفقان"
وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔

الْبِقَّاقُ - مقصد میں ناکام۔

الْبِقَاقُ - دوسرا جوڑے ہوئے کپڑے۔

ایک دوسرے سے جوڑ کر سیئے ہوتے

کپڑے۔ ان میں ہر ایک کو بقیاق کہتے

ہیں۔

الْبِقِيكُ وَالْأَلْفَاكُ - بے وقوف۔

الْبِقِيكُ - بائیس ہاتھ سے کام

کرنے والا۔

لَقَفَتْ - گفتگو میں در ماندہ ہونا۔ بھلا ہونا

خوب اچھی طرح کھانا۔ فی ثوب کپڑے میں

پہنا۔ تَلَفَفْتُ ثَوْبِي - کپڑے میں لپٹنا۔

الْمَلْفَلْفُ وَالْمَلْفَلْفَاتُ - ضعیف۔ کمزور۔

رَوَّ الْمُتَلَفِّفُ، کلام میں عاجز و در ماندہ۔

لَعَمْتُ - (رَض) لَعَمًا وَ تَلَعَمْتُ وَ تَلَعَمْتُ

المرأة - عورت کا چہرہ پر نقاب ڈالنا۔

تَلَعَمْتُ بَعْمَاتَهُ دُوَيْبِيَّ سَ دُحَانًا بَانِدْهَنَا -

لَقَمْتُ مَضِيوْطًا بَانِدْهَنَا -

لَقَا يَلْفُقُوا لَفْوًا - فلانا حقہ کسی کے حق کو

کم کرنا۔ اللحم عن العظم گوشت کو ہڈی پر

سے چھیلنا۔

أَلْفَا (رَض) الْفَاءُ پانا۔ تَلَا فِي - الامس

تدارک کرنا۔

الْبِقِيَّةُ - گوشت کا ٹکڑا۔ ج - لَقَا يَا -

بِالْبِقَاءِ - مٹی۔ خیس۔ خپیز

التَّلَا فِي - مہ - خون کا بدلہ لینا۔

لَقَى رَأْسًا لَقَاً - آنکھ پر ہاتھ سے مارنا صفت

دَلَاقُ ج - لَقَعَةٌ -

الْبِقُّ بِيْزِيْنِ كِي پھٹن و دراز۔ اوچی زمین۔

بہت باتونی۔ تنگ اور لمبی زمین۔

الْبِقَّةُ - ج - لاق - تنگ منہ کے گڑھے یا

کھائیاں۔ رجلٌ لَقَاقٌ وَ لَقَاقٌ - بہت

باتونی آدمی۔

لَقَبٌ - فلانا کذا۔ لقب رکھنا۔ تَلَقَّبَ -

لقب پاتا۔

تَلَا قَبٌ - القوم - ایک دوسرے کو بُرے

اللقاب سے گالی دینا۔

الْبِقَبُ - اصلی نام کے علاوہ دوسرا نام۔

ج - القاب -

لَقَعَ - (رَض) لَقَعًا - النخل۔ زکھجور کا شکوفہ

مادہ کھجور میں ڈالنا۔ پیوند لگانا۔ قلم لگانا۔

لَقِيحَتُ رَسٍ لَقِيحًا وَ لَقِيحًا وَ لَقِيحًا -

الناتقہ و نحوہا۔ اونٹنی وغیرہ کا حاملہ ہونا۔

صفت راجح و تقوُّح (لَقِيحًا) لڑائی

کا سکون کے بعد بھڑکنا۔ المرأة او النخلة

حاملہ ہونا۔

الْقَح - النخلة پیوند لگانا۔ زکھجور کا شکوفہ

مادہ کھجور میں ڈالنا۔ النخل۔ الناقۃ۔ حاملہ

کرنا۔ کالین کرنا۔ صفت مفعولی (ملقوحتہ)

ج - ملقح - القح بینم شرا۔ فساد ڈالنا۔

تَلَقَّحَتْ - الناقۃ۔ اونٹنی کا بظاہر حاملہ معلوم

ہونا۔ اور درحقیقت نہ ہونا۔ "تلقح زید علی"

زید نے میری طرف ایسے گناہ کی نسبت

کی جس سے میں بُری تھا۔ بیدار گفتگو

میں ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔

التَلَقَّحَتْ - الاٹنی۔ بار دار ہونا۔ حاملہ ہونا۔

استلَقَّحَ - بار دار ہونے کے قریب ہونا۔

الْبِقَاجُ - ج لَقُوْجٌ - مادہ منویہ اللقاج

مہ۔ زکھجور کا شکوفہ جو مادہ کھجور میں

ڈالا جائے۔

الْبِقُّ - مہ۔ حاملہ ہونا۔ الْبِقَّةُ - دودھ

پلانے والی دایہ۔ عقاب۔ کوا۔ ج - لَقَعَ

و لِقَاحٌ -

الْبِقِيحَةُ - نفس۔ ج لِقَاحٌ -

الْبِقِيحَةُ وَالْبِقِيحَةُ - ج لِقَعَ وَ لِقَاحٌ

و اللقوح۔ ج - لِقَاحٌ - لِقَاحٌ -

بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

الدَّقِيحُ - ریح لاریق۔ درختوں کو بار دار کرنے

والی ہوا۔ حاملہ ہونے والی اونٹنی۔ ج -

نگلنا۔ الفرس۔ اگلی دو ٹانگوں سے زور سے روندنا۔

تَلَقَّفَ الشَّيْءَ۔ جدی سے لے لینا۔
الطعام۔ نگلنا۔ الحائط والحوض دیوار یا حوض کا گرننا۔

اللقف۔ ہم۔ کنوئیں یا حوض کا کنارہ۔
ج۔ القاف۔

اللقافة۔ ہوشیاری۔ سہارت۔
اللقف واللقف واللقیف۔
من الرجال۔ پھرتیلا۔ دانا۔

لَقْلَقَ۔ اللقلاق۔ سارس کا آواز نکالنا۔
لَقْلَقَتِ الجبۃ۔ سانپ کا زبان نکالنا۔
لَقْلَقَ الشَّيْءَ۔ چیز کو حرکت دینا۔

تَلَقَّلِقَ الشَّيْءَ۔ ہلنا۔
اللقلق۔ ج۔ لقاقلق واللقلاق۔ سارس۔
اللقلق۔ زبان۔ اللقلاق۔ آواز شور۔

اللقلقة۔ سارس کی آواز۔ حرکت و اضطراب والی آواز۔ حروف یعلقہ۔
ب۔ ج۔ د۔ ط۔ ق۔

لَقَمَ رَجُلًا لَقْمًا۔ طریق وغیرہ۔ راستے کا دہانہ بند کرنا۔

لَقَمَ رَجُلًا لَقْمًا۔ الطعام۔ کھانا جلد ہرپ کر لینا۔

لَقْمَةٌ وَاللَقْمَةُ۔ الطعام۔ لقمہ لقمہ کھانا
اُس نے اُس کو چپ اور خاموش کر دیا۔
تَلَقَّمَ الشَّيْءَ جَدِيًّا سے کھانا۔ المادنی بطنہ

پانی کا پیٹ میں بولنا۔
التقم۔ الطعام نگلنا۔
اللقم واللقم۔ راستے کا بڑا حصہ۔
راستے کا دسط۔

اللُقْمَةُ۔ لُقْمَةٌ۔ ج۔ لقم۔ اللقیم۔
لقمہ۔

التلطاق والتلقاۃ والتلقاۃ والتلقاۃ
والتلقاۃ۔ بڑے بڑے لقمے نگلنے
وال۔ رکتیہ متلقمہ۔ بہت پانی والا

کنواں۔
لَقْنُ رَكَاةٍ لَقَانَةٌ۔ سمجھ دار و عقلمند

ہونا۔
لَقْنُ رَسْمٍ لَقْنًا وَلَقْنَةٌ وَلَقَانَةٌ
وَلَقَانِيَّةٌ وَتَلَقْنٌ۔ الكلام من فلان

کلام سمجھنا۔
لَقْنَةُ الكَلَامِ۔ کلام سمجھانا۔ الكلام جدی
سے حفظ کر لینا۔

اللقن۔ ستون۔ کنارہ۔
اللقانۃ واللقانیۃ۔ تیز فہمی۔
اللقین۔ زود فہم۔ ہو لقت لقم۔ وہ

سمجھ دار سے اور سنی ہوئی بات کو جلد یاد کر لیتا ہے۔
اللقن۔ لکن۔ تانبے یا پتیل کا تھال۔
الذواقین۔ پیٹ کا زیریں حصہ۔

لَقَا يَلْقَوْنَ لِقْوًا۔ لقوے میں مبتلا کرنا۔
لَقِيَ لِقْوًا۔ لقوے میں مبتلا ہونا۔
اللقوة۔ رتہ کے ٹیرھا ہونے کی بیماری۔

(وَاللِقْوَةُ) مادہ عقاب۔ تیز پرواز
عقاب۔ ج۔ لقاء واللقاء۔
الملتقوا۔ لقوے میں مبتلا۔

لَقِيَ يَلْقَى لِقَاءً وَلِقَاءً وَ لِقَايَةً
وَلِقَاءَةً وَ لِقِيًّا وَ لِقِيًّا وَ لِقِيَّةً وَ لِقِيَّةً
لَقِيَ۔ فلاناً۔ استقبال کرنا۔ پانہ دیکھنا۔

ملاقات کرنا۔
لَقِيَ تَلْقِيَةً۔ فلاناً الشئ۔ کوئی چیز کسی

کی طرف پھینکنا۔
الاقی لقاءً وملاقاتاً۔ الرجل۔ آمنے سامنے
آنا۔ بلنا۔ ملاقات کرنا۔

اللقى۔ الشئ الی الارض۔ زمین پر پھینکنا۔
الیہ القول وبالقول۔ بات پہنچنا
علیہ القول۔ بات لکھوانا۔ اہلا کرنا۔
پہنچانا۔ فیہ الشئ لکھنا۔ عنہ الشئ ڈالنا۔
الیہ السمع۔ کان لگانا۔ الیہ خیرا۔ نیک

سلوک کرنا۔ ایبہ بانا۔ پروا کرنا۔
القیۃ الیہ المودۃ وبالمودۃ میں نے اس
سے محبت کی۔
تَلَقَّى۔ الشئ۔ بلنا۔ استقبال کرنا۔ الشئ منہ
سیکھنا۔ تَلَقَّتِ المرأۃ۔ عورت کا حامل
ہونا۔ صفت۔ (متلقی)
التقی۔ الشئ ملنا (وتلاقی) القوم بعض کا
بعض سے ملنا۔ تلاقوا۔ آپس میں جھگڑا
کرنا۔
استنقی۔ علی قفاه۔ چت لینا۔
اللتقی۔ چھٹک ہوئی ردی چیز۔ ج۔ القاد۔
اللقیۃ۔ ملاقات پانا۔ ج۔ لقی۔
اللتقی۔ پرندے۔ درد۔ اللقیاء۔ لقاء کا
اسم۔
التلقاء۔ لقاء کا اسم۔ ملاقات کی جگہ۔
جلس تلقاءہ۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا۔
"فعل الامر من تلقاء نفسه"۔ اس نے
اس کام کو خود بخود کیا۔ بغیر اس کے کہ
کسی نے اس کو مجبور کیا ہو۔
الملقاء۔ راستہ کا بیخ۔
اللتقی۔ بھلائی یا بُرائی کے لیے ملنے والا۔
اس کا اکثر استعمال بُرائی کے لیے ہے۔
سامنے آنے والا۔ موش لقیۃ۔
اللقاء۔ غیر شر کے لیے ملاقات کرنے والا۔
شر کے لیے کثیر الاستعمال ہے۔
اللقیۃ۔ چھستان۔ بھلی۔ ج۔ الاقی۔
الاقاۃ۔ سختیاں۔
اللتقی واللتقی۔ ملنے کی جگہ۔
الملاقی۔ الملتقی کی جمع۔ ملاقی الاجفان۔
پلکوں کے ملنے کی جگہ۔
التلاقی۔ مع۔ یوم التلاقی۔ قیامت کا
دن۔
الملاقی۔ نا۔ اوزان شعر میں ایک بحر کا
نام۔
اللتقی۔ چیز کے ڈالنے کی جگہ۔ قناعہ فلان

ملقی الرجال۔ فلاں کے گھر کا صحن بجا دیا
 کے اترنے کی جگہ ہے۔ یعنی وہ بڑا
 مہمان نواز ہے۔
 الملقى والملقى والملقى۔ خیر وشر کے لیے
 ملاقات کرنے والا۔
 الملقى۔ مصائب سے آزمایا ہوا۔
 لکھ۔ دن لکھا۔ گدی پر مکا مارنا۔ دبانہ۔
 پھینچنا۔ لکھ الموم۔ گوشت کو ہڈی سے
 جدا کرنا۔ الشیء۔ طانا۔ الجلد۔ چمڑا لگانا۔
 التلک۔ الورد۔ گھاٹ پر لوگوں کا بھیر کرنا۔
 فی کلامہ۔ غلطی کرنا۔ فی حجتہ۔ دیر لگانا۔
 اللکاک۔ بھیر۔ سخت گوشت والی اونٹنی۔
 ج۔ لکھ و لکاک۔
 اللک۔ مہ۔ گوشت۔ ایک سرخ رنگ جس
 سے کھال رنگتے ہیں۔ ایک لاکھ۔ ج۔
 الکاک و لکوک۔
 اللک۔ سخت و پُر گوشت۔ اللکۃ۔
 شدت۔ نمکا۔
 اللکاء۔ من الجلود۔ لک سے رنگی ہوئی
 کھال۔
 اللکیک۔ گنجان لشکر۔ سخت گوشت۔
 موٹے سخت گوشت والا۔ تار لک۔
 ایک کمزور درخت۔ ج۔ لکاک۔
 الملکک۔ مضبوط اور سخت گوشت والا۔
 لکھ دن لکھا۔ بالسطو فلانا کسی کو گڑھے
 سے مارنا۔ فلانا۔ بچھاڑنا۔ الازحی
 زمین پر ٹپک دینا۔ الرجل۔ کسی کو اس
 کا پورا حق دینا۔
 لکی دن لکھا۔ بالکان۔ اقامت کرنا۔
 لفلان۔ لازم ہونا۔
 تلکھ تلکھوا۔ علیہ۔ عذر کرنا۔ بہانہ کرنا
 عن الامر۔ دیر لگانا۔
 لکھ دن لکھا۔ البعیر۔ اونٹ کا منہ
 پر پھینسی والا ہونا۔ الوسخ علیہ وہ میل کا
 جم جانا۔

اللکث۔ دودھ کے برتن کے کناروں پر
 جما ہوا میل۔ اونٹ کے منہ کی پھنسیاں
 ناتھ لکھتہ۔ موٹی اونٹنی۔
 اللکاث۔ اونٹ کے منہ پر لی پھنسیاں۔
 چوڑے لمبے سفید چمکے والے پتھر۔
 اللکاث۔ چونا بنانے والا۔
 لکھ دن لکھا۔ مکا مارنا۔
 لکھ دن لکھا۔ ہاتھ سے مارنا۔
 بنانا۔
 لکھ دن لکھا۔ الوسخ علی فلاں و
 ہم۔ لازم ہونا۔ چھٹنا۔
 لکھ۔ انقل۔ طوق سے لگے رہنا۔
 قیدہ۔ بیڑی سے جو بی نہ چل سکتا۔
 فلانا۔ چھٹنا۔ لازم ہونا۔
 تلکھ۔ فلان۔ موٹے گوشت والا ہونا۔
 الشیء۔ چھٹنا۔ یہ اوعلیہ الوسخ۔ میل کا
 جم جانا۔ فلانا۔ گردن میں ہاتھ ڈالنا۔
 اللکید۔ بخیل۔ بدخلق۔ الالکید۔ کینہ
 قوم سے ظاہر ہوا۔
 لکھ دن لکھا۔ مکا مارنا۔ لاکھ دن لکھا۔
 ایک دوسرے کو لگنے سے ملانا۔
 تلکھ دن لکھا۔ ایک دوسرے کو لگنے سے مارنا۔
 اللکاز۔ چیترا۔ جو دھڑے کے سوراخ میں
 اس کو تنگ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔
 اللکیز۔ بخیل۔ الملکوز۔ ذلیل جس کو دروازوں
 پر دھکے دے دیتے جائیں۔
 لکھ دن لکھا۔ مکا مارنا۔
 لکھ دن لکھا۔ العرق۔ پھو کا ڈنسا۔
 لکھ الرجل۔ سخت دست کھانا۔
 الولد۔ دودھ چھوٹنے کے قریب ہونا۔
 تزکتہ۔ بلکھ۔ میں نے اس کو کھاتا پیتا
 چھوڑا۔
 لکھ اس لکھا و لکھا۔ لیم ہونا۔
 بے وقوف ہونا۔ لکھا علیہ الوسخ۔
 چھٹنا۔

اللکاعۃ۔ ایک غار دار پردہ۔ ج۔ لکاع۔
 اللکح۔ پست قد۔
 اللکح۔ لیم۔ غلام۔ چھوٹا بچہ۔ گیسے کا
 بچہ۔ بچہ۔
 اللکوتۃ۔ کینہ عورت۔ گھوڑی۔
 ازلکھ۔ موت لکھا۔ ج۔ لکھ۔ و
 اللکوع و المکیح۔ کینہ۔ وہ گھوڑا
 جس کے دانت گر گئے ہوں۔
 الملکعان۔ کینہ۔ موت۔ مدکعانتہ
 الملکک۔ پست قد۔ روالملکک۔ موت
 اونٹ۔
 لکھ دن لکھا۔ مکا مارنا۔ بنانا۔
 لاکھ۔ سلاکھ۔ ایک دوسرے کو
 مکا مارنا۔
 اللکھ۔ طانچہ مارنا۔ تلکھ۔ ایک
 دوسرے کو طانچہ مارنا۔
 اللکھۃ۔ مکا۔ گھونٹ۔ الملکوم۔ مغم۔
 مظلوم۔
 الملکھ۔ پیوند لگا ہوا چمڑے کا موزہ۔
 لکھ۔ اس لکھا و لکھ و لکوتہ و
 لکھوتہ۔ الرجل۔ گفتگو میں رکتا۔
 زبان کا لکھنا۔ بھلانا۔ صفت (الکھ)
 موت لکھا۔ ج۔ لکھ۔
 تلکھ۔ فی کلامہ۔ ہنسنا کے لیے بھلانا۔
 اللکھۃ۔ مہ۔ بھلا پن۔ گفتگو میں رکاوٹ۔
 لکھ و لکھ۔ بجائے لکھ و لکھ۔
 لیکن۔
 اللکن۔ پستل کی پرات۔ لکن۔ ج۔ الملکان۔
 لکی لکی لکی۔ بہ مشتاق ہونا۔ چھٹنا۔
 صفت (لکی) لکی بالکان۔ اقامت
 کرنا۔
 اللایکی۔ عیب جو۔
 لکھ۔ نہیں۔ حرف جزم ہے فعل مضارع
 کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔
 جیسے لکھ یا کل۔ نہیں کھایا۔

لَمَّا - ابھی تک نہیں۔ صرف۔ بوجہ۔ چونکہ
لَمَّا جَاءَ فِي الْوَمْتِ - جب وہ میرے
پاس آیا تو میں نے اس کی عزت کی۔
إِنْ كُنَّ نَفْسٌ لَمَّا عَلِمَتْهَا حَافِظٌ -
نہیں ہے کوئی جان مگر اس پر نگران
ہے۔

لَمَّا - کیوں۔ کس لیے۔
لَمَّا كُنَّا - جمع کرنا۔ لَمَّا اللَّهُ شَحْنَهُ
اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی پراگندگی
کی اصلاح فرماتے۔

لَمَّا بَغْلَانِ كَسِي - پاس اترنا۔
لَمَّا - فلان - کسی کو کچھ جنون لاحق ہونا۔
صفت (مَلْمُومٌ)

الْمَمَّ - چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرنا۔

الغلام - مڑ کے یا بلوغ کے قریب پہنچنا۔

صفت (مَلْمٌ) المنة الغنمة - پختی کے

قریب ہونا۔ بہ مرض - مرض لاحق ہونا۔

بالقوم وعلى القوم - آکر اتر پڑنا۔ بالمعنى

معنى جان لینا۔ سچے لینا۔ بالذنب گناہ

کرنا۔ الشئ قریب ہونا۔ بالامر گمراہی

سیر نہ دیکھنا۔ بالطعام کھانے میں

اسراف نہ کرنا۔

الْتَمَّ - فلان - کسی کی زیارت کرنا۔ بالقوم

قوم کے پاس آکر اترنا۔

اللائمة - نظریہ ہر خوف کی چیز کہتے ہیں

ہجڑہ من کل ہامینہ لائمینہ - ہو بزرگنا

لما - وہ ہم سے کبھی کبھی ملاقات کرتا

ہے۔

الْمَمَّ - ہم بے شمار جماعت۔ المم -

تقوٰی ساجنون - گناہ کے قریب ہونا۔

چھوٹے گناہ۔

الْمَمَّة - سختی۔ مجبورہ۔ زمانہ۔

الْمَمَّة - ہم سفر۔ مونس۔ عورتوں کی جماعت

رواحد جمع

الْمَمَّة - بالوں کی زلف جو کالوں کی نو سے

سے برسی ہوئی ہو۔ پراگندہ ہال۔ یہ۔
لم ولمام۔

المم - سخت۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو

جمع کرنے والا۔ ضروری معادہ۔ "رجل

ملم معمم"۔ لوگوں کے امور کی اصلاح

کرنے والا اور ان کے ساتھ بھلائی سے

پیش آنے والا۔

المممة - سخت حادثہ و مصیبت۔ پکنے

کے قریب کھجور۔

المموم - جمع کیا ہوا۔ مینوں۔ گول۔

لَمَّا كَأَوْلَمَّا عَلَيْنَا رَبُّ لَمَّا - باقرہ والنا

سبب لے لینا۔ دیکھنا۔ بہ مشتمل ہونا۔

الماء - اللص على الشئ وبالشئ - چوری سے

لے لینا۔ خفیہ لے لینا۔ علی حقہ حق سے

انکار کرنا۔ الماتہ الدواب المکان

جانوروں نے مکان کو خالی چھوڑ دیا۔

على الشئ - مشتمل ہونا۔ بمافی الجفنة -

اپنے لیے خاص کر لینا۔

تَلَمَّاتٌ تَلَمَّوْا - الارض بر وعیدہ گھیر لینا۔

تَلَمَّوْا وَالتَّمَّ بِمَافِي الْجَفْنَةِ وَالتَّمَّوْا -

اپنے لیے خاص کرنا۔ غالب آنا۔

لَمَجَّ رَن، لَمَجَا - الشئ منہ کے اطراف سے

کھانا۔

تَلَمَّجَ الرجل - غذا سے پہلے کچھ کھانا۔

المجاج والموج - چھوٹی چھوٹی کھانے

ماتحت عنده بلعج - پھینکے اس کے

پاس کچھ نہیں کھانے۔

للمبج والمبج - بہت کھانے والا۔

بدر شکل

الممجة - غذا سے پہلے کانا شتہ۔ ج۔

لمج -

الملامج - منہ کے اطراف۔

لمج رن، لمجا ولمجانا وثلماجا۔

النجم او البرق۔ تبارہ یا بجلی کا چمکنا۔

صفت - (لارج و لمرج و لمارج)

لَمَجَّ رَن، لَمَجَا - البصر - نظر کا اٹھنا۔

الرجل الشئ والى الشئ - چوری سے

دیکھنا۔ سرسری طور پر دیکھنا۔ اسم

(المحتة) الشئ بالبصر - نگاہ ڈالنا۔

لَمَجَّ حَتَّه - میں نے اس کو چوری سے دیکھا۔

لَمَجَّ تَلَمَّيْعًا - الی الشئ - اشارہ کرنا۔

المج - الی فلان - چوری سے دیکھنا۔

الشئ چمکانا۔ دزدیدہ نظر سے دیکھنا۔

الرجل - دیکھنا۔

التمجة - نظر نیف سے دیکھنا۔

التمج - بصرہ نظر باقی رہنا۔

الممج - مم۔ لارینک لمجا بصرہ - میں کو

بات ساف صاف دکھا دوں گا۔ وعید

کے موقع پر اس کا استعمال زیادہ تر ہے۔

الممجة - سرسری نظر۔ فلان۔

اللامج - نا۔ "ہولاج عطیہ" وہ خود بین

ہے۔ ہو ابھی لمج وہ سفید جھک

ہے۔

الملامج - مشابہ۔ پرے کی خوبیاں۔

فی فلان لمجة من ابیہ او طارح من ابیہ -

فلان خط وخال میں اپنے باپ کے مشابہ

ہے۔

لَمَجَّ رَن، لَمَجَا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمجا - لمجا - لمجا - لمجا -

لمع دفع، لمعاً ولمعاً و لموعاً و لمبوعاً و قلمعاً - البرق وغیرہ - کبلی وغیرہ کا چمکنا - صرع الناز - فتن کا دودھ اترنے کے وقت رنگین ہونا - فلان بالشیء - لے جانا - بیدہ او شوبہ او بسیفہ اشارہ کرنا - الطائر بجنا جیہ پرندہ کا بازو پھڑپھڑانا - فلان الباب دروازے سے نکلنا -

المعیت - الشاة بذنبها - بکری کا دم اٹھانا - صفت (لمعة و لمع) الاشیء - مادہ کے پیٹ میں بچہ کا حرکت کرنا - فلان بالشیء و علیہ - چھٹا مار کر لے جانا - المعیت البلاد - ملک کا خست گھاس والا ہونا - یا کثرت سے گھاس والا ہونا -

المع الی فلان شوبہ رکپڑے سے اشارہ کرنا - الطائر بجنا جیہ پرندہ کا بازو پھڑپھڑانا -

لمعع - النج - کپڑے کو مختلف رنگوں کا بننا -

تلمع الشیء و التمع - چھٹا مار کر لے جانا - البرق وغیرہ - چمکنا - روشن ہونا - التمع القوم لے جانا -

التمع و التمع - لونہ رنگ کا چلا جانا - متغیر ہونا -

اللامع - قا - ج لمع - ناربالا لامع - گھر میں کوئی نہیں -

اللامعة - مونث - لامع - بچے کی نرہ چنڈیا - ج - کوامع -

الممعة - گھاس کا خشک حصہ - لوگوں کی جماعت - زندگی کا غمور اس گڈارا -

من الممسد - جسم کے رنگ کی چمک - جسم کا وہ حصہ جو نہایت یا و صغیر میں خشک رہ جائے - اصل رنگ سے مخالف

رنگ - ج لمع و لماع -

الممعا - عقاب - سراب والا بیابان -

التمط - بختی - میرا حق اس نے لے لیا - لمطرن، کمطاً - کھانے پینے کے بعد زبان کو ہونٹوں پر پھیرنا - دانتوں سے کھانے کا بقیہ زبان کے ذریعے نکالنا - فلاناً من حقہ - کسی کو حق میں سے کچھ دینا - الماء - پانی کو زبان سے چکھنا -

لمطہ - من حقہ - حق میں سے کچھ دینا -

المطہ - ہونٹوں پر پانی ڈالنا - المطء علی فلان - غصہ دلانا - المط فلاناً - نیزے سے غموزی سی ضرب لگانا -

البعیر بذنبہ اونٹ کا دم کو رازوں کے اندر دہانا - الرجل القوس - گمان پرانی باندھنا -

تلمط - زبان کو ادھر ادھر پھیرنا - التمط الشیء - چیز کو جلدی سے منہ میں ڈالنا -

الطعام - کھانا - بختہ - حق مارنا - یا الشیء لپٹنا - لشفیتہ - ہونٹوں کو ملا کر آواز نکالنا -

المط - الفرس - گھوڑے کا نیچے کے ہونٹ پر سفید داغ والا ہونا -

المماظ - چمکنے کی چیز - الماظ - اس کے پاس چمکنے کے لیے کچھ نہیں -

المماظہ - فصاحت و جہب زبانی -

المماظہ - منہ میں بقیہ کھانا - اللمظ - گھوڑے کے نیچے کے ہونٹ میں سفیدی -

اللمظہ - نیچے کے ہونٹ کی سفیدی - یا مدوں ہونٹوں کی سفیدی - دل کا سیاہ نقطہ - گھی وغیرہ کی تھوڑی سی مقدار جو انگلی سے اٹھائی جاسکے -

اللمظ - من الخیل - نیچے کے ہونٹ میں سفیدی رکھنے والا - گھوڑا -

الینماظ - دوستی پر ثابت قدم نہ رہنے والا - مونث تلماظہ -

ملا مظ - الانسان - ہونٹوں کا ارد گرد -

میں تیزی کرنا -

اللماز و اللمزة - بہت نکتہ چینی کرنے والا - عیب گیر - جعل خور -

اللمعان - سامنے غیبت کرنے والا - لمسة دن من الممسا - چھونا - لمس الشیء طلب کرنا - الشیء چیز کا چھونے کے قابل ہونا - زید امرأة - نکاح کرانا -

لا مسہ - ایک دوسرے کو چھونا - المس فلاناً - ڈھونڈنے میں مدد کرنا - نکاح کرانا -

تلمس الشیء - بار بار مانگنا - التمس الشیء من فلان طلب کرنا -

المماسة و اللماسة - قریبی حاجت - التمس - چھونے کی قوت -

المیسیس - نرم و نازک - عورت - اللموس - منہ بولا بیٹا - حسب میں عیب رکھنے والا -

الملا مسة م - فی البیع - کپڑے کو چھو کر بیع کو واجب جانا -

الممس - چھونا - چھونے کی جگہ - الماموس - منعم چھوا ہوا صاف اور پالش کیا ہوا پالان -

المموسات - قوت لامسہ کے مددکات لمص دن، لمصاً - العسل و شہبہ شہد وغیرہ انگلی سے چٹانا - فلاناً کسی کی چمکی لینا - نقل اتارنا - عیب لگانا -

منہ چڑانا - الصبی - بچے کا پیشاب کرنا - المص - الشجر - درخت کا انگلی سے پکڑنے کے قابل ہونا - المص الکریم - انگور - مکی بیل کا نرم انگور والی ہونا -

الممص - لوگوں کی غیبت کرنا - المموص - جھوٹا - فریبی - دھوکے باز -

غیبت کرنے والا - جعلی کھانے والا - لمطہ دن، لمطاً - بالمرح - نیزہ مارنا -

لمط فلاناً - مضطرب ہونا -

بچے کی نرم و نازک چندیا۔
 السُّوْع - چکنے والا۔ عقاب۔ نیز چھیننے
 والا۔
 الْأَلْمَعِي - ذکی۔ تیز ذہن آدمی۔
 الْأَلْمَعِيَتَا - ذکات۔
 التَّمْنَع - فی الخيل وغيرها۔ گڈے وغیرہ
 تھے جسم پر اس کے اصلی رنگ کے مخالف
 داغ۔ ج۔ تَلَامِيح -
 مَلْمَعَا - الطائر۔ پرندہ کے بازو۔
 الْمَلْمَع - من الخيل وغيرها۔ اصلی رنگ سے
 مخالف داغ رکھنے والا گھوڑا وغیرہ۔
 اَرْضٌ مُلْمَعَةٌ وَمُلْمَعَةٌ - وہ زمین
 جس میں سراب چمکتا ہو۔
 الْيَلْمِيح - بے باتش کی بجلی۔ سراب۔ کہتے
 ہیں۔ "فَدَانُ الْكُذْبِ مَنْ يَلْمِيحُ" فلاں
 سراب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ انما یولیع
 وہ جھوٹا ہے۔ ج۔ مَلَامِيح - والیلع من
 السلاح۔ چکنے والا ہتھیار جیسے خور۔
 زہرہ وغیرہ۔
 الْيَلْمِيحِي - ذکی۔ تیز فہم۔ مع جھوٹ طالتے
 والا۔
 لَمَقَدَانٌ لَمَقًا وَلَمُوقًا - لکنا۔ مٹانا۔
 لَمَقٌ عَيْنًا - آنکھ پر ٹھپڑ مارتا۔ آنکھ
 کانی کرنا۔ لَمَقٌ الْبِيہ - دیکھنا۔ الیہ
 بفسرہ۔ نظر ڈال کر دیر تک دیکھنا۔
 تَلَمَّقٌ - چمکنا۔ اللَمَاق - تھوڑی سی
 چمکنے کی چیز۔ ما بالارض لَمَاقٌ - زمین میں
 چراگاہ نہیں۔
 لَمَقٌ - الطريق۔ راستے کا بیج۔ الْيَلْمَقُ -
 روٹی دار قبلا۔
 لَمَاقٌ رَنٌ الْكَمَاقُ - البعین۔ آنا نرم گوندھنا
 تَلَمَّقٌ - البعیر۔ اونٹ کا جبروں کو ہلا ہلا
 کر کھانا۔
 اللَّمَاقُ - چمکنے کی چیز صرف نفی میں مستعمل
 ہے۔

اللَّمَاقُ وَاللَّمَاقُ وَاللَّمَاقُ - سُورہ۔
 اللَّمِيكُ - سرگین آنکھوں والا۔
 الیلمک - قوی۔ جوان۔ یہ مردوں کے ساتھ
 خاص ہے۔
 لَمَلَمَ الْبَحْرُ - پتھر کو گول کرنا۔ الشیءُ یُرَبِّعُ
 کرنا۔
 تَلَمَلَمَ گول ہونا۔ جمع ہونا۔ اللَّعَلَمُ
 بہت بڑا کھٹا شکر۔
 اللَّمْلُومُ - جماعت۔ مَلْمَلَمٌ - گھٹیلے
 پن کا۔
 الْمَلْمَلَمَةُ - مونٹ۔ مَلْمَلَمٌ - ہاتھی کی سوڈ۔
 لَمَّا يَلْمُوا الْمَوَا - الشیءُ سب لے لینا۔
 اللَّمَّةُ - جماعت۔ تین سے دس تک کی
 تعداد کے ساتھی۔ ہم عمر۔ ہم شکل۔ سنوڈ
 ج۔ لَمَاتٌ -
 لَمَعِي يَلْمِي لَمِيًا وَ لَمِي يَلْمِي لَمِيًا - الغلام
 لڑکے کا سیاہ ہونٹوں والا ہونا۔ صفت
 (العی) مونٹ لیا۔
 أَلَمَعِي الْمَاءُ الْعَسُ بَكْدَا - چراتا۔ تلمت
 الارض بہ علیہ۔ زمین اس پر حاوی
 ہو گئی۔ أَلَمَعِي الْتَمَاءُ - لونڈ۔ رنگ
 متغیر ہونا۔
 اللَّعِي - ہونٹ کے اندر دنی حصر میں سیاہی
 یا گندی رنگ۔
 أَلَا لَمَعِي - سیاہ یا گندی رنگ کا ہونٹ رکھنے
 والا۔ گھنا سایہ۔ گھنے سایہ کا درخت۔
 سُرْحُ الْمِي - مضبوط گندم گون نیزہ۔ مونٹ
 لیا۔ ج۔ لَمَعِي - لَشَاءُ لِيَاءُ كَمْ كَوْشَت
 یا کم خون والا مسوڑھا۔
 لَمِنٌ - حرف ناصب فعل مضارع ہے۔ اور
 نفی استقبال کو مفید ہے۔ جیسے لَمِنَ
 اَفْعَلُ الْمُنْكَرُ نَائِبِيَتٌ - جب تک زندہ
 رہوں گا۔ بدی برگز نہیں کروں گا کبھی
 دعا کے لیے جی آتا ہے۔ جیسے لَمِنَ تَزَالُوا
 نَجْمًا الْفَقِيرُ - ہمیشہ فقیر کے بلحاظ رہے رہو۔

لَمَدَانٌ لَمَدًا - الشیءُ - اچھے عمدہ شعر کرنا
 لَمَقَبَتٌ رَنٌ لَمَقًا وَلَمَقًا وَلَمَقًا و
 لَمَقًا وَلَمَقًا - النار آگ کا بھڑکنا۔
 لَمَقَبٌ (س) لَمَقًا وَلَمَقًا - الرجل - پیاسا
 ہونا۔ صفت (لمبان)
 لَمَقَبُ النَّارِ قَمَلَقَبَتٌ وَ أَلَمَقَبَا -
 فالتَقَبَت - آگ بھڑکانا۔ یہاں تک
 کہ آگ کا بھڑک اٹھنا۔ التهب علیہ۔
 غضبناک ہونا اور غصہ سے جلتا۔ فدان
 تَلَمَقَبٌ دَلَمَقَبٌ جَوْعًا - فلاں بھوک سے
 بھڑک رہا ہے۔
 أَلَمَقَبُ النَّارِ - آگ بھڑکانا۔ الْفَرْسُ
 گھوڑے کا دوڑ کر غبار اٹھانا۔ الْبَرْقُ
 بجلی کا مسلسل کوندنا۔
 أَلَمَقَبٌ - فی الکلام - جلدی سے کہہ ڈالنا۔
 أَلَمَقَابٌ - پیاس۔
 اللَّهَابَةُ - ایک قسم کی کبلی جس میں پتھر
 رکھ کر بوجھ یا بودج کی ایک طرف کو
 نیچا کیا جاتا ہے۔
 اللَّهَبُ - دو پہاڑوں کے درمیان کی کشادگی
 یا پہاڑ کی دراڑ۔ ج۔ الهاب ولہوب و
 لہاب ولہابہ۔
 اللَّهَبُ - آگ کا شعلہ۔ بلند غبار۔
 اللَّهَبَانُ - سخت گرمی۔ گرم دن۔
 پیاس۔
 اللَّهَبِيَتَا - پیاس۔ خالص ہندی۔
 اللَّهَبِيَتَا - آگ کی گرمی۔ الْاَلَهَبُ
 گھوڑے کی شدت کی تیزی کہ زمین سے
 غبار اٹھانے اور گھوڑے سے آگ نکلے۔
 الْمَلْمَقُ - نہایت۔ خوبصورت۔
 الْمَلْمَقُ - من الشیاب۔ کم ہرخی والا کپڑا۔
 اللَّاهوت - خداوندی۔ علم اللہ ہوت۔
 ذات وصفات خداوندی کے متعلق
 عقاید کا علم۔
 اللَّاهوتی - ذات وصفات کے متعلق

پیتے وقت اپنی ماں کے قصوں پر مگر
مارنا۔
لَهْفَاكَ - تلہینا۔ کان کے نیچے کی ہڈی
اور گردن پر مکا مارنا۔
اللاہن - نا۔ بہاؤ اور ٹیلہ جو راستے کو تنگ
اور دشوار گزار بنا دے۔ دو پہاڑ
جب اس قدر قریب ہوں کہ بیچ میں
ایک گلی کی طرح فاصلہ رہ جائے تو
دونوں پہاڑوں کو لاہزان کہتے ہیں۔
اللہاس - چرخہ وغیرہ کے سوراخ کو تنگ
کرنے کا چھتھر۔
اللہیز - سخت۔ اللہیزا - جبر سے کی
اُبھرتی ہوئی ہڈی۔
المہوز - جبر سے کی ہڈی اور گردن پر
مکا مارنے والا۔
المہوز - مضم۔ گھٹے بدن والا۔ جبر سے
کی ہڈی پر داغ لگا ہوا۔
اللہوزمتا - جبر سے کی اُبھری ہوئی ہڈی۔
ج۔ لہازم۔
لہس رن / لہسسا - الشیء - چاٹنا۔ العبی
وسدی امہ۔ بچے کا اپنی ماں کے
پستان کو بے چوسے ہوتے چاٹنا۔
علی الطعام - کھانے پر بھیر کرنا۔
لاہس ملاحسہ - علی الطعام کھانے
پر بھیر کرنا۔ القوم الی الشیء تیزی کرنا
اور بھیر کرنا۔
اللاہس - اللواہس کا واحد۔ پھرتیا
چلت۔
اللہاس واللہاسہ - تھوڑی خوطاک
اللہسہ - چاٹنے کے قابل چیز۔ تھوڑی
چیز۔
لہسمر - ماعلی المائدہ۔ دسترخون پر سے
سب کچھ کھا جانا۔
اللہاسجر - وادی کی تنگ جگہیں۔
واحد۔ لہسم۔

کو بچھنے کرنا۔
تلہجہ - بالشیء - چیز کا مشتاق ہونا۔
الطریق - راستے کا واضح نشان والا
ہونا۔
اللہجہ - کٹ وہ چلتا ہوا راستہ بڑا پیالہ
لہد کا دن، لہد آ۔ الحبل - بوجھل کرنا دبانہ۔
صفت مفعولی۔ ملہود و لہید۔ لہد دابترہ
جانور کو دبا کر دہا کرنا۔ الشیء کھانا یا
چاٹنا۔ فلانا۔ ذلت کی وجہ سے سنانا
پستانوں یا مونڈھوں کی جڑ میں مارنا
یا چھونا۔
اللہدک - ظلم کرنا۔ اللہد بہ - ذلیل کرنا۔
اللہد الی الارض - بوجھ سے زمین کی
طرف جھکنا۔ بفلان - ایک آدمی کو پکڑ
کر دوسرے آدمی کو اسے مارنے دینا
اللہد بھکی - اللہد مہ - ٹانگوں اور راتوں
میں پیدا ہونے والا مرض۔ سخت و
ناکارہ
اللہید - زیادہ بوجھ لدا ہوا یا تھکا ہوا
جانور۔ اللہید کا ایک قسم کا نرم
حوا۔
المُلَقَد - مضم۔ رجل ملتہد - کمزور۔ ذلیل و
حقیر۔ دروازوں پر دھکے دیا ہوا۔
اللہذب - ہمیشہ رہنے والی چیز۔
لہذتہ - کاٹنا۔ تلہذمہ - کاٹنا۔
تلہذم - الشیء کھانا۔
اللہذم - تیز کاٹنے والی تلوار۔ جھالا۔ وات
وغیرہ۔ ج۔ لہازم و لہاذمہ
اللہاذمہ - چور۔
لہزدن، لہذا۔ الشیء فلانا۔ کسی شیء کا
کسی کے اند ظاہر ہونا۔ القوم - قوم سے
نل جل جانا۔ لہزۃ الشیب - بڑھا پاپا۔
ظاہر ہونا۔ صفت مفعولی (ملہود) لہزۃ
بالرئح - سینہ میں نیرہ مارنا۔ لہز فلانا۔
مکا مارنا۔ الفعیل ضرب امہ بچے کا لادوہ

عقاید کا علم۔
لہث و لہث (س) لہسا و لہسا -
الکلب وغیرہ پیاس یا ٹھکن کی وجہ سے
کتے وغیرہ کا بائپ کر زبان ڈال دینا۔
لہث اس لہثا و لہثا و لہثا
الرجل - پیاسا ہونا۔ صفت (لسان)
مونث - لہثی۔
اللہث - یعنی لہث۔
اللہات مہ - پیاس کی گرجی۔ موت
کی سختی۔
اللہثہ - ٹھکن۔ پیاس۔
لہج (س) لہجبا بالشیء شیفہ ہونا۔
صفت - لہج و لہج، الفعیل امہ
جانور کے بچے کا ماں کے قصوں کو
چوستا۔ الفعیل یا تمہماں کے موڈ
یعنی کا عادی ہونا۔ صفت (لہج)
لہج - القوم - ناستہ کھلانا۔
الہج - الرجل - دودھ پینے کے عادی بچوں
والا ہونا۔ فلانا بالشیء شیفہ بنانا۔
العیل بچے کے منہ میں گڑی باندھنا
تا کہ دودھ نہ پی سکے۔
الہج - بالشیء شیفہ ہونا۔
الہج الہججا - الشیء خلط ملط
ہونا۔ الہججت عینہ، آنکھوں کا نیند
سے بند ہونا۔ اد لہجنا۔ الہج الجن
مگر پوری طرح نہ جینا۔
اللہجتہ - زبان یا لوزک زبان۔ نادری
زبان۔
اللہجتہ ناستہ۔
المکہج - مضم۔ اوٹھنے والا۔ سونے والا
کام سے عاجز۔
لہوج - الشیء طانا۔ الامر۔ بچھلنے سے کام
کرنا۔ الشواء نیم پختہ رکھنا۔ شواء
ملہوج۔ اچھی طرح نہ پختا ہوا۔
تلہوج الشیء - جلدی کرنا۔ اللہم گوشت

لَهْفًا (رن) لَهْفًا - تیر مارنا تاکہ لہفہ لہفہ
تیر مارنا - لَهْفًا الثوب - کپڑا سینا -
بہ الارض - زمین پر پھینکا دینا لہفت
امہ بہ - ماں کا جتنا -

اللاَهَط - نا گھر کے دروازے پر پانی
چھڑکنے والا اور اس کو صاف رکھنے
والا -

لَهْفًا - من البحر - افواہ -

لَهْفٌ (رس) لَهْفًا وَلَهْفًا - الرجل -
ہر ایک سے بے تکلف ہونا - صفت
لَهْفٌ (رس) لَهْفٌ (رس) لَهْفًا وَلَهْفًا -
لَهْفٌ (رس) لَهْفًا وَلَهْفًا - لَهْفًا وَلَهْفًا
سے کلام کرنے والا - بڑھ بڑھ کر
بولنے والا -

اللَّهْفَةُ - غفلت - اللہف کا نڈاری
میں تیز -

اللَّهْفَةُ - غفلت - سستی - خرید و فروخت
میں سستی -

لَهْفٌ لَهْفًا - ظلم کیا جانا -

لَهْفٌ (رس) لَهْفًا - علی ما فات - کھوئی
چیز پر افسوس کرنا صفت لَهْفٌ و
لَهْفٌ

لَهْفٌ - فدان نفسہ او ائمہ - و انفسہ -

و امیاء و المقاہ کسنا -

لَهْفٌ الیك نلہیفًا - میں نے تجھ
سے دیکھا -

لَهْفٌ - حریص ہونا - لاشعیر -

لَهْفٌ - علیہ - غمگین ہونا - افسوس کرنا -

لَهْفٌ - النار - آگ کا بھر کنا - لَهْفٌ
فلان کسی آفت کی وجہ سے غم کی وجہ
سے جلنا -

اللاَهْفُ - نا منظوم - مضطر - فریادی -

افسوس کرنے والا - موت لہف و
لاہفتہ - ہوا لہف القلب وہ شکستہ
دل سے -

لَهْفٌ - افسوس - رنج - یا لَهْفٌ

فلان" فلاں پر کس قدر رنج و افسوس
ہے - یا لَهْفٌ علیک و یا لَهْفٌ و یا لَهْفًا
و یا لَهْفٌ از منی و سماوی علیک و یا
لَهْفًا تیرے ادھر افسوس سے -

اللَهْفُ - لہا - موٹا - اداس - افسوس کرنے
والا - موت - اللہف -

اللَهْفُ - غمگین جو مال کھو بیٹھا ہو یا اس
کوئی قریب داغ فراق دے گیا ہو -

منظوم - لہف القلب - دل خفا -

لَهْنٌ (رن) لَهْنٌ (رس) لَهْفًا و لَهْفًا
الشیء - بہت سفید ہونا -

تَلَهَّقٌ - الشیء - بمعنی لہق - الرجل زیادہ
گفتگو کرنا -

اللَهْقُ - سفیدیل - یا ہر چیز سفید -

اللَهْقُ و اللَهْقُ - سفیدیل - ہر سفید
چیز - موت لہقہ و لہقہ - لہقات

و لہاق - کہتے ہیں - ابيض لہق و لہق
بہت سفید -

مَلَهَّقٌ - اللون - سفید رنگ کا -

لَهْلَةٌ لَهْلَةٌ - الشج الثوب - کپڑا
باریک بننا -

تَلَهَّلَةٌ - الثوب - باریک بنا جانا -

اللَهْلَةُ - من الثياب و الكلام و الشعر -

ردی کپڑا - یا کلام یا شعر -

اللَهْلَةُ - بصورت - رد و اللہفہ - کشادہ
زمین -

لَهْمٌ (رس) لَهْمًا و لَهْمًا - الشیء چیز کو
ایک ہی مرتبہ نکل جانا - بڑپ کر جانا

الماء پانی کا گھونٹ لینا -

اللَهْمُ - الشیء نکلنا - الهم اللہ فلا یجیر
وحی کرنا - توفیق دینا - سکھانا -

تَلَهَّمَ و تَلَهَّمَ - الشیء ایک ہی بار نکل
جانا -

التُّهْمَةُ - لونہ رنگ بدل لینا -

استلہم اللہ خیر اللہ تعالیٰ سے خیر کے

اللَهْمُ - بڑا شکر - اللہم بوجہ -
عمر رسیدہ - ج - لہوم - رجل لہم و لہم
کھاؤ پیٹو -

اللَهْمُ - من السویق - معنی بھرستو -

اللَهْمُ - بہت بخشش والا - بہت خیر والا -
بڑا سمندر - کھاؤ - پیٹو - بہت لے

جانے والا گھوڑا یا آدمی - ج - لہمون
مردوں کے لیے محسوس ہے ارجل لہوم
بسیار خور -

اللَهْمُ و أم اللہیم - موت - بخار -
مصیبت -

اللَهْمُ - بڑی دیگ -

الإلہام - مہ - دل میں ڈالی ہوئی بات
السام -

الإلہام و الملہم - من الرجال بہت
کھانے والا -

لَهْمٌ - ما علی المادۃ دسترخون پر سے
سب کچھ کھالینا -

اللَهْمُ - بڑا شکر - بہت برسنے والا
بادل - عمدہ گھوڑا - بہت دودھ دینے

والی اونٹنی - ج لہامیم - اللہامیم - سخی
لوگ -

اللَهْمُ - بہت لے جانے والا -

لَهْنٌ التوم و اللقوم - نیم کوناشتہ کھانا -

الہنہ - سفر سے واپس آنے پر کچھ بد یہ
بھینا -

تَلَهَّنٌ - الرجل ناشتہ کھانا -

اللَهْنُ - تخم جو مسافر سفر سے واپس
آنے یا اس کو دیا جائے - ناشتہ -

لَهْمًا یلہق لہوا - الرجل - کھیلنا - یہ
شوقین ہونا (لہوا و لہوا) المرأۃ الی

حدیث الرجل - مانوس ہونا - پسند کرنا -
رہا و لہیانہ - عن الشیء - غافل ہونا -
ذکر چھوڑنا -

لَهْمٌ یلہق لہا - بکرا محبت کرنا

عنه تسلي پانا۔ غافل ہونا۔ ذکر چھوٹنا
 منہ پھیرنا۔
 لَعَاةٌ تَلْهِيَةٌ۔ عن كذا مشغول کر دینا۔
 خیال بشارت یا بہ کذا۔ بھدنا۔
 لَأَهَاءٌ مَلَاهَاةٌ۔ قریب ہونا۔ جھگڑا کرنا۔
 بچہ کا درہ چھڑانے کے نزدیک پہنچنا۔
 أَلْهَاءُ الْهَاءِ۔ اللعاب عن كذا۔ غافل
 کرنا۔ فلان الشئ۔ عاجزی سے چھوڑ
 دینا۔ الرحى ونى الرحى وللرحى۔ چکی
 گوڈالنا۔
 أَلْهَى الرَّجُلَ۔ بہت اور بہتر بخشش دینا۔
 تَلْهَى تَلْهِيًا۔ بکذا اپنے آپ کو بھدنا۔
 تَلَاهَى تَلَاهِيًا۔ بالمدحی۔ کھیل کود میں
 مشغول ہونا۔ القوم۔ آپس میں کھیلتا
 أَلْهَى الرَّجُلَ بِالشئِ۔ کھیلتا۔ عنہ بغيره
 مشغول ہونا۔
 اسْتَلْهَى اسْتَلْهَاءً۔ صاحبہ۔ ساتھی کا
 انتظار کرنا۔ بھیرانا۔ الشئ زیادہ لینا۔
 تَلْهَى۔ اللہاء۔ مقدار۔
 أَلْهَوُ۔ کھیل۔ بہلاوا۔ شغل۔ غافل کرنے
 کی چیز۔ عروبت۔ اولاد۔
 اللصاة۔ حلق کا کوا۔ ج۔ لہوایت و
 لہیات و لہی و لہی و لہا و لہا و لہا
 و لہا۔
 اللهوة واللصوة۔ چکی کا گڑ، مخمض
 نعلن علیہ۔ لہی۔
 اللہیتہ۔ علیہ بہتر و کثیر علیہ زید لہو
 عن الخیر زید بھدانی سے بہت
 غافل ہے۔
 اللهوة واللاهية والتلهية۔
 بہلاوا۔ شغل۔ کھیل۔
 الملعن۔ کھیل۔ کھیل کا زمانہ۔ کھیل کی
 جگہ۔ ہذا الملعن القوم یہ قوم کی
 اقامت کی جگہ ہے۔
 الملعن۔ کھیل کی چیز۔ کھیل۔ ملاء

آلات الملاہی۔ گانے کے آلات الملاہی
 گانے کے آلات۔
 لَهْوٌ لَهْوَةٌ وَتَلْهَوُكُ۔ بناوٹی
 سخی یا دیندار بننا۔ فی العمل کام اچھی
 طرح سے نہ کرنا۔
 لَوُ۔ یہ صرف چھوٹے پر مستعمل ہے۔
 وہ زمانہ ماضی میں شرط کے معنی کے لیے
 جیسے لَوْ جاعنی لاکرنتہ۔ اگر وہ میرے
 پاس آتا تو میں اس کی عزت کرتا۔
 زمانہ مستقبل میں شرط کے معنی
 لَوْ تَلْتَقَى اصداء لہد مرتنا۔ کاش ہمارے
 اصداء موت کے بعد ملتے۔
 مصدر یہ معنی ان لیکن یہ نصب نہیں
 دیتا۔ عموماً و قد یؤد کے بعد آتا ہے
 جیسے وَوَدَّ اَلْوَدَّ تَتِيمٌ۔ وہ چاہتے
 کہ تو ان کے پاس آئے۔
 تَمَّنا کے لئے اس وقت اس کا جواب نہ ہوتا
 اور بنا کے لئے آتا ہے۔ جیسے لَوْ
 تَمَّنتی فخرتی۔ کاش تو میرے
 پاس آتا اور مجھ سے باتیں کرتا۔
 (۵) عرض کے لیے۔ مثل الاء۔ اس کا
 جواب بھی منصوب اور فاعل کے ساتھ
 آتا ہے جیسے لَوْ تَنْزِلُ عَلْنَا تَقْسِبُ
 نَزْرًا۔ اگر تو ہمارے پاس آتا تو
 ہمیں نظر میں سے لے لے جیسے یصدقوا و کو
 بطنف تخرق۔ تم غیرت کرو اور جلے
 ہوئے کھرے۔
 لَابٌ يَلُوبُ قَبَا و لَوْبَانَا۔ الرجل او
 البعير۔ بھاسا ہونا۔ پانی کے گروار
 پھرنا۔ اسم اللوب واللوب و
 اللوب واللوب اللوب و
 تلویبا۔ غلاب خوشبو ملنا۔
 الاب اللابتہ۔ الرجل پاسے جانور
 والا ہونا
 اللأب (نا) ج لوٹ پانی دور

سے دور پیاسا۔
 اللواب۔ لغاب۔
 اللوباء واللویباہ واللویبیا
 اللویبہ۔ شریک مگر شہرے سے علیحدہ
 رکھی ہوئی قوم۔ ج۔ لوب۔
 اللوب۔ گوشت کا ٹکڑا جو دیگر میں
 پھرے۔ شہد کی مکھی۔
 اللابتہ۔ سیاہ پتھروں کا قطعہ۔ جو
 ج۔ لابات و لاب۔
 اللابتہ۔ سیاہ اونٹوں کا گردہ۔
 الملاب۔ ایک قسم کی خوشبو۔
 اللوب۔ مفعول بیچ دار لوہا۔
 اللولب۔ بیچ۔ بیچ دار کپڑا۔
 اللولب۔ سر پر لگانے کی سداہی
 کات یلوت لوتاً۔ الرجل۔ بغير
 بلا مجھے ہرے خبر دینا۔ الخیر۔ خبر چھپانا
 کسی کے حق کو کم کرنا۔
 اللات۔ ایک بت کا نام۔ لات حین
 یہ موقع نہیں۔ یہ وقت نہیں۔
 لات یلوت۔ سر پر عمامہ لپٹنا۔
 الضباب بالبحیل۔ کمر کا پہاڑ کو ڈھانک
 لینا۔ بقلان پناہ لینا۔ دائرہ گھر پر
 رہنا۔ الشئ منہ میں چھپانا فی الامر دیر
 کرنا۔ عن الحاجتہ۔ حاجت میں سستی
 کرنا۔ لوبہ بالطنین۔ کپڑے کو مٹی
 میں بھرتنا۔ الشئ۔ بھگو کر طمانناث
 فلان۔ ٹھومنا۔ مالات فلان ان
 قلب۔ وہ غالب آنے سے ڈرنا۔
 لوت (س) یلوت لوتاً۔ دیر کرنا۔
 تاخیر کرنا۔
 لوت تلوتیا۔ الشئ چیز کو بھگونا۔
 الماء پانی کو گھسا کرنا۔ شہادہ بالطنین
 کپڑوں کو کچھڑ میں بھرتنا۔ الرین
 معلقہ۔ بھوسے کو۔ چارے میں

ملانا۔ فلانا عن كذ۔ روکن۔ الامر
 مشتبہ کرنا۔
 الآث الكاشفة۔ مانہ بقطان اپنا مال
 کسی کے سپرد کرنا۔
 ألوثت الوأثا۔ الارض خشک گھاس
 میں تنگ گھاس اگانا۔
 تلوث تلوثاً۔ توبہ بالظن۔ نظرنا۔
 زید بعبرو۔ پناہ لینا اور نفع کی خاطر
 ساتھ رہنا۔
 التآث التیاسا۔ علیہ الامر معلوم کا پیچیدہ ہونا
 لینا۔ مضبوط ہونا۔ موٹا ہونا۔ اپنے آپ
 قابو رکھنا۔ آلودہ دیر کرنا۔
 اللآیث۔ نا۔ شیر۔ گنجان۔
 الموات۔ پلیمین خشکی۔ اللواثتہ
 پلیمین۔ جماعت۔ ہر چیز میں آلودہ
 ہونے والا۔
 اللوث مع ثوت۔ شرم۔
 کمزور ثبوت۔
 اللوث۔ کمزوری۔ استرخاء
 المیث۔ گنجان نباتات۔
 اللوثتہ۔ ایک جماعت۔
 اللوثتہ۔ دیر کمزوری۔ یوقونی۔ زبان
 کی روگ۔ اثر جنوں۔ گوشت و
 چربی کی زیادتی۔
 اللوئثہ۔ جماعت الالوث ڈھیلے
 جسم والا۔ سست رفتار۔ کمزور عقل
 والا۔ مضبوط۔ موٹی زبان والاموت
 لوثنا وج۔ لوٹ۔
 الملاء والملاوت۔ شریف سردار جس کی
 پناہ لی جائے۔ الملاوت والملاوت
 والملاوت۔ ہم ملاوت۔ وہ
 اشرف ہیں۔
 الملاث۔ مرکز وہ جگہ جس پر چیز گھومے
 الملیث۔ موٹاپے کی وجہ سے سست۔
 کایج یلوج لوجا۔ الشی۔ منہ میں

پھیرنا۔
 لآح یلوج لوجا۔ الشی ظاہر ہونا۔
 البرق بجلی کا چمکنا۔
 انجم۔ ستارے کا نکلنا۔
 الیہ۔ ذریدہ نگاہ سے دیکھنا۔
 الشی۔ دیکھنا۔ العطش اور السفر فلانا
 پیاس یا سفر کا کسی کے رنگ کو بدل
 دینا۔ رلوح۔ اولوحاد لواحاً
 ولوحاد لوحانا۔ الرجل پیاسا
 ہونا۔
 لواح تلویحاً۔ دور سے اشارہ کرنا۔
 لواح بسیف۔ تلوار چمکانا۔
 یتوب۔ کپڑا بلند کر کے بلانا۔ لوح الکلب
 برغیف۔ قبیحہ۔ اس نے کتے کو
 ردی بنا کر بتائی تو وہ اس کے پیچھے ہو
 گیا۔ السفر او العطش فلانا۔ چمیدہ
 متغیر کر دینا۔ الشیب۔ فلانا۔
 بڑھاپے کسی سفید بالوں والا کرنا۔
 فلانا بالعصا والیسف والسوط و
 التعل۔ اٹھا کر ماننا۔ الشی بالناہ
 آگ سے گرم کرنا۔
 الاح الاحة۔ الشی ظاہر ہونا۔
 البرق چمکنا۔ العجم روشن ہونا۔
 بسیف او تیوبہ تلوار یا کپڑے سے
 اشارہ کرنا۔ بظہ۔ حق ماننا۔ فلانا
 ملاک کرنا۔ منہ خوف کرنا۔ برہیز
 کرنا۔ من القول۔ شرمنا۔ علی الشی
 اعتماد کرنا۔
 تلوح ظاہر ہونا۔ واضح ہونا
 التاح التیاخا۔ پیاسا ہونا۔
 استیلاخ۔ فی الامر استلاخہ۔ معاملہ کو
 غور سے دیکھنا۔
 الیاج واللیاج۔ جمع۔ خشکی پیل۔
 بر سفید چیز۔ ایضاً لیاج اولیاج۔
 بہت سفید۔ موت اللآح شکل

و شبامت۔ خط و خال۔ ج لواح

رجبٹر۔

اللوح۔ تختہ۔ تختی۔ ہر چوڑی چیز۔

خواہ لکڑی کی ہو یا ہڈی کی یا لوہے کی

ج ألواح۔ لوح الجسد۔ بدن کی ہر

چوڑی ہڈی یا ہاتھ و ٹانگ کی ہڈی

کے سوا ہڈی ہڈی۔ ج ألواح دنج

الآوح۔ ألواح السلاح۔ چمکنے

والے ہتھیار مثلاً تلوار بھالا وغیرہ۔

اللوح۔ پیاس کرہ ہوائی۔ ابل لوجی۔

پیاسے اونٹ۔

التلویجات۔ کتاب کے حواشی یا نوٹ

الملتاح۔ دھوپ یا سفر سے متغیر

رنگ والا۔

الملواح۔ لمبا ربل۔ جلد دلی دلی ہونے

والی عورت۔ آتو جو باز کا شکار کرنے

کے لیے شکار کرنے کے لیے ٹانگ

سے باندھا جاتا ہے۔

الملواح والملوح والملیاج۔

جلد پیاسا ہونے والا۔ ج۔ ملایح

لاخہ۔ یلوحہ لوجا۔ بلانا۔

التاح التیاخا۔ الشی بلنا۔

الحجین۔ آئے میں تعمیر اٹھانا۔

اللوآخہ واللیآخہ۔ دودھ سے ملا

ہوا کھن

لود یلود لواد۔ شرم و بخل ہونا۔

غیر مطیع ہونا۔ الالود نہ مطیع ہونے

والا۔ نہ شرم۔ موٹی گردن والا۔

ج۔ الواد

لاذ یلوذ لوذاً و لوذاً و لوذاً و لوذاً

و لیاذا۔ بالجل پہاڑ میں چھینا۔ قلعہ بند

ہونا پناہ لینا۔ بالقوم قوم کی پناہ

میں آنا۔ الطريق بالدار راستے کا گھر

تک پہنچنا۔

لاذ لوذاً و لوذاً و لوذاً و لوذاً کسی

کسی کی پناہ میں آنا۔ غنہ فریب سے نکل جانا۔ بیچ کر نکل جانا۔ فلاں فلاں نکل کرنا۔ القوم۔ قوم کی مدارات کرنا۔ القوم۔ ایک دوسرے سے پناہ لینا۔ بالقوم۔ قوم کو گھبرانا۔

الاذ اکلذ۔ بالجس وبالقوم۔ بمعنی لاذ۔ طریق بالدار۔ راستے کا گھر کو محیط ہونا۔ الاذت الدار بالطریق۔ گھر کا راستے سے متصل ہونا۔

اللوز۔ مہم پہاڑ کا کنارہ۔ وادی کا موڑ۔ فلاں لطف فی الواز البلاد۔ فلاں ملک کے اطراف میں پھرتا ہے۔ "ہو کوذہ" وہ اس کے قریب ہے۔ ج۔ الواذ۔ لوزان۔ الشیء چیز کا کنڑ جانب۔ اللواذیہ۔ فریب بازی۔ اللاذہ۔ سرخ ریشی کپڑا ج۔ لاذ۔ التلواذ۔ اسم بمعنی ملاذہ یلواذ الشیء قریب۔

الملاذ۔ قلعہ جاتے پناہ۔ الملاوذ۔ ازیرین۔ مفرد۔ ملوئی۔ الملوذ۔ جائے پناہ۔ اللوذ۔ کھیں کے بعد کا گارھا دودھ۔

لاذ یلوز۔ کوڑا۔ الیہ پناہ لینا۔ منہ۔ خلاصی پانا۔ الشیء کھانا۔

لوز تلویزا۔ التمز۔ کھجور میں بادام کھیرنا۔ اللوز۔ بادام۔ واحد۔ کوذہ۔ اللوزتان۔ گلے کی دو گلیاں۔ سرین کے دونوں گڑھے۔ "راتہ لوزوز" وہ غریب مفلس ہے۔

اللوزی۔ بادامی شکل کا۔ اللانز۔ جائے پناہ۔ ارض طازة۔ بہت بادام کے درختوں والی زمین۔

الملوز۔ بادام بھری کھجور۔ اللوزیج ایک قسم کا حلوا۔ لوزینہ۔

کاسن یلوس لوزا۔ الحادوت وغیر ہاٹھائی

کا بہت شوقین ہونا اور دھڑ دھڑ دھڑ کر کھانا۔ صفت رلاسن ولوس و لواس (لواس والواس)۔ الشیء چکھنا۔ الشیء فی فمہ چیز کو اپنے منہ میں چکر دینا۔ اللواستہ۔ لقر۔ اللوس۔ جمع لاس کھانا۔

لاص یلوص کوذا۔ دوازہ وغیرہ کی دراز سے دیکھنا۔ الیہ غور سے دیکھنا۔ فلانا عن کذا۔ دھوکا دینا۔ الشجرۃ۔ درخت کو کاٹنے کے لیے ادھر ادھر سے دیکھنا۔ الاصلۃ الاصلۃ۔ علی الشیء چکر دینا۔

ما آلت ان آخذ منہ شیئا۔ میں نے اس سے کچھ لینے کا ارادہ نہیں کیا۔

الیص الرجل۔ خوف زدہ ہونا۔

تلوص تلوصا۔ لپٹنا۔ لوٹ لوٹ ہونا۔ اللوص۔ کان کا یا گلے کا درد۔ اللواص۔ شہد خالص۔

اللوصۃ۔ پیٹھ کا درد۔ الملاوص۔ چاپلوسی۔ فریبی۔

لاط یلوط لوطا۔ الحوض۔ حوض کو مٹی سے لپٹنا۔ الشیء بالشیء چپکانا۔

الانسان مارنا۔ دھمکانا۔ فلانا بعین اور ہم تیر یا نظر لگانا۔ فلانا بفلاں لاحت کرنا نسبت کرنا۔ الشیء چھیننا۔ (کلاط فی الامیر) اصرار کرنا۔

لوطۃ تلویط۔ بالطیب۔ خوشبو سے نت پت کرنا۔

الناطۃ التیاط واستیلاطۃ۔ استیلاطۃ۔ غیر کو اپنا بچہ بنانا۔

اللیاط۔ سکود۔ اللوط۔ مہم۔ چادر چھپت دھرتیلا۔ سکود۔ چکنے والی چیز۔

انی لاجدر فی قلبی لوطا۔ میں اس کی محبت کو اپنے دل میں پیوستہ پاتا ہوں۔ الا لوط۔ زیادہ چھیننے والا۔

المستلاط۔ منہ بولا بیٹا۔

لاطۃ یلوطۃ لوطا۔ بعض لاطۃ۔ الناطت۔ الحاجت۔ حاجت کا شکل ہونا۔

کاعۃ یلوعۃ لوعا۔ الحب۔ محبت کا کسی کو بیمار کرنا۔ سورج کا کسی کو جھلس دینا لوعا و لوعا الرعل۔ گھبرانا۔ فکر مند ہونا۔ بیمار ہونا۔ بزدل ہونا۔ حریص و بدخلق ہونا۔

لاط یلاع و یلوی۔ لوعۃ۔ گھبرانا۔ تنگ دل ہونا۔ مریض ہونا۔ غم یا عشق سے دل جلنا۔ لوعۃ تلویعا۔ الحب محبت کا کسی کو بیمار کرنا۔ الاعتدال لوعۃ۔ الشمس۔ رنگ بدل دینا۔ الشدی۔ پستان کے سرے کا سیاہ و متغیر ہونا۔

الناطۃ التیاعا۔ غم یا عشق سے دل کا جلنا۔ رجل باط لاط و باط لاط۔ بزدل۔ گھبرانے والا آدمی۔ مونث۔ باعۃ لاعتہ۔

اللاغ۔ گھبرانے والا۔ بزدل۔ بیمار۔ ج لاعون و لاعتہ و الواع۔

اللاعتۃ۔ مونث۔ اللار۔ تیر فہم ہوشیار و بائگی عورت۔ ج لاعات۔

اللوعۃ۔ محبت۔ یا غم کی سوزش۔ عورت کے پستان کے سرے کی سیاہی۔

کادۃ یلوف لونا۔ طعام۔ کھانا چھینا۔ مویشی کا خشک کھاس کھانا۔

الوف۔ مہم ناپسندیدہ کھانا یا چارہ۔

الوف۔ ایک قسم کا پورا۔

الیف۔ خشک کھاس۔ اللواقۃ۔ پلٹھن۔ خشکی۔

الواف۔ دریاں بننے والا۔

لاقۃ یلوقۃ لوقا۔ نرم کرنا۔ لاق عینہ آنکھ پر مارنا۔ اللوات۔ دوات کی پریشانی کو درست و ٹھیک کرنا۔

ہو لایوق عندک۔ وہ تیرے پاس
نہیں بھڑکا گا۔
لَوَّقَ تَلْبًا لِقَا۔ الطعام۔ کھانے میں کھن
والتا۔

اللُّوق۔ نرم کی ہوتی چیز۔ اللُّوق جانت
اللُّوقۃ۔ ساعت۔ گھڑی۔ منٹ۔ لمحہ
اللُّوقۃ وازالوقۃ۔ کھن۔
الالوق۔ احمق۔ بے وقوف۔ الملوق
دوا فروش کا چمچہ۔

لَا يَلُوكُ نَوَا۔ اللقمة۔ لقمہ کو ہلکے
سے چبانا۔ اور منہ میں پھیرنا۔ النفس للجام
گھوڑے کا گام چبانا۔ کہتے ہیں ہویوک
اعراض الناس۔ وہ لوگوں کی عزتوں پر
نکتہ چینی کرتا ہے۔

اللُّوكَاۃ۔ تکلیف۔ سختی۔

لَوَا۔ اگر نہ لولا زید لاکرتک اگر زید
موجود نہ ہوتا تو میں تیری عزت کرتا۔
لَوَا تَسْتَغْفِرُونَ اللہ۔ تم اللہ سے
بخشش کیوں نہیں مانگتے۔ (بمعنی
تخصیص) لَوَا اٰخِرَتِنِیْ اِلٰی اَجَلٍ قَرِیْبٍ
تو نے کیوں مجھے تقویٰ مدت نہ
نہیں رکھا (بمعنی عرض) لَوَا جَاوَدَا عَلَیْہِ
باربعہ شہداء وہ کیوں چار گواہ اس
پر نہ لاتے۔ (توزیح و تندیہ)

لَا مَدَّ يَلُومُهُ لَوْمًا مَدًّا مَلَامَةً
نی کڑو علی کڑا۔ ملامت کرنا۔ صفت
فَاعِلٌ لِّلرَّءِیْسِ صِفَتُ مَفْعُولٍ رَّئِیْسٍ و

لَوَا۔
لَمِيزٌ بِہ۔ کاٹا جانا۔
لَوْمًا مَدًّا مَلَامَةً۔ ملامت کرنا۔ لَوْمًا لَامًا۔
حرف لام کہنا۔

لَا مَدَّ مَلَامَةً مَدًّا لَوْمًا۔ ایک
دوسرے کو ملامت کرنا۔
الکَا مَدًّا لَامَةً۔ ملامت کرنا صفت
فَاعِلٌ رَّئِیْسٍ مَفْعُولٌ رَّئِیْسٍ (مَلَام)

اسم۔ الملامۃ۔ ج ملام۔ الام۔
الرجل۔ قابل ملامت فعل کرنا۔
تَلَوَّمًا تَلَوَّمًا۔ فی الامر۔ انتظار کرنا۔
دیبر کرنا۔

تَلَاوَمُوا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔
التَّامُّ الْبَيْتَامَا۔ ملامت قبول کرنا۔
اَسْتَلَامًا اَسْتَلَامَةً۔ ملامت مستحق
ہونا۔ الیٰ ضیفہ۔ اچھا سلوک نہ کرنا۔
العیب۔ ایسا کام کرنا جس پر لوگ ملامت
کریں۔

اللائم۔ نا۔ ملامت کرنا۔ ج۔ لَوْمٌ و لَوْمٌ
و لَوْمٌ۔
اللائمۃ۔ مومث اللائم۔ ملامت۔ ج۔
لَوَائِمٌ۔

اللائم۔ خوف۔ وجود۔ نزدیکی۔ سخت چیز۔
حرف لام۔ ج لامات۔

اللؤم۔ مع۔ ملامت۔ خوف۔
اللؤم۔ بہت ملامت۔ اللؤمۃ واللؤمۃ
ملامت۔

اللائمۃ۔ خوف اللؤمۃ۔ ملامت لیا ہوا۔
اللؤمۃ۔ بہت ملامت کرنے والا۔
اللؤام واللؤامہ۔ بہت ملامت کرنے
والا۔ النفس اللؤامۃ غلط کاری پر
ملامت کرنے والا نفس۔

اللائمۃ۔ لام فی طرف منسوب۔ لایمۃ العجم
طغالیٰ و قبیڈہ لایمہ۔ لایمۃ العرب۔
شغزی کا قبیڈہ لایمہ۔

المتلوم۔ نا۔ برے فعل کی وجہ سے قابل
ملامت۔ حاجت تو بھی کرنے کا منتظر۔
لَوَّنَ تَلَوَّنًا۔ شئی۔ رنگین کرنا۔ البس بکھور
میں پکاؤہ اثر ظاہر ہونا۔ لَوَّنَ التَّشِبُّبِ فِیہِ
بڑھاپے کا کسی میں اثر ظاہر ہونا۔

تَلَوَّنَ الشئی۔ رنگین ہونا۔ مختلف رنگ کا
ہونا۔ الرجل۔ متلون مزاج ہونا۔

اللون۔ رنگ۔ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے

متماز کر دے۔

اللون۔ قسم۔ عندہ لون من الثياب۔
اس کے پاس کپڑے کی ایک قسم ہے۔
التلون۔ ہم طرح کے کھانے پیش
کرنا۔ اسلوب کلام بدلتا۔

المتلون۔ متلو۔ المزاج۔
لَا يَلُوكُ نَوَا۔
السراب۔ سراب کا چلنا
اللاہتہ۔ سانپ۔ لَوَا و لَوَا
و لَوَا۔ سراب کی چمک۔

لَوَا (داریتہ العین واللام) یلویہ
لَوَا و لَوَا و لَوَا۔ دینہ و بدینہ
قرض میں ماں سوں کرنا۔ فلانا حقا۔ حق
سے انکار کرنا۔

لَوَى یلوی لَوَى۔ القدر اور الرل۔ تیر
یاریت کا میرھا ہونا۔ النسبت۔ نباتات
کا خشک ہونا۔ المعده او النظر۔ معدہ کا
درد والا ہونا۔ کمر کا جھکنا صفت مذکر
لو۔ صفت مرنٹ بویہ۔ لَوِیْتُ لَوَى
الحنیۃ۔ سانپ کا کھڈلی مارنا۔

لَوَا مَلَا وَا حَا و لَوَا حَا حَا لَوَا حَا حَا
کا سانپ پر لیٹنا۔

لَوَى الواء۔ القوم قطعہ بیت کے مور
پر ہو جانا۔ الرجل خشک۔ سی والا ہونا
امیر کے جھڈے کو سینا۔ الامیر لَوَا حَا حَا
امیر کا کسی کے لیے جھڈا نصب کرنا۔
النقل۔ سبزی کا مچھانا۔ قدان۔ بہت
تسا کرنا۔ بیدہ او بیویہ۔ باقی کپڑے
سے اشارہ کرنا۔ بے لے جانا۔ بچن فلاں
حق کا انکار کرنا۔ بمانی الاناب۔ اپنے
لیے خاص کرنا۔ ہم اللہ سے ہلاک کرنا۔
بکلامہ کلام میں تبدیلی کرنا۔ النسبت
نباتات کا خشک ہونا۔ فلان اللواء
بند کرنا اور نصب کرنا۔

لَوَى تَلَوَّى یا۔ الشئی مَرْنَا۔ البرق فی السماء

بہلی کا بادل میں چکنا۔
 تَلَاوَدًا تَلَاوِدًا۔ علی فلاں چبھ ہونا۔
 تَلَاوِدًا۔ ایک دوسرے پر لپٹنا۔
 التَوَى التَوَاءَ۔ القَدْحُ أَوِ الرُّبُوعِ تِر
 یا قطع ریت کا ٹیرھا ہوتا۔ عَلَیہِ الْأَمْرُ
 دشوار ہونا۔ الشَّيْءُ مَرْتَانًا۔ لَوْتِيہ
 دوسرے کے لئے کھانا چھپا کر کھانا۔
 اسْتَلْوَى۔ ہم الدھر: زمانے نے ان کو
 ہلاک ویران کر دیا۔
 الأَدْوَانُ وَالْأَدْوَانُ۔ الذُّبُونُ كِي جَمْع
 المَلَاوِي۔ اسم فاعل ج لادون و لؤا۔
 اللّٰوِي۔ لادی بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم
 کی طرف منسوب۔ ج لادویون۔
 اللّٰوَاءُ۔ جھنڈا یہ رایت سے چھوٹا ہوتا ہے
 ج اَلْوِيَّةُ وَ اَلْوِيَّاتُ۔
 اللّٰوِي۔ معہ کا درد پشت کی خمیدگی
 — اللّٰوِي یعنی اللّٰوِي ج التّٰوِي۔ اللّٰوِي
 باطل باتیں۔
 اللّٰوِي۔ ریت کا موڑ یا ریت کا تنگ حصہ۔
 ج۔ اَلْوَاءُ وَ اَلْوِيَّةُ
 اَلْوَاءُ۔ وادی کے موڑ۔ ملک کے اطراف
 اللّٰوَاءُ۔ ایک قسم کا پرندہ۔
 اللّٰوِي۔ مؤنث اَلْوِي۔ پانی سے دور
 زمین۔
 اللّٰوِي۔ بدشکلی۔ اللّٰوِي وَ اللّٰوِيۃُ عود
 جس کی دھولادی جاسکتے۔
 اللّٰوِيۃُ۔ قرابتیں۔
 اللّٰوِي۔ خشک گھاس مرچائی ہوئی گھاس
 اللّٰوِيۃُ۔ دوسرے کے لئے چھپا کر رکھا
 ہوا کانا جہ۔ لَوَايَا۔
 اَلْوِي۔ سخت جگہ والو۔ جنگلو۔ اکیلا۔
 عورت نشین۔ مؤنث لَوِيۃُ۔ اَلْوِي
 مِنَ الطَّرِيقِ۔ غیر معروف دور کا راستہ
 پُرھا میٹنگ۔ خلق مری ہوئی دم جہ
 لَوِي۔ سہ اللّٰوِي یا عَمْرِي اَلْوِي۔ خدا تعالیٰ

اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کرے۔
 لَوِي۔ رداویۃ العین یا مِیۃ اللام) سِوِي
 لَوِيًا وَ لَوِيًا وَ لَوِيًا۔ الجمل۔ رسی بنتا۔
 موڑنا۔ اَلْعَلَامُ: رول کے کا بیس سال
 کا ہونا۔ عَنِ الْأَمْرِ سُسْتِي کرنا کَوْت
 الیالی کفہ علی العصا۔ پورھا بنادینا۔
 ر۔ لَوِيًا وَ لَوِيًا نَا۔ امرہ عنی پورشیدہ کفنا
 — سرہ و چھپاتا۔ المزن قلیہ،
 پھیر دینا۔ علیہ ہرانا۔ انتظار کرنا
 راسہ اور اسہ۔ پھیرنا۔ اعراض کرنا۔
 کَوْت الثَّاقَةُ بَدَنُهَا دَمٌ طَلَانًا۔ فَلَانًا
 علی فلاں۔ قضیت دینا۔
 لَوِيًا تَلَوِيًا۔ عَلَیہِ الْأَمْرُ: مشکل کرنا۔
 لَوِي اعناق الرجال۔ غالب آنا۔
 المَرِي السَّرَاعُ براسہ۔ پھیرنا۔ تَلَوِي تَلَوِيًا
 وَ التَوَى التَوَاءَ۔ الجمل: بنتا۔
 تَلَوَت الحِجۃ۔ کٹلی ماننا۔ التَوَى الاَقْوَمُ
 مشکل ہونا۔ عن الامر سستی کرنا۔
 المَلَادِي۔ بوجہ دار راستے تَلَوِي الوَادِي
 وادی کا موڑ۔
 اللّٰوِيۃُ۔ لوی کا اسم ج لَوِي
 لَا تَمَّا يَلِيۡتُهُ لِيۡتًا۔ عن کذا ہانا۔
 دونا۔ لَات زیداً حقہ: حق کم کرنا۔
 الاَصۡمُ بِاللّٰوِيۃُ۔ عن کذا ہانا۔ پھیرنا۔
 الیۡلِیۡتُ۔ گردن کا پیلو۔ معنی لیسات
 ج الیۡلِیۡتُ۔
 لَوِيۡتُ وَ یَا لَوِيۡتُ۔ کاش کہ یہ صرف دو موزوں
 میں متعلق ہے (۱) تنہا جیسے: لَوِيۡتُ الشَّابُّ
 یَعُوذُ، کاش کہ جوانی واپس ہو۔
 (۲) یعنی وحدت و جیسے: لَوِيۡتُ زَیۡدًا فَصَا
 میں نے زید کو واپس آتے پایا یا لَوِيۡتُ
 شَرِي وَ یَا لَوِيۡتُ لَوِيۡتُ۔ کاش کہ مجھے علم ہوتا
 لَوِيۡتُ تَلَوِيۡتُ وَ لَوِيۡتُ وَ لَوِيۡتُ تَلَوِيۡتُ
 الرجل: شیر کے مانند ہونا۔
 لَا یَسْتَلُوۡ مَلَا یَسْتَلُوۡ۔ شیر جیسا معاملہ کرنا

طیر کی صفت میں فخر کرنا۔
 اسْتَلَوِيۡتُ۔ شیر کے مانند ہونا اللّٰوِيۃُ
 اللّٰوِيۃُ۔ شیر مری۔ طاقت، سختی، خوش بیان
 بلیغ ج لَوِيۡتُ وَ لَوِيۡتُ۔
 اللّٰوِيۃُ۔ شیرنی مضبوط اور تلخی ج لَوِيۡتُ
 اَلْوِيۡتُ۔ شجاع۔ بہادر۔ مؤنث: لیث
 ج لَوِيۡتُ۔ ہوا لَوِيۡتُ اصحابہ۔ وہ اپنے
 ساتھیوں میں زیادہ مضبوط اور قوی ہے
 اَلْوِيۡتُ۔ مضبوط۔ قوی۔ اَلْوِيۡتُ۔
 مولانا چربی دار
 لَوِيۡتُ یَلَوِيۡتُ لَوِيۡتُ۔ الرجل: بہادر ہونا
 — عنہ: فاعل ہونا
 لَوِيۡتُ وَ لَوِيۡتُ۔ ب (اس فعل کا مصدر نہیں
 آتا) یہ اصل میں لَوِيۡتُ ہے۔ مبتدا اور خبر
 پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب
 دیتا ہے لَوِيۡتُ زَیۡدًا قَائِمًا۔ زید کھڑا نہیں
 اَسْتَلَوِيۡتُ بِرَیۡبِکُمُ۔ کیا میں تمہارا رب نہیں
 — (یعنی اَلَا) جیسے جاؤ اَلْوَمُ لَوِيۡتُ زَیۡدًا
 زید کے سواے سب قوم اَلُو۔
 تَلَوِيۡتُ الرَّجُلُ بِمَا حَبَطَتْ وَ قَوَّتْ ہونا۔
 تَلَا یَسُ الرَّجُلُ تَلَا یَسًا: اچھے اخلاق
 والا ہونا۔ عنہ چشم پوشی کرنا۔
 اَلْوَلَوِيۡتُ۔ بہادر۔ وہ اونٹ جو ہر قسم کا بار
 اٹھالے، گھری پر رہنے والا۔ خیر اچھے
 اخلاق والا۔ مؤنث: لَوِيۡتُ ج لَوِيۡتُ۔
 قَوْمٌ لَوِيۡتُ لَوِيۡتُ۔ سخت قوم، اہل لَوِيۡتُ
 علی الحوض: حوض سے جہاز ہونے والا اونٹ
 اَلْوَلَوِيۡتُ۔ سخت۔
 لَوِيۡتُ یَلَوِيۡتُ لَوِيۡتُ۔ ایک طرف ہونا۔
 الشَّيْءُ: چیز کو نکلنے کے لئے حرکت دینا
 الاصل الاَصۡتَلُوۡ۔ الشَّيْءُ: یعنی لامہ۔
 فَلَانًا عَنِ كَذَا۔ پھسلانا۔
 لَوِيۡتُ یَلَوِيۡتُ لَوِيۡتُ۔ چلنا۔ الشَّيْءُ یَلَوِيۡتُ
 محبوب ہونا۔ دل سے چکنا۔ فَلَانًا یَلَوِيۡتُ
 لاحق کرنا۔ اَلْوَلَوِيۡتُ: لعنت کرنا۔

۴۔ یہ حرف ہے جو جمع ذکر پر لیا کرتا ہے جیسے
ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فِي الْأَرْضِ
کبھی حرف قسم بن کر آتا ہے اور لفظ اللہ کے
ساتھ مخصوص ہوتا ہے جیسے مَا يَلْمِ
لَا أَفْعَلُ کبھی حرف جر کے بعد استفہام
کو مفید ہوتا ہے۔ جیسے لِمَ دَعَلَام۔ اور
اصل میں یہ ما استفہام ہے۔ الف حرف
ہو گیا ہے اور میم کی حرکت فتح کی باقی رہ
گئی ہے۔
ما۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے:-

۱۱۔ حرفیہ۔ یہ مندرجہ ذیل طریقوں پر متعمل
ہے:-

مَا هَذَا الْبَشْرَ۔ یہ آدمی نہیں۔ زائد
جیسے فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ
پس خدا کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم
ہوا۔ مَا كَانَهُ۔ جیسے كَانَمَا يَسْأَلُونَ
إِلَى الْمَوْتِ۔ گویا کہ وہ موت کی طرف
ہانکے جاتے ہیں۔

مَا مصدریہ۔ جیسے وَمَنَاتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضِ
فِيمَا رَحِمْتَ۔ باد جو فراخ ہونے کے
ان پر زمین تک ہو گئی۔

مصدریہ ظریفہ۔ جیسے وَأَصَابِي
بِالْقَلْوَةِ وَالْأَكْوَةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
نے مجھے زندہ رہنے تک نماز اور زکوٰۃ کا
حکم دیا۔

۱۲۔ اسمیہ استفہامیہ۔ جیسے مَا عِنْدَكَ
تیرے پاس کیا ہے۔ مَا زَيْدٌ نَدِيٌّ كَيْفَ
موجود رہنے کی حالت میں اس کے الف کو
گرا کر میم پر فتح پڑھتے ہیں جیسے عَمَّ
يَسْتَأْذِنُونَ۔

موصولہ۔ جیسے مَا عِنْدَكَ كَمْ يَتَفَقَدُ
جو کچھ تہذیب سے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔

جَوَابِيَهُ۔ جیسے مَا يَفْعَلُ أَفْعَلُ۔ جو
کچھ وہ کرے گا میں کروں گا۔
تعمب کے لیے۔ جیسے مَا أَحْسَنَ زَيْدًا
زید کیا ہی خوب صورت ہے۔
فعل کے ساتھ مصدر کی توحیل کے لیے جیسے
بَلَّغْنِي مَا صَنَعْتَ۔ مجھے تیرا فعل پہنچا
نکرہ موصوزہ۔ جیسے مَوْرَثٌ بِمَا مَعْجَبٌ
ثَلْثٌ۔ میں ایسی چیز کے پاس گذرا جو تجھے
تعمب میں ڈالے۔

ابہام کے لیے۔ جیسے أَنْتَنِي كِتَابًا مَا
کوئی کتاب لا۔

بَيِّنًا۔ جبکہ۔ كَالْمَا۔ پونہی۔ حَقِيْقًا جہاں
کہیں۔ حَقِيْقًا۔ جب کہیں۔ جب۔
الْمَاهِيَةِ۔ مِنَ الْأَمْرِ أَوِ الشَّيْءِ۔
حقیقت۔ کسی چیز کی اہمیت۔

الْمَاءُ۔ دیکھئے۔ مَوَّةُ۔
مَوْجٌ رِكٌ مَوْجَةٌ۔ بے دتوں ہونا۔
الماء۔ پانی کا کھارا اور کڑوا ہونا۔

الماءج۔ بے دتوں۔ بے آرام۔ کڑوا۔
نسیکین۔

مَا دَانَ مَا دَا۔ النِّبَاتُ أَوِ الشَّجَرَةُ
نبات کا لہلہانا۔ تروتازہ ہونا۔ نباتات
میں پانی بننا۔ نرم دتازک ہونا۔
أَمَادٌ۔ تروتازہ بنانا۔ اِمْتَادٌ۔ اَلْخَيْرُ
بھلائی کہانا۔

الماءد وَالْيَمُودُ۔ تروتازہ۔ نازک۔
المَيْسِدُ۔ نازک۔

مَا دَرَّ اِن مَّا دَرَا۔ التِّقَاؤُ شُكُّ كُ
تروتازہ کرنا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ۔ قوم میں فساد
ڈلوانا۔ فساد پر ابھارنا۔

مَبْرُؤٌ اِن مَّا مَرَا۔ الْجُرُوحُ۔ زخم کا خوب
ہونا۔ سُوْحَانًا۔

عَلَى فَلَانٍ۔ دشمنی سوچنا۔
اِمْتَأَسَرَ عَلَى فَلَانٍ۔ کینہ رکھنا۔
مَاؤْلَهُ مَأْسًا اِمْمَاؤَسًا۔ مقابلہ کرنا۔
مَا فِي فَعْلِهِ۔ برابری کرنا۔
مَاؤْمَرًا بَيْنَ الْقَوْمِ۔ قوم کو اکسا کر فساد
ڈالنا۔

تَمَاءَسَرَ تَمَاءَسُرًا۔ آپس میں فخر کرنا۔
الْمَاءُ سُوْحَانًا شُكُّ كُ اِمْمَاؤَسًا۔ مفسد
المسؤرة۔ دشمنی۔ جھیل خوری۔ مَحْمِلٌ
مَاؤَسَ اِن مَّاؤَسًا۔ عَلَيْهِ عَضْبَاكُ ہونا
كَيْفَ الْقَوْمِ۔ فساد پر پا کرنا۔ الدَّبَاغُ
الْمَجْلَدُ۔ رنگرز کا چمڑے کو لانا۔ مَسْنَا۔
وَمَيْسٌ اِن مَّاؤَسًا۔

الْجُرْحُ۔ زخم کا فراخ ہونا۔
الْمَأْسُ۔ م۔ وہ شخص جو کسی کی نفسیت
قبول نہ کرے۔

الْمَالِسُ وَالْمَأْسُ وَالْمُؤَدِسُ وَ
الْمُهْمَسُ وَالْمَأْسُ۔ چغلیور۔ فساد انگیز
مَاؤَسَدُ اِن مَّاؤَسًا۔ عنہ بکذا۔ ہٹانا۔
الْمَطْرُ الْأَوْضُ۔ بارش کا زمین کو
سیراب کرنا۔ بارش کو مَسْبِيْشٌ کہتے
ہیں۔

مَسَّقٌ اِن مَّاؤَسًا۔ الصَّبِيُّ۔ بچہ کا سبکی لینا۔
صَدْتُ رَهْمِيَّ اِن مَّاؤَسًا۔ الرَّجُلُ۔ سخت
عضبناک ہونا۔

اَمْتَقٌ سَبِيْلِي لِيَا۔ اِمْتَقٌ سَبِيْلِي لِيَا۔
عَضْبَةٌ سَخَتْ عَضْبَاكُ ہونا۔ اِن مَّاؤَسًا
بِالْبَكَاءِ۔ روتے ہوئے آنا۔

المَأَقُ وَالْمَوْقُ۔ اَمْتَقٌ وَاَمْتَقٌ
وَمَوَاتٌ وَمَوَاتٌ وَالْمَوْقُ وَالْمَوَاتِيُّ۔
مَأَقٌ اِن مَّاؤَسًا۔ ناک کی طرف کا آنکھ دکھانا۔
مَشْمُومٌ۔

دَمْتَعًا وَمَتْعًا، بَفْلَانٍ - جھوٹ بونا۔
 دَوْمَتَعًا وَمَتْعَةً، بِأَيْشِيٍّ - بے جان۔
 مَتْعَ رِكٍّ، مَتَاعَةٌ - الرُّحْلُ بِطَرِيبٍ هُونًا -
 مَتْعٌ - اِشْيِيٌّ رَلْبَا كَرْنَا - اللَّهُ - اللّٰه اس
 کی عمر دراز کرے۔ اللَّهُ يَكْذِبُ - دیر
 تک فائدہ اٹھانے دینا۔ الْمَرْأَةُ الْمَطْلُوقَةُ
 مَطْلُوقَةٌ لَوْرَتٍ كَوْبَرٍ دِينًا -
 اَمْتَعَةٌ - اللَّهُ يَكْذِبُ - بِعَيْنِي مَتْعَةً اَبْقَا
 لَكَ اللَّهُ دَا مَتْعَ بَيْتِ اللَّهِ - اللّٰه تمہاری
 عمر دراز کرے۔ اَمْتَعٌ مِمَّا لَيْدٌ - فائدہ
 رَاكُفَانًا - عِن كَذَا مَسْتَعْنِي هُونًا -
 مَتْعٌ وَاسْتَمْتَعٌ - يَكْذِبُ اَدَمِنْ كَذَا
 دَرَا زِدْتِ تَك فَا ئِدُهُ اَكُفَانًا - بِمَنَالِيهِ
 اَسْوَدَةٌ حَالِي سَمَزِدِكِي كَذَا زَانَا -
 الْمَتْعَةُ وَالْمِتْعَةُ - فَا ئِدُهُ - اسْتَمْتَعُ
 حَطَا اَكُفَانًا - تَقْوَرِي خَوْرَاك - تَقْوَرَانَا -
 الْمَتْعَةُ - مَشْكٌ - دَوْلٌ - رَسِيٌّ مَتْعَةٌ
 الْمَوْرَاتِ - قَبِيصٌ وَآزَارٌ وَجَادِرٌ مَطْلُوقَةٌ
 عَوْرَتِ كَوْدِي عَاتِي هِي - بِهِي مَتْعَةٌ
 الطَّلَاقُ هُوَ - ج - مَتْعٌ وَرَتْعٌ -
 الْمَتَاعُ - چاندی سونے کے علاوہ زندگی کا
 سامان - پہننے اور بچانے کی چیزیں - ہر
 وہ فانی چیز جس سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے
 پھر وہ فنا کے نذر ہو - چنانچہ کہتے ہیں :-
 اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ۰۰۰ اَمْتَعَةٌ
 وَنِعَ اَمَاتِعٌ دَا مَاتِيَعٌ -
 الْمَاتِيَعُ - نا - ہر لمبی چیز، ہر عمدہ چیز، بہت
 عمدہ چیز، بہت سیرخ، نیند یا سرکہ، عمدہ
 بی بی، بڑی رسی - رَجُلٌ مَاتِيَعٌ - جس
 عادلوں میں کامل۔
 مَتْنُكَ رَنْ، مَتْنَا - اِشْيِيٌّ - کاسنا - مَا لَكَ مَا
 تَمَكٌ - فِي الْبَيْعِ - بِيْعٌ كِي مَبَارَتِ هِي
 غَالِبٌ اَنَابٌ
 مَتْنُكَ - الشَّرَابُ - گھونٹ گھونٹ کر کے
 پینا۔

اَتَمَّتْكَ وَالْمَتْنُكَ وَالْمَتْنُكَ بِمَعْنَى كِي نَاك - لیموں
 سوسن - مَتْنُكَ الدُّبَابُ - مَعْنَى كَا كُوْرٌ -
 مَتْلُ رَنْ، مَتْلَا - اِشْيِيٌّ - پلانا - حَرَكْتُ دِينًا -
 مَتْنُ رِكٍّ، مَتَانَةٌ - مَضْبُوْبٌ وَ قَوِيٌّ هُونًا مَهْمَتِ
 رَمْتُنْ، وَ مَتْنِيْنٌ مَتْنُ رَنْ، مَتُوْنَا بِاَلْمَكَانِ
 اَقَامَتْ كَرْنَا -
 الْمَتَّجِلُ - قَسَمٌ كَهَانَا - سَفَرُ كَرْنَا - بَفْلَانٍ -
 كِسِي كِي مَهْرَا ثَمَامٌ دِنٌ جَلِيَا اِشْيِيٌّ - كِهِنِيْنَا
 الْكَبْشُ - مِيْنِدُ هِي كِي سَفِيْعِي مَع رُكُوْنِ كِي
 زَكَانَا -
 - ك - بِالسُّوْبِ - زَوْرٌ سَمَزِدِكِي مَارْنَا -
 مَتْنُ رَنْ، مَتْنًا وَ اَمْتُنْ - بِبِيْطِرٍ مَارْنَا -
 مَتْنٌ - اِشْيِيٌّ مَعْنَى مَضْبُوْبٌ بِنَا - الدَّلُوْ -
 دَوْلٌ كُو مَضْبُوْبٌ بَانْدَهْنَا - اَلْحَيْمَةُ - خِيْمَةٌ كُو
 خُوْبٌ كَسْنَا - الطَّعَامُ - كَهَانِي كُو مَهْمَا
 دَار بِنَا - لِمَنْ سَا بَقِيَّةٌ - اَكِي بَرَهْنِي
 دَا سَمَزِدِكِي تَم فُلَا نِ مَقَامٌ تَك نِيْمُوْرِي هِي
 تَم سَمَزِدِكِي جَاوُوْنٌ كَا -
 مَا تَنْ - فُلَانًا - نَانَا - بِهِي دَوْلُ كَرْنَا - كَا فِي
 اَلشَّعْرِ - شَعْرٌ مِمَّنْ مَقَابِلُ كَرْنَا اَوْرَ غَالِبٌ اَنَا -
 نَمَاتُنْ - اَلشَّاعِرَانِ فِي الشَّعْرِ - شَعْرٌ
 مِمَّنْ اِيْكٌ دُو سَمَزِدِكِي سَمَزِدِكِي - اَلْمَتْنُ مِمَّنْ
 بِبِيْطِرٍ (مَذْكُوْرٌ وَ مَوْتٌ) -
 مَتْنُ اِشْيِيٌّ - چيز کا ظاہری حصہ مَتْنُ الْاَدَبِيْنِ
 زَمِيْنٌ كَا بَلَنْدٌ وَ مَهْوَارٌ حَصَّةٌ - اَلطَّبِيْقُ - رَا سْتَةٌ
 كَا دَرْمِيَا نٌ - الْكِتَابُ - كِتَابٌ كِي اَصْلٌ عِبَارَتِ
 بَغِيْرُ مَشْرُحٍ اَوْرَ حَاشِيَةٍ كِي - اَللَّحْمَةُ - لَفْتٌ كِي
 اَصُوْلٌ وَ قَوَاعِدٌ اَوْرَ مَفْرُوْدَاتِ - سَا رَمَتُنْ اَلْحَا
 سَا رِي دِنٌ چَلَا - مَتْنًا اَلظَّاهِرُ - بِبِيْطِرٍ كِي ہر
 دُوْرُخٌ دِيْپُوْرٌ - ج - مَتَانٌ وَ مَتُوْنٌ -
 الْمَتْنَةُ - سَخْتٌ وَ بَلَنْدٌ زَمِيْنٌ - ج - مَتَانٌ وَ
 مَتُوْنٌ -
 الْمَتْنِيْنُ - مَضْبُوْبٌ - قَوِيٌّ - كِتَابٌ مِمَّنْ دِيْجَلٌ مَتْنِيْنٌ
 وَ رَا ئِيٌّ مَتْنِيْنٌ وَ فِي رَا ئِيْتِهِ مَتَانَةٌ - مَتْنِيْنٌ
 اللّٰه تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے جیسا

اَلْمَتَانُ - دُو دُوْرُوْنِ كِي دَرْمِيَا نٌ كَا فَا صِلَةٌ - ج -
 مَتْنٌ -
 اَلْمَتْمِيْنُ - مِمَّنْ وَ اَلْمَتْمَانُ - خِيْمِي كِي دَسِيَا نٌ -
 ج - نَمَاتِيْنٌ -
 الْمَاتِيْنُ - نا - كِتَابٌ كَا مَصْنَفٌ -
 مَسْبُوْرٌ مَاتِيْنٌ - دُوْرٌ كَا سَفَرٌ -
 مَتْنُهُ اس، مَتْعَا - بِهِيْوَرٌ اَوْرَ فَعُوْلٌ بَا تُوْلُوْنِ مِيْنِ
 مَشْغُوْلٌ رَهْنًا -
 مَتْنُهُ اَن، مَتْنًا - الدَّلُوْ - دَوْلٌ زَكَانَا -
 تَمْتَةٌ - حِيْرَانٌ دَلِيٌّ وَ قُوْفٌ هُونًا - بِيْعٌ وَ جَرْتَرِيْنٌ
 كَا طَالِبٌ هُونًا - كَبْرٌ كَرْنَا - دُوْرٌ هُونًا - مِمَّا لَيْدٌ كَرْنَا -
 بِهِيْوَرٌ بَا تُوْلُوْنِ مِيْنِ مَشْغُوْلٌ هُونًا -
 نَمَاتُهُ - عِيْنٌ اِشْيِيٌّ - غَا ضِلٌ هُونًا - اَلْقُوْمٌ دُوْرٌ
 هُونًا -
 مَتْنًا يَمْتُوْ مَتُوْرًا - اِشْيِيٌّ - كِهِنِيْنَا - مَتْنًا كَا بِالْعَصَا
 مَارْنَا -
 اَفْتِيٌّ اَمْتَاءٌ - بُرِيٌّ طَرَحٌ چِنَا - بِهِيْتِ رَزَقِ
 وَ اَلَا هُونًا - عَمْرٌ وَ دَرَا زِمُونًا -
 مَتْنِيٌّ - اَنگُوْرَانِيٌّ لِيْنَا -
 مَتْنِيٌّ - كَبٌ - كِسِيٌّ وَ قَتٌ - جَبٌ -
 مَتْنِيٌّ يَمْتُوْ مَتْنِيْنَا - اِشْيِيٌّ - كِهِنِيْنَا -
 مَتْنُ رَنْ، مَتْنًا - اَلْعَطْمُ - بَرِيٌّ كَا كُوْرَا بِهِي بَرْنَا -
 اَلرَّقُّ وَ اَلسَّقَاءُ - لِيْكِنَا - اَلرَّجُلُ - مَوْرَا بِيْعِ
 كِي وَ جِہ سے پسینہ پاننا - مَتْنٌ يَدُ كَا -
 ہاتھ تو لیب سے پونچھنا - شَارِبَةٌ - مَوْرُوْبِ
 كِي چکنا ہٹ کر ہاتھ سے پونچھنا - اَلجُوْرُحُ
 زَحْمٌ صَا فٌ كَرْنَا - اَلْحَدِيْثُ - بَا تٌ پھیلانا -
 مَشْحٌ - رَنْ، مَشْحًا - اِشْيِيٌّ مَسْلَانَا - فُلَانًا - كَهَانَا
 اَلْيُوْرُ - كِنُوَا نٌ صَا فٌ كَرْنَا - بِاَلْعَطِيَّةِ - عَطِيَّةٌ
 بَخْشْنَا -
 مَتْنُ رَنْ، مَتْنًا - بَعِيْنٌ اَلْحِيَا دَةُ بِهِيْوَرِ
 مِيْنِ چُپٌ كَرْمَاتِ مِيْنِ مِيْحِنَا اَوْرَ دِيْدِيَا نِي
 كَا كَامٌ اَنجَامٌ دِيْنَا - اَلرَّجُلُ - كِسِيٌّ كُو دِيْدِيَا نِ
 مَقْرُرٌ كَرْنَا -
 الْمَاتِيْدُ - نا - دِيْدِيَا نٌ -

تَمَجَّلَ - دَاسَةُ قَبِيحًا وَدَمًا - سر کا پیسہ
خون سے بھر جانا۔

الْمَاجِلُ - نَا - دَاوِي يَابِطَارَ كَ دَا مَن كَا پَانِي
- آبلہ دار۔

الْمَجْلُ - مَمَّ آبِلَه - الْمَجْلَةُ - آبِلَه مَجَال
وَمَجِلٌ : عَام لَوَگ اِس كُو لَقْوَةٌ كَقْتَه
ہیں۔

مَجْمَعٌ - الْكِتَابُ - كِتَاب كُو صَا ف نَر لِكْهِنَا
بِنِي حُدُ يَشِيَه - بَا ت صَا ف نَر كَرْنَا -

الْمَجْمَاعُ - دُھِيلا يَا كُو شَت مَوْنَا -
مَجْعَانُ رَن مَجْعُونَا - اَيْشِي - مَوْنَا اَو رِصْحَت
ہونا۔ (مَجْعُونَا وَ مَجْعَانَا وَ مَجْعَانَةُ)

مَجْلُ كَرْنَا اَو رِ بَے جِيَا ہونا - صَفْت (مَجْرِنُ)
- مَجْرَانُ -

مَجْرَانُ - اَلْپَس مِي نَزَا ح كَرْنَا -

مَجْرِنُ - بَكَلَف مَجْلُ كَرْنَا - مَجْلُ كَرْنَا
وَا لَے كَا رَا اَمَل كَرْنَا -

الْمَجْرَانُ - بَرَا مَجْلِي - مَفْت - بَہْت - كَا فِ
طَرِيْقٌ مُجْرِنٌ - لِبَارَا سْتَه -

مَجْرَانُ رَن مَجْرَانَا وَ مَجْرَانَا وَ مَجْرَانَا
وَمَجْرَانَةٌ وَ اَمَجْرَانٌ - التَّوْبُ كِرْت
کا پُرَا نَا - الْاَثَرُ - نَشَان كَا مَنَّا - الْاَثَرُ

گھر کا بے نشان ہونا۔

الْمَجْرَانُ وَ الْمَجْرَانُ - پَرَا نَا لَو سِيْدَه كِرَا -

الْمَجْرَانُ - خَالِصُ حِيْر - وَالْمَجْرَانَةُ - اَللَّه
کی زردی۔

الْمَجْرَانُ - كَبُو ك - الْاَمَجْرَانُ - مَوْنَا -
الْمَجْرَانُ - جَبُوْنَا - صَرَف بَا تُو ن سَے خُو ش
کرنے والا۔ نہ کام سے۔

مَجْرَانُ رَن مَجْرَانَةُ - الْيَوْمُ - رَن
کا گرم ہونا۔

مَجْرَانُ رَن مَجْرَانَةُ - فُلَانَا - كِسِي كُو
بَہْت عَضْب نَا ك كَرْنَا -

الْمَجْرَانُ - كَرْم مَنِي - سَخْت حِيْر - عَقْل مَن
ذہین۔ تیز فہم۔ خالص۔

زیادتی اور سود۔ ہر چیز جو بہت ہو۔ عقل۔
الْمَجْرُو - مَم - مَلِك مَجْرِي - مَلِك مَجْرِي كَ لَہِنَے

وَا لَے سُو نَے كَے سَكَّ كِي اِي ك تَبَم - حَا طَه
بَكْرِي كَے پِيْٹ مِي ن بچہ كِي بُرَانِي -

الْمَجْرُو - دُ بَے جِسْم بُرَے پِيْٹ - دُ بَے جِسْم
بُرَے پِيْٹ وَا لَے -

الْمَجْرُو - اَو نِٹ كَے پَاؤ ن بَا نَدِھْنَے كِي رِئِي -
الْمَجْرُو - جُو رُو ا ن بچے عِنْنَے وَا لِي عَوْرَت -

مَجْرُو سَے - جُو سِي بِنَا نَا - تَمَجْسُنُ - جُو سِي ہونا۔
الْمَجْرُو سَے - اَك يَا سُو ر ج كِي پَرِشْتَن كَر نِيَا لَے

اَو اَصَد مَجْرُو سِي (كِسِي جُو سِي جَا دُو كَر اَو رِ
عَلِي م وَ دَا نَا كُو بَہِي كَہْتے ہيں۔

الْمَجْرُو سِيَّةُ - جُو سِيُو ن كَا نَدِھِب -
مَجْرَعُ رَن مَجْرَعَا وَ مَجْرَعَةٌ وَ اَمَجْرَعٌ
وَمَجْرَعٌ - كَجُو رِي كَا كَرَا ن پَر دُو دِھِنِيَا -

مَجْرَعُ رَس، وَ مَجْرَعُ رِي مَجْرَعَةٌ - مَجْلُ
كَرْنَا - اَو رِ بَے شَر م وَ بَے جِيَا ہونا۔

مَا جَعَهُ مَجْرَعَةٌ - بَا ہِم مَجْلُ كَرْنَا -
مَجْرَعٌ تَمَجْرَعِيَا - مَنِيْقَه - كَجُو رِ اَو رِ دُو دِھ

پلا ہوا کھانا۔

اَمَجْرَعُ - الْفَصِيْلُ - اَو نِٹ كَے بچہ كُو بَرْتَن
سَے دُو دِھ پِلَا نَا -

الْمَجْرَعُ وَ الْمَجْرَعُ وَ الْمَجْرَعَةُ - جَا ہِل
اَمَجْرَعُ - الْمَجْرَعُ - مَجْلُ كَرْنَا وَا لَے -

الْمَجْرَعَةُ وَ الْمَجْرَعَةُ وَ الْمَجْرَعَةُ وَ الْمَجْرَعَةُ
مَجْلُ بَے جِيَا عَوْرَت -

الْمَجْرَعَةُ وَ الْمَجْرَعَةُ - جَا ہِل عَوْرَت -
الْمَجْرَعُ وَ الْمَجْرَعَةُ وَ الْمَجْرَعَةُ - مَجْلُ
كَرْنَا وَا لَے جِيَا -

الْمَجْرَعَةُ - كَجُو رِ دُو دِھ كَا بِنَا ہوا كھانا۔
الْمَجْرَعَةُ - بچا ہوا۔ مَجْرَعُ -

مَجْلَتُ - ن، مَجْلًا وَ مَجْلُو لًا وَ مَجْلَتُ
رَس، مَجْلًا وَ اَمَجْلَتُ - يَدُ كَا - ہَا تھ
مِي ن كَا م كَر نَے كِي دُ جِ رَے سَا بِلَہ پُرْنَا -

اَمَجْلُ - ہَا تھ مِي ن اَبِلَہ دَا نَا -

چراگاہ میں چرنا۔ صفت۔ دَمَا جِدَةٌ - ع
مَوْجِدٌ وَ مَجْدٌ وَ مَجْدٌ -

مَجْدٌ - ك - مَجَادَةٌ - بَزْرِي وَا لَا ہونا - صَفْت
مَاجِدٌ وَ مَجِيْدٌ - ع - اَمَجَادٌ -

مَجْدٌ وَ اَمَجْدٌ - فُلَانَا - تَقْلِيْم كَرْنَا تَعْرِيْف
كَرْنَا - بَزْرِي كِي طَرَف نَسِبَت كَرْنَا - الْعَطَاةُ

بَہْت بَخْشِش عطا كَرْنَا - لَهْلَا ي ن مَن كَرْنَا
زِيَا دہ كَرْنَا -

اَمَجْدَتِ الْاِيْل - بَعْنِي مَجْدَتُ -
فُلَانٌ وَ لَدَاةُ وَ لَوِيْدٌ - بَہْتَرِي ن بَاؤ ن
كَا اَتْحَاب كَرْنَا -

مَا جِدَةٌ مَجَادٌ وَ مَاجِدَةٌ - بَزْرِي
مِي ن مَقَابِلَہ كَرْنَا -

تَمَجْدٌ - بَزْرِي ہونا - تَعْرِيْف وَا لَا ہونا -
تَمَاجِدٌ - بَا ہِم مَجْر كَرْنَا - بَزْرِي كِي بِيَا ن كَرْنَا -

اِسْتَمَجِدُ - بَزْرِي كِي طَلَب كَرْنَا - اچھے صفا ت
مِي ن شَہْرَت پِيَا نَا -

الْمَجْدُ - مَم - عَزَّت وَ بَلَدِي - بَلَدِ زَمِي ن
- ع - اَمَجَادٌ -

الْمَاجِدُ - نَا - بَزْرِي وَا لَے - خُو ش خَلَق - شِيْئِي
مَا جِدٌ - بَہْت حِيْر - مَوْنُ - مَا جِدَةٌ

ع - مَوَاجِدُ -
الْمَجْدُ - زِيَا دہ شَرِيْف - زِيَا دہ نَشَان وَا لَے
الْمَجْدِي - شَا ہ عَبْد المَجِيْدُ تَر ك كَا بِنَا يَا ہوا

چاندی کا سکہ جس کی قیمت تین شنگ
چھ پینس ہے۔

مَجْرَانُ مَجْرَانَا - پِيَا سَا ہونا -
مَجْرَانُ مَجْرَانَا - مِي ن الْمَا رِ وَ مَجْرَانَا

پيٹ کا پانی سے بھرنا۔ مگر سیراب نہ ہونا۔
مَجْرَتٌ وَ اَمَجْرَتٌ - الشَاةُ - پِيْٹ

مِي ن بچہ كِي دُ جِ رَے سَا بِلَہ ہونا -
مَا جِر مَجَارَا وَ مَاجِرَةٌ وَ اَمَجِرَةٌ - فُلَانَا
فِي الْبَيْع - زِيَا دہ لِيْنَا - سُو ر لِيْنَا -

الْمَجْرُو - مَم - حَا طَه جَاؤ ر كَے پِيْٹ كَا بچہ پِيْٹ
كَے بچہ كَا خَرِيْد جَا نَا - بُرِي فَوْن - بچوا -

۱۰. مُحْتَأٌ وَمُحَوْتُ -

مَحَجَّ رَن، مَحَجًّا - الرَّجُلُ - جلدی کرنا۔

الْعُودُ أَوِ اللَّحْمِ - کڑی یا گوشت چھینا

اللَّبَنُ - دودھ بلوانا۔ الْجِلْدُ - کھال

كُوْنَمَا تَاكُمُ زَمُّهُ يَوْمَ جَاءَهُ - الدَّلْوَا

کنویں میں ڈول بلانا۔ شَيْئًا عَنْ شَيْئٍ

پوچھنا۔ الرِّيحُ الْأَرْضُ - ہوا کا غبار

أُرَانَا -

مَحَجَّ - س - مَحَجًّا - الرَّجُلُ - جھوٹ

بولنا۔

مَا حَجَّهُ مِحَا جَا - وَمَا حَجَّهُ -

مَالٌ مَوَّلٌ كَرْنَا - المَحَا جُ - جھوٹا۔

مَحَسَّ رَن، مَحَسًّا - المَجْلِدُ - چمڑے کو

زرم کرنے کے لیے ملنا اور رنگنا۔

الْأَمْحَسُّ - ماسر چمڑہ رنگنے والا۔

مَحَسَّ رَن، مَحَسًّا - المَجْلِدُ - کھال پر

گوشت چھینا۔ الطَّعَامُ - بہت کھانا۔

السَّيْلُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ - بہاے جانا۔

رَمَحَشَةً أَوْ دَجَبَةً بِالسَّيْفِ -

تواریخ کر کسی کے چہرہ کی کھال پھیل دینا۔

رَوَّأَمَحَشًا، الْحَوَّاءُ أَوِ النَّارُ المَجْلِدُ

کھال کو جلانا۔

إِمْتَحَشَ - جَلَانَا - فَلَانٌ عَفْصًا - غصہ

سے بھڑک جانا۔ الْقَمَرُ - چاند کا چھینا۔

أَوِ النَّارُ - آگ کا جلانا۔

المِحَاشُ - گھر کا سامان۔

المِحَاشُ - آپس میں عہد کرنے کے لیے آگ

کے گرد جمع ہونے والی جماعت۔

المِحَاشُ - جلا ہوا۔ سَنَةٌ مَجُوشٌ و

مُحِشَةٌ - خشک سال۔

مَحَصَّ رَن، مَحَصًّا - الظُّلَى فِي عَدْوِهِ

تیز دوڑنا۔ المَنْ بُوْحٌ بِرَجْلِهِ - ندبوح کا

ترپنا۔ بِلَادِي الْأَرْضِ - کسی کو زمین پر

پکنا۔ فَلَانٌ مِنْ فَلَانٍ - بھاننا۔

الْبُرُوقُ - بجلی کا چمکنا۔ اللَّهُ مَا بَكَ

زائل کرنا۔ الشَّيْءُ - ہر عیب سے پاک کرنا

الذَّهَبُ بِالنَّارِ - سونے کو صاف کرنا۔

الْبِتْنَانُ - بھالے کو سیتل کرنا۔

مَحَصَّ - ایشی - کم کرنا۔ اللَّحْمُ - گوشت کو

پٹھے سے صاف کرنا۔ مَحَصَّ الرَّجُلِ

کسی کو آزمانا۔

أَمْحَصَ - مِنَ المِرْقِي - صحت یاب ہونا۔

أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ - سَورج کا گرہن

سے نکلنا۔

نَمَحَصَّ - الظَّلَامُ - اندھیرے کا دور ہونا

إِنْمَحَصَّ - الوَسْرَمُ - دم کا کم ہونا۔

فَلَانٌ مِنْ يَدِيهِ - فلان آدمی اُس کے ہاتھ

سے نکل گیا۔

إِمْتَحَصَّ - الظُّلَى فِي عَدْوِهِ - ہرن کا دھن

بھرننا۔

المَحَصُّ - مِنَ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ - زرم

رستی یا تانت۔

المَحَصُّ وَالْمُحَصُّ وَالْمَحِصُّ وَ

المُحَوْمِيُّ - مِنَ الغَيْلِ - مضبوط

ساخت کا گھوڑا۔

المَحَاصُ - چمکنے والی بجلی۔ الأَمْحَصُ -

ہر چھوٹے سچے کا عذر قبول کرنے والا۔

مَحَصَّنٌ - ك - مَحْوَمَةٌ - سَبُّ الرَّجُلِ

خالص نسب ہونا۔

مَحَصَّنٌ رَن، مَحَصَّنًا وَامْتَحَصَّنٌ - خالص

دودھ پینا۔

مَحَصَّنٌ رَن، مَحَصَّنًا - فَلَانَا الْوَدَّ أَوِ النَّفِخِ

خالص محبت و دوستی کرنا۔ خالص خیر

خواہی کرنا۔ اَمْحَصَنَّ الحَدِيثَ - راست

گفتاری کرنا۔

المَحَصَّنُ - م - مِنَ اللَّبَنِ وَنَحْوِهِ - خالص

دودھ وغیرہ۔ ح - مِحَاصِنٌ -

المَحِصْنُ وَالْمَحَاصِنُ - خالص دودھ کا شاق

رَجُلٌ مَحَاصِنٌ - خالص دودھ والا۔

الأَمْحَوْمَةُ - سب سے اور خالص نصیحت۔

المُحَوْمِيُّ - خالص - مَوْتٌ مَحْوَمَةٌ

وَفَنَةٌ مَحْوَمَةٌ - چاندی خالص۔

مَحَطَّ - ن - مَحَطًّا وَمَحَطَّ - الوَثْرُ

تانت کو برابر کرنے کے لیے سونٹنا۔

السَّهْمُ - تیر چلانا۔ اَمْتَحَطَّ - البَعْدُ

اونٹ کا دوڑنا۔ السَّيْفُ - تلواریخنا۔

الْوَمْعُ - نيزہ کھینچنا۔ عَامٌ مَحِطٌّ -

کم بارش کا سال۔

مَحَقَّ رَن، مَحَقًّا - ايشی - باطل کرنا۔ مَثَانَا

أَللَّهُ الشَّيْءُ - کھانا۔ بَرَكْتُ كَهُونَا -

فَلَانًا - ہلاک کرنا۔ اَلْحَوَّ - ايشی - جَلَانَا -

مَحَقَّ - الرَّجُلُ - قَرِيبُ المَرْگِ هُونَا - مَحَقَّ -

ایشی - باطل کرنا۔ مَثَانَا -

أَمْحَقَّ - المَالُ - مال کا ہلاک و برباد ہونا۔

الرَّجُلُ - کسی کے مال پر تباہی پڑنا۔

القَمَرُ - چاند کا ہینہ کی آخری راتوں میں

ہونا۔

تَمَحَقَّ وَانْمَحَقَّ وَامْتَحَقَّ وَامْتَحَقَّ -

مضعل ہونا۔ باطل ہونا۔ مَثَانَا - اَمْتَحَقَّ

أَلْحَوَّ - ايشی - جَلَانَا - النَّبَاتُ - خشک

ہونا اور گرمی سے جلنا۔ الرَّجُلُ - قَرِيبُ

المَرْگِ هُونَا - ايشی - چیز کی خیر و برکت جاتی

رہنا۔

المَحَقُّ - کھور کے قریب قریب گئے ہوئے

پورے۔

المَحَقَّةُ - ہلاکت۔ المَحَاقُ وَالْمَحَاقُ

وَالْمِحَاقُ - قمری ماہ کا اخیر یا آخری

تین راتیں۔

المَحَاقُ - نَا - مَحَاقُ الصَّيْفِ - موسم

گرمی کی شدت۔ یَوْمٌ مَحَاقٌ - سخت

گرم دن۔

الأَمْحَوْمَةُ - بے برکت۔

مَحَكَّ - ن - مَحَكًا وَمَحَكَّ - س،

مَحَكًا وَامْحَكَّ وَتَمَحَكَّ - الرَّجُلُ

کلام میں جھگڑنا۔ جھاؤ کرنے میں جھگڑ کرنا۔

دفت، مَحَكٌ وَمَا حَكَ وَمَحَاكَتٌ -
 مَا حَكَكَ مَا حَكَتَهُ - فَلَانَا - مَحْكِرَانَا -
 تَمَاحَكَ - آپس میں مَحْكِرَانَا -
 الْمُتَمَحِكُ - مَحْكِرَانَا - بدخلق -
 مَحِيلٌ رَسٌّ وَمَحِيلٌ رَسٌّ مَحَلَةٌ وَمُحْوِلٌ
 وَمَحِيلٌ رَسٌّ مَحَالَةٌ الْمَكَانُ - قَطْرٌ
 ذَرٌّ هَوَانَا - مَفْتٌ - مَا حَجَلٌ -
 مَحِيلٌ رَسٌّ، وَمَحِيلٌ رَسٌّ، وَمَحِيلٌ رَسٌّ،
 مَحَلَةٌ وَمَحَالَةٌ - يَمِ إِلَى الْأَمِيرِ
 امیر سے چغلی کھانا - مَفْتٌ (مَا حَجَلٌ) وَ
 مَحْوَلٌ وَمَحَالٌ -
 مَحَلٌ - بِصَاحِبِهِ - بَتَانِ لَكَانَا -
 مَحَلٌ - فَلَانَا - قَوِي كَرْنَا - اِثْنٌ - لِبَا كَرْنَا -
 مَا حَلَّتْ مَحَالَةٌ وَمَحَالَةٌ - مَحْكِرَانَا -
 قَوْتِ أَرْزَانِي كَيْ لِيءِ أَيْسٍ مِي زَوْر كَرْنَا مَحْوَلٌ
 كَرْنَا - بَتَانَا - مَحْكِرَانَا -
 أَمَحَلٌ - الْمَكَانُ - قَطْرٌ ذَرٌّ هَوَانَا - مَفْتٌ مَحِيلٌ
 زَمِينٌ - مَحِيلٌ وَمَحِيلَةٌ - الْمَطْمَأُ
 بَارَشٌ كَارْنَا - الْقَوْمُ - قَوْمٌ كَارْمَطْرُ ذَرٌّ
 هَوَانَا - مَفْتٌ (مَحِيلُونَ) اللَّهُ الْأَوْفَى
 قَطْرٌ ذَرٌّ كَرْنَا -
 تَمَحَّلٌ - الشَّيْءُ ذَلَةٌ - حَيْدٌ سَلْبٌ كَرْنَا -
 لِيْلَانِ حَقْفَةٌ - حَقْنٌ حَاصِلٌ كَرْنَا كِي تَوْرِي
 كَرْنَا - اَلْبَدَلُ هَمٌّ - دَرَاهِمٌ پَر كَرْنَا -
 تَمَاحَلُ الْقَوْمِ - آپس میں حَيْدٌ بَارَشِي كَرْنَا -
 تَمَاحَلَتْ بِهَمِّ الدَّارِ - كَرْمٌ ذَرٌّ هَوَانَا -
 الْمَحَلُّ - دَهْوَا - مَكْرٌ - خَبَارٌ - شَتَّتٌ - قَطْرٌ
 بَارَشٌ كِي دَكَوْثٌ اَلدَّزَمِيْنِ كِي عَشِي كِي مَحْتِ
 بَعُوْكَ - ح - مَحْوَلٌ وَمَحَالٌ -
 الْمَاحِلُ - نَا - مَحْكِرَانَا - رَأَيْتُهُ مَا حَلَّتْ بِهَمِّ
 نَسَّاسٌ كُوْرَنِكٌ بَدَلَا هُوَا ذَكِيَا - اَرْضٌ مَحَلٌ
 وَمَحَلَةٌ - قَطْرٌ ذَرٌّ زَمِينٌ -
 الْمَحَالُ - بَرِي حَرْمِي - اَيْكٌ بَتَمٌ كَارِيُوْر -
 الْمِحَالُ - فَرِيْبٌ - مَكْرٌ - مَحْكِرَانَا - دَسْمِي - مَذَابٌ
 مَصِيْبَتٌ - شَدَّتٌ - قَوْتٌ - هَلَاكٌ - هَلَاكٌ

کرنے -
 الْمَحَالَةُ - بَرِي حَرْمِي - اَوْنَتٌ كِي پِيْطِيْءٌ كَا مَهْرَةٌ
 لَكْرِي مِي پَر كَهْرِي هُوَا كَرْمَلٌ كَرْمِي - ح -
 مَحَالٌ اور اِس كِي جَمْعٌ مَحَالٌ -
 اَلْمَحَالَةُ - فَرْدِي - لَابِدٌ - بِيْشِكٌ -
 الْمَحِيلُ - دَهْوَا زَا هُوَا اِيْهَانٌ تَك كَرْمَلٌ
 دَحَلٌ مَحَلٌ - مَكْرٌ - حَيْدٌ بَارَشٌ -
 الْمَحَالُ - مَكْرٌ - دَهْوَكِي بَارَشِيْطَانٌ -
 الْمُتَمَحِّلُ - لِبَا اَدْمِي اِيْ اَوْنَتٌ - فَلَانٌ -
 مَتَاعِلَةٌ - دَسِيْعٌ رِيْكَسْتَانٌ -
 الْمَحْمَلَةُ - دُوْدَهٌ كَا مَشِيْزَه -
 مَحْوَلٌ رَسٌّ مَحْمَلٌ - فَلَانَا - اَرْزَانَا - اَلْعَشِيْرَتِيْنِ
 سَوُوْطَا - كُوْرَسٌ نَارَانَا - اَلْفِيْضَةُ - چَانْدِي
 كُوْنِيَا كَرْمَانٌ كَرْنَا - اِسْمٌ رَا اَلْمِحْمَلَةُ اَلتَّوْبُ
 كِيْطَرَا اِيْنٌ كَرْمَلٌ كَرْنَا - فَلَانَا سَكِيْبِيَا - دِيْبَا -
 اَلدُّوْرُ - كَنُوْبِي كِي مِثِي لَكَانَا - اَلثَّاقَةُ -
 اَوْنَتِي كُوْرْمَلَا كَرْمَلَانَا - (وَمَحْوَلٌ) اَلدَّيْمِ
 حَيْدٌ سَلْبٌ كُوْرْمَلَا كَرْنَا -
 اِمْتَحَنٌ - اَلشَّيْءُ - حِيْزٌ كُوْرْمَلَانَا - اَلْقَوْلُ -
 غَوْرٌ كَرْنَا - سَوِيْبَانَا - اَلْفِيْضَةُ - چَانْدِي كُو
 تِيَا كَرْمَانٌ كَرْنَا -
 اَلْمَحْنُ - مَمٌ - هَرْمٌ حِيْزٌ - چَلْنِي يَا كَامٌ كِي
 تَعْمَلُ - عَطِيْبَةٌ - مَحْمَلٌ -
 اَلْمِحْمَلَةُ - اَرْزَانَشٌ ح - مَحْنٌ - مَحَا
 يَمْحُوْا وَيَمْحِي مَحْوَلٌ وَمَحِي - اِثْنٌ
 مِثْنَا -
 تَمَحِّي تَمَحِّيَا - مِيْنِ الْقَوْمِ - مَعَانِي كِي زَوْرَتِ
 كَرْنَا -
 اَلْمَحْوُ - مَمٌ - چَانْدٌ كَا سِيَاهٌ دَارُغٌ -
 اَلْمَحْوَةُ - عَارٌ - بِيْ غَرْمِي - بَارَشٌ - لَمُوْر -
 اَلْمَحْوَةُ - مَغْرَبِي يَا شَمَالِي هُوَا اِيْوَا بَادَلٌ كُو اُرَا
 دِيْتِي هِي -
 اَلْمِحْمَالَةُ - پُوْرْمَلِي كَا حَيْطِيْرَا - تَوْرِي -
 مَحَالٌ اِيْمْعَالَةٌ وَيَبْعِيْبُهُ مَحْمَلٌ - مِثْنَا -
 مَفْحَمٌ مَفْحَمًا وَنَمْحَجٌ وَنَمْحَجٌ اَلدَّوْرُ

وَبَالْقَوِي - پَانِي بَعْرِي كِي يِيءِ ذَوَل
 كُو بَلَانَا -
 مَحْمَجٌ وَنَمْحَجٌ وَنَمْحَجٌ - اَلْعُظْمُ -
 بَدِي سِيءِ كُو دَا لَكَانَا -
 اَمْحٌ - اَلْعُظْمُ - بَدِي كَا كُو دَسِ دَارٌ هَوَانَا -
 اَلنَّشَاةُ - مَوِي هَوَانَا - اَلْعَوْدُ - لَكْرِي
 كَا تَر هَوَانَا - اَلزُّدْعُ - كَصِيْتِي كَا پَرْمَنْزِي
 اَلْمِخٌ - كُوْرَا - بِيْجِيَا - خَالِصٌ - اَلْمَكْحَلُ كِي
 ح - مَحْمَجٌ وَنَمْحَجَةٌ -
 "لَا اَرِي لِأَمْرِي كٌ مَحْمَجٌ" مِيْنِ نَمَارِ
 كَامٌ مِي بَعْلَانِي اور خِيْرٌ نَمِيْنِ دِكْمَتَا هُوَا
 "هُوَ كَرْمَلٌ مَحْمَجٌ اَلْقَوْمِ وَمَحْمَجَةٌ اَلْقَوْمِ
 يِي قَوْمٌ كِي بَرْمَزِيْدِي هِي -
 اَلْمِخٌ - نَزْمٌ - اَلْمَحْمَجَةُ - بَدِي كَا دَهْوَا
 حُو چُو سِنِي سِي مَنِي آئِي -
 اَلْمَحْمَجُ - كُو دَسِ دَارٌ بَدِي ح - مَحْمَجٌ -
 مَحْمَجَةٌ - دَنٌ، مَحْمَجٌ وَنَمْحَجٌ
 اَلسَّفِيْنَةُ - كِيْتِي كَا پَانِي كُو اَوَازِ كِي
 سَاكِرٌ چِيْرَانَا - مَحْمَجٌ اَلدَّهْنُ - زَمِيْنٌ
 كُو سِيْرَابٌ كَرْنَا - اَلسَّالِيْحُ - تِيْرِنِي دَالِي
 كَا پَانِي كُو هَاتھُوں سِي چِيْرَانَا - اَلذَّئِبُ
 اَلنَّشَاةُ - بِيْطِيءِ كَا بَكْرِي كِي پِيْٹِ كُو
 پَحْلُوْرَانَا -
 مَحْمَجٌ - ن - مَحْمَجٌ - اَلْبَيْتُ - عَمْدَةٌ
 سَامَانٌ لِي لِيْنَا -
 اَمْتَحُوْرٌ وَنَمْحَجُوْرٌ وَاسْتَمْتَحُوْرٌ - اَلرِّيْعُ
 هُوَا كِي طَرَفٌ نَاكٌ كَرْنَا - هُوَا كِي سَمْتٌ مِيْنِ
 پِيْطِيءِ كَرْنَا -
 اَمْتَحْمَجُوْرٌ - بَدِي كَا كُو دَا لَكَانَا - اَلشَّيْءُ -
 اَفْتِيَارٌ كَرْنَا - بَنَاتٌ مَحْمَجُوْرٌ - بَلَكِي
 سَفِيْدٌ بَادَلٌ -
 اَلْمَحْمَجَةُ - مَنِي كِي بَدَلُو - اَوَا اَلْمَحْمَجَةُ
 وَنَمْحَجَةٌ - اَلْمَحْمَجَةُ - اَلْمَحْمَجَةُ -
 اَلْمَحْمَجَةُ - مَوْنَتٌ - اَلْمَحْمَجَةُ - كِيْتِي
 ح - مَوَاخِيْرُوْرٌ -

الْمَاخُودُ - بدکاروں کی مجلس - آوارگی کا
اڈہ - بدکاری کے اڈے کا متوقی - ج -
مَوَاحِرُ وَمَوَاحِشُ -

الْمَخْرُوقُ مَخْرُوقَةٌ - جھوٹ بولنا جھوٹ
تراشنا -

مَخْفِيٌّ - ن - ن - مَخْفِيٌّ - اللَّيْنُ
مخفی ہونا - سخت مغربی رمخفیض
مَخْفُوفٌ - الشبی - زور سے

بانا - الرَّأْيُ - رائے پر خوب غور کرنا -
بِالدُّوِّ - پانی بھرنے کے لیے ڈول کو پلانا

مَخْفِيٌّ - س - مَخْفِيٌّ وَمَخْفِيٌّ
مَخْفِيٌّ وَمَخْفِيٌّ وَمَخْفِيٌّ
الْحَامِلُ - حاملہ کا درد زہ میں مبتلا ہونا -

سخت رہنا مَخْفِيٌّ ج مَخْفِيٌّ وَمَوَاحِشُ
مَخْفِيٌّ - دودھ کے بلوئے جانے کا وقت
قرب آنا - بچے جننے کے قریب اونٹنیوں
والا ہونا -

أَمْتَحَضَ وَتَمَحَضَ - اللَّيْنُ - دودھ
کا مکھن نکالا ہوا ہونا - الْوَلْدُ - بچہ
کا مال کے پٹ میں پھرنا -

تَمَحَضَتْ - الشَّمَا - برسنے کے قریب ہونا
تَمَحَضَ الدَّهْرُ وَالْفِتْنَةُ - زمانہ
نے نساد پیدا پیدا کر دیے -

اسْتَمَحَضَتْ الْحَامِلُ - حاملہ کا درد زہ
میں مبتلا ہونا -
الْمِخَاضُ - درد زہ -

الْمِخَاضُ - دودھ جب تک بلونی میں
رہے -
الْمِخْفِضُ وَالْمِخْفِضَةُ - مشکیزہ - دودھ
بلونے کا برتن - بلونی - ج مَخْفِيٌّ -

مَخْطُورٌ - مَخْطَا - ایشی - کھینچ کر لبا کرنا
الْحَمَلُ يَمُوتُ - تیز دورنا - الرَّجُلُ فِي
الْأَرْضِ - تیز چلنا - الْوَلْدُ - باپ کے

مشابہ ہونا - عَرَسَ فَلَانٌ - پورے
کو پانی پلانا اور اس کی غور و پرداخت کرنا -

السَّيْفُ - تلوار سونٹنا - الْمَخَاطِرُ رَيْثُ
صاف کرنا - الصَّبِيُّ - بچہ کی ریت صاف
کرنا - الْبَيْدُ - مارنا - مَخْطَا وَمَخْطَا

السَّهْمُ - تیر کا پار ہونا - مَخْطٌ
مَخْطٌ - الْوَلْدُ - بچہ کی تا کبر لہجہ - اسْمَخَطُ
السَّهْمُ - تیر کو پار کرنا -

إِمْتَحَطَ وَالتَّيْ - مَخِينٌ لَيْنًا - السَّيْفُ
سُونٹنا -
إِمْتَحَطَ وَتَمَحَطَ - ریت صاف کرنا -

تَمَحَطَ - الرَّجُلُ - چلنے میں روکھانا -
الْمَخْطُ - م - راکھ - چھوٹا کپڑا

الْمَخَاطُ - ریت - ناک کی ریش - ج -
الْمُخْطَةُ - مَخَاطُ الشَّيْطَانِ - دوپہر
کے وقت مکاری کے جالے کی طرح اوپر

سے نیچے آتی ہوئی دکھائی دینے والی چیز -
اس کو مَخَاطُ الشَّمْسِ اور لَعَابُ
الشَّمْسِ بھی کہتے ہیں -

الْمَخْطُ - نِصْرٌ - سردار - ج - اَمَخَاطُ
الْمُخْطَةُ - ایک دفعہ کا ناک جھاڑنا -
الْمُخْلُ - بڑے بڑے پتھر ٹھکانے یا لورٹے

کا آلہ - ج - اَمَخَالٌ وَمُخُولٌ -
مَخْمَخَةٌ - گودا نکالنا -
مَخْنٌ ان مَخْنًا - دونا - الْبُزُّ كُنُوزِي

سے پانی نکالنا - الْعُودُ لُكْرِيٌّ جَمِيلًا -
مَخْنٌ - ن - مَخْنًا وَمُخُونًا - لبا ہونا -
سنت - مَخْنٌ وَمَخْنٌ - موت - مَخْنَةٌ
وَمَخْنَةٌ -

الْمِخْنُ - لبا آدمی - الْمَخْنَةُ - گھر کا مین
مَخْنٌ - الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ - بہتانا -
دور کرنا -

أَمَخَى أَمَخَاءً وَأَمَخَى أَمَخَاءً وَ
تَمَخَى وَأَمَتَخَى - الْبَيْدُ - عذر کرنا -
وَمِنَهُ - بری ہونا - بیزار ہونا - تَمَخَى
الْعَظْمُ - ہڈی کا گودا نکالنا -

مَدَّ دُنَّ مَدًّا - الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ - پھیلانا
مَدَّ دُنَّ مَدًّا - الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ - پھیلانا

کھینچنا - اللَّهُ عَمَّوَةٌ - زندگی دراز
کرنا - مِنَ الدَّوَاةِ - دوات سے
روشنائی لینا - الْهَمُّ وَالْهَمُّ - سلا

یا سمندر کا چرھنا - پانی بڑھنا (لازم متون)
مَدَّ نَظْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ - اس نے اس کی
طرف اپنی نگاہ کی - مَدَّ الْأَرْضَ زَمِينَ

میں مٹی یا کھاؤ ڈالنا - الْحَرْتُ حَرْتٌ
کو کھینچ کر بڑھنا - الْإِبِلُ - پانی میں
جو یا آنا یا تیل بلا کر پینا - السَّوَاجُ

يَا السَّلْبِيَّةَ - چراغ میں تیل ڈالنا - فِي
السَّيْرِ - گزنا - مَدَّ دَامَدَ الرَّجُلُ
مہلت دینا - فریاد رسی کرنا - اعانت و

مدد کرنا - لُفِي عَيْتَهُ - گمراہی میں زیادتی
کرنا - الْعَبْدُ - فوج کو ملک پہنچانا -
الْمَهَارُ - دن کا چرھنا - الدَّوَاةُ -

دوات میں روشنائی یا پانی ڈالنا -
زیادہ کرنا - أَمَدٌ فِي مَشِيئِهِ جَمَالٌ
میں مُسَدٌ - ناز و انداز سے چلنا - أَمَدٌ

لِللَّهِ فِي خَيْرٍ - زیادہ کرنا - أَحْبَابُهُ
دراز کرنا - مَوْخِرٌ كَرْنَا - فَلَانًا يَمَالُ -
دینا - الْمَبْعُورُ - اونٹ کو جو یا تیل یا آنا

بلا ہوا پانی دینا - أَمَدًا الْجُرْحُ -
زخم میں پیپ پڑنا -
مَدَّ دُنَّ - ایشی - پھیلانا -

مَادَّةٌ مَدَّ إِذَا مَادَّةٌ - بمعنی مَدَّ
مال سول کرنا - مَادَّةُ الثَّوْبِ - ایک
دوسرے کے کپڑے کھینچنا -

تَمَادًا - الثَّوْبُ - بل کر کپڑا کھینچنا -
تَمَادًا وَإِسْتَدًا - پھیلنا - انگریزی لینا -
إِسْتَدَّ بِهِمُ السَّيْرُ - کھینچ جانا اور لہو لہو

فِي مَشِيئَتِهِ - ناز و انداز سے چلنا -
إِسْتَدَّ - دیکھنا - الْهَارُ دُنَّ كَأَدَا
ہونا -

إِسْتَمَدَّ - الْقَوْمُ إِذَا مِيرَعَى الْعَدُوَّ
قوم کا امیر سے دشمن پر مدد مانگنا

الْمَدَّاءُ - دوات سے روشنائی لینا۔
 الْمَدُّ - مہ، سیلاب، ج۔ مَدُّوْدٌ - حد
 منتہی، مَدَّاءُ النَّبَعِ - سمندر کے
 پانی کا خشکی کی طرف بڑھنا۔
 الْمَدُّ وَالْمَدَّةُ - مد، آ۔
 الْمَدُّ - ایک پیمانہ جس کی مقدار اہل حجاز کے
 نزدیک ۱۰ اور اہل عراق کے نزدیک ۲
 رطل ہے۔ ج۔ اَمْدَادٌ وَصِدَادٌ
 وَمَدَدَةٌ -
 الْمَدَّةُ - مَدَّاءُ کا اسم، دوات میں قلم
 کا ایک مرتبہ ڈالنا۔
 الْمَدَّةُ - عرصہ، زمانہ کا ایک حصہ کم ہو یا
 زیادہ۔ زمانے یا مکان کی غایت و انتہا
 ایک مرتبہ قلم سے سی ہوئی سیاہی، ج۔
 مَدُّوْدٌ -
 الْمَدَّةُ - پیپ۔
 الْمَدُّ - مدد، سرمد، سی۔
 الْمَدَّانُ وَالْمَدَّانُ - کھاری پانی
 یا بہت کھاری پانی۔
 الْمَدَّادُ - مہ، روشنائی، کھاؤ، چراغ
 کا تیل، مثال و طریقہ۔
 الْمَادَّةُ - جس سے کسی چیز کی ترکیب ہو۔
 مادہ خلط، لگاتار، زیادتی، ج۔
 مَوَادُّ وَمَادَاتٌ -
 مَوَادُّ اللُّغَةِ - لغت کے الفاظ، مَوَادُّ
 الْعِلْمِ - علم کی چیزیں۔
 الْمَادِيَّةُ - مادہ کی طرف منسوب، مادہ
 پرست، صرف مادہ کا وجود ماننے والا۔
 الْمَدِّيَّةُ - تانا۔
 الْأَمْدَادُ - عادت۔
 الْمَدِّيَّةُ - کھینچا ہوا، لبا، ٹوٹ، مَدِّيَّةٌ
 مَدَّةٌ مَدِّيَّةٌ - لمبی مدت، ج۔ مَدُّوْدٌ
 چارہ، علم عروض کی ایک بحر کا نام ہے۔
 الْمَدِّيَّةُ - تقویر اعرصہ۔
 الْمَمْدُ - مسد مہمی، چیز کے کھینچنے کی جگہ۔

الْمَمْدُ - علم عروض کی ایک بحر کا نام الْمَمْدُ
 منیع، پھیلا ہوا، لمبا کیا ہوا۔
 مَالٌ مَمْدُوْدٌ - بہت مال، علم صرف میں ہر
 وہ اسم معرب جس کے آخر میں جہزہ ہو اور
 اس سے پہلے الف زائدہ جیسے صواوہ۔
 مَدَّحَةٌ، مَدَّحٌ وَمَدَّحَةٌ - تعریف
 کرنا، سَادَّحَةٌ - تعریف کرنا۔
 تَمَدَّحٌ - موجود نہ ہونے والی صفات پر فخر کرنا
 خود بخود تعریف کرنا، السَّوْجَلُ - تعریف
 کرنا، اِلَى النَّاسِ - لوگوں سے تعریف
 چاہنا۔
 اِمْتَدَّحٌ - فَلَانَا - تعریف کرنا، رَوَّ
 اَمْدَحٌ، وِسع ہونا۔
 تَمَادَّحٌ - القوم - ایک دوسرے کی تعریف
 کرنا۔
 الْمَدَّحَةُ - مَدَّحٌ کا اسم، تعریف، مَدَّحٌ
 الْمَدِّيْحُ - ج۔ مَدَّالِيْحٌ وَ الْمَدَّوْحَةُ
 ج، اَمْدِيْحٌ - تعریف۔
 مَدَّخٌ، مَدَّخٌ - بڑا ہونا، فَلَانَا
 کسی کی پوری پوری مدد کرنا۔
 مَا دَخَهُ - خیر یا شر پر کسی کی مدد کرنا۔
 تَمَدَّخٌ - بکھر کرنا، اونٹ کا بہت
 چربی والا ہونا۔
 تَمَادَّخٌ وَ اِمْتَدَّخٌ - عَلَيْهِ - ظلم کرنا۔
 عَنْهُ - بستی کرنا۔
 الْمَادِيْحُ وَ الْمَدِّيْحُ وَ الْمَدِّيْحُ - مغز
 معظم۔
 الْمَدَّوْحُ وَ الْمَمْدَاْحُ - جلدی کام کرنے والا
 مَدَّوْحٌ، مَدَّوْحٌ - الْمَدَّوْحُ - الْمَدَّوْحُ
 کسی جگہ کو مٹی سے لپٹنا، الْحَوْضُ -
 حوض کی پتھر کی جھری کو مٹی سے بند کرنا۔
 مَدَّوْحٌ - بیٹ کرنا۔
 مَدَّوْحٌ، مَدَّوْحٌ - بڑے پیٹ والا
 ہونا۔
 تَمَدَّوْحٌ - مٹی سے لپٹ جانا۔

اِمْتَدَّوْحٌ - لپٹنا۔
 الْمَدَّوْحُ - مٹی کا ڈھیلا، بغیر ریت کی
 کچھڑ، شہر و دیہات۔
 الْمَدَّوْحَةُ - مٹی کا ایک ڈھیلا، مَدَّوْحَةُ
 الْمَرْحَلِ - آدمی کا گھر، فَلَانٌ سَيِّدٌ
 مَدَّوْحِيَّتِهِ - فلاں اپنے شہر کا
 سردار ہے۔
 الْمَدَّوْحِيُّ - دیہاتی، اَلْمَدَّوْحِيُّ - بڑے
 پیٹ والا، بہت پائیمانہ کرنے والا۔
 جو روک بھی نہ سکتا ہو، دونوں پہلوؤں
 سے خاک آلودہ، غبار آلود۔
 الْمَدَّوْحِيُّ - بڑے پیٹ والی، بَجْوَةٌ -
 بِنُوْمَدَّوْحِيَّةٌ - شہری لوگ۔
 الْمَدَّوْحِيُّ وَالْمَدَّوْحِيُّ - مٹی لینے
 کی جگہ، اِبْنُ مَدَّوْحِيَّةٍ - مٹے اونٹ۔
 مَدَّوْحِيَّةٌ، مَدَّوْحِيَّةٌ - الْجِلْدُ - چمڑے
 کو ملنا۔
 مَدَّوْحِيَّةٌ، مَدَّوْحِيَّةٌ - عَيْنُهُ - بھوک
 وغیرہ سے آنکھ کا تاریک ہونا، چنڈھیانا۔
 يَدُّوْحَةٌ - ہاتھ کا ڈھیلے پھول اور کم گوشت
 والا ہونا، صفت، اَمْدَشٌ - مَوْنَشٌ -
 مَدَّوْحِيَّةٌ - ج۔ مَدَّوْحِيَّةٌ -
 مَدَّوْحِيَّةٌ، مَدَّوْحِيَّةٌ - مِنَ الطَّعَامِ -
 فقور اکھانا، لِفْلَانٍ مِنَ الْعَطَاءِ -
 فقور دینا۔
 مَدَّوْحِيَّةٌ وَ اَمْدَشٌ - دینا، مَرْجُلٌ -
 مَدَّوْحِيَّةٌ - چور۔
 الْمَدَّوْحِيَّةٌ - مہ، بھوک یا گرمی سے آنکھ کا
 چنڈھیانا، ہاتھ کے پھول کی کستی اور
 دُبلان، عورت کے پستان میں گوشت
 کی کمی، پاؤں کی پٹھن، چہرہ کی سُرخی اور
 خشونت، بے وقوفی، مَا يَهْمُ مَدَّوْحِيَّةٌ
 اَوْ مَدَّوْحِيَّةٌ - اس کو کوئی بیماری نہیں۔
 الْمَدَّوْحِيَّةٌ - بیوقوف، ناریل کا تھول جس
 کا مغز نکال لیا گیا ہو۔

الْمُدِّيُّ - مطعون نسب والا -
 مَدَّقِي، مَدَّقَا - الصَّخْرَةُ -
 جِيَان تُوْرْنَا -
 تَمَدَّل - بِالْمَبْدِيْلِ - سر پر رومال یا عامر
 باز دھنا -
 مَكَّنَ رَن، مَدُّوْنَا - بِالْمَكَانِ - آنا
 كَرَنَ بِالْمَدِّيْنَةِ - شہر میں آنا -
 مَدَّار - الْمَدِّيْنَةُ - شہر بنانا - آباد کرنا -
 تَمَدَّدَ - شالستہ و بھڑب ہونا -
 تَمَدَّدَ - آسویہ حال ہونا -
 الْمَدِّيْنَةُ - شہر - قصبہ -
 (ج) مَدَّنٌ وَ مَدَّنٌ وَ مَدَائِنٌ -
 الْمَدِّيْنَةُ - مدینہ منورہ جس کا نام ہجرت
 سے پہلے یثرب تھا -
 مَدِّيْنَةُ السَّلَامِ - بغداد -
 الْمَدَائِنُ - بغداد کے قریب ایک شہر
 جس میں کسری کا ایوان تھا -
 الْمَدِّيْنُ - شہر - الْمَدَائِنُ - ایک بت کا نام
 مَدَّهْنٌ، مَدَّهْنٌ - تعریف کرنا - صفت
 (ماد۱) ج - مَدَّهْنٌ -
 تَمَدَّدَ - الرَّجُلُ - خود بخود تعریف کرنا -
 تعریف کرنا -
 مَادِيٌّ مَمَادَاةٌ - فَلَانَا - مہلت دینا -
 فَلَانٌ لَدَيْمَادِيٍّ أَحَدٌ - فلاں کا
 غایت میں کوئی مقابلہ نہیں کرتا -
 اَمْدِيٌّ - اِمْدَاءٌ - فَلَانَا - مہلت دینا -
 الرَّجُلُ - زیادہ عمر والا ہونا - زیادہ
 دودھ پینا -
 تَمَادِيٌّ - فِي عَيْبِهِ - گمراہی میں دیر تک ہنا
 اس پر اصرار کرنا - فِي الْاَدْمِيِّ - انتہائی
 پہنچنا - بِنَا السَّفَرُ - سفر کا دراز ہونا -
 الْمَدِّيُّ وَالْمُدِّيَّةُ وَالْمِيدَاةُ - غایت
 حد - فاصلہ - کہتے ہیں ڈاڑھی مِيدَاةُ
 دَايِرَةٌ - یعنی میرا گھر اس کے گھر کے
 سامنے ہے -

الْمُدِّيَّةُ وَالْمُدِّيَّةُ وَالْمُدِّيَّةُ - بڑی
 چھری - ج - مَدِّيٌّ وَمَدِّيٌّ وَمَدِّيَّتٌ
 وَمَدِّيَّاتٌ -
 الْمُدِّيُّ - ۱۹ صدم کے برابر کا ایک پیمانہ - ج -
 اَمْدَاءٌ -
 الْمَدِّيُّ - جوڑ - حوض کا نیکلا ہوا گندہ پانی
 (ج) اَمْدِيَّةٌ -
 الْاَمْدِيَّةُ - اسم تفضیل -
 فَلَانٌ اَمْدَا اَدَّ الْعَرَبُ - فلاں بول
 میں سب سے زیادہ مغز ہے -
 مَدِّيْحٌ (س) مَدِّيْحًا وَ تَمَدِّيْحٌ - ایشی چیز
 کا کشادہ ہونا - پھولنا -
 تَمَدِّيْحٌ - الْاِنْفَاعُ - برتن کا بھرنا - الْاِبْيَاحُ
 رِخْرِيزہ کا پینا -
 مَدِّيْحٌ تَمَدِّيْحًا - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا
 مَدِّيْحٌ (س) مَدِّيْحًا - رگڑ کھانے یا پسینہ
 آنے سے راتوں یا غصیوں یا سرخیوں
 کا جلنا - سوزش کرنا - صفت (ماد۱) ج -
 تَمَدِّيْحٌ - ایشی - پوسنا - الْاَمْدَمُ - بڑبڑ
 الْمَدِّيْحُ - مہر جنگلی انار کے پھول کا شہید -
 مَدِّيْرَتٌ (س) مَدِّيْرًا - الْاَبْيَضَةُ - انڈے
 کا خراب و بدبودار ہونا - گندہ ہونا -
 صفت - (س) مَدِّيْرًا الرَّجُلُ - پانی کے
 خزانہ کی طرف بہت آمدورفت رکھنا -
 مَدِّيْرٌ - ایشی - بگھیرنا - پراگندہ کرنا -
 اَمْدَمَاتٌ - الْمَدِّيْحَةُ الْاَبْيَضَةُ - مرنی
 کے انڈے کو گندہ کرنا -
 تَمَدِّيْرًا - پراگندہ ہونا - دودھ کا پھینا -
 کہتے ہیں - تَمَدِّيْرًا الْقَوْمُ شَدَّ مَرًا -
 مَدِّيْرًا - قوم ہر طرف پکھری - الْمَدِّيْرُ -
 مرنے والا گندہ - مِیْلَا -
 الْاَمْدَمُ - وَاثَرًا وَسُ كِي طَرَفٍ هَيْتِ
 آمدورفت رکھنے والا -
 الْمَدِّيْرَةُ - مِنَ النِّسَاءِ - جنجل خورد ہوت -
 مَدِّيْرَةٌ، مَدِّيْرَةٌ، مَدِّيْرَةٌ - يَمِيْنًا

تَمَّ كَهَانًا - مَدَّنَ عَيْتَ الْمِيَاءِ - پانی کا
 پہاڑ کی چوٹی سے بہنا - مَدَّنَ عَيْتَ لِفَلَانٍ
 شہر کا کچھ حقیر بیان کرنا اور کچھ چھپانا -
 (مَدَّنَ عَيْتَ) الْفَرُوعُ - تھن کو نصف دہنا
 تَمَدَّنَ الشُّوَابَ - تَمَدَّنَ الشُّوَابَ - تَمَدَّنَ الشُّوَابَ
 الْمَدِّيْحُ - جھوٹا - بے وفا - غیر مستقل مزاج
 راز نہ چھپانے والا -
 مَدَّقِي، مَدَّقَا - الْمَدِّيْنُ - دودھ میں
 پانی ملانا - فَلَانَا وَ لِفَلَانٍ - پانی بلا
 دودھ ملانا - الْوَدَّ - خالص دوستی
 و محبت رکھنا -
 مَا دَّقِي مَدَّنًا قَا وَمَا دَّقِي - فَلَانَا فِي
 الْوَدِّ - خالص دوستی رکھنا -
 اَمْتَدَّقِي دَامَدَّقِي - الشُّرَابُ اَوْ
 الْمَدِّيْنُ - شراب و دودھ کا پانی سے
 بنا - لَبْنٌ مَدَّقٌ وَ مَدِّيْنٌ وَ
 مَمْدُوْقٌ - پانی بلا دودھ - مَسْجَلٌ
 مَدَّقٌ - رنجیدہ دل گرفتہ آدمی -
 الْمَدَّقَانُ - غیر مخلص - منافق - وَدَّ
 مَمْدُوْقٌ - جھوٹی دوستی -
 مَدَّلٌ - ن - مَدَّلًا وَ مَدَّلًا وَ مَدَّلًا
 (س) مَدَّلًا - لِيَسِيْرًا - راز کھول دینا -
 وَ مَدَّلَتْ دَا - مَدَّلًا الْاَلَهُ الْاَنْفُسُ
 بِاللِّسَانِ - نیا منی کرنا - صفت (مَدِّيْلُ)
 مَدَّلَتْ رِجْلَهُ - پاؤں کا سن ہونا -
 سو جانا -
 اَمْدَكَةٌ - دق کرنا - زبح کرنا - تَنَكُّ
 دل بنانا -
 اَمْدَلٌ اِمْدَلًا لَدَا - سَتٌ اَوْ
 ڈھیلہ ہونا -
 الْمَدَّلُ - سَتِيٌّ - بے عی - کہتے ہیں
 " فَلَانٌ مَدَّلٌ الْمِيْدَاةُ الْاَوْ لِنَفْسِي -
 فلاں نیا منی دسختی ہے - الْمَدَّلُ
 چھوٹے جسم والا -
 الْمَدَّلُ وَالْمَدِّيْلُ - بے قرار - اَزَاثًا

مَرَّتْ (رن من) مَرَّتًا - ایشی - نرم کرنا۔

المَرَاتُ مِمَّ - رَوَا المَرَاتُ (سبزی سے خالی

بیابان - اَوْضُنُّ مَرَاتٌ - سبزی سے خالی

زمین - مَرَاتٌ - مَرَاتٌ و مَرَاتٌ و اَمَارَاتٌ

مَرَجُلٌ مَرَاتٌ - وہ شخص جس کے اڑوں

پر بال نہ ہوں۔

اَوْضُنُّ مَرَاتٌ - بے سبزی دالی

زمین۔

مَرَّتْ (رن من) مَرَّتًا - ایشی - نرم کرنا

الصَّبِيُّ اَصْبَعًا - بچہ کا انگلی چمانا۔

نَدِيٌّ اُمَةٌ - ماں کے پستان چوسنا۔

الرَّجُلُ الرَّجُلُ - مارنا۔ الدَّوَاءُ

فِي المَاءِ - پانی میں دوا بھلونا۔

مَرَّتْ (س) مَرَّتًا - علی الحصام - صابرو

برودار ہونا۔ صفت۔ مَرَّتٌ

مَمَرَّتٌ (ج مَمَرَّتٌ - مَمَرَّتٌ

الثَّرِيدُ ثَرِيدٌ - چورا کرنا۔ ریزہ ریزہ

کرنا۔

مَرَجٌ (س) مَرَجًا - الامْرُودُ العَرَضُ

والا كَامَانَةٌ والِدِيْنُ - خراب ہونا

فاسد ہونا۔ العَاثِمُ فِي الاَصْبَعِ -

انگولی کا انگلی میں ڈھیلنا ہونا۔

مَرَجٌ (ن) مَرَجًا - الدَّابَّةُ - جانور کو

چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑنا۔

مَرَجَتِ الدَّابَّةُ - جانور کا چراگاہ میں

چرنا۔ مَرَجٌ لِسَانًا فِي مَعْوِضِ النَّاسِ

اس نے اپنی زبان لوگوں کی مذمت و

غیبت کے لیے چھوڑ دی ہے۔

مَرَجٌ الكَذِبُ - جھوٹ میں ملوث ہونا

السلطان رَعِيَّتَهُ - نسا د کرنے دینا۔

الامر - کام کو مضبوط نہ کرنا۔ ضائع کر دینا۔

اَمْرُوجُ الدَّابَّةُ - جانور کو آزادی

سے چرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ ایشی

ملانا۔ العَهْدُ - عہد پورا نہ کرنا۔

المَرَجُ مِمَّ - چسراگاہ۔

ج مَرُوجٌ -

المَرَاجُ - بہت بھرکنے والا شعلہ۔

المَرَاجُ - جھوٹا آدمی۔ بکواسی۔

المَرَجَانُ - چھوٹے موتی۔

واحد مَرَجَانَتٌ - مونگا۔

المَرْتَجُ - سفید چھوٹی بڑی جو سینگ کے

درمیان ہوتی ہے۔ ج اَمْرُوجَةٌ -

اَمْرُوجَةٌ - گر بڑ اور بے ترتیب کام۔

سَمَّ مَرْتَجٌ - ہلنے والا تیر۔

المَرَاجُ - بے دھنگا۔ نا اہل۔

مَرَجٌ (س) مَرَجًا و مَرَجَانًا - الزرعُ

کھیتی میں بالی آنا۔ خوشہ نکلنا۔ السَّجَابُ

بادل کا بارش برسانا۔ مَرِيحَتُ مَرِيحَةٍ

آنکھ کا خراب ہونا اور پانی بہنا۔ العَيْنُ

بِمَا تَرَاهَا وَقَدْ اَهَا - آنکھ کا پانی بہانا۔

مَرَجُ الرَّجُلِ اَدْمِيٌّ - بہت خوش ہو کر

انرانا۔ تازہ سے چلنا۔ صفت (مَرِيحٌ)

ج مَرِيحِيٌّ و مَرَاحِيٌّ و مَرِيحِيٌّ - ج۔

مَرِيحِيٌّ -

مَرِيحٌ - الجِدُّ - چڑے پر تیل لگانا۔

المَزَادَةُ الجَدِيدَةُ - نئی مشک کو

پانی سے بھرنا۔ المَبْرُؤُ - گہیوں صاف

کرنا۔ المَهْرُ - بچھڑے کو سدھانا۔

الرَّجُلُ - کسی کا بڑی جنگ میں شامل ہونا

اَمْرُوجَةٌ - خوش کرنا۔ المَرَاجُ - خوشی و

شادمانی۔ اَرَابَةٌ - مَرِيحِيٌّ - کلہ جیب

سے۔ جو تیر انداز کی کامیابی پر بولا جاتا ہے

المَرِيحِيٌّ - بڑی جنگ۔ المَرُوحَةُ -

مَرِيحٌ کا اسم نوح۔ نوشک انگوروں کا

دھیر۔

المَرُودُجُ - شراب۔ چالاک گھوڑا۔

عَمْدَةٌ مَكَانٌ -

المَمْرُوجُ و المَمْرَاجُ - چست و خوش

بہت آنسوؤں والی آنکھ۔ زرخیز زمین

المَمْرُوجُ - نغمہ۔ ستون پر سے ٹکی ہوتی

انگور کی پیل۔

التمْرُودُ - بہت خوش و شادمان۔

مَرُوحَبٌ - فلانا دیکھنا۔ مَرُوحَبًا کنا۔

خوش آمدید کنا۔ اللہ فلانا وسعت

و فراخی میں رکھنا۔ ہ وسعت کی طرت

بلانا۔

مَرُوحٌ (ن) مَرُوحًا - مذاق کرنا۔

جَسَدَةٌ بِالْمَدْهِنِ - جسم پر تیل ملنا۔

مَرُوحٌ مَرُوحًا - العَرَفُجُ - لمبی ساخوں اور

اچھے پتے والا ہونا۔ صفت (مَرُوحٌ)

مَرُوحًا تَيْلٌ مَلَا -

مَرُوحٌ و اَمْرُوحٌ - العَجِينُ - اٹے کو

پانی سے پتلا کرنا۔

تَمْرُوحٌ - بِالْمَدْهِنِ - خود پر تیل کی مالش

کرنا۔

المَمْرُوحُ - ہم ایک قسم کا درخت۔

المَمْرُودُجُ - وہ چیز جس سے مالش کی

جائے۔

المَرَاخُ - نا۔ مَاءٌ مَرَاخٌ - ہینا ہوا پانی۔

المَرُوحُ و المَرُوحِيٌّ - تیل سے مالش کیا ہوا

آحق۔ نرم پتلا درخت۔ المَرُوحِيٌّ ایک

سیارہ ستارہ۔

المَمْرُوحُ - دم۔ المَمْرُوحُ - سینگ کے

اندک کا چھوٹا سینگ۔ ج اَمْرُوحَةٌ -

قُوْرٌ اَمْرُوحٌ - سُرخ و سفید نقطوں والا

پیل۔

مَرُودٌ (ن) مَرُودًا و مَرُودًا - مَرُودَةٌ

و مَرُودَةٌ - نافرمان و سرکش ہونا۔

ہمسروں سے آگے نکلنا۔ مَرُودَةٌ عَلَى

النَّفَاقِ و نَحْوَهُ - نفاق پر چبے رہنا۔

مَرُودٌ (ن) مَرُودًا - ایشی نرم کرنا۔ صاف

کرنا۔ کائنا۔ فلانا بے عزتی کرنا۔

الدَّابَّةُ - جانور کو زور سے ہانکنا۔

الصَّبِيُّ نَدِيٌّ اَمْرُوجٌ - بچہ کا پستانوں

کو چوسنا۔ المَلَاخُ السَّفِينَةُ -

ملاح کاشتی کو چپوؤں سے کھینا۔
 الشیء فی الماء پانی میں ملنا۔ الغصن
 ٹہنی کی چھال اتارنا۔
 صرد (س) صردا و صردة۔ الغلام
 لڑکے کا دیر تک بے ریش رہنا۔
 صرد تمریداً او تمراداً۔ الغصن
 ٹہنی کے پتے صاف کرنا۔ البناء۔
 عمارت کو ہموار و چکنا کرنا۔ لمبی کرنا۔
 صرد۔ مدت تک امر درہنا۔ سرکشی اور
 نافرمانی کرنا۔
 علی الناس۔ سرکشی کرنا۔ الموجل
 ہمسروں سے برھ جانا۔ تکبر کرنا۔ سرکشیوں
 کے پاس آنا۔
 المراد والمراد۔ گردن۔ ج۔
 صراسرید
 المریدی۔ کشتی کھینے کا چپو۔ ج۔
 مرادی۔
 المراد۔ ن۔ سرکش۔ بلند۔ ج۔ صرد
 و صریدون و صراد
 المرید۔ جینٹ۔ شریر۔ سرکش۔ پانی سے
 طاہر و دودھ۔ دودھ میں بھگوئی ہوئی کھجور
 ج۔ صرداء
 الا صرد لے ریش جوان۔ مونت مراد۔
 ج۔ صرد۔
 المراد۔ بغیر تلوں کا درخت۔ بجز
 بجز زمین۔ ج۔ صراد۔
 المراد۔ کبوتروں کا بروج۔ ج۔ صراسرید
 المرید۔ دلیر۔ سرکش۔
 المراد قوش۔ ایک خوشبودار باریک پتوں
 والی بوٹی۔ زعفران۔
 صرد (ن) صردا۔ کاٹنا۔ چٹکی لینا۔
 عیب لگانا۔ ہاتھ سے مارنا۔
 صرد غیر صرد۔ عیب لگانا۔ شریک
 شریک کا مال اپنے مال سے علیحدہ کرنا۔
 من مالہ صرد۔ کچھ لے لینا۔

صارت زکا صارت زکا۔ مشق و مہارت
 پیدا کرنا۔
 الصارت و الموردة۔ لڑا۔ المورقان۔
 کان کی نو سے اوپر کا بھرا ہوا حصہ۔
 الموردة۔ ایک شکاری پرندہ
 الموربان عند القریس۔ رئیس سردار۔
 ج۔ موربانہ۔ الموربانہ۔ سرداری
 الموربانجوش۔ ایک بوٹی کا نام۔
 صرس (ن) صرسا۔ الدواء۔ دوا کو پانی
 میں بھگونا اور ملنا۔ الصبی اصبعہ۔
 بچہ کا انگلی کو تہ میں لے کر چوسنا۔ یدہ
 بالمنديل۔ ہاتھ کو تویہ سے پونچھنا۔
 حبل البکرۃ۔ چرخ کی رسی کا ایک
 طرف سے گرجانا۔
 صرست (س) صرسا و صرستہ۔
 الامر۔ محنت کرنا۔ مشق کرنا۔ مہارت
 پیدا کرنا۔ ہمیشگی کرنا۔
 امرت۔ حبل البکرۃ۔ چرخ کی رسی کو دوبارہ
 اس پر چڑھانا۔
 صرست و امرت۔ باشی۔ رگڑنا۔
 صرست بالیطیب۔ خوشبو میں رتھڑنا
 بالرجل۔ ایذا دہی کے درپے ہونا۔
 یدینہ۔ دین سے کھیلنا۔ باشی
 مارنا۔ بالنوا تب و الخصومات۔
 حوادث اور جھگڑوں کا خوگر و عادی ہونا
 صرست۔ القوم فی الحرب۔ جنگ میں
 آپس میں مارنا۔
 صرست۔ لگانا چال۔ المورس۔
 کام میں سخت محنت۔ جنگ آزمودہ۔
 چرخ سے اتری ہوئی رسی۔ کہتے ہیں۔
 "ہم علی صرس و اجد" وہ ایک ہی
 اخلاق کے ہیں۔ ج۔ صراس۔
 المرستہ۔ رسی۔ ج۔ صرس و ج۔
 امراس۔ امراس المرکبہ
 سواری کی رسیاں۔

المراس و المرستہ۔ شدت و قوت
 ہو سہل المراس۔ وہ نرم مزاج
 ہے۔ اس کے مقابلہ میں کہتے ہیں۔
 صعب المراس۔ مضبوط۔
 طاقت ور۔
 المرؤس۔ چرخ جس سے رسی ایک
 طرف گر گئی ہے۔
 المرؤس۔ پانی میں بھگوئی ہوئی کھجوریں
 المرستان و المرستان۔ شفا خانہ
 ج۔ مرستانات۔
 صرست (ن) صرستہ۔ و صرستہ۔ چہرہ
 نوچنا۔ کھرچنا۔ منہ سے کاٹنا۔ چٹکی
 بھڑنا۔ کلام سے ایذا دینا۔ صرست
 الماء۔ پانی ہٹانا۔
 صرست۔ الشیء۔ کھینچنا۔ اچک لینا۔
 صرست لینا۔ بعیالہ۔ اہل و عیال کے
 لیے کھائی کرنا۔ الشیء۔ جمع کرنا۔
 المرست۔ ہم۔ بارش سے صاف کی ہوئی
 زمین۔ بارش سے جلد بہ جلنے والی
 زمین۔ ج۔ صرست و امرت۔
 الامرست۔ بہت شریر۔ مونت۔ موقنا
 ج۔ مونت المرستہ۔ ہر کھٹنا جاوڑ
 طرح طرح کی کھاسوں کی زمین۔
 المرست۔ بہت کمانے والا۔
 المرست۔ حقوڑی بارش۔
 مرص۔ ن۔ مرصا۔ الشدی و نحوہ
 پستان انگلیوں سے دبانا۔
 مرص (س) مرصا۔ سبقت کرنا۔ آگے
 نکلنا۔
 مرص۔ المقشر عن الشعیب۔ جو سے
 چھلکا اترنا۔
 المروص۔ تیز رفتار اونٹنی۔
 مرص۔ مرصا و مرصا۔ بیمار ہونا۔
 صفت مرص و مرص و مرص
 مرصہ۔ علاج کرنا۔ تیمارداری کرنا۔

<p>المُرْوَعَةُ وَالْمُرْوَاعُ - جربی - المُرْوَعَةُ والمُرْوَعَةُ - ایک قسم کا تیتیر - (ج) مُرْوَعٌ وَمُرْوَعَانٌ - کہنے ہیں - فُلَانٌ مُرْوِعٌ المَجْتَابُ - فلاں بہت نیاض ہے - المُرْوَعَةُ رِبْرِبْزَجْکَ - ع - اَمْرٍ المُرْوَاعُ - سرسبز - المُرْوَعُ وَالْمُرْوَعِي وَالْمُرْوَعِي والمُرْوَعِي وَالْمُرْوَعِي - زم پشم - بکری کے بالوں کا نیچے کا روال - مُرْوَعٌ - ن - مَرْوَعًا - العَيَّوَانُ العُشْبُ جانور کا گھاس چرنا - مِرْوَعٌ (س) مَرْوَعًا - عِرْوَنَهُ - عزت کا خراب و داغدار ہونا - مَرْوَعُهُ تَمْرِيقًا وَمَرْوَعًا فِي التَّرَابِ خاک میں لٹکانا - مَرْوَعٌ العِرْوَنُ - عزت کو داغدار کرنا - رَأْسَهُ - سر کو خوب تیل پلانا - مَرْوَعُهُ - فریب دینا - عُ بِاللُّوَابِ - مٹی چٹا دینا - اَمْرٌ - سونے میں اطراف دہن سے رال ٹپکانا - بہت بکواس کرنا - العَجِيْنُ - آٹے میں پانی بلا کر اس کو پتلا کرنا - عِرْوَنَهُ - عزت کو داغدار کرنا - تَمْرٌ - فِي اللُّوَابِ - خاک میں لٹکانا - فِي اللُّوَابِ - کسی کام میں تردد کرنا - عَلَى فُلَانٍ - دیر لگانا - العَيَّوَانُ جانور کا منہ سے لعاب بہانا یا کسی جگہ دیر تک چرتے رہنا - المُرْوَعُ - م - لُعَابٌ - رال - سبزہ زار - تیل کی اچھی طرح مالش - المَادُّعُ - ف - اَحْمَقٌ - المِرْوَاعُ - بہت تیل جذب کرنے والا - المِرْوَاعُ وَالْمِرْوَاعَةُ وَالْمِرْوَاعُ - جانور کے لوٹ پوٹ ہونے کی جگہ -</p>	<p>مُرْوَطٌ - اس، مَرْوَطًا - بے بال یا کم بالوں والا یا لُوچے ہوئے بالوں والا ہونا - اَمْرٌ - بال کا لُوچنے کے قریب ہونا - درخت خرما کا کچی کھجوریں گردانا - اُدْنِي كَاجِنِي فِي جِلْدِي كَرْنَا - مَا سَرَطَهُ مِمَّا سَرَطَهُ - ایک دوسرے کے بال لُوچنا - تَمْرٌ وَ اَمْرٌ وَ اَمْرٌ - بال کا گردانا - تیز کا پر سے خالی ہونا - اَمْرٌ - چھپٹ لینا - جمع کرنا - المِرْوَطُ - ہر بے سیلا کپڑا - اُدْنِي يَارِثِي چارر - ع - مَرْوَطٌ - اَلْمُرْوَطُ - بے بال یا کم بالوں والا - بچے ہوئے بالوں والا بھڑیا - چور - مَوْنٌ - مَرْوَاتٌ - ع - مَرْوَطٌ شجرۃ مَرْوَاتٌ بے پتوں کا درخت سَهْمٌ مَرْوِيْطٌ وَمِرْوَاتٌ وَ اَمْرٌ - بے پر کا تیر - اَلْمُرْوَطُ مِنَ السَّهَامِ - بے پر کا تیر - ع - اَمْرٌ وَ مِرْوَاتٌ - اَلْمِرْوَاتَةُ - لُوچنے یا کنگھی کرنے میں گرا ہوا بال - اَلْمُرْوَطُ - تیز رفتاری - المِرْوَطُ - تیز رو اُدْنِي - مَرْوَعٌ - ر - مَرْوَعًا - رَأْسَهُ بِالذَّهْنِ سر پر تیل لٹکانا - شَجْرَةٌ - بالوں میں کنگھی کرنا - مِرْوَعٌ - (س) مَرْوَعًا وَ مَرْوَعٌ - (ک) مَرْوَعَةٌ - اَلْمَكَانُ - جگہ کا سرسبز ہونا - الرَّجُلُ - آدمی کا خوش حال ہونا - اَمْرٌ - اَلْمَكَانُ - جگہ کا سرسبز ہونا - رَأْسَهُ - سر پر خوب تیل لٹکانا - القَوْمُ - سرسبز جگہ پانا - تَمْرٌ - گھاس - ع - اَمْرٌ وَ اَمْرٌ</p>	<p>مریض بنانا - مِرْوَعٌ فِي الْأُمُورِ - کام میں سُست و کابل ہونا - مضبوطی سے نہ کرنا - المِرْوَعُ - گیوں بکھیرنا - اَمْرٌ - مریض ہونا - اَللَّهُ فُلَانًا - مریض کرنا - ع - مریض پانا - اَجْفَانُهُ - پلکیں نیچی کرنا - الرَّجُلُ حاجت بر آری کے لیے قریب ہونا - القَوْمُ - بیمار جانوروں والا ہونا - تَمْرٌ - کام میں کمزور ہونا - تَمْرٌ - بیماری کا بہانہ کرنا - فِي أَمْرٍ کام میں کمزور ہونا - اَلْمِرْوَعُ وَ اَلْمِرْوَعُ - بیماری - ج - اَمْرٌ - اَلْمِرْوَعُ - ج مَرْوَعٌ وَ اَلْمِرْوَعُ - ج - مِرْوَعٌ - بیمار - قلب مریض - کمزور دل والا ہونا - رَاعِي مَرْوَعٌ - کمزور راتے - عَيْنٌ مَرْوَعَةٌ - کمزور آنکھ رَبِيْعٌ مَرْوَعَةٌ - کمزور سُست ہوا - لَيْلَةٌ مَرْوَعَةٌ - وہ رات جس میں ستارے نکلے ہوتے نہ ہوں - آَرْضٌ مَرْوَعَةٌ - بسنے والوں سے تنگ زمین چیل زمین - فَنَدَسَادٌ سے بھری ہوئی زمین - شَمْسٌ مَرْوَعَةٌ - وہ سورج جس کی روشنی بادل وغیرہ سے کم نور ہو - مَرْوَعَةٌ - کی جمع مِرْوَاعٌ وَ مَرْوَعٌ - المِرْوَاعُ - بہت بیماری والا - اَلْمُرْوَعُ وَ اَلْمُرْوَعُ - بیمار - مَرْوَطٌ - ر - مَرْوَطٌ وَ مَرْوَطٌ - الشَّعْرُ - اُدْنِي - بال یا پر لُوچنا - اَلشَّيْءُ - جمع کرنا - يَسْلُجُهُ - پانٹنا کرنا - مَرْوَعَتِ الْمَرْأَةِ يُولِدُهَا - عورت کا بچہ جننا - (مَرْوَطٌ وَ مَرْوَطٌ) - الرَّجُلُ - جلدی کرنا - فُلَانًا - پناہ دینا -</p>
--	---	---

المَوْعَةُ - سبزہ زار - الأَمْْرُغُ - رذیل
 باتوں پر لٹکارنے والا - مَوْنُفٌ - مَوْفَاؤُ
 ریح، مَوْغٌ - المِمْوَعَةُ - ایک آنت جس کو
 اللورد کہتے ہیں
 مَرَقٌ - ن - مَرُوقًا - السَّخْمُ مِنَ التَّوَمِيَّتِ
 تیر کا شکار پر لگ کر پار ہونا - مِنَ التَّائِبِينَ
 گراہی یا بدعت کی وجہ سے دین سے خارج
 ہونا -
 مَرَقٌ رَنْصٌ، مَرَقًا - القَيْسِرُ - ہانڈی میں
 شوربازیاہ کرنا - الجِلْدُ - کھال سے
 اُدُنٌ اُكْيَرْنَا - اُ بِالْمَرِّ مَج - نیزہ ملنا -
 الطَّائِرُ - پرندہ کا بیٹ کرنا -
 مَرَقَتْ - س - مَرَقًا - البَيْضَةُ - انڈے
 کا خراب ہو کر پانی ہو جانا - التَّخْلَةُ - درخت
 خرما کا کھجوریں گرانا -
 اَمْرَقٌ - القَيْسِرُ - شوربازیاہ کرنا - الجِلْدُ
 کھال کا اُدُنٌ اُكْيَرْنَا کے قابل ہونا -
 التَّخْلَةُ - درخت خرما کا کھجوریں گرانا -
 اسم (المَرَقُ)
 مَرَقٌ - گانا - القَيْسِرُ - شوربازیاہ کرنا -
 تَمْرَقٌ - الشَّعْرُ - بال لڑچا جانا یا گر جانا -
 التَّوْبُ - کپڑے کا عصف سے رنگا جانا -
 اِنْمَرَقٌ وَاَمْرَقٌ - السَّخْمُ - چھید کر
 پار ہونا - الشَّعْرُ - بال کا گرنا -
 اِصْتَرَقٌ - ایشی - جلدی سے گزر جانا -
 السَّيْفُ مِنَ عَمْدٍ - تلوار سونٹنا -
 المَرَقُ وَاَلْمَرَقُ - دھنی ہوئی اُدُنٌ - بدبودار
 اُدُنٌ یا کھال - خوشے کے خار - ج - المَرَقُ
 المَرَقُ وَاَلْمَرَقَةُ - شوربا - المَرَاقَةُ -
 اُكْيَرِي ہوئی اُدُنٌ -
 المَایِرَقُ - دین سے نکل جانے والا - ج -
 مَا يَرْتَوِي وَ مَرَاقٌ -
 المَایِرَقَةُ - مَوْنُفٌ - المَایِرَقُ - خورج -
 المَرَاتِقُ - عصف -
 المَرَقُ - چھت کا دوشندان - کھڑکی -

مَرَمٌ - غضبناک ہونا - پانی بہانا -
 تَمْرَمٌ - ریت کا اڑنا - گشت کا اپنا - بڑبڑ
 کرنا -
 المَرْمُ - سَنَكٌ مَرْمٌ - وَالْمَرْمُ مَرْمٌ - نرم
 گوشت والا - بہت رس والا انار -
 المَرَامُ - باطل - المَرَامَةُ - مع - بہت
 بارش -
 المَرْمِیْنِ - چکنا - سحت - یقینت - لمبی
 گردن -
 المَرْمِیْنِ - گینڈا -
 مَرَمٌ رَنْصٌ، مَرْمٌ وَاَمْرَمٌ مَرْمٌ
 سحت و ملائم ہونا - یَدٌ اَعْلَى الْعَمَلِ
 کام سے ہاتھ سحت ہونا - رَمْرَمٌ و
 مَوَانَةٌ - عَلَى الشَّيْءِ - عادی ہونا -
 مَرَمٌ رَنْصٌ، مَرْمًا - الجِلْدُ - نرم کرنا - مِنْ
 عَدُوِّهِ - بھاگنا - يَدِ الْاَرْضِ - زمیں
 پر پھگ دینا -
 مَرَمٌ - الشَّيْءُ - نرم کرنا - فَلَا نَاعِلِي الْاَمْرِ
 عادی بنانا یہ الارض - زمیں پر پھگ
 دینا -
 تَمْرَمٌ - نیکف دانہ دیرک بننا - مہربان
 ہونا - عَلَى الشَّيْءِ عادی ہونا -
 تَمَارَكْتِ التَّقَاتُ - دودھ دینے سے رک
 جانا -
 المَمْرُونُ مع - چادر - نرم - چمڑا - پستین -
 عطیہ جانب - لباس - ج - اَمْرَانٌ -
 مَرْمًا الْاَلْفُ - ناک کے دونوں پہلو -
 المَمْرُونُ - ملائم و سحت - عادت - حالت
 شور و جگ -
 المَمْرَانُ - مَعُوسٌ و لچکدار نیزہ - وَه
 درخت جس سے نیزہ بنائے جاتے
 ہیں - واحد - مَوَانَةٌ -
 المَمْرَانُ - ناک کا کنارہ یا اس کے پہلو
 کی نرم ہڈی - سحت و لچکدار نیزہ - ج -
 مَوَايِرُنٌ -

اَمْرَانٌ - بازو کا پٹھا -
 مَرَهَتْ رَسٌ، مَرَهَا - عینہ - سر مرد
 لگانے سے آنکھ کا خراب ہونا صفت
 (مَرَكٌ وَاَمْرَكٌ) مَرَكٌ الْفَوَادُ -
 بیمار دل - سَحَابٌ اَمْرَكٌ - سفید
 بادل
 المَرَهَاءُ - مَوْنُفٌ - الْاَمْرُؤُ - شَاخٌ
 مَرَهَاءُ - سفید بکری - لَحْوَةٌ
 دودھ دوتہا - نکالنا -
 تَمْرَمِيٌّ - یکنہ - آراستہ ہونا -
 المَمْرِيَّةُ وَاَلْمَمْرِيَّةُ - شک جھگڑا -
 دودھ جو نقص مل کر نکالا جائے -
 المَمْرِيٌّ دہت دودھ دینے والی اومنی -
 رگ جو دودھ سے بھر جاتی ہے -
 ج - مَوَايَا -
 المَوَايَا - جمع مَوَايَا - اَیْبِنَه -
 المَمْرِيٌّ - سفید و نرم بالوں والا بچھڑا -
 مَوْنُفٌ - مَمْرِيَّةٌ - دھاری دار چھوٹی
 چادر - بھٹ تیز کا شکاری -
 المَمْرِيَّةُ وَاَلْمَمْرِيَّةُ - سفید و نرم بالوں
 کے بچھڑے والی گائے -
 مَرْمٌ - رَسٌ، مَرْمَانَةٌ - الرجلِ فقیلتِ دَل
 ہونا - الشَّيْءُ - زیادہ ہونا - صفت -
 (مَزِيْرٌ) مَرْمَانَةٌ وَاَمْرْمَانَةٌ
 الطعم، کھٹ بیٹھا ہونا -
 مَرْمَانٌ، مَرْمَانٌ - الشَّيْءُ - چوستنا -
 مَا زَمَّ مَمْرَانَةٌ - بِنَهْمَا - دُورٌ - دُورٌ ہونا -
 مَرْمَانَةٌ فقیلتِ سَجْمًا - بکنہا - فقیلتِ
 دینا -
 تَمْرَمٌ - دور ہونا -
 تَمْرَمٌ - چوستنا - چکنا -
 المَمْرُ - سحت - دشوار -
 المَمْرُ - مرتبہ - فقیلتِ - کثرت -
 المَمْرُ - کھٹ - بیٹھا -
 مَوْنُفٌ - مَرْمَانَةٌ -

الْمَزَّةُ وَالْمَزَاةُ وَالْمَزَّةُ - خوش ذائقہ
 شراب - مَا لَيْقَى فِي الْأَمَاةِ -
 الْأَمَزَّةُ - برتن میں تھوڑا سا بچا ہے
 الْمَزُونُ - کثرت - فرصت
 الْمَزِينُ - فاضل - تھوڑا - بہت -
 مشکل -
 الْأَمَزُ - فاضل - افضل - دشوار -
 مونت مَزَاء - ج - مَزُ -
 مَزُجَ (ر) مَزَجًا وَمِزَاجًا -
 الشَّرَابُ بِالْمَاءِ شَرَابٌ مِثْلُ
 پانی ملا نا - فَلَانًا عَلَى فُلَانٍ -
 بھڑکانا - اُکسانا -
 مَا زَجَهُ مِمَّا زَجَهُ - مل جانا - فخر میں
 تقابلہ کرنا -
 مَزُجَ - السَّنْبُلُ - سبزی کے بعد زرد ہو
 جانا - فَلَانًا - کچھ دینا -
 تَمَازَجًا - ایک دوسرے سے ملنا -
 اِمْتَزَجَ بِهِ - ملنا -
 اِمْتَزَجَ وَالْمَزُجَ - شہدہ شراب میں
 ملایا ہوا پانی -
 اِمْتَزَجَ - م - ملائے کی چیز جیسے
 پانی شراب میں مَزَاج - طبیعت -
 ج - اَمَزَجَهُ - رَجُلٌ مَزَاجٌ -
 جھوٹا - متلون المزاج شخص -
 اِمْتَزَجَ - ملا یا ہوا کھڑا بادام -
 مَزُجَ نَ مَزُجًا - مذاق کرنا - محول کرنا -
 مَزُجَ - السَّنْبُلُ أَوِ الْعِنْبُ - بالی یا
 انگور کا رنگ پکڑنا -
 مَا زَحَهُ مِزَاحًا وَمِمَّا زَحَهُ - خوش
 طبعی کرنا -
 تَمَازَحًا - باہم ہنسی مذاق کرنا -
 تَمَزَّحَ بِهِ - فخر کرنا - اِمْتَزَحَ مَعَهُ
 خوشہ -
 الْعَزَاحُ وَالْمِزَاحَةُ - ہنسی مذاق
 اِمْتَزَاحٌ - بہت ہنسی مذاق کرنے والا

الْمَزُودُ - سردی -
 مَزُونٌ (ر) مَزُونًا مِنَ اللَّيْنِ - تھوڑا سا
 دودھ پینا - اللَّيْنُ - دودھ کو چکنے
 کے لیے پینا - هُ خِطْلَى لَيْنًا -
 غصہ دلانا - رَوَمَزُونًا (عَرَبِيَّةٌ -
 شک بھرنا -
 مَزُونًا (ر) مَزُونًا - چست ہونا -
 مضبوط دل والا ہونا -
 تَمَزُونًا - تھوڑا تھوڑا پینا -
 الْمَمَزُونُ - مرد ظریف - اِمْتَمَزُونًا جو یا
 گیہوں کی ہمیدہ - بے وقوف - اصل
 کسبہ الممزون - شریف الاصل -
 اِمْتَمَزُونًا خوش طبع - چست مضبوط دل
 والا - ج - اَمَازُونًا -
 مَزَعَانٌ (ر) مَزَعًا - اِلْتَبَى وَخَوَّاهُ -
 ہرن وغیرہ کا آہستہ سے روڑنا -
 رَوَمَزَعًا الْقَطَنَ رُوِي كَانِغَلِيوں
 سے چننا -
 مَزَعَانُ الشَّيْءِ - متفرق کرنا -
 تَمَزَعًا - اَلْكُ الْكُ هَوَانَا -
 تَمَزَعُوا الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ - انہوں نے چیز
 آپس میں تقسیم کر لی -
 تَمَزَعًا غِيضًا - غصہ سے کانپنے
 لگنا -
 الْمَمَزَعَةُ - روئی کا کالا - ج - مَزَعًا -
 رَوَا الْمَمَزَعَةَ (گوشت یا چربی کا
 ٹکڑا - پانی کا گھونٹ - ج - مَزَعًا
 وَمَزَعًا -
 اِمْتَمَزَاعٌ - بہت دور نئے دان - سیہی
 اِمْتَمَزَاعَةً - چمنے میں گرمی ہولی چیز -
 الْمَمَزَعِيُّ - جھل خور -
 مَزُونٌ (ر) مَزُونًا - وَمَزُونٌ التَّوْبَةُ
 کپڑا بھاڑنا -
 عِزُّ ضَعْفِهِ - عزت پر عیب لگانا -
 سَفَتٌ (مَزُونٌ) - ج - مَزُونٌ -

الطَّائِرُ سَلِيحٌ - پرندہ کا بیٹ کرنا -
 مَزُونٌ - تَمَزُونًا وَمَمَزُونًا - پراگندہ
 کرنا - بکھرنا - تباہ کرنا -
 مَزُونٌ كُلُّ مَمَزُونٌ - یعنی اس نے
 ان کو ملک کے اطراف و جوارب میں
 پراگندہ و متفرق کر دیا -
 مَا زَقَتَا - دور میں سبقت لے جانا -
 تَمَزُونٌ - بھٹنا - بکھر جانا - اِنْمَزُونٌ -
 بھٹنا - ٹکڑے ٹکڑے ہونا -
 اِمْتَمَزُونًا - کپڑے وغیرہ کا ٹکڑا - ج -
 مَزُونٌ - تَوْبٌ مَزُونٌ وَمَمَزُونٌ
 وَمَمَزُونٌ - بھٹنا ہوا کپڑا -
 مَمَزُونًا - ترش ہونا - میخ کو اکھاڑنے
 کے لیے ہلانا -
 تَمَزَمَزُونًا - ہلنا - اِلْتَمَزَمَ اُلْتَمَزَمَ
 کے لیے تیار ہونا -
 مَزُونٌ (ر) مَزُونًا وَمَمَزُونًا چلے جانا -
 وَجْهَهُ - چہرے کا چمک اٹھنا -
 مِنَ الْعَدَاةِ - بھاگانا - رَوَمَزُونٌ
 اَلْعَرَابِيَّةُ مَشْكٌ بَهْرَانَا - فلانا تعریف
 کرنا - نفضیت دینا -
 تَمَزُونٌ - چلا جانا -
 عَلَى الْقَوْمِ - مہربانی اور سخاوت
 کرنا - اپنی تعریف حد سے زیادہ کرنا
 بتکلف زینک بننا - عَلَى الْأَمْرِ -
 عادی ہونا -
 الْمَمَزُونُ - بادل - بارش والا بادل -
 حَتَّ الْمَمَزُونُ - اولہ -
 اِمْتَمَزُونًا - بادل کا ٹکڑا - بارش -
 الْمَمَزُونُ - عادت - طریقہ - حالت -
 كَمَا زَالَ عَلَى هَذَا الْمَمَزُونِ - وہ ہمیشہ
 اس طریقہ و حال پر رہا -
 الْعَمَزُونُ - چیموس کے اندے -
 ابْنُ مَازِنٍ - چیموس -
 مَزُونًا (ر) مَزُونًا - ہنسی مذاق کرنا -

بجٹ ہوتی ہے۔
 الْمَسِيحُ - تیل لگایا ہوا۔ ج مَسْحَاد
 مَسْحِي - حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ
 السَّلَام کا لقب۔ بہت سیاحت کرنے
 والا۔ چاندی کا ٹکڑا۔ پسینہ صدیق
 کا نا۔ بازو۔ خوبصورت۔ جھوٹا۔
 خوبصورت چہرہ والا۔ مِث الدَّاهِمِ -
 نقشِ مُدِہِمِ -
 الْمَسِيحِي - عیسائی۔ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ
 السَّلَام کا پیر۔
 الْمَسِيحَةُ - سر کے دونوں جانبوں کے
 بال۔ بالوں کی لٹیں۔ گیسو۔ کپٹی
 اوریشانی کا بیج۔ کمان۔ چاندی کا
 ٹکڑا۔ ج مَسَاحُ -
 الْمَاسِحُ - نا۔ جھوٹا۔ بہت قتل کرنے والا۔
 الْمَاسِحَةُ - موش۔ الْمَاسِحُ - کنگی۔
 کرنے والی بال گوندنے والی عورت۔
 ج - مَوَاسِحُ -
 الْمَسَاحُ - زمین کی پیمائش کرنے والا۔
 الْمَسِيحُ - بڑا سیاح۔
 الْأَمْسَاحُ - رگڑ سے سوزش والی راتوں
 والا۔ ہموار تلووں والا۔ جھوٹا۔
 مِنَ الْأَرْضِ - ہموار زمین۔ ج -
 الْمَاسِحُ - بڑا سیاح۔ کا نا۔ موش
 مَسْحَاءُ -
 الْمَسْحَاءُ - ہموار دکنکریالی زمین۔
 سُورِ زَيْمِ - ج الْمَسَاحُ وَالْمَسَاحِي
 چھوٹے پستانوں والی عورت۔
 الْمَسْحُ - جھوٹا۔ نرم بات سے فریب
 دینے والا۔ مٹانے والا۔ بڑا سرکش۔
 (وَالْمَسَاحُ) مگر پھر۔ ج مَسَاحُ -
 وَتَمَاسِحُ -
 الْمَسْحُ وَالْمَسْحَةُ - جس سے
 پونچھا جائے۔
 مَسْحًا (ن) مَسْحًا - بری صورت سے

الْمَسْحُ - تانا۔ مَسِيحًا لِحَاجَةٍ حَاجَتِ
 کا مجبور کرنا۔
 الْمَسِيحُ - بہت چھوٹے والا۔
 مَسَارِفٌ مَسَا وَمَسْوًا - بیاک ہونا۔
 الْمَاسِي - دیر کرنا۔ الْحَقُّ - حق کی
 ادائیگی میں دیر کرنا۔
 الْمَطْرَقُ - راستہ کے بیچ میں چلنا۔
 عَلَى الشَّيْءِ - عادی ہونا۔ الرَّجُلُ
 بِالْقَوْلِ وَغَيْرِهِ
 کسی کو گفتگو سے خوش کرنا۔ نرم کرنا۔
 دھوکا دینا۔ (وَأَمْسَأَ) بَيْنَ الْقَوْمِ
 قوم میں فساد ڈالنا۔
 تَمَسَّ الثَّوْبُ - کپڑے کا پرانا ہونا۔
 مَسَّحَ (ن) مَسَّحًا - الِثْنُ - پونچھنا۔
 مَسَّحَ اللَّهُ مَا بَكَ مِنْ عِلْتِنَا -
 یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو دور
 کر کے تم کو صحت بختے۔
 تَمَسَّحَ - بِالْمَاءِ وَمِنَ الْمَاءِ پانی سے
 نہانا۔ الشَّيْءُ - پونچھنا۔
 فَلَا تَتَمَسَّحُ بِهِ - فلاں سے برکت
 حاصل کی بات ہے۔
 تَمَسَّحًا - اتفاق کرنا۔ بد و فروخت کرنے
 کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ
 مارنا۔
 اِمْتَسَحَ - تلوار سونٹنا۔
 الْمَسْحُ - مارٹ۔ بالوں کا کبلا۔ مَرَقِيكِرْ -
 بالوں کا پوشش۔ ج اَمْسَاحُ وَ
 مَسْوِي -
 الْمَسْحَتَا - نشان۔ رگڑ۔ گیلے ہاتھ کا
 نشان۔
 الْمَسْحُ - کپڑے کے کھردے پن سے
 گھٹنے کے اندرونی حصہ کی جلیں۔
 الْمَسَاحَةُ - زمین کی پیمائش۔
 عِلْمُ الْمَسَاحَةِ - وہ علم جس میں تقادیر
 خطوط، سہولت اور اجسام سے بجٹ

مَرَايِمُ وَمَرَايِمُ - بکیر کرنا۔
 مَرَاةٌ تَمْرِيَةٌ - تعریف کرنا۔
 تَمَارِي الْقَوْمِ - ہر ایک کا اپنی نصیحت
 کے گیت گانا۔
 الْمَرَاةُ وَالْمَرِيَّةُ - ج مَرَايَا وَالْمَارِيَّةُ
 ج مَارِيَاتٍ - علم و کرم و شجاعت وغیرہ
 کی نصیحت دیر تری۔ خوبی و حمد کی جس
 سے انسان دوسرے سے ممتاز ہو
 مَرِيٌّ (ن) مَرِيًا - بکیر کرنا۔
 مَرِيٌّ تَمْرِيَةٌ - الرِّجْلُ - تعریف کرنا
 الْمَرَاةُ - سرکش اور طاقت ور لوگ۔
 مفرد (مَارِيٌّ)
 الْمَارِيَّةُ - ج مَارِيَاتٍ وَالْمَرِيَّةُ
 ج مَرَايَا - علم و کرم و شجاعت و شرافت
 وغیرہ میں نصیحت دیر تری جو انسان کو
 دوسرے سے ممتاز کر دے۔
 الْمَرِيٌّ - ظریف۔ خوش بوع۔ زیرک۔
 مَسَّ (ن) مَسًا وَمَسِيًا وَمَسِيِيًا
 اِثْنِيٌّ - چھوٹا۔ پہنچنا۔ الْمَرَضُ أَوْ
 الْكِبَرُ فَلَانَا - بیماری یا بڑھاپے کا
 لاحق ہونا۔ مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى كَذَا
 حالت کا مجبور کرنا۔
 مَسَّ - مَسًا - یا گرا ہونا۔ مَسَّتْ مَسْمُوسٌ
 مَأْسَهُ مَأْسَةً وَمِمَّا سَا - چھوٹا۔
 پہنچنا۔ بذلت خود لینا۔
 مَأْسَهُ - اِثْنِيٌّ - چھوٹا۔ تَمَاسِحُ - بیک
 دوسرے کو چھوٹا۔
 الْمَاسُ - نا۔ حَاجِلَةٌ مَأْسَةً - سخت
 ضرورت۔ بَنِيَهُمْ دَحِيمٌ مَأْسَةً - اُن
 کے درمیان قریبی رشتہ ہے۔
 مَسَامِسٌ - اسم فاعل یعنی امیر یعنی چھو۔ لَامَا
 مت چھو۔
 الْمَسْمُوسُ - مِنَ الْعَاوِ - پانی جو ہاتھوں سے
 لیا جا سکے۔ بیٹھا صاف پانی۔ جیکوں پانی
 پیاس بجھانے والا پانی۔

بدل دیا۔ سخت شعوی (مَسْحٌ وَمَسْحٌ)
 الْكَاتِبُ۔ کتابت میں بہت غلطی کرنا۔
 النَّاقَتَا۔ اونٹنی کو لاغر کرنا۔ طَعْمُ
 اللَّحْمِ گوشت کو بے مزہ کرنا۔
 اَمْسَحَ۔ اَلْوَسْمُ۔ ورم جھیل ہونا۔ تَمَسَّخَ۔
 الغزل۔ سوت کا ٹوٹنا۔
 اِمْسَخَتْ وَ اِمْسَخَتْ۔ العُصْبُ۔ بازو
 کا کم گوشت والا ہونا۔ اسم (المسح)
 اَمْسَخَ۔ السيف۔ تلوار کا سونٹنا۔
 الْمَسِيخُ۔ بد شکل۔ بے مزہ۔ بے ذوق
 الْأَمْسُوحُ۔ ایک پودے کا نام۔
 الْمَسْمُوحُ مغم۔ دیبے بیٹھے والا کھوڑا۔
 مَسَدٌ رَنٌ مَسَدًا۔ العَجَلُ۔ رستی بننا۔
 یا عمدہ بننا۔ فِی السَّيْرِ۔ چلنے میں
 عادی بنانا۔
 مَسَدَ البَطْنِ۔ پیٹ کا نرم دھوار ہونا
 الْمَسَدُ۔ کھجور کے ریشہ کی رستی۔ مضبوط
 رسی۔ لوہے کا ڈھرا۔ ج مَسَادٌ
 اَمْسَادٌ۔
 الْمَسَادُ۔ شہد کی شک درستگی۔
 الْمَسُودُ مغم۔ مضبوط۔ ہٹا کا۔
 مَسَطَانٌ مَسَطًا۔ المعی۔ آنت میں سے
 انگلی کے ذریعہ نکالنا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے
 کو چھوڑنا۔ فُلَانًا بِالسَّيْطِ۔ کورسے سے
 مارنا۔ شِکْرٌ۔ سے جا ہوا دودھ انگلیوں
 کے ذریعہ نکالنا۔ الثَّوْبُ
 الْمَسِيطُ نا۔ ایک جذاب کا پورا۔
 الْمَسِيطُ۔ گدلا پانی۔ کچھ۔
 الْمَسِيطَةُ۔ گدلا پانی۔ ذرا سے پانی سے
 بہہ جانے والی دادی۔
 الْمَسِيعُ۔ شمالی ہوا۔ الْمَسِيعُ بہت بڑا
 سیاحت کرنے والا آدمی۔
 مَسَكٌ رَنٌ مَسَكًا بہ چٹنا۔ متعلق
 ہونا۔ بالناس۔ زمین کے گڑھے میں
 آگ کو رکھ سے چھپانا۔ دفن کرنا۔

مَسَكٌ رَكٌ مَسَاكَةٌ۔ السَّكْرُ شِکْرٌ
 کا پانی گرنے نہ دینا۔
 مَسَكٌ بہ چٹنا۔ مَسَكَةٌ۔ شکر کی خوشبو
 لگانا۔
 اَمْسَكَةٌ۔ روکنا۔ اَمْسَكٌ بہ چٹنا۔
 الشَّيْءُ عَلَى الْفَيْسِ۔ حفاظت کرنا۔
 اللُّغَةُ الْغَيْثُ۔ بارش روکنا۔
 عَنِ الْأَمْرِ۔ رکن۔ مَنِ الْكَلَامِ
 خاموش ہونا۔
 تَمَسَّكَ وَ تَمَسَّكَ وَ اَمْتَسَكَ بہ
 چٹنا۔ مضبوط پکڑنا۔ مَا تَمَسَّكَ
 وہ نہ مضبوط کر سکا۔ مَا يَبِہُ تَمَسَّكَ
 اس میں کوئی خیر نہیں۔ اَمْتَسَكَ
 فِی الْبَلَدِ وہ شہر میں رہا۔
 اِسْتَمَسَكَ بہ چٹنا۔ عَنِ كَذَا۔ رکن۔
 بَوَّلْنَا۔ پیشاب بند ہونا۔ الرَّجُلُ
 عَلَى الرَّاحِلَةِ۔ سواری پر جم کر
 بیٹھنا۔
 الْمَسَكُ۔ پانی روکنے کا بند۔ زمین کے
 طبقات۔ کنگھن۔ پا زمین۔ واحد
 مَسَكَةٌ۔
 الْمَسَكُ۔ بدن کو باقی رکھنے کی مقدار
 کھانا پانی۔ پوری عقل۔
 الْمَسَكُ۔ شک۔ کتوری۔ ج۔
 مَسَكٌ۔ مَسَكُ الْبَرِّ وَ مَسَكُ
 الْحَيِّ۔ پودے۔
 الْمَسَكَةُ۔ دستہ۔ گزارہ۔ پوری راستے
 عقل۔ سخت زمین میں کھودا ہوا کنواں
 ج مَسَكٌ۔ مَا فِیہَا مَسَكَةٌ۔ اس میں
 کوئی بھلائی نہیں۔
 الْمُسْكَةُ وَ الْمُسْكَةُ۔ نخل کچھوسی
 الْمُسْكَةُ۔ نخل۔
 الْمَسَاكُ۔ پانی روکنے کا بند۔ نخل۔
 المساک۔ نخل روکنے والی چیز۔
 تلوار وغیرہ کا دستہ۔ قبضہ۔

الْمَسَاكَةُ وَ الْمَسَاكَةُ۔ نخل۔
 الْمَسَاكَاتُ۔ وہ جگہیں جہاں پانی کی
 حفاظت کی جائے۔
 الْمُسْكَانُ۔ بیعانہ۔ ج مَسَاكِينُ۔
 الْمُسْكِينُ وَ الْمُسْكِنَةُ۔ مادہ سُرک
 ن میں دیکھئے۔
 الْمُسْكُ وَ الْمَسَاكُ وَ الْمُسْكُ۔
 نخل۔
 الْمَسِيكُ۔ ج مَسَكٌ وَ الْمَسِيكُ
 نخل۔ "مَا فِیہَا مَسِيكٌ" اس میں
 کوئی بھلائی نہیں۔
 الْأَمْسَاكُ۔ مم۔ نخل۔ الْمَسِيكَةُ۔
 اَرْضٌ مَسِيكَةٌ۔ سخت زمین۔
 الْمَسِيكَةُ وَ الْمَسِيكَةُ۔ ایک پودہ۔
 مَسَلٌ رَنٌ مَسَلًا۔ الْمَاءُ۔ پانی کا بہنا۔
 اَمْسَلُ۔ السيف۔ تلوار سونٹنا۔
 الْمَسَلُ۔ پانی بہنے کی جگہ۔
 ج۔ اَمْسَلَةٌ۔ وَ مَسَلٌ۔
 وَ مَسَلَاتٌ وَ مَسَاتِلٌ۔
 مَسَالًا۔ الرَّجُلُ۔ آدمی کے دونوں بازو
 یا دائرہ کے کنارے۔ یا پہلو۔
 مَسَالَةٌ۔ الْوَجْہُ۔ بھینوی شکل کے چہرے
 کی خوبصورتی۔
 الْمَسِيْلُ۔ بہاؤ۔ تر چھڑی پانی بہنے کی نالی
 ج مَسَلٌ وَ اَمْسَلَةٌ۔
 مَسَمَسٌ مَسَمَسَةٌ وَ مَسَمَسًا۔
 الامور۔ کام کا پیچیدہ ہونا۔
 مَسَمَسٌ۔ الرَّجُلُ۔ نخبو و الحلاس ہونا۔
 الْمَسَمَسُ۔ خفیف۔ ہلکا۔
 مَسَمَسٌ۔ رَنٌ مَسَمَسًا۔ الرَّجُلُ۔ محول کرنا۔
 بے باک ہونا۔ کا مار مار کر گرا دینا۔
 الشَّيْءُ مَنِ الشَّيْءِ۔ کھینچ نکالنا۔
 مَسَايَمَسُوا مَسَايَمَسًا۔ العمار۔ گڑھے کا
 چلتے چلتے اڑ جانا۔ (وَمَسَمَسٌ مَسَمَسَةٌ)
 الرَّجُلُ۔ دودھ کر کے دیر لگانا۔

مَشَقَّةٌ مَمْسِيَةٌ - یہ کہتا کہ تمہاری شام
 ابھی ہو۔ تم نے شام کیسے گزاری شام
 کو آنا۔
 اَمْسَى اِمْسَاءً وَمُصْنِيٌّ - شام میں
 داخل ہونا۔ کَانَ کی طرح نفل ناقص
 بن کر بھی آتا ہے۔ جیسے اَمْسَى زَيْدٌ
 ضاحِکًا۔ زید شام کے وقت ہنس رہا
 تھا۔
 اَمْسَاةٌ اِمْسَاءً - مدد کرنا۔ وعدہ کر کے
 دانا۔
 مَا سَاكَ مَمْسَاةً - محول کرنا۔
 اِمْتَسَى اِمْتَسَاءً - ماعد فلان سب
 کچھ لے لینا۔
 الْمَسَاءُ جِ اَمْسِيَةٌ وَ اَلْمَيْسِي -
 شام دوپہر کے بعد سے مغرب تک کا
 وقت۔
 الْاَمْسِيَّةُ - شام۔ اَلْمَيْسِي - ص۔
 شام گزارنے کی جگہ۔
 مَسَى يَمْسِي مَسِيًا - اِشْيُ - چیز پر ہاتھ
 پھیرنا۔ اَلْحَرَّ الْمَائِيَّةُ - گرمی کا موٹی
 کو دہلا کرنا۔ اَلسَّيْفُ - تلوار سوتنا۔
 الرَّجُلُ - بدخلق ہونا۔
 نَمَسَى وَ تَمَسَى - اِشْيُ - لکڑے لکڑے
 ہونا۔
 اَمْتَسَى اِمْتَسَاءً - پاس ہونا۔
 الْمَائِي - نا۔ کسی کی تعظیم پر توجہ دینا
 اَلْمَائِي - پھیرنا۔
 اَلْمَائِي - ہم پھیرتے ہیں اس کا معنی پھیرنا
 مَتَسَى دَن مَتَسَا - الْعَظْمُ - ہڈی کو
 اطراف سے چومنا۔
 اَلنَّاقَةُ - اونٹنی کو دوہنا لہذا کچھ دودھ
 اس کے فتن میں چھوڑ دینا۔ صا دودھ
 دودھ لینا۔ مَالِ فُلَانٍ - غنوں غنوں
 کر کے لینا۔ يَدَاكَ - ہاتھ پونچھنا۔
 فُلَانًا - دشمنی کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ اِشْيُ

پانی میں حل کرنے کے لیے جگونا۔
 مَشَشٌ وَ تَمَشَشٌ - الْعَظْمُ - ہڈی چوسنا
 اور اس کا گودا نکالنا۔
 اَمَشَّ الْعَظْمُ - ہڈی کا گودے والی ہونا
 اِنْمَشَّ لَهُ الشَّيْءُ - حاصل ہونا۔
 اَمْتَشَّ - الثَّوْبُ - کپڑا اتارنا۔ مَا فِي
 الصَّرَاحِ - سب دودھ فتن سے نکال
 لینا۔ مَن مَالِ فُلَانٍ - حصہ پانا۔
 الْعَظْمُ - چماتی ہوئی ہڈی کو چوسنا۔
 الْمَشَاثُ - الْمَشَاثَةُ کی جمع۔ نرم
 زمین۔ اَصْل - نفس۔ طبیعت۔
 لَبِنِ الْمَشَاثِ نَرَمِ اخلاق کا آدمی۔
 مَشَاثِ الرَّجُلِ - سفر و حضر میں انسان
 کے خادم اور نوکر چاکر۔
 الْمَشَاثَةُ - نرم ہڈی کا سرا۔ خاک اور
 نرم سنگرزوں کا لاستہ۔ ج۔ مَشَاثُ
 مَشَاثَتِ الْقَوْمِ - قوم کے برگزیدہ لوگ
 الْمَشَاثُ - تولیہ۔ رومال۔
 مَشَجَةٌ - دَن مَشَجًا - بکذا۔ ملانا۔
 خلط ملط کرنا۔
 الْمَشِجُ وَالْمَشِيجُ وَالْمَشِجُ - ملا ہوا
 مخلوط۔ جِ اَمْتَشَجُ -
 اَلْمَشِجُ - ناف کا میل کچیل۔
 اَمْتَشَحَتِ - السَّمَاءُ - آسمان کا ابر سے
 صاف ہونا۔
 السَّنَةُ - سال کا خشک ہونا۔
 مَشَرْدَانٌ مَشَرًا - اِشْيُ - ظاہر کرنا۔
 اَمْتَشَرَ رَسًا مَشَرًا - اِزْرَانًا - اِزْرَانًا۔
 مَشَرًا وَ مَشَرًا وَ اَمْتَشَرَ
 الشَّجَرَ - درخت کا کوپل نکالنا۔
 مَشَرًا - ہینانا۔
 مَشَرَ اِشْيُ تَعْسِيمًا - اَمْتَشَرَ الرَّجُلُ
 کھل کر دوڑنا۔ بَدَا نَمًا - بدن کا
 چولنا۔ اَلرَّدْنُ - سبزہ اگانا۔
 تَمَشَّرَ الرَّجُلُ - دولت مند ہونا۔ دولت مند کا

کا اثر ظاہر ہونا۔
 تَمَشَّرَ لِأَهْلِهِ اِجْنَعُ اِجْنَعُ اِجْنَعُ
 کرنا یا لباس خریدنا۔ الشَّجَرَةُ
 درخت کا سرسبز ہونا۔ القوم۔ کپڑے
 ہینا۔
 اِمْتَشَرَ - الرَّاعِي وَرَقُ الشَّجَرِ -
 چرواہے کا درخت کی ٹہنی کو ٹیڑھے
 سرے کی لکڑی سے مویشی کی طرف
 کھینچنا۔
 الْمَشَرُّ - سخت دسرخ آدمی۔
 الْمَشَرُّ - اِثْرُ - الْمَشَرَّةُ - نرم کچی۔ سبز
 ٹہنیاں۔ نیا نکلنے والا پتہ۔ لکڑی سے
 جھکائے ہوئے پتے۔ مَشَرَّةُ الْاَرْدَنِ
 وَ مَشَرَّةُهَا - زمین کی نباتات یا نئی
 نکلی ہوئی سبزی و نباتات۔ اَرْحَتُ
 مَا شَبَّهَتْهُ - سبزہ والی زمین۔
 اَلْمَشَرُّ - حِجْرٌ - دچالاک۔
 مَشَطُّ رَسٍ مَشَطًا وَ مَشَطٌ - لَشْرُ
 بالوں میں کنگھی کر کے سلجھانا۔ مَشَطٌ
 اِشْيُ - مخلوط کرنا۔ ملانا۔ اَلْبَعِيدُ
 اَوْتٌ سے کنگھی نما آلہ سے داغ لگانا۔
 مَشَطَّتْ رَسًا مَشَطًا - يَدَاكَ - ہاتھ کا
 کام کاج کرنے سے کھردرا ہونا۔ یا
 پھاتس پھینا۔ رَو مَشَطَتِ النَّاقَةَ
 اونٹنی کے دونوں پہلوؤں پر چربی سے
 بیس پڑنا۔
 اِمْتَشَطَ - کنگھی کیا ہوا ہونا۔ کنگھی کرنا۔
 الْمَشَطُ وَالْمَشَطُ وَالْمَشَطُ وَ
 الْمَشَطُ وَالْمَشَطُ وَالْمَشَطُ -
 کنگھی۔ جِ اَمْتَشَطُ وَ مَشَطًا -
 الْمَشَطُ - جادے کی کنگھی نما کونجی۔
 کنگھی کی شکل کا اونٹ پر نشان۔ کھریا۔
 پشت قدم کی پتلی پتلی ہڈیاں۔ یا
 پشت پا۔
 الْمَشَطُ - ایک دربانی پھلی۔

المَشَطَّةُ - کنگھی کرنے کا طریقہ۔
 المَشَاطَةُ - کنگھی کرنے کا پیشہ۔
 المَشَاطَةُ - کنگھی کرنے سے اترے ہوئے
 بال۔
 المَشَاطَةُ - کنگھی بھلانے والا۔
 المَشَاطَةُ وَالْمَشَاطَةُ - کنگھی کرنے
 کا پیشہ کرنے والی۔
 المَشَاطَةُ - کنگھی کیا ہوا
 المَشَاطَةُ - کنگھی۔
 المَشَاطَةُ - تپلا دلیا آدمی۔
 مَشَاطُ (س) مَشَاطًا وَمَشَاطًا - کانٹے
 وغیرہ کا چھینا۔ جانور کا نایاب پھول
 والا ہونا۔
 مَشَاطُ (ن) مَشَاطًا - اَلْبَلَدُ - کسی شہر کو
 آفات کے لیے پسند کرنا۔ نلانا۔
 کسی سے کچھ لینا۔
 المَشَاطَةُ وَالْمَشَاطَةُ - ہاتھ میں چھایا ہوا
 کانا وغیرہ۔ کھاری کے دستہ میں
 لکڑی کی لگائی ہوئی پکڑ۔
 المَشَاطَةُ - بے بنیاد افواہیں۔
 مَشَع - ف - مَشَعًا - الشَّيْءُ - کمانا۔
 ایک لینا۔ القَطَنُ - روئی دھنا۔
 الغَنَمَ - بکری کو دوہنا۔
 ببولہ پیشاب کرنا۔
 فلانا بِالْحَبْلِ وَغَيْرِهِ - رسی وغیرہ
 سے مارنا۔ الرَّجُلُ - آہستہ چال
 چلنا۔
 مَشَع - الشَّيْءُ - صاف کرنا۔ پونچھنا۔
 القَصْعَةُ - پیالہ میں سے سب کچھ
 چٹ کر جانا۔
 امْتَشَع - ثَوْبٌ صَاحِبُهُ - چھین لینا۔
 تلوار جلدی سوتنا۔ مَشَعُونَ کا
 دودھ ختم کرنا۔
 المَشَعَةُ وَالْمَشِيْعَةُ - دھنی ہوتی روئی
 کا گالا۔ المَشَوِيُّ - بہت کھاؤ۔

مَشَعَهُ (ن) مَشَعًا - مارنا۔ عیب لگانا۔
 الرَّجُلُ - لکڑی وغیرہ کا آہستہ آہستہ
 کھانا۔
 مَشَع - الثَّوْبُ - سُرخ مٹی سے رنگنا۔
 عزت پر داغ لگانا۔
 المَشَعُ - سُرخ مٹی۔ المَشَعَةُ - بوسیدہ
 کپڑے کا چھینا۔
 مَشَعُ (ن) مَشَعًا - تیزی سے مارنا۔
 جلدی کام کرنا۔ کابالکوط۔ کوڑا
 مارنا۔ الشَّعْرُ - بالوں میں کنگھی کرنا۔
 الشَّيْءُ - دراز ہونے کے لیے کھینچنا۔
 الثَّوْبُ - کپڑا پھاڑنا۔ الناقَةُ -
 اونٹنی کو تھوڑا سا دوہنا۔
 فی الکتابِ - لمبے لمبے حروف لکھنا۔
 لکھنے میں جلدی کرنا۔
 مَشَعُ مَشَعًا - لپٹا دیتا ہونا۔ صفت
 مَشَعُ وَمَشِيْعُ وَمَشَوِيُّ -
 مَشَعُ (س) مَشَعًا - رالوں کے رگڑنے
 سے سوزش ہونا۔ صفت۔ مَشَعُ
 وَاْمَشَقُ - اسم۔ المَشَعَةُ
 مَا شَعَهُ مَاشَعًا - گالی دینا۔ جھگڑا
 کرنا۔ مَا شَعَهُ الشَّيْءُ - کسی سے کوئی
 چیز چھین لینا۔ امْشَطَهُ بِالسَّوْطِ -
 کوڑے سے مارنا۔
 امْشَقُ - الثَّوْبُ - کپڑے کو سُرخ مٹی سے
 رنگنا۔
 مَشَقٌ تَمَشِيْعًا - الاِبِلُ المَكَلَّةُ اونٹن کو
 گھاس چرانا۔
 تَمَشَقُ الثَّوْبُ - کپڑے کا پھینا۔ پارہ
 پارہ ہونا۔
 الغَضَنُ - شاخ کا چھلنا۔
 اللَّيْلُ - رات کا گزر جانا۔
 تَمَشَقُوا - الشَّيْءُ - اپس میں کھینچنا۔
 امْتَشَقُ - ایک لینا۔ سب دودھ دودھ
 لینا۔ تلوار سوتنا۔ فی الشَّيْءِ داخل ہونا

اپنے لیے لینا۔ مَا فِي يَدِ الرَّجُلِ -
 سب سے لینا۔
 المَشَقُ - مع - سُرخ مٹی - گیر۔
 المَشَقَةُ وَالْمَشَاقَةُ - رانچہ کا نکلا ہوا
 خراب درودی حقہ۔ روئی کا گالا۔
 بوسیدہ کپڑا۔ ج مَشَقُ -
 المَشَقَةُ - کپڑے کا ٹکڑا۔
 المَشِيْقُ - پھینا ہوا کپڑا۔ لاغزور بلا گھوڑا
 المَاشِقُ - ج مَشَقُ - قلم مَشَقُ -
 تیز چھیننے والا قلم۔
 المَشَقَةُ - جانور کی ٹانگ میں رسی کا نشان
 المَشَقِيُّ - مضم - کم گوشت کا آدمی۔
 مِنَ الخَيْلِ - دُبلَا - گھوڑا۔
 مِنَ القَضِيَانِ لمبی اور پتلی شاخ۔
 قَدْ مَشَقُوا - لمبا۔ تپلا قدر۔
 التَّمَشِقُ - جھگڑا۔ المَشَقَةُ - کتان
 وغیرہ کو صاف کرنے کا آہ جو کنگھی
 کے مشابہ ہوتا ہے۔ ج مَاشِقُ -
 مَشَلُ (ن) مَشَوًا - لَحْمٌ - گوشت
 کم ہونا۔ مَشِيْلًا - اللبَنُ - دودھ
 تھوڑا دوہنا۔ دَامَشَقُ السَّيْفُ -
 تلوار سوتنا۔
 المَاشِقُ وَالْمَشَقِيُّ - دُبلَا کم گوشت والا۔
 المَشَلُ - کم دوہانی۔
 المَشَلُ - نرمی سے دوہنے والا۔
 المَشَلِيُّ - مٹی کا تھوڑا اور
 المَشَمُشُ - زرد اور سیاہ مٹی کا
 مَشَقَةُ (ن) مَشَقًا - لگانا۔
 بالسَّوْطِ کوڑے سے مارنا۔ مَشَقًا بالسَّيْفِ
 تلوار مار کر کھال چھین دینا۔ مَشَقًا
 المَاشِقَةُ - اونٹنی کے تھنوں کا سب
 دودھ نکالی لینا۔
 صفت۔ مَشَقًا مَشَقًا - ج مَشَقًا -
 امْتَشَقُ السَّيْفُ - تلوار سوتنا۔
 الشَّيْءُ - چھین لینا اور اپنے لیے کرنا۔

امّصغ - انولڈ - بچہ کا ماں کے پیٹ سے جدا ہونا۔
 الامصوخته - برودی گھاس کا گودا۔
 امصوخته - اما صیغ۔
 المصوخته - وہ بکری جس کے تھن کی جڑ ڈھیلی ہو گئی ہو۔
 مصد رن مصدا - العیتی نڈی امہ - بچہ کا ماں کے پستان سے دودھ پینا۔ چوسنا۔ المرجل - مطیع و فرمانبردار کرنا۔
 المصاد - بلند پختہ۔ پہاڑ کی چوٹی۔
 امصدتہ و مصدات۔
 المصد و المصد - گرمی کی تیزی۔ سردی کی شدت۔ بادل کی گرج۔ بارش۔ بلند پختہ۔
 المصدتہ - بارش۔
 مصرون مصرا - الناقۃ - اونٹنی کو انگلیوں کے پوروں سے دھرنا۔
 مصرا العیۃ - بخشش کو بند کرنا۔ یا فقیرانہ طور پر دینا۔
 مصرو المکان - کسی جگہ کو شہر بنانا۔
 الثوب - کپڑے کو گیر و میں رنگنا۔
 تمصرو المکان - کسی جگہ کا شہر ہونا۔
 الشی او العطار - کم ہونا۔
 القوم - قوم کا برگندہ ہونا۔
 الشی - پیچھے لگنا۔ تلاش کرنا۔
 رومصرو الناقۃ - اونٹنی کے دودھ کو انگلیوں کے پوروں سے نکالنا۔
 الماصرو - نا۔ دو چیزوں کے درمیان کی روک۔ ناقصہ۔ شاد ناقصہ۔
 دیر میں دودھ دینے والی یا کم دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری۔
 المصرو - دو چیزوں کے درمیان کی روک۔ دو ملکوں کے درمیان کی

المص - مع تصب المص - گنا۔ نیشکر۔
 المصۃ و المصا - من الشی خواص۔
 "ہو مصا قوم" وہ نسب میں خدامت قوم سے (واحد۔ تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب یکساں ہیں)۔
 المصاۃ - جو چیز چھپی جائے۔
 المصا - بہت چوسنے والا۔
 پکھنے لگانے والا۔ سینگ لگانے والا۔
 المصان - کینہ۔ لیم۔ کینہ پرین کی وجہ سے بیڑ بکری کے تھنوں پر منہ لگا کر چوسنے والا۔ اور مرد کو یا مصان اور عورت کو یا مصانہ کہہ کر گالی دی جاتی ہے۔
 المصان - گنا۔ المصوم - پکا ہوا گوشت جو سرکہ میں ڈالا جائے۔
 ج مصاٹص - المصیصۃ - پیالہ المصص - چوسنے کا آلہ۔
 مصغ رن مصغا و مصوھا - الشی جانا رہنا۔ مستقطع ہونا۔ یا شئی لیمانا۔
 مصعت الدائر - گھر کا نشان مٹانا۔
 مصغ الثوب کپڑے کا پراٹا ہونا۔
 النبات - شگوبہ کا مرجھانا۔
 الكتاب - کتاب کا مٹنا۔
 لبن الناقۃ - اونٹنی کے دودھ کا ٹھکانا۔
 مصغ و مصغ (ص) مصغتا - الطل سایہ کا چھوٹا اور پھل ہونا۔ صفت۔ (مصغ)۔
 مصغ و مصغ و امصغ - اللہ صفت خدا تعالیٰ تیرے مرض کو دور کرے۔
 المصاحات - جو سے سے بھری ہوئی اونٹنی کے بچوں کی کھالیں۔
 مصغ رن مصغا - الہی - کھینچنا۔
 تمصغ و امصغ - کھینچ کر نکالنا۔
 امصغ - عن - جدا ہونا۔

ثوبد - کپڑا اتارنا۔
 مشنت - الناقۃ - اونٹنی کا پھل کر دودھ دینا۔
 المشان و المشان - تازہ مہور۔ عمدہ مہور۔
 اشمشی - دست آور دوا پینا۔ المشو و المشو و المشی و المشاء۔
 دست آور دوا۔
 مشی رن مشیا و تمشاء - چلنا۔ بہت مویشی والا ہونا۔ زید - ہدایت پانا۔ اسم (المشیۃ) (مشاء)۔
 المراءک او الماشیۃ - زیادہ اولاد والی ہونا۔ بالتمیۃ - چغلی کھانا۔ بطنہ - اسمال ہونا۔ دستوں کا آنا۔
 مشی تمشیۃ - چلنا۔ الرجل - چلانا۔
 امشی - الرجل - چلانا۔ امشاء اللہ دوا کا دست لانا۔ (وامشی) کسی کے مویشی کا بہت بچے چلنا۔
 ماشا ماشا ماشا - ساتھ چلنا۔
 تمشی - چلنا۔
 تماشیا - ساتھ چل کر چلنا۔ المشیۃ - چلنے کی بہت زور۔
 المشیۃ - ارادہ۔ الماشی - نا۔ ج مشاہدہ ماشون - چلنے والا۔ مویشی والا۔
 المشاۃ - چلنے والے والا۔
 من العسکر - پیدل سپاہی۔
 الماشیۃ - مؤنث الماشی - مویشی۔
 ج حواش -
 المشاۃ بہت چلنے والا۔
 المشی - چلنے کی جگہ۔ گیری۔ راستہ۔
 ج معاشی -
 مص رن مصا و تمصص -
 و امصص - الماشی - چوسنا۔
 امصص - اللبن - چوستا۔

سرد۔ شرح اَمَّصَار و
 مَصُور۔ مَصُور۔ مَكِب مَصْر۔
 الْمِصْرَانُ۔ کوفہ و بصرہ۔
 الْمِصْرِيُّ۔ مصر کی طرف منسوب۔
 مَوْتٌ۔ مِصْرِيَّةٌ۔ ج۔ مَصَارِ
 وَمِصَارِي۔
 الْمِصُورُ۔ من اکابن او الشاقہ۔ قحوراً
 دودھ یا دیر سے دودھ دینے والی بکری
 یا ادنیٰ۔ ج مِصَارٌ وَمِصَارِيُ۔
 مِصْرِيَّةٌ۔ مِصْرِيَّةٌ۔ مِصْرِيَّةٌ۔
 الْمِصِيرُ۔ آنت۔ ج مِصْرِيَّةٌ۔ و
 مِصْرَانٌ و ج مِصَارِيْنِ۔
 الْمِصْرُ۔ گیر سے رنگا ہوا۔
 الْمِصْرُوتَةُ۔ کتے بولنے سے موت کا گولا۔
 الْمِصْطَلِيُّ وَالْمِصْطَلِيُّ وَالْمِصْطَلِيُّ
 مِصْطَلِيٌّ۔ مِصْطَلِيٌّ۔ مِصْطَلِيٌّ۔
 مِصْعَ رَفٍّ مِصْعَاً۔ الْبَرَقِيُّ۔ بجلی کا
 گوندنا چمکانا۔ الدابتہ بذنبہا۔
 جانور کا اپنی دم ہلانا۔ فَلَانًا۔
 کسی نو کوڑے وغیرہ سے مارنا۔
 الْفَرَسُ۔ گھوڑے کا ہنسی رفتار سے
 گذرنا۔ الطائرُ بِزُرْقِهِ۔ پرندے
 کا بیٹ کرنا۔ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ۔
 عورت کا بچہ گرانا۔ فَوَادٌ فَلَانٍ۔
 خوف یا جلدی کی وجہ سے کسی کے دل
 کا پراگندہ ہونا۔ هَاطَنَا۔ (مِصْعُوعًا)
 لَبِنُ النَّاقِيَةِ۔ ادنیٰ کے دودھ کا
 خشک ہونا۔ یا کم ہونا۔ ادنیٰ کی صفت
 رَمَاعِصُ وَمِصْعَةٌ۔ مَاءُ الْحَوْضِ
 حَوْضٍ كَإِنِّي كَمُ هَوْنًا۔ الرَّجُلُ فِي
 الْأَرْضِ۔ جانا۔ سفر کرنا۔
 مِصْعُ۔ الْفَاعُ بِزُرْقِهِ۔ پرندہ کا
 بیٹ کرنا۔ الْعَوِيجُ۔ عوج درخت
 کا پھل لانا۔ الْمَرْأَةُ وَوَلَدُهَا۔ عورت
 کا بچہ کو دودھ کم ہلانا۔

وَأَمَّصَعَتْ بِهِ۔ بچہ گرانا۔ تو
 بے دودھ والی اونٹنیوں کا۔ کس ہونا۔
 لَفْلَانٌ بَتِيَّةٌ۔ کسی کے حق کا اقرار کرنا
 مَاعِصٌ مِصَاعًا وَمِصَاعَةً۔ جنگ و مقاتلہ
 کرنا۔ قَوِيَّةٌ۔ تلوار وغیرہ۔ اِنْمَا۔
 پلیمانہ۔ تہمت لگانا۔ قَمَاعِصُ۔
 الْقَوْمُ فِي الْعَرَبِ۔ آپس میں لڑنا۔
 باہم جنگ کرنا۔
 اِنْمِصْعٌ وَ اِنْمِصْعَةٌ۔ فی اِنْمِصْعٍ۔ زمین
 میں جانا۔ سفر کرنا۔ اِنْمِصْعُ الْجَمَارِ
 گدھے کا اپنے کانوں کو کھرا کرنا۔
 الْمِصْعَةُ وَالْمِصْعَةُ۔ ایک جھوٹا
 پرندہ۔ عوج جھاری کا پھل۔ ج مِصْعُ
 وَمِصْعَةٌ۔
 الْمَائِصِ۔ نا۔ کھاری پانی۔ قحوراً گدلا چمکیلا
 پشت پھیرنے والا۔ مَوْتٌ۔ مَائِصَةٌ۔
 الْمِصْعُ۔ تلوار سے لڑنے والا۔ تلویح۔
 الْمِصْوَعُ۔ ڈرپوک۔
 مِصْلٌ رَنْ مَسْلًا۔ اللَّبَنُ۔ پانی پکانے
 کے لیے دودھ کپڑے میں لٹکانا۔ مَالًا
 بے خیر کاموں میں مال صرف کرنا۔
 لغویات میں اٹھانا۔
 مِصْلًا وَمِصْوَلًا۔ الْحَبْنُ وَخَوَاءُ۔
 ٹپکانا۔ الْجَرَّاحُ۔ زخم کا رستہ۔
 امَّصَلٌ۔ مَالًا۔ مال کو بے فائدہ خرچ کرنا
 لغویات میں اڑانا۔ الْغَنَمُ۔ بکری
 کا سارا دودھ دہنا۔ اِحْصَلْتِ
 الْمَرْأَةُ۔ عورت کا قبل از وقت
 بچہ گرا دینا۔ ادھر بچہ گرا تا۔ مِصْتِ
 (مِصْلٌ)
 الْمِصْلُ۔ مِمَّ رَوَّ الْمِصَالَتِ وَالْمِصَالَتِ
 مِنَ اللَّبَنِ وَخَوَاءُ۔ دودھ وغیرہ سے
 ٹپکا ہوا پانی۔ الْمِصَالَتُ۔ شکرے وغیرہ
 سے ٹپکا ہوا پانی۔
 الْمَاصِلُ۔ نا۔ قحوراً دودھ یا قحوراً بخشش

جہ زیادہ۔ پنے بازوؤں والی عورت۔
 الْمِصْلُ۔ دودھ سے اٹھانے
 برتن۔ لوز۔ پانی میں بر باد کرنے
 والا۔
 مَمَّصٌ۔ الْمَاءُ۔ پانی کو اِن سے
 ہرانا۔ اِنْمِصْعٌ۔ پیرا دھونا۔
 الْمِصَامِصُ۔ خالص۔
 مِصْنٌ۔ حنا و مِصْنِيَّةٌ۔
 الْجُرْحُ فَلَانًا۔ زخم کا درد دودھ
 دینا۔ الْاَلَاءُ۔ العین بحدتہ
 سرمہ کا آنکھ میں سوزش پیدا کرنا۔
 الْخَلُّ۔ نَاعًا۔ سرکہ کا منہ کو ہلانا۔
 الشَّيْءُ فَلَانًا۔ چیز کا کسی کو دکھ پہنچانا
 درد مند ہونا۔ رَمَضًا۔ مِصْنٌ۔ مِصْنٌ
 چوستا۔
 مِصْنٌ (س) مِصْنًا۔ مِصْنٌ۔ مِصْنٌ۔
 درد مند ہونا۔ رَمَضًا وَمِصْنًا
 وَهَمِيضًا۔ کسی عیبت سے دکھی
 ہونا۔
 امَّصَدٌ۔ الْأَمْرُ۔ جملانا۔ درد مند کرنا۔
 جلد کا کھلانا۔
 مِصْنَةٌ مِصْنًا۔ اِنْمِصْعٌ۔ اِنْمِصْعٌ۔
 مِصْنٌ۔ مِصْنٌ۔ مِصْنٌ۔ مِصْنٌ۔
 کھاری پانی پینا۔
 مِصْنٌ۔ الْقَوْمُ۔ قوم کا آپس میں جھگڑنا
 الْمِصْنُ۔ مِصْنٌ۔ مِصْنٌ۔ مِصْنٌ۔
 کرنے والا۔ دودھ کو پھیلانے والا۔
 الْمِصْنَةُ۔ اسم قرہ۔ مِصْنٌ۔ مِصْنٌ۔
 امْرَأَةٌ مِصْنَةٌ۔ عورت جو کسی
 تکلیف دہ چیز کو برداشت نہ کر سکے۔
 الْبَانُ مِصْنَةٌ۔ ترش دودھ۔
 الْمِصْنُ مِمَّ۔ مِصْنٌ۔ مِصْنٌ۔
 کھا دودھ۔
 الْمِصْنُ۔ جِلْبَنُ۔ سوزش۔
 الْمِصْنُ۔ خالص۔ مِصْنٌ۔ مِصْنٌ۔

کھاری پانی، آگ کی سوزش، جلی۔
 الْمَصَاغُ - جلانے والا۔
 مَضَحَ - رن، مَضَحَ وَأَمَضَحَ بِرَحْمَةٍ
 عیب لگانا۔ مَضَحَ عَمَلَهُ بِرِئَاسَانِهِ دَفْعَ كَرْنَا
 - الشمس، سورج کی شعاعوں کی تین
 پر پھینا۔ ایل، اونٹوں کا بھرننا۔
 منتشر ہونا۔ المُواذَةُ، رِسْنَا۔
 مَضَدًا مَضَدًا - کینہ رکھنا۔
 مَضَرَرَنَ، وَمَضَرَرَدَمَ، وَمَضَرَرَسَ،
 مَضَرًا، وَمَضَرًا، وَمَضَرًا، التَّبِيدُ
 اَوِ اللَّيْنُ - نیند یا دودھ کا ترش ہونا۔
 مَضْرَكَ - قبیلہ بُمْرَثُ مَرْتَنَ نَسَبًا كَرْنَا
 مَضْرَا، كَرْنَا، التَّشَادُدَ - خداتعالیٰ
 نے اس کی اچھی تعریف بتائی۔
 تَمَضَّرَ - قبیلہ - سفر کی طرت منسوب ہونا یا
 اس کے ہم رنگ ہونا۔ تَمَضَّرَتِ
 الْمَاثِيَةَ - موشوں کا مولنا ہونا۔
 لَبَنٌ مَضْرُورٌ وَمَا فِيهِ رَمَضِيرٌ كَمَا
 دودھ۔ عَيْشٌ مَضْرُورٌ - سودہ
 زندگی، ذہبِ ذَمَّةٍ خَضِرٌ أَمَضْرًا
 ادھیرا مَضْرَا، سَاخُونُ رُكَاكَا
 الْمَضْرُورَةُ - قرش دودھ میں یکا جھوننا
 تَمَضَّرَةُ - قرش دودھ کا پان
 مَضْرُورَةٌ - مَضْرُورٌ مَضْرُورًا
 مَضْرُورٌ - دیر تک روٹنا یا جھینٹنا۔
 مَضْرُورٌ وَمَضْرُورَةٌ - مَضْرُورٌ، مَضْرُورَةٌ
 مَضْرُورٌ - مَضْرُورٌ، مَضْرُورَةٌ
 قَابِلًا مَرْتَنًا
 الْمَصَاغُ جَانَا - وَالْمَصَاغَةُ دَه
 چور چپا یا جالے چپائی ہوئی چیر کا منہ
 میں بقیہ۔
 الْمَاضِحُ - قَابِلٌ مَضْرُورٌ
 گوشت وغیرہ کا کھڑا
 مَضْرُورٌ الْأُمُورُ - معمولی چیز کے کام
 الْمَضْرُورَةُ - بڑی بڑی چیز کا گوشت جیڑا

مَضَا - ج، مَضِيحٌ وَمَضَايِحٌ
 الْمَصَاغَةُ - بے وقوف - بہت چبانے والا
 الْمَاضِحَانُ - دونوں جڑے۔ الْمَوَافِحُ
 ڈاڑھیں۔
 مَضْمَضٌ مَضْمَضَةٌ وَمَضْمَضَةٌ
 مَضْمَضًا - الْمَاءُ، كَلَى كَرْنَا
 التَّرْبُوتُ وَغَيْرُهُ - کپڑا دھونا۔ تَمَضْمَضَ
 النَّاسُ فِي عَيْنَيْهِ (ادگھکا آنکھوں
 میں گھل لی جاتا۔ سرایت کرنا۔
 تَمَضْمَضَ - الْكَلْبُ فِي أَمْرِهِ -
 کتے کا کسی کے پیچھے جھونکنا۔
 الْمَضْمَضُ - جن نیند پھر تھلا آدھی۔
 الْمَضْمَضَةُ - ماضی، ماضی، ماضی وغیرہ
 کی آواز۔
 مَضَى يَمُضِي وَمَضًا يَمْضُو مَضُوًا
 وَمَضِيًا - الشَّيْءُ، كَرْنَا، مَضُوًا
 سَبِيلًا، وَسَبِيلًا، مَرْنَا -
 مَضَى يَمْضِي وَيَمْضِي مَضًا وَمَضُوًا
 عَلَى الْأَمْرِ - کسی امر پر بھیگی کرنا کام کا
 پورا کرنا، پورا کرنے سے پہلے کام کو۔
 تَمَضُّوْا عَلَيْنَا كَتَبْنَا -
 عَلَى الْبَيْعِ - سودا کرنا مَضَى مَضَاءً
 اس کی توجہ سے پورا کرنا
 مَضَى مَضَاءً - الْأَمْرُ، نَا، كَرْنَا، جَارِي
 کرنا کام پورا کرنا۔ سودا ختم کرنا
 مَضَى كَرْنَا - اسباب وغیرہ پورا کرنا
 مَضَى كَمَضِيًا - الْأَمْرُ، نَا، كَرْنَا
 كَمَضِيًا الْأَمْرُ - نَا، كَرْنَا، مَضَى مَضَاءً
 - الْأَمْرُ، نَا، كَرْنَا، مَضَى مَضَاءً
 الْمَضْوَاءُ - ترقی آگے بڑھنا۔
 الْمَضَايِي - نَا، كَرْنَا، مَضَى مَضَاءً
 عِنْدَ الْمَضَايِي - وہ عمل جو گذرے
 زمانہ پر دلالت کرے، گزارا جو عوامی
 الْمَضَاءُ - نختہ، بارادہ والا۔
 مَطَارُنَ، مَطَا، الشَّيْءُ، پھیلانا۔

الْمَطْرُ - کھینچنا۔ خَدَا، كَبِيْرًا
 مَطَطَ - زور سے کھینچنا۔ گالی دینا۔
 تَمَطَّطَ - کھینچنا۔ پھینا۔ سب کر کے اور سجا
 کر کلام کرنا
 الْمَطَاطُ - ادٹ کا گڑھا گٹھا دودھ۔
 الْمَطِيْطِيُّ وَالْمَطِيْطَاءُ وَالْمَطِيْطَاءُ -
 مغرورانہ چال۔ غرور۔ چلنے میں دونوں
 ہاتھوں کو پھیلاتا۔
 الْمَطِيْطَةُ - گدا گدا پالی جہ مَطَايِطُ
 مَطَحَتِ رَنَ، مَطَحًا بِيْدِهِ - مارنا۔
 تَمَطَّحَ وَامْتَطَّحَ - الْوَادِي - وادی کا
 پانی زیادہ اور بلند ہونا۔
 مَطَّحَ رَنَ، مَطَّحًا، كَعَسَلٍ - شہ چاٹنا
 - الرَّجُلُ بِيْدِهِ - مارنا۔ عَمْرًا مَضَى -
 عزت خراب کرنا۔
 الْمَطَّاحُ - قاسست رفتار گھوڑا۔
 الْمَطَّاحُ - بے وقوف - شکر - بد زبان
 جھوٹا۔
 مَطَّرَتِ رَنَ، مَطَّرًا، وَمَطَّرًا، أَمَطَّرَتِ
 السَّمَاءُ - آسمان کا بارش برسانا۔
 - السَّمَاءُ الْقَوْمُ - آسمان کا قوم پر بارش
 برسانا۔ - أَمَطَّرَ الرَّجُلُ - پیشاب
 پر سینہ آنا۔ بارش میں ہونا۔ - أَمَطَّرَ
 الرَّجُلَ - کسی جگہ کو بارش برسا ہوا پانا
 مَطَّرَ رَنَ، مَطَّرًا، وَمَطَّرًا، كَهْوَلِي
 کا تیز دوڑنا۔ - الْقَرِيْبَةُ - شکر
 بھرننا۔ - الْكَلْبُ - پرندے کا تیزی
 سے اترنا۔ - (مَطَّرًا) فِي
 الْأَرْضِ - جانا۔ - الْعَهْدُ -
 غلام کا بھاگنا۔ - الشَّيْءُ، بَلِيْذٌ مَرْنَا -
 تَمَطَّطَ - بارش کے سامنے ہونا۔ بارش مانگنا۔
 - الرَّجُلُ إِلَى الْأَرْضِ جَانَا، كَبِيْرًا
 تیزی سے اترنا۔ - بِيْدِهِ، مَضَى
 سوار کو لے کر تیز دوڑ جانا۔
 اسْتَمَطَّ - اللّٰهُ - اللّٰهُ تَعَالَى سے بارش مانگنا

— المکان او الذرع کسی جگہ یا
 کھیتی کا بارش کا محتاج و ضرورت مند ہونا
 — الرجل بارش سے چھپنا۔
 چپ ہونا — کوہیہ برساتی پہنا
 اسْتَنْطَرْنَا فَلَمَّا مِين فَلَاحِنِ كَيْسِي
 بخشش کی التجا کرنا۔
 الْمَطَرُ بارش جہ۔ اَمْطَارُ
 الْمَطَرُ عادت۔ رسم۔
 الْمَطَرَةُ بوجھار۔ وَالْمَطَرَةُ
 الْمَطَرَةُ عادت۔ الْمَطَرَةُ
 مشک حومن کا وسط۔ الْمَطَارُ وَ
 الْمَطَارَةُ مِنَ الْاَبَارِ چوڑے تہ
 کا کنواں۔ تیز دودھ والے والا
 الْمَطَارُ مِنَ الْبَيْتِ تیز دودھ والے والا
 گھوڑا۔
 الْمَطِيرُ وَالْمَاطِرُ وَالْمَطِيرُ بارش
 والا موسم۔ سَحَابٌ مِمَطَارٌ
 میت برسنے والا بادل۔
 الْمِيمَطِي وَالْمِيمَطِي بارانی برساتی
 عالم لوگ اس کو "الْمِيمَطِي" کہتے ہیں
 الْمِيمَطِي مٹھر مٹھر کرنے والا بادل
 الْمِيمَطِي تیز گھوڑا، تیز گھوڑے
 کا سوار۔ بارش کے بعد بھا خوری کرے
 والا۔
 الْمُسْتَمَطِرُ فا۔ بارش کا محتاج جگہ
 مانگنے والا خاموش
 الْمُسْتَمَطِرُ مفعول۔ بارش کے لئے سکھانے والا
 الْمَطْرَانِ وَالْمَطْرَانِ لاٹ۔ پادری
 مَطْعَ مَطْعًا وَمَطْوَعًا فِي الْاَرْضِ
 کہیں ہا کر گم ہونا۔ الشیء چیز کو آگے
 واپس سے کھانا۔
 الْمَاطِعُ فا۔ خالص
 تَمَطَّقَ کھانا چکھنا۔
 الْمَطْقَةُ مٹھاس
 مَطْلُ رن، مَطْلًا۔ الجبل۔ برساتا

— الْهَوِيَّةُ لوہے کو بڑھانے کے لئے
 کہنا پینا۔ لوہے کو گھلا کر چوڑا کرنا
 — حَقَّةٌ وَبِجَّةٌ مال مٹول کرنا۔
 مَا طَلَتْ مِطَالًا وَمَا طَلَتْ بِبِجَّةٍ
 ادائیگی میں مال مٹول کرنا۔
 اِمْتَطَلْتُ حَقًّا۔ مال مٹول کرنا پودے
 کا لہا اور گنجان ہونا۔
 اِمْتَطَلْتُ الشَّيْءَ حَبْرًا كَادِرًا هُونًا
 اِمْتَطَلْتُ وَالْمَطَلَةُ حوض کی تہ میں
 بقیہ پانی۔
 الْمَطْلَةُ تھوڑا سا پانی جو مشک سے گمے
 الْمَطَالَةُ قلعی گرگ کا پیشہ۔ لوہے کے
 کمانے یا گھلانے کا کام۔
 الْمَطَالُ لوہے کو گھلانے والا۔
 قلعی گرگ۔ وَالْمَطَالُ بہت
 مال مٹول کرنے والا۔ اَلْمَطَالَةُ
 گونا گونا ہونا۔ چوڑا کیا ہوا ہونا۔
 اَلْمَطَالُ حَبْرًا۔ برار کا گھن۔
 مَطْمَطٌ بولنے یا کہنے میں سستی کرنا۔
 مَطَا يَمْطُو مَطْوًا جینے میں جلدی
 کرنا۔ بِالْقَوْمِ دیر تک چلانا۔
 مَطِي يَمْطِي مَطًا کہا ہوتا۔ دراز ہونا
 اَمْطَى الْهَدَايَةَ سوار ہونا۔
 سواری بنانا۔
 اَمْطَاةُ الْهَدَايَةِ سوار کرنا
 اَمْطَى الْهَدَايَةَ سوار ہونا
 تَمَطَّى۔ دہاڑ لہا ہونا۔ الرجل
 لہا ہونا۔ جینے میں کھینچنے سے باز رہنا
 الْمَطَا مِعْ۔ بیکھنے سے باز رہنا
 اَمْطَاةُ
 الْمَطْوُ وَالْمَطْوُ وہ شاعر جس کو حیرت
 کر گئی یا نہ جانے۔ جہ۔
 مِطَاةٌ وَ اَمْطَاةٌ وَ مِطِي
 الْمَطْوَاةُ اَلْمَطْوَاةُ الْبَيْتِي
 دوست المَطْوَاةُ گھنہ لہو ہونے

اَلْمَطِيَّةُ سواری کا جالور ہونے کا
 جہ۔ مَطَايَا وَ مَطِي
 اَلْمَطِيَّةُ بیدھے قدم والا۔ ایک قسم کا گوند
 مَطْنُ رن، مَطًّا۔ طامت کرنا۔
 مَا طَنَ مِطَانًا وَمَا طَنَ حَبْرًا
 گالی دینا۔ دُخْمَنٌ مِمَّنْ سے چھپنا۔
 اَمْطَنَ۔ گالی دینا۔
 تَمَّا طَوًّا آپس میں صبر کرنا۔ باہم
 گالی گلوج کرنا۔
 اَلْمَطَّ مہ۔ جنگلی انار ایک قسم کے گوند
 کا سرخ عصا۔
 الْمَطَاةُ کھری۔ کھری۔ بدرجہ
 مَطْعَ رن، مَطْعًا وَمَطْعَ الْوَشْوِ
 تانت کو خشک اور چکنا کرنا۔
 تَمَطَّحَ اَلْمَاكُولُ سب کا سب پٹ
 جانا۔ اَطَّلَ۔ سایہ ادھر ادھر
 تلاش کرنا۔ نِي الرَّايِ۔ چرانے
 کے وقت سے دیر کرنا۔
 اَلْمَطْعَةُ گھاس کا بقیہ۔
 مَعَ وَمَعَ۔ ساتھ۔ وقت پر باوجود
 مَعَكَ بھرے ساتھ۔
 مَعَ الْعَيْشِيَّةِ شام کے وقت
 مَعَ ذَلِكَ باوجود اس کے تاہم
 اَللَّهُ مَعَنَا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے
 اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مَعَ كَوْفِهِ كُنْتُمْ
 باوجود اس کے غنی ہونے کے۔
 مَعًا۔ ایک ہی وقت میں اکٹھے رسال
 ہونے کی وجہ سے ملنا۔
 مَوَيْتِي ساتھ تعلق۔ ظاہر اداہ کا
 پہاڑیٹ مکان۔
 مَعَ رن، مَعًا۔ چری کا گھنہ مَعَت
 رن، مَعًا۔ الشیء۔ ملنا۔
 مَعَجَ رن، مَعَجًا۔ گھوڑے کا نرمی اور
 تیزی سے چلنا۔ صفت (مخارج)
 مَعَجَ الْبَحْرُ۔ سمندر کا موجزن ہونا جوش مارتا

المعجز - سلاب کا تیرا ہونا۔
 بِتَعْلِيمٍ فِي الدَّقَاةِ تَعْلِمٌ كَوَدَاةٍ فِي طَا
 کہ اس پر روشنائی اچھی طرح لگ جائے
 — التَّقِيضُ صَرْعُ اُجْتِدٍ — اذُنِي
 کے پھر کا دودھ اتارنے کے لیے سوارنا
 تَمَعَّجٌ — التَّيْلُ اَبُو الْحَيْثُ يَبِيحُ وَتَاب
 کھاتے ہوئے گزرنا۔
 الْمَعَجُجُ — مَص — اضْطْرَابٌ — رَطَائِي —
 ہوا کا نرم چلنا۔
 الْمَعَجَجَةُ — جَوَانِي كَا اَفَاذ — الْمَعَاجِمُ
 اسم مبالغہ۔ حِمَارٌ مَعَاجِمٌ — دَوْدُنِي
 میں ادھر ادھر ہونے والا گدھا۔
 مَعَدَاتٌ (مَعَدَا) — الشَّيْءُ — جَمِيْطٌ
 لینا۔ اچک لینا — الشَّيْءُ تَبِيْزِي
 سے کھینچنا — الرَّوْحُ مَرَكَنِي كَهَيْنِي
 — فِي الْاَرْضِ — دَوْرٌ كَا سَفَرٌ كَرَمَانِي —
 — الشَّيْءُ — تَبَاهٌ هُوَانِي — كَمَرٌ
 گوشت کو آگے کے دانتوں سے کھانا۔
 — السَّيْفُ تَلْوَارٌ سَوْتَمَانِي —
 الرَّجُلُ — كَيْسِي كَمَعْرَهٍ پَرَمَانِي مَعَدَا
 وَمَعُوْدَا) بِالشَّيْءِ سَلِيْجَانِي —
 — الدَّوْلُو وَبِهَا — دَوْلٌ كَهَيْنِي —
 اور کنیوں سے نکالنا۔
 مَعِدَا — مَعْرَه كَمَعْدُوْلَا هُوَانِي صَفْت
 (مَعُوْدَا)
 اِمْتَعَدَا الشَّيْءُ مَعْمَانِي لِيْنَا — اُجْكَا لِيْنَا
 الْمَعْدَا — مَعْرَمُوْلَا وَتَمَاذَه وَنَوْمٌ مَعْل
 نوم سبزی۔ تیرورفا راونٹ۔
 کہتے ہیں مَالِكَا تَعْدَا وَكَلَامَعْدَا —
 اس کے پاس نہ ضرور ہے نہ بہت
 الْمَعْدَا — پَيْطٌ — بِيْلُو —
 الْمَعْدَا تَمَاذَا لِمَعْدَا مَعْرَه — ج
 مَعْدَا وَ مَعْدَا —
 الْمَتَمَعْدَا — مِيْن الرُّكْبِ — تَمَاذَه مِيْن
 دار کھوری۔

تَمَعَّدَا — اَنْفَلَامٌ — لَرُوْكَ كَا جَوَانِي هُوَانِي
 بیمار کا تندرست ہونا۔
 مَعُوْدَا (مَعُوْدَا) مَعُوْدَا — الرَّيْشُ اَو الشَّعْرُ
 بال کم ہونا — اَنْتَا صَيْبِيْنَا — بِيْتَانِي
 گننی ہونا — اَنْطَرُوْ: نَاخِن كَا چُوْط
 وغیر سے گر جانا۔
 مَعْرَا — غَرِيْبٌ هُوَانِي — بِيْ تُوْشَرٌ هُوَانِي —
 چہرہ کو غصہ سے بدلنا۔
 اَمْعُوْدَا — الرَّيْشُ اَو الشَّعْرُ — بَالٌ دِيْرِكَمٌ تُوْشَرٌ
 — الرَّجُلُ — مَتَا جٌ وَفَقِيْرٌ هُوَانِي —
 اَمْعُوْدَاتِ الْاَرْضِ — كَم بِنَاتَاتِ وَالِي
 ہونا — الرَّجُلُ كَمِي كَا بَالٌ صَيْبِنِي كَر
 اس کو کنگال کر دینا — الْعَوْمُ بَقُوْطٌ
 زود ہونا۔ بے سبزی والی زمین میں آتا
 — اَلْمَوَاتِي الْاَرْضِ — مَوِيْشِي كَا
 سب گھاس چرجاتا۔
 تَمَعْرَا — وَجِيْهَةٌ — چہرہ کا بدلنا۔
 — رَا سَمَانِي — سِرْكِي بَالُوْن كَا گر جاتا
 الْمَعَاكَا — بَدْعَلِي — تَرَشْرُوْنِي —
 الْمَعُوْدَا — بِيْ بَالُوْن يَأْكُمُ پَرُوْنِ وَالَا —
 چوٹ وغیرہ سے گریو والا۔ نَاخِن بِيْجَلِي —
 تَمُوْلُوْ سِ كُوْشْتِ وَالَا — نَسْجِي زَمِيْن —
 اَلْمَعُوْدَا — كَم بَالُوْنِ وَالَا كَم بِنَاتَاتِ وَالِي
 تَمُوْلُوْ سِ وَان اَتْرَا هُوَا مَوْزَه — مَوْشِي
 مَعُوْدَا جِ مَعُوْدَا —
 الْمَعُوْدَا — غَضَّةٌ سِ تِيُوْرِي پُلْحَانِي وَالَا
 مَعُوْدَا (مَعُوْدَا) مَعُوْدَا — الشَّيْءُ بِيْمَتٌ هُوَانِي —
 اَمْعُوْدَا (مَعُوْدَا وَ مَعَا عِيْنِي)
 — الرَّجُلُ كَامِي كُوْشْتِي كَرَمَانِي —
 (مَعُوْدَا وَ اَمْعُوْدَا) بِيْتٌ بَكِيْرُوْنِ وَالَا هُوَانِي
 مَعُوْدَاتِ (مَعُوْدَا) مَعُوْدَا — بَكِيْرُوْنِ كُوْشْتِي وَالَا
 اَلْكُ كَرَمَانِي —
 تَمَعْرَا — وَجِيْهَةٌ — چہرہ کا تیروری والا ہونا
 — اَلْبِيْرِيْ: اَدْنُكٌ كَا تِيْرُوْ دُوْرَانِي —
 اِسْتَقْمُوْرَا — كَامِي كُوْشْتِي كَرَمَانِي —

مَا اَمْعُوْرَا اِيْكَ — دَه كَس قَدْرٌ مَضْبُوْطٌ
 رائے والا ہے۔
 الْمَعُوْدَا وَ الْمَعُوْدَا — بَكِيْرِي — اَمْعُوْدَا جِ وَ اَمْعُوْدَا
 (مَعُوْدَا) جِ اَمْعُوْدَا وَ مَعُوْدَا —
 الْمَعُوْدَا — زَمِيْن كِي سَخْتِي —
 اَلْمَعُوْدَا جِ اَمْعُوْدَا وَ اَمْعُوْدَا وَ اَمْعُوْدَا
 وَ الْمَعُوْدَا وَ الْمَعُوْدَا — بَكِيْرِي —
 اَلْمَعُوْدَا — تَمِيْسٌ چَالِيْسِي كِي دَرَمِيَانِ
 ہرڑوں کا غول۔
 الْمَعُوْدَا — مَعُوْدَا كَا دَا حِد — بَكِيْرَا، بَكِيْرِي
 کبھی بکری کو مَعُوْدَا بھی کہتے ہیں
 جِ مَوْ اَعُوْدَا —
 الْمَعُوْدَا وَ الْمَعُوْدَا وَ الْمَعُوْدَا —
 چست کو سٹش کرنے والا۔ الْمَعُوْدَا —
 بَكِيْرِي كِي كَهَال —
 اَلْمَعُوْدَا — بَكِيْرِي —
 اَلْمَعُوْدَا — سَخْتٌ پَتْمِيْرِي زَمِيْن يَأْكُمُ —
 مَوْشِي مَعُوْدَا جِ مَعُوْدَا وَ
 مَعُوْدَاتٌ وَ اَمْعُوْدَا —
 الْمَعُوْدَا — بَكِيْرِي وَ اَلْمَعُوْدَا — چرواہا
 الْمَعُوْدَا — بِيْجَلِي —
 مَعْمَانِي (مَعْمَانِي) مَعْمَانِي الشَّيْءُ بِيْرِي كُوْشْتِي
 سے ملنا — الرَّجُلُ: تُوْمِيْنِ سِ بِيْعَرْتِي
 کرتا۔ نِيْسَنَه مَارَمَانِي —
 اَلْمَعْمَانِي — دَوْدُه — حِرْكَتٌ
 اَلْمَعْمَانِي وَ اَلْمَعْمَانِي — رَطَائِي مِيْن
 آگے بڑھنے والا۔
 مَعْمَانِي (مَعْمَانِي) مَعْمَانِي — الرَّجُلُ: پَاوُوْنِ
 مِيْن مَوْجِ اَنَانِي — دِيَادَه چَلْنِي سِي پَنِي
 مِيْن وَ دَرَمَانِي — صَفْتٌ وَ مَعْمَانِي وَ
 مَعْمَانِي
 تَمَعْمَانِي بِيْطَنِيْ پِيْطٌ كَا دَرُوْ كَرَمَانِي —
 الرَّجُلُ — مَرْمَذَه هُوَانِي —
 مَعْمَانِي (مَعْمَانِي) مَعْمَانِي وَ اَمْعُوْدَا —
 مِيْن اَلْاَطْمِيْرِ غَضْبَانِي كَرَمَانِي مَعْمَانِي

رَمَعَضٌ وَرَمَاعِضٌ
مَعَضًا وَأَمْعَضًا - عَضِبْنَاكَ كَرْنَا
ورد مند کرنا - اَمْعَضَ الشَّيْءُ
چیز کو جلانا -
مَعَطَ رَفًا مَعَطًا الشَّيْءُ كَيْفِيًّا -
الرَّيْشُ - رَزْجًا - سَمَقَ فُلَانٌ
حق کی ادائیگی مال دنیا (-) وَأَمْعَطَ
السَّيْفُ - مَلَّوْا سَوْتًا -
مَعَطَ رَسًا مَعَطًا وَتَمَعَطَ - الذَّبُّ
بھیرٹھیے کا گیسے ہوئے بال والا ہونا
صفت (مَعَطٌ وَأَمْعَطٌ)
تَمَعَطَ وَأَمْعَطَ وَالْمَعَطُ وَالْمَتَعَطُ
الشَّعْرُ - بَالٌ كَأْسِيٌّ يَمَارِي سَ
گر جانا -
إِمْعَطَ وَإِسْتَعَطَ التَّهَارُ - دَنٌ كَالْمَا
ہونا -
الْمُعِطُ وَالْأَدْعَطُ - دَهْ جَسَ كَ بَدَنِ
بال نہ ہوں - مَوْنَتٌ مَعَطًا ج:
مُعَطٌ - أَرْضٌ مَعَطًا - نَكِيٌّ زَيْمٌ
مَعَقًا - رَفًا مَعَقًا ذُكْرًا كَرْمِيًّا -
سیراب کا زمین کو بہاے جانا -
مُعِيقٌ مَعَقًا - خَرَابٌ مَعَدٌ وَلا يَهْوَنَا -
مَعُوٌّ رَكٌّ مَعَقًا وَمَعَاقِدٌ - التَّهَارُ
نَدْمًا كَأَنَّهَا بَرْنَا صَفْتٌ رَمَعِيقٌ
مَوْنَتٌ مَعِيَّةً تًا -
أَمْعَقُ الْبَيْتُ - كَنْزِيرٌ كَرْمًا كَرْنَا -
تَمَعَّقُ كَرْمًا بَرْنَا - كَيْتٌ هِي تَمَعَّقُ
الرَّجُلُ قَلِيَّةً - اس نے ہارے ساتھ
پہننے کی -
أَمْعَقُ وَالْمَعَقُ وَالْمَعَقُ - كَرْمًا ج:
أَمْعَقٌ - أَمَاعِقٌ وَأَمَاعِيَّةٌ
أَمْعَقٌ - بَدْعٌ - بَجْرٌ زَيْمٌ -
مَعَكَ رَفًا مَعَكًا الشَّيْءُ - مَلْنَا -
الرَّجُلُ - ذَيْلٌ كَرْنَا - يَمْعَقُ
رَفًا - فُلَانًا فِي الْخَصْوَةِ مَرَّةً -

غالب آنا - مَعَكَ ذَيْنًا وَبَدْعِيًّا
قرض مانا -
مَعَكَ رَكٌّ مَعَاكَةً - بَعٌ وَقُوتٌ يَهْوَنَا
مَعَكًا - زَيْمٌ يَرُوتُ يَرُوتُ كَرْنَا -
تَمَعَكَ - زَيْمٌ يَرُوتُ يَرُوتُ يَهْوَنَا -
مَا عَكَا مَمَاعَكَةً يَدَا يَنْبِهِ - قَرْضٌ كَرْمًا
مانا -
أَمْعِكَ - اِحْتِجَ جَمْعًا لَوْ -
(- أَلْمَعَكَ) قَرْضٌ مَانَةٌ دَالَا -
مَعَكَ رَفًا مَعَدًا الشَّيْءُ يَحْمِنُ لِيْنَا
اچک لیا - أَلْمَعَشِيَّةُ - نَكْرِيٌّ
چیرنا - أَمْرًا - كَامٌ كَرْمِيٌّ اَوْ
چستی سے کرنا - الرَّجُلُ اَوْ جَدِيٌّ
ہونا -
مَعَلَهُ وَأَمْعَلَهُ عَنِ الشَّيْءِ يَجْرِي سَ
بٹا دینا -
إِمْتَعَلَ - الرَّجُلُ - بَعٌ وَرَبٌّ نِيْرَهَ مَارْنَا
أَمْعِلُ مِنَ النَّاسِ - بَحْرٌ تَيْسَلًا
جلد باد -
أَلْمَعَالِمَةُ - بَرَاةٌ شَرَارَةٌ -
مَعْمَلٌ - جَدِيٌّ كَامٌ كَرْنَا - الشَّيْءُ
أَلْمَعْمَلِيُّ جَلِيٌّ يَحْمِنُ كَرْمًا دَالَا
أَلْقَوْمُ - سَخْتٌ تَمَالٌ كَرْنَا - سَخْتٌ
گرمی میں چلنا - الرَّجُلُ اَوْ بَارِيَّةٌ
میں لفظ "مع" زیادہ استعمال کی جاتا ہے
- التَّهَارُ الْمَكْرِيَّةُ آسَانٌ كَالْمَعْمَلِ
بارش برساتا -
أَلْمَعْمَلُ - تَيْزٌ خَاطِرٌ عَرَبِيٌّ أَلْمَعْمَلِيُّ
مع - رَكْلٌ كَرْمِيٌّ كَرْمًا دَالَا - جَمْعٌ
میں لڑنے والوں کا شور مچا کر گری کی
تیزی ج مَعَامِعٌ -
أَلْمَعَامِعُ - رَمَائِيَا - نَقَطَةٌ
أَلْمَعْمَعِيُّ - حَسَنٌ كَرْمِيٌّ كَرْنَا نَهْوَنَا
اور ہر ایک کی رائے کے ساتھ شال
ہولے -

أَلْمَعْمَعَانُ وَالْمَعْمَعَانِيُّ مِنَ الْأَيَّامِ
سخت گرم دن
أَلْمَعْمَعَانُ - سَخْتٌ كَرْمِيٌّ يَأْمُرِي -
مَعْنٌ رَفًا مَعْنًا - النِّعْمَةُ - كَرْمَانٌ
نعمت کرنا - بِالْحَقِّ - حَقٌّ سَ اَكْرَارٌ
کرنا - حَقٌّ كَالْاَقْرَارِ كَرْنَا (مَعْنُ)
مَعْنٌ رَفًا مَعْنًا وَمَعْنٌ رَفًا مَعْنًا
الْمَاءُ - پَانِيٌّ كَارْمٌ رَفَارٌ سَ بَرْنَا
صفت (مَعْنِيٌّ) - مَعْنٌ رَفًا
گھوڑے کا دوڑ تک دوڑنا -
أَلْمَطْرُ الْأَرْضُ - يَارَشٌ كَارْمِيٌّ كَرْمًا
مَعْنٌ رَفًا مَعْنًا - أَلْمَكَانُ وَآبَتْ
پانی سے سیراب ہونا -
أَمْعَنٌ - فِي الطَّلَبِ - مَوْنَتٌ مَعْنِيٌّ
مبالغہ کرنا - فِي الْأَرْضِ مَعْمَلِيٌّ
تمہ تک پہنچنا - الصَّبُّ فِي جَوْهَرٍ
گوہ کا اپنے سوراخ میں دوڑ تک پہنچ جانا
- الْفَرْسُ - كَرْمِيٌّ كَارْمِيٌّ
دوڑ تک نکل جانا - النَّظْرُ فِي الْأَرْضِ
کسی معاملہ کو سمجھ کرانی سمجھنا -
- أَلْوَادِيٌّ - سَبْتٌ جَارِيٌّ پَانِيٌّ دَالَا
ہونا - مَالَةٌ - رِيَادَةٌ هَوْنًا كَرْمًا
(مَعْنُ) - الْمَاءُ بِشَرِّهِ مَعْنًا -
- فُلَانٌ الْمَاءُ - پَانِيٌّ مَعْنًا -
كَمْعَنٌ - ذَيْلٌ هَوْنًا - حَقِيرٌ هَوْنًا
أَلْمَعُونُ - مَعْرٌ - مَعْنِيٌّ مَعْنِيٌّ
آعلان - لِيَا - مَعْنًا - اَوْ صَوْرَتِيٌّ
سُورَةٌ حَقِيرَةٌ مَعْنِيٌّ يَأْمُرِي
ذلت - كَمْعَنٌ مَعْنًا كَالْمَعْنِيَّ
أَلْمَعْنَةُ - مَعْنٌ كَالْمَعْنِيَّ
" مَا لَنَا سَعْنَةٌ وَلَا مَعْنَةٌ " -
ابھی کے پاس کچھ نہیں ہے -
أَلْمَعَانُ - مَزَلٌ -
أَلْمَعُونُ - يَارَشٌ - پَانِيٌّ - كَرْمِيٌّ
کے چیزیں مثلاً کھلاڑی یا ٹانڈی یا اور

خانگی اشیا۔ بھلائی۔ نیکی۔ فراہم ہونے والی
ذکرۃ۔ عوام کے نزدیک کاغذ کا
یا دستہ۔

الْمُعِينُ جاری پانی۔ بہت پانی جہ :
مُعَاتٌ وَمُعُونٌ۔ کلاؤ۔ مَعُونٌ
وہ گھاس جس میں پانی جاری ہو۔
رَوْحٌ مَعُونٌ۔ بہتے ہوئے پانی سے
سیراب کیا ہوا باغ۔

تَمَعْنِي يَتَمَعْنِي۔ معنی سمجھانا یا بیان کرنا
مَعَا يَمَعُو مَعَاءً۔ السُّنُورُ۔ بلی کا
میاؤں میاؤں کر کے آواز نکالنا۔
أَمْعَى۔ التَّخْلُ۔ بکی ہوئی کھجوروں والی
ہونا۔ الْكِبْرُ۔ گذر کھجور کا خوش
مزه ہونا۔

تَمَعْنِي۔ شرک پھیلنا چہرے کا تن جانا۔
الْمَعْرُ۔ بکی ہوئی کھجور جو خشک ہونے
لگے۔ اونٹ کے نیچے کے بونٹ میں
چھن و ترخہ۔

الْمَعْنَى وَالْمَعْنَى۔ جہ آدھا اور المَعَاءُ
جہ آمِيعِيَّةٌ۔ آنت۔

مَعْنَى (ف) مَعْنَى۔ الدَّوَاءُ فِي الْمَاءِ
دوا کو پانی میں بھگونانا۔ اَلْمَرْجَلُ
بگایا مارنا، پھیلانا۔ مَعْنَى الشَّيْءِ
مخلوط کرنا۔ عَوْصٌ قُلَانٌ۔ کسی کی
عروت خراب کرنا۔

مَعْنَى۔ الْمَرْجَلُ۔ کسی پر ہمارا چلنا۔
مَا عَمَّهَا مَعَانِيًا وَمَعَانِيَةً۔ جھگڑا کرنا
الْمَعْنَى مَع۔ انگلیوں سے مل کر نرم کرنا
رطائی جہ مَعَاتٌ۔

الْمَعْنَى۔ پانی کے زور سے لپٹی ہوئی گھاس
شریر آدمی۔
الْمَعَاتُ۔ چوڑے پتوں اور سفید پھولوں
والا ایک درخت۔

مَعْدَانٌ (ف) مَعْدَانٌ۔ الشَّيْءُ جُوسْتَانَا

الْفَيْسِلُ اُتْمَةٌ۔ بچہ کا دودھ پینا
الْبَهَاتُ۔ دراز ہونا۔

الرَّجُلُ فِي عَيْشِهِ۔ آسودہ زندگی بسر کرنا
شَعْرَةٌ۔ بال اکھیرنا۔

الْعَيْشُ الْبَدَانُ۔ موٹا تازہ کرنا
قُلَانٌ۔ بھری جوانی والا ہونا۔

مَعْدَانٌ (ف) وَمَعْدَانٌ (س) مَعْدَانٌ۔ الْبَدَانُ
بدن کا گوشت سے بھرتا۔ موٹا ہونا۔

أَمْعَدٌ۔ دیر تک پینا۔۔۔ الصَّبِيُّ
بچہ کا دودھ پلانا۔

الْمَعْدُ۔ مَع۔ عَيْشٌ مَعْدٌ خَوْشَالٌ
زندگی۔ بول یا بیری کا گوند۔ بڑا
ڈول۔ ککڑی کے مشابہ ایک پھل۔

مَقْرَدٌ (ف) مَعْنَى فِي الْبِلَادِ۔ جلدی
سے جانا۔۔۔ يَمُ بَعِيْرَةٌ۔ لے کر
تیرا دوڑنا۔

مَعْسُ الشُّوبِ۔ سرخ مٹی یا گرو سے رنگنا
أَمْعَدَتِ النَّاقَةَ۔ بیماری سے
ادبئی کے دودھ کا سُرخ ہونا۔

صِفَتٌ (مَعْدُ)
الْمَعْرَةُ وَالْمَعْرَةُ۔ سُرخ مٹی یا گرو
الْمَعْدُ وَالْمَعْدَةُ۔ بگا سُرخ رنگ
أَلَا مَعْدُ۔ گرو جیسا رنگ والا۔ سفید
چہرہ میں سُرخمی کی جھلک۔ لالہ۔

الْمَعْنَى۔ وہ زمین جس میں سے گرو
نکلے۔

مَعْسٌ (ف) مَعْسًا۔ الشَّيْءُ بَيِّنَةٌ۔
بچہ سے ٹوٹنا۔۔۔ بِالرَّمِيحِ
نیزہ مارنا۔

مَعْنَى (س) مَعْنَى وَمَعْنَى مَعْنَى
آنتوں میں مروڑ ہونا۔ صِفَتٌ
(مَعْنَى) مَعْنَى مَرُوْذٌ پید
کرنا۔

تَمَعْنَى۔ بَطْنًا۔ پیٹ میں مروڑ ہونا

درد ہونا۔

الْمَعْنَى۔ مَع۔ مَرُوْذٌ۔ اِثْمٌ۔ الْمَعْنَى
عمدہ اونٹ۔ واحد (مَعْنَى)

مَعَطٌ (ف) مَعَطًا وَمَعَطِيٌّ۔ الشَّيْءُ لِمَا
کرنے کے لئے کھینچنا۔

تَمَعَطٌ وَأَمْعَطٌ۔ الشَّيْءُ۔ دَرَازٌ لِمَا هُوَ
کھینچنا۔

أَمْتَعَطٌ۔ کھینچنا۔ دَرَازٌ هُوَ
السَّيْفُ۔ تلوار سونٹنا۔

الْمَمْعَطُ۔ بہت لمبا۔
مَعَلٌ (ف) مَعَلًا وَمَعَالَةٌ۔ بِالرَّجُلِ
چغل کھانا۔

مَعْلَتٌ (س) مَعَلًا عَيْشًا۔ اَبْكُهُ كَأَخْرَابِ
ہونا۔ الْحَامِلُ يُوَكِّدُهَا۔ حَامِلَةٌ
بچہ کو دودھ پلانا۔

مَعْلَتٌ (ف) وَمَعْلَتٌ (س) مَعْلًا۔
الدَّائِبَةُ۔ سبزی کے ساتھ مٹی کھانے
سے جانور کے پیٹ میں درد ہونا صِفَتٌ

(مَعْلَتٌ وَمَعْلَوَةٌ) (س) (الْمَعْلَةُ)
أَمْعَلُ الْقَوْمِ۔ ایسے جانوروں کا مالک
ہونا جن کے پیٹ میں مٹی ملی گھاس
کھانے سے درد ہو گیا ہو۔

الْحَامِلُ۔ حَامِلَةٌ بچہ کو دودھ پلانا
۔۔۔ يَهْ عِنْدَ السُّلْطَانِ۔ اَدْنَاءُ
کسی کی جعلی کھانا۔

الْمَعْلُ وَالْمَعْلُ۔ حَامِلَةٌ عَوْرَتُهَا دُودُ
جہ۔ أَمْعَالٌ۔

الْمَعْلَتُ۔ فساد۔ دُوبی یا بکری جو سال
میں دو دفعہ بچہ دے جہ۔ وَمَعَالٌ۔
الْمَعَالَةُ مَع۔ دغا بازی۔ خیانت

مَعْمَعٌ۔ اللحمُ بگوشت کو ایسی طرح نہ چبانا
۔۔۔ الْكَلَامُ۔ کلام صاف اور واضح نہ کرنا
۔۔۔ الشَّيْءُ۔ چیر کر کھانا۔ فِي عَمَلِكُمْ
کہہ دو وہی کام کرنا۔ حَسْبُ الْكَلْبِ
فِي الْإِنْبَاءِ۔ کتے کا برتن میں منڈوانا

کی بڑی کسکری وغیرہ۔ سندھ میں غولہ کا
 مکی مکر۔
 الْمَقْلُ۔ گر گل کا پل۔ گر گل۔
 الْمَقْلَةُ۔ کنز کی تمہ۔ پانی کا اترازہ
 گا لکی کسکری جس سے ناپ ناپ کر
 سفر میں پانی تقسیم کیا کرتے تھے تاکہ
 پانی کی تقسیم سب پر برابر ہو جائے
 اور کسی کو کم زیادہ نہ پیئے۔
 الْمَقْلَةُ۔ آنکھ کا ڈھیلا۔ آنکھ۔ ج
 مقل۔
 مَقْمَقُ الشَّيْءِ۔ زم و آسان کرنا۔
 الشَّيْءِ۔ دلیل کرنا۔ الْوَلَدُ الْأُمُّ
 سختی سے چوسنا۔
 الْمَقَامِقُ۔ حلق کے آخری حصہ
 سے بولنا
 مَقِيمًا (س) مَقْرَبًا۔ سرخ پکوں والا
 ہونا۔ صفت (ر) مَقْمًا
 الْمَقْمَا۔ نیلا رنگ۔ لہکا رنگ نیلا۔
 الْأَمَقْمَا۔ دود۔ بجز زمین۔ سرخ پکوں
 والا۔ حد درجے اور خود سر آدمی۔
 جو یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کدھر جانا ہے
 مَوْتًا۔ مَقْمًا۔ جہ۔ مَقْمًا
 مَقَامًا مَقْمًا مَقْمًا۔ مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا
 المسیت، تولد کر چلا دینا یا صیقل کرنا
 مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا۔ مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا
 کا بعد سختی سے چوسنا۔
 مَقَامًا مَقْمًا۔ دھونا۔
 مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا۔ مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا
 الْعَلْمُ۔ بڑی کے گردے کر چوسنا۔
 مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا۔ مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا
 قرض دار سے وصولی میں اصرار کرنا۔
 اِحْتَاكًا وَتَمَكُّكًا الْفَقِيصِلُ مَا قِ
 حَتْرِيًّا أَمِيًّا۔ حقن کے سب سے
 کر چوس لینا۔
 مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا۔ مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا

الْمَكَاكُ وَالْمَكَاكَةُ۔ بڑی کا معنی یا
 گروا۔
 الْمَكْوُكُ۔ پیچھے کا پیالہ یا پل صاب کا
 ایک پیمانہ۔ کپڑا اپنے کی نالی۔ ج
 مَكَاكِيكُ۔
 مَكَّتْ (ن) مَكَّتَا وَ مَكَّتَا وَ مَكْوُشَا وَ
 مَكَّتَانَا وَ مَكِّيَشِي وَ مَكِّيَشَا وَ
 بِالْمَكَاكِي۔ مَظْرَانَا۔ فِي الْأَمْرِ جَدِي
 کرنا۔
 الْمَكِّيَشَاتُ مَظْرَانِي وَاللَّاسِيحِيهِ وَ صَابِر۔
 سُنَّت۔
 مَكَّدَ (ن) مَكَّدَا وَ مَكْوَدَا بِالْمَكَاكِي
 اقامت کرنا۔ صفت (ر) مَكَاكِي
 نَاكَمًا مَكَاكِيَةً وَ مَكَّدَا أَيْ وَ
 مَكْوُدًا۔ بہت دودھ والی اونٹنی۔
 ج مَكَّدُ وَ مَكَاكِيًا۔ الْمَكَاكِي مَكِّيَشِي
 مَكْرَدَن) مَكْوَا۔ الرَّجُلُ وَ يَب۔ دھوکا دینا
 — اَنْتَرُوْنَا مَكَاكِيًا۔ مَسْكِي سِرَادِيَا
 — مَكْرُوْنَا التَّوْبِي بِكِرْبِي كِرْبِي وَ
 رَنگن۔ رَنگن۔ رَنگن۔ الْأَرْضُ
 سیراب کرنا۔
 مَكْوَدَس) مَكْوَا۔ شرح ہونا۔
 مَكَاكِيًا۔ دھوکا دینا۔ فریب دینا
 مَكْوَدَسِي جَمْعُ كَرْنَا۔ گرائی کی امید میں باج
 روکے رکھنا۔
 اَمَقْمَا۔ دھوکا دینا۔ مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا
 مَكْرِي سِرَادِيَا۔
 تَمَاكُوْدَا۔ بعض کا بعض سے چل کرنا
 اَمَقْمَا مَقْمًا مَقْمًا۔ مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا
 مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا۔
 اَلْمَقْمَا۔ دھوکا۔ فریب۔ دھوکے وغیرہ
 کی سزا۔ گیر۔
 اَلْمَقْمَا۔ لَوَاكِي مَقْمًا مَقْمًا مَقْمًا
 بے پھول کا درخت۔ کھیت کی سیرابی
 خوبصورت۔ موٹی پنڈلی۔ ج

مَكْرًا وَ مَكْوَدَسًا
 اَلْمَاكِيَرُ۔ مَسْرِي۔ دھوکا دینے والا ج
 مَكْرًا وَ مَكْوَدَسًا
 اَلْمَكَاكُوْدَا الْمَكْوَدَسُ۔ بہت کم زرب
 کرنے والا
 مَكْسِي (م) مَكْسَا۔ ٹیکس جمع کرنا۔
 — فِي الْبَيْعِ۔ قیمت کم کرنا۔
 ظلم کرنا۔ مَكْسِي۔ الرَّجُلُ: خَرِيْدُوْنَا
 فِي نَقْصَانِ بَهْنِيَا۔
 مَكْسِي (م) مَكْسَا۔ ٹیکس جمع کرنا۔
 — فِي الْبَيْعِ۔ قیمت کم کرنا۔
 مَكَاكَسَا مَكَاكَسَا وَ مَكَاكَسَا بَيْت
 کم کرنا۔ مخالفت کرنا۔
 تَمَاكَسِي الرَّجُلَانِ فِي الْبَيْعِ
 خرید و فروخت میں آپس میں جھگڑانا۔
 اَلْمَكْسِي مَعْرُ مَحْصُولُ بَيْكْسِي جَنگِي ج
 مَكْوَدَسِي
 اَلْمَاكِيَسِي اَلْمَكَاكِيَسِي۔ ٹیکس وصول کرنا
 صاحب الیکس بھی اس کو کہتے ہیں
 مَكْمَاكِي۔ بڑی کا سارا گدا چوسنا۔
 چلنے میں لڑھکن۔
 مَكْمَنُ (ر) مَكْمَانَةٌ۔ عِنْدَ الْأَمِيْرِ۔
 رتبہ اور اعتبار والا ہونا۔
 مَكْمَنَتُ (س) مَكْمَانًا۔ الْجُرَادَةُ وَ مَحْوَمَا
 بڑی کا انڈے دینا یا بانڈوں والی
 ہونا۔ صفت (م) مَكْمَانِي ج مَكْمَان
 مَكْمَانًا وَ اَمَكْمَانًا۔ مَن الشَّيْءِ۔ قَدْرَت
 دینا، اختیار دینا۔ قادر بنانا۔
 اَمَكْمَانُ الْأَمْرُ قَلَانَا وَ لِقَلَانِ كَسِي كَلْمًا
 کوئی امر آسان و ممکن ہونا۔ "قَلَانِي
 لَا يُبَكِّنُنَا الشُّهُوَصِي" فَلَا اُحْتَاكِي
 پر قدرت نہیں رکھتا۔
 مَكْمَانِي۔ عِنْدَ الْأَمِيْرِ۔ بھند و صاحب مرتبہ
 ہونا۔ اَلْمَكْمَانُ وَ يَبُ كَسِي مَقْمَانِي
 ادھے ہوئے قدم والا ہونا۔

الْمَلَكُ (دراستمان) مِنَ الْأَمْرِ
 پانا کامیاب ہونا۔ وَالْمَلِكُ
 مذری وغیرہ کے اندر واحد (مَلَکًا
 وَمَلَکَاتٍ) ج مَلَکًا، وَمَلَکَاتٍ
 الْمَلَکَاتُ۔ قوت، شدت
 الْمَمَکَانُ۔ موضع جگہ۔ درجہ ج اَمِکَنَةٌ
 وَامَکَنٌ وَجِهَ امَاکِنُ
 "هُوَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَکَانٍ" اس کو علم
 میں ایک خاص مرتبہ اور درجہ نصیب ہے
 الْمَکَانَةُ۔ مع۔ مرتبہ۔ بلندی شان، سنجیدگی
 ج مَکَانَاتٍ
 الْمَکِیْنُ۔ مرتبہ والا۔ هُوَ مَکِیْنٌ عِنْدَ
 الْأَمِیْرِ۔ وہ امیر کے نزدیک صاحب
 مرتبہ ہے۔ ج مَکْنَاءٌ
 الْمَکِیْنَةُ۔ آسنگی
 "أَمَشِ عَلَی مَکِیْنَتِکَ" سنجیدگی
 اور وقار کے ساتھ چلو۔
 الْمَتَمَکِنُ۔ اصطلاح نحو میں وہ کلمہ جو
 بنی نہ ہو
 الْمَتَمَکِنُ الْأَمَکَنُ۔ منصرف اسم
 الْمَتَمَکِنُ۔ غیر منصرف اسم
 عِبْرُ الْمَتَمَکِنِ۔ غیر منصرف اسم
 مَکَا یَمَکُو مَکَاءً وَ مَکُوًّا۔ مزہ سے سیٹی
 بجانا۔
 مَکِیْتٌ تَمَکِی مَکًا۔ پیدائش کام کی زیادتی
 سے ہاتھ میں چھالے پڑتا
 تَمَکِی تَمِکِیًّا۔ الفرس گھوڑے کا
 سینہ سے بھینکا۔
 الْمَمَکِیُّ وَالْمَمَکُیُّ۔ غرگوش وغیرہ کا بھیت
 ج اَمَکَاءٌ
 الْمَمَکُؤَلَةُ۔ مریں، چوڑو
 مَمَل (ن) مَلَا۔ الثَّوْبُ کَیْفَ یَمَکُ
 مازنا کپڑے کو کچا کرنا۔ الشَّیْءُ
 فِی الْجَمْرِ۔ انگاروں پر رکھنا۔
 صفت مَمَلٍ (مَلَّالٌ) صفت مفعول

وَمَمَلُولٌ (مَلِیْلٌ)۔ الشَّيْءُ لَا تَمَلُّ
 تیر کو آگ سے سیدھا کرنا۔ الْمَمَلُ
 وَالْمَمَلُ۔ گوشت یا روٹی کو بھول میں
 رکھنا۔ فِی الْمَمَلِ تَمَلُّ۔ تیر چلنا۔
 عَلِی السَّفَرِ۔ سفر دینا۔ مَمَلُ
 مَمَل (س) مَلَا۔ مَلَّالٌ۔ مال لاحق ہونا۔ یا
 عم یا بیماری سے تڑپنا۔ الشَّيْءُ
 الٹ پلٹ کرنا۔ الْمَمَلُ۔ بخاروں کے
 کا بے کل ہونا۔
 مَمَل (س) مَمَلًا وَمَمَلًا وَمَمَلَةً وَ
 مَمَلًا لَمَلًا۔ الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ: اکتانا۔
 زچ ہونا۔
 مَمَلٌ تَمَلُّ لَمَلًا: الشَّيْءُ۔ الٹ پلٹ کرنا
 أَمَلٌ عَلَی السَّفَرِ۔ سفر دینا ہونا
 أَمَلًا الْأَمْرُ وَ أَمَلٌ عَلَی الْأَمْرِ
 کسی امر کا شان اور باعثِ طال دینے چینی ہونا
 أَمَلًا الشَّيْءُ: بھول میں رکھنا
 أَمَلَّتْ أَمَلًا لَمَلًا وَ أَمَلِیَّتْ أَمَلًا
 اکتانے کا کتاب علی الکاتب۔ لکھوانا
 اظہار کرانا۔
 مَمَلٌ۔ عم یا بیماری سے تڑپنا۔
 فِی الْمَمَلِ تَمَلُّ۔ تیر چلنا۔ مَمَلَةٌ
 زچ ہونے کی ذہب اختیار کرنا۔
 اَمَلٌ۔ باہر آنا۔ کھینچنا۔
 اِسْتَمَلٌ۔ اکتانا۔ تنگ آنا۔
 اَمَلٌ۔ تمکنا ہونا۔ اکتان یا ہونا
 الْمَمَلَةُ۔ چنگاری، بھول، بخار کا پسینہ
 تنگ دلی۔ خَبْرَةُ الْمَمَلَةِ۔
 بھول کی کئی بڑی روٹی۔
 رَجُلٌ مَمَلٌ۔ جلد اکتانے والا آدمی
 الْعَمَلَةُ۔ دسب، افساد۔ مَمَلٌ۔ مَمَلٌ
 خون باج مَمَلٌ
 الْمَمَلَةُ۔ سنگ کی سلاخی۔ مَمَلٌ۔
 ج: مَمَلٌ
 الْمَمَلُ وَالْمَمَلَالُ۔ اکتانہ۔ بیماری

الْمَمَلُ۔ عم یا بیماری سے بے کلی و بے صحتی
 پٹھ کا درد۔ کمان کی پشت۔ مَمَلٌ
 کے اندر کی گرمی۔ بخار کا پسینہ بخار
 کے قبضہ کی لکڑی۔
 الْمَمَلُ وَالْمَمَلُوتَةُ وَالْمَمَلَالَةُ وَ
 الْمَمَلَةُ لَمَلًا۔ (مذکورہ موزن) اکتانیا
 ہوا۔ لے قرار۔
 الْمَمَلُ وَالْمَمَلُوتُ۔ بھول میں بھولنا ہونا
 الشَّيْءُ الْمَمَلُوتُ۔ باعثِ طال چیز
 الْمَمَلُوتُ۔ کرینی۔
 الْمَمَلُوتُ وَالْمَمَلُوتُ۔ بہت آمد رفت والا
 راستہ
 الْمَمَلُوتَةُ۔ اندرونی بخار سخت پیاس
 مَمَلًا (ن) مَمَلًا وَمَمَلًا وَمَمَلًا
 بھرنے۔ اَلِیْتَاءُ مَا قَدْ بِالْمَاءِ وَ
 مِیْتِ الْمَاءِ۔ برتن کو پورا بھرنے۔
 صفت مفعول (مَمَلٌ) مَمَلًا
 عَلَی الْأَمْرِ۔ اس نے اس کی مدد کی۔
 نَظَرْتُ أَيْدِیَّ وَ نَظَرْتُ مَمَلًا
 میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا منظر
 مجھے بھلا سمجھا۔ اَمَلًا مَمَلًا لَمَلًا
 اس نے اس پر زچ تنگ کر دی۔
 مَمَلٌ (ن) مَمَلًا وَمَمَلًا وَمَمَلًا
 مَمَلٌ (ن) مَمَلًا وَمَمَلًا وَمَمَلًا
 زکام والا ہونا۔
 مَمَلٌ (س) مَمَلًا وَمَمَلًا وَمَمَلًا
 صفت (مَمَلٌ) مَمَلًا
 مَمَلًا لَمَلًا تَمَلُّ لَمَلًا
 زکام لگانا۔ (مَمَلًا) مَمَلًا
 اَمَلًا فِی الْمَمَلِ۔ کمان کو زور سے
 کھینچنا۔
 مَمَلًا وَ اِمْتَلَا۔ غیظنا۔ غم سے بھر
 جانا۔ مَمَلَاتُ الْمَمَلَاتُ عَمَلٌ
 کا چادر اور رضا۔
 مَمَلًا لَمَلًا مَمَلًا لَمَلًا
 مَمَلًا لَمَلًا مَمَلًا لَمَلًا

مد کرنا۔
 تَمَلَّأَ عَلَى - ایک دوسرے کی مد کرنا
 اسْتَمْلَأَ فِي ذِيهِ - معتبر دولت مند
 مقروضوں والا ہونا۔
 الْمِلَّةُ - وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے
 ج أملاء۔
 اَمَّا يَا مَرْمِلٌ حَقِيْبَةٌ - وہ
 بے سکر سوتا ہے۔
 فَلَا تَمِلْ كَيْسًا يَم - فلاں ہونا ہے
 الْمَلَأَ - قوم کی جماعت۔ اشراف قوم
 الْمَلَأَ الْأَعْمَى - عالم ارواح
 الْمَلَأَ مَشْرُونَ - ظن۔ طبع
 اخلاق۔ ج أملاء
 الْمَلَأَ وَالْمَلَأَةَ وَالْمَلَأَةَ زَكَاةً
 الْمَلَأَةَ - چاود۔ تمہہ بند ج
 مَلَأَ - الْمَلَأَةَ مَم - بھرنے کا طریقہ
 الْمَلَان - بھرا ہوا۔ زکام والا۔
 مَوْنٌ مَلَأَى وَمَلَأَتْهُ ج
 مَلَأَ
 الْمَلِيحُ وَالْمَلِيحُ - منی قرض ادا کرنے
 کے قائل ج مَلَأَ وَالْمَلِيحُ وَالْمَلِيحُ
 مَلَأَ مَلَأَ -
 مَلَأَهُ (رَض) جَلَّتْ - بلانا۔
 مَلَأَتْ (رَض) مَلَأَتْ - جھوٹے دلوں
 سے تسکین دینا۔ خوش کرنا۔ تھوڑا
 مانتا۔
 مَلَأَهُ - بِالْمَشْرِ - بولے سے تھوڑا
 مَلَأَهُ - جَلَّتْ وَ مَلَأَتْهُ - ماہنت
 کرنا تھوڑا کرنا۔
 مَلَأَ الْبَيْتَ وَالْمَلَأَ شَامَ الْبَيْتِ
 یا دھنیلین
 الْمَلَأَ - شام کا اندھیرا
 مَلَأَ (رَض) وَالْمَلِيحُ (رَض) مَلَأَ الْمَضِي
 أُمَّةً - بچہ کا دودھ پینا۔ چوستا۔
 الْمَلَأَهُ - دودھ پلانا۔

اَمْتَلَحَ مَا فِي الشَّيْءِ - چوستا۔
 الْمَلِيحُ - دودھ پینے والے میچے۔ بکری
 کے چھوٹے بچے۔
 الْمَلِيحُ - دودھ شریک بھائی۔
 الْمَلِيحُ - بھیر۔ ریگستان آمد۔
 الْأَمْلُوحُ - ایک جنگلی درخت یا اس کے
 پتے۔ شاخ باہر جو نرم کرنے کے لئے
 گیلی مٹی میں دبائی جاتی ہے۔ ج
 اَمَّا لِيَحُ -
 الْمَالِجُ - کرنی سوار کا پانی کرنے کا آلہ
 مَلَحَ (رَض) مَلَحَ - الطَّعَامُ - کھانے
 میں نمک و الناس۔ الرطل - غنیمت کرنا
 - الطَّعَامُ - پرندہ کا پھرد پھڑکانا۔
 - الْمَالِيحَةُ - موشی کو زونق کھانا
 مَلَحَ (رَض) وَمَلَحَ (رَض) مَلُوحَةٌ وَ
 مَلَاَحَةٌ وَ مَلُوحًا - الْمَاءُ
 پانی کا کھاری ہونا۔ صفت رَمَلِيحُ
 وَمَالِيحُ -
 مَلَحَ (رَض) مَلَاَحَةٌ وَ مَلُوحَةٌ
 خوبصورت ہونا۔ صفت رَمَلِيحُ
 وَمَلَاَحٌ وَ مَلَاَحٌ
 مَلَحَ (رَض) مَلَحًا - نمک کا ہونا
 مَلَحَ - الشَّيْءُ - نمکین کرنا۔ الطَّعَامُ
 کھانے میں نمک نہ لگ کرنا۔
 اِسْتَمَلَحَ - مَلَحَ - بھیر میں نمک لگانا
 - الْمَلَاَحَةُ - بھیر کے چھوٹے پر
 نمک کی مالش کرنا۔ اِسْتَمَلَحَ
 صدمہ کلام کرنا۔
 أَطْلَحَ الْمَاءُ - مٹی ہونے کے بعد کھاری
 ہونا۔ الطَّعَامُ - کھانے میں نمک
 نہ لگ کرنا۔ اَلْأَمْلُوحُ - اَبْوَابُ الْكَلْبِ
 کھاری پانی پلانا۔
 - الشَّيْءُ - نیلگوں رنگ کا ہونا۔
 مَلَاَحَةٌ وَمَلَاَحٌ وَمَلَاَحَةٌ - ساتھ کھانا

تَمَلَّحَ الْبَعِيْرُ - موٹا ہونا۔
 الرِّجْلُ - نمک توڑش میں لینا۔ نمک کی
 تجارت کرنا۔
 الْمَلَحُ الْكَبِيْرُ - بیٹھکے کا سیاہ دھند
 ہونا۔
 اَمْلَاَحٌ - التَّمَلُّ - سرخ اور زرد کچی
 کھجور کا ہونا۔
 اَمْتَلَحَ - جھوٹ پر سچ ملانا۔
 اِسْتَمَلَحَ - عمدہ پانا یا سمجھا
 الْمَلَحُ - عمدہ عمدہ باتیں۔
 الْمَلَحُ - نمک (مذکر و مؤنث) تصغیر
 مَلِيْحَةٌ ج مَلَاَحٌ -
 الْمَلَحُ - چربی۔ موٹا پانہ خوبصورتی
 رضاعت۔ علم۔ علماء
 "مَلَحَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ" وہ بے وقار
 ہے
 الْمَلَحُ وَالْمَلَحَةُ - عمد نامہ معاہدہ
 الْمَلَحُ - بھورا رنگ بہت نیلا ہٹ
 الْمَلَحَةُ - موج سمندر
 الْمَلَاَحَةُ - سخت نیلگوں خوف
 ہیبت بركت - مزہ دار بات ج
 مَلَحٌ -
 الْمَلَاَحَةُ - کلمہ ملیح۔ ظرافت
 الْمَلَاَحُ - کشی یا جہاز چلانے والی ہوا
 نیزے کا پھل۔ برقعہ۔ تھیلا۔
 الْمَلَاَحُ - خوب صورت ج
 مَلَاَحُوْن
 الْمَلَاَحَةُ - چہرے کی خوبصورتی۔ مہربانی
 ظرافت
 الْمَلَاَحَةُ - جہاز رانی
 الْمَلَاَحَةُ - نمک کی کان۔ نمک فروخت
 کرنے کی جگہ
 الْأَمْلُوحَةُ - اچھا عمدہ کلام جہ
 اَمَّا لِيَحُ -
 الْمَلَاَحُ - تاج - کشی بان نمک کا سوداگر۔

الملاحہ ایک نبات . واحد (ملاحۃ) رجل ملاحہ . ظرفین خوبصورت آدمی
 ج ملاحون
 الملاحیۃ جہاز رانی کا پیشہ
 الملوحة دریم نکینا
 الملیحہ نکینا عمدہ خوبصورت
 نک ناکر خشک کی ہوئی پھلی ظرفین
 وغوش مزاج
 مونت ملاحۃ جہاز ملاحۃ و املاح
 الاملاح اسم تفضیل سفید و سیاہ رنگ
 والا ج ملحہ
 الاملاحہ شبنم
 الملحاء سفید و سیاہ رنگ والی
 برداشکر ج ملحکات
 الملاحی و الملاحی سفید لیمے انگور
 ایک قسم کا انجیر
 المملحۃ نمک والا یا نمک کا تاجر
 المملحہ نمک والا یا نمک کا تاجر
 ملخرف (ملخا) الشیء ہاتھ سے یا
 دانت سے پکڑ کر کھینچنا — الطعام
 کھانے کا خراب ہونا — الفرس
 گھوڑے کا کلیں کرنا — الرجل
 تیز چلنا بھاگ جانا — فی الباطل
 فضول کام میں مشغول ہونا
 ملخرف (ملاحۃ) ملاحۃ — الطعام کھانے کا
 خراب و بد مزہ ہونا
 مالخۃ میلانہا و ممالخۃ آپس
 میں کھینچنا چا پوسی اور خورشاد کرتا
 تملخۃ الشیء خراب ہونا — الشیء
 نکالنا
 امتلخۃ الشیء اکھڑنا کھینچنا
 یداع من القالین علیہ کھینچ لینا
 — السیف ہمدان علی دی سے سونٹنا
 الملاحۃ بہت خورشاد و چا پوسی کر لیا
 بہت بھاگنے والا غلام

الملوحتۃ یہ قسم کی نباتات
 الملیحہ خراب کھانا دھیرہ بہ مزہ
 صنیف
 مملحہ الشیء پگھل جمل سے محروم
 ملخرف (ملاحۃ) الشیء کھینچنا
 ملخرف (ملاحۃ) الشیء مملحہ
 ہنا نرم ہونا
 ملخرف (ملاحۃ) الشیء نرم کرنا
 الرقی الغصن یعنی کا ہنا نرم ہونا
 المکنا و المکدان جوانی نرمی نراک
 ج املاح
 المکنا و الامکنا و الامکنا و
 الامکنا و الامکنا ان و
 الامکنا انی نرم و نازک آدمی
 یا ممتی مونت ملاحۃ جہاز
 مکذرف (ملاحۃ) الرجل جھوٹ
 ہونا — قلاتا نیزہ مارنا
 الفرس گھوڑے کا تیز دوڑنا
 (ملاحۃ) او ملاحۃ (ملاحۃ) الرجل صرف
 اچھی باتوں سے خوش کرنا اور کر کے نہ
 دکھانا
 مکذرف (ملاحۃ) ملاحۃ انجیر
 گھپ ہونا — الرجل ملاحۃ
 طرز والا ہونا
 الامکنا و المکدان و المکدان انی
 و الملاحۃ و الملوحة منافع
 جہونا آدمی
 مکذرف (ملاحۃ) ملاحۃ پیچھے رہنا — الشیء
 لے جانا
 مکذرف (ملاحۃ) ملاحۃ پھرتانا
 مکذرف (ملاحۃ) ملاحۃ جانا رہنا
 املاح و مکذرف و املاح
 نکال لینا ایک لینا لے جانا
 مکذرف (ملاحۃ) ملاحۃ پھرتانا
 الملاحۃ و الملاحۃ ملاحۃ پھرتانا

املخرف (ملاحۃ) پیچھے رہنا
 الملاحۃ طاقت و ریاضت و طہن والا
 الملاحۃ بہت اچکنے والا بصیرت یا
 ملاحۃ (ملاحۃ) ملاحۃ الشیء جڑ سے
 اکھڑ کر نکالنا — الابل تیز چلنا
 — الطعام اندھیرا گھپ ہونا
 — الرجل چا پوسی کرنا خورشاد کرنا
 ملاحۃ (ملاحۃ) ملاحۃ (ملاحۃ) ملاحۃ
 و ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ اور چلنا ہونا
 ہوار ہونا صنعت (ملاحۃ)
 ملاحۃ الشیء ملاحۃ اور چلنا کرتا
 الارض ہوار کرنا — من الارض
 پھرتانا
 املاحۃ الملاحۃ گھٹا رہنا اندھیرا
 ہونا — املاحۃ الشیء بکری
 کی اون کا چھو جانا
 ملاحۃ ملاحۃ ہونا چکنا ہونا
 من بین القوام نکالنا — من
 الشراب نشہ سے خوش ہونا
 (ملاحۃ) و املاحۃ (ملاحۃ) من الارض
 کھل جانا پیچھے جانا غلامی پانا
 املاحۃ الشیء اچکنے لینا
 املاحۃ ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ
 املاحۃ ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ
 و رانی پانا
 املاحۃ ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ
 املاحۃ ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ
 ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ
 و عشا کے درمیان ہونا
 املاحۃ ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ
 کا عہد الملاحۃ اس کے اس کو غیر
 شرط کے فروخت کر دیا
 املاحۃ ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ
 ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ
 املاحۃ ملاحۃ ملاحۃ ملاحۃ

الف لاین جیسے لفظ کتاب کا الف
 الملکیس نصف النهار مغرب اور
 عشا کے درمیان کا وقت۔
 الاملیس والاملیسیۃ ریگان
 میدان جہ امالیس و امالیسی
 الملکاستہ و الملکستہ زمین برابر
 کرنے کی کروی سراون۔ پیسلا۔
 ملکش (ن) ملکشاً الشیء اتھ سے
 ٹول کر دھونڈنا۔
 المالوش نباتات کی جڑوں کو کھانے
 والا کبیراج موالیش
 ملیص (س) ملصاً الشیء میں کیدہ
 چکنا پٹ کی وجہ سے اتھ سے پھسلنا
 المرجل بھاگ جانا۔
 ملص (ن) ملصاً پانچا کرنا۔
 املصت الحاول حاطہ عورت کا
 حل گرانا صفت (مملص) ج
 ممالص۔ املص الشیء پھلاتا
 تملص و املص و املص منه
 پتھ نکلا۔ پھوٹ جانا خلاصی پاتا
 الشیء من یدئی اتھ سے
 پھیل جانا۔
 الملص۔ نکلا۔
 الملص و الملص پھلنی نام
 چیزیں کہ اتھ سے پھیلنے کے
 الملص۔ اسقاط خرد پتھ
 الاصلص۔ نرم و تر
 املصن الراعی گنجا۔
 املصاھی۔ وہ عورت جس کو اسقاط
 کی عادت ہو۔
 ملط (ن) ملطاً۔ العاطط۔ دیوار
 کوٹی سے لیسپنا۔ الشتر بال وٹنا
 ملطت و املطت الحاول۔ چھینا
 ادھر اور پتھ گرانا۔ الرجل
 محتاج ہوتا۔

ملط (ن) و ملط (ن) ملطاً
 العلاط۔ مخلوط النسل ہوتا۔
 ملط (س) ملطاً و ملطتہ بے بال کے
 جسم والا ہونا۔
 ملط الحائط۔ دینار کوٹی سے لینا۔
 الشار۔ باہم باری باری سے ایک
 مصرع پڑھنا۔
 ما لظہ مملطتہ۔ باہم ملنا۔ ایک شاعر
 کا ایک مصرع پڑھنا اور دوسرے کا
 دوسرا مصرعہ پڑھنا کر شعر کو پورا کرتا۔
 تمملط۔ الشیء ملائم ہونا۔ تیر کا بے پیر ہونا
 املط الشیء۔ چیز کو ایک لیتا چھین لینا
 الملط۔ بے اعتماد و شریک۔ گناہ منیب الا
 جہ املاط و ملوط
 المراط پانی کا گارج۔ ملط
 الا ملط جہ ملط و الملیط۔
 بے بال کے جسم والا۔
 سہم املط و ملیط بے پیر تیر
 الملیط من التوبق پیر گرانے
 کی عادی اونٹنی۔
 ملع (ن) ملعاً و املع الشاة
 بکری کی کھال اتارنا۔
 ملع الفصیل امدہ۔ بچہ کا دودھ
 پینا۔
 املع الشیء ایک لیتا چھین لینا
 ملعت و املعت و املعت و
 املعت۔ الناقہ اونٹنی کا
 تیز دوڑنا۔
 الملع مع کتہ بن ہم علیہ ملع
 و احدہ وہ سب اس کے خلاف
 متفق ہیں۔
 الملیع جہ ملع و الملیع تیز اونٹنی
 یا گھوڑا۔
 الملیع۔ لیا۔ ادھر ادھر پھرنے والا
 الملام و الملیع۔ نجر۔ باہان

مائع مملعہ۔ پارکایم۔ ناشائتہ گفتگو
 سے مذاق کرنا۔
 تملمع فی کلامہ۔ بیوقوفی ظاہر کرنا
 تملمع یہ منسوخ کرنا۔
 الملمع جہ املاع و الملماع جہ
 ملام و الاملمع۔ احمق فحش
 کلامی کرنے والا۔
 الملوغۃ۔ بے ذوقی فحش کلامی
 ملقما (س) ملقاً و ملق کد و مالقہ
 چا پوسی کرنا۔ خوشامد کرنا۔
 ملق (ن) ملقاً من الاصلح۔
 انگوٹھی انگلی میں ڈھیلی ہوگی۔
 ملق (ن) ملقاً الشیء۔ مٹانا۔ نرم کرنا
 ۔ الثوب۔ دھونا۔ لا بالعصا
 لاشیء سے مارنا۔ ملق الوند
 امدہ۔ بچہ کا دودھ پینا۔ الرجل
 تیز چلنا۔
 ملق الارض او الحائط۔ ہموار کرنا
 ۔ لا بالقصا۔ لاشیء سے مارنا۔
 املق۔ مفلس ہونا۔ الثوب دھونا
 ۔ الدر مالہ۔ زمانے کا مال کو ہاتھ
 سے نکال دینا۔ کنگال کر دینا۔
 تملق تملقاً و تملقاً۔ الرجل
 و الرجل۔ چا پوسی کرنا۔
 املق و املق۔ نرم اور چکنا ہونا
 ۔ منہ اتھ سے نکل جانا۔ پتھ کر
 نکل جانا۔
 املق الشیء۔ نکلا۔
 استملق۔ بچہ کا مال کا دودھ پینا
 املق۔ مص۔ دوستی۔ بڑی مر باقی دھار
 ہوار زمین تیز رفتاری
 الملق و الملاق۔ پتھ و شادی۔
 چا پوسی۔
 الملق۔ کرور۔
 الملق۔ تیز رفتار۔

الْمَلِكَةُ - مملکت کی پادشاہی
 الْمَالِكُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمَمْلُوكَةُ - مملکت
 زمین ہمارا کرنے کا آلہ۔
 الْمَالِكُ - پائی کرنے کی کرنی
 الْمَمْلُوكُ - سخت غریب۔ بہت چالوس
 اور خوشامدی۔
 مَمْلُوكٌ (مَنْ) مَمْلُوكٌ وَمَمْلُوكَةٌ وَمَمْلُوكَةٌ
 مَمْلُوكَةٌ - الشیءُ مالک ہونا۔
 عَلَى الْقَوْمِ - غالب ہونا۔ عَلَى فُلَانٍ
 اَمْرُهُ غَالِبٌ اَنَا - نفسہ۔ اپنے
 اوپر قابو رکھنا۔ الْمَرْأَةُ عَوْرَتِ
 كَيْ نَكَحَ كَرَانًا - مملکت آئے کہ
 اچھی طرح گزندہنا۔
 مَمْلُوكٌ الشیءُ مالک بنانا۔
 مَمْلُوكٌ الْقَوْمُ قَلًا نَاعَلِيَهُمْ -
 اپنا بادشاہ بنانا۔ اَمْرًا اَمْرًا
 کاکسی عورت سے نکاح کرنا۔
 مَمْلُوكٌ قَلًا نَاعَلِيَهُمْ کَاسِ كَاسِ
 حال پر چھوڑنا۔ مَمْلُوكٌ الْمَرْأَةُ
 اَمْرًا هَا - طلاق کا اختیار کر دینا
 - مَمْلُوكٌ اَلْعَجِيْنُ آتِي كَر
 اچھی طرح گزندہنا۔
 اَمْلُوكٌ الشیءُ مالک بنانا۔
 اَمْلُوكٌ الْقَوْمُ قَلًا نَاعَلِيَهُمْ
 اپنا بادشاہ بنالینا۔ قَلًا نَاعَلِيَهُمْ
 کسی کے حال پر چھوڑنا۔
 اَمْرًا اَمْرًا نَكَحَ كَرَانًا -
 تَمْلُوكٌ وَ اَمْلُوكٌ الشیءُ مالک ہونا
 بادشاہ بننا۔
 تَمْلُوكٌ عَنْ كَرَانًا - اپنے آپ کو
 رکھنا۔ قَاتَمْلُوكٌ اَنْ اَوْعَمَتْ
 اَنْ وَاخِي اَمْلُوكٌ كَرَانًا
 اَمْلُوكٌ - بادشاہ ج مَمْلُوكٌ و
 اَمْلُوكٌ
 اَمْلُوكٌ - ملکیت ج۔ اَمْلُوكٌ وَاَمْلُوكٌ

بادشاہی قبضہ مملکت الد آیة
 چاہائی کی مملکتیں۔ واحد اَمْلُوكٌ
 کہتے ہیں "ہذا ملک یمینی"
 میں اس کا مالک ہوں اور یہ میرے
 تصرف میں ہے "ظال مملکتہ"
 اس کی غلامی طویل ہے۔ مَمْلُوكٌ الطَّرِيقِ
 راستہ کا پیچ راخندہ بالیں مہم پر
 ہر سر حرکات جائز ہیں۔
 اَلْمَلِكُ - فرشتہ۔ ملکیت۔
 اَلْمَلِكَةُ - فرشتہ۔ ج
 مَلَا ئِكَةٌ وَمَلَا ئِكَةٌ - المَلَا ئِكُ
 اقدار۔ مَلَا ئِكُ الْاَمْرِ - سہارا
 سرمایہ۔ بقا۔
 اَلْمَلَا ئِكُ مَلَا ئِكُ الْاَمْرِ -
 سرمایہ، سہارا۔ بقا۔
 اَلْمَلِكُ - اللہ تعالیٰ۔ بادشاہ۔ قوت
 و اقدار کا مالک۔ ج۔
 مَمْلُوكٌ وَاَمْلُوكٌ
 اَلْمَلِكُ - ملک کی طرف نسبت ہونے
 مملکتہ
 اَلْمَلِكَةُ وَالْمَلِكَةُ - ملکیت۔
 اَلْمَلِكَةُ - ملکیت۔
 هُوَ مَمْلُوكٌ یمینی میں اس کا مالک
 ہوں۔
 اَلْمَلِكَةُ - ملکیت۔ عادت۔ عبادت۔
 اَلْمَلِكُ - فا۔ بادشاہ ج مَمْلُوكٌ و
 مَمْلُوكٌ
 اَبُو مَمْلُوكٌ - جوک یا بڑھاپا
 مَمْلُوكٌ الْحَزِينُ - گلا۔
 اَلْمَمْلُوكُوتُ - بادشاہی۔ سلطنت
 اَلْمَمْلُوكُوتُ السَّمَاوِيَّةُ - آسمان
 میں قدسیوں کی جگہ۔
 اَلْمَمْلُوكَةُ وَالْمَمْلُوكَةُ - شاہی
 شان و شوکت حکومت کے زینتیں

ملک۔ بادشاہی ج۔ مَمْلُوكٌ
 اَلْمَلِكُ - بادشاہ ج مَمْلُوكٌ مَمْلُوكٌ
 اَلْمَمْلُوكُ - شہد کی مکھوں کی ملک ج
 مَمْلُوكٌ - اَلْمَلِكَةُ - صحیفہ
 اَلْمَمْلُوكُ - مفع۔ غلام ج مَمْلُوكٌ
 مَمْلُوكٌ - جدی کرنا
 مَمْلُوكٌ اَلْمَمْلُوكُ - بیماری نے اس
 کو بے قرار کر دیا۔
 تَمْلُوكٌ - بیماری یا غم سے بستر پر بے قرار
 ہونا۔ کر دینا بدن۔ اَلْمَمْلُوكُ
 کبھی ایک پہلو پر ٹیک لگانا اور کبھی دوسرے
 اَلْمَمْلُوكَةُ - مفع۔ ہاتھی کی سونڈ
 اَلْمَمْلُوكُ - سرمہ لگانے کی سلاخی۔
 ناک کا تھنا
 اَلْمَمْلُوكُ - تیز رفتار اونٹنی
 اَلْمَمْلُوكُ - مایجولیا۔
 مَمْلُوكٌ مَمْلُوكٌ مَمْلُوكٌ تیز چلنا۔
 مَمْلُوكٌ - اللہ عَزَّوَجَلَّ - عمرو راز کرنا۔
 دیر تک فائدہ اٹھانے دینا۔
 مَمْلُوكٌ و تَمْلُوكٌ - عمرو راز ہونا
 اور فائدہ اٹھانا۔
 اَمْلُوكٌ اَمْلُوكٌ - اللہ قَلًا نَاعَلِيَهُمْ
 عمرو راز کرنا اور دیر تک فائدہ اٹھانے
 دینا۔ اَلْمَمْلُوكُوتُ - اونٹ
 کے پاؤں کے بندھنے کو کہتے ہیں۔
 - اَلْمَمْلُوكُوتُ - قَلًا نَاعَلِيَهُمْ
 - اَلْمَمْلُوكُوتُ - قَلًا نَاعَلِيَهُمْ
 لَمَّا قَرَأَ كِتَابَ الْاَمْرِ كَرَانًا
 راز کرنا۔ اَلْمَمْلُوكُوتُ
 ہونا۔
 اَلْمَمْلُوكُوتُ - کتاب۔ گورانی کی
 درخواست کرنا۔
 اَلْمَمْلُوكُوتُ - مورا۔ کھلا وسیع میدان۔ گرم
 داکھ۔ زمانہ میدان ج۔ اَمْلُوكٌ
 اَلْمَمْلُوكُوتُ - رات دن۔ اَمْلُوكٌ

المَلَاوِدُ وَالْمَلَوَةُ - بتثنية الميم - بوم
 المَلِكِي - زندگی کی مدت -
 الاَمَلَاءُ - مع - رُحیل ویا - تاخیر کرنا -
 حَمَکَ کَعْرَابَا جَاءَ - ج -
 اَمَالٍ وَاَمَائِحَ -
 المَلَاةُ - سراب والا - صرارج مَلَا
 المَلِكُ - لیا و صر
 اِنْتَظَرْتُمْ مَلِيًّا - میں نے اس کا انتظار
 دراز مدت تک کیا -
 الاَمَائِحَ - اطار کے ہوئے اقوال و
 لغصات -
 المَلِيُونَ - فِي الْعُدَدِ - دس لاکھ -
 ج مَلَا يَمِينُ -
 مِمْ - یہ مِنْ و مَا استفہامیہ سے
 مرکب ہے -
 مِنْ - حروف جارہ میں سے ہے اور
 منذ رجب ذیل معانی میں مستعمل ہے -
 (۱) اِتِّدَارَ لَغَاتِيہ - جیسے مَرَمَنْ مِنْ يَوْمِ
 الْجُمُعَةِ - وہ جمعہ کے دن سے پارہا
 (۲) مَعْنَى تَبْعِيضٍ جِئِي مِنَ النَّاسِ مَنْ
 قَالَ - لوگوں میں سے بعض نے کہا -
 (۳) بَرَأَ تَعْلِيلٍ - جِئِي مِمَّا خَطِئْتُمْ
 اَعْطَيْتُمْ اَبْرَامَ بَوْمِ اَبْنِي تَعْمُورِ
 عَزَقَ كَيْسَ كَيْسَ
 (۴) بَدَلِ كَيْسَ جِئِي اَنْتُمْ كَوْنُ بِالْحَيَاةِ
 التَّائِيَاتِ مِنَ الْاٰخِرَةِ - کی آخرت کے
 بدلے تم دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے ہو
 (۵) مَرَادُهَا بِمِثْلِ يَنْظُرُونَ مَنْ
 طَرَفِي حَقِي - وہ پرشیدہ نظر کے
 ساتھ دیکھتے ہیں -
 (۶) مَعْنَى نَصْلِ جِئِي وَاَللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُنْفِي
 مِنَ الْمَصْلِحِ - اللہ تعالیٰ مقصد اور
 مصلح کے درمیان تیز کرتا ہے -
 (۷) زَائِدٌ جِئِي مَا كَجَاءَ فِي مِنْ رَجُلٍ
 مِيرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا -

هَلْ قَرَبْتِ مِنْ اَخِي - کیا تو نے
 کسی کو مارا -
 مَا فِي الذَّارِ مِثْ اَخِي گھر میں کوئی
 نہیں -
 مَنْ رَوَاهُ مَجْ مَوْث - مذکر کون - جو کوئی
 "مَنْ وَتَبِكَ" تیرا خدا کون ہے -
 مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا يُجْزِ بِهٖ حَرْبِي
 کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا
 مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يُوْثُ مِنْ بِاللّٰهِ
 لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خدا پر ایمان
 نہیں رکھتے - مَرَدَتْ مِنْ مُعْجِبُ
 لَكَ - میں ایسے کے پاس سے گزرا جو
 تجھے پسند ہے -
 مَنْ (ن) مَنَّا وَمَنَّا وَاَمَّنَّ اِمْنًا
 عَلَيْكَ بِمَا صَنَعْتَ - احسان جانا -
 وَاَمَّنَّ عَلَيْكَ بِكَذَا - بھلائی کرنا
 مَنْ (ن) مَنَّا وَمَنِّيْنِي عَلَيْكَ بِكَذَا -
 بھلائی کرنا - انعام کرنا -
 مَنْ (ن) مَنَّا وَاَمَّنَّ وَتَمَّنَّ - اہل
 تمکنا یا کمزور کرنا - مَنْ اَلْحَبْلُ -
 رسی کا ٹانگہ المشقوتہ - کم کرنا یا ہونا
 — التَّاقَةُ - سفر سے اونٹنی کو لا کر کرنا
 تَمَّنَّ فُلَانٌ مَلَانًا وَتَمَّنَّ
 عَلَيْهِ - احسان جانا کر تکلیف پہنچانا -
 مَنَّنَّ تَمْنِيًّا - التَّقَةُ وَبِهَا - سفر سے
 اونٹنی کو لا کر کرنا -
 مَا نَمَّا مَنَّا شَمًّا - کسی کی حاجت دعائی
 میں آنا جانا -
 اِسْتَمَنَّهُ - احسان طلب کرنا -
 اَلْمَمَّنَّ مَع - احسان - انعام - ایک قسم کا
 بیٹھا گوند - وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ
 نے اپنی قدرت کا طہ سے نبی اسرائیل کے
 لئے غذا بنا کر اتارا تھا -
 دوزل کا پیمانہ یا وزن ج اَمَّنَّ
 المَمَّنَّ - طاقت - کمزوری (ضد) ج مَمَّنَّ

المِنَّةُ مَع - احسان المِنَّةُ تَمَّنًا
 الصِّغْفَةُ - احسان کو دھا دیتا ہے
 ج - مَنَّنَ -
 المِنْنَةُ - کمزوری - مادہ یہی -
 المَمَّنُونَ - موت (مؤنٹ کبھی مذکر بھی) زمانہ
 رَبِيَّ المَمَّنُونَ - حوادث و کالیف نازہ
 المَمَّنُونَ وَاَلْمَمَّنُونَ - بہت احسان پہنچنے
 والا - مؤنٹ - مَمَّنَّ وَ مَمَّنُونَ -
 کمزوری - المَمَّنَّ - بہت احسان کرنا والا
 اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے
 بہت احسان جانے والا - مؤنٹ
 مَمَّنَاتُ -
 المَمَّنِينَ - کمزور - قوی - (ضد) خفیف یا
 لکھا ہوا - ج مَمَّنَّ وَا مِمَّةُ
 المَمَّنُونَ مَضْمُومًا ہوا - کمزور - قوی
 (ضد) قابل حصول -
 مَمَّنَاتُ مَمَّنًا - الجِلْدُ - چمڑا رنگن -
 — قَلَانًا - کام پر موافقت کرنا -
 المَمَّنِيَّةُ - وہ چمڑا جو پہلی بار رنگ میں رنگا
 جائے - رنگنے کی جگہ -
 المَمَّنَاتُ - کالی زمین
 المَمَّنِيَّتِيُّ وَاَلْمَمَّنِيَّتِيُّ - لڑائیوں
 میں قلم کی دیواروں پر پتھر وغیرہ چھینکنے
 کی مشین - ج مَمَّنَاتُ مَمَّنَاتُ
 وَمَمَّنِيَّاتُ -
 مَمَّنَاتُ (ن) مَمَّنًا - الشَّيْءُ - دینا
 عطا کرنا - التَّاقَةُ وَكُلُّ ذَاتِ
 لَبَنِ - دو دو والا جائزہ کسی کو فائدہ
 اٹھانے کے لئے دینا - صفت معمولی
 (المَمَّنَاتُ وَاَلْمَمَّنِيَّةُ) ج مَمَّنَّ
 وَمَمَّنَاتُ
 مَا نَحَا مِمَّا حَا وَمَمَّنَاتُ نَحَا
 عطا دینا - آنکھ کا لگانا - آنسو بہانا
 ایک اونٹنی کا جاڑے میں دو دھاس وقت
 دینا جب کہ اور اونٹنیوں کا دو دھاس خشک

ہو گیا ہو
 اَمْنَحْتِ النَّاقَةَ۔ اونٹنی کا چنے کے
 قریب پہنچا۔ صفت (ممنع)
 اَمْتَنَحُ۔ الرِّجْلُ يَخْشَى لَيْلًا۔
 تَمْنَحُ الْمَالَ۔ دوسرے کھانا۔
 اسْتَمْنَعَهُ۔ بخشش طلب کرنا المُنْعَةُ
 عطیہ۔ بخشش ج مَنَعٌ۔ المَنَاحُ:
 بہت دینے والا۔
 المَنُوحُ۔ وہ اونٹنی جو جاڑے میں دودھ
 اس وقت تک دے کہ دوسری اونٹنیوں
 کا ررہ خشک ہو گیا ہو۔
 المَنِيعُ۔ جوئے کا تیسرا تیز جس کا کوئی حصہ
 نہیں ہوتا۔

المَمَانِحُ۔ سردیوں میں دودھ دینے والی
 اونٹنی۔ زبند ہونے والی بارش۔
 مُنَدٌ و مُنْدٌ۔ ان حروف کی تین حالتیں ہیں
 (الف) حروف جوار ہوتے ہیں اور اسنی
 میں مین کے معنی دیتے ہیں جیسے مَا
 رَأَيْتَهُ مُنْدٌ يَوْمَ الْاِحْدِ اس کو
 میں نے اتوار سے نہیں دیکھا۔ زمانہ
 حال میں فی کے معنی میں استعمال ہوتے
 ہیں جیسے مَا رَأَيْتَهُ مُنْدٌ اَوْ مُنْدٌ
 شَهْرِي نَاهِلْدَا میں نے اس کو تمام
 مہینہ نہیں دیکھا۔ اگر معنی معدود ہوگا
 تَرَبَعِي مِثْقٌ و اِلْحِي كَيْسٌ جیسے
 مَا رَأَيْتَهُ مِثْقٌ اَوْ مِثْقٌ اَيًّا۔
 میں نے تین دن تک اس کو نہیں دیکھا
 رہا) ان دونوں کے بعد اسم مرفوع ہوتا ہے
 جو محذوف کا فاعل ہوتا ہے اور مُنْدٌ و
 مُنْدٌ ظرف واقع ہر جملہ کی طرف معنی
 ہوتے ہیں جیسے مَا رَأَيْتَهُ مُنْدٌ لِيَوْمَانِ
 (مذاکان یومان)
 (ج) جب ان کے بعد جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہو
 تو یہ ظرف ہوتی ہیں جیسے مَا لَيْتُ
 اَلْقَهْلَ لِيَوْمَانِ اَنَا يَوْمًا يَوْمًا جَب

سے میں جوان ہوا ہوں مال تلاش کرتا ہوں
 مَنَعَهُ (ف) مَنَعَهُ مَنَعَهُ۔ الشَّيْءُ وَمِنَهُ
 وَقَعَهُ مَحْرُومٌ كَرْنَا۔ روک دینا۔
 الْقَاهِقِي عَنِ الْمِيرَاثِ۔ قاضی کا
 میراث سے روک دینا۔
 الدَّخْوِي بَازِرْ كُنَّا مَنَعَهُ جَارَهُ
 حمایت کرنا۔ بجانا۔
 مَنَعَهُ دَلْمٌ مَنَاعَةٌ وَمَنَاعًا۔ قوی ہونا۔
 مضبوط ہونا۔ الحِصْنُ مَلْعَةٌ كَالْمَشْكَ
 الوصول ہونا۔ الشَّيْءُ۔ بلند مرتبہ و
 دشوار ہونا۔ صفت (ممنع)
 مَا نَعَهُ۔ حمایت کرنا۔ الشَّيْءُ هَجْرًا
 کرنا۔ روکنا۔

تَمْنَعٌ و اَمْتَنَعُ عَنِ الشَّيْءِ۔ روکنا
 اَمْتَنَعُ الشَّيْءِ۔ ناممکن الوصول ہونا
 تَمْنَعٌ و اَمْتَنَعُ بِعَوْمِهِ۔ قوم کی
 حفاظت میں آنا۔ قوت پکڑنا۔
 تَمَانَعًا۔ ایک دوسرے کو روکنا۔ ایک
 دوسرے کی حمایت کرنا۔
 المَنَعُ۔ مہر۔ کیکڑا ج: مَنُوعٌ
 المَنَعَةُ۔ عزت۔ قوت۔ ج
 مَنَاعَاتُ۔ کہتے ہیں "يَلْتَمِعُهُمْ
 مَنَاعَاتٌ" ان کے مضبوط تلے ہیں جو
 دشمن کے لئے ناقابل فتح ہیں۔
 المَنَعَةُ وَالْمَنَعَةُ۔ قوت۔ شرکت
 المَنَاعَةُ مَهْرٌ۔ فِي الْبَيْتِ جَمْعٌ كِ
 وہ حاصل کردہ قوت جو اس کو امراض
 سے محفوظ رکھے۔
 المَانِعُ۔ ج مَا يَجُوزُ وَمَنَعَةٌ
 نَا۔ کبجوں۔ بیل ج مَوَانِعُ رُكْبَتَيْ
 والا۔ حفاظت کرنے والا۔

مَنَاعٌ۔ روک دے۔
 المَنُوعُ وَالْمَنَاعُ۔ بہت زیادہ منع
 کرنے والا۔ المَنَاعُ۔ بخیل۔
 المَنَعِيُّ۔ اسم ہے یعنی امتناع

المَنِيعُ۔ وہ مضبوط قوی جس پر کوئی
 قابو نہ پاسکے۔ مَرْنَتٌ مَنِيعَةٌ
 المَمْتَنِعُ۔ ناممکن۔ ناقابل حصول۔
 مَا يَجُودُ مَمْنًا۔ الرجل يَكْدَا اَزْمَانًا
 صفت۔ (ممنعاً ابلدا)
 المَنَا۔ پھیلتا یا وزن برابر و دراصل کے
 معنی مَمْنًا مَمْنًا و مَمْنًا ج اَمْنًا
 دَامِنٌ و مَمْنِي۔ کہتے ہیں دَامِنِي
 مَا دَامِنِي۔ "میرا گھر اس کے گھر کے
 سامنے ہے۔

مَنَاةٌ۔ ایک بت کا نام جو کہ مغربہ و مریز منور
 کے درمیان بذیل اور قبیلہ خزاعہ
 کا تھا۔
 المَمْنُوعَةُ۔ خواہش چاہی ہوئی چیز۔
 مَتَى يَمْنِي مَمْنًا۔ اللّٰهُ الْخَيْرُ
 لِقُلُوبِنَا۔ مقرر کرنا۔
 مَنَاةٌ۔ آزمانا۔

مَنَاةٌ اللّٰهُ يَكْدَا۔ اللّٰهُ تَعَالَى
 نے اس کو فلاں چیز میں مبتلا کیا۔
 مَمْنِي لِكْدَا۔ توفیق دیا جانا۔
 يَكْدَا۔ امتحان پایا جانا۔ آزمانا
 جانا۔

مَتَى تَمْنِيَّةٌ۔ الرجلُ الشَّيْءَ مَا لَيْتُ
 آرزو دلانا۔ رغبت دلانا۔
 مَا فِي مَمَانَاةٍ۔ الرجلُ مَا لَيْتُ كَرْنَا
 مہلت دینا۔ استعاذ کرنا۔ بدلہ لینا
 — الوَفِيَّةُ۔ ساتھی کے ساتھ
 باری باری سے سوار ہونا۔

أَمْنِي المَنَاةُ الدِّمَاءُ۔ طون بہانا۔
 — الحَاجُّ۔ حاجیوں کا معنی میں آنا
 یا آنا۔

أَمْنِي المَنَاةُ۔ الشَّيْءُ جھوٹی بات
 کا گھرونا۔ الحَاجُّ۔ حاجیوں کا
 نما میں آنا یا نازل ہونا۔
 مَمْنِي۔ الشَّيْءُ۔ اسادہ کرنا۔

— اکتاب پڑھنا
 — الرجل جھوٹ ہونا۔
 الحدیث جھوٹی بات گھڑنا
 المنیۃ ج منایا والی موت
 المنیۃ قصد، تقدیر الی
 المنیۃ والمنیۃ سب منیۃ ومنیۃ
 والأمنیۃ ج امان و
 امانیۃ خواہش۔ آرزو مطلوب
 الأمنیۃ جھوٹ۔
 المتنبیات تمنائیں مرغوبات
 منہ اسم فعل مبني على السكون۔
 رُک جانا۔
 مَنَه (ن) مَنَهَا۔ الاصل۔ اونٹ کے
 ساتھ نرمی برتنا۔
 (— مَهَمًا الشئ نرم ہونا۔
 المہاکہ نرمی۔ طراوت۔ تازگی۔
 حسن خوبصورت۔ خوبصورتی۔
 (— والمہم) سیر وغیرہ کا ساتھی۔
 امید۔
 المہتد والیہتار۔ حاکم۔ امیر
 مہج (ن) مہجًا۔ بیماری کے بعد چہرہ
 پر رونق آنا۔ ماں کا دودھ پلانا
 أمتهج۔ ارضل۔ خون کھینچ لیا جاتا
 المہج۔ قاصد خالص دودھ۔ تیل۔
 دودھ یا چربی
 المہجۃ۔ خون یا دل کا خون۔
 روح۔ زندگی۔ اچھا و خالص حصہ
 ج مہج و مہجات۔
 الأمہج والامہوج۔
 الأمہجان۔ پانی کی آمیزش سے
 پاک خالص دودھ۔
 مہوج البطن۔ ڈھیلے پیٹ والا
 مہد (ن) مہدًا۔ الفرائش۔
 فرش بچانا۔
 — لنقیبہ کمانا۔ کام کرنا۔

مہد۔ الفرائش۔ بستر بچانا۔
 — الأمر۔ درست و سوار کرنا
 — العذر۔ عذر پیش کرنا۔
 — یفان عذیرہ۔ عذر قبول کرنا
 — لنقیبہ خیرًا۔ اپنے لئے بھلائی
 مہیا کرنا۔
 تمہد۔ الفرائش۔ بستر بچانا۔
 — الأمر۔ کام کا آسان ہونا۔
 — الرجل۔ قادر ہونا۔
 المتهد۔ الشئ۔ بچنا۔ الرجل کمالی
 کرنا۔ کام کرنا۔
 استمہد۔ فراشا۔ فرش بچانا۔
 ألمهد۔ گوارہ۔ پست زمین
 ج مہود۔
 المهد۔ ج مہدۃ و أمہاد۔
 والمہدۃ۔ ج مہد۔ نرم و
 پست و ہموار زمین۔
 المہاد۔ بستر پست زمین۔ ج۔ مہد
 و مہد و أمہاد۔
 المہید۔ خالص گھن۔
 المہد۔ منع۔ درمیانی۔ پانی نہ گرم
 نہ سرد۔
 مہر (ن) مہرًا و مہودًا مہارًا
 و مہارۃ۔ الکلی و فیہ وہبہ۔ ماہر
 ہونا۔ تجربہ کار۔ یا واقف کار ہونا۔
 صفت (ماہر)
 مہر (ن) مہرًا و أمہرًا۔
 المہرۃ۔ عورت کو مردینا۔ یا ہر
 مقرر کرنا۔ و أمہرًا کما ہر کے
 عوض کسی سے نکاح کر دینا صفت مفعول
 (مہرۃ)۔ أمہرات العرس
 گھڑی کا بچیرے یا بچیری والی ہونا
 مہر۔ بچیرا لگنا یا حاصل کرنا۔
 ماہرۃ مہارۃ۔ ماہر ہونے میں
 مقابلہ کرنا۔

تمہس۔ ماہر و عاوق ہونا تیرنا
 المہس۔ مہج۔ مہود۔ مہود۔
 هذا مہد ذلک۔ یہ اس کا عوض ہے
 یہ اس کے بدلے میں ہے۔
 المہس۔ بچیرا۔ پہلا بچہ ج مہار و
 أمہار و مہارۃ۔ مہر و مہرات
 ج مہس و مہرات و مہرات
 المہیرۃ۔ بہت مہروالی عورت۔ ج
 مہاسیر۔
 الماہس۔ ماہر۔ حادق۔ اچھا تیرنے والا
 ج مہارۃ۔
 المہس تیرنا۔ مرض گہیوں
 الاصل المہس تیرنا۔ مہارۃ
 بن حیدان کی طرف منسوب اونٹ
 جو بیز رفتا رک میں بے مثال و بے نظیر
 مانے جاتے ہیں۔ ج مہاری و
 مہار و مہاری۔
 المہس جان۔ پارسیوں کی عید
 مہنہ (ن) مہنًا۔ بیدار۔ اٹھ
 سے دیکھنا۔
 مہشہ (ن) مہشًا۔ جلانا۔ ناخونوں
 سے کھرچنا۔
 أمتهش۔ چل جانا
 مہص۔ الثوب۔ کپڑے کو صاف کرنا
 سفید کرنا۔
 تمہص۔ فی الباء۔ پانی میں ڈوبنا۔
 گھسنا۔
 أمہامت الارض۔ کابینات
 ہونا۔ صفت (مہصاء)
 مہص (ن) مہصًا۔ بہت سفید ہونا۔
 مہقت (ن) مہقتًا۔ الجیل۔ گھڑے
 کا دوڑنا۔
 مہق الفصیل۔ اونٹ کے کچھ کھپائی
 پلانا۔
 تمہق۔ الشرب۔ تھوڑی تھوڑی دیر

کے بعد پانا۔
 الْمَهَقُ - مہم۔ پانی پر کی سبزی۔
 الْأَمَقُّ - بہت سفید۔ مَوْتٌ مَهْقًا
 ج۔ مَهْقٌ
 مَهَكَ (ف) مَهَكًا وَمَهَكَ - (شئ)؛
 ہاریک پینا۔
 مَهَكًا - نرم و چمکا کرنا۔
 مَهَكَ فِي السَّيْرِ - چلنے میں جلدی کرنا
 تَمَهَكَ - فِي الْعَمَلِ - کام مناسب طور
 سے کرنا۔
 إِمَهَكَ - الرَّجُلُ - کم گوشت والا ہونا۔
 - فِي الْعَدُوِّ - کوشش کرنا۔
 تَمَاهَكَ - الْقَوْمَ - باہم جھگڑنا۔
 مَهَكَ التَّبَابُ وَمَهَكَتُ -
 جوانی کی رونق و تازگی۔
 الْمَهُولُ - نرم کمان۔
 الْمَهَكَ وَالْمَهَكَتُ - بھری
 جوانی والا
 الْمَهَكَتُ - لبا کا پینے والا۔
 مَهَلٌ (ف) مَهَلًا وَمَهَكَتُ وَمَهَلٌ
 فِي الْعَمَلِ - آرام سے بغیر جلد بازی کے
 کام کرنا۔
 مَهَلٌ (س) مَهَلًا - الرَّجُلُ - بھلائی میں
 آگے بڑھنا۔ صفت (ماہل)
 أَمَهَلَهُ وَمَهَلَهُ - الدَّيْنُ - مدت دینا
 أَمَهَلٌ وَمَهَلٌ - الرَّجُلُ - نرمی برتنا
 فِي الْأَمْرِ - مبالغہ کرنا۔ غز کرنا۔
 اسْتَمَهَلَهُ - مدت مانگنا۔
 أَلْمَهَلُ وَالْمَهَلُ - آرام۔ خدمت۔ آہستگی
 مَهَلًا - نرمی سے
 لَا مَهَلٌ - کوئی مدت نہیں۔
 عَلَى مَهَلٍ - جلدی نہ کر۔ آہستہ کر۔
 ذُرِقَ فَلَانٌ مَهَلًا - فلاں کو مدت
 دی گئی۔
 الْمَهَلُ - فَلَانٌ - جیسے چاندی ہونا۔

تانا۔ گچیل ہوتی دھاتیں۔ پتلا قطران
 زیتون کا پتلا تیل۔ زہر۔ پیپ۔
 روٹی سے چھڑی ہوئی راکھ۔
 الْمَهْلَةُ - مہم۔ راکھ میں بھی ہوئی چنگاری۔
 آہستگی۔ نرمی۔ پتلا قطران۔ شمار
 "خَذَا الْمَهْلَةَ فِي أَمْرِكَ" اپنے
 معاملہ میں سامان لو۔ "أَخَذَا عَلَيْهَا
 الْمَهْلَةَ" وہ اس سے بڑگی رادب
 یا عمر میں۔
 الْمَهْلَةُ وَالْمَهْلَةُ وَالْمَهْلَةُ وَ
 الْمَهْلَةُ - پیپ یا خاص میت
 کی پیپ۔
 الْمُتَمَهَّلُ - فا۔ لبا آدمی۔ آہستگی سے کام
 کرنے والا۔
 مَهْمًا - جب کبھی جو کچھ۔ مَهْمًا
 تَفَعَّلُ أَفْعَلُ - جو تو کرے گا میں کروں
 گا۔ مَهْمًا يَذُرُّ فِي رَيْدٍ أَكْرَمَهُ
 جب کبھی زید میری طاقت کے لئے آئے
 گائیں اس کی عزت کروں گا۔
 مَهْمَةً عَنِ السَّقِيِّ - روکنا۔
 مَهْمَةٌ فَلَانًا - مہمہ کہہ کر
 ڈانٹنا تہمت سے شئی۔ رک جانا
 الْمَهْمَةُ وَالْمَهْمَةُ - لبا پوڑا۔
 بیابان۔ بجز ملک۔ ج۔ مَقَامِيَّةٌ -
 مَهْنٌ (ف) مَهْنًا وَمَهْنَةٌ وَ
 مَهْنَةٌ - الرَّجُلُ - خدمت کرنا۔
 مَهْنٌ (ف) مَهْنًا - اپنا پیشہ کرنا۔
 - الرَّجُلُ - بار بار اور سختی سے سلوک کرنا
 - التَّوْبُ - کپڑا اکھینچنا۔ بوسیدہ و
 پرانا کرنا۔
 مَهْنٌ (ك) مَهَانَةً - حقیر و کمزور ہونا
 مَا كُنْتُ مَهَانَةً مَشُوحٌ كَرْنَا -
 آمہنتہ۔ کمزور کرنا۔ خدمت لینا
 إِمْتَهَنَ - الشئ - حقیر کرنا۔ بوسیدہ کرنا
 - الرَّجُلُ - لو کہ رکھنا۔

- الرَّجُلُ - خدمت میں مشغول ہونا۔
 الْمَهْنَةُ وَالْمَهْنَةُ وَالْمَهْنَةُ - کام
 کی عمارت خدمت۔ قَامَتِ الْمَوَاةُ
 بِمَهْنَةٍ بَيْنَهَا - عورت اپنے گھر کے
 کام کاج کے لئے کھڑی ہوئی۔ هُوَ فِي
 مَهْنَةِ أَهْلِهِ - وہ اپنے اہل کی خدمت
 میں مشغول ہے۔ خَوَجَ فِي تَيْبٍ
 مَهْنَتِهِ - وہ اپنے کام کاج کے کپڑوں
 میں نکلاج مہن و مہن
 الْبَاهِنُ - فا۔ خادم۔ غلام ج۔ مَهَانٌ
 وَمَهْنَةٌ وَمَهَانٌ - مَوْتٌ مَاهِنَةٌ
 ج۔ مَوَاهِنٌ -
 الْمَهِينُ - حقیر۔ ضعیف۔ کم سمجھ ج۔ مَهْنَاءُ
 مَهَا يَمْنُو مَهْوًا - الرَّجُلُ - زور سے
 مارنا۔
 مَهَا يَمْنُو مَهًّا - الْبَقْرَةُ الْوَحْشِيَّةُ
 نیل گائے کا خالص سفید ہونا۔
 مَهْوِيْمُهُ مَهَادَةٌ - اللَّبْنُ او
 السَّمْنُ - دودھ یا گھی کا پتلا ہونا۔
 صفت، (مَهْوُ)
 آمهی۔ اللَّبْنُ - دودھ میں پانی زیادہ
 کرنا۔ - الْحَيْدِيَّةُ - لوبہ کو تیز کرنا۔
 - الْفَرَسُ - گھوڑے کی رسی بھی چھڑنا
 جلا کر گمانا۔ ام (المهی) آمهی
 فَلَانٌ - بہت تعزین کرنا۔
 حَضَرَ الْبَيْتَ حَتَّى آمَهَى - کنواں
 کھڑے کھڑے پانی تک پہنچ جانا
 الْمَهْوُ - مہم۔ سفید کھری ہوئی۔ بورد
 اولہ۔ تازہ کھجوریں۔ چلے پھل والی اولہ
 بہت پانی ملا دودھ۔
 الْمَهَاةُ - نیل گائے۔ سورج۔ بورد۔
 ج۔ مَهَا وَمَهَوَاتٌ وَمَهِيَاتٌ
 مَهَى يَمْهَى وَيَمْهَى مَهِيًا وَآمَهَى
 وَآمَهَى - الشَّمْسُ او الْحَيْدِيَّةُ
 پھل کو تیز یا پتلا کرنا۔

ماتى الشىء - چيز کو گھٹ کرنا۔
 استمتهى - الفرس گھڑے کو ہڈی رفتار
 پر چھوڑنا۔ القوم - قوم کا دشمن کی
 صفوں کو چیر کر ان کو شکست دینا۔
 مہمہم - کیا بات ہے کیا خبر ہے؟
 تیرا کیا حال ہے! تمہیں کیا حادثہ پیش آیا؟
 ماء یوموم مؤمما أو مؤمما - بٹی کا
 میاؤں میاؤں کرنا۔ صفت (مؤوم)
 و مؤمما الرجل - بٹی کی طرح میاؤں
 میاؤں کرنا۔
 المایمۃ و المایمۃ و المایمۃ
 بٹی۔
 ماتت یوموت مؤمما - مرنا۔ آگ
 کا بجھانا۔ بجھنا۔ کپڑے کا بوسیدہ ہونا
 سردی گرمی کا زائل ہونا۔ ہوا کا ٹھہرنا
 ماتت الحی - بچار کی تیزی کا کم ہونا
 ماتت یوموت مؤمما و مؤمما -
 امکان۔ جگہ کا ویران ہونا۔ الکل
 راستہ چلنا۔ بند ہونا۔ ماتت
 کوق الرجل - گہری نیند سونا۔
 مؤمما - مارنا
 اما قہ اما قہ - مارنا۔
 اماتت کفستہ - اپنی خواہشات کو مارنا۔
 فقتبہ - غصہ ٹھنڈا کرنا۔
 الرجل - مرے ہونے کی بھینچ والی
 ہونہ۔ اللقہ او امرأہ - مرے
 ہونے کی بھینچ والی ہونا۔ صفت
 (مہمہم و مہمہم) ج: مہمہم
 القوم - قوم کی مویشی میں مری پڑنا
 مع اماتت القوم - گوشت خوب
 اچھی طرح پکنا۔
 أمیتت - اللفظ: لفظ کا متروک الاستعمال
 ہونا۔
 تتادت - مرے کا بہانہ کرنا۔ خاموشی
 اور کمزوری دکھانا۔

استمات استماتہ و استماتہ -
 موت مانگنا۔ ہر راہ سے چیر طلب کرنا
 لاغزی کے بعد موٹا ہونا۔ الثوب
 کپڑے کا بوسیدہ و پڑانا ہونا۔
 الشىء - ڈھیل ہونا۔
 الموت و الموت - موت۔
 الموت الاحمر - مقتول ہو کر مرنا
 الموت الابيض - طبعی موت یا اچانک
 موت۔
 الموت الاسود - گلا گھٹ کر مرنا۔
 الموت - غشی۔ ویرانگی۔ مرگی۔
 المیتۃ - مؤنت - میت۔ جانور جو
 طبعی موت مرا ہو۔ مراد جہ مہمات
 المیتۃ - مرے کی حالت
 المیتۃ - مرے کی حالت
 الموتان و الموتان - جانوروں کی وبا
 یا مری۔
 موتان العواد - کندھن بونٹ
 مؤتاتہ۔
 الموتان - موت۔ چیر جاندار چیریں
 ویران زمین۔
 المایمۃ - قریب المرگ۔
 مؤت ماریت - سخت موت
 المیتۃ ج: مؤت و مؤتی و مہمیتون
 و المیتۃ ج: مہمیتون - میت مردہ
 مؤنت مہمہم - ج: مہمات۔
 و مہمات۔
 الموات - مرے۔ بے جان چیر غیر آباد
 زمین۔
 المہمات - موت۔ زمانہ موت۔
 المہمات - متروک الاستعمال لفظ۔
 خطبۃ مہمہم - گناہ کبیرہ
 تباہ کن گناہ
 المہمیت - فاموت کا سامنا کرنا۔
 نڈر۔

ماتت یوموت مؤمما و مؤمما -
 بالشیء - مانا۔ غلط ملکہ کرنا۔ الشیء
 فی الماء - پانی میں حل کرنا۔ ترک کرنا۔
 اغات - حل کرنا۔ ترک کرنا۔ حل ہونا۔
 ما جہ یوموج مؤمما و مؤمما -
 کموج - البحر: سمندر کا موج مارنا
 جوش مارنا۔
 ما جہ القوم - قوم کا مضطرب و
 بے ترتیب ہونا۔ ما جہ عن الحق
 حق سے پھر جانا۔ الگ ہو جانا۔
 الموج - موج۔ لمر - مفرد (موجتہ)
 موجتہ الشباب - آواز جوانی۔
 الموج بہت موج اٹھانے والا۔
 ما جہ یوموج مؤمما - الغضب بفتکہ کا
 ٹھنڈا ہونا۔
 الماء - خوش طبع۔ خوش اخلاق۔
 الماء - سفید یا عمدہ شہد۔ ہتھیار۔
 الماء ذیہ - زم زہ
 الماء ذیہ - شراب۔
 ما جہ یوموج مؤمما - البحر - سمندر کا
 موجزن ہونا۔ جوش مارنا۔
 الدم علی الارض - خون کا زمین پر پھیل کر بہنا
 الدم - خون کو زمین پر پھیل کر بہنا
 الشیء - آگے۔ پیچھے تیزی سے
 ہلنا۔ التراب - غبار کا اڑنا
 ماتت الریحۃ الثوب و بالثوب
 ہوا کا غبار اڑانا۔ عار الصوف
 عن الجسد - جسم پر سے پشم اکیر ہونا
 اسیان فی المطعون - نیزے
 کا زخمی کے بدن میں ہلنا۔
 امار - الدم - خون بہانا۔
 امارت الریحۃ الثوب ہوا کا
 خاک اڑانا۔ نیزہ کو نیزہ و دودھ میں ہلانا
 تمور - تروہ کی حالت میں آنا ہلانا۔
 الشرو - پاؤں کا ادھر ادھر ہونا۔

تَمَوَّرَ الْوَجِدَ وَنَحْوَهُ عَنِ الدَّاءِ بِهَمْزٍ - مال
یا دن کا بدن پر سے گر جانا۔
الشئی چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی
جلدی حرکت کرنا۔
إِمَارَ الشَّعْرَ - بالوں کا گرجانا۔ اُکھرجانا
إِمْتَارَ إِمْتِيَارًا - السیف - تلوار
نکانا - سرتنا۔
مَادُو مَارِي - سرداری۔
الْمَوْرُ - مہم - نرم و ملائم چیز۔ بہت
آمدورفت کا راستہ۔ تیزی۔
الْمَوْرُ - ہوا میں اُڑنے والا غبار۔
مٹی جس کو ہوا اُڑائے۔ ایک قسم
کے مہینے۔
الْمَوْرَةُ وَالْمَوَارَةُ - گرمی ہوتی اُون
کسی چیز سے گرمی ہوتی چیز۔ فنا ہونے
والی چیز کا لقب۔
الْمَائِرُ - خاکم عقل آدمی۔ گھس جانے والا
تیر۔ موت۔ مائِرَةٌ جہ مائِرَاتُ
وَمَوَائِرُ۔
الْمَوَارُ - المائِرُ کا مبالغہ
رَبِيحٌ مَوَارَةٌ وَارِيَاخٌ مَوْشٌ -
غبار اُڑانے والی ہوا۔
الْمَوْرَجُ - گہری زانسنے کا آلہ۔
الْمَوْرُ - کیلہ کا درخت۔ کیلہ۔ واحد
(مَوْرَةٌ)
الْمَوَّازُ - کیلہ فروش۔
الْمَوْرَجُ - موزہ۔ جہ۔ مَوَّازٍ جہ
مَوَّازِيَةٌ
مَا صَ يَمُوصُ مَوْصًا - الراس - سر ہونانا
الْمَاسُ - میرا بے حس آدمی جس کو غوطہ
و دھکی کا اثر نہ ہو۔
الْمَوْسِيُّ - اُسٹرا۔ مَوَّاسٍ وَمَوْسِيَّاتُ
الْمَوْسِيَّتِيُّ - گانے گانے کا فن
الْمَوْسِيَّتِيُّ - گانے والا۔ گویا۔
مَا شَ يَمُوشُ مَوْشًا - اَلْكَرِيمُ -

باقی ماندہ انگریزینا۔
الْمَاشُ - اُشُو۔ واحد (ماشۃ) گھڑ کا
ادنی قسم کا سامان۔
مَا صَ يَمُوصُ مَوْصًا وَمَوْصٍ
الْتَوْبُ - دھونا۔ الشئی۔
لُ قَد سے ملنا۔
الْمَوْصُ - مہم۔ مہم۔
الْمَوَّاصَةُ - وہ پانی جس سے کپڑے
وغیرہ دھوئے گئے ہوں۔
مَوْعَةُ الشَّبَابِ - آغاز جوانی۔
مَا غَ يَمُوعُ مَوْعًا وَمَوْعًا السِّيْرُ
بلی کی میاؤں میاؤں کرنا۔
مَا قَ يَمُوقُ مَوْقًا - الْبَسْبِجُ
ارزاں ہونا۔ الطَّامُ - غلام ہونا
مَا قَ يَمُوقُ مَوْقًا وَمَوْقًا
مَوْاقَةٌ وَمَوْوَقًا - الرَّجُلُ
بے وقوف ہونا۔ ہلاک ہونا۔
تَمَاقٌ - ہاگل پن دکھانا۔
إِنْمَاقٌ إِنْمِيَاقًا - ہلاک ہونا۔
إِسْتِمَاقٌ إِسْتِمَاقَةٌ - بے وقوف
کھننا۔
الْمَاسِيحُ - بے وقوف۔ ہلاک ہونے والا
جہ مَوْقِي۔
الْمَوْقُ - مہم بے وقوف۔ غباوت۔ غبار
پر دار چیرٹی۔ گوشہ چشم۔ پارکینوزہ
پر مونا موزہ۔ جہ آمَوَاقُ۔
مَا لَ يَمُولُ وَيَمَالُ مَوْلًا وَمَوْلًا
بہت مال والا ہونا۔ مالدار ہونا۔
مَا كُنَّا يَمُولُهُمْ مَوْلًا وَمَوْلًا
إِمَالَةً - مال دینا۔
مَوْلًا لِمَا لَ وَارِنَانًا - تَمَوْلَ الْمَالُ
مال جمع کرنا۔ سوار شمال، مال
حاصل کرنا یا بہت مالدار ہونا۔
الْمَالُ جہ آمَوَالٌ - مال۔ دولت۔ اہل
بادیہ کے نزدیک مال کا اطلاق مولیٰ پر

ہوتا ہے (مذکورہ موت) کہتے ہیں
"خَرَجَ إِلَى مَالِي" یعنی وہ اپنی
ہائیاں یا اوتھوں کی طرف گیا۔ جہ
مَالَةٌ وَمَالُونَ - بہت مال والا
کہتے ہیں رَجُلٌ مَالٌ بہت مال دار
آدمی۔ مَوْتٌ: مَالَةٌ جہ مَالَةٌ
مَالَاتُ
الْمَوْلُ - کرمی۔ واحد (مَوْلَةٌ)
الْمَالِيَّةُ - دولت۔ مال کے متعلق۔
شاہی خزانہ۔
الْمَوْلُ وَالْمَيْلُ - بہت مالدار۔
الْمَوْنِيلُ - تھوڑی دولت۔
مَيْمٌ مَوْمًا - الرَّجُلُ - برسام کی بیماری
والا ہونا یا۔ سید قسم کی چیچک میں
مبتلا ہونا کہ سارا جسم کبیر زخم بن جائے
صفت مفعول (مَمْمُومٌ)
مَوْمٌ - مَيْمًا - مہم کھنا۔
الْمَوْمَاءُ وَالْمَوْمَاءُ - وسیع بیابان
یا بے آب و بیابان جہ مَوَامِي
الْمَوْمِيَاءُ - ایک قسم کی دوا۔
مصریوں کے طریق پر جنوب لگانے پر
اجام۔
مَا فَهَ يَمُوقُهُ مَوْنًا وَمَوْنًا
مَوْنَةٌ - کسی کا خرچہ برداشت کرنا
صفت کائین
مَا نَ الْأَرْضُ - کبھی کے لئے زمین
جوتنا۔
كَمَوْنٌ - خرچہ جمع کرنا۔ بال بھلا پر زیادہ
خرچہ کرنا۔
الْمَوْنَةُ - خرچہ۔ گزارے کے لائق
ذخیرہ۔ جہ مَوْنٌ -
بَيْتُ الْمَوْنَةِ - گزارہ جمع کرنے کا
کمرہ۔ اسٹوریٹس۔
الْمَوْنُ - ذخیرہ رکھنے والا۔ ذخیرہ مہیا کرنا
مَا هَتَ كَمَوْنًا وَمَوْوَهَةً - اَلْمَبْرُ

کنیں کا زیادہ پانی والا ہونا۔

السَّفِينَةُ: کشتی میں پانی داخل ہونا۔
مَاءٌ يَمْشِي مَوْجًا: الرِّجْلُ: پانی پلانا۔
الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔

أَمَّا أُمَّاهُ وَأُمَّوَةٌ أُمَّوَاهَا
— الشَّيْءُ بِمَلَانَا — الشَّيْءُ بِمَلَانَا —
الرِّجْلُ: پانی پلانا۔ أَلْوَمُنْ جَوْمِنْ
میں پانی جمع کرنا۔ الدَّوَاةُ: دووات
میں پانی ڈالنا۔ البُتْرُ: کنواں کھرد
کر پانی نکالنا۔ السِّكِّينُ:
چھری پر پانی چڑھانا۔

أَمَّا هَتِ السَّمَاءُ: آسمان کا بہت
پانی برساتا۔ الأَرْضُ: بہت پانی
والی ہونا۔

مَوْكَا الْمَكَانُ: پانی والی ہونا۔ الْقِدْرُ
ہانڈی میں بہت پانی ڈالنا۔
الشَّيْءُ بِمَا الذَّبِيبُ أَوْ الْقَيْصِيَّةُ وَغَوَاهَا
گلت کرنا یا چاندی سولے کا پانی چڑھانا
— عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَوْ الْجُودُ: خلافت واقعہ
صوبہ بیان سکتا۔

تَمْوَكَا: گلت ہونا۔
— الْعَيْبُ: انگریزوں میں پڑ کر کہنے
کے قریب ہونا۔ الْمَكَانُ بِالشَّيْءِ
جگہ کا سبزہ زار ہونا۔

المَاءُ: پانی داخل مَوْكَا ہے تصغیر
مَوْكَا: نسبت کے لئے مَوْكَا و
مَآوِي و مَآوِي ج مِيَاةٌ وَأَمْوَاهُ
و مَآوَا لَوْسَادٍ و مَآوَا لَزَهْبٍ و
مَجْوَاهِمَا: گلاب وغیرہ کا پانی براق
کی شکل میں کہینا ہونے۔

مَاءُ التَّوَجِيهِ و مَاءُ الشَّيْبِ
چہرہ کی رونق اور جوانی کی تازگی۔

مَاءُ السَّيْفِ: تلوار کی آب و تاب
بِنَاتِ الْمَاءِ: آبی جانور۔

مَفْرَدٌ: اِنْبَاءُ الْمَاءِ

المَاءُ الأَرزَقُ: موتیا بند۔
المَاءُ: پانی نسبت کے لئے مَآوِي و مَجْوَاهِمَا
مَاءُ القَوَادِ: برہوں آدمی
المَاءُ: پانی۔ تصغیر۔ مَوْكَا
المَوْهَةُ و المَوْاهَةُ مِنَ الوَجْهِ
چہرہ کی رونق و خوبصورتی۔

المَاءَةُ: مصر چمک
بُتْرُ مَاءَةٍ: بہت پانی والا کنواں
المَاءِيَّةُ: موزت المَآحِي
مَآهِيَّةُ الشَّيْءِ: چیز کی حقیقت۔
ج مَآهِيَّاتٌ۔

المَآيِيَّةُ و المَآوِيَّةُ مِنَ الشَّجَرِ
رس وہ سیال مٹی جس سے درخت کو
فزا حاصل ہو۔

المَآوِيَّةُ آيِنَةٌ ج مَآوِي
رَكِيَّةٌ مِيَهَةٌ: بہت پانی والا کنواں
الأَمْرُةُ: بہت پانی والا۔

المَمْوَهَةُ: معہ۔ ناخوار آنکھ
مَاتَ يَمِيْتُ مِيْتًا مَرًا۔

مَاتَ يَمِيْتُ مِيْتًا مَرًا۔
الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: پانی میں حل کرنا۔
مَيَّتَ الرِّجْلُ: ذیل کرنا۔
تَمِيَّتَ: الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ حل ہونا۔
— الرِّجْلُ: ذیل ہونا۔

تَمِيَّتَ الأَرْضُ: زمین کا بارش
سے نرم ہونا۔

الْحَرَارَةُ: ٹھنڈی ہونا۔
اتَمَاتَ اِنْمِيَاثًا: الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ
پانی میں حل ہونا۔

اِمْتَاثًا: الرِّجْلُ: زندگی کا آرام پانا
— الأَقِطُ: چکر پانی میں چکر کھانا
— الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: حل کرنا۔

المَيِّثُ: نرم۔
أَرْضٌ مِيْتَاءٌ: نرم زمین۔

مَآجٌ يَمِيحُ مِيحًا: الشَّيْءُ مَمْتَدٌ هُونًا

ملا ہوا ہونا۔

مَآحٌ يَمِيحُ مِيحًا و مِيحُوْحَةٌ:
پانی سے چلے جھرنہ۔

— أَفْحَابَةٌ: ساتھیوں کے لئے چلنے والی
پانی پینا۔ الرِّجْلُ: نفع دینا۔
— عِنْدَ الأَمِيرِ: سفارش کرنا۔
مَآحَتِ الرِّجْلِ التَّجْبِيَّةُ: ہوا کا
درخت کو جھکا دینا۔ مَآحُ الرِّجْلِ
خزے اور کبیرے چلنا۔

مَآحَةٌ يَمِيحُ مِيحًا و مِيَاْحَةٌ دِيْنَا
مِيحٌ تَمِيحًا العُضُنُ أَو الشُّكْرَانُ:
جھکنا چلنا۔

مَآيِحَةٌ مَمَآيِحَةٌ: نخل ملط ہونا۔
اِمْتَاَحَ الْمَاءُ: چلنے لینا۔ الرِّجْلُ
بخشش طلب کرنا۔

تَمِيحٌ: ناز و انداز سے چلنا۔ دائیں
بائیں جھکنا۔

تَمَآحٌ: ڈنگا نا۔
اِسْتَمَآحَةٌ اِسْتَمَآحَةٌ: بخشش مانگنا۔

یا سفارش کرنے کی درخواست کرنا۔
المَآحِي ج مَآحَةٌ و المِيَاْحُ: چلنے
سے پانی پلانے کی درخواست کرنے والا۔
مَادٌ تَمِيْدٌ مِيْدًا أَوْ مِيْدًا آتًا:
حرکت کرنا۔ چلنا۔ کانپنا۔

مَادَتْ بِهِ الأَرْضُ: زمین اس
کے ساتھ گھوم گئی۔ العُضُنُ:
شاخ کا جھکنا۔ چلنا۔ الرِّجْلُ:
تکبیر اور ناز سے چلنا۔ سر جھکانا۔

مَادَ الرِّجْلُ: زیارت کرنا۔ نیکی
کا سلوک کرنا۔

تَمَآيِدٌ: نشاط سے چلنا۔
تَمِيْدًا اِمْتَادًا: عورت کا ناز
سے چلنا۔

اِمْتَادٌ اِمْتِيَادًا: بخشش مانگنا
المَآيِدُ: جھکے والا چکر کھانے والا ج

ج مَبْدَى -
 الْمَبْدَةُ - مؤنث الماكسده -
 کھانا چاہو اور سترخان - کھانا -
 زمین کا دائرہ جہ، مَوَابِدُ وَ
 مَا سَدَاتُ -
 الْمَبِيدَةُ - کھانا، کھانا چاہو اور سترخان
 مَبِيدَاتُ (بجائے مَبِيدَاتُ) کہیں کہیں
 ختی کہ -
 مَبْدَى - بَعْدُ - اس لئے -
 فَعَلْنَا مَبْدَى ذَلِكُ - اس نے
 اس کو اس وجہ سے کیا -
 دَارِي مَبْدَى دَارِي - میرا گھر
 اس کے گھر کے مقابل ہے -
 مَبْدَاءُ - پیمانہ - مقدار - سڑک کی بانی
 الْمَبْدَانُ وَالْمَبْدَانُ - گھوڑے
 دوڑانے یا کھیل کر دے لئے کشادہ
 میدان جہ، مَبَادِئُ
 الْمَبَادُ - بہت بٹنے والا - مؤنث
 مَبَادَةُ
 الْمَبْدَاتُ - بخشش مانگنے والا جس سے
 بخشش مانگی جاتے -
 مَا رَ يَمِيذُ مِيذًا وَ أَمَارًا - عِيَا كَدَا
 عِيَالُ كَلِّ لِي خَرَكُ لَانَا -
 الدَّاءُ وَ مَيَّوَلَا - دوا وغیرہ
 گھلانا -
 مَا رَ الصُّوْفُ أُونُ وَ مَكْنَا -
 أَمَارًا أَوْ دَجَّةً - رگیں کا ٹنا -
 مَا يَرُكُ مَعَا يَرُكُ - خوراک لانا نعل
 اُتَارْنَا -
 تَمَا يَرُ تَمَا يَرُ - مَا بَيْنَ الْقَوْمِ -
 فساد پڑنا -
 اِمْتَارَ - خوراک مہیا کرنا -
 الْمَيَّزُ - مہر - کھانا - خوراک -
 الْمَيَّزَةُ - ڈھیر کی ہوئی خوراک جہ مَبْدُ
 الْمَيَّزُ - ام فاعل - خوراک لانے والا -

ج مَبَارَ وَمَيَّارَةُ
 الْمَبَارَةُ - خوراک لانے والا -
 الْمَوَارَةُ - دھننے میں اُون کا گرا ہوا حصہ
 مَا رَ يَمِيذُ مِيذًا وَ مَيَّزُ أَمَارًا -
 الْمَشِي - مَلْمُوحَةٌ - جہاں کرنا -
 - الْمَشِي - جہیز کر دوسری چیزوں پر
 تَرْجِيحُ دِيْنَا - تَرْجِيحُ دِيْنَا -
 مَا رَ فَلَانُ - ایک جگہ سے دوسری
 جگہ منتقل ہونا -
 تَمَيَّزُ وَ اِنْمَارًا اِنْمِيَارًا وَ اِمْتَارًا
 اِمْتِيَارًا وَ اِسْتِمَارًا وَ اِسْتِمَارَةً
 جہاں ہونا -
 تَمَيَّزُ فَلَانُ مِيْنَ الْغَيْطِ - نقتہ
 سے بھٹ پڑنا -
 تَمَيَّزُ الْقَوْمِ - ایک دوسرے سے جہاں ہونا
 اِسْتِمَارًا - علوہ ہونا -
 تَمَا يَرُ الْقَوْمِ - بھٹ جانا مختلف
 گروہوں میں بٹ جانا -
 الْمَيَّزُ وَ الْمَيَّزُ - مضبوط ٹھوس والا
 الْكَمِيذُ - مَيَّزُ - کامسودہ - ایک قوت
 لغسانی جس سے معالی کا استنباط ہو -
 مِيْنَ التَّمِيذِ - بھگتی ٹر - بَرَانِي
 بھلائی پہچاننے کی عمر -
 الْاِمْتِيَارُ - پروانہ - سبز - لائٹس
 حق - جہ امتیازات -
 مَا سَ يَمِيْسُ مِيْسًا وَ مَسِيَانًا
 وَ تَمِيْسُ - الرُّقْلُ - ناز و نغزہ سے
 چلنا - صفت (ماتیس) وَ مِيْسُ وَ
 مَسِيَانُ وَ مِيْسُ -
 مَسِيَسُ - الرُّقْبُ - کپڑے کا دامن بنانا
 الْمَسِيْسُ - مہر - ایک بڑا درخت
 واحد (مَسِيْسًا)
 الْمَسِيْسُ - ایک قسم کی کش مش دو بیلوں
 کے درمیان کی لمبی کڑی - کچا وہ -
 الْمَيَّاسُ - شیر - بھیر پڑنا -

الْمَيَّانُ - بہت تر چکنے والا ستارہ
 ج - مَيَّاسُ -
 مَا سَ يَمِيْسُ مِيْسًا اَلْمَشِي بِالْمَشِي مِيْرَانَا
 - النَّا قَةُ - اومنی کا نصف
 دوہرہ دوہنا - الجُزْ - بعض
 خبر تپانا - بعض چھپانا -
 مَا طَ يَمِيْطُ مِيْطًا وَ مِيْطَانًا وَ اِمَا طَ
 اِمَا طَةُ - عَن كَذَا - دودھ پرجانا -
 عَلِيْرَه بَرْنَا -
 مَا طَا وَ اِمَا طَا وَ مَا طَا بِحَ بَرْنَا
 رُوْر كَرْنَا - مَا طَ الرَّجُلُ - ظلم کرنا
 - فَلَانًا - ڈانٹنا - بھانا -
 - الْمَشِي - جانا -
 مَيْطُ تَمِيْطًا - مِيْطًا - مال کرنا -
 تَمَا يْطُ الْقَوْمِ - ایک دوسرے سے
 دور ہونا - فساد واقع ہونا -
 مَا يْطُ - تَمِيْنُ - التَّمِيْنُ - تَرْجِيحُ دِيْنَا
 الْمَيْطُ - کہتے ہیں "مَا عِيْدَةُ مَيْطُ"
 اس کے پاس کچھ نہیں -
 الْمَيَّاطُ - وَانُ - نفرت، جھگڑا، ادبار
 تباہ - "هَمُّ فِي مَيَّاطٍ وَ مَيَّاطٍ"
 وہ گھبراہٹ میں ہیں، وہ آمدورفت میں
 ہیں -
 مَا رَ تَمِيْعُ مِيْعًا - الْمَشِي - زمین میں
 پھیل کر بہنا، گھولنے کا دور ہونا -
 - وَ اِنْمَارًا اِنْمِيَارًا وَ مَسِيَانًا
 تَمِيْعًا - اِنْمَارًا - بھگتی کا پھیل کر بہنا
 صفت (ماتیس) مَوْتُ مَا يَمِيْعُ
 اِمَامًا اِمَامًا وَ اِمَامَةً - بھانا -
 مِيْعَةٌ - اَلْمَشِي - اول شے حاصل شے -
 مِيْعَةُ الشَّبَابِ - آغاز جوانی
 مِيْعَةُ الْقَرْمِيْسِ - گھولنے کی دوڑ
 کا آغاز - الْمِيْعَةُ - زمین پر
 گرانی چیز کا سیلان - ایک خوشبودار گند
 الْمَائِيْعُ - بھنے والی چیز - بیروت الْمَائِيْعَةُ

موت المائع۔
گھڑے کی پیشانی کے بال جو
موت المائع
مال یمن میل و تیبلا و تیبلا و تیبلا
و تیبلا و تیبلا و تیبلا
۔ الی مکان۔
الی الشیء او الشیء۔ رغبت کرنا
عبت کرنا۔ عن الطریق۔ جاؤ کرنا
چھوڑ دینا۔ الحاکم فی الحکمہ۔ حاکم کا فیصلہ
میں ظلم و نا انصافی سے کام لینا۔
۔ کلیم الدھر۔ زمانہ کا مصائب
و حوادث کا آنا۔ مال بفلان
غالب آنا۔ مال الشیء۔ چھکانا
مال تیبیل کیوڑا۔ الشمس سورج
کا ڈھنچا یا ڈوبنے کے قریب قریب
ہونا۔ مال النهار او اللیل
دن رات کا ختم ہونے کے قریب ہونا
مال نیا الطریق۔ راستہ
بارے سے لے لیا ہوگا۔
میل میل۔ پیدائشی کی ہونا۔
صفت (امیل)
میل تیبیل۔ الشیء۔ پیدائشی کی
ہونا۔ چھکانا۔ فی الاقرب
کرنا۔ بین الاقربین۔ دو
کاموں میں سے کسی کو کرنا۔ مثلاً
کہتے ہیں "قرب لکھا کھا"۔
میل فیہ لیکھا۔ میں کھا
ساتھ آئے پھر اس کی کمی کی وجہ
سے مزہ ہوا کہ اس کو کھائے یا
چھوڑے۔

امال امال۔ الشیء۔ چھکانا۔
۔ یثا بالقرین۔ گھڑے کی نگاہ
و چھکانا۔
امال المراۃ۔ نقاب اتارنا
امال القاری۔ شادی کی طہنچے میں لگا کرنا
مایکد۔ چھکانا۔ موافقت کرنا۔ مدد
دینا۔ چھکانا۔ محبت کرنا۔
ترجیح دینا۔
تیبیل و تیبیل۔ تیبلا فی مشیہ
نازد و نخرہ سے چلنا۔
بیسہم تیبیل۔ ان میں اختلاف
و فساد ہے۔
استمال استمال۔ مال ہونا
۔ فلانا و بقلب۔ چھکانا۔ تہرانی
چاہنا۔ مافی الوعاء۔ جو کچھ برتن
میں ہو اس کو لے لینا۔
استمال۔ دونوں کف یا ذراع سے ناپنا
ایمیل۔ برتن گانے کی سلائی۔ زخم
و غیرہ ناپنے کا آلہ۔ میل کا پتھر نظر کی
حدیچہ ہزار ہا کا قاعدہ۔ ج:
امیل و امیل و میول
المیلک۔ وقت۔ زمانہ۔ ج:
میل۔ الدھر۔ میل
نماز گرد و شعل و لاسہ۔
الامال۔ مم۔ امال فی القراۃ
لح کو سو کی طرف امداد کو یاد کی
جاتی چھکانا۔
الامیل۔ زیادہ چھکانا۔ بزدل۔
زیادہ سمورد۔ کج۔ زمین سے ایک
طرف کو چھکنے والا۔ بے مہیار۔
موت میل۔

المیل۔ گیہان درخت۔ ریت
کامیل۔ گڑھی باندھنے کا طرز۔
المائل۔ فاجہ میل و مالہ
موت مامک۔ جو ماملات
و موائیل۔
المیال۔ بہت چھکنے والا۔ موت
میالہ۔
مان تیبیل۔ مینا۔ جوٹ ہونا۔
صفت (مائی و مائی و
میون)۔
مان الادق۔ زمین کو کھینچنے کے لئے
جوٹنا۔
تیبیل القوم۔ ایک دوسرے پر
جوٹ ہونا۔
المان۔ بل کا پھل یا پھار۔
المین۔ جوٹ جو میون
المینا و المینا۔ بندرگاہ جو موان
و موائیل۔
المینا۔ آگینہ۔
ماہ تیبیل۔ مینا و مینا۔ مین
و تیبیل۔ پتھر۔ الی
تلوار و غیرہ پر سونے کا پانی چھکانا
۔ فلانا۔ پانی پلانا۔
ماہت الی۔ کنیز کا بہت پانی
والا ہونا۔
ماہ تیبیل۔ مینا و مینا۔
و مینا۔ الی۔ کنیز
کے پانی کو زیادہ کرنا۔
الماہت و المینا۔ کنیز کے
پانی کی کثرت۔

ق

ن۔ جوتن پانچ طرح کا ہوتا ہے۔
(۱) نون تاکید۔ اس کی دو قسمیں ہیں مفیدہ

اور ثقیلہ۔ یہ دونوں فعل کے ساتھ
مخفص میں جیسے لیکو نون صحت

الصاخرین۔ ولا تحسبن الله
غافلاً۔ ماضی کی تاکید اس سے جائز

نیں، البتہ امر کی تاکید جارتہ ہے اور فعل
مفاد کی تاکید واجب جب کہ جواب
قسم نہ ہو اور لام قسم سے کسی اجنبی کا فاصلہ
نہ ہو اور فعل مثبت مستقل ہو جیسے **نَاثَرْتُ**
لَا كَيْدًا أَصْنَا مَكْرًا اور جب جواب
قسم ہو اور شرط و مذکور نہ پائی جائیں تو
تاکید فتنع ہے اور ان صورتوں کے
ملاوہ میں تاکید و عدم تاکید ہر دور و
بیر، لیکن طلب میں تاکید زیادہ ہوتی ہے
(۲) نون تنوین۔ یہ نون ساکنہ زائدہ اسم
کے آخر میں آتا ہے۔ پڑھا جاتا ہے
لکھا نہیں جاتا جیسے **كِتَابٌ**
(۳) نون تانیث۔ یہ یا تو خفیضہ مفتومہ
ہو تب ہے جو فعل کے ساتھ لاحق ہوتا
ہے جیسے **ضربن و یضربن و**
اضرین اور یہ ضمیر ہے یا وہ مشدودہ
و مفتومہ ہوتا ہے جو مؤنث پر دلالت
کرنے کے لئے ضمیروں کے ساتھ متصل
ہو کر آتا ہے جیسے **عَلَا مَكَنَّ و**
مِنْهُنَّ و ضَرَبْتُهُنَّ۔ اور یہ حرف
ہے۔
(۴) نون وقایہ۔ یہ یا لے و شکم سے پہلے
آتا ہے جیسے **ضَرَبْتَنِي و اَنْتَنِي**
(۵) نون زائدہ۔ یہ بھی وہ قسم کا ہے ایک
وہ جو فعل مضارع کے ساتھ لاحق ہوتا
ہے جب کہ ضمیر تثنیہ کے ساتھ متصل
ہوتا ہے جیسے **يَضْرِبَانِ و تَضْرِبَانِ**
یا ضمیر مؤنث حاضر کے ساتھ متصل
ہو جیسے **تَضْرِبْنِي** یا جمع مذکر کے
ساتھ جیسے **يَضْرِبُونَ و تَضْرِبُونَ**
ان حالات میں مشنی میں مکور ہوتا ہے
اور باقی جگہ مفتوح۔ دوسرا وہ جو اسم
مشنی کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اور
مکور ہوتا ہے جیسے **الزَّيْدَانِ**
اور جمع مذکر کے ساتھ اور مفتوح ہوتا

ہوتا ہے جیسے **الزَّيْدُونَ**۔
نَا۔ ضمیر جمع متکلم ہے اور رفع نصب
جو میں مشترک ہے جیسے **رَبَّنَا اِنْتَا**
سَبْعًا۔
نَاثَرْتُ (رفع) **نَاثَرًا و نَيْثًا**۔ گریہ زاری
کرنے۔ **حَدَرَ نَا اَلنَّاتُ شِير**۔
نَاثَرْتُ (رف) **نَاثَرًا و مَنَاثًا**۔ غم
دور ہونا۔ **ویر گانا**۔ **الرَّجُلُ**
کو سسش کرنا۔
اِنَّا نَشَاءُ اِنَّا نَاثَرًا۔ دور کرنا۔ کہتے ہیں
مَتَى سَعِيًا نَاثَرًا و مَنَاثًا۔
وہ سست چال چلا۔
نَاجَرْتُ (رف) **نَاوُجًا**۔ **فِي الْاَرْضِ** تک
میں جانا۔ **الْاَمْرُ**۔ معاہدہ کر چھ
ڈالنا۔ (ر) **نَوَيْجًا** (إِلَى اللّٰهِ فِي
الدُّعَا و بَرَقَتْ دَعَا خَدَاتَالِي كَيْ
آگے گریہ و زاری کرنا۔ **نَاجَتْ**
الرَّيْحُ۔ ہوا کا تیز ہونا۔ **الرَّيْحُ**
الْمَوْضِعُ۔ ہوا کا تیز گزرنا۔
نَاجَرْتُ (رف من) **نَاجًا و نَوًا**۔ اجماع الثور
بیل کا آواز نکالنا۔
نَجَبًا (س) **نَاجًا**۔ آہستہ کھانا۔
بچہ۔ سخت ہوا گنا۔
النَّاجِيَةُ۔ سخت و تند ہوا جو **نَاجِيَاتُ**
النَّاسِ آج۔ بہت آواز نکالنے والا تیز
رَجِيلٌ نَاَجِيٌ۔ بلند آواز آدمی
النَّجِيْبُ۔ ہوا کی سائیں سائیں کی آواز
رَجِيٌّ نَوُوجٌ۔ تیز چلنے والی ہوا
جو، **نَوَاجِيَةٌ**۔
النَّوُوجُ۔ مفع۔ **حَدِيثٌ مَّنُوُوجٌ**
پھیرہ بات۔
نَاَدَا (رف) **نَاوًا**۔ حد کرنا بصیبت
نازل ہونا۔ زمین کا بہت چپوں والی
ہونا۔
النَّادِي۔ **النَّادِي**۔ **وَالنَّوُودُ** بصیبت

نَاثَرْتُ (رف) **نَاثَرًا**۔ **نَاثَرًا فِي النَّاسِ**
لوگوں میں سہجان ہونا۔
النَّوُودُ۔ کاجل۔ کوموں کا دھواں۔
نَاثَرْتُ (رف) **نَاثَرًا و تَنَاثَرْتُ**۔
الشَّيْءُ۔ پکڑنا۔ گرفت کرنا۔ **الرَّجُلُ**
موت کرنا۔ **الشَّيْءُ** دور کرنا۔ **اللّٰهُ**
زندہ کرنا اور بلند کرنا۔ **الرَّجُلُ** **مِنْ**
مَكَانِهِ جگہ سے اٹھنا۔
نَاثَرْتُ۔ پیچھے رہنا دور ہونا۔
الشَّيْءُ۔ دور سے لینا۔
اِنَّا نَشَاءُ۔ پیچھے رہنا دور ہونا۔
الشَّيْءُ۔ **فَلَمَّا نَا**۔ جلدی میں ڈالنا۔
بغیر۔ بکریوں کے ساتھ کوچ
کرنا۔ **فَلَمَّا نَا**۔ بطنی۔ سمجھنا۔
النَّوُودُ۔ قوی۔ غالب۔
النَّيْثُ۔ دور۔ **فَعَلَهُ نَيْثًا**، اس
نے اس کو آخر میں کر دیا۔ **جَاءَ**
نَيْثًا۔ وہ ویر سے آیا۔ **لِحَقْنَا**
نَيْثًا مِّنَ التَّهَادِ۔ وہ ہم سے دن
کے ختم پر آیا۔
نَاثَرْتُ (رف) **نَاثَرًا فِي الْاَمْرِ**۔ کوشش
کرنا
نَيْتُ (س) **نَاثَرًا مِّنَ الشَّرَابِ**
سیراب ہونا۔ **الرَّجُلُ**، **نَفَرْتُ** کرنا
۔ **الشَّيْءُ**، کھانا۔
نَاثَرْتُ (رف) **نَاثَرًا و نَيْثًا و نَاثَرًا**۔
الرَّجُلُ، گھوڑے کا بل کر چلنا۔
صفت (کمزور) **الرَّجُلُ**، سر
اٹھا کر ہلاتے ہوئے چلنا۔ **فَلَمَّا نَا**
حد کرنا۔
نَاثَرْتُ (رف من) **نَيْثًا**۔ آہستہ رونا۔
آہ بھرنا۔ کمان کا آواز کرنا۔ شیر کا
وہرنا۔
النَّامَةُ۔ آواز بزمہ۔ **شور**۔ **اَسْكَتَ**
اللّٰهُ نَاثَرًا۔ خدا اس کو مار دے۔

رس۔ شراب جہ انبذہ
 المنبذہ - مفرہ - حرام کا پتہ - پتہ جو راستہ
 میں چنک دیا گیا ہو۔
 النبذہ - نبرد جینے والا۔
 المنبذہ - بیکہ - سرانہ جہ منبذہ
 نبذہ - رفا - نبذہ - الغلام رط کے
 کا برصنا - انمعتی - گریے کا
 آواز کو لپست کرنے کے بعد اٹھانا
 - الرجل - ڈانٹنا - جھڑکنا -
 ہلکے پلکانہ - نیت کرتا - الخوف
 خوف پر ہمزہ لگانا - الشیء - بلند کرنا
 - الروح - تیزی سے نیرہ اٹھانا
 انبذہ - الا انبذہ - انبار ہانا۔
 انبذہ - الجرح - زخم کا سوجنا
 الخطیب - خطیب کا منبر پر چڑھنا
 - الجسد - بدن کا متوم ہونا -
 انتبرت سدا - اتریں چھالا
 پڑنا۔
 النبذہ - معوے شرم جلدی سے لگانا
 ہونی ضرب۔
 النبذہ - جھپڑی - ایک قسم کی مکھی۔
 لیت قد - کینہ جہ نبار و انبار
 انبذہ والا نبار - غلہ رکھنے کی
 کو ٹھری جہ اتا یو و اتا یو
 انبارات۔
 النبذہ - اوپر کے ہونٹ کا دمیائی گھما
 ہمزہ - دم - آواز کی بلندی - غلبا
 النبذہ - بڑا لقمہ - جہ نبذہ
 النبذہ - ہنیر۔
 النبذہ - وانا آدمی
 النبذہ - چلانے والا - نصح
 المنبذہ - وہ بلند جگہ جس پر چڑھ کر
 خطیب یا واعظ لوگوں کو خطاب
 کرتا ہے جہ منبذہ

قصائد منبذہ و منبذہ
 ہمزہ کے قافیہ والے قصیدے
 النبذہ اس - لیمپ - چوڑا لالین -
 نیزے کا سرا - دلیر - جرأت والا
 شیر - جہ نکالیں -
 النبذہ لیس - قریب قریب کنزیں
 النبذہ لیس - ہوشیار
 نبذہ (معن) نبذہ او نبذہ - سرا
 لقب دینا - تنبذہ و اہل القبا
 ایک دوسرے کو شرم دلانا - ایک دوسرے
 کو بڑے لقب دینا -
 النبذہ - لقب جہ - انبار
 النبذہ - برا - کینہ -
 النبذہ - بڑے لقب دینے والا۔
 نبش (معن) نبش و نبشہ و
 نبش - بالمجلس - بولنا - اس کا
 استعمال نفی میں زائد ہے جسے کہتے
 ہیں - ما نبش یکلیمہ - وہ ایک کلمہ
 بھی نہیں بولا۔
 السر - جھپٹانا - نبش الرجل
 آدمی نے حرکت کی یا جلدی کی۔
 انبش جلدی کرنا ذلت سے ظاہر
 ہونا - النبش - بولنے والے
 جلدی کرنے والے رجل انبش
 الوحیہ - ترش بد تموری پڑھا لیا
 مؤنث نکسایم نبشہ -
 نبش (معن) نبشہ - الشیء المستور
 ظاہر کرنا - انبذہ من الارض
 دہنیہ کھود کر نکالنا - اور اسی سے
 ہے نبش القذوب - الخیر
 نکالنا - السر - راز افشا کرنا
 عن الاستراہ مجیدوں کو نکال
 لینا - نبش یعیانہ کہنے کے
 لئے کائی کرنا۔
 انبش - الشیء من الارض کھود کر

نکالنا۔
 النبش - ایک قسم کا درخت
 النبشہ - کھردی ہوئی زمین یا کنواں
 النباشہ - قبر کھودنے والا۔
 النباشہ - گورنی کا پیشہ۔
 الا نبوش - کھدا ہوا۔ الا نبوش
 والا نبوشہ - جڑ سے اکھڑا ہوا
 درخت جہ۔ انبا نبش
 انبا نبش العنصل - جنگی پیاز کی جڑیں
 نبش (معن) نبشہ فی المجلس - بولنا
 اس کا استعمال نفی میں زائد ہے جسے
 الشعد بال اکھیرنا۔
 نبش (معن) نبشہ - الظلمہ پزند
 کا آہستہ سے چول چول کرنا۔
 النبشہ - سبزی کی کھوپڑی۔
 النبشہ - کلمہ
 نبش (معن) نبشہ و نبشہ نا۔
 العرق - رگ کا تڑپنا حرکت کرنا۔
 نبضت الماء - انہوں کا
 مضطرب ہونا - نبض البرق
 بجلی کا تھکے سے چمکنا (نبضہ الشعر
 بال اکھیرنا۔
 نبض (معن) نبضہ - الماء - پانی
 کا بہنا یا جذب ہونا۔
 نبض فی القوس و انبض القوس
 و عن القوس و فی القوس۔
 آواز نکلنے کے لئے کان کی تانت
 کو کھینچنا۔
 النبض و النبض دل اور شرمان
 کی حرکت و تڑپ جس سے بدن کی
 صحت و بیماری کا پتہ لگایا جاتا ہے
 جہ انباش - النبضہ۔
 نبض کی ایک ضرب۔
 فواد نبض و نبضہ و نبضہ
 ہوشیار - دل جو غش والاول۔

النَّائِبُ - فَا تَبْرَأُ نَدَا - طَبَا - تَبَعُ
 نَابِضَةٌ - اس کا غصہ بھروک گیا۔
 الْمُنْبِضُ - وہ جگہ جہاں طبیب ہاتھ
 رکھ کر نبض کی حالت دریافت کرتا
 ہے جہ منابض۔
 نَبَطْرُنْ (من) نَبَطًا وَ نَبُوطًا - الماء
 پانی کا پھیوٹ نکلنا۔
 نَبَطْرُنْ (من) نَبَطًا وَ نَبَطًا وَ نَبَطًا
 وَ تَبَطُّ وَ اسْتَبَطُّ - الْبُرُ:
 کنویں سے پانی نکالنا۔ نَبَطًا وَ
 انْبَطَّ وَ اسْتَبَطَّ - الشَّيْ:
 پرشیدگی کے بعد ظاہر کرنا۔ انْبَطَّ
 الْحُكْمُ - اجتهاد سے نکالنا۔
 انْبَطَّ فِيهِ اَثْرُكَرَا - اسْتَبَطَّهُ
 ایجاد کرنا اسْتَبَطَّ الْفَقِيهُ:
 فقیہ کا اپنی فہم سے کوئی بات نکالنا
 اسْتَبَطَّ الْعَدُوَّ - بھٹی ہوتا
 تَبَطُّ - نبطیوں کے مشابہ ہونا یا ان
 کی طرف منسوب ہونا۔
 انْتَبَطَّ - الْكَلَامُ - اپنے اجتہاد
 سے بات نکالنا۔
 النَّبَطُ - کنویں کا پہلا پانی "فَلَانٌ قَرِيْبٌ"
 الشَّرِيْبُ بَيْنَهُ النَّبَطُ - یہ اس کے
 لئے کہا جاتا ہے جو وعدہ کرے مگر انفا
 نہ کرے۔ جہ: انْبَطَاطٌ وَ نَبُوطٌ
 آدمی کی اندرونی حالت۔ کہتے ہیں
 لَا يُدَارِكُ نَبَطًا - اس کی اندرونی
 حالت ابراہیم کے علم کی تہ نہیں ملتی
 گھوڑے کی بٹل اور پیٹ کی
 سفیدی
 النَّبَطُ - مخلوط لوگ جیسی لوگ جو
 عراقین کے درمیان آباد ہوئے
 تھے جہ انْبَطَاطٌ وَ نَبِيطٌ -
 نَبِيطٌ وَ نَبَاطِيٌّ - منسوب بہ نبط۔
 كَلِمَةٌ نَبَطِيَّةٌ - نام کلمہ۔

الْاَنْبِطُ - مِنَ الْخَيْلِ - وہ گھوڑا جس
 کے پیٹ اور بٹل کے نیچے سفیدی
 ہو۔ مَوْتٌ نَبَطَاءٌ جہ نَبَطُ -
 نَبَعْرَنْ، وَ نَبَعْرَسَ، وَ نَبَعْرَكَ
 نَبَعًا وَ نَبُوعًا وَ نَبَعَانًا - الماء
 پانی کا تھوڑا تھوڑا نکلنا۔
 النَّبْعُ معہ۔ ایک قسم کا درخت
 جس سے تیرکان بنائے جاتے
 ہیں۔ قَرَعُوا النَّبْعَ بِالنَّبْعِ
 انھوں نے ایک دوسرے سے نیزہ
 بازی کی "مَا رَأَيْتُ كَصَلْبٍ
 مِنْهُ نَبَعًا" میں نے اس سے
 زیادہ سخت کسی کو نہیں دیکھا۔ پانی
 کا چشمہ جس شخص میں جو دت رائے
 ہو اس کے لئے کہتے ہیں كُوْا قَدَمًا
 بِالنَّبْعِ لَأُوْرِي نَارًا -
 النَّبْعَةُ - انْبَعٌ کا واحد۔ کمان
 کو بھی کہتے ہیں۔ اصلیت۔ ہو
 مِنْ نَبْعَةٍ كَوَيْمَةٍ - وہ شریف
 الاصل ہے۔
 النَّبَاعَةُ - مَوْتٌ النَّبَاعُ جہ:
 كَوَايِعُ - كَوَايِعُ الْبَعْدِي -
 ادٹ کے سپینہ والے اعضاء
 التَّبِيْعُ - پسینہ۔
 النَّبَاعَةُ - حِوْرٌ بِسِجِّ كِي زَمِ حِنْدِيَا
 تا کو سخت ہونے پر اس کا نام
 "يَا حُوْرُ" ہوتا ہے۔
 الْمَتْبَعُ - چشمہ۔ جہ مَنَابِعُ -
 الْيَنْبُوعُ - چشمہ بہت پانی والا
 نالا۔ ندی جہ يَنْبِيْعٌ -
 نَبَعٌ - رَفْنٌ (من) نَبَعًا وَ نَبُوعًا
 الشَّيْءُ نَبَعًا - ظاہر ہوتا۔
 الماءُ پانی کا چشمہ سے نکلنا۔
 الوَعَارُ بِالذَّقِيْقِ جَهْنًا -
 الشَّيْءُ جَهْنًا ظاہر ہونا۔

رَأْسًا سِرِّيًّا جَوِيًّا هَوْنًا - الرَّجُلُ
 اچھے شعر کہنا۔ فِي الْعِلْمِ وَفِيهِ
 نَائِبٌ هَوْنًا - فِي الدُّنْيَا - اساتذ کی
 زندگی گزارنا۔
 انْبَعٌ - الْبَيْدُ - شہر میں بہت آنا جانا۔
 - انْ تَعْلُ - اُتَا جَانَا -
 النَّبْعُ وَ النَّبَاعُ - بچی کا بخار
 نَبْعَةُ الْقَوْمِ - قوم کے برگزیدہ لوگ
 النَّبِيعَةُ - جہ نَوَابِغُ - فصیح خوش بیان
 بڑی شان والا۔
 النَّوَابِغُ - اُتَا مَشْهُرٌ شَاعِرُونَ كَالْقَبِ
 نسبت کے لئے نَابِغِي -
 النَّبِيعَةُ - كَلِمَةٌ فَصِيحٌ
 النَّبِيعُ - بڑی شان والا جہ نَبِيعًا
 النَّبَاعُ وَ النَّبَاعُ وَ النَّبَاعَةُ
 وَ النَّبَاعَةُ - اُتَا - سِرِّيًّا جَوِيًّا
 نَبِيعٌ - (ن) نَبِيعًا - الشَّيْءُ نَبِيعًا -
 ظاہر ہونا۔ الرَّجُلُ نَبِيعٌ -
 نَبِيعٌ - الشَّيْءُ أَوْ الرَّجُلُ نَبِيعٌ -
 اَلْكِتَابَةُ - کتاب پر ترتیب دار
 کیریں کھینچنا۔ الشَّجْرُ وَ دَفْنُ
 کو ترتیب وار لگانا۔ الشَّجْرُ
 خراب ہونا اور کھجوروں کا بیروں
 کی طرح چھوٹا ہونا۔
 نَبِيعٌ وَ نَبِيعٌ وَ انْبِيعٌ - وادی میں
 ایک قطار پودا لگانا۔
 انْتَبِيعُ الْكَلَامُ - کلام نکالنا۔
 النَّبِيعُ - معہ بیٹھا آنا جو کھجور کے
 گروے سے بنایا جاتا ہے۔
 النَّبِيعُ وَ النَّبِيعُ وَ النَّبِيعُ وَ
 النَّبِيعُ - بیری کا بھل و احد نَبِيعَةٌ
 النَّبِيعَةُ - انگر کے خوشے نکلنے کی جگہ
 میں گرہ۔ جہ نَبِيعِيٌّ -
 نَبِيعٌ (ن) نَبِيعًا وَ انْتَبِيعٌ -
 المكان - جگہ کا بلند ہونا۔

النَّابِئُ - بلند جگہ ج۔ نوایب
النَّبِيَّةُ وَ النَّبِيَّةُ - چوٹی مارٹیل
یا چھوٹا ٹیل ج۔ نَبِيَّةٌ وَ نَبِيَّةٌ وَ
نَبَاكٌ وَ نَبُوْكٌ - النَّبِيَّةُ -
درخت کی جگہ۔

نَبَلٌ دَن، نَبَلًا - الرَّجُلُ - تیرانا
یا تیرو دنیا - بِالطَّعَامِ - تھوڑا تھوڑا
دے کر بھلانا - مَشغُولٌ رُكْنَا -
الرَّجُلُ، آدی کا تیر چلنا - الْإِبِلُ
اُونٹ کو تیرنا - شرافت و
سجابت میں غالب آنا - یہ نرمی
برتنا - عَلَى الْقَوْمِ - تیر چلنا -

نَبَلٌ دَن، نَبَالَةٌ - شریف و سنجیب ہونا
صفت نَبَلٌ وَ نَبِيْلٌ - مَوْنَت
نَبَلَةٌ وَ نَبِيْلَةٌ - ج نِبَالٌ وَ
نِبَائِلٌ وَ نَبَلَاتٌ وَ نَبِيْلَاتٌ
نَبَلٌ - الرَّجُلُ - تیرو دنیا -

أَنْبَلَةٌ - تیرو دنیا - أَنْبَلُ الْقِدَاحِ
خواب موٹے تیرنا - الْفَخْلُ - پکی
مہنی کھجوروں والی ہونا -
نَابِكُمْ مَنَابِكَةً - شرافت و سجابت میں
غالب آنا -

تَنْبِيْلٌ - سمجھا ہونا - صاحب شرافت
ہونا - مَرَجَانَا - شرفا کے مانند ہونا -

عادت کا بڑا ہونا
تَنَابُلٌ - الْقَوْمُ، ایک دوسرے سے
تیر اندازی یا تیر نمانے میں مقابلہ کرنا -
أَنْبَلٌ - مَرَجَانَا - قَلَانَا - قتل کرنا -
الْمَخْطَبُ - عادت کا بڑا ہونا -

بَلَاغٌ - آگاہ ہونا - تیار ہونا - الشَّيْءُ
بیک بھرتی سے اُٹھالینا -
اِسْتَبِيْلٌ - تیرا گنا - سال سے عمدہ جگہ
لینا -

النَّبِيْلُ - مہر - تیر - واحد نَبِيْلَةٌ - ج:
نِبَالٌ وَ أَنْبَالٌ وَ نَبَلَانٌ -

قَبْلُ الذَّمِّ - عادت و مانہ
النَّبِيْلُ - زکاوٹ، سجات - شرافت،
فضیلت - کمال جسم -

النَّبِيْلُ وَ النَّبِيْلُ - بڑے یا چھوٹے
پتھر - واحد نَبِيْلَةٌ وَ نَبِيْلَةٌ
رَجُلٌ نَبِيْلٌ - شریف آدمی مَوْنَت
نَبِيْلَةٌ -

النَّبِيْلَةُ - عطیہ، ثواب و جزا - چھوٹا
لہر - نَبِيْلَةٌ كَلَّ شَيْءٌ - ہر شے
کا عمدہ حصہ - ج نَبَلَاتٌ -

النَّبَالَةُ - مہر - زکاوٹ - سجات و
شرافت - فضیلت -

النَّبَالَةُ - تیر سازی
النَّبَالَةُ - تیار
النَّبِيْلُ وَ النَّبِيْلُ - صاحب سجات
و فضیلت - الْكَبِيْلُ - بڑے جسم
والا - ج نِبَالٌ -

النَّبِيْلَةُ - مرواز - ج نَبَائِلٌ -
النَّبَائِلُ - ج نَبَلٌ وَ نَبِيْلٌ وَ النَّبَالُ
ج نَبَالَةٌ - تیر والا - تیر ساز -

تیر انداز - ماہر تیر انداز - جب کوئی
معاذ گرو بڑ ہو جائے تو کہتے ہیں -

اِخْتَلَطَ الْحَائِلُ بِالنَّبَائِلِ -
الْأَفْيَلُ - تیر اندازی میں زیادہ ماہر
النَّبَالُ وَ النَّبَالَةُ - پست قد -

سست -

نَبِيْلَةٌ دَسٌ - نَبِيْلَةٌ - بَلَاغٌ - سمجھا جانا -

نَبِيْلَةٌ دَسٌ، نَبِيْلَةٌ - مین تو مہر نیند سے
جاگنا -

نَبِيْلَةٌ دَسٌ، وَ نَبِيْلَةٌ دَسٌ (دَسٌ)
نَبَاكَةً - شریف ہونا - مشہور ہونا
صفت (کتاب) دَسٌ وَ نَبِيْلَةٌ وَ نَبِيْلَةٌ
وَ نَبِيْلَةٌ -

نَبِيْلَةٌ - مین تو مہر - نیند سے جاگنا -
بیدار کرنا - عَلَى أَوَّلِي الْأَمْرِ -

واقف کرنا - آگاہ کرنا - نَبِيْلَةٌ
بِأَسْمِهِ - اس نے اس کے نام کو مشہور
کیا -

أَنْبِيَا - الْحَاجَةُ - بھول جانا -
مِنَ الْقَوْمِ - جگانا -

تَنْبِيَا - مین تو مہر - نیند سے بیدار ہونا
- عَلَى أَوَّلِي الْأَمْرِ - واقف ہونا سمجھنا

اِسْتَنْبَاهُ - مین تو مہر - بیدار ہونا -
النَّبِيْلَةُ - دانائی - سمجھ -

النَّبِيْلَةُ - مہر - کھوئی ہوئی چیز جو بغیر
تلاش کے مل جائے - موجودہ چیز مشہور

النَّبَاهَةُ - شرافت - سمجھ - شہرت -
النَّبَاهَةُ وَ النَّبِيْلَةُ وَ النَّبِيْلَةُ
شرفین - سمجھ دار - شرافت والا

شہرت والا - ج نَبَاهَةٌ
بِأَسْمِهِ - نیند سے جاگنا -

النَّبَاهَةُ - بلند نمایاں -
النَّبِيْلَةُ - یاد کرانے کا ذریعہ

نَبَا يَنْبُو نَبْوَةً وَ نَبُوًّا وَ نَبِيًّا -
نَبْوَةٌ - نظر دھندلی ہونا - صفت

(ناب) الشَّيْءُ - دُور ہونا پیچھے ہونا
اپنی جگہ قرار نہ پکڑنا (نَبُوًّا وَ نَبْوَةً)
المسيف عن الضروب - مفروب

سے تلوار کا اچھٹ جانا اور کاٹ نہ
کرنا - جَنْبِيَةٌ - عَنِ الْفَرَاغِ

بستر پر بے چین رہے آرام ہونا -
النَّبِيْلَةُ عَنِ الْهَدَايَةِ تیر کا نشانی
سے چوک جانا - الْطَّبْعُ عَنِ الشَّيْءِ

نفرت کرنا - عَنِ الشَّيْءِ مُرَدًّا لِي هُوَ
بِي فُلَانٍ - ظلم کرنا - کہتے ہیں -

كَبِتَ بِي مِلْكُ الْأَرْضِ - مجھے یہ
زمین موافق نہ ہوئی - أَلْمَكَانُ بُلْدَانٌ
کسی جگہ کا موافق نہ آنا - عَلَيْهِ الْأَمْرُ

او صاحب سجات - کھرانہ ہونا - صاف
نہ ہونا -

اَسْبَى - السبب - تلوار کو کھینا۔
 اَلنَّبْوَةُ - مم - نبوة الزمان زمانہ
 کی سختی (والتبأوة) بند زمین
 اَلنَّبَاؤَةُ - شرافت و ریاست کی
 طلب - اگے بڑھنا۔
 اَلنَّبِيُّ - بندہ۔
 اَلنَّبِيُّ - جو کہنے والی تلوار یا تیر - موٹا
 رداۃ میں پشت دینے والا۔
 اَلنَّبِيَّةُ مَرْثُ النَّبِيِّ - کسی ہوئی
 کمان۔
 نَتَّتْ رَمًا نَيْتًا - القدر - ہانڈی کا
 ابلنا۔
 نَتَّ (ن) نَتًّا و نَيْتًا - مُنْخَرَجًا
 غصہ سے نکلنے پھلانا۔
 نَتَّتَ - اَلْخَبْرُ - خبر بیان کرنا۔
 مَتَّتَ - اَلرَّجُلُ - صفائی کے بعد
 گندہ ہونا۔
 اَلنُّتَّةُ - چھوٹا سا گڑھا جس میں پانی
 جمع ہو۔
 نَتَّارٌ (ن) نَتًّا و نَتْوًا - اَلشَّيْءُ اِسْتِ
 جگہ سے ہٹا کر جدا ہونا۔ بند
 ہونا۔ چھوٹا۔ اَلْفُرْحَةُ - زخم کا
 متورم ہونا۔ اَلتَّدِيُّ بِنَابِلٍ
 کا اُ بھرنے۔ اَلجَارِيَةُ اَلرُّوْكِي كَا
 بَالِغٌ هَوْنًا - عَلَى اَلْقَوْمِ - ظاہر ہونا۔
 اَنْتَتَا - مَقَابِلُهُ كَرْنَا - بند ہونا۔
 اَلنَّاقِيُّ - نا۔ ہر بھری ہوئی بند چیز
 اَلنُّوْرُ - مَعْرُ - (و اَلنَّشَأُ) فَيْلٌ
 نَتَّجَ (ن) نَتَّجًا - اَلْمَاخِي مَعِ
 اَلْمَهَائِمِ - جاقہ کے چنے میں اُس کی
 غیر گہری کرنا۔ صفت (ناتجہ)
 جالود مَسْجُوجَةٌ - بَجْرٌ كَيْتِيَّةٌ
 نَتَّجَ - اَلشَّيْءُ مَعِ اَلشَّيْءِ نَتَّجَ
 نکلنا۔
 نَتَّجَتْ و مَتَّجَتْ نَتَّجًا و اَنْتَجَتْ

اَلْبَهِيْمَةُ وَاَلدَّاءُ - بچہ ہونا۔
 مَتَّجَ - اَلْوَلَدُ - بچہ کا جنما جانا۔
 نَتَّجَتْ اَلْوَيْجُ اَلتَّحَابُ ہوا
 نے بادل سے بارش برسانی۔
 نَتَّجَ اَلْقَوْمُ - قوم کی مورثی کا جنما
 نَتَّجَ مَعِي نَتَّجَ -
 اَنْتَجَ - اَلْقَوْمُ - حاملہ واول والا ہونا
 اَنْتَجَتْ اَلْبَهِيْمَةُ - چنے کے قریب ہونا
 صفت (نَسُوْجٌ)
 نَتَّجَتْ اَلْبَهِيْمَةُ - چنے کی حالت
 میں ہونا۔
 اَنْتَجَتْ و نَتَّجَتْ - اَلْوَالِدُ
 بچہ دینا۔ چینا۔
 اَسْتَنْتَجَ - بچہ جنمانا۔ نتیجہ نکالنا۔
 اَلنِّتَّاجُ - جادوؤں کے بچہ چنے کی
 حالت۔ اَلنَّاقَةُ نِتَّاجٌ -
 اونٹنی حاملہ ہے۔
 اَلنَّتِيْحَةُ - بچہ۔ نتیجہ ج نتائج
 - عَنَّمُ فُلَانٌ نَتَّجًا - فُلَانٌ
 کی بکریاں ایک ہی عمر کی ہیں۔
 اَلنَّاقَةُ - نا۔ جاننے والا۔
 اَلنُّوْجُ - چنے کے قریب جانور
 اَلنَّتِيْحُ - بچہ چنے کا وقت
 اَلنَّتِيْحَةُ - جانور کی دُور
 نَتَّجَ (ن) نَتَّجًا و نَتَّجًا - اَلرُّوْكِي
 بدن سے پسینہ نکلنا۔ اَلدَّاسِمُ مِمَّنْ
 اَلْوَالِدُ - بچائی کا برتن سے رسنا
 نَتَّجَهُ اَلْحَدُّ - گرمی کا پسینہ لانا۔ پسینہ
 نکالنا۔
 اَسْتَنْتَجَ - اَلشَّيْءُ اَكْبَرًا
 اَلنَّتْمُ مِمَّ - پسینہ۔
 اَلنُّوْجُ مَعْرُ - درخت کا گوند ذی نَتَّاجٌ
 رسنے اور چکنے والی مشک۔
 اَلنَّتْمُ - مہم کے مہم
 اَلنَّتْمَةُ - مہم

نَتَّجَ نَتَّجًا (ن) اَلشَّيْءُ - نکلنا۔ اکھیرنا
 - نَتَّجَ اَلْقَلَامُ اَلْقَرْمِ - دانت
 اکھیرنے والے دانت اکھیر لی۔
 نَتَّجَهُ اَلْمُنِيَّةُ مِمَّنْ يَأْتِي قَوْمَهُ
 موت نے اس کو قوم میں سے نکال لیا۔
 نَتَّجَ اَلْبَاذِي اَللَّحْمُ - باز کا چنے
 سے گوشت لے اڑنا۔ اِلَيْهِ يَبْصُرُهُ
 دیکھنا۔ اَلتَّوْبُ بِالذَّهَبِ - سونے
 کے تاروں سے کپڑا بننا۔ فُلَانًا
 ذلیل کرنا۔ نَتَّجَا و نَتَّجَ - بِالْمَكَانِ
 اقامت کرنا۔
 اَلْمُنْتَاخُ - زبور۔ مریخا۔ چھا۔
 نَتَّوْرٌ (ن) نَتَّوْرًا - اَلشَّيْءُ زُوْرًا
 کھینچنا۔ اُچک لینا۔ اَلنُّوْسُ اَمَانٌ
 کھینچنا۔ اَلشَّوْبُ بِالْاَصَابِعِ اَوْ
 اَلْاَصْرَاسِ - کپڑے کو انگلیوں یا دانتوں
 سے پھاڑنا۔ کڑے کڑے کرنا۔ اَلكَلَامُ
 سخت کلامی کرنا۔ اَلنُّوْفُحُ - نیرہ
 نور سے مارتا۔
 نَتَّوْرٌ (ن) نَتَّوْرًا - اَلشَّيْءُ خَرَابٌ مَالِعٌ
 ہونا۔
 اَسْتَوْرَ - کھینچنا۔
 اَلنُّوْرُ - مَعْرُ - کزورہ۔ سستی۔ سختی
 اَلنُّوْرَةُ - پار گزرنے والی ضرب۔
 ج نَتَّوْرَاتُ -
 اَلنَّائِيْرَةُ - ج: كَوَالِيْمٌ - تانت لڑائی
 ہوئی کمان۔
 نَتَّشَ (ن) نَتَّشًا - اَلشُّوْكَةُ و كَيْفَا
 کاٹنا وغیرہ نکالنا۔ اَلْمَشْعُوقُ -
 بال اکھیرنا۔ نوحا۔ اَلجَبَلُ اَلْاَرْضِ
 مڈی کا سبزی کھا جانا۔ اَلرَّجُلُ لِيَا لِيَه
 اہل و عیال کے لئے کمانا۔ اَلْبَعْصَا
 لاشی مارنا۔ اَلْحَبْرُ يُوْجِدُ - پتھر
 کو پاؤں سے ہٹانا۔
 نَتَّشَ (ن) نَتَّشًا و تَمَّتَا شًا -

شروع کا اثر اوریت میں دہایا جاتا ہے۔

النَّبَاتُ - وسیلہ - قرابت
نَتْنٌ رَمْنٌ (س) نَتْنٌ وَنَتْنٌ
(ک) نَتَانَةٌ وَنَتُونَةٌ وَنَتَانٌ
بدبودار ہونا صفت (نَتْنٌ وَنَتْنٌ
وَمُنْتِنٌ وَنَتْنٌ - مؤنث کَتْنٌ
مُنْتِنٌ -

نَتْنٌ - الشیء - بدبودار کرنا۔

النَّبَاتُونَ - ایک بدبودار درخت۔

النَّبَاتِيْنَ - بدبودار جہ، مناتین۔

النَّبَاتِيْنَ - بدبودکی جگہیں واحد - مَنَاتِنٌ
نَتَانٌ يَكْتُو نَتُونًا - العنقور - حنظل کا مزم

ہونا - سوچنا - صفت نَاتٍ

النَّبَاتِيْنَ - پچھے ہٹنا - شکل

سیرت میں موافق ہونا۔

نَتْنِيْ - عکس - حملہ کرنا۔

النَّبَاتِيْنَ - استنسیا - پھنسی چھوڑنا

نَتْنٌ رَمْنٌ (س) نَتْنٌ وَنَتْنٌ - الزق

مٹھکا کر سنا - الرجلی - آدمی کا

مڑا لے کی وجہ سے پسینہ دار ہونا۔

النَّبَاتِيْنَ - پڑی سے چربی ہنا۔

نَتْنٌ العنقور الاخباز - ایک دوسرے

کر خیر جاننا۔

النَّبَاتِيْنَ - نناک دیوار

النَّبَاتِيْنَ - زخم پر لٹنے کا تیل۔

النَّبَاتِيْنَ - مشک سے بھکا ہوا۔

النَّبَاتِيْنَ وَالنَّبَاتِيْنَ - بات یا راز کو

بہت پھیلانے والا۔

النَّبَاتِيْنَ - غیبت کرنے والے - واحد

(نَاتٍ)

النَّبَاتِيْنَ - اون کا ٹکڑا جس کے ساتھ زخم

پر تیل لگایا جاتا ہے۔ جہ منات و

منات۔

نَتْنٌ رَمْنٌ نَتْنٌ - بطنہ بالسکین۔

النَّبَاتِيْنَ - دارمی زچنے کا شو قین۔

النَّبَاتِيْنَ - مرچا۔

نَتْنٌ رَمْنٌ (س) نَتْنٌ - الْجَرَاحُ - مرض

دان جھاڑنا - العجلد - کھال کھینچنا

النَّبَاتِيْنَ - پھاڑنا - ہلانا - بلذکرنا۔

پھیلاتا - نَتْنٌ الْمَرْأَةُ أَوْ

النَّبَاتِيْنَ - عورت یا اونسی کا بہت

اولاد و بچہ والی ہونا - صفت رَمْنٌ نَتْنٌ

وَمُنْتِنٌ عوام نَتْنٌ وَنَتْنٌ؟

تے کو کہتے ہیں۔

نَتْنٌ رَمْنٌ (س) نَتْنٌ رَمْنٌ - مڑا ہونا۔

نَتْنٌ رَمْنٌ (س) نَتْنٌ رَمْنٌ -

الدَّابَّةُ رَاكِبًا وَبِرَاكِبًا

جالر کا اپنے سوار کو تھکا دینا۔

النَّبَاتِيْنَ - ترشہ دان جھاڑنا - دوسرے کے

مکان کے سامنے مکان بنانا - بہت

اولاد والی عورت سے شادی کرنا

النَّبَاتِيْنَ الشَّيْءُ - کھنچ جانا - الجواب

ترشہ دان کا بھڑانا۔

النَّبَاتِيْنَ - نا - آگ نکالنے والا - چھماق

اپنے سوار کو تھکانے والا جانور۔

نَتْنٌ رَمْنٌ (س) نَتْنٌ رَمْنٌ - الشیء - آگے کی

طرف کھینچنا - فلاتا - جھڑکنا۔

الجواب - تھیلہ کو جھاڑنا - عالی

کرنا - نَتْنٌ رَمْنٌ نَتْنٌ رَمْنٌ (س) نَتْنٌ رَمْنٌ

من بین اصحابہ - ساتھیوں سے آگے

بڑا جانا۔

النَّبَاتِيْنَ - سبقت کرنا۔

نَتْنٌ نَتْنٌ - النبت - نباتات کا گنجان

ہونا - اور بعض کا بعض سے بڑا ہونا

النَّبَاتِيْنَ - من بین اصحابہ پیش قدمی

کرنا - لَافِزٌ كَامٌ کے لئے تیار ہونا

النَّبَاتِيْنَ - النبت - پانی سے بھرا ہوا

الرجل - بدگئی کرنا۔

النَّبَاتِيْنَ - النبات - نبات کا شروع

شروع چھوڑنا - النوب - کھڑا

پڑانا ہونا۔

النَّبَاتِيْنَ - شروع آگاہا سبزہ - ناخن

کے بڑکی سفیدی۔

النَّبَاتِيْنَ - موزا۔

نَتْنٌ تَيْشٌ الدَّيْنِ - قرع کا بقایا۔

نَتْنٌ رَمْنٌ نَتْنٌ رَمْنٌ - لہجہ بھاری

تے کھال کا کھلے دار ہونا۔

نَتْنٌ رَمْنٌ (س) نَتْنٌ رَمْنٌ - الدَّمُ مِنَ

الْجَذْرِ أَوْ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ -

خون کا زخم سے پانی کا چشمہ سے تھوڑا

نکلا - صفت - نَتْنٌ رَمْنٌ -

النَّبَاتِيْنَ - الرجل - بہت پسینہ آنا۔

النَّبَاتِيْنَ - بہت تے ہونا۔

نَتْنٌ رَمْنٌ (س) الرجل عیب لگانا۔

نیت کرنا۔

النَّبَاتِيْنَ - نسی اوانا - نیت کرنا

النَّبَاتِيْنَ - نیت کرنے کا مادی۔

نَتْنٌ رَمْنٌ (س) نَتْنٌ رَمْنٌ وَنَتْنٌ رَمْنٌ

النَّبَاتِيْنَ أَوْ الشَّيْءُ وَنَتْنٌ رَمْنٌ -

بالدبر و غیرہ کھینچنا - نَتْنٌ رَمْنٌ

فی القوس - آہستہ کھینچنا۔

النَّبَاتِيْنَ - الكلاء گھاس کا کھینچنے جانے

کے قابل ہونا۔

النَّبَاتِيْنَ وَنَتْنٌ رَمْنٌ وَنَتْنٌ رَمْنٌ -

النَّبَاتِيْنَ أَوْ الرِّيشُ - بال پر کھینچنا

النَّبَاتِيْنَ - کھینچی ہوئی گھاس و غیرہ۔

جہ نَتْنٌ رَمْنٌ -

النَّبَاتِيْنَ - تھوڑا تھوڑا علم و غیرہ کھینچنا

ہوا - سطحی آدمی

النَّبَاتِيْنَ وَالنَّبَاتِيْنَ - کھینچنے سے

گسے ہوئے بال و غیرہ۔

النَّبَاتِيْنَ وَالنَّبَاتِيْنَ - بال کھینچنا

پیٹ بھاڑنا۔ صافی بطنہ۔ تازہ
 کو خالی کرنا۔
 اسْتَنْجَحَ - أَحَدًا أَعْدَائِيْنِ بِصِيْلٍ طَنَا
 الَنْجَحَ - نامبارک بزدل۔
 الْمَنْشُجَةُ - سُورِن۔
 نَشَدَا (ر) كَتُوْدَا - الرَّجُلُ اِطْمَرْنَا
 الْكَمَاةُ - سائب کی چھتری کا لگانا۔
 نَشَرْنَا (ر) نَشْرًا وَنَشْرًا - الشَّيْءُ
 بکھیرنا۔ بھڑکانا۔ نثر میں کلام کرنا۔
 - الدَّرْعُ عَنْهُ - زرہ کو اتار دینا
 کہتے ہیں نَشَرَتِ الْمَرْأَةُ بَطْنَهَا
 عورت کے بہت بچے ہوئے۔
 نَشَرْتُ - (ر) نَشْرًا - السَّادَةُ
 جانور کا چھینکنا۔
 اَنْشَرَ - ناک بھاڑنا۔ ناک کے بل
 گرانے۔
 نَشَرَا - الشَّيْءُ بِبَكْمِيرِنَا -
 تَنْشَرُوْا تَنْشَرُوْا وَانْتَشَرَا الشَّيْءُ
 بکھیرنا۔ تَنَاثَرَا الْقَوْمُ - قوم کے
 لوگ بیمار ہوئے اور مرے۔
 اَنْتَشَرُوْا اَسْتَنْشَرُوْا - ناک میں پانی ڈال
 کر اس کو بھاڑنا۔
 اَلَنْتَرُ - نثر۔ غیر منظوم۔
 اَلنَّشْرَةُ - کلام نثر کا ایک ٹکڑا۔
 نثما اور اس کا رواج۔ چھینک۔
 کشادہ زرہ۔ دونوں طرف سر پھریں
 کے درمیان کا گڑھا۔
 النَّشْرُ وَالْمَنْشَرُ وَالنَّشْرَانُ
 باقوی۔ راز افشا کرنے والا۔ رَجُلٌ
 نَشْرٌ وَرَأْمٌ أَوْ نَشْرٌ بِهَيْتِ اَوْلَادِ
 والامرد یا بہت اولاد والی عورت۔
 النَّشْرُ - بکھرا ہوا۔
 اَلنَّشْرَةُ وَالنَّشْرُ وَالنَّشْرُ - بکھری
 ہوئی چیزیں۔
 اَلنَّشْرُ - روپیہ پھیل وغیرہ جو عورت

یا شادی میں بکھیرا جاتا ہے۔
 اَلنَّشْرُ - فا۔ نثر کہنے والا۔ یا بولنے والا
 وہ بکھور کا درخت جو کئی بکھوریں گرائے۔
 اَلْمَنْشَرُ - مغم۔ ناکارہ۔ کمزور آدمی۔
 اَلْمَنْشَرُ - بکھور کا درخت جو کئی بکھوریں گرائے
 اَلْمَنْشَرُ - مغم۔ مِنَ الْكَلَامِ - نثر غیر
 منظوم۔ ایک تیز خوشبو کا پودا۔
 نَشَطَةٌ (ر) نَشَطًا - خاموش کرنے کے لئے
 زمین پر دبانا۔ فَلَا نَا - بوجھل کرنا۔
 اَلْكَمَاةُ - سائب کی چھتر کا زمین سے
 نکلنا۔ نَشَطًا وَنَشَطًا اسکن ہونا
 ستر اربانا۔
 نَشَطَةٌ - خاموش کرنا۔ ٹھنڈا کرنا۔
 آرام دینا۔
 اَنْتَحَ - بہت بگڑنا۔ اَلْعَيْشُ اَوْ الدَّامُ
 قے یا خون کا نکلنا۔
 نَشَلَّ (ر) نَشَلًا - اَلْعَرْسُ وَكُلُّ ذِي
 خَافِرٍ - ہم والے جانور کا لید کرنا۔
 نَشَلَّ (ر) صلی) وَ اِنْشَلَّ - اَلْبَيْتُ
 کوزی سے مٹی نکلنا۔ اَلْجَرَابُ -
 توشہ دان بھاڑنا۔ خالی کرنا۔
 اَلْكَنَافَةُ - ترکش کو تیروں سے خالی کرنا
 اور بکھیرنا۔ نَشَلَّ الدَّرْعُ عَنْهُ - زرہ
 کو اتارنا۔ چھینکنا۔ اَللَّحْمُ فِي الْقَدْرِ
 گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹیڑی
 میں ڈالنا۔ عَلَى قَلَابٍ وَ ذَعَا - زرہ
 پہنانا۔
 اَنْشَلَّ - اَلْبَيْتُ - کوزی کی مٹی نکلنا۔
 تَنَاشَلَّ الْقَوْمُ - اکٹھے ٹوٹ پڑنا
 اَسْتَنْشَلَّ - اَلْكَنَافَةُ - ترکش سے تیروں
 کو نکال کر بکھیرنا۔
 اَلنَّشَلُّ - کھودا ہوا۔
 اَلنَّشَلَةُ - کشادہ زرہ۔ سر پھریں کے
 درمیان کا گڑھا۔
 اَلنَّشِيلُ - لید۔

اَلنَّشَاةُ وَالنَّشِيْدَةُ - کوزی سے نکالی
 ہوئی مٹی۔ بقیہ۔ مونا گوشت۔
 اَلْمَنْشَلَةُ - زنبیل۔
 كَثَمَ (ر) نَشَامًا وَ اَنْتَمَ - فَمَشَ بِنَا
 نَشَا يَنْشُوْا نَشْوًا - الْحَدِيْثُ - بات
 پھیلانا۔ الشَّيْءُ - متفرق کرنا۔
 فَلَا نَا - غیبت کرنا۔ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
 کسی کی طرف سے بات کی خبر دینا۔
 تَنَاثَرَا - الْقَوْمُ الْحَدِيْثُ - ایک دوسرے
 کو بات یاد کرانا۔
 اَلنَّثَاةُ - فا۔ غیبت کرنے والا۔
 اَلنَّشْوَةُ - لوگوں کی عیب جوئی۔
 اَلنَّشَا - کسی کے بارے میں اچھی یا بُری
 خبر۔
 نَشِيْ نَشِيْ نَشِيًْا - اَلْخَبْرُ - خبر بیان کرنا
 پھیلانا۔
 اَنْشَى - مِنَ الشَّيْءِ - ناک چڑھانا۔
 فَلَا نَا - غیبت کرنا۔
 نَجَّ (ر) نَجِيًا - الشَّيْءُ مِنْ فَيْدٍ -
 منہ سے پھینکنا۔
 نَجَّاهُ (ر) نَجَاءً وَ نَجَاءً وَ اَنْجَاهُ
 نظر بد لگانا۔ رَجُلٌ نَجَّوْا الْعَيْنَ وَ
 وَ نَجَّوْا هَا وَ نَجَّسَهَا وَ نَجَّيْنَهَا -
 نظریہ بہت لگانے والا۔
 نَجَّاهُ - السَّائِلُ - مددیش کی کھانے کی
 طرف بہت بھجائی ہوئی نظر۔
 نَجَبَ (ر) نَجَابَةً - اَلْوَلَدُ
 شریف الاصل ہونا۔ اچھے صفات والا
 ہونا۔ صفت (نجیب)
 نَجَبَ (ر) ن) نَجِيًا وَ نَجَبًا وَ
 اَنْجَبَ - اَلشَّيْءُ - درخت
 کی چھال اتارنا۔ وَ اَنْجَبَ اَلشَّيْءُ
 پندا پسند کرنا۔
 اَنْجَبَ بِمَعْنَى نَجَبٍ - الرَّجُلُ شَرِيْفٌ
 اولاد کا باپ ہونا۔

یا گھبراہٹ سے پسینہ آنا صفت (نجد)
تھکنا۔ کندوز بن ہونا۔
نجداً نجداً (ا)۔ الرجلُ لم یکن یزنا۔
صفت (منجود و نجد)
نجداً (ک) نجداً و نجداً ذکا۔ بہادر
ہونے اور دوسروں سے جہاں مور نہ ہو سکیں
ان کو کر گزرنے والا۔ (ب) نجداً ظاہر
ہونا۔ واضح ہونا۔ صفت تاجد و
نجد۔

نجداً۔ البیت۔ گھر کر زینت دینا النجد
القماش۔ فرش ساز کا فرش کو درست
کرنا۔ سینا۔ الدھر فلاناً۔ زمانہ کا
کسی کو تجربہ کار بنانا۔ الرجل۔ دوڑنا
تاجداً متاجداً۔ مدد دینا۔ لڑائی
کے واسطے ٹکنا۔ مقابلہ کرنا۔

انجداً۔ مدد دینا۔ ملک نجد کو جانا یا نجد
میں پہنچنا۔ روح سے پسینہ بہانا۔ عمارت
کا بلند ہونا۔ آسمان کا صاف ہونا۔
دعوت قبول کرنا۔

تجداً۔ الشیء۔ بلند ہونا۔

استجداً۔ بہادر ہونا۔ فلاناً مہم
— علیہ۔ ڈرنے کے بعد کسی پر دیر ہونا

نجد۔ مع ملک نجد

النجد۔ ج انجد و منجود و انجد

وانجداً۔ بلند زمین کہتے ہیں ہوا

طلأۃ انجد و انجد و انجد و انجد

و طلأۃ النجد کاموں کا منتظم

اور حکلات کو اچھی طرح کر کے والا۔

ج۔ نجد و منجود۔ گھر کو آرائش و

زیبائش دینے والی اشیاء مثلاً فرش

دریاں، کھلے دھیرے۔ النجد۔ باہر،

راستا۔ درختوں سے خالی زمین، غم و بے چینی

پستان۔ بلند راستہ۔ رجل نجد و

نجد و نجد۔ بہادر۔ کھن کاموں

کو کر گزرنے والا۔ دعوت کو قبول کر دینا

ہونا صفت منجد (ج) مناجحہ
و مناجحہ۔ انجد (ب) غالب آنا
تجدجد الحاجة۔ وعدہ کرنے والے سے
عاجت روائی کا تقاضا کرنا۔

تتاججت۔ علیہ اخلاصہ او مساعیہ
کو مشقتوں یا خرابوں کا روبرو ہونا
استنجح۔ فلاناً حاجتہ کسی سے
فصلے حاجت کا سوال کرنا۔

النجاح و النجح۔ کامیابی

النجاحۃ۔ صبر

النجاح۔ فا۔ سیدنا رحمہ تیر چال۔

النجاح۔ صاحب الرائے صبر والا۔

موت تجتہ

نجد (ف) نجداً۔ فر کرنا۔ التور۔

نجد کا جوش میں آنا۔ المسیل۔ ایک

یک امند آنا۔ البعیر۔ اونٹ

کا بد معنی والا ہونا۔ صفت۔ نجد

البد۔ کتوں کو ہونا۔

تتاجج۔ المویج۔ موج کا ایک دوسرے

سے ٹکراتا۔ تتاججنا۔ آپس میں

تکبر و فخر کرنا۔

النجاح۔ فا۔ کھانے والا۔ سمندر کا شور

النجاح و النجوح۔ شور کرنا یا سمندر

سینل تاجج۔ بہت تیز ہونے والا

سیلاب جو زمین کو کھود دے۔

تاججۃ الماء و تجیحۃ۔ پانی کی

آواز۔

النجاح۔ کھانے والے کی آواز

تجحات الماء۔ پانی کی بوجھیں

نجداً (ن) نجداً۔ مد کرنا۔ غالب آنا

نجداً (ن) منجوداً۔ الافر من ظاہر ہونا۔

واضح ہونا۔ البدان عرقاً

بدن سے پسینہ بہا ہونا۔ الشیء من

الأرض نکنا۔

نجداً (س) نجداً۔ الرجل کسی کو کام

استنجب۔
النجد و النجد۔ سنی۔ شریف
النجد من الشجر۔ درخت یا بوڑھ
کی چھال۔

النجد۔ خاندانی شرافت۔ فیاضی

النجد۔ شریف۔ شریف خاندان

ج انجد و نجد۔

موت نجیب و نجیبۃ۔ ج

نجیب۔

نجیب و نواجب۔ عمدہ جیسے خالص

جیسے۔

المنجد۔ مذکر موت ج مناجیب۔

و المنجد ج مناجیب۔ موت

منجیبۃ۔ شریف بیٹوں والا۔

تجت دن نجداً و تجت عن الأمر

نکتہ چینی کرنا۔ بحث کرنا۔ الشیء کاننا

تجت القوم۔ قوم سے فریاد کرنا

تجت القوم الاخبار۔ ایک دوسرے

سے افشاء راز کرنا۔

انتجت و استجت الشیء۔ کاننا

استجت للشیء۔ درپے ہونا۔

النجد و النجد۔ دل کے اوپر کی جلی

زہ۔ ج انجات۔ رجل و تجت

خبروں کی جستجو رکھنے والا۔

النجات۔ امور کی بہت چھان بین کرنا۔

النجیت۔ پریشیدہ صید۔ نشاء بست

نثار۔

النجیۃ۔ بڑی خبر جو ظاہر ہو جائے۔

تجد (ن) نجد و نجد و نجد۔

الأمر۔ آسان ہونا۔ سہل ہونا۔ کام

پورا ہونا۔ کامیاب ہونا۔

تجد۔ کامیاب بنانا۔

انجد۔ کامیاب بنانا یا ہونا۔ اللہ

حاجتہ۔ حاجت پوری کرنا۔

انجدت حاجتہ۔ حاجت پوری

ج۔ اَنْجَاد
النَّجْدُ - پسینہ، گھر کا سامان ج۔ اَنْجَاد
النَّجْدَاةُ - مہر۔ دبیری۔ طاقت۔ لڑائی
گھبراہٹ ج۔ مَجْدَات -
النَّجَاد - تلوار کا پتلا۔ طویل الجاد
لمبے قد والا آدمی۔
النَّجَادَةُ - فرش سازی کا پیشہ۔ دری
بانی۔
النَّجِيدُ - بہادر۔ مشکل کاموں کو سر کرنے والا
شیر۔ تمکین۔ ج۔ نَجْدٌ وَنَجْدَاؤُ
النَّجِيدُ - نا۔ مؤنث نَاجِدَةٌ ج:
نَوَاجِدُ۔
النَّجَادُ - فرش ساز
رَجُودٌ - البیت۔ مکان کی آرائش کے
لئے دیواروں کے پردے۔
النَّجُودُ - لمبی گردن والا۔ چینی میں آگے
رہنے والا۔ زیرک عورت۔
النَّجُودُ - شراب، شراب کا برتن،
خون، زعفران ج۔ نوک جید
المُنَجَّدُ - موتیوں اور سونے کی مالا۔
چھوٹا پہاڑ۔ ج۔ مَنَاجِدُ۔
المُنَجَّدُ - اون دھیرہ دھننے کی کرنی
کا آواز۔ جانور کو ہانکنے کی لاشی
ج۔ مَنَاجِدُ - رَجُلٌ مَنَجَادٌ -
بہت مدد کرنے والا آدمی۔
المَنَجُودُ - غزوہ۔ ہلاک ہونے والا۔
نَجْدَاةٌ (ف) نَجْدَاةٌ - داروں
سے کاٹنا۔ اصرار کرنا۔
نَجْدَاةٌ - ستر پہ کرنا۔ آزمانا۔
نَجْدَاةٌ - التجار ب ستر پہ کار بنانا
- ہ البلا کیا۔ مہلکے مصائب ہونا
النَّجِيدُ - فاج کو اچھا وار۔
کتنے میں عَمَضٌ عَلٰی نَاجِدَاةٍ وہ
بالغ ہو گیا۔ مَمَكٌ کاشی نِسَاتُ
نَوَاجِدَاةٌ - وہ بہت ہیں۔

آبَاتِ الْحَرْبِ نَاجِدَاتُهَا۔ لڑائی
تیز ہوگی۔ عَمَضٌ الرَّجُلُ عَلٰی نَاجِدَاةٍ
اس نے صبر کیا۔
المَنَاجِدُ ج۔ مَجْدَاةٌ - مہر۔
نَجْدَاةٌ (ف) نَجْدَاةٌ - آگے، دن کا گرم
ہونا۔ الماء۔ پانی کا گرم پتروں سے
گرم ہونا۔ الریح۔ کسی کو مار کر مٹانا
المُنَجَّدُ - کڑی کو چھینا اور سہارا کرنا
الشيءُ: ارادہ کرنا۔ الْاِبِلُ
اونٹ کو ہانکنا۔
نَجْدَاةٌ (ف) نَجْدَاةٌ - سخت پیاس لگنا۔
اَنْجَادُ - قلاتا۔ دودھ والے کا بنا ہوا
کھانا کھلانا۔
النَّجُودُ - اصل حسب۔ رنگ گرمی
النَّجُودُ - سخت نہ بچنے والا پیاس
النَّاجِزُ - گرمیوں کے مہینوں میں سے ہر
ایک مہینہ۔
النَّجَارُ وَالنَّجَارُ - اصل حسب رنگ
النَّجَارَةُ - پڑھنی کا پیشہ۔
النَّجَارَةُ - کڑی کی چھین۔
النَّجَارُ - پڑھنی۔
النَّجِيرَةُ - کڑی کی چھت۔ مدد کرنے
اور گرمی سے بنا ہوا کھانا گرم پتروں سے
گرم کیا ہوا پانی جَدَاةٌ۔
النَّجْرَانُ - دروازہ کی چول۔ پیاسا۔ مین
کا ایک ضلع۔ نجد و نجدی۔ سخت پالنا
الْاَنْجَرُ وَالْاَنْجَرَاةُ - کٹی یا جہا کا ٹکر
ج۔ اَنْجُو۔
المُنَجَّرُ - مقصد جو راستہ سے ہٹا ہوا نہ ہو
المُنَجَّرَاةُ - پانی کو گرم کرنے کے لئے گرم پتروں
المُنَجَّرُ - اونٹوں کو بہت تیز ہانکنے والا
رندہ۔
المُنَجَّرُ - مفعول کنیز سے پانی نکالنے کی پرتی
نَجْدَاةٌ (ف) نَجْدَاةٌ - الْحَاجَّةُ حاجت
پوری کرنا۔ بالوعدہ۔ وعدے میں

الْوَعْدُ - حاضر ہونا۔ جلدی ہونا۔
پورا ہونا۔
نَجْدَاةٌ وَنَجْدَاةٌ (ف) نَجْدَاةٌ - فنا ہونا
- اَلْکَلَامُ کلام کا منقطع ہونا۔
نَجْدَاةٌ - الْحَاجَّةُ - حاجت پوری کرنا۔
اَنْجَادُ - الْحَاجَّةُ - حاجت پوری کرنا
- الوَعْدُ - وعدہ وفا کرنا۔
- عَلٰی الْقَتِيلِ - مقتول کا کام تمام کرنا
نَاجِدَاةٌ - مقابلہ پر نکلنا۔ لڑائی کرنا۔
تَنْجَادُ - الشَّرَابُ - پینے میں اصرار کرنا۔
(- وَاسْتَنْجَذَ) الْحَاجَّةُ اَوْ
الْوَعْدُ - حاجت روائی یا وعدہ وفا کی
چاہنا۔
تَنَّا جَزْدًا - آپس میں لڑنا صبر کرنا۔
مقاہد کرنا۔
النَّجْدَاةُ وَالنَّجَادُ - حصول ہونے عہد
هُوَ عَلٰی نَجْدَاةٍ جَدِيدَةٍ - وہ اپنا کام
پورا کرنے کے نزدیک ہے۔
النَّجِيدَاةُ وَالنَّاجِدَاةُ - حاضر۔ نقد۔ کتنے
ہیں بے نئے نَاجِدَاةٌ نَاجِدَاةٌ میں نے
اس کو ہاتھ پھاڑا تھا بیجا۔ نقد دینے
پر فروخت کیا۔
نَجْسٌ (ف) نَجْسٌ وَنَجْسٌ (ف) نَجْسٌ
گذا ہونا۔ ناپاک ہونا۔ صفت۔
نَجْسٌ وَنَجْسٌ وَنَجْسٌ وَنَجْسٌ
وَنَجْسٌ - ج۔ اَنْجَاسٌ۔
نَجْسًا وَانْجَسَ - ناپاک کرنا۔
نَجْسٌ کرنا نَجْسٌ الْقَتِيلِ وَکَمَا -
نظر بد سے بچاؤ کے لئے بچہ پر تمیز وغیرہ
لگانا۔
تَنْجَسٌ - نجس ہونا۔ التَّوْبُ اِکْرَامٌ کا
نجاست سے بھرنا۔ نجاست سے نکلنا
وَأَنَّ نَجْسًا وَنَجْسًا وَنَجْسًا
لا علاج بیماری
النَّجْسُ - تعویذ کرنے والے۔

نَجِشَ (ن) نَجِشًا - النجش: كعود كريد کرنا
 نکانا - بکیرنے کے بعد چھ کرنا -
 الصید: شکار کو ایک جگہ سے دوسری
 جگہ کے لئے سمیٹ کر لانا۔ النار: آگ
 جلانا۔ مدفن کرنا۔ التحذیرات
 پھیلانا۔ فی البیت: چیرکی تعریف
 کر کے بائع کی موافقت کرنا۔ بغیر ارادہ
 خریداری چیز کا بھاؤ بڑھانا یا خریدار
 کو ایک چیز سے ہٹا کر دوسری چیز کی
 طرف رغبت دلانا۔ اسم (النجش)
 (ن) نَجِشًا وَنَجَاشًا، جلدی کرنا۔
 تَنَجَّشَ - النجش: فی البیت: دوسرے
 سے بڑھ کر بولی بولنا۔
 اسْتَنَجَّشَ - النجش: نکانا۔ الصید
 شکار کو سمیٹ کر لانا۔
 النجاش: قسم جس کو دو چھڑوں کے
 درمیان رکھ کر ماری دیتے ہیں۔
 النجاش والنجاش والنجاش
 شکاری۔ النجاش والنجاشی
 والنجاشی: شکار کو شکاری کی
 طرف لانے والا۔ النجاش: میبگیر
 النجاشی والنجاشی والنجاشی
 ایک عہدہ کے بادشاہ کا لقب قول
 منجوش: جھولی من گدوت بات
 نجع (ن) نَجُوعًا وَنَجَعًا - الطعام
 فی الإنسان طراک کا نفع مند ہونا
 فیہ الدواء أو الطعام أو الكلام
 داخل ہو کر اثر انداز ہونا
 نَجَعُ البکلت - ظہر میں آنا۔ النجوم
 الککاة: لوگوں کا چراگاہ تلاش کرنا
 الابل البکوت و بالبحر: آنا اور
 پانی ٹا کر پلانا۔ نجع الصبی
 لبن الشاة أو بلبن الشاة
 بچہ کر بکری کے دودھ کی خوراک دیا
 جانا۔ دودھ سے پرورش کیا جانا۔

النجم - الطعام وغیره کمانے وغیره
 کا مفید ہونا۔ الراعی الفصیل
 اونٹ کے بچہ کو دودھ پلانا
 تَنَجَّحَ وَاسْتَنَجَّحَ
 النجوم الککاة: چراگاہ کی تلاش میں
 جانا۔ تَنَجَّحَ وَاسْتَنَجَّحَ فُلَانًا
 بنطس کی طلب میں کسی کے پاس جانا
 تَنَجَّحَ بالدم خون میں تھرونا۔
 طعامٌ یُنَجِّعُ أو یسْتَنَجِّعُ یام
 أو عنده - وہ کمانا جس کو کھا کر آدمی
 خوش ہوا اور مڑا ہو۔
 النجم - بالکمانا بنامہ خیمہ جہ نجوم -
 النجم: چراگاہ کی تلاش جہ نجح -
 النجم: چراگاہ کا تلاش جہ نجح
 و نواجم -
 النجم: شجاع کا تابع ہے کہتے ہیں۔
 شجاع نجم: بہادر دلیر۔
 النجوم: آٹھ طاہر پانی جو اونٹ کو دیا
 جاتا ہے نجوم الصبی بچہ کا دودھ
 النجم: نفع بخش خوراک۔ نافع موثر
 تقریبہ سیاہی مال خون۔ مایہ نجح
 خوش گوار پانی۔
 المنجم والمنجم والمنجم
 حیرانگاہ۔
 نجف (ن) نَجْفًا - النجف: مراشنا
 صفت رحیم و متکلمون -
 الشاة: درخت کے پھلے کا ٹٹا۔
 الشاة: بکری کا سارا دودھ نکال لینا
 نجف: ہر اکاریت اٹانا۔
 النجف و استنجف: النجف: ککانا۔
 الریح السحاب: ہر اکا بادل
 کہ پانی سے خالی کر دینا۔ الشاة
 بکری کا سارا دودھ لینا۔
 النجم: جہ نجف و النجم: میل
 وادی کا وہ حصہ جہاں پانی نہ چڑھے۔

النجم: متوسلی چیز
 النجم: دروازہ کے اوپر کا آگے کا رکھا
 برا حصہ۔
 النجم: چولے میں والا تیرج نجف
 النجم: لکڑی والا تیرج نجف
 پھل والا تیرج بڑول۔ وسیع پہلوؤں والا
 برتن وغیرہ۔
 نجل (ن) نَجْلًا - النجی: ظاہر کرنا۔
 الارض: کھیتی کے لئے زمین پھیلانا
 نجلت الارض: زمین کا سرسبز ہونا۔
 نجل فلاناً: ٹھوکر مار کر لٹھکانا۔
 الناس: شرارت کرنا۔
 نجل (ن) نَجْلًا - النجی: بالشیء و یسبک
 - ہالذمیح - نیزہ مارنا۔
 النجی: لکڑی کا تختی ٹٹانا۔
 الرجل: تیر چلانا۔
 نجل (ن) نَجْلًا - الرجل: بڑی اور
 خوبصورت آنکھوں والا ہونا۔
 صفت (انجل) جہ نجل و نجل
 آنکھ ٹٹانا و جہ نجل۔
 انجل - الذابہ جالو کو سبزی پوانا
 نجل القوم: آپس میں جھگڑنا۔
 نسل پیدا کرنا۔
 النجل: الامر: ظاہر ہونا اور گزرتا
 استنجل - المكان: کسی جگہ کا پانی
 کے رساؤ سے دل دل بن جانا۔
 النجل: معہ - اولاد - نسل کونم النجل
 شریف الاصل - کیرم الطبع - والد۔
 جہ انجال۔
 النجل: بڑی جماعت عمل۔ مرکب جاری
 یار سے والا پانی۔ دلدل جہ نجل
 و انجال۔
 النجل: شریف النسل انسان یا حیران
 مدنی تاجک جہ تاجکات و
 نواجل۔

الْأَنْجِيلُ كَشَادَةٌ - لِبِأُجْرَا جِ نَجْلٍ وَ
 نَجَالٍ مَوْثٌ كَمَجْلَاوَجِ نَجْلٍ -
 الْأَنْجِيلُ - أَيْ قِسْمٌ كِي تَرَشُّ لِحَا سِ يَاسِ كِ
 تَرُونِ كَاجِرَا - جِ نَجْلٍ -
 الْمَنْجِلُ - دِرَاتِي جِ مَنَاجِلُ الْمَنْجِلُ
 كَعْنِي كَعِي - بَهْتِ اَوْلَادِ وَا اَوْلَادِ
 كَا مَهْرًا يَكْتُمُ وَا اَجْرًا - زَلْمٌ لِكَا
 وَا اَنْبِيَا -
 نَجَمٌ رَنٌ (مَجْمُومًا) - الشَّيْءُ ظَاهِرٌ مَوْثًا
 نَكْنَا - كَذَا عَن كَذَا فَلَانِ شَيْءٍ
 سِ اِيَا يَتَبَيَّرُ ظَاهِرًا - فَلَانِ الدِّينِ
 قَرْضِ قَسَطُونَ سِ اَوْ كَرْنَا - السَّهْمُ
 اَوْ الرَّمْحُ - تَبِيْرًا نَبِيْرًا كَا پار مَوْثًا -
 نَجْمٌ - احوالِ عَالَمِ مَعْلُومِ كَرْنِ كِ لِي
 سِتَارُونَ كَرُو كِنَا - الدِّينُ - قَرْضِ
 كَرُو قَسَطُونَ مِي اَوْ كَرْنَا - كَلِيْر
 كَلِيْرِيَّةٌ سِدِي كِي قَسَطٌ مَقْرَرٌ كَرْنَا -
 اَنْجَمٌ - اَلْعَنِي - ظَاهِرٌ مَوْثًا - اَنْجَمْتِ
 السَّمَاءُ - اَسْمَانِ پَرَسْتَارُونَ كَا ظَاهِرٌ مَوْثًا
 اَنْجَمُ السَّمَاءِ اَوْ الْبَرْدُ - جَارِيَا
 سَرُو كَا خْتَمٌ مَوْثًا - الرَّجُلُ عَن
 الْاَمْرِ - مَعْمُورًا - اَنْجَمْتِ الْحَرْبُ
 حَنَكٌ كَا خْتَمٌ مَوْثًا -
 اَنْجَمُ الْبَرْدِ اَوْ السَّمَاءُ :
 سَرُو يَا جَارِيَا كَا خْتَمٌ مَوْثًا -
 تَنْجَمٌ - احوالِ عَالَمِ مَعْلُومِ كَرْنِ كِ لِي
 سِتَارُونَ كَا دِكِنَا -
 النَجْمُ - جِ مَجْمُومٌ وَا اَنْجَمٌ وَا اَنْجَامٌ
 وَا اَنْجَمٌ - سِتَارَةٌ - ثَرِيَا - مَقْرَرَةٌ
 وَ قَتٌ مَقْرَرَةٌ پَرَا اَوْ كِيَا مَوْثًا - بِلِ
 بِي سَاقِ يَنَاتَاتِ اَصْلُ - اِنَّهُ الرَّجُلُ
 لَا يَنْجَمُ لَهْ - اِسْمَاتِ كِي كَرِي اَصْلُ نَبِي
 اَلنَّجْمَةُ - سِتَارَةٌ - كَلِمَةٌ - (وَا اَلنَّجْمَةُ)
 وَ قِسْمٌ كِي كَحَا سِي - اَلنَّجْمَةُ - زَمِي
 پَر مَحِيَّةٌ وَا لِي بِلِ - دُو النَّجْمَةُ - كَدَحَا

النَّجِيمُ - مِنَ الْبَنَاتِ - تَا زَهْ كَحَا سِ -
 اَلنَّجْمَةُ الْمُنَجِّمُ وَالْمُنَجِّمُ -
 نَجْمٌ -
 اَلْمُنَجِّمُ - نَكْلِي كِي مَجْدٌ - مَعْدَنٌ - وَ اَنْجَمْتِ
 الْمُنَجِّمُ - تَرَا دِرِي سِ لَوِي كِي دُو ي -
 مَنَجْمُ الرَّجُلِ سَخْنُ -
 نَجْنَجَةٌ نَجْنَجَةٌ - فِي رَأْيِهِ مَتِيْرٌ مَهْرًا
 مَوْثًا - عَيْنُهُ - اَنْجَمْتِ كَا دَعْنَا -
 كَرْمِ مِي مَوْثًا - اَلْبَابُ - اَوْ تَرُونِ كَر
 چَرَا كَا سِ رُو كِ لِيَا - پَانِي سِ وَا پَسِ
 كَرْنَا - فَلَانَا عَنهُ - مَنَعٌ كَرْنَا اَلْعَنِي
 مَوْتِ وِيَا - الْاَمْرُ - سَهْمٌ اَرَا وَهُ كَرْنَا
 تَنْجَمُ - الرَّجُلُ - حِيْرَانٌ مَوْثًا - الشَّيْءُ
 مَعْرُوفٌ مَوْثًا -
 نَجَّةٌ (ف) بَهْمًا وَا اَنْجَمَةٌ وَا نَجْمَةٌ
 الرَّجُلُ - بَرِي طَرَحٌ مَشَاتَا - بَرِي طَرَحِ
 پَرِي اَنَا - نَجَّةٌ عَن اَلْعَوْمِ ظَاهِرًا
 اَلْبَلَدُ - وَا خَلٌ مَوْثًا اَوْ رَنَا پَسْتَدُ كَرْنَا -
 نَجَا يَنْجُو نَجَاةً وَا نَجَاةً وَا كَجُوَا
 وَا نَجَاةً - مِي كَذَا - خَلَا مِي پَانَا -
 نَجَاتِ پَانَا -
 نَجَا يَنْجُو نَجَاةً - حَلِي كِي كَر كِي اَكِي
 بَر مَوْثًا (نَجْوَا) اَلشَّجَرَةُ وَ رَفْتِ
 كَانَا الصَّبِي - بِيچَا كَا پَانَا كَرْنَا
 فَلَانَا - رَلِي وِيَا - خَلَا مِي وِيَا -
 الدَّوَاءُ - پِيَا - (وَا النُّجُومِي
 الْمَبْنِي) پَانَا نَكْنَا - (نَجْوَا
 وَا نَجَا) الْجَلْدُ عَن اَلدَّابِّيَّةِ -
 كَالِ اَتَارَنَا - رَنَجُوَا وَا نَجُوِي وَا
 نَجِي مَنَاجَاةً وَا نَجَاةً - الرَّجُلُ
 مَرُوشِي كَرْنَا - اِسْمُ (النَّجْوَى)
 نَجِي تَنْجِيَّةً - الرَّجُلُ مِي كَذَا -
 رَلِي وَا لَنَا - بَلَدِ دِي مِي مَعْمُورًا
 اَلْبِي - الرَّجُلُ - رَلِي وَا لَنَا - الرَّجُلُ
 پَانَا كَرْنَا - فَلَانَا عَضًا كِي

کسی کے لئے ٹھنی کا ٹنا -
 اَلْجَلْدُ - كَالِ اَتَارَنَا - اَلنَّخْلَةُ - كِي
 كَعْمُورُونَ وَا لَاهُ مَوْثًا - الرَّجُلُ :
 سِيْنَةُ كَانَا -
 تَنْجِي - بَلَدِ زَمِي دُو مَوْثًا -
 تَنَاجِي تَنَاجِيًا - اَلْعَوْمُ - مَرُوشِي كَرْنَا
 اَنْجَمِي اَلْعَوْمُ - مَرُوشِي كَرْنَا -
 الرَّجُلُ - مَرُوشِي كِي لِي خَاصِ
 كَرْنَا - اِنَارَا دَارِ بَنَانَا -
 اِسْتَنْجِي - مِي كَذَا - خَلَا مِي پَانَا اَلشَّجَرَةُ
 وَ رَفْتِ كَرْمِ سِ كَانَا - الشَّيْءُ مِي فَلَانِ
 مَحِيْرُوَانَا - الرَّجُلُ پَانَا نَكْنَا كِي
 بَعْدِ مَنَاجِي كَرْنَا - اَلشَّرِيحُ مِي پَانَا
 اَلْعَوْمُ - تَر مَجْمُورِي حَا صِلِ كَرْنَا يَا كَانَا
 الرَّجُلُ : تَبِيْرًا - شَكْسَتْ كَانَا -
 اَلنَّاجِي - فَا - مَوْثِ نَاجِيَّةً جِ كَوَاجِ
 وَا نَاجِيَاتِ - اَلنَّاجِيَّةُ تَبِيْرًا
 اَوْشِي -
 النَّجَا - لَاطِي - كَرُو ي - مَوْثِ كِي كَرُو يَا
 كَالِ -
 النُّجُوَا وَ النُّجَا وَ النُّجَاةُ وَ النُّجَاةُ
 خَلَا مِي - رَلِي كِي مِي اَلنُّجَاةُ
 اَلنُّجَاةُ وَ اَلنُّجَاةُ اَلنُّجَاةُ
 حَلِي كَرْنَا - حَلِي كَرْنَا -
 اَلنُّجُوَا - مَعْمُورًا - پَانَا نَكْنَا مَوْثِ وَا دِيَا
 كَا مَعْمُورًا نَجَاةً بَا وِلِ جَوَا رَشِ
 بَرَا چَا مَوْثِ نَجُوَا -
 النُّجُوِي - مَعْمُورًا - رَا دَارِ - مَرَا زِ اَلنُّجُوِي
 خَاجِ - مَعْمُورًا - نَجَاةً -
 النُّجَاةُ - مَعْمُورًا - خَلَا مِي - نَجَاتِ - بَلَدِ زَمِي
 حَلِي - مَوْثِ - سَانِ كِي مَحِيْرِي - مَوْثِ
 جِ نَجَا -
 النُّجُوَا - بَلَدِ زَمِي جِ نَجَاةً اَسْمًا
 مِي اَلنُّجُوَا - مَوْثِ اَسْمًا
 پَا كِ وَا مَوْثِ -

النَّجَاةُ - زین کی سیقت
النَّجِي - مجید جس سے رازداری کی بات
کی بات کی جائے۔ بات کرنے والا
مدی پڑھنے والے کی آواز۔ چلا کر
ہانسنے والا۔ جہ انجیہ۔

الْمُنَجِّي - نجات کا مقام۔ بلند زمین۔ جہ
مناجہ۔

الْمُنَجَاةُ - نجات کا باعث جہ مناہج۔
کہتے ہیں "الْمُنَجِّي مُنَجَاةٌ"
سچائی نجات کا ذریعہ ہے۔

نَحْرُ رَمْلٍ فَيَجِيئُكَ - الرَّمْلُ سِينَةٌ فِي
آواز کو دہرانا۔

نَحْرٌ رَمْلٌ نَحْرًا - الْجَمَلُ - اُونٹ کو تیز
چلنے پر اُکسانا۔

النَّحَاةُ - سخاوت۔ نخل۔
النَّحِيحُ - نخل۔ فُلَانٌ مَخِيحٌ وَنَحِيحٌ
فُلَانٌ حَوِيضٌ - و نخل ہے۔

نَحَبٌ رَمْلٌ نَحْبًا وَنَحِيحًا -
الرَّمْلُ - بلند آوازی سے رونا۔

(- نَحْبًا) بَيْكًا - خَرَطٌ بَانَدُصًا
نَحَبٌ رَمْلٌ نَحْبًا وَنَحْبًا - الْبَعِيرُ
اُونٹ کا کھانا۔

نَحَبٌ رَمْلٌ نَحْبًا وَنَحَبٌ - الرَّمْلُ
نذرانا۔

نَحَبٌ وَنَحَبٌ الْقَوْمُ فِي سَبْرِهِمْ
جلدی چلنا۔ نَحَبٌ عَلَى الْكُفَى
مشغول ہونا۔

نَاحِيَةٌ مِّنَ حَبَّةٍ فَنَحْرِي مَقَابِلُهَا
شرط باندھنا۔ اِلَى فَيْصَلِ كَيْ
لئے لے جانا۔

تَنَاحِبُ - الْقَوْمُ - لِرِطَائِي وَغَيْرِهِ كَيْ لِي
وقت مقرر کرنا۔

اِسْتَحَبَّ - سب سے روٹا۔ لِمِجِيسَ سَانَسَ لِي
النَّحْبُ مِمَّ - شَرِيحِي كَمَا نَسِي سَمْعِي
موت۔ مدت۔ وقت۔ بڑا خطرہ،

مہمت۔ نفس۔ لمبائی۔ نیند۔ موٹاپہ۔
بڑے جسم کا اونٹ۔ حاجت۔ دلیل۔
جوا۔ آہستہ یا تیز رفتار۔ نذر۔
قَصِي فُلَانٌ كُنْجَةً - فلاں مر گیا۔
النَّحْبَةُ - قرعہ۔

الْمُنْحَبُ - نا۔ سیر۔ مُنْحَبٌ تَبْرِيحًا
نَحْتًا رَمْلًا وَنَحْتًا رَمْلًا
العَوْدُ - لکڑی پھینکا۔ مہوار کرنا۔

ہا پھیلا کرنا۔ التَّقْرُّمُ الْبَعِيرُ
سفر کا اونٹ کو لا کر کرنا۔ اَلْجَبَلُ
پھاڑ بھرونا۔ الْكَلِمَةُ - دوکھوں

سے مرکب کرنا جیسے بِسْمَلَةٌ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سے حَوْ قَدَّ - لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
اِلَّا بِاللّٰهِ سے اور۔ اَلْفُلَانُ كُنْجَةً

فَدَا لَيْكُ كَذَا وَكَذَا اَسَ نَحْتًا
بِالْعَصَا - لاشی سے مارنا۔ ہا بلیانہ
غیبت کرنا۔ طاعت کرنا۔ گالی دینا

عَوَصَتْ - طعن کرنا۔ بے آبروی کرنا
- حَوَّتْ فُلَانٌ عَلَى الْكُرْمِ فُلَانٌ
نیاض پیدا کیا گیا ہے۔

رَحَّتْ رَمْلًا نَحِيحًا -
اِسْتَحَبَّتْ مِنَ الْعَشِيَّةِ - اس نے
گھڑی سے کاٹ لیا۔

النَّحْتُ - مہم۔ وَالنَّحَاتُ وَالنَّحِيَّةُ
طبیعت۔ اَلنَّحِيَّةُ - پھیپس
اَلنَّحَاةُ - لکڑی کا پھینکا۔ تراشہ

کاٹنے سے گرے ہوئے ریزے۔
النَّحَاتُ - سنگ تراشہ۔
اَلنَّحِيَّةُ - مہم تراشا ہوا مگر مہم و ناری

پھیپس۔ لاغر اونٹ۔ رَدِي حَمِيْرٌ -
گنگھی۔ قوم میں اجنبی۔
اَلْمُنْحَتُ - جہ مناہج و اَلْمُنْحَاتُ

جہ مناہجیت۔ کدہ کرنا آواز۔
لکڑی تراشنے کا آلہ۔ بسولہ۔ جہ

مناہج۔
نَحْرٌ رَمْلٌ نَحْرًا وَنَحْرًا - الْبَعِيرُ
اس نے معاملات کو مضبوط کیا۔
النَّحْرَةُ - اول وقت میں نماز ادا
کرنا۔ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ -
نمازی کا سینہ نکال کر کھڑا ہونا۔

نَاحِرَةٌ مِّنَ حَبَّةٍ - جگر کا کرنا۔ گلے
میں زخم لگانا۔
تَنَاحِبُ - الْقَوْمُ - جگر کا کرنا۔ گلے
میں زخم لگانا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

مناہج۔

نَحْرٌ رَمْلٌ نَحْرًا وَنَحْرًا - الْبَعِيرُ
چوٹ لگانا۔ ذبح کرنا۔ فُلَانًا مَقَابِلُ
کرنا۔ کہتے ہیں نَحْرٌ اَلْأُمُورِ عَلِيمًا۔

اس نے معاملات کو مضبوط کیا۔
النَّحْرَةُ - اول وقت میں نماز ادا
کرنا۔ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ -
نمازی کا سینہ نکال کر کھڑا ہونا۔

نَاحِرَةٌ مِّنَ حَبَّةٍ - جگر کا کرنا۔ گلے
میں زخم لگانا۔

تَنَاحِبُ - الْقَوْمُ - جگر کا کرنا۔ گلے
میں زخم لگانا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔
تَنَاحِبُ الْقَوْمِ - جگر کا کرنا۔

النَّجِيرُ ذَبْحٌ كَمَا هِيَ ج كَحَدِيٍّ وَنَحْوِهَا
وَنَحَا يَنْوِي -

النَّحِيرُ - طَبِيعَتُ نَفْسٍ جَوْدٍ نَحَا يَنْوِي
الْمَكْحُورُ مَكْحُورٌ فِي زَعْمِ كَلْبَانِ كِي جَبْرٍ ذَبْحٌ
كَرْنَةُ كِي جَبْرٍ -

الْمُتَّحِرُ - كَشَادَةٌ رَاسَتُهُ
الْمِثْعَارُ - شَرِيحَةُ أَدْمَى بَهْتٌ رِيَادَةٌ ذَبْحٌ
كَرْنَةُ وَاللَّاحِ - مَهَانٌ لِرَازٍ -

نَحْوَهُ رَنٌ نَحْوُهُ - وَنَحْوُهُ رَنٌ نَحْوُهُ
لَا رَنٌ فِي كَرْنَةٍ - سَبِيحَةٌ فِي مَكَانٍ مَارَانَا

نَحْوُهُ وَنَحْوُهُ رَنٌ وَنَحْوُهُ رَنٌ نَحْوُهُ
وَنَحْوُهُ - الْبَيْعُ - اِدْنَةُ كَالْبَيْعِ

كِي بِيَارِي وَاللَّاحِ مَهَانٌ - صِلَتُ رَنٌ كَحْوَرٌ
وَنَحْوُهُ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَرٌ

نَحْوُهُ رَنٌ نَحْوُهُ - الرُّبْلُ - كَانَا -
أَنْعَرٌ - بِيَارٌ اِدْنَةُ وَاللَّاحِ مَهَانٌ

النَّحَازُ - اِدْنَةُ كَالْبَيْعِ طَرَفُ كِي بِيَارِي
- وَالنَّحَازُ اِدْنَةُ

النَّحِيْزَةُ - طَبِيعَتُ نَفْسٍ نَاهِمَارٌ
رَاسَتُهُ - ج نَحَا يَنْوِي -

الْمِثْعَارُ - لَانٌ - اِدْنَةُ -
نَحْسٌ رَنٌ نَحْسًا وَنَحْسٌ رَنٌ

نَحْسًا وَنَحْوُهُ سَتَةٌ - مَخْوَسٌ هَوَانٌ
نَاهِمَارٌ كِي هَوَانٌ - بِدَقْمَتِ هَوَانٍ صِفَتُ

رَنٌ وَنَحْسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ يَوْمٌ
نَحْسٌ وَنَحْوُهُ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ

وَأَيُّهَا مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ -

نَحْسَةٌ رَنٌ نَحْسًا - نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
أَكْحَسَتِي - النَّارُ - اِدْنَةُ كَالرَّيَادَةِ هَوَانٌ
أُطَانًا -

نَحْسٌ - الْأَخْبَارُ - نَجْرُونَ كِي نَحْسٌ فِي
كَلْبَانٍ - لَوْهٌ كَلْبَانًا - نَحْوُهُ رَنٌ

بِهَوَانٍ مَهَانٌ - لِسْرُوبِ الدَّوَابِّ - بَهْمَا
رَبَا -

رَنٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ - الْأَخْبَارُ وَنَحْوُهُ
نَحْسٌ كَرْنًا - نَجْرُونَ كِي نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ -

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ - فَلَانٌ اِدْنَةُ
كَرْنًا - مَنَحْوَسٌ كِي نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ - قَطَطٌ كَالسَّالِ

ج نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ -
النَّحْسُ مَمٌ - مَخْوَسٌ - نَاهِمَارٌ ج

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ - النَّحْسُ -
مَشَقَّتُ مَضْرُوتٌ - نَاهِمَارٌ مَلِ مَهَانٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ هَوَانٌ هَوَانٌ - خَبَارُ النَّحْسَانِ
رَنٌ - مَرِيحٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ مَشْرَبِي

دَبْرَةٌ -
النَّحْسُ قِرَى مَهِينَةٍ كِي آفَرِي تَيْنِ رَامِي -

النَّحْسُ تَانَا - اِدْنَةُ - دَعْوَانٌ طَبِيعَتُ
بَهْمَا كِي هَوَانٌ كِي كَرْنَةُ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

النَّحْسُ - تَانَا كِي كَرْنَةُ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
النَّحْسُ مَمٌ - مَخْوَسٌ - نَاهِمَارٌ ج

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ رَنٌ نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ - النَّحْسُ -
اِدْنَةُ كَالْبَيْعِ طَرَفُ كِي بِيَارِي

سَعَا مَهَانٌ هَوَانٌ - صِفَتُ رَنٌ نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ ج نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ -

النَّحْسُ - هَوَانٌ كَالرَّيَادَةِ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ رَنٌ نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ - اِدْنَةُ مَنَحْوَسٌ تَارَانَا

فَلَانًا - اِدْنَةُ مَنَحْوَسٌ مَنَحْوَسٌ كَرْنًا -
النَّحْسَانُ - هَوَانٌ كِي كَرْنَةُ - اِدْنَةُ مَنَحْوَسٌ

زَمَانَةٌ كَالْبَيْعِ طَرَفُ كِي بِيَارِي
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ رَنٌ نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
النَّحْوَسُ مَمٌ - مَخْوَسٌ - نَاهِمَارٌ ج

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
النَّحْوَسَةُ - مَخْوَسٌ كَالرَّيَادَةِ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
النَّحْوَسُ مَمٌ - مَخْوَسٌ - نَاهِمَارٌ ج

لِيَسْ سَانِسٌ لِيَانَا - نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
سَانِسٌ كَرْنًا كِي نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ -

النَّحِطُ - نَاهِمَارٌ - نَاهِمَارٌ كَالْبَيْعِ
النَّحِطُ وَالنَّحَاطُ وَالنَّحِيْطُ - سَيْنَةُ كِي

اِدْنَةُ مَنَحْوَسٌ كِي بِيَارِي
النَّحِطَةُ - اِدْنَةُ مَنَحْوَسٌ كِي بِيَارِي

كِي بِيَارِي مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
النَّحَاطُ - مَخْوَسٌ - مَخْوَسٌ -

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ
نَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ وَنَحْوُهُ مَنَحْوَسٌ

النَّاحِلُ - نا۔ ڈبلا پتلا ج۔ نَحْوُ
النَّاحِلَةُ - موٹا ناہل ج۔
نَوَاحِلُ - النَوَاحِلُ وہ طواریں
جن کا پہل کثرت استعمال سے پتلا پڑ گیا ہو
النَّحِيلُ - ڈبلا ج۔ نَحْلِي
نَحْمَ رَمْنٍ نَحْمًا وَنَحْمًا وَنَحْمًا وَنَحْمًا
- الرَّجُلُ مَرَّ كَهْمًا رَمْنًا - گلامان کرنا
الْأَسَدُ - دھاڑنا۔
النَّحْمَ - عَلَى كَذَا وَكَذَا اِطْمَ ارادہ کرنا
النَّحْمَ - ایک ایل پرندہ - واحد (نَحْمَةٌ)
النَّحْمِيُّ - پیٹ کی آواز یا گڑ گڑاہٹ۔
النَّحْمِيُّ - پیٹ کی گڑ گڑاہٹ والا - شیر۔
نَحْمٌ - جمع مشکلم کی نمبر
نَحْمٌ وَنَحْمٌ - الرَّجُلُ، گلامان
کرنا۔ سینہ سے آواز نکالنا بڑی طرح
بھانا۔ کہتے ہیں مَا آتَا بِنَحْمٍ النَّحْمِ
عَنْ كَذَا - میرا دل اس سے طرش نہیں
النَّحْمَةُ - نَحْمٌ - کہتے۔
نَحْمًا يَنْحُمُ رَمْنًا - الشَّيْءُ - قصد و ارادہ
کرنا۔ نَحْمًا نَحْمًا فَلَانِ - کسی کی بروی
کرنا نَحْمًا بَعْدَ الْإِيْمَةِ - نظری کی
طرف پھیر کر دیکھنا۔ الرَّجُلُ - ایک رُخ
میں بھکتا۔ فَلَانِ نَحْمًا يَنْحُمُ رَمْنًا
الشَّيْءُ - بھکتا۔ نَحْمًا نَحْمًا الرَّجُلُ
عَنْ مَوْجِبَةٍ - اپنی جگہ سے بھانا۔
مَلُودٌ كَرْنَا نَحْمًا مَتَا حَاةً - ایک
دوسرے کی طرف بھانا۔
أَنْتَ نَحْمًا - اِعْتَادَ كَرْنَا - ایک جانب
بھکتا۔ فَلَانِ نَحْمًا مَتَا مَتَا
بَعْدَ الْإِيْمَةِ - نظری بھیرنا۔ عَلَيْهِ اِعْتَادَ
کرنا۔
أَنْتَ - اِنْتِ حَاةً - الشَّيْءُ أَوِ الرَّجُلُ
قصد و ارادہ کرنا۔ لَمْ يَكُنْ
اِعْتَادَ كَرْنَا اِدْرَسَ كِي طَرَفَ بھکتا۔

النَّحْمِيُّ مَتَا شَقِيهِ الْإِيْمَةُ - اِدْرَسَ
کا اپنی یا اپنی طرف بھکتا۔
نَحْمًا - عَنْ مَوْجِبَةٍ - اپنی جگہ سے الگ
ہونا۔ لِيَشْفِيَهُ - اِعْتَادَ كَرْنَا -
الرَّجُلُ - اپنے کلام میں اعراب استعمال
کرنا۔
النَّحْمُ - جَانِبٌ - جِهَةٌ - رَاسَةٌ - شَيْءٌ بِمَقْدَارٍ
قَصْدٌ - جِ انْحَاءٌ - عِلْمُ الْعَرَبِ - وَهُوَ عِلْمٌ
سَبَّحَ فِيهِ كَلَامُ عَرَبٍ كَمَا فِي اِعْرَابِ اِدْرَسَ
تَرْكِيْبٌ وَافْرَادٌ سَبَّحَ فِيهِ
جِ انْحَاءٌ وَنَحْمٌ - تَعْمِيْرٌ بِحَيْثُ
النَّحْمِيُّ - عِلْمٌ عَرَبِيٌّ - نَحْمِيُّونَ -
النَّحْمِيُّ - نا۔ عِلْمٌ عَرَبِيٌّ وَالْاِحْرَافُ
النَّحْمِيُّ - جَانِبٌ - جِهَةٌ - كَلِمَاتٌ وَ
كَلِمَاتٌ وَنَحْمٌ وَنَحْمٌ
نَحْمًا يَنْحُمُ رَمْنًا - اَللَّبَنُ
دودھ بھیرنا۔ الشَّيْءُ - رَاسًا كَرْنَا -
بَعْدَ الْإِيْمَةِ - نگاہ پھیرنا۔
نَحْمًا يَنْحُمُ رَمْنًا - اَللَّبَنُ
اَللَّبَنُ - كَمَا اَللَّبَنُ - تَهْيَا رَمْنًا
- فَلَانِ بِالْمَسْبُوبِ - تَلْوَاةً سَمَانًا
نَحْمًا نَحْمًا - رَاسًا كَرْنَا - بھکتا نا۔
اِنْتِ نَحْمًا - فِي الْاَلْمِ - كَرْنَا -
فِي الشَّيْءِ - سَمَانًا لِيَا -
النَّحْمِيُّ وَالنَّحْمِيُّ وَالنَّحْمِيُّ - كَلِمَةٌ
فَعْدٌ بَعْدَ كَلِمَةٍ - بَلَوْنِي - بَلَوْنِي
بَلَوْنِي - جِ انْحَاءٌ وَنَحْمًا
النَّحْمِيُّ - قَصْدٌ - نَشَانَةٌ - فَلَانِ نَحْمًا
النَّحْمِيُّ - فَلَانِ مَسْبُوبٌ كَرْنَا
-
النَّحْمَةُ - پانی پینے کی پیمیدگی پیمیدگی
پانی لانے والے اِدْرَسَ کا راستہ۔
جِ مَنَاجِرٌ - اَهْلُ الْمَنَاجِرِ دَرٌ
کے لوگ جو رشتہ دار نہ ہوں
نَحْمًا (ن) نَحْمًا - تیر بھیرنا۔ اِدْرَسَ

اِدْرَسَ كَرْنَا - اَللَّبَنُ وَنَحْمًا
اِدْرَسَ كَرْنَا - اَللَّبَنُ وَنَحْمًا
کے بھکتا نا۔
النَّحْمُ - مَمٌ - لِيَا شَيْءٌ جِ انْحَاءٌ -
النَّحْمَةُ - بَلَوْنِي - بَلَوْنِي - بَلَوْنِي
پتلا ڈبلا مرو یا عدت غیر مصدقہ غیر
النَّحْمَةُ - کام کرنے والے بیل۔
النَّحْمَةُ وَنَحْمًا - گراما مغز۔
نَحْمًا (ن) نَحْمًا - الشَّيْءُ - بھیرنا۔
عِلْمٌ نَحْمًا - اِحْرَافٌ لِيَا -
نَحْمَةُ النَّحْمَةُ - چیمڑی کا کمانا۔
النَّحْمَةُ الصَّيْدُ - بَارُكَاشَارُ كَرْنَا
کرنکال لینا۔
نَحْمًا (ن) نَحْمًا - بَرْدٌ لِيَا - صَفْتٌ
(نَحْمٌ وَنَحْمٌ وَنَحْمٌ وَنَحْمٌ
النَّحْمَةُ)
النَّحْمَةُ الرَّجُلُ - بَرْدٌ لِيَا بھیرنا
بَرْدٌ لِيَا بھیرنا۔
النَّحْمَةُ - الشَّيْءُ - بھیرنا۔
النَّحْمَةُ - بَرْدٌ لِيَا - بَرْدٌ لِيَا
جام صحت (ن) - والنَّحْمَةُ (سُرِينُ
بَرْدٌ
النَّحْمَةُ وَنَحْمَةُ - ہر ایک چیز کا عمدہ
صفت ج۔ نَحْمٌ -
النَّحْمَةُ - چیدہ لگ جِ نَحْمًا
النَّحْمَةُ - جِ نَحْمٌ وَنَحْمٌ
النَّحْمَةُ - ڈبلا - لاغر۔
النَّحْمَةُ - لِيَا -
النَّحْمَةُ - لِيَا
النَّحْمَةُ - کزور - بیچ - ناکارہ۔
نَحْمًا (ن) نَحْمًا - الشَّيْءُ
پندہ کا چھوٹا مارتا - النَّحْمَةُ - بات
کرا انتہا تک پہنچانا۔
نَحْمًا (ن) نَحْمًا - السَّيْلُ - سبب
کاناروں سے مکرنا - اَللَّبَنُ وَنَحْمًا

ڈول کر پانی سے بھرنے کے لئے کنویں میں
لانا۔

استنخرج - الوجیل سختی کے بیدرم ہونا
نخر (من) نخرًا و نخرًا - الانسا
او الذابہ خراٹے لینا۔

نخر نخرًا - العالیب الناقۃ
ناک کے تھنوں میں انگلی ڈال کر

سہلانا تاکہ دودھ تھنوں میں اُتارے
نخر (س) نخرًا - العودا و العظم
و عودا - بسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہونا

صفت ناخیز و نخر
نخرۃ - بسیدہ کرنا - گفتگو کرنا۔

النخرۃ من المریح - ہوا کی تیز رفتاری
(و النخرۃ) ناک کا اگلا حصہ جو
نخر۔

النخرۃ - فا - بسیدہ - ریزہ ریزہ۔

حملہ آور سورہ گدھا - گھوڑا - ج -
نخر - کہتے ہیں ما بالدار ناخیز گھر
میں کوئی نہیں۔

النخرۃ - مؤنث النخرۃ - بسیدہ
بڑیاں - گھوڑے - گدھے۔

النخرۃ - بہت خراٹے لینے والا۔
النخوار - برفال - کزور - شریف
شکر جو نخرورۃ۔

المنخرۃ و المنخرۃ - والمنخرۃ
و المنخرۃ و المنخرۃ و المنخرۃ
ناک جو مناخر و مناخیز۔

نخریب - الثبۃ - درخت میں سوراخ کرنا
النخرۃ - سوراخ - پتھر کی دھاڑ
جو نخریب - نخریب العین
شہد کے ہمتے کے خالے۔

نخر (س) نخرًا بالحدیبیۃ
لوہے سے مارتا - ہا - بکلمۃ - کلمہ
سے دکھ دیتا۔

نخس (س) نخسًا - الذابہ جانور

کے پہلے یا پیچھے پر نوکدار کڑی یا کیل
رآر) چھوٹا تاکہ وہ تیز چلے۔ نخلان
بھڑکانا - برانگیختہ کرنا - البکرۃ
چرفی میں پھر گانا۔

نخس - لخمۃ - گوشت کم ہونا یا لخمیر
اونٹ کا خارش دیم والا ہونا - صفت
منخوس۔

تنناخست - الغنم وہ بکریوں کا سردی
کی وجہ سے ایک دوسرے سے گرمی
حاصل کرنا۔ الغنم ان - مالابوں

کا ایک دوسرے میں پانی پہنچانا۔
النخس - فا - اونٹ کی دیم کی کھلی۔

(و النخوس) جوان پہاڑی بکرا
النخس - چرفی جس سے سوراخ فراخ
ہونے کے سبب اس میں کڑی دھیرہ

کی پھر لگائی جائے۔

النخیسۃ - بھیر بکری کا بلا بلا دھیرہ
مکھن۔

النخاس - چرفی کے سوراخ میں لگائی ہوئی
پتھر نخلان البیت - دروازہ کے
عمود - جو نخس۔

النخاسۃ - مہبتی نخاس -
(و النخاسۃ) غلاموں یا
جانوروں کی بیع۔

النخاس - بہت چھوٹے والا غلاموں
اور جانوروں کی تجارت کرنا۔
النخس - مہیر - آنکس جو مناخس

نخشہ (س) نخسًا - اگسانا بھڑکانا
اذیت دینا - الشی - حرکت دینا -
الذابہ - جانور کو تیز ہانکنا -
العود - کڑی کر چیلنا۔

نخش (س) نخسًا و نخسًا - بولا
ہونا۔
نخش (س) نخسًا - الشی - بچلے حصہ

سے بسیدہ ہونا۔

تنخش - اسی کذا - حرکت کرنا۔
النخش - مم - مال کا ایک حصہ۔
نخص (س) نخصًا - الرجیل - ماغر
ہونا - جھریوں والا ہونا۔

نخصۃ و انخصۃ - البکرۃ و المہین
بڑھاپے یا بیماری کا کسی کو لاغر کر
کے جھریاں ڈالنا۔

نخص (س) نخصًا و انخصۃ
کم گوشت ہونا۔
نخصۃ نخصۃ - جھریوں والی بڑھیا

نخط (س) نخطًا - البیہم - اچانک آنا
النخط من النوی - ناک جھاڑنا

ناک کا ریشے صاف کرنا۔
نخط (س) نخطًا - نخلان - گالی دینا
نیت کرنا - تکیہ بکھیر کرنا۔

النخطۃ - مشابہ ہونا۔

النخط و النخط - لوگ - ما ادری
آئی النخط ہو - میں نہیں جانتا وہ

کس قسم کا آدمی ہے۔ النخط -
حرام مغز - بچہ کی مہلی کا پالی۔

النخط - نیروں سے کھینچنے والے بہادر
نخر (س) نخرًا - الذابۃ - ذبح
کرتے وقت چھری کو حرام مغز تک

نار دیتا - الا من علمنا - خوب باخبر
ہوتا۔ لا الطامۃ او النصیۃ -
اکامت و نصیحت میں خلوص برتنا

النخرۃ - سینہ یا ناک سے کوئی
چیز دور کرنا۔ نخوعا لہ
بچہ - حق کا اقرار کرنا۔

نخع (س) نخعًا - العود او لیکنا
کڑی یا نباتات سے پانی رشنا۔
فلان یحقی - حق کا اقرار کرنا۔
الا نخع - بہت ذلیل - زیادہ ہلاک

کرنے والا۔
النخع - گردن کا پہلا منکا جو سر سے ملتی

نَدَاؤُكَ (ف) نَدَاؤُكَ - دُرَانَا بِمَوْفُودِهِ كَمَا
نَدَاؤُكَ اللَّحْمُ - گوشت کر آگ میں وہانا
- العَلَّةُ - بھونیل بنانا - مکتبہ
ظاہر ہونا۔

النَّدَاؤُ - آگ میں دبا یا ہوا گوشت
النَّدَاؤُ وَالنَّدَاؤُ وَالنَّدَاؤُ -
سورج کے ڈوبتے یا نکلنے وقت بادلوں
کی سرفی - دھک - النَّدَاؤُ و
النَّدَاؤُ - سورج کا دائرہ چاند
کا لہ - مولتی یا دولت کی کثرت۔

نَدَابٌ (ن) نَدَابًا - المِيتُ - میت
پر دونا - میت کی خوبیاں بیان کرنا
- فَلَانًا لِلْأَمْرِ - اُوَ اِلَى الْأَمْرِ -
بلانا - اُسکا نام - اِلَى الْحَرْبِ -

لرہائی کی طرف متوجہ کرنا - صفت عالی
(نادیب) صفت مفعول - مَدَاوِبُ
إِلَيْهِ اِسْمُ (النَّدَابَةُ)

نَدَابٌ (س) نَدَابًا وَنَدَاؤًا وَنَدَاؤًا
- انکھڑ - پیٹھ کا زخم سے نشان والی
ہونا - صفت (نَدَابِي) - نَدَابًا
وَأَسَدًا (الْجُرْمُ) - زخم کے نشان
کا سخت ہونا - أَسَدًا فَكُلُّ
نَفْسَةٍ وَتَنْقِيسِ اِسْمِ اِنِّي
جان کو خطرہ میں ڈالا - أَسَدًا بِالْجُرْمِ
فَلَانًا - نشان ڈالنا۔

نَدَابٌ (ك) نَدَابَةٌ - الرَّجُلُ
زیرک ہونا - ہوشیار و چست ہونا
إِسْتَدَابَ - بَعْلَانٌ تَرَوِيدُ كَرْنَا -
إِسْتَدَابَ بَعْلَانًا لَمْرًا - بِلَاوَسَ بِرِجَابٍ
دینا - خَدَا مَا اِسْتَدَابَ - جو آسانی
النَّدَابُ - مہر - فضیلتوں کی طرف
پیش قدمی کرنا - اِلَّا حِجَّتْ - ذہین -
شریعت - دانا کم حاجت جو فَلَانًا
وَأَسَدًا بَادًا - گوسس نَدَابًا -
تیر گھڑا۔

تَنْخَنَخَ فَلَا نَا - جھوننا - بھانا نَخْنَخَ
الرَّجُلُ تِيرِينًا - نَخْنَخَ بِالْأَبْلِ
اونٹ کو اچھ کر بھانا۔

نَخَا يَنْخُو نَخْوَةً - الرَّجُلُ تَوَلَّى كَرْنَا
نَخِي نَخْوَةً - الرَّجُلُ - فز کرنا - غلٹ
ظاہر کرنا۔

أَنْخَى اِنخَاءً - نَخْوَتٌ وَتَكْبَرٌ مِ بَرْمَا
إِسْتَخَى اِسْتِخَاءً - عَلَيْنَا - غرور سے پیش آنا
- مِ كَذَا - تنگ جانا۔

النَّخْوَةُ - مہر - بہادری - مروت - بڑائی
مہر - فخر۔

نَدَاؤُكَ (ن) نَدَاؤُكَ اَو نَدَاؤُكَ
و نَدَاؤُكَ - البَعِيرُ - اونٹ کا بک
کر بھاننا۔

نَدَادٌ - اَلْأَبْلُ - اونٹوں کو متفرق کرنا
- بالشئ - رگوں میں شائع اور مشہور
کرنا - بَعْلَانٌ کسی کے عیوب کو
قیح بات سنانا - صَوْنَةُ اَوَاذٍ
بند کرنا۔

أَسَدًا - اَلْأَبْلُ - اونٹوں کو متفرق کرنا
نَدَاؤُكَ مَدَاؤُكَ - مخالفت کرنا۔
تَدَادٌ - الْقَوْمُ - باہم منافرت کرنا۔
مخالفت کرنا بھرتا - بچھٹنا۔

تَدَادَتِ اَلْأَبْلُ - بک کر بھاگ جانا
النَّدَاؤُ - قَا - قَلْبٌ لَمْرًا نَدَاؤُ - ان کے لئے
ردق نہیں جو مَدَاؤُ

النَّدَاؤُ - اَو بِنَا مِيلًا - پہاڑی -
النَّدَاؤُ - مِثْلُ - نَظِيرًا - مَالًا - نَدَاؤُ - اس کی
کوئی نظیر نہیں جو اَسَدًا
النَّدَاؤُ وَالنَّدَاؤُ - اگر کی کوئی
النَّدَاؤُ نَدَاؤُ - نَدَاؤُ - م
نَدَاؤُ - مِثْلُ - نَدَاؤُ -

النَّدَاؤُ - مِثْلُ - نَدَاؤُ - مِثْلُ
ذَهَبًا اَلْمَاوِيَّةَ وَنَدَاؤُ
وہ چاروں طرف پراگندہ ہو گئے۔

ہوتا ہے - جِزَامٌ مَغْرًا - کٹنے کی جگہ۔
نَخَفَ (ن) نَخْفًا وَنَخْفًا - بکری
کا چھینکے وقت آواز نکالنا۔

النَّخَفَ - چھینکے ہوئے بہت آواز نکالنا
النَّخْفَةُ - پہاڑ کی چوٹی کا گرمھا۔
النَّخْفَانُ - مودہ ج : اَنْخَفَ

نَخَلَ (ن) نَخْلًا - الدَّقِيقُ - اُطَا جَانَا
بھوسا نکالنا - المِثْلُ - پسند کرنا۔
صاف کرنا - اَلنَّصِيحَةُ اَو الْوَدَّ

بَعْلَانٌ - خالص دوستی یا نصیحت کرنا
(ن) وَ يَغْلِبُ اَلنَّصِيحَةُ - اَلنَّخْلُجُ

بادل کا برف گرانا۔
تَنْخَلٌ وَ اِنْتَمَلٌ - المِثْلُ - چننا
مردہ حقیقت لینا۔

النَّخْلُ وَالنَّخِيلُ - درخت فرما۔
واحد (نَخْلَةٌ وَ نَخِيلَةٌ)
النَّخَالَةُ - بھوسا - چھان

النَّخِيلَةُ - بھوسا - خالص غیر خرابی
ج تَحَايَلٌ - لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلْأَ
نَحَايَلُ اَلْقُلُوبِ - یعنی اللہ تعالیٰ

صرف خالص نیتوں کو قبول فرماتا ہے
النَّخِيلُ - نَا - اَتَدَا نَخِيلُ الصَّدْرِ
مہر فرض نصیحت کرنے والا ہے

النَّخَالُ - بہت کھجور کے درختوں والا
آگ بھانسنے والا۔
النَّخَالُ وَ اَلنَّخَالُ - چھان جو مَنَاخِلُ

نَخَمَ (ن) نَخْمًا - كَمِينًا - عمدہ گانا
صفت (نَخْمِي)

نَخَمَ (س) نَخْمًا وَ نَخْمًا وَ نَخْمًا
کھنکارتا - ناک صاف کرنا۔
نَخَمَ (س) نَخْمًا - الرَّجُلُ - کھنکا۔

النَّخَامَةُ - کھنکارتا - زینٹ - بے غم
النَّخْمَةُ - کھنکار - زینٹ - حسن۔
بہادری - تمہیر۔
نَخْنَخَ اَلْبَعِيرُ - اونٹ کو بھانا۔

— بِالرُّمَحِ أَوْ الْكَلَامِ بِمِزَانِ
 بَرَأْنَا - الرَّجُلُ - عَمَّ كَيْفَ كَرَّمْنَا كَلِمَةً
 الْعَصْرَ بِبَحْوِ كَالِ سِنَا -
 سَيَّعَ - الْعَبِيَّ كَرَّمَا يَجَانَا -
 سَلَّحَ الْعَبِيَّ - كَرَّمَا يَجَانَا -
 بِرُخْكَ الْهَادِيَانَا -
 نَادَعَهُ - بِأَهْمِ عَشْقِ بَازِي كَرْنَا -
 أَسَدًا مِثْلًا - بِرُءُوسِ سُلُوكِ عَيْشِ أَنَا
 أَسَدًا مِثْلًا - أَهْمَتُهُ سَهْنًا - مَسْكِرَانَا -
 السَّدْعُ وَالنَّدْعُ - جِنْغَلِي صَقْرُ
 السَّدْعَةُ وَالْمَسَدَةُ - نَاحِنُ كِي
 جَرِي سَفِيدِي -
 أَلْمَسَدُغُ - نِيرُ مَارْتِ وَالْأَيَاكِلَامِ سِ
 دَكْرُ بِنِجَانِي وَاللَا -
 سَدَاتُ رَمِي، سَدَاتُ قَا - الْقَطُنُ - رَوِي
 دَحْنًا - بِالْقَوْمِ أَوْ الْمَرْبُورِ -
 سَارِغِي بَجَانَا - الطَّعَامُ - كَمَا نَاكَهَاتَا
 الدَّابَّةُ - جَانُورُ كُوخْتِي سِ بَاكْمَا -
 نَدَاكَتُ السَّمَاءُ بِالشَّلْحِجِ - آسَان
 كَابَرَفِ مَرَانَا -
 سَدَاكَتُ رَن، سَدَا قَا وَنَدَا قَا وَ
 نَدَا قَا قَا - الدَّابَّةُ - جَانُورُ كُوخْتِي
 سِ بَاكْمَا - اس كَارْفَارِي مِزِي سِ
 دُونِ اَكْلِي نَانُكُونِ كَرْمِرَانَا -
 أَسَدَاتُ - بِرَبِي كِي آوَاذِ كِي طَرَفِ أَلِ هُونَا
 - الدَّابَّةُ - جَانُورُ كُوخْتِي سِ بَاكْمَا
 أَنْكَلِبُ كَتِي كَرْمِرَانَا -
 سَدَاتُ سَدَا قَا - الْقَطُنُ - دَحْنًا
 السَّدْقَةُ - مَحْرُورُ سَادُودِ -
 السَّدَاتُ - رَوِي دَحْنُ وَاللَا - بِرَبِي
 لَوَا - سَهْتِ كَانِي وَاللَا -
 السَّدَا قَا - رَوِي دَحْنُ كَا پَرِي
 السَّدَا قَا - دَحْنُ هُونِي رَوِي -
 السَّدَاتُ وَالْمَسَدَاتُ - رَوِي دَحْنُ
 كِي كَمَانِ -

سَدَل رَن، سَدَلَا - الْعَشِي - كَيْفِيْنَا -
 جَدِي سِ اَكْ لِينَا مَسْتَقَلِ كَرْنَا -
 - الدَّلُورُ مِثْلُ الْبِرِّ - دُولِ كُنُورِ
 سِ نَاكَهَاتَا - بِسَكْمِ - بِأَسْحَابِ كَرْنَا -
 سَدَاكَتُ (س)، سَدَلَا - يَكَاةُ - دَا مَحْ
 كَا مِيلَا هُونَا -
 سَدَلُ وَتَمَدَّلُ - بِالْمَسْدُولِ رَعَالِ
 يَا تُولِي سِ بِوَجْهِنَا - رَوَالِ سِر
 بِرَبِيْنَا -
 أَسَدَلُ - الْمَالُ - بِرَوَاشْتِ كَرْنَا -
 السَّدَلُ سِر - مِيلِ كَيْفِي -
 السَّدُولُ - كَمَا نَاكَهَاتِي وَاللَّيْ خَاوِمِ -
 السَّدَلُ - مَوْزِ عَشِيرِ رَاكِرُوِي -
 جِ مَنَادُولِ -
 السَّدَلُ وَالْمَسْدُولُ وَالْمَسْدُولُ
 رَوَالِ - تُولِي جِ مَنَادُولِ وَمَنَادُولِ
 سَدَاكَتُ (س)، سَدَا قَا وَنَدَا قَا وَ
 سَدَاكَتُ سَعْلَى مَا فَعَلُ كِي سِرِنَاوَمِ
 وَبِشِيَانِ هُونَا -
 أَسَدَامَةُ - بِشِيَانِ كَرْنَا -
 نَادَمَةُ نِيدَا مَنَا وَمَنَادَمَةُ -
 عَلِي الشَّرَابِ - بِمِ نَشِينِ هُونَا -
 تَنَادَمَ الْقَوْمُ عَلِي الشَّرَابِ -
 عَمِ نَشِينِ كَرْنَا -
 أَسَدَامَةُ الْآهَمُ - آسَانِ هُونَا -
 حَتَا مَا أَسَدَامَةُ جَوْمِيرِ هُولِ -
 السَّدَامُ جِ نَادِ مَوْتِ دُنْدَا مَرُ وَ
 السَّدَامَاتُ جِ نَدَا مَعِي وَنَدَا مَانِ
 مَوْتِ نَدَا مَا نَدَا وَنَدَا مَعِي نَادَمِ
 بِشِيَانِ -
 الْكِنْدَامَانُ شَرَابِ پِينِي كَا سَاهِي -
 السَّدَامُ - تِيرِ طَبِيعَتِ - دَانَا - زِيرِكِ
 السَّدَامُ - مَعِر - اَثَرِ - نَشَانِ -
 السَّدِيمُ وَالنَّدِيمَةُ - شَرَابِ پِينِي مِ
 سَاهِي - رَفِيقِ وَ سَاهِي جِ نَدَا مَرُ

وَنَدَا مَا رُو نَدَا مَانِ -
 السَّدَامُ - نَدَامَتِ - بِطَبِيعَتِي -
 السَّدَامَةُ - بِأَمْتِ - نَدَامَتِ -
 سَدَا (س)، سَدَا هَا - الرَّجُلُ - آوَا دُونَا
 الرَّجُلُ - دَانُنَا - جَوْرُ كَانِ - جَلَا كَر
 دَحْتَا كَرْنَا - الْآبِلِ - اَكْمَلَا بَاكْمَانِ -
 اِسْتَدَاةُ وَاسْتَدَاةُ - الْآمُرُ وَ كَامِ
 وَرَسْتِ هُونَا -
 السَّدَاهَةُ وَالسَّدَاهَةُ - مِوَلِي كِي كَثْرَتِ
 السَّدَاهَةُ - آوَاذِ -
 السَّدَاةُ - دَحْمِيَا - جَوْرُ كِيَا -
 سَدَا يَسَدَاوَا سَدَاوَا - الْقَوْمِ
 جَمِ هُونَا - مَعْلِسِ مِ حَاضِرِ هُونَا - الْقَوْمِ
 مَعْلِسِ مِ جَمِ كَرْنَا - الرَّجُلُ وَبِجَمِشِشِ
 كَرْنَا - اَكْمَلِ هُونَا - جَدَا هُونَا - الْعَشِي
 كَجَرْنَا -
 سَدَا يَسَدَا يَسَدَا يَسَدَا وَنَدَا آوَاةُ
 وَنَدَاوَاةُ - الشَّيْءُ - كَيْفَا هُونَا -
 تَرْمُونَا - الْآرَضِي - تَرْمِي بِهِنِجَانَا -
 - الْصَوْتُ - دَوْرُ كِي هُونَا - كَتِي هِي
 " كَمَا يَسَدَا مِهْمُ نَدَاوَا هِي سِ
 كَوْنِي نَشِينِ رَا -
 سَدَا يَسَدَا يَسَدَا - الشَّيْءُ - تَرْمِي -
 - الْعَرَسُ - كَهُوْرُ كِي پَانِي پَلَانَا -
 كَهُوْرُ كِي دَوْرُ كِي سِينِي سِ تَرْمِي
 نَادِي مَنَادَاةُ وَنَدَاةُ - الرَّجُلُ وَ
 بَارِجِلِ - پِكَارْنَا - فَلَآنَا - كِي كِي
 مَعْلِسِ مِ اِنَا بِمِ نَشِينِ بِنَانَا - مَنَافَرَتِ
 كَرْنَا - نَادِي لَيْسِيوَا رَاظَاهِرِ
 كَرْنَا - الشَّيْءُ - دَكِينَا - جَانَانَا -
 فَلَآنَا - مَشُورَه كَرْنَا - اَلنَّهْيَةُ
 بِنَاتَاتِ كَا اَكْمَلِ اَوْرُ كِنَانِ هُونَا -
 آسَدَا يَسَدَاةُ - الرَّجُلُ - بِرَوَا سَتِي
 هُونَا - دَاوُودِ مِثْلِ وَاللَا هُونَا - الشَّيْءُ
 تَرْمِي - اَكْمَلِ - كَلَامِ كَا مَسْنِي وَ لِي

پلکنے والے کو یہ عاقبت کے خوف سے
پسینے سے تر کر دینا۔

تَنَادَى - الرَّجُلُ - سخی ہونا، مہربان ہونا
سیراب ہونا۔ المکان کسی جگہ کا تر
ہونا۔

تَنَادَى - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو پکارنا
(ب- وَاِتَدَى) الْقَوْمُ - مجلس
میں جمع ہونا وَاِتَدَى الرَّجُلُ
مجلس میں حاضر ہونا حَاِثًا اِتْدَايَتُ
مِنْهُ شَيْئًا - میں نے اس سے کچھ بھلائی
نہیں پائی۔

التَدَاي - معرہ - بارش - گھاس - بھینم -
ترمی - خوشبو - انتہار - فیاضی - فضل
و جھلائی - چربی - ج - اَتْدَاوْ اَتْدَايَةَ
الْمِنْدَاوْ اَتْدَاوْ اَتْدَاوْ - آواز - پکار
التَدَاوْة - جماعت - مجلس -
دَارُ التَدَاوْة - مقام - اجتماع
مشارت - التَدَاوْة - سخاوت،
مشورہ -

التَدَاوْة - اونٹوں کے پانی پینے کی جگہ
التَدَاوْة وَ التَدَاوْة - جڑ گیا۔ فَلَانٌ
تَدَاوْةً اَلْكَفَّ وَ تَدَاوْةً اَلْكَفَّ فَلَانٌ
سخی اور فیاض ہے۔ مَوْنَتْ تَدَاوْةً
وَ تَدَاوْةً - التَدَاوْةً مجلس کھتے
ہیں۔ تَدَاوْةً اَلْقَوْتِ یعنی وہ دل
پسند ہلندہ آواز والا ہے۔

التَدَاوْة - گیلہ -

التَدَاوْة - نا مجلس جہ اَتْدَاوْةً وَ
تَدَاوْةً وَ حَجَّ اَتْدَاوْةً -

التَدَاوْة - مَوْنَتْ التَدَاوْةً - جہ

تَدَاوْةً وَ تَدَاوْةً - تَدَاوْةً اَلْكَفَّ

چیز کی ابتداء میں۔ تَدَاوْةً اَلْكَفَّ

حوادث زمانہ۔ التَدَاوْةً اَلْكَفَّ

منتشر اور بھیاں۔ تَدَاوْةً اَلْكَفَّ

وہ کھری جو پانی سے دُور ہوں۔

الْاِتْدَاوْةً - ام تفعیل کتے ہیں فَلَانٌ

اِتْدَاوْةً مِّنْ فَلَانٍ فَلَانٌ فَلَانٌ

سے زیادہ فیاض و صاحب خیر ہے

هُوَ اِتْدَاوْةً صَوْتًا مِثْلَهُ اُسْ كِي

آواز اس سے زیادہ دل پسند اور بلند ہے

التَدَاوْةً - معرہ - تَدَاوْةً التَدَاوْةً - روز قیامت

التَدَاوْةً - معرہ - تَدَاوْةً اَلْكَفَّ -

گھوڑوں کو چھریا بدن بنانا اور دوڑ

کر سینے سے تر کرنا۔

المُتَدَاوْةً - گھوڑوں کو چھریا بدن بنانے

کی جگہ۔

المُتَدَاوْةً - شرمناک کلمہ - جہ

مُتَدَاوْةً -

المُتَدَاوْةً - مجلس

مُتَدَاوْةً - تَدَاوْةً اَلْكَفَّ - رینٹ یا کھنکار

کھٹ یا پیشاب کرنا۔

التَدَاوْةً - ناک سے نکلی ہوئی ریزش

یا سینے سے نکلا ہوا بلغم - رینٹ

کھنکار - شرمک -

تَدَاوْةً مِّنْ تَدَاوْةً اَلْكَفَّ وَ مِمَّا

تَدَاوْةً - تَدَاوْةً اَلْكَفَّ فَلَانًا

لشکر نے فلاں کو دید بان بنایا۔

اَلْاَبُّ اَلْوَلَدَ - باپ کا بیٹے

کو خادم کلیسا بنانا۔

تَدَاوْةً مِمَّا تَدَاوْةً - یہ جان کر

چرکنا ہونا اور تیلدی کرنا کتے ہیں

تَدَاوْةً اَلْكَفَّ وَ تَدَاوْةً اَلْكَفَّ

سے باخبر ہو کر چرکے ہو گئے۔

اَتْدَاوْةً بِالْاَلْكَفَّ اَتْدَاوْةً اَلْكَفَّ

وَ تَدَاوْةً اَلْكَفَّ وَ تَدَاوْةً اَلْكَفَّ -

واقف کرنا یا خبر کرنا اور تمام سے

ڈرانا۔

تَدَاوْةً - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو شرو

برائی سے ڈرانا۔

اِتْدَاوْةً - عَلَى نَفْسِهِ كَذَا وَ اَجْبَتْ

اَلْتَدَاوْةً - معرہ - تَدَاوْةً - زخم - اشکے لئے

مانی ہونے چیر جہ مُتَدَاوْةً

التَدَاوْةً وَ التَدَاوْةً اَلْكَفَّ اَلْكَفَّ

التَدَاوْةً - معرہ - ام یعنی انداز - ڈرائیوالا۔

قاصد - برطحا یا جہ مُتَدَاوْةً -

التَدَاوْةً - تَدَاوْةً - تَدَاوْةً - شکر کا

دید بان جگہ فوج کی دیکھ بھال کرنے

والی جماعت ڈرائیوالا تَدَاوْةً -

المُتَدَاوْةً - فَا - ڈرائیوالا - اَبُو الْمُتَدَاوْةً

مَرُخ - اَبُو الْمُتَدَاوْةً - حیرہ کا ایک

بادشاہ کی کنیت جس کا نام نعمان تھا۔

اَلْمُنَادَاوْةً - شَاہَانِ حِرَہ -

اَلْمُنَادَاوْةً - شیر -

تَدَاوْةً مِّنْ تَدَاوْةً - اَلْمَاءُ اَوِ الْعَرَقُ -

پانی یا پسینہ کا ٹکنا۔

التَدَاوْةً - پانی وغیرہ کا قطرہ

تَدَاوْةً مِّنْ تَدَاوْةً وَ تَدَاوْةً مِّنْ تَدَاوْةً

خسب و حقیر ہونا۔ دین و حساب میں

گرا ہوا ہونا۔ صفت تَدَاوْةً جہ

اَتْدَاوْةً وَ تَدَاوْةً وَ تَدَاوْةً جہ

تَدَاوْةً مِّنْ تَدَاوْةً -

التَدَاوْةً وَ التَدَاوْةً - تَدَاوْةً - واد

تَدَاوْةً -

التَدَاوْةً وَ التَدَاوْةً - تَدَاوْةً - ناریل -

واحد (ناریل) اَلْمُنَادَاوْةً

حقہ - عوام اس کو اڑکھتے ہیں۔

اَلْكَوْةً - کھجور کے پتوں کا قبیلہ جو بیچے

کی جانب سے چور ہوا ہوتا ہے ایک

قسم کا کھیل۔

التَدَاوْةً وَ التَدَاوْةً - تَدَاوْةً - تَدَاوْةً

التَدَاوْةً وَ التَدَاوْةً - تَدَاوْةً - تَدَاوْةً

تَدَاوْةً (تَدَاوْةً) تَدَاوْةً وَ تَدَاوْةً -

المکان - بہت چٹھوں والی جگہ ہونا

تَدَاوْةً اَلْكَفَّ - تَدَاوْةً - تَدَاوْةً

کا حرکت کرنا۔ تَدَاوْةً مِّنْ تَدَاوْةً

دور ہونا۔ اکیلا ہونا۔ نذیذ (کلمہ)
 ہرن کا دوڑنا۔ آواز نکالنا۔ آنکڑ
 الشیء چیز کا سخت ہونا۔
 نذز۔ فلأھا عن کذا۔ ہرک رکھنا
 دور کرنا۔ ہرن کا بچہ کو پرورش
 کرنا۔
 نازہ متازة۔ فز میں مقابلہ کرنا۔
 النذوا النذی۔ زمین سے پھوٹ کر
 نکلنے والا پانی۔ جہ نذوز
 النذوا النذی۔ چست۔ تیز قدم۔
 خوش طبع۔ ایک جگہ نہ نکلنے والا۔
 رجل نذی۔ برائی کی طرف
 میلان رکھنے والا آدمی۔
 النذی۔ اسم مرہ۔ بہت خواہش۔
 ناذی نذی۔ سبک ادب۔
 النذاز۔ جھگڑا کرنا۔ مقابلہ کے طریقہ
 پر کسی شے کی طرف رغبت کرنا چھٹنا
 النذی۔ ہکا بھکا۔ پھلانا رہنے والا
 خوش طبع۔ خواہش مند
 المنذی۔ بہت حرکت کرنے والا گھوراہ
 نذازن نذوا و نذوا۔ بین القوم
 قوم کو بھڑکانا اور فساد ڈالنا۔
 نذازم علی فلان۔ حملہ کرنا۔
 فلأنا علیکم۔ برخلاف اگساتا
 عن کذا۔ شوقین ہونا صفت
 مغولی (منذوم) یہ۔
 رجل نذی۔ بہت شیفتر فریفتہ
 النذی۔ چھوٹی مشک
 نذیب (من) نذیب و نذیباً
 النذی۔ ہرن کا آواز نکالنا۔
 نذیبوا۔ باللقاب۔ ایک دوسرے
 کو بڑے لقب دینا۔
 النذیب۔ لقب جہ انذاب۔
 النذیب۔ زہرن۔ بیل۔
 نذج (من) نذجاً۔ الغلام رطکے

کانا چنا۔
 نذح (من) نذحاً و نذوحاً۔ دور ہونا۔
 نذحیت البئر۔ کنویں کے پانی کا بہت
 کم ہونا یا بالکل ختم ہونا صفت (ناذح
 و نذوح و نذوح) ماء لا یذح
 نہ ختم ہونے والا پانی۔ (و انذح)
 البئر کنویں کا پانی اتنا نکال کر بہت
 کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے القوم
 قوم کے کنوؤں کا پانی کم ہونا۔
 نذح۔ بغلان اپنے وطن سے بہت دور
 چلا جانا۔
 انذح۔ عن دیارہ۔ اپنے وطن سے
 دور ہونا۔
 نذح۔ دور ہونا۔
 النذح۔ گدلا پانی۔ وہ کنواں جس کا اکثر
 پانی نکال لیا گیا ہو یا پانی اس میں بالکل
 نہ ہو۔ انذح۔
 النذح و النذیح و النذوح۔ دور
 المنذح۔ دوری۔ قوم مناذیح ملتے
 وطنوں سے دور آنا۔
 المنذح۔ ڈول جہ مناذح۔
 نذح (من) نذحاً۔ سوال کرتے میں ہمارا
 کرنا۔ جلدی کرنا۔ نذح الشیء۔
 کم سمجھنا۔ فلأنا حکم دنیا۔ حیر
 جاننا۔ تصور تصور اور وصل کرنا۔
 النذاب ملاتاً۔ شراب کا کسی کو
 مست کرنا۔
 نذرن (من) نذراً و نذراً و
 نذارة و نذورة۔ کم ہونا۔
 نذارة الرجل۔ بے برکت ہونا
 النذی۔ ادبھی کا دودھ کم ہونا
 نذروا نذروا۔ العطاء علیہ تصور دینا
 نذروا۔ الشیء کم ہونا۔ نذروا مع النذی
 کم لینا۔
 النذوا النذی۔ بہت کم۔ نذیوکی

جہ نذر۔ رجل نذیر کم غیر آدمی۔
 النذر۔ اونٹنی کے تھن کا درم۔
 النذرة و النذور۔ من النساء۔
 تھوڑے بچوں یا کم دودھ والی عورت
 النذور۔ کم گو۔ تھوڑی چیز جہ نذر
 النذور۔ بہت کم
 نذع (من) نذعاً۔ الشیء من مکانہ۔
 اکھیرنا۔ الامیر و المال معزول کرنا
 بالسهم۔ تیر پھینکنا۔ فی القوس
 کمان کھینچنا۔ عن القوس کمان سے
 پھینکنا۔ الذو و بالذو۔ ڈول
 نکالنا۔ کھینچنا۔ یدہ ہاتھ گر بیان
 سے نکالنا۔ الشمس۔ سورج کا
 مغرب کی طرف جھکانا۔ المرین۔
 قریب المرگ ہونا۔
 نذع (من) نذوعاً۔ عن کذا۔ رکتا
 باز رہنا۔ ألوکد أباه و الی اہلہ۔
 مشا بہ ہونا۔
 نذع (من) نذاعاً و نذوعاً۔ الی
 آہلہ۔ مشاق ہونا۔ نذاعاً
 الی الشیء ہانا۔ نذعاً۔ الی
 کذا۔ اس کا فلاں چیز کی طرف میلان
 ہے۔ یغلان الی کذا۔ بلانا۔
 نذع (من) نذعاً۔ کنپٹیوں سے گنجا ہونا
 صفت (انذوم) مؤنث نذعاً
 نذع نذاعاً۔ المرین۔ قریب المرگ
 ہوتا۔ نذعاً نذاعاً و مناذعاً
 جھکنا۔ نذعاً النذیب۔ کپڑا
 پھوڑ کر کھینچنا۔ أرضی نذاعاً
 أرضکم۔ میری زمین تمہارا زمین سے
 متصل ہے۔ نذعاً الی آہلہ۔
 مشاق ہونا۔ فلأنا۔ مصافحہ کرنا۔
 انکاسی۔ پیالہ دینا۔
 نذع الشیء من مکانہ۔ چیز کو اس کی
 جگہ سے اکھیرنا۔

انزوع۔ الرجیل۔ نگی کنٹی مالا ہونا۔
تنزوع۔ ایلیہ۔ دور کہ جانا۔
تنازوع۔ القوم۔ باہم اختلاف کرنا۔
تنازعو العقیقہ۔ اپنی اپنی طرف کھینچنا۔
انگاس۔ پیالہ ایک دوسرے کو دینا
فی الشیء۔ جھگڑا کرنا۔

انتزوع۔ العقیقہ چیز کا اگھڑنا۔ العقیقہ
اگھڑنا۔ روکنا۔ باز رہنا۔
انتزوع بالشعر أو الأبیہ۔ شعر یا
آیت کی مثال لانا۔ کوئی عمدہ معنی پیش
کرے ترکتے ہیں قدا انتزوع معنی
جیدا۔

انتزوع عن الشیء۔ روک جانے کی
درخواست کرنا۔
النزوع والنزاع والمنازعة و
نزوع الحیاة۔ موت کے قریب
کی حالت۔ حالت نزوع۔

النزاع والنزاعة والمنازعة
جھگڑا
النزعة۔ نازع کی جمع۔ تیر جھینکنے والے
کتنے ہیں عادۃ الستمم الی النزاع
حق مقدار کو مل گیا۔ صار لأمم
الی النزعة۔ کام قابل آدمی کے
باتھ آگیا۔

النزعة۔ کنٹیوں پر بال جھرنے کی
جگہ۔ نزعات۔ النزعة۔
بھاڑی راستہ۔

النزاع۔ فاسافر وطن سے دور
جہ نزعة۔ و نزوع و نزاع مرث
نازعة۔ جہ کو ازیم و نازعات
النزاع۔ مسافر۔ اجنبی۔ دور۔ کم گرا
کنواں۔ وطن کا مشتاق۔ لوندی کا
بچہ۔ شریف۔ اچھی نسل کا گھوڑا
جہ نزاع۔ نزاع القباہل۔

قبائل کے پڑوس میں رہنے والے اجنبی

لوگ۔ الکوزیع۔ چننا ہوا میل۔
موت۔ کزینة۔ جہ نزاع۔
النزعة۔ من النساء۔ وہ عورت جس
کی شادی دوسری قوم میں کی گئی ہو۔
وطن کی مشتاق عورت۔ من النجاة۔
وہ اسیل اونٹیاں جن کو دوسرے ملک
میں لے گئے ہوں۔ جہ۔ نزاع۔
النزاع۔ چوبانی ہوا۔ من الابل
والخیل۔ مسافروں سے چھینے ہوئے
اونٹ یا گھوڑے۔

النزوع۔ وطن کا مشتاق۔ سب
نزوع۔ کم گرا کنواں۔ نکلا
دور کا صواء۔ جہ نزوع و نزاع۔
النزاع۔ ہاتھ سے اگھڑ کر پھینکی ہوئی
چیز۔

النزوع۔ کنٹیوں پر سے گنجا۔ موت
نزاع۔
المنزوع۔ کھینچنے کی جگہ۔ جہ منازع۔
المنزوع۔ دور پھینکا ہوا تیر۔ سختی سے
اگھڑنے والا۔

المنزعة۔ جھگڑا۔ شہد اٹھانے کی چوڑی
نکروی۔

المنزعة والمنزعة۔ بہت بکرو
تدبیر۔ تفراب طیب المنزعة
لذیہ شراب۔

نزوع۔ (ن) نزوعا۔ ہاتھ سے ٹھونسنا
مارنا یا نیرہ مارنا۔ خفیت سی حرکت
دینا۔ نسبت کرنا۔ عیب لگانا۔
بکلیتہ طعن و تشلیع کرنا۔

نزوع رف من، نزوعا۔ بین القوم
اختلاف ڈالنا۔ ایک دوسرے کے
برخلاف اگھڑنا۔

النزوع۔ مع۔ اگھڑنے والا کلام۔
نزوع الشیطان۔ شیطان دوسرے
النزعة۔ نزوع کا ام مرہ۔ طعن و تشلیع

جہ نزعات۔
النزاع والنزاع والنزاع۔
نسبت کرنے والا۔ فساد ڈالنے والا
النزاع۔ موت النازع۔ جہ
نوازع۔ النوازع۔ فساد ڈالنے
والیاں۔

النزعة۔ بر اکھ
نزعت رصن، نزوعا۔ ماء البیڑ۔ کنز
کا تمام پانی نکال ڈالنا۔ البیڑ
کنز کا سب پانی نکالنا۔ فساد ڈالنے
کسی کا خون کھینچنا یا نصد سے نکالنا۔

نزعت۔ انزوع کر دینا۔
الدم فلانا۔ خون کے زیادہ خارج
ہونے سے کمزور و ضعیف ہو جانا۔

نزعت۔ ماء البیڑ۔ کنز کا سب پانی
نکالنا۔ الرجیل۔ بے عقل ہونا
یا بدست ہونا۔ فی العصومۃ
جھگڑے میں دلیل پیش نہ کر سکا۔
نزعت الرجیل دما۔ نکسیر کے ذریعہ
سارا خون نکل جانا۔

نزعت۔ (س) نزوعا۔ غیرت، آنسو کا
خشک ہونا۔

انزعت۔ البیڑ۔ سب پانی نکال لینا
العبرات۔ آنسو خشک کرنا۔
انزعت البیڑ۔ کنز کا سارا پانی
نکل جانا۔ انزعت الرجیل۔ دوی
کا نادر ہونا۔ بدست ہونا یا بے عقل
ہونا۔ جھگڑے میں حجت ختم ہونا۔

انزعت۔ السداع أو السداع
آنسو یا پانی کو خشک کرنا۔ سب
نکال لینا۔

انزعت۔ مع۔ نزعت الدم۔ خون کا
بہنا۔

انزعت۔ کنز کے پانی کا اخراج۔
بہت طن نکل جانے سے پیدا شدہ کمزوری

النَّازِقُ - فا - عِزُّ نَارِقٌ - رگ جس سے خون جاری نہ ہو ج - نُزُقُ النَّزِقَةَ - پانی وغیرہ کی تھوڑی مقدار النَّزُوقُ - گناہ جس کا سب پانی اترنے سے نکال یا گیا ہو -

نَزَاتٍ - اسم فعل معنی امر - سب پانی نکالنے کے لیے نَزَاتٍ وَالْمُنَزُوقُ - زیادہ خون جاری ہونے سے کمزور - پیاس سے خشک زبان والا - النَّزِيفُ - یدت تب والا - الْمُنَزُوقُ - بے عقل - الْمُنَزُوقَةُ - جس سے پانی نکالا جائے نَزِقٌ (س) نَزَقًا وَنَزُوقًا - ارجلُ غصہ سے خفیف العقل ہونا - طیش میں آنا - صفت (نَزِقٌ) مَوْتٌ نَزِقَةٌ - (نَزَقًا) الْاِنَاءُ - برتن کا کناروں تک بھرنا -

نَزِقٌ (س) وَنَزِقٌ (ن) نَزَقًا وَنَزُوقًا - الْقَرْسُ - گھوڑے کا کودنا - اچھلنا -

نَزِقٌ (ن) نَزَقًا - الْاِنَاءُ - برتن بھرنا نَزِقٌ وَانَزِقٌ - الْقَرْسُ - گھوڑے کو کودانا - انَزِقُ الرَّجُلُ فِي الصَّيْدِ - بہت بہنسا - فَلانٌ عَقْلٌ كَعَبْدِكَ عَقْلٌ هُونًا - الْبَغِيْمُ فُلَانًا سَبِكِي بِرَبِّكَ عَجَبًا كَرَانًا -

نَارِقٌ - نَزَاقًا وَمَنَارِقَةٌ - قَرِيبٌ هُونًا - گالی دینا -

تَنَارِقًا - ایک دوسرے کو گالی دینا - النَّزِقُ - مہر - سبکی جہات و صہات سے عہد بازی - مَكَانٌ نَزِقٌ - قَرِيبٌ جَبَلٌ -

النَّزِقَةُ - ام مرقہ - دودھ کا آواز النَّزِيقُ - چھوٹا نیزہ - ج نِيَارِقُ النَّزِاقُ وَالنَّزِيقَةُ - مِنَ السُّوقِ سَرَكَشِ اَوْسَمِي -

النَّازِقُ - بہت باتیں کرنے والا -

نَزَاكَةٌ (ن) نَزَاكَتًا - نیزہ مارنا - عیب لگانا بجا لگانا - ناحق بات کہنا

النَّزَاكُ وَالنَّزَاكُ - عیب لگانے والا النَّزِيكَاثُ - شریر لوگ -

النَّزِيكُ - چھوٹا نیزہ - ج نِيَارِكٌ تُوْتِيهِ وَاللَّيْلُ سَارِيهِ

نَزَلٌ (ن) نَزُولًا اَوْ نَزْلًا - بہ اترنا -

بِمِ الْاَمْرِ - واقع ہونا - فُلَانٌ عَنِ الْحَقِّ - اپنا حق چھوڑ دینا -

نَزَاكَةٌ (ن) سَفَرٌ كَرَانًا نَزُولًا وَنَزَاكَةً (ن) مَنَزَلًا وَنَزَاكَةً (ن) الْقَوْمَ بِالْقَوْمِ وَعَلَى الْقَوْمِ كَمَنْ لَمْ يَمَانُ اَوْ تَمَانًا

نَزَلٌ (س) نَزَلَةٌ - الرَّجُلُ - دکام ہونا (نَزَلًا) النَّوْزُوعُ - کھیتی کا برہنا

النَّكَانُ - سختی کی وجہ سے تھوڑی بارش سے بہنے والی جگہ ہونا -

نَزَلًا - اترنا - نَزَلًا مَرْتَبًا كَرَانًا الشَّيْءُ مَرَكَانَ الْعَمَلُ مَقَامًا كَرَانًا

اَنْزَلَهُ كَرَانًا عَلَى اَنْبِيَاءِهِم - انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل فرماتا - الْقَوْمُ سَازِلٌ فِي اَمْرَانَا - الْحَاكِمُ بِالرَّعْمِ رَقْمٌ كَرَانًا -

اَنْزَالَ اَنْزَالًا وَمَنْزَلًا - الشَّيْءُ اَمْرًا اَنْزَالَ الصَّيْفَ - مہمان اترنا

اَنْزَلَ الْكَلَامَ - وحی نازل فرماتا - اَنْزَلَ حَاجَتَهُ عَلَى كَرِيمٍ اس نے کریم و فیاض سے اپنی حاجت روائی کی درخواست کی -

نَزَلَهُ نَزَالًا وَمَنْزَلَةً - فِي الْحَرْبِ مَقَابِلًا اَوْ تَمَانًا اَوْ قَالًا كَرَانًا -

حَارِبًا اَوْ اَبَا حَزَالٍ - دونوں فریقوں کا اونٹوں سے اڑکھ گھوڑوں پر چڑھ کر

ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا - تَنَزَّلُ - الْقَوْمُ - اونٹوں سے اتر کر

گھوڑوں پر سوار ہونا اور لڑنا -

میدان جنگ میں اتر کر مصروف ہونا -

النَّزُومُ فِي السَّفَرِ - کبھی اس کے پاس کھانا اور کبھی اس کے پاس -

تَنَزَّلُ - مَطْهَرٌ كَرَانًا - عَنِ الْحَقِّ - اپنا حق چھوڑ دینا -

نَزَاكَةٌ (ن) سَفَرٌ كَرَانًا نَزَاكَةً (ن) مَنَزَلًا وَنَزَاكَةً (ن) الْقَوْمَ بِالْقَوْمِ وَعَلَى الْقَوْمِ كَمَنْ لَمْ يَمَانُ اَوْ تَمَانًا

گھوڑوں پر سوار ہونا اور لڑنا - میدان جنگ میں اتر کر مصروف ہونا -

النَّزُومُ فِي السَّفَرِ - کبھی اس کے پاس کھانا اور کبھی اس کے پاس -

تَنَزَّلُ - مَطْهَرٌ كَرَانًا - عَنِ الْحَقِّ - اپنا حق چھوڑ دینا -

نَزَاكَةٌ (ن) اَمْرًا اَوْ تَمَانًا - اَنْزَالَ الصَّيْفَ - مہمان اترنا

اَنْزَالَ الْكَلَامَ - وحی نازل فرماتا - اَنْزَلَ حَاجَتَهُ عَلَى كَرِيمٍ اس نے کریم و فیاض سے اپنی حاجت روائی کی درخواست کی -

نَزَلَهُ نَزَالًا وَمَنْزَلَةً - فِي الْحَرْبِ مَقَابِلًا اَوْ تَمَانًا اَوْ قَالًا كَرَانًا

حَارِبًا اَوْ اَبَا حَزَالٍ - دونوں فریقوں کا اونٹوں سے اڑکھ گھوڑوں پر چڑھ کر

ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا - تَنَزَّلُ - الْقَوْمُ - اونٹوں سے اتر کر

گھوڑوں پر سوار ہونا اور لڑنا -

میدان جنگ میں اتر کر مصروف ہونا -

النَّزُومُ فِي السَّفَرِ - کبھی اس کے پاس کھانا اور کبھی اس کے پاس -

تَنَزَّلُ - مَطْهَرٌ كَرَانًا - عَنِ الْحَقِّ - اپنا حق چھوڑ دینا -

نَزَاكَةٌ (ن) اَمْرًا اَوْ تَمَانًا - اَنْزَالَ الصَّيْفَ - مہمان اترنا

اَنْزَالَ الْكَلَامَ - وحی نازل فرماتا - اَنْزَلَ حَاجَتَهُ عَلَى كَرِيمٍ اس نے کریم و فیاض سے اپنی حاجت روائی کی درخواست کی -

نَزَلَهُ نَزَالًا وَمَنْزَلَةً - فِي الْحَرْبِ مَقَابِلًا اَوْ تَمَانًا اَوْ قَالًا كَرَانًا

حَارِبًا اَوْ اَبَا حَزَالٍ - دونوں فریقوں کا اونٹوں سے اڑکھ گھوڑوں پر چڑھ کر

ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا - تَنَزَّلُ - الْقَوْمُ - اونٹوں سے اتر کر

گھوڑوں پر سوار ہونا اور لڑنا -

میدان جنگ میں اتر کر مصروف ہونا -

النَّزُومُ فِي السَّفَرِ - کبھی اس کے پاس کھانا اور کبھی اس کے پاس -

نَسَبًا تَنْسِبُهُ - الدابة - دوانٹ کرنا۔
 اُنْتَسَبَ عَنْهُ - پیچھے ہونا۔
 اِنْتَسَبَاتِ الْاِیْمَلِ فِي الْمَرْعَى اَوْ بِلِ
 کا چراگاہ میں دوڑنا۔
 اِسْتِنَسَبَ - غریبہ - قرمزواہ سے
 مدت مانگنا۔
 النَّاسِی - فا - موٹا جانور یا انسان۔
 ج نَسَاةٌ
 اَلنَّسَاءُ - عمر کی درازی
 اَلنَّسْنُ - مع بہت پانی والا دودھ۔
 عقل زائل کرنے والی شراب موٹا پا۔
 یا اس کا آثار۔
 النَّسْنُ - گھل کر رہنے والا آدمی۔
 النَّسْنُةُ وَ النَّسْنِیَّةُ - مدت۔
 تاخیر۔
 النَّسْنِی - تاخیر بہت پانی کا دودھ۔
 الْمُنْسَاةُ وَالْمُنْسَاةُ وَالْمُنْسَاةُ
 جو اسے کا بڑا ڈنڈا۔
 نَسَبَ (ن من) نَسَبًا - و نَسِبَةً -
 الرَّجُلُ - نسب بیان کرنا۔
 دریا فت کرنا۔ نَسَبًا اِلَى فُلَانٍ
 منسوب کرنا۔ (ر) نَسَبًا وَ نَسِبًا
 وَ مَنَسِبَةً الشَّاعِرُ بِالْمَرْاةِ
 تشبیب کہنا۔ غزل میں عورت کی
 خوبی بیان کرنا
 نَسَبَةً مُنَاسِبَةً - مشابہ کرنا۔
 نسب میں شریک ہونا۔
 تَنَسَّبَ الرَّجُلُ - اَیْدُكَ - خاندان
 یا نسب میں ہونے کا دعویٰ کرنا۔
 تَنَاسَبًا - باہم مشابہ ہونا۔ تَنَاسَبَ
 الْقَوْمُ اِلَى اَحْسَابِهِمْ - منسوب
 ہونا۔
 اِنْتَسَبَ الرَّجُلُ - نسب ظاہر کرنا
 - اِلَى اَبْنِهِ مَنَسُوبٌ ہونا۔
 اِسْتَنْسَبَ - نسب بیان کرنا۔ الرَّجُلُ

نسب پر چھنا۔
 اَلنَّسَبُ - قرابت - رشتہ داری۔ ج
 اِنْسَابٌ -
 اَلنَّسَبَةُ وَ النَّسَبَةُ - قرابت
 دو چہرہ دوں کے درمیان ربط و تعلق۔
 اعداد کے درمیان کی نسبت۔
 النَّسِیْبُ - مع مناسب - قریبی۔
 رشتہ دار یا خاندانی۔ عورتوں کے
 متعلق لطیف شعر ج: اَلنَّسِیْبُ وَ
 نُسْبَاءٌ -
 اَلنَّسَابَةُ - رشتہ داری۔
 اَلنَّسَابُ ج نَسَابُونَ وَ النَّسَابَةُ
 ج نَسَابَاتٌ - نسب کا علم
 رکھنے والا۔ شجرہ کا جاننے والا۔
 اَلنَّسَبُ - زیادہ مناسب - زیادہ۔
 لائق - زیادہ آرام دہ۔
 الْمُنَاسِبُ - فا - مشابہ - رشتہ دار
 الْمُنَسُوبُ - مفعول - عشقیہ غزل ج۔
 مَنَاسِبٌ -
 نَسِیْبٌ - بئینہما - چغلیوری کے لئے
 دوڑ و صوب کرنا۔
 اَلنَّسِیْبُ - چوٹیوں کی قطاریاں
 کا راستہ۔ (و اَلنَّسِیْبَانُ) سیدھا
 واضح راستہ۔
 النَّسَوْتُ - انسان۔ انسانی فطرت
 نَسَبَ (ن من) نَسَبًا - اَلنَّسَبُ -
 کپڑا بنانا۔ اَلْکَلَامُ کَلَامٌ مَخْصُصٌ
 کرنا۔ آراستہ کرنا۔ اَلشَّاعِرُ
 اَلشَّعْرَ - شعر نظم کرنا۔ اَلْغَنِیَّةُ
 النَّبَاتُ - بارش کا نباتات کو گنجانا
 اَلْاَنَابُ - نَسَبَتِ الرَّیْحُ اَلرَّابَّ
 اَو اَلْمَاءُ - ہوا کا پانی یا ریت پر
 لہریں پیدا کرنا۔
 اِنْتَسَبَ - بنا جانا۔ دھاری والا ہونا۔
 اَلنَّسَبُ - مصر - ثَوْبٌ نَسَبٌ اَلْمَسْمُومُ

میں کا بنا ہوا کپڑا
 اَلنَّسَابَةُ - بننے کا پیشہ۔
 اَلنَّسَابُ ج - کپڑا بننے والا کلام آراستہ
 کرنے والا۔ جبرٹا۔
 اَلنَّسِیْبُ ج - بنا ہوا۔ ج نَسِیْبٌ - هُوَ
 نَسِیْبٌ وَ حِدِیْہ - وہ لاثانی ہے۔
 اَلنَّسِیْبُ - جائے نمازیں۔
 اَلنَّسِیْبَةُ - مؤنث۔ اَلنَّسِیْبُ ج۔
 نَسَابٌ -
 اَلنَّسِیْبُ وَ اَلنَّسَابُ ج - کرگ۔
 نَسِیْبٌ (ن من) نَسَبًا - طبع کرنا ملاحظہ کرنا۔
 نَسِیْبٌ (ن من) نَسَبًا - اَلرَّوَابُ مَنَسُوبٌ
 اَلنَّسِیْبُ وَ اَلنَّسَابُ ج - کھجوروں کا کوڑا
 کوٹ۔
 اَلْمُنْسَاةُ - غبار اڑا لینا آلہ۔
 نَسِیْبٌ (ن من) نَسَبًا - اَلشَّیْءُ زَالٌ کرنا
 - باطل کرنا۔ مسخ کرنا۔ مٹانا۔
 - اَلْکِتَابُ یَنْتَسِبُ کَوْرَفٌ بَوْرَفٌ نَقْلٌ کرنا
 نَسِیْبٌ مَنَسُوبٌ - ایک دوسرے کو
 محو کرنا۔
 تَنَسَبًا نَسَبًا - ایک دوسرے کو محو کرنا۔ ایک
 دوسرے کے پیچھے آنا۔ زمانہ کا پلے
 درپلے آنا۔ روح کا ایک جسم سے
 دوسرے جسم میں منتقل ہونا۔ تَنَسَبًا
 اَلْوَرَثَةُ - میراث بننے سے پہلے بعض
 وارثوں کا ہونا۔
 اِنْتَسَبَ - اَلشَّیْءُ زَالٌ کرنا۔ اَلْکِتَابُ
 کتب کو نقل کرنا۔ اَلشَّیْءُ اَلشَّیْءُ۔
 ایک چیز کا دوسری چیز کے قائم مقام ہونا
 اِسْتَنْسَبَ - اَلشَّیْءُ مَعْنٰی نَسَبًا کھنڈ
 کو کہنا۔ بِلْدَاةٍ نَسِیْبَةٍ وَ نَسِیْبَةٍ
 دُور کا شہر۔
 اَلنَّسَبَةُ - نقل کی ہوئی کتاب۔ وہ کتاب
 جس سے نقل کی جائے۔ ج نَسِیْبٌ۔
 اَلنَّسِیْبُ ج - فا۔ کتابوں کو نقل کرنے والا۔

النَّاسِئِرُ - مسموم - روح کا ایک ملک سے دوسرے
بدن میں منتقل ہونا - ایسا عقیدہ رکھنے
والوں کو تینا سنجیہ کہتے ہیں -
نَسْرًا (ن) نَسْرًا - عَنَهُ - اُتَارَنَا -
اُدھیر دانا - اَلْجُرْحُ - اَللَّحْمُ -
شکاف کر دینا الرَّجُلُ - تہمت
لگانا - بدگوئی کرنا -
نَسْرًا (ن) نَسْرًا - اَلْبَارِئِي -
باز کا چوچ سے رشتہ نچنا -
نَسْرًا - اَلْحَبْلُ - رسی کا بل کھونا -
تَنَسَّرَ - گدھوں کا شکار کرنا - اَلْحَبْلُ
رسی کا ٹوٹنا - اَلْجُرْحُ - زخم کا پھول
اور پھٹ کر مواد بہانا - اَلثَّوْبُ وَ
نَحْوُكَ - کپڑے وغیرہ کا گھس گھس کر
ختم مہر جانا -
اِسْتَنَسَرَ - اَطَّارٌ - قوت میں گورہ کی طرح
ہونا - کہتے ہیں اِنَّ اَلْبَعَاثَ بِاَرْضِنَا
لَيَسْتَنَسِرُ - سنی ہماری زمین میں کمزور
چیز بھی طاقت ور ہو جاتی ہے -
اَللَّسِيرُ - گدھ - اس کی کنیت اَبُو اَلْاَبْرَدِ
وَ اَبُو اَلْاَصْبَعِ وَ اَبُو مَالِكٍ وَ اَبُو
اَلْمِهْمَالِ وَ اَبُو يَحْيٰى ہے - مادہ کی
کنیت اَمْرٌ قَشَعَمٌ ہے ج نَسْرًا
وَ اَلنَّسْرُ وَ اَلنَّسْرُ -
اَلنَّسْرُ - گدھے کے نم کا اندرونی غدود -
ج نَسْرًا - اَلنَّسْرَانُ - دوتارے
ایک اَلنَّسْرُ اَلطَّائِرُ دوسرا اَلنَّسْرُ
اَلْوَاقِحُ -
اَلنَّسْرُ - ناسور - ہمیشہ بہنے والا زخم
ج نَسْرًا -
اَلنَّسْرِيَّةُ - عقاب
اَلْمِنْسَرُ وَ اَلْمِنْسَرُ - شکاری پندہ کی چوچ
بڑے لشکر کے آگے رہنے والا دستہ
فوج ج نَسْرًا -
اَلْمِنْسَرِيْنَ - گل سیوٹی -

نَسَعَتْ رَنًا نَسَعًا وَ نَسُوًا وَ نَسَعَتْ
اَلنَّسَانُ - دانوں کا ڈھیلے سوراخوں
والا ہونا - نَسَعٌ فَلاَنٌ فِي اَلْاَرْضِ
مک میں پھرنا - نَسُوًا الشَّيْءُ
دراز ہونا -
اَنْسَعَ - الرَّجُلُ - پڑوسیوں کو بہت ایذا
دینا - شمالی ہوا کھانا -
اِنْتَسَعَتْ - اَلْاَيْلُ - اونٹوں کا چراگاہ
میں پھیل جانا -
اَلنَّاسِئِعُ - فَا - بسی گردن -
اَلنَّسَعُ - اَتَقُّمُ جُرْمٌ - اونٹ کے تنگ کا
تسرج نَسَعٌ وَ نَسَعٌ وَ نَسُوًا
وَ اَنْسَاعٌ - اَنْسَاعٌ - اَلطَّرِيقُ رَاثِ
کے نشانات -
اَلنَّسْعُ وَ اَلرِّيْحُ اَلنَّسِيعِيَّةُ وَ اَلْمِنْسَعُ
شمالی ہوا -
اَلنَّسُوَمُ مسموم - لہائی
اَلْمِنْسَعَةُ - بسی نباتات والی زمین -
نَسَعٌ رَنًا نَسَعًا - اَلدِّبْنُ بِاَلْمَاءِ - دودھ
میں پانی ملانا -
نَسَعُهُ بِاَلسُّوْبِ جَابِكُ اَرْنَا - ہ
بکنا - تہمت لگانا - ہ بکلمۃ
لَعْنٌ وَ تَشْيِيعٌ کرنا - اَلخَبْزَةُ - روٹی
پر لہے وغیرہ سے گردنا - فِي اَلْاَرْضِ
جانا -
نَسَعَتْ وَ نَسَعَتْ - اَعْنَانُهُ وَ اَتْرُ
کی جڑوں ڈھیل پڑنا - نَسَعَتْ
اَلشَّجَرَةُ - کٹنے کے بعد درخت کا
پھوٹ آنا - نَسَعَةُ - بیزہ مارنا -
اِنْتَسَعَتْ - اَلْاَيْلُ - اونٹوں کا چراگاہ
میں پھیر جانا - اَلرَّجُلُ - سوچ بچار کرنا
اَلنَّاسِئِعُ - فَا - رَجُلٌ نَسَعٌ نَسْرًا
میں ماہر - ج نَسَعٌ -
اَلنَّسْعُ - کئے ہوئے درخت سے بچنے والا
پانی

اَلْمِنْسِيعُ - پسینہ -
اَلْمِنْسَعَةُ - جسم گودنے کا آلہ - یاردنی
گودنے کی چیز
نَسَفَ رَنًا نَسْفًا - اَلْبِنَاءُ - عمارت کو
جڑ سے اکھیر دانا - اَلجِبَالُ - پہاڑوں
کو گراتا - اَلشَّيْءُ - چھاننا - اَلْحَبُّ
بِاَلْمِنْسَفِ - نلکہ کو بھاج سے پھینکا -
رَنًا وَ اَنْسَفَتْ - اَلرِّيْحُ اَلرَّابِ - ہوا کا ٹی
کو اکھیر دانا - اُرْثَانًا -
نَسَفَهُ رَنًا نَسْفًا وَ نَسُوًا - دانت سے
کاٹنا - نَسَفَ اَلْاِنَامُ - برتن کا بھر کر
بہر جانا -
اِنْتَسَفَ - اَلْبِنَاءُ - یعنی نَسَفَهُ اَلشَّيْءُ
اکھیر دانا
اِنْتَسَفَ اَلْكَلَامُ - کان میں بات تھانا -
اِنْتَسَفَ - كَوْنُهُ - رنگ متغیر ہونا -
تَنَسَفَ - فِي الصَّرَاحِ كِشِي فِي سِجَارَتَا
اَلنَّسْفَةِ وَ اَلنَّسْفَةُ - پاؤں مانجنے کا
بھاواں - ج نَسَفَ وَ نَسَفَ وَ
نَسَفَ وَ نَسَفَ -
اَلنَّسَافَةُ - نلکہ کا پھوٹن - دودھ کے جھاگ
زمین کا غبار -
اَلنَّسِيفُ - مجید - كَلَامٌ نَسِيفٌ وَ اَلرِّيْحُ
گفتگو - شَيْءٌ نَسِيفٌ - بھائی پھوٹی چیز
اَلنَّسُوْتُ - اونٹ جو گھاس کو جڑ سے اکھیر
لے ج نَسِيفٌ
اَلنَّسْفَانُ - مین اَلْاَيْتَةُ - بھر کر بھنے والا
برتن -
اَلْمِنْسَفُ وَ اَلْمِنْسِفُ - گرھلک توختی
ج نَسِيفٌ -
اَلْمِنْسَفُ - بھاج - سوپ
اَلْمِنْسَفَةُ - چھانی عمارت اکھیرنے کا آلہ
نَسَقَ رَنًا نَسَقًا - اَللَّهُ وَ عَزَّ وَ جَلَّ
وغیرہ پر دانا - اَلْكَلَامُ - کلام کو ترتیب دینا
نَسَقَ - اَلشَّيْءُ - ترتیب دینا - تعلیم کرنا -

نَجْمٌ - اونٹ کا زمین پر پاؤں مار کر
نشان ڈالنا۔

نَسَمَتُ رَضٍ (رض) نَسَمًا و نَسِيمًا و
نَسَمَانًا - البریح - ہوا کا آہستہ
چلنا - نَسَمًا و نَسِيمًا - (س)
نَسَمًا الشیء - متعز ہونا۔

نَسَمَ رَكَّ (رک) نَسَامَةً - المکانِ جگہ کا
سہت چشموں والی ہونا۔

نَسَمَ - فِي الْأَهْلِ شروع کرنا۔ النَسَمَةُ
زندہ کرنا۔ آزاد کرنا۔ الْأَسِيرُ رَاكِبًا کرنا

نَاسِمَةٌ مَنَاسِمَةٌ و نَسَامًا - قریب
ہونا۔ نزدیک ہونا۔ کانا پھوسی کرنا۔

تَنَسَّمَ - الرَّجُلُ - سانس لینا۔

تَنَسَّمَتِ الرَّيْحُ - ہوا کا آہستہ
چلنا۔ الْجَمْرُ - چنگاری کا بھونکنا

تَنَسَّمَ الْمَكَانُ بِالطَّيْبِ - جگہ
کا خوشبو سے مہک جانا۔ تَنَسَّمَتِ

مِنْهُ عِلْمًا - میں نے اس سے علم حاصل
کیا۔ الْوَيْجُ - بوسو گھٹنا۔ بُو پانا۔

الْوَلَدُ پِیٹ کے بچہ کا جسم بکھڑانا اور
جاندار ہونا۔

النَّاسِمُ - فَا - قریب الموت - بیمار۔

النَّسَمُ - مَعْرِ - نفس و روح - آہستہ
چلنے والی ہوا۔ زندگی کا سانس (ج)

النَّسَامُ - النَّسَمُ - ناک - مٹا
ہوا راستہ۔ دودھ یا پکنائی کی بو۔

النَّسَمَةُ - رُوح - سانس - آدمی -
مرض ربو - زندہ مہتی - غلام - لونڈی

ج نَسَمًا و نَسَمَاتٍ -
النَّسِيمُ - مَعْرِ - نرم ہوا مٹا ہوا راستہ

ج نَسَامًا -
الْوَلَدُ نَسِيمًا - معزود (انسام) آدمی لوگ

الْمَنَسِيمُ - ادنٹ کا تلوا - شرمخ کا
پاؤں - نشان - کھوج - راستہ

ج مَنَاسِمًا -

قربانی کی رسم - قربانی کی جگہ ج ۔
مَنَاسِكٌ - مَنَاسِكُ الْحَجِّ -

حج کی عبادت -
الْمَنَسُوكُ - مَعْرِ ثَوْبٌ مَنَسُوكٌ -

پانی سے دھلا ہوا پاک کپڑا - چھوٹے
بالوں والا نام گھوڑا -

نَسَلَ (ن) نَسَلًا - الصَّوْتُ أَوِ الرَّئِشِ
جھاڑنا - گرتا - الْوَلَدُ دِيَانُ الْوَلَدِ

جنتا - الرَّجُلُ - بہت اولاد والا
ہونا -

نَسَلَ (ن) نَسَلًا - الرَّئِشِ أَوِ الصَّوْتِ
پر یا اون کا جھڑنا گرتا -

نَسَلَ (ن) نَسَلًا و نَسَلًا و نَسَلَانًا
- فِي مَشِيئَةٍ - تیز چلنا -

النَّسَلُ - الصَّوْتُ أَوِ الرَّئِشِ - اُونِ يَا
پر گرتا - الصَّوْتُ - ادن گرتا -

الْوَلَدُ الْوَلَدُ - پیداکرنا - فِي
عَدَاوَةٍ - تیز دوڑنا - الْعَوْمُ -

آگے بڑھنا - الدَابَّةُ - جانور کے
بال گرنے کا زمانہ قریب آنا -

تَنَاسَلَ - الْعَوْمُ - بعض کا بعض سے
پیدا ہوتا - پیدائش سے تعداد میں بڑھنا

النَّسَلُ - مَعْرِ - غلٹی - اولاد - ذریت -
ج انسال

النَّسَلُ - مَعْرِ - مَعْرِ سے خود بخود نکلنے والا
دودھ - بھرا بھری سے نکلنے والا دودھ

النَّسَالُ و النَّسِيلُ - گے ہوئے پر یا
بال یا اون - واحد نَسَالَةٌ

النَّسِيلَةُ - بچہ - بچی - شہد جو چھپے سے
بہر نکلے -

النَّسْوَلَةُ مِنَ الْمَوَاتِي - نسل برہمن
کے لئے مویٹی - بہت نسل والے مویٹی

النَّسِيلُ - فَا - تیز رفتار ج نَسَلًا -
النَّسْوَلُ و النَّسَالُ - تیز دوڑنے والا

نَسَمَ رَضٍ نَسَمًا - البَحْرِ الْأَزْمَنُ

نَاسِقٌ - بَيْنَهُمَا - ایک دوسرے کے پیچھے
چلنا - قطار میں چلنا -

النَّسِقُ - الرَّجُلُ - جمع کتنا
انْفَسَقَتْ و تَنَاسَقَتْ و تَنَسَقَتْ

الْأَشْيَاءُ - بالترتیب ہونا - نظم میں ہونا
ہونا - تَنَاسَقَ كَلَامُهُ - کلام کا ترتیب

دار ہونا - صفت مَنَاسِقٌ -
النَّسِقُ - بالترتیب - جَاءَ الْعَوْمُ و جَارَتْ

الْحَيْلُ نَسَقًا - لوگ بالترتیب آئے گھوڑے
بالترتیب آئے غرستُ النخل نَسَقًا

میں نے کھجور کے درختوں کو ایک قطار
میں لگایا - حُرُوفُ النَّسِقِ و النَّسِقِ

حروف عطف -
النَّسِقُ - بالترتیب

نَسَكَ (ن) نَسَكًا و نَسَكًا و نَسَكًا و
نَسَكًا و نَسُوكًا و نَسَكَةً و

مَنَسَكًا - الرَّجُلُ - زاہد بننا - درویش
بننا - بَدَّ - خدا کے لئے قربانی کرنا -

نَسَكًا الثَّوْبُ - کپڑے کو دھو کر پاک کرنا
- الْبَيْتُ - گھر میں آنا - إِلَى طَرِيقَةٍ

جَمِيلَةٍ - داومت کرنا -
نَسَكَ (ن) نَسَاكَةً - درویش بننا -

تَنَسَكَ - عبادت - خدا تعالیٰ کا ہر
ایک حق - النَسَكُ - مانوس جگہ -

النُّسَكُ و النُّسَكُ - نذر جو اللہ کے
لئے پیش کی جائے - ذبیحہ -

النُّسَكُ - چاندی کا ٹکڑا - خون
النَّسِيكُ - سوتا - چاندی

النَّسِيكَةُ - ذبیحہ - سونے چاندی کا
ٹکڑا ج نَسَايِكٌ -

النَّاسِكُ - فَا - عابد - زاہد ج نَسَاكٌ
عَشِيكٌ نَاسِكٌ - بہت بزرگھاس

أَرْضٌ نَاسِكَةٌ - تازہ بارش والی
سرسبز زمین -

النَّسَكُ - مانوس جگہ (و النَسِيكُ)

كُنْسَسَ - الطَّامِرُ - پرندہ کا تیز اڑانا۔
 اوتٹ کر تیز ہانکنا۔ ہوا کا چلنا۔ کروڑ ہونا
 النَّسْنَسُ - بن مانس۔ ایک خیالی انسانی
 شکل کا جانور۔ ننگور۔ نَسَّاسُ
 الْاِنْسَانُ - انسان کی مشقت و صبر
 النَّسْنَسُ - سمیت بھوک۔
 نَسَا يَنْسُو نَسْوَةً - الرَّجُلُ - کام چھوڑ
 دینا۔
 اَنْسَاةُ اِنْسَاةٌ - الشَّيْءُ كَيْسِي جِيرَةِ كَيْسِي
 چھوڑنے کا حکم دینا۔
 النَّسَا - ایک رگ جو سرین سے ٹخنے تک
 جاتی ہے ج انْسَاءُ
 النَّسْوَةُ - مَمْر - دودھ کا ایک گھونٹ۔
 النَّسْوَةُ وَالنُّسْوَةُ وَالنِّسْوَةُ وَالنِّسْوَانُ
 وَالنِّسْوَانُ وَالنِّسْوَانُ - عورتیں
 مَرَاةٌ كِي مَج - نسبت کے لئے نِسْوَتِي
 وَنِسْوَتِي - تصغیر۔ نِسْيَةٌ اِدْرَنْبِيَاتِ
 بھی کہتے ہیں۔
 الْمَنْسُو - عرق نسا کی بیماری والا۔
 نَسِي يَنْسِي وَنَسِيَ عِرْقُ النَّسْرِ كِي بِيَا
 میں مبتلا ہوتا۔ صفت رَسِي وَنَسِي
 مَوْتٌ نَسِيَةٌ وَنَسِيَاءُ -
 نَسِي يَنْسِي نَسِيًا - الرَّجُلُ مَرَقُ النَّسْرِ
 پر مارنا۔
 نَسِي يَنْسِي نَسِيًا وَنَسِيًا نَادِيًا
 وَنَسْوَةً - الشَّيْءُ جِيرَةِ كَيْسِي
 نَسِي وَنَسِي - الرَّجُلُ - الشَّيْءُ كَيْسِي كِي
 کوئی چیز بھولانا
 نَسِيًا - الشَّيْءُ جِيرَةِ كَيْسِي كَيْسِي
 النَّسِي وَالنِّسِي - بھولی ہوئی چیز۔ اِدْنِي
 چیزیں جو قافلہ چھوڑ جائے جو اَلنِّسَاءُ
 النَّسِيَانُ وَالنِّسَاءُ - بہت بھولنے والا
 جو اپنی قوم میں شمار نہ ہو۔
 الْمَنْسِي - مفع - بھولی ہوئی چیز عرق النسا
 میں مبتلا۔

الْمَنْسَا - لاطھی
 نَسَّ رَن اَنْسَا - الدَّابَّةُ - جانور کو آہستہ آہستہ
 مشک و غیرہ کو باریک کر کے ملانا۔
 نَسَّ رَمْنًا نَسًّا وَ كَشِيثًا - الْمَارُ فِي
 اَلْكُوْزِ الْجَدِيدِ - پانی کانٹے کوزے میں
 آواز کرنا۔ اَلْمَمْرُ - گوشت کا ہڈی یا
 کڑواہی میں آواز کرنا۔ اَلْفَزِيرُ - تالاب
 کا پانی خشک ہونے لگنا۔ اَلنَّبِيذُ
 نمبیز کا جوش مارنا۔ اَلرُّطْبُ - خشک
 ہونا۔
 نَسَّبَ اللَّحْمَةَ - گوشت کے ٹکڑے
 کا پانی چکانا۔
 النَّش - مَمْر - ہر چیز کا نصف۔
 النَّشَاشُ - پانی جذب کرنے والا۔
 اَرْضٌ نَشَاشَةٌ - نناک زمیں جس میں کچھ
 نہ اگے۔
 النَّشِيْشُ - مَمْر - جوش کھانے والے پانی
 کی سنسنا ہٹ۔ اَرْضٌ نَشِيْشَةٌ
 شور زمین۔
 الْمَنْشَةُ - چوری۔
 نَشَارَنَ، وَنَشَوْرَكَ، نَشَا وَنَشَوًا
 وَنَشَاةً وَنَشَاءً وَنَشَاءَةً -
 الشَّيْءُ پید ہونا۔ دندہ ہونا اَلطُّفَلُ
 بچہ کا جو اتنی کر پہنچا۔ اسم النش و
 نَشَاءَتِ السَّحَابَةِ كَمَا اَطْمَا -
 اَنْشَاةُ اَنْشَاءٍ - پان۔ پرورش کرنا۔
 اَنْشَاةُ اَنْشَاءٍ السَّحَابَةِ - خدا تعالیٰ کا
 بادل کو اٹھانا۔ الشَّيْءُ پید کرنا۔
 اَنْشَاةُ الشَّيْءِ پید کرنا۔ اَنْشَاةُ الْخَلْقِ -
 شروع کرنا۔ اَنْشَاةُ الْكَلِمَاتِ اَوِ الْكَلَامِ
 وضع کرنا۔ ابد کرنا۔ دَئِيْدٌ - عمدہ
 شعر کہنا یا بہترین خطبہ دینا۔ فَلَاحٌ
 دَارًا - تعمیر شروع کرنا اَنْشَاةُ فَلَاحٍ
 يَهْرَبُ فَلَاحٌ مَارِنٌ لَكَ - مِّنَ الْمَكَانِ
 نکلنا۔

نَشَاةٌ تَنْشِيْتَةٌ - پان۔
 تَنْشَاةٌ اَسْتَنْشَاءُ - اَلْاَخْبَارُ - خبروں کی
 حقیقت کا پتہ لگانا۔ اَلْعِلْمُ فِي مَهْفَاةِ
 حَيْدُ اَكْرُو اَكْرًا - طَلَانًا قَصِيْدَةً اَوْ
 خُطْبَةً - قصیدہ یا خطبہ کی قرأت کرنا
 النَّش - مَمْر - نسل۔ اولاد۔ اونٹ کے
 چھوٹے بچے۔ اِدِنْجَا بَادِلُ يَابَادِلُ كَاوَهُ
 حصہ جو پہلے ظاہر ہو ج نشاء۔
 اَلنَّشِي - بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو
 النَّشَاءَةُ وَ النَّشِيْتَةُ نباتات کی نازک
 کونپلیں۔
 النَّشِي - فا - جوانی کے نزدیک پہنچا ہوا۔
 رُوْكَا يَارُوْكَ ج نَشِيٌّ وَنَشَاءٌ وَ
 تَا شِيْتَةٌ - رات کو ظاہر ہونے والا۔
 يَأْتِي مَمْرٌ هُوَ اَلْاَجُّ نَوَاشِيٌّ -
 النَّاشِيْتَةُ - مَرْتٌ النَّاشِي - دن یارات
 کا آغاز۔ سورے کے بعد اُتْحَا نَوْجَانُ
 رُوْكَ ج نَوَاشِيٌّ -
 الْمَنْشَا - پید ہونے کی جگہ۔
 الْمَنْشَا وَالْمَنْشَا - بلند عیندا
 بلند نشانِ راہ۔
 نَشِبَ (س) نَشَبًا وَنَشَبًا وَنَشَبَةً
 - الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ - چلنا۔ لگ جانا
 - اَلْعِلْمُ فِي عِلْمٍ - علم میں لگنا۔
 نَشِبَ مَنْشَبٌ مَعْرُوفٌ - وہ بچیدہ کام
 میں پھنس گیا۔ مَا نَشِبَ اَوْ لَكَ
 يَنْشِبُ اَنْ فَعَلَ - اس نے کیا کرنے
 میں دیر نہ لگائی۔ مَا كَشِبَ يَمُوْلُ
 اس نے کتنا بند نہیں کیا۔ نَشَبًا
 اَلْحَدَبُ بَيْنَ الْعَوْدِ - گھسان کی
 ردا ہونا۔ اَلْاَمْرُ مَوْلَانًا - لازم ہونا
 فنیہ۔ خریدنا۔
 نَشَبَةٌ وَ اَنْشَبَةٌ فِي كَذَا - چٹانا۔
 چپاں کرنا۔ اَنْشَبَةٌ مَجَالَتُهُمْ - اس
 کے اس کرجال میں پھنسا یا۔

نَاشِبَةٌ مُنَاشِبَةٌ - الحوت بکھم کھلا لڑائی کرنا۔
 تَنَشَّبَ فِيهِ - پھنس جانا حل کے ساتھ محبت کا چھٹنا۔
 اِنْتَشَبَ فِيهِ جِئْنَا - الحطب بکروی جمع کرنا۔
 تَنَا شَبُوا - آپس میں چھٹنا۔ بھیر کرنا۔
 النَّشْبُ - مہر۔ (والتَّشْبِيَةُ) جائیداد منقولہ وغیر منقولہ۔ زمین اور مویشی۔
 النَّشْبَةُ - مہر۔ (والتَّشْبِيَةُ) کام میں پھنس کر رہائی نہ پانے والا آدمی۔
 نُسْبَةٌ - بھیرے کا اسم علم۔
 النَّشَابُ - تیر۔ ج نشَابٌ شَيْبٌ - واحد نَشَابَةٌ۔
 النَّاشِبُ - قاتیلوں والا تیر انداز۔
 النَّاشِبَةُ - موت الناشِبُ - تیر انداز لوگ۔
 النَّشِيبُ - چھٹنے والا۔
 النَّشَابُ - بہت چھٹنے والا۔ تیر ساز و تیر انداز۔
 النَّشَابُ - تیر مارنے والا۔ تیر ساز بہت چھٹنے والا۔ قَوْمٌ نَشَابَةٌ - تیر انداز لوگ۔
 النَّشِبُ - چھٹنے کی جگہ۔
 النَّشْبَةُ - مال مویشی نَشَجَ (من) نَشَجًا وَنَشِيحًا - الباک روٹ سے بھی تیدھنا۔
 نَشَبَتِ الْقَدَارُ - اندلی کا کھڑا ہونا۔
 نَشَبَ الصَّمَدُ - مینڈک کا لڑتے وقت آواز دہرانا۔
 الْمَطْرِبُ - گویے کا دوسروں کے درمیان وقف کرنا۔
 النَّشَجُ - پانی پینے کی جگہ۔ ج النَّشَابُ۔
 النَّشِيحُ - مہر۔ آواز۔
 نَشَجَ (ن) نَشَجًا وَنَشَوَحًا - الرُّبْلُ

رچ کر نہ پینا۔ سیر جو کہ پینا۔
 النَّشْوَحُ - چھوڑا پانی۔
 النَّشَجُ - مست لوگ۔ مفرد (نَشْوَحٌ)۔
 النَّشَاحُ - من الأنايَةِ - جھکتا ہوا برتن۔
 نَشَدَ (ن) من) كَشَدًا وَنَشَدًا اِنَّا وَنَشَدًا قًا - الفاتحة۔ گم شدہ کو ڈھونڈنا۔ آواز دے کر پوچھنا۔
 فَلَانًا - پچھانا۔ اے اللہ و یا اللہ۔
 قَم دینا) - نَشَدًا) الرَّجُلُ كَيْسٍ سے اُنشَدَكَ اللہ كُنَا۔
 نَشَدًا عَهْدًا أَوْ وَعْدًا - عہد یا وعدہ یاد دلانا۔
 اُنشَدَا - الفاتحة۔ گم شدہ کے بارے میں پوچھنا۔ پتہ لگانا۔ گم شدہ کی تشہیر کرنا۔ اُنشَدَا الشَّعْرَ شَرَطْنَا اُنشَدَا بِالْقَوْمِ - بھج کرنا۔ زیندا آؤ زیند جواب دینا۔
 نَشَدًا مَنَّا شَدًا وَنَشَدًا قَم دِلَانَا تَنَشَدَا - الأختار - خبروں کی اطلاع دینا۔
 تَنَا شَدُوا - الأَشْعَارُ - ایک دوسرے کو شعر سناتا۔
 اِسْتَنَشَدَا - الشَّعْرَ - شعر پڑھنے کی درخواست کرنا۔ لِنَشَدَكَ اللہ اَلَا قَعَلْتَ - میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہ کام کر۔
 النَّاشِدُ - قاتل کرنے والا۔ تشہیر کرنے والا۔ الناشِدُونَ گمشدہ کا پتہ لگانے والے۔
 النَّشِدَةُ - مہر۔ آواز۔
 النَّشِيدُ - آواز کی بلندی (والتَّشِيدَةُ)۔
 ج - نَشَائِدٌ - وَالْأَسْتُودَةُ - ج اَنَا شَيْدٌ - مجھ میں سنائی ہوئی علم۔
 نَشِيدٌ أَلَا نَشِيدٌ - بائبل کی ایک کتاب۔
 النَّشَادُ - گم شدہ کی تلاش کرنے والا

النَّشَادِرُ وَالنَّوَشَادِرُ - نَشَادِرُ نَشَرَانِ (من) نَشَرًا - التراب۔ کھڑا پھیلانا۔ الخبَرُ - خبر مشہور کرنا۔
 الشَّيْءُ - بھرنانا۔ الخَشَبُ - بکروی۔
 جِئْنَا - عَنِ الْمَجْنُونِ أَوِ الْمَرِيضِ - مترجم بھونکنا۔ نَشَرَتِ الرِّيحُ - بدل کے دن ہوا چھٹنا۔
 نَشَرَانِ (ن) نَشَرًا - الشَّجَرُ - درخت کا پتے لانا۔ نَشَرَتِ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ - درخت کے پتوں کا بڑھنا اور پھیلنا۔
 الْأَرْضُ - زمین کا بہار کے ابر کے بعد سبز ہونا۔
 نَشَرَانِ (ن) نَشَرًا وَنَشَرًا - اللہ الموقی مردوں کو زندہ کرنا۔ نَشَرُوا نَشَرًا الموقی - زندہ ہونا۔ صفت : نَاشِرُونَ۔
 نَشَرَتِ (ن) نَشَرًا - المَوَاشِي - مویشی کارات کھیل کر چھٹنا۔
 نَشَرًا - التَّوْبُ وَنَحْوَهُ - کھیلے وغیرہ کر پھیلانا۔ عَنِ الْمَرِيضِ أَوِ الْمَجْنُونِ - بیمار یا مجنون پر مترجم بھونکنا۔
 اُنشَرُوا - اللہ المیت - اللہ کا مردے کو زندہ کرنا۔ الْأَرْضُ - زمین کو سیراب کر کے زندہ کرنا۔
 تَنَشَرُوا الشَّيْءُ - پھیلنا۔
 اُنشَرُوا الشَّيْءُ - پھیلنا۔ النهار - دن چڑھنا۔ الخبَرُ - خبر مشہور ہونا۔
 الْأَبِلُ - اونٹوں کا متفرق ہونا۔
 الرَّجُلُ - سفر شروع ہونا۔
 تَنَا شَرُوا - الشِّيَابُ - کھڑا پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
 اِسْتَنَشَرُوا - الخبَرُ - خبر پھیلانے یا سننے کرنے کی درخواست کرنا۔
 النَّشْرُ - مہر۔ خوشخبری یا صفت بڑا گنے کی ابتداء۔ غارش۔

النَّشْرُ وَالنَّشْرُ - بغیر سردار کے کھری ہوئی قوم - يَوْمَ النَّشْرِ وَيَوْمَ النَّشْرِ - قیامت کا دن -
النَّشْرَةُ - باد نسیم - اشتہار - ج: نَشْرَاتٌ -
النَّشْرَةُ - افسوں - منتر -
النَّشَارَةُ - لکڑی کا بڑا دھواں -
النَّاشِرَةُ - مرنٹ الٹا - نَوَاشِرٌ - نوآشیر کا واحد - نَوَاشِرٌ - اٹھ کے رگ بچھنے والی -
النَّشُورُ - بادل کو گھیرنے والی ہوا - ج: نَشْرٌ -
النَّشِيرُ - ازار - تہ بند - وہ کھیتی جو کاٹ کر جمع کی گئی ہو -
النَّاشِيرُ - در سے کے بچوں کی بے تکیا کیریں -
الْمُنْشَارُ - آ رہ جہ مناشیر -
الْمُنْشَارُ - پنجہ دھڑکڑی جس سے گہروں وغیرہ کو بھوسے علیحدہ کرتے ہیں -
جَبَلِيٌّ - ایک سمذری پھل - اس کو أَبُو مَنَشَارٍ بھی کہتے ہیں -
الْمُنْشُورُ - مفع شامی فوان - سُرُكْرُ الْمُنْشُورِ - کپڑے وغیرہ پھیننے کی جگہ -
الْمُنْشُورَةُ - سخی و شریف عورت -
نَشْرَ (ر) مَن - نَشْرًا فِي أَوْعَانِ مَكَانِهِ - بلند ہونا - اٹھا - رُكْنَا - الرَّجُلُ بِطَمِيهِ بَدَنُهُ كَمَا أَطْحَا - اونچی زمین پر جھانکنے والی -
القَوْمُ فِي مَجْلِسِهِمْ مَجْلِسٌ فِي لُجُونِ كَأَسْمَكٍ جَانِبًا يُطَبَّجَانَا - نَشْرَتٌ نَفْسُهُ كَهَرَابِثٍ فِي دَلِّهِ وَطَرَا -
نَشْرَتٌ (ر) مَن - نَشْرًا - الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا وَمِنْهُ وَعَلَيْهِ عَوْرَتُهَا كَأَنَّمَا هِيَ - نفرت کرنا - صفت ر نَشْرٌ وَنَاشِرَةٌ - جہ نوآشیر - نَشْرَتُهَا عَلَيَّهَا وَمِنْهَا غَاوَتُهَا عَوْرَتُهَا عَلَى عِلْمِ كَرْنَا سَاسَ كَرْتَلِيْفِ دِيْنَا - بِالْقَوْمِ فِي

النَّشْرَةُ - قوم سے جھگڑنے کے لئے اٹھ کر دیا ہونا -
نَشْرَ (ر) مَن - نَشْرًا - بِقَدْرِهِ سِيْغَ سے اٹھا کر سجا دینا -
النَّشْرُ - الشَّيْءُ - جگہ سے اٹھانا - بلند کرنا -
اللَّهُ عِظَامَ الْمَيِّتِ مَرْدَةٍ كِي بَدْرِيں کو ترکیب دے کر اس کو زندہ کرنا -
النَّشْرُ - مَم - نَشْرٌ - وَالنَّشْرُ ج نَشْرًا وَنَشْرًا - اونچی جگہ -
مِنَ الرَّجَالِ - قوی - بڑے ذیل ڈول کا ہونا آدمی -
النَّشْرُ - اونچی جگہ -
النَّاشِرُ - فَا - اُبْرَاهِيمَ جگہ سے اٹھا ہوا - دھڑکنے والی رگ -
النَّشِيرَةُ وَالنَّشِيرَةُ - مِنَ الدَّوَابِّ وہ سواری جس کی پیٹھ پر زین یا سوار نہ ٹھہر سکے -
نَشْرَ (ر) مَن - نَشْرًا - السَّحَابُ - بادل کا بلند ہونا - النَّشْرُ - دَلِّهِ وَطَرَا الصَّوْتُ أَوِ الشَّعْرُ - اون یا بال کا نکلنا اور جلد سے چھا ہوا ہونا -
نَشْرَتِ السَّيْنِ - دانت کا لبا ہونا -
نَشْرَ النَّشْرِ - جھڑکانا - فَلَآنَا نِيْرَهَ مَارْنَا - عَن بَيْدِيَّةٍ - شَهْرِيَا مَكَّ سَ نَكَلُ جَانَا - عِلْمُهُ هُونَا - نَشْرَتِ الْمَرْأَةُ عَن زَوْجِهَا - بیوی کا نافرمان ہونا - نفرت کرنا - صفت نَاشِرٌ -
أَنْشَرَهُ - عَن بَيْدِيَّةٍ أَوْ بَيْتِيَّةٍ - شَهْرِيَا مَكَّ سَ نَكَلُ دِيْنَا -
نَشْرَهُ - بلند کرنا -
نَشْرَتِ - بَيْدِيَّةٍ - اٹھا اور تیاری کرنا -
النَّشْرُ - الشَّجَرَةُ - درخت کو جڑ سے اٹھانا -
اسْتَنْشَرَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ

ہوا کا بادل کو اٹھانا -
النَّشْرُ وَالنَّشْرُ - تہ بند بادل فوج جہ نَشْرٌ وَنَشْرٌ -
النَّشْرُ وَالنَّشْرُ - کھڑا کیا ہوا نیرہ - بڑے کرہن والی اونٹنی -
نَشْرَ (ر) مَن - نَشْرًا - چپت ہونا -
نَشْرَ (ر) مَن - نَشْرًا - صفت - نَشْرٌ وَنَشْرٌ - نَشْرَتِ الدَّابَّةُ جَانَا -
نَشْرَ (ر) مَن - نَشْرًا - مَن بَيْدِيَّةٍ إِلَى بَيْدِيَّةٍ شَهْرِيَا مَكَّ سَ نَكَلُ دِيْنَا -
نَشْرَ (ر) مَن - نَشْرًا - نَشْرًا - رَتِي مِيں گرہ لگانا -
مَضْبُوطٌ كَرْنَا - الدَّوْمِيْنَ الْبَيْدِيَّةِ -
ذُولُ كَرِيْمِيں سَ بَغِيْرِي مَحْمَدِي كَ نَكَلْنَا -
زَيْدًا - نِيْرَهَ مَارْنَا -
نَشْرَتِ الْحَيَّةُ - سَانِ كَاوْنَا كَشْرًا - اَنْشَرْنَا - رِي مِيں گرہ لگانا -
- إِلَى اَوْ فِي الْعَمَلِ - جَرَاتٌ وَلَانَا - چپت بنانا -
النَّشْرَةُ - چپت بنانا - اَنْشَرْنَا الرَّجُلُ -
چپت چالاک لوگوں والا یا جانوروں والا ہونا - اَنْشَرْنَا الْحَيَّةُ -
سَانِ كَاوْنَا -
اَنْشَرْنَا الْحَيَّةُ - رِي مِيں گرہ لگانا -
العقداة أَوِ الْحَيَّةُ - گرہ لگانا -
- الْبَيْدِيَّةِ مِنْ عِيَالِهِ - اونٹ کو چھوڑنا - اَدَا دَرْنَا - اَيْلَاؤُ الدَّابَّةِ - گھاس کا جانور کو مرانا کرنا -
نَشْرَتِ - مَشَارٌ بِشَارٍ هُونَا لِنَعْمَلِ -
چپت سے تیار ہو کر کام میں لگنا -
نَشْرَتِ النَّاقَةَ فِي سَبِيْرِكَا - اونٹنی نے چلنے میں تیزی کی -

النَّشْوَةُ - پہلی خبر

النَّشِيَّةُ - بر - ج - نَشَايَا.

النَّشْوَانُ - بدست - نَشْوَانُ نَشْوَةٍ - ج -
نَشَاوِي -النَّشِيَانُ - سب سے پہلے خبر کو دریافت
کرنے والا۔نَصَّ (ن) نَصًّا - الشَّيْءَ - بلند کرنا ظاہر
کرنا - حرکت دینا - اَلْحَدِيثُ -حدیث کی سند بیان کرنا - الرَّجُلُ
پوری طرح دریافت کرنا - النَّاقِلَةُ -اونٹنی کو تیز ہانکنا - الْمَتَاعُ -
سامان کو ایک دوسرے پر چننا -الْعَرُوسُ - دلہن کو چھپر کھٹ پر
بٹھانا۔نَصَّ (ض) نَصِيصًا - الشَّوَاءَ عَلَى
النَّارِ - گوشت کے بھننے وقت چرچرانَصَبَتِ الْقِدْرُ - ہانڈی کا جوش
مارنا۔نَصَّصَ وَنَاصَ مُنَاصَةً - غَرِيْمًا -
قرندار سے جھگڑانا اور اس کو بہتتنگ کرنا - نَصَّصَ الْمَتَاعَ -
سامان کو تہ بہ تہ رکھنا۔لَا نَتَّصُ - الشَّيْءَ - بلند ہونا - سیدھا کھڑا
ہونا - لَا نَتَّصُ الرَّوْمُحَ - نیزہ کاسیدھا کھڑا ہونا - سکرنا۔
لَا نَتَّصَتِ الْعَرُوسُ - دلہن کا عہدہعروسی میں بیٹھنا۔
تَنَاصَ - الْقَوْمُ - قوم کا بھیڑ کرنا۔النَّصُّ - مِمَّا - مَصْرُحٌ كَلَامٌ - ج - نَصُوْحٌ -
وَالنَّصُّ مِمَّنْ كَلَّمَ شَيْئًا - اِنْتَهَاالنَّصُّ مِمَّنْ كَلَّمَ - اِيْسَا كَلَامٌ جِسْمٍ
تاویل کی گنجائش نہ ہو۔النَّصْبَةُ - اِسْمُ مَرَّةٍ - جَسْرِيَا -
النَّصْبَةُ - پيشانی پر لگے ہوئے بال - ج -النَّصْبَةُ - پيشانی پر لگے ہوئے بال - ج -
نُصَّصَ وَنُصِّصَ -النَّصِيصُ - مِمَّا - نَصِيصُ الْقَوْمِ - لوگوں
کی تعداد۔النَّمِصَّةُ - جَمْرٌ كَهَيْئَةِ - الْمِصْبَةِ - دہن
کے بٹھانے کی کرسی - پونہ لگے ہوئےکپڑے - پاؤں سے روندے ہوئے
فرش - ج - مِصَاصٌ - وَجِعَ عَلَىالْمِصْبَةِ - اس کی بے عزتی کی گئی۔
النَّمِصَاصُ - ناک ہلانے والا۔النَّمِصُوعُ عَلَيْهِ - مَعِينٌ - مَقْرَرٌ -
نَصَّافَةٌ (ن) نَصَّافٌ - پيشانی کے بالپکڑنا - الرَّجُلُ - ذَاتُنَا - وَفَعٌ كَرْنَا -
نَصَبَهُ (ض) نَصَبًا - الْمَرَضُ اوالْمَهْمُ - تَهْكَا نَا - دَرَمَدْنَا - نَصَبَ
الشَّيْءَ - بلند کرنا - کھڑا کرنا - گارٹنا۔الشَّجَرَةَ - وَرَحْتَ كَوْلْغَانَا -
الْحَرْبَ - لُطَائِي كِي بِنِيَا دَرَكْنَا -لَهُ الشَّرُّ - بَرَائِي ظَاهِر كَرْنَا - لَهُ
رَأْيَا - رُلُّ دِينَا - يَغْلَايُنُ - كَسِيسے دشمنی رکھنا - اَلْكَلِمَةُ - نَصَبَ
لِغَانَا يَا مَنْصُوبٌ بِرَحْنَا - الْاَمِيْرُقُلَانَا - كَسِي كُو عَمَدَه دِينَا -
نَصَبَ (س) نَصَبًا - تَهْكَا نَا - فِي الْاَمِيْرِکوشش کرنا۔
نَصَبَ - الشَّيْءَ - رَهْكَا نَا - بلند کرنا۔الْاَمِيْرُ قُلَانَا - اَمِيْرُ كَسِي كُو عَمَدَه
دِينَا -النَّصِيْبَةُ - تَهْكَا نَا - حَصَّهُ مَقْرَر كَرْنَا - وَ
الْمَرَضُ - دَرَمَدْنَا - اَلنَّصَبُالْحَدِيثُ - حَدِيثُ كِي سَنَدِيَا ن كَرْنَا -
السِّيَكِيْنُ - جَمْرِي مِيْنِ بَسْتَه لِكَا نَا -نَاصِبَةٌ مُنَاصِبَةٌ - دَشْمَنِي كَرْنَا مَقَابِلَه كَرْنَا -
وَ الْحَنْبُ اِدَالْعَدَاوَةَ - لُطَائِيکا اعلان کرنا - دَشْمَنِي ظَاهِر كَرْنَا -
لَا نَتَّصِبُ - كَهْرَا بُونَا - بلند ہونا۔

الْحَرْفُ - حَرْفٌ پَر زَبْر ہونا۔

الطَّاهِي - پکانے والے کا ہانڈی
چڑھانا۔تَنَصَّبَ كَهْرَا بُونَا - الْغُبَارُ وَنَحْوُهُ -
غبار وغیرہ کا بلند ہونا۔تَنَاصَبُوا - الشَّيْءَ - جِزْرًا اِپْسِ مِيْنِ
ہانڈ لینا۔النَّصْبُ - مِمَّا - كَهْرَا كِيَا بُوَا جَهْدًا - بَلَا - مَرَضٌ
نتیجہ - نَحْوِيْنِ كِي زَوْدِيَكٌ اِيَكٌ حَرْكَةٌاعرابی - نَصَبُ الْعَرَبِ - حَدِي سِي
مشابہ ایک راگ۔النَّصْبُ حَصَّهُ -
النَّصْبُ وَ النَّصْبُ كَهْرِي كِي بُوِي جِزْرًاهَذَا النَّصْبُ عَيْنِي - وَهُ مِيْرِي اَنْكَمُوْنِ
کے سامنے ہے - بَت - ج - اَنْصَابُبِيَا رِي - مَصِيْبَتٌ - النَّصْبُ - حَصَّهُ
ہر وہ چیز جو علامت مقرر کی جائے۔ج - نَصَابُ -
الْاَنْصَابُ - پتھر جو جاہلیت میں کعبہ کےارد گرد کھڑے کئے گئے تھے اور ان
پر جانور ذبح کیے جاتے تھے۔النَّصْبُ - مِمَّا - كَهْرِي كِي بُوِي عِلَامَتٌ -
ج - اَنْصَابُ -النَّصْبُ بِيَا رِي - بَتْلَا ئِي دَرُو -
النَّصْبَةُ - نَصَبُ كَا اِسْمُ مَرَّةٍ - نَصَبُ كِيعِلَامَتٌ - بَكَا رْنِي كِي لِي عِي بُوَا -
النَّصْبَةُ - بَكَا رْنِي كِي نَوْعِيَّتٌ -النَّصْبَةُ - رَاسْتَه بِنَانِي وَ اَلِي سْتُوْنِ -
ج - نَصَبٌ -النَّصَابُ - اَصْلٌ - مَرَجٌ - سَوْدِيٌّ وَ بِنِي
کی جگہ - ہر چیز کا اول - چھری کا دستہ۔مَالٌ كِي وَهُ مَقْدَرٌ جِسْمٍ پَر زَكَاةٌ وَ اَجِيْبٌ بُوِي
ہے - ج - نَصَبٌ -النَّصِيْبُ - حَصَّهُ - حَوْضٌ - بَهْدَا - ج -
النَّصْبَةُ وَ النَّصْبَا وَ النَّصْبُ -

النَّصِيْبَةُ - ج - نَصَابِيْبُ - حَوْضٌ كِي

گرداگرد پتھر۔

النَّاصِبُ - فاء تیز چلنے والا۔ تباہ کن رنج۔
مخيف وہ زندگی۔ ج۔ کو اصب۔النَّصَابُ - ہر کام میں خود گھنے والا۔
الْأَناصِيبُ وَالنَّصَابِيبُ - راستہ پر کھڑے
کیے ہوئے نشانات۔الْأَنْصِبُ - کھڑے سیگوں والا۔ مؤنث
نَصْبًا - نَاقَةُ نَصْبَاء - ابھرے
ہوئے سینہ والی اونٹنی۔ ج۔ نَصْبٌ -الْمَنْصِبُ - اصل۔ مرجع۔ حسب و شرافت
درجہ۔ عمدہ۔ رتبہ۔ ج۔ مَنَاصِبُ -الْمِنْصَبُ - تین پایوں والا لہجہ کا چولہا۔
الْمَنْصَبَةُ - تھکان، رنج۔ مصیبت۔الْمُنْصَبُ - مفعول۔ اسْتَنْصَبْتُ
جو بصورت ترتیب وارداتالْمَنْصُوبُ - مفعول۔ زبر والا کلمہ۔
الْمَنْصُوبَةُ - مؤنث الْمَنْصُوبُ - حیلہ۔نَصَتْ (رض) نَصْتًا وَنَصَتْ وَانْتَصَتْ
- لہ۔ چپ رہ کر بات سنانا۔ چپ چاپسنانا۔ اَنْصَتَهُ - چپ کرنا۔
تَنْصَتٌ - چپ اور خاموش رہنے کیکوشش کرنا۔
اِسْتَنْصَمْتُ - سننے کے لیے چپ چاپکھڑا ہونا۔ فاء۔ خاموش رہنے کے
لیے کہنا۔النُّصَّةُ - خاموشی۔
نَصَمْتُ (رض) نَصَمًا وَنَصَمًا وَنَصَمًاوَنَصَمًا وَنَصَمًا - فُلَانًا
بِشَلَاكٍ - نصیحت کرنا۔ خالص اور سچیدوستی کرنا۔ صفت ناصح۔ ج۔
نُصَاخَةٌ وَنُصَاخَةٌ -نَصَمْتُ (رض) نَصَمًا وَنُصُوحًا - الشئُ
خالص ہونا۔ صاف ہونا۔ تَوْبَتُهُ - سچیاور پختہ توبہ کرنا۔ الْعَمَلُ - خالص
طریقہ سے کرنا۔ الْعَمَلُ - شہد صافکرنا۔ الثَّوْبُ - کپڑا سینا۔ الْغَيْثُ
الْبَلَدُ - بارش کا زمین کو سیراب کر کےسبزہ سے ڈھک دینا۔
نَا صَحَّةٌ مِّنَا صَحَّةٌ - ایک دوسرے کو
نصیحت کرنا۔ لَفْسَةٌ بِالتَّوْبَةِ - خالصتوبہ کرنا۔
الْأَنْصَحُ - الْوَارِثِيُّ الْإِبِلُ - چرواہے کاموریشی کو سیراب کرنا۔
تَنْصَحْتَهُ - بہت نصیحتیں کرنا۔ نصیحت کرنےوالوں کے مشابہ بننا۔ الثَّوْبُ -
کپڑا سینا۔اِسْتَنْصَحْتُ - نصیحت قبول کرنا۔ فُلَانًا
خیر خواہ جاننا۔اِسْتَنْصَحْتُهُ - خیر خواہ سمجھنا۔
النِّصَاحُ - سینے کا دھاگا۔ لای۔ ج۔نُصْحٌ وَنِصَاحَةٌ -
النِّصَاحَاتُ - چڑے جو آپس میں ملے ہوئےہوں۔ پھندے۔ واحد۔ نِصَاحَةٌ -
النَّاصِحُ - خالص شہد وغیرہ۔ نَاصِحٌالْجَيِّبُ - پاک دل۔ غلص۔
النَّاصِحُ وَالنَّصَاحُ وَالنَّاصِحِيُّ - وزری۔الْغَيْبِيُّ - غلص۔ خیر خواہ۔ ج۔ نَعْمًا و -
النُّصُوحُ - نصیحت کرنے والا مرد یا عورت۔تَوْبَةٌ نُّصُوحٌ - سچی توبہ۔
النَّصِيحَةُ - اخطاس۔ خیر خواہی۔ ج۔نَصَائِحٌ -
النِّصْحُ وَالْمِنْصَحَةُ - سوئی۔الْمُنْتَصِحُ - مفعول۔ سلا ہوا یا بیوند لگا
ہوا کپڑا۔نَصْرَةٌ (رض) نَصْرًا - مدد کرنا۔ فُلَانًا
عَلَى عَدُوِّكَ - دشمن سے خلاصی دلانا۔کسی کے برخلاف مدد دینا۔ نَصَرَ
الْغَيْثُ الْأَرْضَ - بارش کا زمین کوبہت سیراب کرنا۔ مالگیر طریقہ سے برساتنا
- فُلَانًا - دینا۔نَصْرَتٌ - الأرضُ - زمین پر بارش برساتنا۔
نَصْرَةٌ - نصرانی بنانا۔نَا صَرَّةٌ مِّنَّا صَرَّةٌ - ایک دوسرے کی مدد کرنا
تَنْصَرَفٌ - نصرانی بنانا۔تَبَّأ صَرَّتِ الْأَخْبَارُ - خبروں کا ایک دوسرے
کی تصدیق کرنا۔اِسْتَنْصَرَ - غالب آنا۔ کامیاب ہونا۔ ظالم سے
بچنا۔ مِّنْ عَدُوِّكَ - دشمن سے انتقاملینا۔ عَلَى الْخَصْمِ - غالب ہونا۔
اِسْتَنْصَرَ - مدد چاہنا۔ اِسْتَنْصَرَبِهِ - فریاد کرنا۔ فُلَانًا عَلَى فُلَانٍ -
کسی کے خلاف مدد کرنے کی درخواستکرنا۔
النُّصْرُ - مدد۔ مددگار۔ ج۔ ناصح کی جیسےککب جو راکب کی۔ النُّصْرُ - بارش
النُّصْرَةُ - پوری بارش۔النُّصْرَةُ - مدد۔ بہترین مدد۔ کامل بارش
النُّصْرَانِيَّ - شہر ناصرة کی طرف خوب۔حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے
دین پر چلنے والے لوگ۔ ج۔ نَصَارِيٌّ -مؤنث نَصْرَانِيَّةٌ -
النُّصْرَانِيَّةُ - نصرانیوں کا مذہب۔النُّصْرَانُ - نصرانی۔ مؤنث نَصْرَانِيَّةٌ -
النَّاصِرُ - فاء۔ ج۔ نَاصِرُونَ وَنَصَارٌ -وَنَصْرٌ وَنَصَارٌ - الانصار۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور معاونینباشندگان مدینہ۔ نسبت کے لیے
النَّاصِرِيُّ - وادی کی طرف پانی بہنے کینالی۔ نَوَاصِرٌ -
النَّاصِرَةُ - مؤنث الناصِرُ - نَاصِرَةٌوہ شہر جہاں حضرت عیسیٰ علی نبینا و
علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ نسبتکے لیے نَاصِرِيٌّ -
النُّصُورُ وَالنُّصُورُ - مددگار۔
النُّصَيْرُ - مددگار۔ ج۔ نَصْرَاءُ وَالنَّصَارُ -

التَّصَيُّرُ - مُنْتَ النَّصِيرِ - عَطِيَّةٌ - ج. -
تَصَايِيرٌ -
النَّصِيرِيَّةُ - غَالِيَتِيَّةٌ كَالْأَيْكَةِ فَتَقْتَضِي
فَتَامَ كَمَا فِي سَكُونِ يَدِيهِمْ أَوْ
أَيْسَرُ عَقِيدَةٍ كَوَجْهَاتِهِمْ - وَاحِدٌ
نُصَيْرِيٌّ -
النَّاصِرُ - نَاصِرٌ - ج. - كَوَاصِيرٌ -
النَّصَارُ - بَدَنٌ مَدْرُكَةٌ وَاللَّامُ
النَّصُورُ - مَنَعٌ - أَرْضٌ مَنصُورَةٌ - بَارِشٌ
سَيَّرَابِ زَمِينٍ -
نَصَعَرُ (نُ) نَصُوعًا وَنَصَاعَةً - الشَّيْءُ
فَالصُّ بِنَا - نَصُوعًا، الْأَمْسُرُ -
مَعَالِدٌ كَالظَّاهِرِ بِنَا - وَاصِحٌ بِنَا -
اللَّوْنُ - بَدَنٌ سَفِيدٌ بِنَا - الشَّارِبُ
بِنَا كَالْبِنَا - الْأَمُّ بِه -
بِحَبَابَةٍ - وَأَنْصَعُ بِالْحَقِّ - حَقٌّ كَالْحَقِّ
أَقْرَارُ كَرَكِ اسْمِ كَوَادِرِكَا - أَنْصَعُ
بِلِشْرٍ - بِنَا كَالْحَقِّ بِنَا -
النَّصَعُ وَالنَّصَعُ وَالنَّصَعُ - بَدَنٌ
سَفِيدٌ جَمْرًا يَأْكُلُ -
النَّصَعُ - جَمْرٌ كَالْفَرَشِ جِسْمٌ بِمَجْرَمِ قَلْبٍ
كَمَا جَانَا قَلْبًا -
النَّاصِعُ وَالنَّصِيحُ - فَالصُّ - مَانٌ - حَقٌّ
نَاصِعٌ - ظَاهِرٌ حَقٌّ - حَسْبُ نَاصِعٌ -
فَالصُّ حَسْبُ -
النَّاصِعُ - قَضَائِي حَاجَتُ كَالْبِنَا - وَاحِدٌ
مَنْصَعٌ -
نَصَعَةٌ (نُ) نَصْفًا - دِنٌ وَغَيْرُهُ كَالْحَقِّ
تَكْ بِبِنَا - نَصَفْتُ عُمُرِي - فِي بِنَا
أَدَمِي عَزَمْتُ بِبِنَا كَالْبِنَا - وَنَصَفْتُ
الْكِتَابَ - فِي أَدَمِي كِتَابٌ تَكْ بِبِنَا -
نَصَفْتُ النَّهَارَ وَغَيْرُهُ - دِنٌ وَغَيْرُهُ كَالْحَقِّ
نَصَفْتُ تَكْ بِبِنَا - نَصْفًا وَنَصْفًا
وَنَصْفًا وَنَصْفًا وَنَصْفًا -
الْوَجَلُ - خَدَمْتُ كَرْنَا -

تَصَفَّتْ دِنٌ، نَصْفًا وَنَصْفًا وَنَصْفًا
- الشَّيْءُ - أَدَمِي بِبِنَا - الْقَوْمُ
قَوْمٌ أَدَمَالِي بِنَا - الشَّيْءُ بَيْنَ
الْوَجَلِيْنَ - أَيْ جِزْرٌ كَوَادِمِي فِي
أَدَمَالِي بِنَا دِنَا - الْقَدْحُ -
بِنَا كَالْحَقِّ بِبِنَا -
تَصَفَّتْ دِنٌ، نَصْفًا - النَّخْلُ - دَرَجَتٌ
خَرْمَا كَالْحَقِّ بِبِنَا وَالْوَجَلُ
نَصَفْتُ - الشَّيْءُ - أَدَمَالِي كَرْنَا - نَصَفْتُ
بِنَا - النَّهَارُ - دِنٌ كَالْحَقِّ بِنَا -
رَأْسُ فُلَانٍ - سَرَكَا أَدَمَالِي بِنَا
أَوْ أَدَمَالِي سِيَاهُ رِبِنَا - السَّجَلُ -
أَدَمِي كَالْحَقِّ بِبِنَا - الْجَارِيَّةُ
لَطِي كَوَادِمِي أَوْ هَانَا - النَّخْلُ -
دَرَجَتٌ خَرْمَا فِي بِنَا كَالْحَقِّ بِنَا
أَوْ بِنَا كَالْحَقِّ بِنَا -
النَّصَفُ - الشَّيْءُ - نَصَفْتُ تَكْ بِبِنَا -
الشَّيْءُ - أَدَمَالِي - الرَّجُلُ - مَنصَفٌ
بِنَا - الْمُسَافِرُ - مَسَافِرٌ كَالْحَقِّ
النَّهَارُ فِي بِنَا - النَّخْلِيْنَ - دُو
خَصْمِي كَالْحَقِّ بِنَا -
فَيْصَلُ كَرْنَا - فِي فُلَانٍ - كَسِي سِي
أَيْسَرُ حَقِّ لِي بِنَا - فُلَانًا - خَدَمْتُ
كَرْنَا - الْمَاءُ الْإِنَاءُ - پَانِي كَالْحَقِّ
بِنَا تَكْ بِبِنَا -
نَاصِفَةٌ (نُ) نَصْفًا - أَدَمَالِي بِنَا
بِنَا - نَاصِفَةُ الْمَالِ - أَدَمَالِي
دِنَا -
تَنَصَّفْتُ - الْأَمِيرُ - أَمِيرٌ سِي الْعَمَالِ
كِي دَرَجَاتُ كَرْنَا - الْغَيْبُ فُلَانًا -
تَمَامٌ بِالْحَقِّ بِنَا - الرَّجُلُ - خَدَمْتُ
كَرْنَا - فُلَانًا فُلَانًا - خَدَمْتُ لِي بِنَا -
بِحَالِي طَلِبُ كَرْنَا - مَطْبَعٌ بِنَا - الشَّيْءُ -
أَدَمَالِي -
النَّصَفُ - النَّهَارُ وَغَيْرُهُ - دِنٌ وَغَيْرُهُ

كَالْحَقِّ تَكْ بِبِنَا - سَهْمَةٌ فِي
الْحَقِّ - تَكْ كَالْحَقِّ كِي دِنٌ فِي
أَدَمَالِي تَكْ بِبِنَا - الشَّيْءُ - أَدَمِي
بِنَا -
تَنَصَّفْتُ وَانْتَصَفْتُ - مِي فُلَانٍ -
الْحَقِّ بِبِنَا - حَقِّ لِي بِنَا - انْتِقَامٌ لِي بِنَا -
تَنَاصَفْتُ - الْقَوْمُ - أَيْ دَوَسَرِي سِي
الْحَقِّ كَرْنَا -
اسْتَنَصَفْتُ - الْحَقِّ بِبِنَا - مِي
فُلَانٍ - أَيْسَرُ حَقِّ كَسِي سِي بِنَا -
النَّصَفُ - بِنَا لِي بِنَا - جِزْرٌ كَالْحَقِّ
بِنَا -
النَّصَفُ - دَرَمِي فِي كَرْنَا - رَجُلٌ نَصَفْتُ
ج. - نَصْفُونَ وَالْحَقِّ - أَمْرًا
نَصَفْتُ - ج. - نَصَفْتُ وَنَصَفْتُ -
وَالْحَقِّ - د. - وَالْحَقِّ، عَدَلٌ
الْحَقِّ -
النَّصَفُ - الْحَقِّ - ج. - الْحَقِّ -
النَّصِيفُ - أَدَمَالِي - كَرْنَا كَالْحَقِّ
مِثْلًا أَوْ حَقِّ عَامِرٌ وَغَيْرُهُ - مِي الْبَرْدُ -
دَوَسَرِي بِبِنَا -
النَّاصِفُ - نَا. - خَدَمْتُ - ج. - نَصَفْتُ وَ
نَصَفْتُ وَنَصَفْتُ -
النَّاصِفَةُ - مُنْتَ النَّاصِفُ - نَاصِفَةٌ
الْمَاءُ - پَانِي كِي تَلِي - ج. - نَوَاصِفُ -
النَّصْفَانُ - مِي الْأَيْكَةِ وَنَحْوَهَا -
وہ بِنَا وَغَيْرُهُ جَوَادِمِي حَقِّ تَكْ
بِنَا -
الْأَنْصَفُ - بَدَنٌ الْعَمَالِ كَرْنَا وَاللَّامُ
النَّصَفُ وَالنَّصِيفُ - مِي الْطَرِيقِ -
رُكٌ كَالْحَقِّ بِنَا -
النَّصَفُ وَالنَّصِيفُ - خَدَمْتُ - مُنْتَ
مَنْصِفَةٌ - ج. - مَنَاصِفُ -
النَّصِيفُ - مَنَعٌ - دِنٌ وَغَيْرُهُ جَوَابِكُ
نَصَفْتُ كَرْنَا -

مُنْتَصِفٌ - الشیءُ وَمُنْتَصِفَةٌ - چیز کا درمیان۔

الْمُتَنَاصِفُ - مِنَ الرِّجَالِ - سولوں بدن والا۔ برابر برابر اجزا والا۔

نَصَلَ رَسًا، نَصْلًا - السَّهْمُ - تیر میں پیکان لگانا۔ السَّهْمُ - پیکان لگانا۔

نَصَلَ رَسًا، نَصْلًا وَنُصُولًا - مِنْ كَذَا - نکلنا۔ نَصَلَتِ اللِّحْيَةُ - داڑھی

پر سے خضاب کا رنگ اتر جانا۔

السَّعَةُ أَوِ اللِّحْمَةُ - لَانِكْ - کا اثر جاتا رہنا۔ مِنْ بَيْنِ الرِّجَالِ -

ظاہر ہونا۔ التَّاقَةُ - اونٹنی کا اونٹوں سے آگے نکل جانا۔

نَصَلَ وَأَنْصَلَ - السَّهْمُ - تیر میں پیکان لگانا۔ أَنْصَلَ السَّهْمُ -

پیکان نکالنا۔ أَنْصَلَ الشَّيْءَ مِنْ الشَّيْءِ - نکلنا۔ تَنَصَّلَ الشَّيْءُ -

نکلنا۔ پسند کرنا۔ الرَّجُلُ - کسی کے پاس سے سب کچھ لے لینا۔ مِنْ

كَذَا - نکلنا۔ اللِّحْيَةُ - داڑھی سے خضاب کا رنگ اترنا۔ كَمَدًا

فُلَانٍ - رنج و غم دور ہونا۔

إِنْتَصَلَ - السَّهْمُ - پیکان نکلنا۔

تَنَاصَلَ - نکلنا۔ ظاہر ہونا۔

إِسْتَنْصَلَهُ - نکلنا۔ گرجی کا جھاڑی کے شگوفے گراتا۔ ہوا کا ششک پودے

اکھڑتا۔

النَّصْلُ - تیر کا پیکان۔ نیزہ یا تلوار یا چھری کا پھل۔ بہت دفعہ تلوار کو بھی نصل

کہتے ہیں۔ ج۔ نِصَالٌ وَانْفِصَالٌ وَنُصُولٌ - نصل

نصل التوامیں۔ سر کی چوٹی۔ النَّصْلَانِ - پیکان اور بھالا۔ النَّصْلَةُ - ایک پیکان۔ النَّصِيلُ - کلاڑا۔ سر کا بالائی حصہ۔ تانوں

سر اور گردن کا جوڑ۔ صاف کیا ہوا گیہوں۔ وادی کی شاخ۔ نَصِيلٌ

الْحَجْرُ - پتھر کی سطح۔ ج۔ نَصْلٌ - النَّصِيلُ وَالْمِنْصَلُ وَالْمِنْصَالُ -

لبا کوٹنے کا پتھر۔ الْمُنْصَلُ وَالْمُنْصَلُ - تلوار۔ ج۔

مَنْصِلٌ - النَّصْمَةُ - وہ تصویر جس کی تعظیم کی جائے۔

نَعْنَنَ - الْبَعِيذُ - اونٹ کا دونوں زالوں زمین پر ٹکا کر اٹھنے کے لیے

بلنا۔ الشَّيْءُ - بلانا۔ فِي مَقْبِلِهِ - چلنے میں جھومنا۔

نَصَا يَنْصُو نَصْوًا وَأَنْعَى - الرَّجُلُ - پیشانی سے پکڑنا۔ نَصَبَتِ الْمَا شَيْطَةُ

الْمَرْأَةَ - پیشانی کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ نَصَا فُلَانٌ الثَّوْبَ - کپڑا

دور کرنا۔ اتارنا۔

نَاصَى نِصَاءً وَمُنَاصَاةً - ایک دوسرے کو پیشانی سے پکڑنا۔ ایک دوسرے سے متصل ہونا۔

تَنَصَّيْتُ - الرَّجُلُ الْقَوْمَ - قوم کی بہترین عورت سے شادی کرنا۔

تَنَاصَى - الْقَوْمَ - ایک دوسرے کی پیشانی کے بالوں کو پکڑنا۔ الْأَنْصَانُ

وَنَحْوُهُ - ہولے ٹہنیوں کا ایک دوسرے میں گھسنا۔

النَّصُومُ - مہم۔ پیٹ کا مرفد یا درد۔

النَّاصِيَةُ - پیشانی یا پیشانی کے بال جب دراز ہوں۔ ج۔ نَوَيْسٌ وَ

نَاصِيَاتٌ - نَاصِيَةُ النَّاسِ - قوم کے بڑے لوگ۔

الْمُنْتَصَى - دو وادیوں کے اتصال کی جگہ۔ دو وادیوں کے اوپے کے حصہ

کے ملاپ کی جگہ۔

النَّصِيءُ - انصاء۔ جگہ کا حصہ۔ جھاڑی

والی ہونا۔

إِنْتَصَى إِنْتِصَاءً - الشَّعْرُ - بالوں کا دراز ہونا۔ الْجَبَلُ أَوِ الْأَرْضُ - پہاڑ یا

زمین کا بلند ہونا۔ الشَّيْءُ - پسند کرنا۔ النَّصِيءُ - ایک قسم کا عمدہ چارہ۔ وَاحِدٌ نَصِيئَةٌ

ج۔ أَنْصَاءٌ - جج۔ أَنَا حِينَ - النَّصِيءُ - گردن کی ہڈی۔ ج۔ أَنْصِيئَةٌ

النَّصِيئَةُ - بِمَعْنَى نَصِيءٍ - مِنَ الْقَوْمِ أَوِ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا - چیدہ و برگزیدہ۔

النَّصِيئَةُ - بقیہ۔ ج۔ نَصِيءٌ - وَ جج۔ أَنْصَاءٌ وَأَنَا حِينَ -

نَصَّ رَضًا، نَصًّا وَنَضِيضًا - اِمَاءٌ - پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔ رَسْنَا - نَصَّ

مَالَهُ - سامان کا نقدی میں تبدیل ہونا۔ الشَّيْءُ - ظاہر کرنا۔ الطَّائِرُ

جَنَاحِيهِ - پرندہ کا اپنے باروؤں کو بلانا۔ الْعُوْدُ - کڑی سے چلنے میں

دوسرے سے پر پانی نکلنا۔ مَشْكٌ - زیادہ بھرنے سے پھٹ جانا۔

نَصَّ رَضًا، نَضِيضًا - اِلْمُؤْمِنُ - مکن ہونا خُذْ مَا لَعَنَ لَكَ مِنْ دَرِينٍ أَوْ قَمِيْنٍ

جو مل کے لے لو۔

تَنَصَّعَ - الرَّجُلُ - بہت روپوں اور اُخْرِيَّوْنَ وَالْأَهْوَانُ - الشَّيْءُ - حرکت

دینا۔ بلانا۔

أَنْصَقَ وَتَنَصَّعَ - الْحَاجَةُ - حاجت پوری کرنا۔

تَنَصَّعَ وَاسْتَنْصَقَ - حَقَّةٌ مِنْ قُلُوْبٍ - کسی سے اپنا حق تھوڑا تھوڑا

وصول کرنا۔ تَنَصَّعَ فُلَانًا - برا بھلا کرنا۔

إِسْتَنْصَقَ مَعْرُوفًا - تھوڑا تھوڑا کر کے فائدہ حاصل کرنا۔

النَّصَقُ - مہم۔ سونے و چاندی کے سگے۔ أَمْرٌ نَصَقٌ - مکروہ امر۔

برسانا۔
 أَنْضَجَ - بِمَعْنَى نَضَجَ - عِزْرَقَ فُلَانٌ -
 آبرو خراب کرنا۔
 نَاضَجَ مُنَاصِحَةً - عَنِ كَذَا إِدْرَاعَتِ
 کرنا۔
 تَنْضَجَ - مِنْ فُلَانٍ - بَرِي هَوْنًا -
 لَنْضَجَ - الْمَاءُ عَلَيْهِ - پانی کا چھڑکا جانا
 (وَأَسْتَنْضَجَ) الْمَتَوَضِعُ وَضَوْ
 کرنے والے کا وضو کے بعد دھوئی پر
 پانی چھڑکانا۔
 النضج - مم - پانی کا چھڑکاؤ - پانی جس سے
 کھیت سیراب کریں۔
 النضج - پانی کی طرح رقیق چیز جہ نضوج
 وَأَنْضَجَهُ -
 النضج - حوض جہ نضوج وَأَنْضَجَ -
 النضج - حوض پسینہ جہ نضج -
 الناضج - فا - پانی لادنے کا اونٹ -
 مَوْنَتٌ نَاضِجَةٌ - جہ - گواضم - بارش
 پانی چھڑک کر سیراب کی ہوئی جگہ۔
 النضج - مبالغہ کے لیے - کھجوروں کو سیراب
 کرنے والا - پانی لادنے کے اونٹ کو
 ہانکنے والا - مَوْنَتٌ نَاضِجَةٌ - قَوْسٌ
 نَاضِجَةٌ بِاللَّبِيلِ - تیر عمدہ پھلنے
 والی کان۔
 النضج - ایک قسم کی خوشبو - منہ میں
 ڈالنے کا دوا۔
 التناضح - پسینہ
 المنضجة والمنضجة - پانی چھڑکنے
 کا آلہ - جھارہ۔
 نضج دق، نضج - چھڑکانا - ترکنا۔
 نضج دق، نضجاً ونضجاً - الماء -
 پانی کا چشمہ سے زور سے پھوٹنا۔
 ناضجة مناضجة ونضجاً - ایک
 دوسرے پر چھڑکانا۔
 انضج وانضجاً - عَلَيْهِ الْمَاءُ - پانی

تا کہ وہ آواز دے۔
 النَّاضِبُ - فا - عَدِيدٌ نَاضِبٌ - خشک
 تالاب۔ مَكَانٌ نَاضِبٌ - دور کی جگہ
 جہ - نضیب۔
 التناضيب - ایک خاردار درخت - جہ -
 تَنَاضِبٌ -
 نضج رس، نضجاً - الثمر أو اللحم -
 پھل یا گوشت کا پکنا۔ مفت ناضج
 ونضج - (والتناضيب) الناقه
 اونٹنی کے بچے دینے کی مدت کا گزر جانا۔
 اور اس کا بچہ نہ دینا۔
 انضج - الثمر أو اللحم - پھل یا
 گوشت کو پکانا۔
 استنضج - الكواء - بکری کے پلے
 پکانا۔
 النضج والنضج - پختگی۔
 نضج الراعي - مضبوط رائے والا۔
 المنضج - گوشت بھرنے کی سنج۔
 نضج رنق، نضجاً - البيت بالماء -
 گھر میں پانی چھڑکانا۔ عَلَيْهِ الْمَاءُ -
 کسی پر پانی چھڑکانا۔ اليجلد - کھال
 کو ترکنا۔ عطفه - پیاس بھگانا۔
 سیر ہو کر نہ پینا۔ البعير الماء -
 کھیت میں ڈالنے کے لیے نہریا کنویں
 سے پانی لانا۔ فُلَانًا بِاللَّبِيلِ - تیر
 اندازی کرنا۔ نضج عن نفسه -
 مدافعت کرنا۔
 نضج الذرع - کھیتی کا دسر دار ہونا۔
 الشجر - درخت کا کلی دار ہونا۔
 النخل - درخت خرما کو اونٹنی کے پیچھے
 پانی لاکر سیراب کرنا۔
 نضج رنق، نضجاً ونضجاً - الإناث
 برتن کا رینا۔ القربل - گھوڑے کا
 پسینہ بہانا۔ نضجت العين - آنکھ
 کا آنسو بہانا۔ أسماء القوم - پانی

الناضق - فا - مانی سونے کے سکے۔ أمو
 ناضق - نکل امر ماء ناضق - دیر تک
 ٹھہرنے والا پانی۔
 النضاض - تھوڑا تھوڑا فائدہ حاصل کرنا۔
 النضاضة - مِنَ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ - بچا
 ہوا پانی وغیرہ۔ تھوڑا پانی - آخری بچہ
 يَكُوْنُ نَضُوْصٌ - وہ کھانا جس سے
 پانی رے۔
 النضيب - مم - تھوڑا سا پانی وغیرہ - جہ -
 نضاض - رَجُلٌ نَضِيبٌ اللَّحْمُ
 کم گوشت آدمی - جَاءَ الْقَوْمُ
 باقصر نضيباً - قوم اپنی آخری
 جماعت تک کولائی۔
 النضيبنة - تھوڑی بارش - جہ - انضه
 ونضائين - ایل نضيبنة و
 نضائين - سیراب نہ ہونے والے
 پیا سے اونٹ - النضائين - گرم
 پھر پر گوشت بھننے کی آواز - واحد
 نضيبنة۔
 نضيب رنق، نضيباً - الماء - پانی کا جاری
 ہونا - بہنا - نضيب عمود - عمر
 ختم ہونا۔
 نضيب رنق، نضوباً - الماء - پانی کا
 زمین میں جذب ہونا - عَنِ الشئ
 کشادہ ہونا - الخبير - کم ہونا -
 هينة - آنکھ دھنس جانا - نضبت
 السقار - ریگستان کا دور تک
 پھیلنا ہونا - نضيب القوم - لوگوں کا
 دور ہونا - فلان - نضيب
 ماء الوجه - بے خرم ہونا - فلان
 الثوب - کپڑا اتارنا۔
 نضيب - الماء - پانی کا زمین میں بیٹھ جانا
 نضبت الناقه - اونٹنی کا دودھ
 سے سوکھ جانا
 انضيب - القوس - کمان کی تانت کو کھینچنا

<p>تَنْصَلَهُ - نکلنا۔ اِنْتَصَلَهُ - نکلنا پسند کرنا۔ اِنْتَصَلَ وَتَنَاصَلَ - تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ التَّاصِلُ - فا۔ تیر اندازی میں غالب۔ جہ نَصَّالٌ - تَحْتَصُّ - الرَّجُلُ - بہت درہم و دینار والا ہونا۔ لِسَاكَةٌ - زبان ہلانے کا۔ بے آرام کرنا۔ النَّصْنَانُ وَالتَّنْصَانَةُ - مِنَ الْحَيَاتِ زبان ہلانے والا سانپ۔ ایک جگہ قرار نہ پکڑنے والا سانپ۔ ڈستے ہی ہلاک کر ڈالنے والا سانپ۔ نَضًا يَنْصُتُونَ نَضًا - السَّيْفُ مِنْ عَمْدٍ - تلوار سوتنا یا نکلنا۔ الثَّوْبُ عَندهُ كَبُرَ اتَارَنًا - الرَّجُلُ مِنْ ثَوْبِهِ - تنگا کرنا۔ الْبِلَادُ - طے کرنا۔ نَضًا الْجَرْحُ - زخم کا درم اترنا۔ الْمَاءُ - پانی کا خشک ہونا۔ السَّيْفُ - تلوار کا پار ہونا۔ نَضُوا وَتَوَسَّطُوا الْفَرَسَ - الخَيْلُ سَبَقَتْ لِي جَانًا - گے بڑھ جانا۔ نَضُوا وَنَضُوا الْخَصَابَ - خضاب کا رنگ اتر جانا۔ اَنْعَى اَنْصَاءً - الْبَعِيرُ - لاغر کرنا۔ الثَّوْبُ كَبُرَ كَبْرًا سِيدَهُ كَرْنَا - فَلَاقَا دُبْلًا جَانِدِيًا۔ نَضَى تَنْصِيلاً - كَرِيهَةً عِنْدَهُ - کسی کا کپڑا اتارنا۔ تَنْصَحِي - الْبَعِيرُ - اونٹ کو لاغر و بھلا کرنا۔ اِنْتَصَى اِنْتِصَاءً - السَّيْفُ - تلوار سوتنا۔ الثَّوْبُ - کپڑا رسیدہ کرنا۔ النَّضْوُ - لاغر جانور۔ مَوْنَتٌ يَنْصُوقُ - بوسیدہ کپڑا۔ بہت مستعمل خلاب تیر پتلا تیر لگام کا لونا۔ جہ۔ اَنْصَاءً -</p>	<p>ترو تازہ بنانا۔ اَنْظَرَ - ترو تازہ ہونا۔ الشَّجَرُ - درخت کا سبز پتے والا ہونا۔ اِسْتَنْظَرَ - الشَّيْءُ - سبز پاتا یا شمار کرنا۔ النَّظَرُ - جہ۔ نِظَارٌ وَالنَّظَرُ وَالنَّظَرُ وَالنَّظَرُ - النَّظِيرُ وَالنَّظَرُ - سونا چاندی۔ النَّظَارُ - ہر خالص غشے۔ خالص سونا۔ النَّظَارُ وَالنَّظَارُ - جھاؤ کا درخت۔ برتن بنانے کے کام کی عمدہ لکڑی۔ النَّظِيرُ - خوبصورت۔ نرم و نازک سبز کا ہی شوخ رنگ۔ النَّظْرَةُ - نِعْمَتٌ جَسْنٌ - رونق۔ دولت مندی۔ پگھلایا ہوا سونا۔ نَضَعُ رِنَ مَن، نَضَعًا وَنَضَعُ رِنَ، نَضَعًا وَنَضَعُ رِنَ - الْفَيْصِيلُ مَا فِي الْفَرْجِ اَمِيه - اونٹنی کے پچیر کا تمام دودھ جو مس لینا۔ نَضَقَهُ مَن، نَضَقًا خَدَّتْ كَرْنَا - نَضَفَ الْجِمَارُ - گدھے کا گوز کرنا۔ اَنْصَفَ - الْجَمَلُ - اونٹ کا دکل چلنا۔ - الرَّجُلُ يَكْسِي كَابِيهِمْ جَنْجَلِي پودینہ کھانا۔ النَّصْفُ - مَمْرٌ جَنْجَلِي پودینہ۔ النَّصْفَانُ - دُلْكَی چال۔ النَّصْفُ وَالنَّصْفُ - ناپاک۔ النَّصْفُ - فا۔ دہ۔ والنَّصْفُ، بہت گوز کرنے والا۔ جہ۔ مَنَاصِفُ۔ نَضَلَهُ رِنَ، نَضَلًا - تیر اندازی میں غالب آنا۔ نَضِلَ رِنَ، نَضَلًا - الْبَعِيرُ - اونٹ کا لاغر ہونا۔ بھلنا۔ نَاكَلَهُ نَضَالًا وَنِيْعَالًا وَمَنَاصِكَةً تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ نَا حَصَلَ عِنْدَهُ کسی کی حفاظت کرنا۔ حمایت کرنا۔ اَنْصَلَهُ - لاغر کرنا۔ بھلنا۔</p>	<p>کا کرنا۔ اِنْتَضَحَ - مَمْرٌ كَبُرَ پرنوشبو کا نشان۔ النَّضْحَةُ - بوجھار۔ النَّضْحُ - نِوَسَاوَدًا عَارِبًا رَشًا - حَيْنٌ كَصَاحَةِ - ابنے والا چشمہ۔ الْمِنْهَجَةُ - پانی چھڑکنے کا آلہ۔ جھارہ جہ۔ مَنَاصِحُ - عام لوگ اس کو مَرِيضَةٌ يَارَ نَاصِحَةٌ کہتے ہیں۔ كَمَنْدَرُضٍ، كَمَنْدًا وَكَمَنْدًا - الْمَتَاعُ - سامان کو ایک دوسرے پر چننا۔ یا ڈھیر لگانا۔ صفت مفعولی۔ مَنُضُوذٌ وَنَيْيِدٌ وَنَمُضِدٌ۔ تَنْصَدَتِ الْأَسْنَانُ وَنَحَوَهَا - دانتوں کا با ترتیب ہونا۔ اِنْتَصَدَ - الْقَوْمُ بِمَكَانٍ كَذَا - قوم کا کسی جگہ اکٹھا ہونا۔ ٹھہرنا۔ النَّصْدُ - گھر کا چنا ہوا سامان۔ بخت۔ تہ بہ تہ ہادل۔ عزت و شرافت۔ جہ۔ اَنْصَادُ - اَنْصَادُ الْقَوْمِ - آدمیوں کی جماعت۔ اَنْصَادُ - الرَّجُلُ - آدمی کے شریف چچا اور ناموں۔ اَنْصَادُ الْجِبَالِ او السَّمَابِ - تہ بہ تہ پہاڑ یا بادل۔ ر - وَالنَّضُوذُ - جہ۔ اَنْصَادٌ وَنُصْدٌ مَوْتٌ اَوْ مَوْتٌ۔ النَّصِيدَةُ - بھری ہوئی چیز۔ بکھیہ۔ جہ نَضَائِدٌ۔ الْمِنْصَدَةُ - گھر کا سامان رکھنے کی ٹیبل۔ نَضَرَنَ وَنَضَرُ رِنَ، وَنَضَرُ رِنَ، نَضَرًا وَنَضَرَةً وَنَضَرًا وَنَضَرًا وَنَضَرًا - الْوَجْهُ او اللَّوْنُ او الشَّجَرُ وَخَيْرُهَا - ملائم و تازہ اور خوبصورت ہونا۔ صفت کا صِرُّ وَ كَبِيرٌ۔ نَضَرَنَ، نَضَرًا وَنَضَرًا - هَ اللَّهُ۔</p>
---	--	--

النُّطَاوَةُ - مِنَ النُّطَابِ. مَهْرًا يَأْتِي
 خُضَابٌ .
 النُّطِيُّ - لَافِرٌ جَانِبٌ - بَغِيرٌ بِيضَانٌ أَوْ رُكْبَةٍ
 تَبْرُ - كَانَدَةٌ أَوْ كَانٌ كَيْ دَرِيَانٌ كَا
 حَصْبٌ - مِنَ السَّمْحِ بِرَأْسِ بِيضَانٍ
 كَيْ دَرِيَانٍ كَا حَصْبٌ - ج. - النَّطِيَّةُ .
 نَطِيٌّ يَنْطِي نَطِيًّا - السَّيْفُ - تَلَوَارٌ
 سَوْتَانٌ - الثَّوْبُ - كَبْرًا أَوْ تَارَادٌ - وَ
 أَنْطِيٌّ وَ أَنْطِيٌّ، الثَّوْبُ - بُوْسِيْدَةٌ
 أَوْ بِرَانَا كَرْنَا .
 نَطَاوُنٌ نَطَاوٌ - الشَّيْءُ - بَانَدٌ حَا - كَيْبِيْنَا .
 نَطْرَضٌ نَطَا - كَبُوَسٌ كَرْنَا - فِي
 الْأَرْضِ - جَانَادٌ - نَطِيْنًا، بَجَا كَا .
 بَجَانَدَانَا .
 النَّطَاطُ - كَبُوَسِيٌّ - بَهْتٌ سِيَا حَتُّ كَرْنِي
 وَالَا - كَوْمَانٌ فَا لَا - لَخُوْدٌ مَوْنِي كَرْنِي
 وَالَا .
 النَّطِيْنُطُ - م. م. مَكَانٌ نَطِيْنُطٌ - دَوْرِكِي
 بَكْرٌ - اَرْضٌ نَطِيْنَةُ - دَوْرِكِي زِيْمِن .
 الْأَنْطُ - دَوْرِكَا سَفْرٌ - ج. - نَطُطٌ -
 نَطِيْبَةٌ دِنٌ، نَطِيْبَا وَ أَنْطِيْبَةٌ - اَكْلِي سِي
 كَانٌ بِرَانَا .
 نَطِيْبَةٌ - مُنَاظِيْبَةٌ - بِرُكَا نَا - جَمَكْرَانَا .
 النَّطِيْبَةُ - جَمَلِي كَيْ سَوْرَا خ .
 النَّطَابُ - سِرٌّ - كَرُونٌ كِي رَكٌ .
 الْمِنْتَابُ وَ الْمِنْتَابَةُ - جَمَلِي . مَانِي .
 الْمِنْتَابَةُ - بِرُقُوْفٌ .
 نَطْحَةُ رِفْضٌ، نَطْحَا - الْمَقْوَرُ وَ
 نَحْوُهُ - بِيْلٌ كَا سِيْنَكٌ سِي مَارْنَا .
 نَطْحٌ فُلَانًا - رَفْعٌ كَرْنَا - بَطَانَا -
 نَاطِحَةٌ نَطَا حَادٌ مُنَا حَطَةٌ - بِيْنِي كَطْحَةٌ
 لَانْتَطَحَ وَ تَنَا طَحَ - الْكَبِيْشَاتُ - اِيْكٌ
 دَوْرِي سِي كَيْ مَكْرَانَا - تَنَا طَحَتْ
 الْأَمْوَاجُ - مَوْجُوْنٌ كَا آبِسِي مِيْلِكْرَانَا .
 النَّاطِحُ - فَا - سَا مَنِي سِي آ نِي وَ الْوَا حَشِي يَا

بہندہ کہتے ہیں: مَا لَنَا نَاطِحٌ
 وَلَا جَانِيْطٌ! اس کے پاس نہ بکری
 ہے نہ اونٹ۔ اِنَّا طِحٌ، منازلِ قمر
 میں دستاروں کا نام۔
 النَّطْحُ - م. م. - مَنَازِلُ قَمَرِيْنَ وَ دَسْتَارُوْنَ
 كَا نَامٌ .
 النَّوَاطِحُ - سَمْتِيَا .
 النَّطْحَةُ - لَاطِي .
 النَّطِيْحُ - سِيْنَكٌ مَارَا بُوَا - سِيْنَكٌ لَكْنِي
 سِي مَارَا بُوَا - مَنَحُوْسٌ . وَ هُوَ كَمُوْرٌ حَسِي كِي
 پِيْشَانِي مِيْلِ دَوَا اِرْسِي بُوَلٌ - مَوْنُثُ
 نَطِيْحَةٌ - ج. - نَطْحَاءٌ وَ نَطَا حِيْحٌ .
 النَّطْحُ - بَهْتٌ سِيْنَكٌ مَارْنِي كَا عَادِي .
 نَطْرَانٌ، نَطْرًا أَوْ نَطَارَةً - اَلْكُرْمُ
 أَوْ النَّزْرَعُ - اَكْمُوْرُوْنَ يَا كَهِيْتِي كِي
 نَكْبَانِي اَوْ حِفَاظَتِي كَرْنِي .
 النَّطَارَةُ - م. م. - بَاغْبَانِي - چُو كِيْدَارِي .
 النَّاطِرُ وَ النَّاطِرُ - اَكْمُوْرُوْنَ يَا كَهِيْتِي كَا
 چُو كِيْدَارِي - نَكْبَانٌ - ج. - نَطَا سٌ وَ
 نَطْرَةٌ وَ نَوَا طِيْرٌ - وَ نَطْرَاءٌ -
 النَّطَارُ - ڈَرَا وَا يَا دَهُو كَا جَمْرِيْنُوْنَ اَوْ
 جَانُوْرُوْنَ كَرُورَانِي كَيْ لِي كَهِيْتِي مِيْلِ
 كَمْرًا كِيَا جَاتِي سِي .
 نَطِسٌ (س) نَطَسًا - مَابِرٌ بُوْنَا - دَاتَا بُوْنَا
 تَنْطَسُ - كَفْتِكُوْرٌ يَابَاسٌ وَ فِرُو مِيْلِ مَمَاتُ
 بُوْنَا - اَمُوْرٌ كُو كَرِي نَطْرَسِي دِي كَمِنَا .
 تَنْطَسُ الْأَخْبَارُ وَ حِنُّ الْأَخْبَارِ
 خَبْرُوْنَ كَيْ بَارَسِي مِيْلِ تَجَسُّسٌ وَ كِيْدُ
 كَرْنَا .
 النَّطْسُ وَ النَّطْسُ وَ النَّطْسُ - عَالِمٌ -
 كَفْتِكُوْرٌ وَ بَاسٌ وَ فِرُو مِيْلِ مَمَاتُ .
 النَّطِيْسُ وَ النَّطِيْسِي وَ النَّطِيْسِي -
 مَابِرٌ طَبِيْبٌ .
 النَّطْسُ - مَابِرٌ طَبِيْبٌ .
 النَّطْسَةُ - بَهْتٌ اَحْتِيَا طُ كَرْنِي وَ الْوَا

النَّاطِسُ - جَا سُوْسٌ .
 نَطِعَ نَطْعًا وَ اَنْطِعَ وَ اَسْتَنْطِعَ -
 نَوْنُهُ - رَنَكٌ مَتَغِيْرٌ بُوْنَا
 تَنْطَعُ - فِي الْكَلَامِ - كَلَامٌ مِيْلِ فُلُو كَرْنَا .
 تَالُوْسِي بُوْنَا - فِي شَمُوْ اَتِيْمٌ .
 مِبَالِغَةٌ كَرْنَا - فِي عَمَلِيْهِ - اِيْنِي كَامٌ
 مِيْلِ مَابِرٌ بُوْنَا - الرَّجُلُ - جَمْرِي سِي
 كَيْ دَسْتَرُ خِرَانٌ بِرُكْحَانَا - سِيْرٌ بُوْرٌ كَحَانَا .
 النَّطْعُ وَ النَّطْعُ وَ النَّطْعُ وَ النَّطْعُ -
 وَ هُوَ جَمْرِي سِي كَا فَرَشٌ جَمْرِي بَرْمَجْمٌ كُو قَتْلِ
 كِيَا جَاتِي سِي - ج. - اَلنَّطَاعُ وَ نَطُوْعٌ -
 النَّطْعُ وَ النَّطْعُ - تَالُو كَا اَكْلَا حَصْبٌ - ج.
 نَطُوْعٌ - الْحُرُوْفُ النَّطِيْعِيَّةُ
 تَتَذَطُّ - جَمْرِي كَا مَخْرَجٌ تَالُو كَا اَكْلَا
 حَصْبٌ سِي .
 النَّطْعُ - بَاچِيْسِي بُوْلَا كَرُ بُوْنِي وَ الْوَا .
 النَّاطِعُ - خَالِصٌ رَنَكٌ وَ فِرُو .
 النَّطَاعُ - كَلَامٌ مِيْلِ بَهْتٌ فُلُو كَرْنِي وَ الْوَا .
 جَلْدٌ سَارٌ - ج. - نَطَاعُوْنٌ .
 نَطَاعٌ اَنْقُوْمٌ - قَوْمٌ كَا عِلَاتِي .
 النَّطَاعَةُ - وَ هُوَ لَقْمٌ جَمْرِي كَا نَصْفٌ كَحِيَا
 جَاتِي اَوْ نَصْفٌ دَسْتَرُ خِرَانٌ بِرُكْحُوْرٌ
 وَ يَا جَلِي .
 نَطَفَ دِنٌ، نَطْفًا وَ تَنْطَفًا وَ
 نَطْفَانًا وَ نَطْفَانَةً - الْمَاءُ -
 پَانِي كَا تَهُوْرٌ اَتَهُوْرًا بَسْتَا - الْقُرْبِيَّةُ
 مَشْكٌ كَا نِيْكِنَا - الْمَاءُ - پَانِي كَرْتَا .
 نَطْفَةٌ وَ نَطْفَةٌ وَ اَنْطَفَةٌ - بِي كَارِي .
 اِلْزَامٌ لَكَانَا - نَطْفَةُ الْمَرْأَةِ - عَوْرَتُ
 كُوْبَالِي پِنَانَا .
 نَطِفَ دِنٌ، وَ نَطِفًا نَطْفًا وَ نَطْفَةً
 وَ نَطُوْفَةً - عِيْبٌ دَارٌ بُوْنَا . مَزْمٌ
 كَمْرًا يَا جَانَا - تَمْتٌ لَكِيَا جَانَا -
 نَطِفٌ - الشَّيْءُ - چِيْرٌ كَا خِرَابٌ بُوْنَا -
 نَطِفَ الرَّجُلُ - بِي مَضْمِي وَ الْوَا بُوْنَا .

تَنْطَفَقَ - الرجلُ عیب دار ہونا۔ بالیاں
پیننا۔ منہ۔ نفرت کرنا۔
النُّطْف - مہم۔ عیب۔ شہ و نساو۔
النُّطْفَةُ - صاف پانی تھوڑا یا بہت۔
سندر۔ مرد یا عورت کا نطفہ۔ جہ
رِطَافٌ وَنُطْفٌ - (و النُّطْفَةُ)
ڈول یا مشک وغیرہ میں پیا ہوا پانی۔
النُّطْفَةُ - ہر لچکے والی چیز۔
النُّطْفَتَانِ - دو سندر۔ بحیرہ روم و
بحیرہ قزاق۔
النُّطْفَةُ وَالنُّطْفَةُ - بالی شفاف موتی۔
جہ۔ نُطْفٌ۔
النُّطْفَةُ - پید۔ شکل آدمی۔
النُّطْفُوفُ - ہارش والی رات۔
نَطَقَ رَمْنٌ، نَطَقَادٌ مَنِيْقًا وَنُطُوْقًا۔
بولنا۔ ایک کتاب۔ واضح کر کے
بیان کرنا۔
نَطَقَهُ - گفتگو کرنا۔ پشکا یا پیٹی باندھنا۔
نَا طَقَهُ - گفتگو کرنا۔
اَنْطَقَهُ - گفتگو کرنا۔
تَنَا طِقَ - الرجلانِ - باہم گفتگو کرنا۔
تَنْطِقُ وَ اَنْتَطِقُ وَ تَمَنْطِقُ - کہیں
پشکا باندھنا۔ الارضُ بِالْوَجْهِ
زمین کا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہونا۔
اَنْتَطِقَ بِقَوْمِهِ - اپنی قوم سے
طاقتور ہونا۔ الرجلُ - گفتگو کرنا
عزم منطوق حاصل کرنا۔ فَرَسَهُ -
گھوڑے کو کھینچنا۔
اَسْتَنْطَقَهُ - گفتگو کرنا۔ بولنے کو کہنا۔
النُّطِقُ - مہم۔ نطق ظاہری (گفتگو)
و نطق باطنی (فہم و ادراک) ہر دو
مراد ہوتے ہیں۔
النُّطْقَةُ - نطق کا اسم مرہ۔
النُّطِقُ - بولنے والا۔
النُّطَاقَةُ - پیٹی۔ مکر کا پشکا۔ جہاں دار پیٹی۔

کرت۔ جہ۔ نُطِقُ - عَقَدَ قُلَانٌ
حُبِكَ النُّطَاقُ - قُلَانِ آدَمِ جَانِ
کے لیے تیار ہوا یا کام کرنے کے لیے
فارغ ہوا۔
نُطَاقُ الْجَدْوَانِ - وسط جواز کے تین
ستارے۔ انتظام اور التمام کے
لیے ضرب النثل ہیں۔
النُّطَاقَةُ - پرچہ۔ پُرزہ۔
النَّاطِقُ - نا۔ بولنے والا۔ سمجھ دار۔
النَّاطِقَةُ - مؤنث الناطِقُ - کمر نطق
ناطقہ۔
النُّطِيقُ - کلام۔ علم منطوق۔
النُّطِيقُ وَالنُّطِيقَةُ - مکر کا باندھنے کا
پشکا یا پیٹی۔ جہ۔ مَنَا طِقُ - کہیں اسی
سے فعل بنا کر تَمَنْطِقُ کہتے ہیں۔
یعنی مکر پر پشکا باندھنا مَنَطِقَةُ
الْجَوَانِ - عین۔ تاروں کے نام
مَنْطِقَةُ الْعَوَارِ - ایک اور ستارے
کا نام۔
النُّطِيقُ وَالنُّطِيقَةُ - خوش بیان۔
النُّطِيقُ - مفع۔ مکر۔ المَنْطِقَةُ مِنَ
الْمَعْرِزِ - کہیں سفیدی رکھنے والی
کبری۔
النُّطِيقُ - رفیع الشان۔ صاحبِ رموخ۔
النُّطِيقُ - بولا ہوا۔
نَطَلْ رَمْنٌ، نَطَلَا - الخمر - شراب
نچوڑنا۔ و نَطَلٌ، رَمْنُ الْعَلِيلِ
بالعَطْوِ - پیاسے کے پھر پر دنیا کا نیم گرم
پانی گرانا یا پینا۔
النُّطَلُ - مہم۔ انگور کا چھلکا۔ تھوڑا دودھ
(و النُّطَلُ) شراب کی تلچھٹ۔
ابجائی مہم شراب کے بعد کی پھولی
ہوئی شراب۔
النُّطَلَةُ وَالنُّطَالُ - پانی یا دودھ وغیرہ
کا گھونٹ۔ پیمانے کا فضلہ۔

النُّطَالُ وَالنُّطَالُ وَالنُّطَالُ وَالنُّطَالُ
شراب یا دودھ وغیرہ ناپنے کا برتن۔
النُّطَالُ وَالنُّطَالُ - مصیبت۔
النُّطَالُ - ہلاکت۔ موت۔ ڈول۔ جہ
نُبَا طِلٌ -
الرُّطَالَةُ - مصیبتیں۔
النُّطُولُ - دوا میں جوش دیا ہوا پانی۔ جس
سے عضو ماؤن دھاریں۔
النُّطَالُ - شراب کشی کی مشینیں۔
نَطْنَطُ - الشیء - کھینچنا۔ الرَّجُلُ -
لمجے سفر والا ہونا۔ وَتَنْطَنَطُ دُور
ہونا۔ النُّطْنَطُ وَالنُّطْنَطُ وَ
النُّطْنَطُ - لمجے قد والا۔ جہ۔
نَطَانِطُ وَنَطَانِطُ -
نَطَانِطُوا نَطَوًا - الخبل - رسی کھینچنا۔
- الْعَزَلُ - بانا بننا۔ المَنْزِلُ -
دور ہونا۔ عَنِ فُلَانٍ - چپ ہونا۔
نَا طِي مَنَا طَاةً - الرجلُ - لمہائی میں
مقابلہ کرنا۔ باہم نزاع کرنا۔
النُّطِي - دینا۔
تَنَا طِي - القومُ - ایک دوسرے سے
بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تَنَا طُوا الْكَلَامَ
آپس میں گفتگو یا بحث کرنا۔
النُّطُو - دوری۔
النُّطِي - دور۔ لمہا راستہ۔
النُّطَاةُ - کچی کھجور کا ڈنٹھل۔ الخمر -
نَطْرُونُ، وَنَطْرُونُ - نَطْرُونُ
وَمَنْطَرُونُ وَنَطْرُونُ -
وَالْمِي - کھینچنا۔ خور سے دیکھنا۔
نَطْرُونُ، نَطْرُونُ - فی الاضمر۔ سوچنا۔
نَطْرُونُ - اندازہ کرنا۔ الشیء -
انتظار کرنا۔ بَيْنَ النَّاسِ - حکم کرنا
قیمتہ کرنا۔ لِلْقَوْمِ - رحم کرنا۔ دُور
دینا۔ فُلَانًا - متوجہ ہونا۔ فُلَانًا
الْمِي - مہلت دینا۔ الشیء -

ملت سے رہنا۔ فُلَانٌ كَابِرٌ ہونا
 انظرونی فُلَانًا۔ میرے لیے فلاں کو
 طلب کرو۔ وَارَى كُنْفُو لَانِي
 ڈارہ و کناظرو ڈارہ۔ میرا بھر
 اس کے گھر کے مقابلے میں ہے۔
 وَتَمَوَدَا هُوَ اِلَى بَنِي فُلَانٍ
 زمانہ نے فلاں کی اولاد کو ہلاک کر
 دیا۔

نَاظِرَةٌ مُتَاظِرَةٌ۔ مشابہ ہونا۔ برابر
 ہونا۔ بحث کرنا۔ نَاظِرُ الْجَيْشِ
 الالافین۔ لشکر و ہزار کے قریب
 پہنچ گیا۔ فُلَانًا بِفُلَانٍ اَو الشَّيْءِ
 بالشیء۔ مشابہ ہونا۔

النظرة۔ الدين۔ ادائیگی قرض کے
 لیے ملت دینا۔

تَنْظُرُهُ۔ آکھ سے بغور دیکھنا۔ دیر کرنا۔
 ملت دینا۔

تَتَاطَرَا۔ فِي الْأَمْرِ۔ باہم کام میں
 مشقت اٹھانا۔ بحث کرنا۔ تَتَاطَرَا
 الْقَوْمُ۔ اَبَدٌ دُورًا كَرِيحًا۔

انظرو۔ انتظار کرنا۔ امید رکھنا۔ دیر
 لگانا۔

بِاسْتَنْظَارٍ۔ انتظار کرنا۔ ملت چاہنا۔

النظور۔ ميم۔ نگاہ۔ مانا۔ علم النظر والا

والاسعمال۔ علم کلام۔ فِي هَذَا

الامرِ تَنْظُرُ۔ یہ معاملہ خود کے قابل

ہے۔ يَبْتَئِنًا تَنْظُرُ۔ جاہل و مبہم

اس قدر دوری ہے کہ نگاہ نہیں پہنچ

سکتی ہے۔ تَنْظُرًا۔ لَانِي كَذَا و

بِالنظورِ اِلَى كَذَا۔ یعنی اس کے

لحاظ سے۔ النظر۔ قوم جس کے

خیمے ایک دوسرے کے سامنے یا پاس

پاس ہوں۔

النظور۔ مثل۔ مشابہ۔

النظرة۔ لم۔ ایک نگاہ۔ ایک نظر۔

برائی۔ قصور، رحمت۔ مہربانی۔

النظرة۔ ملت۔

النظري۔ علم استدلال۔

النظريّة۔ فِي الْبَهْتِكَةِ۔ دليل

سے ثابت کرنے کا محتاج قضیہ۔ جہ

نظريات۔

النظار والنظارة۔ فراست و دانائی۔

النظار۔ فا۔ آکھ، آنکھ کی پتلی۔ کسی

ادارہ کا نام جسے ناظر خارجیت و

ناظر الیہ۔ جہ۔ نظار۔

النظار۔ پیشانی سے ناک کے نتھنوں

تک کی ہڈی۔ وہ آدمی امین جس کو

بادشاہ تحقیقات معاملات کے لیے

بھیجے۔ هُوَ شَدِيدُ النَّظَرِ۔ وہ

تہمت سے بری ہے۔ الناظران۔

ناک کے دو پہلوؤں کی دو رگیں۔

النظار والنظوس۔ انگوروں کا محافظ۔

النظود۔ قوم کا سردار۔

النظرة۔ مؤنث الناظر۔ آکھ۔ جہ

نواظر۔ النواظر۔ آنکھوں کی رگیں

تو ترک پہنچتی ہیں۔

النظار۔ تیز دیکھنے والا۔ تیز گھوڑا۔

النظارة۔ تماشاخانہ ناظرین۔ دور بین۔

النظور والنظورة والنظيرة و

النظار۔ قوم کا سردار و مفرد

جمع، مؤنث مذکر،

النظير۔ برابر کا۔ تساوی۔ جہ۔

نظواء۔ مؤنث نظيرة۔ جہ۔

نظائر۔

نظائر القوم۔ قوم کے شرفاء۔

نظيرة القوم ادا الجیش و

نظيرة تيمم۔ فوج کا ہراول دستہ

فوج کا سردار۔

النظور۔ نظارہ۔ دیکھنے کی جگہ۔ کنت

عَنْ هَذَا الْمَقَامِ بِمَنْظِلٍ۔ میں

اس مقام سے علیحدہ تھا۔ جہ۔ مناظر

۔ المناظر۔ ہند میں

النظرة۔ ميم۔ دیکھنے کی جگہ۔ کسی چیز کی

طرف دیکھنے والی قوم۔

النظري والنظوراني۔ خوش نما۔

النظار۔ فا۔ مثل۔

النظار۔ آئینہ۔ جہ۔ مناظر۔

النظوس۔ مفع۔ وہ شخص جس کی بھلائی

کی امید رکھی جائے۔ نظر بد لگا ہوا۔

النظورة۔ مؤنث المنظور۔ مصیبت

عیب دار عورت۔

نظف دن، نظافة۔ الشئ۔ صاف

سُحْرًا ہونا۔ صفت نظيف۔ مؤنث

نظيفة۔ جہ۔ لظفاء۔ فُلَانٌ

نظيف السراويل۔ فلاں پاکدامن

ہے۔ نظيف الاخلاق۔ مہذب۔

نظف۔ الشئ۔ صاف سُحْرًا کرنا۔

تنظف۔ الشئ۔ صاف سُحْرًا ہونا۔

الرجل۔ بتکلف صاف سُحْرًا بننا۔

نیک ہونا۔

انتظف۔ القصيل ما في صرح

أقبلہ۔ اونٹ کے بچے کا سب دودھ

پی جانا۔

استنظف۔ صاف طلب کرنا۔ سب لے

لینا۔ خراج سب وصول کرنا۔

نظردن، نظماً ونظاماً۔ اللؤلؤ

ونحوه۔ موتی پرونا۔ آراستہ کرنا۔

موزوں کرنا۔ الشئ لانی الشئ۔

کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا۔ الامر

برپا کرنا۔ قائم کرنا۔

نظمت و النظمت۔ السمكة او

الدجاجة۔ مچھل یا مرغی کا انڈے

والی ہونا۔

تنظّم و انتظّم۔ دتتا نظّم۔

اللؤلؤ ونحوه۔ موتی وغیرہ کا پرویا

جانا۔ تَنْظَمَ وَانْتَقَطَ۔ الأَمْرُ
 کام کا درست ہونا۔ ٹھیک ہونا۔ و
 انْتَقَطَ الصَّيْدُ۔ شکار کو
 نیزے یا تیر سے چھید دینا۔ كُنَّا قَلَمْتِ
 الصَّخْرَةِ۔ چٹانوں کا ایک دوسرے
 سے ملا ہوا ہونا۔
 النِّظَامُ۔ مہم۔ مڈی دل۔ ٹڈیوں کی
 ایک قطار۔ نظم کیا جوا موزوں کلام۔
 النِّظَامُ۔ بعض۔ تارے مثلاً ثریا۔
 نِطَاقُ الجَوَادِ۔ دَبْرَان۔
 النِّظَامُ۔ مہم۔ موتیوں کی لڑی کا دھاگا۔
 ج۔ نَظْمٌ وَانْظِمْتُمْ وَآنَا ظِلْمٌ۔
 النِّظَامُ۔ رواج۔ عبادت۔ ترتیب
 موافقت۔ باقاعدہ فوج۔ هُوَ عَلَى
 نِظَامٍ وَآجِدُ۔ وہ ایک طرز پر
 ہیں۔
 الأَنْطَامُ۔ رستلی پہاڑیوں کی قطار۔ مَرْعَى
 وغیرہ کی انڈے دانے میں انڈوں کی
 قطار۔ لڑی کا دھاگا۔
 النِّظَامُ۔ بہت پروانے والا۔
 النِّظِيمُ۔ موزوں شعر وغیرہ۔
 المَنْظُومُ۔ مہم۔ شعر۔
 المَنْظُومُ۔ ترتیب دینے کی جگہ۔ ج
 مَنَاطِمٌ۔
 النَّعْجُ۔ کمزور آدمی۔
 النَّعَاجُ۔ نرم و نازک گھاس۔
 نَعَبٌ۔ دَفْضٌ، نَعْبًا وَنَعَابًا وَنَعِيًّا وَ
 نَعْبًا وَتَنْعَابًا۔ الغرَابُ۔
 کوسے کا کائیں کائیں کرنا۔ جدائی سے
 ڈرانا۔ المُوَدِّنُ۔ مؤذن کا بھی یہی
 گردن کر کے اذان دینا۔
 نَعَبْتُ دَفْضًا نَعْبًا۔ الإِبِلُ۔ اونٹن کا
 چلنے میں گردن دراز کرنا۔
 النَّعْبُ۔ مہم۔ تیز ہونا۔ نَاقَةٌ نَاعِبَةٌ
 ج۔ نَاعِبٌ وَنَعُوبٌ۔ ج۔ نَعْبٌ

و نَعَابَةٌ۔ تیز رفتاراوشنی۔
 النَّعَابُ۔ کوا۔ کوسے کا بچہ۔
 النُّعْبُ وَالْمُنْعِبُ۔ تیز رفتاراوشنی۔
 تیز رفتاراگھوڑا۔ بیوقوف چلانے والا۔
 كَعَبْتُ دَفْضًا نَعْبًا۔ تعریف کرنا۔ بیان
 کرنا۔ نَعَبْتُ الْكَلِمَةَ۔ کلمہ کی
 صفت لانا۔
 نَعَبْتُ رَسًا نَعْبًا۔ اچھی صفات دکھانا۔
 نَعَبْتُ دَفْضًا نَعَابَةً۔ الرَّجُلُ۔ پیدائش
 ہی سے اچھی صفات والا ہونا۔
 الْفَرَسُ۔ گھوڑے کا تیز رفتار ہونا۔
 أَنْعَتُ۔ الرَّجُلُ۔ خوبصورت چہرے والا
 ہونا۔ اچھے اخلاق والا ہونا۔
 تَنْعَتُ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا وصف بیان
 کرنا۔
 اسْتَنْعَتُ۔ الشَّيْءُ۔ بیان کرنے کی
 درخواست کرنا۔
 النَّعْتُ۔ مہم۔ صفت۔ ج۔ نُعُوتٌ۔
 النَّعْتُ وَالنُّعْتَةُ وَالنُّعَيْتُ وَ
 النَّعِيَّةُ وَالْمُنْعِيَّةُ۔ مِنْ
 التَّجْبِيلِ۔ گھوڑوں میں سبقت لے
 جانے والا گھوڑا۔
 نَعَفْتُ دَفْضًا نَعْبًا وَانْتَعْتُ۔ الشَّيْءُ۔
 لینا۔
 أَنْعَتُ۔ فِي مَالِهِ۔ بے جا صرف کرنا۔
 فضول خرچ کرنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کا
 سفر کے لیے سامان لینا۔ الْقَوْمُ۔
 کام میں جدوجہد کرنا۔
 نَعَقَلُ۔ الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔ زیادہ دوڑنے
 سے گھوڑے کا سست پڑنا۔
 النَّعْقَلُ۔ بوڑھا احمق۔ نَزْبَجُوْا۔
 النَّعْقَلَةُ۔ حماقت۔ بوڑھے کی چال۔
 نَعِبَجُ رَسًا وَنَعِبَجُ دَفْضًا وَ
 نَعُوبَجًا۔ اللَّوْنُ۔ خالص سفید
 رنگ ہونا۔

نَعَبْتِ، النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا۔ اونٹنی کا
 تیز دوڑنا۔
 نَعِبَجُ رَسًا نَعْبًا۔ البَعِيرُ۔ اونٹن کا
 موٹا ہونا۔ الرَّجُلُ۔ بھڑکاکوشت
 کھا کر کسی کا بدبغھی میں مبتلا ہونا۔
 صفت نَعِبَجٌ۔
 النَّعْبَةُ۔ بھڑک۔ ج۔ نَعَابٌ وَنَعَبَاتٌ۔
 نَعَابُ الرَّمْلِ۔ گائے۔
 نَاعِبَةٌ۔ مِنَ النِّسَاءِ أَوِ التُّوْقِ
 سفید رنگ عورت یا اونٹنی۔ نَاقَةٌ
 نَاعِبَةٌ۔ تیز رفتاراوشنی، جس پر
 بیٹھ کر جنگلی بھیلوں کا شکار کیا جائے
 ارض نَاعِبَةٌ۔ نرم زمین۔ ج۔ نَوَاعِجٌ۔
 النَّعْبُجُ۔ خالص سفیدی۔
 نَعْرَدُ دَفْضًا نَعْرًا وَنَعَارًا۔ الرَّجُلُ۔
 خراٹے لینا۔ الْعَرِيُّ مِنَ الدَّمَ۔
 رگ سے خون پھوٹ نکلنا۔
 نَعْرَدُ دَفْضًا نَعْرًا۔ فِي الْبِلَادِ۔ جانا۔
 الْقَوْمُ۔ جوش میں آنا اور جمع ہونا۔
 إِلَى قُلُوبِنَا۔ آنا۔ نَعْرٌ فِي الْأَمْرِ۔
 کسی کام کے لیے اٹھنا۔ کوشش کرنا۔
 الرَّجُلُ۔ مخالفت کرنا۔ انکار کرنا۔
 نَعْرَدُ رَسًا نَعْرًا۔ الْجِمَامُ أَوْ
 الْفَرَسُ۔ گدھے یا گھوڑے کی تاک
 میں کھی گھس جانا اور اس کا بے چین
 ہونا۔ صفت نَعْرٌ۔
 نَعْرٌ۔ السَّهْمُ۔ تیر کی سیدھ دیکھنے
 کے لیے اس کو نائیں پر گھلاتا۔
 أَنْعَرُ۔ الْإِرَاكُ۔ دہشت پیلو کا پھلدار
 ہونا۔
 النَّعْرَةُ۔ خراٹا۔ ج۔ نَعْرَاتٌ۔ نَعْرَةٌ
 النَّعْرَةُ۔ ہوا کا ٹھونکا اور شدت
 گرام۔ جو طلوع ثریا کے وقت ہوتی ہے
 النَّعْرَةُ وَالنَّعْرَةُ۔ ٹکڑے غرور۔ مہم
 بالشان کام۔

<p>لوگ واحد ناعظا۔ ناعظفہ مونا عطفہ۔ دور استوں میں چل کر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرنا۔ أَعْفَتُ۔ بلند جگہ بیٹھنا۔ لِنُتَعَفُ۔ بلند جگہ پر چڑھنا۔ لِفُلَانٍ درپے ہونا۔ الشیء۔ دوسرے کے لیے چھوڑ دینا۔ اِمْرًا حَبِيبًا۔ ظاہر ہونا۔ النُّعْفُ۔ وادی سے بلند اور پہاڑ سے پست ہموار جگہ۔ ریت کا اگلا یا پتلا حصہ۔ ج۔ نِعَافٌ۔ النُّعْفَةُ۔ پاؤں کی پشت پر جوتے کا تسمہ۔ النُّعْفَةُ۔ گیسو۔ شلہ۔ گوشت میں خراب گروہ۔ کھاوے کے تسمے۔ اُذُنٌ نَاعِفَةٌ دَعُوْفٌ وَمُنْتَعِفَةٌ۔ ڈھیلے کان۔ الْمَنَاعِفُ۔ مِنَ الْجِبَالِ۔ پہاڑوں کی چوٹیاں۔ الْمُنْتَعِفُ۔ سخت اور نرم زمین کے درمیان کی حد۔ نَعَقَ رِفْضًا، نَعَقًا وَنَعِيقًا وَنَعَاقًا وَنَعَقَانًا۔ الْغُرَابُ۔ کوئے کا کائیں کائیں کرنا۔ الْمُوذِنُ۔ موذن کا بلند آوازی سے اذان دینا۔ الدَّارِجِي بِعَيْبِهِ۔ چرواہے کا اپنی بکریوں کو ڈانٹنا اور لٹکانا۔ النَّعَاقُ۔ بست کائیں کائیں کرنے والا۔ - النَّاعِقَانِ۔ جزا کے دو ستارے۔ نَعَلَ رِفْضًا، نَعْلًا۔ الْقَوْمُ۔ جوتے عطا کرنا۔ نَعْلٌ وَنَعْلٌ وَالنَّعْلُ۔ الدَّابَّةُ جانور کے نعل لگانا۔ نَعَلَ رِسًا، نَعْلًا۔ جوتا پہننا۔ نَعَلٌ وَنَعْلٌ۔ جوتا پہننا۔ الثَّوْبُ۔</p>	<p>النُّفْسَانُ۔ اوجھنے والا۔ مَرْوَتٌ۔ نَفْسِي۔ نَعَفَهُ رِفًّا، نَعْفًا۔ اَللَّهُ۔ بلند کرنا۔ اِطْحَانًا۔ ہلاکت سے بچانا۔ فقیری کے بعد دولت مندی نصیب کرنا۔ الرَّيْبِيُّ النَّاسُ۔ خوشحال کرنا۔ الْغَيْبَةُ۔ میت کا ذکر جمیل کرنا۔ كَرُونَةً۔ نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ الشَّجَرَةُ۔ جگہ سے ہونے درخت کو سپدھا کرنا۔ نَعِيشٌ۔ تابوت پر اٹھایا جانا۔ صفت دَمْعُوشٍ، فُلَانٌ۔ پھلنے کے بعد اٹھایا جانا۔ نَعَفَهُ وَأَنَعَفَهُ اللَّهُ۔ اِطْحَانًا۔ بلند کرنا نَعَشَ فُلَانٌ فُلَانًا۔ نَعَشَكَ اللَّهُ مِنْ عَشْرَتِكَ۔ کہنا۔ لَا تُنْعَشُ۔ سستی کے بعد چست ہونا۔ سِرَّ اِطْحَانًا۔ مِنْ سَلْطَنَةٍ۔ گرنے کے بعد اٹھنا۔ النُّعْشُ۔ مَم۔ بقا۔ وہ چارہائی جس پر بادشاہ کے بیمار ہونے کے بعد اٹھانے ہیں۔ تابوت۔ بَنَاتُ نَعَشُ الْكَلْبَرِيِّ۔ قطب شمالی کے رُوح میں سات ستارے۔ انہیں کے قُرب میں بَنَاتُ نَعَشِ الصُّغْرِيِّ کے سات ستارے ہیں۔ نَعَصَ رِفًّا، نَعَصًا۔ الشیء۔ حرکت دینا۔ اَلْجَرَادُ اَلْارِضِ بِلَدِي كَا نِبَاتَاتٍ حَرَجَانَا۔ نَعَصَ رِسًا، نَعَصًا۔ جھکانا۔ لِنُتَعَصَ۔ حرکت کرنا۔ الرَّجُلُ۔ گرنے کے بعد اٹھنا۔ غَضَبًا۔ کرنا۔ النَّاحِصَةُ۔ معاذین و مددگار۔ اَلْعَطُّ۔ اَلْاَكِيلُ۔ کھانے والے کا آدھا لقمہ کھانا اور آدھا ڈال دینا۔ اَلْمُعْطُ كَمَا فِي اَلْوَدَّاعِ فِي رِثَةِ</p>	<p>النُّعْرَةُ وَالنُّعْرَةُ۔ ناک کا اندرونی و بالائی حصہ۔ ہوا جو ناک میں داخل ہو کر حرکت پیدا کرے۔ درخت پیلہ کا پھل۔ ایک قسم کی نیلے رنگ کی مکھی جو گدھوں اور گھوڑوں کے ناک میں گھس کر اپنا دیتی ہے۔ ج۔ نَعْرٌ وَ نَعْرَاتٌ۔ النَّاعِرُ۔ ناعی۔ چینی والا۔ النُّعْرُ۔ ایک جگہ نہ ٹھہرنے والا آدمی۔ مَرْوَتٌ نَعْرَةٌ۔ النَّعِيرُ۔ مَم۔ لڑائی وغیرہ کی جینج پکار۔ النَّعَارُ۔ شَرِي۔ فتنہ انگیز۔ چینی والا۔ مَرْوَتٌ نَعَارَةٌ۔ اِمْرًا كَا نَعَارَةٌ شور مچانے والی بزدلیان عورت۔ النَّعَارُ۔ ایک قسم کا پرندہ۔ النَّعَارُ وَالنُّعُورُ وَالنَّاعُورُ۔ وہ رگ یا زخم جس سے خون پھوٹ کر نکل رہا ہو۔ نَيْبَةٌ نَعُورٌ۔ دور کی نیت۔ النَّعَارَةُ۔ دیتے والا مٹی کا لوٹا۔ النَّاعُورُ وَالنَّاعُورِيُّ۔ رِبْطٌ۔ ج۔ گواہی۔ نَعَسَ رِفًّا، نَعَسًا۔ الرَّجُلُ۔ اَوَّلًا صفت دنا عیس، ج۔ نَعَسٌ، مَرْوَتٌ نَاعِسَةٌ۔ ج۔ نَاعِسَاتٌ وَكُنَّا عَسًا۔ نَعَسَ جَمْعُهُ اَوْ رَأَيْتُهُ۔ جسم پارے کمزور ہونا۔ كَعَسَتِ السُّوقُ۔ بازار کا ٹھنڈا یا ماند پڑنا۔ اَلنَّعْسَةُ بَشَلَانًا۔ فُلَانٌ بَشَسْتُ بیٹوں والا ہونا۔ كُنَّا عَسًا۔ سونے میں جان ڈالنا۔ اَوَّلًا کا بہانہ کرنا۔ اَلْبَرْقُ۔ بجلی کا سُست ہونا۔ النَّعَاسُ۔ اَوَّلًا۔ حواس کی سُستی۔</p>
---	--	---

مذکر کو ظلیم، اور شتر مرغ کے گلہ کو بنات الحقیق۔ بے وقوفی اور بھاگنے میں اس کی مثال دیکھائی ہے۔
 النعامۃ۔ نفس۔ تاریکی۔ طوفی۔ اکرام۔ جہالت۔ واضح راستہ۔ کنویں میں اٹھا ہوا پتھر۔ راستہ کا نشان۔ پہاڑ پر سائبان نما عمارت۔ دماغ کی جھلی۔ لوگوں کی جماعت۔ ابن النعامۃ پنڈلی کی ہڈی۔ قدم یا تلوا۔ ظہرت لعامۃ۔ مرگیا یا کوچ کر گیا۔ جَاءَ كَالنَّعَامَةِ۔ محروم لوٹ۔ شاکت لعامۃ۔ مرگیا۔ شاکت لعامۃ القوم۔ لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر متفرق ہو گئے۔ خفیف النعامۃ ضعیف العقل۔
 النعام۔ بیابان۔ النعام الصادق و الوارث۔ ستاروں کے نام۔
 النعائم۔ چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے جو آٹھ ستاروں سے مرکب ہے۔ اس کی اور شتر مرغ کی ایک سی شکل دکھائی دیتی ہے۔
 العمومۃ۔ مع۔ طاقت۔
 النعمان۔ خون۔ جیرہ کے بادشاہ کا لقب۔
 شقائق النعمان۔ گل لالہ۔
 الإنعام۔ حمد۔ انعام۔ جہ۔ انعامات۔
 الناعمۃ۔ فاء من الثیاب۔ طام کھڑا۔
 من العیش۔ آسودہ زندگی۔ من اللبائت۔ سیدھا ہموار پودہ۔
 الناعمۃ۔ مؤنث الناعمۃ۔ آسودہ زندگی والی۔ باغ۔
 النعیم۔ آسودہ عالی۔ آرام۔ مال۔ نعیم املو۔ اللہ کا فضل۔
 المنعم۔ جھاڑو۔
 المنعام۔ بڑا فیاض۔ کلام منعم۔ نرم کلام۔

المناعیہ و المتناہم۔ من العبات سعیدھا ہموار پودہ۔
 المنعم و المناع و المتناہم و المناعی۔ خوشحال۔ مالدار۔
 نعم۔ لسان فلان۔ زبان میں ہلکا پن ہونا۔
 تمنع۔ الشیء۔ مضطرب ہونا۔ بھگنا۔ عنہ۔ دور ہونا۔
 التعم و التعماع۔ پودینہ۔ واحد کفعمۃ و کفعمۃ۔
 التعمۃ۔ مالدار کا پوتا۔
 نعامیعو لعماء۔ السکوس۔ بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔
 النعمو۔ ناک کے نیچے کا دائرہ۔ اونٹ کے اوپر کے ہونٹ کا شکاف۔ گھوڑے کے سہ کے مؤخر حصہ کی دراڑ۔ تازہ کھجور۔
 نعمی یعنی نعیا و نعیا و نعیا نا۔ لنا و لنبنا فلانا۔ موت کی اطلاع دینا۔
 نعمی القوم۔ قوم کو میت کے دفن کے لیے بلانا۔ نعینہ الشیء۔ میں نے اس کو کسی چیز کی خبر دی۔ علی القوم شہودا تمھیں عیب گیری کرنا۔ هو یعنی علی فلان ذلوبہ۔ کسی کے گناہوں اور عیبوں کو ظاہر کرنا۔ بظاہر کرنا۔ بظہر دینا۔ فلان یعنی فلانا۔ کسی سے قصاص طلب کرنا۔
 نعمی۔ علیہ شینا قینیا۔ کسی کو کسی بری بات پر طعن دینا۔ نعینہ الشیء۔ میں نے اس کو خبر دی۔
 تمنعی۔ القوم۔ طلب قصاص پر آسانے کے لیے مقتولین کی خبر موت کو بیان کرنا۔
 استنعی۔ القوم۔ متعولین کی خبر موت بیان کرنا تاکہ سب کو طلب قصاص پر

ابھارا جائے۔ لوگوں کا متفرق ہونا۔ کبھ جانا۔ استنعی ذکو فلان۔ کسی کا ذکر مشہور کرنا۔ حبب الخمر بہ۔ شراب کی محبت کا دیر تک رہنا۔
 الراعی الغلہ۔ چرواہے کا آگے ہو کر بکریوں کو اپنے پیچھے بلانا۔
 النعیۃ۔ موت کی خبر۔ جہ۔ نعیات۔ الناحی۔ فاء۔ موت کی خبر لانے والا۔
 طعن و تشنیع کرنے والا۔ جہ۔ ناعون و نعاۃ و نعیان۔
 البعج۔ خبر موت لانے والا۔ جس کی موت کی خبر دی جائے۔ نعاۃ۔ موت کی خبر دے۔
 المنعی و المنعاۃ۔ موت کا پیغام۔ جہ۔ مناع۔
 نعب (ف) نعبا۔ الیوق۔ تھوک نکلنا۔
 نعب (ن) نعبا۔ الرجل فی الشرب گھونٹ گھونٹ پینا۔
 نعب (ر) نعبا۔ الطائر پزندہ کا پانی پینا۔
 النعبۃ و النعبۃ۔ گھونٹ۔ جہ۔ نعب۔ النعبۃ۔ بڑا کام۔
 نعفت (ف) نعفا۔ الشعر۔ بال کھینچنا۔
 النعف۔ دائمی سحت مصیبت۔
 نعرت (ف) نعرا۔ و نعرا نا۔ القدر۔ ہانڈی کا ابلنا۔
 نعرو و نعرو نعرا و نعرا نا۔ الرجل علی فلان۔ غضب ناک ہونا۔
 رصفت نکر۔ نعرو۔ رصفت مؤنث۔
 نعیرۃ۔ الناقۃ۔ اونٹنی کو آواز دینا۔ بلانا۔
 نعردس، نعرا۔ من الماء بہت پانی پینا۔ الرجل۔ کینہ رکھنا۔
 نعرو۔ الصبیح۔ بچہ کو گلانا۔ بانئاقۃ اونٹنی کو آواز دے کر بلانا۔

غالب ہونے کی کوشش کرنا۔ التوبیخ
 التفتات - موج کا ہادل کی طرف
 اٹھنا۔
 تفتا علی - التوبیخ - ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا
 غالب آنے کی کوشش کرنا۔
 التفتیۃ - کلمہ۔
 التفتوحۃ والتفتیۃ - نغمہ، سُر، عمدہ
 کلام - القواہ۔
 تفترن، تفتا - الارض - زمین میں کوئی
 چیز پونا۔
 تفت رس، تفتا - السورق - ستو پھاگنا۔
 التفتی - ستو چھاننے کی میز و پیرہ۔ ج۔
 تفتا فی -
 التفتیۃ والتفتیۃ والتفتی - کھور کی پتیوں
 کا بنا ہوا گول دسترخوان۔
 التفتیف - اونٹ کے پالان کا تنگ۔
 التفتا - نباتات کے متفرق قطعات۔ چھوٹے
 باغ - نانک چھوٹے پودے۔ واحد
 (تفتا)،
 تفتت (من) تفتا و تفتانا و تفتیتا و
 تفتکت - التقدیر - ٹٹلی کا نور
 سے ابلنا۔ صفت تفتوت۔
 تفتت و تفتت - الرجل - غضبناک ہونا
 غصہ میں بھر جانا۔
 التفتیۃ - وہ آلا جس پر ہانی یا عمدہ کالا
 جائے۔
 تفتت رن من، تفتا و تفتانا - التفتاق
 صفت و تفتہ - عمدہ سے تنگ پھینکنا۔
 التفتیر الدم - زخم کا خون نکالنا۔
 الرجل - تفتا - تفتت التفتیۃ
 التفتی - سمانہ کا زہر نکالنا۔
 التفتی - کھانا۔ تفتا - کسی پر ہادو
 کرنا۔ تفتت اللہ فی قلبہ - خدا
 نے اس کے دل میں ڈالا۔ تفتت فی
 تفتی - مجھے الہام ہوا۔

تفتتہ متاففلة - پرغیدگی میں بات کہنا۔
 التفتت - مہم - بفرم - تفتت التفتیان بفریہ
 افتتار - ما احسن تفتات فلان -
 فلاں کے شعر کیسے اچھے ہیں۔
 التفتا کة - تفتوک۔
 التفتات و التفتات - جادوگر - مؤنت
 تادیکہ و تفتا کة۔
 التفتیت - زخم سے بہنے والا خون۔
 التفتوت - جادو کیا ہوا۔
 تفتج رن، تفتجا و تفتجانا و تفتوجا -
 الارنب او الیڑیڑع - خرگوش یا
 جنگلی چوہے کا دوڑ کر نکل جانا۔
 تفتجت الیڑیڑع - ہذا کانیزی سے
 چلنا۔ التطریق بالقوم - راستہ
 میں قوم کا اچانک نمودار ہونا۔ تفتج
 تفتجا - الانسان - جھٹا فز کرنا۔
 التفتوجہا - اللہ سے مرضی کے
 نہیے کا نکلنا۔ الارنب و خنزیرھا۔
 خرگوش کو بھڑکا کر نکالنا۔ التفتی -
 الطانا - السقاو - مشک بھرنہ۔
 التفتج - الارنب - خرگوش کو بھڑکا کر
 نکالنا۔ التفتی - وہ بہتے وقت
 بنن کو متن سے طعمہ کرنا۔
 تفتج و التفتج - ہند ہونا - الرجل -
 طیر واقعی صفات پر فز کرنا۔
 التفتج - الیڑیڑع - خرگوش کا دوڑنا۔
 کھانا۔
 التفتج - التفتی - کھانا - ظاہر کرنا۔
 التفتی - فاف - گرفت آفانہ۔
 التفتیۃ - مؤنت التفتیۃ - ہفت ہارٹ
 برسانے والا ہادل - ہوا کا زور کا
 جھونکا۔ تفتی - آخری اپلی۔ متفک کا
 برتن - نافہ - ج۔ تفتا فی -
 التفتا جہ - مطرد - شکر۔
 التفتا جہ - آستین کے نیچے کام لیج ارجہ۔

التفتیۃ - کمان - ج۔ تفتا فی -
 الیڑیڑع - قوم میں اجنبی - ج۔ تفتج -
 التفتج - بوجھل اور سست لوگ۔
 تفتج الحقیبۃ - وہ موٹے
 سُرین والا ہے۔
 التفتجالی - کلام میں افراط کرنے والا۔
 التفتوج - وسیع پہلوؤں والا اونٹ۔
 تفتت رن، تفتا و تفتانا و تفتوجا و
 تفتا جہ - الطینک - حوشبو ہکنا۔
 تفتت الیڑیڑع - ہوا کا چلنا۔ تفتت العرق
 رگ سے خون نکلنا۔ تفتت -
 التفتیۃ الرجل - کھر کے سرے سے
 مالور کا آدمی کوہارنا۔ تفتت فلانا
 پالسیف - تلوار کی ہلک سی ضرب لگانا
 تفتتہ یگدا - دینا۔ تفتت تفتتہ
 کھلنا کرنا۔ التفتی - پٹانا۔ تفتت
 متا حفتہ - جھگڑا کرنا۔
 تفتت - عرق فلان - کسی کی جانب سے
 مدافعت کرنا۔
 التفتت - یفلان - مقابلہ کرنا۔ الی موفیج
 واپس آنا۔
 التفتت - مہم - التفتت من الیڑیڑع - سردی
 میں ہوا کا چلنا۔ اور گرمی میں ہوا کے چلنے
 کو التفتت کہتے ہیں۔
 التفتتہ - ہوا کا جھونکا۔ تفتت - تفتت - خون
 کا قرارہ - ج۔ تفتتات۔
 التفتت - من التفتی - وہ اونٹنی جس کا
 دودھ پکتا رہے - من التفتی -
 تفتت تفتت والی کمان - و تفتت
 تفتت - تفتت والی ہوا۔
 التفتت - فیاض - طغنے تفتتہ - زور
 سے خون نکالنے والا نیزہ۔
 التفتت و التفتت - سہ جا ماخلت کفر والا۔
 التفتتہ و التفتتہ و التفتتہ - و
 التفتتہ - بکری کے بچے کے مودہ کا پیرہ

نَفَخَ ان، نَفَخًا وَنَفْخًا - بکھریا۔
 پھونک مارنا۔ نَفَخَ السُّحْبُ - دن
 چڑھنا۔ نَفَخَتِ الرِّيحُ - ہوا کا
 اچانک چلنا۔ نَفَخَ مَدْقِيه - بکبر
 کرنا۔ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ -
 اپنے متعلق ایسی ڈیگ مارنا جس کی
 کوئی حقیقت نہ ہو۔ نَفَخَةُ الطَّعَامُ
 سیر کرنا۔
 نَفَخَ - بھرتا۔ اِنْتَفَخَ - بھرتا۔
 اِنْتَفَخَ - اِنْتَفَخَ - چیز کا بلند ہونا۔
 النَّهَارُ - دن چڑھنا۔ الرَّجُلُ -
 بڑا بننا۔ بکبر کرنا۔
 النَّفْخُ - دم۔ فَرْز - بکبر۔
 النَّفْخُ - ہانپوں کے ٹھننے کا اور دم۔
 النَّفْخُ - بھری جوانی والا۔
 النَّفْخَةُ - سانس۔ ریح۔ نَفْخَةُ
 السُّبَابِ - بھری جوانی۔ نَفْخَةُ
 الرَّيْبِيعِ - موسم بہار کی تروتازگی۔
 النَّفَاخُ - دم۔ پھیلاؤ۔
 النَّفَاخَةُ - پانی کا بلبلہ۔ بھیل کے پیٹ کے
 اندر کا پھلکا۔ جہ۔ نَفَاخَاتُ -
 النَّافِخُ - فا۔ ما بالذات نَافِخٌ مَرْمَلَةٌ -
 گھر میں کوئی نہیں۔
 النَّافِخُ رَجُلٌ يَأْتِيهِمْ كَيْفَ يَشَاءُ -
 النَّافِخُ - دم۔ آگ پھونکنے پر مقرر کیا ہوا۔
 رَجُلٌ اِنْفَخَانٌ وَاِنْفَخَانٌ - و
 اِنْفَخَانِي - پگھلتا ہوا۔
 اِنْفَخَانٌ وَاِنْفَخَانٌ - لوہار کی دھونکی۔ جہ
 مَنَافِيخٌ وَمَنَافِيخٌ - مَنَافِيخٌ
 الشَّيْطَانِ بِشَيْطَانٍ وَسُوسَةٍ -
 اِنْفَخَانٌ - مفع۔ بڑے پیٹ والا۔ موٹا۔
 بزدل۔
 نَفَخَ رَسٌ، نَفَخًا وَنَفْخًا - اِنْفَخَ
 ختم ہونا۔ فنا ہونا۔
 نَفَخَ دَن، نَفَخًا - القوم۔ لوگوں سے

آگے بڑھ جانا۔
 اِنْفَخَ - القوم۔ قوم کا مال اور توشہ ختم
 ہونا۔ اِنْفَخَتِ اِبْتِئُو كُنُوبِ كَيْفَ
 پانی کا سوراخ جانا۔ اِنْفَخَ الشَّيْخُ -
 چیز کو خرچ کر دینا۔ القوم۔ لوگوں
 کو پیر کران میں گھسنا اور بیچ میں
 چلنا۔
 نَافِخَةٌ مَنَافِخَةٌ - باہم حاکم کے پاس
 جانا۔ جھگڑا کرنا۔ ایک دوسرے کی
 حجت کو باطل کرنا۔
 اِنْتَفَخَ وَاسْتِنْفَخَ - الشَّيْخُ - فنا کرنا۔
 خرچ کرنا۔ اِنْتَفَخَ وَسُوعًا - اپنی
 پوری طاقت لگا دینا۔ اِنْتَفَخَ
 الْحَقُّ - پورا حق لے لینا۔ اَلْمَيِّنُ -
 دودھ دوہنا۔
 تَنَافَذَ الْمُخَضَّمَانِ اِلَى الْقَاضِي - اپنا
 فیصلہ قاضی کے پاس لے جانا۔ تَنَافَذَ
 الْقَوْمُ - آپس میں جھگڑنا۔
 الْمُنَافِذُ - فا۔ مقدمہ باز۔ جھگڑالو۔
 الْمُتَنَفِّذُ - فا۔ قَعْدًا مُتَنَفِّذًا - وہ
 اگ رہا۔
 اَلْمُنْتَفِدُ - مفع۔ فِي هَذَا الشَّيْءِ
 مُتَنَفِّذٌ هُوَ غَيْرُهُ - اس چیز میں
 بہ نسبت غیر کے وسعت ہے۔
 نَفَخَ دَن، نَفَخًا وَنَفْخًا وَنَفَاذًا -
 اِنْفَخَ الشَّيْخُ - چھید کر پار ہو جانا۔
 نَفَخَ السُّمُّ الرَّمِيَّةَ وَفِيهَا
 مِنْهَا حَبٌّ كَالْحَبِّ فِي لَبِّ كَرَاهٍ
 جانا۔ فُلَاكِي الْقَوْمِ - قوم سے آگے
 گذر جانا۔
 نَفَخَ دَن، نَفَخًا وَنَفْخًا - الْأَمْرُ
 أَوْ الْقَوْلُ - حکم یا قول پورا ہونا۔
 نَفَخَ الْعَطِيقُ - راستہ کا شاہراہ ہونا۔
 صَفَتْ رَنَافِذُ نَفَخَ الْكِتَابُ اِلَى
 مَنَافِيخِ - صَفَتْ رَنَافِذُ
 مَنَافِيخِ - صَفَتْ رَنَافِذُ اِلَى

الْأَمْرِ - کام کامیابی سے چلانا۔ نَفَخَ
 رَجُلٌ جِهَةً - اپنی حالت پر گذرنا۔
 نَافِذٌ - فیصلہ کے لیے جانا۔
 نَفَخَ وَالنَّفْذُ - السُّمُّ الرَّمِيَّةُ
 نیر کو شکار کے پار کر دینا۔ اَلْكِتَابُ
 اِلَى فُلَانٍ - کتاب کسی کے پاس بھیجنا۔
 - الْحَاكِمُ الْأَمْرَ - حکم نافذ جاری
 کرنا۔ الرَّجُلُ الْقَوْمِ - قوم کے بیچ میں
 چلنا۔ آگے گذر جانا۔ اِنْفَخَ عَهْدًا -
 عمل میں لانا۔
 تَنَافَذَ - الْقَوْمُ اِلَى الْحَاكِمِ - فیصلہ
 کے لیے پیش کرنا۔
 النَّفْذُ - جاری کرنا۔ بھٹن۔ نکلنے کی جگہ۔
 جہ۔ اِنْفَاذُ -
 النَّافِذُ - فا۔ ہر کام کو کر گزرنے والا۔
 طَلِيقٌ نَافِذٌ - شاہراہ۔ اَمْرٌ نَافِذٌ
 ایسا حکم جس کی فرمانبرداری کی جائے۔
 اِنْفَاذَةُ - مَرْثَةُ اِنْفَاذُ - کھنڈ کی۔
 روشندان۔ جہ۔ نَوَافِذُ - نَوَافِذُ
 وَمَنَافِذُ الْإِنْسَانِ - انسان کے
 جسم کے سوراخ جیسے منہ، ناک وغیرہ۔
 اِنْفَاذُ وَالنَّفْذُ - ہر کام کو کر گزرنے والا۔
 ہر کام میں طاق۔
 اِنْفَاذَةُ - مَرْمَلَةٌ - جہ۔ نَفْذُ -
 اِنْفَاذُ - نافذ۔
 اِنْفَاذُ - گذر گاہ۔ باہر نکلنے کا راستہ۔ جہ
 مَنَافِذُ -
 اِنْفَاذُ - کسی چیز کے نفوذ کرنے کی جگہ۔ جہ
 مَنَافِذُ -
 اِنْفَاذُ - کشادگی۔ گنجائش۔
 نَفَخَتِ دَن، نَفَخًا وَنَفْخًا وَنَفَاذًا
 - اِنْفَاذَةُ مِنْ كَذَا - حالور کا
 بدکنا۔ چکنا۔ صفت نَافِذٌ وَنَفْذٌ -
 نَفَخَتِ دَن، نَفَخًا - مِنْ كَذَا - نفرت کرنا۔
 نَافِذٌ - عَنِ كَذَا - اعراض کرنا۔

القوم متفرق ہونا۔ كَفَرًا فِي الشَّيْءِ
جلدی کرنا۔ نُفُورًا، اَلْحَسْبُ
وَعِيْرُهَا۔ اَنكَمَ كَا سُوْجَا۔ كَفَرًا
هَلَاكًا۔ غَالِبَ اَنَا۔ (كَفَرًا وَ نُفُورًا)
الحابِثُ مِنْ مِيْنِي۔ منی سے واپس
ہونا۔ رَكَوْرًا وَ نُفُورًا وَ نِفَارًا
و كَفَرَانًا، اَلطَّبِيْ وَ عَابِرَةً۔
ہرن کا بھاگنا۔ دور ہونا۔ نِفَارًا
وَ نُفُورًا وَ كَيْفِيْرًا الْقَوْمِ لِلْقِتَالِ
او الاضمر۔ چل دینا۔
كَفَرَةً۔ بھاگانا۔ كَفَرَةً عَلٰی فُلَانٍ۔
کسی پر غالب ہونے کا فیصلہ دینا۔
كَفُوْرَةُ الشَّيْءِ وَ عَلٰی الشَّيْءِ وَ بِالشَّيْءِ
غالب ہونا۔ كَفَرَتْ عَنْ فُلَانٍ۔ بُرَا
لقب دینا۔
اَنكَمَرَةً۔ بھاگانا۔ اَنكَمَرُ الْقَوْمِ۔ قوم
کے اونٹوں کا بھاگ جانا۔ اَلْقَوْمِ
فُلَانًا۔ ممدینا۔ اَلْحَاكِمَةُ فُلَانًا عَلٰی
فُلَانٍ۔ طلبہ کا حکم دینا۔
نَاكِرَةً نِقَابًا وَ مُتَاكِرَةً۔ فیصلہ کے لیے
جانا۔ حسب و نسب میں فخر کرنا۔
تَنَافَرُوْا۔ الوَجَلَانِ۔ آپس میں فیصلہ کے
لیے جاننا۔ باہم فخر کرنا۔ اَلْقَوْمِ لِلاَضْمِرِ
چل دینا۔
اَسْتَنْفَرُوْا۔ بھاگانا۔ اَسْتَنْفَرُ الْقَوْمِ۔
قوم سے مدد چاہنا۔ قوم کو جنگ کے
لیے جمع کرنا۔ اَلطَّبِيْ۔ ہرن کا بھاگ
جانا۔ اَسْتَنْفَرُ فُلَانٌ بِشَوْجِيْ۔
فُلَانٌ لَمِيْرَةً كَبِيْرَةً لَمِيْرَةً
کر دیے۔
النَّفَرِ۔ مع۔ جمع التافرو۔
اَلنَّفَرُ وَ التَّفَرُّقَةُ۔ جنگ جھوڑوں کا گروہ۔
بھگڑوں کا گروہ۔ تین سے لے کر
دس تک جماعت۔ كَفَرَةُ الرَّجُلِ
آدمی کا فاندان۔ عِيْرًا۔ لِيُوْرًا۔ عِيْرًا

لِيُوْرًا حَيْثُ۔ سرکھس۔
النَّفَرُ۔ سارے لوگ۔ تین سے لے کر دس
تک کی جماعت۔ مع۔ اَنفَاسُ۔
تَمَلَّوْا تَغْيِرًا وَ اَلتَّغْيِرَ۔ تین آدمی۔
يَوْمَ التَّغْيِرِ۔ او التَّفَرُّقِ وَ التَّغْيِرِ
او اَلنَّفُوسِ۔ ذی الحجہ کی بارھویں
تاریخ جبکہ حاجی منی سے واپس ہو کر
مکہ معظمہ کی طرف رُخ کرتے ہیں۔
النَّفَرَةُ۔ حکم۔ فیصلہ دے۔ وَ التَّفَرُّقَةُ،
نظر بد سے بچاؤ کے لیے بچوں کا
تعویذ۔
اَلنَّفَاسُ۔ مع۔ اَلرِّيْحُ ہونا۔
اَلنَّفَاةَةُ۔ حکم۔ جو کچھ غالب مغلوب
سے لے۔
اَلنَّافِرَةُ۔ غا۔ غالب۔ جو۔ كَفَرُوْا لِنَفَرٍ۔
اَلنَّافِرَةُ۔ مؤنث التافرو۔ رخصتہ وار۔
واقف لوگ۔
اَلنَّفُورُ وَ اَلنَّفُورُ وَ اَلنَّفُورُ۔ بھاگنے
والا۔ بہت تیز بھاگنے والا۔
اَلنَّفُورُ۔ مع۔ دس سے کم آدمیوں کا گروہ۔
رِاٰلِ كِطْرٍ كَرِيْحٍ كَرِيْحٍ وَ اَللَّوْغِ۔
بگل۔ جو۔ اَنفَارُ۔ وَ اَلنَّفُورُ اَلْعَامِ
عوام کا دشمن سے مقابلے کے لیے اٹھ
کھڑا ہونا۔
اَلنَّفَاةَةُ۔ چلانا۔ وَ اَلنَّفَاةَةُ۔
اَلنَّفَاةَةُ۔ مع۔ مغلوب
اَلنَّفَاةَةُ۔ كَفَرُوْا لِنَفَرٍ وَ كَفَرُوْا لِنَفَرٍ۔
اَلطَّبِيْ۔ ہرن کا دشمن بھگانا۔
كَفَرَةُ۔ گودانا۔ كَفَرَتِ الْمَرْاَةُ
وَلَدَهَا۔ عورت کا اپنے بچہ کو
اچھانا۔ كَفَرُوْا اَلنَّفَرُ السَّهْمُ۔
تیرک سیدھ دیکھنے کے لیے اس کو
ناخن پر گھمانا۔
تَنَافَرُوْا۔ باہم بھاگانا۔ كَفَرُوْا

اَلنَّفَاةَةُ وَ اَلنَّفَاةَةُ۔ کمن جو ہلکی سی آکھ
بد ہو کے۔
اَلنَّفَاةَةُ۔ مِيْنِ الطَّبِيْبِ۔ بہت بھلا لگیں
مارنے والا ہرن۔
نَفْسٌ (س)، كَفَسًا وَ كَفَا يَسِيْبُهُ۔
پا لشی۔ بخل کرنا۔ عَلٰی فُلَانٍ
بِخَيْرٍ۔ حسد کرنا۔ كَفَاةً، اَلشَّيْءِ
عَلٰی فُلَانٍ۔ نا اہل سمجھنا۔
نَفْسَةٌ (ن)، كَفَسًا۔ بِنَفْسِيْ۔ (ای
یعین، نظر بد لگانا۔
نَفْسَتِيْ (س)، وَ لِنَفْسِيْ وَ كَفَسًا وَ
كَفَاةً وَ نِفَاةً۔ اَلنَّفَاةَةُ
عَلَامًا۔ عورت کا بچہ جتنا۔ نَفْسٌ
فُلَانٌ۔ پیدا ہونا۔ صفت (مَنْفُوسٌ)
نَفْسٌ (ك)، كَفَاةً وَ نِفَاةً وَ
نَفُوسًا وَ كَفَسًا۔ نفیس اور پسندیدہ
ہونا۔
نَفْسٌ كَفِيْسًا۔ عتہ اَلْكُرْبَةِ۔ غم
سے دور کرنا۔ تَسَلَّى دِيْنًا۔ كَفَسًا
فُلَانًا۔ کسی کو ہمت دینا یا اس کے
غم کو زائل کر دینا۔ نَفْسَةٌ فِي الْاَضْمِرِ۔
ترغیب دینا۔
نَافَسٌ نِقَابًا وَ مُتَافَسَةً۔ فُلَانًا
فِي الْاَضْمِرِ۔ باہم فخر کرنا۔ مقابلہ کرنا۔
فِي الشَّيْءِ۔ مبالغہ کرنا۔ بیش قیمت کرنا۔
کرم میں مقابلہ کی رغبت کرنا۔
اَنفَسٌ۔ اَلشَّيْءِ۔ نفیس ہونا۔ اَلشَّيْءِ
فُلَانًا۔ پسند آنا۔ فُلَانًا فِي الشَّيْءِ۔
رغبت دلانا۔
تَنَفَسٌ۔ سانس لینا۔ اَلصُّبْحُ۔ صبح
کا روشن ہونا۔ اَلْقَوْمِ۔ کمان کا چھٹنا
۔ اَلنَّفَرُ۔ ہرن کا پانی زیادہ ہونا۔
اَلنَّفَاةَةُ۔ دوپہر ہونا۔ اَلرَّجُلُ۔
لمبی لمبی باتیں کرنا۔ اَلرَّجُلُ فِي الْاَبْوَابِ
پانی کا ایک ہی سانس میں پینا۔

<p>کرتے تھے۔ النَّكَاطَةُ - آبلہ۔ النَّبِيْطُ وَالْمَنْقُوْطُ - آبلوں والا۔ موزک نَبِيْطَةٌ وَمَنْقُوْطَةٌ۔ نَفْعَةٌ دَفٌّ، نَفْعًا - بیکذا - فائدہ دینا۔ النَّفْعُ - الرَّجُلُ - کسی کا لاٹھیوں کی تجارت کرنا۔ النَّفْعُ - يَهُ وَيُثْمُهُ - فائدہ اٹھانا۔ النَّفْعَةُ - فائدہ طلب کرنا۔ النَّفْعُ - فائدہ - نفع۔ النَّفَاعُ وَالنَّبِيْعَةُ - فائدہ - نفع۔ النَّفْعَةُ - ایک بار کا فائدہ۔ ایک قسم کا حصا جس کو زمین پر فائدہ کے لیے مارتے ہیں۔ ج۔ نَفْعَاتُ۔ النَّبِيْعَةُ - چمڑے کا تسم جو توشہ دان کے پلوؤں پر لگا ہوتا ہے۔ النَّفَاعَةُ - ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے۔ النَّفَاعَةُ - فَا - اللہ تعالیٰ کے اسم کے حسن میں سے ایک اسم۔ النَّفَاعَةُ - وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ النَّفَاعُ - بہت فائدہ دینے والا۔ النَّبِيْعَةُ - ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ۔ ج۔ مَنَافِعُ۔ مَنَافِعُ الدَّارِ - گھر میں آرام کی چیزیں۔ نَفَقَتْ رِفٌّ، نَفَقًا وَنَفَقًا - و نَفَقَتْ رِسٌّ، نَفَقًا وَنَفَقَتْ يَدُهُ - ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔ نَفَقَ رِنٌّ، نَفَقًا وَنَفَقَ رِسٌّ، نَفَقًا - الشیءُ - ختم ہونا۔ کم ہونا۔ نَفَقَ الْبَيْعُ - بیع کا راجح ہونا۔ نَفَقَتْ السُّوقُ - گرم بازاری ہونا۔ نَفَقَ رِنٌّ، نَفَقًا - الرَّجُلُ اَوَّلَ آيَةٍ - مرزا۔ الجرح۔ زخم کا چھلنا۔</p>	<p>الْاَنَابِيْعُ - درخت کے نیچے گرسے ہوئے پھل۔ مَفْرُو - اَلْمَفْرُوَّةُ۔ الْمُنْفَعُ - جھاج۔ سوپ۔ پکھا۔ - دال المنفاض، چادر وغیرہ جس پر سچے یا میسے جھانے جائیں۔ الْمُنْفَعُ - مِنَ الدُّجَاجِ - انڈوں سے رُک جانے والی مرغی۔ الْمَنْفُوْضُ - مفرغ۔ رزہ والے تپ میں بتلا۔ نَفَطَتْ رِسٌّ، نَفَطًا وَنَفَطًا وَنَفِيْطًا - يَدُهُ - ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔ نَفَطَ رِسٌّ، نَفَطًا - غصہ سے آگ بگولا ہونا۔ نَفَطَتْ رِسٌّ، نَفَطًا وَنَفِيْطًا - الْبَعْرَةُ - بکری کا چھینکا۔ الْقِدَارُ ہانڈی کا جوش مارنا۔ نَفَطَ السَّجْنِي ہرن کا آواز نکالنا۔ الرَّجُلُ - کسی کا غیر مفہوم کلام کرنا۔ تَنَاقَطَتْ - الْقِدَارُ - ہانڈی کا جھاک پھینکنا۔ النَّفَطُ وَالنَّفَطُ - بہت جلد آگ پکڑنے والا ایک موہنی تیل۔ النَّفَطَةُ وَالنَّفَطَةُ وَالنَّفَطَةُ - پچھک۔ آبلہ جو کام کرنے سے ہاتھ پر ہو جاتا ہے۔ النَّفَطَةُ - جلد غضبناک ہونے والا۔ النَّفَطَةُ - بکری، يَدُهُ نَاقِطَةٌ - آبلہ دار ہاتھ۔ رُغْوَةٌ نَاقِطَةٌ - بلبہ والے جھاک۔ النَّفَاطُ - کان سے نفع نکالنے والا۔ نَفَطَ يَحِيْكُ وَالْا - ج۔ نَفَاطَةٌ وَ نَفَاطُونَ - النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ - نَفَطُ كَانِ - پٹوں کا کٹواں۔ ایک قسم کا چرخ۔ تَانِبَةُ كَانِ جَسٌّ سَ نَفَطَ يَحِيْكَا</p>	<p>تیدرست ہونا۔ النَّفَقُ - الْقَوْمُ - قوم کا ختم ہونا یا تباہ شہ مال والا ہونا۔ الْقَوْمُ نَاقِطَةٌ قوم کا توغہ کو ختم کر دینا۔ اَلنَّفَقُ مَن دود کرنا۔ النَّفَقُ - درخت کا ہلنا۔ کھڑے کا جھڑنا۔ اَلْقَوْمُ كَانِبٌ هَوْنًا - آدمی کا کانبنا۔ النَّفَقُ وَالنَّفَقُ - الْمَكَانُ - جگہ کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ الشيءُ - نكالا - الْأَمِيْرُ - امیر کا جاسوس بھیجنا۔ النَّفَقُ وَالنَّفَقُ وَالنَّفَقُ - و النَّفَقَةُ - جھانے ہوئے سے گرمی ہوئی چیز۔ النَّفَقَةُ - توشہ کا بقیہ جو جھاڑا جائے۔ النَّفَقُ - گوسے ہوئے پتے یا کھجور۔ النَّفَقُ - اَلنَّفَقُ الْقَوْمُ نَاقِطَةٌ سے اسم۔ النَّفَقُ - بچوں کی تسمبند۔ ج۔ نَفَقُ - مَا عَلِيُو نَفَقُ اس پر کوئی کپڑا نہیں۔ النَّفَقَةُ وَالنَّفَقَةُ وَالنَّفَقُ و النَّفَقَةُ - بخار کا رزہ۔ النَّفَقَةُ کیس کیس پڑنے والی بارش۔ النَّفَقَةُ - جاسوسوں کی جماعت۔ النَّفَقَةُ وَالنَّفَقَةُ وَالنَّفَقَةُ - پکینی۔ النَّفَقُ - فَا - رزہ کا بخار۔ وہ کپڑا جس کا رنگ ماند پڑ جائے۔ النَّفَقُ - مِنَ النِّسَاءِ - بہت اولاد والی عورت۔ النَّفَقَةُ - جاسوسوں کا گروہ۔ ج۔ نَفَقَاتُ - النَّفَقَاتُ - کنکروں کے ساتھ غیب کی باتیں بتلانے والے۔ قُبْلَةُ ادْنُ - النَّفَقُ - م۔ بھوک۔ حاجت۔</p>
--	---	---

نَقَّقَ (ن، و تَقِيَقُ ر س) نَقَّقًا -
 اِيْرَبُوْمُ جُجَلِي جُجَلِي كَالْبَيْتِ سُوْرَاخِ
 سے نکلنا۔ اپنے سوراخ میں داخل
 ہونا۔ (مندی)
 نَأَقُّ مَنَاقِقَةً وَ نِقَاقًا - فِي وَدِيْنِهِ
 دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر
 کرنا۔ صفت مُنَاقِقٌ -
 نَقَّقَ - ابْتِغَاءً - سَامَانَ كُوْرُوْرَاخِ
 دینا۔
 أَنْقَقَ - مَحْتَاَجٌ هُوْنَا - نُوْرَشْرَهْ خَتْمٌ هُوْنَا -
 الْمَالُ - مَالٌ مَرْفٌ كَرْنَا - خُرُوجٌ كَرْنَا -
 السِّلْعَةُ - سَامَانَ كُوْرُوْرَاخِ دِيْنَا -
 الْقَوْمُ - قَوْمٌ كِي تِجَارَتٌ خُوْبٌ جَلِي -
 تَنْقَقُ - اِيْرَبُوْمُ جُجَلِي جُجَلِي چُوْسِي كُو
 سوراخ سے باہر نکالنا۔ اِيْرَبُوْمُ جُجَلِي
 جُجَلِي چُوْسِي كُو سوراخ سے باہر نکلنا۔
 سوراخ میں داخل ہونا۔
 اِنْتَقَى - الرَّجُلُ - مَرْغَبٌ فِي دَاخِلِ هُوْنَا -
 اِسْتَنْقَقَ - الْمَالُ - مَالٌ خَتْمٌ كَرْنَا -
 النَّقِيُّ - مَرْغَبٌ جِج - اَنْقَاقٌ -
 النَّقِيُّ - جِلْدٌ مَقْطُوعٌ هُوْنِي وَ اَلَا -
 اِنْقَاقٌ وَ اَلْمَنَاقِقَةُ - مَنَاقِقَةٌ
 اَلنَّقِيَّةُ - خُرُوجٌ جِج - نَقَقَاتٌ وَ نِقَاقٌ
 وَ اَنْقَاقٌ -
 اِنْقَاقٌ - فَا - كِنِيَّةٌ كِي قَابِلٌ سَامَانَ - جِلْدِي
 وَ اَلْمَنْدِي -
 اَلنَّقِيَّةُ - مَشْكٌ كَا نَافِي -
 اَلنَّقِيَّةُ - جِج - نَوَاقِقٌ وَ اَلنَّقِيَّةُ وَ
 اَلنَّقِيَّةُ - جِجَلِي چُوْسِي كُو سوراخ -
 نِيْفَقُ السَّرَاوِيْلُ - پَانْجَامِ كَا نِيْفَقُ -
 اَلْمَنَاقِقُ - بَسْتٌ خُرُوجٌ كَرْنِي وَ اَلَا -
 اِيْمَانٌ ظَاهِرٌ كَرْنِي وَ اَلَا -
 نَقَّلَ (ن، نَقْلًا) كَسْمٌ كَهَانَا - الرَّجُلُ
 عَلِي دِيْنَا - نَقَّلَهُ اَلنَّقْلَ - نَادِي عَلِي

دِيْنَا - نَقَّلَ اَلنَّقْلَ اَلنَّقْلَ -
 نِيْمَتٌ بَاثْمَنَا - الرَّجُلُ عَنِ
 نِيْسِيَّةٌ -
 نَقَّلَهُ - كَسْمٌ كَهَانَا - حَمِيَّةٌ زَائِدَةٌ دِيْنَا -
 نَقَّلَ عَنِ فُلَانٍ - بِيْطَانَا -
 اَنْقَلَهُ - اَلنَّقْلَ - نِيْمَتٌ دِيْنَا - اَلنَّقْلَ
 لَهْ - كَسْمٌ كَهَانَا -
 تَنْقَلُ - نَقْلٌ نَمَازَا وَ اَكْرْنَا - هَلِي
 اَصْحَابِي - مَالٌ نِيْمَتٌ اِيْنِي سَا بِيْعِي
 سِي زِيَادَةٌ لِيْنَا -
 اِنْتَقَلَ - نَقِيْسٌ بِيْرَحْنَا - اَلشَيْءُ مِنْ
 فُلَانٍ - طَلَبٌ كَرْنَا - مِنْ اَلْاَرْضِ
 اِدَا نَكَلَامٌ بَرِي هُوْنَا - بِيْرَارٌ هُوْنَا -
 مِنْ الْقَوْمِ - قَوْمٌ كِي دُوْسِي دُوْرٌ هُوْنَا -
 اَلنَّقْلُ - وَ اَجْبَاتٌ اُوْرٌ مَزُوْرِيَاتٌ سِي
 زَائِدَةٌ كَامٌ -
 اَلنَّقْلُ - مَالٌ نِيْمَتٌ - سَبِيَّةٌ نَخِيْسٌ زِيَادَةٌ
 جِج - نِقَالٌ وَ اَبْقَالٌ - اِيْكٌ كَسْمٌ كِي
 خُوْبُوْرَاكِسٌ وَ اَحَدٌ كَقْلَةٌ -
 اَلنَّقِيَّةُ - نِيْمَتٌ عَلِيَّةٌ نَخِيْسٌ لِرَضِ
 سِي عَلَاوَةٌ زَائِدَةٌ - بُوْتَا - جِج -
 نَوَاقِلُ -
 اَلنَّقِيَّةُ - كَرِي دَهْ كِي چُوْسِي اُوْرٌ پَانْجَامِ اُوْرٌ
 چُوْسِي بَاتِي -
 اَلنَّقِيَّةُ - بَسْتٌ نِيَاضٌ - خُوْبُوْرِيَّةٌ -
 نُوْرُوْرَانٌ جِج - نَوَاقِلُ - اَلنَّقِيَّةُ
 سَمِيَّةٌ عَلِيَّةٌ زِيَادَةٌ -
 اَلنَّقِيَّةُ - نَمَكٌ وَ اَلِي -
 اَلنَّقِيَّةُ - هُوَا - اَسْمَانٌ زِيْمٌ كِي دِيْمَانِ
 كَا خَلَا - دِيْمَانِ كِي چُوْسِي سِي نِيْمَةٌ كَمَكٌ
 كَا حَمِي - پَانْجَامِ كَا سَبِيَّةٌ چُوْسِي -
 كُوْسِي كِي كِنَا سِي سِي كَمَكٌ كَا
 حَمِي - بِيَا بَانٌ - جِج - نَقَايِيَّةٌ - اَلنَّقِيَّةُ
 كَمَكٌ كِي لَوَاحِي وَ اَطْرَافٌ (وَ اَلنَّقِيَّةُ)
 دُوْرٌ پَانْجَامِ كِي دِيْمَانِ كَا خَلَا - دُوْرٌ -

نَقَّهَ (ن، نَقْوًا) الرَّجُلُ - كَزُوْرٌ
 دَلٌ هُوْنَا - بَزُوْرٌ هُوْنَا - اَلجَمَلُ
 اُوْرٌ كَارَامٌ هُوْنَا -
 نَقَّهَتْ (ن، نَقِيًا) نَفْسُهُ - نَقَّهَتْ
 نَفْسَهُ وَ اَنْفَهُ - اَلنَّقِيَّةُ - اُوْرٌ لِي كُو
 تَهَانَا -
 اِسْتَنْقَفَهُ - الرَّجُلُ - اَرَامٌ لِيْنَا -
 اَلنَّقِيَّةُ - تَهَكَبُوَا - جِج - نَقَّهَ - ر -
 اَلنَّقِيَّةُ (كَزُوْرٌ) كَزُوْرٌ - بَزُوْرٌ -
 نَقَّهَ يَنْقُوُهُ كَقْوًا وَ كَقِي يَنْقِي كَقِيًا
 وَ كَقِي - عَنِ - بِيْطَانَا - اِنْكَارٌ كَرْنَا -
 قَبِيْدِي خَانِي فِي تَمِيْدِي كَرْنَا - نَقِي الرَّجُلُ
 مِنْ بَلَدٍ - شَهْرٌ بَرِي كَرْنَا - اَلسَّيْلُ
 اَلْعَنَاءُ - سِيَابٌ كَا كُوْرَاكِسٌ بِيَا
 لَانَا - اَلْمَسْحَابَةُ الْمَاءِ - يَدَلُ
 كَا پَانِي بَرَسَانَا -
 نَقِي يَنْقِي كَقِيًا اَنْتَقِي - عَنهُ - دُوْرٌ
 هُوْنَا - اَلنَّقِيَّةُ - مَالٌ كَرْنَا - اِنْتَقِي
 مِنْ وَ لِي دَهْ - چُوْسِي اِنْكَارٌ كَرْنَا -
 اِنْتَقِي فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ - كَرَامِيَّةٌ
 كِي سَاةٌ اِرَافِي كَرْنَا - نَقَاةٌ قَا نَقِي
 اِسِي نِي اِسِي كُوْسِي بِيَا - سِي دُوْرٌ كَرْنَا
 نَقِي يَنْقِي كَقِيًا وَ كَقِيًا - اَلنَّقِيَّةُ
 فِي اَلدَّوَاخِ - مَرَاةٌ كَا دُوْرٌ
 بَرِي كَمَكٌ لِيْمَانٌ كُوْسِي بِيَا -
 نَقَاةٌ مَنَاقِقَةٌ - اِيْكٌ دُوْرٌ كَرْنَا -
 نَقَاةٌ تَبَاوِيْنَا - اَلنَّقِيَّةُ - اِيْكٌ
 دُوْرٌ كُوْسِي كَرْنَا - اِيْكٌ دُوْرٌ
 كِي مَنَاقِقٌ هُوْنَا -
 نَقَاةٌ اَلشَيْءُ وَ كَقَاةٌ وَ نَقِيَّةٌ وَ
 نَقِيَّةٌ وَ نَقَايِيَّةٌ وَ كَقَايِيَّةٌ وَ
 نَقِيَّةٌ - چُوْسِي كَا وَ رُوْيٌ حَمِي جُوْرُوْرٌ
 كَرْنَا چُوْسِي بِيَا -
 اَلنَّقِيَّةُ - كَجُوْرٌ كِي بُوْرٌ كَا دُوْرٌ خِرَافٌ جِج
 كَرْنَا - اَلنَّقِيَّةُ - كَمَكٌ كِي چُوْسِي

ج۔ نقیبات۔
 النقیبان۔ مم۔ درختوں کی جڑوں میں ہونے سے
 جمع شدہ مٹی۔ بڑی فوج کے پیچھے
 آنے والے لوگ۔
 الناقی۔ فا۔ دھتکارا ہوا۔ دور کیا ہوا۔
 المنقح۔ نابھ کیا ہوا۔ لانڈی کے ادھر
 ادھر پھینکے ہوئے جھاگ چکی کا پھینکا
 ہوا آٹا۔ گھوڑوں کے سولے سے بھرے
 ہوئے مٹی پتھر وغیرہ۔ درختوں کی جڑوں
 میں ہونے سے جمع ہونے والی مٹی۔ لشکر
 کا بڑا حصہ جو ایک طرف کو ہوجائے۔
 کھجور کے پتوں سے بنائی ہوئی ڈھال۔
 این نفی۔ وہ لڑکا جس کے بیٹا ہونے
 سے باپ انکار کرے۔
 المنفج۔ دور کیا ہوا۔ ہٹایا ہوا۔ پھینکا
 ہوا۔ جلا وطن کیا ہوا۔ دھتکارا ہوا۔
 فی الکلام۔ اثبات کے خلاف۔
 المنفی۔ جلا وطن کی جگہ۔ جہ۔ منافی۔
 نقی رض۔ نقیقا۔ المنفج۔ سینڈک
 کا ٹرانا۔ مرغی۔ چکور۔ پھو، شتر مرغ
 وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل
 ہوتا ہے۔
 نقت۔ منقادع بطنہ۔ وہ بھوکا
 ہو گیا۔
 النفاق۔ سینڈک۔
 النفاقة۔ سینڈک۔
 النقوق۔ چلانے والا۔ جہ۔ نقی و نقی۔
 نقب دن۔ نقبا۔ الحائط۔ دیوار میں
 سوراخ کرنا۔ الخفت۔ منڈے میں
 پھیند لگانا۔ خلان فی الارض۔ جانا۔
 حین الاخبار۔ خبروں کی تحقیق کرنا
 یا خبر دینا۔ الخوب۔ بغیر نیکہ کے
 پانچامہ بنانا۔ الغوس۔ دوڑنے میں
 گھومنے کا لٹکھیں جوڑنا۔
 نقب دن نقبا۔ المنق السلبوس۔

پہننے ہوئے موزے کا پھٹا ہوا ہونا۔
 البغیر۔ اونٹ کا گھسے ہوئے گھروالا
 ہونا۔ الوجیل۔ پہاڑی راستوں
 میں چلنا۔ فی البکاد۔ ملک میں
 جانا۔
 نقب دن، نقابة و نقب رس،
 نقبا و نقب دن، نقابة علی
 القوم۔ قوم کا سردار ہونا۔
 نقب۔ فی الارض۔ بھاگتے ہوئے ملک
 میں جانا۔ عن الشیء۔ بات کی کرید
 و تحقیق کرنا۔
 ناقبة، نقابا و مناقبة۔ مناقب میں
 فخر کرنا۔ ناقبة نقابا۔ اچانک
 ملنا۔ وددت الماء نقابا۔ میں
 پانی پر بغیر تلاش کے اچانک پہنچ گیا۔
 انقب۔ فی الارض۔ ملک میں جانا۔
 البغیر۔ اونٹ کے گھسے ہوئے
 گھروالا ہونا۔ الوجیل۔ سردار
 فن ہونا۔
 تنقب۔ عن الشیء۔ بہت کرید و تحقیق
 کرنا۔ تنقبت و انتقبت۔
 المراقب۔ نقاب باندھنا۔
 النقب۔ مم۔ سوراخ۔ پہلو کا زخم۔
 والنقب۔ پہاڑی راستہ۔ جہ۔
 نقاب و نقاب۔ نقب العون۔
 مریا بند کے پانی کا علاج۔
 انقب و انقب و انقب۔ کھجلی۔
 المنقب۔ مدد ملنے کی طرز۔ علیہ
 نقبة۔ اس پر نشان ہے۔
 النقبة۔ کھجلی کا شروع۔ رنگ۔ رنگ۔
 چہرہ۔ سوراخ۔ حودوں کے پھٹنے کی
 واسط۔ جہ۔ نقب۔
 الانقاب۔ کاف۔
 النقاب۔ مم۔ بڑا علم۔ عورت کا منہ
 ڈھلکنے کا پردہ۔ پہاڑی سڑک۔

پیٹ۔ شل ہے۔ قوخان فی نقاب
 یعنی وہ شخص ایک دوسرے کے ساتھ
 شکل و شبہت میں مشابہ ہیں۔ جہ
 نقب۔ نقبتہ، نقابا۔ میں اس
 سے لودرو یا بغیر عدسے کے ملا۔
 المناقب۔ فا۔ سوراخ کرنے والا۔ نقب
 لگانے والا۔ پہلو کا سوراخ۔
 النقب۔ کاموں میں گھس جانے والا کاموں
 کو بہت دریافت کرنے والا۔
 النقیب۔ قوم کا سردار یا نمبردار۔ قوم کا
 گواہ۔ قوم کا ضامن۔
 نقیب الاشواق۔ لوگوں کے حالات
 کی تفتیش کرنے والا۔ جہ۔ نقباء۔
 النقیب۔ بانسری۔ ترازو کی زبان۔
 النقیبة۔ روح۔ دل۔ فطرت۔ مزاج۔ عقل۔
 مشورہ۔ رائے کا نفاذ۔ میمون
 النقیبة۔ مہارک خیال والا۔
 المنقب۔ ہانڈ کے پیٹ میں سوراخ
 کرنے کی جگہ۔
 المنقب۔ پہاڑی راستہ۔ جہ۔ مناقب۔
 المنقب۔ پہاڑی راستہ۔ بہت بحث و
 تحقیق کرنے والا عالم۔ دو المنقبہ
 نشتر۔
 المنقبہ۔ پہاڑی راستہ۔ دو گھروں کے
 درمیان کا تنگ راستہ۔ دیوار۔ اچھا
 کام۔ قابلیت۔ خوبی۔ جہ۔ مناقب۔
 مناقب الانسان۔ انسان کے عمدہ
 خصائل اور ستودہ اخلاق۔
 نقت دن، نقتا۔ العطر۔ ہڈی کا
 گودا نکالنا۔ الشیء المندفون۔
 دبی ہوئی چیز کو کھود کر نکالنا۔ الوجیل
 فی السیر۔ چلنے میں جلدی کرنا۔
 الحدیث۔ بات کو بھیدہ کرنا۔
 فلاقا یا نکلام۔ بات سے اجازت دینا۔
 الارض بیدہ۔ غصہ کھلنا۔

کھودتا۔ عین الشیخ۔ کھود کر یہ کرنا۔
 نَقَّتْ۔ الرَّجُلُ۔ جلدی کرنا۔
 تَنْقَطَةُ۔ مائل کرنا۔ مہربان بنانا۔
 كُنْطَفٌ۔ كَيْبَعَةٌ۔ اپنی ہانڈا وغیرہ کو
 دیکھ بھال کرنا۔ النُقَاتُ۔ بھو۔
 النُقُفُ۔ مہ۔ چھل۔
 نَقَلْنَا نَقْلَهُ۔ الشَّيْخُ۔ بوڑھے کا
 چلنے میں مٹی اڑانا۔
 نَقَمَ رَجُلٌ نَقْمًا وَنُقْمًا۔ العَطْفُ۔
 بڑی کا گودانکانا۔ الجَذْعُ۔ تے
 کی کانٹھیں کاٹ کر صاف کرنا۔
 الشَّيْخُ۔ چھیلنا اور ردی کو خالص
 سے جدا کرنا۔
 نَقَحَ وَانْقَحَ۔ الكلامُ کام کی اصلاح
 ودرستی کرنا۔ نَقَحَتِ السَّنُونُ
 الرَّجُلُ۔ سالوں کا انسان کو کمزور
 کر دینا۔ انْقَحَ الرَّجُلُ۔ تلوار کی
 زینہ پائش اتارنا۔
 نَقَّحَ۔ شَحْمَةٌ۔ چربی کم ہونا۔
 انْتَقَحَ العَطْفُ۔ بڑی کا گودانکانا۔
 النَّقْحُ۔ موسم گرما کا سفید بادل۔
 النَّقْحُ۔ تجربہ کار عالم۔
 النَّقْحُ۔ خالص ریت۔
 التَّنْقِيحُ۔ معنی کی وضاحت کے ساتھ
 الفاظ کا اختصار۔
 نَقَّحَهُ رَجُلٌ، نَقَّحًا۔ مارنا۔ داغ
 توڑنا۔ انْتَقَحَ۔ بڑی سے گودا
 نکالنا۔
 التَّقَاخُ۔ ٹھنڈا صاف پانی۔ نیند۔ عافیت
 امن۔ نَقَّخَ كُلَّ شَيْءٍ۔ خالص۔
 نَقَدَ رَجُلٌ نَقْدًا وَتَقَادًا۔ الدَّرَاهِمُ۔
 درہم پر کہتا۔ الكلامُ۔ کلام کی خوبی
 اور برائی ظاہر کرنا۔ نَقَدَ فُلَانًا وَ
 يَفْلَانِ الثَّمَنَ۔ قیمت نقد ادا
 کرنا۔ نَقَدَهُ دَرَهْمًا۔ دینا۔

النَّطَائِرُ الفَتَحَ او المَحَبَّ۔ پزندہ
 کا چرچ مارنا۔ الرَّجُلُ الطَّيْحُ وَ
 إِلَى الشَّيْخِ يَنْقَطِرُ۔ چپکے چپکے
 دیکھنا یا کہنا۔ نَقَدَتْهُ العَيْبَةُ۔
 سانپ کا ڈسنا۔
 نَقَدَ رَجُلٌ، نَقْدًا۔ الفَرَسُ او القَرُونُ
 دانت یا سینک کا ٹوٹنا یا کھایا ہوا
 ہونا۔ صفت رَقِيْدٌ۔ الخَائِفُ
 کُرُ کا چھلنا۔ الجَذْعُ۔ بڑے کا کھوکھلا
 ہونا۔
 انْقَدَ الشَّهْرُ۔ درخت کا پتے لانا۔
 نَقَدَ مَتَاعًا۔ کسی معاملے میں
 جگڑانا۔
 تَنَقَّدَ۔ المَدْرَاهِمُ۔ درہم پر کہنا۔
 انْتَقَدَ۔ المَدْرَاهِمُ۔ روپے نقد
 وصول کرنا۔ کھولنے روپے انگ کرنا۔
 الشَّيْخُ عَلَى قَائِلِهِ۔ شعر کے
 عیب ظاہر کرنا۔ الارْحَنَةُ الجِلْدُ۔
 دیک کا تہ کو کھوکھلا کر دینا۔ انْتَقَدَ
 الوَلَدُ۔ رطکے کا جوان ہونا۔
 النَّقْدُ۔ مہ۔ بروقت ادا کی ہوئی قیمت۔
 نقدیہ۔ جہ۔ نَقُوْدُ۔
 النَّقْدَانُ۔ سونا چاندی۔
 النَّقْدُ والنَّقْدُ۔ کم گوشت والا۔ دیر
 سے جوان ہونے والا۔
 النَّقْدُ۔ مہ۔ بھیلوں کی ایک قسم جن کی
 ٹانگیں چھوٹی اور چہرے بڑے شکل ہوتے
 ہیں۔ واحد نَقْدَةٌ۔ (مذکورہ نوشتہ،
 جہ۔ نَقْدًا و نَقَادًا۔
 النَّقْدُ۔ سفلی لوگ۔ کہتے۔ النَّقْدُ
 مِنَ الصَّبِيَّانِ۔ دیر سے جوان
 ہونے والا بچہ۔
 النَّقِيْدُ۔ فاجہ۔ نَقْدَةٌ وَنُقَادُ۔
 النَّقْدُ وَالنَّقْدُ۔ سیبی۔
 الانْقَادُ وَالنَّقْدَانُ۔ کھجوا۔

النَّقَادُ۔ روپے پر کہنے والا۔ تنقید کرنے
 والا۔ ایک چھوٹی قسم کی بھیلوں کا
 چروانا۔
 مَنَقَادٌ۔ النَطَائِرُ۔ پزندہ کی چوڑھی۔ جہ
 مَنَاقِيْدُ۔
 نَقَدَ رَجُلٌ، نَقْدًا او نَقْدًا وَنَقْدًا۔
 مُلَانًا مِنْ كَذَا۔ نجات دلانا۔
 خلاصی دلانا۔
 تَنَقَّدَ وَاسْتَنَقَّدَ۔ مِنْ كَذَا نَجَاتٍ
 دینا۔ چھڑانا۔
 نَقَدَ رَجُلٌ، نَقْدًا۔ نجات پانا۔
 النَّقْدُ۔ سلامتی۔ نَقْدُ لَكَ۔ تو محفوظ
 رہے۔
 النَّقْدُ وَالنَّقِيْدُ۔ چھڑایا ہوا۔ بچا یا
 ہوا۔ مَا كُنَّا نَقْدًا وَنَقْدًا۔
 اس کے پاس کچھ نہیں۔
 النَّقِيْدَةُ۔ قیمت کا گھوڑا یا زرہ وغیرہ۔
 جہ۔ نَقَائِدُ۔ هُوَ نَقِيْدَةٌ بُوَيْسٍ۔
 سختی سے بچایا ہوا۔
 نَقَرَجُ رَجُلٌ، نَقْرًا۔ مارنا۔ نَقَرُ العُودَ
 او الدِّهْنَ۔ بانسری یا ڈھول بجانا۔
 - فُلَانًا۔ عیب لگانا۔ الشَّيْخُ۔ چرچ
 سے سوراخ کرنا۔ النَطَائِرُ البَيْعَةُ
 عَيْنُ المَدْحِ۔ پزندہ کا بچہ نکالنے
 کے لیے اللہ سے سوراخ کرنا۔ نَقَرُ
 فِي المَحْتَجِبِ۔ پتھر پر کہتا۔ سَفِي
 التَّقْوِي۔ بگل بجانا۔ النَطَائِرُ
 المَحَبَّةُ۔ پزندہ کا دانہ چکنا۔ المَحَبَّةُ
 او المَحَبَّةُ۔ پتھر یا کڑی کھودنا۔
 نَقَرَعَيْنِ الأَمْحِ بِمَعَالِكِ جِهَانِ مِنْ
 کرنا۔ نَقَرُ فُلَانٍ۔ چکی بجانا۔ رِجَالُ
 کوتاہ سے لگا کر آواز نکالنا۔ نَقَرْتُ
 بِالرَّجُلِ۔ قوم میں سے علمدہ بلانا۔
 نَقَرُ السَّهْمِ المَهْدَفُ۔ تیر کا
 نشانہ پر لگنا مگر بار نہ ہونا۔

نَقْرَس، نَقْرَا۔ عَلِيٌّ فُلَانٌ۔ غضبناک ہونا۔ نَقْرَتِ الشَّاةُ۔ بکری کا نقرہ کی بیماری والا ہونا۔ نَقْرُ فُلَانٍ۔ کسی کا قیر ہونا۔
 نَقْرُ۔ الطَّائِرُ فِي السَّوْنِجِ۔ پرندہ کا جگہ کو اڈے دینے کے لیے نرم کرنا۔
 فُلَانٌ يَأْسُرُ فُلَانًا۔ کسی کو نام لے کر پکارتا۔ الشَّيْءُ وَعَيْنُ الشَّيْءِ۔ چھان بن کرنا۔ عَلِيٌّ فُلَانٍ۔ کسی پر نکتہ چینی اور عیب گیری کرنا۔
 نَاقِرَةٌ مَنَاقِرَةٌ وَنِقَارًا۔ بات چیت میں جھگڑنا۔ مخالفت کرنا۔
 أَنْقَرِ عَيْنًا۔ رگنا۔ ضَرْبُهُ فَمَا أَنْقَرُ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْتَهُ۔ وہ اس کو مارنے سے نہ رکا۔ یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔
 تَنْقَرُ الشَّيْءُ۔ چھان بن کرنا۔ عَلِيُّ الْإَهْلِ وَالنَّعَالِ۔ بددعا کرنا۔
 أَنْقَرَةٌ۔ پسند کرنا۔ اِنْتَقَرَ الشَّيْءُ۔ چھان بن کرنا۔ اِنْتَقَرَةٌ وَاِنْتَقَرَبَهُ۔ قوم میں سے کسی کو علیحدہ بلانا۔ الْقَوْمَ وَبِالْقَوْمِ۔ خاص خاص لوگوں کو بلانا۔
 اِنْتَقَرَتِ الْحَيْلُ بِحَوَافِرِهَا نَقْرًا۔ کھروں سے کھودنا۔ اِنْتَقَرَتِ السَّيْلُ نَقْرًا۔ سیلاب کا گڑھے ڈالنا۔ اِنْتَقَرَ الشَّيْءُ۔ کھنا۔
 النَّاقِرُ۔ فا۔ نشانہ پر گئے۔ اِنْتَقِرْ۔ ج۔ نَوَاقِرٌ۔
 النَّاقِرَةُ۔ النَّاقِرُ كَالْمَوْتِ۔ مصیبت۔ ٹھیک دلیل۔ ج۔ نَوَاقِرٌ۔ اِنْتَقَرْتُ عَنْهُ نَوَاقِرٌ۔ اس کی طرف سے مجھ کو ایذا رساں باتیں پہنچیں۔
 النَّاقِرُ۔ بگل۔ دل۔ ج۔ نَوَاقِرٌ۔ النَّقَارَةُ۔ چورچم۔ پتھر پر کھنے سے جو باقی رہے۔

النَّقْرُ۔ مہم۔ چٹکل کی آواز۔ پتھر کی کھائی۔
 النَّقْرُ۔ کھجور کی گھٹلی کا چھوٹا سا گڑھا۔
 النَّقْرُ۔ ناراض۔
 النَّقْرُ۔ کتے ہیں۔ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَقْرِ وَالنَّقْرِ۔ میں اللہ کے ذریعہ نیچے پن اور مال کے ضائع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔
 النَّقْرِيُّ۔ عیب۔ بَنَاتُ النَّقْرِيِّ۔ ذلیل عورتیں۔ دَعَوْتُهُمْ نَقْرِي۔ میں نے ان کو خصوصیت سے بلایا۔
 النَّقْرَةُ۔ نَقْرًا كَالسَّمْرِ۔ مَا أَثَابَهُ نَقْرَةً۔ اس نے اس کو کچھ بھی بدلہ نہیں دیا۔
 النَّقْرَةُ۔ باتوں میں رد و کد اور جھگڑا۔
 النَّقْرَةُ۔ زمین میں چھوٹا سا گول گڑھا۔ چاندی سونے کا پگھلا ہوا ٹکڑا۔ آنکھ کا گڑھا۔ سرین کا گڑھا۔ گردن کے پچھلے حصہ کا گڑھا۔ ج۔ نَقْرٌ وَنِقَارٌ۔
 النَّقْرَةُ۔ بکریوں اور گلوں کی ٹانگوں میں پیدا ہونے والی بیماری۔
 النَّقَارُ۔ امورا و خبروں کی چھان بن کرنے والا۔ لکڑی یا پتھر پر کھودنے والا۔ لگام یا رکاب پر نقش و نگار کرنے والا۔ اس پیشہ کو نِقَارَةٌ کہتے ہیں۔
 النَّقَارُ۔ چورچم مارنے والا پرندہ۔
 النَّقَارَةُ۔ بڑا ڈھول۔
 النَّقِيرُ۔ آواز۔ کھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔ کھجور کا تہ۔ جس کو کھوکھلا کر کے سیڑھیاں یا کٹھرا بناتے ہیں۔ لکڑی کی جڑ جس کو کھود کر اس میں نیبڈ بناتے ہیں۔ بہت غریب۔ ایک سیاہ رنگ کی کھمی۔ ج۔ اِنْقَرَةٌ۔
 النَّقِيرَةُ۔ چھٹی کشتی۔
 الْاِنْقَرُ۔ کھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔

النَّقِيرُ سِيَّيْطِي کے مشابہ آواز۔
 الْاِنْقَرُ۔ کدال۔ جھینی۔ ج۔ مَنَاقِرٌ۔
 الْمُنْقَرُ وَالْمُنْقَرُ۔ لکڑی کا پیالہ۔ ج۔ مَنَاقِيرٌ۔ تنگ منہ کا چھوٹا کنواں۔ بہت پانی والا گرا کنواں۔ حوض۔
 الْمُنْقَرُ۔ بہت ترش دودھ۔
 الْاِنْقَارُ۔ کدال۔ چورچم۔ چرمی موزے کی نوک۔ مَنَقَارُ الْمَدَّجَا جَةِ وَمِنَقَارُ الْغُرَابِ۔ دوستارے۔
 نَقْرَدٌ نَقْرَدَةٌ۔ فِي الْمَكَانِ۔ کسی جگہ اقامت کرنا۔
 الْاِنْقِرَاسُ۔ نقرس کی بیماری۔ ہلاکت۔ بڑی مصیبت۔ ماہر رہنا۔ طیب حاذق۔ گلاب کے پھول جیسی چیز، جس کو عورتیں سر میں رکھتی ہیں۔ ج۔ نَقَارِيسُ۔
 الْاِنْقَرِيسُ۔ ماہر رہنا۔ ماہر و ہوشیار۔ طیب۔
 نَقْرٌ رَضَنٌ، نَقْرٌ اِدْقَرَانًا وَنِقَارًا۔
 السَّخْبِيُّ۔ ہرن کا کودنا۔ چھلانگ مارنا۔ صفت دناقِرٌ نَقْرَةٌ عَنْهُمُ دَفْعٌ كَرْتًا۔ ہٹانا۔
 نَقْرَتُ۔ الصَّبِيحُ اُمْلَةٌ۔ ماں کا بچہ کو اچھالنا۔ نَقْرٌ فُلَانًا۔ کودانا۔
 اِنْقَرُ۔ الرَّجُلُ۔ ہمیشہ صاف اور سیٹھا پانی پینا۔ ردی مال حاصل کرنا۔ نِقَارٌ بیماری والے مویشی والا ہونا۔ فوراً قتل کر دینا۔ عَيْنُ الشَّيْءِ۔ رگنا۔ باز رہنا۔
 اِنْتَقَرْتُ۔ اِنْقَارًا۔ بکری کا نِقَارُ کی بیماری والا ہونا۔
 اِنْتَقَرُ۔ يَفْلُانٌ مِّنْ۔ ردی مال دینا۔
 النَّاقِرَةُ۔ مَوْتٌ اِنْقَارٌ۔ نَوَاقِرٌ الْمَنَاقِرَةُ۔ چوپایوں کی ٹانگیں۔
 اِنْقَارٌ۔ طاعون کی طرح جانوروں کی ایک

بیماری۔
النَّقْزُ: خمیس مال۔ گھٹیا لوگ۔
النَّقْرُ: کوراں۔
النَّقْوُ: لقب۔
النَّقْوُ: لقب۔ گھٹیا مال۔ رذیل طبقہ کے لوگ۔ واحد نَقْوَةٌ۔
النَّقْوُ: صاف میٹھا پانی۔
النَّقَّازُ وَالنَّقَّازُ: ایک قسم کا پرندہ چڑیوں کے بچے۔ جو۔ نَقَّاقِيذُ۔
النَّقْوُونُ: نقازک بیماری والا۔ مُرْتَكُ الْمُنْقُوْرَةِ۔
لَقَبَسَ دَن، نَقَّسًا۔ التَّقْوِيْنَ بِالْحُجْبَةِ۔
لکڑی سے ناقوس بجانا۔ التَّقْوِيْسُ۔
ناقوس بجانا۔
لَقَسَ دَن لُقُوْسًا۔ الشَّرَابُ۔ تَرَشُ بَوْنًا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ۔ فَسَادُ الْوَالِدِ۔
نَقَسَهُ دَسَ لُقْسًا۔ عَيْبَ لَكَانًا۔ سَمَزَى كَرْنَا۔
نَقَسَ۔ فُلَانًا۔ لَقَبَ دِيْنَا۔ الدَّادَاةُ۔
دوات میں روشنائی ڈالنا۔ لَقَسَهُمْ۔
پنکھو دیا۔ ناقوس بجا کر لوگوں کو بلانا۔
نَاقَسَهُ: عَيْبَ لَكَانًا۔
لِنَقَسَ: ناقوس بجانا۔
النَّقِيسُ: فَا۔ تَرَشُ۔ كَطَا۔
النَّقِيسُ: کھجلی۔ ایک قسم کا ناقوس۔ جو۔
نَقَسَ۔ رَجُلٌ نَقَسَ: عَيْبَ كَرِي۔
لوگوں کے لقب رکھنے والا۔
النَّقِيسُ: روشنائی۔ جو۔ النَّقَّاسُ وَ النَّقْسُ۔
النَّقِيسُ: کتیز نادہ۔ کھجلی والا۔
النَّقُوْسُ: ایک قسم کی نباتات۔
النَّقَاوِسُ: لوبہ کا لکڑا جو کھڑی سے بجایا جائے۔ گھڑیاں۔ جو۔ نَوَاقِيسُ۔
نَقَسَ دَن، نَقَّسًا۔ الشَّيْءُ: بِلْ بُوْلِي

ڈالنا۔ نقش و نگار کرنا۔ الْعَدَقُ كَهَجْرٍ كَ خَوْشِ كُوْپَا نِي كِي لِي كَانُوْنَ سِي مَارَتَا۔ الشُّوْكَةُ مِنْ رِجْلِيهِ۔ هَاوِي سِي كَانَا نَكَانًا۔ مَرِيْبَعِنَ الْعَلَمَةِ: بَكْرِيُوْنِ كِي بَاطِي كُو كَانُوْطُوْنَ دِيْغِيْرَه سِي صَاف كَرْنَا۔ عِيْنُ الشَّيْءِ: بِيْت وَ مَاحِت كَرْنَا۔ فَصَّ الْحَاكِمَةُ: الْكُوْمِي كَالْغِيْزِي كَهُوْدَا۔ الشَّعْرُ بِالْمِنْقَاشِ: مَوْجِي سِي بَال لَوْجَانَا۔ الرَّيْ: چَكِي تَا نِيْنَا۔ مَا نَقَسَ مِنْهُ شَيْئًا: اِس نِي سِي كِي نِيْسِي پَايَا۔ نَقَّشَ الشَّيْءُ: نَقَشَ وَ نَكَرَ كَرْنَا۔ نَاقَسَهُ: الْحَسَابُ وَ فِي الْحَسَابِ: حَاسِبُ كِي تَفْصِيْلُ سَمَحِي سِي لِيْنَا۔ اَنْقَشَ: حَلِي عِيْرِيْمِيَه: مَقْرُوْمِن كُو تَرَك كَرْنَا۔ تَنَقَّشَ: كِي سِي اِيْنَا پُوْرَا حَق لِيْنَا۔ اِنْتَقَشَ: الشُّوْكَةُ: كَانَا نَكَانًا۔ الشَّيْءُ: نَكَانًا: مِيْن نِيْذِي جَمِيْعِي حَقِيَه: اِيْنَا حَق پُوْرَا لِيْنَا: اُوْر كِيْمَنَه چھوڑنا۔ اِنْتَقَشَ: فُلَانًا: كِي كِي پَسَنَد كَرْنَا۔ اِنْتَقَشَ فُلَانًا: كِي كِي كَهُوْدِي كَا حَكَم دِيْنَا: حَلِي كُوْتَد كَذَا: كِي كِي پَر كَهُوْدَا۔ اِنْقَاسَةُ: نَقَاشِي كَا پِيْشِيَه۔ النَّقْشُ: زِيْمِي مِيْن نَشَانِ: نَقْشُ وَ نَكَارُ: جُو۔ لَقُوْشِي: النَّقْشُ: سُو كِي كَهْرُ جِيْس كُو تُوْشِي مِيْن رَكْه كَر پَانِي مِيْن تَر كَرِي۔
النَّقَّاشُ: نَقْشَ وَ نَكَارَ كَرْنِي وَ اَلَا۔
النَّقِيْشُ: نَظِيْر۔
الْمِنْقَشُ وَ الْمِنْقَاشُ: نَقْشُ وَ نَكَارُ

نکالنے کا اوزار۔ جو۔ مَتَاقِشٌ وَ مَتَاقِشٌ كَتِي مِيْن اِسْتَعْرَجْتُ مِنْهُ وَ حَقِي بِالْمِنْقَاشِ: مِيْن نِي سِي اِيْنَا قَرْمَنَه وَ صِلَ كَرْنِي مِيْن بِيْت تَكْلِيْفِ الطَّائِي۔
الْمِنْقُوْشُ: مَفْعُ: دِيْنَا: كِي كَهْرُ جِيْس كِي پَكَانِي كِي لِي سِي مِيْن كَانَا چھو مِيْن الشَّجَّةِ الْمُنْقِيْشَةِ وَ الْمُنْقُوْشَةِ: زَعْمُ جِيْس سِي بُوْرِيَا نَكَالُ مَائِي۔
نَقَصَ دَن، نَقَّصَا وَ تَنَقَّصَا وَ نَقَّصَانَا: الشَّيْءُ: كِي كِي هُوْنَا: كَهْتَا۔
نَقَّصْتُ الشَّيْءُ: مِيْن نِي جِيْر كُو كَهْتَا دِيَا نَقَّصْتُ زَيْدًا حَقَّةً: حَق كِي كَر دِيْنَا۔
نَقَصَ دَن، نَقَّصَةً: الْمَاءُ: پَانِي كَا مِيْطَا هُوْنَا۔
اِنْتَقَصَ: الشَّيْءُ: جِيْر كَا كَهْتَا: كِي هُوْنَا الشَّيْءُ: كِي كَرْنَا: الرَّجُلُ: عَيْبُ كِيْرِي كَرْنَا۔
تَنَقَّصَ: فُلَانًا: كِي كِي مَذْمُوت كَرْنَا۔
عَيْبُ كُوْنِي كَرْنَا: الشَّيْءُ: آهِيْتِي آهِيْتِي كِي كَرْنَا۔
تَنَقَّصَ: الشَّيْءُ: آهِيْتِي آهِيْتِي كَهْتَا۔
اِسْتَنَقَصَ: الْعَمَلُ: قِيْمَتُ كَهْتَانِي كِي لِي كَهْتَا: كِي پَانَا: الرَّجُلُ: نَقْمَانُ كِي نَسِيْتُ كَرْنَا۔
النَّقِصُ: فَا: نَا كَمَلُ: وَ مَا هُوَ نَاقِصٌ: كِي وَ دَن كَا دِيْمُ: جُو۔ لَقَّصَ: النَّقْصُ: مَع: مِيْن نَقْمَانُ: هَرُوْدِي مِيْن فَرَقُ يِيْهِي كِي نَقْمَانُ دِيْمُ وَ عَقْلُ مِيْن مَسْتَعْمَلُ نِيْسِي: مَثَلًا كِي كِي سَكْتِي يِيْسِي: دَخَلَ عَلَيْهِ نَقْصٌ فَي دِيْنِيَه وَ عَقْلِيَه۔
النَّقِصَانُ: كِي: كَهْتَا وَ۔
النَّقِيْصُ: مِيْطَا پَانِي: هَرُوْدِي وَ فَوْشِي وَ دَا پَرِي

التَّقِيصَةُ - كينه خصلت - برائی - عیب
گیری - نکتہ چینی - بری - ج - نَقَائِصُ -
الْمَنْقُصَةُ - نقصان - ج - مَنَائِصُ -

لَقَمْنَ رن، نَقَصْنَا - اِبْنَاءُ عمارت
وُحَاثَا - الْعَطْفُ - بڑی توڑنا -
الْحَبْلُ - سی کھولنا - الْعَهْدُ
او الْأَمْرُ - پختگی کے بعد خراب کرنا
لَقَصْنَا فَلَانَ وَتَرَةً - فلاں نے
اپنا بدل لے لیا -

نَقَصَ رَضِيَ، نَقَعْنَا - المفضل و
الادب و نحوہما - جھڑیا چڑھے کا
چڑھنا - آوار کرنا -

تَأَقَصَ مَنَاقِصُهُ وَنِقَاصًا - مخالفت
ہونا -

أَنْقَصَتِ الْعُقَابُ - عقاب کا آواز نہ
نکالنا - أَنْقَصَ أَصَابِعَهُ - انگلیاں
بٹھکانا - الْكُمَاةُ وَرَيْنُ الْكُمَاةِ -
سانپ کی چترمی کو زمین سے نکالنا -
بِالْمَعْرِزِ - بکری کو بلانا - الْحَبْلُ
الْمَطْفُورُ - زیادہ بوجھ لادنا - بوجھل
کرنا -

تَنْقَضَ - الدَّمُ - خون کا ٹپکنا - الْجُرْحُ -
زخم سے خون بہنا - الْحَبْلُ - سی
کابل کھلنا - الْبَيْتُ - گھر کا چٹکنا -
تَرَحْنَا - تَنْقَضَتْ عِقَابُهُ - بڑیوں
سے آواز نہ نکلنا -

تَنَاقَصَ - الْبِنَاءُ وَالْحَبْلُ - عمارت کا
ترخنا - سی کھلنا - الْقَوْلَانِ - دو
قولوں کا ایک دوسرے کے مخالف
ہونا - تَنَاقَصْنَا الْبَيْعَ - بیع کو آپس
میں توڑنا -

لَا تَنْقُصَ - الْبِنَاءُ وَالْحَبْلُ - عمارت
کا ترخنا یا سی کا کھلنا - الْجُرْحُ
بعد برہم - زخم کا اچھا ہونے کے
بعد خراب ہونا - الْأَمْرُ بَعْدَ

الْبِتْيَانِ - معاہدہ سدھرنے کے بعد
بگڑ گیا - لَانْتَقَصَتِ الْعَطْفَارَةُ -
طہارت کا باطل ہونا - لَانْتَقَضَ عَلَيْكَ
الْبَلَدُ - اہل شہر اس کی اطاعت سے
نکلے - باغی ہو گئے -

النَّقَاصَةُ - سی کی کھل ہوئی لڑیاں -

النَّقْضُ - مفاعلتن کے ساتوں حرف
کو حذف کر کے پانچویں کو ساکن کرنا -

النَّقْضُ - مندم شدہ عمارت - طبع - سفر
کی وجہ سے دُبل جاور - دوبارہ کاتا

ہوا خیمہ یا کبل - زمین کی پٹری جو
سانپ کی چترمی وغیرہ سے پھٹ جائے
ج - أَنْقَاضٌ وَنُقُوضٌ -

النَّقْضُ - عمارت کا ٹوٹنا ہوا حصہ - ج
أَنْقَاضٌ وَنُقُوضٌ -

النَّقْضُ - کشتی کا ایک بیج -
النَّقْضُ - اُدھر کا دوبارہ کاتا ہوا -

النَّقْضَةُ - سفر سے دُبل جاور - ج -
أَنْقَاضٌ -

النَّقِيصُ - مخالف بونٹ تَقِيصَةُ -
النَّقِيصُ مِنَ الْأَدَمِ وَالْأَمْلَاجِ وَ
الْمَقَاجِيلِ وَنَحْوِهَا - آواز -

النَّقِيصُ - جڑے - بچھو - بینڈک -
عقاب، شتر مرغ کی آواز - نَقِيصُ
السَّقْفِ - چھت کی لکڑی کی
چرچراہٹ - نَقِيصُ كَيْلِ شَيْءٍ -
ہر چیز کا رفع اور عکس -

النَّقِيصَاتُ - وہ ایسی مند چیزیں جن کا
اجتماع ناممکن ہو -

النَّقِيصَةُ - پہاڑی راستہ - وہ نظم جو
کسی نظم کے جواب میں ہو - ج -

نَقَائِصُ -
التَّنَاقُصُ - مسم - باہم مخالف ہونا -

نَقَطَ رن، نَقَطَا - الحروف - حرف پر
نقطہ لگانا - صفت نواعل - نَقَطَا -

صفت مفعول - مَنقُوطٌ - ر - وَنَقَطَ
بِهِ الزَّمَانُ - زمانہ کا موافق ہونا -

نَقَطَ ثَوْبَهُ بِالْمَدَادِ او
الزُّعْفَرَانِ - کپڑے پر روشنائی یا

زعفران سے نقطے لگانا - تَنَقَّطَ
المكان - کسی جگہ گھاس کے مختلف

قطعے واقع ہونا - فَلَانَ الْخَيْرِ -
آہستہ آہستہ خبر لینا - تَنَقَّطْتُ

الْحَبْزُ - میں نے آہستہ آہستہ
روٹی کھائی -

النَّقِيطُ - نا - غلام کا غلام -
النَّقِطَةُ - نقطہ - ج - نِقَاطٌ وَنُقُطٌ -

مَا اخْتَلَفُوا فِي نَقِطَةٍ - انہوں
نے تمام باتوں میں اتفاق کیا - نَقِطَةُ

الدَّائِرَةِ - دائرہ کا مرکز - نَقَطَ
وَلِقَاطٌ مِنَ الْكَلَامِ - گھاس کے

متفرق قطعے -
النَّقِيطُ - غلام کا غلام -

النَّقُوطُ - منع - المنقوط من الشَّعْرِ -
وہ شعر جس کے تمام حروف نقطے

والے ہوں - كِتَابٌ مَنقُوطٌ - اعراب
لگی ہوئی کتاب -

نَقَعَرُ رن، نَقَعَا - آواز بلند کرنا -
الجَيْبُ - گریبان چاک کرنا - فَلَانًا

کسی کو قتل کرنا - رَيْقًا - منہ میں
بھوک جمع کرنا - الموتُ - موت

زیادہ ہونا - فَلَانًا بِالشُّمْرِ -
بُری گالی دینا - بِالشَّرَابِ - شفا

پانا - الدَّوَاءُ وَغَيْرُهُ فِي الْمَاءِ -
دوا وغیرہ کو پانی میں بھگونا - الرَّجُلُ

مہانوں کے لیے جانور ذبح کرنا -
نَقَعَرُ رن، نَقُوعًا - الصَّوْتُ - آواز

کا بلند ہونا - الصَّارِخُ بِصَوْتِهِ -
مسلل چلانا - كَيْلُ الشَّرِّ - کسی

کے لیے شرارت تیار کرنا - مِنَ الْمَاءِ

دبہ۔ پانی سے سیراب ہونا۔ السَّو
 فِي آثِيَابِ الْحَيَّةِ۔ سانپ کے
 دانتوں میں زیر جمع ہونا۔ مَا
 نَقَعْتُ بِخَيْرٍ۔ میں نے اس کی
 تصدیق نہیں کی۔
 نَقَعْتُ دِينَ نَقَعًا وَنُقُوعًا۔ السَّاءُ
 فِي بطن الوادي۔ پانی کا وادی میں
 جمع ہو کر بہت دیر ٹھہرنا۔ السَّاءُ
 الْعَطَشُ۔ پانی کا پیاس کو بھگانا۔
 أَنْقَعُ۔ السَّاءُ وَغَيْرُهُ فِي السَّاءِ۔
 دوا وغیرہ کو پانی میں بھگوتنا۔ السَّاءُ
 يَصُوتُ بِهٖ۔ لگاتار چلانا۔ السَّاءُ
 فَلَانًا۔ سیراب کرنا۔ الماءُ۔ پانی
 کا متغیر ہو کر زرد رنگ ہونا۔ الرَّجُلُ
 مَعَانِي كَلِمَةٍ جَانِبُ ذَنْبٍ كَرْنَا۔
 الْحَيَّةُ السَّمُّ فِي آثِيَابِهَا۔
 سانپ کا زہر اپنے دانتوں میں جمع
 کرنا۔ يَفْلَانُ شَرًّا۔ کسی کے
 لیے شر دل میں چھپانا۔ الميْتَةُ۔
 دفن کرنا۔ الْعَطَشُ۔ پیاس بھگانا۔
 اِنْتَقَعُ۔ النَّقِيْعَةُ۔ مہمانی کے لیے
 جانور ذبح کرنا۔
 اُنْتَقِعَ۔ لَوْنُهُ۔ غم اور گھبراہٹ سے
 رنگ بدل جانا۔
 اِسْتَنْقَعُ۔ الصَّوْتُ۔ آواز کا بلند ہونا
 ۔ السَّاءُ۔ پانی کا متغیر ہو کر زرد رنگ
 ہونا۔ فَلَانٌ فِي النَّهْرِ۔ نہر میں
 گھس کر دیر تک اس میں نہانا۔
 السَّاءُ فِي التَّدْيِيرِ۔ پانی کا تالاب
 میں جمع ہونا۔
 اُسْتَنْقَعُ۔ لَوْنُهُ۔ رنگ بدلنا۔ الشَّيْءُ
 فِي الْمَاءِ۔ پانی میں بھگو یا جانا۔
 النَّاقِعُ۔ فَا۔ سَمُّ نَاقِعٍ۔ زہر قاتل
 دَوَاءٌ نَاقِعٌ۔ فَاوَدُهُ مَنَدُوًا۔ دَمٌ
 نَاقِعٌ۔ تازہ خون۔

النَّقْعُ۔ مَم۔ جمع شدہ پانی۔ ج۔ اَنْقَعُ۔
 النَّقْعُ۔ غبار۔ ج۔ نَقَاعٌ۔ و
 نُقُوعٌ۔ اَنْقَعُ۔ مکہ شریف
 کے پاس ایک جگہ سنگتانی زمین
 جس میں پانی جمع ہو نرم و ہموار
 رہیں۔ پانی ٹھہرنے کی جگہ۔ ج۔
 نِقَاعٌ وَانْقَعُ۔ كَقَمِّ الْبَيْتِ۔
 کنویں میں جمع شدہ پانی۔ کنویں کے
 پانی کی زیادتی۔
 النَّقَاعُ۔ خشک انگور بھگونے کا برتن۔
 النَّقَاعَةُ۔ وہ پانی جس میں کوئی چیز
 بھگوئی جائے۔
 النَّقَاعُ۔ نرم و ہموار زمین سنگتانی
 زمین جس میں پانی جمع ہو۔ غبار۔
 آواز۔ ج۔ نِقَاعٌ۔
 النَّقَاعُ۔ ان فضیلتوں کا دعویٰ کرنے
 والا جود حقیقت اس میں نہ ہوں۔
 النَّقُوعُ۔ ایک رنگ جس میں خوشبو
 پڑی ہو۔ بیٹھا ٹھنڈا پانی۔ پانی میں
 بھگوئی ہوئی چیز۔ فَلَانٌ نَقُوعٌ
 اُذُنٌ۔ فلاں آدمی ہر بات مان
 لیتا ہے۔
 النَّقِيْعُ۔ بھگوئی ہوئی کھجوروں کا شربت
 شربت جو کشمش کو بھگو کر بنایا
 جائے۔ بیٹھا ٹھنڈا پانی۔ بہت
 پانی والا کھواں۔ ج۔ اَنْقَعَةُ۔ جمع
 وہ آدمی جس کی ماں غیر قوم کی ہو۔
 النَّقِيْعَةُ۔ کھانا جو سفر سے آنے
 والے کے لیے تیار کیا جائے۔ مہمان
 کے لیے ذبح کیا ہوا۔ ج۔ نَقَائِعُ۔
 الْاَنْقَعُ۔ زیادہ پیاس بھگانے والا کتے
 ہیں۔ الرَّشْفُ اَنْقَعٌ۔ یعنی
 تھوڑا تھوڑا پینا پیاس کو زیادہ بھجاتا
 ہے۔ جلد بازی کو چھڑانے کے لیے
 یہ جملہ بولا جاتا ہے۔

الْاَنْقُوعَةُ۔ ہر ایسی جگہ جس کی طرف پانی
 بہہ کر آئے۔ اَلْقُوْعَةُ السِّيْرَابُ۔
 پرنا لے کی نالی۔
 الْمُسْتَنْقَعُ۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ تالاب
 کا گھاٹ۔
 الْمَنْقَعُ۔ سمندر۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔
 پانی سے سیرابی۔ ج۔ مَنَاقِعُ۔
 الْمِسْقَعُ۔ وہ برتن جس میں کوئی چیز بھگوئی
 الْمُسْقَعُ۔ مٹکا۔ پتھر کا پیالہ۔ بھگونے
 کے قابل چیز۔ خالص سرد کیا ہوا دودھ
 فَلَانٌ مُنْقَعٌ۔ فلاں کی رائے پر تسلی
 ہوتی ہے۔
 الْمُسْقَعُ۔ چھوٹی ہانڈی جس میں دودھ کھجوریں
 بچے کے کھانے کے لیے ڈالی جاتیں۔
 الْمُنْقَعَةُ۔ خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن۔
 نَقَعْتُ دِينَ نَقَعًا۔ هَامَةُ الرَّجُلِ۔
 کھوپری توڑنا۔ فلانا۔ کسی کے ہلکی
 ضرب لگانا۔ الْفَوْخُ الْبَيْضَةُ۔ چوزے
 کا انڈا پھوڑ کر نکالنا۔ الرَّمَانَةُ۔ انار
 کو دانے نکالنے کے لیے پھیلانا۔ صفت
 فاعلی (ناقف) صفت مفعولی (نَقِيْفٌ و
 مَنَقُوفٌ)۔ الشَّرَابُ۔ شراب کو
 صاف کرنا۔ اس میں پانی ملانا۔ عِن
 الشَّيْءِ۔ تفتیش کرنا۔ نَقَعَهُ يَنْقَعُوهُ۔
 ناخن سے چٹکی بھرنا۔
 نَاقَهُ مَنَاقِعَةً دِنَقَاً۔ ایک دوسرے
 کی کھوپری پر تلوار مارنا۔
 اَنْقَفُ۔ الْجِرَادُ الْعَادِي۔ مٹی کا وادی
 کو انڈوں سے بھر دینا۔ فَلَانًا
 الْعَطَشُ۔ کسی کو مٹی گودا نکالنے کے
 لیے دینا۔ رَوْتَنْقَفَهُ، الْحَنْطَلُ۔
 دانے نکالنے کے لیے اندھا ٹوڑنا۔
 اَنْتَقَفْتُ۔ نکالنا۔ رَجُلٌ نِقَافٌ
 دورانہ لبش آدمی۔ فِي نِقَافِ
 دَاخِلٍ۔ ایک ہی طریق پر برابر برابر۔

النَّقْفُ وَالنَّقْفَةُ - وہ بچہ جو ابھی اللہ سے نکلا ہو۔
 النَّقْفَةُ - پہاڑ کی چوٹی یا ٹیلہ پر چھوٹا گڑھا۔
 النَّقَافَةُ - سوال کرنے کا شوقین اور عادی۔
 النَّقِيفُ - دیک کا کھایا ہوا تنہ۔ ج۔
 نَقْفٌ -
 المِنَقَاتُ - پزندہ کی جو پخت - ایک قسم کی کوڑی جو پالش کے کام آتی ہے۔
 المَشْقُوفُ - مفع - زرد رنگ - دُبل - کمزور کم گوشت - کرم خوردہ تنہ - مَينَاتٍ مَنَقُوقَاتٍ - سرخ آنکھیں۔
 نَقَلَ رَنًا، نَقْلًا - اشیاء - ایک جگہ سے دو سری جگہ پر تبدیل کرنا۔ خُفَّتْ البَعِيرُ او الثَّوْبُ او النُّعْلُ - پیوند لگانا اور درست کرنا۔ الكَلَامُ عَنِ قَائِلِهِ - روایت کرنا۔ اَلْكِتَابُ كِتَابٌ نَقَلَ كَرْنَا - اَلْكِتَابُ لِى لَعْنَهُ كَذَا - ترجمہ کرنا۔
 نَقَلَ - اَلْشَيْءُ - چیز کو زیادہ نقل کرنا۔
 - الخُفُّ او الثَّوْبُ - پیوند لگانا۔ اور درست کرنا۔ نَقَلَتِ الشَّجَرَةُ العُظْمَ - ضرب کا بڑی کو توڑ ڈالنا۔
 - فَلَانٌ صَيِّفَةٌ - جہان کو ناشتہ کھلانا۔
 نَاقِلٌ - الفَرَسُ گھوڑے کا جلدی جلدی پاؤں اٹھانا۔ پتھروں سے بچ کر ہوشیاری سے دوڑنا۔ ایک دوسرے کو روایت سنانا۔
 نَاقَلَهُ الاَقْدَاحُ - ایک دوسرے کو پیلے پکڑانا۔ نَاقَلَ الشَّاعِرُ الشَّاعِرَ شاعر کا شاعر سے مقابلہ کرنا۔
 اَنْقَلَ الخُفَّ او النُّعْلَ - درست کرنا۔
 تَنَقَّلَ - مِیْن مَكَانٍ اِلَى اٰخَرَ - ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل جانا۔ زیادہ منتقل

ہونا۔ نَقَلَ کھانا۔
 لا نَتَقَّلُ - مِیْن اِلَى - نقل مکانی کرنا۔
 اِلَى رَحْمَتِهِ اللّٰهُ جَرَانَا - الفَرَسُ۔
 گھوڑے کا چلنے میں پچھلے پاؤں کو اگلے پاؤں کی جگہ رکھنا۔
 النَّاقِلُ - فَا - ج۔ نَاقِلُونَ وَنَقَلَةٌ۔
 النَّاقِلَةُ - مُؤَنَّثُ النَّاقِلِ - ج۔ نَوَاقِلُ - نَوَاقِلُ الدَّهْرِ - حوادثِ زمانہ۔
 النَّاقِلَةُ مِیْنِ النَّاسِ - نقل مکانی کے عادی لوگ۔ نَوَاقِلُ العَرَبِ - ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کی طرف منتقل ہو کر اس کی طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگ۔
 النِّقَالُ - نَاقِلٌ کا مصدر۔ نیزوں کے چوڑے چھوٹے پھل۔ واحد نَقْلَةٌ۔
 النَّقَالُ - چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا۔ فَرَسٌ نَقَالٌ - تیز رو گھوڑا۔
 النَّقْلُ - مِم - پرانا جوتا یا موزہ۔ وہ چیز جو شراب کے ساتھ استعمال کی جائے جیسے پستہ، سیب وغیرہ۔ ج۔ نَقُولٌ وَنَقُولَاتٌ - مختصر راستہ۔
 النَّقْلُ - اهل العربیہ کے نزدیک ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرنے کے بعد پھر اس کو دوسرے معنی کے لیے وضع کرنا۔
 النِّعْلُ - پرانا جوتا یا موزہ۔
 التَّقْلُ - پرانا جوتا یا موزہ۔ ج۔ اَنْقَالَ وَنِقَالَ - شروع و خب کے ساتھ جواب۔ ایک تیر سے نکال کر دوسرے تیر میں لگایا ہوا پھل۔ گری ہوئی عمارت کا طہ۔ چھوٹے پتھر۔ مختصر راستہ مَكَانٌ نَقْلٌ - چھوٹے چھوٹے پتھروں کی جگہ۔ رَجُلٌ نَقْلٌ - حاضر جواب آدمی۔ جھگڑالو۔

النُّعْلَةُ - انتقال۔ جہلی۔ ج۔ نَقْلٌ - النُّعْلَةُ - وہ عودت کہ عمر زیادہ ہونے کے سبب اس کے پیغام نہ آئیں۔ ج۔ نَقْلٌ -
 النَّقِيلُ - مسافر۔ بارش کی زمین سے خشک زمین میں آنے والا سیلاب۔
 النَّقِيلَةُ - جوتے یا موزے کا پیوند۔ ج۔
 نَقَائِلُ وَنَقِيلٌ - فَرَسٌ مَنَاقِلٌ وَنَقَالٌ وَنَقَالٌ - تیز رو گھوڑا۔
 المَنْقَلُ - پہاڑی راستہ۔ مختصر راستہ۔ بوسیدہ جوتا یا موزہ۔
 المَنْقَلَةُ - سفر کی ایک منزل۔ اونٹ کے موزے کا پیوند۔ اَرْضٌ مَنَقَلَةٌ - چھوٹے چھوٹے پتھروں والی زمین۔
 المِنَقَلَةُ - نقل مکان کرنے کا ذریعہ۔ ج۔ مَنَاقِلُ - ایک قسم کا کھیل۔
 نَقَمَ رَضًا، نَقَمَ رَسًا، نَقَمًا وَتِنَقَمًا - مِیْن فُلَانٍ - مزادینا۔
 الاَمْرَ عَلٰی فُلَانٍ وَ مِیْن فُلَانٍ ملامت کرنا۔ عیب لگانا۔ مکروہ جانا۔
 نَقَمَ فُلَانٌ دَرَّةً - فلاں نے بدلہ لے لیا۔ (نَقَمًا) اَلْشَيْءُ - جلدی کھانا۔
 لا تَنْقَمَ - مِنْهُ - مزادینا۔
 النَّقْمُ - مِم - راستہ کا درمیان۔
 النَّقْمَةُ وَ النَّقْمَةُ وَ النَّقْمَةُ - بدلہ مزا۔ غذاب۔ ج۔ نَقَمٌ وَ نَقْمٌ وَ نَقِمَاتٌ -
 النَّقِيمَةُ - اچھی طبیعت والا۔
 نَقْنَقٌ - الضَّفْدَعُ - بیڈک کا ڈرانا۔
 النِّقْنِقُ - زرشتر مرغ۔
 نَقَهَ رَفًا، نَقُوها وَ نَقِهَ رَسًا، نَقَمًا - فُلَانٌ مِیْن مَوْضِعٍ - صحت یاب ہونا مگر کمزوری باقی رہنا۔ صفت۔
 دَنَاقَهُ، ج۔ نَقَهَ - (نَقَمًا) د

نُقُوهَا وَنَقَاهَةً وَنَقَاهَاتًا -
 الْحَدِيثُ. بات سمجھنا. صفت لِقَهِ
 وَنَاقِهٌ -
 أَنْقَهَ - مَضَى. تندرست کرنا۔ فَلَانًا
 الْحَدِيثُ. کسی کو بات سمجھانا۔ لِنَفْهِ
 لِي سَمْعِكَ. میری بات سن۔
 لِنْتَقَهُ - مِنَ الْحَدِيثِ. تسلی پانا۔
 مِنْ مَرَضِهِ. مرض سے نجات پانا۔
 مَرَكَزُورِي بَاقِي رَهِنَا -
 لِنَسْتَقَهُ - بات پوچھنا۔ سمجھنا۔
 النَّقِيَّةُ - صِحَّتْ يَابِي -
 نَقَايِنُقُوهَا نَقُوهَا - الْعِظْمَةُ - بَدِي كَا
 كُودَانِكَا لَنَا -
 نَقِي يَنْقِي نَقَادَةً وَنَقَاءً وَنَقَاءَةً وَ
 نَقَادَةً وَنَقَايَةً - صَافِ هُونَا -
 خُوبِصُورَتِ هُونَا - خَالِصِ هُونَا - صِفَتِ
 نَقِي -
 نَقَاهُ تَنْقِيَةً وَانْقَاءً اِنْقَاءً - صَافِ
 سُمَّرَا كَرْنَا - پَسَنَدِ كَرْنَا -
 نَقِي وَانْقِي الطَّعَامُ - غَلَا كُوكُوبِ كَرَكُ
 سِ صَافِ كَرْنَا -
 انْقِي البُرُ - كِسِيوں كَا مَمُطِ دَانِ وَالَا هُونَا -
 انْقَمَتِ الْاِبِلُ وَغَيْرُهَا - اِدْنِ
 كَا مِوْطَا هُونَا - صِفَتِ مُنْقِيَةً - جِ
 مُنْقِيَاتِ -
 اِنْتَقَاهُ اِنْتَقَاءً - پَسَنَدِ كَرْنَا - جُنَا -
 اِنْتَقَى الْعِظْمَةَ - بَدِي كَا كُودَانِكَا لَنَا -
 تَنْقَاهُ تَنْقِيًا - جُنَا -
 نَقَادَةُ الشَّيْءِ وَنَقَادَتُهُ وَنَقَايَتُهُ وَ
 نَقَاتُهُ - عَمَدِ حَصَّةِ خِلَاصِهِ - نَقَادَةً
 كِي حِجِّ نَقَايَا وَنَقَاءً - نَقَاهُ الطَّعَامُ
 وَنَقَاتُهُ وَنَقَايَةً دَلَقَايَتُهُ -
 غَلَا كُوكُوبِ كَرَكُ -
 النَّقَادَةُ - اِيكِ قِسْمِ كِي نَبَاتَاتِ حِجْسِ سِ
 كِطْرِي دَمَمُئِي جَلْتِي هِي - جِ - نَقَاوِي

النَّقَا. ریت کا اُتھرا ہوا ٹیلہ۔ ثَمَلِي. نَقَوَان
 وَنَقِيَان - جِ - اَنْقَاءٌ وَنُقِي وَ
 نُقِيَان -
 النَّقَا وَالنَّقُو وَالنَّقُو - كُودِ دَارِ بَدِي -
 جِ - اَنْقَاءٌ -
 النَّقُوَّةُ - عَمَدِ حَصَّةِ -
 النَّقِي - صَافِ سُمَّرَا - جِ - نَقَاءٌ وَانْقِيَاءٌ
 وَنَقَوَاءٌ -
 الَانْقِي - اِسْمِ تَفْضِيلِ - مِوْنَتِ نُقُوِي -
 رَجُلٌ اَنْقِي - بَارِيكِ لَمِي بَدِيوں وَالَا
 مِوْنَتِ نَقَوَاءٌ -
 نَقِي يَنْقِي نَقِيًا - الْعِظْمَةُ - بَدِي كَا
 كُودَانِكَا لَنَا -
 نَقِيَّةٌ يَنْقَاهُ - نَقَاءٌ - مَلَا قَاتِ كَرْنَا -
 النَقِي - بَدِي كَا كُودَا - اَكْمُوكِ جِرْبِي - جِ
 اَنْقَاءٌ -
 النَّقِيَّةُ - كَلِمَةُ -
 النَّقِي - صَافِ سُمَّرَا - جِ - نَقَاءٌ وَانْقِيَاءٌ
 وَنَقَوَاءٌ -
 الْمُنْقِي - رَاسْتِ - مِرُوكِ -
 نَلَكَّ رَنًا، نَلَا - عَلَيَّ الْخَرِيْبِ - قَرَضَارِ
 پَرَسْمَنِي كَرْنَا - الْعَمَلِ - كَامِ كُودِ رَسْتِ
 كَرْنَا -
 نَلَا دَفَا نَلَا - الْقُوْحَةُ - زَخْمِ كُو اِجْمَا
 هُونِي سِي پَلِي جَمِيْلَانَا - الْعَدُوُّ
 وَفِي الْعَدُوِّ - دَشْمَنِي مِي قَتْلِ وَغَارَتِ
 ذَالِنَا - خُونِ رِزِي كَرْنَا - فَلَانًا حَقَّةُ
 مِيں فَلَانِ - كِسي كَا پُورَا حَقِ اِدَا كَرْنَا -
 اِنْجَاكَ اِنْجَاكَ - حَقَّةُ مِيں فَلَانِ
 كِسي سِي اِپِنَا حَقِ وَصُولِ كِرَكِي قَبِيئِ
 كَرْنَا - نُو كَا فَ نُو كَا - جَلْدِي اِدَا كَرْنِي
 وَالَا - طَالِ مِوْنِ نِي كَرْنِي وَالَا -
 كَلَبَ رَنًا، كَلَبَا وَكَلُوبًا - عِنْدَهُ - هِطِ
 جَانَا - نَجَاؤِ كَرْنَا - كَلَبًا، الشَّيْءِ وَ
 بِه - پِھِيكْنَا - الْاِنَاءُ - جُوكِچِي بَرْتِنِ مِيں

ہے گرا دینا۔ اِيكِنَا لَنَا - كِرَكْشِ سِ
 سَبِ كِچِي كِچِي دِيْنَا - كَلَبَتِ الْيَحْمَارَةُ
 رِجْلَهُ - پِطَرِ كَا پَاؤُنِ كُو زَخْمِي كَرْنَا -
 كَلَبَا وَكَلَبَا، اِلْدَاهُ فُلَانًا - زَمَانِ
 كَا كِسي كُو مِصِيْبَتِ پِھِيچَانَا - كَلَبَتِ
 كَلُوبًا - اِلْدِي رِيْمُ - هُوَا كَا طِرْطِرْطِرْ
 كَلَبَ رَنًا، نِكَابَهُ وَكَلُوبًا - فُلَانٌ عَلَيَّ
 قُومِي - مَرْدِ كَارِ - قَابِلِ بَھُورِ سِ هُونَا -
 كَلَبَ رَسًا، كَلَبَا - عِيْنِ الطَّرِيْقِ - رَاسْتِ
 سِي هِطِ جَانَا - اِلْبَعِيْرُ - اِدْنِ كَا
 نَكْبِ بِيَارِي وَالَا هُونَا - اِلرَجُلُ -
 كِسي كَا كَنْدِھِي كِي بِيَارِي وَالَا هُونَا -
 كَلَبَ - مِصِيْبَتِ زِدِ هُونَا -
 كَلَبَ - عِيْنِ الطَّرِيْقِ - رَاسْتِ سِي هِطِ
 جَانَا - اِيكِ طَرَفِ هُونَا - اِلشَّيْءِ - جِٹَانَا
 اِيكِ طَرَفِ كَرْنَا -
 نَا كَلَبَةً - مِوْنَتِھِي كِي مَقْدَلِ هُونَا -
 تَنْكَلَبَ - عِنْدَهُ - هِطِ جَانَا - اَلِكِ هُونَا -
 بِيچْنَا - كَنْدِھَا مِوْرُ كُو دُوسَرِي كِي جَانِبِ
 مَتُوجِھِ هُونَا - عَلَيَّ الشَّيْءِ - طِيكِ لِكَا نَا
 كِي نَا نَتَّهَ اِدُقُوسَةً - اِپِنِي تَرَكْشِ يَا
 اِپِنِي كَمَا نِ كُو كَنْدِھِي پَرِ طَا نَا -
 اِنْكَلَبَ - اِلرَجُلِ كِي نَا نَتَّهَ اِدُقُوسَةً
 تَرَكْشِ يَا كَمَا نِ كُو كَنْدِھِي پَرِ طَا نَا -
 الْكَلْبُ - مِمَّ - مِصِيْبَتِ - جِ - كَلُوبُ
 الْكَلْبِ - پِطَرِ سِي زَخْمِي پَاؤُنِ وَالَا -
 الْكَلْبُ - مِمَّ - جِجَاؤُ - اِدْنِ كِي اِيكِ
 بِيَارِي جُو مِوْنَتِھِي مِيں پِھِيچَانِي سِي -
 الْاَلْكَبُ - بِيغِرِ كَمَا نِ كَا اِدْمِي - اِيكِ شَانِ
 كُو دُوسَرِي شَانِي سِي اِدْبِيچَارِ كِنِي وَالَا -
 الْكَلْبَاءُ - مِوْنَتِ الْاَلْكَبِ - رِيْمُ كَلْبَاءُ
 طِرْطِرْطِرْ هِي وَالِي هُوَا - جِ - كَلْبُ وَ
 كَلْبَاوَاتِ -
 الْكَلْبَاءُ - شَمَالِ مَشْرِقِي هُوَا -
 الْكَلْبَةُ - مِصِيْبَتِ - جِ - كَلْبَاتِ -

التَّكْبَةُ - بے اندازہ غلہ کا ڈھیر۔ ج
تَكَبَّ -
التَّكْيُوبُ - کھر کا گرداگرد۔
التَّكْبَابُ - ظالم۔ جفا کار۔
التَّكْبُوتُ - کندھا۔ شانہ۔ ج۔ مَنَّاكِبُ
تَنَّاكَبْتُمْ مِنْهُمْ التَّكَاكِبُ -
والرُّدُودُوسُ - وہ سب ایک جیسے
ہیں۔ کوئی ان میں پڑھا ہوا نہیں۔
هُنَّ مَتَكِبَةٌ كَذَّابَةٌ - وہ اس سے
خوش ہوا۔
التَّكْبُوتُ - پلو۔ گوشہ۔ مددگار۔ محافظ
سطح مرتفع۔
التَّكَاكِبُ - گدھ کے چھوٹے پر۔
التَّكْوُوبُ - مفع۔ مصیبت زدہ۔ وہ
شخص جس کا پاؤں پھر سے زخمی ہو۔
تَكَتَّ رَن، يَكْتَأُ - الارضُ يَقْضِيْبِ
او پُاصْبِعِيْهِ - غور و فکر کے وقت زمین
کو کھڑی یا انگلی سے کریدنا۔ الناسُ
بِالْحَضِي - لوگوں کا زمین پر کھڑے پھینکنا
- الفرسُ - گھوڑے کا اچھلنا۔
العظْمُ - ہڈی کا گوانا کالنا۔ فُلَانًا
کسی کو سر کے بل گرانا۔ حِيْنَا نَتَّ
ترکش سے بکھیر دینا۔
تَكَتَّ - الرُّطْبُ - گھور کا سرخی پکڑنا۔
فِي قَوْلِيْهِ - نکتہ چینی کرنا۔
اِنْتَكَّتْ فُلَانٌ - کسی کا سر کے بل گرنا۔
التَّكْتَةُ - داغ۔ زمین پر کریدنے کا نشان
جہر تَكَتَّ وَنَكَاتٌ - التَّكْنَةُ
آئینہ یا تلوار کا داغ۔ کلام کی باریکی
لطیفہ۔
التَّكَاتٌ - بڑا نکتہ چین۔ کلام میں نکتے
لانے والا۔
التَّكْوُوتُ - سر کے بل گرا ہوا۔
تَكَتَّ رَضَن، تَكَتَّ - العَهْدُ او
الْبَيْعُ - عہد یا بیع توڑنا یا۔ فسح کرنا

الحَبْلُ - رسی کھولنا۔ السِّوَاكُ
سواک کا سوزن کرنا۔
اِنْتَكَّتْ - الحَبْلُ وَغَيْرُهُ - رسی وغیرہ
کا کھلنا۔ السِّوَاكُ - سواک کے
سرے کا نرم ہونا۔ فُلَانٌ مِنْ
حَاجَةٍ اِلَى الْاُخْرَى - ایک کام سے
ہٹ کر دوسرے کام کی طرف متوجہ
ہونا۔
التَّكَاتٌ - اونٹ کے منہ کی پھنسیاں۔
التَّكَاتَةُ - رسی کا کھلا ہوا حصہ۔
الْبِنْتُ - دوبارہ کاتنے کے لیے ادھیڑا
ہوا کبل یا خیمہ۔ جہر - اَنْكَاتٌ -
التَّكِيْفُ - ادھیڑا ہوا۔ مَوْتٌ تَكِيْفَةٌ
التَّكِيْفَةُ - نفس طبعیت۔ قوت۔ پوری
پوری کوشش۔ مشکل کام۔ قَالَ
قَوْلًا لَا تَكِيْفَةُ فِيْهِ - اس نے
ایسی بات کہی جس میں خلاف وعدگی
نہیں۔ صَعْرَتٌ فِيْهِ تَكِيْفَةٌ -
اس نے اس میں بے انتہا کوشش
کی۔ وَفَعُوْا فِي التَّكِيْفَةِ - وہ مشکل
کام میں پھنس گئے۔ خُوْ تَكِيْفَةٌ -
حَسَنَةٌ - اچھی طبیعت والا۔ جہر
تَكَرُّثٌ -
التَّكَاتٌ - بنی ہوئی یا بٹی ہوئی چیز کو
ادھیڑنے والا۔
التَّكِيْفُ - دُيْلَا -
تَكَجَ رَضَن، يَكَا حَادُ تَكَا - الْمَرْأَةُ
عورت سے نکاح کرنا۔ تَكَجَتِ
الْمَرْأَةُ - عورت کا نکاح کرنا۔ شادی
کرنا۔ صفت تَكَجَرُ وَنَاكَجَتٌ -
تَكَجَ الْمَطْرُ الْأَرْضَ - بارش مٹی
میں جذب ہو گئی۔ الْمَدَاؤُ فُلَانًا
دعا کا کسی میں اثر کرنا۔ التَّعَاثُ
عَيْنُهُ - نیند کا آنکھوں پر غالب
آنا۔

اِنْتَكَحَتْ - الْمَرْأَةُ - عورت سے شادی کرنا۔
تَنَّاكَحُوا - ایک دوسرے سے شادی کرنا
تَنَّاكَحَتِ الْأَشْبَارُ - درختوں کا
آپس میں مل جانا۔
اِسْتَنَّاكَحَ - الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ - مرد کا
عورت کو نکاح میں لانا۔ شادی کرنا۔
بَنِي فُلَانٍ - نکاح کرنا۔ النُّومُ
عَيُّوْ تَسْمُ - نیند کا آنکھوں پر
غالب آنا۔
الْمَنَّاكِحُ - عورتیں۔
تَكَجَ رَضَن، تَكَجَا - فُلَانًا فِي حَلْقِهِ -
حلق میں ٹکا مارنا۔ نیزہ مارنا۔
تَكَدَّ - رَن، تَكَدَّ - فُلَانًا حَاجَتَهُ -
کسی کو حاجت سے روک دینا۔ مَرُومٌ
کرنا یا تھوڑا دینا۔ تَكَدَّ الْغُرَابُ
کوئے کا بہت کائیں کائیں کرنا۔
الْقَوْمُ الرَّجُلُ - بہت سوالوں سے
تنگ دست کر دینا۔ تَكَدَّ الرَّجُلُ -
بہت سوالوں والا اور کم بھلائی والا
ہونا۔
تَكَدَّ دَس، تَكَدَّ - الْعَيْشُ - گزران کا
تنگ ہونا۔ الرَّجُلُ تَنَّاكَجَ رَضَن
والا ہونا۔ تَكَدَّتِ الْبِئْرُ - کنویں کا
پانی کم ہونا۔
تَكَدَّ - حَيْشَةٌ - زندگی کو تنگ کر دینا۔
فُلَانًا - کسی کی زندگی کو کم کر کرنا۔
تَكَدَّ كَا - تَكْلِيْفٌ دِيْنَا - سختی برتنا۔
اِنْتَكَدَّ كَا - کسی کو کم خیر پانا۔
تَنَّاكَدَّ عَيْشَتَهُ - زندگی کو کم ہونا۔
تَنَّاكَدَّا - ایک دوسرے سے سختی برتنا۔
النَّاكِدُ - فَا - نَاقَةٌ نَّاكِدٌ - کم دودھ والی
اونٹنی۔ وہ عورت جس کے بچے زندہ
نہ رہتے ہوں۔ جہر - تَكَدَّ - رَجُلٌ
تَكَدَّ وَتَكَدَّ وَتَكَدَّ - درشت خود کم
داد دہش والا۔ جہر - اِنْتَكَادُ وَتَنَّاكِيْدُ -

النَّكْدُ - بے دودھ والی ادھنیاں - بہت دودھ والی ادھنیاں (معد) واحد نَكَدَاءُ -
النَّكْدُ وَالنَّكْدُ - کم داد و دہش - مَاءُ نَكَدٌ - کم پانی -
الْأَنْكَدُ - کم داد و دہش والا - مُنْثُ نَكَدَاءُ ج - نَكَدٌ - عَطَاءٌ مُنْكَدٌ و مَمْلُودٌ - قَطْرًا عَطِيَةً - رَجُلٌ مَمْلُودٌ - وہ شخص جس سے سوال میں اصرار کیا جائے -
نَكَرَ رَسًا، نَكَرًا و نَكَرًا و نَكَوَسًا و نَكِيرًا - الاصر کسی امر سے ناواقف ہونا - الرَّجُلُ - کسی کو نہ جاننا -
نَكَرَ دَكًا، نَكَارَةً - الاصر - مشکل ہونا دشوار ہونا -
نَكَرَهُ - تبدیل کرنا - نَكَرَ الْإِسْمَ - اسم کو نکرہ بنانا -
نَاكَرَهُ مَنَّاكَرَةً - مقابلہ کرنا - لڑنا - دھوکا دینا -
أَنْكَرَهُ - جاہل ہونا - أَنْكَرَ حَقَّهُ - انکار کرنا - أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ قَحْلَةً - عیب لگانا - منع کرنا -
تَنَكَّرَ الرَّجُلُ - اچھی حالت سے نکل کر بد حال ہونا - بھیس بد لانا - قَلَانٌ - بد خلق ہونا - يَهْلَانُ - اجنبی ہونا -
تَنَّاكَرَ - جان بوجھ کر ناواقف بننا - الْأَصْرُ ناواقف ہونا - الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے اجنبیوں یا دشمنوں کا سا سلوک کرنا
إِسْتَنَّاكَرَ - الْأَصْرَ - کسی امر سے ناواقف ہونا - أَمْرًا يَجْهَلُهُ - نامعلوم امر کے بارے میں پوچھنا -
النَّكَارَةُ - مَم - چالاک - تیز فہمی - جہالت -
النَّكَرُ - مَم - چالاک - تیز فہمی -
النَّكَرُ - مَم - چالاک - سمجھ - ذہانت - بُرَا کام - سخت برا کام - رَجُلٌ نَكِيرٌ و نَكِيرٌ

و نَكَرٌ - چالاک - تیز فہمی - ج - أَنْكَارٌ - النَكَرُ - جموں - سخت کام -
النَّكَرَاءُ - چالاک - تیز فہمی - جموں - ناشناختہ - مصیبت -
نَكَوَاءُ الدَّهْرِ - زمانہ کی سختی -
النَّكِيْرَةُ - انکار - معرفہ کی ضد - خون یا پیپ کا بھوڑا - ج - نَكَوَاتٌ -
النَّكَوْرَةُ - انکار سے اسم -
النَّكِيْرُ - دگرگوئی - أَمْرٌ نَكِيْرٌ - سخت کام - حَصْنٌ نَكِيْرٌ - مضبوط قلعہ -
النَّكُو - مفع - وہ قول یا فعل جو اللہ تعالیٰ کے خلاف مرضی ہو - ج - مُنْكَرَاتٌ و مَنَّاكِرٌ - رَجُلٌ مَمْلُوكٌ - چالاک، بھدوار ج - مُنْكَوْنٌ و مَنَّاكِيْرٌ -
النَّكُوْسُ - مفع - جموں - ج - مَنَّاكِيْرٌ - المَنَّاكِيْرُ - ناپسندیدہ امور -
النَّكِيْرُ - اسم نکرہ - نقيض معرفہ -
نَكَوْنُ دَنًا، نَكَوْرًا - الْحَيَاةُ فَلَانًا - سانپ کا کسی کو ڈسنا - فَلَانًا - مارنا دفع کرنا - بٹانا - الشئ - چھوٹنا -
الدَّائِيَةُ بِعَقِيْبِهِ - جانور کو ایڑے مانکنار - نَكَرًا و نَكَوْرًا، النَّبَاءُ پانی کا زمین میں جذب ہونا - الْبَحْرُ خشک ہونا - الْبَيْتُ - کنویں کا پانی کم ہونا -
نَكِيْرَتُ دَسًا، نَكَوْرًا - الْبَيْتُ - کنویں کے پانی کا کم ہونا یا ختم ہونا -
أَنْكَرَ - الْبَيْتُ - کنویں کے پانی کو ختم کرنا -
النَّاكِيْرُ - فَا - بِنُو نَاكِيْرٌ - وہ کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو - ج - نَوَاكِيْرٌ -
النَّكُوْرُ - رذیل لوگ - طہی میں پچا ہوا گودا - (وَالشُّكِيُّ خَالِي) -
النَّكَارُ - ایک قسم کا چھوٹے سروالاز ہریلا سانپ - ج - نَكَاكِيْرٌ و نَكَاذَاتٌ الْبَيْتُ وَالنَّكُوْرُ - وہ کنواں جس کا پانی

ختم ہو گیا ہو - ج - نَكَوْرٌ - نَكَسَهُ دَنًا، نَكَسًا - اوندھا کرنا - نَكَسَ رَأْسَهُ - ذلت سے سر جھکانا - الطَّعَامُ و غَيْرُهُ دَاءٌ الْمَرِيضِ - کھانے کا مرض کو ٹوٹا دینا - الْخِضَابُ - خضاب بار بار لگانا -
نَكَسَ الْمَرِيضُ - دوبارہ بیمار پڑنا - الرَّجُلُ - کمزور ہونا - عاجز ہونا - الرَّجُلُ عَنْ نَقَطًا يَأْتِيهِ - اپنے ہم عمروں سے کوتاہی کرنا -
نَكَسَهُ تَنَكِيْرًا - اوندھا کرنا - نَكَسَ الْفَرَسُ - گھوڑے کا اور گھوڑوں سے نہ مل سکتا - صفت مُنَكِيْسٌ تَنَكَسَ - اوندھا ہونا -
إِنْتَنَكَسَ - سر کے بن کرنا - دوبارہ بیمار پڑنا -
النَّاكِيْسُ - فَا - سر جھکانے والا - ج - كَوَاكِيْسُ - النُّكَاسُ - بیماری کا عود -
النَّكَسُ - مرض کا عود - گر کر نہ سنبھلنا اور پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ زور سے گزنا - تَعَسَّالَهُ دَنًا و تَسَّعَا لَهُ دَنًا - خدا اس پر مصیبت ڈالے -
النَّكَسُ - ٹوٹے ہوئے سروالازیر - کمان جس میں شلخ کے سرے کو پچھا حصہ بتائیں کمزور کینے بے خیر آدمی - پستہ قد - کم وسخاوت میں کوتاہی کرنے والا - ج -
النُّكَاسُ -
النَّكَسُ - بہت بوڑھے لوگ - مَقْرَدٌ - نَاكِيْسُ - الْمُنْتَكِيْسُ - فَا - آہستہ چلنے والا گھوڑا جو سر نہ اٹھائے - وہ گھوڑا جو اور گھوڑوں سے نہ مل سکے -
النَّكُوْسُ - مفع - دوبارہ بیمار ہونے والا -
مِنَ الْأَوْلَادِ - پائل بچہ -
نَكَشَ دَنًا، نَكَشًا - الْبَيْتُ - کنویں کی مٹی لگانا - الشئ - چیز کو فٹا کرنا -

الشئ و من الشئ - فارغ ہونا۔
 اِنْتَكَشَ - یعنی گکش۔
 المِئْكَش - معاملات میں غور و خوض کرنا۔
 المِئْكَاش - کنواں صاف کرنے کا آلہ۔
 جہ - مَنَّاكِيش۔
 المِئْكَوش - مفع۔ سَقَطَ مِئْكَوشٌ - ڈکرا
 جس میں سب کچھ نکال یا گیا ہو۔
 تَكَّصَ دَنَ مَن، تَكَّصًا وَ تَكْوَصًا وَ
 مَنكَصًا - عَنِ الْأَمْرِ - کسی امر سے
 رُكْنَا - باز رہنا۔ صفت نَاكِصٌ۔
 تَكَّصَ عَلَى عَقِيْبِهِ - پہلے کام سے
 ہٹ گیا۔
 تَكَّصَهُ - ہٹا دینا۔
 اِنْتَكَصَ - الرَّجُلُ - اڑیوں کے بل لوٹنا۔
 المِنكَصُ - بٹنے کی جگہ۔
 تَكَّظَ وَن، تَكَّظًا - بست بھوکا ہونا۔
 فَلَانًا عَنْ حَاجَتِهِ - جلدی کرانا۔
 تَكَّظَ دَس، تَكَّظًا - حاجت میں جلدی
 کرنا۔ اِلْتَهَوُوج - بھٹنے کے لیے جلدی
 کرنا۔ الرَّجُلُ - کوچ قریب ہونا۔
 تَكَّظَهُ - عَنْ حَاجَتِهِ - جلدی کرانا۔
 تَكَّظَهُ حَاجَتَهُ - مشکل بنانا۔
 تَكَّظَ - الرَّجُلُ - سفر میں حالت سخت ہونا
 - عَلَى فُلَانٍ - بھل کرنا۔ الامرُ عَلَيْهِ
 کسی پر کوئی معاملہ مشکل دیکھنا ہونا۔
 التَّكْظُ وَ التَّكْظُ وَ التَّكْظَةُ وَ التَّكْظَةُ
 وَ التَّكْظَةُ - کوشش۔ سفر کی سختی۔
 جلدی۔
 تَكَّظَهُ دَف، تَكَّظًا - عَنِ الْأَمْرِ - جلدی
 کرانا۔ رُكْنَا - فَلَانًا - پاؤں کی پشت
 سے مارتا۔ فَلَانًا حَقَّةً - حق روک
 لینا۔ تَكَّظًا وَ تَكَّظًا، المَاشِيَةُ
 مویشی کے تھن کو مار کر دودھ نکالنا۔
 فُلَانًا عَنْ الْحَاجَةِ - بچنا۔ سستی
 کرنا۔ مَا أَدْرِي أَيْنَ تَكَّظُ - میں

نہیں جانتا۔ وہ کہاں گیا۔
 تَكَّظَ دَس، تَكَّظًا - پھلی ہوئی ناک والا ہونا
 تَكَّظَهُ - عَنْ حَاجَتِهِ - حاجت سے ہٹا
 دینا۔ جلد بازی سے زندگی کو بے مزہ
 کرنا۔
 اِنْتَكَاظَهُ - رُدَّ رُدًّا - دفع کرنا۔ تھکانا۔
 عَنِ الْأَمْرِ - جلدی کرنا۔ ہٹانا۔
 اِنْتَكَاظَهُ بِفَيْتِهِ - مطلب فوت ہو
 گیا۔ تَكَّظَهُ فَا تَكَّظَهُ - اس نے
 کلام کر کے اس کو خاموش کر دیا۔
 التَّكْظُ - سرخی فام۔ پھلی ہوئی ناک والا۔
 التَّكْظُ - سرخ رنگ۔ سرخی مائل سیاہ
 رنگ۔
 تَكَّظَهُ - اللَّائِقُ - ناک کا کنارہ۔
 التَّكَّظَةُ - سرخ رنگ ناک چھدا آدمی۔
 بیوقوف بیٹھ کر جم جانے والا۔
 التَّكَّظَةُ - ناک کا کنارہ۔ ایک سرخ
 رنگ کے درخت کا پھل۔ قناد درخت
 کا گوند۔ انسان کی سرخی مل ہوئی
 سیاہی۔
 اللَّائِقُ - سرخ چہرے والا جس کی ناک
 پھل گئی ہو۔
 المِنكَصُ - بچھے لوٹنے والا۔
 تَكَّظَ دَن، تَكَّظًا - عَنْ كَذَا - ناک بھوں
 بڑھانا۔ رُكْنَا - الگ ہونا۔ صفت
 نَاكِيفٌ - حَيْثُ لَا يُبْكِفُ - لگاتار
 بارش۔ بَخْرًا وَ جَيْشًا لَا يُبْكِفُ -
 بے پایاں سمندر۔ بیشمار فوج۔
 تَكَّظَ دَس، تَكَّظًا - مِثْلُهُ اَوْ عِنْدَهُ - ناک
 بھوں بڑھانا۔ باز رہنا۔ بیزار ہونا۔
 تَكَّظَتِ الْيَدُ - ہاتھ میں درد ہونا۔
 نَاكِفُهُ الْكَلَامُ مَنَّاكِفُهُ - ٹک بہ ترک
 جواب دینا۔
 اِنْتَكَّظَهُ - پاك کرنا۔ دور کرنا۔ اِنْتَكَّظَ
 اللہ - پاك بیان کرنا۔

تَنَّاكَظُو - الكلام - آپس میں باری باری سے
 گفتگو کرنا۔
 اِنْتَكَّظَ - الغَيْبُ - منقطع کرنا۔ القوم
 قوم کا ایک ملک سے دوسرے ملک
 میں جانا۔ ایلو۔ مائل ہونا۔ الرَّجُلُ
 رسی کا کھل جانا۔ الرَّجُلُ - بیزار ہونا۔
 العَرَقُ عَنْ جَيْبِهِ - پیشانی سے
 پسینہ پر پھنا۔
 اِسْتَكَّظَ - الرَّجُلُ - بکھر کرنا۔ مِثْلُ كَذَا
 غرور و تکبر و عمار کی وجہ سے رکتا۔
 باز رہنا۔
 النَّكَافُ - اذنی کے حلق کا ایک مرض جس
 سے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔
 اِنْتَكَّظَ - جبرے کی جڑ میں چھوٹے چھوٹے
 غدود۔ واحد تَكَّظَةُ۔
 التَّكَّظَاتُ وَ التَّكَّظَاتُ - جبرے کی دو
 آگے نکلی ہوئی ٹہریاں۔ جہ۔ تَكَّظَاتُ -
 اِنْتَكَّظَةُ - کان کا درد۔
 السَّكَّوْفُ - مفع۔ نكاف کی بیماری والا۔
 تَكَّظَ دَنَ مَن، تَكَّظًا وَ تَكَّظًا - تَكَّظًا -
 عَنْ كَذَا اَوْ مِنْ كَذَا - پیچھے ہٹنا۔
 بزدل ہونا۔
 تَكَّظَ دَن، تَكَّظًا - بِفُلَانٍ - کسی کو
 عبرت ناک سزا دینا۔
 تَكَّظَ دَس، تَكَّظًا - سزا قبول کرنا۔
 تَكَّظَ - بہ - مصیبت ڈالنا۔ قابل عبرت سزا
 دینا۔ تَكَّظَهُ - عَنِ الشَّيْءِ - باز رکھنا۔
 یکسو کرنا۔
 اِنْتَكَّظَهُ - عَنْهُ - ہٹانا۔ دفع کرنا۔
 التَّكَاظُ - بزدل۔ کمزور۔
 التَّكَاظُ - عبرت ناک سزا۔
 التَّكَاظُ - مضبوط بیڑی۔ جہ۔ اِنْتَكَاظُ وَ
 تَكَّظًا - کلام کا لوہا۔ مارا۔ اِنْتَكَاظُ تَكَّظًا
 قہر۔ وہ شریوں کا تازیانہ ہے۔
 التَّكَاظُ - قوی آدمی۔ ہسرول پر غالب ہونے والا۔

مضبوط سدھا ہوا گھوڑا۔

النَّكَلَةُ - عبرتناک سزا۔

النَّكَلُ - عبرتناک سزا۔

النَّكَلُ - سزا کا سامان۔

النَّكْبَةُ - مصیبت۔

نَكَتَكَ نَكَتًا - الامر۔ کسی امر کی

اصلاح کرنا۔ علی غریبہ۔ قرضدار پر سختی کرنا۔

نَكَتَ رَفْعًا نَكَتًا - يَفْلَانُ وَعَلِيهِ -

کسی کی ناک پر سانس لینا۔ نَكَتَتِ

الشَّمْسُ - سورج کی گرمی کا سخت

ہونا۔

نَكَهَهُ وَنَكَهَتْهُ - دَسَ فَا نَكَهَهَا - مَنْ

کی بوسوں گھننا۔

نَكَهَ الرَّجُلُ - مَنْ كَى بُو كَا بَدْمَعِي كَى وَجْهِ

سے متغیر ہونا۔

اِسْتَنَكَهَهُ - كَى كَى مَن كَى بُو سُو نَكَهَنَا - مَنْ

کی بوسوں گھنے کا حکم دینا۔

النَّكَهَةُ - مَنْ كَى بُو -

نَكَى يَنْكِي نِكَايَةً - الْعَدُوُّ فِي الْعَدَاوَةِ

دشمن پر غالب آکر قتل کرنا یا زخمی کرنا

صفت فاعل (نَاكٍ) صفت مفعول

رَمَيْتُ - الْقُرْحَةُ - زَخْمٌ كَوَا حَمِي

ہونے سے پہلے پھیلتا۔ شکست

نَكَى يَنْكِي نَكَى - كَهَانَا - مَغْلُوبٌ هُونَا -

النُّثْلُ - كَزُورٌ - بُو رَهَا -

نَكَرَ دُنْ ضَا، كَمَثَا - الْحَدِيثُ جِنَلْخُورِي

کرنا۔ الحدیث۔ بات ظاہر ہونا

- بَيْنَ النَّاسِ - بِعْرُ كَانَا - الْكَلَامُ

جھوٹ سے کلام کو زینت دینا۔ الشَّيْءُ

کسی چیز کی خوشبو پھیلنا۔

لِلنَّامِ - فَا - ج - نَمَامٌ -

النَّمَامَةُ - النَّامُ كَا مَوْتٌ - جِسْ حَرَكَةٌ

زندگی۔

النَّمَامُ - ج - جِنَلْخُورِي - ج - نَمُونُ دَا نَمَاوُ

وَنَحْدُ -

النَّمَامُ - جِنَلْخُورِي - اِيكٌ خُوشْبُو دَارِ پُودَه

واحد نَمَامَةٌ -

النَّمَمَةُ - سِيَاهِي مِي سَفِيْدِيَا سَفِيْدِي مِي

سياه داغ۔

النَّمَمَةُ - جُونُ -

النَّبِيْحُ - خِيَانَتٌ - عِيْبٌ - دُشْمَنِي - اِنْسَانُ كَا

جوہر یا اس کی اصل۔ مَا فِي الدَّارِ

نَبِيْحٌ - گھر میں کوئی نہیں۔

النَّبِيْبَةُ - فَاخْتَه - طَبِيْعَتُ

النَّمُوْمُ - جِنَلْخُورِي -

النَّمِيْمَةُ - جِنَلْخُورِي - حَرَكَةٌ

لِكَلْحِي كَى آوَا - كَهَانِي كِفْتُو كَى جِنَبْنَا مِثْ

ج - نَمَائِمٌ -

النَّمَمَةُ - جِنَلْخُورِي

النَّمَمَةُ - جِنَلْخُورِي -

النَّمَمَةُ وَالنَّمَمَةُ - جِنَلْخُورِي - حَرَكَةٌ

نَمَرْدَنُ، نَمَرَا - فِي الْجَبَلِ - پھاٹ پر

پڑھنا۔

نَمَرْدَسُ، نَمَرَا - الرَّجُلُ - غَضَبْنَا كُ وَ

بَدْلَقُ هُونَا - السَّحَابُ - بَادِلُ كَا جِيْنَةُ

کے رنگ کا ہونا۔

نَمَرْدُ وَنَمَرْدُ - غَضَبْنَا كُ وَبَدْلَقُ هُونَا -

نَمَرْدُ وَجَهَهُ تَمِيْرَا - تَرْتُو كُ دِيْنَا -

آنمور۔ صاف پانی پینا۔

تَمَمَرُ - رَنگُ يَا خَلَقُ مِي جِيْتِي كَلْ طَرَحُ هُونَا -

- بِفُلَانٍ - بَكْرُنَا - خَفَا هُونَا - دَهْكِي

دینا۔ دھکی دیتے وقت آواز بلند کرنا

النَّمَامَةُ وَالنَّمَامَةُ - جِنَلْخُورِي - بَحِيْرِيَا وَغِيْرَه شَكَارُ

کرنے کے لیے لوہے کا کاٹنا۔

النَّمَامَةُ - خُونُ -

النَّمَامَةُ وَالنَّمَامَةُ - جِيْتَا - اِسْ كَى

كَيْتُ اَبُو اَلْبُرْدُ يَا اَبُو اَلْاَسْوَدُ

بھی ہے۔ ج۔ آنمور و آنمور و آنمور

وَنَمَامُ وَنَمَامَةُ وَنَمَامُ وَنَمَامَةُ

وَنَمَرُ -

النَّمَسُ - صَافُ سَتْمَرِيَا نِي سَبِيْ دَاغُ حَسْبُ -

بہت۔ مِيْعُ النَّعَايُ - زُوْدُ مَعْنَمُ پَانِي -

ج۔ آنمور۔

النَّمَرَةُ - دَاغُ - ج - نَمَرُ -

النَّمَرَةُ - جِيْتِي كَى مَادَه - اِيكُ دُو سَرِي سِي

طے ہوئے بادل کے چھوٹے چھوٹے

مُكْرَطِي - ج - نَمَرُ -

النَّمَرَةُ - بَحِيْرِي كَى شَكَارُ كَرْنِي كِي لِي لُو هِي

کا ایک کاٹنا جس میں گوشت لگا کر شکار

کرتے ہیں۔ چنگبر رنگ۔ دھاریدار چادر

سياه سفيد دھاریوں والی اون کی چادر

ج۔ نَمَارُ -

النَّمِيْرُ - صَافُ سَتْمَرِيَا نِي - بِيْدَاغُ حَسْبُ -

بہت۔ مِيْعُ المَاعِ - گَوَارَا هُونِي وَالا

پانی خواہ میٹھا ہو یا نہ ہو۔

الْاَنْمَرُ - سِيَاهُ سَفِيْدَاغُ وَالا - مِيْعُ الْجَبَلِ

وَالنَّعْمُ - سِيَاهُ سَفِيْدُ هِيُوْنُ وَالا -

مُخْتَلَفُ رَنگُ كَى بَادِلُ - مَوْتٌ تَمَرَا

ج۔ نَمَرُ -

النَّمْرُوقُ وَالنَّمْرُوقَةُ وَالنَّمْرُوقَةُ وَالنَّمْرُوقَةُ

وَالنَّمْرُوقُ وَالنَّمْرُوقَةُ - جِيْتَا تَكِيَه -

زین کے نیچے ڈالنے کا گھسیلا۔

نَمَسَ دُنْ، نَمَسَا - السِّرُّ - بَحِيْرِيَا جِيْتَا نَا -

الرَّجُلُ - كَى سِي سِي چُكِي چُكِي بَاتِي كَرْنَا -

بَيْنَ الْقَوْمِ - فَاوَدُ النَّهْ -

نَمَسَ دُنْ، نَمَسَا - السِّرُّ - بَحِيْرِيَا جِيْتَا نَا -

طَلِيْبُ وَدُهْنُ - كَهِي يَابِيْلُ وَغِيْرَه كَا

خَرَابُ هُونَا - صِفَتُ نَمَسُ -

نَمَسَ - عَلِيَهُ الْاَمْرُ - حَلَطُ مَلَطُ كَرْنَا -

جِيْتَا نَا - السَّعْرُ - بَالُو كَا جِيْتَا نَا سِي

مِيْلَا هُونَا - السَّمْنُ اَوِ الْجَمِيْنُ - كَهِي

يَا نَمِيْرَا بَدُو دَارِ هُونَا - صِفَتُ نَمَسُ -

نَامَسَ مَنَامَسَةً - الصَّيْدُ - شَكَارِي كَا

گھات میں بیٹھا۔ فلاں۔ مرگوشی کرنا۔

<p>اس کے پاس علم کی کوئی قسم نہیں۔ الانمط۔ طریقہ۔ الانمط۔ پھاڑ کی چوٹی۔ مال کی زیادتی۔ قوم کا بہترین حصہ۔ انماغة۔ سر کا بالائی حصہ۔ بچہ کا نرم حرکت کرتا ہوا تالو یا چنڈیا۔ نمق دن، نمقا۔ عین فلان۔ آنکھ پر تھپڑ مارنا۔ الکتاب۔ کتاب لکھنا۔ نمق الکتاب۔ کتاب کو خوبصورت لکھنا۔ الجلد۔ کھال کو منقش کرنا۔ انمقث۔ النخلة۔ درخت خرما کے یے گھٹلی کھروں والا ہونا۔ انمق۔ کتاب۔ برک کا درمیانی حصہ۔ انمقة۔ بدبو۔ ثوب نمیق و منمق۔ منقش کپڑا۔ انمق۔ بناوٹی گفتگو۔ نمل دن، نمل دنمیل دس، نمل و انمل۔ چنلی کھانا۔ نمل و نمل۔ فی الشجر۔ درخت پر چڑھنا۔ نملت دس، نمل۔ یدک۔ ہاتھ کا سُن ہونا۔ تتمل۔ القوم۔ حرکت کرنا۔ بعض کا بعض میں گھستا۔ النامل۔ فاعل۔ چغلمور۔ الناملۃ۔ عام چلتا ہوا راستہ۔ النمل والنمل۔ چوٹی۔ واحد نملۃ و نملۃ مذکر و مؤنث، ج۔ نمل۔ النمل۔ پہلو کی پھنسیاں۔ النمل۔ چغلمور۔ بہت چوٹیوں والی جگہ۔ قرس نمل او نمل القوائس۔ شوخ گھوڑا۔ جو پھلانہ کھڑا ہو۔ رجل نیل او نمل الاصابہ۔ پھرتیلا آدمی۔ النملۃ۔ جھوٹ۔ جانور کے کھر کی پھن۔ پہلو کی پھنسیاں۔ ایک سوزش وار پھنسی جو جگہ بدلتی رہتی ہے۔</p>	<p>الانمش۔ داغدار۔ دھاریدار۔ مؤنث نمشا۔ ج۔ نمش۔ رجل نمش۔ مفسد آدمی۔ نمسن دن، نمسا۔ الشعر والنبت۔ بال یا نبات اکھیرنا۔ نمسن تميمضا دنمسا۔ الشعر۔ بال اکھیرنا۔ انمسن۔ النبات۔ نباتات کا جانور کے چرنے کے بعد دوبارہ اگنا۔ تتمصت۔ الماشية۔ مویشی کا پہلی سبزی چرنا۔ عورت کا پیشانی کے بال اکھیرنے کے لیے پکڑنا۔ انمصاص۔ سوئی کا دھاگا۔ انمصاص۔ مینہ۔ ج۔ نمص والنمصتہ۔ انمص۔ نرم و ملائم بال۔ چھوٹے چھوٹے پر۔ ابتدائی نباتات۔ ایک قسم کی نرم گھاس جس سے سرپوش وغیرہ بناتے ہیں۔ النميص۔ اکھیرے ہوئے بال۔ من النبت۔ سبزی جو مویشی کے چرنے کے بعد پھوٹے۔ الينمص والينمصاص۔ موچنا۔ نمط تميمطا۔ بفلان الشئ و علی الشيء۔ رہنمائی کرنا۔ انمط۔ لہ العطاء کسی کو عورتی بخش دینا۔ النمط۔ غالیچہ۔ ڈکے کے مانند ایک طرف۔ طریقہ، راستہ۔ نوع۔ روش زمین پر ڈالنے کا کپڑا۔ صوف کا کپڑا جو ہودج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انمط و نمط۔ نسبت کے لیے انماطی و نمطی۔ لوگوں کی جماعت جن کا معاملہ ایک ہو۔ علی هذا النمط۔ اس طریقہ پر۔ هذا علی نمط و اچلا۔ وہ ایک ہی قسم کے ہیں۔ ما عندہ نمط من العلم۔</p>	<p>انمش۔ بین القوم۔ قوم میں فساد ڈالنا۔ تتمس۔ ارامر۔ کام کا خلط ملط ہونا۔ لمتبس ہونا۔ انمش انمسا۔ الرجل۔ چھینا۔ فی الشيء۔ داخل ہونا۔ النموس۔ رازدار۔ وحی۔ حاذق۔ جھوٹا چغلمور۔ فکار کی گھات کی جگہ (مالا، راہب کا گھر۔ شکاری کا جال۔ دھوکا فریب۔ خفیہ جیل۔ چوٹی کی طرح کا ایک کپڑا۔ شیر کی جھاڑی۔ ج۔ نوامیس۔ الناموس۔ شریعت۔ الناموس الاکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام۔ الناموسۃ۔ شیر کی جھاڑی۔ النمیس۔ نیولا۔ النمش۔ گھی و خوشبود وغیرہ کی خرابی۔ النمسة۔ بدبو۔ انمصاص۔ چغلمور۔ الانمش۔ ٹیالا۔ مؤنث نمسا۔ ج۔ نمس المتامیس۔ سرگوشی کرنے والا۔ گھات کی جگہ میں داخل ہونے والا۔ نمش دن، نمشا۔ چنلی کھانا۔ جھوٹ بولنا۔ اکلام۔ جھوٹی بات بنانا۔ الجواد الارض۔ ٹیڈی کا زمین کی سبزی کو چرانا۔ نمشۃ رض نمشا۔ منقش کرنا۔ نمش رس، نمشا۔ دھاریدار ہونا۔ صفت انمش و نمش۔ نقش۔ فی اذیہ۔ کاتا بھوسی کرنا۔ انمش۔ الرجل۔ چغلمور کرنا۔ انمش بینھم۔ فساد ڈالنا۔ انمش۔ مع۔ چکنی چٹری بات۔ انمش۔ مع۔ داغ۔ دھاری نقش و نگار کے خطوط۔ انمش۔ دھاریدار۔ جو ہر دار تلوار۔</p>
--	--	--

الْمُتَهَبِّ - گھوڑ روڈ میں سبقت لے جانے والا گھوڑا۔

الْمُنْتَهَب - لوٹ - لوٹنے کی جگہ۔

التَّهَابِيرُ وَالتَّهَابِيرُ - ہلاکتیں۔ زمین یا ریت کے ابھرے ہوئے مقامات۔

بعض کے نزدیک ٹیلوں کے درمیان

کے گڑھے۔ واحد تَهَابِيرَةٌ وَتَهَابِيرٌ وَ

تَهَابِيرَةٌ - التَّهَابِيرُ - جہنم۔

التَّهَابِيرَةُ - لمبی دہلی عورت یا وہ جو ہلاکت

کے قریب ہو۔

تَهَبَّلَ - الرَّجُلُ - عمر رسیدہ ہونا۔ لنگڑا

ہونا۔

التَّهَبَّلُ - عمر رسیدہ۔

التَّهَبُّلَةُ - بوجھل چال۔ موٹی ادٹنی۔

تَهَتَّ دَضٌّ، تَهَاتَا وَتَهَيْتَا - شیر کا دھاڑنا۔

گدھے کا رینگنا۔ آدمی کا روننا۔

التَّاهِتُ - تَا - ملن۔

التَّهَاتُ - رینگنے والا وَالتَّهَاتُ - شیر۔

تَهَتَّرَ - فَلَانٌ فَلَيْتَا - جھوٹ بولنا۔

تَهَجَّ رَضٌ، وَتَهَجَّ تَهَجًّا - الرَّجُلُ -

ناپتنا۔

تَهَجَّ رَفَنٌ، تَهَجًّا - الثَّوْبُ - کپڑے کا

بوسیدہ ہونا۔ صفت تَهَجُّجٌ -

تَهَجَّ رَفَنٌ، تَهَجًّا - الثَّوْبُ - کپڑے کو

بوسیدہ کرنا۔ الْأَمْرُ - واضح کرنا۔

ظاہر کرنا۔ الطَّرِيقُ - راستہ چلنا۔

تَهَجَّ رَفَنٌ، تَهَجًّا وَتَهَجًّا - الطَّرِيقُ -

او الْأَمْرُ - واضح ہونا۔

أَتَهَجَّ - الطَّرِيقُ - الطَّرِيقُ - واضح اور

ظاہر ہونا۔ الطَّرِيقُ - الطَّرِيقُ - واضح اور

ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔ الدَّابَّةُ -

جالور پر سواری لے کر اس کا سانس

چڑھانا۔ فَلَانًا - کسی کا سانس چڑھانا

- الثَّوْبُ - کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔

الثَّوْبُ - کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

لَا تَهَجَّجَ - الرَّجُلُ - چلتا یا واضح راستہ

تلاش کرتا۔ الطَّرِيقُ - راستہ کو

ظاہر کرنا۔

اسْتَهَجَّجَ - الطَّرِيقُ - راستہ کا واضح ہونا

فَلَانٌ سَبِيلٌ فَلَانٌ - وہ فلاں کے

مسک پر چلا۔ اس کا پیرو ہوا۔

التَّهَجُّجُ - واضح راستہ۔

تَهَجُّجُ الْبَلَاغَةُ - بلاغت کا واضح طریقہ۔

حضرت علیؑ کے خطبات و نصائح کا

مجموعہ۔

التَّهَجُّجُ وَالتَّهَجُّجُ - ہاپتنا۔

الْمَتَهَجُّجُ وَالْمَتَهَجُّجُ - واضح

راستہ۔ ج۔ مَتَاهُجٌّ -

الْمَتَهَجُّجُ - جلد بوسیدہ ہونے والا کپڑا۔

تَهَدَّرَفَنٌ، تَهَوَّدًا - الثَّدَائِي - پستان

کا ابھرنا۔ تَهَدَّتِ الْمَرْأَةُ - عورت

کا ابھرے ہوئے پستانوں والا ہونا۔

صَفَتْ نَاهِدًا وَنَاهِدَةً - الْقَرِيْبَةُ

مشک کا بھرنے کے قریب ہونا۔

تَهَدَّدَ اذْتَهَدًّا - لِلْعَدُوِّ وَارِيحِي

الْعَدُوِّ - دشمن پر جلدی حملہ کرنا۔

الْعَدِيَّةُ - ہدیہ کو بڑا سمجھنا یا بڑا

کرتا

تَهَدَّدَ رَفَنٌ، تَهَدَّدًا - اَطْمَأَنَّهُ - اَلِيَهُ - کھڑا ہونا

تَهَدَّدَكَ، تَهَوَّدًا - الْفَرَسُ - گھوڑے

کا عمدہ اور مضبوط ہونا۔

نَاهِدًا مَتَاهِدَةً - لِرَاثِيٍّ فِي مَقَابِلِهِ كَرْنَا -

أَتَهَدَّدَ - الْعَطِيَّةُ - بخشش کو بڑھانا۔

الْحَوْضُ - اَوِ الْاِنَاءِ - حَوْضٌ يَابِرْتَنٌ كُو

لِبَابِ بَهْرَنَا - فَلَانًا - اَطْمَأَنَّا -

تَهَدَّدَ - الرَّجُلُ - ٹھنڈا سانس بھرنا۔

عورت کی چھاتی کا ابھرنا۔

تَنَاهَدَ الْقَوْمُ - غلہ خریدنے کے لیے

لوگوں کا برابر نفقہ نکالنا۔ اور جو

نفقہ نکالا جلے وہ تَهَدَّدَ ہے۔

تَنَاهَدَ الْقَوْمَ الشَّيْءَ - آپس میں کسی

چیز کی لین دین کرنا۔ تَنَاهَدُوا

فِي الْحَرْبِ - لِرَاثِيٍّ فِي اَبَدٍ دُورَةٍ

پرحملہ کرنا۔

لَا سَتَهَدَّكَ - لِرَاثِيٍّ پُرَاكْسَانَا -

النَّاهِدُ - فَا ج - تَهَدَّدَ اءُ وَتَهَدَّدَا - اَطْمَأَنَّهُ

ہوئے پستانوں والی عورت۔ ج۔ تَوَاهِدًا -

النَّاهِدُ بِشِيرٍ - غَلَامٌ نَاهِدًا - بَلُوغٌ

کے قریب پہنچنے والا لڑکا۔

النَّهَادُ - مَقْدَارٌ - اِنْدَازَةٌ -

النَّهْدُ - مَمٌ - بَلَدٌ جَزِيْرٌ - شِيْرٌ - شَرِيْفٌ - اَدْمِي -

مضبوط عمدہ گھوڑا۔ مَسْكٌ - پَسْتَانٌ -

ج۔ تَهَوَّدٌ -

الْتَهَدُّ - اَبْرَارٌ كَا حَصْرٌ - جَوْسُفُ كَيْ سَا تَهْتِي

خَرْجٌ كَيْ لِيْمَةٌ جَمْعٌ كَرِيْمٌ -

النَّهْدَاءُ - بَلَدٌ رِيْتٌ كَا طِيْلَةٌ - حَوْضٌ اَوْ

اِنَاءٌ تَهَدَّتْ اَنْ - بَهْرٌ اَوْ حَوْضٌ يَابِرْتَنٌ

جُو جھلکے نہیں۔

النَّهْيِدُ - كَا لَهَا كَهْنٌ -

النَّهْيِدَةُ - كَا لَهَا كَهْنٌ -

الْمَتَهَوَّدُ - اَلِيَهُ - قَصْدٌ كَيْ اَبْوَا -

الْمَتَاهِدَةُ - مَمٌ - مَخَاصِمٌ -

تَهَرَّرَفَ، تَهَرَّرًا - الدَّمُ - خُونٌ كَا نُوْرَسٌ

بَهْتَا - الْمَاءُ - پَانِي كَا زَمِيْنٌ پَرِبَهُ كَرِيْمٌ

لِيْمَةٌ نَهْرِيْنَا لِيْمَا - النَّهْرُ - نَهْرٌ كَهْوَدٌ كَرِيْمٌ

كُرْنَا - السَّائِلُ - سَائِلٌ كُو جَهْرٌ كُرْنَا -

وَتَهَرَّرَسَ، تَهَرَّرًا الْخَافِرُ - كَهْوَدٌ

كُرِيْمَانِي تَكُ بَرِيْحٌ جَانَا -

اَتَهَرَّرَ - اَتَهَرَّرَ - نَهْرٌ كُو وَسِيْحٌ كُرْنَا - نِيْرَةٌ كَيْ رَحْمٌ

كَيْ لِيْمَةٌ اَتَا اَبُو - الدَّمُ - خُونٌ بَهْتَانَا

- الدَّمُ - خُونٌ كَا بَهْتَا - الْعَرَقُ - رِگ

كَا خُونٌ نَهْرٌ كُرْنَا - فَلَانٌ - بَهْلَانِي نَهْرٌ پَانَا

- فِي الْعَدُوِّ - دُوْرَةٌ فِي سَمْتٍ بَهْتَانَا

تَاخِيْرٌ كُرْنَا - الرَّجُلُ - دِنٌ كُرْنَا - الْبَطْنُ

پِيْٹ چلنا۔ الْخَافِرُ - كَهْوَدٌ نَهْرٌ كُرْنَا

کا پانی تک پہنچنا۔
 اِنْتَهَوِ السَّائِلِ سائل کو چھڑکنا۔ العَرَقِ
 رگ کا خون نہ رکنا۔ بَطْنَةُ پیت
 چلنا۔
 اِسْتَهْوَى النُّهْرُ دریا کا اپنے بنے کے
 لیے جگہ بتالینا۔ الشَّيْءُ وسیع ہونا۔
 النَّاهِرُ ذاب سفید انگور۔
 النَّهَارُ دن۔ سورج نکلنے سے غروب
 تک کا وقت یا صبح صادق سے لے کر
 غروب آفتاب تک کا وقت جو شرعی دن
 شمار ہوتا ہے۔ ج۔ اَنْهَرُوْكُمْ
 النَّهَارُ قطا کا بچہ۔ زُتُوْا زرخاب۔ ج۔
 اَنْهَرُوْكُمْ
 النَّهَارِيَّ وہ کھانا جو شروع دن میں کھایا
 جائے۔ تاشتہ۔
 النَّهْرُ ندی۔ دریا۔ ج۔ اَنْهَرُوْا نَهَارًا
 وَنَهْرًا وَنَهْرًا
 النَّهْرُ گنجائش۔
 النَّهْرُ سفید انگور۔ نَهْرٌ نَهْرٌ چوڑی نہر
 نَهَارٌ نَهْرٌ روشن دن۔ مَا وَفِيْهِ
 بہت پانی۔
 النَّهْيُ بہت۔
 النَّهْيَةُ بہت دودھ دینے والی ادنیٰ۔
 الْاَنْهَرُ اسم تفضیل۔ نَهَارٌ اَنْهَرُ بہت
 چکیلا دن۔
 الْاَنْهَرَانُ چاند کی منزلوں میں عَوَاو
 اور سماں ستارے۔
 النَّاهُوْرُ بادل۔ الْمُنْهَرُ دریا کے پانی
 کے چلنے کی جگہ۔ قلعہ سے باہر پانی
 نکلنے کی نالی۔
 الْمُنْهَرَةُ کوٹا کوٹ ڈالنے ڈالنے کی جگہ گھرا
 نَهْرٌ دَفٌّ نَهْرًا دفع کرنا اور ماننا۔ سر
 بلانا۔ چیرکا نزدیک آنا۔ چیز لینے کے
 لیے کسی کا اٹھنا۔ بچہ کا ماں کے حق
 پر کھارنا۔ الدَابَّةُ جانور کا چلنے

میں سینہ نکال کر چلنا۔ الدَّابَّةُ
 پدیا بھگا۔ جانور کا حفاظت کے لیے
 سر اٹھانا۔ بچہ جب دودھ چھڑانے کی
 دت کے قریب پہنچتا ہے تو کہتے ہیں۔
 نَهَرَ لِلفِطَامِ صفت مذکر دناہنی
 صفت مؤنث تَاهِرَةٌ۔ بِاللَّذِي فِي
 الْبَيْتِ کنویں میں ڈول بلانا تاکر وہ
 پانی سے بھر جائے۔ الدَّالُوْمِيْنَ الْبَيْتِ
 ڈول کنویں سے نکالنا۔ قَيْتًا۔ پِيب
 پھینکا۔ نَهَرَ نَحْيٌ اِلَيْكَ حَاجَةٌ مجھے
 ضرورت تمہارے پاس لائی۔
 نَاهِرَةٌ مِّنْ نَّاهِرَةٍ۔ نزدیک آنا۔ نَاهِرٌ
 الْخَمْسِيْنَ۔ وہ پچاس کے قریب پہنچا
 نَاهِرٌ الصَّيْدِ۔ شکار کو جا پکڑنا۔
 الْفُرْصَةُ فرصت غنیمت سمجھنا۔
 اَنْهَرَةٌ۔ دفع کرنا۔ اَلطَّانَا۔
 تَنَاهَرًا۔ باہر بھگت لے جانے میں مقابلہ کرنا۔
 اِنْتَهَرَ۔ الْفُرْصَةَ۔ فرصت کو غنیمت
 جاننا اور جلدی سے اٹھنا۔ الشَّيْءُ۔
 چیز کو قبل کرنا اور لینے کے لیے شتابی
 کرنا۔ فِي الْفِطَامِ بہت ہنسنا۔
 النَّاهِرُ ذاب۔ نَاهِرُ الْقَوْمِ قوم کا سردار۔
 النَّهَارُ وَالنَّهَارُ مقدار۔ هَذَا نَهَارٌ ذَلِكَ
 یہ اس کے اندازے کا ہے۔
 النَّهْرُ ہاتھ میں لینا۔ لینے کے لیے اٹھنا۔
 النَّهَارُ سینه نکال کر چلنے والا گدھا۔
 النَّهْرُ شیر۔
 النَّهْرَةُ۔ فرصت۔ ج۔ نَهْرٌ۔ مَنَهْرٌ
 الْبَيْتِ۔ کنویں کا من۔
 الْمُنَاهِرَةُ۔ مسابقت۔
 نَهَسَ رِيٌّ وَنَهَسَ رَسٌ، نَهَسًا۔ اللِّحْمُ
 اگلے دانتوں سے گوشت نوچنا۔
 نَهَسَةُ الْحَبِيْبَةِ۔ سانپ کا کسی کو
 ڈنسا۔ نَهَسَ كَلْبٌ فُلَانًا۔ کتے کا

اِنْتَهَسَ۔ اگلے دانتوں سے گوشت نوچنا۔
 غیبت کرنا۔
 النَّهَسُ وَالنَّهَسُ۔ ایک قسم کا شکاری
 پرندہ۔ ج۔ نَهَسَانُ۔
 النَّهَسُ وَالنَّهَسُ وَالْمَنْهَسُ وَالْمَنْهَسُ
 دانتوں سے بہت گوشت کاٹنے والا۔
 شِيزٌ بھیر یا۔
 الْمَنْهَسُ۔ کاٹنے کی جگہ۔
 النَّهْيَسُ۔ دہلا۔ کم گوشت والا۔
 الْمَنْهَسُ مَنَعٌ۔ مفعول۔ کم گوشت والا۔
 نَهَسَتْ رِيٌّ نَهَسًا۔ اگلے دانتوں سے گوشت
 نوچنا۔ سانپ کا ڈنسا۔ زمانہ کا انسان کو
 مصیبت زدہ اور مفلس بتانا۔
 نَهَسَتْ وَانْتَهَسَتْ۔ اعضا کا لاغر و دہلا ہونا
 النَّهَائِشُ۔ مظالم۔ كَيْشُ الْيَدِيْنَ وَ
 الْقَوَائِيْرِ۔ ہاتھ پاؤں کا پھرتیلا۔
 الْمَنْهَشُ۔ طمع۔ مصیبت زدہ۔ دُبلَا۔
 نَهَسَ الرَّجُلُ۔ بوڑھا ہونا۔ دانتوں سے
 کاٹنا۔ حرص سے کھانا۔
 النَّهَسُ بھیر یا۔ شکار۔ بوڑھا قوت۔ مؤنث
 نَهَسَتْ
 نَهَسَتْ رِيٌّ نَهَسًا وَنَهَسًا۔ کھڑا ہونا۔
 هُنَّ مَكَانُهُ۔ اپنی جگہ سے اٹھنا۔ اِلَى
 عَدُوِّهِ۔ دشمن پر تیزی سے حملہ کرتا۔
 التَّبِيْتُ۔ پودہ کا سیدھا کھڑا ہونا۔ الْاَمْسِ
 کام کے لیے مستعد ہونا۔ الْعَاثِرُ۔ پرندہ کا
 اڑنے کے لیے پر پھیلاتا۔ (ر۔ نَهَسًا)
 فَلَانًا ظلم کرنا۔ الْغَيْبُ فِي النَّجَابِ
 بلحاظ اجلہ شروع ہونا۔
 نَهَسٌ۔ مقابلہ پر کھڑا ہونا۔
 اَنْهَسَهُ۔ کھڑا کرنے کے لیے بلانا۔ ہوا کا
 بادلوں کو چلانا۔
 تَنَاهَسُوا اِلَى الْحَرَبِ۔ ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔
 اِنْتَهَسَ۔ کھڑا ہونا۔ فَلَانًا الْاَمْسِ۔ کسی کو کام
 کے لیے کھڑا کرنا۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا لڑنے

کے لیے کھڑا ہونا۔

اِسْتَهَضَتْهُ لِكَذَا۔ کسی کام کے لیے اٹھانا۔

النَّاهِضُ نَهًا۔ اڑنے کے قابل چوڑھ۔ حیست

مزدور۔ گھوڑے کے بازو کے اوپر کا گوشت

مَكَانٌ نَاهِضٌ۔ بلند جگہ۔

نَاهِضَةُ الرَّجُلِ۔ انسان کے باپ کی اولاد اور

اس کے خادم وغیرہ۔ جر۔ تو اھض۔

النِّهَاضُ۔ مِنَ الطُّلُوعِ۔ دشوار راستے۔

النِّهَاضُ۔ مُرْعَتٌ۔

النَّهْضُ مِمَّ۔ اونٹ کے ٹونڈھے اور کندھے

کے دوہین کا حصہ۔ تا انصافی۔ سخت

زمین۔

النَّهْضَةُ طَاقَةٌ۔ قابلیت۔ زمین کی چڑھائی

جر۔ نھاض۔

تَهَضُّوْا رُفَّ تَهْطًا۔ بالذبح۔ نیزے سے مارنا۔

تَهَفَّ رُفًّا تَهْفًا۔ الرَّجُلُ۔ حیران ہونا۔

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

تَهَقَّ رُفًّا رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا وَتَهَقَّ رُفًّا

فَلَانُ الشَّرَابِ۔ ختم کرنا۔

تَهَكَّ تَهْكًا۔ لاغر اور دہلا ہونا۔ صفت

تَهْكُوكٌ۔

تَهَكَّ رُفًّا تَهْكًا۔ دلیر و بہادر ہونا۔

أَهْكَةٌ۔ سخت مزادینا۔

إِنْتَهَكْتُهُ الْحُمْلَى۔ لاغر و دہلا کرنا۔

إِنْتَهَكْتُ۔ فَلَانُ الْحُرَامَةِ۔ اپنے پال چلن کو

خراب کرنا۔ الشَّيْءُ۔ بے عزتی کرنا۔

فَلَانٌ آبروریزی کرنا۔

النَّاهِكُ نَهًا۔ ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔

النَّهْكُ مِمَّ۔ بحر جز کے دوثلت حذف کرنا

بقیہ کو منھوک کہتے ہیں۔

النَّهْكَةُ۔ بیماری کی کمزوری

النَّهْكُوكٌ۔ بہادر۔ دلیر۔

النَّهْيَكُ۔ تمام چیزوں میں مبالغہ کرنے والا۔

بہادر، مضبوط اونٹ۔ شمشیر براں۔ اچھے

خلق والا۔

تَهَلَّتْ رُفًّا تَهَلًّا وَمَتَهَلًّا۔ الإِبِلُ۔ پہلی بار

کلبینا۔ پیاسا ہونا۔

أَهَّلَ الإِبِلَ۔ اونٹ کو پہلی بار پانی پلانا۔

القَوْمُ۔ قوم کے اونٹوں کا پہلی بار پانی پینا

أَهَّلُوا أَرْعَامَهُمْ۔ کھیتی کو پہلی دفعہ سیراب کرنا

أَهَّلَ فَلَانٌ غَضْبَانَكَ کرنا۔

النَّاهِلُ نَهًا۔ سیراب۔ پیاسا جر۔ تَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ وَتَهَلُّ

النَّهْضُ لَهَاظٌ۔ چشمہ۔ پینا۔ راستہ پر پانی

پینے کی جگہ۔ جر۔ مَنَاهِلٌ۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا وَتَهْطًا وَتَهْطًا۔ الإِبِلُ

اونٹوں کو چلا کر سختی سے ہانکنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ بہت کھانا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا وَتَهْطًا۔ الفَيْلُ۔ ہاتھی کا

چنگھاڑنا۔

تَهْمَمْتُ رُفًّا وَتَهْمَمْتُ رُفًّا تَهْمَمَةً۔ فِي الأَكْلِ۔

کھانے میں حریص ہونا۔ فَلَانٌ فِي الشَّيْءِ۔

مشتاق ہونا۔ نَاهِمَةٌ مَنَاهِمَةٌ۔ ساتھ

مل کر ٹھنڈا سانس بھرنا۔

إِنْتَهَمْتُ۔ جھڑکی کھانا۔

النَّاهِمَةُ۔ فَا۔ چلانے والا۔

النِّهَامُ۔ لُوبَارٌ۔ بڑھی۔

النِّهَامُ۔ أُو۔ رَاہِبٌ۔ جر۔ نَهْمٌ۔

النِّهَامِيُّ۔ لُوبَارٌ۔ بڑھی۔

النِّهَامِيُّ وَالنِّهَامِيُّ۔ رَاہِبٌ۔ بہوار راستہ۔

النِّهَامِيُّ وَالنِّهَامِيُّ۔ حَرِيصٌ۔ پیٹو۔

النِّهَامَةُ مِمَّ۔ حَاجَتٌ۔ سخت خواہش۔

النِّهَامُ۔ شِيْرٌ وَاضِعٌ رَاسَتَهُ كَالْبَيْحِ۔

النِّهَامَةُ۔ مُؤْنَتٌ النِّهَامُ۔ شِيْرٌ۔

النِّهَامُ۔ طَانَةٌ پَرَسِيٌّ هُوَ الأَدْنَى۔ جَرْمَانِيَهُمُ

النِّهَامِيُّ۔ مَفْعٌ۔ حَرِيصٌ بِمَشَاقِقِ وَفَرِيْفَةٍ۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

تَهَضُّوْا رُفًّا تَهْطًا تَهْطًا۔ رَدْنَا۔ ڈانٹنا۔

فَعَمَّتْكَ مِنْ امْرَأَةٍ . وہ عورت تیرے لیے کافی ہے ۔
 نَهَى نَهْيًا نَهْيًا . عن الحاجة . حاجت چھڑو دینا
 نَهْوًا يَنْهَوْنَ نَهْوًا نَهْوًا . بت ذہین ہونا ۔ کامل
 العقل ہونا ۔
 نَهَى . الشئ . چیز کا نہایت تک پہنچانا ۔ اَلْبَيْتِ
 الْخَبَرِ . خبر کسی تک پہنچانا ۔
 اَنْهَى اَنْهَاءً . الشئ . پہنچانا ۔ اَلْأَمْرَ إِلَى
 الْحَاكِمِ . اطلاع دینا ۔ اَنْهَى الرَّجُلُ
 مِنَ الْمَحْمِ . اکتفا کرنا اور آسودہ ہونا ۔
 تَنَاهَى تَنَاهِيًا . عن الشئ . رکنا ۔ الْقَوْمُ
 بَعْضُ كَالْبَعْضِ كَوْرُكُنَا . الشئ . انتہا کو
 پہنچانا ۔ الْمَاءُ . پانی کا تالاب میں ٹھہرنا ۔
 اَنْتَهَى اَنْتِهَاءً . الشئ . نہایت تک پہنچانا
 - عَنِ الشئ رُكْنَا - اَلَيْتِكَ الْخَبْرُ
 پہنچانا ۔ بَغْلَانٍ إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا -
 پہنچانا ۔
 اِسْتَنْهَأَ اِسْتِنْهَاءً . باز رہنے کے
 لیے کہنا ۔
 اَلنَّاهِي . نَا . ج . نَهَاةً . پیٹ بھرا ۔ سیراب
 کہتے ہیں نَاهِيَتِكَ بِزَيْدٍ قَارِيًا ۔ نید
 تمہارے لیے شہسوار کافی ہے تعجب
 اور استفہام کے موقع پر برتتے ہیں ۔ نیز
 کہتے ہیں ۔ هَذَا رَجُلٌ نَاهِيَةٌ مِنْ
 رَجُلٍ ۔ یہ آدمی تمہارے لیے فلاں آدمی
 سے کافی ہے ۔ ج . كَوَا .
 اِنْتِهَاءً . چیز کی غایت و آخر ۔ مِثْنِ اِنْتِهَارٍ
 وَالْمَا . دن اور پانی کی چٹوڑھائی ۔
 اِنْدَاةً . مقدار ۔ کہتے ہیں ۔ هُنْدُ نَهْيًا
 مِثْلًا ۔ وہ تنو کے قریب ہیں ۔
 اِنْتِهَاءً . پانی کی چٹوڑھائی ۔ شیشہ کی صراحی ۔
 - اِنْتِهَائِيَّةً . چیز کی غایت و آخری حد
 یا حد ۔ ج . نَهَايَاتُ - نَهَايَاتُ
 اَلدَّارِ . گھر کے حدود ۔
 اَلنَّهْيُ . مہم ۔ نحو یوں کے نزدیک طلب

ترک فعل ۔ مانعت ۔
 اَلنَّهْيُ وَالنَّهْيُ . تالاب ۔ ج . اَللَّهُ دَاخِعًا
 دَعِيًّا وَنَهَاءً ۔
 اَلنَّهْيُ وَالنَّهْيُ . کامل العقل ۔ ج . نَهْوُونَ
 وَنَهْوُونَ ۔
 اِنْتِهَى شَيْئًا ۔
 اَلنَّهْيُ . اِنْتِهَائِيَّةً كِي مَع . عقل ۔
 اَلنَّهْيِيَّةُ . اسم ہے نہی سے ۔ چیز کی غایت
 اور اس کا آخر ۔ مِخْ كِي مَرَّةً كَالسُّورِ اَخ
 عقل ۔ ج . نَهْيُ . نَا قَةً نَهْيِيَّةً ۔
 اِنْتِهَى مَوْلَى اِدْنِي .
 اَلنَّهْوُ . منع کرنے والا ۔ اَلْأَمْرُ كَالْمَنْدِ
 یعنی امر کرنے والا ۔
 اَلنَّهْيُ . اِنْتِهَادِ رَجُلٍ كَامِلًا ۔ رَجُلٌ نَهْيٌ ۔
 کامل العقل آدمی ۔ ج . اِنْتِهَاءً ۔
 اَلنَّهْيَاتُ وَالنَّهْيِيَّةُ . مِنَ الْوَادِي .
 وادی کا آخری کنارہ ۔ ج . تَنَاهَاةً ۔
 اَلنَّهْيَاتُ . سیلاب کی روک ۔ مَنَاهِي
 الشُّرْعِ . شریعت کے ممنوعات ۔
 اَلْمَنْهَاتُ . نہایت عقل ۔ رَجُلٌ مَنَهَاتٌ ۔
 عقل مندا چھی رائے والا آدمی ۔
 اَلْمَنْتَهَى . نہایت ۔
 نَاءٌ يَنْوُؤُ نَوَاءً اِدْتِنَاءً ۔ مشقت و
 تکلیف سے اٹھنا ۔ گزنا ۔ بِالْحَمَلِ ۔
 بوجھ کو مشکل سے اٹھانا ۔ بِوَالْحَمَلِ
 بوجھل کرنا ۔ جھکانا ۔ اَلنَّجْمُ مَغْرِبُ
 میں ایک ستارہ کا غروب ہونا اور اسی
 وقت دوسرے ستارے کا مشرق میں
 طلوع کرنا ۔
 نَاوَاةٌ مَنَاوَاةٌ نَوَاءً . فخر کرنا ۔ مقابلہ
 کرنا ۔ وَشَمِيٌّ كَرْنَا ۔
 اِنْتِهَاءُ اِنْتِهَاءً ۔ اَلْحَمَلُ ۔ بوجھل کرنا ۔ جھکانا
 اِسْتِنَاءُ اِسْتِنَاءً ۔ اَلنَّجْمُ بِمَعْنَى نَاءً ۔
 فلاں کسی سے عطیہ مانگنا ۔
 اَلنَّوَاءُ ۔ مہم ۔ ستارہ جو غروب کر رہا ہو اور دوسرا

اس کا مقابل طلوع کر رہا ہو ۔ بارش بخشش
 ج . اَلْوَاءُ وَ اَلْوَانُ وَ اَلْوَاءُ ۔
 اَلنَّوَاءُ . نباتات سنبری ۔
 اَلْوَاءُ ۔ نجوم کے علم میں زیادہ ہوشیار ۔
 اَلْمُسْتِنَاءُ ۔ عطیہ مانگنا ہوا ۔
 نَابٌ يَنْوُبُ نَوْبًا وَمَنَاوِبًا وَيَنْبَاةً ۔ فِي
 اَلْأَمْرِ عَنْ زَيْدٍ ۔ قائم مقام ہونا ۔
 نَابٌ ہونا ۔ صفت و نَابٌ جس میں
 نیابت کی جگہ وہ منوب فیہ ۔ جس
 کی نیابت کی جگہ وہ منوب عنہ ۔
 اَلْيَبِ ۔ بار بار واپس آنا ۔ اِلَى اَللَّهِ ۔
 توبہ کرنا ۔ فَلَاقٌ ۔ فلاں نے خدا کی
 اطاعت کی ۔
 نَابٌ يَنْوُبُ نَوْبًا وَ نَوْبَةً ۔ فَلَاقًا اُمَّةً
 کوئی امر پیش آنا ۔
 نَاوِبَةٌ مَنَاوِبَةٌ ۔ سزا دینا ۔ باری باری
 کرنا ۔ نَوْبٌ قَلِيلٌ ۔ باری سزا کیا جانا ۔
 اَنَابٌ ۔ زَيْدٌ حَتَّىٰ كَرِهَ اِلَى كَذَا ۔
 قائم مقام بنانا ۔ وکیل کرنا ۔ زَيْدٌ
 مَنِيبِلُوَيْلٍ ۔ مُنَابٌ ۔ قائم مقامی کا
 امر ۔ مُنَابٌ فِيہ ۔ اِلَيْہِ ۔ باری باری
 واپس ہونا ۔ اِلَى اَللَّهِ ۔ متوجہ ہونا ۔
 توبہ کرنا ۔
 تَنَاءٌ وَ تَوَاتُبًا ۔ عَلَى الْمَاءِ ۔ تقسیم کی
 کنکری سے باتنا ۔ اَلْأَمْرُ ۔ باری
 باری کرنا ۔ تَنَاءٌ وَ تَوَاتُبٌ ۔
 مصائب زمانہ کا پیش آنا ۔
 اِنْتَانَا مَحْمَلًا نَتِيًا ۔ بَا ۔ پے درپے آنا ۔
 فَلَاقًا اُمَّةً ۔ کس کو کوئی امر پیش آنا ۔
 زَيْدًا عَمْرًا ۔ قصہ کرنا ۔
 اِسْتِنَاءُہِ اِسْتِنَاءً ۔ نَابٌ ہونے کیلئے
 کہنا ۔ نَابٌ مانگنا ۔ نَابٌ مَقْرَرٌ کرنا ۔
 اَلنَّابِثُ ۔ نَا ۔ قائم مقام ۔ ج . نَوْبٌ وَ نَوَابٌ
 اَلنَّابِثَةُ ۔ مَرْنُثُ اَلنَّابِثِ ۔ آفت بمصیبت
 ج ۔ نَابِثَاتٌ وَ نَوَابِثُ ۔ اَلنَّابِثُ

عوامت خواہ غیر ہوں یا شر۔ کو ائیب
 الرعیۃ۔ پھل اور سڑکوں کی دوسری کے
 لیے شاہی ٹیکس۔ الحق النایبۃ۔
 روز آئے والا بخار۔
 الإنیابۃ۔ معر نیابت۔ بارہا۔
 النوب۔ ریگستان کی منزل۔ ایک دن رات
 کی منزل۔ نزدیکی۔ قوت۔
 النوب۔ نوہکا باشندہ۔ واحد نوبی۔ شد
 کی کمی۔ واحد نایب۔
 التوبۃ۔ مع۔ فرست۔ دولت۔ آدمیوں کا
 گروہ۔ باری۔ وقت۔ دفعہ۔ موقع۔ مع
 نوب۔ التوبۃ۔ اطباء کے نزدیک
 بخار آنے کا وقت۔
 التوبۃ۔ آفت۔ مصیبت۔ حادثہ۔ مع۔ نوب۔
 العتاب۔ مع۔ پانی کی طرف جانے والا راستہ
 قائم مقامی۔
 المینیب۔ فابست بارش۔ عمدہ ہلکا۔
 نأت ینوت کوتا۔ کمزوری سے جھکنا۔
 التوتی۔ جازران۔ طاح۔ مع۔ نواتی۔
 تاجہ ینوبج نوجا۔ منافقت کرنا۔ فریب
 دینا۔
 التوجۃ۔ گمراہ۔ مع۔ توج۔
 ناحت تنوحر توحد و نواحد نیاخا و
 نیاخۃ و مناخا۔ المرأۃ العیت
 و علی العیت۔ عورت کا مردہ پر زور کرنا
 بین کرنا۔ واویلا کرنا۔ اسم نیاخۃ۔
 الحمامۃ۔ فاختہ کا کوکر کرنا۔ صفت
 نایخۃ و نواخۃ۔
 فآوحدہ مناوحدۃ۔ مقابلہ کرنا۔
 تنوحر تنوحر۔ الشیء۔ جھوٹا۔
 تناوحر تناوحر۔ الجھلان۔ ہاروں کا
 آنے سامنے واقع ہونا۔ تناوحر
 الیباخ۔ ہواؤں کا شدت سے چلنا۔
 ہوا کا کسی پروانہ کسی شمالی اور کسی
 جنوبی چلنا۔

استناحت استناحتۃ۔ المرأۃ۔ عورت
 کا رونا۔ استناحت الذئب۔ بیڑیے
 کا بھونکنا۔ الرجل۔ روکر لانا۔
 فلانا۔ رلانا۔
 النایخۃ۔ اسم فاعل۔ ٹونٹ کے لیے۔ مع۔
 نوح و نواحد و نوح و نواحد و
 نایخات۔
 النوح۔ مع۔ جمع ہو کر رونے والی عورتیں۔
 النوحۃ۔ میت پرین۔
 النواح۔ اسم مبالغہ۔ موت نواحدۃ۔ قری
 کی طرح کا ایک پرندہ۔
 النیخۃ۔ مقابلہ۔
 المناخۃ۔ رونے کی جگہ۔ مع۔ مناخات و
 مناوحد۔ المناخۃ۔ عورتیں جو مصیبت
 پر رونے کے لیے جمع ہوں۔
 توتھر تنوینجا۔ اللہ الارض۔ خدا تعالیٰ
 کا زمین کو ہموار کرنا۔ بچھانا۔
 آناخر اناخۃ۔ الجمل۔ اونٹ کو بٹھانا
 ۔ فلان بالمکان۔ کسی جگہ اقامت
 کرنا۔ البلاؤ او الذل یفلان۔
 مصیبت کا کسی پر نازل ہونا۔
 استناحت استناحتۃ۔ الجمل۔ اونٹ
 کا بیٹھنا۔
 النایخۃ۔ دور کی زمین۔
 النوحۃ۔ اقامت۔
 المناخ۔ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ مناخ
 سوچ۔ غیر پسندیدہ جگہ۔
 المینیح۔ فاشیر۔
 فلا ینوحر کوردا و نوا و نواہ انا۔ نیند
 سے جھونکیں کھانا۔
 تنوحر تنوحر۔ العین۔ ٹہنی کا ہلنا۔
 کوزل کوزلۃ۔ الرجل۔ بڑھا پے سے
 کا پینا۔
 النودل۔ پستان۔
 النوقول۔ کانپتا ہوا بڑھا۔

نار ینور نوراً و نیاراً۔ روشن ہونا۔
 البعیر۔ اونٹ کو اٹھانا۔ القوم۔
 شکست کھانا۔ النار من بعید۔
 آگ کو دور سے دیکھنا۔
 نانت المرأۃ نوراً و نواراً و نواراً۔
 عورت کا شہ اور تھمت سے بچنا۔
 الفتنۃ۔ فتنہ کا پیدا ہونا اور پھیلنا۔
 صفت نایترۃ۔
 نوس تنویراً۔ الشیء۔ روشن ہونا۔
 المصباح۔ روشن کرنا۔ علی فلان
 کسی پر کوئی امر شبہ کرنا۔ التمر۔
 کھجوریں گٹھلی پیدا ہونا۔ الصبح۔ صبح
 کا چھلنا۔ نمودار ہونا۔ الشجر۔
 درخت کا شگوفہ نکالنا۔ یفلان روشنی
 دکھانا۔ الزمخ۔ کھیتی کا پھلنا۔
 المرأۃ۔ عورت کو شہ سے نفرت دلانا۔
 ناوراً منادراً۔ ایک دوسرے کو گالی
 دینا۔
 آنا راناراً۔ الشیء۔ چھلنا۔ روشن ہونا۔
 ظاہر ہونا۔ خوبصورت ہونا۔ البیت۔
 گھر کو روشن کرنا۔ المسألۃ۔ مسئلہ
 کو واضح کرنا۔ اللہ بڑھانہ۔ اللہ
 تعالیٰ کا کسی کو دلیل سمجھانا۔ الشجر۔
 درخت کا کلی نکالنا۔
 النور انواراً۔ الشیء۔ ظاہر ہونا۔
 تنوحر تنوحر۔ امکان۔ مکان کا روشن
 ہونا۔ الرجل۔ بال اڑانے کا پودر
 ملنا۔ القوم۔ قوم کا شکست کھانا۔
 النار من بعید۔ آگ دور سے
 دیکھنا۔
 انتار انتیاراً و انتوراً و انتواراً۔ بال
 اڑانے کا پودر ملنا۔
 استناحت استناحتۃ۔ البیت۔ روشن ہونا۔
 ۔ بہ۔ کسی سے روشنی کی مدد مانگنا۔ علیہ
 کا عیب ہونا۔ غالب آنا۔ المرأۃ۔

شک و شبہ سے نفرت دلانا۔
النَّائِرَةُ۔ اسم فاعل مؤنث کے لیے۔ دشمنی،
بعض و کینہ۔ ج۔ نَوَائِرُ۔
النَّوُورُ والنَّوُورُ۔ کاجل۔ ایک کنکری جس
کو پس کر مسورے پر لگاتے ہیں۔ ج۔
نُورِ اَصْلِ نُورٍ۔
النَّوَارُ۔ مم۔ شک و شبہ سے نفرت کرنے
والی عمت۔ ساندے سے علمدہ رہنے والی
گائے۔ ج۔ نَوْرٌ۔
النَّوَارُ۔ شک و شبہ سے دوری۔
النَّارُ۔ آگ۔ کلمہ مؤنث ہے کبھی مذکر بھی
مستعمل ہوتا ہے۔ تصغیر نَوَائِرُ۔ ج۔
النَّوَارُ والنَّوَارُ۔ نَوَائِرُ۔ النار۔ داغ
رائے، جنم۔ جَبَلُ النَّارِ۔ آتش فشاں
پھاڑ۔ بَنُو النَّارِ۔ تین شاعر۔ اَوْقَدَ
نَارَ الْحَوْبِ۔ اس نے لڑائی کی آگ
بھڑکائی۔ لَا تَسْتَعِيْ بِنَارِ فُلَانٍ۔
فلاں سے مشورہ نہ لو۔ لَا تَتْرَأْ عِي
نَادُهُمَا۔ وہ دونوں ایک جگہ جمع
نہیں ہوتے۔ نَارُ التَّهْوِيلِ۔ خوف
میں ڈلنے کی آگ۔ عربوں میں یہ ایک
رسم تھی کہ جب معاہدہ کرتے، آگ جلا
کر اس میں نمک ڈالتے۔ نمک جب
چٹکتا تو اس کو اپنے معاہدہ کی مضبوطی
جانتے۔ نَارُ الْيَقْوِي۔ مہمانی کی آگ۔
عرب رات کو کسی بلند جگہ پر آگ روشن
کرتے اور مقصد یہ ہوتا کہ گندے والا
مسافر اس کو دیکھ کر اس کا رخ کرے
یہ آگ جس قدر بلند جگہ پر روشن کی
جاتی اسی قدر قابلِ فخر سمجھی جاتی۔
نَارُ الْاِذْنَادِ۔ جنگ کا اعلان کرنے
کے لیے یا جنگ کے لیے لوگوں کو جمع
کرنے کی خاطر آگ جلاتے۔ آگ دیکھ
کر سب سمٹ آتے۔ نَارُ الْاِسْتِغْفَارِ
زیادتی ظاہر کرنے والی آگ۔ عرب

جب کسی سے لڑنے جلتے اور پڑاؤ
ڈالتے تو کثرت آگ جلاتے۔ اور
اسی طرح کثرت سے جانور ذبح کرتے
تاکہ ان دونوں چیزوں کی کثرت سے
ان کی تعداد کی زیادتی کا اندازہ لگایا
جاسکے۔
النَّوْرُ۔ مم۔ کل۔ واحد۔ نَوْرَةٌ۔ ج۔
النَّوَارُ۔
النَّوْرُ۔ روشنی۔ ج۔ النَّوَارُ والنَّوَارُ۔
النَّوْرُ۔ وہ جو چیزوں کو ظاہر کرے۔ نہاتات
کی لمبائی اور خوشنمائی۔ ج۔ نَوْرَةٌ۔ داغ
النَّوْرُ والنَّوْرَةُ۔ ایک خانہ بدوش قوم جو
ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ میں
پائی جاتی ہے۔
النَّوْرِيُّ۔ بد معاش۔ اُجْحَا۔
النَّوْرَةُ۔ داغ۔ چھنے کا پتھر۔ بال دور کرنے
کا پودر۔
النَّوَارُ۔ بہت روشن۔
النَّوَارُ۔ کل۔ واحد نَوَارَةٌ۔ ج۔ نَوَائِرُ۔
النَّوَارُ۔ روشن کرنے والا۔
النَّوَارَةُ۔ مؤنث النَّوَارُ۔ عبرتناک منزا۔
فُلَانٌ ذُو نَيْسَةٍ۔ فلاں آدمی دور
اندیش ہے۔
النَّوَارُ۔ اسم تفضیل۔ ظاہر، خوشنما۔
النَّوَارُ۔ نور کی جگہ۔ راستہ کا نشان۔ دو
حدوں کے درمیان کا نشان۔ ذُو
النَّوَارِ۔ بادشاہ ابراہیم تَبَعُ بِنِ
رَائِيْشِ۔
النَّوَارُ۔ فا۔ خوشنما۔ چکنے والا۔
النَّوَارَةُ۔ روشنی کی جگہ۔ روشنی کا منار۔
اذان دینے کا منار۔ ج۔ مَنَارُورُ
مَنَارٌ۔
نَوْرٌ جَورٌ جَعْدٌ۔ آنے جانے میں مختلف۔
سخن چینی کے لیے آنا جانا۔
النَّوْرُ ج۔ ہل کی چالی۔ غلبہ گاہنے کا آلہ۔

النَّوْرُورُ والنَّوَارُورُ۔ فارسی سال کا پہلا
روز۔ خوشی کا دن۔
النَّوْرُورُ۔ کبوتر کے برابر یا اس سے کچھ بڑا
ایک آبی پرندہ۔
نَوْرٌ جَ تَكْوِيْنٌ۔ کم کرنا۔
نَاسٌ يَنْوُسُ نَوَسًا۔ الاہل۔ اونٹوں کو
ہانکنار۔ نَوَسًا و نَوَسَانًا، الشَّيْءُ۔
چیز کا جھولنا۔
نَوَسٌ۔ بِالْمَكَانِ تَنْوِيْسًا۔ اقامت کرنا۔
اَنَاسٌ اِنَاسَةً۔ الشَّيْءُ۔ حرکت دینا۔
ہلانا۔
تَنْوَسٌ۔ الفُصْنُ۔ شاخ کا ہوا سے ہلنا۔
النَّوْدُوسُ والنَّوْدُوسُ۔ نصاریٰ کا قبرستان
ج۔ نَوَائِرُ۔ یا وہ پتھر کا تابوت
جس میں میت رکھی جائے۔
نَوَاسُ الْعَنْكَبُوتِ۔ مگڑی کا جالا۔ نَوَاسُ
الدُّخَانِ۔ دھوئیں کا جالا۔
النَّاسُ۔ لوگ۔ واحد اِنْسَانٌ۔ تصغیر
نَوَيْسٌ۔
النَّوَّاسُ۔ لٹکنے والا۔
النَّوَّاسَاتُ۔ چوٹیاں۔ زلفیں۔
النَّوَّاسُ۔ سیاہ کنارہ والا چھوٹا رہ۔
نَاشٌ يَنْوُشُ نَوَشًا۔ الشَّيْءُ۔ چیز کو
پکڑنا۔ طلب کرنا۔ فُلَانٌ۔ چلنا۔
الْبَعِيْرُ تَنْوِيْرًا۔ اٹھنا۔ فُلَانًا۔ کسی
کو سراور والی سے پکڑنا۔ نَوِيْدًا
خَيْرًا۔ بھلائی پہنچانا۔
نَاوَشُوهُمْ مَنَادِقَةً۔ فِي الْقِتَالِ
لڑائی میں حملہ کرنا۔ نَاوَشِي فُلَانٌ
الشَّيْءُ۔ ملانا۔
تَنَادَشٌ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کو پکڑنا۔ تَنَادَشُوا
بِالرِّصَاحِ۔ نیزہ بازی کرنا۔
اِنْتَاقًا اِنْتِيَاشًا۔ پکڑنا۔ نکالنا۔
النَّوْدُوشُ۔ قوی۔ رَجُلٌ نَوْدُوشٌ مَضْبُوطٌ
آدمی۔

ناض يَنْوُضُ نَوْضًا وَمَنْاضًا وَمِنْهُمَا -
 عَنْ قَرِينِهِ - اپنے مقابل سے بھاگنا
 بچنا - جدا ہونا - فلاٹا - کسی کے
 ہاتھ سے نکل جانا - سبقت لے جانا -
 اليه - اٹھنا - الشيء - چیز کو کھینچنا -
 لِلْحَوَاكِمِ - تیار ہونا - عنه - پیچھے
 ہلنا - ر - مَنْاضًا وَنَوْضًا وَ
 نِيَاضًا وَتِيَاضًا وَنَوْضًا وَنَوْضًا
 الرَّجُلُ - ہلنا -
 نَاوَصَةٌ مِّنَاوَصَةٌ - باہم حملہ کرنا -
 اِنَاَصَةٌ - اِنَاَصَةٌ - ارادہ کرنا -
 اِنْتَاَصَتْ اِنْتِيَاَصًا - الشَّمْسُ - سورج
 کا ڈوبنا -
 اِسْتِنَاَصَةٌ اِسْتِنَاَصَةٌ - حرکت دینا -
 ہلکا سمجھنا اور اپنی حاجت کے لیے
 لے جانا - گھوڑے کا چلنے کے لیے حرکت
 کرنا - سر بلند کرنا - پیچھے رہنا -
 النَّوُوضُ - مہم - گورخ - سخاوت - والنَّوُوضُ
 فرار - بھاگنا -
 النَّوُوضَةُ - پانی وغیرہ کا غسل مابہ نَوِوضٍ
 اس میں کوئی طاقت یا حرکت نہیں -
 الْمَنَاضُ - مہم - جائے پناہ - بھاگنے کی جگہ
 سخاوت -
 نَاضٌ يَنْوُضُ نَوْضًا - شہروں میں پھرنا -
 پیچھے ہلنا - الشيء - اکھاڑنے کی
 کوشش کرنا - الماء - نکالنا - البرق
 بجلی کا چمکنا - الشيء - چیز کا حرکت کرنا
 - الرَّجُلُ - بھاگ کر نجات پانا -
 نَوْضٌ تَنْوِيضًا - الثَّوْبُ بِالصَّبِيحِ -
 کپڑا رنگنا -
 اِنَاَضٌ اِنَاَضَةٌ - مشقت کے آثار - آنکھوں
 سے نمایاں ہونا - النَّخْلُ - درخت
 خرما کا پکی کھجوروں والا ہونا -
 النَّوُوضُ - مہم - پانی کے نکلنے کی جگہ - وادی -
 دونوں سرین کے درمیان کی بڑی - ج

اَلْوَاضُ وَاَلْوَايِيضُ -
 اَلْوَاضُ وَاَلْوَايِيضُ - بلند جگہیں -
 الْمَنَاضُ - جائے پناہ -
 نَاطَةٌ يَنْوُطَةٌ نَوْطًا وَتِيَاطًا - لٹکانا -
 نَاطَتِ الدَّارُ - گھر کا دور ہونا -
 نَيْطٌ - به الشيء - ملایا جانا - نَوْطَةٌ - لٹکانا
 اِنَاَطَةٌ اِنَاَطَةٌ - لٹکانا - اِنْتَاَطَ
 اِنْتِيَاَطًا - یہ - لٹکانا - الشيء -
 دور ہونا - الشيء - بغیر مشورہ کے
 اپنی رائے سے کاٹنا -
 اِسْتِنَاَطَ اِسْتِنَاَطَةً - فلا تَا بَعِيْرُكَ
 کسی کو اونٹ زاد اٹھانے کے لیے دینا -
 النَّاطِطُ - بیٹھ کی اندرونی رگ - و
 النَّاطِطَةُ - پوٹا -
 اِنْيَاَطُ - مہم - دل - مِنَ الْمَفَازَةِ - بیابان
 کے راستہ کی دوری - قَطَعْتُ
 نِيَاطَ الْبَلَدِ - میں نے شہر کو طے کیا
 اَلنِّيَاطُ - ہر چیز لٹکانے کی جگہ - دل
 کے متصل ایک موٹی رگ - مکر کی ایک
 رگ - ج - اَلنَّوْطَةُ وَنَوْطٌ -
 النَّوْطُ - مہم - جانور کے دونوں طرف کے
 بوجھوں کے درمیان رکھا ہوا زائد بوجھ
 ج - اَلْوَاطُ وَتِيَاطٌ - محل سے لٹکی
 ہوئی کھجوروں کی خرچی - النَّوْطَةُ -
 پوٹا - اونٹ کے سینہ اور ران کی جڑ
 میں درم - اونٹ کے پیٹ کے ملک
 خود - کینہ - سیلاب سے وہ بلند جگہ
 جس کے نیچے میں درخت ہو اور دونوں
 طرف سے درختوں سے خالی ہو - پانی
 سے بلند جگہ -
 النَّيْطُ - وہ کنواں جس کے کناروں سے
 پانی بہتا ہو - درمیان -
 النَّيْطَةُ - وہ اونٹ جو غلانے کے لیے غلہ
 لانے والوں کے ہمراہ بھیجا جائے -
 النَّوْاطُ - جو چیز ہودج کی زینت کے لیے

لٹکانی جگہ -
 النَّوْطُ وَالتَّنْوِطُ - وہ پندہ جو اپنا گھوندا
 شاخوں سے لٹکانا ہے - بیا - الْمَنَاطُ -
 لٹکانے کی جگہ - دور کہتے ہیں - هَذَا
 مِثْقَالُ الثَّرِيَا - وہ مجھ سے اس قدر
 دور ہے جس قدر ثریا - غَايَةٌ
 مُنْتَاطَةٌ - دور کی غایت -
 الْمَنُوْطُ - اسم مفعول بِمُطْنٍ -
 نَاعٌ يَنْوُوعٌ نَوْعًا - الغُصْنُ بِنِي كَا بَهْكَنَا
 - الشيء - راجح ہونا - الرَّجُلُ - کسی
 کا پیسا ہونا - الْعُقَابُ - عقاب کا
 کسی چیز پر سمٹ پڑنا - فَلَانُ الشَّيْءِ -
 طلب کرنا - الرَّجُلُ - بھوکا ہونا -
 صِفَتُ نَائِعٌ - ج - نِيَاَعٌ -
 نَوْعٌ تَنْوِيْعًا - الشيء - کسی چیز کو قسموں
 میں تقسیم کرنا - نَوْعَتِ الرِّيحِ الشَّيْءُ
 ہوا کا کسی چیز کو ہلانا - نَيْدُ الشَّيْءِ -
 نیدنے چیز کو لٹکانا کہتی ہوئی چھوڑنا -
 تَنْوُوعٌ - الشيء - چیز کا قسموں میں ہلنا -
 بھولنا - الغُصْنُ - ہلنا - فِي السَّيْرِ
 آگے بڑھنا -
 اِسْتِنَاعٌ اِسْتِنَاعَةً - الغُصْنُ - شاخ
 کا ہلنا - الرَّجُلُ فِي السَّيْرِ - آگے
 بڑھنا - بہت زمانہ رہنا -
 النَّائِعُ - فا - پیسا - ج - نِيَاَعٌ -
 النَّائِعُ - جھکی ہوئی شاخ - ج - نَوَائِعُ -
 جَائِعٌ نَائِعٌ - ج - جِنَاعٌ نِيَاَعٌ -
 بھوک کی وجہ سے جھکا ہوا -
 النَّوْعُ - مہم - قسم - ج - اَنْوَاعٌ -
 النَّوْعُ - پیاس -
 النَّوْعَاتُ - شاخ کی حرکت -
 النَّوْعَةُ - تروتازہ پھل - مَكَانٌ مُنْتَوِعٌ
 دور کی جگہ -
 اَلْمَنْوُوعُ - طریقہ - طرز -
 نَافٌ يَنْوُوفٌ نَوْفًا - الشيء - بلند ہونا - عَلِيٌّ

الشيء - نمایاں ہونا۔ البعير - اونٹ کا
لبا اور اونچا ہونا۔ الصبي - من الشدي
بچہ کا پستان چوسنا۔
تَيْفٌ تَيْفًا - علی کذا - زیادہ ہونا۔
أَكَفَرْنَا فَكًا - علی الشئ - نمایاں ہونا۔ لبا او
بلند ہونا۔ علی کذا - زیادہ ہونا۔
النَيْفُ - مِنَ الْجَمَالِ وَالنُّوقُ - لبا اور
اونچا اونٹ یا اونٹنی۔
النُّوقُ - م - بلند کومان - آواز - دامن کے
نیچے کا حصہ - ج - اَنْوَأَفُ -
النَّيْفُ وَالنَّيْفُ - زیادتی - حَشْرَةٌ وَنَيْفٌ
اونیٹ - دس اور دس سے زائد - نیف
کا لفظ محض دلہنی پر زیادتی کو ظاہر کرتا ہے
خَمْسَةٌ عَشْرُ وَنَيْفٌ نہیں کہہ سکتے۔
النَّيْفُ - فضل و احسان۔
المُنَيْفُ - بلند پار - حَزْمٌ مَنِيفٌ - بلند عزت
امراؤ کی منیفہ - خوبصورت و ماز قد عورت
نَاقٌ يَنْوُقُ نَوْقًا - چبلی کو گوشت سے جدا کرنا۔
نَوْقٌ تَنْوِيْقًا - الجَمَلُ - اونٹ کو اچھی طرح
سدھانا۔ النَّمْلُ - مادہ کھجور میں زکھجور
کے بھول ڈالنا۔ الشئ - چیز کو ترتیب
سے جمانا۔
أَتَقَّ إِنِّي قَادٌ يَنْقُلُ الشئَ فَلَئِنَّا كَوْنِي حَيْرِ
کسی کو پسند آنا کہتے ہیں تَنْوُقُ تَنْوُقًا
تَنْيِقُ تَنْيِقًا قَادُ النَّاقِ إِنْتِيَا قَا -
کہنے پنے اور دیگر امور میں صاف
ستھرا ہونا۔ إِنْتَاقِي الشئ - پسند کرنا۔
إِسْتَنْوُقِي إِسْتَنْوُقًا - الجَمَلُ - اونٹ
کا اونٹنی کے مشابہ ہونا۔
النُّوقُ - تھڑی سرخی ملی ہوئی سفیدی۔
الْبَيْقُ - پہاڑ کی چوٹی - ج - نَيْاقٌ وَانْيَاقٌ
وَنِيُوقُ -
النَّاقَةُ - اونٹنی - ج - نَاقٌ وَنُوقٌ وَانُّوقٌ وَ
انُّوقٌ وَانُّوقٌ وَانِّيُقٌ وَنِيَاقٌ وَ
نَاقَاتٌ وَانُّوَاتٌ - وجہ - آياتین

وَنِيَاقَاتٌ - النَّاقَةُ - اونٹنی کے
والی بھنسی - النُّوقَةُ - مہارت۔
النَّوُقُ - کڑی کا پرناہ - ج - نَاقَاتٌ -
النُّوَاتُ - کاموں کو برشیری سے انجام دینے والا
النَّيْقُ - خرمک و پوٹاک میں صاف ستھرا۔
الْمُنْتَوِقُ - اچھا سدھا ہوا اونٹ - زکھجور کا
بھول ڈالنا اور ادھت خرا۔
نُوكٌ يَنْوُكُ نَوْكًا وَنُوكًا وَنُوكًا وَ
نُوكًا سب وقوف ہونا۔
النُّوكَةُ - النُّوكَا - بیوقوف پانا یا خیال کرنا۔
إِسْتَنْوُكُ إِسْتَنْوُكًا سب وقوف ہونا۔
فَلَئِنَّا بے وقوف سمجھنا۔
الْاَنْوُكُ - احمق - بڑا بیوقوف - عاجز و جاہل
بولنے میں عاجز - ج - نُوكِي وَنُوكٌ -
نُوكٌ نُوكًا - ج - نُوكٌ -
الْمُسْتَنْوُكُ - بیوقوف۔
نَالٌ يَنْوُلُ نَوَالًا وَنَوَالًا وَ
بِالْعَطِيَّةِ - وَمَالٌ لَهَا الْعَطِيَّةُ وَ
بِالْعَطِيَّةِ عَطِيَّةٌ بَخْتًا - نَالِي بِالْخَيْرِ
اس نے مجھ کو بھلائی پہنچائی۔ نَالٌ لَهُ أَنْ
يَفْعَلَ كَذَا - اس کے لیے ایسا کرنے
کا وقت آگیا۔
نَالٌ يَنْوُلُ نَوَالًا وَنَوَالًا - نیاض ہونا۔
نَوَالُهُ تَنْوِيلًا - بخشش دینا۔ نَوَالٌ عَلَيْهِ
بشئ دینا۔
نَاوَلَهُ مَنَاوَلَةً - الشئ - دینا یا ہاتھ دراز
کر کے دینا۔
أَنَالَهُ إِنَالَةً - الشئ و بالشئ - کسی کو کوئی چیز
دینا۔ أَنَالَ فُلَانٌ بِاللَّهِ - قسم کھانا۔ مَا
أَنْوَلَهُ - وہ کس قدر نیاض ہے۔
تَنْوَلُ الشئ - لینا۔ عَلَيْنَا فُلَانٌ بِشئٍ
یَسِيرٍ - تھوڑا دینا۔
تَنَاوَلُ الشئَ - لینا۔ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا -
لینا۔ کھانا۔
النَّوَالُ - نیاض۔ عَطِيَّةٌ بَخْتًا - بھلائی۔

النَّائِلَةُ - قریش کے ایک بت کا نام۔
النَّوَالُ بَخْتًا - حصہ۔ رَسِيٌّ - نَوَالٌ أَنْ
تَفْعَلُ كَذَا - تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔
النَّالُ عَطَا بَخْتًا - رَجُلٌ نَالٌ - نیاض سخی۔
النَّوَالُ مَعْرُوبٌ سَبِيٌّ وَالِي وَادِي - جُلا ہے کا کپڑا پھینکنے
کی ٹکڑی - ج - اَنْوَالٌ - کہتے ہیں نَوَالٌ
أَنْ تَفْعَلَ كَذَا - تمہارے لیے ایسا کرنا
مناسب ہے۔
النُّوَالَةُ - نال کا اسم مرہ - عطیہ - داد و دوش۔
الْمِنْوَالُ وَالْمِنْوَالُ - جلا ہے کپڑا بننے کی
ٹکڑی یا کرگہ - ج - مَنَاوِيلٌ - الْمِنْوَالُ
جُلا ہے کہتے ہیں ہنر علی مِوَالٍ وَاحِدٌ
وہ سب ایک ہی قسم کے اخلاق کے ہیں۔
عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ - اس طرز پر مِوَالٌ
أَلَا تَفْعَلُ كَذَا - تم کو چاہیے کہ ایسا نہ کرو۔
نَامَةٌ يَنْوُمُهُ نَوْمًا - سونے میں غالب آنا۔
نَامٌ يَنَامُ نَوْمًا وَنِيَامًا - اونگھنا ہونا۔ مرند
اسم النبیمة نَامَتِ السُّوقُ - بازار
کا ٹھنڈا پڑنا۔ الدیج - ہوا کا ٹھنڈا۔
النَّارُ - آگ کا بھجنا۔ نَامٌ الْبَحْرِ - سمندر
کا سکون پذیر ہونا۔ الْعَرَقُ - رگ کا
حکمت نہ کرنا۔ الثَّوْبُ - کپڑے کا
بوسیدہ ہونا۔ الرَّجُلُ - اللہ کے لیے
عاجزی کرنا۔ الیوم - اطمینان کرنا۔
عَنْ حَاجَتِهِ - اپنی حاجت سے
غافل ہونا اور اس کی پرواہ نہ کرنا۔
فَلَانٌ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْوُمُ - فلاں نہ
سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔ نَامٌ هَمْدٌ
وہ بے ہمت ہے۔
نَوْمَةٌ تَنْوُمًا سَلَانًا - گوم اللہ کی کسی کا
بہت سونا۔ الابل - اونٹوں کا مرنا۔
نَاوَمَةٌ مَنَاوَمَةٌ - سونے میں غالب آنا۔
أَنَامَةٌ إِنَامَةٌ - سنانا۔ قتل کرنا۔ أَنَامٌ
زَیْدًا - زید کو سوتا ہوا پایا۔
تَنَاوَمٌ تَنَاوَمًا سونے کا بہانہ کرنا۔ نیند چاہنا

مطمن ہونا۔ سکون حاصل کرنا۔
 اِسْتَنَامَ اِسْتِنَامَةً۔ الرجلُ سونا۔ نیند
 چاہنا۔ سونے کا بیان کرنا۔ اِلَى الشَّيْءِ
 مانوس ہونا۔
 النَّائِمُ۔ فاسونے والا۔ ج۔ نِيَامٌ وَنَوْمٌ وَ
 نَيْمٌ وَنَيْمٌ وَنَوْمٌ وَنِيَامٌ وَنَوْمٌ كَيْلٌ
 نَائِمٌ۔ گری نیند والی رات
 النَّائِمَةُ۔ مؤنث النَّائِمِ۔ ج۔ نَوْمٌ۔
 النَّوْمُ۔ بہت سونے والا۔
 النُّوَامُ۔ نیند۔ نیند کی بیماری۔
 النَّوْمُ۔ م۔ نیند۔ نَائِمٌ كِي مَجَّ رَجُلٌ
 نَوْمٌ وَنَوْمٌ۔ بہت سونے والا۔
 النَّيْمُ۔ رات کا لباس۔ پوستین۔ یاسینہ تک
 کی پوستین۔ پوری نعمت۔ وہ شخص جس
 سے اُنس حاصل ہو۔ ایک نرم کانٹے کا
 درخت جس کے پتے چھوٹے دانے چنے
 کے برابر رش ڈالنے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں
 يَا نَوْمَانِ۔ اے بہت سونے والے۔
 النَّوْمَةُ۔ نام کا اسم مرہ۔ ج۔ نَوْمَاتُ۔
 النَّيْمَةُ۔ نام کا اسم مرہ۔ مَالَةٌ نَيْمَةٌ نَيْلَةٌ
 اس کے پاس ایک رات کا گزارہ بھی نہیں۔
 النَّوْمَةُ۔ بہت سونے والا۔ غافل۔ گنام۔
 النَّوْمُ۔ غافل۔ گنام۔ المَنَامُ۔ نیند سونے
 کی جگہ۔ خواب۔ ج۔ مَنَامَاتُ۔
 المَنَامَةُ۔ سونے کی جگہ۔ رات کا لباس۔ قبر
 المَنَامَةُ المَنَامَةُ۔ پست یا نشیمن جگہ
 جہاں پانی ٹھرے۔ طَعَامٌ مَنَامَةٌ
 خواب آور کھانا۔
 نَوْنٌ نَوْنًا۔ حرف نون کھانا۔ اِسْكِيْمَةُ۔
 کلمہ پر تینوں لگانا۔
 النُّونُ۔ حرف نون۔ ج۔ نُونَاتٌ وَنَوَانٌ۔
 النُّونُ۔ دوات۔ پھیل۔ ج۔ نُونِيَانٌ وَنَوَانٌ۔
 تلوار کی دھار۔ تلوار۔ ذُو النُّونِ۔ حضرت
 یونس علی نبینا وعلیہ السلام کا لقب۔ عرب
 کی ایک تلوار کا نام۔ ذُو النُّونِيْنِ۔ مقل

بن خرید کی تلوار۔
 النُّونَةُ۔ پھیل۔ نیک بات۔ چھوٹے بچہ کی
 ٹھوڑی۔ ج۔ نُونَاتُ۔
 نَاكَ يَتَوَكَّأُ نَوَّاهًا۔ اِنْتَبَاتٌ وَغَيْرُهَا۔ پودہ
 وغیرہ کا بلند ہونا۔ نَاهَتِ اَلهَامَةُ
 اَلْوَا سِرَا طَا كَرَجِيْنَا۔
 نَاهَتُ تَنَوُّوَةً وَتَنَاكَ نَوَّاهًا۔ نَفْسُهُ
 عَنِ الشَّيْءِ۔ نفس کا کسی چیز سے رکتا
 حقیر جان کر چھوڑ دینا۔
 نَوَّاهَةٌ تَنَوُّوِيًّا۔ اَلشَّيْءُ۔ بلند کرنا۔ بِفُلَانٍ
 بلند آواز سے بلانا۔ کسی کے ذکر کو بلند کرنا
 کسی کی تعریف کرنا، تعظیم کرنا۔ نَوَّاهَةٌ
 بِالْحَدِيثِ۔ زور سے بات کرنا۔ تَنَوُّوَةً
 تَنَوَّاهًا۔ بلند ہونا۔
 النُّوَّةُ وَالنُّوَّةُ۔ کسی چیز سے رکتا۔
 التَّوَهَّةُ۔ ناک کا اسم مرہ۔ خداک دن رات
 میں صرف ایک مرتبہ۔
 النُّوْهَةُ۔ بدن کی طاقت۔
 التَّوَاهَةُ۔ نوحہ کرنے والی عورت۔
 التُّوَّةُ۔ بین کرنے والیاں۔ هُوَ اَلنُّوَّةُ مِنْ
 فُلَانٍ۔ وہ اس سے زیادہ اخراج ہے
 نَوِيٌّ۔ اَلشَّيْءُ يَكُوْنِيهِ نَوِيًّا وَدِيْنَةٌ وَ
 نِيْلَةٌ۔ کسی چیز کا قصد کرنا۔ ارادہ کرنا
 حفاظت کرنا۔ مسافر کے لیے کہتے ہیں
 تَوَاكَ اَللّٰهُ۔ یعنی اللہ تمہارا محافظ ہے
 اور سفر میں تمہارا ساتھی ہو۔ تَوَاكَ
 اَللّٰهُ بِالْخَيْرِ۔ اللہ تم کو بھلائی
 نصیب کرے۔ نَوِيٌّ فُلَانٌ مِنْ
 مَكَانٍ اِلَى آخَرَ۔ ایک جگہ سے
 دوسری جگہ کو منتقل ہونا۔ اَلنَّوَاةُ
 گھٹی پھینکنا۔ نِيْلَةٌ وَنَوِيٌّ۔
 الْمَسَافِرُ۔ دور ہونا۔ نِيْلًا وَنَوَايِيَةً وَ
 نَوَايِيَةً، اَلنَّوَاةُ۔ اونٹنی کا موٹی ہونا۔
 صفت (نَوَايِيَةٌ دَنَاوِيٌّ) ج۔ نَوَاةٌ۔
 نَوِيٌّ تَنَوِيَّةٌ۔ حاجت۔ اپنی حاجت

پہری کرنا۔ نَوَّتِ البُسْرَةَ۔ کچی کھجور کا
 گھٹل والی ہونا۔ نَوِيٌّ فُلَانٌ۔ گھٹل
 پھینکنا۔ فُلَانًا۔ کسی کو اس کی نیت
 پر چھوڑنا۔
 نَاوَاةٌ مَنَاوَاةٌ۔ دشمنی کرنا۔
 اَنَوِيٌّ اَلنَّوَاةُ۔ الرَّجُلُ۔ کسی کا دور ہونا
 یا سفر میں بہت رہنا۔ حَاجَتُهُ۔
 حاجت پہری کرنا۔
 تَنَوِيٌّ تَنَوِيًّا۔ اَلشَّيْءُ۔ کسی چیز کا قصد
 ارادہ کرنا۔
 اِنْتَوَاةٌ اِنْتَوَاةً۔ قصد کرنا۔ اِنْتَوَاةٌ
 يَتَوَايِيَهُ۔ اس نے اس کی حاجت روائی
 کی۔ اِنْتَوِيٌّ اَلْقَوْمُ۔ قوم کا ایک شہر
 سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا۔ اَلْقَوْمُ
 يَتَوَضِعُ كَذَا۔ اِقَامَتِ پذیر ہونا۔
 اِسْتَنَوِيٌّ اِسْتِنَوَاةً۔ الرَّجُلُ۔ گھٹل
 پھینکنا۔
 اِنْتَاوِيٌّ۔ فَا سْتَقْلَى كَا پَجْمَتِ ارادہ کرنے والا۔ اَوْتِي
 كَا كَوْنَانٍ۔ فُلَانٌ نَادَى الْقَوْمِ وَ
 مُنْتَوَاَهُمْ۔ فلاں شخص قوم کے امور کا
 مختار اور صاحب رائے ہے۔
 اَلنَّوَاةُ۔ کھجور کی گھٹلی بیچنے والا۔
 اَلنَّوِيٌّ۔ دوری۔ وہ جگہ جہاں کا مسافر
 ارادہ کرے، قریب ہو یا دور۔ گھر۔
 گھٹلیاں۔ اِسْتَقْرَمَتْ نَوِيٌّ اَلْقَوْمِ
 يَتَوَضِعُ كَذَا وَكَذَا۔ قوم کا کسی جگہ
 اقامت پذیر ہونا۔
 اَلنَّوِيٌّ۔ م۔ جہی۔ اَلنَّوِيٌّ۔ مَوَلَايَا۔ اَلنَّوَاةُ
 گھٹل۔ ج۔ نَوِيٌّ وَنَوَايِيَةٌ وَجَبَّ
 اَنَوَاةٌ وَنَوِيٌّ وَنَوِيٌّ۔
 اَلنَّيْلَةُ۔ قصد دل کا عزم۔ تجرید۔ حاجت۔
 مسافر کے سفر کی غایت، کسی یاد کی
 تخفیف سے نیت بھی کہتے ہیں۔ ج۔
 نِيَاةٌ۔ تَشَطُّرٌ يَتَوَضِعُ كَذَا
 دور کے سفر نے ان کو دور پھینک دیا۔

نَوْدَانِيَّةٌ قَدْ قَا - انہوں نے دور
کی جگہ کا قصد کیا۔
النَّوِي - بھمدرد دوست۔
قَا يَنْبِي نِيًّا دُنِيُوًّا دُنِيُوًّا -
اللَّحْمُ وَغَيْرُهُ - گوشت وغیرہ کچا رہنا
نِيًّا تَنْبِيًّا - الامور کام کو ناقص طور سے
کرنا۔
اَيْنَاءُ - اللَّحْمُ نِيًّا - گوشت کو کچا رکھنا۔
النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ - مِنَ اللَّحْمِ - کچا گوشت یا
نیم پختہ خالص دودھ۔
نَابَةٌ يَنْبِيَةٌ نِيًّا - دانت پر مارنا۔
نَيْبَتٌ - تَنْبِيًّا - النَّاقَةُ - اذنی کا
بڑھی ہونا۔ نَيْبٌ اُنْبِتٌ - نباتات کی
جڑیں پھوٹنا۔ فُلَانٌ السَّمْحَةُ تِيرَكِي
مکڑی پر دانت لگا کر اس پر نشان ڈالنا
- زَيْدٌ - دانت پینا۔ دانت کاٹنا -
فُلَانًا - دانت سے کاٹنا۔
تَنْبِيَّتٌ تَنْبِيًّا - النَّبْتُ - پودے کی جڑیں
نکلنا۔ الشَّيْبُ - بڑھا پاتا ہر ہونا۔
النَّابُ - کچل۔ ج۔ اَنْبِيٌّ وَاَنْبِيَابٌ و
نِيُوْبٌ وَاَنْبِيِيْبٌ۔
النَّابُ - بڑھی اذنی تصغیر۔ نِيِيْبٌ۔
ج۔ اَنْبِيَابٌ وَاَنْبِيُوْبٌ وَاَنْبِيِيْبٌ -
نَابُ الْقَوْمِ - قوم کا سردار۔ ج۔
اَنْبِيَابٌ۔
النِّيُوْبُ - بڑھی اذنی۔
الْاَنْبِيِبُ - موٹے دانتوں والا۔ مَوْنَتٌ
نِيْبَاءٌ - ج۔ نِيِيْبٌ۔
نَاتٌ يَنْبِيَّتٌ نِيًّا - کمزوری سے ڈگمگانا۔
نَاخٌ يَنْبِيْجٌ نِيْحًا دَنْبِيْحًا - الغُصْنُ -
شاخ کا جھکنا۔ نِيْحًا، الْعَطْمُ -
بڑی کاسحت اور مضبوط ہونا۔
نَيْبٌ نِيْبِيْحًا - اللهُ عَظْمَةٌ - بڑی کو
مضبوط کرنا یا چورا چورا کرنا۔ کہتے ہیں

مَا يَنْبِيْتُكَ يَنْبِيْرٌ - میں نے اس کو کچھ
نہیں دیا۔
النَّبِيْرُ - سخت۔
نَارُ النَّوْبِ يَنْبِيْرَةٌ نِيْرًا وَكَيْرَةٌ -
تَنْبِيْرًا وَاَنْبَارَةٌ اِنَارَةٌ - کپڑا بننا۔
النَّائِرُ - فَا - شَرِّ الْمَكْرِ -
النِّيَارُ - کپڑے میں کنارہ لگانے والا کپڑے
میں نقش و نگار کرنے والا۔
النِّيُوْرُ - بیوں کی گردن پر رکھنے کا جوا۔ ج
اَنْبِيَارٌ وَاَنْبِيْرَانٌ - کٹھے دھاگے۔ کپڑے
کا نقش و نگار۔ کپڑے کا چھور۔ سُرُكٌ
کا کنارہ۔ راستہ کی نمایاں کھائیاں۔
رَجُلٌ ذُو نِيُوْبِيْنٍ - اپنے ساتھی سے
دگنی قوت رکھنے والا۔ حَرْبٌ ذَاتُ
نِيْرِيْنٍ - سخت جنگ۔
النِّيُوْرُ وَاَلنِّيْرَةُ - تَنْبِيْرُ النَّوْبِ كَالِاسْمِ
جلہے کا راجہ جس پر وہ کپڑا پہنتا ہے۔
جو شخص نہ نفع بخش ہو نہ ضرر رساں، اس
سے کہتے ہیں: مَا اَنْتَ بِسَيِّئَةٍ وَاَنْتَ
لِحَمِيَةٍ وَاَلنِّيْرَةُ: بَيْنَهُمَا مَتَابِرَةٌ۔
ان کے درمیان فساد ہے۔
النِّيُوْرُ - موٹی جلد۔ دُحْرٌ دُحْرًا وَاَلْاَكْبُرُ
دوسوٹی کپڑا۔
نِيُوْبٌ - الرَّجُلُ - چغلی کھانا۔ جھوٹ بولنا
- النِّيُوْبُ - فساد۔ چغھوری۔ چست
وچابک آدمی۔ رَجُلٌ نِيُوْبٌ وَاَذُو
نِيُوْبٌ - شریر آدمی۔
نِيُوْبٌ تِيْرَجَةٌ - الرَّجُلُ - چغلی کھانا۔
النِّيُوْبُ - چغھور۔ کپڑے کا بیل بولنا۔ بل
کی پھالی۔ غلہ گاہنے کا آلہ۔ تيز رفتار۔
النِّيُوْرُ - چھوٹا نیزہ۔ نیزہ کی طرح کا شعلہ
شباب ثاقب۔ ج۔ تِيَارِكٌ -
النِّيْسَانُ - ماہ اپریل۔
النِّيْعُ - کمزور۔ حرکت۔ موٹی سیبی۔

نَاخٌ يَنْبِيْضٌ نِيْضًا - العَرَقُ - رگ کا
حرکت کرنا۔
نَاخٌ يَنْبِيْطٌ نِيْطًا وَاَنْتَاطٌ وَاَنْتِيَاطٌ
دور ہونا۔
النِّيْطُ - مَمْرٌ - جازہ۔ موت۔ مَدَتٌ۔
نَاخٌ يَنْبِيْغٌ نِيْغًا - الغُصْنُ - ٹہنی کا جھکنا
صفت (نَايَغُ)
نَالٌ يَنْبِيْلٌ وَيِنَالٌ نَيْلًا وَاَنْلًا و
نَالَةٌ - الْمَطْلُوْبُ - مطلب پانا۔
حاصل کرنا۔ صفت فاعل (نَائِلٌ) صفت
مفعول (نَائِلٌ) امر (نَيْلٌ وَاَنْلٌ) -
نَالٌ مِّنْ فُلَانٍ - کسی کو گالی دینا۔ اس
پر عیب لگانا۔ نَائِلِيٌّ مِّنْ فُلَانٍ
مَعْرُوْبٌ - فلاں کی طرف سے مجھ کو
بھلائی پہنچی۔ نَالٌ مِّنْ عِرْضِ فُلَانٍ -
کسی کی بے عزتی کرنا۔ نَالٌ الرَّجِيْلُ -
کوچ کا وقت قریب آ پہنچنا۔
اَنْأَلٌ اِنَالَةٌ - فُلَانًا الشَّيْءَ وَاَلْفُلَانِ الشَّيْءَ -
کسی کو کوئی چیز حاصل کرانا۔
النَّائِلُ - حاصل کی ہوئی چیز
النَّيْلُ - مطلب۔
النِّيْلُ - دیرانے نیل۔ نیل کا پودہ۔ بادل۔
النَّالَةُ - گھر کا مہن۔
النُّوْلَةُ وَاَلنِّيْلَةُ - حاصل کر وہ شے۔
النِّيْلَجُ وَاَلنِّيْلَتَجُ - چربی کا کاجل جو
گودنے کے کام میں آتا ہے۔
النِّيْلَجُ - ییل کارنگ۔
النِّيْلُوْقُسُ - نیلوفر۔
النِّيُوْبُ مَشْتٌ - آدھا جھنکا ہوا۔
نَاقَةٌ يَنْبَاةٌ نِيْمًا - الشَّيْءُ - چیز کا بلند ہونا
پسند آنا۔
النَّائِلَةُ مَبْنِيَّةٌ وَاَنْبَاةٌ نَقَسٌ نَاهَةٌ - بدی
سے رکنے والا نفس۔
النَّاشِي - بالنسری۔ ج۔ نَائِيَاتٌ۔

و

ماؤ کی طرح مستعمل ہے
 (۱) حرف عطف جیسے جَاءَ زَيْدًا وَ
 عمرو
 (۲) واؤ حالیہ۔ یہ کبھی جملہ اسمیہ پر آتا ہے
 جیسے جَاءَ زَيْدًا الشَّمْسُ كَالْعَقَّةِ
 کبھی جملہ فعلیہ پر جیسے جَاءَ زَيْدًا
 وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ۔
 (۳) واؤ استیناف جیسے لَا تَأْكُلِ السَّمَكُ
 وَتَشْرَبِ اللَّبَنَ۔
 (۴) واؤ معیت جیسے سِرْتُ وَ
 الْجَبَلَ۔
 (۵) واؤ جو مضارع منصوب پر داخل ہو
 جیسے لَا تَنْتَهَ عَنْ خُلُقِي وَتَأْتِي
 مَغْلَةً
 (۶) واؤ قسم جیسے وَاللَّهِ الْعَظِيمِ
 (۷) واؤ معنی رُبَّ جیسے وَسَيَلُّ كَتُوجِ
 الْبَحْرِ ارْمِي سُدُودًا۔
 (۸) واؤ ضمیر جمع مکر جیسے قَامُوا۔
 (۹) واؤ علامت جمع مکر جیسے :
 يَكُونُ مَوْتِي قَوْمِي۔
 (۱۰) واؤ فصل جیسے عمرو میں حالتِ رفعی
 وجر میں تاکہ عمر سے اس کو امتیاز
 حاصل ہو۔
 (۱۱) واؤ زائد بعد الا جیسے مَا مِنْ أَحَدٍ
 إِلَّا لَهُ طَمَعٌ وَحَسَدٌ۔
 وا۔ نذر کے لئے مضموم ہوتی ہے جیسے
 وَالزَّيْدُ إِذَا رَدَّ كَبِيْرًا حَقِيْقَةً فِي
 مستعمل ہوتا ہے۔
 الْوَرِيْحُ وَالْوَرِيْحَةُ۔ رنگیتان میں
 سبزہ نازجہ و آخاٹ۔
 وَأَبَّ يَنْبُ وَأَبًا وَأَابَةً مِنْ فُلَانٍ
 کسی سے شرم دیا کرنا اور بھیجنا۔

وَسَبَّ يُوَابٍ وَأَبًا۔ غضبناک ہونا
 أَوْ أَبَةً وَأَثَابَةً۔ غضبناک کرنا
 کسی کے ساتھ شرم ناک بات کرنا
 حاجت سے ذلت کے ساتھ پھیر دینا
 أَتَابَ إِثَابًا۔ منہ۔ شرمناک ہونا
 الْإِبَةِ وَالتَّوْبَةَ وَالْمَوْءِبَةَ
 وَالْمَوْءِبَةَ۔ رسوائی۔ مار شرم
 الْوَأْبُ۔ مِنَ الْقِدَاحِ۔ بڑا پیالہ
 مِنَ الْعَوَافِرِ۔ متصل کناروں والا۔
 مضبوط کمر۔ وسیع۔ بڑا اونٹ۔
 جہ اذآب۔
 الْوَأْبَةُ۔ چٹان کا گریحار۔ وَالْوَيْبَةُ
 گراکنواں۔
 الْمَوْءِبَاتُ۔ رسوا کن باتیں۔
 الْوَأْبُجُ۔ سخت بھوک
 وَأَوْ يَسِيْدًا وَأُدَا۔ البذت۔ رکی
 کو زندہ درگور کرنا۔ صفت مفعولی
 (وَيْبًا وَيَيْدًا وَمَوْؤِدَةً) فُلَانًا
 بوجھل کرنا۔
 تَوَادَّ وَاتَّادَ۔ فِي الْأَمْرِ كَيْسِي أَمْرِي مِلْت
 وَا مِثْلِي سے کام لینا۔
 تَوَادَّتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ۔ زمین کا کسی کو
 چھپانا۔ فائز کرنا۔ الْمَرْأَةُ فِي
 قِيَامِهَا۔ ہماری بھر کم ہونے کی وجہ سے
 عورت کا ٹپکنا۔
 الْوَأْدُ۔ سخت دھماکا۔ اونٹ کی آواز۔
 الْوَيْبَةُ۔ سخت آواز۔ اونٹ کی
 بلہا ہٹ۔ پیروں کی آہٹ جو فور
 سے سنائی دے۔ فَتْنَى مَشِيًّا
 وِجْدًا۔ وہ سنجیدگی اور متانت کی چال
 چلا۔ (وَالْوَيْبَةُ وَالْوَأْدُ)۔
 سنجیدگی۔ متانت۔

الْعَوَائِدُ مِصْبِيْتِيْنِ۔
 وَأَرْيَدُ وَأَمْرًا وَأَوَانَةً۔ الرجل
 گھبرانا۔ النَّارُ وَالنَّارُ۔ آگ جلانے
 کے لئے گرہا تیار کرنا۔ وَوَأْدُ
 تَوَيْبًا۔ فُلَانًا مِصْبِيْتِيْنِ مِثْلُ
 أَوْ أَسْرًا إِتْيَارًا۔ بغزت دلانا۔ آگاہ
 کرنا۔
 اسْتَوَارَتِ الْوَيْبُ۔ اونٹوں کا ڈھک
 کر سہارے پر چڑھ جانا۔
 الْأَرْضُ جَمِراتٌ وَأَرْضُونَ وَ
 الْوَيْبَةُ جَمِراتٌ۔
 أَوْ وَأَوْسًا۔ آگ۔ رجھ میں پکا ہوا
 گوشت۔ دشمنی۔ آگ کی بھوک
 کولان کی چربی۔
 الْوَيْبَارُ۔ چکنی مٹی کے گروے۔ أَرْضُ
 وَوَيْبَةُ۔ سخت گرم زمین۔
 وَأَمْرِي يَبِيْعُ وَأَصًا۔ بِه الْأَرْضِ
 زمین پر دے مارنا۔
 تَوَأَصَ۔ الْقَوْمُ۔ اکٹھا ہونا۔ پانی
 پر بھینکا کرنا۔
 الْوَيْبَةُ۔ جماعت۔ مخلوق۔ مَا
 أَدْرِي أَيُّ الْوَيْبَةِ هُوَ۔ میں
 نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔
 وَأَطَّ يَبِيْعُ وَأَطًا۔ الْقَوْمُ۔ ملاقات
 کرنا۔ الشَّيْءُ۔ جوش میں آنا۔
 الْوَأْطَةُ۔ مِنَ الْأَرْضِ۔
 بند زمین۔
 مِنَ الْمَاءِ۔ پانی کی
 گرائی۔
 وَالْوَيْبُ وَالْوَيْبَةُ وَالْوَيْبَةُ
 وَالْوَيْبَةُ وَالْوَيْبَةُ
 مِنَ الْوَيْبَةِ۔ کسی سے نجات طلب کرنا

إِلَى الْمَكَانِ كَيْسِي مَكَانِ كِي طَرَفِ طَبَرِي
جَانَا وَ أَلْ فَلَائِنَا كَيْسِي سِي نَاهِ لَيْنَا -
إِلَى اللَّهِ رُجُوعُ كَرْنَار - وَ أَوَّلُ
الْمَكَانِ - جِبْر كَاتِي بِه مِيكْنِيوں دَالِي
هِيْنَا وَ أَوَّلُ الْمَكَانِ - جِبْر كَاتِي بِه
مِيكْنِيوں دَالِي كَرْنَا - أَوَّلَتْ
الْمَاثِيَّةُ فِي الْمَكَانِ أَو الْكَلَامِ
پیشاب اور میگنی سے خراب کرنا -
الْوَالِ وَالْمَوْتِ وَالْمَوَالَةِ
پناہ کی جگہ -

إِسْتَوَأَلْتُ إِسْتِيَانًا - الْإِبِلُ
اونٹوں کا جمع ہونا -

الْوَالَةُ - اِدْتِ الْبِكْرِيوں كِي تَه بِه مِيكْنِيًا
وَ اَمَمًا يَوْمِيَّةً كَوْنِيْمًا - بِشَكْلِ كَرْنَا
وَ اَمَمَةً وَ تَمَامًا وَ مَوَادِمَةً
موافقت کرنا تو ادر موافق ہونا
مناسب ہونا

اتَاءَتْ مَتَّ اِتَامًا - الرَّأْفَةُ عَوْرَتِ
کا جوڑواں بچے جتنا - صفت -
مُنْتَمِيمٌ -

الْوَامِرُ - كَرْمُ كَرْمِ
الْوَامَةُ - نَعَالُ آدَمِي
الْمَوَامِرُ - بِشَكْلِ بَرُطِي سِرْوَالَا -
الْمَوَامِيمُ - فَا - غِيَاؤُ مَوَامِيمُ -

مناسب -
وَ اَوَّلُ اَوَّلَاتٍ - الْكَلْبُ كُنْتِي كَا
بھونکنا -

وَ اَمِي سِي سِي وَ اَيَا سَوَدَه كَرْنَا - الشَّيْ
ذمہ دار بننا -

تَوَامِسِي قَوَامِيًّا - الْقَوْمُ مَجْمُوعُ هِيْنَا
اِتْمَامِي اِتْمَانًا - وَ عَدَه قَبُولُ كَرْنَا -

لَا سَوَامِي اِسْتِيَانًا - الرَّحِيلُ كَيْسِي سِي
وعدہ لینا -

الْوَامِي - مَعْرُومَه دِيم - كَمَانُ لُكُونِ
کی تعداد -

الْوَامِي - مِنَ الدَّرَابِ - سَهْبَتِي تِيْرُ رَقَار -
مؤنث و آة

الْوَامِيَّةُ - بَرُطِي بَرُطِي پَالِي - بَرُطِي
پیٹ والی اونٹنی -
(سوالرأية) بَرُطِي اِنْدِي اِبْرَا
پالہ -

وَبَّتْ يَوْمًا وَ تَبَا - لِرَاثِي فِي مَعْلَمِ كِي
لئے تیار ہونا -

وَ بَا يَوْمًا وَ تَبَا وَ تَبَا الْمَتَاعُ تَرْتِيْبِ
سے جمانا -

وَ بَا وَ اَوَّلًا لِيْنِي - اِشَارَه كَرْنَا -
وَكِي يَوْمًا وَ يَوْمًا وَ يَوْمًا
يَوْمًا وَ يَوْمًا وَ يَوْمًا وَ يَوْمًا
وَ اَبَا مَرَّةً -

وَدُوِّي يَوْمًا وَ يَوْمًا وَ اَوَّلًا الْمَكَانِ كَيْسِي
جگہ کا بہت و بارزہ ہونا -

اسم الِيسْمَةِ - كَوْنِيْمًا سَالِبِي شَمْرِ
کی آب و ہوا کرنا موافق پانا -

اِسْتَوِيَا اِسْتِيَانًا - الْمَدِينَةُ كَيْسِي
شہر کو بارزہ پانا -

الْوَبَا عَرَجُ اَوْبَامِ - وَالْوَبَا عَرَجُ اَوْبِيَّةُ
و باقی بیماری عام متعدی بیماری

الْوَبِي وَ الْوَبِي وَ الْوَبِي وَ الْوَبِي وَ الْوَبِي وَ الْوَبِي
زودہ جگہ -

الْمَوْبِي - فَا - تَمَوُّرُ اِبَانِي
وَبَّتْ يَبَّتْ وَ تَبَّتَا - بِالْمَكَانِ - اِتَامَتِ
کرنا - وَ تَبَّتَا - طَامَتِ كَرْنَا وَ كِي

دینا - عَارِدَانَا -
الْوَبَّتَةُ - الرِّزَامُ - جَبْرُوكِ - كَلِيْفَتِ وَه
طامت -

وَ يَبَّتْ يَوْمًا وَ يَبَّتَا - بِدَحَالِ اَوْرُكِمِ مَالِ
والا ہونا - صفت و بَدَّتْ - التَّوْبُ
کپڑے کا پرانا ہونا - التَّهَارُوتِ كَا

صفت گرم ہونا - عَلِيْمِي رُغْنِيَا كِ
ہونا

اَوْبِدَا اِيبَادًا جِدَا كَرْنَا
كَوْنِيْمًا - اَمَمًا لَمَمٌ - نَظَرُ لَكَانِي كِي
لئے مال کو متعین کرنا -

الْوَبْدُ - سِهَارُ كَا كَرْمَا -
الْوَبْدُ - مَمٌ - بِدَحَالِ تِنِكِ زَنْدِي -

رَوَا حَمِيْمٌ كَيْسِي اَوْبَادُ مَجْمُوعُ لَاتِي فِي
الْوَبْدُ - كَرْمِي - عَيْبِ سِهَارُ كَا كَرْمَا

الْوَبْدُ - بِيْوَا كَا - وَالْوَبْدُ سَهْبَتِي تِيْرُ
نَظَرُ لَكَانِي وَ اَلَا - قَوْمُ اَوْبَادُ
کنگال لوگ -

الْمُسْتَوْبِدُ - جَاهِلٌ مَقْلَسٌ
وَبِرُ يَوْمًا وَ يَوْمًا وَ اَوْبِرُ اِيْبَارًا
بہت پشم والا ہونا - صفت و بَرُ
وَ اَوْبِرُ مَوْنُثِ وَ بَرُ وَ وَ بَرُ

وَ بَرُ يَوْمًا وَ بَرُ - بِالْمَكَانِ - اِتَامَتِ كَرْنَا
وَ بَرُ - لِيْشَمِ دَارِ هِيْنَا - السُّطْبُ - لَوَا
کا نشان چھپانے کے لئے کسی سخت

زمین پر چلنا - الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ -
اتامت کرنا - فَلَاحُ كَيْسِي كَا بَهَا كَا
مترحل ہونا - تَمَاهُ زَمْدِي لِسِرْ كَرْنَا -

عَلِيَّةُ الْاَكْمَرِ - مَعَالِمِي رِيْوِيْهِ سَكْتَا
وَ بَرُوتِ النَّخْلَةِ - كَهْمَرُ كِي خَبْتِ
میں کا بھاؤ لینا -

الْوَبْرُ - سَرْدِي كِي سَاتِ دَنُوں مِيں سِي
ایک دن - تِي سِي سِي سِي اِيْكِ جَالُوْر
مؤنث الوَبْرَةُ جَرُ وَ كَوْنِيْمًا اَوْبَادُ

الْوَبْرُ - مَعْرُ - اَوْنُثِ اَوْرُطُ كَرْمِ كِي
بال جَرُ اَوْبَادُ - اَهْلُ الْوَبْرِ
دیہاتی لوگ -

كَيْسِي سِي - اَخَذَ الْمَشِي بَوْبِرُوكَا
یعنی سب چیر لے لی -

الْوَابِرُ - فَا - كَيْسِي سِي - مَا بِالْمَدَارِ
وَ اَبِرُ - كَرْمِي كَرْمِي نِيْسِي -

بَنَاتِ الْاَوْبِرِ وَ بَنَاتِ اَوْبِرُوكَا
قسم کی سانپ کی پھرتی -

مَارْفَاتِ . COM

مَارْفَاتِ . COM

مَارْفَاتِ . COM

مَارْفَاتِ . COM

لَقِيَتْ مِنْهُ بَنَاتٍ أَوْبُوْنَ فِي لَيْلٍ
 اس سے مصیبت پائی
 وَبِشِ يَوْبِشٍ وَبِشَا - الْكَلْبُ أَوْ
 جلد البعير - ناعن وغیرہ کا سفید
 داغ والا ہونا - صفت - وَبِشٍ -
 وَبِشٍ كَوَيْبِشٍ - الْجَمْرُ - چنگاری کا
 سُكْنَا - الْقَوْمُ فِي أَمْرٍ - ہر طرف سے
 بھیر کر کے آنا -
 لِلْحَرْبِ - رطائی کے لئے مختلف تباہی
 سے جمع ہونا -

أَوْبِشٍ - جلدی کرنا - أَوْبِشَتْ الْأَرْضُ
 مخلوط پودوں والی ہونا -
 الْوَيْشُ وَالْوَيْشُ - اونٹ کی جلد پر
 کھل کے داغ - ناخن کے سفید داغ
 الْوَيْشُ - جِجْ أَوْبِشٍ - کینے لوگ ویش
 الْكَلَامُ - روی کلام -

مَا بَلَغَ الْأَرْضَ إِلَّا أَوْبِشٌ
 مِنْ شَجَرٍ أَوْ نَبَاتٍ - اس زمین
 میں تھڑے بھرے ہرے اور
 متفرق درخت ہیں -

وَبِشٍ وَبِشٍ وَبِشٍ وَبِشٍ
 وَبِشَةٍ - چمکنا صفت - وَبِشٍ
 - الْجَمْرُ - پتے کا آگ میں کھونا
 وَبِشَتْ الْأَرْضُ - زمین کا بہت
 نباتات والی ہونا -

وَبِشٍ يَوْبِشٍ وَبِشٍ وَبِشٍ
 صفت وَبِشٍ -

وَبِشٍ - الْجَزْوُ - پتے کا آگ میں کھونا
 - لَهُ بَيْكِيْنِيْرٌ تَهْرُؤًا دِيْنَا -

أَوْ بِيْهَتْ النَّارُ - آگ کا روشن ہونا
 آگ کا شعلہ اٹھنا - أَبْيَعُ

وَأَبْيَعُ - سفید چمک دار
 الْوَابِئَةُ وَالْوَابِئَةُ - آگ

الْوَابِئَةُ - دھشت و خوف -
 مَا فِي النَّارِ وَالْوَابِئَةُ - آگ میں

چنگاری نہیں -

الْوَبَائِيُّ - چاند - بہت چمکدار -
 بَارِئٌ وَبَائِيٌّ - بہت بجلی چمکانے
 والا بادل -

وَبِطٌ يَبِطُ وَبِطًا - الْجَرْحُ - زخم کھرنا
 السَّحْبُ - کسی کی قدر ٹھکانا - ذلیل

کرنا - فُلَانًا عَنْ حَاجَتِهِ - کسی کو
 اس کی حاجت سے روک دینا - رُوِيْلًا

يُوِيْلُ وَيُوِيْلُ وَيُوِيْلُ وَبِطًا -
 وَوَبِطًا وَوَبِطًا وَبِطًا - کمزور ہونا

خسب و بردل ہونا -
 أَوْبِطٌ - اچھی طرح خون بہانا - اچھی طرح

قتل و غارت کرنا -
 الْوَابِطُ - خسب - کمزور - بردل -

اُتْرِيْ وَالْوَابِطُ كَمُرُوِي
 وَبِئِيْ يَبِيْ وَيُوِيْلُ وَيَبِيْ وَيَبِيْ

يُوِيْلُ وَيَبِيْ وَيَبِيْ وَيَبِيْ وَيَبِيْ
 وَاسْتَوِيْلُ - ہلاک ہونا صفت -

(وَابِيْ)
 أَوْبَعْدُ إِيْبًا قًا - ہلاک کرنا - ذلیل

کرنا - قید کرنا
 الْوَبِيْ - ہلاک کی جگہ - وعدہ کی جگہ -

بہتر خانہ - قیدیوں کے درمیان
 حاکم ہونے والی چیز -

فَلَانٌ يَزِيْبُ الْمَوْبِقَاتِ - فلاں غلط
 میں ڈالتا ہے وَيَفْعَلُ الْمَوْبِقَاتِ

فلاں مامی کا مرتکب ہوتا ہے -
 وَبِئِيْ يَبِيْ وَيَبِيْ بِالْعَصَا - گانا

لاٹھی سے مارنا - الْعَيْدُ - شکار کا
 تعاقب کرنا وَبِئِيْ السَّمَاءِ -

آسمان کا بہت بارش برساتا -
 وَيَبِيْ يُوِيْلُ وَيَبِيْ وَيَبِيْ وَيَبِيْ

وَوَبِيْ كَمَا - المَانُ - کسی جگہ کا مضر
 صحت ہونا - الشَّوْرُ -

سخت ہونا -

وَأَيْكَةُ مَوَابِلَةٍ - ہمیشگی کرنا -
 اسْتَوِيْلُ اسْتِيْبَالًا - المَانُ -

کسی جگہ کو مضر صحت پانا -
 اسْتَوِيْلُ اسْتِيْبَالًا - اونٹ کا پار

کے مضر صحت ہونے کی وجہ سے
 بیمار ہونا -

الْوَيْبُ وَالْوَابِلُ - بہت بارش بڑے
 بڑے قطروں والی بارش -

الْوَابِلَةُ - بازو یا ران کا اوپر کا حصہ -
 الْوَبَالُ - مع - شدت - سختی -

آب دہوا کی ناموافقت - بڑا انجام
 الْوَيْبَةُ وَالْوَابِلَةُ - بوجہ - شدت

آب دہوا کی خرابی - بد معنی -
 أَخَذَتْهُ وَبَيْتُهُ الطَّعَامُ أَوْ

أَيْكَةُ الطَّعَامِ - اُس کو کھانے سے
 بد معنی ہو گئی -

الْوَيْبِيُّ - سخت - مَرَعِيٌّ وَبَيْلٌ - مضر
 صحت - چراگاہ - طَعَامٌ وَبَيْلٌ

وہ کھانا جس کے مضر کا اندیشہ ہو -
 ناقوش بجانے کی کردی - نرم شاخ

دھوبی کی موگری کہتے ہیں اَبِيْلٌ
 عَنِيٌّ وَبَيْلٌ - لاشی سے سہارا

لینے والا بڑا معار - وَالْوَيْبَةُ وَ
 الْمَوْبِلُ وَالْمَيْبِلُ - مومٹی لاشی

کردی کا گٹھا -
 الْمَيْبِلُ وَالْمَيْبِلَةُ - کڑا - اچانک -

ج مَوَابِلٌ - مَا بِالْأَدَارِ
 وَايٌّ - گرمی کوئی نہیں -

الْوَيْبَةُ - اذیت - بھوک
 وَبِيْ وَبِيْ يُوِيْلُ وَيَبِيْ وَيَبِيْ

وَوَيْبًا وَأَوْبِيْ إِيْبًا هَا يَغْلُو
 وَيَبِيْ - بھنا - جانا -

فَلَانٌ لَا يُوِيْلُ بِهِ أَوْلَهُ
 فلاں کی پرہیز نہیں کی جاتی -

وَأَيْكَةُ مَوَابِلَةٍ - سخت رفتار

سے چلنا۔

وَاتَاةٌ مُّوَاتَاةٌ وَوَتَاةٌ عَلَى الْأَمْرِ كَامٍ
میں کسی کی موافقت کرنا۔

وَمُحْرٌ يُوْتَحُّ وَتَاتَةٌ وَنَحَّةٌ وَ
وَلَوْحَةٌ - الْعَطَاءُ بِخَبَشٍ كَامٍ هَبْنَا
وَتَحَّ يَتَحُّ وَتَحًا وَنَحَّةٌ - الْعَطَاءُ
بخشش کرنا

أَوْ تَحُّ زَيْنًا حَاوً وَتَحُّ تَوَيْبًا
- الْعَطَاءُ - بخشش - تھوڑی کرنا
- أَوْ تَحُّ الرَّجُلُ - آفت لاحق
ہونے سے کم مال والا ہوتا - مُلَانًا
ربیع و مشقت میں ڈان - كَرَّ الشَّيْءُ
کم کرنا

تَوْتَحُّ - تَوْتَحًا - مِنَ الشَّرَابِ -
تھوڑی پینا۔

الْوَتْحُ وَالْوَتْحُ وَالْوَتْحُ وَالْوَتْحُ كَامٍ هَبْنَا
رَجُلٌ وَتَحُّ خَيْسٍ أَدَى -
لَعَامًا وَتَحُّ - بے برکت کانا۔
مَا أَغْنَى عَنْهُ وَتَحَّةٌ - اس نے
اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔

وَتَحُّ يَتَحُّ وَتَحًا - الرَّجُلُ بِإِنْفَا
لاٹھی سے مارنا۔

أَوْ تَحُّ أَيَّتَا حَا - انہما مشقت کو
پہنچنا۔

الْوَتْحَةُ - كَيْبَرٌ - مَا أَغْنَى عَنْهُ
وَتَحَّةٌ - اس نے اس کو کچھ فائدہ
نہیں دیا۔

الْمَيْتَحَةُ - لَاطِي -
وَكَا يَتَلُّ وَتَدَا وَتَدَا وَوَدَا
الْوَتْدُ - مَيْحٌ كَرْدَانَا - الْوَتْدُ - مَيْحٌ
گالونا - وَتَدَا قِي بَيْتِيمِ - گرمی

اقامت کرنا وَتَدَا الدَّرَجُ بِنَابَاتٍ كَامٍ
پھوٹنا اور مضبوط ہونا۔

أَوْ تَدَا - أَيَّتَا دَا - الْوَتْدُ - مَيْحٌ كَرْدَانَا
الْوَتْدُ وَالْوَتْدُ وَالْوَتْدُ - كَمْرُنِي

کان کے سامنے کا اٹھا ہوا حصہ۔

جِ أَوْ تَادُ - أَوْ تَادُ وَالْأَرْضُ بِهَبْنَا
أَوْ تَادُ الْبِلَادِ - ملک کے رُوسا اور

بڑے لوگ - أَوْ تَادُ الْفِصْمِ دَانَتْ
اہلِ عَرَضٍ كِي اصطلاح میں تین مردوں
جن میں سے دوسرا تیسرا ساکن ہو تو وِتْدَا
مفروق کہلاتا ہے جیسے قَوْلُ أَدَاكَ
تیسرا ساکن ہو تو اس کو وِتْدَا مَبْرُوعٌ
کہتے ہیں جیسے عَلِيٌّ

الْمَيْتَدُ وَالْمَيْتَدَةُ - كَمْرُنِي كَرْدَانَا
کی بکری یا بوسے کی موگری

الْوَاتِدُ - فَا - ثَابِتٌ -
وَشَرِيَتْرُ وَشَدَا وَتِرَةٌ - فُلَانًا -
وَتَرِيَتْرُ وَتَرًا وَتِرَةٌ - فُلَانًا -

گہرا دینا کسی کو سنانا بکلیف پہنچانا
فُلَانًا مَالَهُ أَوْ حَقَّهُ مَالِ يَاحْتِ كَر
کم کرنا - الْعَوْمُ - رَمٌ كَرْدَانَا
الْعَوْمُ - کمان میں تانت لگانا۔

أَوْ تَوَاتِيَارًا - الْعَوْمُ - کمان کے لئے
تانت بنانا یا اس کا تانت مضبوط

باندھنا - الشَّيْءُ بِهَبْنَا كَرْدَانَا -
بَيْنَ الْأَشْيَاءِ - وَقَعْدَةٌ دَعَى كَر

برابر کرنا۔
وَأَتْرُ وَتَارًا وَوَاتَرًا - الْأَشْيَاءُ
وقف چھوڑ چھوڑ کر برابر کرنا - الْكُتُبُ
پے درپے بیچنا - الْعَوْمُ - ایک

دن یا دو دن بیچ روزہ رکھنا۔
وَتَرٌ - الْعَوْمُ - کمان کی تانت کٹنا

تَوَتَرٌ - الْعَصَبُ وَنَحْوَهُ - پٹھے وغیرہ
کاسخت ہونا۔

تَوَاتَرَتْ - الْأَشْيَاءُ - جِزْرُونَ كَامٍ
وقف کے ساتھ ایک دوسرے کے

پہچے آنا۔
الْوَتْرُ وَالْوَتْرُ - بے مثل - بدل لینا

بَدَلٌ لِيَنْفِي عَنِ الْمَكَرَةِ - أَوْ تَارُ
بَدَل لینا

الْوَتْرُ - جِجْ وَتَرَةٌ - کمان کی تانت - جِ
أَوْ تَارُ وَوَتَارٌ -

الْوَتْرَةُ - دو انگلیوں کے درمیان کی
کمال - کمان کے اوپر حصہ کی نرم بڑی

یا ناک کے بانسہ اور مونچھ کے درمیان
کا حصہ کمان سے تیر نکلنے کی جگہ - ہر

چیز کا خالص حصہ جِجْ وَوَتْرَاتُ
الْوَتْرَةُ - مَرِيْقَةٌ - بِيْعٌ كَامٍ وَقَفٌ - سستی

ایک دائرہ جس پر نیزہ کا استعمال کیا
جاتا ہے - قَبْرٌ - گھوڑے کی پیشانی

کا گول سفید نشان - بَدَلٌ لِيَنْفِي
میں ظلم کرنا - قَيْدٌ - تَاخِيْرٌ - ستموں

کے درمیان کی نرم بڑی - کمان کے
اوپر کی نرم بڑی - دو انگلیوں کے

درمیان کی کمال - ہونٹ کا حصہ - گھر
کے درمیان طاق بنا جو سفید زمین

گلاب کا شگورہ - سَبِيْلٌ دَائِلٌ -
تَتَوَيٌّ - بجائے وَتَوَيٌّ کے ایک ایک

کر کے آتا۔
الْمَوْتُوْرُ - مَقْتُولٌ كَامٍ وَوَتْرَةٌ -

لے کے۔
الْوَقْسُ - ہر تھوڑی چیز - رُفِيْلٌ لُوكٌ
وَتَحُّ يُوْتَحُّ وَتَحًا - گنہگار ہونا۔

دینی دنیا میں ہلاک و تباہ ہونا۔
وَرْدٌ مَدْمُونًا - بدخلق ہونا - طَامِتٌ

دہ ہونا - كَلْفٌ كَرْمِي تَاكْبِي كَرْنَا -
بُزِي بَابٌ كَرْنَا أَوْ ذَهَبٌ جَاهِلِي هَبْنَا

فی حجتہ - محبت میں لٹلی کرنا۔
أَوْ تَعَرَّ أَيَّتَا غَا - ہلک کرنا - تَمِيْدٌ كَرْنَا

مصیبت میں ڈان - وِرْوَاكٌ كَرْنَا
مُضْرِبَاتٌ كِي تَلْقِيْنٌ كَرْنَا أَوْ تَعَرَّ دِيْقَهُ

بِالْوَتْرِ - گناہ سے دین خراب کرنا۔
الْوَتْرَةُ - دِلُّ كِي غَلِي

الْمَوْتَقَةُ - ہلاکت
وَتَمَّ يَتَمُّ وَوَتَاةٌ سِيْقَةٌ - الْمَا

پانی کا ہمیشہ بہنا اور نہ رکنا۔
 — بالکان کسی جگہ اقامت کرنا
 (وَتَيْتَا وَيَتَيْنَا) الرجل بشارك پرمانا
 و تين بشارك پر چوٹ کھانا۔
 وَاَتَتْهُمُ امْتِنَةٌ جِئْنَا دوسرے
 کی طرح کام کرنا۔ وَاَتَى الْمَكَانَ
 کسی جگہ بہت دیر ٹھہرنا۔
 امْتَوْتَنَ الْمَالَ مویٹی کا موٹا ہونا۔
 الْوَاتِنُ فَا كسی جگہ ہمیشہ رہنے والا
 ج: و تين۔
 الْوَاتِنَةُ مَقْرُونٌ كَابِيحًا مخالفت
 الْوَاتِينُ مَعْرٌ دَلُّ كِي رُكٌ جِسْمٌ مِمَّا
 رُكٌ فِي خُونٍ جَاتَا جِسْمٌ
 وَ كَابِيحًا وَ تَيْتَا الْحَمُّ مَدْرَمٌ كَا كَرْتِ
 كَوْمَرُوهُ كَرْتَا الْوَاتِنُ كَهْوَنِي
 كَسْرُوں كَوْمَرُوں سَے چوڑا كَرْنَا۔
 اَوْتَاءٌ يَدَا بَاتِهٌ فِي مَوْجٍ وَا تَا
 وَ تَيْتٌ تَوْتَا وَ تَاءٌ وَ وُتَاءٌ وَ
 وُتُوًا وَ تَيْتٌ يَدَا بَاتِهٌ
 فِي مَوْجٍ آتَا صَفْتٌ وَ تَيْتَةٌ وَ
 مَوْتُوَةٌ وَ وُتَيْتَةٌ
 وَ تَوَةٌ يَوْتُوًا وَ تَاءٌ مَوْجٍ آتَا
 الْوَتَاءَةُ وَ الْوَتَاءَةُ مَوْجٍ
 الْوَتِيُّ لُزٌّ مَرْتَةٌ مَرْتٌ وَا
 الْمِنَاءَةُ مَرْتٌ مَرْتَةٌ كَا كَلِ
 وَ كَبَّ يَتِيٌّ وَ تَبَا وَ وُتُوًا وَ وُتَبَانَا
 وَ وُتَابَا وَ وُتَيْبَا وَ وُتَيْبَةٌ
 اَلْمُنَا كَهْرٌ اِهْرَانَا كَوْدَانَا بِيحَانَا
 وَ كَبَّ اِلَى الشَّرْفِ وَ تَبَا شَرَفٌ
 يَكُ اِيكٌ و م مَبْنِيَا
 وَ تَيْبَةٌ تَوْتِيَا كَدِي پَر بِيحَانَا
 مَبْنِيَا كَسْرٌ كَدِي بِيحَانَا
 اَوْ تَيْبَةٌ اِيْتَابَا كَوْدَانَا
 وَ تَيْبَةٌ مَوْتَيْبَةٌ جَلْدِي سَے لُزٌّ
 پَرْنَا

تَوْتَبٌ عَلِيْفِي اَرْمَنٌ جَانْدَا و پَر تَلْمٌ
 سَے قَبْضَةٌ كَرْنَا۔
 تَوَاتَبٌ الْقَوْمُ اِيكٌ دوسرے پَر
 حَمْدٌ كَرْنَا۔
 الْوَتَابُ تَحْتٌ بَسْتَرٌ مَبْنِيَا كِي جِگہ۔
 الْوَتَيْبِيُّ بَهْتٌ كَوْدَانَا وَا
 الْوَتَابُ بَهْتٌ كَوْدَانَا وَا
 الْمَيْتَبُ كَوْدَانَا وَا مَبْنِيَا وَا
 مَبْدُزِيْنٌ زَمُ زِيْنٌ نَدِي
 الْمَوْتَبَانُ اَمِنْ سَبْدَا و شَاه
 وَ تَجُّ يُوْتَجُّ وَ تَجَّةٌ كَارْحَانَا
 — الْفَرَسُ كَهْوَرٌ كَا مَوْتَا هُونَا
 — الْمَكَانُ كَسِي جِگہ كَا بَهْتٌ
 كَاسٌ وَا لِي هُونَا صَفْتٌ (وَتَيْبِي) اَوْ تَجَّةٌ اِيْتَابَا نِيَا دَه كَرْنَا۔
 اِسْتَوْتَجَّ الْمَالُ مَالٌ كَا بَهْتٌ هُونَا
 مِّنَ الْمَالِ مَالٌ زِيَا دَه لِيْنَا —
 الْفَرَسُ كَهْوَرٌ كَا مَوْتَا و ر كَهْوَرٌ
 بَدَنٌ كَا هُونَا — التَّبْتُ بِنَاتَا
 كَا كُنَا و ر كَهْوَرٌ هُونَا۔
 الْوَتَيْبِيُّ كَارْحَانَا كَهْوَرٌ بَدَنٌ كَا۔
 كَوْبٌ وَ تَيْبٌ كَفُّ بِنَا هُوَا كِرَا
 الْوَتَيْبِيَّةُ بَهْتٌ و ر خَمُوں وَا لِي زِيْنٌ
 كَهْوَرٌ و ر خَمُوں وَا لِي زِيْنٌ۔
 اَرْمَنٌ مَوْ تَيْبِيَّةٌ وَ مَتَيْبِيَّةٌ
 بَهْتٌ كَاسٌ وَا لِي زِيْنٌ۔
 الْمَوْتُوْبِيُّ مِّنَ الْتِيَابِ زَمُ نَا وُكٌ
 كَا كِرَا۔
 الْمَوْتُوْبِيُّ پَانِي كِي تَرِي۔
 الْمَوْتُوْبِيَّةُ كَارْحَانَا و دَه۔ چو لِي وَا ر
 زَمُ بَدِي۔ مَرْتَبُ كَهْوَرٌ كَاسٌ كَهْوَرٌ
 وَا لِي زِيْنٌ رَجُلٌ مَوْ تَيْبِيَّةٌ الْخَلِيْقُ
 وَ مَوْ تُوْبِيَّةٌ كَرُوْدٌ و حَسْمٌ وَا لِي۔
 وَ كَرُوْدٌ و مَوْ تُوْبِيَّةٌ الْفَرَاشُ
 كَهْوَرٌ كَا مَالٌ مَبْنِيَا صَفْتٌ:

و تَيْبٌ لَحْمَةٌ پَر كَرْتِ بِنَا۔
 الْمَرْجُلُ مَوْتَا هُونَا۔
 وَ كَرُوْدٌ و كَرُوْدٌ وَ وُتُوَا الْفَرَاشُ
 بَسْتَرٌ كَوْرَمٌ و مَالٌ كَرْنَا۔
 اِسْتَوْتَجَّ الْفَرَاشُ بَسْتَرٌ كَوْرَمٌ
 مَالٌ پَانَا مِّنَ الْمَالِ مَالٌ بَهْتٌ
 مَانَا لِيْنَا۔
 الْوَتَبِيُّ فَا مَبْنِيَا قَدَمٌ
 الْوَتَبِيُّ تَسْمٌ كِي طَرَحٌ لِيْبَانِي مِيں كَا مَالٌ
 هُوَا كِرَا صَدْرِي كَسْرٌ مَانَدٌ كِرَا
 كَا لِيْبَانِي۔
 الْوَتَبِيُّ سَبُّ كِرَا و سَے اِدِر سَبُّ وَا لِي
 كِرَا زَمُ بَسْتَرٌ۔
 — وَا لِي مَبْنِيَا كَهْوَرٌ كِي زِيْنٌ پَر
 وَا لِي كَا كِرَا مَالٌ هُوَا اِسْتَوْتَجَّ
 الْوَتَبِيُّ وَا لِي زَمُ و مَالٌ۔
 الْوَتَبِيُّ مَوْتَبُ الْوَتَبِيُّ بَهْتٌ
 كَرْتِ وَا لِي جِ وَا لِي وَا لِي۔
 الْوَتَبِيُّ زَمُ بَسْتَرٌ۔
 الْوَتَبِيُّ وَا لِي وَا لِي بَسْتَرِي اَفْرَشٌ كِي
 مَالٌ۔
 الْمَوْتَبِيُّ وَا لِي مَبْنِيَا و ر دِنْدُوں كِي كَهْوَرٌ
 رَشْمٌ و وِيْبَا جِ كِي نَبِي هُونِي
 وَ تَيْبٌ وَ تَيْبٌ وَ تَيْبٌ مَالٌ۔ سَر
 تَوْرَانَا۔
 الْوَتَبِيُّ مِّنَ الْمَطْرِ تَهْوَرِي بَارَشٌ
 الْوَتَبِيُّ مَوْسِمٌ بَهَارٌ كِي كَهْوَرٌ
 كَاسٌ۔
 وَ تَيْبٌ يَتِيٌّ وَ تَيْبٌ وَ وُتُوَا وَا وُتَبُ
 الْقَدَارُ مَبْنِيَا كَسْرٌ چَلَا بِنَانَا۔
 وَ كَرُوْدٌ يَتِيٌّ يَتِيٌّ وَ وُتُوَا وَا وُتَبُ
 بِنَانَا۔ اَقْبَارٌ كَرْنَا مَهْرُوْدٌ كَرْنَا۔
 صَفْتٌ قَالِي وَا لِي صَفْتٌ مَعْوَلِي (مَوْ تُوْبِيَّةٌ)
 وَ تَيْبٌ يَتِيٌّ وَ تَيْبٌ كَسْرٌ۔ اَلْمَوْتَبِيُّ
 قَوِي مَبْنِيَا مَبْنِيَا مَبْنِيَا۔

وَتَّقِ الْأَمْرَ - مضبوط کرنا۔ الرجل
کسی کو معتبر جاننا۔ معتبر کرنا۔
أَوْثَقًا أَيَّتَا - رسی سے مضبوط بازو
قَاتِقًا وَمَعَا قًا وَهُوَ أَثَقًا - مابہرنا
كُوْنُ الْقَوْمِ - باہم عہد پیمان کرنا
اسْتَوْثَقَ مِنْهُ - عہد پیمان کرنا۔ یا
رثیہ لینا۔ من الأموال حالت
میں مبالغہ کرنا۔
الثقة - ہم قابل بھروسہ (واحد جمع مؤنث
مذکر سب یکساں) فَلَانْ ذُو ثِقَةٍ فَلَانْ
بہادری
الوثاقی الوثاقی - ہانڈھے کی چیز رسی
وغیرہ ج و ثقی -
الوثیقی - مضبوط ج و ثاق -
الوثیقۃ - مؤنث الوثیقی - قابل
اعتماد کام کی مضبوطی۔ بہت گھاس والی
زمین ج و ثاقیق -
الأوثاق - اسم تفضیل مؤنث و ثقی
الموثق والمیشاق - مرد ج موثقی
وَمِيَاتِي وَمَوَاتِي وَمِيَاتِي
وَمَلِّ الْمَالِ - مال جمع کرنا۔ الثقی
جہر کہ مضبوط کرنا۔
الوثق - کھور کے ریشوں کی رسی -
جرے کا میل کجیل
الوثقیل - کھور کے ریشوں کی رسی -
وَتَمَّ يَتَمُّ وَتَمًّا - الثقی -
ترونا۔ کو تروتم المطا الارض
بارش کا زمین پر نند سے برسنا۔
الفرس الأوثق - گھوڑے کا
زمین پر گھراننا۔
وَتَمَّتْ وَتَمًّا وَتَمًّا مَا الْجَاهِدُ
تَجَلَّ - پتھر کا پاؤں کو خون آلود
کرنا۔
وَتَمَّ يَوْمًا وَتَمًّا - المكان جگہ
کا گھاس والی ہرنا۔

وَتَمَّ يَوْمًا وَتَمًّا - پتھر گشت
اور گھیلے بدن کا ہونا۔ صفت
ر و شیعہ
وَأَسْمَ قَوَاتِمَةَ - فی العدد۔ دوتا
الوثیقۃ - پتھر۔ چقماقی کا پتھر۔
گھاس یا نباتات کا ڈھیر۔
الوثق - قلت۔ کمی حُفَّ مِثْلِنِمْ
بہت پامال کرنے والا کھر۔
وَسَنَ يَتَمُّ وَكُوْنًا - عہد پر مجھے ہونا
ثابت رہنا۔
أَوْثَقًا أَيَّتَا - بہت بخشش کرنا
بہت عطیہ دینا۔ من المال۔ بہت
مال لینا۔
اسْتَوْثَقَ اسْتَيْثَقَاتًا - الثقی، باقی
رہتا۔ مضبوط ہونا۔ من المال؛
بہت لینا۔
الواشع - فا۔ قائم و ثابت ج۔
وَتَمَّ -
الوثقی - جب ج اوثقان و وثق
وُثُقًا وَأَثَقًا -
الوثقی - بت پرست۔
وَمِيَاتِي وَتَمَّ وَتَمًّا - یادہ۔ ہاتھ
میں پورج آہانا۔
أَوْثِي أَيَّتَا - الرجل، زخمی جالور
والا ہونا۔
الوثقی - مویج۔ الوثقی - کلینین۔
المیشاقۃ - مگرگی - پتھر ہوا۔
وَجَّ يُوْجُّ وَجًّا - ہلکی کرنا۔
الموج - مہر۔ تیزی۔ غرر مریج۔
صبت تیر۔ ہلکی کرنا۔ ایک دوا
وَجَّ يُوْجُّ وَجًّا وَجًّا وَتَمَّ
فَلَا نَا بَالَسْ حَلِيمًا أَوْ بِيَدًا
چھری یا ہاتھ سے مارتا صفت مغولی
مَوْجُوْءٌ وَوَجَّيْ رَسْمٌ الْوَجَّ
ضرب کرنا۔

وَجَّ يُوْجُّ وَجًّا - البسوا۔ اندھا
کنزاں پانا۔
أَوْجَاتٍ - البسوا۔ کنزیں کا پانی ظم
ہونا۔ أَوْجَاتُ الرَّجُلِ، کسی
کا ناکام ہونا۔
فَلَا نَا عَسَهُ - دور کرنا۔ بٹانا۔
إِتِّجَاءُ التَّمْرِ - کھور کا گرو سے مار
ہونا۔
الْوَجَّ وَالْوَجَّ وَالْوَجَّ
اندھا کنزاں
الْوَجَّ - گائے۔ کھور۔ بڑی
اور گھی سے تیار کردہ کھانا۔
وَجَّبَ يَجِبُّ وَجْجًا وَجْجَةً
المنی - ثبات و لازم ہونا۔
(— وَجْجًا) الْعَائِدُ وَتَمَّ
دیوار وغیرہ کا زمین پر گرنا۔
الرجل - دن میں ایک ہی دفعہ
کھانا۔
ر— وَجَّ وَجْجًا الْوَجَّ
گرنا اور مرنا۔ کہتے ہیں۔ طرَبَةٌ
فَوَجَّجَ - مزب کھا کر مرنا ہوا۔
گرنا۔ فَلَا نَا عَسَهُ مِثْلِنِمْ بٹانا
وَجَّبَتِ التَّمْرُ - سورج کا
ڈوبنا۔ العین - آنکھ کا گڑھے
میں بیٹھنا۔
وَجَّبَ وَجْجًا وَجْجًا وَجْجًا
القلب۔ دل دھڑکنا۔
وَجَّبَ يُوْجُّ وَجْجًا وَجْجًا -
بڑا دل ہونا۔ وَجَّبَ۔ دن میں
صرف ایک مرتبہ کھانے کو کھانا۔
— دن میں ایک مرتبہ کھانے
کا عادی بنانا۔ — الناقہ
دن رات میں صرف ایک مرتبہ
ادھنی کر دینا۔ — الأثر
علینہ۔ لازم کرنا۔

بہا کلام ص - زمین پر گرا دینا۔
 وَجِبَتِ الْإِبِلُ - اونٹ کا تھکا۔
 وَجِبَتِ الْبَاقِي ضَرْعِ النَّاقَةِ
 کھیں کا تھن میں جم جانا۔
 الْبَعِيرُ - اونٹ کا بیٹھا۔
 أَوْجِبَ إِجَابًا - لفلان حَقُّهُ -
 کسی کے حق کی رعایت برتنا۔
 الشَّيْءُ - کسی چیز کو واجب جانایا
 کرنا۔ أَوْجِبَ الْبَيْعُ - بیع لازم کرنا۔
 الرَّجُلُ - دن میں صرف ایک مرتبہ
 کھانا۔ ایسا کام کرنا جس سے انسان
 دوزخ یا جنت کا سزاوار ہو۔
 اللَّهُ قَلْبَهُ - دل کو دھڑکانا۔
 وَاجِبًا وَجِبَابًا وَوَجِيبًا -
 لازم کرنا۔ تَوْجِبُ - دن میں ایک
 مرتبہ کھانا۔
 تَوَاجِبُوا - باہم شرط کرنا
 اِسْتَوْجِبَ اِسْتِجَابًا - اِشْيَءٌ - کسی چیز کا
 حق دار ہونا۔ کسی شے کو واجب و لازم
 جانا۔
 الْوَجِبُ - چمڑے کی بڑی مشک۔ ج۔
 وَجَابٌ (دالوجاب والوجابہ)
 بزل۔ قَلْبٌ وَجَابٌ - بہت دھڑکنے
 والا دل۔
 الْوَجِبُ - گھوڑ دوڑ کی شرط۔
 الْوَجِيبَةُ - دھاگہ۔ دن۔
 الْوَجِيبَةُ - دھاگے کے ساتھ گدنا۔
 ج۔ وَجِبَاتٌ -
 الْوَجِيبَةُ - وہی بیع کو واجب کرنا۔
 خِطَاكُ الْاِوَدُنْسُ -
 واجب الوجود۔ ضروری ہستی۔ اپنی ذات
 میں موجود۔ یا قائم بالذات (غدا)
 الْمَوْجِبُ - نا۔ باعث۔ سبب۔
 الْمَوْجِبُ - بفع۔ من الكلام۔ وہ کلام
 جس میں نہ نفی ہو نہ ہی اور نہ استفہام۔

الْمَوْجِبَةُ - بڑی نیکی یا بڑا گناہ۔
 الْمَوْجِبُ - موت۔ ج۔ مَوَاجِبُ -
 الْمَوْجِبُ - مرتبہ کی جگہیں۔
 وَجِبَةُ الشَّيْءِ - چیز کا ظاہر ہونا۔
 أَوْجِعُ - نماہر ہونا۔ الْخَافِضُ - کھونٹے
 والے کا چکنی چٹان تک پہنچانا۔
 الْمَيْجِرُ وَالْمَيْجِرَةُ - منہ میں دو اڈانے
 کا آلہ۔
 الْمَيْجَسُ - گیند کو پھلانے کا بلدہ۔
 وَجَنُّ يَجْنُ وَجَنًّا - الْكَلَامُ - کلام کو مختصر کرنا۔
 دَوَّجَنُ يَدَوِّجُنُ وَجَنًّا أَوْ دَوَّجَانًا تَخَفَّرُ
 دوجوڑنا۔ الرَّجُلُ فِي مَنطِقَةٍ - مختصر
 گفتگو کرنا۔
 وَجَنُّ يَوْمِنَا وَجَنًّا تَخَفَّرُ - الْكَلَامُ - کلام کا
 مختصر اور بلیغ ہونا۔
 أَوْجِنُ إِجَانًا - الْكَلَامُ - کلام کا مختصر ہونا
 الْكَلَامُ فِي الْكَلَامِ - مختصر ہونا۔
 الْعَطِيَّةُ - عطیہ جلد دینا۔ تَوْجِنُ الشَّيْءِ
 حاجت پورا کرنے کے لیے رضاعت کرنا۔
 اِسْتَوْجِنُ اِسْتِجَانًا - الْكَلَامُ - کلام میں سے
 زوائد کو حذف کرنا۔ الْوَجْنُ - الرَّجُلُ
 وَجَنًّا - جلدی کرنے والا۔ پھرنیلا۔
 دالوجیز والواجز) ہلکا اور مختصر
 مِّنَ الْكَلَامِ - مختصر اور جلد سمجھ میں آنے والا
 کلام۔
 الْمَيْجَانُ - مختصر کلام کرنے والا۔
 وَجِسَ يَجِسُ وَجَسًا - پوشیدہ ہونا۔
 وَجِسَتِ الْاِذْنَ كَانُ الْاِسْمِ مَسْمُوسًا
 کرنا۔ (دَجَسًا وَوَجَسَانًا - سُئِيَ هُوَ تَوَى
 بات سے ڈر مسوس کرنا۔
 اَوْجَسَ اِجْسًا - الرَّجُلُ - مسوس کرنا۔
 دل میں چھپانا۔
 اَوْجَسَ الْقَلْبُ فَرَعًا - دل کا گھبراہٹ
 مسوس کرنا۔ اَوْجَسَتِ الْاِذْنَ -
 کان کا آواز سننا۔

تَوْجِسُ - آہستہ آواز پر کان لگانا۔
 الطَّعَامُ اَوَالِ الشَّرَابِ تَقْوَرًا تَقْوَرًا كَمَا
 يَابُنَا - فَرَعًا - گھبراہٹ محسوس کرنا۔
 الصَّوْتُ - ڈر سے سننا۔
 تَوْجِسَتِ الْاِذْنَ - کان کا آواز سننا۔
 الْوَجِسُ - مہم۔ پوشیدہ آواز۔ دل کی
 گھبراہٹ۔
 الْوَجِسُ - دل میں آنے والا خیال۔
 الْاَوْجِسُ - تھوڑی خود دوش۔ زمانہ۔
 لَا اَفْعَدُ - جیسی الْاَوْجِسُ -
 میں اس کو کبھی نہیں کروں گا۔
 وَجَعٌ يَوْجَعُ وَجَعًا - بیمار ہونا۔ درد مند
 ہونا۔ وَجَعٌ فُلَانٌ مَرَأْسَهُ وَوَجَعٌ
 فُلَانٌ رَأْسَهُ - فلاں کے سر میں درد
 ہے۔
 اَوْجَعُ اِجَانًا - دکھ دینا۔ تکلیف پہنچانا۔
 تَوْجَعٌ - شکایت کرنا۔ غم ظاہر کرنا۔
 لَمًا - نرم دل ہونا۔
 الْوَجَعُ - بیماری۔ دکھ۔ ج۔ وَجَاعٌ
 وَاَوْجَاعٌ -
 الْيَوْجَعُ - درد مند۔ ج۔ وَجَعُونَ -
 دَوَّجَعِي دَوَّجَاعِي دَوَّجَاعٌ وَادْبَاءُ
 مَوْتٌ وَجَعَةٌ ج۔ وَجَاعِي دَوَّجَعَاتٌ
 الْعِجَعَةُ - بڑی تکلیف۔
 الْاَوْجَعُ - بہت تکلیف پہنچانے والا۔
 الْوَجَعَاءُ - دُؤْرٌ - ج۔ وَجَعَاتٌ -
 الْوَجِيعُ - درد پہنچانے والا۔
 وَجِفٌ يَجِفُ وَجَفًا وَوَجِيفًا وَوَجِيفًا
 الشَّيْءُ - مضرب ہونا (وَجِيفًا) الْقَلْبُ
 دل دھڑکانا۔ صَفَتٌ وَجَافٌ وَاَوْجِفٌ
 رَوَّجَفًا وَوَجِيفًا - الْفَرَسُ -
 گھوڑے کا تیز دوڑنا۔
 صَفَتٌ وَاجِفٌ -
 اَوْجِفَ الْفَرَسُ - گھوڑے کو تیز دوڑانا
 الشَّيْءُ - حرکت دینا۔ مضرب کرنا۔

الباب۔ دروازہ بند کرنا۔
 استوجف۔ الحب فواد کا محبت کا
 دل کو چین لینا۔ ناقمہ میخاف۔ تیز
 دوڑنے والی اونٹنی۔
 الوجیف۔ ہم خوف سے گرنا۔
 الوحاق والأحاق۔ چولہا۔ فوج کی
 ترتیب۔ ج وجہات۔
 وجل یوجل وجلا وموجلا۔ ڈرنا یا
 ڈر محسوس کرنا۔
 وجل یوجل وجلا۔ ڈر میں بڑھ جانا۔
 وجل یوجل وجلا۔ بڑھا ہونا۔
 واجلہ مواجلتہ فوجلہ۔ خوف
 میں مقابلہ کرنا۔
 اوجلہ۔ خوف زدہ کرنا۔
 الوجل۔ خوف۔ ج اوجال۔
 الوجل۔ ڈرنے والا۔ ج ووجلون و
 ووجل۔ موت ووجلتہ
 الاوجل۔ ڈرنے والا۔ موت ووجلتہ
 الوجیل والموجل۔ وہ گڑھا جس میں
 پانی جمع ہو۔ الموجل۔ خوف کی جگہ۔
 الوجول۔ بڑھے۔
 وجمہ یجمہ وجمما۔ مکا مارنا۔
 رؤبما ووجوما غصہ یا خوف کی
 وجہ سے گفتگو سے عاجز رہنا۔ غم
 کی زیادتی سے ترش ہو کر سر جھکا لینا
 صفت وجمہ وواجمہ۔ وجمہ
 من الامیر۔ ناپسند کر کے ہٹ جانا۔
 الشئ۔ کسی شئی کو ناپسند کرنا۔ وجمہ
 یفلان من کذا۔ کسی پر دل دکھانا۔
 غم کھانا۔
 الوجمہ۔ رجل وجمہ۔ ردی آدمی۔
 وجمہ سووہ برا آدمی۔
 الوجمہ۔ بخیل۔ کینہ۔ ہلکا پھلکا۔
 الوجمہ والوجمہ۔ ٹیلوں یا قروں پر تھپڑ
 کا ڈھیر یا جنگلوں میں راستہ کے نشانات

ج وجوم وادبام بیت وجمہ
 وجمہ۔ بڑا۔ گھر۔
 الاوجمہ۔ اسم تفضیل۔ اوجمہ الرمل
 ریت کا بڑا قطعہ۔
 الوجمۃ۔ ایک مرتبہ کی خوراک۔
 الوجیم۔ من الايام۔ سخت گرم دن۔
 وجن یجن وجمنا۔ بالشیء۔ پھینکا۔
 الوند۔ کھنٹی۔ ٹھونکا۔ یا الارض
 زمین پر پھینکا۔ القصار الثوب۔
 دھوبی کا کپڑے کو کوٹنا۔
 وجن۔ العجلہ۔ چڑھے کو نرم کرنے کے
 لیے کوٹنا۔
 توحن۔ ذلیل و عاثر ہونا۔
 الوجنتہ والوجنتہ والوجنتہ و
 الوجنتہ والاجنتہ والاجنتہ
 والاجنتہ۔ گالوں کا اہرا ہوا حصہ
 رخسارہ۔ ج وبنات۔
 الوجن والوجن والواجن۔ سخت
 پتھریلی زمین۔
 الوجین۔ وادی کا کنارہ۔ سامنے کی پتھری
 اور قدرے اونچی زمین۔
 الاوجین۔ سخت پہاڑ۔ بڑے رخساروں
 والا۔ مؤنث وجمنا۔ ناقمہ وجمنا
 سخت اونٹنی۔
 الموجلین۔ بڑے رخساروں والا۔ بہت
 گوشت والا۔
 المیجنتہ۔ دھوبی کی کپڑے کوٹنے کی موگڑی
 ج میاجت وواجن۔
 الموجلون۔ مغم۔ شرمندہ۔
 وجمہ یجمہ وجمما۔ فلانا۔ منہ پر
 مارنا۔ وجاہت میں بڑھ جانا۔
 وجمہ یوجہ وجمہ۔ ذی وجاہت ہونا
 وجہ۔ الی فلان۔ کسی کی طرف جانا۔
 الی فلان۔ بیعتا۔ کا الامیر۔
 باعزت بنانا۔

وجہ الشئ۔ چیز کو کسی کی طرف پھیر
 دینا۔ المقوم طریق قوم کا راستہ پر
 چلنا اور نشان واضح کرنا۔ بعید ہ۔
 کسی کا اپنے غلام سے کٹنا کہ تو میرے
 مرنے کے بعد آزاد ہے۔
 المطر الامین۔ بارش کا زمین پر ایک
 روش سے پڑنا۔ اور زمین پر نشان ڈال
 دینا۔ الریح المحضی۔ ہوا کا کٹکریاں اڑانا۔
 المیت۔ میت کا چہرہ قبلہ کی طرف
 کرنا۔
 اوجہ ایجاہا۔ الرجل وجہہ بنا۔ وجہہ پانا۔
 رد کرنا۔
 واجبہ وجاها ومواجفہ۔ آمنے سامنے
 ہونا۔ توجیما۔ ایہ۔ متوجہ ہونا۔
 قصد کرنا۔ العیش۔ توج کا شکست
 کھانا۔ ایشغ۔ بڑھا ہونا۔
 تواجہ۔ الرجلان او المنزکان۔ دو
 آدمیوں یا مکانوں کا آمنے سامنے ہونا۔
 ایجہ۔ ایہ۔ متوجہ ہونا۔ بہ مراعی۔
 راستے سوچنا۔
 الوجہ۔ ج اوجک۔ وجوہ و اجوہ
 چہرہ۔ وجہ الثوب و نحوہ۔ کپڑے
 وغیرہ کا سامنے کا پہلو۔ وجہ اللہ
 زمانہ کا شروع۔
 الوجہ۔ مع حبت۔ قصد نیت۔ وہ کام
 جس کی طرف انسان متوجہ ہو۔ مرتبہ۔
 وجہ الكلام۔ کلام کا مقصود۔
 رضامندی۔ فعل ذلك لوجه الله
 اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ
 کیا۔ حنوب وجہہ الامور عینہ
 یعنی اس نے کام کی اچھی تدبیر کی۔
 معنی علی وجہہ۔ وہ بے پروا ہی
 سے چلا۔ ابین وجہہ و یبین
 اللہ وجہہ۔ یہ اس وقت کہتے ہیں
 جب کہ کوئی قابل تعریف کام کرے

اسودَّ وَجْهَهُ اَوْ سَوَّدَ اللهُ وَجْهَهُ
یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کہ کوئی
قابل ملامت کام کرے۔ ج. وَجْوَا
قوم کا سردار۔ رَجُلٌ وَجِيهٌ۔ صاحب
عزت و قدر آدمی۔

الْوَجِيهَةُ نَزْعٌ قَمِيٌّ لَيْسَ لِكَلَامِكَ
وَجِيهًا۔ تمہارے کلام کے لیے کوئی
وجہ محنت نہیں۔ لِهَذَا الْقَوْلِ وَجِيهَةٌ
اس قول کا ماخذ ہے۔ فَلَانٌ أَحْسَنُ
الْقَوْمِ وَجِيهًا۔ فلاں قوم میں سب
سے اچھی حالت میں ہے۔ رَجُلٌ
ذُو وَجِيهَيْنِ۔ وہ شخص جو خلاف
ضمیر ظاہر کرے۔

الْوَجْهَةُ وَالْوَجِيهَةُ۔ تھوڑا پانی۔

الْوَجْهَةُ وَالْوَجِيهَةُ۔ صاحب جاہ و مرتبہ۔
الْجِهَةُ وَالْجِهَةُ وَالْجِهَةُ ج. جِهَاتٌ
وَجِهَاتٌ وَجِهَاتٌ وَالْوَجِيهَةُ
وَالْوَجِيهَةُ۔ جانب۔ گوشہ۔ جس کی
طرف توجہ ہو۔

الْوَجِيهَةُ۔ مرتبہ۔ عزت۔

التَّوَجِيهَةُ۔ معنی علم العروص۔ رومی مقید
کے قابل عرف کی حرکت کا اختلاف۔
رومی مطلق اور تائیس کا درمیان۔

هُمُورٌ وَجَاةٌ الْفِئَةِ۔ وہ ہزار کے قریب ہیں
کہا جاتا ہے۔ وَجَاهَةٌ وَجَاهَةٌ
وَوَجَاهَةٌ وَتَجَاهَةٌ وَتَجَاهَةٌ
وَتَجَاهَةٌ۔ سامنے۔ مقابل۔

الْوَجِيهَةُ قَوْمٌ كَسْرًا۔ صاحب و جاہت
ج. وَجِيهَةٌ مَوْنٌ وَجِيهَةٌ۔ ج۔
وجیہات و جاہت۔ الْوَجِيهَةُ
مَنْ الْاَلَيْتِي دُرُخِي چادر۔

الْوَجِيهَةُ۔ مَوْنٌ الْوَجِيهَةُ۔ ایک دو
رُخَامِرُہ کہ جس کو نظر بد سے بچنے کے
لیے یا حصول عزت کی خاطر گردن میں
لٹکاتے ہیں۔

الْاَوْجَةُ۔ اسم تفضیل هُوَ اَوْجَةُ قَوْمٍ
وہ قوم میں سب سے زیادہ و جاہت
کا نالک ہے۔ کہتے ہیں۔ لَقَطُوا
اِلَى بَاوَجِيهَةٍ سُوْعَةٍ انہوں نے میری
طرف سے بُری نظر سے دیکھا۔

الْمَوْجِيهَةُ۔ مرتبہ والاسون الکساء۔
دورُخِي چادر۔ شَيْءٌ مَوْجِيهٌ۔ ایک
دُغْبُک پر بنی ہوئی چیز۔

المَوَاجِيهَةُ۔ ملاقات۔ تعریف۔ وَجِيهٌ
یعنی وَجِيهًا۔ الرِجُلُ۔ کسی کو نکمیا پانا
وَجِيهٌ يُوَجِيهُ وَجِيهًا۔ الماشِي۔ ننگے

پاؤں ہونا یا چلنے سے پاؤں گھسنا۔
صفت و ج. وَجِيهٌ مَوْنٌ وَجِيهَةٌ
وَوَجِيهَةٌ۔

اَوْجِيهٌ اِيْجَاءٌ۔ پاؤں گھسنا۔ دینا۔ علیہ
بغل کرنا۔ عن کذا۔ اعراض کرنا۔

الشيء دور کرنا۔ فلاناً۔ حاجت سے
پھیر دینا۔ اَوْجِيهٌ عَنكُمْ ظَلَمَ
فلان۔ میں نے تم سے نڈال کے ظلم
کو دور کر دیا۔ اَوْجِيهٌ الرِجُلُ۔ حاجت
کے لیے آنا اور ناکام واپس ہونا۔

سَأَلَ حَاجَةً فَاَوْجِيهٌ۔ اس نے حاجت
کا سوال کیا اور محروم رہا۔ اَلْمَوْجِيهَةُ
چھوٹی بوری۔ الْوَجِيهَةُ۔ ناکارہ۔

وَجِيهٌ يُوَجِيهُ وَجِيهًا۔ پناہ لینا۔ اَوْجِيهَةٌ
پناہ دینا۔

وَحَدِيحٌ وَحَدًا اَوْ وَحَدَةً وَحَدَةً
وَوَحْدَةٌ وَوَحْدِيحٌ وَوَحْدَةٌ
وَوَحْدَةٌ۔ اکیلا ہونا۔ صفت و جید۔
وَحْدَةٌ تَوْحِيْدٌ اَوْ اَحَدٌ۔ ایک بنانا۔

وَحَدًا اللهُ تَعَالَى۔ ایک خدا پر ایمان
لانا۔ یکناکہنا۔ يَا كَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ۔
کہنا۔

اَوْحَدٌ اِيْحَادًا۔ اکیلا چھوڑنا۔
لَا ثَانِي جَانَا۔ اَوْحَدٌ لِّلْاَعْدَاءِ

دشمن کے سامنے اکیلا چھوڑ دینا۔
اَوْحَدَاتِ الشَّاتِہِ۔ بکری کا
ایک بچہ بننا۔ صفت۔ مَوْحِدٌ
تَوْحَدٌ۔ اکیلا رہنا۔ بوا یہاں راستے
میں تنہا ہونا۔ تَوْحَدٌ
بِالْفَضْلِ۔ کسی پر دوسرے کو
کرنا اور اس کو دوسرے کے
سپر ڈکرنا۔

الْحَدَّ۔ الشَّيْءَانِ۔ دو چیزوں کا ایک
ہونا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ اِيْکِ حِيْزٍ
دوسری چیز سے بنا۔ جُرُثَانَا۔
القَوْمُ۔ لوگوں کا متنق
ہونا۔

الْوَحْدُ مِمَّا رَأَيْتَهُ وَحَدًا كَا اَوْ
جَاءَ وَحَدًا كَا مِمَّا لَمْ يَرَهُ
تہا دیکھا یا وہ تنہا اور اکیلا آیا۔
جَاءَ وَحَدًا كَا دَعَلَى وَحَدًا۔
وہ اکیلا آیا۔

جَلَسُوا وَحَدًا هُمْ وَ عَلَى
وَحَدٍ هُمْ۔ وہ اکیلے بیٹھے۔

الْوَحْدَانِيَّ۔ اکیلا۔

الْوَحْدَانِيَّةُ۔ وحدانیت۔

اکیلا ہونے کی حالت۔

الْحَدَّةُ۔ مِمَّا۔ یَقِيَّ عَلٰی حَدِّ تَهَا
وہ علیحدہ باقی رہا۔

فَعَدَّ عَلٰی ذَاتِ حَدِّ تَهَا۔

وَمِنْ ذَاتِ حَدِّ تَهَا۔

وَمِنْ ذِي حَدِّ تَهَا۔

اس نے اس کو خور بخود اپنی
تنہا راستے سے کیا۔

الْوَحْدَانِيَّةُ۔ مِمَّا تَهَا۔

الْوَحْدُ وَالْوَحْدُ۔ اکیلا۔ مَوْنٌ

وَوَحْدَةٌ وَوَحْدَةٌ۔

الْاَحَدُ۔ اکیلا۔ لَا ثَانِي۔ بے نظیر

لفظ احد دو موقعوں پر واحد کا

مراعت ہو کر آتا ہے۔

(۱) وصف باری تعالیٰ میں کہتے ہیں

هُوَ الْوَاحِدُ وَهُوَ الْإِحْدُ -

(۲) اسمائے عدد میں کہتے ہیں۔

أَحَدٌ وَعَشْرَتَيْنِ وَوَاحِدٌ وَ

عَشْرُونَ - لفظ احد مذکر کے

لیے آتا ہے اور کبھی مؤنث کے لیے

بھی لے آتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

لَسْتُمْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

ایسے برتر پر شی کے معنی دیتا ہے

أَحَدٌ كِ تَابِثٌ - أَحَدٌ بِنَاتٍ

طبق مسیبت۔ باب۔ کہتے

ہیں هُوَ مِنْ أَحَدِهَا - وَهُوَ شَرِيفٌ

ماں باپ کا ہے۔ يَوْمَ الْآحِدِ

تواریک دن۔ ج أَحَاد۔

الْوَحْدُ - أَحَدٌ - مَوْتٌ وَامِدَّةٌ -

تثنية وَاحِدَانِ ج وَاحِدُونَ

ثالثی - هُوَ أَحَدٌ تَوْصِيَهُ وَهُوَ

قوم میں ثالثی ہے۔

ج وَحْدَانٍ وَأَحْدَانٍ -

کبھی عدد کی نسبت بن کر آتا ہے

تُرَكِّبُ فِيهِ الْفَتْ وَوَاحِدٌ وَعَشْرَتَانِ

وَاحِدَةٌ -

الْوَجِيدُ - أَكْبَلُ -

الْوَاحِدُ - وَحْدَانِيَّةٌ -

اللَّهُ الْوَاحِدُ - اللَّهُ وَحْدَانِيَّةٌ

والا - هُوَ الْوَاحِدُ اسل زمانہ،

وہ اپنے زمانے میں بے نظیر ہے۔

ج أَحْدَانٍ - لَسْتُ فِي هَذَا

الْأَنْزَارِ بَأْوَدًا - میں اس کام میں

اکیلا نہیں ہوں۔

وَكَمَادٌ وَأَحَادٌ وَتَوْحِيدٌ - أَحَدٌ أَحَدٌ

کر کے۔ واحد واحد سے معادل ہے۔

التَّوْحِيدُ - اللَّهُ تَعَالَى كِ وَحْدَانِيَّةٌ كِ

اِقْتِنَادُ -

الْمَوْحِدُ - نَا - اللَّهُ تَعَالَى كِ وَحْدَانِيَّةٌ

كَ اِقْتِنَادُ رَكْعَتَيْهِ وَالَا -

الْمَوْحِدُ - مِنَ الْحُرُوفِ أَحَدٌ نَقَطٌ

وَالْأَحْرَفُ - جِيسِي رِبِ -

المِيحَاذُ - اِكْبَلُ اَيْدِيهِ - جِ مَوَاحِيدُ

وَحِرَى يَحْرُ وَيُوحِرُ وَيُيَعِّرُ وَحِرَا

عَلِيهِ - نَمَتْ نَارًا مِثْلَ هُوَ نَا - سِينَةُ كِ

کینہ سے بھر جانا۔ صفت وَحْرٍ -

وَحْرٍ يُوْحَلُّ وَحْرًا - نَوْرَاكُ كِ اِحْطَالُ

کی مانند کیرے سے زہر آلود ہونا

يَا اس كِيرُ كِ خَرَابٌ كِرْدُهُ خَوْرَاكُ

کھانا یا پینا۔ صفت (وَحْرٍ)

أَوْحَرَ كِ - نَارًا مِثْلَ كِرْنِي وَآلِي بَاتِي

بِنَا - أَوْحَرَتِ الْوُحُوْقَا

الطَّعَامُ - اِحْطَالُ جِيسِي كِيرُ كِ

کا خوراک کو زہر آلود کرنا۔

الْوَحْرُ - كِينَةُ - نَمَتْ نَمَقَةً - دَلُّ كِ اِكْهَوْتُ

الْوَحْرُ - مِمَّ - نَمَقَةً - كِينَةُ - سِينَةُ كِ

سوزشیں۔

الْوَحْرَةُ كِ اِحْطَالُ كِ مَانِدُ أَحَدٌ زَهْرِي

کیرا۔ بد شکل پست قدم۔ عورت یا

اونٹ۔ ج وَحْرٍ -

وَحْشٌ يَحْشُ وَحْشًا وَوَحْشٌ -

تَوَيْدٌ أَوْ سَلَاجِيهِ كِيرَا يَأْتِيهِ

خون کیوج سے پھینک دینا۔

أَوْحَشَ اِبْنُ عَاشَا - الْمَكَانُ - جَلَّةٌ اِبْرَانُ

ہونا۔ ابرنا۔ المكان۔ اجار یا خالی

پانا۔ الرجل۔ بھوکا ہونا۔ ناد تم

ہونا۔

الرجل۔ تنہائی اور وحشت محسوس

کرانا۔

تَوْحَشٌ - وَحْشِي كِ مَانِدُ بھوک سے

خالی پیٹ ہونا۔ کیرے سے پھینکنا۔

المكان۔ ویران ہونا۔

اسْتَوْحَشَ - وَحْشَتٌ مَحْسُوسٌ كِرْنَا -

کسی سے مالوس نہ ہونا۔ المكان۔

جَلَّةٌ كِ اِحَارٌ اِبْرَانُ ہونا۔

الْوَحْشُ - مِمَّ - اِحْطَالُ جَانُورٍ - ج -

وَحْشٌ وَوَحْشَانٌ - وَاحِدٌ -

وَحْشِي - لَقْرٌ الْوَحْشِي - نِيلٌ

گائے۔ مَشِي فِي الْأَرْضِ وَوَحْشًا

وہ تنہا گیا۔ بَاتٌ وَوَحْشًا - اُس نے

بھوکے پیٹ رات گزاری۔ مَحْوَمِي

وَحْشِي النَّاسِ وَهُ رَذِيلٌ لُؤْغُوں مِثْلُ

سے ہے۔

الْوَحْشَةُ - خَلُوتٌ خَوْفٌ يَأْتِيهِ كِ

وجہ سے طبیعت کا انقباض۔ غم

عِلْمٌ كِ - دَلُّ كِ مَبْتَسٌ - دَوْرِي

ویران زمین۔

الْوَحْشِي - جِ وَحْشٌ - اِحْطَالُ جَانُورٍ -

دایاں پہلو۔ لوگوں سے الگ ہونے

والا۔ مِنَ الْقَوِي - كِمَانُ كِ اِبْرَانُ

الْوَحْشِيُّ بَيْنَ الْبَيْنِ اِحْطَالُ اِبْرَانُ

الْوَحْشِيَّةُ - مَوْتٌ الْوَحْشِي - تَبْرٌ ہوا

الو حیش۔ وحشی بالور۔ الجانب

الْوَحْشِيَّةُ - دَايَاں پھلو۔

الْمَوْحِشَانُ - اُدَاسٌ - جِ وَحْشِي

الْعَقْمُ مَوْحُوشَةٌ اِحْطَالُ جَانُورٍ

والی زمین۔

وَحْفٌ يَحْفُ وَحْفًا - الْبَحِيرُ أَوْ

الرجل۔ زمین پر گر پڑنا۔ بھینکا

مِثْلُ - كِسِي كِ قَرِيبٌ ہونا۔ اِلَيْهِ

کسی کا قصد کرنا۔ اِلَى كِرْنَا - جَلْدِي

جانا۔

وَحْفٌ يُوْحِفُ وَحْفًا وَوَحْفٌ

يُوْحِفُ وَوَحْفَةٌ وَوَحْفَةٌ -

الطَّمْرُ اَوَّالْبَاتُ - بَالُوں يَابَاتَاتُ

کا گھنا ہونا۔

وَحْفٌ - جَلْدِي كِرْنَا - زَمِيْنٌ پَر كِرْنَا -

فَلَانًا - كِسِي كِ لَامِي كِ مَانِدُ -

<p>پیغام بر بھیجا۔ الیہ اودعی الیہ کلاتا۔ پوشیدہ بات کہنا۔ اللہ فی قلبہ کذا۔ خدا تعالیٰ کا کسی کے دل میں کچھ ڈالنا۔ الكتاب۔ لکھنا الذاتیجہ۔ جلد ذبح کرنا۔ روحیا ووحی ووحاء ووحی (جلدی کرنا۔ اودعی ایحاء۔ الی فلان۔ اشارہ کرنا۔ دوسروں سے چھپا کر بات کرنا۔ برائگیجہ کرنا۔ اللہ الیہ بکذا۔ المام کرنا۔ الكتاب۔ لکھنا۔ نفسہ دل میں خوف واقع ہونا۔ المراجل متمثال کے بعد بادشاہ ہونا۔ القوم چلانا۔ العمل۔ کام میں جلدی کرنا۔ الدواء الموت دوا کا موت جلد واقع کرنا۔ ووحی توجیہ۔ ذبیحہ۔ ذبیحہ کو جلد ذبح کرنا۔ ووحاء۔ جلدی کرنا۔ ووحی الدواء الموت دوا کا موت کو جلد لے آنا۔ تو اوحی تو اوحیا۔ القوم۔ ایک دوسرے کے ساتھ جلدی کرنا۔ استوحاکا۔ پکارنا۔ جلدی کرنا۔ الشئی پوچھنا۔ الوحی۔ مہ۔ لکھا ہوا۔ پیغام۔ المام المام کردہ چیز۔ انبیاء کی وحی۔ رمز۔ اشارہ (الوحاء) آواز۔ الوحی۔ آزار عجلت۔ بڑا سردار۔ بادشاہ۔ آگ۔ ج۔ وحی۔ کہا جاتا ہے الوحی الوحی۔ جلدی کر۔ جلدی کر۔ الواحی۔ ناج و آحون ووحاکا۔ الوحی۔ بہت جلدی۔ موت ووحی جلدی کی موت۔ وحد یحد قحدا وخیدا و وحدانا۔ البعیر۔ اونٹ کا تیز</p>	<p>والاحیل۔ یہ اس شخص کے حق میں ہو۔ یہیں جو بغیر حاجت و ضرورت کے سوال کرنے کا بہت عادی ہو۔ ووحی۔ الشئی۔ کسی کی خواہش کرنا۔ ووحیت ووحیہ۔ ارادہ کرنا۔ ووحی۔ الحیل۔ حاملہ کو اس کی خواہش کے مطابق کھلانا۔ لہذا حاملہ کی خواہش کے مطابق ذبح کرنا۔ الوحم۔ مہ۔ حاملہ عورت کی خواہش پرندہ کے اڑنے کی آواز۔ لیلۃ ذات ووحی۔ بہت گرم رات۔ الوحم والوحم۔ حاملہ کی خواہش۔ الوحم۔ سمت گرم دن۔ ووحی۔ یحی ووحی ووحی ووحی ووحی علی فلان۔ کسی سے کینہ رکھنا۔ تو وحی ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ بڑے بے ڈر والے ہونا۔ الوحنہ۔ پھلانے والی کچھڑ۔ ووحی۔ گلو گرنے آواز۔ نکالنا۔ شدت سردی کی وہ سے ہاتھوں میں پھونکنا اور آج آج یا حو کرنا۔ تو وحی۔ الظلم فوق البیض۔ شہزمرغ کا انڈوں سے الفت کرنا۔ الوحوح والوحوح۔ قوی بھونکنے والا کتا۔ الوحوح۔ چست۔ پیرتلا آواز۔ ہلکا ہلکا۔ ج۔ ووحی۔ الوحوح۔ سردار و رئیس۔ ج۔ ووحی۔ ووحی یحی ووحی۔ الی فلان۔ اشارہ کرنا</p>	<p>او حف ایحاء۔ جلدی کرنا۔ الو حف۔ مہ۔ خوبصورت سیاہ گھنے بال۔ تازہ حاس۔ روالو حف، من الیحاء۔ گنجان بالوں والا بازو۔ الو حف۔ خوبصورت گنجان بال۔ الو حف۔ وحف کا اسم مرہ۔ سیاہ پتھر۔ کالی اونچی گول زمین۔ آواز۔ ووحی۔ الو حفاء۔ من الاراضی۔ سیاہ پتھر والی زمین۔ سُرغ زمین۔ ج۔ ووحی۔ المو حیف۔ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ ج۔ مو حیف بعبیر۔ مو حیف لاغر اونٹ۔ المی حاف۔ من النوق۔ اپنے تھان پر رہنے والی اونٹنی ج۔ مو حیف۔ ووحی یوحل ووحی ووحی۔ کچھڑ میں پڑنا۔ او حله۔ کچھڑیں گرانا۔ کشترا برائی میں پھینکانا۔ ووحی مو حله۔ کچھڑ میں کھسنے میں مقابلہ کرنا۔ ووحی ایحاء۔ فی عینہ۔ شریہ قسم پھاننا۔ قسم میں احتشاک کرنا۔ تو حیل۔ کچھڑ میں نقر کرنا۔ (واستوحیل) المکان۔ جگہ کا کچھڑ والی ہونا۔ الو حیل۔ کچھڑ۔ ج۔ اذ حال ووحی الو حیل۔ کچھڑ میں لنگھنا ہوا۔ المو حیل۔ کچھڑ کی جگہ۔ کچھڑ میں گرنا۔ ووحی الموات۔ ووحی ووحی ووحی ووحی۔ حاملہ عورت کا بعض چیزوں کے کھانے کا خواہشمند ہونا۔ کھانے کی خواہش بدلنا یا کم ہونا۔ صفت (ووحی) ج۔ ووحی ووحی۔ کہتے ہیں ووحی</p>
---	---	--

دورنا۔ لمبے قدم ڈالنا۔ منعت۔
 (وَأَجِدُ وُخُوذًا وَوُخَاذًا)
 الْوُخْدُ - وَخَدَ كَالِاسْمِ - ج وَخُوذٌ -
 وَخَرَّكَ يَخْرُكًا وَخُرًا - سوتلی یا نیزہ
 وغیرہ کا چھونا۔ ۷۔ الثَّيْبُ سُرٌّ
 سفید بال ہا ہر ہونا۔ فَلَانٌ شَبَدَا
 ذخیرہ بنانا۔
 الْوُخْرُ - م - ہر چیز کی تھوڑی مقدار۔
 جَاءُوا وَخَزًا وَوُخْرًا - وہ چار چار
 آئے۔
 الْوُخِيْزُ - شَدَا كَثْرِيْدٌ -
 وَخَشٌ يُّوْخِشُ وَخُوشَةٌ وَوُخَاشَةٌ
 وَوُخُوشًا - الشَّيْءُ - رَدِيٌّ اَوْ رِيْكَهُ اَوْ
 رَأْسُ الْكَبْشِ - سوکھنا اور سکرنا۔
 وَخَشٌ - الشَّيْءُ - نَكَمًا اَوْ رَدِيٌّ كَرْنَا -
 الْعَطِيَّةُ - بَخَشٌ كَمْ دِيْنَا -
 اَوْخَشٌ - لَهُ بِالْعَطِيَّةِ - عَطِيَّةٌ كَمْ دِيْنَا -
 فِي عَرِيضَةٍ - بَعِ عَزْتِي كَرْنَا -
 الشَّيْءُ - خَلَطَهُ لِرَاءِ -
 الْوُخَشُ - هِرْدِيٌّ شِيٌّ - كَيْفِيَّةٌ رَدِيْلٌ لَوَكْ
 (مفرد جمع۔ مذکر مؤنث یکساں) کبھی
 وِخَاشٌ اَوْ اَوْخَاشٌ سے جمع
 آتی ہے۔
 وَخَصٌ يُّخَصُّ وَخُصُوًّا - حُرْكَتٌ كَرْنَا
 اَوْخَصٌ اِيْخَاصًا - فَلَانٌ لِيْ بَعِيْتِي
 تَقُوْرًا عِيْبِيَّةً دِيْنَا -
 وَخَصٌ يُّخَصُّ وَخُصًا - فَلَانٌ بِالرَّمِيْعِ
 نِيْزَةٌ جِيْبُوْنَا - ۷ الثَّيْبُ - سُرٌّ مِيْنِ
 بُرْجَانِيَّةٍ كِي سَفِيْدِيٌّ ظَاهِرٌ كَرْنَا -
 الْوُخِيْبُ - نِيْزَةٌ زِدَةٌ -
 وَخَطَّ يُّخَطُّ وَخَطًّا - فَلَانًا بِالرَّمِيْعِ كَسِي
 كِي نِيْزَةٌ مَارْنَا -
 وَخَطَّةٌ بِالسَّيْفِ - تَلَوَارٌ دُوْرٌ سِي
 كُوِيْنَا - ۷ الثَّيْبُ - سُرٌّ كِي بَالُوْنِ كَا
 كِيْجُوْرِيٌّ هُوْنَا -

وَحَطَّ فِي الْبَيْعِ - تِجَارَتٌ مِيْنِ كَيْفِي
 نَفْعٍ اَوْ كَيْفِي نَفْعَانِ اَطْعَامًا -
 وَخَطَّ - سُرٌّ كِي بَالُوْنِ كَا كِيْجُوْرِيٌّ هُوْنَا -
 الْوُخَاطُ - تِيْزٌ اَوْ رِكْتَاذَةٌ قَدِيْمُوْنِ سِي جَلِي
 وَالَا - پَار ہونے والا نیزہ۔
 الْمِيْخَطُ - جِيْدِيْنِيٌّ وَالَا پَار ہونے والا۔
 وَخَفَّ يُّخَفُّ وَخَفًّا - السُّوِيْقُ - سَتُوْكَو
 پَانِيٌّ ذَاكِرٌ لِيْسِ دَاكِرْنَا - گوندھنا۔
 السُّوِيْقُ - سَتُوْكَو لِيْسِدَارٌ هُوْنَا - گوندھنا۔
 الرَّجُلُ - كَسِي كُوْبُرَانِيٌّ سِي يَادَكَرْنَا -
 وَخَفَّ اَوْخَفَّ - السُّوِيْقُ - سَتُوْكَو
 گوندھنا۔ جُو اَمَقٌ خُوْرَا نِيْجِي بَاتٌ كُوْنُ
 كَمِي اس كِي مَقِي مِيْنِ كَمِي مِيْنِ - اِنَّهُ
 لِيُوْخِفُ فِي الطِّيْنِ -
 اَنْخَفْتُ - رَجَلُهُ - پَاؤُنِ جِيْدَا -
 الْوُخْفَةُ - جِرْمٌ كَا نَفِيَا -
 الْوُخِيْفَةُ - گندھا ہوا ستود وغیرہ۔
 الْمُوْخِفَةُ - اَمَقٌ -
 الْمِيْخَفُ - سَتُوْجُوْكَوْنِيٌّ كَا بَرْتَنُ -
 وَخَمُّ يُّوْخَمُ وَخَامَةً وَوُخُوْمَةٌ وَ
 وَخُوْمًا - الْمَكَانُ اَوْ الطَّعَامُ - كَمِي جِي
 كَا مَفْرُوضٌ - يَا كَمِي كَهَانِيٌّ كَا تَا قَابِلِ
 مَفْرُوضٌ هُوْنَا -
 وَخَمٌّ يُّغَمُّ وَخَمًّا - سَمْتٌ بَدِيْمِي
 هُوْنَا -
 وَخَمٌّ يُّوْخَمُ وَخَمًّا وَ اَلْخَمُّ -
 مَن لَذَا وِعِنْدَهُ - بَدِيْمِي هُوْنَا -
 رُوَاخَمَةٌ مَوْاْخَمَةٌ فُوْخَمَةٌ -
 رَمِيٌّ وَخَمًّا - بَدِيْمِي مِيْنِ مَقَابِلِ كَرْنَا
 اَوْ رَغَالِبِ اَنَا -
 اَلْخَمَّةُ - اَتْحَامًا - الطَّعَامُ - بَدِيْمِي
 مِيْنِ مَبَدَلِ كَرْنَا -
 وَخَمْرٌ - الشَّيْءُ - مَفْرُوضٌ - بِنَانَا -
 تُوْخَمٌ وَاَسْتُوْخَمُ - الطَّعَامُ كَمِي كَهَانِي
 كُو مَفْرُوضٌ مَبَدَلِ پَانَا -

الْوُخْمُ وَالْوُخْمُ - مَن الرِّجَالِ -
 سَمْتٌ اَدْمِيٌّ - ج اَوْحَامٌ -
 الْوُخْمُ - م - بُوَا سِيْرِكِي مَانْدَا كِي مِيَارِي
 هُوَا كَا گندہ ہونا۔ جس سے دبا پھیلے۔
 الْوُخِيْمُ وَالْوُخُوْمُ - مَن الرِّجَالِ -
 گندہ سَمْتٌ اَدْمِيٌّ - ج وَخَامِيٌّ وَ
 خَاوِمٌ - بَلَدٌ وَخِيْمٌ مَوْاْتِقٌ شَهْرٌ -
 شَيْءٌ وَخِيْمٌ - وَبَا زِدَةٌ - اَنْرَحِيٌّ وَخَمَةٌ
 وَخَمَةٌ وَوُخَامٌ وَوُخُوْمٌ وَوُخِيْمَةٌ
 وَوُخُوْمَةٌ - مَفْرُوضَةٌ كَهَانِيٌّ اَوْ
 زَمِيْنٌ - وَبَا سِي مَتَا رَزَمِيْنِ -
 التُّخْمَةُ - بَدِيْمِي - ج تَخْمَاتٌ وَ
 تَخْمٌ -
 تُوْخِنٌ - اِرَادَةٌ كَرْنَا -
 الْوُخْنَةُ - فِسَادٌ -
 وَخِيٌّ يُّغِي وَخِيًّا - اَلْمَرْءُ قَصْدٌ كَرْنَا -
 اَوْ شَيْءٌ كَا رَمِيَانِيٌّ جَالٌ جَلْنَا - وَخِيْتُ
 وَخِيْتُ - مِيْنِ سِي رِي اِرَادَةٌ كِي جُو
 تُوْنِي كِيَا - مَا اُدْسَا اِيْنٌ وَخِيٌّ
 مِيْنِ نِيْسِ جَانَا وَه كَمَا گِيَا -
 وَخِيٌّ - اَلْمَرْءُ - طَلِبٌ كَرْنَا - ۷ لَلْمَرْءِ كَمِي
 كَمِي كَامِ كِي لِيْ جِيْبَا -
 وَخِيٌّ مَوْاْخَاةٌ - فَلَانًا - جَانِيٌّ چَارَه كَرْنَا -
 تُوْخِيٌّ تُوْجِيَا وَتَاْخِيٌّ تَاْخِيًّا - اَلْمَرْءُ
 تَمَدُّكَرْنَا - طَلِبٌ كَرْنَا -
 اِسْتُوْخِيٌّ - الْقَوْمُ - خَبَرٌ دِيْمِي قَرْنَا -
 الْوُخِيٌّ - م - اِرَادَةٌ قَابِلِ اِتْمَادِ رَا سَمْتِ
 اِرَادَةٌ كَرْنِيٌّ وَالَا سَمْتٌ وَخِيٌّ وَوُخِيٌّ
 الْوُخِيٌّ وَالْخِيْمَةُ - اِرَادَةٌ -
 وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا
 وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا
 وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا
 مَبَدَلِ كَرْنَا -
 وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا
 كَرْنَا -
 وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا
 كَرْنَا -
 وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا وَوَاْوَدًا
 كَرْنَا -

امرض مود دستہ - کم رویدگی والی زمین -
 و د ص ی د ص و د س ا - ایہ بکلا یم
 ادھوری بات کنا -
 و د ع ی د ع و د ع ا - الشی - چھوڑنا -
 ما کا عند کا - مال ودیعت کے طور پر
 رکھنا - الشی - پھرنے (و د ع ا) المسافر
 الناس مسافر کا لوگوں کو عیش و آرام
 میں چھوڑنا - الثوب بالشوب - محفوظ کرنا -
 ر و د ع ی و د ع و د ع ا -
 الرجل - مطمئن ہونا - صفت (و د ی ع
 و د ا د ع)
 و د ع - المسافر القوم - مسافر کا لوگوں کو
 عیش و آرام میں چھوڑنا - القوم
 المسافر - لوگوں کا مسافر کو رخصت
 کرنا - فلانا - چھوڑنا - الصبی اوالکلب
 بچہ یا کتے کی گردن میں کوڑی ڈالنا -
 فاسسہ - گھوڑے کو خوشحال رکھنا -
 و ا د ع ہ م و ا د ع ہ و د ع ا - دشمنی چھوڑ کر
 صلح کرنا - اسم الوداع -
 ا و د ع ہ - الشی - امانت رکھنا - کا الستر
 کسی سے بھید کنا اور اس کو راز میں
 رکھنے کے لیے کہنا -
 ا و د ع کتابہ کذا - اس نے خط میں
 ایسا لکھا - الکلام معنی حسنا - عمدہ
 معنی کی تفسیر کرنا - ا و د ع تہ ما لا
 میں نے اس کا مال امانت کے طور پر رکھا -
 ت و د ع - القوم - بعض کا بعض کو رخصت کرنا -
 الثوب کپڑے کو محفوظ رکھنا - فلانا کسی
 کو اپنی حاجت میں مشغول کرنا -
 ت و ا د ع - القوم - آپس میں صلح کرنا - ایک
 دوسرے کو رخصت کرنا -
 ا ت د ع - آرام کرنا - قرار پکڑنا - تن آسان ہونا
 ا ش ت و د ع - فلانا ما لا کسی کے پاس مال
 امانت کے طور پر رکھنا -

جانور کی گردن کی رگ کاٹنا -
 و د ع بین القوم - معاملات کی
 اصلاح کرنا - شر و فساد دور کرنا -
 و ا د ج ہ م و ا د ج ہ - صلح کرنا - نرمی و اشتی
 سے پیش آنا -
 الودج - اوداج والوداج -
 گردن کی رگ - الودج - وسیلہ
 سبب - اوداج -
 الودجان - درجائی -
 ا و د ح ل ہ - مطیع ہونا - اقرار کرنا -
 اکابل - اونٹ کا موٹا ہونا -
 العوض - حوض کی درستی کرنا -
 الودحہ
 و د س ی د س و د س ا - منی سے بیہوشی
 کے قریب پہنچنا - الشی - ہٹانا - دور
 کرنا -
 و د س کا - اگسا کہ خطرہ میں ڈالنا - پیغا مبر
 بھیجنا - چیز کو ہٹانا - دور کرنا - مال میں
 فضول خرچی کرنا - گمراہ کرنا -
 ت و د س - فضول خرچ ہونا - فی الامر -
 پڑنا - کا کسی کو ہلاکت میں ڈالنا -
 و د س ی د س و د س ا - علی الشی پوشیدہ
 ہونا - بالشی چھپانا - ایہ بکلا یم
 ادھوری بات کرنا - الرجل جانا -
 و د س - الشی - پوشیدہ ہونا -
 و د س ت العاشیہ - مولشی کا ہریالی
 چرنا -
 و د س و و د س و ت و د س - المکان -
 ہریال والا ہونا -
 ا و د س ت الارض - زمین کا اس قدر
 سبزہ اگانا کہ سطح ڈھک جائے -
 الودس والوداس والوادس - زمین
 کی سطح کو ڈھکنے والی نہاتات -
 الودس - عیب -
 الودیس - خشک نہاتات - پتلا ٹھہرنا -

میری تمنائے کرم ایسا کرتے -
 و ا د کا و د ا د ا و م و ا د کا - محبت کرنا -
 ت و د د کا - دوستی چاہنا -
 ت و د د - ایہ دوستی کرنا -
 الود الود الود - دوستی تم کہتے ہو -
 ی و د ی ان ی کون کذا - میں چاہتا
 ہوں کہ ایسا ہو محبت کرنے والا - یا
 بہت محبت کرنے والا - ج ا و د ا د
 و ا و د و ا و د -
 الودود - بہت محبت کرنے والا - محبوب
 (مذکر و مونث یکساں)
 الودید - محبت کرنے والا - ج ا و د کا
 و ا و د ا -
 الودد - اسم تفضیل - ج الوددون -
 الیود - بہت محبت کرنے والا -
 و د ا ی د ا و د ا - الشی - ہموار و برابر کرنا -
 بالقوم - بدسلوکی کرنا -
 و د ی د ا و د ا - خبر کرنا -
 و د ا ت و د ی ت و ت و د ی ت - علیہ الارض
 کسی پر زمین ہموار کرنا - (دفن کرنا)
 علیہ وہ - ہلاک کرنا - و د ا ت ت ہ
 الارض - زمین نے اس کو چھپایا -
 ت و د ا - علیہ - ہلاک کرنا -
 ت و د ا ت علیہ الارض - زمین کا اوپر
 گر پڑنا اور ہموار ہونا - علیہ و عنہ
 الاخبار - خبریں بند ہونا -
 ت و د ا الرجل مرنا - فلان علی صالحہ
 مال لینا اور جمع کرنا -
 الودا - ہلاکت - تباہی -
 التودیۃ - ہم - دفن کرنا -
 الموداۃ - ہلاکت - بے آب ریگستان
 میت کا گڑھا یا قبر -
 الودب - بدحالی - ہو علی و د پ وہ
 بہت بُری حالت میں ہے -
 و د ع ی د ع و د ج ا و د ج - الیادبہ

بِسِ الْمَوْتِ - موت کا کسی کو لے جانا
 اسْتَوْدَى اسْتَيْدَاؤُ - بحقہ
 حق کا اقرار کرنا - الذیۃ - خون ہا -
 ح دِیَات
 الوَدَى - ہلاکت -

الْوَادِی - پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان کا
 فاصلہ جو سیلاب کے بہنے کی جگہ ہو -
 ح اَوْدِیْتًا وَاوَادِیْتًا وَاوْدَاۓ
 وَاوْدَاۓ - طریقہ مذہب - کہتے ہیں
 ہما من وادٍ واحد - وہ دونوں ایک
 معنی یا ایک لفظ سے ہیں - سَمَالٌ
 بھم الوادی - یعنی وہ ہلاک ہو گئے
 کہتے ہیں انت فی وادٍ وخن بن
 وادٍ - تقاسد میں حسب اختلاف ہو
 تو یہ جملہ بولتے ہیں -

الْوَدِی - کھجور کے چھوٹے پورے - واحد -
 وَدِیۃ -

التَّوْدِیۃ - پست قد آدمی - اونٹنی کے
 تھنوں پر باندھنے کی لکڑی - ح -
 التَّوَادِ -

المَوْدِی - نا - شیر -
 وَذَا یَدَا وَاوْدَا - فلا نانا - وانا خیر سمجھا -
 عیب لگانا -

اَقْدَا - جھڑکی برداشت کرنا -
 الوَزْدُ - ناپسند - مکروہ بات -
 الوُذَاۃ - عیب علت -

وَذَخ یَذِخ وَذَخَا - تیز چلنا - وَذِخْتِ
 تَوَذَّحَ وَتَذَّحَ وَذَخَا - الشَاۃ -
 رانوں پر خشک گوہر یا مینگنی لگا ہونا -
 المرجل - رانوں کے اندرونی حصہ کا جلا
 ہوا ہونا -

الْوَذِخ - خشک شاہ پیشاب یا مینگنی
 وغیرہ جو بکری یا بھیڑ کی اول میں لگی
 ہو - واحد وَذِخۃ - ح وَذِخ -
 الاوْذِخ - ٹیم - کمینہ -

وَذَمًا کَا یَذِمُّکَ وَذَمًّا - کاٹنا -

وَذَمَّ الْجِرَاحَ زَحْمًا کُوْجِیْرًا -

الشَّیْ - چھوڑنا یہ معنی صرف مضارع و امر
 میں ہوں گے - ذَمَّ - موت ذَمِی
 چھوڑ دے رو وَذَمَّ تُوْذِیْمًا
 الوَذَمَاتُ - گوشت کے چھوٹے چھوٹے
 ٹکڑے کاٹنا -

الْوَذَمَاتُ مِنَ الْحَمِّ - گوشت کا چھوٹا ٹکڑا
 ح وَذَمًّا وَذَمًّا -

الْوَذَمَاتَانِ - دو ہونٹ -

الْوَذَمَاتُ - پر گوشت بازو - بڑی بووالی
 عورت - یا موٹے ہونٹ والی -

الْوَذَامَاتُ - درزی کا کٹا ہوا کپڑے کا ٹکڑا
 وَذَعٌ یَذِغُ وَذَعًا - الماء - پانی کا بہنا -
 الوَاضِعُ - نا - چشمہ پھان پر بہنے والا پانی -

وَذَفٌ یَذِفُ وَذَفًا - الشَّحْمُ رَغِیْرًا یَبْنَا
 رَوْدَانًا وَذَفَانًا وَوَذَفٌ وَوَذَفٌ
 ناز و تکبر سے چلنا -

تَوَذَّلَ - القوم من الجزاس - گوشت کا
 ٹکڑا لینا - امْرَأَةٌ وَذَلَّةٌ وَذَلَّةٌ
 چست و چالاک اور خوبصورت قد والی عورت
 المَوَذَالَةُ - گوشت کا ٹکڑا جس کو نصاب تقسیم
 سے علیحدہ رکھ لے -

الْوَذِیْلَةُ - کوبان یا دم کے گوشت کا ٹکڑا
 من النساء - خوبصورت قد کی عورت -

وَذِمَّتْ تُوْذِمُ وَذَمًّا - الدَّلُو - ڈول کا
 تسمہ لٹھنا - صفت و ذمۃ - الوذَمُ
 نَفْسًا - تسمہ لٹھنا -

وَذَمَّةٌ - کاٹنا - وَذَمَّ الْکَلْبُ - کہتے کی
 گردن میں تسمہ یا پٹا باندھنا علی الغسین
 پچاس سے زیادہ عمر ہونا الیمین اپنے
 پر واجب کرنا - الدَّلُو - ڈول کے لیے
 تسمہ بنانا -

اَوْذَمَ - الدَّلُو - ڈول میں تسمہ باندھنا -
 یا اس کے لیے تسمہ بنانا - التذَمَّ

نذرو واجب کرنا - علی الغسین -

پچاس سے عمر زیادہ ہونا -

الْوَذَمُ - معہ - زیادتی - مسہ - ح -
 وَذَمٌّ وَاوْذَامٌ وَاوْذَمٌ وَجِجٌ
 اَوْ اِذْمٌ - الوذَم - ڈول کا تسمہ -

واحد وَذَمَةٌ - امْرَأَةٌ وَذَمَانٌ
 یا نچھ عورت -

الْوَذَمَةُ - آنتیں - اوجھرا - ح وَذَامٌ -
 الوذِیْمَةُ - فی سبیل اللہ دیا ہوا مال -

وَذِیْمَةُ الْکَلْبِ - کہتے کی گردن کا پٹہ
 ح وَذَائِمٌ -

تَوَذَّتْ تُوْذِنَا - پھیرنا - تبدیل کرنا -
 تَوَذَّنَ الشَّیْ - فلا نانا - پسند آنا -

وَذُوْدٌ - الرجل - جلدی کرنا - سَبُلٌ
 وَذُوَادٌ - تیز رفتار آدمی -

وَذِی یَذِی وَذِیًا - وَجْهَةٌ - ناخنوں سے
 چہرہ ٹوچنا چھیلنا -

الْوَذَاۃُ - ایذا پانے کا باعث -
 الوِزِیۃ - اہم مرہ - درد - بیماری - عیب -
 تَقْوَرًا پانی -

الْوَسْرُخُ - زمین کا گڑھا - روالوَسْرٌ سرین -
 وَسْرًا وَسْرًا وِیُوْسًا اَوْ وَسْرًا - الشَّیْ
 دفع کرنا - بٹانا - من الطعام کھانے
 سے شکم سیر ہونا - مَا وَسْرَتْ دَمَا
 اُسْرَتْ وَمَا وَسْرَتْ - میں نے اس
 کو نہیں جانا -

تَوَسَّرَاتٌ - علیہ الامراض - زمین کا کسی
 پر گر کر برابر ہونا -

الدَّسْرَاءُ پوتنا - وَسْرًا الْاِنْسَانِ پیچھے یا
 آگے - مذکر و مؤنث ہے - اور یہ بڑی
 کے معنی بھی دیا ہے - جیسے کہتے ہیں -
 من ابغی وَاذَا ذَا لِك - جو شخص
 اس کے سوا طلب کرے -

وَرَبَّ یُوْسَبُّ وَرَبًّا - خراب ہونا -
 صفت وَرَبًّا -

وَرَثَ بِ- عَنِ الشَّيْءِ - معاہدات سے
 تو یہ کرنا۔
 وَرَثَ بِ وَرَثًا وَرَثَةً - الرَّجُلُ
 فریب دینا فریب میں لانا۔
 الْوَرَثُ - جنگلی جانوروں کا بھٹ۔ یا
 بچھو وغیرہ کے سوراخ کا منہ۔ دو سپیوں
 کا درمیانی حصہ۔ عضو۔ انگوٹھے اور
 شہادت کی انگلی کے درمیان کا فاصلہ
 چوڑے۔ ج۔ اَوْرَثَ -
 الْوَرَثَةُ - چوڑے۔ کوکھ کا گڑھا۔
 الْوَرَثُ - کچی۔ پورے۔
 وَرَثَ بَرِيثًا وَرَثًا وَرَثًا وَرَثًا
 وَرَثَةً وَرَثَةً وَرَثَاتًا -
 فلاں۔ وارث ہونا۔
 وَرَثَ - الرَّجُلُ مَا كَانَا - میراث قرار دینا۔
 من فلاں وارث بنانا۔ الرَّجُلُ
 لَنَا كَمَا كَانَا -
 النَّاسُ - آگ بھڑکانے کے لیے بلانا۔
 اَوْرَثَ اَبَوَاتًا - وارث بنانا۔
 اِنَا اَبَا - میراث قرار دینا۔
 السَّقْمُ - بیماری میں مبتلا کرنا۔
 الشَّيْءُ يَجِيءُ لَنَا - اورثۃ العزیز
 هَمًّا - باعث و سبب غم ہونا۔
 اَوْرَثَ الْمَطْرُ النَّبَاتِ نِعْمَةً -
 باعث و سبب نعمت ہونا۔ و لَدَا
 تَنَا وَارَثَ بَنَانًا -
 تَوَارَثَ - الْقَوْمُ اِيكٍ دُوسَرِ كَا وَارَثَ
 ہونا۔
 تَوَارَثُوا الْمَالَ اَوِ الْمَجْدَ كَا يَرِثُو
 عَن كَا يَرِثُو - انہوں نے اپنے باپ
 دادوں سے شرافت پائی۔
 تَوَارَثِي الْحَوَادِثَ عَوَادِثًا مَجْرِبَةً
 لِي دَرِيءَ اَسْءَ -
 الْوَرَثُ - تازہ چیز۔
 الْاَرَاثُ وَالْوَرَاثُ وَالْوَرَاثَةُ وَ

الْتَرَاثُ - میت کا ترکہ۔
 الْاَرَاثُ نَا - ج. وَرَثَةٌ دُورَاثُ
 الْعِبْرَاثُ - میت کا ترکہ۔
 ج. مَوَارِثُ -
 الْمَوْرُوثُ - مضم۔ میراث چھوڑنے
 والا۔ ورثہ میں حاصل کیا ہوا مال۔
 وَرَاثُ يُوْرَاثُ وَرَاثًا وَرَاثًا -
 الْعَجِيْنُ - گندھے ہوتے آٹے کا
 پتلا ہونا۔
 اَوْرَاثُ - الْعَجِيْنُ - گندھے ہوتے آٹے
 کو پتلا کرنا۔
 تَوَارَاثُ تَوَارَاثًا وَاسْتَوَارَاثُ
 اسْتَوَارَاثًا - الارض۔ زمین کا تر
 ہونا۔ مکان و سرخ۔ گھنی۔ گھاس
 والی جگہ۔
 الْوَرَاثَةُ - تراورگیلی زمین۔
 نَزْمٌ كُنْهًا يُوْرَاثُ
 وَرَاثًا وَرَاثًا وَرَاثًا - الْمَاءُ - پانی پرانا
 یا پھینچنا۔ صفت و اورد۔ الماء و غیرہ
 پانی وغیرہ کی طرف متوجہ ہونا۔
 فریب آنا۔ پھینچنا۔ ائم۔ الْوَرَاثُ -
 الرَّجُلُ حَاضِرٌ يُوْرَاثُ الْاَهْلِي
 بَخَارًا بَارِي سَمَا - الشَّجَرَةُ -
 درخت کا پھول نکالنا۔ وَرَاثُ عَلِي
 كِتَابٌ مِيْرَءِ يُوْرَاثُ الْاَهْلِي
 الرَّجُلُ - كَمَا كَانَا -
 وَرَاثُ عَلِي بَعْدَ اَبَا -
 وَرَاثُ الْاَهْلِي وَرَاثًا وَرَاثًا -
 الْفَرَسُ - گھوڑے کا زردی مائل
 سُورُخٌ ہونا۔
 وَرَاثُ - الشَّجَرُ - درخت کا پھول نکالنا۔
 وَرَاثُ الْمَرْأَةِ خَدَاهَا - عورت
 کا اپنے رخساروں کو سرخ کرنا۔
 وَرَاثُ الثَّوْبِ - کپڑے کو گلابی رنگنا۔
 وَرَاثُ مَوَارِثُ - الرَّجُلُ - کسی کے

پاس آنا۔ الشَّاعِرُ الشَّاعِرَ دُوسَرِ
 شاعر کی نظم سے ملتی جلتی نظم۔ بغیر اس
 کو دیکھتے یا سننے کے کہنا۔
 اَوْرَاثُ اَبَوَاتًا - گھاٹ پر لانا۔ پیش
 کرنا۔ لانا۔ الْمَاءُ پانی پر لانا۔
 اَوْرَاثُ الْكَلَامِ - نصرت کرنا۔
 الشَّيْءُ - ذکر کرنا۔ الْخَبْرُ - بیان کرنا
 تَوَارَاثُ - پانی پر آنے کو کہنا۔ الْمَاءُ
 پانی پر آنا۔ الْخَبْلُ الْمَبْدُؤُ -
 سواروں کا شہر میں چھوٹے چھوٹے
 دستوں میں داخل ہونا۔ الْخَدَا -
 رخسارے کا سرخ ہونا۔
 تَوَارَاثُ - الْقَوْمُ اِلَى الْمَكَانِ - ایک
 دوسرے کے بعد پہنچنا۔ تَوَارَاثُ
 الْمَاءُ - پانی پر اکٹھے پہنچنا۔
 تَوَارَاثُ الشَّعْرَانِ - دو شاعروں
 کا بغیر سننے ہوتے لفظ و معنی میں اتفاق
 کرنا۔
 اسْتَوَارَاثُ الْمَاءُ پانی پر آنا۔ گھاٹ
 پر لانا۔ الضَّلَالَةُ - گمراہی میں مبتلا
 کرنا۔ فَلَاثًا الضَّلَالَةُ - گمراہی میں
 مبتلا کرنا۔
 الْوَرَاثُ - دُورُودُ وَرَاثًا وَرَاثًا
 زعفران۔ خیر۔ ہادر۔ نڈر۔ من
 الْعَجِيْنُ - زردی مائل سُورُخٌ زَنْجُ كَا
 گھوڑا۔ ج۔ وَرَاثُ - درخت کی کل۔
 كَلَابُ كَا وَرَاثُ - وَرَاثُ ذَهْرًا
 ایک قسم کا پودا۔
 الْوَرَاثُ - بَخَارُ - پانی پر آنا۔
 قُرْآنُ كَا وَرَاثُ جُورُودُ كَا
 پر پڑھا جائے۔ ج. اَوْرَاثُ -
 پیاہس۔ پانی کا حصہ۔ گھاٹ۔
 پانی پر وارد ہونے والے اونٹ
 یا لوگ۔ شکر۔ پرندوں کا جھنڈ۔
 بِنْتُ وَرَاثًا اِنَا اِيكٍ قَسْمُ كَا كِيْرَا -

ج نبات ویشدان -
 الویسر دہ - گھوڑے کا سرخ رنگ -
 الویسر دہی - گلابی رنگ کا - موٹ -
 ویشدیتہ -
 الویسر دہ - تیز رفتار اونٹ -
 الویسر دہ - گردن کی رگ - اس کو جبل
 الویسر دہ بھی کہتے ہیں - تشبیہ -
 ویشدیتہ - ج آویس دہ و
 ویشد ویشد - سرجل منتفع
 الویسر دہ - غضبناک بدخلق آدمی -
 الویسر دہ - ج وایس دہ ویشد
 ویشد ویشد ویشد - دلیر
 بہادر - جری - راستہ - لمبے لٹھے
 ہوتے بال - فلاں ویشد الاربہ
 لمبی ناک والا - ہر لمبی چیز کو وار د
 کہتے ہیں -

الوایس دہ - وایس دہ کا موٹ - پانی
 پر آنے والی قوم -
 الویسر دہ - گھاٹ - پانی کی طرف کا راستہ
 ج موایس دہ -
 الویسر دہ - مہم - سرخ یا گلابی رنگا ہوا -
 ویشد ویشد ویشد ویشد - الصغنا -
 چٹان کا کائی سے ہری اور پھسلتی
 ہونا -

ویشد ویشد - ویشد ویشد - النبت -
 نباتات کا سبز ہونا -
 ویشد ویشد - الشوب - کپڑے کو درس میں
 رنگنا -

آویس ویشد - الشجر - درخت کا پتوں
 والا ہونا - المکان - جگہ کا درس
 والی ہونا -

الویشد ویشد - ایک قسم کی گھاس جو رنگائی
 کے کام میں آتی ہے -
 الوایس ویشد ویشد - من الثیاب
 سرخ - وایس ویشد ویشد

سرخ -
 الویشد ویشد ویشد ویشد
 درس میں رنگا ہوا -
 ویشد ویشد ویشد ویشد
 لایع کرتا اور رذیل کاموں کے
 پیچھے لگنا - نسیان الطعام حرم
 سے کھانا - ج بغلان - بھرکانا -
 علی القوم - یغیر بلائے - کھانوں
 کے پاس پہنچنا - لا تیرش علی -
 میری بات نہ کاٹو -
 ویشد ویشد ویشد ویشد - چست چلاک
 ویشد ہونا - صفت ویشد ویشد -
 موٹ ویشد ویشد - ج ویشد ویشد -
 ویشد ویشد - بین القوم - بھرکانا -
 الویشد ویشد ویشد سے تیار کیا ہوا
 کھانا -

الویشد ویشد - پیٹ کا درد -
 الویشد ویشد - قمری - موٹ ویشد ویشد
 ج ویشد ویشد ویشد ویشد -
 ویشد ویشد ویشد ویشد
 ویشد ویشد - الما جاجتہ - مرغی
 کا اندھے دینا -

الویشد ویشد - پانچانہ - ج آویس ویشد
 ویشد ویشد - چراگاہ تلاش کرنا -
 ویشد ویشد ویشد ویشد - مشکل میں ڈالنا -
 چھپانا -

ویشد ویشد ویشد ویشد - دھوکا
 دینا -
 ویشد ویشد - الماشیتہ - مویشی کا کیچڑ والی
 زمین میں پھینسا -

ویشد ویشد ویشد ویشد - کسی کا مشکل میں
 پھینسا - ہلاک ہونا -
 الویشد ویشد - فی آویس - ناقابلِ خلاصی شکل
 میں پھینسا - ہلاک ہونا -

الویشد ویشد - کیچڑ - گڑھا - کنواں -

بے راستہ میدان - گرا گڑھا -
 ملاکت - ہر مشکل کام جس سے خلاصی
 مشکل ہو - ڈبر - ج ویشد ویشد -
 ویشد ویشد -

الویشد ویشد - دھوکہ - فریب -
 ویشد ویشد ویشد ویشد
 ویشد ویشد ویشد ویشد
 ویشد ویشد ویشد ویشد
 گناہ سے دور رہنا - شبہات اور
 گناہوں سے بچنا - صفت ویشد ویشد
 ویشد ویشد ویشد ویشد
 ویشد ویشد - کزور ہونا - بزدل ہونا
 حقیر ہونا -

ویشد ویشد ویشد ویشد
 ویشد ویشد ویشد ویشد
 ویشد ویشد ویشد ویشد
 ویشد ویشد - کزور ہونا - بزدل ہونا
 حقیر ہونا -

ویشد ویشد ویشد ویشد
 ویشد ویشد - معمولی مال والا ہونا -
 ویشد ویشد - الفرس - گھوڑے کو لگام سے
 روکنا - الابل عن الماء - اونٹوں
 کو پانی پر سے واپس لانا - رویشد ویشد
 فلانا عن کذا - روکنا - بینہما -
 آڑ بننا -

ویشد ویشد ویشد ویشد - بات چیت
 کرنا - مشورہ کرنا -
 ویشد ویشد - من اد عن کذا - بچنا -

الویشد ویشد - مہم - پرہیزگاری - سرجل
 ویشد ویشد - بزدل - کزور - نکما آدمی -
 ج آویس ویشد - رویشد ویشد
 گناہوں اور شبہات سے اجتناب
 اور پرہیز -

الویشد ویشد - حالت - فلاں حسن الرعۃ
 آویس ویشد - فلاں اچھی یا بری
 حالت میں ہے - الویشد ویشد - پرہیزگار

<p>قادر ہونا۔ الشیء۔ واجب کرنا۔ ملہا اکب۔ دوزانو بیٹھنے والے کی طرح ٹانگوں کو موڑنا اور زمین پر سر پہ رکھنا۔ الذنب علیہ۔ گناہ کا الزام لگانا۔ الیمن۔ قسم کھلانے والے کے خلاف نیت کرنا۔ ذاک مؤامرکۃ۔ العجل۔ پہاڑ سے گذرنا۔ تورک۔ سرین پر سارا لینا۔ الشیء۔ چیز کو سرین پر اٹھانا۔ عین الامر۔ دیر کرنا۔ الرجل۔ کسی کی ٹانگ کو باندھنا۔ الویرک والیورک والیورک۔ سرین۔ چوڑے۔ موٹے۔ ج اویراک الویرک۔ کمان کا کنارہ یا تانہ باندھنے کی جگہ۔ تعد المداح علی ذہاب ار فینہ۔ طاح کشتی کے پھیلے حصہ پر بیٹھا۔ ہمد علی ویرک واحد وہ میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ الویرکی۔ خبر کی اصلیت۔ الویرک والیورک۔ ج ویرک۔ والیورک والیورک۔ من الرجل۔ کجاوہ کا وہ حصہ جس پر سوار تھک کر پاؤں رکھتا ہے۔ الویرک۔ بڑے سرین والا۔ موٹ ویرک۔ ج ویرک۔ المویرک۔ نعم ایتہ لکویرک فی ہذا الاضیو۔ وہ اس معاملہ میں بے تصور ہے۔ المویرک والیورک۔ کجاوہ کا اگلا حصہ۔ الویرک۔ وہ گدی جس کو سوار اپنے سرین کے نیچے رکھتا ہے۔ الویرک۔ گڑ کے مانند ایک جالور۔</p>	<p>پڑا ہو۔ ہرزندہ حیوان مال۔ رو پیہ پیسہ۔ یا مویشی۔ ویرک الشبَاب۔ الرقة۔ چاندنی کا لہر۔ ج۔ سرقون۔ نصی گھاس کی ابتدائی سرسبزگی۔ گرمی کے موسم کی بارش کے بعد سرسبز زمین الویرقۃ۔ فی العوس۔ کمان کا نقص۔ الویرقۃ۔ میلا رنگ۔ الویراق۔ گھاس سے زمین کی سرسبزی۔ الویراق۔ پتوں کے نکلنے کا وقت۔ الویراقۃ۔ کاغذ سازی کا پیشہ۔ الویراق۔ کاغذ ساز۔ کاغذ بیچنے وال۔ رو پیے پیسے والا۔ کاتب۔ الویرق والیورق والیورق۔ من الشجر۔ پتوں والا درخت۔ بہت پتوں والا۔ خوبصورت پتوں والا۔ شجرۃ ویرقۃ ویرقۃ ویرقۃ۔ بہت سبز اور خوبصورت پتوں والا درخت۔ الیورق۔ خاکستری رنگ کا راگ۔ عام اویرک۔ خشکی کا سال۔ زمسان اویرک۔ نمط کا سال۔ موٹ۔ ویرقۃ۔ ج ویرق۔ الویرقۃ۔ موٹ۔ الیورق۔ مادہ بھیرا۔ ایک چوڑے گول نرم پتوں والا درخت فاخر۔ ج ویراق ویراق۔ کہتے ہیں۔ التجار سے مویرقۃ لیسال۔ تجارت دولت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ المویرک۔ کاغذ ساز۔ کاغذی۔ ویرک ویرک۔ سرین پر سارا لینا۔ الرجل۔ کسی کے سرین پر مارنا۔ الشیء۔ سرین کے مقابل کرنا۔ رورک۔ الیرک۔ اترنے یا آرام لینے کے لیے سرین کو موڑنا۔ بالمکان۔ اقامت کرنا۔ علی الاضیو۔</p>	<p>الویرغ۔ روکنے والا۔ ویرق ویرق ویرق۔ ویرق ویرق ویرق ویرق ویرق۔ الظل۔ سایہ کا دراز و فراخ ہونا۔ النبات نباتات کا سرسبز و شاداب ہونا اور لہلہانا۔ صفت رویرق۔ ویرق۔ الارض۔ زمین کو تقسیم کرنا۔ النبات الناصر۔ تر نباتات کو چوسنا۔ رویرق الظل۔ سایہ کا دراز اور کثادہ ہونا۔ الویرق۔ جگہ کے پتلے کنارے۔ ویرق الشجر ویرقۃ۔ درخت کی خوش منطری و خوشنمائی۔ الرقۃ۔ سرسبز نباتات۔ الرقۃ۔ جوس۔ ویرق ویرق ویرق۔ الشجر۔ درخت کا پتے دار ہونا۔ الشجر۔ درخت کے پتے اتارنا۔ ویرق۔ الشجر۔ درخت کا پتے دار ہونا۔ الرجل۔ کسی کا بہت مدار ہونا۔ الطیب مطلوب نہ پانا۔ الصائد۔ شکار نہ لانا۔ الغنمی۔ مال غنیمت سے محروم ہونا۔ مال غنیمت پانا۔ تویرق۔ الطبی۔ برن کا پتے کھانا۔ اویرک و اویرک۔ یویرق اویرقا العنب۔ انگور کا رنگ پکڑنا۔ صفت مویرق۔ الویرق والیورق والیورق۔ والیورق۔ چاندی کا سک۔ ج۔ اویرک و ویرق۔ الویرق۔ چاندی کا سک۔ ج اویرک ویرق الشجر۔ درخت کا پتہ۔ ویرق الکتاب۔ کتاب کا ورق۔ واحد۔ ویرقۃ۔ ج ویرقات۔ الویرق۔ خون کا گول قطرہ جو زمین پر</p>
---	--	--

ج ویر کاف و اوسال و اسؤل
 موت - و س لکة -
 ویر هریر و س ما و توترا - الجلد
 سوجنا - صفت (و ایر هر) انف
 فلان - غضبناک ہونا - العنت -
 نباتات کا دراز اور موٹا ہونا -
 و س م - الجلد - متورم کرنا -
 انف فلان - غضبناک کرنا -
 بالفضہ - تکبر کرنا -
 اوس م ایبراما - فلانا بفلان غضبناک
 کرنے والی بات سنانا -
 الو س م - سوجن - ج اوس م -
 الاوس م - لوگ یا بہت لوگ - کہتے ہیں
 ما اوس م ای اوس م هو - میں
 نہیں جانتا وہ کون ہے -
 العوس م - مسوڑھا -
 الموس م - مغم - قوی سیکل آدمی -
 قاسر تہ صواسنتا - آمنے سامنے ہونا -
 مقابل ہونا -
 توترا ق - بہت تیل مٹنا - تاز و نعم میں پالنا -
 الو س م ک - ایک قسم کی پھلی -
 ویراکہ یوس م ک و س م ہا - بے وقوف ہونا -
 صفت اوس م ک - موت و س م ہا -
 ویر هت التریح - ہوا کا تیز چلنا -
 ویر هت - تیرک و س م ہا - الموات -
 عورت کا چربی دار ہونا -
 توترا کا فلان فی عمل ہذا الشی کسی کا
 کوئی کام مہارت سے نہ کرنا -
 الویر م من السحاب - بہت بارش برسنے
 والا بادل -
 الویر م - کشادہ - فراخ -
 و س م - النظر - نظر تیز کرنا -
 فی الکلام - جلدی بولنا -
 الو س م ویر م - کمزور نظر کا آدمی -
 الموس ویر م - گانے والا -

وسری یوی و س ریا - الرجل - پھیرے
 پر مارنا - القبیح جوفنا - خراب کرنا
 گلانا - امم الو س م - و س رت و س ریا
 ویر یة - الناس - آگ کا جلنا -
 الابل - اونٹ کا موٹا اور چربی دار
 ہونا -
 و س م و و س م یوی و س ریا و س ریا
 ویر یة - الزند - چقماق کا آگ
 نکالنا - صفت ویر -
 و س م یوی و س ریا - المخی - گودے
 کا ٹھوس ہونا -
 ویر م الرجل - پھیرے میں پیپ پڑنا -
 صفت موس و و موس م -
 و س م تویر یة - الشی - چھپانا -
 عن کذا - حقیقت کو چھپانا - الخبر
 و عن الخبر - پچھے کرنا - چھپانا - عن
 فلان بصر م - کسی سے آنکھ پھیر لینا -
 و س م الناس - آگ نکالنا -
 و س م موس م - الشی - چھپانا پوشیدہ
 کرنا -
 توترا فی تویر یا و توترا فی تویر یا -
 عنہ - چھپنا -
 استوس م - الزند - چقماق سے آگ
 نکالنا -
 استوس م یة س ریا - میں نے اس سے
 اس کی رائے دریافت کی -
 الو س م - اسم و س م کا - مخلوق - ابو
 الو س م - زمانہ -
 الزند الویر م و الویر م -
 موٹی چربی - و الو س م - کمزور
 پڑوسی - لحم ویر م - موٹا
 گوشت -
 ویر یة الناس و ویر یة ہا - آگ
 سلگانے کا چیترا وغیرہ -
 الو س م رجائے اوس م - بط -

موت (و س م) - ج و س م ات -
 آر م م و س م ک - بہت بط والی
 زمین -
 و س م یوی و س م و س م اللحم -
 گوشت کو خشک کرنا - القوم -
 بعض کا بعض کو سنانا - و س م اھم
 بعض کو بعض سے سنانا -
 و س م تویر مة و تویر مہا -
 القربتا - مشک بھرنا -
 الفرس برا کبہ - گھوڑے کا
 اپنے سوار کو گرانا - و س م فلانا -
 کسی سے سخت قسم کھلانا -
 توترا ا - الوعاء - برتن کا بھرنا -
 الرجل - خوشنما سے بھرنا -
 و تیر یزب و س م ویرا - الماء و
 نحوک - پانی وغیرہ کا بہنا -
 اوس م ایزابا - فی الارض جانا -
 الو س م اب - ماہر چور -
 العیزاب و ایزاب - پرناہ -
 ج میا زیب - و ما زیب -
 یا صوا زیب -
 و س م یوس م و س م ا و و س م ا -
 الشی - چیز کو اٹھانا - الرجل کسی
 کا بوجھل چیز اٹھانا -
 و س م ا الرجل - کسی پر غالب
 ہونا -
 الثلثة - رخنہ بند کرنا -
 و س م یوس م و ویر م یوس م و
 ویر م و س م ا و ویر م ا -
 ویر م ک - گنہ گار ہونا -
 ویر م فلان - گناہ سے مشروب
 کیا جانا -
 و س م یوس م و س م ا - لالک - ملک
 کا وزیر ہونا -
 اوس م ایزابا - الشی محفوظ کرنا -

<p>وَإِن تَرَكَ مَوَاتَرَ فَتَا وَتَوَاتَرَ تَوَاتَرَ تَا - التوم - ایک دوسرے کے نزدیک ہونا - وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَاتًا - فلانًا بقیہ - منہ سے آہستہ سے کاٹنا - الشيء تَوَاتَرَ - الدين - قرض ادا کرنا - رَوَاتَرَ (نَفْسًا) - دن میں ایک بار کھانا - وَتَرَ مَرِيضًا - في مَالِهِ - مال میں نقصان اٹھانا - تَوَاتَرَ مَرِيضًا - بہت روندنے والا ہونا - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - مقدار - اپنے وقت پر آنے والا - (وَالْوَاتَرُ مَرِيضًا وَالْوَاتَرُ مَرِيضًا) سبزی کا گٹھا - وہ گوشت جس کو عقاب اپنے کھونٹے میں جمع کرتا ہے - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - گوشت کا خشک ٹکڑا - بڑا چونا - ساجل و تَرِيضًا - گھٹے گوشت کا آدمی - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - مقدار - کھانا جو دن میں ایک مرتبہ کھایا جائے - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - سرعت - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - بہت گوشت اور عطر والا - وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - الشيء تولنا - وزن کرنا - له الدار احمرا وغیرها - لادپیہ وغیرہ وزن کر کے دینا - الشعرا - شعری لفظ کرنا - هَذَا اِيْزَانٌ مَرِيضًا - یہ رطل کے برابر ہے - وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - الشيء بوجھل ہونا - صفت رَوَاتَرَ الرجل - بچھتاہے ہونا - وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - نفسًا علی کذا - اپنا دل لگانا یا مشغول کرنا - وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - سامنے یا مقابل ہونا - وزن</p>	<p>تَوَاتَرَ مَرِيضًا - متفرق ہونا - القوم المال - مال آپس میں بانٹ لینا - تَوَاتَرَ مَرِيضًا - افکار - اس نے کبھی اس کی فکر کی کبھی اس کی - تَوَاتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - وہ ممالوں کو اپنے اپنے گھروں کی طرف لے گئے - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - باز رہنا - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - اللہ شکر کا - خدا تعالیٰ سے شکر کی توفیق چاہنا - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - نادار رہنے والا - کتا - فوج کا سردار - ج وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - جمع وائرع - بادشاہ کے مدد و محافظ - محارم اللہ سے باز رکھنے والا - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - جماعتیں اس کا واحد ہیں) الْمَوَاتَرُ مَرِيضًا - اولو العزم - ثابت قدم مضبوط - وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - بیولہ - پٹیاب قور قور اگر انا - أَدْرَأَعْتِ الطعنات بالدم - نیزے کے گھاؤ سے خون قور قور نکلا - وَتَرَ مَرِيضًا - الجنین - پیٹ میں بچہ کی صورت اختیار کر کے حرکت کرنا - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - رعشر - کچپی - بڑول آدمی - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - چھپکلی - ج وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا وَ تَرَ مَرِيضًا وَ تَرَ مَرِيضًا وَ إِسْرَاعًا - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - گزور لوگ - وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا وَ وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا ايزافًا - جلدی کرنا - (وَتَرَ مَرِيضًا) فلانًا - جلدی کرانا -</p>	<p>چھپانے لے جانا - الرجل - پناہ دینا - وَتَرَ مَرِيضًا مَوَاتَرَ مَرِيضًا - وزیر ہونا - کا علی الاضطر - مدد دینا - قوت پہنچانا - تَوَاتَرَ مَرِيضًا - کہہ - کسی کا وزیر ہونا - إِسْرَاعًا - چھوٹا کھیل اور ہنسا - بشو بے چھوٹے کھیل کے مانند ہنسا - گناہ کرنا - إِسْتَوَاتَرَ مَرِيضًا - کسی کو وزیر بنانا - إِسْتَوَاتَرَ مَرِيضًا - الشيء لے جانا - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - گناہ - بوجھ - بھاری بوجھ کپڑوں کی گھڑی - ج اَوَاتَرَ مَرِيضًا - أَوَاتَرَ مَرِيضًا الحراب - جنگ کے ہتھیار وساز و سامان - وَصَعَتِ الحرابُ أَوَاتَرَ مَرِيضًا - لڑائی ختم ہو گئی - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - جاتے پناہ - ادنچا پہاڑ - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - چھوٹا کھیل - ج وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - الْوَاتَرُ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - وزیر کا درجہ - الْوَاتَرُ مَرِيضًا - بادشاہ کا مددگار - معاون - ج وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - المَوَاتَرُ مَرِيضًا مَرِيضًا وہ جس پر گناہ کا الزام لگایا گیا ہو - وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا وَتَرَ مَرِيضًا - فلانًا بفلانٍ - روکنا - منع کرنا - وَتَرَ مَرِيضًا الجیش فوج کو ترتیب صفوں میں رکھنا - وَتَرَ مَرِيضًا، فلانًا بفلانٍ - بھڑکانا - وَتَرَ مَرِيضًا - المال بنہم - پراگندہ کرنا - المال علیہم - تقسیم کرنا - أَوَاتَرَ مَرِيضًا - المال - تقسیم کرنا - کا بکذا - بھڑکانا - اَوَاتَرَ مَرِيضًا تفریق کرنا - اصداح کرنا - کا الشيء المام کرنا - اَوَاتَرَ مَرِيضًا - الامام کیا جانا - اَوَاتَرَ مَرِيضًا بہا بھڑکایا جانا - صفت (مَوَاتَرَ مَرِيضًا)</p>
--	--	--

<p>والا ہونا۔ وَسَبَّ يُوَسِّبُ وَسْبًا - الثوب کپڑے کا میلا ہونا۔ الْوَسْبُ - گھاس۔ الْوَسْبُ - میل۔ المَيْسَابُ - نیم نچتہ کھجور۔ وَسَجَّتْ تَسِجٌ وَ سَجًّا وَسِيجًا وَ سَجَانًا الابل - اونٹ کا تیز چلنا۔ صفت، (وَأَسِجَةٌ) اَوْسَجٌ - البعير - اونٹ کو جلدی چلانا۔ اَوْسَجٌ وَالرَّسُوجُ - من الابل تیز رفتار اونٹ۔ ج وَسِجٌ - الْوَسِجُ وَالرَّسَجَانُ وَالرَّسِيجُ - اونٹ کی تیز چال۔ وَسِيجٌ يُوَسِّجُ وَيَأْسِجُ وَيَسِيجُ وَسَجًّا - میل پڑھنا۔ میلا ہونا۔ صفت وَسِيجٌ وَسِيجٌ وَأَوْسِجٌ - الشئ میلا کرنا۔ تَوَسَّجٌ وَاتَسَّجٌ وَاسْتَسَّجٌ میلا ہونا۔ الْوَسِيجُ - میل کچیل۔ ج - اَوْسَجٌ - وَسَدَّكَ - الوَسَادَةُ - کسی کے سر کے نیچے تیکہ رکھنا۔ وَسَدَّ إِلَيْهِ الْأَمْرَ كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا اَوْسَدَ - فِي الْيَسْرِ - تیز چلنا۔ الكلب بالصيد - کتے کو شکار پر اکسانا۔ تَوَسَّدَ - الْوَسَادَةُ - سر کے نیچے تیکہ رکھنا۔ ذَمًّا عَمَّا يَزُو کو سر کے نیچے تیکہ کی طرح رکھنا۔</p>	<p>الْمِيزَانُ - ترازو۔ ج مَوَازِينُ الْمِيزَانُ - مقدار۔ الضَّافُ - اِسْتَقَامَ مِيزَانُ الْمَنْهَارِ - دن آدھا ہو گیا۔ وَشَوَّوْا وَشَوَّوْا وَشَوَّوْا - جسم کو ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوتے چلنا۔ ہلکا ہونا اور جلدی کودنا۔ الْوَشْوَانُ - جسم کو حرکت دیتے ہوتے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔ رَوَّالْوَشْوَانُ (اَوْشَوَّوْا) اوچھاپت قد آدمی - ایک پرندہ۔ المَوْشُوْشُ - قَا - گانے والا۔ وَشَوَّوْا يَشُوْوْنَ وَشَوَّوْا - الشئ جمع ہونا۔ سکرنا۔ الامر فلاتاً۔ غضبناک کرنا۔ وَأَشْرَكَ صَوَّاشًا - آسنے سامنے ہونا۔ أَوْزَى ابْزَاءً - دیوار وغیرہ سے ٹیک لگانا۔ لِدَا اِبْرَاقَ - گھر کی دیواروں کو مٹی سے لیپنا۔ الشئ - اُطْحَانًا - ٹیک لگانا۔ الی فلان - کسی سے پناہ لینا۔ أَوْشَيْتُهُ إِلَيْهِ - پناہ لینے پر مجبور کرنا۔ تَوَاشَرَى تَوَاشَرِيًّا - الشئان - ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ اِسْتَوَشَرِي اِسْتِيَاثَرَاءً - فِي الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھنا۔ المُسْتَوَشِرِي - خود رائے آدمی - سیدھا کھڑا ہونے والا۔ وَسَبَّ يَسِيبُ وَسْبًا وَ اَوْسَبَ اَيْسَابًا المكان - جگہ کا بہت گھاس والی ہونا اَوْسَبَ الْكَبْشُ - مینڈھے کا بہت اون</p>	<p>میں برابر ہونا۔ کام کا بدلہ دینا۔ بَيْنَ الشَّيْبَيْنِ - وزن معلوم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ تَوَاشَرَى - الشئان - باہم برابر ہونا۔ اِتَّزَنَ - تَلَّنَا - الدَّسَاهِمُ - درہم پر کھنا۔ العدل گھڑی کا دوسرے کے برابر ہونا۔ الشئ - وزن کر کے لینا۔ الْوَشْنُ - مہ - مثقال۔ ج اَوْشَانُ - هَذَا اِدْرَاهِمٌ وَشْنٌ - یہ درہم سرکارن وزن رکھتا ہے۔ هَذَا رَجُلٌ رَاجِحٌ الْوَشْنُ - یہ کامل عقل والا آدمی ہے هُوَ وَشْنٌ الشئِ اَوْشَانَةُ الشئِ اَوْشَانُ الشئِ وَ اَوْشَانُ اَيْهَا وَ يَوْشَانُ اَيْهَا - وہ اس کے سامنے ہے یا وزن میں اس کے برابر ہے۔ هُوَ وَشْنُ الْجَبَلِ وَ اَيْهَا وَ جانب میں ہے۔ الْوَشْنَةُ - بوجہ۔ کامل عقل و نچتہ راستے والی عورت۔ الْوَشْنَةُ - وزن کا طریقہ۔ الْوَاشِرَانُ - نَا - دس ادرہم و اِشْرَانُ پورے وزن کا درہم۔ الْاَوْشَرَانُ - اسم تفضیل - کہتے ہیں۔ هَذَا الْقَوْلُ الْاَوْشَرَانُ مِنْ غَيْرِهِ یہ قول دوسرے سے زیادہ قوی ہے هُوَ اَوْشَرَانُ الْقَوْمِ - وہ قوم میں سب سے زیادہ ذی رجاہت آدمی ہے۔ الْوَشْرَانُ - اندلان کے لیے ہوتے دانے۔ فُلَانٌ وَ اِشْرَانُ الرَّايِ - فُلَانٌ سَجِيْدَةٌ رَاسَةٌ وَ اِشْرَانُ - المَوْشُوْشُ وَ اِشْرَانُ - پست قدم۔ عقل مند عورت۔</p>
---	--	--

الْوَسَادُ وَالْوَسَادُ وَالْوَسَادُ - گل تکیہ
 گاؤں - ج وَسَادٌ - سَرَجَلٌ
 عریض الوَسَادَةُ - کندہ بن
 آدمی - اِنَّ وَسَادَكَ لَعَرِيضٌ
 کنایہ ہے - بہت سونے سے -
 الْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ
 تکیہ - گل تکیہ - ج وَسَادَاتُ -
 وِوَسَادَاتُ وِوَسَادَاتُ
 وِوَسَادَاتُ -
 وَسَطٌ يَسِيطُ وَسَطًا وَسِطَةً -
 مکان ادا لقوم - جگہ کے یا
 لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا -
 مَفْتٌ وَاِسْطٌ -
 رَوَسَاطَةٌ القوم وِفيهِمْ
 حق وعدل میں اپنی قوم میں متوسط
 ہونا -
 وَسَطٌ يُوَسِّطُ وَسَاطَةً - شریف
 ہونا - حسب ادا ہونا -
 وَسَطٌ يَسِيطُ وَسَاطَةً وَسِطَةً
 وِدَسَطٌ - فِي حَسْبِهِ - شریف
 وِخاندانی ہونا -
 وَسَطَةٌ - ثَلَاثٌ بَنَانٌ - درمیان میں لکھنا
 وَسَطُ الشَّيْءِ - دو ٹوکے کرنا -
 اَوَسَطُ اَبْسَاطًا - القوم - بیچ میں
 داخل ہونا -
 تَوَسَّطَ - القوم ادا مکان - بیچ میں
 بیٹھنا - بیٹھنا - درمیان میں ثالث
 ہونا - الرَّجُلُ - درمیانی یا اوسط
 چیز لینا -
 الْوَسَطُ (مذکر - مونث - واحد - جمع)
 معتدل - درمیان - ج اَوَسَاطٌ -
 وَسَطُ الشَّيْءِ - چیز کے دونوں اطراف
 کا درمیان - جیسے وَسَطُ الْجَبَلِ
 وَسَطُ الدَّائِرَةِ - رَجُلٌ وَسَطٌ -
 صاحب حسب آدمی -

الْوَاِئِظُ - نا - دروازہ - پالان کا اگلا
 حصہ -
 الْوَاِئِظَةُ - مونث الْوَاِئِظُ پالان
 کا اگلا حصہ - ہار کے بیچ کا جوہر
 جو سب سے عمدہ ہوتا ہے -
 ذریعہ - سبب - ثالث - فَلَانٌ
 فِي وَائِظَتَا قَوْمِهِ - فلاں
 اپنی قوم میں سب سے اچھا
 آدمی ہے -
 الْوَسَاطَةُ - م - ثالثی -
 الْوَسِيطُ - دو جگہ لے والوں کے
 درمیان ثالث آدمی - ج -
 وَسَطَاءٌ - مونث وَسِيطَةٌ -
 هُوَ وَسِيطٌ بَيْنَهُمَا - وہ سب
 میں نمایاں شخصیت کا مالک ہے
 الْاَوَسَطُ - متوسط - معتدل - ج -
 اَوَاِئِظُ - الْعِلْمُ الْاَوَسَطُ -
 علم ریاضی اس کو حکمت وسطی بھی کہتے
 ہیں -
 الْوُسْطَى - مونث - الْاَدْسَطُ - ج -
 وَسَطٌ - مِنَ الْاَصَابِعِ - بیچ کی
 انگلی -
 الْوَسُوْطُ - درمیانی - بالوں کا خیمہ یا چھوٹا خیمہ
 وَسُوْطٌ - الشمس - سورج کا بیچ آسمان پرانا
 وَسُوْطٌ - الْبَيْتِ - گھر کا درمیانی حصہ -
 الْمَتَوَسِّطُ - نا - بحر متوسط یعنی بحر ابیض
 یا بحر روم جو ایشیا اور افریقہ کے
 درمیان ہے -
 وَسِعَ يَسِعُ وَيَسِعُ سَعَةً وَسِعَةً
 مکان - جگہ کا وسیع دکشادہ ہونا -
 الشَّيْءُ - وَسِعَ كَرْنَا - هَذَا الْاِنَاءُ
 يَسِعُ عَشْرِينَ كَيْلًا - اس برتن میں
 بیس کیل سماتے ہیں - وَسِعَتْ
 رَحْمَةُ اللّٰهِ كُلَّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

خدا تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر
 لیا ہے - مَا أَسْعُ هَذَا مِثْلُ اس
 کی طاقت نہیں رکھتا - لَا يَسْعُكَ
 اِنَّ تَفْعَلَ هَذَا - تمہارے لیے یہ کرنا
 روا نہیں - یا تم اس کے کرنے پر
 قادر نہیں -
 وَسِعَ يُوَسِّعُ وَسِعًا - اللّٰهُ عَلَيْهِمُ
 رِزْقًا خَدَا تَعَالَى كَارِزِقُ كَوْبِكْرَت
 دینا - رزق میں فراخی دینا - مَالِدَرَبَانَا -
 وَسِعَ يُوَسِّعُ وَسِعًا دَوَسَاعَةً - الْمَكَانُ
 جگہ کا کشادہ و فراخ ہونا - الْفَرَسُ
 گھوڑے کا کشادہ قدم ہونا -
 اَوْسَعٌ - بہت مال والا ہونا -
 الْمَوْضِعُ - جگہ کو کشادہ کرنا -
 الْنَّفَقَةُ - بہت خرچ کرنا (وَسِعَ)
 کشادہ کرنا - اِنَّهُ عَلَيْهِ كَمِي كُوَالِدَارِ
 کرنا - تَوَسَّعَ - کشادہ ہونا - الْقَوْمُ
 فِي الْمَكَانِ - کشادگی کرنا -
 اِتَّسَعَ - کشادہ ہونا - الْمَرْجُلُ - وَسِعَتْ
 والا اور دولت مند ہونا - الْنَهَامُ
 وِغِيُوْكَ - دِنٌ دِنِيْرُهُ كَادِرَارٌ وِلْمَا هُونَا -
 اِسْتَوْسَعَ - کشادہ ہونا - الشَّيْءُ كَمِي كَمِي
 كُوَسِيْعٍ پَانَا - يَادِوَسِيْعٍ پَانَا -
 الْوَاِئِظُ - نا - کشادہ - فَرَاخٌ فِي الْاَسْمَاءِ
 الْحُسْنَى - اللّٰهُ تَعَالَى كَمِي كَمِي
 میں سے ہے - یعنی بہت دینے
 والا - ہر چیز پر محیط -
 الْوَاِئِظُ وَ الْوَاِئِظُ الْوَاِئِظُ
 طاقت -
 السَّعَةُ وَالْوَسْعَةُ -
 وَالْوَسْعَةُ - وَسِعَتْ -
 چوڑائی - آسودگی - طاقت -
 قدرت -
 الْوَسِيْعُ - کشادہ - مِنَ الْغَيْلِ -
 کشادہ قدم گھوڑا -

<p>مختر، ۵، اوسمۃ - اوسمۃ و اوسمۃ - نیل کے پتے وسم - اوسمۃ - خوبصورت چہرے والا - ۵، اوسمۃ و سمار و سمار - مونث اسم ۵، وسمیات و سمار - اوسامۃ - مہ - حسن کا اثر حسن و جمال - الاوسمۃ - خوبصورت - الموسمۃ - لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ - مکہ میں حاجیوں کے جمع ہونیکا وقت - عید - ۵ - موسمۃ - المیسمۃ - داغ لگانے کا آلہ - داغ کا نشان - ۵ - میاسمۃ - المیسمۃ - حسن و جمال - المواسمۃ - داغ دینے والے اونٹ - وسن یوسن و سنا و سنۃ - اونگھنا نیند سے جاگنا - (منہ صفت مذکر وسن و سنان و لیان - صفت مونث و سنۃ - ووسنی و میسان - و سن فلان - کنوئیں کی بدلو سے بیہوش ہونا - تو سنۃ - نیند کے وقت آنا - الوسن - مہ - حاجت (۵) اوسان - السنۃ - مہ - اونگھ - عنودگی - ہولی سنۃ - وہ غفلت میں ہے - الوسنۃ - مہ - نیند کی کمی - اونگھ - الوسنۃ - بہت اونگھنے والا - الموسون - کست - کابل - (مونث) موسونۃ - وسوس و سواسا و وسوسۃ الشیطان لہ و والیدہ - وسوسہ ڈالنا - الہج - عقل کی خرابی سے کسی کا بے نیکی یا کینا کرنا - وسوسہ میں مبتلا ہونا - صفت - (مونث) - اہستہ بولنا - الہج و القتب - جھنکار</p>	<p>المیساق - من الصمام - بڑے بازوؤں والا کبوتر - وہ پزندہ جو اڑنے میں پھپھرتے ۵، میاسیق و ما سیق - و سق یسق و سیلۃ و رسل و توسل ائی اللہ یعمل اوسیلۃ - اللہ تک تقرب حاصل کرنا - صفت - واسیل - اوسلۃ و اوسیلۃ - ذریعہ - تقرب ۵، وسیل و وسایل و وسئل - الواسلۃ و اوسیلۃ - مرتبہ - درجہ وسمہ لیسۃ و سما و سیمۃ - داغ دینا - موسم بہار کی پہلی بارش کا زمین پر پڑنا - وسم یوسم دساما و وسامۃ و وساما - الغلام - خوبصورت چہرہ والا ہونا - الوجہ - چہرہ کا خوبصورت ہونا - وسم - المیشی - موسم حج میں مکہ میں حاضر ہونا - واسمہ موسمۃ - خوبصورتی میں مقابلہ کرنا - تو سم - المیشی - فراغت سے کوئی چیز معلوم کرنا - علامت طلب کرنا - پیچا تا - تو سم فیہ الخیر - کسی میں بھلائی معلوم کرنا - الرجل موسم بہار کی گھاس تلاش کرنا - تو سم یا الوسمۃ - وسم لگانا - السمۃ - نشان دار ہونا - تمیز ہونا - الوسمۃ - مہ - ایک درخت جس کے پتوں کو خضاب کے طور پر استعمال کرتے ہیں - نشانی داغ کا اثر - ۵، وسموم - السیمۃ - علامت - داغ کا اثر - ۵، سمات - الموسمی - موسم بہار کی پہلی بارش - الوسام - جانوروں پر لگایا ہوا نشان</p>	<p>الوساع - من الخیل - عمدہ - کشادہ قدم گھوڑا - وسم تو سیفا - المیشی - چھینا - توسف - المیشی - چھینا - البعیو - اونٹ کا موٹا ہونا اور پہلے بال گر کر دوسرے بال آنا - اوباد ایدیل - اونٹ کے بال جھڑنا - و سق یسق و سقا - المیشی جمع کرنا اور اٹھانا البعیو - اونٹ پر دست لادنا - اوسقت الساقۃ و علیہا - اونٹنی کا حاملہ ہونا - صفت و اسیق ۵، و اسقات و ساق اور موا سیق و موا سیق - لہ افعلہ ما و سقت عینی الماد - جب تک میری آنکھیں تر ہیں میں اس کو نہیں کروں گا یعنی کچھ نہیں کروں گا - و سقت النخلۃ - درخت خربا کا پھلدار ہونا - و سیق، البعیو - اونٹ کو ہانکنا - و سق - العنطۃ - گندم کو دستوں میں تھیم کرنا - اوسق - ایساقا - الذابۃ - جانور پر لوگھ لادنا - اوسقت النخلۃ - درخت خربا کا بہت پھلدار ہونا - واسقہ موا سقۃ - برابر ہونا یا مقابلہ کرنا - اسق - الامر - کام کا ترتیب میں ہونا - الابل - اونٹوں کا جمع ہونا - القمر - چاند کا پڑنا ہونا - استوسق - استیساقا - اکٹھا ہونا - الامر مرتب ہونا - لہ الامر - ممکن ہونا - الوسق - مہ - ساہو ساع - بعض کے نزدیک ایک اونٹ کا بوجھ ۵، اوساق الوسق - درخت خربا کا بوجھ ۵، اوساق ووسق - الوسق - مہ - دھکار - بارش - الوسیقۃ - من الابل - اونٹوں کا ریور - ۵، وساق الوسیقۃ - حاملہ - المیشیق - اہل عربوں کی اصطلاح میں جسر شدارک کا نام - چاند کا نام -</p>
---	---	---

پیدا ہونا۔ آواز رکنا۔ الرجل۔ کسی سے کہنے بات کرنا۔

وَسُوْسٌ - بہ - کلام مختلط ہونا۔

الْوَسْوَسُ - وَسُوْسٌ کا اسم۔ شیطان

وہم کی بیماری۔ دل میں آنے والی برائی

یا بے نفع بات (ج، د) وسواس۔

وَسْتِي لَيْسِي وَسِيًّا - دَاسَةً - سر مونڈنا۔

دَاسِي - الرجل - مَوَاسَاةً - مدد کرنا۔

أَوْسَى الْيَسَارَ - الْوَأْس - سر مونڈنا۔

الْيَسِي - كَانَا -

الْمَوْسَى - أَسْرَه - ج - مَوَاسِي -

الرَّشِبُ - ج - أَدْسَاب - بے

ترتیب گروہ۔ اوباش لوگ۔

وَشَجَّتْ لَيْسَجٌ وَشَجًّا - الْأَعْمَانُ -

شاخوں کا ایک دوسرے میں الجھا

ہوا ہونا۔ وَشَجَّتْ فِي قَلْبِي هُمُومٌ -

میرے دل تفکرات کئی طرح کے ہیں

وَشَجَّتْ بِكَ قَرَابَتُهُ - اس کی

رشتہ داری تم سے مل گئی۔ (وَشَجَّ)

محملہ تم سے باندھنا تاکہ کوئی

چیز کرنے نہ پائے۔

وَشَجَّ اللَّهُ بَيْنَ الْقَوْمِ - خدا نے لوگوں

لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا۔

تَوَشَّجَتْ وَتَوَشَّجَتْ - عُرُوقُ

الشَّجْوَةِ وَنَحْوَهُ - جُرُودٌ كَابَاهِمٍ

پچھدہ ہونا۔

الْوَأَشِجَةُ - نَا - بَحِيمِيَّة - مَرْت - وَأَشِجَةُ

الْوَأَشِجَةُ - باہم پوستہ قرابت۔

الْوَشِجِيُّ - باہم پوستہ رشتہ داری۔

نیزے بنانے کا درخت۔ نیزے۔

الْوَشِجِيَّة - درخت کے ریشہ کی بیٹی

ہوتی رہتی جس کو دو لکڑیوں میں الجھا کر

اس سے گہروں ایک جگہ دوسری جگہ

بے جاتے ہیں (ج، د) وَشَّجَ - هَد

وَشِجَةُ الْقَوْمِ - وہ قوم میں مہی میں

الْوَشِجَةُ - کان کی رگ - ج - وَشَّجَ

وَشَّجَهُ - جُرَادٌ بِيْئِي بِنَانَا -

تَوَشَّجَ وَتَشَّجَ - مَرْمَعٌ يُّكَا بِنَانَا -

تَوَشَّجَ بَسِيْفَهُ - تلوار گردن میں لگانا۔

بُؤْمِيَّة - کپڑا پہننا یا بغل سے نکال کر

کندھے پر ڈالنا۔ الْعَيْل - پہاڑ چلنا۔

الْوَشَّاحُ - تلوار - كَمَا ن -

ذو الوشاح - حضرت عمر بن الخطاب

رضي اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار (والوشاح)

جُرَادٌ بِيْئِي (ج، د) وَشَّجَ وَأَوْشِجَةُ

وَدَشَّاحٌ -

الْوَشَّاحَةُ - تلوار۔

الْوَشَّاعَاء - سفید دھاریوں والی کالی

بکری۔

الْمَوْشَجَّ - اشعار کی ایک قسم جس میں

ایک قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ

اہل اندلس کی ایجاد ہے۔

الْمَوْشَجَّة - میں الطیو اور الطیو پرندہ

یا ہرن جس کی گردن پر مالا کی طرح دو

خطوط ہوں۔

وَشَّرَ كَيْشِيرٌ وَشَّرًا - اسنانہ

دانتوں کو تیز اور باریک کرنا۔

الغشبة بالمشار - لکڑی کو اسے

سے چرنا۔

الشَّرُّ وَالشَّرُّ وَالشَّرُّ - دانت تیز اور

باریک کرنے کو کہنا۔

الميشام - آره۔

المؤشوس - منع۔ علم طبیعیات کی

اصطلاح میں تین طلوعوں والا طوری جسم

(ج، د) مَوَاشِيْرٌ -

وَشَّرَ كَيْشِيرٌ وَشَّرًا - جلدی کرنا۔

تَوَشَّرَ - لِشَّرٍ - برائی کے لیے تیار

ہونا۔

الْوَشَّرُ وَالْوَشَّرُ - تیزی۔ بلند مکان

جس سے پناہ لی جائے۔ زندگی کی سختی

(ج، د) اَوْشَانَا -

الْوَشِيْرَةُ - ج - وَشَّيْرٌ - بہت بھرا

ہوا تکیہ۔

وَشَّطٌ يَشِطُّ وَشَطًا - الْعَطْفُ - ہڈی

تورنا۔ الغاس کلباری کے دستہ میں

پتھر لگانا۔ الْقَوْمُ الْيَمَانَا - کم لوگوں کا آکر

ملنا۔

الْوَشِيْطُ - تابع - حليف - قوم میں اجنبی

خمس۔ مختلف النسل لوگ۔ (ج، د)

أَوْشَاظٌ (الْوَشِيْطَةُ) لکڑی کا ٹکڑا،

جس سے لکڑی کا پیالہ جوڑا جاتا ہے۔

هَدٌ وَشِيْطَةٌ فِي قَوْمِهِ - وہ قوم میں

ادنی لوگ ہیں (ج، د) وَشَّيْطٌ -

وَشَّعٌ يَشَّعُ وَشَّعًا - ايشي - ملانا۔ العطن

روٹی کو پینا۔ (وَشَّعًا وَشَوْعًا) الجبل

وَدِيَه - پہاڑ پر چرنا۔ الْبَقْلَةُ بَزِي

کا پھولدار ہونا۔ وَشَّعَهُ ايشي بلند ہونا۔

وَشَّعَ - القطن - روٹی کو دھنسنے کے بعد

لینا۔ الثوب - کپڑے پر میل بوئے

ڈالنا۔ االشيب دَاسَةً - سر پر بالوں کی

سفیدی کا ظاہر ہونا۔ ايشي في ايشي

ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔

وَشَّعُوا عَلَيَّ كَمَا مَهْدٌ أَوْ سَتْلَهُمْ -

انگوروں کے باغ کے ارد گرد باؤ لگانا۔

أَوْشَجَّ - ايشي او ايشي - سبزی یا

درخت کا پھولدار ہونا۔

تَوَشَّجَ - ايشي - اراکندہ ہونا۔ في البعيد

پہاڑ میں دائیں بائیں جانا۔ تَشَّعُوا الْغُبُوفَ

نہانوں کو تقسیم کر کے ہریک کا اپنے گھر

ایک جماعت لے جانا۔

تَوَشَّجَ - االشيب مَاسَةً - سر پر بڑھلا

آیا۔ بہ - بہت ہونا۔ بالكذب - جھوٹ

سے مزین ہونا۔ العظم في الجبل - بکریوں

کا چرنے کے لیے پہاڑ پر چرنا۔

الْوَشَّجَ - سر سبز لوگوں کے ٹکڑے۔ پہاڑ

میں تھوڑی سبزی۔
 الوشع - کڑی کا جالا۔
 الوشوع - پیاز کی متفرق نباتات جلتی ہیں
 پکانے کی دوا۔
 الوشع - کڑے کے ہیں بوئے۔ باغ
 کے ارد گرد لگائی ہوئی کانٹوں کی بار۔
 گھر کی چھت یا چھت کی لکڑیوں پر ڈالی
 ہوئی چٹائی۔ درخت کا وہ حصہ جو سوکھ
 کر گر گیا ہو۔ فوج کے افسر کا خیمہ جہاں
 سے وہ فوج کی دیکھ بھال کرتا ہو۔
 الوشبعۃ - رنگ برنگ کے سوت لپٹنے
 کا گٹھا۔ جلا ہے کی نال۔ ہر پچیدہ چیز۔
 غبار کی دھاری راج، وشع وشاقع
 الوشع - منع۔ بود موشع - دھاری
 دار منقش چادر۔
 وشع یشع وشعا - بولہ۔ پیاب کرنا۔
 وشع - الثوب - بالدمہ - کڑے کو خون میں
 لقمہ کر اس کو دھاری دار کرنا۔
 اوشع ایشاعا - العظیۃ - بخشش کم
 دینا۔ بولہ۔ پیاب کرنا۔
 توشع - بالتسویب - برائی سے آلودہ ہونا۔
 الوشع والوشع - کم - تقویٰ۔
 وشقہ یشقہ وشقا - خراش ڈانا
 ہ بالروح نیزہ مارنا۔ وشق اللحم
 گوشت کو پھانکوں میں کاٹنا۔ الوصل -
 جلدی کرنا۔
 وشق - الیشی - کڑے کڑے کرنا۔
 اوشق - الیشی فی الیشی - چٹنا۔
 توشق والشق - القوم العکد
 یأسیافہم - دشمن کو تلواروں سے
 کاٹنا۔ کڑے کڑے کرنا۔
 الواشق - نا۔ تقویٰ دودھ - جلد گز جانے
 والی چیز جیسے عمر یا زمانہ۔
 الوشق - متفرق چارہ یا گھاس۔
 الوشق - ایک جانور جس کی کھال سے

عمدہ پستین تیار ہوتے ہیں۔
 الوشیق والوشیقۃ - کات کرکڑوں
 میں خشک کیا ہوا گوشت راج، وشاق،
 المیشاق - کبھی کا دغزانہ۔
 وشق یوشق وشقا وشاکۃ و
 وشق - الأضر - جلدی ہونا۔ صفت
 وشیق۔
 اوشق - جلدی چلنا اور قریب پہنچنا اسی
 سے ہے اوشق ان یموت - اس
 کی خبر پر اکثر ان آتا ہے۔
 واشق مواشکۃ - تیز چلنا۔
 الوشق والوشق والوشکان والوشکان
 والوشکان - سرعت۔ وشکان ما
 یكون ذلک - یکسفر جلدی ہونے
 کو ہے۔
 الوشاک - سرعت۔
 الوشیک - مذکر موت جلد باز۔
 تخرج وشیکاً تیزی سے نکلا۔
 وشل یشل وشلا وشلاکاً -
 الماء - پانی کا بہنا۔ پکنا (وشولاً)
 کزور ہونا۔ مفلس ہونا۔ الیہ -
 خاکساری ظاہر کرنا۔
 اوشل - الماء - پانی کو کم پانا۔
 حظه - حصہ تقویٰ یا کم کرنا۔
 الوشل - پیاز یا چٹان سے ٹپکنے والا
 پانی۔ تقویٰ آسنو (معد، ج، اوشال
 الیشل بہیت ونوف - جگہ
 القوم اوشالہ - قوم کے لوگ ایک
 دوسرے کے پیچھے آئے۔ عیون
 وشلکۃ - کم پانی کے چٹے۔
 الواشل - نا۔ من الجبال - وہ پیاز
 جس سے ہمیشہ پانی ٹپکے۔ یار سے۔
 فلاں واشل الراہی - فلاں کزور
 رائے والا ہے۔
 واشل الحظ - ناقص اور تقویٰ

حصہ والا۔ ناقۃ وشول - بہت یا تقویٰ
 دودھ والی ازشتی - (معد)
 الوشول - دولت کی کمی۔ نقصان۔
 وشم یشم وشما وشم - الید۔
 ہاتھ گودنا۔ وشم الغصن - شاخ
 کا پتے لگانا۔
 اوشم الیشاماً - المکان - کسی جگہ نہر
 اگنا۔ الکماہر - انگوٹھا رنگ پکڑنا۔
 الشیب فی رأسیہ - سر میں بڑھاپے
 کی سفیدی ظاہر ہونا۔ البوق - بجلی کا
 چلنا۔ السمامہ - آسمان میں بجلی گودنا۔
 فی عمرہی فلان - کسی کو کالی دینا۔ کسی
 پر عیب لگانا۔ فی الأضر - کسی امر میں غور
 و تامل کرنا۔ اوشمت الجاریتۃ
 پتالوں کا ابھرنے لگنا۔ اوشم یفعل
 کذا - وہ الیا کرنے لگا۔
 استوشم استیشاماً - گورنے کے لیے
 کہنا یا ارادہ کرنا۔
 الوشم - مصر - گورنے کے نشانات۔
 گودائی - پہلے ظاہر ہونے والی نباتات۔
 راج، وشوم ووشاہ۔
 الموشمۃ - بارش کا قطرہ۔ ماعصاً
 وشمۃ - اس نے اس کی ذرا بھی
 نافرمانی نہیں کی۔
 الموشیمۃ - برائی۔ دشمنی۔
 گوشم - الماء - پانی کا کم ہونا۔
 الوشن - دسترخوان پر کھانے کا ساتھی۔
 وشوش وشوشۃ - فلاں - آہنگی
 سے کسی سے بات کرنا۔ لانا پھولی کرنا۔
 الوشوش والوشواش - ہکا جلد باز۔
 م جمل وشوشی الذراع - کام میں
 پھر تیار ہو۔
 وشی یشی وشیا وشیمۃ وشوشی الثوب
 کلام کو جھوٹ سے سجانا۔
 وشی یشی وشیا وشیمۃ وشوشی الثوب
 کلام کو جھوٹ سے سجانا۔

کرنا۔ بَنُو فُلَانٍ - اولاد کا زیادہ ہونا۔
 اَوْشَى الْيَشَاءَ - امکان۔ کسی جگہ نباتات
 اُكْنَا - الرجل۔ کسی کے مویشی کا زیادہ
 ہونا۔ اور نسل بڑھانا۔ الْمَعْدُونُ - کان
 میں سونا تھوڑا پایا جانا۔ النَخْلَةُ
 درخت خرما کا پہلا پھل لانا۔ اَيْشَى -
 نکانا۔ جاننا۔ الفرس۔ گھوڑے کو
 اُكْنَا۔ الدَّوَامُ الْمُرِيْبُ - دوا کا
 بیمار کو تندرست کرنا۔ فِي الْقَادَاهِمِ
 کچھ لینا۔
 تَوَشَّى - نقش و نگار ہونا۔ الشَّيْبُ
 فِي مَرَأْسِهِ - بڑھا پے کی سفیدی کا
 سر پر پھیل جانا۔
 الْيَتِي شَى اَنْتِي شَاءَ - الْعَظْمُ - شَكَتْ
 ہڈی کا ٹوٹ کر درست ہونا۔
 اِسْتَوْشَى - الفرس - گھوڑے کو اُكْنَا
 الْحَدِيثُ - بَحْثُ كَرْنَا - جَمْعُ كَرْنَا -
 الرَّجُلُ - ماگنا اور جو کچھ ہاتھ میں ہو
 نکانا۔ الْمَعْدُونُ - کان میں تھوڑا سا
 سونا پایا جانا۔
 الْوَشَى - مَم - کپڑے کے نقش و نگار نقش
 و نگار والے کپڑے۔ ج۔ و شَاءَ
 وَشَى السَّيْفِ - تلوار کا جوہر۔
 الْوَشَاءُ - اونٹوں کی کثرت۔
 الْوَأَشَى - جملغور۔ بہت اولاد یا مویشی
 والا۔ جلاہا۔ ج۔ وَأَشُونُ - وَشَاءَ -
 الْوَشَاءُ - سونے پر ٹھیک لگانے والے۔
 الْوَشَاءُ - نقش و نگار والے کپڑے بچنے والا۔
 الْمَشِيَّةُ - مَم - داغ۔ نشان۔ علامت۔
 (ج) بَشِيَّاتٌ -
 الْأَشِيَّةُ - داغدار۔ نسبت کے لیے۔
 وَشَوِيٌّ -
 وَهَى يَوْشَى وَهًا - العمل - مضبوط
 بنانا۔
 وَقَصَّتْ تَوَيْصًا - الْمَاءَةُ - عورت کا

تغاب کو تنگ کرنا۔
 وَصِي يَوْهَنَا دَسًا - الثَّوْبُ - کپڑے کا
 میلا ہونا۔
 وَصَبَ يَصِبُ وَصُوبًا - دائم رہنا ثابت
 رہنا۔ الذین - قرض لازم ہونا۔
 عَلَى الْأَمْرِ - ہمیشگی کرنا۔ حسن انظام
 سے کرنا۔
 وَصَبَ يَوْصَبُ وَصَبًا وَوَصَبٌ و
 تَوْصَبٌ - بیمار ہونا۔ صفت۔ رَوْصِبٌ
 (ج) وَصَابِيٌّ وَوَصَابٌ -
 تَوْصَبٌ - مرین ہونا۔ اللَّهُ فَلَانًا -
 بیمار کرنا۔ الرجل - بیمار اولاد والا ہونا۔
 اَيْشَى - دائم ہونا۔ ثابت ہونا دوام صبا
 على الأمر - کسی امر پر مداومت کرنا۔
 الْوَأَصَبُ - بیماری۔ دائمی درد۔ اور
 جسم کی لاغری۔ کستی۔ تفکین۔
 الْوَصَبُ - نفع اور سبب کے درمیان
 کا حصہ۔ ج۔ اَوْصَابٌ -
 الْوَأَصِيبُ - دائم۔
 الْوَأَصِيبَةُ - مَوْتٌ - الْوَأَصِيبُ - بَيْتٌ
 و دو رنگ پھیلا ہوا بیابان۔
 الْمَوْصَبُ - بہت دروں والا۔
 وَصَدَّ يَهْدُ وَصَدًّا - ثابت رہنا۔
 بِالْمَكَانِ - اقامت کرنا۔ الثَّوْبُ -
 کپڑا بننا۔
 وَهَدَّ - الثَّوْبُ - کپڑا بننا۔ الْكَلْبُ
 بِالْقَيْدِ - کتے کو شکار پر بھڑکانا۔
 فَلَانًا - ڈرانا۔
 اَوْصَدَّ - الْبَابُ - دروازہ بند کرنا۔
 الْمَقْدِمُ - ہانڈی ڈھانکنا۔ عَلَى فُلَانٍ
 کسی کو تنگ کرنا۔ الْكَلْبُ بِالْقَيْدِ
 کتے کو شکار پر بھڑکانا۔ وَاسْتَوْصَدَّ
 بیمار میں مویشی کے لیے بارہ بنانا۔
 الْمَوْصَدُّ - جلاہا۔
 الْوَصَادُ - بندش۔ اور ڈھکائی۔

الْوَصِيدُ - چوکھٹ۔ گھر کا صحن۔ غار
 پہاڑ۔ قریب قریب جڑوں والی نباتات
 جو بارہ ختم کیا ہوا۔ تنگ۔ بند کیا ہوا
 (ج) وَصَدَّ - (وَالْوَصِيدَةُ) پہاڑ
 یا احاطہ۔ ج۔ وَصَائِدٌ -
 الْمَوْصَدُّ - پردہ۔ الْوَصْرُ - عمدہ ج۔
 أَوْاصِرٌ - (وَالْوَصِيرَةُ وَالْأَوْصِرُ)
 عمدہ نام۔ چمک۔ دستاویز۔
 وَصَعٌ يَصْعُ وَصَعًا - اَيْشَى - پوشیدہ کرنا۔
 وَصَفَ يَصِفُ وَصْفًا وَصْفَةٌ - اَيْشَى
 بیان کرنا۔ تریف کرنا۔ (وَصُوفًا) الفرس
 گھوڑے کا ٹمڈگی سے چنا۔ رَوْصَفَةٌ
 الطَّيِّبُ الْمُرِيْبُ - طیب کا مرین
 کے لیے دوا تجویز کرنا۔
 وَصَفَ يَوْصَفُ وَصَافَةً - الْغَلَامُ - لڑکے
 کا خدمت کرنے کے لیے لائق ہونا۔
 رَصِفٌ، وَصِيفٌ، اَمَمٌ - الْإِصِيفُ
 وَالْوَصَافَةُ
 وَاصَفَهُ - چیز کی صفت سنا کر سودا کرنا۔
 اَوْصَفَ اَيْقَانًا - الْغَلَامُ - لڑکے کا
 لڑکی کے لیے لائق ہونا۔
 اِنْصَفَ - اَيْشَى - چیز کا قابل بیان ہونا۔
 الرَّجُلُ - اچھی صفات سے مشہور ہونا۔
 بِالصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ - ستودہ
 صفات والا ہونا۔
 تَوَصَّفَ - وَصِيفًا اَوْ وَصِيفَةً - خادم یا
 خادمہ بنانا۔
 تَوَاصَفَ - الْقَوْمُ اَيْشَى - ایک دوسرے
 سے بیان کرنا۔
 اِسْتَوْصَفَ - فَلَانًا اَيْشَى - بیان کرنے
 کے لیے کہنا۔ الطَّيِّبُ - حکیم سے نسخہ
 تجویز کرنا۔ الْغَلَامُ - لڑکے کا قابل
 خدمت ہونا۔
 الصِّفَةُ - مَم - صفت۔ خوبی۔ وہ علامت
 جس سے موصوف پہچانا جائے۔

المستور - پردہ لٹکانا۔
 وَكُنْ يَهْرًا وَطَنًا وَأَذَلَّكَ زَيْطَانًا بِأَنَّهُ
 اقامت کرنا۔
 وَكُنْ وَآوِطْنِ وَكُوْنَنَّ كَرَاتِنَنَّ وَاسْتَوِ
 السلد۔ کسی شہر کو اپنا وطن بنانا۔
 وَكُنْ نَفْسَهُ عَلَى الْأَمْرِ كَالْيَدِ مَنْ كَسَى
 پر یا کسی امر کے لیے خود کو آمادہ کرنا۔ یا
 مائل کرنا۔
 وَاطْنَهُ عَلَى الْأَمْرِ كَيْسِي كَيْسِي
 امر کو کرنے کی ٹھاننا۔
 الْوَهْنُ - انسان کی سکونت کی جگہ خواہ وہاں
 پیدا ہوا ہو یا نہ پیدا ہوا ہو۔ موشی کے
 باندھنے کی جگہ۔ ج۔ اَوْطَانٌ -
 الْمُؤْتَمِنُ - وطن۔ لڑائی کا میدان۔ (ج۱)
 مَوَاطِنُ -
 الْمُطِطَانُ - میدان گھوڑ دوڑ میں وہ مقام
 جہاں سے گھوڑے چھوڑے جائیں۔
 غایت۔ انتہا۔
 وَطُوطٌ - کمزور ہونا۔ جلدی ہونا۔
 الْوُطُوطُ - کمزور عقل و رائے والا آدمی
 جلدی ہونے والا۔
 الْوُطُوطَةُ - جلدی ہونے والی چلنے
 والی۔
 وَطِي كُوطِيَّةٌ - ایشی۔ بچے کرنا۔
 وَطِبَ يَطِبُ وَطُوبًا - الأمر دیکھنے
 الأمر۔ کسی کام پر پیشگی کرنا۔ (صفت)
 وَاطِبٌ - (وطننا) ایشی زمیننا۔
 وَاطِبٌ مَوَاطِنَةٌ - علی الأمر۔ کسی
 کام پر مداخلت کرنا۔ علی حد متد
 فلان۔ کسی کی خدمت پر اگسنا۔
 تَوَاطَبَتْ عَلَيْهِ الرِّيحُ - ہواؤں کا
 بے درپے آنا۔ لگاتار آنا۔
 الْمُطِطِبُ - گول تیز کیا ہوا پتھر۔
 الْمُؤَطُوتُ - منع۔ راجل مؤطوت۔ وہ
 شخص جس کے مال پر مسلسل آفتیں آئیں۔

وَظَرِي كُظْرِي وَظُورًا - ہونا و پھر گوشت ہونا۔
 صفت۔ وظیر۔
 وَظَفَ يَظِفُ وَظْفًا - البعد۔ اُدْنُ
 کے پاؤں کی رسی چھوٹی کرنا۔ پٹنی کی ہڈی
 پر مارتا۔ القوم۔ پروری کرنا۔ اَلشَّيْ
 عَلَى نَفْسِهِ - لازم کرنا۔ مقرر کرنا۔
 وَظَفَهُ - روزیہ مقرر کرنا۔ وَظَفَ عَلَيْهِ
 مَثَلًا - کام مقرر کرنا۔ وَظَفَ عَلَى الْقَبْرِ
 كَلَّ يُوْهِرُ حِفْظَ آيَاتِ حَيْثُ كِتَابُ اللَّهِ
 بچہ کے یاد کرنے کے چند آیتیں مقرر کرنا۔
 وَاطْفَهُ - موافقت کرنا۔ برابر ساتھ رہنا
 اسْتَوْظَفَ - ایشی۔ سب سے لینا۔
 الْمُؤَظِيفُ - جالور کی پٹنی یا اگلی ٹانگوں
 کی پار کی۔ ج۔ وَظَفَ وَأَوْظِفُهُ -
 الْمُؤَظِيفُ - سخت زمین میں چلنے کے
 قادر۔ تَجَاوَزَ الْأَهْلَ عَلَى دَظِيفٍ
 وَاحِدٍ - اُدْنُ ایک ہی قطار میں آئے
 الْمُؤَظِيفَةُ - مقرر کیا ہوا کام یا رزق ٹھکانا
 دغیرہ۔ تہذیب۔ شرط۔ ج۔ وَظَائِفٌ وَ
 وَظَفٌ - درجہ۔ نوکری۔ لِيَدَّ نِيَا
 وَظَائِفٌ - دنیا میں بہت سی تبدیلیاں
 ہیں۔
 الْوُضْعُ - گیدڑ۔ گیدڑ کی آواز کی نقل۔ بچے
 لکے رونے کی آواز۔
 وَغَبٌ يَغِيبُ وَغَبًا - ایشی۔ سب سے
 لینا۔ الأمر۔ خارج ہونا۔ البجل۔ پوری
 زبان کاٹ لینا۔ ایشی فی ایشی۔ داخل
 کرنا۔ بی مآلہ۔ اپنے مال میں اسراف
 کرنا۔ فضول خرچی کرنا۔ القوم۔ سب
 کا نیکل جانا۔ اور ایک کا باقی نہ رہنا۔
 اسْتَوْغَبَ اسْتَبِيْعَابًا - ایشی۔ سب
 سے لینا۔ جڑ سے اکھیرنا۔ الْحَدِيثُ
 بات پوری حاصل کرنا۔ الْهَكَانُ أَوْ
 الْوَعْدُ الْيَشِيُّ - جگہ یا برتن کا چیز کے
 لیے کافی ہونا۔

الْوَعْبُ - شاہراہ۔ کشادہ۔
 الْوَعْبُ - کشادہ۔ الْوَعْبُ - کشادہ کیا
 ہوا۔ هَذَا أَوْعَبُ لِيَكُنَّ - یہ فلاں چیز
 کے حاصل کرنے کے لائق ہے۔
 وَوَعْتُ يُوْعِثُ وَوَعْتًا وَوَعْتًا وَوَعْتًا
 يُوْعِثُ وَوَعْتًا - الطریق - راستہ
 کا دشوار گزار ہونا۔ الأمر۔ خراب ہونا
 منقطع ہونا۔ صفت (دَعْتٌ وَوَعْتٌ
 وَوَعْتٌ وَوَعْتٌ - يَدُّ كَا - اَلْقَدُّوْنَا -
 صفت (وَعْتُهُ)
 وَوَعْتُهُ يُوْعِثُ - عَنِ الْأَمْرِ - روکنا۔
 أَوْعَتْ - دشوار گزار راستہ میں پڑنا۔ بی
 مآلہ۔ مال میں اسراف و فضول خرچی کرنا۔
 المتكلم۔ کلام نہ کر سنا۔ الأمر۔ خواب
 کرنا۔ فُلَانًا - دشوار گزار راستہ میں چلنے
 پر اگسنا۔
 الْوُوعْتُ - مہم۔ ٹولی ہوتی پڑی۔ لاغری۔
 سخت دشوار۔ دشوار گزار راستہ۔
 ہر مشکل کام۔ ج۔ وَوَعْتُ وَوَعْتٌ -
 الْوُوعْتَاءُ - مشقت۔ تکان۔ ہر بڑی صعقت
 مرکب الوعثاء۔ گناہ کیا۔
 الْوُوعُوْتُ - سختی۔ برائی۔
 الْوُوعُوْتُ - ناقص حسب کا۔
 وَعْدٌ يَعِدُ وَعْدًا وَعْدًا وَوَعْدًا
 وَوَعْدًا وَوَعْدًا وَوَعْدًا وَوَعْدًا
 فُلَانًا الْأَمْرَ وَبِالْأَمْرِ - وعدہ کرنا۔
 وَعْدَتِ الْأَرْضُ - زمین نے اچھی فصل
 کی امید دلائی۔ (وَعْدِي) البجل۔ دھکی
 دینا۔ الفعل۔ ساڑھ کا بڑھنا۔
 أَوْعَدَ الْعَادَا - وعدہ کرنا۔ دھکی دینا۔
 وَأَعْدَا مَوَاعِدًا - ایک دوسرے سے
 وعدہ کرنا۔ الْمَوْضِعُ أَوْ الْوَقْتُ - وعدہ
 پورہ کرنے کے لیے جو یا وقت مقرر کرنا۔
 تَوَاعَدَ وَالْقَدُّ الْقَوْمِ - ایک دوسرے سے

دور سے میں بڑی طرح گرا۔ میدان جنگ
 مرض۔ وعكۃ العظمیٰ۔ ہمارے کھٹے
 وعكۃ الأمل۔ معاملہ کی سختی
 وعكۃ الإبل۔ اونٹوں کے ریلوے
 وعمل یعمل وعلا۔ الہجرت۔ اوپر سے جہان
 تو عمل العیال۔ پیار پر چڑھنا۔
 استعملت الیہ۔ پناہ لینا۔
 استعملت الأوعال۔ پیاری بکریوں
 کا پیاروں کی چوٹیوں پر چڑھنا۔
 الوعل والوعل والوعل۔ پیاری بکری۔
 ج۔ أوعال ووعول ووعل ووعیة
 ووعیة۔ ٹونٹ وعیلہ ووعیات
 ووعال۔
 الوعل۔ شریف۔ پناہ کی جگہ۔ ج۔ أوعال
 ووعول۔ مالک عنہ وعل۔ تجھے
 اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم
 علینا وعل واحد۔ وہ سب ہمارے
 خلاف متفق و متحد ہیں۔
 الوعلۃ۔ پیار کا دشوار گزار حصہ۔ من
 القمیین۔ قمیوں کا کاج۔ وعلۃ
 الإبریق۔ اونٹ کے کا دستہ۔
 المستوعل۔ پیار کی چوٹی پر پیاری بکری
 کی جائے پناہ۔ ج۔ مستوعلات۔
 وعل وعل یعل وعلما۔ التیاری
 خوش باش کہنا۔ عہد صیانتا وعل
 مساوی سے ہے۔ یعنی ہمتی
 صبح یا شام اچھی ہو۔
 الوعل۔ مہ۔ پیار میں نشان جو اس کے بتیہ
 رنگ کے مخالف ہو۔ ج۔ وعلام۔
 الوعل۔ الیہ۔ پورا لے لینا۔
 توعلت الذابۃ۔ جانور کا انتہائی
 موٹا ہونا۔
 الوعل والوعلۃ۔ سخت زمین۔ زمین
 کی وہ سفید جگہ جہاں کچھ نہ اگے۔ ج۔
 وعلان۔ الوعل۔ جائے پناہ۔

ووعوع ووعوۃ ووعواۃا۔ اکتب
 ادا بن۔ آدمی۔ کتے یا گیدڑ کا ہونگنا۔
 القوم۔ لوگوں کا شور مچانا۔
 الوعواۃ۔ مہ۔ لوگوں کی شور مچانیوالی
 جماعت۔ بہبودہ گو۔ گیدڑا کتے کی آواز۔
 الوعوع۔ گیدڑ۔ لوٹری۔ تلخ۔ خلیب
 پیان۔ دیدبان۔ ج۔ ووعاوع۔
 ووعی یعی ووعیا۔ ایشی۔ جمع کرنے کا
 قبول کرنا۔ شور کرنا۔ یاد کرنا۔ الأذن
 سنا۔ القیح فی الجوج زخم میں
 پیپ جمع ہونا۔ الجوج۔ زخم کا
 پیپ بہانا۔ العظم۔ ہڈی کا ٹوٹنے
 کے بعد ٹھیک ہونا۔
 أوعی الیعام۔ الکلام او الیثی۔ یاد
 کرنا۔ جمع کرنا۔ الواد ونحوہ۔ خوراک
 برتن میں رکھنا۔ الہجرت وعلیہ۔ بخل کرنا
 رواستوعی استیعاء۔ ایشی۔
 سب لے لینا۔
 الوعی۔ پیپ۔ (د الوعی)۔ شور
 مالی عنہ وعی) لہجے اس کے سوا کوئی
 چارہ نہیں۔ فریق وعی مضبوط گھوڑا
 الوعاد والوعام۔ برتن۔ ج۔ أوعیہ
 وحیم أواع۔
 الواعی۔ نا۔ واعی الیقیم۔ یقیم کا
 سرپرست و محافظ۔
 الواعیہ۔ بیخ۔ آواز۔ هوأوعی من
 فلاقی۔ وہ فلاں سے زیادہ یاد کرنے
 والا۔ اور سمجھارے۔
 الوعی۔ یاد رکھنے والا۔ فقیہ۔ سمجھارے۔
 موعی التلیع مضبوط کلائی والا۔
 وعب یعب وعبۃ ووعوبۃ
 الجمیل۔ اونٹ کا موٹا ہونا۔
 الوعب۔ رومی سامان۔ موٹا اونٹ۔
 جسم کا کمزور۔ کمینہ۔ ج۔ أوعاب و
 وعب۔ ٹونٹ۔ وعبۃ۔

رو الوعبۃ سے وعب۔
 وعب یعب وعبۃ۔ القوم خدمت کرنا۔
 وعب یوعل۔ کمزور عقل اور کمینہ ہونا۔
 وعب کا موعاۃ۔ کسی کے فعل
 کی نقل اتارنا۔ وعب فلا تالی البصر
 چلنے میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔
 الوعب۔ کمزور عقل والا۔ بیوقوف۔ کمینہ
 بچہ۔ قوم کا خادم۔ غلام۔ ج۔ أوعاد
 وعبان ووعیان۔ ٹونٹ۔
 وعبۃ۔ الوعب۔ تیر جس کا جوئے
 میں کوئی حصہ نہ لے۔
 وعب یعب وعبۃ۔ الیوم۔ دن کا سخت
 گرم ہونا۔ وعبۃ الشمس۔ تیز
 دھوپ پڑنا۔ رو وعب یوعل وعبۃ
 وعبۃ توعلیۃ۔ علیہ۔ کمینہ رکھنے
 پر اگنا۔
 أوعاۃ ایغاسا۔ عفتناک کرنا۔
 أوعاۃ صمد صمد۔ عفتہ سے سینہ بھرنا۔
 الماء۔ پانی گرم کرنا۔ الی کذا۔ مجبور
 کرنا۔ الخنزیر۔ خنزیر کو گرم پانی سے
 دھو کر ذبح کرنا۔ أوعاۃ الملك بوجیل
 امرضا و أوعاۃ امرضا۔ بادشاہ
 کا کسی کو بغیر خراج کے زمین دینا۔ القوم
 گرمی کے وقت میں آنا۔ أوعاۃ وایبناہم
 مہجرا۔ انھوں نے باہم وقت مقرر کیا۔
 توعل۔ عفتہ سے بھرنا۔
 أوعاۃ والوعاۃ۔ مہ۔ کمینہ۔ دشمنی۔
 وعب العیش۔ فوج کا شور۔
 أوعاۃ۔ گرمی کی شدت۔
 الوعیو۔ گرم ریت پر بھنا ہوا گوشت۔
 رو الوعیوۃ۔ گرم پتھروں سے گرم کیا
 ہوا دودھ۔
 المیع۔ مقررہ وقت یا میعاد۔
 وعب یعب وعبۃ وعبۃ۔ البعب۔
 نگاہ کا کمزور ہونا۔

الرجل - جلدی چلنا اور مہڑنا۔
 أَوْعَتْ لِیَعْقَابًا - الرجل - جلدی چلنا اور
 درڑنا۔ کمزور نظر والا ہونا۔ بقدر کفایت
 کھانا کھانا۔ الکلب - کتے کا زبانی بھانا
 الطایر - پرندہ کا جلدی جلدی پھرنانا
 وَعَلَ لِعَلٍّ وَعَوْلًا - فی الشیء - داخل ہو
 کر گھس جانا۔ دور ہو جانا۔ وَعَوْلًا
 وَعَوْلًا رَعْلًا فَمَا عَلَى الْقَوْمِ بَعْرًا
 دعوت میں آنا۔ فی العلم و نحوہ۔
 علم میں پوری جد جہد کرنا۔ القوم۔ دشمن
 کے ملک میں گھسے ہوئے دو تک چلے
 جانار و توغل، فی البلاد - ملک
 میں دو تک چلا جانا۔
 الموعن - مع۔ کمزور فرمایا۔ کوتاہی کرنے
 والا۔ بغیر بلائے ہوئے کھانے پر موجود
 ہونے والا۔ جائے پناہ۔ ایک شرم کا دانہ
 جو کبوتر کھاتے ہیں۔ گنجان درخت۔ ج۔
 أَوْغَالَ - (وَالْوَعْلُ) گھوٹے نسب کا
 دعویٰ کرنے والا۔ بد خوراک۔
 الْوَعَالُ - بہت تعریف کرنے والا۔ بہت
 قیمت مانگنے والا۔
 الموعل - جلدی داخل ہونے والا۔
 وَعَمَهُ يَعْمُهُ وَعَمًا - غالب آنا۔ بغیر
 تحقیق کے خبر بیان کرنا۔
 وَعَمَرُ يُوَعِمُ وَعَمًا - عَلِيه - کینہ رکھنا۔
 أَوْعَمَهُ - کینہ در بنانا۔
 تَوَعَّمَ عَلِيه - غضبناک ہونا۔ (وَتَوَاعَمَ)
 الْإِبْطَالُ فِي الْحَرْبِ - بہادریوں کا
 سخت قتال کرنا۔
 الْوَعْمُ - مع۔ کینہ۔ جنگ و قتال۔ نفس
 بے وقوف۔ گرا ہوا کھانا۔ ج۔ اَوْعَامُ -
 ماحول و عَمْر - کینہ در آدمی۔
 تَوَعَّنَ تَوَعَّنًا - جنگ میں پیش قدمی کرنے
 والا۔ عَلَى الْمَعَاهِي - گناہوں پر اصرار کرنا۔
 الوعنى والوعى - شور۔ لڑائی۔

وَقَدْ يَفِيدُ وَفِدًا وَفُودًا وَفَادَةً
 فَادَةً - انی اذ علی الامیر۔ وفد
 بن کر آنا۔ قاصد بن کر آنا۔ مفت (واحد)
 ج۔ وَفِدَةٌ وَفُودٌ وَفَادَةٌ وَفِيدٌ
 وَأَوْفَاءٌ -
 أَوْفَدَ لِیَعْقَابًا - بند ہونا۔ علیہ۔ اوپر
 سے بھانگنا۔ الرجل - جلدی کرنا۔ المرمم
 بہن کا کان دسر کھرا کرنا۔ (وَوَفْدٌ) فَلَمَّا
 انی اذ علی الامیر۔ بیچنا۔ وفد روانہ کرنا۔
 تَوَفَّدَ عَلِيه - اوپر سے بھانگنا۔
 تَوَفَّدَتِ الْاِیْمَلُ اِوَالظُّلُومِ - اوتوں یا
 پرندوں کا ایک دوسرے سے آگے
 نکل جانا۔
 تَوَافَدَ - القوم علیہ - اکٹھے وارد ہونا۔
 اسْتَوْفَدَ - فَمَا قَعَدْتِه - غیر مطمئن بیچنا
 ہا وفد بیچنا۔
 التَّوَفُّدُ - مع۔ وافی کی جمع۔ آدمیوں کی
 جماعت جو مشترکہ کام کے لیے بھیجی جائے
 ج۔ (وَفُودٌ)۔
 التَّوَفُّدُ - ریتا نیلی کی چوٹی۔ ج۔ وَفُودٌ
 وَأَوْفَادٌ -
 التَّوَافِدُ - نا۔ من الایم و نحوہا۔ سب
 سے آگے چلنے والا ادب۔ وغیرہ۔
 رخسارے کا وہ حصہ جو طعام چاہنے
 وقت اوجھا ہو جاتا ہے۔
 التَّوَفَادُ - بہت وفد والا۔
 وَفَرٌ يَفِرُّ وَفَرًا وَفَرًا لَهُ لِيَلْجَلُ
 زیادہ کرنا۔ پورا کرنا۔
 مَحْرَقٌ فَلَانٌ - عزت کی حفاظت کرنا اور
 گالی نہ دینا۔ کہتے ہیں وَفَرًا تَهْ عِرْفَانَهُ
 میں نے اس کی تعریف کی اور عیب جی
 نہ کی۔ عَطَاءُكَ - رضامندی کے ساتھ
 واپس کر دینا یا کم جان کر واپس کرنا۔
 الثَّوْبُ - کپڑے کو فراخ قطع کرنا۔
 دَوَّفَرًا دَوَّفَرًا اَوْفَرًا وَفَرًا يَوْفَرًا

وَقَامَسَ - المال و التصاع - مال یا
 سامان زیادہ کرنا۔
 وَفَرٌ تَوَفَّرًا - الشیء - چمک زیادہ کرنا۔
 يَفْلَانٌ مَعْرَضَةً - حفاظت کرنا۔ گالی
 نہ دینا۔ المال - کم نہ کرنا۔ حِصَّةٌ مِنْ
 المال - باقی رکھنا۔ عَلَيْهِ حَقُّهُ
 کسی کا پورا حق دے دینا۔ الثَّوْبُ -
 کپڑا گشادہ کاٹنا۔ يَفْلَانٌ طَعَامَهُ
 خوراک مکمل کرنا۔ اللهُ خَطَّ مِنْ
 كَذَا - کامل کرنا۔
 أَوْفَرًا - فِلَانٌ الشیء - زیادہ کرنا۔ پورا کرنا۔
 تَوَفَّرَ - عَلَى كَذَا - اپنی ہمت صرف
 کرنا۔ عَلَى صَاحِبِهِ - عزت و حرمت کا
 کا لحاظ رکھنا۔
 تَوَافَا وَالتَّوَفَّرَ - الشیء - زیادہ ہونا۔
 اسْتَوْفَرَا - الشیء - پورا کرنا۔ الحق۔ حق
 پورا سے لینا۔
 التَّوَفَّرُ - مع۔ دولت مندی۔ مِنَ الْمَالِ -
 اِوَالْمَتَاعِ - کثرت۔ ج۔ وَتَوَفَّرَ -
 التَّوَفَّرُ - کثرت۔ بہتات۔ کالوں
 تک بے بال۔ ج۔ وَتَوَفَّرَ -
 التَّوَافِرُ - نا۔ علم عروص کی ایک قسم
 التَّوَافِرُ - ثروت۔ التَّوَافِرُ - ذبح کی
 بڑی جگہ۔
 التَّوَفَّرُ - کامل۔ نام۔
 التَّوَفَّرُ - بھرا ہوا۔ مَنَادَةٌ وَتَوَافَرُ
 بڑی کھال۔ اَذُنٌ وَفَرًا - بھرا
 کالوں۔ اَمْرٌ وَفَرًا - بہت کھاس
 والی زمین۔ تَوَفَّرُوا اِمْرًا - بہت
 لوگ۔
 التَّوَفَّرُ - مَفْرٌ - التَّوَفَّرُ - الشیء - بچنے
 اور بہت بالوں والا۔
 تَوَكَّفَ عَلَى سِتِّ مَوَافِرٍ - میں نے
 اس کو اچھی حالت میں چھوڑا۔
 التَّوَفَّرُ - مکمل پیریز۔

أَوْفَى بِالْإِيمَانِ - جدی کرنا۔
 وَالْمَنَافِعَ - جدی کرنا۔
 تَوْفَى بِالْمَنَافِعِ - کام کے لیے تیار ہونا
 أَخَذَ يَتَوَفَّى عَلَى مَا أَمْسَكَ -
 بستر پر بقیار ہونے لگا۔
 اسْتَوْفَى اسْتَيْظَامًا - فی تحدیہ
 وہ اس طرح بیٹھا کہ نور اٹھ سکے۔
 الْوَفَى وَالْوَفَى - جدی۔ ج۔ اَوْفَانِ
 وَوَفَانَا - مکاف و فَن - کہا جاتا ہے
 نَحْنُ عَلَى وَفَا عَدُوِّ قَاذِرٍ وَوَفَانَا
 ہم دوائے ہونے کے لیے تیار ہیں۔
 أَوْفَى بِالْإِيمَانِ - تیز چلنا اور دوڑنا۔
 ۴ - دُخْرَانَا - ابل۔ اوتوں کو جدا
 جدا کرنا۔ المرجل - پیٹے کے لیے فرش
 بچانا۔
 اسْتَوْفَى اسْتَيْظَامًا - جدی کرنا
 دوڑنا۔ ابل۔ اوتوں کا بچنا۔
 جدی کرنا۔ دُخْرَانَا۔
 الْوَفَى وَالْوَفَى - مع۔ مجلت۔ ج۔
 اَوْفَانِ -
 الْوَفَى - چلنے کے نیچے رکھنے کا چکر
 پالنے کے لیے چکر۔ ج۔ وَفَى -
 الْوَفَى - چلنے کا ترکش۔ گڈریہ کا تیل
 اوپر کے ہونٹ پر لکھنے کے درمیان
 کا گڑھا۔ ج۔ وَفَى -
 الْأَوْفَى - لوگوں کی طرف سے عین۔
 الْوَفَى - اِدْعَى مَارَاتٍ بِحُجْرَةٍ خَلَامَ وَفَى
 ج۔ وَفَى وَوَفَى وَوَفَى -
 نوجوان رہا۔
 الْوَفَى - کلم حاتم کرنے کا چکر۔
 الْوَفَى وَالْوَفَى - کھور کے
 پتوں کی ٹوکری۔ الْوَفَى وَالْوَفَى
 وَالْوَفَى - شیشی کا ڈاٹ۔
 وَفَى بِمَنْ وَفَى - الامر۔ موافق پانا
 الامر۔ موافق ہونا۔

وَأَوْفَى بِالْأَمْرِ - موافق بنانا۔
 دسست کرنا۔
 كَرَامَةُ بَيْنَ الْقَوْمِ - قوم کے درمیان
 اصلاح کرنا۔ وَفَى لَهُ - اس سے
 مجھے پایا۔ مجھ سے ملاقات کی۔
 وَوَفَى وَوَفَى - پانا۔ ملنا
 لا فی ادعی الشیء - موافق ہونا۔
 بَيْنَ الْمُشِيكَيْنِ - دو چیزوں کو جوڑنا۔
 اَدْفَى - القوم لہ - قریب ہونا۔
 اتفاق کرنا۔ اَدْفَى لِمَنْ يَدِي بِنَاوْنَا
 زید اچانک ہمیں ملا۔ اَدْفَى الْمَسْمُورِ
 دبا مسہر۔ تیر چلانے کے لیے فوج
 کو تانت پر رکھنا۔
 تَوْفَى - کوشش باہر اور ہونا۔ خدا سے
 توفیق و مدد پانا۔
 تَوَافَى - القوم فی الامر۔ اتفاق
 کرتا۔
 اسْتَوْفَى اسْتَيْظَامًا - اللہ۔ اللہ
 سے توفیق چاہنا۔
 الْوَفَى - مع۔ دو چیزوں کے درمیان
 مواضع۔ بقید کفایت۔
 جَاءَ بِالْقَوْمِ وَوَفَى لَوِجِ الْفَانِ
 سے آئے۔ کسبہ و فَوَقَّ عِيَالَهُ
 ان کی گائی میں کے اور وہ عیالی
 کے لیے کافی ہے۔ اَلْبَيْتُ وَوَفَى
 طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِيهِمْ اِسْمُكَ
 پس طلوع آفتاب کے وقت آیا۔
 التوفیق۔ مع۔ تَوْفَى الْعَمَلِ وَ
 تَوَافَى وَوَفَى وَوَفَى
 تَوْفَى وَوَفَى - سے چاند
 کا بیلا ظہور۔
 الْمَوْفَى - مع۔ اِنَّ فَلَانًا وَوَفَى
 فلاں نیک آدمی ہے۔
 وَوَفَى وَوَفَى - الشیء - چھینا۔
 وَوَفَى تَوْفَى - زیادہ کرنا۔ چھینا۔

أَوْفَى - مقوری چیز۔
 وَوَفَى وَوَفَى - المقبولی کرے
 کا خادم ہونا۔ الْوَفَى - کرے کا
 ناظم و نگران۔
 الْوَفَى - کرے کے ناظم کی خواہ۔
 الْوَفَى - کرے کے ناظم کا رتبہ۔
 وَوَفَى - وَوَفَى - بِالْوَفَى اَوِ الْعَهْدِ
 پورا کرنا۔ المنذر - نذر پوری کرنا۔
 الشیء - دراز ہونا۔ مَاكَ فَلَانٌ وَ
 اَنْتَ بَوَفَى - فلاں مرگیا اور تیری عمر
 لمبی ہو۔ مِرَالِشِ الْجَنَاحِ - بازوؤں کے
 پروں کا پورا ہونا۔ (وَفَى) الشیء کامل
 ہونا۔ بَئْتُ ہونا۔ الدرهم المثال
 برابر ہونا۔ ہم وزن ہونا۔ هَذَا الشیء
 لَا یَعْنِي بِذَلِكَ - یہ چیز اس کے برابر
 نہیں۔
 وَوَفَى - المرجل حَقَّة - حق پورا
 دینا۔
 اَوْفَى بِالْوَفَى - بِالْوَفَى - وعدہ پورا کرنا۔
 المنذر - نذر پوری کرنا۔ الْكَيْلِ
 پیمانہ پورا پانا۔
 فَلَانًا حَقَّة - پورا حق ادا کرنا۔
 الْكَلَانِ - آنا۔ عَلَى الْمَكَانِ - اُدْر
 سے جھانکنا۔ عَلَى الْمَشَى - تو سے زائد
 ہونا۔ عَلَى الشیء وَوَفَى الشیء - اُدْر سے
 جھانکنا۔
 وَوَفَى - فَلَانًا حَقَّة - حق پورا
 دینا۔ المرجل - آنا۔ یک بیک کرنا۔ و
 اَلَا الْهَامُ اَوِ الْكَلَابِ - موت یا
 خط کا آنا۔
 تَوَافَى تَوَافَى الْقَوْمِ - تمام قوم لگتی۔
 تَوَافَى تَوَافَى - حق پورا ہونا۔
 حَقَّة - پورا حق سے لینا۔
 الْمَدَّة - مدت کو بچھنا۔
 الشیء - مکمل کرنا۔ عَدُوُّ الْقَوْمِ -

المعین - باوقار ہونا - ثابت رہنا -
 وَقْتًا يَقْرَأُ وَقْتًا أَوْ قَوْمًا قَاتًا - فی وقت
 گھر میں وقار کے ساتھ بیٹنا - وَقْتًا
 نَقْرًا وَدَقِيقَاتٍ تَوْقُرًا وَقْتًا وَدَقِيقَاتٍ
 اذکھ - بھرا ہونا - اُوپچاسنا - صفت
 وَقْتًا قَوْمًا قَاتًا
 وَقْتًا تَوْقِيْرًا - المشیخ - تعلیم کرنا -
 عزت کرنا - فَلَاقًا - زخمی کرنا - الدَّالِيَّةُ
 آرام دینا - لَيْثِيَّةٌ - نشان بنانا - وَقْرِيَّةٌ
 الاسْفَامُ - سفروں نے مجھ کو مشاق
 بنا دیا -
 اَوْقَاتًا اِنْقَامًا اَوْقَاتًا - الدَّالِيَّةُ جَانِدٌ
 پر بھاری بوجھ لانا - اَوْقَاتٌ اِنْقَامٌ
 وَاَوْقَاتٌ - بہت بھلدار ہونا - صفت
 دَمُوقِرٌ دَمُوقِرَةٌ وَدَمُوقِرَةٌ اَلدِّينِ
 فَلَاقًا - قرص کا کسی کو گراں بار کرنا -
 تَوْقُرًا وَاقْتَرًا - باوقار ہونا -
 اِسْتَمُوقِرَتٌ اِسْتَمُوقِرًا - الالاب
 اونٹ کا ٹوٹا ہونا - بھاری بوجھ اٹھانا -
 اَلْوَقْرُ - معہ - پھٹی کا شکاف - پتھریا
 ہڈی میں گڑھا یا شکاف - ج - دَمُوقِرٌ
 فی صدقہ میں دقت - اس کے دل میں
 کینہ ہے -
 اَلْوَقْرُ - بھاری بوجھ - پانی سے بوجھ بادل
 ج - اَوْقَاتٌ -
 اَلْوَقْرَةُ - گڑھا یا پتھر اور ہڈی میں شکاف -
 دَمُوقِرَةٌ اَلدَّقِيْمَةُ - زمانہ کی سختی و مصیبت
 ج - وَقْرِيَّةٌ - اَلْوَقْرِيَّةُ اِنْقَامَاتٌ
 اَلْمَقْرِيَّةُ - بوجھ - بکریوں کا دیور - اہل و
 عیال - بہت بوجھ - بیماری کا وقت
 ج قیرات
 اَلْوَقْرِيَّةُ - بکریوں اور بھیروں کا چرواہا یا
 ان کا جمع کرنے والا -
 اَلْوَقَامُ - سنجیدگی - عظمت -
 (وَالْوَقْرُ) مِنَ الْمَجَالِ السَّنِيَّةِ

باوقار - اَلْوَقْرُ - دنگرہ ٹونٹ
 باوقار - ج وَقْرًا -
 اَلْوَقِيْرُ - زخمی ہونی ہڈی - بکریوں کا گلہ
 لوگوں کا گروہ - ذیل سے عزت -
 (وَالْوَقِيْرَةُ) پھان کا بڑا گروہ جو پانی
 دوگنا ہے -
 اَلْمُوقِرُ - کرب - عقلمند - تجربہ کار -
 اَلْمُوقِرُ - پیار کے دامن کا میدان -
 اَلْيَقَامُ - مین المغل - پھل سے لری
 ہونی کجور - ج - مَوَاقِيْرُ -
 وَقْتٌ يَقِيْرٌ وَقْتًا - اَلجَوْبُ فِي مِلْدَانِ
 خارش کا بدن میں پھیل جانا - اَلْفَلْمَةُ
 بڑی بات کا ذکر کرنا - لا يَأْمُرُكَ اَلزَّامُ
 لَكَانَا - اَلجَلْدُ - کھال چھیلنا -
 وَقْتٌ - الالاب - کھیل لگانا -
 اَلْاَوْقَامُ - اوباش لوگوں کی پارٹی -
 وَقْتٌ يَقِيْرٌ وَقْتًا - اَلرَّسْمُ - نشان کا
 پتہ - مین فلان کسی سے بخش جانا -
 رَدَاؤُقْتِيْ اَللَّهَ اَلْيَقِيْرُ - کچھ ٹھوڑا سا
 دینا -
 تَوْقُرٌ - حرکت کرنا -
 اَلْوَقْتِيُّ وَاَلْوَقِيْتُ وَاَلْوَقِيْتُ - اَوَّلُ
 حرکت - اَلْوَقْتِيُّ - عیب -
 اَلْوَقْتِيُّ وَاَلْوَقِيْتُ - آگ تلکانے کی
 کڑی کی چھپیاں -
 اَلْاَوْقَامُ - اوباش -
 وَقْتٌ يَقِيْرٌ وَقْتًا - عنقہ - گردن
 تَوْرًا - وَقِيْرٌ اَلعَنْقُ - گردن ٹوٹنا
 اَلدَّالِيَّةُ - جانور کا کسی کو گرا کر
 گردن ٹوٹ دینا - وَقْتٌ اَلْيَقِيْرُ - عیب
 لگانا - لگانا - مکی اُسہ نیچے سے دینا
 وَقِيْرٌ - اَلعَجَلُ - شکستہ گردن والا ہونا -
 صفت (مَوَاقِيْمُ)
 وَقِيْرٌ يُوَقِّعُ وَقْتًا - کوتاہ گردن ہونا
 صفت - (اَوْقَاتٌ) تَوْنُفٌ (وَقْتًا)

ج - (وَقْتٌ) -
 وَقْتٌ - عنقہ - گردن ٹوٹنا - عَنِ النَّاسِ
 آگ پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالنا -
 اَوْقَاتٌ - کوتاہ گردن پیدا کرنا -
 تَوْقِيْرٌ - اَلبَعِيْرُ - اونٹ کا ڈکلی چلنا -
 تَوَاقِيْرٌ - چھوٹے گردن والے کی طرح ہونا -
 اَلْوَقْتِيُّ - عیب - علم عروض کی اصطلاح میں
 حوت ثانی متحرک کو گرا دینا -
 اَلْوَقْتِيُّ - معہ - آگ تلکانے کی چھوٹی چھوٹی
 لکڑیاں - ج اَوْقَامُ -
 اَلْاَوْقَامُ - مخلوط گروہ -
 اَلْوَقَامُ - پرندوں کے شکار کا جال - ج
 وَقَاتِيْعٌ - خنڈ اَوْقَاتٌ اَلطَّرِيقِيْنِ
 دو راستوں میں سب سے چھوٹا راستہ
 اختیار کرنا -
 اَلْوَقِيْمَةُ - ج وَقَاتِيْعٌ - گردن کا منکا -
 اَلْمُوقِرُ - معہ - ٹوٹا ہوا - عروض کی
 اصطلاح میں وہ وزن جس کا حوت ثانی
 متحرک گرا دیا گیا ہو -
 وَقَطٌ يَقِيْطُ وَقَطًا - پھاڑنا - مار کر سُست
 کر دینا - وَقِيْطٌ فِي مَرَاثِمِهِ - سر میں بوجھ
 محسوس کرنا -
 وَقِيْطٌ - اَلصَّخْرُ - چٹان کا گڑھے والا ہونا -
 اِسْتَمُوقِطٌ - اِسْتَمُوقِطًا - المکان - جانور کا
 یا انسانوں کے روندنے سے کسی جگہ
 گڑھا پڑنا -
 اَلْوَقِيْطَةُ اَلْوَقِيْطَةُ - وہ گڑھا جس میں بارش کا
 پانی جمع ہو - ج - اَوْقَامُ -
 اَلْوَقِيْطُ - ج - وَقَاتٌ وَقَاتٌ وَقَاتٌ -
 بارش کے پانی کا گڑھا - ج وَقِيْطٌ وَقَاتٌ -
 ہر سُست مار سے ہو یا مرض شکم میری سے بے
 حوالی سے کھیندنا - اس سے ٹونٹ بھی وَقِيْطُ
 ہی ہے -
 وَقِيْطُهُ يَقِيْطُهُ وَقَطًا - اِسْتَمُوقِطٌ سے مانا کہ
 قریب بہلاکت ہو جائے - وَقِيْطٌ عَنِ اَلْاَسْرِ

کسی امر پر مداومت کرنا۔
 الوَقِيطُ - وہ شخص جو ایک جگہ سے
 وَقِعَ يَقَعُ وَقْعًا اَلَيْشِي مِنْ يَدِي - چیز کا
 ہاتھ سے گرنے کا۔ الحق - ثابت ہونا۔
 الْقَوْلُ عَلَيْكَ - واجب ہونا۔ اَلْاِبْنُ
 اَوْتُ كَالْبَيْتِ - الدواب - جانوروں کا
 بیٹا۔ رَبِيعٌ بِالْاَرْضِ - موسمِ خریف میں
 پہلی بارش برسا۔ اس کے لیے سَمَطٌ
 مستعمل نہیں۔ اَلطَّيْرُ عَلَى شَجَرٍ اَوْ
 اَرْضٍ - پرندہ کا درخت یا زمین پر بیٹھا ہونا
 دُرُقُوعٌ دُرُقُوعًا - بی اَلْمِشْبَاكِ جَالٍ
 میں پھینسا۔ بی اَرْضٍ فَلَاقَةٌ - داخل ہونا۔
 اَلرَّجُلُ فِي عَمَلِهِ - کام میں زری برتنا۔
 فِي الْعَمَلِ - کام شروع کرنا۔ اَلكَلَامُ فِي
 نَفْسِهِ - کلام کا دل میں اثر کرنا۔ اَلْاَمْرُ
 حَاصِلٌ هُوَ - وَقِعَ لَهُ وَقِعًا - اسکو ایک
 حادثہ پیش آیا۔ دُرُقُوعًا وَقِيعَةً فِي فَلَانٍ
 گالی دینا۔ عیب لگانا۔ طَبِيتُ كَرَادَةَ اَعْمَالِ
 اِلَى كَرَادَةٍ - تیزیز جانا۔ مِثْلُ كَرَادَةِ اَوْتِ
 كَرَادَةٍ - گناہ بر طرف ہونا۔ اَلنَّصْلُ بَا
 اَلْمِيقَةِ - پھل کو تیز کرنا۔ صفت مغزلی
 دُرُقُوعًا - اَلْبَعْدُ - اَوْتِ كِي اَلْوَلَدِ كِي
 كَنَادَةٍ رِجْلٍ دَارِ لِكَانَ - دُرُقُوعًا وَقِيعَةً
 بِالْعَدُوِّ - دشمن سے سخت مغالطہ کرنا۔
 وَقِعَ عِنْدَ فَلَانٍ مَوْقِعًا حَسَنًا - کسی
 سے حصہ اور مرتبہ پانا۔ وَقِعَ اَلْاَمْرُ
 مِنْهُ مَوْقِعًا حَسَنًا اَوْ سَيِّئًا - اس سے
 کام اچھے یا بُرے موقع پر واقع ہوا۔ فَلَانٍ
 لَا يَسِيفُ وَلَا يَقَعُ - فلاں کام کے قریب
 ہوتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ وَهَذَا نَعْنَى
 لِهَذَا نَعْنَى بِهَذَا - یہ جو نامیرے پاؤں
 کے مناسب نہیں۔

وَقِعَ فِي يَدِي - نامراد ہونا۔
 وَقِعَ يَوْمَ وَقِعًا - شگے پاؤں چلنا۔
 سختی زمین یا پتھروں کی وجہ سے پیروں کا

وَقِعًا - صفت (وَقِعَ)
 وَقِعَ - اَلْوَبْرُ ظَهْرُ الْبَحِيرِ - نشانِ دانا
 اَلْمَطْرُ اَلْاَمْرُ مِنْ كَبِيْرٍ اَلْمَنَا اَوَّلِ كَبِيْرٍ
 اَمَّا - اَلْعَهْدُ اَوَّلِ اَلْفَرَاقِ - شاہی مہر
 لگانا۔ اَلْاَمْرُ اَوَّلِ اَلْعَهْدِ - کتاب چیک
 پر اپنے دستخط کرنا۔ اَلْمَكَاتِبُ فِي اَلْاَمْرِ
 فَعُوْلُ اَلْمَرْوِي كُو حَذَفَ كَرْنَا - اَلْاِبْنُ اَوْتِ
 كَابِيْمَنَا - وَقِعَ قَطْعَةً عَلَى الشَّيْءِ - اندازہ
 کرنا۔ عَلَى فَلَانٍ - گمان کرنا۔ اَلصِّيْقُ
 عَلَى السَّيْفِ - تلوار کو تیز کرنے کے لیے
 متوجہ ہونا۔ اَلْبِجَارَةُ تَحَايَا - کھڑے
 سرے کو بھڑے سرے کر دینا۔ اَلْقَوْمُ -
 آخرت میں آرام کرنے کے لیے اُتَرْنَا -
 وَقِعَهُ وَقَاعًا اَوْ مَوْا قِعَةً - لڑائی کرنا۔
 جَنَگَ كَرْنَا - وَقِعَ اَلْاَمْرُ مَوْسَرًا - اَمْرُ كِي
 قَرِيبٌ هُوَ اَوْ اَنْ كُو كَرْنَا -

اَوْ قِعَةً اِيْتَاعًا - واقع کرنا۔ اَوْ قِعَ فَا
 لَعَدُوُّ - دشمن پر لڑنا۔ بِهَذَا الشَّرِّ
 ہدی میں اَلْبَعْدُ دِيْنَا - اَلذَّهْرُ بِهَذَا - زمانہ
 کا کسی پر مصائب ڈالنا۔ اَلرَّوْحَةُ - پانی
 روک لینا۔

يَوْمَ قِعَ - اَلْاَمْرُ - حَاصِلٌ هُوَ كِي اَلْبَحِيرُ
 لَوْ اَقِعَ - اَلْاَعْدَاءُ اَمْرًا - دُشْمَانِ كَا اَسْمِ
 لَرْنَا - اِيْتِ اَمْرًا اَمْرًا بِهَذَا كَرْنَا
 اَسْتَوْقِعَ - اَلْاَمْرُ - حَاصِلٌ كَا اَلظَّالِمُ
 ثَوْبٌ كَهَانَ - اَلسَّيْفِ - تِيز ہونے کے
 قَابِلٌ هُوَ -

اَلْوَقِعُ - اَمْرٌ - بِيْتِ كِي اَوْتِ - ہمارے ہاتھ
 جگہ۔ وہ بادل جو بارش کی امید دلاتے ہے۔
 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔ اَوْتِ كِي اَوْتِ
 اَمْرًا مِثْلُ اَلْوَقِعِ وَقِعَ عِنْدَ اَلْاَمْرِ
 اَمْرًا مِثْلُ اَلْوَقِعِ فَلَانِ كِي اَمْرًا مِثْلُ اَلْوَقِعِ
 اَلْوَقِعُ - بارش کی امید دلاؤ اَلْاَبَادِ
 اَلْوَقِعَةُ - اِيْتِ بار کا گرنے کا۔ اِيْتِ فَرَسٍ
 لڑائی کا مصدر۔ اَمْرًا مِثْلُ اَلْوَقِعِ - دُنْ جِي

ایک بار کی قفلے حاجت۔
 وَقِعَةُ السَّيْفِ - تلوار کا پڑنا۔ وَقِعَاتُ
 اَلْوَقِعَةُ - وَقِعَ كَا اَسْمُ لَوْحٍ -
 اَلتَّوْقِيعُ - مَمْرٌ - دَسْتَمَطٌ - فِصْلٌ بِرِشَاہِی
 مَرَّرَ رَأَى - کتاب سے فارغ ہونے
 کے بعد منہمہ لگانا۔ ج۔ تَوَاقِعُ -
 اَلْاِيْتِاقُ - مَمْرٌ - مَرْوِي كِي مَوْزِ وَاِنِيتِ -
 اَلْوَقِعُ - فَا - طَائِرٌ وَقِعٌ - درخت پر
 یا گھونسلے میں رہنے والا پرندہ۔ ج۔
 وَقِعٌ دُرُقُوعٌ - مَرْجُلٌ وَقِعٌ -
 اَلطَّيْرُ - زِمْرٌ مَرْجُلٌ كَا اَدْمِ -
 اَلْمَسْرُ اَلْوَقِعُ - اِيْتِ سَتَاہُ كَا نَامٌ -
 اَلْوَقِيعَةُ - مَوْتٌ - اَلْوَقِعُ - لِرَاہِی كَا اَقْدَامُ
 مَحِیْتٌ - قِیَامَتٌ - مَرْجُلٌ وَقِيعَةٌ -
 نِبَاہُ اَدْمِ -

اَلْوَقَاعَةُ - زَمِینِ كِي سَخْتِ جِسْمِ كِي دِجَرِ
 پانی جذب نہ ہو۔
 وَقَاعَةُ - السَّقْرُ - زَمِینِ پَرِ دِجَرِ
 رُتْنِ كِي جُكُ -

اَلْوَقِيعُ - تِيز كِیَا جُو اَمْرٍ - پتھروں سے
 رُكُو كِیَا اَمْرًا كَرَادَةً سَخْتِ زَمِینِ جُو اَمْرٍ
 كُو جَذِبَ دِرْكُورِ - ج۔ تَوَقِيعُ -
 اَلْوَقِيعَةُ - لِرَاہِی كَا اَقْدَامُ - نَحِیْتٌ -
 پال کا گڑھا۔ ج۔ تَوَقِيعٌ وَقَاعٌ -

وَقِيعَةُ اَلطَّيْرِ - پرندے کے اترنے
 كِي جُكُ - جَمَانِ دِجَرِ اَمْرًا جُو اَمْرٍ
 وَقَاعُ اَلْعَرَبِ - مَرْوِي كِي اَمْرٍ
 اَلْوَقَاعُ - اَلْوَقَاعَةُ - مَوْكُو كِي نَحِیْتِ كَرْنَا
 وَاہ -

اَلْمَوْقِيعُ - گرنے کی جگہ۔ جِلْسَةُ دُرُقُوعِ -
 ج۔ مَوْا قِعُ -
 مَوْقِعَةُ اَلطَّيْرِ - پرندے کے اترنے
 كِي جُكُ - ج۔ مَوْا قِعُ -

اَلْمِيقَةُ - مَهْوَرًا - وہ لکڑی جس پر
 دھوبی کپڑے کو تھامے۔

سان رکھنے کا لبا پھر۔
 مَبْقَعَةُ الطَّيْرِ - بکڑے کے
 اڑنے کی جگہ جس سے وہ اُفتکتا
 ہو۔ ۲۔ مَوَاقِعُ -
 الْمَوْقِعُ - جگہ قدم رکھنے والا۔ شاہی
 پھر کی بگرائی کرنے والا۔ فرمان شاہی
 کا رکھنے والا۔
 الْمَوْقِعُ - منع۔ مصیبت زدہ۔ بہت
 چلنے والا۔ استہ۔ تیز کی ہوئی چھری۔
 الْمَوْقُوعُ - پتھروں سے رگڑ کھایا ہوا
 کھر۔
 وَقَفَ يَقِفُ وَقْفًا وَتَوَقَّأَ - ٹھہرنا
 کھڑا ہونا۔ چپ چاپ کھڑا ہونا۔
 فِي الْمَسْأَلَةِ - مسئلہ میں شک کرنے
 الْقَائِمِي عَلَى الْكَلِمَةِ - پڑھنے میں
 آخری حرف کو ساکن کرنا۔ وَقَفَ
 عَلَى الْأَمْرِ - کسی امر کو سمجھنا اور اس
 سے مطلع ہونا۔ وَقَفَا الدَّابَّةَ
 جانور کو ٹھہرانا۔ عَنِ الشَّيْءِ - روکنا
 منع کرنا۔ الْمَدَامَ - مگر وقت کرنا۔
 وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى حَضْرَتِي فَلَا بَ
 معاملہ کو کسی کی موجودگی پر ہوتوں رکھنا
 لَا عَلَى الذَّنْبِ - خبردار کرنا۔ الْقَائِمِ
 بِالْمَبِيعَاتِ - ہانڈی کے اچھان کو
 ڈوبی سے بچھ کرنا۔ عَنِ الْمَعْنَى - معانہ
 کرنا۔ وَقَفِي الْمَعْنَى - گریبا
 کی خدمت کرنا۔
 وَقَفْتَهُ كَمَا كَرِهَ - القوم سے۔ مجال
 کے گروہ سے بوجھ کر ہانا۔ الْمَرَا
 عِدَتِ كَوَلِّسِي بَيْنَنَا - التَّوَقُّفُ -
 زمین کی مدد سستی کرنا۔ الْعَدَّ بِئِشْ -
 بیابان کرنا۔ الْقَائِمِي - پڑھنے
 والے کو وقت کے مواقع بتانا۔
 اور وقت کی جگہیں سکھانا۔ الْعَيْشِ
 ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہونا۔

وقفت المرأ أو مذبذبا المعنای
 عورت کا ہاتھوں کو تھیری کے ہاتھ
 سے نکلے دار کرنا۔ وَقَفَ الدَّابَّةَ
 جانور کو ٹھہرانا۔ فَلَانًا عَلَى ذَنْبِهِ -
 باخبر کرنا۔ مطلع کرنا۔
 وَاقِفَهُ - مَوَاقِفُهُ وَوَقَافًا - فِي الْعَوْبِ
 اَوْ الْمَخْمُومَةِ - ایک دوسرے
 کے مقابل کھڑا ہونا۔ لَا عَلَى كَذَا -
 ثابت رہنے کے لیے کہنا۔
 أَوْ قَعَهُ - کھڑا کرنا۔ أَوْ قَفَ الدَّمَارَ مگر
 کو وقت کرنا۔ الْجَائِمِيَّةَ - لڑکی
 کے لیے گلشن بنانا۔ عَنِ الْأَمْرِ كَيْ
 امر سے رُک جانا۔
 لَوْ قَفَ - فِي الْمَكَانِ - ٹھہرنا۔ عَلَى الْأَمْرِ
 کسی امر پر غم جانا۔ ثَابِتٌ قَدَمٌ هَوَانَا -
 غن کذا۔ رُکنا۔
 لَوْ قَفَ - الْقَوْمِ فِي الْحَرْبِ - ایک
 دوسرے کے پیچھے کھڑا ہونا۔
 اسْتَوْقَفَهُ - کھڑے ہونے کے لیے کہنا۔
 الْوَقْفَ - مَم - کھڑے ہونے کے کلام سے
 چلا کرنا۔ اصطلاح علم عربی میں
 ساتویں نمبرک حرف کو ساکن کرنا۔
 گلشن - لوسے کا بیج کا حلقہ
 کسی چیز کو بند کرنے راستہ میں توقف
 کرنا۔ وَقَفَ شَرُّهُ شَيْءٌ كَرِهِي وَقَفَ
 کہتے ہیں۔ ۲۔ اَوْقَاتٌ وَوَقُوفٌ -
 الْوَقْفَةُ - نکت - پھراؤ۔ رُحْبَالٌ
 کے گروہ حلقہ۔
 التَّوَقُّفُ - شکار جو وقت کھڑا ہونے
 التَّوَقُّفُ - مَم - عَمَّ شَيْءٌ كَرِهِي
 گلشن کی حکم کی سلیڈی۔ جانور کی
 بانگوں میں گلشن کی طرح کی بھاریاں۔
 الْوَاقِفُ - نَا - ۲۔ وَقَفْتَهُ دَوَقُوفٌ
 اللذی راہ میں خرچ کرنے والا۔
 الْوَقَافُ - الْوَقَافَةُ - دیر و سستی کرنا۔

لڑائی سے رُکنے والا۔
 الْمَوْقِفُ وَالْمَوْقِفَةُ - ٹھہرنے کی جگہ۔
 پرہیز نشین عورت کے ہاتھ اٹکھیں اور
 وہ اعضا جن کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں۔
 الْمَوْقِفَانِ - دُور کے پاس کی دور گریں۔
 الْمَوْقِفُ - منع۔ دونوں ہاتھوں پر گول
 داغوں والا ہالند۔ مَرَجَلٌ مَوْقِفٌ -
 حجرہ کار آدمی۔ مَرَجَلٌ مَوْقِفٌ عَلَى
 الْحَقِّ - حق کا پیرو۔
 الْمَبِيعَةُ وَالْمَبِيعَاتُ - لکڑی کی ڈوبی۔
 وَقَلَّ يَقِلُّ وَقَلْدًا - ایک ٹامپ پر کھڑا ہونا۔
 وَقَلَّ قَلٌّ فِي الْحَبْلِ - پیار پر چڑھنا۔
 الْوَقْلُ - مَم - گوگل کا درخت یا اس کا پھل۔
 واحد - وَقْلَةٌ الْمَرَّاسِ - بہت چھوٹے
 سر کا آدمی۔
 الْوَقْلَةُ - گوگل کے پھل کی گھٹی۔ ج۔ وَقَوْلٌ -
 الْوَقْلُ - پھر۔ شاخوں کے ٹھنڈے جو چڑھنے
 والے کو چڑھنے میں مدد دیں۔ وَالْوَقْلُ
 وَالْوَقْلُ مِنْ الْحَبْلِ - چڑھنے والا کھوڑا۔
 وَقَدَّ يَقِدُّ وَقْدًا - الدَّابَّةَ - کلام کہنچ کر
 جانور کو ٹھہرانا۔ الْقَدَمَ - ہانڈی کا
 اُبال یا اچھان کھنڈا کرنا۔
 أَوْقَدَ وَقْدًا الْمَرَجَلِ - مخلوب کرنا اور حاجت
 سے بڑی طرح روک دینا۔
 وَقَيْتُ - الْأَمْرُ عَلَى - زمین کی گھاس کا
 چر لیا جانا۔
 وَقَيْتُ - الْمَتَجِلِ - دھکی دینا۔
 وَقَيْتُ - الْمَيْتِي - ازادہ کرنا۔
 الْقَتْبُ - شکار مارنا۔
 الْكَلَاهُ - کلام یاد کرنا۔
 قَيْبُهُ - طول دینا۔
 الْوَقَامُ - کوریا۔ تلوار۔ لالچی۔ رستی۔
 الْمَوْكُومُ - منع۔ ٹھکپن۔ حاجت سے
 روکا ہوا۔
 أَوْقِنَ إِيقَانًا وَوَقْنًا - جانور کا شکار

گھونسل سے کرنا۔
 تَوَقَّنِ الْوَعْلَ فِي الْجَبَلِ -
 پہاڑی بکرے کا پہاڑ پر چرانا۔
 الْوَقْنَةُ وَالْأَقْنَةُ - گھونسل۔
 وَقْنَاتٌ وَأَقْنَاتٌ -
 الْوَقْنَةُ - پردہ نشین لڑکی۔
 وَكَلَّ بِوَقِيهِ بَقِيَهُ وَأَبِيَهُ -
 وَانْقَهُ وَاسْتَيْقَمَ - بظلم
 کسی کی اطاعت کرنا۔ انْقَهُ عَنْهُ
 باز رہنا۔
 الْوَقْعَةُ - اطاعت۔ فرمانبرداری
 الْوَأَيْتَةُ - گرجا کا ناظم۔ بعض کے
 نزدیک صبح و آفتاب سے۔
 وَتَوَقَّنِ - اٹکب کتے کا بھونکنا
 الطَّيْرُ - پرندہ کا چہرہ ہانا۔
 الرَّجُلُ - آدمی کا گزرد ہونا۔
 الْوَقُوقُ - وہ پرندہ جو اپنے انڈے
 دوسرے پرندے کے گھونسل میں
 رکھ دیتا ہے اور ان کو خود نہیں
 سینا۔ الْوَقُوقُ - بزدل۔
 الْوَقُوقَةُ - بکواسی۔ وَتِي لَمَقِي -
 وَتَابِيَةٌ وَوَقِيَةٌ وَوَأَيْتَةٌ وَ
 وَتِي - فلانا۔ کسی کی حفاظت
 کرنا۔ اذیت سے بچانا۔
 رَوَيْتِيَا وَوَقِيَا، الْأَمْرُ - کسی
 امر کو درست کرنا۔
 وَتِي يَلِي وَوَقِيَا وَوَقِي يَزِي وَتِي -
 گھورے کے گھر کا گھنا۔
 تَنَّى نَيْتِي نَنَّى وَتِقَامٌ وَنَقِيَةٌ -
 پرہیزگار ہونا۔
 النَّحْيُ الْإِنْقَاءُ وَتَوَقِّي كَوَقِيَا لِلنَّحْيِ
 کسی سے بچنا۔ ڈرنا۔ خوف کرنا۔
 وَتَنَّى الْإِنْقَاءُ - پرہیزگار ہونا۔
 كَانَقِيْنَا بِي - ہم نے دشمن سے
 بچنے کے لیے اس سے آڑ پکڑی۔

الْوَقَامُ وَالْوَقَامُ وَالْوَقَايَةُ وَالْوَقَايَةُ
 وَالْوَقَايَةُ - بچنے کا ذریعہ۔
 التَّقْوَى - اللہ سے خوف اور اسی کی اطاعت
 میں عمل۔
 التَّقَاةُ - پرہیزگاری۔ بِمَقِي -
 التَّقِي - بِمَ الْتَقِيَاءُ وَتَقْوَامٌ وَالتَّقِي
 پرہیزگار۔ سَمِيحٌ قَرِي - سَمَوَاتِي زَمِي
 ذکر سے والی زمین۔ نَمَسٌ وَاقِي -
 وہ گھوڑا جو پاؤں کی صلیب کی بنا پر
 چلنے سے ڈرتے۔
 الْأَوْقِيَةُ - سَمَوَاتِي وَسَمَوَاتِي -
 وَالْوَقِيَةُ - کُتِي وَوَلَايَا -
 رطل کا بار ہواں حصہ۔ آج کل کے
 اوزان سے تقریباً ڈیڑھ اونس
 کے برابر ہوتا ہے۔
 التَّقْوَى - مغم۔ بہادر۔
 أَدَاكَ الْإِنْقَاءُ - کسی کے لیے تکرہ لگانا۔
 أَدَاكَ عَلَى التَّقِي - سہارا لینا۔ بیک
 لگانا۔
 وَأَمَّا مَوَاكِبُ رِيحَاءِ عَلَى يَدَيْهِ
 رُحَاكَ لِي دُونَ الْفَرَاغَانَا -
 الْإِنْقَاءُ الْتَقَاةُ بِيحَانَا -
 الْإِنْقَاءُ الْإِنْقَاءُ - عَلَى السَّيْرِ - مَكْتَبُ
 سہارے کر بچنا۔ پہلو پر سہارا لگانا۔
 عَلَى كَسَاةٍ - بھڑی پر سہارا لینا۔
 الْقَوْمُ فَتَدَاكَ - کھانا۔
 تَوَكَّمَا عَلَى كَسَاةٍ - سہارا لینا۔ بیک لگانا
 الْإِنْقَاءُ - اہل عروص کی اصطلاح میں
 شہر و قصبوں۔
 التَّقَاةُ - وہ چیز جس سے سہارا لیا
 جاتے۔ جیسے بھڑی گمان وغیرہ۔
 شَسْتُ سَهَا لِيْنِي وَالْأَدْمِي -
 الْمُتَّقَاةُ - جس سے سہارا لیں۔
 ج مَنَكَاتُ -
 وَكَبَّ يَكِبُّ وَكَبَا - سیدھا کھڑا ہونا۔

تَقَى الْأَمْرُ - کسی امر پر برداشت کرنا۔
 رَوَيْتِيَا وَوَقِيَا وَوَلَايَا -
 آستل سے چلنا۔
 وَكَبَّ يَكِبُّ وَكَبَا وَوَكَب -
 التَّقْوَى - گھوڑا کا پک کر سیاہ ہونا۔
 وَكَبَّ الثَّوْبُ - کپڑے کا سیلا ہونا۔
 وَكَبَّ مَوَاكِبَتُهُ - تَقَى الْأَمْرُ - کسی
 امر پر برداشت کرنا۔
 التَّقْوَى - جلوس کے ساتھ چلنا۔
 أَوَكَبَّ أَيْكَابَا - جلوس کے ساتھ ساتھ
 چلنا۔
 أَوَكَبَّ أَيْكَابَا - جلوس کے ساتھ
 رہنا۔
 الطَّيْرُ - پرندہ کا اڑنے کے لیے
 تیار ہونا۔ یا بیٹھنے کے لیے پر
 پھیلانا۔
 الْغَضَبُكَ كَرْنَا -
 الْوَأَيْتَةُ - جاؤر کی ایک ٹانگ۔
 الْوَأَيْتُ - بہت لمبے۔
 التَّقْوَى - سواروں یا پیدل چلنے والوں
 کی جماعت۔
 مَوَاكِبُ -
 وَكَبَّ يَكِبُّ وَكَبَا - چھوٹے چھوٹے قدموں
 سے تیز چلنا۔
 الْكَاكِبَةُ - القوم - پہاڑ بھرنا۔
 الْكَاكِبَةُ - کتاب میں لکھنا۔
 فَالْشَّيْءُ - نشان لگانا۔
 وَكَبَّ تَوَكَّبَا - الْقَابِلَةُ وَكَبَّ بِيحَانَا -
 البسوا۔ بچنے والی گھوڑا کا انداز ہونا۔
 التَّقْوَى - تھوڑی چیز۔
 التَّقْوَى - داغ۔ ٹھوڑا سا نشان۔
 التَّقْوَى - سُتِي كِي دَجْرُ سِي چھوٹے چھوٹے
 قدم رکھنے والا۔
 التَّقْوَى - جھل۔ سازش۔
 التَّقْوَى - مغم۔ غمگین۔ رنجیدہ۔

وَكَعَهُ يَكْعُهُ وَكَعًا - ہرچہم -
 پاؤں سے زور سے بیٹھنا۔
 اَوَكِعَ اِيكَاحًا - بھگنا۔ منع کرنا۔ سائل
 پر سختی کرنا۔
 العَطِيَّةُ - کاٹنا۔ عین الامور۔ روکنا
 في العَقْدِ - کھونٹے میں پتھر یا سخت
 جگہ تک پہنچنا۔
 اسْتَوَكَعَتْ اِسْتِيكَاحًا - اِنصاف
 چوزہ کا موٹا ہونا۔ سائلہ ناستوکج۔
 اس سے مانگا۔ مگر اس نے کچھ نہیں دیا۔
 الاوَكِعُ - پتھر۔ سخت۔ جگہ۔ ٹٹی۔
 الوَكِعُ - مزے چوزے۔ مفرد الوَاكِعُ
 یا الوَكُوخُ۔
 وَكَدَ يَكْدُ وَكُودًا - بالکان اقامت کرنا۔
 وَ (وَكَدًا) الشَّيْءُ قَصْدًا - وَكَدَ
 الامورَ - مشق کرنا۔
 رَوَكَدَ وَرَفَكَدَ وَاَكْدَ وَاَكْدًا
 الْعَهْدَ او السَّرْعَ - معاہدہ کرنا یا
 زمین کو مضبوط بنانا۔
 لَوَكَدَ وَتَوَكَدَ - مضبوط ہونا۔
 باندھا جانا۔
 التَّوَكُّدُ - سعی و کوشش۔
 التَّوَكُّدُ وَاللَّكَاؤُ - لَوَكَدَ رَسِيًّا
 تسمہ جس کے ذمہ تکلف وقت گاتے
 کی گاہیں ہوتے ہیں۔
 التَّوَكُّدُ وَالتَّوَكُّدُ - سخت مضبوط ثابت
 التَّوَكُّدُ وَالتَّوَكُّدُ - تیرا وہ ثابت قدم۔
 التَّوَكُّدُ وَالتَّوَكُّدُ وَالتَّوَكُّدُ
 زمین کے اگلے حصے کو باندھنے کے
 لئے۔
 التَّوَكُّدُ - کام کے لیے مستعد۔
 وَكَّرَ يَكْرِي وَكْرًا وَوَكْرًا - الطائر
 پرندہ کا اپنے گھونٹے میں آنا۔
 الضبي - ہرن لکودنا۔
 وَكَّرَ وَكْرًا - کسی کی ناک پر مٹھانا۔

وَكَّرَ يَكْرِي وَكْرًا وَوَكْرًا - الامور
 برتن بھرننا۔
 وَكَّرَ وَوَكْرًا - الطائر - پرندہ کا گھونٹ
 بیٹھنا۔
 وَكَّرَ - اِيعِي - بچہ کا شکم سیر ہونا۔
 الطائر - پرندے کے پورے بھرننا۔
 الوَكْرُ - پرندہ کا گھونٹ۔ وَ اَوَكَّرَ
 وَ اَوَكَّرَ وَوَكَّرَ وَوَكَّرَ
 وَ الوَكْرُ (ی) - دوڑ کی ایک قسم۔ ناقص
 وَكَّرَ (ی) - تیز رفتار اور ٹٹی۔
 الوَكْرُ (ت) - پرندہ کا گھونٹ۔ وَ وَكَّرَ -
 لَوَكَرَتَ وَ الوَكْرُ (ت) وَ الوَكْرُ (ت)
 دعوت جو عمارت کے اختتام پر دی
 جاتی ہے۔
 وَكَّرَ يَكْرِي وَوَكْرًا - ہٹانا۔ مٹھانا۔
 وَكَّرَ بِالْمَرْجِعِ - پہرہ مارتا۔
 وَكَّرَ الْمَرْجِعَ فِي الْاَمْرِ - زمین پر
 نیزہ گاڑنا۔
 الْقَرْيَةَ - شہر ہونا۔ اَنْفَهُ - ناک
 لَوَكَرَ وَوَكَّرَ - مٹھانا۔
 تَوَكَّرَ الْاَمْرَ بِكَمَالِهِ - چلے آمادہ ہونا۔
 عَلَى خَصْلَةٍ لَامِيٍّ بِرَبِّهَا لِيَتَا - من
 الطعاب - شکم بھر ہونا۔
 وَكَّرَ يَكْرِي وَوَكْرًا - ہٹنا۔
 وَكَّرَ الشَّيْءَ بِحِزْبٍ وَوَكَّرًا - اَوَكَّرَ
 کسی چیز کو ہٹانے میں نقصان اٹھانا
 وَكَّرَ (ت) - شوق۔ چیز کو مٹھانا۔ مٹھانا۔
 وَوَكَّرَ - مٹھانا۔
 التَّوَكُّدُ - ہٹنا۔
 اس کو کہیں گناہ سے بچانے کے لیے
 چاہنا کہ اس کی پیروی نہ کرے۔
 التَّوَكُّدُ - زیادہ ناقص۔ حقیر۔ کینہ۔
 وَكَّرَ يَكْرِي وَوَكْرًا - وَوَكَّرَ عَلَى الْاَمْرِ
 کسی امر پر مداومت کرنا۔ وَوَكَّرَ -

ہٹا کر کنارے پر کرنا۔ تَوَكَّرَ عَلَيْهِ
 الامور - اس پر معاملہ بھیدہ اور
 شکل جو گیا۔
 وَكَعَهُ يَكْعُهُ وَكَعًا - دُسنہ۔ سزوش
 کرنا۔ وَكِعَ اَنْفَهُ نَاكًا تَوَلَّوْنَا -
 الشَّاقَّةُ - دودھ پیتے وقت بکری کے
 بچہ کا اپنی ماں کے قطن پر سر بارنا۔
 وَكِعَ يُوَكِّعُ وَوَكْعًا - پاؤں سے کچ پھینچنے
 والا ہونا۔ مختلف اَوَكِعَ (ت) مَوْتٌ وَوَكْعًا
 وَكِعَ يُوَكِّعُ وَوَكْعًا - کینہ ہونا۔ چیز کا سخت
 ہونا۔ صفت وَوَكِّعُ (ت)
 اَوَكِعَ - الرجل - کم بھلائی والا ہونا۔
 لے بکت ہونا۔ الشَّيْءُ - چیز کو مضبوط
 کرنا۔ الْقَدَمُ - قدم کا موٹا اور سخت ہونا
 الامورَ مضبوط و سخت ہونا۔ السَّفَاةُ -
 مشک کو مضبوط کرنا۔
 اَوَكِّعَ - الشَّيْءَ - چیز کا مضبوط ہونا۔
 اسْتَوَكِّعَ - الرجل - مضبوط معدہ والا ہونا۔
 الكِرَاحُ - چوزے کا موٹا ہونا۔
 التَّوَكِّعُ - سخت مضبوط۔ آگے چلنے والی
 بکری۔ وَكِّعَ يَكِّعُ وَوَكِّعًا
 لَوَكِّعُ - کینہ آدمی۔
 الاَوَكِّعُ - کینہ امیق۔
 المِيكِّعُ - سخت مضبوط۔ حکم۔ قیلا۔
 بورا۔ المِيكِّعَةُ بِلْ كَابِلِ
 وَكَّفَ يَكْفُ وَكْفًا وَوَكْفًا
 وَوَكْفًا وَوَكْفًا - المَدَامُ
 وَوَكْفًا - بیکنا۔
 البَيْتُ - گھر کی چھت بھگنا۔
 وَكَفَّتْ وَوَكْفًا وَوَكْفًا -
 العين الدامع - آنسو کا آنسو
 بنانا۔
 وَكَفَّتْ يُوَكِّفُ وَوَكْفًا - الرجل
 گناہ کرنا۔ ظلم و تباہی
 کرنا۔

اَوَكَّتْ اِيكَافًا - الدامح او البيت
 پکنا۔ کسی کو گناہ میں ڈالنا۔
 او كَفَّتِ الْمَرْأَةُ - عورت کا
 چلنے کے قریب ہونا۔
 وَكَفَّ وَكَفَّتْ وَآكَفَتْ - العمار۔
 گدھے پر پالان ڈالنا۔ وَكَفَّتْ
 اِيوَكَاةً - پالان بنانا۔
 وَآكَفَتْ مَوَاكِفَةً - الرجل في الحرب
 وغیرھا۔ مقابلہ کرنا۔
 تَوَكَّفَ - السطح۔ چھت کا پکنا۔
 البيت۔ گھر کی چھت پکنا۔
 الاثو۔ ڈھونڈنا۔ لظلم۔ کسی
 کے درپے ہو کر اس کو پالینا۔
 العبرو۔ خبر کے ظاہر ہونے کی امید
 رکھنا
 تَوَكَّفَ - انحراف کرنا۔ منہ پھیرنا۔
 اسْتَوَكَّفَ اسْتِيكَافًا - الماء۔ پانی
 پکنا۔ جاری کرانا۔
 الوَكْفُ - مع چہرے کا بچھونا۔
 الوَكْفُ - عیب۔ فساد۔ کمزوری۔
 بوجہ۔ شدت۔ پسینہ۔ دامن کوہ
 ظم۔ ع آوَكَاةً - ليعني عَيْبِكَ
 فِي هَذَا الْأَمْرِ وَكَفَّتْ - تمہارے
 لیے۔ اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں
 اِيوَكَاةً وَ اِيوَكَاةً - عرق گیر۔ پالان
 ع وَكَفَّتْ -
 الوَاكِفُ - موسم رعد بادش۔ سحاب
 وَكُوْتُ - ہلکا ہلکا پرینے والا بادل۔
 وَكَلَّ يَكُلُّ وَكَلًّا وَكُوًّا - ایلدلا مَرَّ
 کوئی کام کسی کے سپرد کرنا۔ سونپنا۔
 يَكُلِّي اِلَى كَذَا - یہ کام مجھے کرنے دو۔
 اوَكَلَّ - ایکالا۔ سپرد کرنا۔ سونپنا۔ بالذم
 اظہر پر سپرد کرنا۔
 وَكَلَّ تَوَكُّلًا - فلانا۔ دیکھنا۔ اسم
 الوكالته والوكالته۔

وَكَالَّ وَكَالًا وَمَوَاكِلَةً - القوم۔ ایک
 دوسرے پر سپرد کرنا۔ (روالاً)۔
 الدَاكِلَةُ - جانور کا بچھنا۔
 تَوَكَّلَ - وکالت قبول کرنا۔ لہذا بِالْبَحْرِ
 کامیابی کا ذمہ دار بنانا (روالاً)
 عَلَى الْبَحْرِ - سپرد کرنا۔ (روالاً)
 مطیع و فرمانبردار ہونا۔
 اِنْتَكَلَى فِي امْرُؤٍ فَلَانًا - کسی پر اعتماد
 و سپرد کرنا۔ تَوَكَّلَ عَلَى الْأَمْرِ
 خود مجبوری ظاہر کر کے دوسرے پر
 اعتماد کرنا۔
 تَوَكَّلَ - القوم۔ ایک دوسرے پر سپرد
 کرنا۔ تَوَكَّلَ الْكَلْبُ - کسی کو بغیر دیکھ
 چھوڑنا۔
 الوَكَلُ وَ الوَكْلَةُ وَ الْمُنْكَفَةُ وَ الْمَوَاكِلُ
 وہ عاجز سپرد ہوا اپنے کاموں کو دوسرے
 کے سپرد کرے اور اس پر سپرد کرے
 الوَكِيلُ - کند ذہن۔ جہن۔ بچوں کا بچہ۔
 الوَكَالُ وَ الوَاكِلُ - کمزوری۔ عبادت۔
 الوَاكَلَةُ وَ الوَاكَلَةُ - سپردگی۔ سپردہ
 ع وَ كَالًا تَمَنُّهُ
 التَّكْلَانُ - اعتماد۔ سپردہ۔
 الوَاكِلُ نَا - من العليل بطير ما يسه
 نہ چلنے والا گھونٹا۔
 الوَكِيلُ - وہ شخص جن پر سپردگی کیا جاتے
 وہ جس کو سپردگی یا سپردگی سپرد
 کر دے۔ ہمدردی۔ ع وَ كَالًا تَمَنُّهُ
 اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ روزی
 دینے والے کو سپردگی کرنے والے
 کے معنی دیتا ہے۔
 المَوَاكِلُ - مفرق ہذا الاضطر مَوَاكِلُ
 اِلَى مَرَأِيكَ - یہ کام تمہاری ماٹے
 کے سپرد ہے۔
 وَكَلَّ يَكُلُّ وَكَلًّا - فلانا عن حاجتہ
 حاجت سے بہت سستی سے روکنا۔

الامر فلانا۔ نکلین کرنا۔
 وَكَلَّتِ الْأَرْضُ - زمین کا روندی
 ہونے اور چری ہونے کا اس والی ہونا۔
 وَكَلَّتِ الْبِكْرُ كَمَةً - الرجل من الشئ -
 گھرانہ۔ نکلین ہونا۔
 الوَكْلَةُ - بہت درندوں والا پیشہ۔
 المَرَكُومُ - بہت غمزدہ۔
 وَكَلَّ يَكُلُّ وَكَلًّا وَكَلًّا - الطائر
 بیٹھا او علی بیضہ۔ پرندہ کا
 اٹھنے سینا۔ صفت دَاكِنُ ع۔
 وَكَلَّ وَكَلَّتْ - موناٹ۔
 وَكَلَّتْ - الطائر۔ پرندہ کا
 گھونٹے میں جانا۔ (روکنا) الرجل
 تیز چلنا۔ بیٹھنا۔
 تَوَكَّلَ - الرجل۔ مجلس میں اچھی طرح
 تکیہ لگانا۔ مطبوع ہونا۔ با اختیار ہونا۔
 الوَاكِلُ - بیٹھنے والا۔ موناٹ مَوَاكِلَةً -
 من الطير۔ درخت سے پھل لکڑی
 میں پرندہ کے بیٹھنے کی جگہ۔
 الوَكْلُ - ع آوَكَاةً وَ كَلًّا وَ كَلًّا
 وَ الوَكْلَةُ وَ الوَكْلَةُ وَ الوَكْلَةُ
 وَ الوَكْلَةُ - ع وَ كَلَّتْ وَ كَلَّتْ
 وَ كَلَّتْ وَ كَلَّتْ وَ كَلَّتْ
 وَ الوَكْلَةُ - پرندہ کا گھونٹنا۔
 المَوَاكِلُ - وہ جگہ جہاں پرندے ہوں
 وَ كَلَّتْ - المَوَاكِلُ - وہ جگہ جہاں پرندے ہوں
 فلانا عن حاجتہ
 ہانکنا۔ (روکنا) ع الرجل
 تیز چلنا۔
 الوَكْلُ - بزدل۔ چلنے میں لڑکنے
 والا۔
 وَ كَلَّ يَكُلُّ وَ كَلًّا - القربة۔ شکر کو
 بندھنے سے باندھنا۔
 وَ كَلَّ مَوَاكِلًا وَ كَلًّا - عا میں روزوں
 باغھ اٹھانا۔

أَوْكَى أَيْكَاءَ - القربىة وَكَلَّ مَا فِي القربىة - شك كوند من سے بانہنا۔
الرجل - بخل کرنا - نیز دوڑنا۔
إِسْتَوَى - الوعاء - برتن کا بھرنا۔
البطن - بعض ہونا۔
الوَكَاءُ - شك وغيره کا بندھن - ہر سر بند برتن وغیرہ - ج اوكية۔
المَوْكَى - معنہ - بندھے ہوئے منکی شك
وَلَبَّ يَلْبُ وَوُوبًا - داخل ہونا اور جلدی کرنا۔ اَلَيْكُ الشَّيْءُ - پہنچنا۔
الْوَالِبُ - کسی چیز میں داخل ہونے والی چیز
الْوَالِيَةُ - حکمت کی رویدگی - اولاد نسل۔
وَلَتَّ يَلِتُ وَوَلَّتَا وَآذَلَّتْ - فلا تاحقاً کسی کا حق گھانا۔
وَلَتَّ يَلِتُ وَوَلَّتَا - فلا تاحقاً بالعصاء - لاشی سے مارنا۔ لَهُ عَهْدًا - کمزور وعدہ کرنا۔ فُلَانٌ - کسی کا غلام سے کنا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔
الْوَلْتُ - ہم - تھوڑی بارش - کچا عہد۔
برتن میں بند کا بقیہ - اچھو دکھ آنے کا اثر۔
رَجَعَ يَلْجُ وَوُوجًا وَوَيْجَةً - البیت - گھر میں داخل ہونا۔ وُلِجَ الرجل - پیٹ کی بیماری والا ہونا۔
وَلَجَّ - المَالُ - سائلین کے سوال سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں اپنا مال کسی کو دے دینا۔
أَوْلَجَهُ أَيْلَجًا وَآتَلَجَهُ إَيْلَجًا وَوَلَجَّ - داخل کرنا۔
تَوَلَجَ تَوَلَجًا وَآتَلَجَ إَيْلَجًا - البہ ونبہ داخل ہونا۔
الْوَلَجُ - ریت کا راستہ۔ الْوُلُجُ - اطراف و نواحی - کوچے - گھبان - شد کھانے کے چھپے - واحد۔ وِلَاجٌ

الْوَلَجَةُ - داخل ہونے کی جگہ۔ وادی کا موڑ۔ وہ غار جس میں راہ گیر بارش وغیرہ سے پناہ لیں۔ ج اوكاج وولج۔
وَوَلَجَاتٌ -
الْوَلَجَةُ وَالْوَلُوجُ - بہت داخل ہونا۔
وَوُلُوجٌ خَرُوجٌ - بہت اندر باہر آنے والا۔
الْوَالِجَةُ - پیٹ کا درد۔ سانپ - درندے۔
الْوَالِجَةُ - بھیدی - رازدار۔ جب کوئی اجنبی آدمی قوم کے ساتھ چپا سے تو اس کے لیے کہتے ہیں - هُوَ وَيَجْتَهُمُ۔
الْوَلَاجُ - بہت داخل ہونے والا۔
الْوَلَاجُ - دروازہ۔ وادی - پست زمین۔
ج وُلُجٌ وَوُلُوجٌ -
التَّلَجُ - عقاب کا چوزہ۔
التَّوَلَجُ - وحشی جانوروں کے رہنے کی جگہ۔
المَوْجُ - داخل ہونے کی جگہ ج مَوَالِجُ وَوَلَجٌ وَوَلَجًا - الدَابَّةُ - جانور پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا۔
الْوَالِجَةُ - ج وَاوَالِجٌ وَوَالِجٌ - بوری وَوَلَجَةٌ يَلِجُهُ وَوَلَجًا - تھپڑ مارنا۔
أَوَلَجٌ - العشب - گھاس کا دراز اور موٹی ہونا۔
أَمْتَلَجٌ - الامْرُ - معاطہ کا خلط ملط ہونا۔
إِسْتَوَلَجْتَ إِسْتِيْلًاخًا - الامْرُ - زمین کا تر ہونا۔
الْوَالِجُ - اسی کا گہرا۔
الْوَالِجَةُ - جا بواگھا دور دور۔ کچھ۔
ارمن وَوَلِجَةٌ وَوَلِجَةٌ وَوَلِجَةٌ - پیچیدہ گھاس والی زمین۔
الْوَلِجُ - لمبی گھبان گھاس۔
وَوَلَّتَتْ تَلِدًا لِدًا وَوَلَدًا وَوَلَدًا - وَاكَادًا وَوَالِدًا - الانثى - جننا۔

صفت وَالِدٌ وَالِدَةٌ - الامْرُ - النبات - زمین کا نباتات اگانا۔
وَوَلَدٌ - الْوَلَدُ - پرورش کرنا۔ پالنا۔
الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ اَيْكٌ مِيزَةٌ دوسری چیز نکالنا۔ پیدا کرنا۔ الكلام او احدثت۔ نیا پانا۔
القَابِلَةُ الْمَرْأَةُ - بچہ جننا۔
أَوْلَدَتْ اَيْلَادًا الْمَرْأَةُ - بچہ جننے کا وقت قریب آجانا۔ الشَّاةُ - جننا۔
صفت مَوْلِدٌ - ج مَوَالِدٌ وَمَوَالِدٌ تَوَلَدَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ - پیدا ہونا۔
إِسْتَوَلَدَ - الْمَرْأَةُ - حاملہ کرنا۔ بچہ طلب کرنا تَوَلَدَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ - پیدا ہونا۔
الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ وَالْوَالِدَةُ - بچہ۔ رنڈکر مونت۔ تشبیہ جمع سب کو شامل ہے۔ کبھی جمع لاکر اور کاد وولدا کہتے ہیں۔
الْوَالِدُ - باپ۔ ج وَالِدُونَ۔
الْوَالِدَانُ - باپ ماں۔ شَاةٌ وَالِدٌ حاملہ بکری۔ ج وُلْدٌ۔
الْوَالِدَاتُ - ماں۔ ج وَالِدَاتٌ۔
الْيَدَاتُ مِمَّ - ہم عصر ہم عمر۔ ایک ہی وقت میں پیدا شدہ۔ تشبیہ۔ لِدَانُ - ج لِدَاتٌ وَوَالِدُونَ - تصغیر وکبیرات وولیدون۔ الیدات۔ پیدائش کا وقت۔
الْوَلُودُ - مِنَ الشَّاةِ - جننے والی بکری۔ بہت جننے والی۔ ج وُلْدٌ۔
الْوَلُودِيَّةُ وَالْوَلُودِيَّةُ - بچپن یعنی طبیعت نادانی۔
الوليد - پیداشدہ بچہ۔ غلام۔ ج۔
وَلَدَاتٌ وَوَالِدَاتٌ - مونت وولیدات ج وَاكَادٌ - ام الولید سمری۔ فَعَلٌ ذَالِكُ فِی وَوَالِدَاتٍ اس نے ایسا اپنے بچپن میں کیا۔

المَوْلِدُ - م - پیدائش کی جگہ یا وقت - مَوَالِدُ
 المِیْلَادُ - پیدائش کا وقت -
 عِیدُ المِیْلَادِ - عرت مسیح کی پیدائش کا دن
 المَوْلَدُ - مفع - پید شدہ - عربی باپ
 اور عجمی ماں کا -
 المَوْلِدَاتُ - دانی -
 المَوْلِدَاتُ نئی پید شدہ -
 مِیْنَةُ مَوْلَدَاتٍ - بناؤنی دیں - دور رس -
 المَوْلُودُ - مفع مچھوٹا بچہ - مَوَالِیدُ -
 وَ لَدَّ یَلِدُ وَ لَدَّاءُ - الرجل - تیز چلنا -
 تیز حرکت کرنا -
 وَ لَسْتُ تَلِسُ وَ لَسًا وَ لَسَانًا - اراہل
 تیز روڑنا - صفت (رولوس) روڑنا -
 الرجل - دھوکا دینا - خیانت کرنا -
 الحدیث - کنایہ سے بات کرنا -
 وَ السَّهْ مَوَالِسَةُ - زیب دینا - بدانت
 کرنا - (رواؤلس) بالحدیث - کنایہ
 سے بات کرنا -
 تَوَالِسُ - القوم علیہ - کسی کے خلاف
 دھوکے اور خیانت میں ایک دوسرے
 کی پشت پناہی کرنا -
 الوَالِسُ - بھیڑیا -
 وَ لَعَّ یَلَعُ وَ لَعًا - بچھہ - حق تلف کرنا -
 (ولعا ولعانا) دوڑنے میں ہلکا پھلکا
 ہونا - جھوٹ بولنا - کہتے ہیں مَا
 ادبری مَا وَ لَعًا - مجھے نہیں معلوم
 اس کو کس چیز نے روک لیا -
 وَ لَعُ یُولَعُ وَ یَلَعُ وَ لَعًا وَ وُلُوعًا وَ
 اُولَعُ - ایللاعا وَ تُولَعُ بہا - شیفتہ
 ہونا - بہت محبت کرنا -
 وَ لَعُ بہا - بھڑکایا جانا -
 وَ لَعُ - الثور - بیل کا دھار بیدار ہونا -
 جَسَدًا - کسی کے جسم کو سفید داغوں
 والا بنانا - یا بفلان - بھڑکانا -
 اُولَعُ ایللاعا - فلانا بکذا بہت مشتاق

بنانا - جوش دلانا - اِتَّلَعَ فلانا وَا لَعَتَا
 اس کا حال مجھ سے مخفی ہے - مجھے نہیں
 معلوم وہ مر گیا یا زندہ ہے -
 اِتَّلَعَ - فلان - قلبی - فلان نے میرا دل
 نکال لیا -
 الوَلَعُ - جھوٹ -
 الوَالِیْعُ - جھوٹا - وَ لَعَتَا - موت -
 وَا لَعَتَا - وَ لَعُ وَ اِلَعُ - بڑا جھوٹ -
 الوَلِیْعُ وَ الوُلُوعُ وَ اللَاعَةُ - بہت محبت
 اور تعلق والا -
 الوُلُوعَةُ - لایعنی بات کا شوقین یا متمسک
 الوَالِیْعُ - کچھور کا پھول جو غلاف میں ہو -
 واحد - وَا لَعَتَا
 المَوَالِیْعُ - مفع - برص والا - دھاری دار جانور
 المَوَالِیْعُ القلب وَ المَتَّلَعُ القلب -
 آشفقہ دل -
 وَ لَعُ یَلَعُ وَ وِلَعُ یَلَعُ وَ یُولَعُ وَ یَا لَعُ
 وَ لَعًا وَ وُلُوعًا وَ وُلُوعًا وَ وُلُوعًا -
 الکلب الاناء و فی الاناء کتے کا برتن میں
 منہ ڈالنا - زبان سے چرچر کر کے پانی پینا -
 اُولَعُ ایللاعا - الکلب - کتے کو پلانا -
 الوُلُوعَةُ - جھوٹا ڈول -
 المِیْلَعُ وَ المِیْلَعَةُ - وہ برتن جس میں کتا
 منہ ڈال دے یا اس میں اس کو پلایا
 جائے - مِیْلَعُ -
 المِیْلَعُونَ - من الناس سعوت کی پروا
 نہ کرنے والا -
 وَ لَعَتَ یَلَعُ وَ لَعًا وَ وُلُوعًا وَ وُلُوعًا وَ
 وِلِیْعًا - البرق - بجلی کا لگنا چمکانا -
 (ولیعقا) القوم - سب کا اکٹھا آنا -
 وَ اَلْفَتْ وَ کَا فَتًا وَ مَوَالِفَتًا - محبت کرنا
 تَوَالِفَتَ مَوَالِفَتًا وَ وُلُوعًا - الشیخان -
 ایک دوسرے سے الفت کرنا -
 الوَالِفُ - دوست - صاحب -
 الوَالِیْفُ وَ الوُلُوفُ - لگنا چمکنے والی بجلی -

الوکاف والولیف - م - ایک قسم کی دوڑ جس
 میں یکبارگی ٹانگیں زمین پر پڑتی ہیں -
 وَ لَقَ یَلِقُ وَ لَقًا - السیر - تیز چلنا - ک -
 وَ بالترویح - ہلکے سے تیز مارنا - ک -
 بالسیف - تلوار مارنا - الحدیث
 پھیلانا - گھڑنا - عیننا - آنکھ پر مار کر
 چھوڑ دینا - فی کذب او سیر -
 جھوٹ بولتے رہنا -
 اُولِقَ ایللاقا وَا لِقَ اَلِقًا - پاگل ہونا -
 صفت (ماؤونق و ماؤلق)
 الولیقہ - آٹے دودھ اور گھی سے تیار
 کردہ کھانا -
 الاُولِقُ - پاگل پن -
 اُولَمَ ایللاما - ولیمہ کرنا - فلان -
 خلقت یا اخلاق و عقل میں مکمل ہونا -
 الولمہ والولمہ - بند - گھوڑے یا اونٹ
 کا تنگ -
 الولمہ - سب کا سب - چیز کا اجتماع -
 الولیمہ - شادی کی خوشی کی دعوت -
 ح وَ کَالِمَ -
 تَوَلَّنَ - الرجل - معیت کے وقت بلند آواز
 سے چلنا -
 وَ لَهَ یَلِیْهِ وَ وِلِیْهِ یَلِیْهِ وَ یُولِیْهِ وَ لَهَا -
 وَ تَوَلَّهَ وَ اَتَلَهَ - زیادتی غم سے
 عقل زائل ہونے کے قریب پہنچنا -
 شدت غم سے تیز ہونا - صفت (والیہ)
 وَ اِلِیْهِ وَ وِلِیْهِ (موت) وَ اِلِیْهِ -
 وَ اِلِیْهِ وَ وِلِیْهِ - وَ لَهَ العصبی
 الی امہ - بچہ کا ڈکڑاں کی طرف
 پلکنا - الاُمُّ الی وَ لِدِهَا خواہش
 کرنا - منہ - ڈرانا -
 وَ لَهَ - الرجل - زیادتی غم میں ڈالنا -
 الموالاة - ماں کو بچہ سے جدا کرنا (واؤلہ)
 غم کا کسی کو سرگشتہ و حیران کرنا -
 اَتَلَهَ - النبیذ فلانا - بنیذ کا کسی کو بدبوڑ کرنا

اَسْتَوَلَهُ اَسْتَبَدَّهَا - بدحواس ہونا۔ مَاءٌ
مَوْلَةٌ وَمَوْلَةٌ - بیان میں چھوڑا
ہوا پانی۔

المَوْلَةُ - مکاری۔ المَيْلَةُ - حیران کن۔
رگستان۔ المَيْلَةُ - سخت ہوا۔

اَمْرًا مَيْلًا - بجز کی موت پر بہت غم
مدد کرنے والی عورت ج مَوَالِيہ۔

وَتَوَلَّتْ وَتَوَلَّتْ وَتَوَلَّتْ - المَرْأَةُ - عورت کا
چیننا۔ دایمیا کرنا۔ کمان کا آواز کرنا۔

وَلِيٌّ وَوَلِيٌّ يَلِيٌّ وَوَلِيٌّ - فلانا۔ قریب و نزدیک
ہونا۔ متصل ہونا۔ بغیر قاصلہ کے پیچھے پیچھے
جانا۔

وَلِيٌّ يَلِيٌّ وَوَلِيٌّ وَوَلِيٌّ - اَشْيٌ وَعَلِيهِ
حاکم مقرر ہونا۔ متصرف ہونا۔ الیجیل

وعليه مدد دینا۔ البَدُّ - شہر پر تسلط
پانا۔ (وَلَا يَتَمُّ) الرجل - کسی سے محبت کرنا۔

وَلِيٌّ - موسم بہار کی بارش سے جگہ کا سیراب ہونا۔
وَلِيٌّ تَوَلَّى - فلانا الامْرَ - حاکم مقرر کرنا۔

انتظام سپرد کرنا۔
وَلَاةٌ - کذا - کسی کے پیچھے کرنا۔ وَاَلَاةٌ

ظہور کا۔ اپنے پیچھے کے پیچھے کرنا۔
وَلِيٌّ اَشْيٌ وَعَلِيٌّ اَشْيٌ - اعراض کرنا۔ منہ

پھیرنا۔ دور ہونا۔
وَلِيٌّ هَامِبًا - پیٹھ دے کر بھاگنا۔

أَوْلَى اِمْلًا - فلانا الامْرَ - والی مقرر کرنا۔
م - معروفاً - کسی پر احسان کرنا۔

أَوْلَى عَلَى الْيَتِيمِ - یتیم کے بارے
میں وصیت کرنا۔

وَالِيٌّ وَوَلِيٌّ وَوَلِيٌّ - الرجل - دوستی
کرنا مدد کرنا۔ اَشْيٌ لَمْ تَارَ - کرنا۔

الْمَلِكُ - بین الامْرَيْنِ -
بے درپے کرنا۔

تَوَلَّى تَوَلَّى - الامر - کسی امر کی ذمہ داری لینا
کام کے لیے مستعد ہونا۔

فلانا۔ ولی مقرر کرنا۔ عندہ۔ اعراض کرنا۔

چھوڑ دینا۔ تَوَلَّى هَامِبًا - پیٹھ دے
کر بھاگنا۔ اَشْيٌ - لازم ہونا۔ مرطب
خشک ہونے لگنا۔

تَوَلَّى تَوَلَّى تَوَلَّى - اَسْتَوَلَى
اَسْتَبَدَّ - عليه غالب آنا۔ قدرت

پانا۔ علی الغایتا۔ انتہا کو پہنچنا۔ علی
اَشْيٌ - چیز پر قبضہ پانا۔

الْوَلِيُّ - قرب۔ نزدیکی۔ بارش کے بعد بارش
الْوَلَاءُ - محبت۔ دوستی۔ نزدیک

رشتہ داری۔ مدد۔ ملکیت۔ آزاد
کردہ غلام کے مال کی میراث۔ کہتے

ہیں جَاءُوا عَلَى وَكَلَاءِ اَمْ عَلَى
وَلَاةٍ - وہ ایک دوسرے کے پیچھے آئے۔

الْوَلِيُّ - ج اولیة - بہار کی بارش کے
بعد دوسری بارش۔ ج اَوْلِيَاءُ

محبت کرنے والا۔ دوست مددگار
پڑوسی۔ حلیف۔ تابع۔ داماد۔ کام

کامنتظم۔ اللّٰهُ وَوَلِيِّكَ - اللّٰهُ تَعَالَى
حافظ و نگران ہے۔ المؤمن و وَلِيُّ

اللّٰهِ - مومن اللّٰہ کا فرمانبردار ہے۔
وَلِيُّ الْعَهْدِ - تخت کا وارث۔ ولیُّ

الْيَتِيمِ - یتیم کا سرپرست و والی۔
الْوَلَاةُ - وہ ملک جو ایک حاکم کے زیر نگیں ہو۔

ج وکالات۔
الْوَلَاةُ - حکومت۔ امارت۔ سلطنت۔ ایک حاکم

کا زیر نگیں علاقہ۔ الْوَلَاةُ وَالْوَلَاةُ
وَالْوَلَاةُ - رشتہ داری۔ ہم علی ولایتنا

وَاحِدًا تَكُونُ سَبْعًا مِنْ خِلَافِ كَلِمَةٍ
الْوَلِيَّةُ - موث الولی - قرب۔ عرق گیر۔

ج ولیات و ولایا۔ دَامًا وَوَلِيَّةٌ - نزدیک
کا گھر۔

الْوَالِيُّ تَادَالِي الْبَلَدِ - شہر پر تابع اور اس پر حاکم
ج کولات

الْأَوْلَى - زیادہ مقدار و لائق۔ تشبیہ الْأَوْلِيَاءِ
ج الاولون والاولی - موث۔

الْوَالِيَّ تَشْبِيهُ الْوَالِيَّانِ - ج الْوَلِيُّ
الْوَالِيَّاتِ - اَوْلَى لَمْ - یہ کلمہ دھکی
کے لیے مستعمل ہے یعنی تباہی تمہارے نزدیک
ہے نیک جاؤ۔

المَوَالِي - مالک۔ آقا۔ غلام۔ سردار۔ آزاد کرنا والا۔
انعام دینے والا۔ وہ جس کو انعام دیا جائے محبت

کرنے والا ساتھی۔ حلیف۔ پڑوسی۔ عہد شکن
بیٹا۔ چچا کا بیٹا۔ بھانجا۔ چچا۔ داماد۔ رشتہ دار۔ ولی

تابع۔ ج المَوَالِي۔
المَوَالِيَا - ایک قسم کے اشعار جن کو گایا کرتے تھے اور

جن کے آخر میں یا مَوَالِیَا کہا کرتے تھے۔ عوام
مَوَالِ کہتے ہیں۔ ج مَوَالِی۔

المَوَالِی - وہ بچہ جو کسی کی نگرانی میں ہو۔ ج مَوَالِیة۔
المَوَالِی - مولا کی طرف منسوب۔ زائد۔

المَوَالِیة - مولویوں کے پھینے کی ٹوپی۔ شرفائے مشابہت
المَتَوَالِی - نا۔ شیعوں کی جماعت۔

وَمَا يَمَّا وَمَا وَمَا تَوَمَّنَةٌ
اَوْ مَاءٌ اِيْمَاءٌ مَاءٌ مَاءٌ اَبْرَدٌ وَاِخْرَءٌ اَشْرَءٌ

وَمَا مَوَالِةٌ - کسی سے اتفاق کرنا۔
الْوَامِئَةُ - مصیبت۔

المَوَالِةُ - الیہ۔ اشارہ کردہ۔ ذکر کیا ہوا۔
الْوَمْحَةُ - دھوپ کا اثر۔

وَمَدَّتْ تَوَمَّدًا وَمَدَّتْ - اللیلۃ رات کا سخت
گرم اور گھٹن والی ہونا۔ صفت (وَمَدَّتْ وَمَدَّتْ)

وَمَدَّتْ عَلَیہ کسی پر غضبناک ہوا۔
الْوَمْدَةُ - رات کی سخت گرمی۔

وَمَزْمَزَةٌ وَمَزْمَزَةٌ بَانْفِجِحًا - ناک کو غصے سے
ہلانا۔ تَوَمَّنًا - اٹھنے کے لیے تیار ہونا۔

لَمْ يَمَسَّ يَمَسًا - اَشْيٌ بَانْفِجِحًا رَغْرًا -
اَوْ مَسَّتْ الْمَرْأَةُ - عورت کا بدکار ہونا اَوْ مَسَّتْ

العنب - انگور کا پکنے کے لیے نرم ہونا۔
الْوَمْسَةُ - سفید تل۔

المُؤَمِّسُ وَالْمُؤَمِّسَةُ - بدکار و ناجرہ عورت
ج مَوَمِّسَاتٌ وَمَوَمِّسٌ وَوَمِیْمِیْسٌ

وَمَعْنٌ يَبِضُّ وَمَعْنًا وَمِیضًا وَمَعْنًا -

<p>تَوَهَّجَتْ تَوَهَّجًا - فِي الْأَمْرِ - خُوب خوب کرنا۔</p> <p>وَهَجَتْ - تَبَعُ وَهَجًا وَهَيْجًا وَ وَهْجَانًا - النَّاسُ أَوِ الشَّمْسُ - آگ یا سورج کا روشن ہونا۔</p> <p>أَوْهَجَ - النَّاسُ - آگ بھڑکانا۔</p> <p>تَوَهَّجَ - آگ بھڑکانا۔ الحَرُّ - گرمی کا تیز ہونا۔ يَوْمُنَا - دن کا سنت گرم ہونا۔ الجَوْهَرُ - ہیرے کا چمکنا سَرَّ اَيْحَتَهُ الطَّيِّبُ - خوشبو پھینکا۔</p> <p>الْوَهْجُ - آگ کی بھڑک۔ سورج کی چمک وَهْجُ الطَّيِّبِ - خوشبو کی بھک۔</p> <p>الْوَهْجُ - مہم۔ جہا۔ گرمی۔ خوشبو کی بھک۔</p> <p>الْوَهَّاجُ - تیز بھڑکنے والا۔</p> <p>وَهَّدَ لَهُ الْفِرَاسَ - فرش بچھانا۔</p> <p>تَوَهَّدَ الْفِرَاسَ - فرش بچھنا۔</p> <p>الْوَهْدُ - پست زمین۔ جِ اَوْهْدُ و وَهْدَانٌ - الْوَهْدَةُ - پست زمین گڑھا۔ جِ وَهَادٌ وَوَهْدٌ -</p> <p>وَهْرًا كَأَيَّهِمْ وَهْرًا أَوْ وَهْرًا كَأَيَّهِمْ ناقابلِ خَلَاصٍ مَشْكَالٌ فِي الْإِنْسَانِ -</p> <p>تَوَهَّرَ - اللَّيْلُ أَوِ الشَّامُ رَاتٍ يَأْسُرُ کا اکثر حصہ گزر جانا۔</p> <p>ع - فِي الْكَلَامِ كَقَوْلِهِمْ فِي كَوْنِهِمْ کر دینا۔</p> <p>اسْتَوْهَّرَ وَاسْتَيْهَرَ اسْتَيْهَارًا بِه یقین کرنا۔</p> <p>الْوَهْرُ - سورج کی شعاعوں کا زمین پر ایسی تیزی سے پڑنا کہ ہوا میں بخارات کے مانند اضطراب نظر آئے۔</p> <p>الْوَهْرَةُ - ایسی شکل میں پھینکا کہ اس سے خلاص نہ ہو سکے۔</p> <p>الْوَهْرَانُ - ڈرنے والا۔</p> <p>وَهْرًا كَأَيَّهِمْ وَهْرًا أَوْ وَهْرًا كَأَيَّهِمْ باتھ سے مارتا یا ہٹاتا۔ وَهْرًا كَأَيَّهِمْ</p>	<p>وَقِي تَوَهَّجَتْ - كَامٌ كَرْنِي فِي سِتِّ هُونَا - اَوْ فِي اَيْتَاءِ الرجل - کسی کو تھکانا۔ کمزور کرنا۔</p> <p>تَوَاتَى تَوَاتِيًا فِي حَاجَتِهِمْ - سُسْتِي كَرْنَا كَرْنَا هِي کرنا۔ لا پرواہی برتنا۔</p> <p>الْوَتَاؤُ - سُسْتِي - اِمْرَاةٌ وَنَاةٌ وَ اُنَاةٌ وَ اَيْتَاءُ سنت حرکات والی عورت الوتوة عقل کی کمزوری</p> <p>الْوَتَاةُ وَالْوَيْتَةُ - مَوْتِي - الْوَاتِي - نَا - كَمُورِدِن والا۔ فِسْمِي وَ اِي - نَزْمُ نَزْمٍ جِلْنِي وَ اِي هُوَا الْوَقِي - مَوْتِي -</p> <p>الْمَيْنَا وَ الْمَيْنَاءُ - بِنْدَرگَاهُ جِ مَوَانٍ وَ مَوَانِي مَيْنَاءُ السَّاعَةِ - گھڑی کا ڈائل۔</p> <p>وَهَبَ يَهَبُ وَهْبًا وَهْبًا وَهْبَةً الْمَالُ فَلَانًا وَ يَغْلَانُ - مَالٌ بَخْشًا - سَبْرًا كَرْنَا هَيْجِي (بندرگہ) هَيْجِي (موت) كَعَلَتْ كَذَا فَرَضَ كَرْمِي نِي اَيْسَاكِيَا - يَهْنِي مَرَفَا کے صیغہ کے ہوتے ہیں۔ هَبَا - هَبُوا هَبْنِ - فَرَضَ كَرْمِي (وَهَبَ يَهَبُ) الرجل - قِيَامِي فِي بَرَحْنَا - وَ اَهْبَهُ مَوَاهِبَةً قِيَامِي فِي مَقَابِلِ كَرْنَا -</p> <p>أَوْهَبَ اِيهَابًا - الْأَمْرُ يَغْلَانُ كَسِي كَيْسِي يَار هُونَا الشيءُ يَغْلَانُ كَسِي كَيْسِي كَيْسِي كَيْسِي هُونَا - الشيءُ لَهُ زِيَادَةٌ وَ بَخْرَتٌ هُونَا -</p> <p>أَوْهَبْتُ لَكَذَا - فِي نِي اِسِي پَر قَدْرَتِي پَاتِي -</p> <p>تَوَاهَبَ - الْقَوْمُ اِيكٌ دُوسَرِي كُو سَبْرًا كَرْنَا -</p> <p>اَهْبَ اِيهَابًا - اِهْبَةُ - سَبْرًا كَرْنَا -</p> <p>اسْتَوْهَبَ اسْتَيْهَابًا - اِهْبَةُ سَبْرًا كَرْنَا -</p> <p>فَلَانٌ وَ مَن فُلَانٍ - سَبْرًا كَرْنَا -</p> <p>اِهْبَةُ - بَخْشِي عَطِيه - جِ هَبَات -</p> <p>الْوَهَابُ - الْوَهَابَةُ - الْوَهْوَبُ - بَهْتٌ سَبْرًا كَرْنَا اِيهْبَتِي وَ اِيهْبَتِي عَطِيه - وَهْتِي يَهْتِي دَهْنًا اَشْيَا - وَ اِنَاةٌ سَمْتِي سِي رُونَدَانَا -</p> <p>أَوْهَتَ اللَّحْمَ كَرْمِي كَأَيَّهِمْ وَ اِيهْبَتِي الْوَهْتَةُ - پست زمین جِ وَهْتِي -</p> <p>وَهْتِي يَهْتِي وَهْتًا وَهْتَةً - فِي اَشْيَا مَشْغُولٌ هُونَا - اَشْيَا - سَمْتِي سِي رُونَدَانَا -</p>	<p>البرق - بجلی کا ہلکے سے چمکنا۔ صفت دراصل أَوْهَضَ اِيهَابًا - البرق - بجلی کا چمکنا۔</p> <p>الرجل - رمز سے اشارہ کرنا۔ بجلی یا آگ کی چمک دیکھنا۔ سکرانا۔ اَوْهَضْتِ المرأة بعينها - عورت کا زردیدہ نگاہوں سے دیکھنا۔</p> <p>الْوَمْعَةُ - بارش کی بوجھاڑ۔ پانی کا چھینٹنا۔ الْوَمْعَةُ - لمبا بال۔</p> <p>وَمِعَهُ يَمِغُهُ مِقَهُ وَ مَقًا - پيار كَرْنَا - عُشْتِ كَرْنَا وَ اَمْعُهُ وَ مَقًا وَ مَوْمِقَةٌ ايكٌ دُوسَرِي سِي عُشْتِ كَرْنَا -</p> <p>تَوَامَقٌ - الرَّجُلَانُ دُودَامِيُونِ كَأَيَّهِمْ فِي عُشْتِ كَرْنَا تَوَامَقُهُ - دُوسْتِي كَرْنَا - الْوَامِيقُ - وَ الْوَمُوقُ - مَحْبُوبٌ پيارَا -</p> <p>وَمِيهٌ يَوْمُهُ وَ مَهَا - النَّهَارُ - دِنٌ كَأَيَّهِمْ گرم ہونا۔</p> <p>تَوَمَّنَ - الرَّجُلُ - بَهْتٌ اَوْلَادٌ وَ اِلَا هُونَا - وَمِي تَوَمِيَةً - بَاشِي لِي جَانَا - اَسْتَوَمِي عَلَيْهِ غَالِبٌ آتَا -</p> <p>الْمَوْمَاةُ وَ الْمَوْمَاءُ - بِيَابَانٌ - ج - الْمَوَامِي - الْوَمِي - كَمُورِي - انگلیوں سے بچانے کا چنگ۔</p> <p>وَمَبٌ - جَمْرُ كَرْنَا - دَانَمْنَا -</p> <p>الْوَمِجُ - اِيكٌ قَمَمٌ كَأَيَّهِمْ - وَ اِنَعَهُ - مَوَانِعُهُ - مَوَانِعَتُ كَرْنَا -</p> <p>وَمَرِيْنَمٌ وَ مَرِيْنَمًا - اِنْدَابٌ - كَمِي كَأَيَّهِمْ - بِيْثُ كَرْنَا -</p> <p>الْوَمِيْمَةُ وَ الْوَمِيْمُ - كَمِي كَأَيَّهِمْ -</p> <p>وَقِي يَمِي وَ قِي يَمِي وَ قِي يَمِي وَ قِي يَمِي وَوَيْتَةُ وَ نِيَّةٌ وَ قِي - سِتُّ هُونَا كَمُورٌ هُونَا - تَهْكُنَا - صَفْتِ (وَ اِي) مُونْتِ وَ اِنِيَّةٌ - كَأَيَّهِمْ نَا مَعْنِ كَذَا مَعْلُومٌ وَ دِنَا - الْكَمَرُ اَسْتَمِيْنُ پَرَحَانَا - السَّجَابَةُ - بَادِلٌ كَأَيَّهِمْ اِلَا اِنِي يَفْعَلُ وَهْتًا تَارُ كَرْنَا هِي -</p>
---	---	--

کذا - ترغیب دینا - وَهَنَ الشَّيْءُ -
 تَوَهَّنَا - وَهَنًا - بوجھل کرنا -
 تَوَهَّنَ - زور سے روندنا - سُتت چال
 چلنا - بوجھل قدموں سے چلنا -
 تَوَهَّنَ خَلْفَهُ - وہ اس پر پیچھے سے
 کودا -
 الوَهْنُ - مم - پست قدم - مضبوط آدمی -
 الوَهَانَةُ - باجیا عورت کی چال -
 الْوَاهِنُ - اچھی چال والا - الْمَوْهِنُ و
 الْمَوْهِنُ - بہت دبا کر چلنے والا -
 وَهَسَ بَعْضٌ وَضًا - الشَّيْءُ - تَوَهَّنَا -
 کوٹنا - سخت روندنا - الرجل - تیز
 چلنا - فی الامر - جلد کرنا - علی قومہ
 ظلم کرنا -
 وَهَسَ مَوَاهِنَةً - تیز چلنا - کھجرتا -
 تَوَهَّسَ وَتَوَاهَسَ - سست چلنا تیز چلنا
 اونٹ کا اچھی چال چلنا
 الْوَهْسُ - برائی چل -
 الْوَهْسَةُ - شارع عام -
 الْوَهَاسُ - شیر -
 وَهَسَ بَعْضٌ وَهَسًا - الشَّيْءُ الْخَوَّ - نرم
 چیز کو تَوَهَّنَا - سخت روندنا - زور سے
 پھینکا - زمین پر ٹپکنا - الراس - سر
 پھرنے والا - الْخَيَّوَانُ - جانور کو خسی کرنا -
 الْوَهْقَةُ - پست زمین - الْوَهَاسُ - بہت
 نیاں -
 الْمَوْهِنُ - پست زمین - ج مَوَاهِنُ
 الْمَوْهِنُ - وَالْمَوْهِنُ الْخَلْقُ -
 مضبوط گھٹیل آدمی -
 الْوَهْقَةُ - پست زمین -
 وَهَطَهُ يَهْطُهُ وَهْطًا - تَوَهَّنَا - روندنا
 تیزہ مارتا - مارتا -
 الرجل - کمزور سُتت ہونا -
 اَوْهَطًا - کمزور کرنا - سُتت کرنا -
 پچھاڑنا - مصیبت میں ڈالنا - پرندہ کا

بازو توڑنا -
 تَوَهَّطَ - تَوَهَّنَا - روندنا - القماش
 بچھانا - فی الطین - نرم مٹی میں غائب
 ہونا -
 الْوَهْطُ - مم - لاغری - جماعت - ج -
 اَوْهَاطٌ بَيْنَهُمْ اَوْهَاطٌ - ان کے
 درمیان جھگڑے اور شور و شر ہیں -
 الْوَهْطُ - پست زمین ج وَهْطٌ وَوَهْطٌ
 وَهَفَ يَهْفُ وَهْفًا وَوَهْفًا - الی
 کذا - قریب ہونا - الْبِنَاتُ - سبز
 پتے والی ہونا - لَهْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا
 سامنے آنا - ظاہر ہونا - رَوْهَقًا و
 رَوْهَقًا - النُّصْرَانِي - کرجا کی خدمت
 کے لیے تیار ہونا -
 اَوْهَفَ اِنْهَاقًا - الشَّيْءُ الی کذا قریب
 ہونا - اَوْهَفَ لَهُ الشَّيْءُ - سامنے آنا
 ظاہر ہونا -
 الْوَاهِقَةُ - نا - گرجے کا فادم یا منتظم -
 الْوَهَافَةُ وَالْوَهْفِيَّةُ - گرجے کا انتظام
 وَهَقٌّ يَهْقُ وَهَقًا - الدَّابَّةُ - جانور کی
 گردن میں رسی ڈالنا - عَنْ كَذَا
 روکنا -
 وَاهِقٌ مَوَاهِقَةٌ - الْبَعِيرُ الْبَحِيرُ اَوْ تُولُ
 کا چلنے میں گردن لمبی کر کے ایک دوسرے
 سے مقابلہ کرنا -
 اَوْهَقٌ - الدَّابَّةُ - جانور کی گردن میں
 رسی ڈالنا -
 تَوَهَّقَ - الْحَصَى - کنگریوں کا دھوپ سے
 گرم ہونا - فَلَانًا فِي الْكَلَامِ كَقَوْلِكَ
 کسی کو حیران کر دینا -
 تَوَاهَقٌ - الْقَوْمُ فِي الْأُمُورِ - مساوی طور
 پر ایک ہی کام کرنا - مقابلہ کرنا -
 تَوَاهِقَةٌ - الْاِبِلُ - چلنے میں لمبی گردن کر کے
 ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا -
 الْوَهْقُ وَالْوَهْقُ - رسی جو کہ جانور کی گردن

میں ڈال کر کھڑتے ہیں - اَوْهَاقٌ -
 وَهَلْ يَهْلُ وَيَوْهَلُ وَهَلًا - الی الشَّيْءُ -
 ایسی چیز کی طرف دہم جانا جس کا ارادہ
 نہ ہو -
 وَهَلْ يَوْهَلُ وَهَلًا - کمزور ہونا - گھبرانا -
 صفت (رَوْهَلٌ) فِي الْأُمُورِ عَنْهُ غَلَطِي
 کرنا - بھولنا -
 وَهَلَةٌ - خوف زدہ کرنا - گھبرا دینا -
 تَوَهَّلَهُ - غلطی میں ڈالنا -
 اسْتَوْهَلَ - کمزور ہونا - گھبرانا -
 الْوَهْلُ وَالْوَهْلَةُ - گھبراہٹ - خوف
 لَيْقِيَّتُهُ اَوَّلَ وَهْلَةٍ اَوْ وَهْلَةٍ اَوْ
 وَ اِهْلِيَّتِهِ - میں نے اس سے بہت سے
 پہلے ملازمت کی -
 وَهَمَّ بِهِمْ وَهَمًّا فِي الْحِسَابِ - حساب
 میں غلطی کرنا - بھولنا -
 وَهَمَةٌ - دہم میں ڈالنا -
 اَوْهَمَ اِنْهَامًا - دہم میں پڑنا -
 وَ دہم میں ڈالنا - فَلَانًا يَكْذِبُ -
 تمہمت لگانا - بدگمانی کرنا -
 كَذَا مِنْ الْحِسَابِ - حساب کی رقم
 چھوڑ دینا - الشَّيْءُ - کل چھوڑ دینا -
 اَنْهَمَهُ - يَكْذِبُ - تمہمت لگانا - بدگمانی
 کرنا - فِي قَوْلِيهَا - سچائی میں شک
 کرنا - اَنْهَمَ الرَّجُلُ - مہتم ہونا -
 بدنام ہونا -
 تَوَهَّمَنِيهِ الْخَيْرُ - کسی چیز کے اندر
 خیر معلوم کرنا -
 الْوَهْمُ - دل میں گزرنے والا خطرہ -
 ج اَوْهَامٌ - قوت دہم کو بھی دہم
 کہتے ہیں جس سے محسوسات کے
 جزئی معانی دریافت ہوتے ہیں -
 جیسے زید کی شجاعت یا سخاوت -
 کتبہ راستہ - بڑا آدمی - مضبوط
 موٹا اور سدجا ہوا اونٹ - ج -

اَوْهَامٌ وَوَهْمٌ وَوَهْمٌ - لاَوْهَمَ
 مِنْ كَذَا - اس سے کوئی پارہ نہیں -
 الوَهْمَةُ - موٹی اونٹنی - الوَاهِمَةُ -
 قوتِ رہیمیہ - الوَهْمِيَّةُ - وہمی -
 التَّنْفِةُ وَالتَّنْفِةُ - تمت - شک
 الزام - ج - تَنَمَّرَ وَتَنَمَّرَاتٌ -
 التَّهْمِيمُ - لشکرک - المَوْهَمُ مِنَ الْاَشْيَاءِ
 وہم کیا ہوا - تصور کیا ہوا - خیال کیا
 ہوا -
 وَهْنَةٌ مِهْنَةٌ وَهْنًا وَ اَوْهَنَةٌ -
 کمزور کرنا - وَهْنٌ اَوْهَنَ الرَّجُلُ
 آدمی رات میں داخل ہونا -
 وَهْنَةٌ - کمزور کرنا -
 وَهْنٌ وَوَهْنٌ بِهَيْبَةٍ وَوَهْنٌ يَوْهَنُ
 وَهْنًا وَوَهْنًا وَوَهْنٌ يَوْهَنُ
 وَهْنًا - کام یا بدن میں کمزور دست
 ہونا -
 تَوْهَنَ الْبَعِيرُ - اونٹ کا لیٹنا -
 الطَّائِرُ پَرْنَدَةٌ كَازِيَادَهُ كَهَانِيَةٍ
 اُزْنَةٍ پَرْتَقَارَةٌ هُنَا -
 الْوَهْنُ مِمَّنِ الرَّجَالِ اِدْرَايِلُ
 مَرْمَا - پستہ قد - مِّنَ اللَّيْلِ - آدمی
 رات یا اس کے کچھ بعد کا حصہ -
 دَوَالْوَهْنُ اَكَامٌ يَابِدُنُ كِي كَمَزُورِي -
 الْوَهْنُونَ - کمزور - الْوَاهِنُ - نا - کمزور
 کندھے کی ایک رگ -
 الْوَاهِنَةُ - موٹ - الْوَاهِنُ - کمزوری
 بازو - گردن کا ہرہ کے رتخ کی ایک
 بیماری جو بڑھاپا کے وقت بازو و
 کندھے میں پیدا ہوتی ہے - سب
 سے نیچے کی پسلی -
 الْوَهْنَانَةُ - من السَّابِغَاتِ نَارٍ پَرُورِدَةٌ
 ہونے کے سبب کام میں سست ہونے
 الْمَوْهِنُ - مِّنَ اللَّيْلِ - آدمی رات
 یا اس کے کچھ بعد کا حصہ -

الْمَوْهُونُ - کمزور - مَوْتٌ - مَوْهُونَةٌ
 وَهْوَةٌ وَهْوَةٌ - فِي مَوْتِهِ - علم یا
 گھبرائٹ کی وجہ سے بڑا بڑانا -
 الْاَسْدُ - شیر کا دھاڑنا - صفت -
 وَهْوَاكُ
 الْوَهْوَاكُ وَالْوَهْوَاكُ مِنَ الْغَيْلِ -
 پست و تیز گھوڑا - مَرَجُلٌ وَهْوَاكُ
 بزدل آدمی -
 وَهِي وَوَهِي يَهِي وَهِيًا - الشُّوبُ -
 کپڑے کا پھٹنا - الشُّوبُ - چیز کا دھیبے
 بندھن والی ہونا - بوسیدہ کمزور
 ہونا - الْحَاظُ - دیوار کا گرنے
 کے قریب ہونا - گَرْنَا - الرَّجُلُ
 بے وقوف ہونا - السَّحَابُ - بادل
 کا مورا دھار برسنا -
 اَوْهَى - اَيْهَاءٌ - فَلَائِيًا - کمزور کرنا -
 خراب کرنا -
 الْوَهْيُ - مِم - چیز کی دراز - پھٹن - ج -
 وَهْيٌ وَ اَوْهِيَةٌ -
 الْاَوْهِيَةُ - پھٹن - شگاف - الْاَوْهِي
 نا - ج - وَهْنٌ وَوَهَاةٌ -
 مَوْتٌ - وَ اَوْهِيَةٌ -
 الْاَوْهِيَةُ - موتی - ذبح کرنے کا مورا جانور
 الْاَوْهِيَةُ - پہاڑ کی چوٹی سے لے کر دانگی
 تک کا فاصلہ -
 وَ اِيَا وَوَاهَاةٌ وَوَاهَاةٌ -
 کلمہ تعجب - وَ اِهَانَةٌ وَ اِهَانَةٌ
 کیسی عمدہ چیز ہے - وَ اِهَانَةٌ اَعْلَى مَا
 قَاتٌ - اَسْوَسُ اس پر جو ہاتھ سے
 جاتا رہا -
 وَحِي - کلمہ تعجب - جیسے وَحِي لَذِيذٍ
 مجھے زید سے تعجب ہے - وَ اِهَانَةٌ
 کے لیے بھی آتا ہے اور وَحِي لَذِيذٍ
 سے کنایہ کرتے ہیں - کتے ہیں -
 وَحِي اسْتَمَعَ قَوْلِي - تیرا بڑا ہو

میری بات پر کان لگا - دھکی کے معنی
 بھی دینا ہے کہتے ہیں وَحِي بَلَكٌ
 يَا فُلَانُ -
 وَحِي - معنی وَحِي - وَحِيكَ وَوَحِيكَ
 افسوس تجھ پر وَحِيكَ مَزِيدٌ وَحِيكَ لَهْ اِسْرَافِيسُ
 الْوَيْبَةُ - یا اِسْرَافِيسُ اِسْرَافِيسُ اِسْرَافِيسُ
 شرمندگی - ع - وَحِيَاتٌ -
 وَحِي - رحم تو اس کھانے کا کلمہ - کبھی مدح اور تعجب کے
 موبج پر آتا ہے اور کبھی وَحِي کے معنی بھی دینا ہے
 وَحِي وَوَحِي لَذِيذٍ - وَوَحِيَةٌ - زید کیسے ناخوش
 ہے - وَوَحِيَةٌ - تجھ پر ہلاکت ہو -
 الْوَاخُ وَالْوَاخَةُ - ریگستان میں سبزہ ناز
 وَوَيْسٌ - معنی وَوَيْسٌ -
 الْوَايِسُ - مخاجی - چاہی ہوئی چیز - ناچاہی ہوئی
 چیز - وَوَيْسٌ وَوَيْسَةٌ - وَوَيْسٌ - تجھ پر ہلاکت افسوس
 وَوَيْسٌ تَوَيْسًا - غلامی و غلامی کسی کے لیے زیادہ
 بُرَّانٌ چاہنا - تَوَيْسٌ يَأْتِي بِكُلِّ مَكْرُورٍ -
 تَوَيْسٌ الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کے لیے برائی چاہنا
 الْوَيْسُ - شہر برائی کا نوزوں - ہلاکت - دوزخ کی ایک وادی -
 کہتے ہیں وَوَيْسٌ وَوَيْسٌ وَوَيْسٌ لَذِيذٍ وَ
 وَوَيْسٌ لَهْ اِهَانَةٌ نہ ہونے کی صورت میں نصب
 افسوس کی بنا پر اور رفع افسوس کی وجہ سے ہوتا ہے
 اور بصورت افسوس نصب ہی ہو سکتا ہے -
 وَوَيْسٌ وَوَيْسٌ وَوَيْسٌ وَوَيْسٌ - تمت تحت معیبت -
 وَوَيْسٌ - کلمہ تعجب ہے اسکل اصل وکیل لاقہ ہے معنی
 بددعا کے پھر تعجب و افسوس کا جمع ہونے سے
 جطرخ قائلہ اللَّهُ اَللَّهُ لَا اَبَ لَكَ كَتَبَ فِي رَجُلٍ
 وَوَيْسٌ وَوَيْسٌ لَهْ اِهَانَةٌ لَهْ اِهَانَةٌ لَهْ اِهَانَةٌ
 تیرا نام تھی -
 الْوَيْبَةُ - تمت - حَفْلٌ - الْوَيْسُ - سیاہ انگور
 عیب -
 الْوَيْبَةُ - سیاہ کشمش -
 وَوَيْسٌ وَوَيْسٌ وَوَيْسٌ - نَزِيْبٌ يَأْتِي بِاَشْيَاءِ
 کلمہ دلفرد جمع - مذکر - مَوْتٌ سَبَكُ
 لیے کیساں آتا ہے -

۸

۸- تین طرح استعمال ہوتی ہے:-
 (۱) ضمیر جیسے قال لَدَّ صَاحِبُهُ وَهُوَ
 یُحَادِثُهُ۔ اس کو اس کے دوست نے
 کہا جب کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا
 (۲) حرف نیت جیسے آيَاةٌ اس کو
 (۳) حرکت جیسے هُنَا هُنَا یہاں کا پروردگار
 وہ کیا ہے وَ اَزِيْبُ اِهْلًا لَمَّا زِيْدٌ
 ہا۔ کوجیسے هَا الْكِتَابُ کتاب بلو ضمیر
 مرث جیسے قَرَبَهَا اس نے اس عورت
 کو مارا۔ كِتَابُهَا اس عورت کی کتاب
 ام اشارہ سے پہلے تہیہ کے لئے جیسے
 هَذَا هَذَا يه۔ هَا اَنْتُمْ خِيَرَاتُ
 يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ۔ اے آدمی۔ هَا اللّٰهُ
 خدا کی قسم
 هَاءُ ج: ہاءات حرف ۸
 هِي هِي۔ چارے کے لئے اونٹوں کو بلانے
 کی آواز
 هَاهَا۔ اونٹوں کو ڈانٹنے کی آواز
 هَاهَا هَاهَا وَ هَاهَا۔ ٹھٹھا مار کر
 مہنتا۔ قہقہہ لگانا۔ صفت (هَاهَا وَ هَاهَا)
 بالابلہ، اونٹ کو چارہ کے لئے بلانا اور ہی
 ہی کی آواز نکالنا یا بلکانا اور ہمار
 کنا۔ اسم (الہی)
 هُوَ لَآئِدٌ۔ اولاد: جمع کے لئے اسم اشارہ
 اور ہا تہیہ کے لئے یہ
 هَبُّ۔ خیال کرو، فرض کرو۔
 هَبَّتْ (ن) هَيُّوْبًا وَ هَبِيْبًا وَ هَبًّا
 الرَّمِيْعُ، ہر اکا چن هَبُّ الرَّجُلِ مِنَ
 التَّوْبِ۔ کسی کا ہند سے جاگن النَّجْمُ
 ستارہ کا طلوع ہونا۔
 هَبَّ (ن) هَبًّا وَ هَيُّوْبًا وَ هَبِيْبًا وَ هَبًّا
 چست و تیز۔ قدم ہرنا هَبَّ يَفْعَلُ
 كَذَا۔ وہ ایسا کرنے کا مین آیت

هَبَّتْ۔ تم کہاں سے آئے (هَبًّا وَ
 هَيُّوْبًا) السيف تلوار کا ہنہا فی
 الجَوْبِ۔ جنگ میں شکست کھانا۔
 هَبًّا وَ هَبَّةً وَ هَبَّةً السيف
 الشیخ۔ تلوار کا کسی چیز کو کاٹنا
 هَبَّ (س) هَبًّا۔ الرجل۔ کسی کا ایک
 زمانہ تک قاب رہنا
 هَبَّبَ۔ تَهِيْبًا۔ الثوب کپڑا اچھا کرنا
 اَهْبَهُ مِنْ تَوْمِيْدٍ۔ ہند سے جگانا
 اَهَبَّ السَّيْفُ۔ تلوار ہلاتا۔ الريح
 ہوا چلاتا۔
 تَهَبَّ۔ الثوب کپڑے کا بر سیدہ ہونا
 اَهْتَبْتُ الشیخ۔ چیز کو کاٹنا۔
 اِسْتَهَبْتُ۔ ہوا چلاتا۔ ہوا کے چلنے کی
 خواہش کرنا
 الهَبَابُ: ہوا میں اڑنے والے ذرات
 الهَبَّةُ۔ ہوا کا چننا، ہوا کا ایک دفعہ چننا،
 سحر کا آخری گنڈہ، زمانہ کی ایک مدت
 رابیتہ هَبَّتْ: میں نے اس کو ایک بار
 دیکھا اِحْزَرُ هَبَّةَ السَّيْفِ۔ تلوار
 کی ضرب سے ڈر
 الهَبَّةُ۔ هَبَّ کا اسم نوع، حال کپڑے
 کا ایک ٹکڑا، تلوار کی کاٹ اور اس کا
 ہنا، سحر کا آخری گنڈہ، زمانہ کی ایک مدت
 الهَيُّوْبُ وَ الهَيُّوْبِيَّةُ وَ الهَيْبِيْبُ
 مِنَ الرِّیَاحِ۔ غبارہ اڑانے والی ہوا
 الهَبَابُ۔ بہت گرد و غبار اڑانے والی ہوا
 الْمَهَبُّ۔ ہوا کے چلنے کی سمت۔ ج
 مَهَابٌ۔
 هَبَّتْ (ن) هَبَّتًا۔ مارنا۔ کسی کا سر
 جھکانا، کسی کا مرتبہ گھمانا
 هَبَّتْ۔ الرجل۔ کسی کا بزدل اور بیوقوف
 ہونا، صفت (هَبِيْبٌ وَ مَهِيْبُوْتٌ)

الْمَهْبَةُ۔ بہت کا اسم مرة، کمزوری۔
 المَهْبَةُ۔ پستہ
 هَبَّجَدُ (ف) هَبَّجًا بِالْعَصَاةِ رَامِعًا
 لگانا مارنا۔
 هَبَّجَ (س) هَبَّجًا۔ وَجْهَ الرَّجُلِ چہرے
 کا چھونا۔ سوجنا۔ صفت (هَبَّجٌ)
 هَبَّجَدُ۔ متروم کرنا۔ هَبَّجٌ: متروم ہونا
 الْمَهْبَجُ: ست۔ کندہن
 هَبَدَ (ن) هَبْدًا وَ تَهَبَدًا وَ اَهْتَبَدَ
 الهَبِيْدُ اندرائن کے بیچ چن کر کھانا
 هَبَدًا فَلَائًا۔ اندرائن کے بیچ کھانا
 الهَبِيْدُ وَ الهَبِيْدُ۔ اندرائن یا اس
 کے بیچ۔ واحد (هَبِيْدَةٌ)
 الْهَوَايِدُ۔ اندرائن کے بیچ چننے والیاں
 هَبَدَ (ن) هَبْدًا وَ هَابَدًا وَ اَهْبَدًا
 وَ اَهْتَبَدَ۔ القَرِيْبُ او الطَّائِرُ
 گھوڑے کا تیز چلنا، یا پرندہ کا تیز پرواز
 کرنا۔
 الهَايِدَةُ۔ تیز رفتار اونٹنی۔ ج
 هَوَايِدٌ۔
 هَبَدَانٌ، هَبْرًا۔ اللَّحْمُ۔ گوشت کے
 بڑے بڑے ٹکڑے کاٹنا۔
 هَبْرَسٌ، هَبْرًا۔ البَعِيْرُ۔ اونٹ کا
 پر گوشت ہونا۔
 اَهْبَرُ۔ الرَّجُلُ۔ خوشنما مٹا ہونا
 اَهْتَبَرُ۔ البَعِيْرُ۔ اونٹ کا دبا پٹلا ہونا
 فَلَائًا بِالسَّيْفِ۔ کسی کو تلوار سے
 کاٹنا۔
 الهَبْرُ۔ بغیر بڑی کے گوشت کا ٹکڑا۔ واحد
 هَبْرَةٌ۔ الهَبْرُ۔ پست ریت یا زمین
 کا قلعہ ج هَبْرٌ وَ هَبْرٌ وَ الهَبْرُ
 فِي الْقَوَاةِ۔ آیت پر وقف کرنا
 الهَبْرُ۔ انگوڑے کا بیج کتان سے جو گرے۔

وہبت۔
 هَيْبَتٌ رَسٍ، هَيْبَلًا - فَلَانًا أَمَةً
 ماں کا اپنے فرزند کو گم کرنا۔ صفت و
 (دھاپیل)
 هَيْبَلٌ - الرَّجُلُ لِعِيَالِهِ، اُدَى كَا اِبْنِهِ
 اہل و عیال کے لئے کانا۔ فَلَانًا،
 کسی سے ہبنت اُمّتک کرنا۔ اَللَّوْمُ فَلَانًا،
 کسی پر گشت تہ تبرچہ دھنا
 اهْبَلٌ - الرَّجُلُ يَبْرُؤُ مِنْ عَرْمٍ كَرَانَا بِي اَوْلَادِهِ
 کرنا۔ عقل و تیز بھونا۔
 تَهْبَلُ لِعِيَالِهِ، اِلْ بَحْرُ لِكُلِّ لِكَانَا -
 اهْتَبَلٌ فَلَانًا، بَسْتُ جَوْرًا بَرُونًا -
 حیل بازی کرنا۔ الصَّبْدُ شَكَرًا كَرُو صَوَا
 دینا۔ لِعِيَالِهِ، اِلْ و عِيَالِ كَلِّ لَعْلِي
 کانا۔ الشَّيْءُ كَسِي جِيرًا كَلْنِيْمَتِ مَجْنَا
 - عَلِي وَكِيهِ بِي اَوْلَادِهِ بَرُونًا -
 اهْتَبَلُ هَيْبَتًا اِنْبِي رَاهِ اِلْ - اَلْعَرَبِيُّ
 کمانے والا۔ حیل گر۔ بَسْتُ مَوْتًا جَلِي وَا
 اَلْعَبَلُ حَالٌ - اَلْعَبَالُ اِهْ كِ وِرْعَتِ
 جس کی گمردی کے تیر بناتے ہیں۔ وَا
 (ہبیا کہ)
 اَلْمَبَالَةُ نَهْدَانُ عَقْلٍ و تَمِيْرٍ - اَلْتَمَاسُ
 و رُوَا سْتِ - طَلَبُ
 اَلْمَبَالَةُ - نَفِيْمَتِ اَلْعَبَالِ - كَمَا اِي
 کرنے والا۔ حیل گر، شکاری
 اَلْهَيْبُ بَحِيْرٌ يَأْتِي بِرَيْبٍ دِيْنِي وَا
 اَلْمَيْبَةُ بَرَسُ اَلْهَيْبِ اِي كَبْتِ كَا نَامِ
 اَلْاَهْبَلُ عَقْلٍ و تَمِيْرٍ مَعْرُومٍ جَرُّ هَيْبَلِ
 اَلْهَيْبِ وَا لْهَيْبِلُ: بَرُوَا يَا لِمَا اُدَى
 حیل ساز
 اَلْهَيْبِيُّ نَاذِكِي اِلْ اِلْ اَلْعَبُولُ يُو كَرْنِي
 والی عورت
 اَلْمَهْبَلُ جِسْمٌ مَعْرُومٌ مَعْرُومٌ كَمَا
 جلتے۔ پُر گشت، سوچے ہوئے
 چہرے والا۔ پاگل۔

الْمُهْتَبِلُ بِكَ اِي كَا - اَلْمُهْتَبِلُ جَوْرًا
 الْمَهْبُولُ - مَرَا بُو اِي كَا
 اَلْهَيْبِيُّ - اِمْتٌ - اِي كَا
 اَلْهَيْبَتُ - بِي و تَوَقُّ اِسْتِ اِي كَا
 هَبُّ هَبًّا - الرَّجُلُ - بَدِي اِي كَا
 بَاغًا - اَلْسَرَابُ سَرَابٌ
 جَمْنَا هَبُّ هَبًّا - وَا نُنَا هَبُّ هَبًّا
 اِنْكِيْتِ مِيْنِ سَاوِيْرٍ كَرَانَا -
 تَهْبَهُبُ الشَّيْءُ حَوَكٌ كَرَانَا - بَلْنَا
 اَلْهَبُّ - اِي كَا بَحِيْرٌ يَأْتِي بِرَيْبٍ
 اَلْمَبَالُ - تِيْرٌ رَقَارٌ، اِي كَا سَرَابٌ
 اَلْهَبُّ اِي كَا اِي كَا اِي كَا اِي كَا
 كَرْنِي وَا لَّا - بَاوِي، اِي كَا اِي كَا
 كَرْنِي وَا لَّا - خَوْبٌ مَعْنَتِ مَوْتِ
 كَرْنِي وَا لَّا، اِي كَا اِي كَا اِي كَا
 هَبًا يَهْبُو هَبًّا - اِي كَا اِي كَا
 اَلْعَبَارُ خَبَارٌ كَا بَلْدِ بَرُونًا - اَلْفَرْسُ
 كُوْرُ كَا اِي كَا جَانَا - فَلَانٌ بَرُونًا
 - اَلرِيْمَادُ رَاكُ كَا مِثْلِي سِي مَنَا
 اَهْبِي اِهْبَاءٌ - اَلْفَرْسُ: كُوْرُ كَا اِي كَا
 وَا بَارِ اِي كَا
 تَهْبِي تَهْبِيًّا - وَا لَّا اِي كَا
 اَلْمَبَالِي - فَا جَرُّ هَبِّي - بَوَا اِي كَا
 وَا لَّا اِي كَا اِي كَا اِي كَا اِي كَا
 وَا لَّا اِي كَا
 اَلْمَبَالِي قَبْرُ كِي مِثْلِي وَا لَّا اِي كَا
 فَنَا اِي كَا اِي كَا اِي كَا
 اَلْمَبَالُ خَبَارٌ - بَارِي كِي كِي ذَرَاتِ جَرُّ
 فَنَا اِي كَا اِي كَا اِي كَا
 لُكُ جَرُّ: اَهْبَاءُ
 اَلْمَبَالَةُ - خَبَارٌ كَا قَطْعٌ
 هَبَا يَهْبِي - اَلشَّيْءُ رَعِيْمَتِ كِي اِي كَا
 اَلْمَبَالَةُ كُوْرُ وَا لَّا - بَرُوَا جَرُّ: هَبُوَا
 اَهْبَاءُ
 اَلْمَبَالُ - اِي كَا اِي كَا اِي كَا

المكتهبي - كرو و نظر والا
 هت رن، هتا - الكلام خوش بياني سے
 گفتگو کرنا۔ الثوب ادا العرق
 کپڑا بھارنا، جبک عزت کرنا الماء
 پانی گرانا۔ فلانا، کسی کا مرتبہ کمانا
 - المرأة غزلها عورت کا مسلسل کانا
 - فلان في كلامه تيزي سے
 برنا۔ ورق النخوردخت کے پتے
 گرانا۔ الشئ چیز کو تر کرنا اور بیزہ
 ریزہ کرنا۔ هتيتا، لبر
 جوان اونٹ کا آواز کرنا
 هتا بتا - بیزہ ریزہ - كروے كروے
 چست گئی۔ بڑا كبر اسی
 هتاة يممتا هتا - بالعصا و
 نحوها لاطى وغيره سے مارنا الطعاف
 - کھانا کھانا۔
 هتِي يَهْتَا هتَا الرَّجُلُ اُدَى
 کا لیر و ما ہونا، كبر و ما ہونا۔
 تَهْتَا - كَهْتُوَا - الثوب، كپڑے کا
 برسیدہ ہونا۔
 اَلْمَهْتُ وَا لْمِهْتُ وَا لْمَهْتِي وَا لْمَهْتَا
 وَا لْمِهْتِي وَا لْمِهْتَا وَا لْمَهْتَا وَا لْمَهْتَا
 اَلْمَهْتَا وَا لْمَهْتَا - شَكَافٌ يَحْمِي
 اَلْاَهْتَا - كَبْرًا، بَرُوَا
 هت ر دن، هتا - عرض فلان، ہتک
 عزت کرنا۔ اَلْبُرُ وَا لْمَهْتَا: بَرُوَا
 کا کسی کی عقل کو خواب کرونا۔
 هَا تَرَّةٌ مَهَاتَرَةٌ: بَرُوَا اِي كَا اِي كَا
 یا ظم کی وجہ سے عقل زائل ہونا۔ صفتہ۔
 مَهْتَرٌ -
 تَهَاتَرٌ - اَلرَجُلَانِ، اِي كَا اِي كَا
 جھوٹا دعویٰ کرنا
 اَسْتَهْتَرُ فَلَانٌ اِنْدَا وَا لْمَهْتَا اِي كَا
 بَرُوَا اِي كَا اِي كَا
 اَسْتَهْتَرُ - اَلرَجُلُ يَكْنَا - فَرِيْفَةٌ بَرُونًا -

— الرَّجُلُ هَتَفَ لِعَمَلِهِ كَامِ كَرَامَاتِ
الِهَاتِزْ - فا - ج: هَاتِرُونَ وَهَاتِفَةٌ
جھوٹ - مصیبت - مجیب بات - ناکار
گفتگورات کا پہلا نصف - ج: ،
آهتار هتد آهتار ہوا چالاک مینار
الِهتد - برو عاپے یا بیماری یا غم کی وجہ سے
مقل کا زوال -
التَهَاتِرُ - ایک دوسرے کے خلاف شہادتیں
الْمُتَهَاتِرَاتُ وَالْمُتَهَاتِرَاتُ وَجَمَلَاتُ
الْمُهْتَرِ - کسی بات کے کہنے پر فریفتہ ،
برو عاپے یا بیماری یا غم کی وجہ سے خواب
مقل والا - گفتگ میں غلطی کرنے والا
السُّتَهَاتِرُ - بالشیء: کسی شے کا بہت ہی
دلدادہ ، فریبنا - بہت باطل و
لغو کاموں کا مرکب
الِهتَرَكَ شِرْبَتِ كَمَنْ زَمَانِهْ
هتَش (من) هتَشَا - الكلب
کتنے کر بھڑکانا -
هتَعَرَفَ هتَعَارِي قَوْمِهْ
جلد متوجہ ہونا
هتَفَت (من) هتَفَا وَهتَفَا
الِهتَامَةُ كِبْرِيَا كَا كَرَامَاتِهْ - هتَفَا
فَلَانٌ بِفَلَانٍ كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا
فَلَانًا وَفَلَانًا - تعریف کرنا -
هتَفَت تَهْتِفًا - کبوتری کا نوحہ کرنا
الِهتَاتِفُ فا - غیب سے آواز دینے والا
قَوْسٌ هتَاتِفَةٌ وَهتَوُفٌ وَهتِفِي
آواز دینے والی کمان سجایا ہوتی
گر جنے والا بادل دیکھتے ہوتے -
سائیں سائیں کرنے والی ہوا اہم: الِهتَفِي
الِهتَفُ وَالِهتَاتُ كَرَفَتُ وَبِنْدِ آوَانِ
هتَك (من) هتَكَا - السَّرُّ وَنَحْوُهُ
پردہ پھاڑنا ، بیچنے کر پھاڑنا ، بے عزتی
کرنا - الثُّوبُ كِبْرِيَا كَمَا كَمَا
میں پھاڑنا - بے عزتی کرنا -

هتَك اللهُ سَتَرَ الْعَاجِزِ
اللہ تعالیٰ بدکار کو رسوا اور ذلیل کرے
هتَك عَرَشَهُ اس کی عزت جاتی رہی -
تَهتَكُ وَانتهتَك - السَّرُّ وَنَحْوُهُ
پردہ پھٹنا تَهتَكُ فَلَانٌ -
ذلیل و رسوا ہونا - فِي الْبَطَالَةِ وَهْ
بے کار رہنا -
الِهتَكُ آدمی رات ثَوْبًا هتَكُ
پھاڑنا کپڑا -
الِهتَكَةُ بے عزتی - رات کی ایک ساعت
الِهتِيكَةُ رسوائی - فضیلت رَجُلٌ
منهتِكُ وَمَهتِكُ وَمُسْتَهتِكُ
بے شرم - بدچلن آدمی -
هتَلَت (من) هتَلًا وَهتُولًا وَ
تَهتَلًا وَهتَلَانًا - السَّمَاءُ
آسمان کا گاتار برسنا
سَحَابٌ هتَلٌ گاتار برسنے والا بادل
الِهتَلَانُ بلی گاتار بارش
هتَلَمَ هتَلَمَةً - الرَّجَالَانِ -
پوشیدہ اور خفیہ بات کرنا
الِهتَلَمَةُ من پوشیدہ اور خفیہ بات
هتَمَ (من) هتَمًا - فا، اگلے دانوں کو
تورنا - الشَّيْبَةُ جڑ سے تورنا
هتَمَ (س) هتَمًا اگلے دانوں کا جڑ
سے تورنا -
هتَمَ (س) هتَمًا اگلے دانوں کا جڑ
سے تورنا - منعت (هتَمًا) مؤنث
هتَمَ ج هتَم - هتَمَةٌ - بِالْقَوِي
مار کر زور کرنا
آهتَمَهْ - دانت تورنا تَهتَمَ الشَّيْءُ
چیز کا تورنا تَهتَمَاتُهَا ایک دوسرے
پر چھوڑنا دعویٰ کرنا -
الِهتَامَةُ رُطْبًا بَرَاكِرًا
هتَمَ الرَّجُلُ بہت برنا - هتَمَلُ
الرجلُ آہستہ برنا -

الِهتَمَلَةُ من پوشیدہ اور خفیہ بات
ج: هتَامِلُ
الِهتَمَلُ - چغندر
هتَمَتُ (من) هتَمْنَا وَهتَمْنَا وَ
هتَمْنَا وَتَهتَمْنَا وَتَهتَمْنَا تَهتَمُ
السماءُ آسمان سے گاتار بارش برنا
الِدَمْعُ آنسو پے رہے پکان
الِهتَمُنُ پے رہے برسنے والی بارش
سَحَابٌ كَاتِنٌ وَهتُونٌ -
گاتار برسنے والا بادل ج: هتُنٌ
وَهتُنٌ
الِهتَمَانُ مسیل برسنے والی بارش -
هتَمَتِ الشَّيْءُ چیز کو تورنا - فِي الْكَلَامِ
جدی جلدی ہونا - البعيرُ پانی پیچے
وقت اونٹ کو بہت بہت کر ڈاٹنا -
الِهتَمَاتُ بکا جکا ، تیز بولنے والا
هتَا كَا يَهتَوُهُ هتَوًا پاؤں سے روند کر
تورنا
هتَاتَا، هتَاتَا دینا - ات یا رمل - اے
آنڈے - ہاتھی یا افراتہ - اے
عورت دے -
هتَدَن (من) هتَا جھوٹ ہونا صفت:
رَهتَاتُ جھوٹا
هتَمَةُ (من) هتَمًا باریک پینا -
الِهتِيمُ گھٹے ڈالنے کا درخت ، شکر گہ
یا نقاب کا بچہ - سرخ ریت کا ٹیلہ
هتَمَتِ هتَمَةً - العنقُ
چیز کا غلط ہونا - اوالی الناس - والی
کارگوں پر ظلم کرنا -
بادل کا موسلا دھار بارش برسانا -
الشَّيْءُ: سخت روندنا
الِهتَمَاتُ: جلدی کرنے والا - شئی
هتَمَاتُ گڑ بڑ بے ترتیب شے -
رَجُلٌ هتَمَاتُ جھوٹا آدمی
الِهتَمَةُ - مع - مخلوط آوازیں -

هَيَّ يَحْيَى هَيَّيْنَا - التراب: مٹی ڈال
 هَاتَاهُ مَمَاتَاهُ - کسی کا مذاق اڑانا
 هَجَّ (ن) هَجًا وَهَجِيحًا -
 البَيْتُ: گھر گرانار - هَجِيحًا
 النَّارُ: آگ کا دھنا - النَّارُ
 آگ کا زور سے بھڑکانا -
 هَجَّجَهُ النَّارُ - آگ کا زور سے بھڑکانا
 يَابِرُ كَانَا - هَجَّتْ عَيْنُكَ آفَكَ
 کا گھر طے میں دھنا
 اهْتَجَّ فِي الْأَمْرِ - کسی امر میں دیر لگانا
 اور کسی کے مشورہ پر کان نہ دھرنا -
 اسْتَهَجَّ - فلان کسی کا اپنی رائے پر
 چنا - السَّيَّارَةُ أَوِ الْقَافِلَةُ
 جلدی چلانا -
 الهَجَّاجُ تِيرِحَالٌ - رُكِبَ هَجَّاجٌ اس
 نے خود رائے سے کام لیا -
 هَجَّاجِيكٌ مَزْرُوبٌ بَازَا -
 الهَجَّاجَةُ - ہر جگہ پھیلنے والا غبار - اِهْتَمَقَ
 الهَجَّاجُ بِلِ كِ كِدُونِ كَا جَوَا -
 الهَجَّاجِيحُ مَمٌ - گری وادی - لیس زمین
 جو چلنے والوں کو جلدی لاتے زمین پر
 کھینچی ہوئی کمانت کی لکیریں - جہ
 هَجَّاجَاتٌ
 الْأَهْبِيحِيَّةُ كَرِيَّةٌ وَوَادِي عَيْنٌ مَهَجَّجَةٌ
 گروہ میں بیٹھی ہوئی آگ
 الْمَسْتَهَجَّةُ حَقٌّ وَبِاطِلٌ بَرِيكٌ فِي بَرِيكِهِ وَاللَّ
 هَجَّاجُ يَهْجَأُ هَجَّاجًا وَهَجَّاجًا وَهَجَّاجًا
 صُوكٌ كَابِدٌ هَجَّاجًا - زَالٌ هَجَّاجًا - هَجَّاجًا
 الطَّعَامُ: کھانا کھانا - كَبَلَةٌ: پریٹ ہونا
 الطَّعَامُ: کھانے کا کسی کو آسودہ کرنا
 هَجَّاجِيحًا هَجَّاجًا هَجَّاجًا صُوكٌ هَجَّاجًا
 أَهْجَاءٌ هَجَّاجًا جَوْعًا هَجَّاجًا وَوَرَكًا
 - فَلَانًا حَقًّا: حق ادا کرنا
 - فَلَانًا الشَّيْءُ: کسی کو کچھ کھلانا -
 تَهَجَّجَاءُ - الحَرْفُ: سبجے کرنا -

الْهَجَّاجَاتُ بِي وَتَوْنُ مَرْوِي عَوْرَتِ
 هَجَّجَد (ن) هَجَّجُوا اِرَاتُ كُرْسُونَا يَابَاغَا
 (رضد) بعض کے نزدیک الهجودون
 کی نیند اور الهجوع رات کی نیند ہے
 هَجَّجَدٌ تَهَجَّجِيحًا الرَّجُلُ يَنْدُرُ سَاكَا
 رات کو سونا، رات کو جاگ کر نماز پڑھنا
 - فَلَانًا - جگانا - سَلَانًا (رضد) -
 أَهْجِدٌ - الرَّجُلُ سَوْنًا - فَلَانًا: سَلَانًا
 سوتا ہوا پانا
 تَهَجَّجَدُ الرَّجُلُ رَاتٍ فِي سَوْنًا - بیدار رہنا
 الهَجَّاجِدُ سَوْنًا وَاللَّ - رَاتٍ كُرْمَا زُطْرُ مَعْنَى
 وَاللَّاجُ هَجَّجُو وَهَجَّجُو
 التَّهَجَّجِدُ مَسٌ - رَاتٍ كُرْمَا - الْمَتَهَجَّجِدُ
 رَاتٍ كُرْمَا زُطْرُ مَعْنَى كَلَّ لَيْلِيَّةً
 جَاغَنِي وَاللَّ
 هَجَّجَا (ن) هَجَّجُوا أَوْ هَجَّجُوا أَنَا: قَطْعُ تَعْلُقٍ
 کرنا هَجَّجَدُ الشَّيْءُ - چیر کر چھوڑنا
 - زَوْجٌ - بِيوِي سَا لَكُ هَجَّجَا
 اِدِّ طَلَاقٌ وَتِيَارٌ - هَجَّجَا وَهَجَّجِي سِي وَ
 اِهْجِي سِي) فِي مَرْضِيهِ، اِدِّ لَوْمِيهِ، يَمَارِي
 يَابِنِيذِي مَبُو اس کرنا - بَرَانَا -
 (هَجَّجَا) يَمَارِي فِي النُّوْمِ خَوَابٌ
 وَكَيْفَا) - هَجَّجَا أَوْ هَجَّجُوا، اِبْيَرُ
 اِدِّ كُرْمَا وَبَانِيذِي كُرْمَا سَا بَانِيذِي
 هَجَّجِي - الْقَوْمُ: قوم کا دوپہر کو سفر کرنا
 - النَّارُ: دن کی گرمی کا تیز ہونا
 - اِلَى الشَّيْءِ: سویرے جانا، سبقت
 کرنا -
 هَجَّجَا - هَجَّجَا حَقًّا مِّنَ الْبَلَدِ وَعَنْهُ
 ترک وطن کرنا
 أَهْجَاءُ أَهْجَاءُ أَهْجَاءُ
 الْقَوْمُ: قوم کا دوپہر میں سفر کرنا -
 فِي مَنَاطِقٍ - بُو اس کرنا - بِلَانٍ:
 ٹھٹھا کرنا یا نامناسب گفتگو کرنا -
 تَهَجَّجَدُ - الْقَوْمُ: قوم کا دوپہر میں چلنا -

مہاجرین کے مشابہ ہونا -
 تَهَجَّجُوا وَأَهْجَاءُ وَأَبٌ كَا تَعْلُقُ تَرْوَانَا -
 تَهَجَّجُوا الْمَارُ: لینا
 الهَجَّجَا فَا - سَنَائِي عَمْرُه
 الهَجَّجَا مَوْنُ الْعَجَّجَا مَرْوَمَا مِي
 دوپہر کا وقت یا سورج دھنسنے سے
 عصر تک کا وقت - تیز گرمی - ج
 هَجَّجَاتٌ وَهَجَّجَاتٌ مَسَا
 بِالْقَاجَاتِ وَبِالْمَهْجَاتِ اِتْ كَسِي كُرْمَا
 شَرْمَا كَا اِفْعَالُ سَا مَعْنَى كُرْمَا -
 الهَجَّجَاتِي سَنَائِي فَا تَقٌ - سَبْتٌ عَمْرُه مَعْمَارُ
 تَهْرِي
 الهَجَّجُدُ مَمٌ - قَابِلٌ - تَابَلَتْ حَيْرِي كُرْمَا
 سَبْتٌ عَمْرُه مَعْمَارُ - دوپہر تیز گرمی -
 لَيْتِي سَا عَن كَهْجِي مِي اس سَا اِيكٌ
 سَالٌ يَابِجُونٌ يَابِ اس سَا زَا مَرِيَابَا
 رَسْمٌ كَا بَعْدُ مَلَا سَا هَبْتِ الشَّجَرَةَ
 هَجَّجَا وَرَحْمَتُ لِي شَاخِي نَكَالِي
 اور پھیلا -
 الهَجَّجِي - عَمْرُه اِدِّ اِدِّ اِدِّ
 الهَجَّجُو - نَامَسَابٌ كَلَامٌ - بَدَلِي
 الهَجَّجِي - سَنَائِي عَمْرُه - تَهْجَا هُوَا
 الْأَهْجَاءُ - اِسْمٌ تَفْضِيلٌ زَبَادُهُ لِبَا مَوْبَا بَرَا
 الهَجَّجَاءُ تَبِيحٌ كَفْتَا كَفَاتِ -
 الهَجَّجَاتِي سَبْتٌ مَوْنِي عَوْرَتِ
 الهَجَّجَاتِي حِدَائِي - فَا نَا بَدَوْتِي سَا
 تَهْرِي اِخْتِيَارُ كُرْمَا -
 الهَجَّجَاتِي وَالْقَوْمُ تَكْرُوطِي -
 الهَجَّجَاتِي وَدَوْبَرٌ - سَخْتٌ كُرْمَا لِبَا چُوْرَا
 حَوْضٌ - بَرَا اِبْيَالٌ - جَمَاهُو اِدِّ
 مَوْبَا كُرْمَا - هَجَّجَا رِي سَا بَدَا
 هُوَا اِدِّ جَا، هَجَّجُو - كُرْمَا اِدِّ
 كَا مَدْيَانُ كَا عِلَاقَةُ
 الهَجَّجَاتِي دَوْبَرٌ - تيز گرمی -
 الهَجَّجَاتِي سَانَتٌ - طَوْقٌ - تَاچ - اِدِّ كَا

پاؤں باندھنے کی سی

الهِجِيرُ وَالهِجِيرِيُّ وَالهِجِيرَةُ وَ
الهِجِيرَتَا - مادات -

الهِجِيرِيُّ دودھ پر کا کانا

الْأَهْجُورَةُ وَالْأَهْجِيرِيُّ وَالْأَهْجِيرَاءُ

مادات

المُهَيَّرُ - شریف - خوبصورت - ہر لمحہ چیز
دوسری چیز سے فائق و برتر -

سَدَّ دُ مَهْجِرٌ - بہت مدد

المُهَاجِرُ - ہجرت کی جگہیں - تَكَلَّمَ

بِالْمُهَاجِرِ - ناشائستہ گفتگو کرنا

الْمُهَاجِرِيُّ - مفع - بکواس - بیمار یا سونے

والے کی بڑ - متروک الاستعمال لفظ

الهِجْرَسُ - بندر - لومڑی یا اس کا بچہ

رِجْمٌ - کینہ - جہ - هَجَارِسُ -

الهِجَارِسُ زمانہ کی سختیاں -

الهِجْرَاعُ وَالهِجْرَاءُ - امتق - مجنون

در از قامت - سنگڑا - ایک شکاری

کتا -

هَاجِرَةٌ مُهَاجِرَةٌ - کانا چھوٹی کرنا

هَجَسَ (ن من) هَجَسًا - التَّكْوُنُ

فِي صَدْرِهِ - دل میں اچانک خیال

کا آنا - فَلَانًا - کسی کو کسی کام سے

بٹانا -

هَاجَسَهُ حَكِي حَكِي بَاتِ كَرْنَا

الْمُهَجَسُ - عَنِ الْأَمْرِ - کسی امر سے

باز رہنا -

الْهَاجِسُ - اندیشہ - وسوسہ جہ

هُوَ أَحْسَنُ

الْمَجَاسُ آواز کو سننے والا شیر -

الهِجْسُ مَم - وہ بگلی آواز جو سنائی دے

مگر سمجھی نہ جائے - اندیشہ - وسوسہ

الهِجْسِيُّ سَبِيحٌ - وہیں بگڑا ہوا دودھ

الْمُهَجَسُ بے غیرتی روئے المَجْبُوسُ

مفع - دقعواری مَجْبُوسٌ مَسِينٌ

الْأَمْرُ وَهُوَ مُشْكَلٌ فِي بَدَنِ كُنْ

هَجَسَ (ن) هَجَسًا - اکسانا -

الدَّابَّةُ بِالرُّرِّ كُزْمِيٌّ سَ لَأَمْنًا -

— بَيْنَ الْقَوْمِ فَادْرَأَاتَا -

الْهَاجِسَةُ لُكُوكِي جَمَاتِ جِهْ هَوَاجِسُ

الْعَجَسَةُ - ائْمَنًا

هَجَعَهُ (ن) هَجُوعًا وَ تَهَجَّجًا -

رَاتِ كُ سَوْنًا - سَوْنًا

هَجَعَهُ جُوعًا هَجُوعًا - فَهَجَعَهُ جُوعًا

هَجُوعًا اس نے اس کی بھوک کو تسلی

دی تو اس کی بھوک تسلی پا گئی -

(لازم و مستعدی)

هَجَعَهُ - تَهَجَّجًا - الْقَوْمُ قَوْمٌ كَسَوْنًا

أَهْجَعَهُ بِجُوعِهِ بَهْوكُ كُ فَرُو كَرْنَا -

تَسْكِينٌ وَ بِنَا -

الْهَاجِعَاتُ - جِهْ هَجُوعٌ وَ هَجَعَةٌ

سُونَةٌ وَاللَّهَاجِعَةُ سُونَةٌ وَاللَّ

جِهْ هَجَعَةٌ وَ هَجُوعٌ وَ هَوَاجِعَةٌ

جِهْ : هَوَاجِعَاتُ -

الهِجْعَةُ وَالهِجْعَةُ وَالهِجْعَةُ وَالهِجْعَةُ

فَاعْلُ بِي وَقَوْتُ - الْهَجْعَةُ بِي

سُونَةٌ وَاللَّ

الْمُهَجَعَةُ نِيْنِدُ - رَاتِ كُ سَبِيحُ صَبْرُ كِي بَكِي

نِيْنِدُ -

الْمُهَجَعَةُ سُونَةٌ كَ طَرِيقَةٍ

الْمُهَجِيْعُ - مِنَ اللَّيْلِ رَاتِ كَ اِيَكُ صَبْرُ

الْمُهَجَجَاعُ - بَكِي نِيْنِدُ -

الْمُهَجَعَةُ - نَاعِلٌ - اَمْتَقٌ - بِرَأِي كَ اِيَكُ صَبْرُ

هَجَفَ (س) هَجَفًا - بَهْوكُ اَوْرُ

وُ صِيْبِي بِي وَ اَلَا هَوْنَا - كُ كُهْمُ كَ اِيَكُ

بِلُوؤُلُ سَ لَكَا هُو اَبُوْنَا -

الْمُهَجَمَتُ - لَأَغْرِي سَ بَدْرِيُو كَ اِيَكُ كَ اِيَكُ

وِنَا

الْمُهَجَمَانُ بِرَأِيَا -

الْمُهَجَفُ - مَسْمُوتٌ جِهْمٌ سَبْتٌ شَرْمُورٌ يَ اِيَكُ

أَوِي يُوْنَا - وِرَازِقُ أَوِي - بَرْمُورُ

بِيْبُ وَ اَلَا -

الْأَهْجَفُ - لَأَغْرِي - وُ بِلَا يُوْنُ هَجَفًا

هَجَلٌ (ن) هَجَلًا - بِالْقَسَةِ وَ فِرَا

بِيْبِكَا -

عَجَبَتِ الْمِرَاةُ - بَعِيْنَهَا أَعْمُ سَ

اَشَارَهُ كَرْنَا - أَعْمُ كَا مَارْنَا -

هَجَلٌ - عِزْضَةٌ - كِي كِي بِي عِزْتِي كَرْنَا

— بِنَانٌ - تَسْبِيْحُ بَاتِ سَنَا -

كَالِي وَ بِنَا -

هَاجِلٌ مُهَاجِلَةٌ - بِيْتٌ وَ بِيْرَارُ

زَمِيْنٌ فِي بِنَا - فَلَانًا: مُقَابَلُ كَرْنَا

أَهْجَلٌ - الْإِيْبَلُ اَوْرُو كُ

أَزَادُ هَجُوْرُنَا - الشَّيْءُ - جِيْرُ كُ

وَسِيْعٌ كَرْنَا - الْمَالُ - مَالُ ضَائِعٌ

كَرْنَا - الْقَوْمُ - قَوْمٌ كَا بَرَاوَزِيْنُ

يُنَا اِنَا اِهْتَجَلٌ - اِيَاوُرُ كَرْنَا -

الْهَاجِلُ - فَا - سُونَةٌ وَاللَّ - بِيْتٌ

سَفَرُ كَرْنَا وَاللَّ -

الْمُهَجِلُ مَم - بِيْتٌ وَ بَرَاوَزِيْنُ - جِهْ

هَجَلَاتُ

الْمُهَجُولُ فَاحْشَرُ مَوْرَتُ - الْمُهَجِيلُ

بِيْتٌ وَ بَرَاوَزِيْنُ اِيَكُ طَرِيقُ نِيْنِدُ

بِنَا بَرَاوَزِيْنُ وَ مَوْجُ هَجُولِي

بِيْنَةُ وَ اَلَا اَسْمُوْمُو وَ هَاجِلُ

هَجَمَ (ن) هَجُومًا - عَمَلِيْكُ اِيَكُ

وَ جَانَا - بِيْرَارُ اِيَاوُرُ كُ اِنَا -

الْبِيْتُ كَرْنَا - الْبُرْدُ

اَو الشَّيْءُ سُرُو كَ اِيَكُ شَرْمُورُ

بَرْنَا - هَجَسًا ، فَلَانًا -

وَصَنَكَا رْنَا - فَلَانًا عَلِي الْقَوْمِ -

اِيَكُ لَانَا - السَّابِيَةُ جَاوُرُ

كَوْرُو سَ لَأَمْنًا - الْبِيْتُ

كُرُوْ حَانَا - الْهَوَاجِرُ قُلَانًا

كُرْمُ اِيَاوُرُ نِيْنِدُ فَلَانُ كَا سَبِيْحَةُ بِيَاوُرُ

مَا فِي الصَّرْعِ تَحْنُ كَأَسَارِ دَوْدَهِ
 دودہ لینا۔ (رَهْمًا وَهَجُومًا)
 - الشئُ سكون پانا۔ الرمن
 بیماری کا ہلکا ہونا۔ فُلَانٌ خَامُوشٌ
 ہونا۔ سرھٹکانا۔ العَجْمَةُ اچانک لانا
 هَجْمَةٌ مُخَابَعَةٌ نَاكِمًا اِيكٍ دوسرے پر آ
 پر دنا۔ اچانک حمل کرنا۔
 اَهْجَمَهُ عَلَيْهِمْ اچانک لانا۔
 اَهْجَمَ مَا فِي الصَّرْعِ تَحْنُ كَأَسَابِ
 دودھ نکال لینا۔ اَلَايِلُ اُونٹ
 کو آرام دینا۔ اَللَّهُ الْمَرَضُ عَنْهُ
 اللہ تعالیٰ کا کسی کی بیماری کو دور کرنا
 تَهَا جَمًا اِيكٍ دوسرے پر اچانک آپرنا۔
 هَجَبْتُمْ عَلَى الشئِ جرات سے جا پڑنا
 الِهَجَبْتُمُ البیت: گھر کا ڈھننا۔
 گزنا۔ الدَّامِعُ اوالعوق اَنسو
 یا پسینہ کا بہنا۔ اَهْجَمَتِ الْعَيْنُ
 آنکھ کا آنسو بہانا۔
 اِهْتَجَمَ مَا فِي الصَّرْعِ تَحْنُ كَأَسَابِ
 سارا دودھ دودھ لینا
 اَهْتَجَمَ الرَّجُلُ اَدْمًا كَأَسَابِ
 اِهْتَجَمَ مَصْرًا بَرًا اِيكٍ اَسَابِ
 اَهْتَجَمَ اچانک حمل۔ مِثْلُ
 الشَّتَاءِ سَمْتِ مَرُومِي - مِثْلُ
 الصَّيْفِ سَمْتِ مَرُومِي - مِثْلُ
 اِيكٍ اَسَابِ
 چالیس یا ستر سے لے کر سو تک اونٹوں
 کا گھ۔ بَرُومِي مَبْرُومِي رات کی ابتدائی
 تاریکی۔
 اَهْتَجَمَ قوم پر بہت هجوم کرنے والا۔
 بہادر، شیر۔ اَلْهَجُومُ تیز کرنے
 والا۔ مِثْلُ اَلْيَبَاحِ تيز ہوا پسینہ آور
 الِهَجِيمَةُ گارھا دودھ الِاهْتِجَامُ
 المَهْجُومُ مَعْرٌ گرا ہوا گھر۔ مِثْلُ
 کول دی جائیں۔

الِهَيْجَمَانَةُ - مَوْتِي - نَزْمِي
 هَجِينٌ (رَن . مَن) هَجِينًا - اَبْنُ مَوْتَا
 هَجِينٌ رَدَمٌ هَجِينَةٌ وَهَجَانَةٌ وَهَجُونَةٌ
 - کینہ ہونا۔ دودھ لانا ہونا ہونڈی
 زادہ ہونا۔ اَلْکَلَامُ کَلَامٌ كَالْمَلِكِ
 هَجِينَةٌ تَهْجِينًا - عِيبٌ دَارِبَانَا - حَقَارَتٌ
 کرنا۔ هَجِينٌ اَلْمَرْكُوسِي اَلْمَرْكُوسِي تَبَانَا
 عیب دار بنانا۔
 اَهْجِنَ الرَّجُلُ اِجْمًا نَسْلُ كِ اَدْمُوں والا
 ہونا۔ اَلجَارِيَةُ بِلُومَتِ سے
 پے لڑکی کی شادی کرنا۔
 اَهْتَجَنَتِ - الشَّاةُ - بَكْرِي كَالْمَلِكِ ظَاهِر
 ہونا
 اِسْتَهْجَنَ - فِعْلُهُ - كِ كِ قَعْلُ كَوَالِ
 نفرت جاننا۔ بَرًا اَبَانَا
 الِهَاجِنُ - فَا - پھل ضرب پر آگ نہ دینے
 والی حتماً۔ وہ کچی جس کی شادی
 بومرغ سے پے ہونے۔ وہ کھجور
 کا درخت جو چھوٹا ہونے پر بھی پھل
 دے۔ جہ ہوا اِجِنُ۔
 الِهَاجِنَةُ مَوْتِ الِهَاجِنُ پھل مینے
 والا۔ کھجور کا چھوٹا درخت
 الِهِيَجَانُ - مَن كِ شَيْءٍ مَرْمَرُهُ وَخَالِصٌ
 شے۔ مِثْلُ اَلْاِيَلِ سَفِيدِ
 نسل کا اچھا اونٹ (مذکر مَوْتِ اِجِمِ
 سب کیساں ہیں)۔
 الِهَجَانَةُ حَسْبُ - شَرَاةٌ سَفِيدِي -
 الِهَجِينَةُ مَمٌ - مِثْلُ اَلْکَلَامِ - نَقْصٌ بَرَاةٌ
 نفاذ کلام۔ تَضْيِيعٌ عِلْمٌ جِهْ هَجِينُ
 الِهَجِينُ کينہ - لَيْتَمُ - دودھ لانا۔ جس
 کی ماں باندی ہو اور باپ عرب۔ جہ
 هَجُونٌ وَهَجَانَةٌ وَهَجَانٌ وَهَجَانِي
 وَمَهَاجِنَةٌ مَوْتِ هَجِينَةٌ جِهْ
 هَجُونٌ وَهَجَانٌ وَهَجَانِي - قَدْسٌ
 هَجِينٌ - خَرَابٌ نَسْلُ كَالْمَلِكِ اَبَانَا

والهجين من الضل. وہ گھوڑا
 جو ترکی گھوڑی اور عربی گھوڑے سے
 پیدا ہو۔ جہ ہجین و ہجین و ہجین
 فِلْمَةٌ اِهْجِينَةٌ بَرُومِ سے پہلے
 شادی شدہ لڑکے۔
 الِهَجِينَةُ وَالمَهْجِنِي وَالمَهْجِنِي
 وَالمَهْجِنِي وَنَاكَرُهُ لَرُكٌ۔
 الِهَجِينَةُ مِثْلُ السُّوْقِ اِجْمًا
 نسل کے ساندے سے گاجین اونٹنی پہلی بار
 کی حاملہ اونٹنی کھجور جس پر پہلی دفعہ
 لڑکا پھول ڈالا جائے۔
 الِهَجِينَةُ پہلی بار لڑکے پھول والی
 ہونے کھجور۔ لڑکی۔ الِهَجِنَتِ
 لبا چڑا۔ جہ ہجین
 هَجِهَجٌ - الفحل في هَرِيوَةٍ
 اونٹ کا سخت آواز نکالنا۔ الرُّجُلُ
 کسی کو کسی چیز سے ہٹانا۔ باز رکھنا۔
 الجَمَلُ اَوِ بِالْجَمَلِ يَسْجُ يَسْجُ
 کراونٹ کر ڈالنا اور روکنا۔
 الِهَجْمَا جِهْ - اِحْتِمْ - بہت شریک عقل،
 بہت بلبلانے والا اونٹ۔ لبا اَدْمًا
 اونٹ مصیبت ہو رہا۔ يَوْمٌ
 هَجْمَا جِهْ سَخْتِ اَنْدَمِي وَالادَن
 الِهَجْمَا جِهْ بَنَجْرَمِي - جہ
 هَجْمَا جِهْ - مَاءٌ هَجْمَا جِهْ
 نہ میٹھا اور نہ کھاری پانی۔
 هَجْمَا جِهْ يَهْجُوُكَ هَجُومًا وَهَجَاؤٌ وَ
 تَهْجَاؤٌ کسی کے عیب گننا، برائی بیان
 کرنا۔ گالی دینا۔ ہجور کرنا صفت فاعل
 (ہا جہ) صفت مفعول (مَهْجُوٌّ)
 (ہجوا و ہجاء) الحروف حروف
 کی جہ کرنا۔
 هَجْمَا جِهْ هَجْمَا جِهْ - پرمنا
 هَجُومًا يَهْجُوُكَ هَجَاؤًا - اَلْيَوْمُ
 دن کا سخت گرم ہونا۔

هَجِي تَهْجِيَّة - الحروف حروف
 کی بچے کرنا - اللفظة لفظ
 کے حروف کا جوڑ کرنا - الصبي
 الكتاب بچہ کرنا پڑھانا
 حاجته معها - ایک دوسرے
 کی بچ کرنا
 ابي اهباء - القول قول کو بچ
 آمیز پانا
 تهي تهجيا - الحروف حروف کی
 بچے کرنا
 تهاجيا تهاجيا واهتجيا رتهاء
 ایک دوسرے کی بچ کرنا
 الهجاء حروف کا جوڑ حروف
 الهجاء الف سے لے کر یا تک کے
 حروف ان کو حروف التهي والتجيه
 بھی کہتے ہیں - هذا اصل هجاء
 هذا - یہ اس کی شکل پر ہے
 الهجاء يترك الهجاء وبت
 بچ کرنا والا
 الالهجة والاهجية بوجز قطع يا
 قصيدہ سے کی جائے جو اھاجی
 هذان هذا وهدوا - ابتاء
 عمارت کو دھرا م سے گرا دینا
 هذات المصيبة مصیبت نے اس
 کے اعصار کو زور کر دیا
 هذرس من هذا - الرجل
 آدمی کا بڑھا ہونا
 هذامن هذا - البعير اونٹ
 کا بلانا مار - هذيدا الحائظ
 وحقوه ويار وغيره کا دھما کے سے
 گنا هذا رجل هذك من
 رجل یہ آدمی تھارے لئے فلان
 آدمی سے کافی ہے بعض اس کو مصدر
 مان کر اس کا تشبیہ مع یا اس کو مؤنث
 وغیرہ کی شکل میں نہیں لاتے اور بعض

اس کو فعل جان کر یہ سب صورتیں اس
 میں جائز رکھتے ہیں - فلان يهد
 وہ بچے خوف آدمی ہے
 هذ ذه و تهذ ذه - کسی کو گرانہ
 دھکانا
 بهاد واهاد - ایک دوسرے کی پیریا
 کرنا اهد - ٹوٹ پڑنا، گرتا
 اشتهدہ کر دیکھنا الهاد فاء
 سندر کا شور
 الهاد كرج - الهدم - نيام
 آدمی سخت آواز - (والهد)
 کرور آدمی - جره هذون وهدون
 الهدد - سخت آواز
 الهداة - گرنے والی عمارت کا دھماکا
 الهدا ذنمى - مرطی - مہلت
 قوم هداد بزدل لوگ
 الهداة بزدل الهدود
 میدانی زمین مشکل گمانی
 الهديد مہم، لمبا آدمی - دھماکا آواز کی
 گنگناہٹ
 الهدان بے وقوف - اكره - الاهداء
 بزدل
 التهداد - ڈرانا - دھکانا
 هذ آهد آهدا وهدوا -
 ساکن ہونا - آرام کرنا - ٹھہرنا
 هذ آ یا تمگان کسی جگہ اقامت کرنا
 فلان - مرنا
 هذات الرجل والعين
 یعنی لوگ سو گئے
 هدى يهد آهدا - کبر ہونا
 - البير - کثرت پرچہ کی وجہ سے
 اونٹ کے کوٹان کا دبا ہوا ہونا
 هذاه تهديت چپ کرانا - تسكين
 دینا
 اهداه - اهداء بچہ کرنا بڑھا پے

کا کسی کو کبر کر دینا - کپڑے کو بوسیدہ کرنا
 لا اهداه الله خداس کو اس
 مصیبت میں چھوڑ دے -
 الهداء والهداء رات کا ابتدائی
 حصہ - سیرت - عطفت
 الهداة - هدأ کا اسم نزع صالح
 هدأة لیلۃ اس کے پاس ایک
 رات کا گزارہ نہیں -
 الهداة ایک قسم کی دور الهداة
 دبا گھوڑا
 الهدوء مہم - من الليل رات کا ابتدائی
 حصہ - انا هدوء وادھتوری
 نیند کے بعد ہمارے پاس آیا -
 الاهداء - کبروا (مذکر و مؤنث)
 المهداء رات کا ایک حصہ المهداة
 حالت
 هدب - دھن اهدبا - الشی
 چیز کو کاٹنا - الناقه اونٹنی
 کر دھنا - الثود
 پھل چھننا
 هدبت (س) هدبا - العين، اکو کا
 لمبی پلوں والا ہونا - الشجرة
 درخت کا لمبی لمبی شاخوں والا ہونا
 هدب - الثوب کپڑے کا چھننا
 بنانا - هدب واهدب -
 الثمارة - پھل توڑنا
 تهدبت الاعصاب - ٹھنیوں کا
 لٹکا ہوا ہونا
 الهدب والهدب - پک - واحد
 هدبة وهدبة - کپڑے کا
 چھننا - مجالر جہا اهداب
 واحد - هدبة
 الهدب - ارطی یا اس جیسے درختوں کی
 ٹھنیاں - ورف کے ہمیشہ رہنے والے
 پتے جیسے سرو کے پتے - من النبات

وہ گھاس جس کے پتے نہ ہوں - ج: اھدَاب۔
 الھَدَابُ - شیر۔ مِنَ الْعِيُونِ وَالْأَشْجَارِ
 لمی پکوں والی آنکھ لمی شاخوں والا
 درخت۔
 الھَدْبُ الھَدَابُ - کندھن۔ عاجز۔
 بے وقوف۔
 الھَدَابُ سِرْوِکے پتے۔ سدا بہار پتے
 کپڑے کا پھندا۔ جھار۔ کندھن۔
 الھَدَابُ - زمین کے قریب لٹکا ہوا بادل
 الھَدَابُ - مِنَ الرِّجَالِ
 کندھن۔ عاجز۔ بہت بالوں والا۔
 الھَدَابُ - پستان
 الھَدَابُ - لمی اور گھنی پکوں والا۔
 مَوْثُ هَدْبَاءَ ج: ھَدْبُ
 شجر اھدَاب۔ لمی شاخوں والا
 نَسْرُ اھدَابِ لمی پروں والا گدے۔
 اُذُنُ هَدْبَاءَ فکے ہونے والے کان۔
 بِنِيَّةٍ هَدْبَاءٍ - فکلی ہوئی دائرہ۔
 ھَدْبُ ج: رَمْنُ (ھَدْبُ جَا وَهَدْبُ جَا
 وَهَدْبُ جَا بُوْرُ ھے کی چال چلنا۔ اظہیر
 شرمخ کا کانتے ہونے چلنا۔
 ھَدْبَتْ - ھَدْبُ جَا وَهَدْبَتْ
 النَّاقَةُ - اُوْمْنِ کا اپنے بچے سے پیار کرنا
 - القَدْرُ: ہانڈی کا اٹھنا۔ المریخ
 ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔
 ھَدْبَتْ - النَّاقَةُ: اُوْمْنِ کا بلند
 کران والی ہونا۔
 تھَدْبُ ج: الصوف - اواز لرزنا۔
 تھَدْبَتْ النَّاقَةُ: اُوْمْنِ کا
 اپنے بچے پر شفقت کرنا۔
 تھَدْبُ ج: القوم علی فُلَانٍ، مہربانیاں
 ظاہر کرنا۔
 اِسْتَهَدْبُ ج: کانتے ہونے چلنا۔ الھَدْبُ ج:
 کانتے ہونے چلنے والا۔

الھَدْوَجُ - کجاوہ۔ ہودہ ج: ھَوَادِجُ
 الھَدَا ج: بچے سے پیار کرنے والی
 اُوْمْنِ - سائیں سائیں کرنے والی ہوا۔
 المَسْکَدُ ج: جلد باز۔ المَسْکَدُ ج:
 مقع۔ جلد بازی
 الھَدْوَجُ ج: بوڑھے کی چال چلنے والا۔
 شرمخ۔
 ھَدْرَانُ (من) ھَدْرًا وَهَدْرًا - الدَّمُ
 وغیرہ خون وغیرہ کا رائیگاں جانا۔
 قَلَانُ الدَّمِ وغیرہ باطل کرنا۔
 الممام: کبوتر کا کوکر کرنا۔ الشراب:
 شراب کا جوش میں آنا ھَدْرَاتُ جَبْرَةُ
 النبیدُ نمیز کے ٹکے میں جوش آنا۔
 الھَدُ: بادل گرنا۔ النخل: کھجور
 کا شکوہ نکالنا۔ ھَدْرًا وَهَدْرًا
 البعیر اُوْمْنِ کا بلیانا۔ ھَدْوْرًا
 وَهَدْيَرًا) العشب: گھاس کا بہت
 لمیا ہونا۔
 ھَدْرَ - البعیر - اُوْمْنِ کا بڑبڑانا۔
 اھدَارَ - دَمْفَلَانِ لمی کے خون کو مباح کرنا
 تھَا دَر - القوم ایک دوسرے کے خون کو مباح
 کرنا۔
 اھدُوْدَ - المَطْرُ - زور سے بارش برسنا
 الھَادِرُ - فَا - بکما - کینہ - ناکارہ - ج:
 ھَدْرَةً - وہ دو دھڑوں کا ادھر کا حصہ
 گاڑھا ہوا اور نیچے کا حصہ پتلا
 الھَادِرَةُ مَوْثُ الھَادِرُ بہت گھاس
 والی زمین الھَدَّ اَر مہبت کر جسے والا
 بادل۔
 الھَدْرُ وَالھَدْرُ - ناکارہ۔ رائگاں کتنے
 میں ذھب دَمَه ھَدْرًا اَوْ ھَدْرًا
 اس کا خون رائیگاں گیا ذھب سَعِيْه
 ھَدْرًا اَوْ ھَدْرًا اس کی کوشش بکا
 گئی الھَدْرُ بے خبر ناکارہ لوگ۔
 الھَدْرُ سُسْت - بکما - ج: ھَدْرَةً۔

الْاھْدَادُ - ھد لا ہوا مَوْثُ ھَدْرًا وَج: ھَدْرُ
 المھَدْرَةُ - آگے کے چھوٹے وانت۔
 الھَدَارِ لمی - مصیبتیں۔
 ھُدُش - ھَدُّشًا اَلکَلْبِ: کتے کا بھڑکایا جانا
 اَنھَدَش - اَنھَدَاشًا - کتے کا بھڑکانا
 ھَدَّعَهُ رَفً، ھَدَّعًا تَوْرَانًا۔
 اَنھَدَّعَ - تَوْرَانًا - الشی: خشک ہونے
 کے بعد نرم ہونا۔ الرطبة: گرگھٹنا
 ھَدَفَ رَن، ھَدَقًا - الیہ: داخل ہونا۔
 لِلْخَمْسِيْنَ بچاس کے قریب پہنچنا
 - عَلَي السِّل: ٹیلہ پر سے جھانکنا۔
 الیہ: پناہ لینا۔ مَرَّةً - قریب ہونا۔
 اِسْتَهَدَفَ - لُ الشی: لمبڑ ہونا بشارت بنا
 کتے ہیں۔ مَنْ صَنَفَ فَقَدْ اِسْتَهَدَفَ
 جس نے کوئی تصنیف کی وہ نشانہ بنا
 اِسْتَهَدَفَ كَفَلَ الْحَيَوَانِ اَوْ
 الشَّانِ جانور یا انسان کے چوڑے کا موٹا
 ہونا۔
 الھَادِفُ مسافر۔ الھَادِفَةُ - جماعت، گروہ
 الیھَاتُ - جسم۔ الھَدَاثُ ہر ایک بلند اور
 نمایاں چیز۔ اس لئے نشانہ کو بھی ھَدَاثُ
 کہتے ہیں۔ بڑے جسم کا آدمی۔ بڑھل بہت
 سونے والا آدمی۔ ناکارہ آدمی۔ ج:
 اھدَاثُ - الیھَادِفَةُ - لوگوں
 کی جماعت۔ وہ مکانات جن میں لوگ کچھ دن
 کے لئے ٹھہریں اور پھر کوچ کر جائیں۔
 ج: ھَدِيفُ
 ھَدَاثُ رَمْنُ، ھَدَاثُ گَا - الیْسَاءُ،
 عمارت کو ڈھانا
 تھَدَّ لَوْ تھَدَّ کلبے وقوف بنا۔ علیہ
 بِالکَلَامِ: دھمکانا۔
 ھَدَلُ رَمْنُ، ھَدِيْلًا - الممام اَو العظام:
 کبوتر یا رگ کے کا آواز نکالنا۔
 (- ھَدَلًا) الشی: چیز کو لٹکانا
 ھَدَلُ رَمْنُ، ھَدَلًا - ڈھیلا ہونا۔

البیور: اونٹ کا زخم سے ڈھیلے ہونٹ والا ہونا۔
 تَهْدَاتُ الشَّيْطَانِ الشَّقِيَّةُ: ہونٹ کا ڈھیلہ ہونا
 أَغْصَانُ الشَّجَرِ أَوْ شَمْرَتُهُ: درخت کی ٹہنیوں یا پھل کا لگانا۔
 تَهْدَالُ الثَّرْبُ: کپڑے کا لگانا۔
 الْهَادِلُ نَا: بَعِيْزُ هَادِلٌ لِبِ: ہونٹ والا اونٹ۔
 الْهَدَالُ: ٹکلی ہوئی شاخیں۔ الْهَدَاةُ: جماعت۔
 الْهَدِيْلُ يَم: کبوتر کی آواز۔ کبوتر کا بچہ۔ بہت بالوں والا آدمی
 وَجَلُّ هَدِيْلٌ يَسْتُ: دبوچل آدمی۔
 الْاَهْدَالُ: لکے ہوئے ہونٹ والا ہونٹ
 هَذَا لَاءُ جِرْهُدَالٍ: مشفرہ
 اَهْدَالٌ وَصِيْدٌ هُوَ شَقَّةٌ هَذَا لَاءُ وَصُوْرِيْ پُرُوْمَا ہوا ہونٹ الْاَهْدَالُ
 مِنْ السَّحَابِ زَمِيْنِ كَيْ قَرِيْبٌ لِكَا بَرَابِلِ
 هَدَمَ رَضٍ: هَدَمًا: الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا۔ الثَّرْبُ: کپڑے میں پھوند لگانا۔
 هَدِيْمٌ: الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ: سمندر میں چکر آنا
 هَدَمَ الْبِنَاءُ: بمعنی۔ الثَّرْبُ: کپڑے۔
 تَهْدَمَ: الْبِنَاءُ: عمارت کا دھیرے دھیرے گرنا
 تَهْدَمُ تَهْدَمُ غَضَبًا عَلَيَّ: دھکی دینا۔
 تَهَادَمُوا: اِيْكُ دُوْسَرِيْ كَيْ خُوْنٌ كُوْمَا حُ كَرْنَا
 اِهْدَمَ: الْبِنَاءُ: عمارت کا لٹھنا۔
 الْهَادِمُ نَا: كَا زِمِ اللِّذَاتِ: موت
 الْهَدَامُ: سِرْكَا چکر جو سمندر میں آتا ہے۔
 الْهَدْمُ يَم: لے بدلہ چھوڑا ہوا خون
 الْيَدْمُ: بَرِيْدِيْہ یا پھوند لگایا ہوا کپڑا
 ج: اَهْدَامٌ وَهَدْمٌ
 الْهَدْمُ يَمِ فِرْقَاتُ: پُرَانَا مودہ۔

الهدم بے وقوف۔ محنت۔
 الْهَدْمُ: مَبَا حُ كِي هُوَا خُوْنٌ: وہ کنواں جس کے کنارے لٹ لٹ کر اس میں گر گئے ہوں۔ ہر لٹ کر گرنے والی عمارت کہتے ہیں: اِنَّ حَضْرَتَكَ اِيْ لِهَدْمٌ وَاِنَّ حَبْلَكَ اِيْ لَا تَشُوْطُہ
 یہ اس وقت برلتے ہیں جبکہ کسی سے کہنا ہو کہ تمہاری مدد بہت کم ہے۔ عرب لوگ معاہدہ کے وقت برلتے ہیں دَمِيْ دَمُكَ
 هَدِيْمِيْ هَدَمْتُكَ: یعنی اگر کسی نے مجھے قتل کیا تو تم میرے خون کا بدلہ طلب کرو گے اور اگر میری عزت پامال کی گئی تو سمجھو کہ تمہاری عزت پر حرف آیا شہید الْهَدْمُ: کٹوئیں میں گر کر مرنے والا یاد پیمانہ کے نیچے دب کر مرنے والا۔
 الْهَدْمَةُ: ٹکلی بارش۔ ریز کا ایک حصہ
 الْهَدْمَةُ: بَرِيْدِيْہ کپڑا۔ ج: هَدْمٌ
 الْهَدْمُ: سَبْعِيْنُ سَالٍ كَيْ پَرُوْدٍ كَا بَقِيَّةِ: نَجْوَزُ مَتَهْدِيْمَةُ: بہت بوڑھی فرقت عورت۔
 الْمُهْدَمُ وَالْمُهْدُوْمُ وَالْمُهْدُوْمَةُ: جمہور اور وہ
 هَدَمِلُ الرَّجُلُ: کپڑے چھاڑنا۔
 الْهَدَمِلُ پُرَانَا کپڑا۔ پُرَانَا دیرینہ بہت بالوں والا۔
 الْهَدْمِلُ پُرَانَا کپڑا۔ بلند ٹیلا۔
 الْهَدْمَلَةُ: رِيْگِیْسَانِيْ زَمِيْنِ جِسْمِيْ مِيْ بَهْتِ وَرِخْتِ هَمِلُ: پُرَانَا زَمَانَةُ رُگُوْنِ كِي جماعت۔
 هَدَتِ رَضٍ: هَدُوْنَا اَرَامٌ پَانَا
 بَرُوْدِلُ ہونا۔ ڈھیلہ ہونا (هَدُوْنَا) الْيَجْبُ: جبرے دوسے سے تسلی دینا۔ الْغَبِيْ: بچہ کو خوش کرنا۔ الْغَبِيْ: دُفْنُ كَرْنَا۔ مَلَانَا، قَتْلُ كَرْنَا۔

هُدَاتٌ: عَنَّا فَذَلِكُمْ كَيْسِيْ كَا تَهْرُوِيْ كِي
 چیز یا رقم سے راضی ہو جانا۔
 هَدَانَةٌ: تَسْكِيْنٌ وِيْنَا: تَسْلِيْ وِيْنَا: بَا زِرْ كُنَا۔
 الْغَبِيْ: بچہ کو راضی کرنا۔
 اَهْدَانٌ: الْغَبِيْ: گھوڑے کو دُبلَا کرنا
 هَادَانَةٌ مَهَادَانَةٌ: صلح کرنا۔
 تَهَادَاتُ الْاَمْرُ: کسی امر کا دست ہونا۔ الْقَوْمُ: باہم صلح کرنا۔
 اِهْدَانٌ: الرَّجُلُ عَسَنُ عَزْمِيْہ اپنے ارادہ میں سست ہونا۔
 الْاِهْدَانُ اِحْتِ: اَكْرَطُ: جَنَكِيْ سِتُ ج: اِهْدَانَةٌ: جَنَكُ كَيْ بَعْدُ صِلْحُ۔
 الْاِهْدَانُ: سِرْسَبِيْ: فِرَاخِيْ۔
 الْهَدَانُ: دُصِيْلَا: الْهَدَانَةُ: ٹکلی بارش
 الْهَدَانَةُ: مَصَالِحُ: اَرَامٌ وَسُكُوْنٌ: ج: هَدَانٌ
 الْاِهْدَانُ: سُكُوْنٌ: صِلْحُ
 الْمُهْدَانُ: مَنَعٌ: بہت سونے والا جو نہ بنا ز پڑھے اور نہ صبح کی حاجت کو جائے۔ وہ کندہ ہیں جو صرف باتوں سے خوش ہو جائے۔
 الْمُهْدَانَةُ: سُكُوْنٌ: اَرَامٌ
 هَدَاهَا: هَدَاهَا: الْبَعِيْرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔ الْاَلَا تُرِيْ: پرنندہ کا غرغروں غرغروں کرنا۔ هَدَاهَاتِ الْغَبِيْ اَمَّةٌ: ماں کا بچہ کو سلانے کے لئے اس کو ملانا۔ يَهْدَاهَا اِيْ لِيْ جِيْ خِيَالِ اَتَمَاتَا۔
 الْهَدَاهُ جِنُوْنُ كِي اَوَا زِيْہ۔
 الْهَدَاهُ وَالْهَدَاوُ وَالْهَدَاهَا
 اِهْدَاهُ: وَاَحَدُ هَدَاهَا وَهَدَاهَا
 وَهَدَاهَا ج: هَدَاهَا
 وَهَدَاهَا: كَيْتِيْ ہُوَا بَقْرٌ
 مِنْ هَدَاهَا كَيْو نَكْرُوْبُ كَا خِيَالُ ہ

کو یہ زمین کے نیچے کے پانی کو دیکھ لیتا ہے
 ۱ لَهْدٌ هَدٌّ بَرٌّ كُوكُورٌ كَرْنَةٌ وَالْأَبْرَدَةُ بِهَيْتٍ
 كُوكُورٌ كَرْنَةٌ وَالْأَبْرَدَةُ بِهَيْتٍ
 هَدَّاهُ هَدًّا وَهَدَّاهُ هَيْدًا
 الْهَدَّاهُ هَدًّا مَعَهُ كُوكُورٌ كَرْنَةٌ كُوكُورٌ كَرْنَةٌ
 الْهَدَّاهُ هَدًّا نَرِي
 هَدَّاهُ يَهْدِيهِ هَدِّي وَهَدِّيَا
 هِدْيَةٌ وَهَيْدَةٌ
 رَهْنَانِي كَرْنًا - هَدَّاهُ الطَّرِيقَ
 وَهَدَّاهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَوَلَّى لِي
 رَاهُ تَبَانًا أَوْ رَهْنَانًا - رَاهُ أَكْأَه
 كَرْنًا - هَدِّي الرَّجُلَ أَوْ كَرْنًا كَرْنًا
 هَدِي هَدِي هَدَاءُ - الْعُرُوسُ
 إِلَى بَعْلَتِهَا وَهْنُ كُوكُورٌ كَرْنًا كَرْنًا
 - فُلَانًا: آگے بڑھنا -
 هَدِّي تَهْدِيَةَ الشَّيْءِ: جِدًّا كَرْنًا
 - الْهَدْيَةُ لِعَلَّانٍ إِلَيْهِ تَحْفَدِينَا
 - الْعُرُوسُ إِلَى بَعْلَتِهَا: وَهْنُ كُوكُورٌ كَرْنًا
 كَرْنًا كَرْنًا
 هَدَّاهُ مَهَادَاةً وَهَدَّاهُ: اِكْبَرُ دُورُكَ
 كَرْنًا كَرْنًا - هَدِّي فُلَانًا فُلَانًا
 اِنَّا اِنَّا كَرْنًا كَرْنًا كَرْنًا
 فُلَانًا: چلانا - جَاءَ فُلَانٌ يَهْدِي
 مَنِّي اِسْتَبِي فُلَانًا: وَدَادِيوں كَرْنًا
 سَهَارًا لِيَا هُوَ اِنَّا
 اَهْدِي اَهْدَاءً - الْعُرُوسُ إِلَى
 بَعْلَتِهَا: وَهْنُ كُوكُورٌ كَرْنًا كَرْنًا
 - الْهَدِّي إِلَى الْحَرَمِ بِرِي كَرْنًا
 جَانُورٌ كَرْنًا - لِعَلَّانٍ وَوَالِي
 فُلَانٍ كَرْنًا تَعْلِيمُ كَرْنًا كَرْنًا
 - الشَّيْءُ: جِدًّا كَرْنًا
 تَهْدِي تَهْدِيًا - بَدَائِتُ پَانَا
 تَهَادِي - تَهَادِيًا: الْقَوْمُ اِكْبَرُ دُورُكَ
 كَرْنًا كَرْنًا - الرَّجُلُ: كَرْنًا كَرْنًا
 بَرُّهُ جِنًا -

اِهْتَدَى اِهْتِدَاءً - بَدَائِتُ پَانَا
 اِهْتَدَى الرَّجُلُ: كَرْنًا كَرْنًا
 اِهْتَدَى اِهْتِدَاءً: بَدَائِتُ پَانَا
 كَرْنًا - الشَّيْءُ: كَرْنًا كَرْنًا
 كَرْنًا
 الْهَادِي - اِسْمُ فَاعِلٍ ج: هَادُونَ وَ
 هُدَاةٌ - الْهَادِي آگے رہنے والا
 گروں - نيزے یا تیر کا پھل - لاطھی -
 شیر - ج: الْهَادِي - هَادِي الْبَيْتِ
 رَاتٍ كَرْنًا هَادِي الْاِبِلِ
 آگے آگے چلنے والا اونٹ -
 الْهَادِيَةٌ مَوْثٌ: الْهَادِي لاطھی -
 پانی میں ابھری ہوئی چٹان - گروں -
 ج: هَادِيَاتٌ وَهَدَاةٌ رَجُلٌ
 هِدَاةٌ كَرْنًا كَرْنًا
 الْهَدَايَةُ مَعَهُ: رَهْنَانِي - الْهَدْيُ
 رَهْنَانِي: بِيَانٌ - وَوَالَتٌ - وَوَالَتٌ
 الْهَدْيُ صَاحِبَةُ عَزْتٍ: قَرَابَتِي جِدًّا كَرْنًا
 كَرْنًا
 الْهَدْيَةُ وَالْهَدْيَةُ طَرِيقَةٌ - سِيرَتٌ
 ج: هَدْيٌ
 الْهَدْيَةُ هَدْيٌ كَرْنًا كَرْنًا
 هَدْيَتِي اِنِّي كَرْنًا كَرْنًا
 هَدْيَةٌ: الْاِمْرَاطِي كَرْنًا كَرْنًا
 لُودِي - رَهْنَانِي الْهَدْيُ قَبِي
 وَهْنُ: حَرَمٌ كَرْنًا كَرْنًا
 قَرَابَتِي كَرْنًا - تَابِلُ اِحْرَامِ اِدْمِي
 الْعَمَامَةُ الْهَدْيُ خَطُوطٌ لَانِي يَجَانِي
 وَوَالِي كَرْنًا كَرْنًا
 الْهَدْيَةُ مَوْثٌ الْهَدْيُ وَهْنُ
 ج: هَدَّاهُ اِنَّا وَهَدَّاهُ
 وَهَدَّاهُ
 الْهَدْيُ مِثْلُ الْمَضَادَّةِ مِثْلُ كَرْنًا
 الْهَدَّاهُ بَدِي مِثْلُ كَرْنًا
 الْهَدَّاهُ بَدِي مِثْلُ كَرْنًا

الْمَهْدِي وَهْرَتِنِ جِسْمِي بِرِي مِثْلُ
 مِثْلًا: تَحَالِي - طَبَقٌ وَغَيْرُهُ -
 الْمَهْدِي مَعَهُ: بَدَائِتُ پَانَا - وَهْرَتِنِ جِسْمِي
 كَرْنًا كَرْنًا كَرْنًا
 الْمَهْدَاةُ وَالْمَهْدِيَّةُ: وَهْنُ جِدًّا
 كَرْنًا كَرْنًا
 هَدَّاهُ (ن) هَدَّاهُ اِدْمِي كَرْنًا
 هَدَّاهُ اِدْمِي كَرْنًا
 الْهَدْيَةُ: بِيَانٌ كَرْنًا
 اِهْتَدَتْ: الشَّيْءُ مِثْلُ جِدًّا كَرْنًا
 كَرْنًا - هَدَّاهُ اِدْمِي كَرْنًا
 كَرْنًا كَرْنًا
 الْهَدْيَةُ: بَدَائِتُ پَانَا
 الْهَدَّاهُ اِدْمِي كَرْنًا كَرْنًا
 جَمَلٌ هَدَّاهُ آگے بڑھ کر چلنے والا
 اونٹ -
 هَدَّاهُ يَهْدَاهُ هَدًّا: جِدًّا كَرْنًا
 هَدَّاهُ اِدْمِي كَرْنًا
 - فُلَانًا بِلِسَانِهِ: زَبَانٌ مِثْلُ اِيْزَادِيْنَا
 نَاطِقًا مِثْلُ سَنَانًا - اِكْلَامٌ:
 لَعْنًا مِثْلُ كَرْنًا - هَدَّاهُ اِدْمِي
 اِدْمِي كَرْنًا كَرْنًا
 هَدِّي يَهْدِي اِدْمِي كَرْنًا
 سِرْوِي مِثْلُ كَرْنًا
 تَهْدَاتٍ - الْقُرْحَةُ زَخْمٌ كَرْنًا
 مِثْلُ جَانَا هَدَّاهُ: وَهَدَّاهُ
 كَرْنًا كَرْنًا
 مِثْلُ وَوَالِي
 هَدَّاهُ رَهْنَانًا: الشَّيْءُ وَوَالِي
 وَوَالِي كَرْنًا
 صَافٌ كَرْنًا - وَوَالِي كَرْنًا
 النَخْلَةُ كَرْنًا كَرْنًا
 اِنَّا - الشَّيْءُ: جِنًا هَدَّاهُ وَوَالِي

الہرّاجہ اجہ بہت دور نے والا گھڑا
 الہرّاجۃ بے جوڑ اور بہت بائیں کرنے
 والی جماعت۔ قرّس جھڑجھو و
 مہسّ اجہ بہت دور نے والا گھڑا
 الہرّاجاب لباجہ ہرّاجیب
 الہرّاجع لباجہ اور سنگڑا
 ہرّاجیل۔ روکھڑا تے ہوئے چلنا لمبے
 لمبے قدم ڈالنا۔
 الہرّاجیل لباجہ آدمی۔ موٹا اونٹ۔
 الہرّاجیل لمبے لمبے قدم رکھنے والا۔
 جہ ہرّاجیل
 ہرّادہ (رض) ہرّادہ پھاڑنا۔ چیرنا
 اللحم: گوشت کو اس قدر گلانا کہ وہ بکھر
 جائے۔ الشی: قادو ہونا۔
 عرّضہ: آبروریزی کرنا۔ الشی:
 چیز کو خراب کرنے کے لئے پھاڑنا
 ہرّادہ (رض) ہرّادہ۔ اللحم گوشت
 کا پک کر ریزہ ریزہ ہونا۔
 الہرّادیم فتنہ و فساد۔
 الہرّادیم شتر مرغ۔ نکما آدمی۔
 الہرّادیم زرد۔ کرم۔ سُرخ مٹی
 ایک قسم کی جوڑ میں جن سے کپڑے
 رنگے جاتے ہیں۔
 الہرّادی والہرّاداء ایک پودا۔ الہرّادی
 خراب ہو کر چھا ہوا آفرود الشّدق
 چوڑی باجھول والا۔
 ہرّادبہ ہرّادبہ سست دورنا۔
 الہرّادبہ بڑی عورت۔ بزدل۔
 بڑے پیٹ والا۔
 ہرّادجہ۔ الرجل: تیز چلنا۔
 ہرّادہ (رض) ہرّادہ زور سے چھوٹا بکڑی
 سے مارنا
 ہرّادہ (رض) ہرّادہ اور ہرّادہ
 ہلاک کرنا۔ مرنا۔
 قصود زمن الجوع سبک سے ہلاک ہونا

ہرّاسی رن، ہرّاسی۔ الشی
 خوب کوٹنا۔ الطعام بہت کھانا
 ہرّاسی (رض) ہرّاسی۔ پیٹ ہونا
 چھپا کر کھانا۔
 الہرّاسی بڑے بڑے کانٹوں کا ایک
 درخت۔ واحد: (ہرّاسی)
 ہرّاسی القوم: قوم کی عزت
 اور اس کا سخت حملہ
 الہرّاسی شیر۔ الہرّاسی۔ م۔ بی
 الہرّاسی۔ بی۔ پرانا کپڑا۔ بڑا خونخوار شیر
 الہرّاسی خوب اچھی طرح کوٹنا ہوا
 (والہرّاسی) ایک قسم کا کھانا
 جو گوشت اور گندم کو کوٹ کر بنایا جاتا
 ہے۔
 الہرّاسی شیر۔ ہرّاسی پکانے والا۔
 کا پیچنے والا۔
 الہرّاسی باون۔ اوکل۔ بہت کھانے
 والا اونٹ۔ بھاری جسم کا اونٹ
 رات کو چلنے میں نڈر۔ جہ
 مہار لینی۔
 ہرّاش (رض) ہرّاش۔ الدھب
 زما کا سخت ہونا۔
 ہرّاش (رض) ہرّاشا بخل ہونا۔
 ہرّاش بین الکلاب کتے لڑانا
 — بین الناس۔ لوگوں میں فساد
 ڈالنا۔
 ہرّاش مہار شہ و ہرّاشا
 بعض الکلاب علی بعضہا۔
 ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا
 — فلان فلاناً ایک دوسرے
 پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے سے بھڑکانا
 ہرّاش و اہرّاش الکلاب
 کتوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔
 ہرّاش۔ العظیم: بادل کا کھل جانا
 الہرّاش۔ رانی۔ بھگڑا۔

الہرّاش اکھڑ۔ ظالم
 المہار شفا معاشرۃ العینات۔
 مطیع گھڑا۔
 ہرّاشفت و آہرّاشفت۔
 الہرّاشفتہ دوات کی صرف کا سرک
 جانا۔
 الہرّاشفت من الرجال و بلا بڑھا
 بہت پیچنے والا۔ بہت بوڑھی۔
 الہرّاشفتہ بہت عمر رسیدہ عورت بوڑھی
 اونٹنی۔ دوات کا سرک ہوا صرف
 ہرّاسی (رض) ہرّاسی۔ خشک کھلی والا
 ہونا۔
 ہرّاش الرجل خشک خارش۔
 الہرّاشفتہ بینی کے ٹھہرنے کی جگہ۔
 ہرّاشفتہ (رض) ہرّاشفتہ۔ الثوب بکھڑا
 پھاڑنا۔
 ہرّاشفتہ (رض) ہرّاشفتہ۔ خشک کھلی والا ہونا
 ہرّاشفتہ (رض) ہرّاشفتہ۔ عودن۔ فساد
 و فی عرّضہ آبروریزی کرنا۔
 فی الکلام۔ بے جوڑ اور پیوہ گفتگو کرنا
 ہرّاشفتہ (رض) ہرّاشفتہ۔ بیماری یا خوف سے
 گوشت کا ڈھیلا پڑنا۔
 ہرّاشفتہ ایک دوسرے کو گالی دینا۔
 الہرّاشفتہ (رض) الہرّاشفتہ بہت بڑا
 گوشت۔ متمول آدمی۔ وہی بڑی بھڑ
 ناقہ ہرّاشفتہ بڑی اونٹنی
 جہ اہرّاشفتہ و ہرّاشفتہ۔
 الہرّاشفتہ وہی بڑی بھڑ۔ بے وقوف
 بزدل بکڑور جہ ہرّاشفتہ
 الہرّاشفتہ (رض) الہرّاشفتہ ایک قسم کا فلتہ
 ہرّاشفتہ (رض) ہرّاشفتہ۔ الیہ:
 اضطراب و محبت سے کسی طرف جانا۔
 ہرّاشفتہ (رض) ہرّاشفتہ۔ خون کا
 جلدی ہونا۔ الرجل: تیز رفتاری
 جلدی رونے والا ہونا۔

هَرَّعَ الْقَوْمَ الرِّمَاحَ نيزوں کو سیدھا کر کے چلنا۔
هَرَّعَ وَهَرَّعَ - الرَّجُلُ: چلنے میں جلدی کرتا۔

اهْرَمَ الرَّجُلُ - جلدی کرنا۔
- الْقَوْمَ دِيكَاهُمْ نيزے سے سیدھے کر کے چلنا۔

اهْرَعَ - الرَّجُلُ كَمْ عَمَلٍ هُونًا - غصہ کمزوری خوف یا ٹھنڈے کا پینا۔ لرزنا۔
جلدی دور ایا جانا صفت: مُمْرِعٌ تَهْتَعَتِ الرِّيحُ - نيزوں کا سیدھا ہونا۔

اهْتَدَعَ الْعُودَ يَكْرِي تَرْتَانًا - اُسْتَهْوِي عَتِ - الْاِبِلُ اوٹوں کا حوض کی طرف دوڑنا۔

الْهَرَّاعُ وَالْهَرَّاعُ جلدی اور اضطرابی کی چال - تیز بائکن۔
الْهَرَّاعُ - جلدی بہنے والا خون۔

رَجُلٌ هَرَّعٌ - جلد رونے والا آدمی - تیز رفتار - مؤنث هِرْعَةٌ الْهَرَّعَةُ وَالْهَرَّعَةُ جوں کی طرح کا ایک کیرا چھوٹی جوں - یا بڑی جوں

الْهَرَّيَّةُ چھوٹی چھوٹی شاخوں والا پردہ الْمُهْرِعُ وَالْمُهْرِعُ - شیر الْمَهْرُوعُ - مجنون - مخت و مشقت سے دراندہ

المُهْرِعُ مَعْرُجٌ - جوں الھَرَّيْعُ - بہت گھبرانے والا کمزور بزدل - بے وقوف - متلون مزاج عورت - دِيْعٌ هَرَّيْعٌ وَهَرَّيْعَةٌ تیز چلنے والی ہوا۔

الْهَرَّيْعَةُ - چرواہے کی بانسری هَرَّتْ رَنَ هَرَّتْ حَتَّى بَغْلَانٍ كَسَى سے متعجب ہو کر بہت تعزین کرتا - بغیر

جانے ہوئے تعزین کرنا - اور اسی سے لَا تَهْرِفُ بِمَا لَا تَهْرِفُ جِس كُونِ جَانِزِ اس کی تعزین نہ کرو۔

هَرَفَتْ تَهْرِيْفًا - الْخَلَّةُ دَخَتْ خَرَابًا كَا وَقْتِ سَيِّدٍ يَهْلُ دِينًا - هَرَفَتْ إِلَى الصَّلَاةِ نَمَازِ كِي طَرَفٍ جلدی کرنا - اَهْرَافٌ مَبْعِي مَالٍ دَارٍ ہونا۔

هَرَفَتْ رَنَ هَرَّتْ قَا وَ اَهْرَقَ الْمَاءَ: پانی گراتا - کہتے ہیں هَرَّتْ قَا الْمَاءَ اپنے غصہ کے انکارے پر پانی ڈالو یعنی غصہ ٹھنڈا کرو۔

هَرَّاقٌ (بجائے آراق) مِثْلُ يَسِقٌ - هَرَّاقَةٌ وَ اَهْرَقَ يَاقِي گراتا - کہتے ہیں هَرَّاقَةٌ عَلَيْنَا اَوَّلًا، اللَّيْلِ وَه تھارے پاس رات کے شروع میں اترے۔ اسم فاعل مِثْلُ يَسِقٌ -

اسم مفعول مِثْلُ اَي وَ مِثْلُ اَي تَهَارَقُوا ایک دوسرے پر پانی ڈالنا۔ اِهْرَاقٌ اِهْرَاقًا - الدَّمْعُ او المَطَرُ: آنسو یا بارش کا جاری ہونا

الْهَرَّقُ پیرانا کپڑا۔ الْمُهْرَقُ سفید ریشم کا کپڑا جس کو گوند سے چکنا کر کے نکھنے کا کام لیا جائے صمغہ چیل۔ بیابان - کیرا یا کاغذ چکنا کرنے کا آلہ ج: مَهْرَقِيْنٌ الْمَهْرِقَاتُ وَالْمَهْرِقَاتُ

سمندر - سمندر کا ساحل بہاں پانی اگر سمٹ گیا ہوا در کڑیاں چھوڑ گیا ہو مَطْرٌ مَهْرٌ دِيْقٌ زَوْجٌ سَمْرٌ نِي وَ اَلِي بَارَشٌ -

هَرَّ قَلٌ وَ هَرَّقِلٌ شَاوِ رَوْمٌ - چلنی۔ هَرَّ كَلٌ هَرَّ كَلَةٌ مَكٌّ كَرَّجَانًا - بڑھا ہونا جَمَلٌ اور رَجُلٌ هَرَّ اَكْلٌ مَوْتًا مِثْمِ اِدْنٌ يَ اَدْمِي -

الْهَرَّةُ الْكَبْرَى بَرَى بَرَى بَحِيَا - اَبِي كَتَمٌ مَوْتٌ سَرِيْنٌ وَ اَلِي جَانِزٌ - سَمْدَرٌ كِي لہروں کے جمع کرنے کی جگہ الْهَرَّكَلَةُ وَالْهَرَّكَلَةُ وَالْهَرَّكَلَةُ وَالْهَرَّكَلَةُ وَالْهَرَّكَلَةُ وَالْهَرَّكَلَةُ اَبُو ثَمَّ سَرِيْنٌ كِي عَوْرَتٌ -

الْهَرَّكَلَةُ - نازد انداز کی چال۔ الْهَرَّالٌ سَيِّدٌ خَاوَدٌ كَا بِيَا - هَرِيْمٌ (س) هَرِيْمًا وَ مَهْرِيْمًا وَ مَهْرِيْمَةً بہت بڑھا، کمزور ہونا صفت (هَرِيْمٌ) ج: هَرِيْمُوْنٌ وَ هَرِيْمِي مَوْتٌ، هَرِيْمَةٌ ج: هَيَا مَاتٌ وَ هَيَا مَتِي

هَرَمَةٌ - الدَّهْرُ زَمَانَةٌ كَا كَسِي كُو بُوْرُحَا كَرْنَا هَرَمَةً مَقْلَانًا تَنْظِيْمٌ كَرْنَا - اَلْمُحْمُ گزشت کے کمرے کمرے کرنا۔

اَهْرَمَ مَهْ - الدَّهْرُ زَمَانَةٌ كَا كَسِي كُو بُوْرُحَا كَرْنَا - كَرْنَا - كَرْنَا وَ رَكْرَا - تَهَارَقَ الرَّجُلُ: بُوْرُحَا ہونے کا ہانہ کرنا۔

اِسْتَهْوِي مَهْ بُوْرُحَا پانا یا خیال کرنا۔ اَلْهَرْمُ - رَشِي لِيْئِي ہونے ایک نکلین پردہ۔ اَلْهَرْمُ - سَبِيْتٌ بُوْرُحَا - جان - بھو قَدْحٌ هَرِيْمٌ لُوْمَا ہوا پیالہ - عمدہ رائے

اَلْهَرْمُ مَمٌ اِنْتَهَائِي بُوْرُحَا پانا - ایک مخروطی شکل کی عمارت جس کی کرسی خواہ مثلث و مربع شکل کی ہو خواہ کئی اضلاع کی ج: اَهْرَمٌ وَ هَرَامٌ

اَهْرَامٌ مِصْرٌ مِصْرٌ كِي مَشْهُورٌ مَنَارٌ اَلْهَرْمِي سُوْكِي كَرِيْمِي اَلْهَرْمَانُ عَمَلٌ: عمدہ رائے ابن ہمی مہ بڑھاپے کی آخری اولاد -

اَلْهَرْمُ وَ هَرْمٌ - بَدَخَلٌ - شَرِيْرٌ عَوْرَتٌ - الْمَهْرِي مَتَةٌ - اِنْتَهَائِي بُوْرُحَا پانا هَرْمٌ مَتَةٌ هَرْمٌ مَتَةٌ الرَّجُلُ كِيْنَةٌ ہونا۔

حَضِيْبٌ سَا جَانًا - سَا تَحِي سے خفیہ بات کرنا - اِنَا قَمَلَةٌ - لِقْرَا جَا كَرْمِيْمِي

<p>اعمال پر خوش ہوتا ہے۔ آئنا فی جذبتا ینہ پانی کا جاری ہونا۔ الکوکب فی القطن سید تارہ کا جلدی ٹوٹنا۔ الارض: زمین کا نباتات اگانا۔ النبات: سببانا اور دراز ہونا۔ تھرت ز۔ ہلنا حرکت کرنا۔ الھرتة۔ صدمہ۔ لرزہ حرکت۔ زلزلہ۔ امڈا ہونے کا شرارت میں حسرت اور خوش ہونے والی عورت الھرتة۔ حسرتی خوشی۔ فیاضی۔ ہندی کے اُیلنے کی آواز۔ الھرتین بادل کی گرد گراہٹ۔ ہراکی سائیں سائیں۔ الھرتا۔ سختیاں۔ المھرتا۔ حکرت۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ تڑنا ھذا ایلدہ سردی سے مار ڈالنا۔ راحتہ۔ بلانا۔ ھن آرتینا مرنا ھن آرتینا ھن آرتینا ھن آرتینا وھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ یلان ومنتہ۔ کسی سے سخری کرنا ھرتا ھرتا۔ مرنا۔ آھرتا اھرتا۔ سخت سردی سے تکلیف پانا۔ ایلدہ۔ ادھت کر سردی سے مارنا۔ تھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ واستھرتا ھرتا ھرتا۔ الھرتی۔ فا۔ خدا آقا ھانیتہ۔ سخت ٹھنڈی صبح۔ وکیل ھرتا ھرتا وہ شخص جس سے لوگ ٹھٹھا کریں۔ ھرتا ھرتا کانتا۔ الھرتیو۔ الھرتیو و الھرتیو۔ سیر۔ الھرتیو مرنا۔ مضبوط قوی۔ ھرتا ھرتا۔ ھرتا ھرتا ھرتا۔ الرجل، سخت</p>	<p>برئے انگور۔ الھرتا ھرتا۔ بہت پانی یا دودھ۔ شیر ج: ھرتا ھرتا۔ الھرتا ھرتا۔ بہت پانی یا دودھ بے ہودہ منینے والا۔ دوما گشت۔ شیر۔ الھرتا ھرتا۔ بہت پانی یا دودھ آواز دینے والا۔ جاری پانی۔ ایک قسم کی کشتی گرے ہوئے انگور۔ بوڑھی بکری۔ الھرتا ھرتا۔ ایک قسم کی مچلی۔ ایک نمبیٹ قسم کا سانپ۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ ڈنڈے سے مارنا۔ الھرتا ھرتا۔ موٹا ڈنڈا۔ ج: ھرتا ھرتا وھرتی وھرتی۔ الھرتا ھرتا۔ ہر دی کپڑے بیچنے والا۔ ھرتا ھرتا۔ خراسان کے ایک شہر کا نام۔ ھرتا دل۔ تیز چلنا۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ ڈنڈے سے مارنا ھرتی ھرتی ھرتی۔ الثوب: کپڑے کو زور دینا۔ ھرتا ھرتا ھرتا۔ آپس میں ٹھٹھا کرنا۔ الھرتا ھرتا۔ کھیر کا پودا۔ الھرتی۔ تذبح کرنے کا مکان ج: آھرتا ھرتا (ھرتا)۔ الشی و بالشی چیر کو حرکت دینا۔ من عطف فلان: کام کے لئے اہم کرنا ھرتا ھرتا سیر کی وجہ سے جلد چلنا۔ ھرتا ھرتا، الابل: اونٹ کا حدی سے نشاط میں لانا۔ الکوکب۔ ستارہ کا ٹوٹنا۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا حرکت دینا۔ الھرتا حکرت میں آنا۔ الابل: حدی سے مست ہو کر اونٹ کا جو متھے ہوتے چلنا اھرتا الیلہ قلبہ۔ خوش ہونا۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ وہاں سے</p>	<p>پھرانا اور نہ گھٹنا۔ التار: آگ کا بھنا۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ وجہ تیری چڑھنا الھرتا ھرتا لوگوں کا شور۔ الھرتا ھرتا۔ نجوم کے عالم۔ الھرتا ھرتا مضبوط رائے والا۔ تجربہ کار چالاک الھرتا ھرتا۔ آدم خورد شیر۔ الھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ الھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ شیر گینڈا۔ اھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ الرجل: تیر چلنا جلدی رو پرانا۔ فی منطقہ بہت بولنا الھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ چال میں تیزی دہنی ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ بال اکھیرنا ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ کام خراب کرنا۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ عورت کا بڑھاپے سے بہت کمزور ہونا۔ الھرتا ھرتا۔ بوڑھی عورت۔ بوڑھی اونٹنی الھرتا ھرتا۔ بال جو بوڑھے آدمی کے سر کے کناروں پر رہ جاتے ہیں ج: ھرتا ھرتا۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ آہستہ ہینا مسکرانا المھرتا ھرتا۔ رونے میں سست آواز والی عورت۔ کرور آواز والی۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ بلانا۔ الرجل: بہ فائدہ ہینا۔ بالغتہ اولایل: بکریوں یا اونٹوں کو پانی پر بلانا۔ علی فلان کسی پر زیادتی و تعدی کرنا الکفان: بصیر کا آواز کرنا۔ (وھرتا ھرتا) الریح: ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ الھرتا ھرتا۔ بوڑھی بکری الھرتا ھرتا ھرتا۔ بھیروں کی آواز۔ ھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ خیر کی دعا کی گرتیج۔ اھرتا ھرتا ھرتا ھرتا۔ انگر کی بیل کی جڑیں گرے</p>
--	--	---

مشک کا خشک ہو کر چٹنا۔ عمارت کا گرنا
 انْهَزَ ذَرْبُكَتْ کھانا۔ چھڑی کا ٹوٹنا۔
 تَهْزَمُ وَاَهْتَزَمَ بِالْمَاءِ دَوْلَ کَا
 گرج کر بہت برسنا۔
 اَهْتَزَمَتِ - السَّحَابَةُ بِالْمَاءِ دَوْلَ کَا
 گرج کر برسنا اَهْتَزَمَتِ السَّحَابَةُ کَبْرَى کُر
 ذبح کرنا۔ الشَّيْءُ جَلْدَى کُرنا۔
 سبقت کرنا۔
 اسْتَهْزَمَتِ - الْجَبُوتُ نَجْرًا کُر کَشْکَتْ
 دینا۔ شکست چاہنا۔ شکست
 خوردہ پانا۔
 الْهَازِمَةُ بِمَصِيبَتِ - ج: هَوَازِمُ -
 الْهَزْمُ مِمَّ - پست زمین۔ پانی سے خالی
 پتلا بادل۔ ج: هُوَ وَهْمٌ -
 الْهَزِيمُ مِنَ الْخَيْلِ - بطیع گھوڑا۔
 غَيْثٌ هَزِيمٌ - دھواں دھار بارش۔
 الْهَزْمُ كَمَا نَ كَى آوَاذُ
 الْهَزْمَةُ يَكْرَهُهَا جَوَاهِرُ كَمَا دَبَانُ سَ
 نَمَّ جَمِّ مِی پید ہو جائے۔ پست زمین
 سینہ کا گڑھا۔ منبلی کا گڑھا ج:
 هَزْمٌ وَهْزُومٌ وَهْزَمَاتٌ قَدَارٌ
 هَزْمٌ مَتَةٌ - بہت اپنے والی ہانڈی
 الْهَنْزُومٌ - آواز دینے والی کمان۔
 الْهَزِيمُ كَرَجٌ كَى آوَاذُ - گرج نہ تھمنے
 والی بارش۔ سخت آواز والا گھوڑا
 شُكْتُ خَرْدَةٌ لَشْکُرُ
 الْهَزِيمَةُ شُكْتُ - بہت پانی والا کنواں
 الْهَزِيمُ - سَخْتُ - مضبوط، شیر
 الْمَسْکُفُ مَرَّعٌ - ٹوٹا ہوا زکل۔
 الْمَهْرَامُ - آگ ہلانے کی کڑی۔ رطین
 چھوٹی سونٹی۔ کڑی جس کے سرے
 پر آگ لگا کر بچے کھیلتے ہیں۔ ج:
 مَهَارِيْمٌ -
 هَنْهَرَةٌ هَنْهَرَةٌ - ہلانا مغرب کرنا
 تَهْنَهْنَهْنُ - الشَّيْءُ - ہلنا۔ الیہ قَلْبِي

دل کا خوشی سے اچھلنا
 الْهَزَا هَزٌ - کثرت سے بیٹے والا پانی
 الْهَزْمَةُ - ہلا دینے والے نقتے۔
 الْهَزْمَانُ - بہت بیٹے والا پانی۔ صاف
 اور چمکتی ہوئی تلوار۔
 الْهَزْمُ هَزٌ - کثرت سے جاری ہونے والا
 پانی۔ بہت گرا کنواں۔ بہت پانی
 والا چشمہ۔
 الْهَزْمَةُ هَزَةٌ - جگ و فتنہ بھرا کانا۔
 هَشٌّ رَنٌ هَشٌّ - الشَّيْءُ كَرْمًا - تھوڑا
 هَشٌّ رَعْنٌ هَشٌّ - دل میں بات کرنا۔
 الْهَسِيئِيُّ - ریزہ ریزہ شدہ پوشیدہ کلام
 هَسَسَ هَسَسَةً - الماءُ پانی کا
 لگا تار بہنا۔ الدَّرْعُ او الْحَلِي
 زره یا زیور کا آواز کرنا۔
 الْحَوِيْثُ: بَاتِ حَمِيْتِ چھپانا۔
 تَهْسُ تَهْسٌ - السِّدْرُ او الْحَلِي
 زره یا زیور کا جھکا کرنا۔
 الْهَسَاهِسُ رَاتِ كَا سَفَرٌ هَسَاهِسُ
 السَّاسِ - لوگوں کا پوشیدہ کلام
 الْهَسَاهِسَاتِي - تمام رات بکریاں چلنے
 والا چرواہا۔ کام کے لئے تمام رات
 جاگنے والا۔ تعانی غیر واضح کلام
 و سوسہ۔
 الْهَسَسَةُ مِمَّ - زره یا زیور کی جھکار
 نَمَّ آوَاذُ الْهَسَسَةِ -
 هَشٌّ رَنٌ (مَنْ) هَشٌّ - وَرَقٌ الشَّيْءِ
 لالچی سے درخت کے پتے جھلانا۔
 هَشٌّ رَعْنٌ هَشْوُوشَةٌ - الْخَبْرُ
 روٹی کا زم ہونا۔ الرَّجُلُ، آدَمِي كَا
 سست و کمزور ہونا۔
 هَشٌّ رَعْنٌ (مَنْ) هَشْوُوشَةٌ وَهَشْوُوشَةٌ
 الشَّيْءُ نَمَّ او رَدْمِيلاً ہونا بصفت
 (هَشٌّ) - الْعُوْدُ کَرَى
 کا جلد ٹوٹنے والا ہونا۔

هَشْوُوشَةٌ - کمزور پانا۔ خوش کرنا
 اِهْتَشُّ - يَكْنُ اِخْوَشٌ مَرْمًا - خَاطِبٌ مَرْمًا
 اِهْتَشُّ فَلَانٌ رَقِي - فلاں مجھ سے
 خمش ہوا۔
 اسْتَهْشَهْتَهُ بَكَاسِمًا -
 اَلْهَشُّ مِمَّ - نَمَّ - وَصِيلاً خُبْرَةٌ
 هَشَّةٌ نَمَّ رَوِي
 هَشُّ الْمَكْسِرِ مَرْمًا - نَمَّ خُرُ -
 هَشُّ الْوَجْهِ خَزَهُ پشیمانی۔ منہس مکہ
 فَدَسُّ هَشٌّ - بہت پسینہ لانے والا
 گھوڑا۔ اَنَابِيْمٌ هَشٌّ بَشٌّ -
 مِی اس سے خوش ہوں قِسْرَبَةٌ
 هَشًّا شَتًّا - بیکنے والی شک۔
 نَاقَةٌ او كِشَاةٌ هَشْوُوشٌ - بہت دودھ
 والی اونٹنی یا بکری۔
 الْهَشِيْشُ سَوَالِ كَى وَتِ نَشْ مَرْمًا
 والا۔ نَمَّ مَانِ لِيْنِ وَالاخْشَكُ كَمَا
 هَشَّةٌ رَنٌ كَهَشْرًا - النَّاقَةُ
 اونٹنی کا سب دودھ دوہنا۔
 الْهَشْرُ - مِمَّ - بَكَاسِمٌ - تَلْبِيْنٌ -
 الْهَشْرَةُ - كَبْرٌ غَرُورٌ شَيْخَرَةٌ هَشْرَةٌ
 وَهَشْوُوشٌ - وَهَشْوُوشٌ كَى پتہ
 جلد گر جائیں۔ الْهَشِيْثُ -
 هَشَلَتْ - تَهْمُوشِيْلًا - النَّاقَةُ
 اونٹنی کا تھوڑا دودھ اُتارنا۔
 اَهْشَلَّ الرَّجُلُ: مَانِ كَى اِهْزَاةٌ كَى بَغْرُ
 سواری کا جانور کسی کو دینا۔
 اِهْتَشَلَّ الْفَرَسُ كَهْرُورٌ پَرْمَانِ
 كَى اِهْزَاةٌ كَى سَوَارٍ مَرْمًا -
 الْهَشِيْلَةُ وَه سَوَارِي كَا جَاوَرٌ مِمَّ مَانِ
 كَى اِهْزَاةٌ كَى بَغْرُ سَوَارٍ مَرْمًا -
 مِی الْاِبِلِ وَغَايِرِهَا عَضْبٌ كَمَا مَرْمًا
 اونٹ وغیرہ۔
 الْهَشِيْلَةُ مَرْمًا بَرْمًا او مَرْمًا -
 هَشْمٌ رَعْنٌ هَشْمًا - الشَّيْءُ تَرْمًا

<p>الھَضْبَانُ - چکیلی آنکھوں والا هَضَبًا يَهْضُبُونَ هَضْبًا - الرجل یوڑھا ہونا۔ هَضَبًا مَهَامًا - پیچھ توڑنا۔ الْاَهْضَابُ مضبوط لوگ۔ هَضَبٌ رَنٌ هَضْبًا الشَّيْءُ: چیز توڑنا باریک کرنا۔ صفت مفعولی۔ هَضْبِيضٌ وَمَهْضُوفٌ - هَضَبْتُ الْاَيْلُ اَوْ اَوْسُ کا تیز چلنا هَضَبْتُ فُلَانٌ الْمَشِي وہ خوبصورت چال چلا۔ فُلَانًا: کسی کو ترغیب دینا هَضَبْتُ - زمین پر پاؤں زور سے مارتا الْهَضْبُ الشَّيْءُ: توڑنا۔ اِهْتَضَبْتُ نَفْسَهُ لِيَفْلُتَ - وہ فلاں کے سامنے تباہدار ہو گیا اور بغیر انصاف کے راضی ہو گیا۔ الْهَضْبَاءُ آدمیوں کی جماعت۔ گھوڑوں کا گلد۔ الْهَضْبَانُ - جوانوں کی گردن توڑنے والا۔ الْهَضْبُ شَكْلٌ - ٹوٹ۔ هَضَبَتِ رَضً هَضْبًا - السَّمَاءُ آسمان کا برستا السَّمَاءُ الْقَوِي خوب بھی طرح ترکر دینا۔ هَضَبَتِ الرَّجُلُ كَسِي كَاسْت چال چلنا۔ الْقَوِي فِي الْبَدَنِ زور زور سے باتیں کرنا۔ اَهْضَبَ الْقَوْمُ - پہاڑ کی چوٹیوں پر اترنا اِهْتَضَبُوا - فِي الْعَدِيثِ بِلِنْدَا وَازِي باتوں میں لگنا۔ اِسْتَهْضَبَ الْجَبَلُ - پہاڑ کا زمین پر پھیلا ہوا ہونا الْهَضْبَةُ - زمین پر پھیلا ہوا پہاڑ۔ بِلْزَمِيْنِ - بارش کی بوچھاڑ جہ; هَضْبٌ وَهَضْبٌ وَهَضْبَاتٌ وَ هَضْبَاتٌ وَحَجٌّ اَهْضَابٌ -</p>	<p>زور سے دبانا۔ صفت مفعولی: (هَضْبِيضٌ وَمَهْضُوفٌ)۔ هَضَبُ الرَّجُلُ چکیلی آنکھوں والا ہونا الْهَضْبَةُ اِسْتِحْوٰی كِي اَنْجُو۔ اَمْهَضٌ - ہر سخت چیز کی چکی ہوئی چیز۔ الْهَضْبِيضُ - روندی ہوئی چکی ہوئی چیز۔ هَضْبُ النَّارِ - آگ کی چمک۔ هَضَبَ رَضً هَضْبًا - بھان هَضَبَ رَضً هَضْبًا - الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ چیز کو کھینچنا اور جھکانا۔ الْهَضْبُ وَبِالْفَضْلِ شَاخٌ جھکانا یا موڑ کر بغیر آگ کرنے کے توڑنا۔ الشَّيْءُ: توڑنا۔ بھانا۔ قریب کرنا۔ مَسْرُودًا بَانًا - الْأَسَدُ قَوْلِيْتَهُ شیر کا اپنے شکار کو توڑنا۔ اِهْتَضَبَ اِهْتَضَبًا - جھکانا۔ کھینچنا جانا رَوَانًا - اِهْتَضَبَ كَهْرًا خَوْشِ وَرَمَتْ کرنا۔ كَهَضَرَتْ - اَعْصَانُ الشَّيْءِ وَرَمَتْ کی ٹہنیوں کا جھکانا۔ الْهَضْبُ وَالْهَضْبُ وَالْهَضْبُ وَالْهَضْبُ وَالْهَضْبُ وَالْهَضْبُ وَالْهَضْبُ وَالْهَضْبُ - وَلِهَيْضَرٌ وَالْهَيْضَارُ وَالْهَيْضُورُ وَلِهَضَارٌ وَالْمُهَضَّرُ وَالْمُهَضَّرُ وَالْمُهَضَّرُ وَالْمُهَضَّرُ - شِيرٌ رَجُلٌ هَضْبٌ هَضْبٌ ہر کو بہت دبانے والا الْهَضْبَةُ وَالْهَضْبَةُ كَرْنَا جَوْ تَعْوِيذِ کے طور پر پہنا جائے۔ الْهَوَاِصِرُ وَالْهَوَاِصِرُ شَاخٌ كَرْنَا والا شیر۔ هَضْبَةٌ رَضً هَضْبًا توڑنا هَضْبَةٌ هَضْبَةٌ هَضْبَةٌ اِسْتِهْضَبَ الْهَضْبُ وَالْهَضْبُ مضبوط آدمی یا شیر۔</p>	<p>صفت (هَضْبِيضٌ) هَضْبٌ - بہت توڑنا۔ فُلَانًا: کسی کا اکرام کرنا۔ تعظیم کرنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کو دوہنا۔ هَضْبٌ الشَّيْءُ: چیز کا ٹوٹنا۔ الشَّيْءُ: درخت کا سوکھ کر ٹوٹنا۔ الْاَيْلُ: اونٹ کا سمت اور کمزور ہونا۔ فُلَانٌ الشَّيْءُ: توڑنا۔ الرَّجُلُ: اکرام کرنا۔ النَّاقَةُ: دوہنا۔ زِيدًا: مہربان بنانا۔ رَضْمًا کرنا۔ عَلَي فُلَانٍ: کسی پر مہربان کرنا۔ هَضَبْتُ الْأَرْضَ: بارش رک جانے سے زمین کا خشک ہونا۔ اِهْتَضَبَ الشَّيْءُ: ٹوٹنا اِهْتَضَبَ النَّاقَةُ: اونٹنی کو دوہنا الْهَضْبَةُ بَدِي تُوْرُنِي وَالِي صَرْبِ - الْهَضْبَةُ فَيَاضِي - الْهَضْبَةُ قَطْرَةٌ زَمِيْنِ - ج: هَضْبٌ - الْهَضْبُ سَخِي الْهَضْبُ نَمِ پھاڑ۔ دودھ کے ماہر دوسنے والے۔ مَفْرُوْدٌ (هَضْبٌ) الْهَضْبَةُ پھاڑی بکری - ج: هَضْبَاتٌ - الْهَضْبَةُ اِسْتِهْضَبَ اِسْتِهْضَبًا گھاس۔ کمزور بدن والا۔ الْهَضْبَةُ وَرَمَتْ حَمِيْنِ كِي وَرَمَتْ سُوْكُ گئے ہوں۔ سوکھا درخت۔ مَا هُوَ الْاَهْضَابَةُ كَرْمٌ وہ فیاض آدمی ہے۔ هَضْبٌ الشَّيْءُ: حرکت دینا الْهَضْبَةُ شِيْءٌ - خَوْشِ خَلْقٍ - سَخِي هَضْبَةٌ مَهَامَةٌ - ذَاقٌ كَرْنَا - هَضْبِي رَضً هَضْبًا الشَّيْءُ: روند کر لینا۔ توڑنا۔ باریک کرنا۔ انگلیوں سے</p>
---	---	--

رَجُلٌ هَضْبٌ بِأَرْزِيٍّ أَدْمِيٍّ
 الْعَضْبُ هَبْتُ مَضْبُوطٌ بِهَبْتُ بِهَبْتِي
 وَالْأَكْهُورُ
 غَنَمٌ هَضْبِيٌّ كَمْ دَوْدٌ كِي بَكْرِي -
 الْأَهْضُوبَةُ - مِنَ الْمَطْرِ بَارَشَ كِي
 بِرِجَالٍ ج: أَحَا ضَيْبٌ -
 هَضَجَ الْمَرَاثِي بِرِيشِي كِرَاجِي طَرَحَ ز
 جِرَانًا - صَبِيَانٌ هَضْبِيٌّ جِوْرِي بَجِي
 هَضَلُ (ن من) هَضَلًا بِالشَّعْرِ
 أَوْ بِالْكَلامِ هَبْتُ كَمَا
 أَهَضَلْتُ السَّمَاءَ بِارَشَ بَرَسْنَا -
 - الدَّرُوبُ: دُولُ كَانِي كِي دِيوارِ
 سِي كِرَا كِرَ پَانِي سِي بَهْرَجَانَا -
 الْمَضَلُ مِم: هَبْتُ
 الْمَضَلَاءُ لِبِي بِيَسْتَانِ وَالِي عَوْرَتِ -
 الْمَضَالُ حُدِي خِرَا -
 الْهَيْضَلُ - بِتَمِيَارِ بِنْدِ جَمَاعَتِ - بِرِي نَجِ
 حَبَلٌ هَيْضَلٌ بِرِطَانًا بِرِطَانًا
 الْهَيْضَلَةُ - مِنَ التَّوْقِي مَوْتِي لِبِي دُونِي
 بِرِشِي اِدُونِي - زِيَادَه دَوْدُو دِينِي
 وَالِي - اِدْهِرِدْ عَمْرِي عَوْرَتِ - لَوْرِي
 كِي مَعْلُوطِ اِدَازِي - بِتَمِيَارِ بِنْدِ جَمَاعَتِ
 هَضَمَ (من) هَضَمًا الشَّيْءُ: جِيَزِي كِرَ تَوْرَانَا
 - فَلَانَا: نَلَمَ كِرْنَا - عَضَبَ كِرْنَا -
 اِم (الْمَيْضَمَةُ) هَضَمَهُ
 حَقًّا كَسِي كِي حَقِّ كِرْمَ كِرْنَا هَضَمَ
 لَهُ مِنْ حَقِّهِ اِنِي تَقِي مِي سِي كَسِي
 كِر كِرِي حَقِّهِ نِوْشِي دِينَا لَهُ مِنْ مَالِيهِ
 دِينَا - هَضَمَتِ الْمَعْدَاةُ الطَّعَامَ
 مَعْرِي كَا خِرَا كِر كِرْمَمَ كِرْنَا هَضَمَ
 عَلَيَّ التَّوْمَ رَوْمِ كِي پَاسِ اِچَا كِرْنَا
 هَضَمَ (س) هَضَمًا نَازِكٌ وَجِي
 كِر وَا لَ اِبْرَانَا - صِفَتِ ذِكْرُ اَهْضَمَ
 مَرُوفٌ: هَضَمَاءُ ج: هَضَمَ
 قَضَمَهُ نَلَمَ كِرْنَا - جِيْنِ لِينَا - ذَلِيلُ كِرْنَا

تَوْرَانَا تَهَضَمَ بِالتَّوْمِ مَلِيحٌ مَرْنَا
 اِنَهَضَمَ الطَّعَامَ كَمَا نِي مَضَمَ مَرْنَا -
 الشَّيْءُ: لَمْنَا -
 اِهْضَمَهُ نَلَمَ كِرْنَا - جِيْنَا حَقِّ كِرْمَ كِرْنَا
 الْهَاضِمَةُ - نَا: مَضَمَ كِرْنِي دَوَالِي دَوَالِي
 الْهَاضِمَةُ مَوْتٌ - الْهَاضِمُ: مَضَمُ كِرْمَ كِرْمَ
 الْهَاضِمُومُ دَوَالِي مَضَمَ - اِنَا مَالِ خِرَجِ
 كِرْنِي وَا لَ - شِيْر -
 الْهَضَامُ - مَذَا كِر مَضَمَ كِرْنِي دَوَالِي دَوَالِي
 الْهَضَمُ مِم: مَذَا كِر جَزُو دِينِ مَرْنَا
 الْهَضَمُ وَالْهَضَمُ بِسْتِ زَمِيْنِ - بِلِي
 وَا دِي ج: اَهْضَامٌ وَهَضْمُومٌ وَ
 (- الْهَضَمُ وَالْهَضَمَةُ) اِي كِرْمَ كِرْمَ دَوَالِي
 الْهَضْمُومُ مَذَا كِر مَضَمَ كِرْنِي دَوَالِي جِيْرِي
 مِي هَضْمُومٌ - قِيَاضُ اِتْمَدَ ج:
 هَضَمَ -
 الْهَضِيمُ حَقِّقٌ مِي نَلَمَ كِرْمَ كِرْمَ كِرْمَ
 اِمَّا اَهْضِيمُ مِي كِرْمَ كِرْمَ عَوْرَتِ
 قَضَبَةُ هَضِيمٌ بِالسَّرِي
 الْهَضِيمَةُ نَلَمَ: عَضَبُ مِي كِرْمَ كِرْمَ
 ج: هَضَامَةٌ -
 الْاَهْضَامُ مَرْمُومٌ وَا نَتْرُوْنِ وَا لَ مَوْتٌ
 هَضَمَاءُ ج: هَضَمَ
 الْمَهْضُومَةُ - اِي مَعْلُوطِ خِرَشِيْرَا اِيْتِي
 مَهْضُمًا مِي نِي اِس كِرْمَ كِرْمَ
 نَدَا حَالِ جِيْرِي وَا لَ اِدِكِيَا -
 هَاضَاةٌ مَهَاضَاةٌ - كَسِي كِرْمَ كِرْمَ وَتَوْنِ
 جَانَا: جِيْرِي جَانَا -
 الْهَضَاةُ - كِسِيْرُو كِرْمَ
 الْاَهْضَاءُ لَوْرِي كِي جَمَاعَتِي -
 هَطَرَ (من) هَطْرًا - الْكَلْبُ: كَتِي كِرْمَ
 كِرْمَ سِي مَارُوَانَا - يَامَلِقُ مَارَانَا
 تَهَطَّرَتِ الْبِيْرُ: كِنُوِي كَا لُ مَرْنَا -
 تَهَطَّرَ - الرِّجْلُ: ذَلِيلُ مَرْنَا -
 الْهَطْرَةُ غَنِي كِي سَامِنِي فِقِيْرِي بَرَقَتِ

سوال ذلت -
 تَهَطَّرَسَ بِشَكْرَانِي جَالِ جِيْنَا -
 هَطَعَ (ن) هَطْعًا وَهَطْوَعًا
 رُسِي آكِي آكِي جِلْدِي جِيْنَا -
 اِي كِي طَرَفِ كَشْكِي كَا نِي بُوْنِي جِيْنَا -
 اَهْطَعَ الْبِيْعِيْرُ: كِرْمَ دَرَا زَكِر كِي جِلْدِي
 جِيْنَا - قِي السَّيْرِ رُسِي جِلْدِي
 جِلْدِي جِيْنَا -
 اِسْطَهَطَعَ - الْبِيْعِيْرُ قِي سَكِيْرِي
 اِدْنُ كَا دَوْرَانَا -
 الْهَطِيْعُ جِيْرَا رَاسَتِي - نَاقَةٌ
 هَطَعِي تِيْرَفَتَا رَاوْتِي
 الْمَعْطِخُ - نَا: كَشْكِي كَا نِي وَا لَ -
 هَطَفَتِ (من) هَطْفًا - السَّرَاعِي -
 دَوْدُو دَوْدِيَا - السَّارُ: اَسْمَانُ كَا
 بَارَشَ بَرَسْنَا -
 الْهَطْفُ - هَبْتُ بَارَشَ
 هَطَلَ (من) هَطْلًا وَهَكَلَانًا وَ
 تَهَطَّلًا - الْمَطْرُ - مَوْسِلَادَا
 بَارَشَ - سِيْمَ - بَرَسْنَا صِفَتِ:
 (هَاطِلٌ) مَوْتٌ: هَاطِلَةٌ ج:
 هَطَلَ - اَلْجَدِي الْعَرَسِي جِيْنِي
 نِي كِهْرِي كَا پِيْنِي نَكَالِ وَا
 هَطَلَتِ التَّاقَةُ: اِدُونِي كَا كِرْمَ
 رَتَا رُسِي جِيْنَا - هَطَلَ الرَّجُلُ
 اِدْمِي كَا اِنِي مَرُورَتِ كِي لِي سِيْدِي
 جِيْلُ كِر جَانَا - هَطَلَتِ الْعَيْبُ بِالذَّمِّ
 اِنِي كِي كَا اِنْسُو جَانَا -
 قَطَطَلَ الْمَطْرُ: مَوْتِي مَرْمُومِي بُوْنُو كِي
 بَارَشَ كَا سِيْمَ بَرَسْنَا -
 تَهَاطَلُوا عَلَيَّ كِرَا - اِي كِي دَوْرِي كِي جِي
 اِنَا -
 الْهَاطِلُ - قَا: كِنَانُ كِيْتِي
 الْهَطَالُ - مِيْنِ الْمَطْرُو وَالسَّحَابِ
 زَوْرِي مَوْسِلَادَا بَارَشَ -

الهِطْلُ - مم - لگاتار بھلی بارش - جھڑی
تھکن

الهِطْلُ - بھیر یا چور - بوقوت -
الهِطْلُ - بڑی بڑی بوندوں کی لگاتار
بارش - دِيمَةُ هَطْلٍ وَهَطْلَاءُ
موٹی موٹی بوندوں کی جھڑی -

نَاقَةُ هَطْلِيٍّ آسْتَهْ جِلْتَهْ وَالِي
اوٹنی - اَبْلُ هَطْلِيٍّ وَهَطْلِيٍّ
بغیر چرواہے کے آزاد چھوٹے ہوتے
اوٹ -

الهِطْلُ لَوْمِيٍّ - غازیوں کی ایک چھوٹی
جماعت - ماوراء النہر کا علاقہ
ترکوں یا ہندوستانیوں کی ایک
جماعت - جہ: هَيَا طِيلُ
وَهَيَا طِيلَةَ -

الهِطْلَةُ بَيْتِلُ يَاتَانِي كِي دِيچِي
هَطْلَسَ - الشئ: تمام لے لینا
هَطْلَسَ - اللص: چید کرتا -
الْمَرْيُوسُ مِنْ عِلْتِيهِ مَرْضِي
افاقہ پانا -

الهِطْلَسُ وَالْهَطْلَسُ - راہزن
چور، بھیر یا - بردا لشکر
هَطْلَطَ الْقَرْيُوسُ كِهْوَرِي كَا مَبْتِنَانَا -
- الرجل: تیز چلنا - فِي الْفَعْلِ
کام میں تیزی کرنا -

الْمُهَاطَطُ كِهْوَرَا
مُهَاطَطُو هَطْوَا - بکڑا - چینکنا -
الْمُهَطِي - پھیلاؤ - سخت چوڑ -
هَعْرَنَ هَعَا وَهَعَا -

هَعْرَتَ رَضَا هَعَا وَهَعْفِيَّتَا الرِيحُ
ہوا کا سائیں سائیں کر کے چلنا -
هَعْرَ الرَّجُلُ تِيْرَ جِلْتَا - الشئ:
سبک اور ہلکا ہونا -

اِهْتَفَّ - السراب مراب کا چینکنا -
اِهْتَفَّتْ اَدْنِي كَانِ كَا سَائِي سَائِي كَرْنَا

الِهْفُ - کھیتی جس کی کٹائی ہونے کی وجہ سے
اُس کے دانے بکھر جائیں - چھوٹی

پھلیاں - پانی کے بڑے بڑے
کالے کیرٹے - واحد: هِفْتَا وَ
الِهْفُ بکرا پھلکا آدمی - خالی شہد
کا چھتہ بہر بھلی کھوکھلی چیز -

سَعَابُ هِفْتٍ تِيْلَا پَانِي سَا خَالِي بَادِي
کتے ہیں مَا قِي يَتِيْهِ هِفْتًا وَلَا سَفَا
- تمہارے گھر میں تہ کھانے کو
کچھ ہے اور نہ پیسے کو -

الِهْفَاتُ - چکنے والا - مِنَ الْاَجْنِيَةِ
پرواز میں بکرا مِنَ الْقَمِيصِ تِيْلَا
شفاق قمیص - مِنَ الْحَمْرِ
سبک و چیت من الظلال، ٹھٹھا
سایہ رَجُلٌ هَفَاتُ الْقَمِيصِ
بکرا پھلکا آدمی -

الِهْفَاتُ مِيْمُوْنَتُ الْهَفَاتُ
خوش گوار یا تیز چلنے والی ہوا -

الِهْفَاتُ كِهْوَج - نشان جَاوْ عَلِي
هَفَاتِي، وہ اس کے نشانات قدم
پر آیا جَارِيَةً مَهْفَفَةً
پتلی کر کی لڑکی -

هَفَّتَ رَضَا هَفْتًا وَهَفَاتًا -
الشيء بکے پن سے چیر کا اڑنا -
پست ہونا - تپلا ہونا الرَّجُلُ نَا سَجِي
سے بہت بولنا -

هَفَاتَ - عَلِي الشئ لگاتار گرنا -
الْفَرَسُ اَشِي عَلِي النَّارِ پَرَوَانِ كَا اَكْ
میں گرنا - النَّاسُ عَلِي الْمَاءِ
لوگوں کا پانی پر بھیر کرنا - الْقَوْمُ:
لوگوں کا مر کر گرنا - الثوبُ: کپڑے
کا بوسیدہ ہو کر گرنا -

اِهْفَفَتَ الشئ: چیر کا پست ہونا
ذیل ہونا -
الِهْفَاتُ اِحْتِ -

الِهْفَتُ مِم لِيْسْتِ دِيْنِ - بہت بوقوت
ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا الْهَفْتُ
مِنَ الْمَطَرِ تِيْرَ سِنِي وَالِي بَارَشِ -
مِنَ الْكَلَاهِ بِي سُوچے کچھ بہت
گفتگو -

الْمُهْفِيْفَةُ - مِيْن النَّاسِ بھوک اور
سختی کے مارے ہوئے لوگ -
الْمُهْفُوْتُ مِيْجِر - حیران -

تَهْفَكَ مَضْرَبَانِ سَرْتِ رَتَا رِيْجَا
الْمُهْفِيْكُ نَا مَضْرَبِ سَرْتِ رَتَا
(- وَالْمُهْفَكَ) بہت خطا اور
غلطی کسے والا -

هَفَفَتْ هَفَفَةً - الرَّجُلُ: پتلے پن
والا اور نازک اندام ہونا -

ظَلَّ هَفَفَتْ سَرُوْسَا يِهْ مِي سَرُوْسَا
چل رہی ہو -

الِهْفَاتُ تِيْلِيْ سِيْٹِ وَالَا - پیا سا - تپلا ،
شفاق کپڑا اَعْرُوتًا هَفَفَاتًا
سایہ دار ٹھٹھا کرہ -

الْمُهْفَفُ - تپلے پٹ اور باریک کمر والا
مُوْنَتُ: مَهْفَفَةً

هَفَا يَهْفُو هَفْوًا وَهَفْوَةً وَهَفْوَةً
جلدی چلنا - الطائرُ: پرندہ کا پر
پھرا اِيْرَاكِرُ اُرْتَا - الرجل:
پھسنا - بھوکا ہونا -

هَفَّتَ تَهْفُو هَفْوًا وَهَفْوًا
الرِيْشَةُ اَو الصَفِيْتَا فِي الْهَوَا
پر یا اُون کا ہوا میں اُرْتَا - الرَّيْحُ
الرِيْحُ بِالْمَوْقِفِ تِيْلَا اَوْنِ كَرُ اُرْتَا
هَفَا الْهَوَا د - دل دھرو کنا کسی چیز

کا گرویدہ ہونا - فَلَانٌ اَو جَا هَرْنَا
هَفَا التَّطْلِيْمُ شَرْمُخُ كَا دُوْرْنَا
هَاقَاةُ مَهَاقَاةُ خَرَا سِيْشُو كِي لَرَفِ
مائل کرنا -

الِهَاقِي نَا - بھوکا -

الْهَيْقَلُ يَزْنُ الْهَيْقَلُ ج: هَوَاتِنُ
 هَوَاتِنُ الْإِسْبَلِ - گم شدہ اونٹ
 الْهَيْقَلُ بَرَسٌ كَرُوكٌ وَكُلُّ جَانِمِوَالِي بَارَشِ
 الْهَيْقَلُ - نعلون - لغزش
 الْهَيْقَلُ بَارَشٌ رَجُلٌ هَيْقَلٌ بِي وَقُوتِ
 آدَمِ -
 الْهَيْقَلُ يَغْرَشُ ج: هَفَوَاتٌ -
 الْهَيْقَلُ بِي وَقُوتِ لُوكِ
 هَيْقَلٌ رَضٌ هَيْقَلٌ - الرَّجُلُ: بِيَاكُنْ -
 هَيْقَلٌ (ف) هَيْقَلٌ - الرَّجُلُ كَهْرُوكِ
 دَارٌ لِكَا نَا -
 تَهَقَّقَ الرَّجُلُ عَلَيْنَا: بِي وَقُوتِ بِنَا يَكْبِرُنَا
 نُسْقِعَ - اوندھا ہونا -
 اَهْتَقَعَ - الرَّجُلُ: سَبْتٌ مَجُوكَا بُونَا -
 اَهْتَقَعَ رُوكُنَا - مَنَعَ رُنَا اَهْتَقَعَ
 قُلَانَا عَرَقٌ سُوِيءٌ - فُلَاكٌ كُوَا سِ كِي
 بَدَا صِلِي نِي شَرَفٌ تَكٌ سَبِيحِي سِي رُوكِ
 وَيَا اَهْتَقَعْتِ الْعَمِي وَفُلَانَا
 كُوسِي كُو سَخَا رَا كِي دُنِ چُورُوكِ چِرُطَا
 اِكَا تَرَا آتَا -
 اَهْتَقَعَ - كُو فُو عُو فِ يَا كَبِرَا بِي سِي
 رَنگِ تَبْدِيلِ بُونَا -
 الْهَيْقَاعُ عَمٌ يَا بِي مَارِي كِي وَجِبِي سِي پِيَا
 شَرِي غَفَلَتِ -
 الْهَيْقَاعُ حَرِيصٌ - مَزْنَتٌ وَهَيْقَاعَةٌ
 الْهَيْقَاعَةُ چَانڈِ كِي پَا سُوِي مَزَلِ مِي تِنِ
 سَارُوں كَا نَامٌ - كَهْرُوكِ كِي سِينِي
 كِي وَسَطِي دَا رُو -
 الْهَيْقَاعَةُ لُوكُوں كِي وَرَمِيَانِ سَبْتِ تَكِ
 لگانے والا یا بیٹنے والا
 الْهَيْقَاعَةُ تَلْرَا كِي مَجْنَاكَا - آواز
 سِنِنِي كِي سِي خَشِكِ چِرِوكِ خَشِكِ
 چِرِ پَرَا رُنَا يَا لُوسِي كُو تَجِرِي سِي مَارُنَا
 الْمَهْقُوعُ مَقْعٌ: وَسَطِ سِينِي پَرَا رُو رُو كُنِي
 دَا لَكُرُوَا -

الْهَيْقَلُ چُورَا -
 الْهَيْقَلُ شَرْمَرُوكِ - لِمَا بِي وَقُوتِ -
 مَزْنَتٌ هَيْقَلَةٌ
 الْهَيْقَلُ - مَجُوكَا -
 الْهَيْقَلُ - جُوَانِ شَرْمَرُوكِ - كُو رُو -
 الْهَيْقَلُ - اِكِي قَسْمِ كِي چَالِ -
 هَيْقَمٌ (س) هَيْقَمًا سَمْتٌ مَجُوكَا بُونَا
 صِفَتٌ (هَيْقَمٌ) سَبْتٌ لُحَانِي پَرِ
 سَبِي بِي مَعْنِي نِي بُونَا -
 تَهَقَّقَهُ مَغْلُوبٌ كَرُنَا - تَهَقَّقَمُ -
 الْطَعَامُ: كَحَانِي كُو بَرَابَرِ بُو سِي رُوكِ
 لُوكُوں سِي نَكُنَا -
 الْهَيْقَمُ سَمْدَرٌ - پِيُو - لِمَا رُوكِ
 الْهَيْقَمُ - كَشَا وَه سَمْدَرٌ - سَمْدَرُوكَا شُورُ
 هَيْقِي هَيْقِيًا - سَمْرَا سِ كَرُنَا -
 فُلَانَا: كُوسِي كُو دِشْنَامِ وِنَا -
 فُوَا دُوَةٌ - وِلِ پَرَا كُنْدِي بُونَا -
 اَهْقَاةٌ اَهْقَاةٌ - خَرَابِ كَرُنَا -
 هَيْقَانٌ هَيْقَانًا گُورُوكِرُنَا -
 الطَّائِرُ پَرِمُو كَا بِيٹِ كَرُنَا -
 النُّعَامُ شَرْمَرُوكِ كَا پَا سِي خَانِي كَرُنَا
 الشُّي: پِيَا صِفَتِ مَعْنِي
 (مَجُوكُوكِ وَهَيْقَلِيكِ)
 هَيْقَانٌ بِالرَّمْحِ نِي زِي مَتْرَا تَرَا مَارُنَا -
 هَيْقَانٌ بِالسَّيْفِ تَلْرَا رَا رُنَا
 هَيْقَانٌ نَبِيذٌ فُلَانَا: مَبِيذَا كُوسِي كُو
 مَتْرَا لَا كَرُنَا - النُّبِي: وَرُو رُو كَا نَا
 - فُلَانَا: لَا غُرُو وِلْمَا كَرُنَا -
 - النُّجَارُ الْعَرَقُ بَرُو صِي كَا سُو رُو
 كُو سِي بِي كَرُنَا هَيْقَلَتِ الْهَيْقَلُ: كُنُو سِي
 كَا لُو بُونَا -
 هَيْقَانٌ - الشُّي: چِرِوكَا گَرَا يَا جَانَا -
 هَيْقَلَتِ الرَّجُلُ مَغْطَرُوكِ بُونَا
 اِنْتَقَلَ - الْبَعِيدُ اُونٹِ كَا بِيٹِنِي وَ
 زَمِيْنِ سِي چُرُوكِ جَانَا - الرَّجُلُ:

كُوسِي كَا نَبِيذِي سِي مَسْتِ بُونَا -
 الْهَيْقَانُ مَصْرٌ - نَاسِدُ الْعَقْلِ - ج:
 هَيْقَلَةٌ وَ اَهْقَاكٌ سَمْتٌ بَارَشِ
 الْهَيْقَلُ نَذَاقٌ وَ سَبِي كَرُنِي وَ اَلَا - كُرُو رُو
 كُوسِي
 رَجُلٌ هَيْقَانٌ بِي نِيَادِ بَاتِ كُو صَبِيحِ مَجُوكِ
 كُرُو بُونِي وَ اَلَا -
 هَيْقُوْكٌ - مِوْطَا - نَذَاقٌ وَ سَبِي كَرُنِي وَ اَلَا
 سَمْتٌ جِكِي يَا زِمِ جِكِي -
 الْهَيْقَلُكِي يَا سُوَا - مَخْتَلٌ -
 الْمَهْقُوكُ مَقْعٌ: مَسْرَا بِي بَاكِ -
 الْمَهْقَلَةُ - وَه عُو رَتِ جُو دِشُوَارِي سِي سَبِي جِنِي
 هَيْقَلٌ رَضٌ هَيْقَلًا - سَبِي نَذَاقِ كَرُنَا
 هَيْقَلٌ - عَلِي غَرِيْبِي مَقْرُو صِنِ پَرَا شُرُو كَرُنَا -
 وَ بَا وُ دَا نَا -
 هَيْقَلٌ رَضٌ وَ هَيْقَلٌ رَضٌ هَيْقَلًا وَ
 هَيْقَلًا وَ هَيْقَلًا - مِيْنِ كَرُنَا
 سَبْتٌ تَعَجِبُ كَرُنَا
 هَيْقَلٌ رَضٌ هَيْقَلًا وَ هَيْقَلًا - اُو كُو آتَا
 تَهَقَّقَتِ - حِرَانٌ وَ مَتْعَبٌ بُونَا -
 الْهَيْقَلُ - مَتْعَبٌ (- وَ الْهَيْقَلُ)
 اُو كُو مَعْنِي وَ اَلَا - قَا فِيْهِ مَهْمُوكُوكِ
 مَهْمُوكَا - اسِ مِي كُو تِي تَعَجِبُ عِيْنِ -
 هَيْقَلٌ (ف) هَيْقَلًا اَرَامٌ كَرُنَا مَجُوكِرُنَا
 هَيْقَلَتِ الْبَيْتِ مَسْمُوكِ الْمَشْجَرِ
 شِدْتِ كُو كَرُنَا مِي كَسِي كَا وَرَفْتِ كِي
 سَا يَرِي اَرَامِ لِيْنَا - الرَّجُلُ: اَقَامَتِ كَرُنَا
 كَتِي سِي ذَهَبِ فُلَاكِي قَمَا يَدِي
 اَيْنَا سَكَةٌ وَ اَيْنَا هَيْقَلَةٌ -
 كَرُنَا تِي نِيْنِ كُو وَه كَانِي اُو رُوكَا لُوكِ
 هَيْقَلَةٌ اللَّيْلُ رَاتِ كَا اَنْدِ مِي رِيْنَا
 فُلَانٌ يَا لُقُوْرِي وَ اِلَى الْقُوْرِي
 شَامِ كِي بَعْدِ قَوْمِ كِي پَا سِ اُو رُنَا - الرَّجُلُ:
 عَمٌ يَا عَضٌ سِي سَرْمَجَانَا - اِلَى الْاَرْضِ
 زَمِيْنِ كِي لُوكِ جَانَا - مَطْمَطٌ -

بڑی کا درست ہونے کے بعد ٹوٹنا۔
 فَكَيْرٌ رَسًا هَلْعًا وَ أَهْتَكَمَ مَطْعَمًا
 گھبرانا۔ خاکساری کرنا
 الْهَكَعُ۔ کھانس۔ ٹکان کے بعد کی میند
 الْهَكُوعُ۔ درخت کے سایہ میں آرام لینے
 والا۔ گالیوں کا گلہ۔
 الْهَكْعَتِ اجتمع
 هَكَلٌ۔ تھکیلا۔ الْحَصَانُ وَالْمَرَاةُ
 تکبرانہ حال چلنا۔
 تَهَاكَلٌ۔ الْقَوْمُ قوم کا کسی امر میں جھگڑنا
 هَيْكَلٌ۔ الزَّرْعُ کھیتی کا بڑھنا۔
 وراز ہونا۔
 الْهَيْكَلُ۔ لمبی نباتات یا درخت۔
 واحد هَيْكَلَةٌ (ادنی عمارت
 بڑا جانور۔ گرجے کی قربان گاہ۔
 بُت۔ صورت۔ شخص۔ جم: هَيْكِلٌ
 هَكَمَ تَهَكِيمًا۔ فَلَانًا وَ يَفْلَانٍ
 کسی کے لئے گیت گانا۔
 تَهَكَمْتُ۔ الْبُتْرُ وَ نَحْوُهَا کنوئیں
 غیرہ کا ڈھنا تَهَكَمَ فَلَانًا وَ يَفْلَانٍ
 کسی کے ساتھ مسخری کرنا۔
 زَيْدًا اِپے دپے نیزہ مارتا۔ تَهَكَمَ
 عَلَيَّ فَلَانٌ کسی پر بہت غصے
 ہونا۔ عَلَيَّ الْأَمْرُ الْفَائِتِ افسوس کرنا
 نام ہونا۔
 الْمَطْرُ۔ ناقابل برداشت بارش برسا
 ۔ فَلَانٌ گانا۔ يَفْلَانٌ کسی کے لئے
 گانا۔ يَفْلَانٌ کسی کو بہت یاد کرنا
 الْعَيْكَمُ شَرِيحٌ غیر مفید کام میں کود پڑنے
 والا۔
 الْأَهْكَومَةُ طُحْمًا۔
 الْمُسْتَهْكَمُ متکبر۔
 تَهَكَّنَ۔ عَلَيَّ الْأَمْرُ الْفَائِتِ نام ہونا
 هَاكَاهُ مَهَاكَاهُ۔ کم عقل کھینا۔
 الْأَهْكَاءُ۔ حیران لوگ۔

ہل حرف استفہام ہے معنی تو کیا، جیسے
 هَلْ طَلَعَ النَّهَارُ كَمَا دُنْ كَلَّ أَيَا
 اور یہ نسبت ایجابیہ کے استفہام کے
 لئے مخصوص ہے مثلاً هَلْ قَامَ
 زَيْدًا کہہ سکتے ہیں لیکن هَلْ لَمْ يَقُمْ
 نہیں کہہ سکتے۔ اگر نفی سے استفہام
 مقصود ہو تو ہمزہ لاتے ہیں پھر ہل
 ایسے اسم پر بھی نہیں آتا جس کے بعد
 فعل ہو۔ مثلاً هَلْ قَامَ زَيْدًا
 اور هَلْ زَيْدًا قَامَ کہنا درست ہے
 لیکن هَلْ زَيْدًا قَامَ کہنا درست
 نہیں۔ اسی طرح هَلْ نہ جملہ شرطیہ پر
 آتا ہے نہ اس جملہ پر جس پر ان حرف
 تحقیق داخل ہو۔ مثلاً نہیں کہہ سکتے
 هَلْ إِنْ قَامَ زَيْدًا لَقَمْتُ۔ یا۔ هَلْ
 إِنْ زَيْدًا قَامَ لَقَمْتُ بخلاف
 ہمزہ کے کیونکہ اس میں وسعت ہے نیز
 هَلْ مضارع پر داخل ہو کر اس کو
 مستقبل کے لئے مخصوص کرتا ہے گویا
 نہیں کہہ سکتے هَلْ تَذْهَبُ الْآنَ
 هَلْ (ن) هَلًا۔ الْمَطْرُ بارش
 کا زور سے برسا الْهَلَالُ نیا چاند
 دیکھنا هَلْ الشَّهْرُ قَرِي مِينَةٍ
 شروع ہونا۔ الرجل: خوش ہونا۔
 چلانا۔
 هَلَلٌ تَهْلِيلًا۔ تَبِيحٌ بِرُضَا هَلَلُوا
 کہنا یا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا۔
 هَلَلُ الرَّجُلِ آدمی کا بزدل ہونا
 بجاگنا عَنْ قِيْزِيْهِ بیچھے ہونا۔
 عَنْ شَمَةِ گالی دینے سے رُکنا
 الْكَاتِبُ کتاب لکھنا۔
 هَالٌ هَلَالًا وَ مَهَالَةً۔ الْاَجِيْدُ
 مزدور کو مہینہ کے لئے لوکر رکھنا۔
 اَهْلٌ۔ الْهَلَالُ چاند ظاہر ہونا۔
 الشَّهْرُ ماہ قمری کا شروع ہونا۔

أَهْلُ الْقَوْمِ الْهَلَالُ چاند دیکھتے
 وقت لوگوں کا آواز کرنا الصَّبِيُّ بچہ
 کا رونے میں آواز بلند کرنا۔ الرجل:
 کسی کا نئے چاند کی طرف نظر کرنا۔
 السَّيْفُ يَفْلَانُ تلوار کا کسی کو کھانا
 الْعَطَشَانُ پیاسے کا تھوک جمع کرنے
 کے لئے۔ زبان کو تالو سے لگانا۔
 اللَّهُ السَّحَابُ الشَّرْكَاءُ بادل سے پانی
 برسا۔ الشَّهْرُ مہینہ کا چاند دیکھنا
 ۔ الْمَلِيحُ تکبر بلند آوازی سے کہنا۔
 فَلَانٌ يَذْكُرُ اللَّهُ كَوْنِي نِعْمَتٍ بِأَكْر
 یا عجیب چیز دیکھ کر اللہ کا ذکر بلند
 آوازی سے کرنا۔ اَهْلٌ بِالْيَمِيْنَةِ
 عَلَى الذَّبِيْحَةِ دیکھ کر اللہ کا نام لینا
 اَهْلٌ۔ الْهَلَالُ نیا چاند نمودار ہونا
 ۔ الشَّهْرُ۔ نیا مہینہ شروع ہونا۔
 تَهَلَّلَ۔ الْوَجْهَ أَوِ السَّمْعَ ب۔
 چہرے یا بادل کا چمکنا۔ فَلَانٌ
 کسی کے چہرے کا خوشی سے دیکھنا۔
 تَهَلَّلَتِ الْعَيْنُ۔ آنکھ کا آنسو بہانا
 تَهَلَّلَ دُمُوعًا آنسوؤں کا بہنا۔
 اِهْلَلَّ۔ الْمَطْرُ زور سے تر بارش
 برسا۔ اِهْلَلَّ بِعَيْنِي تَهَلَّلَ۔
 الرجل: ہنسنے میں دانت ظاہر کرنا۔
 الْمَطْرُ بارش برسا۔
 اِسْتَهَلَّ۔ آسمان کا پہلی بارش برسانا۔
 ۔ الْقَوْمُ الْهَلَالُ لوگوں کا ہلال
 دیکھنا۔ الشَّهْرُ مہینہ شروع ہونا
 ۔ الشَّهْرُ مہینہ کا نیا چاند دیکھنا۔
 الرَّجُلُ: چہرے کا خوشی سے چمکنا۔
 الصَّبِيُّ بچہ کا پیدائش کے وقت
 زور سے رونا۔ ہر بولنے والا کا اپنی
 آواز کو اونچی کرنا۔
 تَهَلَّلَ۔ ہلال ظاہر ہونا۔ تلوار نکالی جانا
 اِهْلَالٌ۔ نیا چاند۔ پہلی سے تیسری یا

ساترین رات یا آخر ماہ کی دو راتوں میں چھبیسویں، ستائیسویں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور باقی راتوں کے چاند کو قمر۔ اہل ہیئت کے نزدیک پہلی رات کا چاند ہلال ہے۔

الہلال تھوڑا پانی شکار کے گھاؤ لگانے کا لوبہ۔ سانپ۔ سانپ کینچلی جوتے کا قسم۔ لاغزادہ۔ غبار۔ ناخنوں کی جڑوں کی سفیدی۔ اونٹ کا نشان خوبصورت لڑکا۔ ٹٹنی ہوئی بچی وغیرہ کا کنارہ۔ برچھاڑ۔ پہلی بارش۔ ج: اہلہ و اہالیئل (نادر) الہالیئل بارشیں۔ الہلال۔ پہلی بارش۔ الہل۔ سم۔ باریک بال۔ کپڑا الہل۔ قمری ماہ کا آغاز الہلل۔ ڈر۔ کڑھی کا جالا۔ پہلی بارش بارشیں۔ واحد (ہلتا) ہلا کیوں نہیں۔ ہل اور لاسے مرکب ہے یہ جب مامنی پرواغل ہوتا ہے تو ترک فعل پر طاعت کے معنی دیتا ہے جیسے ہلا آمنت یعنی تو ایمان کیوں نہیں لایا۔ اور اگر مضارع پڑے تو کسی فعل پر برا تکلیف کرنے کے لئے ہوتا ہے جیسے ہلا تو میں تو ایمان کیوں نہیں لاتا۔

الہلی۔ خوشی جو ظلم کے بعد آئے۔ الہلتا۔ چراغ وان کہتے ہیں ما اصابت ہلتا اس نے کچھ نہیں پایا۔ الہلل بارشیں۔ واحد (ہلتا) کہتے ہیں۔ جادونا فلان فلان قلم یا تینا بعلیہ والابکتہ فلان ہمارے پاس آیا اور کچھ نہ لایا۔ ذہب بہتیاں دبئی ہلیان وہ چلا گیا مگر پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔

ہتلو یا۔ خدا کی تسبیح کرو (عبرانی زبان کا لفظ ہے)۔

الہلیکتہ ایسی زمین جو بارش سے سیراب ہو لیکن اس کے گرداگرد کی زمینیں سیراب نہ ہوئی ہوں۔

المہلل۔ قا۔ وہ آدمی جو اپنے ہمسر پر حملہ کرے لیکن پھر بڑی دلی کی وجہ سے ہٹ جائے۔

المہلل۔ کمان کی طرح جھکا ہوا۔

ہلبہ (رض) ہلبا بال اکیروتا۔

ہلب ذنب الفرس گھوڑے کی دم کا ٹٹا۔

ہلبت السماء القوم آسمان کا قوم کو بارش سے گیلا کرنا۔ یا لگاتار بارش برستا۔ الفرس گھوڑے کا مسل دوڑنا فلان القوم پلیمانہ ہجو کرنا۔ گالی دینا۔

ہلب (س) ہلبا بہت بالوں والا ہونا

ہلبہ۔ بال اکیروتا ہلب القوم پلیمانہ ہجو کرنا۔ گالی دینا

اہلب۔ الفرس گھوڑے کا لگاتار دوڑنا

تہلب و اہلب۔ الشعر بال کا کھڑا ہوا ہونا۔

اہلب۔ السیف من عمدا ہلووار سوزننا لیلہ ہالبتہ بارش والی رات

الہلب بال۔ پلکیں بعض کے نزدیک موٹی پلکیں۔ دم کے بال۔ غنزیہ کے بال۔ واحد (ہلبتہ)

الہلب۔ بہت بالوں والا

الاہلب بہت بالوں والا۔ بے بالوں والا

(رض) ذنب اہلب۔ کٹی ہوئی دم

عامہ اہلب بہت بارش کا سال

سرسبزی کا سال۔ عیش اہلب۔ آسودہ زندگی۔

الہلباء موزت الہلب۔ دقہ۔

ہلبا بہت بالوں والی گردن۔

دقنا فی ہلبتہ ہلبا ہم سخت مصیبت میں پھنس گئے۔

الہلبتہ۔ پیڑو۔ ایک ستارہ ہلبتہ الشمس۔ مینے کا آخر ہلبتہ الشتاء والزمان موسم سرما یا زما کی سختی۔

الہلاب بہت ہجو کرنے والا۔ بارش والی سرد ہوا۔ عامہ ہلاب بہت بارش کا سال۔ یومہ ہلاب ہوا اور بارش والادون۔

الہلاب و الہلیب و المہلب جنوری کے سخت دن۔

المہلابتہ بارش والی سرد ہوا

الاہلوب۔ فن۔ طریقہ۔ اسلوب۔ ج: اہلب

آہالیب۔ ہلبتہ الشتاء اور ہارے یا زما کی سختی المہلب ہجو کیا ہوا

ہلت (ن) ہلتا۔ الشئ چھینا۔

الہلت۔ چھلنا۔

الہلات و الہلیان

الہلتی و الہلتاء و الہلتاء و الہلتاء و الہلتاء بہت شور کرنے والی جماعت۔

ہلج (رض) ہلجا۔ غیر یقینی خبر۔ نیا

اہلج۔ الشئ چھینا۔

الہالج۔ پریشان خوابیں دیکھنے والا۔

الہلج۔ غیر یقینی خبر۔ نیند کی جھپکی۔

(۔) والہلج (پریشان خوابیں

الہلج۔ ایک کانٹے والا درخت

تہلج۔ الرجل وامن چننا۔

چوکس ہونا۔

ہلسہ (رض) ہلسا۔ المرضی بیماری کا کسی کو لاغر کر دینا۔

ہلس۔ سب کی بیماری لاحق ہو کر انسان کا پاگل ہونا۔ صفت: (مہلوس)

الْمُهْلِكُ وَالْمُهْلَكَةُ - ہلاکت - ہلاکت کہتے ہیں
لَا ذَهَبَ قَامًا هَدَّتْ وَ
أَمَامَكَ يَعْنِي مِي جَا كَر رَهْمُونِ كَا خِرَاه
تَحْتِ طِي يَا تَحْتَه -
الْمُهْلِكُ قِحْطُ كَيْسِيَا
الْمُهْلِكُ قِحْطُ كَيْسِيَا - واحد -
(هَلَكَةً) مَرَوَارِكِي لَاش -
پھاڑ کی چوٹی اور اس کے وامن کے درمیان
کی فضا - گر نیوالی چھیر -
الْمُهْلِكُ ہلاکت ہونے والا نفس -
الْمُهْلِكَةُ ہلاکت -
الْمُهْلِكَةُ - گرنے والی - ج: هَدِيَتْ
الْمُهْلِكَةُ - ہلاکت - ج: هَدَاكَات
الْمُهْلِكَةُ قَرَأْتُ رَاسَهُمْ كَرُوهُ لُوك -
الْمُهْلِكُونَ الْمُهْلِكُونَ قَحْطُ زَوْه زِيْمِن
وہ زمین جس پر عرصے سے بارش نہ ہوئی ہو
الْمُهْلِكُ - آوارہ عورت ج: هَدَّتْ
الْمُهْلِكَةُ ہر وہ شے جس کا انجام ہلاکت ہو
الْمُهْلِكَةُ - دوسروں پر گزارہ کرنے
والا الْمُهْتِكُونَ - چارہ کی تلاش
میں راہ گم کر وہ لوگ -
الْمُهْلِكَةُ وَالْمُهْلِكَةُ وَالْمُهْلِكَةُ
ہلاکت کی جگہ - رگستان - بیابان ج:
قَهَالِكُ - الْمَهَالِكُ رَوَائِيَا -
طَرِيقًا مُسْتَحْدِكُ الْوَرْدِ
وشوار گزار راستہ -
أَهْلَكَ - بَقْلَانِ - بَلَانَا - پکانا
أَهْلَكْتُ وَصِيْلًا
الْمُهْلِكُ پھاڑی ہرنیاں -
هَلَكْتُ حَيْلِي آؤ - لازم کبھی مستعدی جیسے
هَلَكْتُ شَرْدَاؤُكُمْ اِنِّي كُوَاهِرُونِ
کو حاضر کرو - مؤنث: هَلَكْتُ تَشِيْدَه
هَلَكْنَا ج: هَلَكْنَا وَهَلَكْنَا
الْمُهْلِكَةُ - بچنے کے گزشتہ و پرست سے
تیار کیا ہوا کھانا - سباج کا روغن سے

الْمُهْلِكُونَ - بہت بالوں والا - بخلق -
هَلَكْتُ (رَض) هَلَقًا وَهَلَقْتُ - جلدی کرنا
هَلَقْتُمْ - الشَّيْءُ حَيْرَانًا نَكَلًا -
الْمُهْلِكَةُ مَرُوْنَا - لَمْبَا - شِيْر - كَشَادَه بَا بَحْرِيَا
والا اونٹ وغیرہ (وَالْمُهْلِكَةُ)
بڑا سردار جو لوگوں کی دیتوں کو برداشت
کرے -
الْمُهْلِكَةُ وَالْمُهْلِكَةُ وَالْمُهْلِقَامَةُ
وَالْمُهْلِقَامَةُ وَالْمُهْلِقَامَةُ بِمِيُو كَهَاؤ
الْمُهْلِقَامَةُ قَوِي كَشَادَه بَا بَحْرِيَا وَالا -
برای عورت -
هَلَكْتُ رَضْتُ سِ هَلَاكَ وَهَلُوْنَا
وَهَلَاكَ وَتَهْلُوْنَا وَمَهْلِكًا
وَتَهْلِكَةُ قَنَابُونَا - مَرْنَا -
(- هَلَاكَ) اَلِيْهَ وَعَلِيْهَ
حریص ہونا لاپٹی ہونا خواہشمند ہونا
هَلَكَةُ وَاهْلِكَةُ فَا كَرْنَا - كَهُونَا
أَهْلَكَ الْمَالُ - مال بیچنا -
تَهْلِكُ - فِي مَشِيْهِ مَكَّ كَرِجْنَا -
- فِي الْمَقَاوِدِ رِيْكَتَانِ مِيْن
آوارہ پھرنا -
تَهَالَكُ - عَلَي الْفِرَاشِ فَرَشٍ پَر كَرْنَا -
فِي مَشِيْهِ مَكَّ كَرِجْنَا -
عَلَي الشَّيْءِ كَيْسِي حَيْرَانًا
ہونا فی الْأَمْرِ أَوِ الْعَدُوِّ
کوشش کرنا -
رَهْلَكْتُ وَاهْلَكْتُ - اپنی جان کو
خطرہ میں ڈالنا -
اِسْتَهْلَكْتُ هَلَاكَ كَرْنَا - اِسْتَهْلَكْتُ
الْمَالُ مَا خَرَجَ كَرْنَا - فِي الْأَمْرِ
کوشش کرنا -
الْمَهَالِكُ فَا ج: هَلَكْتُ وَهَلَكْتُ وَ
هَلَاكَ - وَهَوَالِكُ -
الْمَهَالِكَةُ مَوْنَث - الْمَهَالِكُ نَفْسِي يَا
الْمَهَالِكَةُ رَوَا -

هَلَسَ - الرَّجُلُ - دُوبَلَا هَوْنَا
كَهَالَسَةُ مَهَالَسَةً - سرگوشی کرنا -
أَمْرًا سَبْتًا عَلَيْنَا الْعَدِيْثُ - بات
چھپانا اِنِّي فُلَانٌ - کسی سے کوئی
بات چھپنے سے کہنا - الْمَرْقُ فُلَانًا
بیماری کا کسی کو گھلا دینا -
الْمَهَالِسُ فَا - وَاحِدًا (أَلْهَوَالِسُ)
دُوبَلَا - پتلے جسم والا
الْمَهَالِسُ - سِل کی بیماری
الْمَهَالِسُ مَع - بہت بھلائی - پتلا پن -
لاغری - سِل کی بیماری -
الْمَهَالِسُ - مَرَضٌ مَع - مَرُوْنَا - مَرُوْنَا
الْمَهَالِسُ مَع - رَجُلٌ مَهْلُوْسٌ - الْعَقْلُ
وَالْمُهْتِكَةُ مَسْلُوْبُ الْعَقْلِ -
تَلَامٌ مُهْلِسِيْن - مَدِيْمٌ اِنْدَهِيْرَا
كَلِيْعٌ رَسَا هَلَعًا - كَبِيْرَانَا مِصْفَت
(كَلِيْعٌ وَهَلُوْعٌ) مَجْهُوْكَا هَوْنَا
الْمُهْلِكُ - حَرِيْصٌ -
الْمَهَالِكَةُ - تَا - نَعَا مَهَالِكَةً تِيْرَتَار -
شَرْمُزُج - ج: هَوَالِكُ -
الْمَهَالِكَةُ مَع كِيْن - فَنَكْرَمَت
الْمُهْلِكُ مَع (- وَالْمَهَالِكُ وَالْمَهَالِكَانُ)
رَوَائِيَا مِي بَرُوْدِيَا -
الْمُهْلِكَةُ جلدی گھبرانے والا -
الْمَهَالِكُ - كَبِيْرَانَا وَالا - دُرُوكُ -
حَرِيْصٌ - لَاطِي مِصْبِيْتُوْنِ مِي مَبْرَتَه
کرنے والا -
الْمُهْلِكَةُ بیماری بھرم سخت بدن کا -
بڑی وارھی والا - بہت بالوں والا
گھنی وارھی - ابر آلود دن جس میں
سورج نہ نکلے - بہت بوڑھا آدمی -
زیادہ پشم والا اونٹ - جنگلی سور -
بہت بوڑھا آدمی - چھوٹا -
الْمُهْلِكَةُ بہت بھوٹا ہونے والا گھنی
وارھی - بڑھیا -

صاف کردہ شوربا
 الْهَلِيذُ - جینے والا الْهَيْلَمَانُ وَ
 الْهَيْلَمَانُ وَالْهَيْلَمَانُ سب سے چیز
 هَلْمَلٌ - التَّجَارُ الْكُوبَا
 کپڑے کر باریک بننا - الْقَوْتُ
 گلے میں آواز پھرانا - الشَّرُّو شَرُّ
 عمدہ بنانا - اصلاح کرنے کے بغیر
 شر جیسا بنے ویسا ہی کہہ دینا -
 الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ - انتظار کرنا - دیر
 کرنا - الطَّحِيْنُ أَمَا پھاننا -
 عَنْ الشَّيْءِ وَاسِ بونا - يَفْرِيهَا
 گھوڑے کو ہلکا کر ڈالنا هَنْعَلُ
 يُدَارِكُ قَرِيبٌ ہے کہ وہ اس کو جا پکڑے
 الْفَلَاهِلُ وَالْمَلْعَالُ وَالْمَلْعَلُ
 عمدہ شر یا باریک کپڑا
 الْمَلْهَلُ سب سے اور صاف پانی -
 وَالْمَلْعَلُ - بُرِي بِنَاوْثُ کاپڑا
 الْعَلُّ بَرَفٌ - هَالَاةٌ مَهَالَاةٌ جُغَلَانَا
 هَلَا - گھوڑے کو ڈانٹنے کی آواز
 الْهَلْيُونُ ایک قسم کی سبزی هَالُونُ
 واحد هَلْيُونَةٌ -
 هَمَدَنٌ هَمًا وَ مَهْمَةً
 الْأَمْرُ فَلَانًا - بے چین کرنا غم گین کرنا
 السَّقْمُ جِسْمٌ بِيَارِي كَالْحِسْمِ كُو
 گھلا دینا - حُلَانُ الشَّحْمِ
 چربی پگھلانا - السَّمْسُ الثَّلْجُ بَرَفٌ
 پگھلانا - اللَّبَنُ دُوْدُوْدُوْدُوْدُو
 (- هَمًا) بِالشَّيْءِ ارادہ کرنا
 قصد کرنا -
 هَمَّ دَنٌ هُمُوْمَةٌ وَ هَمَامَةٌ
 الرَّجُلُ سب سے بڑھا ہوتا -
 هَمَّتْ دَمْنٌ هَمًا وَ هَمِيْمًا
 خَشَّاشُ الْأَرْضِ مِنْ رِيْنِ كَيْرِي
 کوڑوں کا رنگین -
 هَمَّتْ - الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِ الْعَبِي

ماں کا بچہ کو لوری سے سلانا جو میں نکالنا
 أَهَمَّ - التَّشِيخُ سب سے بڑھا ہونا
 الْأَمْرُ فَلَانًا بے قرار کرنا - رنجیدہ
 کرنا - غم میں ڈالنا -
 تَهَمَّتْ جَهَشِيٌّ تَلَّاشُ کرنا - سر سے جو میں
 نکالنا وَ تَكَرَّمْتُ مَدُونًا -
 انْتَهَمْتُ الشَّيْخُ سب سے بڑھا ہونا -
 الشَّحْمُ أَوْ الْبَرْدُ - چربی یا اولے
 کا گھنٹا - گھنٹا - الْعَوْقُ فِي حَيْبِيْنِهِ
 پسینہ کا پیشانی پر بہنا -
 الْهَمَّتْ - الْبَعُوْلُ - تَرَكَارِيُوں كَالْبَنَدُوِيُوں
 میں پکایا جانا -
 اِهْتَمَّ الرَّجُلُ غَمَّ كَيْنٌ بُونًا -
 نَمًا يَأْمُرُ بِهٖ اِنچکام کے انتظام
 میں سب سے محنت کرنا -
 اسْتَهَمَّتْ - يَأْتِي مِرْوَفِي الْأَمْرِ -
 کسی امر میں مشغول ہونے کی خواہش
 کرنا - مَتْرَجٌ كَرَانَا -
 الْعَامَّةُ - هَرْدٌ هَرِيَا كِيْرُ اَج: هَوَا اُ
 جُوں -
 الْعَمَامُ - بَلَدٌ مِمَّنْ بَادِشَاهُ - بھا اور اور
 سخی سردار - شِيْرٌ - گھلا ہوا - بَرَفٌ
 یا چربی جو ہیتامہ
 الْهَمَّ غَمٌ - جُو هَمُوْدُو ارادہ تو یہ
 ضروری بات میں کے کرنے کا انسان نکر
 مند ہوا -
 هَذَا رَجُلٌ هَمَّ كَمَا مِنْ رَجُلِيْنِ
 یہ شخص تمہارے لئے فلاں شخص سے
 کافی ہے هَذَا رَجُلٌ هَمَّ
 صاحب اور بلذخیال آدمی -
 الْهَمُّ سب سے بڑھا آدمی جو: اَهْمَامٌ
 وَ بَلَاتِيْلٌ - قَدَّحٌ هِيْطٌ وَ هَابَا
 پُرَانَا پَسِيَالٌ -
 الْعَمَامُ کسی چیز کا ارادہ کر کے اس کو کر
 گزرنے والا - خِيْلُوْرٌ

الْهَمَّةُ وَالْهَمَّةُ هَمَّتْ - قصد ارادہ
 خواہش - ابتدائی ارادہ بچہ ارادہ
 بَعِيْدُ الْهَمَّةِ بَلَدٌ حَرْمَلَةُ آدَمِي -
 ج: هَمَّ - سَمَابَةٌ هَمُوْدُو
 سب سے بارش برسانے والا بادل -
 بَرُّ هَمُوْدُو سب سے پانی والا کنواں
 تَأْتِي هَمُوْمٌ خَوْشٌ رَقَارٌ اَوْ مَسِيْنٌ -
 الْهَمِيْدُ نَمٌ رَقَارِي سَرَاةٌ بَلْكَی بَارَشُ
 الْهَمِيْمَةُ - چھوٹی چھوٹی بوندوں کی ہلکی
 بارش جو هَمَائِيْمٌ
 التَّهْمِيْمُ ہلکی بارش
 الْمُهِيْمُ فَا - شَدِيْدٌ مَعَالِدٌ مَشْغُوْلٌ كَرْتِي
 والا معاملہ - جُو مَهَامٌ
 الْمُهِيْمَةُ - مَوْتٌ الْمُهْمُ جُو مَهْمَاتُ
 الْمُهِيْمَاتُ اِمْرٌ اَمْرٌ لَا مَعِيْمَتِيْ بِيْدَا اِلَّا كَ
 میں اس کے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا -
 الْمُهْمُوْدُو مَعْمُ: رَنْجِيْدٌ نَجْمِيْنٌ بَلْكَی ہوا
 هَمًا يَهْمًا هَمَاءٌ - الشَّيْبُ
 کپڑا کو کھینچ کر بھاڑنا - پُرَانَا كَرْتَا -
 اَهْمَاءُ - الثَّرْبُ: كِيْرِي كُو پُورَانَا پُرَانَا كِيْرِي
 اَهْمَاءُ - الثَّرْبُ - كِيْرِي كَا پُشْنَا - پُرَانَا ہونا
 الْهَمُّ پُشَا ہوا پُرَانَا كِيْرِي اَج: اَهْمَاءُ
 هَمَّتْ دَنٌ هَمَّتَا - الثَّرِيْدُ بَلْكَیَانِي
 والا ہونا -
 اَهْمَّتْ - الْكَلَامَا وَ الْفِرْحَتُ
 کلام یا سہی پھپھانا -
 هَمَجَّتْ دَنٌ هَمَجًا - الْاِبِلُ
 مِيْنِ الْمَكَا اَوْ مَثُوْلٌ كَا اِيْكٌ بَارِپَانِي
 پی کر سیراب ہونا - صَفْتٌ (كُو بُوِيْجُ)
 (- هَمَجَّتَا) سَبُو كَا ہونا -
 اَهْمَجَّ الْفَرْسُ: گھوڑے کا پُرْدِي
 رَقَارٌ سِے دُوْرُنَا - الشَّيْءُ: پُشِيَانَا
 اَهْمَجَّ الرَّجُلُ: كَرُوْرٌ ہونا -
 وَجْهٌ پَرُو پَرُوْرُو ہونا -
 الْهَامِجُ - فَا - وَهُوَ جُو كَا كَرُو اَفْرِيْبُو

وہ ریڑھ میں کا چرانا نہ ہو۔
ہمدیج ہامیج ریڑھ لوگ۔

الہمدیج - جھک - بد انتظامی - ایک قسم
کا پھر چھٹی مکھیاں - ڈوبی کھریاں
واحد (ہمدیج) - برتوت لوگ -
عانت الناس : ج آہماج
العیمیج من الطیاء جوان خوبصورت
جسم کا بدن - من التجالی پتلے
پرٹ والا۔

ہمدت (ن) ہمدو - ا - التارہ
آگ کا بجنا - ہمدو ہونا۔

ہمد القوم مرنا - صفت (ہامد)
دھمد و ہمید (ہمدت)
أصواتهم آوازوں کا بند ہونا۔

ہمد (ن) ہمدو و ہمدو - التریہ
کپڑے کا عرصہ تک پیٹے پیٹے تھوں پر
سے پیٹ جانا - صفت (ہامد)
ج : ہمد - ہمدت الارض
زمین کا بجز ہونا - بے آب و گیاہ ہونا
ہمدو بجانا۔

أحمد فی المکان : اقامت کرنا۔
فی البئر: جلدی چلنا - الکلب :
تیز دوڑنا - القوم فی الطعام کھانے
پر گوت پڑنا - أحمدت التریح
جوا کا ساکن ہونا - أحمد فلان
کلیفوں میں چپ رہنا - أصوات
القوم : آوازوں کا بلند ہونا -
غامض ہونا - القوط الارض :
قسط کا زمین کی نباتات کو کھا دینا۔
الہامد قا - متغیر بوسیدہ سیاہ خشک
نباتات و درخت - بجز جگہ : ج :
ہوا میں۔

العمادتی تیز رفتاری - تیز رفتا راوت
یا اونٹنی - گرمی یا بارش کی شدت
المداتی - بہت بولنے والا۔

ہمدان - شہر کا باشندہ - ہمدو
تیشی ہمدیج وہ طرح طرح

کی چال چلتا ہے۔

ہمد (ن) ہمدو - ہمدو پانی گراتا
الماء پانی کا گرنا ہمدو مافی

الضرع قن کا سب دو دودھ
لینا - الکلام و فی الکلام بہت

بولنا - العرس الارض - گھوڑے کا
زمین کو پاؤں سے زور سے مارتا۔

- لفلان من کالم - دینا - البناہ :
عمارت ڈھانا۔

ہامد مہامد : الشیء کل لے لینا۔
انہم الماء پانی کا بننا - گرنا - ہمدو

- الشجرۃ : درخت کا بھڑے ہوئے
پتوں والا ہونا - البناہ : عمارت

کا گرنا۔
اہتم - العرس : گھوڑے کا دوڑنا۔

الہامد - قا - بہت پرسنے والا بادل۔
العیب - موٹا آدمی - رمل ہامد

بہت ریت۔

الہمدیہ بارش کی بچھاڑ - غصہ سے
بھری ہوئی گفتگو۔

الہمدار - من السحاب بہت بارش برسا
والا بادل - من الرجال بہت

بھرا سی بڑا۔

الہمدیہ و الہمدیہ بہت بڑی عورت
الہمدیہ و الہمدیہ بہت بھرا سی بڑا

الہمدیہ ما قوں کی بہت ضیافت کرنے
والا۔

الہمدیہ - بہت بک بک کرتے والا۔
ہمدیج - علیہ الخیر - بڑا بھرا سی

کرنا۔
الہمدیہ - خبر کا گڑ بڑی - اختلاط -

خفت - سرعت - لوگوں کا شور۔
باطل - الہمدیج لوگوں کا شور

تہمدی - لوگوں کا حرکت میں آنا - اسم :
(الہمدیہ)

الہمدی - حرکت۔

الہمدی - بڑی عورت - بہت دودھ
والی اونٹنی۔

ہمدو - (ن - من) ہمدو چھلی لینا
دباننا - چھوٹا - ہمدو - مارنا - واتر

سے کاٹنا - غیبت کرنا - صفت :
رہماز و ہمدو - توڑنا۔

ہمدو الشیطان الانسان -
شیطان کا انسان کے دل میں دوسرے

ڈالنا - بہ الارض : زمین پر پھیلنا
- العرس : گھوڑے کے ہمیز

چھوٹا - العنب : انگور پھولنا۔
الکلمۃ او الحرف کلمہ یا حرف پر

ہمزہ لگانا یا ہمزہ کے ساتھ بولنا۔
انہمدت - الکلمۃ او الحرف

ہمزہ کی علامت والا ہونا یا ہمزہ کے
ساتھ پڑھا جانا۔

الہامد - فا - بڑا عیب گیر : ج :
ہمدو و ہمدو

الہمدی - مہمدو الشیطان جنم
الہمدیہ حرف ہمزہ - ج : کھڑا

ہمدت الشیطان -
شیطانی وسوسے۔

الہمدیہ - بکت چین - بہت عیب گیر۔
الہمدیہ - عیب گیر - طعن و تشنیع کرنے والا

رجل ہمدیہ انوار -
سمجھ دار تیز فہم آدمی۔

الہمدیہ و الہمدیہ - ایڑ - ج :
مہمدو و مہمدیہ۔

الہمدیہ - چاک وہ لاشی یا لڈا
جس کے سرے پر لوب کی کیل لگی ہو۔

ہمدیہ (ن) کھمسا الصوت
آواز کو دھما کرنا - الی بکیر

بکیر

آہستہ آہستہ باتیں کرنا۔ العیشۃ الکلیۃ
 نہ پڑنا۔ العیشۃ القویۃ۔ القوام
 منہ بند کر کے چبانا۔ الشیطان
 شیطان کا موسم ڈالنا۔ بالقدم
 قدم آہستہ رکھنا۔ الرجل رات
 میں بیدار رہنے کے چلنا۔
 ہامسۃ ہامسۃ آہستہ آہستہ کلام کرنا
 ہامسۃ آہستہ آہستہ کلام کرنا۔
 العیشۃ مع۔ آہستہ آواز۔ آہستہ
 العیشۃ شیر۔
 العیشۃ رات میں چلنے والا شیر۔ آہستہ
 قدم چلنے والا شیر۔
 العیشۃ اونٹ کے پاؤں کی آہستہ
 العیشۃ آہستہ بولا ہوا لفظ۔
 الحدوث المکتوبۃ زمرہ
 جن کا مجموعہ ہے کتبہ مکتوبہ
 فسقطت۔
 ہمیشہ دن ہمیشہ۔ العیشۃ جمع کرنا
 — کھانا کسی کو روانت سے کھانا۔
 ہمیشہ دن ہمیشہ و ہمیشہ
 (س) ہمیشہ الرجل بنفاذہ
 بہت برون۔ اور حرکت میں آنا الجواہر
 ٹیڑیوں کا ظاہر ہونے کے لئے حرکت کرنا
 ہامسۃ ہامسۃ جلدی کرنا۔
 ہمیشہ۔ مٹیٹ الیٹو۔ کنویں کی پیر
 یا سوت کا جاری ہونا۔ العیشۃ چیز
 کا کھا یا جانا۔
 ہمیشہ القوم بگروہ کا مخلوط ہونا۔
 ہمیشہ القوم مخلوط ہونا اور آگے
 پیچھے ہونا۔ ہمیشہ الدایۃ
 آہستہ چلنا۔
 العیشۃ نا۔ کتاب کا حاشیہ۔
 العیشۃ مع کھانے کی تیزی
 العیشۃ رنگیوں سے پرتی سے کام کرنا
 ہمٹ (س) ہمٹا۔ الرجل

ظلم کرنا۔ بے نفاذ کھانے میں پروا کرنا
 العیشۃ چیز بے نفاذہ لینا۔ المال۔
 مال زبردستی لینا۔
 ہمٹ و آہمٹ۔ المال۔
 مال زبردستی لینا۔ ہمٹ
 عزم من گلابی کسی گل بے عزمی کرنا کسی کو
 گالی دینا۔ العیشۃ العاقۃ بھڑکیے
 کا بکری کر پکڑ لینا۔
 ہمٹا۔ کالم۔
 ہمٹا (ن۔ ن) ہمٹا و ہمٹا
 و ہمٹا و ہمٹا و ہمٹا
 آگے کا آگے ہونا ہمٹا الطل
 قیل العیشۃ زنت پر طبع کا
 کرنا ہمٹا زنت سردی کرنا۔
 ہمٹا۔ الدائمۃ و نحوہ۔ السورہ
 کاہنا۔ الطل جمع کرنا۔
 ہمٹا الرجل بدلے کا بہانہ کرنا۔
 الرجح و نحوہ۔ السورہ کاہنا
 القامیۃ مزین القامیۃ جہ
 ہوا میچ۔ کتاب ہمٹا۔
 برتنے والا ہادل۔
 ہمٹا آگے ہونے والی آگ۔
 ہمٹا جمع ہونے والا
 ہمٹا۔ ناگانی نوت
 ہمٹا (س) ہمٹا آگے سر پھوڑنا
 ہمٹا۔ الرطوبۃ و کھمٹا
 جانا الطرحۃ زخم کا تر ہونا
 ہمٹا مرت۔ امانت
 ہمٹا (س) ہمٹا۔ فی الامر
 کسی کام کے لئے کسی کو آگے۔
 ہمٹا و ہمٹا۔ فی الامر
 کسی کام میں بہت مشغول ہونا۔
 منہک ہونا۔
 ہمٹا اہمٹا گا۔ الرجل
 کسی کا حق سے بھر جانا۔ صفت
 ہمٹا۔

ہمٹت رن من ہمٹا و ہمٹا
 ہمٹا۔ عیشۃ۔ آگے کا آگے ہونا
 السورۃ آسان کا بارش آہستہ آہستہ
 برسانا۔
 ہمٹت رن من ہمٹا الیٹو
 اونٹ کا بغیر چرواہے کے دن رات
 آزاد پھرنا۔ صفت و ہاوی جہ
 ہوا میچ و ہمٹا و ہاوی۔
 ہمٹا و ہمٹا و ہمٹا و ہمٹا
 ہمٹا قصدا یا بھولے سے چھوڑ دینا۔
 ہمٹا آگے کام کو بھول کر چھوڑنا
 العیشۃ حرف پر نقطے نہ لگانا۔
 ہمٹت۔ عیشۃ آگے کا آگے ہونا۔
 السورۃ آسان کا پیچ بارش برسانا۔
 ہمٹا ہیر پر لگا کر پھرا۔
 ہمٹا۔ من الالی۔ بغیر چرواہے کے
 رات دن آزاد پھرنے کے ہونے والا
 آگے ہونا۔ ہے روک بچنے والا
 پالی۔
 ہمٹا۔ چھوڑا کرنا
 ہمٹا بڑی عمر والا
 ہمٹا۔ نرم۔ ویران زمین
 ہمٹا۔ بقیہ چارہ۔ ہمٹا
 ہمٹا۔ مع الکلام و ہمٹا
 من الرزق۔ منظر نقطہ کے حرف۔
 ہمٹا۔ ہمٹا۔ الیٹو
 نرم اور تیز چال چلنے والا
 ہمٹا۔ ہمٹا چال چلنے والا
 جہ ہمٹا
 ہمٹا۔ تیز رفتار اونٹ۔ ہونٹ
 ہمٹا۔
 ہمٹا ہمٹا۔ جلدی کرنا
 ہمٹا ہمٹا آہستہ ہونا۔
 ہمٹا جہ سے آواز کو سینے میں پھرانا
 — الرزق بادل کا گر جانا۔

برداشت کرنا۔ السیف: تلوار تیز کرنا۔ ماہند عن الأجر کام سے پیچھے نہ ہونا۔
 ہند شام۔ العزاک عورت کا کسی کا ناز و غرور سے اپنا عاشق بنانا ہندت یقلبم اس نے اس کے دل کو بجا لیا۔
 ہندا و ہندیۃ سویا سو سے زائد اولہل کاریر۔ ج: اہندا و اہناد و ہنود۔ ہندا عورت کا نام پھر عورتوں کے لئے علم جنس کے طور پر استعمال ہونے لگا جس طرح مردوں کے لئے زید و عمر و دیر۔ ج: ہنود و ہندات و الہند۔ ہندوستانی یا ملک ہندوستان نسبت کے لئے ہندی ج: ہنود امریکہ کے اصلی باشندوں کو بھی ہنود کہتے ہیں۔ لقی ہندا الاحامیس یعنی وہ مر گیا۔
 ہندا وافی و الہند وافی ہند کی جانب منسوب۔ سیف ہندا وافی ہندوستانی تلوار۔
 الہاند و العناد و ہندوستانی لوگ الہند ہندوستانی لوبے کی تلوار الہنداب و الہندباء و الہندیاب و الہندیابکاس۔ الہنداز۔ حد و قیاس۔ ہندا آذہ الخياط۔ ورزی کاگز المہندز۔ الخیز۔ ہندت۔ ہندتہ عمارت کا اندازہ کرنا اور خاکہ کھینچنا۔ الہندوس من میں الرجال دور اندیش۔ بجز بہ کار۔ ماہر ہندوس الامر کام کا جاننے والا ج: ہناد ستہ

المہندی الخیز۔ چامیڑی کا عالم ہندا۔ الشی: تناسب سے ترتیب دینا۔ مضبوط کرنا۔ العود۔ وغیرہ۔ مکڑی کو اٹھا کر پھرت کرنا الہند آذ۔ قد کی طرح بھونکی و ابدال ہندت (ہند) ہندت۔ الخی و خیز کو موڑنا۔ دہرا کرنا۔ لعلانی کسی کا مطیع ہونا۔ صفت، ہارنہ ج: ہندت۔
 ہندت (س) ہندت۔ ہندی ہندی گردن والا ہونا۔ صفت، (آہندت) استھندت۔ الرجل: جو اب نہ ہو سکا الہندت۔ ایک قسم کی بیماری جو انسان کی گردن میں پیدا ہوتی ہے۔
 العند۔ قد کا جھکاؤ۔ اونٹ کی گردن کا جھکاؤ۔
 العناد۔ یونٹ الہندت۔
 لعامة ہندت۔ پیچیدہ گردن کا شرمخ آخمة ہندت۔ پھرنائیل الہندت۔ اونٹ کی گردن پر داغ کا نشان۔ چاند کی چھٹی منزل میں پانچ ستاروں کا نام جو جو زاویہ کی بائیں جانب واقع ہیں۔
 الہندت۔ جھکی ہوئی گردن یا جھکے ہوئے قد والا۔ زمین پر دائیں بائیں ہلنے ہرنے والا۔
 ہندت۔ الرجل۔ جلدی کرنا۔
 ہاکت مہانتہ ہندت۔ العنایة خاصۃ یخیز انماز میں ہندت ہندت فلان صاجیہ ساتھی کے ساتھ کہنا۔
 آہندت۔ تخمیر آمیز بنی ہندت۔ تخمیر کرنا الرجل: جلدی کرنا۔ العبی: رونے کے لئے تیار ہونا۔
 ہندت۔ رونا۔

آہندت۔ العنایة یعنی ہاکت۔ ہاکت۔ قول سے ہندت۔ العبی: رونے کے لئے تیار ہونا۔
 ہاکت ہم تجوب کرنا الہندت۔ سکر امٹ سے اونچی بنی۔ الہندت۔ بے آرامی۔ بے قراری۔ الہندت۔ کھجور یا اس کی ایک قسم۔ الہندت۔ وقت الہندت۔ تخفیف زون یا تشدید کے ساتھ چیز۔ کہتے ہیں ہذا ہندت یہ تمہاری چیز ہے۔ تصغیر ہندت۔ موندت: ہندت لام کلمہ عزوت ہے جو بعض لغت میں کھاو ہے تو تصغیر ہندت ہو گئی۔ کہتے ہیں امکت۔ ہندت۔ یعنی تمہاری دیر ٹھہرو۔ بعض لغت میں لام کلمہ واو ہے تو تصغیر اس کی بحالہ تائید ہندت۔ ہندت اور ہندت ہندت یعنی مرتبہ اپنے اصل پر ہیں آتی ہے ہندت حالت رومی میں ہندت نصی میں ہندت اور جری میں ہندت کہتے ہیں۔ الہندت کا تئیر ہندت و ہندت ہے ج: ہندت کہتے ہیں فلان ہندت اس میں بڑی فصلتیں ہیں۔
 الہندت۔ خسیں اور کبیر نسبتاً ہندت۔ آنا کے معنی میں ہندت کہتے ہیں ہندت یعنی آنا ہندت۔ اسم اشارہ مکان قریباً کہنے میں ہندت۔ ان ہندت۔ خطاب کا لفظ ہندت کہتے ہیں ہندت یا ہندت کہیں کات خطاب کے ساتھ لام بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ہندت۔ ہندت۔ ہندت۔ معرفۃ کبیر کہو

تَهَيِّضٌ تَهَيِّضًا وَأَنْهَاضٌ أَنْهَاضًا
 — العظمُ بڑی کا بعد جڑنے کے ٹوٹنا
 كَهَيْضَةِ الْمَرْضِ بيماری کا بار بار
 کرنا۔ اِنْهَاضٌ اِنْهَاضًا
 بڑی کو جڑ جانے کے بعد ٹوٹنا۔
 الْهَيْضَةُ۔ پریمنہ کی بیٹ
 الْهَيْضَاءُ۔ لوگوں کی جماعت
 الْهَيْضَةُ۔ هَاضِقٌ کا اسم مرہ:
 رنج و غم کا عود۔ بیماری کے بعد بیماری
 اسہال کا مرض۔
 هَيْضَةُ الْكُرْدِي بزرے سے پیدا ہونے
 والی سستی۔ عَطْمٌ مَهْيِضٌ
 جڑنے کے بعد ٹوٹی ہوئی بڑی۔
 الْمُسْتَهَاضُ۔ وہ آدمی جس کی بڑی درست
 ہونے کے بعد پھر ٹوٹ جائے۔ بیمار
 جو صحت پاکر بد پر میزی سے دوبارہ
 بیمار ہوا ہو۔
 هَاطٌ يَهَيْطُ هَيْطًا۔ شور مچانا
 هَاطٌ مَهَاطَةٌ وَهَيْطًا۔ معنی
 هَاطٌ۔ فلان کسی کو کمزور سمجھنا
 تَهَاطٌ تَهَاطًا الْقَوْمُ، قَوْمٌ كَامِحٌ يَهْجُرُ
 آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا۔
 الْهَيْطُ۔ نم۔ مَا زَالَ فِي هَيْطٍ وَهَيْطٍ
 وہ شہرت اور شور و غوغا کرنے سے
 باز نہیں آیا۔
 هَمٌّ فِي هَيْطٍ وَهَيْطٍ۔ وہ
 اضطراب اذرا آنے جاتے ہیں۔
 هَاعٌ يَهْيَعُ وَيَهَاعُ هَيْعًا۔
 اِشْيٌ، سَلْجٌ زَمِينٌ پھیلنا۔
 الرِّصَاحُ بَجْنٌ۔ الرِّجْلُ بَجْنًا ہونا
 الْاِبِلُ اِلَى الْمَاءِ اَوْتٌ كَالْاِبِلِ كَالْاِبِلِ
 ہونا۔ الرَّجُلُ بِرُكْلٍ تَقَرُّ كَرْنَا
 (۔ هَيْعًا وَهَيْعَةً وَهَيْوَةً
 هَيْوَةً، وَهَيْعَانًا) بزدل ہونا۔
 كَبْرَانًا (۔ هَيْعَةً وَهَاعًا) سخت

عرین ہونا۔
 مَيْتٌ اِشْيٌ۔ کسی چیز سے اکتا جانا
 تَهْيَعٌ تَهْيَعًا وَانْهَاعٌ اِنْهَاعًا
 اِشْيٌ، کسی چیز کو سطح زمین پر پھیلنا۔
 الْهَاعَةُ۔ فَا۔ كَيْلٌ هَاعٌ تَارِكٌ
 رات۔ رَجُلٌ هَاعٌ لَا تَحُ
 کمزور آدمی۔
 الْهَاعِيَةُ مَوْتٌ الْهَاعِيَةُ تِيزٌ اَوْتٌ
 دشمن کی آواز جس سے انسان ڈرے
 الْهَيْعُ۔ پھیلاؤ۔ کہتے ہیں رِيحٌ
 هَيْعٌ لِيَاعٌ تِيزٌ ہوا۔
 الْهَاعُ۔ بہت لالچ۔ رَجُلٌ هَاعٌ
 بزدل کمزور آدمی۔
 الْهَيْعَةُ۔ دشمن کی آواز جس سے انسان
 ڈرے۔ سطح زمین پر سینے والی چیز۔
 سخت عریض گھرا ہٹ میں ڈالنے
 والی آواز یا پُرَانِي رَاحٌ هَيْعَةٌ
 وسیع پھیلی ہوئی زمین۔ رَجُلٌ هَيْعٌ
 لَيْعٌ کمزور گھبرانے والا آدمی۔
 الْمَهْيِجُ۔ بُرَانِي کی طرف جلدی کرنے والا
 حیران۔
 الْمَهْيِجُ۔ کٹا وہ۔ کھلا راستہ۔ جہ:
 مَهَاطٌ بِلْدًا مَهْيِجٌ كَشَادَةٌ شَهْرٌ۔
 تَهْيَعٌ تَهْيَعًا كَهَيْعَةٍ۔ الْمَرْأَةُ مَوْتٌ كَا
 بکار ہونا۔ (۔ وَتَهْيَعُ كَا
 اَيْتٌ بَجْرٌ وَتَهْيَعُ
 الْهَيْعَةُ عَطْمٌ خَفْتُ۔ طِيَشٌ بَدَا مَوْتٌ
 هَيْعٌ تَهْيِيعٌ۔ الْمَطَرُ الْاِرْضَ
 بارش کا زمین کو خوب تر کرنا۔
 اَهْيِجُ۔ الْقَوْمُ۔ قَوْمٌ كَا فَوْشٌ حَالٌ هُونًا
 الْاَهْيِجُ فَوْشٌ كَوَارٌ اَوْ فَرَاخٌ زَمْدَانٌ
 بہت پانی۔ سرسبز مال
 دَالٌ اَهْيِجَانٌ تَزِدُ تَا زَكِي اَوْ اِي حَالٌ
 یا کماتا پینا۔
 هَاعٌ يَهْيَعُ هَيْعًا۔ بہت پیاسا

ہونا۔ (بِهَاعٌ هَيْعًا)۔ الْعَبْدُ
 غلام کا بھاگنا۔ (هَيْاقًا وَهَيْاقًا)
 الْاِبِلُ۔ سخت پیاس کی وجہ سے اونٹوں
 کا مد کھول کر گرم ہوا کی طرف رُخ کرنا
 هَيْتٌ يَهْيِفُ وَهَاتٌ يَهَاتُ وَ
 هَيْفًا وَهَيْفًا۔ الْقَلَامُ
 پہل کر والا ہونا۔ صفت۔ (اَهْيِفُ)
 مَوْتٌ۔ كَهَيْفًا جہ۔ هَيْفٌ
 اَهَاتٌ اَهَاتًا۔ الرِّجْلُ پِيسَةٌ
 اونٹوں والا ہونا۔
 اَهَاتٌ اَهَاتًا پِيسَةٌ ہونا۔ صفت:
 مَهَاتٌ۔
 اِسْتَهَاتٌ گرم ہوا کے لگنے سے پیاسا ہونا
 الْهَاتِفُ فَا۔ سخت پیاس
 الْهَاتِفَةُ مَوْتٌ۔ الْهَاتِفُ۔
 سخت پیاس کی وجہ سے منہ کھول کر
 گرم ہوا کی طرف رُخ کرنے والی اونٹنی
 جہ۔ هَوَّ اَلْفُ
 الْهَيْفُ۔ مہ وہ گرم ہوا جو نہاتات کو خشک
 کر کے۔ حیوانات کو پیاس لگائے۔
 پانی کو سکھائے۔ ذَهَبَتْ هَيْفًا
 لَا ذِيَانِيهَا۔ یہ مثل اُس شخص کے لئے
 بڑی جاتی ہے جو اپنی عادت پر جما رہے
 یا اس وقت جبکہ ہر شخص اپنی اپنی حالت
 پر متفرق ہو۔ رَجُلٌ هَاتٌ پِيسَةٌ
 پر صبر نہ کرنے والا آدمی۔ اِبِلٌ هَاتَةٌ
 جلد پیاسے ہونے والے اونٹ۔
 الْهَيْفَاتُ وَالْهَيْفَاتُ وَالْهَيْوَاتُ
 پیاسا جلدی پیاسا ہونے والا
 اَهْيِقُ۔ الظِّلْمُ شَرْمُورٌ كَالْبَاهِيَانِ
 الْهَيْقُ مَيْتٌ اِتِّجَالٌ مَيْتٌ لَمَّا
 تَوَدَّ كَالْبَاهِيَانِ اَدْمِي۔ شَرْمُورٌ
 جہ۔ اَهْيَاتٌ وَهَيْوَاتٌ مَوْتٌ۔ كَهَيْفَةً
 الْاَهْيِقُ لَمِيٌّ كَرْمٌ وَاللَا
 هَيْكٌ تَهْيِيقًا۔ جلدی کرنا۔ کھرونا۔

هَالٌ يَهِيْلُ هَيْلًا - عليه التراب
مٹی ڈالنا۔

هَيْلٌ تَهِيْلًا - عليه التراب
بمٹی ڈالنا، تشدید کثرت کے لئے

تَهِيْلٌ تَهِيْلًا وَ اَنْهَالٌ وَ اِنْهِيَالًا
التراب۔ مٹی پڑنا یا ڈال جانا۔

اِنْهَالُوْا عَلٰی فُلَانٍ كَيْ يَرْثُوْا
پڑنا اور مار پیٹ کرنا یا گالی دینا۔

اِهْمَالٌ ذَالٌ هُوَ رِيْتٌ دَمَلٌ هَالٌ
گرنے والی ریت۔

اِهْيَالٌ - مہ گری ہوئی ریت۔
اِهْيَالٌ وَ اِهْيَالِمَانٌ بہت مال۔ یا

ریت و ہوا۔
اِهْيَالٌ - گری ہوئی ریت۔

اِهْيَالَةٌ جَانِدٌ كَيْ اُرْدُوْكَ اَهْلَقٌ - جہ
ہالات۔

اِهْيُوْلٌ وَ ذَرَاتٌ جَوْرُوْشٌ وَ اِنْ مِيْ
دھوپ کے اندر آتے وقت دکھائی

دیتے ہیں۔
اِهْيُوْلِيٌّ وَ اِهْيُوْلِيٌّ اِهْدَايٌ مَادِه

هِيُوْلِيٌّ وَ هِيُوْلِيٌّ كَيْ مَسُوْبٌ
بَهْيُوْلِيٌّ جَ هِيُوْلِيَّاتٌ

هَيْلٌ هَيْلًا - لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
کنندہ

هَامٌ يَهِيْمُ هَيْمًا وَ هِيُوْمًا
وَهِيَامًا وَ هِيَمَاتًا وَ تَهِيْمًا يَكْنٰ

مبت کرنا۔ غم و غم آدہ
پھرنا۔ ہیماتاً ایسا ہونا

هَمٌ لِيْتَقِيْتُ اِنِّهٖ اَبٌ كَا
خیال رکھو۔

هَيْمَةٌ - العُتْبُ - محبت کا کسی کو پیرانہ
کر دینا۔

تَهِيْمَةٌ تَهِيْمًا - العُتْبُ اَلْمَحَبَّةُ كَا
کسی کو پاگل کر دینا۔ غلامی

اِهْيَالٌ جَالٌ جَالًا -
اِهْلًا مَ اِهْتِيَامًا - لِيْتَقِيْمَ اِنِّهٖ

نفس کے لئے حیل کرنا، ہرگز نکالنا۔
اَسْتَهْيِمُ - فُوَاذَةٌ - محبت وغیرہ

کی وجہ سے عقل جاتی رہتا۔
مفت۔ (مُسْتَهْسِمٌ) العُوَادُ

اِهْيَالٌ - فَا - حِرَانٌ - جَ هَيْمٌ وَ هِيَامٌ
اِهْيَالٌ - محبت سے پاگل لوگ

اِهْيَالٌ رِيْتٌ جَوْرُوْشٌ گرتی رہے۔ جہ
ہیْمٌ۔

اِهْيَالٌ مَشَقٌ كَا حِرَانٌ - محنت پائیں۔
اِذْرُوْا كَيْ اَكْبَ اِهْيَالِيٌّ مِيْ مِيْ اِهْيَالِيٌّ

محنت ہوتی ہے۔
هَيْمٌ اللّٰهُ - اللّٰهُ كَيْ قَسْمٌ

اِهْيَالٌ اِهْيَالًا اِهْيَالًا اِهْيَالًا
ہیام کی بیماری والا اونٹ، بونٹ

هَيْمَةٌ جَ هَيْمٌ - كَيْلٌ اِهْيَالٌ
وَلَيْلَةٌ هَيْمًا وَ اِهْيَالًا مِيْ مِيْ اِهْيَالًا

ذہول اہیالیاں پیاسا۔ مؤنث
هَيْمِيٌّ جَ هِيَامٌ - وَ كَيْلٌ اِهْيَالٌ

هَيْمَاتٌ - محبت کی وجہ
سے شیفہ و سرگشتہ آدمی۔

اِهْيَالٌ مَشَقٌ - رِيْتٌ اِهْيَالٌ مَشَقٌ
پیاسا آدمی قلب مستہیام

محبت و عشق سے پریشان و سرگشتہ
دل۔

اِهْيَالٌ مَشَقٌ مَشَقٌ - هَيْمٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ۔

بیماری والا۔
هَيْمَةٌ هَيْمَةٌ اَمِيْنٌ كَنَا - الطَّيْرُ

عَلٰی فُرَاخِهٖ پَرْدَةٌ كَا بَعْرٌ پَرْدَةٌ جَالًا
— فُلَانٌ عَلٰی كَذَا كَسِيٌّ كَيْ لَمَّا

وَنَمْبَانِيٌّ كَنَا۔
اَلْمُكْرِمِيْنَ وَ اَلْمُهَيْمِيْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی كَيْ

اسمائے حسنیٰ میں سے ہیں۔ مگر ان
حفاظت کرنے والا۔ مخلوق کے اعمال

ارزاق و آجال کا کفیل و ذمہ دار
اِهْيَالٌ رُوِيٌّ۔

اَلْعَيْنَةُ اَمْرٌ اَوَّازٌ اَلْمُهَيْمُوْمٌ
مہم کلام ہیندہ ہیندہ کسی چیز کے

دستکار نے کا کلمہ بکھینا
(اسم فعل) وُقْرٌ مَوَّاءٌ - اس میں یہ۔

اِهْيَالٌ وَ اِهْيَالٌ وَ هَيْمَاتٌ
وَهَيْمَاتٌ وَ هَيْمَاتٌ۔

(آخر میں ہر سر حرکات) کے لغت بھی
ہیں یعنی بھی ہیں اور عرب بھی۔

هَيْاٌ حَرَفٌ نَزَاعِيَّةٌ كَيْ اِسْمٌ كَيْ اِسْمٌ
آپنا ہے۔

هَيْبَةُ بِنْتِيٌّ وَ هَيْبَةُ بِنْتِيَّاتٍ -
وہ شخص جو غرور میں غیر معروف ہوا اور

اس کا باپ بھی غیر معروف۔
اسم فعل یعنی امر۔ یعنی اپنے کام میں

جدد کا رو۔ کان خطاب لاجری کے
کھینک کھینک کھینک کھینک کھینک اور

جہ میں ہیندہ ہیندہ ہیندہ ہیندہ
هَيْبَةً هَيْبَةً هَيْبَةً هَيْبَةً

هَيْبَةً هَيْبَةً هَيْبَةً هَيْبَةً
الْحَيَاةُ اِسْمٌ مَعْلُوْمٌ كَيْ اِسْمٌ كَيْ اِسْمٌ كَيْ اِسْمٌ

معالجہ ہے۔ اس کی کیا شان
ہے۔

الیاء۔ کبھی ضمیر مؤنث کی ہوتی ہے جیسے
تَقْوَمِينَ۔ تو کھڑی ہوتی ہے اور
قُوْمِي تو کھڑی ہو اور کبھی ضمیر متکلم کا کام
رتی ہے جیسے صَرَخْتِي اس نے مجھ سے
اور کِتَابِي میری کتاب۔

یَا۔ حرف ندا ہے قریب و بعید ہر دو
کے لئے کبھی صاوی محذوف ہوتا ہے
جیسے یَا لَيْتِي كُنْتُ مَعَهُمْ اور
یَا رَبِّ كَمَا تَرَى الدُّنْيَا عَابِرَةً تَوْزَنُ الْقَلْبِ ہے کہ
ان جیسی اشد میں یا صرف تنبیہ کے لئے
ہے اور آتَا فِی رَجُلٍ و یَا لِدَرْجَلَا
او من رجل یا
یَا لَف مِنْ قَارِیِّ میں یا حرف ندا
اور لام تعجب کے لئے ہے۔

یَئِسَ یَئِیسٌ و یَئِیسٌ یَا مَآ وِیَاسَ
متہ تا امید وائیں ہونا صفت ظہری
رِیَاسٌ و یُوْؤُوسٌ و یُوْؤُوسٌ
جمع یُوْؤُوسٌ۔ صفت مفعولی
رَهِیْوُوسٌ از من یئیس کبھی جانے
کے معنی بھی دیتا ہے جیسے اَلْحَمْدُ
تِیَا سُوْا اَلْقَارِیِّ قَارِیِّ رَکْهَدٍ
کیا تم نہیں جانتے کہ میں غار میں زہدم کا
بٹیا ہوں۔

یَئِیسَتِ الْمَرَاةُ یَئِیسٌ عَجْرَتُهَا بَیْزٌ
ہرنا صفت ریاسی
آیَاسَ، آیَاسًا و آیَاسًا آیَاسًا
و مَوَّآیَاسًا تا امید کرنا۔
آیَاسٌ الْعَرَاةُ الْمَرَاةُ عَوْرَتُهَا
بانچہ کرنا۔

إِیَاسٌ إِیَاسًا و آسِیَاسٌ
إِیَاسًا سَآمَنُهٗ اِیَاسٌ ہونا
الیاس و الیاسہ ایسی۔ تا امید
یَا یَا یَا یَا و یَا یَا الْقَوْمِ۔

پکارنا۔ بِالْأَبْلِ۔ اونٹوں کو آئی کہہ کر
ٹھہرانا۔ آئی ہے اونٹوں کو ڈانٹتے ہیں
یَا یَا۔ لوگوں کو جرح کرنے کے لئے اس سے
پکارا جاتا ہے۔

الْیَا الْیَا۔ یُوْیُوْ نای شکاری پرندہ
کی بیخ۔

الْیُوْیُوْ۔ بازے مشابہ ایک قسم کا شکاری
پرندہ۔ ج۔ یَتَّأْتِ
یَعْبُ۔ المنزل۔ ویران کرنا۔

الْیَبَابُ ویران
الْأَبِیْثِلُ جو کی طرح کا ایک پودا
یَبِیْسٌ یَبِیْسٌ و یَبِیْسٌ یَبِیْسًا و یَبِیْسًا
و اَبِیْسٌ خشک ہونا۔ صفت

یَبِیْسٌ و یَبِیْسٌ و یَا یَبِیْسٌ و یَبِیْسُ
و یَبِیْسٌ و اَبِیْسٌ کہتے ہیں یَبِیْسٌ
مَا یَبِیْهُمَا اَنْ دَوْنُوں کے آپس کے
تعلقات ٹوٹ گئے۔

یَبِیْسٌ و اَبِیْسٌ۔ اَلشَّیْءُ خَشِکَ کَرْنَا۔
أَبِیْسٌ اَلْمَکَانُ کَمِیْ جَکِیْ نَبَاتَاتِ کَا
خشک ہونا اَبِیْسٌ الْعَوْنُ قَوْمِ کَا
خشک زمین چننا اَبِیْسٌ یَا رَجُلٌ
چپ رہو۔

اَبِیْسٌ۔ الرِّیْقُ تَحَوُّکَ کَا خَشِکَ ہونا
الیاسی خارج۔ یَبِیْسٌ رَجُلٌ یَا یَبِیْسٌ
بے غیر آدمی جھٹلنا یا یَبِیْسٌ سَخَتْ تَحْمَرٌ
الیبس خشک۔ تری کے بعد خشک شدہ
جگہ بے دودھ کی بکری۔

الیبس۔ مہ خشک یا یبس کی جگہ شئی
یَبِیْسٌ خَشِکَ چمیز۔
الْیَبُوسَةُ خَشِکٌ۔ یَبِیْسٌ الْمَلُوْ
پسینہ۔

الْأَبِیْسَانُ کَلَامٌ یَا نِطْلُی کَا دَوْبُ یَا
الْأَبِیْسُ۔ سخت چمیزی جن پر تلواریں

آزمائی جاتی ہیں اَبِیْسٌ کی جمع۔
الْیَبِاسُ۔ پودوں کو خشک کر لے والی ہوا
الْیَبُوعُ وَالْیَبُوعُ دودھ والے پودے
یَبُوعَاتٌ

یَتِمُّ یَتِیْمٌ و یَتِیْمٌ و یَتِیْمٌ و یَتِیْمٌ
یَتِیْمًا و یَتِیْمًا۔ الصبی من ایتیم ہونا
یَتِمُّ یَتِیْمٌ یَتِیْمًا۔ کوتاہی کرنا یَتِیْمٌ کرنا
تھکنا۔ ویر کرنا۔ مِنْ هَذَا الْاَلْفِ
رہائی پانا۔

تَبِیْمٌ۔ الصبی بچہ کا یتیم ہونا
تَبِیْمٌ و اَبِیْمٌ یتیم کرنا۔
أَبِیْمَتِ الْمَرَاةُ۔ عورت کی اولاد
کا یتیم ہونا۔ صفت (مُوْتِیْمٌ)
ج مِیَا تَبِیْمٌ۔

الْیَتِیْمُ وہ نایا لئ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو۔
مِنْ اَلْبَهَائِمِ وہ جانور جس کی ماں
مر گئی ہو۔ ج اَبِیْمٌ و یَتِیْمٌ و
یَتِیْمٌ و مَنِیْمَةٌ و یَتِیْمَةٌ
الْیَتِیْمُ اکیلا۔ لاثانی۔ بے نظیر
الْیَتِیْمَةُ مَوْتُ الْیَتِیْمِ ج یَتِیْمٌ
تلوہ رگستان۔ ذُرَّةٌ یَتِیْمَةٌ
قیمتی۔ بے نظیر موتی

الْیَتِیْمُ غَمُّ الْیَتِیْمِ۔ یکتا کی حالت
یتیمی۔
الْیَتِیْمُ مہ۔ یکتا کی یتیمی کی حالت۔

مماجت۔ فی سیرہ یَتِیْمٌ اس کی چل
میں کروری دستی ہے صبی یَتِیْمَانُ
یتیم بچہ الحرب مَنِیْمَةٌ و اَلْیَتِیْمُ
بچہ کو یتیم بنانے والی ہے۔

یَتِنْتُ تَبِیْمًا و اَبِیْمًا و یَتِنَانًا
المرآة او المناقاة اولد عورت
یا اونٹنی کا پائل (پاؤں کی طرح سے پیدا
ہونے والے) بچہ کو جتنا۔ صفت،

(موتین و موتیۃ)
 الیثین پاؤں کے بل پھکی پیدائش۔
 الیبتار کھینچنے کا ڈنڈا۔ چرگان
 الیخمود شریع چھوٹی دم کا بارہ شگما
 الیخموذہ۔ سخت۔ سیاہ
 الیبتاع۔ الثوب۔ کپڑے کو شریع رنگ
 آیتاع۔ الحجج علی نفسہ احوام کے
 وقت غرضبہرگا کر جی واجب کرنا
 الایبتاع۔ رمضان
 ییدی ییدی ییدی یا۔ الرجل کسی کے
 ہاتھ پھارنا۔ صفت فاعل (کیا ج)
 صفت مفعول میندی۔
 ییدی ویدی ییدی ییدی یا فلان
 من فلان کسی کا کسی سے فائدہ حاصل
 کرنا۔ ییدی فلان من ییدی
 ہاتھ ہاتھ رہنا۔ خشک ہونا
 سیدی الرجل کمزور ہونا۔
 یادی میا ذاکا۔ الرجل بددینا
 دست بدست دینا۔
 آیدی اینا ام۔ عند فلان والیہ
 کسی پر انعام کرنا۔ صفت فاعل۔
 (موتی) صفت مفعول (موتی)
 الیس
 الیس۔ ہاتھ پھیل۔ کلمہ مؤنث ہے اور
 اس کا لام محذوف ہے۔ اصل اس کی
 ییدی ہے تثنیہ ییدان ج
 الاییدی والییدی۔ وجر
 الایادی آیادی کا استعمال
 زیادہ حرمت کے لئے ہے۔
 الاییدی کی جمع الییدان ہے۔
 الیس۔ نعمت۔ اسمان ج ییدی
 وییدی وییدی واییدی
 الیس۔ باہ مرتبہ قدرت۔ طاقت۔
 مائتہ علیہ ییدی تم کہ اس پر طاقت
 نہیں۔ نامت۔ ذلت۔ جماعت۔

کھانا۔ ظلم سے روک۔ راستہ۔
 فریادری۔ لغتہ آکل ذاک
 سیدائین میں اس سے سب سے پہلے
 طاسیقط بی سیدہ وہ نام ہوا
 لہ سیدہ ہینکاوی هذا الاخر
 وہ اس امر میں ماہر ہے صمدت
 القلح علی ہدیہ قاضی نے اس کو
 تصرف سے روک دیا۔ اعلیٰ ییدیہ
 وہ مطیع و فرمانبروار رہا۔ ییدا الطائر
 پندہ کا ازو۔ ییدا الدھیہ مدت
 دما دیدا الکالیسی کھاروی کا دست
 ییدا القوسی کمان کے ہر دو جانب
 الیس العلیسا دینے والا ہاتھ۔
 الیس السطلی ہاتھ والا ہاتھ۔
 القوم علیہ سیدا واحدہ ہرم
 اس پر ظلم کرنے یا دشمنی کرنے میں متدد
 و متفق ہے ہذا الی ییدی یہی
 ممکن ہے الامریبید فلان
 معاند فلان کے ہاتھ میں ہے سیدی
 یہینتہ یکتا میں اس کا فاسن
 ہوں۔ مائی بعلان ییدا
 مجھ اس پر طاقت نہیں۔ امثال عرب
 میں سے ہے ییدا اللہ کنوئی
 الجماعۃ جماعت پر ہاتھ لانا ہے
 یکتا سیدا لیس۔ میں نے اس کو
 لغتہ یکتا ییدا کہتو آیادی سیا
 او ایگاسیا وہ سب چھٹ کے ییدا
 الجوتنا و ساروں کا نام۔
 الیدی۔ مادی۔ ماہر قوم کی سیدی
 ذریعہ پروا علیش ییدی اسوہ مذکر
 (۔) والیسادی کی طرف مشرب
 الیسینۃ۔ بڑی تصغیر۔
 الیسایا۔ ماہر عورت
 المودی۔ حسن منم
 المودی۔ الیہ انعام کیا ہوا۔

القییدی ہاتھ کٹا۔ طبعی میندی
 جال میں اگلی مانگ چینی ہوئی ہرنی۔
 النوع۔ جو جسکے مانند ایک ہاورد۔
 جس کی اگلی مانگیں کوتاہ اور پھلی ہوں
 اور دم و ساد ہوتی ہے۔ دم لمبی رکھا
 ہے۔ ج۔ یزایبع۔ الیازج
 کنگن۔ الایازج۔ ایک
 دست آور سمون ج۔ آیاز ج۔
 الیازوج۔ تھوار۔
 یبتاع یبتاع یبتاع۔ بزدل ہونا
 الیبتاع۔ گالے کا پھ
 الیبتاع۔ گبنو۔ شکل۔ قلم۔ بالری
 بزدل۔ کمرور۔ قتل و رائے نہ رکھنے
 والا۔ پھوٹی چھوٹی بھڑکیاں۔
 الیبتاع۔ گبنو۔ الیبتاعہ گبنو
 نکل ج۔ یبتاع چرواہے کی
 بالری۔ قلم۔ بے وقوف۔ بزدل
 جباری۔ عور مرغ۔ ییدی ییدا
 کی بیاری والا۔
 الیبتقان والیبتقان کہیں کا ایک
 روگ۔ ایک قسم کا کیرا جو کہیں کو قاب
 کرتا ہے یرقان ہلیا۔
 المیڈوی و الماڈوی۔ بیت الناس
 والیڈوی۔ یرقان کا روگ۔
 الیڈمک بھری۔ سفید لکھنے والی لکھریاں
 ج۔ یڈامک۔
 یڈا یڈا یڈا۔ الطی ہونے سے زکما
 الیڈا و الیڈا کو الیڈا میندی
 یڈا کیو کیو او کیو او نام ہونا
 علیہ ہونا لیسرۃ المراۃ عورت
 پر زکی آسان ہونا (۔) یڈا
 جواکین۔ الرجل۔ الماڈون سے آنا
 القوم الشاکتہ روگن کا ڈنڈی
 کے گوشت کے حصے کہنے کے آپس میں
 بانٹ لینا۔

جَ اَنقَاطُ مَوْتٍ يَفْتَلِي جَ كَافِي
 اَيَقْتَضِ اَيَقَاطًا وَيَقْطَعُ تَيَقِيْقًا
 الغار غار اُثْمَانًا — فَلَانَا
 بیدار کرنا۔ جگانا۔
 تَيَقَّظَ تَيَقَّظًا وَاسْتَمَقَّظَ -
 استبقاظاً۔ بیدار کرنا
 تَيَقَّظَ الْأَمْرَ - وہ معاملے پر متنب
 ہوا۔ اسْتَيَقَّظَ جگانا
 اليَقْظَةَ بیداری۔
 أَبُو اليَقْظَانِ مرغ۔
 يَفِي يَفِيْقٌ يَفْتَأ وَيَقْتَأ - الْأَمْرُ
 روشن و ثابت ہونا۔ صفت
 يَفِيْقٌ (وَأَيَقُونَ وَتَيَقُّونَ
 وَاسْتَيَقُّونَ) الامر و بہ
 جاننا یقین کرنا۔
 اليَقْنُ وَالْيَقْنُ وَالْيَقْنُ وَالْيَقْنَةُ
 وَالْيَقْنُ بَرَسْتِي مَوْتِي بَاتٍ يَفِيْقِي
 لانے والا۔ مؤنث۔ مَيَقَانُهُ
 — اليَقْنُ فُكُّ كَا اِزَالَهُ -
 رَجُلٌ يَفِيْقُ بِالْأَشْيِ كَمَنْ شَعْرُهُ يَفِيْقُ
 آدمی۔
 اليَقِيْنُ يقيني بات۔ بے شک و شبہ
 علم جو دلائل سے حاصل ہو۔
 حَقُّ اليَقِيْنِ واضح اور بے شبہ
 راستی۔ اَمْرٌ يَفِيْقٌ سَتِي
 واضح کلام۔
 يَلُّ وَيَلُّ يَلُّ يَلُّ يَلُّ يَلُّ
 چھوٹے یا ہموار اور اندر کی جانب
 گئے ہونے والوں والا ہونا۔
 صفت۔ اَيَلُّ مَوْتٌ سَيَلُّ
 جرد۔ مَيَلُّ
 اليَلُّ جردا۔ چمڑے کی ڈھال یا چمڑے
 کا مینی زردی۔ چمڑے کی ٹوپیاں
 واحد۔ يَلُّ
 اليَلُّ فُلَاةٌ خَالِصٌ لَوْ اَبْرُؤُكَلْبِز

اليَقْنُ سفيد۔ اَبْيَعُنُ يَلُّ وَيَلُّ
 ويقق — بہت سفيد
 اليَقَّةُ اِدَالِيْقٌ - سفيد بکری۔
 اليَلْمِيُّ قَبَاجٌ قِيْلَ يَلْمِي
 اَلْيَنْجَبِي وَالْأَلَنْجَبِي وَالْيَنْجُوْب
 وَالْأَلَنْجُوْب - صندل کی مکڑی
 يَلْمٌ يَلْمٌ يَلْمٌ يَلْمٌ يَلْمٌ
 السَّاعِلُ - ساعل کا سندر کہنے پر آنا
 يَلْمُهُ قَصْدٌ كَرْنَا - ارادہ کرنا۔
 يَلْمُ الْمِرْيَقُ لِلصَّلَاةِ
 ہمارا کہنا کہ تم نے تمہیں کرنا۔
 فَلَانَا تَابِيْقُهُ كَمَنْ شَعْرُهُ يَفِيْقُ
 نیزے کا نشاہ بنانا۔
 تَيَقَّمُ الْأَمْرَ اِمْرًا قَصْدًا
 — لِلصَّلَاةِ نَادِي كَمَنْ شَعْرُهُ يَفِيْقُ
 سے لے کر منہ پر رکھ کرنا۔ اليَقْدُ
 سمنہ۔ ساق۔
 د - وَالْيَقْمُ جُكَلِي كَبْرُ
 اليَقْمُ جُكَلِي كَبْرُ قَصْدٌ - ارادہ
 اليَقْمَةُ فَاخِرَةٌ قَصْدٌ
 اِمْنٌ يَمَانِي مِيرِي آگے چل
 اليَقْمَةُ مَطَالِبِي كَا مِيَابِ -
 يَمَنٌ وَيَمِيْنٌ يَمِيْنٌ كَمَنْ شَعْرُهُ يَفِيْقُ
 سیدھی جانب سے آنا۔ يَمَانِي
 اللهُ فَلَانَا رَكْبَانَا - صفت
 مَضْرُوبٌ مَطَالِبِي (صفت فاعل
 رِيَابِي وَيَمِيْنِي)
 يَمَنٌ يَمِيْنٌ وَيَمِيْنٌ يَمِيْنٌ
 وَيَمَانِي يَمَانِي كَمَنْ شَعْرُهُ يَفِيْقُ
 یہ دائیں طرف لے جانا
 يَمَنٌ يَمِيْنٌ وَيَمِيْنٌ يَمِيْنٌ
 يَمَانِي وَيَمِيْنٌ يَمِيْنٌ وَيَمِيْنٌ
 يَمَانِي وَيَمِيْنٌ يَمِيْنٌ وَيَمِيْنٌ
 يَمَانِي وَيَمِيْنٌ يَمِيْنٌ وَيَمِيْنٌ
 بابرکت ہونا۔ خوش قسمت ہونا
 صفت رِيَابِي وَيَمِيْنِي وَأَيَمِيْنِي

وَمَطَالِبِي)
 يَمَنٌ عَلَيْهِ بَرَكَةٌ وَيَمَانِي
 (— وَيَمَانِي) اَيَمِيْنٌ دَائِيْسِ
 جَانِبِ لِي جَانَارِ - وَيَمَانِي وَيَمَانِي
 وَيَمِيْنٌ دَائِيْسِ طَرَفِ لِي جَانَا
 مَكْمِيْنِ كِي طَرَفِ جَانَا - مَكْمِيْنِ سِي
 جَانَا -
 تَمِيْمٌ بِكَذَا بَرَكَةٌ لِيْنَا - نِيَكِ
 نَالِ لِيْنَا - مِيْنِ كِي طَرَفِ مَسْرُوبِ هُونَا
 بِالْمِيْتِ - مَرُوهُ كَمَقْبَرِي دَائِيْسِ سَلْمِي
 رَكْنَا - الرَّجُلُ - آدِي كَا مَرْنَا دَائِيْسِ
 لَمْتُهُ يَابَاؤُسِ سِي كَامِ شَرُوْعِ كَرْنَا -
 اسْتَمِيْمٌ اسْتَمِيْمَانَا - بَكَذَا بَرَكَةٌ حَاصِلٌ
 كَرْنَا - قَسْمٌ وَاَنَا -
 اَلْيَامِيْنُ بَرَكَةٌ وَاَلَا - مَوْتٌ يَامِيْمَةٌ
 اَلْيَمِيْنُ بَرَكَةٌ -
 اَلْيَمَنُ وَالْيَمِيْمَةُ دَائِيْسِ جَانِبِ
 اَلْيَمَنُ مَكْمِيْنٌ - لَسْبَتُ كَمَنْ شَعْرُهُ يَفِيْقُ
 اَلْيَمَانِي وَالْيَمَانِي وَالْيَمَانِي جِ
 يَمِيْنِي وَيَمَانِي وَيَمَانِي وَيَمَانِي
 اَلْيَمِيْنُ جِ اَلْيَمَنُ وَالْيَمَانِي وَالْيَمَانِي
 دَائِيْسِ مِيْمِيْنِ - دَائِيْسِ لَمْتُهُ -
 دَائِيْسِ جَانِبِ - لَعْفِيْرٌ - يَمِيْنِي جِ
 يَمَانِيْنِ -
 اَلْيَمِيْنُ جِ - اَلْيَمِيْنُ وَالْيَمَانِي قَسْمٌ
 حَرْفٌ اَلْيَمِيْنُ اللهُ اَلْمِمْ جِ قَسْمٌ كَمَنْ شَعْرُهُ يَفِيْقُ
 وَنَحْوُ هُوَا هِي اَلْمِمْ كِي قَسْمِي اَلْيَمِيْنُ
 اللهُ قَسْمِي هِي اَلْمِمْ كِي قَسْمِي هِي
 نَحْوُ هِي اَلْيَمِيْنُ اللهُ - اَلْيَمِيْنُ اللهُ
 دَائِيْسِ اللهُ اَلْمِمْ كِي قَسْمِي هِي -
 اَلْيَمِيْنُ اللهُ وَالْيَمِيْنُ اللهُ وَالْيَمِيْنُ اللهُ
 (تَمِيْمٌ اَلْمِمْ) وَمِنَ اللهُ مِيْمٌ اَلْمِمْ
 زَيْنٌ كِي تَمِيْمٌ سِي دَائِيْسِ اللهُ مِيْمٌ
 كِي تَمِيْمٌ سِي -
 اَلْيَمِيْنُ جِ اَلْيَمَانِي - بَرَكَةٌ اَلْمِمْ

<p>یُؤْتِح وَيُؤْتِحِي - سرج۔ يَاوَمَهُ يَوْمًا وَمَا وَمِيَاوَمَةً - دنوں کی مزدوری پر رکھنا۔ اليَوْمِ - فجر سے غروب آفتاب کا وقت۔ وقت - کہتے ہیں ذَخْرُتُكَ يَهَذَا اليَوْمِ - تم کو میں نے اسی وقت کے لئے ذخیرہ بنایا تھا۔ ج۔ آيَا مَرْد جج آيَا وَيُح - آيَا مَرْدُ اللّٰهِ خدا کے دن یعنی خدا تعالیٰ کے انعامات وسرائیں۔ آيَا مَرْدُ الْعَرَبِ عربوں کی لڑائیاں اِبْنُ الْاَيَّامِ زمانہ شناسی اِبْنُ الْيَوْمِ زمانہ ساز۔ يَوْمٌ اَيُّومٌ مہینہ کا احسری دن۔ يَوْمٌ اَيُّومٌ وَيَوْمٌ وَيَوْمٌ ذُو اَيَّامٍ وَيَوْمٌ اَيُّومٌ - ذُو اَيَّامٍ وَيَوْمٌ اَيُّومٌ اليونان یونانی لوگ۔ ایک ملک کا نام۔ يُونَانِي يونان کا باشندہ۔ ج۔ يُونَانِيُونِي اليَادِي - یاد کی طرف منسوب اليَنَمِيَّة - خود يَا تَيْبِيَّة - الباء۔ حرف یاد لکھنا۔</p>	<p>اليَتَم - ایک قسم کی نباتات اَيَهَتْ - اَيَهَاتًا - اللحم و گوشت کا بدبودار ہونا۔ اِسْتَيْهَسَ بے عقل ہونا۔ نِي الْاَمْرِ - يقين کرنا امرار کرنا۔ ضد کرنا۔ بِالْاَمْرِ - يقين کرنا۔ اليَعْرُ وَالْيَهْرُ کشادہ جگہ۔ کسی امر میں ضد و امرار۔ اليَهْيَرُ - سراب۔ سخت پتھر۔ لجاجت جھوٹ۔ اندرائن۔ زہر اليَهْيِرِي - بہت پانی۔ باطل المُسْتَيْهِرُ قا۔ بہت لجاجت کرنے والا۔ اليَهْفُوفُ بزدل۔ احمق۔ پستیل زمین۔ ہوشیار و بیدار دل۔ اليَهَم - جنون۔ الاَيَهَمُ پاگل۔ بيوقوت۔ خشکی۔ بلند پہاڑ۔ ہیرا، ولیر و بہادر آدمی۔ چکنا پتھر بے نشان قمر۔ کيلُ اَيَهَمُ بے تاروں کی رات مؤنث يَهْمَاءُ ج يَهْمَمُ۔ اليَهْمَاءُ بے آب و بے نشان راو بیان سخت تنگی کا سال۔ مضبوط اونٹنی۔ اَرْضُ يَهْمَاءُ بے اثر و نشان اور بے چراگاہ زمین۔ سُونُ يَهْمَمُ بے آب و گیاہ سال</p>	<p>قُلَانٌ عِنْدَنَا بِالْيَمِينِ ظلال ہمارے نزدیک اچھے پتھر پر ہے۔ اليَمِي - دائیں طرف۔ دایاں عضو۔ شنیہ۔ يُمْنِيَان ج۔ يُمْنِيَاتُ اليَمْنَةُ وَالْيَمْنَةُ - یمن کی دھاری دار چادر الايَمْنُ - دایاں پہلو یا عضو۔ مؤنث۔ يَمْنَلُ ج۔ يَمْنُ و اَيَا مِئْنُ۔ اليَمْنُ خوب۔ اليَمْنَةُ - برکت۔ فرج کا دایاں بازو۔ دایاں پہلو۔ ج۔ مَيَا مِئْنُ اليَمْنُ - برکت لانے والا اليَمُونُ مبارک۔ ج۔ مَيَا مِئْنُ۔ کہتے ہیں هُوَ مَيْمُونُ الطَّيْرِ وہ مبارک چہرے والا ہے شَوْعَلِي الطَّيْرِ اليَمُونُ تم ترفیق کے ساتھ سفر کرو دعا ہے۔ اليَبُوتُ ایک پردہ يَنْبُوعٌ چشمہ اليَاسُوقُ ایک قسم کی خوشبودار نباتات يَنْعَ يَنْعَ وَيَنْعَ يَنْعَا وَيَنْعَا و يُؤَمُّعَا وَيَنْعَ - اثمر۔ پھل کا پکنا۔ صفت يَانِعُ ج۔ يَنْعَ وَيَنْعِ اليَانِعُ - مَرُخ چیز اليَبُوعُ خون کی نرخی۔ اَلْيَنْعُ مَرُخ مہرہ۔ واسد يَنْعَتَا عقیق کی ایک قسم۔</p>
---	--	--

تت



الْبَيْتُ الْكَلْبِيُّ

۱- اِبْلِ لَمِ اَبِغْ وَلَمِ اَهَبْ -

اونٹے میرا، نہ میں نے بیچا، نہ بخشا۔ یہ ظالم سے اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ ایسی چیز پر ہنگامہ کرے جس پر اس کا کوئی حق نہ ہو۔

۲- يَا اِبِي دَعْوِي اِنِي مَبَارِكٌ

راے میرے اونٹ اپنے ہارے کی طرف لوٹ جا، یہ اس شخص سے کہا جاتا ہے جو کسی ایسی چیز سے گریز کرے جس میں اس کی بھلائی ہو اور جو اس کے لئے ضروری بھی ہو۔

۳- اَتَى عَلَيْهِمْ ذُو اَتَى

ان پر بھی وہی گزرا جو ہوتا آیا ہے، یہ نبوٹے کا محاورہ ہے اس قبیلہ کی زبان میں ذُو یعنی اَلذِي استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح دوسرے لوگوں پر موت اور زنازکے حادثات آتے رہتے ہیں ان پر بھی اسی طرح کے حادثات آئے

۴- اَتَاكَ رَيَّانَ يَلْبَنِيْمَ

رہی کر چپک گیا تو اپنا دودھ تیرے پاس لایا، یہ مثال ایسے وقت دی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو کرم و سخاوت کی بنا پر نہ دے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہونے کی بنا پر کسی کو بخش دے۔

۵- اَتَتْنَا بِحَايِيْنَ رَجُلَاةٌ

خان کو خود اس کے قدم تمارے پاس لے آئے، مطلب یہ ہے کہ بڑائی خود کرنے والے پر ہی لوٹتی ہے۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی موقع پر اَتَتْنَا بِحَايِيْنَ رَجُلَاةٌ بھی بولتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو برائی کی طرف چلتا ہے اور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، حَايِيْنَ وہ شخص جس کی موت کا وقت آگیا ہو۔ یہ مثالیں ایسے موقع پر بولی جاتی ہیں جب آدمی کا اپنا عمل ہی برے انجام کا سبب ہو جائے۔

۶- اَتَتُّكُمْ قَالِيَةَ اَلَا قَاعِي

تمہارے پاس سانپوں کا پیش خیمہ آچکا ہے، یہ اس وقت

بول جاتا ہے جب بڑے شہر سے پہلے اس کے مقدمے کے طور پر چھوٹا شہر آچکا ہو۔ قَالِيَةَ ایک چنگبر اکیڑا ہے جو سانپ اور بچھڑوں کے بل کے ابتدائی حصے میں رہتا ہے۔

۷- يَا تَيْتُ كُلُّ عَدُوِّ يَمَارِ فِيْهِ -

آنے والی کل تیرے پاس وہ لائے گی جو اس میں ہوگا، یعنی کل وہی دکھائے گی جو ہونے والا ہے۔

۸- وَيَا تَيْتُ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُوْدْ

(تیرے پاس وہ شخص خبر لے آئے گا جس کو تو نے مقرر نہیں کیا) یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ کسی خبر کو حاصل کرنے کے لئے ضرورت کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور خبر خود بخود مل جائے یا طے کی توقع ہو۔ یہ طرفہ کے شعر کا مصرع ثانی ہے پر اشعار یہ ہے

سَبُدْرِي لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

وَيَا تَيْتُ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُوْدْ

(زمانہ تجھ پر وہ چیز ظاہر کر دے گا جس سے تو بے خبر ہے اور خبر تیرے پاس وہ لے کر آئے گا جس کو تو نے مقرر نہیں کیا)

۹- لَا تَيْتُ حَتَّى يَوْبَ الْعَارِظَانِ

میں تیرے پاس اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک قارظان لوٹ آئیں، قارظان - سلم نامی درخت کے پتے توڑنے والے کو کہتے ہیں۔ ان پتوں سے چمڑا رنگا جاتا ہے۔ کہتے ہیں قبیلہ منزہ کے دو شخص پتے توڑا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دونوں پتے توڑنے گئے تھے اور پھر نہ لوٹے۔

۱۰- لَا تَيْتُكَ سِيْرَ الْحَسَلِ

میں تیرے پاس اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ گره کے دانت نہ ٹوٹ جائیں، مطلب یہ ہے کہ کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ حسل گره کو کہتے ہیں اور گره کے دانت کبھی نہیں ٹوٹتے

۱۱- حَتَّى آتِ قَرِيْبِي

رہر آنے والی چیز نزدیک سے، یعنی جو چیز آنے والی

جانتا ہے مگر کوئی دوا اس کو موافق نہیں پڑتی تب آخری علاج کے طور پر دواغ دیا جاتا ہے اس سے بھی تندرست نہ ہر تو پھر کوئی علاج باقی نہیں رہتا۔ اچھا ہوا تو ہوا دینہ وہی موت ہے۔

۲۱- آخِرُ الْأَلْفَاءِ وَذَا هِنِ الْأَعْدَاءِ

(ساتھیوں سے بھائی چارہ کے ساتھ پیش آؤ اور دشمنوں سے ظاہری اخلاق کے ساتھ ملو) اسی طرح ایک قول ہے خَالِيَ الْمُؤْمِنِ وَ خَالِيَ الْعَاقِبِ۔ (دشمن سے خلوص کے ساتھ اور عاجز سے ظاہری اخلاق کے ساتھ ملو۔)

۲۲- أَخُوكَ أَمِ الدَّيْبِ

(وہ تیرا بھائی ہے یا بھیریا) جو شخص تیری بہردی کے لئے ایسے وہ تیرا بھائی ہے یا تجھے تکلیف دینے کے لحاظ سے صیرطیا ہے اسی طرح بولا جاتا ہے اصَاحِبُ أَنْتَ قَارِكُنْ أَيْدِكَ أَمْ عَدُوٌّ قَاخُدُ مِنْكَ (آیا تو درست ہے کہ تیری طرف مال ہوں یا دشمن ہے کہ تجھ سے بچوں)۔

۲۳- أَخُوكَ مَنْ صَدَقَكَ

(تیرا بھائی وہ ہے جو تجھ سے مخلصانہ محبت کرے)

۲۴- أَخُوكَ مَنْ وَاسَلَتْ يَنْشِبُ لِأَمْنٍ وَ أَسَاكَ يَنْسِبُ

(تیرا بھلا وہ ہے جو مال سے تیری مدد کرے نہ وہ جو شخص تیری قربت ہی کا ذکر کرے) وَ أَسَاكَ بَعْنِي أَسَاكَ ہے یعنی اعانت ادا کرنا

۲۵- إِنَّ أَخَا الْهَيْجَاءِ مَنْ تَيْسَعِي مَعَكَ

(جنگ جو وہ ہے جو تیرے ہمراہ دوڑتا رہے)۔

۲۶- إِنَّ أَخَاكَ مَنْ أَسَاكَ

(تیرا بھائی وہ ہے جو تیری اعانت کرے) آسَيْتُ فَلَا تَأْتِي بِمَالِي أَوْ غَيْرِهِ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب کسی شخص کو مال دے کر اپنے برابر کر لیا جائے اور اپنے نفس پر اس کو ترجیح دی جائے۔ یہ بھائیوں کے ساتھ احسان کرنے پر براگینہ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔

۲۷- لِأَخِيكَ عَيْنٌ وَثَلُ الَّذِي لَكَ عَيْنٌ

(تیرے بھائی کا تجھ پر وہی حق ہے جو تیرا اس پر ہے)۔

۲۸- دُبَّ آخِرِ لَحْمٍ تَلْدَا وَ الدَّيْبِ

(بہت سے بھائی ایسے ہیں جہاں جائے نہیں ہوتے، سچے دوست کے لئے کہا جاتا ہے جو بعض اوقات حقیقی بھائی سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے)۔

ہے وہ خواہ کتنی ہی دور ہو قریب ہی ہے اور ہر لہو قریب ہوتی جاتی ہے۔

۱۲- ذَاكَ أَحَدُ الْأَحْدِيثِ

(یہ دو کتاؤں میں کا ایک ہے، یعنی منتخب چیزوں کا انتخاب)۔

۱۳- أَحَدًا كَأَبْرَمَتِهِ

(اس کو کئی طور پر لے لیا) رمتہ پڑانی رتی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں یہ مثل ایک واقعہ سے ماخوذ ہے کسی شخص نے ایک اونٹ پرانی رتی سمیت کسی گودے دیا تھا اسی سے یہ مثل بن گئی۔ اب کوئی چیز مجموعی طور پر لی جائے تو کہا جاتا ہے أَحَدًا كَأَبْرَمَتِهِ اور پوری پوری مجموعی طور پر دی جائے تو کہا جاتا ہے دَفَعَهُ إِلَيْهِ بِرَمَتِهِ

۱۴- قَدْ يُؤْخَذُ الْجَارُ بِذَنْبِ الْجَارِ

(کبھی پڑوسی کے گناہ میں پڑوسی پکڑا جاتا ہے)

۱۵- خُذْ مِنَ الرَّصْفَةِ مَا عَلَيْهَا

(پتھر پر جو کچھ لگا ہو اس کو ہی لے لو)۔ بھاگتے چرری کی ننگوتی ہی بھی رصفہ وہ پتھر ہے جس کو گرم کر کے دودھ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ دودھ گرم ہو جائے۔ اس پتھر پر دودھ کی چکناٹی وغیرہ لگ جاتی ہے۔ یہ مثل اس وقت دی جاتی ہے جب بخیل سے کوئی معمولی چیز بھی غنیمت سمجھی جائے۔

۱۶- خُذِ الْأَمْرَ بِقَوَائِلِهِ

(مسائل کو اس کے مقدمات کے ساتھ ملو) مسائل کے پیش آنے سے پہلے اس کی تدابیر اختیار کرو۔ اس میں بار معنی فی ہے یعنی بقوایلیہ معنی فی بقوایلیہ ہے۔

۱۷- خُذْ مِنَ النَّهْرِ مَا صَعَا وَمِنَ الْعَيْشِ مَا كَفَى

(زمانہ سے وہ چیز لو جو سہولت ہو اور روزی اتنی جو کافی ہو)۔

۱۸- خُذْ مَا طَفَتْ لَكَ

(جو چیز قریب ہو اس کو لے لو)

۱۹- لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَ الْيَوْمِ لِعَمَلِ

(آج کے کام کو کل پر نہ مائلو)۔

۲۰- آخِرُ الدَّاءِ لَنْ يَكْفِي

(مرض کی ابتدا داغ دینا ہے) مرض کے انتہائی حد تک پہنچ جانے کے وقت بولتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مریض کا ہر قسم کی دوا سے علاج کیا

- ۲۹ - آدب المذمومین ذہیب
 (آدمی کا ادب اس کے سونے سے بہتر ہے)
- ۳۰ - آدب مال و استیعاب المال
 (ادب مال ہے اور اس کا استعمال کمال ہے)
- ۳۱ - نعم الموءوب الداهر
 (زمانہ بہترین ادب سکھانے والا ہے)
- ۳۲ - ما رسمت لا حقا و لا
 (حاجت سبب ہے نہ کہ اکرام) یعنی اکرام و احترام ضرورت کی بنا پر ہے محبت کی وجہ سے نہیں۔ "اسلام دوستی بیغرضیست"
- ۳۳ - الارض الواطئة لتكرب ماؤها و ماء غيرها
 (پانی اور نرم زمین اپنا پانی بھی پی جاتی ہے اور دوسرے کا بھی)
- ۳۴ - بالأرض و لدنك امتك
 (تیری ماں نے تجھے زمین ہی پر تو جانا ہے) آدمی خاک کا پتلا ہے عزم و تکبر سے روکنے اور اعتدال اختیار کرنے کی ترغیب دینے کے لیے
- ۳۵ - للأرض من كائس الكرام نصيب
 (سختی لوگوں کے پیالے میں زمین کا بھی حصہ ہے) سختی کے مال میں سب کا سا جھا
- ۳۶ - و في الأرض للحر الكرمي مناد
 (خدا کی سرزمین میں شریف آدمی کے لیے بڑی گنجائش اور روزگار کے موقعے ہیں)
- ۳۷ - لا اصل له ولا فصل
 (نہ خاندانی شرافت ہے نہ حسن گفتار) اصل حسب نسب کو اور فصل زبان اور گفتگو کہتے ہیں۔
- ۳۸ - الأصیل یجود
 (شریف آدمی سخاوت کیا کرتا ہے)
- ۳۹ - الأصیل یفعل بأصله
 (شریف اپنی شرافت کے مطابق عمل کرتا ہے)
- ۴۰ - آفة العلم النسيان
 (بحول علم کی مصیبت ہے)
- ۴۱ - أحل عليه الدهر و شرب
 (ایک زمانے نے اس پر کھایا پیلے) یعنی تجربہ کار اور کھایا کھیلنا آدمی ہے۔
- ۴۲ - أكلت تمرني و عصيتكم أمري
 (تم نے میری کھجوریں کھائیں اور پھر میری ہی نافرمانی کی) کسی کی نیکوئی کے موقع پر کھجاتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا مقولہ ہے۔
- ۴۳ - كل لحبي ولا أذعه لآكل
 (میں اپنا گوشت خود ہی کھاؤں گا کسی دوسرے کے لیے نہ چھوڑوں گا) یہ مثال اس شخص کے بارے میں دی جاتی ہے جو اپنے آپ کو بے اثر داند کو خود ہی تکلیف پہنچانے کی غیر ضروری پہچانے سے۔ اس مثل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جنسی کے مقابلے میں رشتہ داروں کی امداد کرنی چاہئے خواہ رشتہ دار کے ساتھ دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔
- ۴۴ - يا حل الشر و أرحم بالثوى
 (مجھ کو روکھا رہا ہے اور گھٹیاں لگسا۔ یہ جارہی ہیں) اس شخص کے لیے بولاجاتا ہے جو نفع خود اٹھائے اور مشقت دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔
- ۴۵ - يا كسبي سبع و لا يا كسبي كلب
 (مجھے ایک زندہ کھار رہا ہے کتا نہیں کھا رہا ہے)
- ۴۶ - يا كسبهم بغيري و يظلمون
 (اس کو دارمیں سے چراتا ہے اور تم سے کچل رہا ہے) من کے ساتھ برائی کرنے کے وقت بولا جاتا ہے۔
- ۴۷ - يا كل بالقونى الذى كذب خلق
 (وہ اس کو اڑھ سے کھاتا ہے جو پیدائش ہوئی) اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو بغیر احسان کے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے۔
- ۴۸ - غیری یا كل الدجاج و أنا اقرب في السباج
 (دوسرے مرغیاں کھائیں اور میں چھاڑی میں پھولوں)
- ۴۹ - اكل و حمن و خیر من اكل و صمت
 (کھانا اور تعریف کرنا کھانے اور خاموش رہنے سے بہتر ہے) من کی تعریف پر اسی بارنے کے لیے بولا جاتا ہے۔
- ۵۰ - اكل و لا مئا
 (کھانا اور پھر دست بھی کرنا) اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز سے نفع بھی اٹھایا جائے اور اس کی مذمت بھی کی جائے حالانکہ مولائی کی مستحق نہ ہو۔ "کھانا اور کھیرے مکان"
- ۵۱ - رب اكله شنع اكلات

- ۲۹ - آدب المذمومین ذہیب
 (آدمی کا ادب اس کے سونے سے بہتر ہے)
- ۳۰ - آدب مال و استیعاب المال
 (ادب مال ہے اور اس کا استعمال کمال ہے)
- ۳۱ - نعم الموءوب الداهر
 (زمانہ بہترین ادب سکھانے والا ہے)
- ۳۲ - ما رسمت لا حقا و لا
 (حاجت سبب ہے نہ کہ اکرام) یعنی اکرام و احترام ضرورت کی بنا پر ہے محبت کی وجہ سے نہیں۔ "اسلام دوستی بیغرضیست"
- ۳۳ - الارض الواطئة لتكرب ماؤها و ماء غيرها
 (پانی اور نرم زمین اپنا پانی بھی پی جاتی ہے اور دوسرے کا بھی)
- ۳۴ - بالأرض و لدنك امتك
 (تیری ماں نے تجھے زمین ہی پر تو جانا ہے) آدمی خاک کا پتلا ہے عزم و تکبر سے روکنے اور اعتدال اختیار کرنے کی ترغیب دینے کے لیے
- ۳۵ - للأرض من كائس الكرام نصيب
 (سختی لوگوں کے پیالے میں زمین کا بھی حصہ ہے) سختی کے مال میں سب کا سا جھا
- ۳۶ - و في الأرض للحر الكرمي مناد
 (خدا کی سرزمین میں شریف آدمی کے لیے بڑی گنجائش اور روزگار کے موقعے ہیں)
- ۳۷ - لا اصل له ولا فصل
 (نہ خاندانی شرافت ہے نہ حسن گفتار) اصل حسب نسب کو اور فصل زبان اور گفتگو کہتے ہیں۔
- ۳۸ - الأصیل یجود
 (شریف آدمی سخاوت کیا کرتا ہے)
- ۳۹ - الأصیل یفعل بأصله
 (شریف اپنی شرافت کے مطابق عمل کرتا ہے)
- ۴۰ - آفة العلم النسيان
 (بحول علم کی مصیبت ہے)
- ۴۱ - أحل عليه الدهر و شرب
 (ایک زمانے نے اس پر کھایا پیلے) یعنی تجربہ کار اور کھایا کھیلنا آدمی ہے۔

۶۳۔ اَمْ سَقَاتَكَ الْغَيْلُ مِنْ عَيْزِ رَبِّكَ

روہ ایسی ماں ہے جس نے بغیر عمل کے تجھ کو مال کا دودھ پلایا ہے
فیل۔ اس دودھ کو کہتے ہیں جو ماں کے حائل ہونے کی حالت میں بچہ
پئے۔ یہ دودھ بچہ کو مضر ہوتا ہے۔ یہ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے
جو پیسے تو کسی کو مقرب بنائے اور پھر بغیر کسی قصور کے اس کو نکال دے
اور زیادتی کرے۔

۶۴۔ اِلَىٰ اٰتَمِّ يٰۤاَهْلَ الْاَلْفَاكِ

(فریاد کرنے والا اپنی ماں ہی کے پاس فریاد کرتا ہے) آدمی اپنے اہل
اور بھائیوں ہی سے امانت چاہتا ہے۔ کفنان مصیبت زدہ اور
مبتلائے افسوس کو کہتے ہیں۔

۶۵۔ اَلَا هُوَ يُعَدُّهُنَّ ذُوْنًا اَلَا هُوَ

(ایک امر سے پیسے دوسرا امر پیش آجاتا ہے) مشکلات اور مواعج
پیش آنے کے لئے بولا جاتا ہے۔

۶۶۔ اَمْرًا مَّبِيْۤاٰتِكَ لَا اَمْرًا مَّضْحٰكًا يَتَدَّ

رر لانے والی باتوں کا خیال رکھو نہ کہ اپنے ہنسانے والی باتوں کا اپنی
اس شخص کی بات سزجوتجاری برائیوں کا انجام ظاہر کرے تاکہ ان
برائیوں سے نجات پاسکو۔ اس کا کہنا نہ مازجو تمہیں خطرات سے بالکل
بے خوف کروے اور بھنور میں پھنسا دے۔

۶۷۔ لَا اَمْرًا مَّا جِدَّ عَ قَصِيْدًا اَنْفَسًا

(کسی مقصد کے لئے ہی قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے) اس شخص کے لئے کہا
جاتا ہے جو اپنا مطلب نکالتے کے لئے کوئی جیلہ اختیار کرے یہ زبا
کا مقولہ ہے جس نے اپنے باپ ریان غسانی شاہ خضر کے انتقام میں اس
کے قاتل جذیرہ ابرش کو قتل کر دیا تھا قصیر نامی جذیرہ کے وزیر نے زیاد
سے جذیرہ کے خون کا انتقام لینے کے لئے اپنی ناک کاٹی اور جسم پر مار کے
نشانے لگائے اور زبا کو یہ فریب دیکر کہ جذیرہ کے بیٹے نے اس
پر ظلم کیا ہے اس کی نپاہ حاصل کی زبا کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد قصیر نے
موتے پا کر تجارتی سامان کی بوندیں میں تلخ سپا بھاپا پائے اور زبا کے
عمل کا حاکمہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ زبا کو جب قصیر کا یہ جیلہ معلوم ہوا تھا
تو اس نے یہ مثال کہی تھی۔

۶۸۔ لَا اَمْرًا مَّا يَسُوْدُ مِنْ قِيُوْدٍ

(جو سردار تیل کے روبرو سے تیل ہے) کئی شخص استحقاق ہی کی وجہ سے

دکھی ایک لقمہ بہت سے لقموں کو روک دیتا ہے کیونکہ کبھی ایک لقمہ
بیمار کو دیتا ہے اور پھر بہت سی چیزوں سے مرعین محروم ہو جاتا ہے۔
پر پھر پر آلودہ کرنے کے لئے بولتے ہیں۔

۵۲۔ اَكْلُ مِنْ خُوْبٍ رُحِي سَعِي زِيَادَةُ كَلَانِ وَالَا

۵۳۔ اَكْلُ مِنْ التَّوْحَى رُحِي سَعِي زِيَادَةُ كَلَانِ وَالَا

۵۴۔ اَكْلُ مِنَ السُّوْى رُكْنٌ سَعِي زِيَادَةُ كَلَانِ وَالَا

۵۵۔ اَكْلُ مِنْ صُرْبِي رُوَاكُمُ سَعِي زِيَادَةُ كَلَانِ وَالَا

۵۶۔ اَكْلُ مِنَ النَّارِ رَاكٌ سَعِي زِيَادَةُ كَلَانِ وَالَا

۵۷۔ حَتَّى يُوَدِّعَ بَيْنَ الصَّبِّ وَالسُّوْى

(یہاں تک کہ گروہ اور مچلی جمع ہو جائیں۔ زون مچلی کہتے ہیں مچلی اور
گروہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتیں کیونکہ مچلی پانی میں رہتی ہے اور گروہ کبھی پانی
نہیں پتی اسی طرح حَتَّى یُوَدِّعُ الصَّبِّ بَرْتِی میں کیونکہ گروہ کو پانی
کی ضرورت نہیں تعلیق بالجمال مراد ہے۔ جیسے جب تک آگ پانی یا شیر
بکری جمع نہ ہوں۔

۵۸۔ اَلْفَ مِنْ حَمَارٍ مَكَّةَ

(مکہ کے قبوترے سے بھی زیادہ مانوس) کیونکہ مکہ میں نہ کوئی حمار کا شکار کیا جاتا
ہے اور نہ اس کو کوئی پریشان کرتا ہے۔

۵۹۔ اَلْفَ مِنَ الْحَتَّى

(بخار سے بھی زیادہ مانوس) بخار کا عرصہ مدہر ہوتا ہے تو مرعین پر پھیر
اور علاج کرتا ہے اور جب اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب بخار
دور ہو گیا تو بخار پھر لوٹ آتا ہے۔

۶۰۔ اَلْفَ مِنْ كَلْبٍ

(رکتے سے زیادہ مانوس) کیونکہ جب صاحبانہ سفر کرتا ہے تو وہ سر اگلی
جا تو اس کے ہمراہ نہیں جاتا بلکہ صرف کتا جاتا ہے اور وہ اپنے وطن
کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے ہمراہ جاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔

۶۱۔ اَمْرًا فَدَشَّتْ فَا تَامَتْ

(گویا ماں ہے کہ بچہ بنا بچھا دیا) اس شخص کے بارے میں
بولتا جاتا ہے جو کسی قوم پر مہربانی اور شفقت کرے جس میں مہالذ کرے
گویا کہ وہ ماں ہے کہ اس نے بچے کے لئے بستر بچھا دیا اور بچہ سو گیا

۶۲۔ اَمْرًا لَّا خَرَسَتْ نَعْرُوْهُ بِلِقَاتِ الْخُرَسَانِ

(کوئٹے کی ماں کو گنگے کی لفت خوب جانتی ہے)۔

قوم کا سردار بنا کر تا ہے۔

۶۹۔ لَيْسَ لِلْأُمَمِ إِحْرَامٌ مَّنْ لَّمْ يَنْظُرْ فِي الْعَوَاقِبِ
(جو شخص انجام پر نظر نہ کرے وہ مسالوات پر جاری نہیں ہو سکتا)

۷۰۔ الْأَمِيرُ مَن لَّا يَعْرِفُ الْأَمِيرُ

(امیر وہ ہے جو کسی دوسرے امیر کو نہ جانے)

۷۱۔ يَا حَبْتَا أَلِمَاةٌ دَلْوَعَلَى الْحِجَارَةِ

(حکومت بڑی اچھی چیز ہے خواہ پتروں پر ہی کیوں نہ ہو)

۷۲۔ تَأَمَّلْ عَيْبَ عَيْبٍ رَمِيْبٌ ذُو صُنْدُحَانٍ عَيْبٍ هَيْبٍ هَيْبٍ

(جو شخص بھی زمانہ سے مامون ہو زمانے نے اس سے خیانت کی) زمانہ

کے حوادث سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔

۷۳۔ آمِنٌ مِّنْ حَمَامٍ مَّكْتَمَةٍ

(کہ کے کبوتر سے بھی زیادہ مامون) کیونکہ نہ اس کو ٹسکا کر کیا جاتا ہے اور نہ پریشان۔ آمِنٌ اَسْنٌ مِّنْ مَّشَقِّ

زمین سے زیادہ امین کیونکہ زمین میں جس جنس کی امانت رکھی جاتی ہے

۷۴۔ آمِنٌ مِّنْ الْأَرْضِ

۷۵۔ اَلْأَيْتَانِ سُبُلٌ اِلَى بُسْأَسٍ
(دو اونٹنوں کی سبیلوں کے درمیان سے چلنا چاہیے) ایسی کسی کو مانوس

۷۶۔ اَلْمُؤْمِنُ بِسُورَةٍ فِي وُجُوهِهِ وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ
(جو شخص کسی کلمہ کی یاد دہانی کے لیے چہرے پر ہوتی ہے اور اس کا غم

قلب میں مخفی ہوتا ہے۔)

۷۷۔ اَلْأَيْتَانِ سُبُلٌ اِلَى بُسْأَسٍ

۷۸۔ لَيْسَ عَلَى الْاِنْسَانِ اِلَّا مَا مَلَكَ

۷۹۔ اَلْاِنْسَانُ عِبْدٌ اِلَى حَسَنٍ
(انسان پر وہی چیز ضروری ہے جو اس کے قبضے میں ہو)

۸۰۔ اَلْاِنْسَانُ اِبْنُ يَوْمٍ

(انسان اپنے دن کا بیٹا ہے) یعنی وقت کا بندہ

۸۱۔ الْاِنْسَانُ بِالْتَّفَكْرِ وَاللَّهُ بِالسُّبُوْرِ

(انسان غور و فکر میں مشغول ہے اور خدا تعالیٰ تدبیر میں ہے)

”تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ“

۸۲۔ كَلَّ اِنْسَانٌ وَهَمَهُ

(جو شخص اپنے غم کی تدبیر خود بہتر کرتا ہے) جو شخص اپنا کام خود ہی

مانتا ہے یا جو شخص اپنی مصیبت میں مبتلا ہے۔

۸۳۔ اَنْفٌ فِي الْمَاءِ وَ اَسْتُ فِي السَّمَاءِ

(ناک پانی میں ڈوبی ہوئی ہے چوڑا آسمان پر ہیں) کم رتبہ تکبر شخص یا

کم بہت بڑا بلا شخص کے لئے کہا جاتا ہے

۸۴۔ اَنْفُكَ مِنْكَ وَ اِنْ كَانَتْ اَذَنُكَ

(تیری ناک تیری ہی ہے چاہے بھری ہوئی کیوں نہ ہو) اَلْاَنْفُ اَلْاَذَنُ

وہ ناک ہے جس سے بروقت ریزش ہوتی ہو۔ اسی لفظ کا استعمال

یہ ہے ذَنُّ الرَّجُلِ يَذِنُ زَيْبًا فَهَوَّ اَذَنُكَ يَشْتَلُ اس

ایسے موقع پر استعمال کی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی

قوم کے طعنے سے بیزار ہو اور اس کو اپنی قوم کے کردار

کی امداد کا احساس دلایا جائے۔

۸۵۔ مِنْكَ اَنْفُكَ وَ اِنْ كَانَتْ اَخِذُكَ

(تیری ناک تیری ہی تو ہے چاہے وہ کٹی ہوئی ہو) اس شخص

کے بارے میں بولا جاتا ہے جس کی طیر یا شر سے مفرط ہو اگرچہ

وہ زیادہ قریب نہ ہو۔

۸۶۔ اَلْاِنْسَانُ حَمَامٌ اِلَى اَيَّامِهِ

(مخلوق زمانہ کا شکار ہے) آخر کار زمانہ سب کو ختم کر دے گا

۸۷۔ مَنْ تَأْتِيْ اَذْرَكَ مَا تَمَسُّهُ

(جس نے آہنگی سے کام لیا اس نے اپنی مراد پائی) صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے

۸۸۔ حَسْبُ اِنْسَانٍ مَا كَفَى فِينِيْ يَوْمَ قَعْدِهِ

(میرے دن سے وہی نکتہ ہے جو اس میں ہوتا ہے) یزید کے بوائے نفع

بھی مردی ہے سنی ایک ہی ہیں۔

۸۹۔ عَنِ اَهْلِهَا تَجْعَلُ بَدْرًا قِسْطُ

(اپنے اہل ہی پر برائتھ مصیبت لاتی ہے) برائتھ ایک عرب قبیلہ کی

کتیا تھی۔ ایک مرتبہ اس قبیلے پر اپنا کھلم کھرا لوگ چڑھ کر بجائے نکلے تھے

برائتھ قبیلہ کی بہن ان کے پیچھے چلی۔ حملہ آوروں نے اس کی آواز

جاتا ہے جو ایسی چیز تلاش کرے جو خود اس کے لئے موجب بلاکت ہو۔

۱۰۲۔ اَبْرَدُمِنْ اَسَدٍ (شیر سے زیادہ منک بدبو والا)

۱۰۳۔ اَبْرَدُمِنْ صَفْوٍ (شکرہ سے زیادہ منک بدبو والا)

۱۰۴۔ اَبْرَدُمِنْ قَهْدٍ (چھتے سے زیادہ منک بدبو والا)

۱۰۵۔ بَجْرًا لَفِيمٍ (منے بدبو پیدا ہونا) گندہ دہن

۱۰۶۔ اَنْجَلُ مِنْ شَاوِيٍ

رکاوڑ سے بھی زیادہ نجیل، مار رہی ہال کا ایک شخص جو بیل میں مشور تھا

۱۰۷۔ هَذِهِ بَيْتُكَ وَالْبَادِيَةُ اَنْظَلَمُ

یہ سزا سپیل کے بدل میں ہے اور ابتدا کرنے والا ہی ظالم ہے (یعنی

بدی کرنے والے کو اس کی سزا بھی دی جاتی ہے اور بدی کی ابتدا کرنے

کی وجہ سے ظالم بھی کھلتا ہے۔

۱۰۸۔ اَسْبَدَى الصَّرِيحُ عَنِ السَّرْوَةِ

صاف اور خالص صفتہ جھاگ سے جدا ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا

پانی ہو گیا۔ رَغْوَةٌ دودھ کے اوپر کے جھاگ!

۱۰۹۔ كَلْبٌ مَبْدُؤٌ لِ مَمْلُؤٍ

(زیادہ مستعمل چیز سے طبیعت اکتا جاتی ہے)

۱۱۰۔ بِالْبَدْرِ يُسْتَعْبَدُ الرَّحْرُ

(احسان سے شریف آدمی کو غلام بنایا جاسکتا ہے)

۱۱۱۔ يَدُؤُتُ قَائِمَةً مِنْ قُوْبٍ

(انڈا چوزہ سے بے تعلق ہو چکا ہے) قَائِمَةٌ انڈے کا اور قُوْبٍ چوزہ کو

کہتے ہیں یعنی "بات بہت دور ہو گئی" اور "تیرکان سے نکل چکا"

۱۱۲۔ بَدُوْءُ عَدَاةٍ عَدُوِّ عَدَاةٍ مِنْ ظَمَائِرٍ

(صبح کی ٹھنڈک نے آدمی کو پیاس کے بارے میں فریب دیا) مشہور ہے

کہ ایک شخص ٹھنڈی صبح میں جانور لے کر جنگل میں گیا اور پانی ساتھ نہ لیا

اور پھر تپتی ہوئی دوپہر میں پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گیا۔

۱۱۳۔ اَبْرَدُمِنْ غَيْبِ الْمَطَرِ

ربارش کے اگلے دن سے بھی زیادہ سرد (غیبِ الْمَطَرِ) دراصل غیبِ یومِ اَمَلِ

۱۱۴۔ اَبْرَدُمِنْ عَضْرِ مِي

(برف سے زیادہ سرد) عَضْرِ مِي برف یا اولے کہتے ہیں

۱۱۵۔ اَبْرَدُمِنْ قَلْحَسٍ

(فلحس سے زیادہ جن جبانے والا) فلحس بنی شیبان کا سرد اور تھلا جو گھومٹھ اور

پر تعاقب کیا اور آخر اس قبیلہ کو تباہ کر دیا۔ یہ مثال ایسے شخص کے

لئے کسی جاتی ہے جس کا عمل خود اس کے لئے اور دوسرے

الباغانہ کے لئے مصلح ہو۔

۹۰۔ آفَةُ الْمَرْوَةِ خَلْفَ الْوَعْدِ

(شرافت کی مصیبت وعدہ خلافی ہے)

۹۱۔ آفَةُ الْمَجْرَدِ الْاِسْرَافِ (سخاوت کی مصیبت فضول خرچی)

۹۲۔ آفَةُ الْحَوِيَّةِ الْكِدْبُ (گفتگو کی مصیبت جھوٹ)

۹۳۔ آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ (علم کی مصیبت بھول)

۹۴۔ اَوَّلُ الْعُقَبِ جَنُونٌ وَاٰخِرُهُ سَدْمٌ

(عقبت کی ابتدا جنون اور اتمنا زامت ہے)

۹۵۔ اَوَّلُ الْغَيْثِ قَطْرٌ (بارش کی ابتدا بوتہ ہے)

۹۶۔ اَوَّلُ الشَّجَرَةِ التَّوَاؤُ

دورخت کی ابتدا گھٹل ہوتی ہے (یہ مثالیں ایسا چھوٹی باتوں کے

لئے استعمال کی جاتی ہیں جن سے بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

۹۷۔ لَسْتُ بِاَوَّلٍ مِنْ عَذْرَا السَّرَابِ

(تو ہی وہ پہلا شخص نہیں ہے جن کو سراب نے فریب دیا ہے)

۹۸۔ اَيُّوَاتُ كُسْرِي

رؤخیرواں محل، انتہائی مضبوط، محفوظ، بلند اور عجیب عمارت کے

لئے بولا جاتا ہے یہ محل دنیا کی عجیب عمارت میں سے تھا۔ اور

بادشاہوں کی بہترین باقی ماندہ یادگار۔ یہ بغداد سے ایک منزل

پہر مائیں میں واقع تھا اور کسری پر ویرنے اس کو بیس سال سے زائد

مدت میں تعمیر کیا تھا۔

ب

۹۹۔ اَلْبُرُّ اَبْقَى مِنَ الرَّشَاءِ

(گناہ رتی سے زیادہ باقی رہتا ہے) رَشَاءٌ ڈول کی تکی کہتے ہیں

۱۰۰۔ كَا بَحِيْثٍ عَنِ حَتِيْفٍ يَنْظِلِفُ

(اپنے ہی گھر سے اپنی موت کو کھونے والے کی طرح) اپنی پاؤں پر آپ

کھاڑی مارتا۔

۱۰۱۔ كَا بَحِيْثٍ عَنِ الْمُدِّيَةِ

(چھری کھونے والے کی طرح) اپنی موت بلانا "اپنے شخص کے لئے بولا

۱۱۶۔ بَرِّضُنْ مَرْدُ عَيْدٍ۔
غیر جہاد کے مال قیمت میں اپنے سارے خاندان کا حق طلب کیا کرتا تھا۔

۱۱۷۔ اِنَّمَا هُوَ كِبْرُكَ الْخُلْبِ
بڑے ذخیروں سے تھوڑا سا (بَرِّضُنْ) تھوڑی سی چیز کہتے ہیں۔
بولاجاتا ہے مَاءُ بَرِّضُنْ تھوڑا سا پانی عَيْدٌ وہ پانی جو ہمیشہ جاری رہے۔ ڈھیر میں سے مٹی بھر۔

۱۱۸۔ عَسَى الْبَارِقَةُ لَا تَخْلِفُ
وہ تر دھوکہ دینے والی بجلی کی طرح ہے (یعنی بجلی چمکتی ہے مگر بارش نہیں ہوتی) جو گر جتے ہیں وہ برستے نہیں!

۱۱۹۔ مَا حَسُنَ بَارِقَةٌ تَجْرُدُ بِمَا يَمُنُّ
امید ہے کہ بجلی والا بادل وعدہ خلافی نہیں کرے گا (یعنی بارش کی امید پوری ہوگی) احسان کی امید میں بولا جاتا ہے!

۱۲۰۔ اَلَّذِي لَا يَبْصُرُ مِنَ الْعِزْبِ بَالٍ يَكُونُ اَعْمَى
جو شخص چھپنی میں سے بھی نہیں دیکھ سکتا وہ اندھا ہوتا ہے۔

۱۲۱۔ اَبْصُرْ وَ سَمَّ قَدْ جِدَّ
اپنے تیر کی علامت دیکھ لو (قدح) وہ تیر جس کے ذریعے لاٹری تقسیم کی جاتی تھی۔ تو تم وہ علامت ہے جو تیر پر بنائی جاتی تھی۔ یہ

مقولہ ایسے مقام پر بولا جاتا ہے جہاں مخاطب کو اپنے نفع یا نقصان پر متوجہ کرنا مقصود ہو! "تم خود اپنے کپڑے کے دانت دیکھ لو"

۱۲۲۔ اَبْصُرْ مِنْ عِقَابٍ
عقاب سے بھی زیادہ تیز نظر (گدے سے بھی زیادہ تیز نظر)

۱۲۳۔ اَبْصُرْ مِنْ نَسْرِ
رات میں چمکاؤڑے سے بھی زیادہ تیز نظر (گدے سے بھی زیادہ تیز نظر)

۱۲۴۔ اَبْصُرْ مِنْ اَنْوَاطٍ فِي اللَّيْلِ
دیا مہ کی زرقاں سے بھی زیادہ تیز نظر (زر قارچدیں تیلیے کی صورت تھی جو تین منزل کے فاصلے سے دیکھ لیتی تھی۔)

۱۲۵۔ اَبْصُرْ مِنْ زُرْقَائِهِ اَلَيْسَا مَيَّةً
اس کا تھوڑا سیجا تک نہیں، یعنی الجوز۔ اس وقت بولتے ہیں جب پتھر سے عرق کی مانند کوئی نمی پھوٹ نکلے۔ اس نہیں کہنے بولا جاتا ہے جس سے غیر کوئی امید نہ ہو۔ پتھر سے چونک نہیں لگتی۔ "ان تلوں میں

تیل نہیں"

۱۲۶۔ اَبْطَأُ مِنْ عُرَابٍ كَوْحٍ
رُوح کے کتے سے بھی زیادہ دیر لگانے والا (روح علیہ السلام نے

ایک کتے کو بھیجا تھا کہ وہ زمین سے پانی کے ختم ہونے کی خبر لائے مگر وہ واپس ہی نہ لوٹا)

۱۲۸۔ اَبْطَشُ مِنْ دَوْمِيَّةٍ
دومیر سے زیادہ تیز حملہ آور (دومیر دوسرے مشرقی ہے۔ نعمان بن منذر کے لشکر کا نام تھا۔)

۱۲۹۔ بَطْنِي مَطِيرِيٌّ وَ سَائِرِيٌّ ذَرِيٌّ
میر سے پیٹ پر مطر طوا اور میر سے باقی حصہ بدن کو چھوڑ دو (ایسے شخص کیلئے کہا جاتا ہے جو ہم چیز کو چھوڑ کر غیر ہم کو اختیار کرے)

۱۳۰۔ اَلْبَيْطَنَةُ تَأْفِينُ الْفِطْنَةِ
زیادہ کانا ذات کو ختم کرتا ہے (فِطْنَةُ اَلْبَيْطَنَةُ اس وقت بڑھتی ہے جب اونٹ کا پتہ اونٹنی کے تھن کا سارا دوہرنے لے مثال کا مفہوم یہ کہ مال رو دولت نے عقل خراب کر دی ہے)

۱۳۱۔ مَا اَبْعَدَ مَا فَاتَ وَمَا اَقْرَبَ مَا بَاقٍ
جو نکل گیا وہ دور گیا اور جو آنے والا ہے وہ بہت ہی قریب ہے)

۱۳۲۔ اَبْعَدُ مِنْ الشَّجْوِ
رتاروں سے بھی زیادہ دور شمال میں نجم سے شریانہ نام کے ستارے مراد ہیں

۱۳۳۔ اَبْعَدُ مِنْ بَنِيْنَ اَلْاَنْوِيِّ
عقاب کے انڈوں سے بھی زیادہ دور (عقاب کے انڈے ہونے والی چیز۔)

۱۳۴۔ اَبْعَدُ مِنْ مَنَاطِ السُّرِّيَا
شریک کے گھن سے زیادہ دور (مناط اس چیز کہتے ہیں جس میں کئی چیز لٹکانی جاتے یا اس سے کسی چیز کو باندھا جائے۔)

۱۳۵۔ اَبْعَدُ مِنْ مَنَاطِ اَلْقِيَوِيِّ
میتروقی کے گھن سے بھی زیادہ دور (میتروقی شریک کے ساتھ طلوع ہو گیا ایک ستارہ ہے۔)

۱۳۶۔ اَلْبَعْدُ حَقٌّ
دو دوری ستم ہے (یعنی دور رہنے سے محبت کم ہوتی ہے) "گیٹھنورہ از برداردو"

۱۳۷۔ رُبَّ قَبِيْلٍ اَنْفَعُ مِنْ قَرِيْبٍ
دوست سے دوسرا لے پاس والا سے زیادہ نافع ہوتے ہیں۔

۱۳۸۔ اِنَّ الْبَغَاثَ بِاَذْيِنَا يَسْتَشِيرُوْا۔

دہاری سرزمین بغاٹ بھی کرگس اہم جات ہے۔ بغاٹ ایک کزد پرندہ ہے۔ اسٹنڈرڈ کے معنی صار کا لکڑی کے ہیں۔ اسے معزز شخص کے لئے بولا جاتا ہے جس کے پاس اگر ذلیل شخص بھی معزز ہو جائے یا کزد قوی بن جائے۔

۱۳۹۔ اِنَّ يَبْعُرْ عَلَيْكَ قَوْمًا لَا يَبْعُرُ عَلَيْكَ الْقَوْمَ

اگر تجھ پر تیری قوم زیادتی کرتی ہے تو چاند زیادتی نہ کرے گا۔ نازد جاہلیت میں لوگوں نے شرط لگائی۔ ایک نے کہا سورج نکلنے کے بعد تک چاند نظر آئے گا دوسرے نے کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے چاند غروب ہو جائے گا معاملہ حکم تک گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنی قوم کی زیادتی کی بھی شکایت کی حکم نے کہا کہ صبح کا انتظار کرو جو صبح ہو گا سامنے آ جائے گا۔

۱۴۰۔ مِنْ اِبْتِغَاءِ الْخَيْرِ اِتِّعَاءُ الشَّرِّ

(شر سے بچنا بھی خیر ہی تلاش کرتا ہے۔)

۱۴۱۔ عَلَى الْبَاغِي مَسَدٌ وَّ الدَّوَابُّ

زحام ہی کے سر پر مہینتیں گھومتی ہیں (باغی ظالم کو کہتے ہیں۔)

۱۴۲۔ كَتَبْتُ لِي الصَّيْدَ فِي بَيْتِي الْاَسَدَ

(شیر کی کچھاریں تمکا تلاش کرنے والے کی طرح) اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے جو غیر عمل میں اپنی ضرورت طلب کرے یا جہاں وہ مغلوب ہو جائے۔ یا اس چیز کے لئے جو محال چیز کا طالب ہو چیل کے گونے میں اس تلاش کرنا "اتھی سے گنا مانگنا"

۱۴۳۔ بَقِيَّتِي فِي زَقَاتِي۔

(میں نے شور و شر) بقیتہ شورا اور بہت بولنے کو کہتے ہیں اور زقوة ہنسی کو کہتے ہیں اور لایینی باتیں کرنے والے کے لئے بولا جاتا ہے شہمی گجھارنا یا بے پردگی اڑانا۔

۱۴۴۔ تَبَلُّ شَمْرِي وَ شَوْكٌ وَ هَيْ

(ساگ مہینہ بھکا اور کاٹا ہمیشہ کا) اس کے لئے بولا جاتا ہے جس کی خیر قلیل اور نہ بہت ہو۔

۱۴۵۔ مَا اسْتَبَقَاكَ مِنْ عَمْرٍ وَّ مَا يَلَا سَبَدَ

(جس نے تجھے شیر کے سامنے ڈال دیا اس نے تجھے زندہ نہیں چھوڑا) اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بہ انجام برائی پر اُجارتا ہو۔

۱۴۶۔ لَا يَنْبَغِي شَيْءٌ عَلٰى حَالِهِ

کوئی چیز اپنی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی

۱۴۷۔ بَقِيَ نَعْلَيْكَ وَ اَسْبَلُ نَقْدًا مَيِّدًا۔

(اپنے جوتے کو باقی رکھو اور پاؤں کام میں لاؤ) اپنے نفس پر تکلیف بڑاشت کرو اور مال کو بچاؤ تاکہ معاملات خراب نہ ہوں۔

۱۴۸۔ اَبْقِيْ مِنْ وُدِّيْ فِي حَجْرٍ۔

(پتھر پر رکھی ہوئی حکمت سے بھی زیادہ باقی رہنے والا) میں کے رب حکمت کی باتیں پتھروں پر رکھتے ہیں تاکہ پائدار رہیں لوگوں میں بولا جاتا ہے۔ اَلْعُلْمُ فِي الصَّغْرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجْرِ "بچپن کا علم پتھر کی کبیر کی طرح ہے۔"

۱۴۹۔ اَبْقِيْ مِنْ الْعَصْرِ يَسِيْرٍ۔

(صبح و شام سے بھی زیادہ باقی رہنے والا) عصرین صبح و شام کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ صبح و شام میں کوئی تیز نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک ہی طرز پر رہتے ہیں۔

۱۵۰۔ اَبْقِيْ مِنْ الشَّرِّ يَسِيْرٍ۔

(شرین سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا) شر ہی سے مراد کڑھاڑ اور شر واقعہ دو ستارے ہیں۔

۱۵۱۔ اَبْقِيْ مِنَ الدَّهْرِ زَمَانًا زِيَادَةً دِيْرَتِكَ بَاقِي رَهْنِ وَالَا

۱۵۲۔ اَبْقِيْ مِنْ حَجْرِيْ۔ (پتھر سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا)

۱۵۳۔ بَاكِوْ تَسْعَدُوْا۔ (صبح اٹھا کرو تاکہ تم تک سخت بنو)

۱۵۴۔ اَبْقِيْ مِنْ عَدُوْبِ

(کوڑے سے بھی سویرے اٹھنے والا) کو اسب پرندوں سے پہلے اٹھا

۱۵۵۔ مَا تَبَلُّ رَحْمٰى يَدِ الْاٰخِرِيْ

اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں کرتا) بخیل آدمی کو کہا جاتا ہے

۱۵۶۔ مَبْعَةٌ وَ مَبْعَةٌ الْمَخْتَقُ۔

وہ اس سے انتہائی مشقت میں پہنچ گیا "سر پر آبی" مثنوی مثنوی کہتے ہیں ڈوبنے کے صحن تک پانی پہنچ جائے تو اس وقت وہ موت سے بھگا رہتا ہے

۱۵۷۔ مَبْعَةٌ اَحْيَاہُ الطَّيْبِيْنَ۔

رنگ پستان تک پہنچ گیا، طیبی، اَلْبَابُ وَ كَاوَاہِدُہے معنی صحن کا سرا اور حرام سامان کو کہنے کے تنگ کو کہتے ہیں۔ مراد کسی معاملہ کی انتہا کو پہنچ جانا۔ "چند اگلے میں آ گیا"

۱۵۸۔ بَلَعَةُ السَّيْلِ الزُّبِّي -

ریلاب ٹیلے تک پہنچ گیا، زبیبیہ، اونچی زمیں میں "پالی سرے گزر گیا"۔

۱۵۹۔ بَلَعُ السَّيْحَانِ الْعَظَم -

رھری بڑی تک پہنچ گئی، کسی معاملے کے انتہا تک پہنچنے کے موقع پر یہ

۱۶۰۔ تَلَعَتِ السَّيْمَاءُ السَّحَن -

رخون چو پاریوں کے ٹخنوں تک پہنچ گیا۔ غنی بٹنہ ہلکی جھج ہے

وہ بال جو چوپایہ کے پچھے ٹخنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ مثال بھی شرکے

انتہائی حد تک پہنچنے کے وقت بول جاتی ہے۔

۱۶۱۔ لَوْ تَلَعُ الرِّزْقُ قَا لَوَالَهُ قَقَا هُ

راگہ رزق اس کے منہ تک پہنچ جائے تب بھی وہ پشت پھیر لے گا،

مہروم کے لئے بولا جاتا ہے۔

۱۶۲۔ مَا عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَ عَسْنُ السَّمَلِ

راہدے رچوینٹی کے کاٹنے کے برابر بھی نہ پہنچے گا، اس کے لئے

کہا جاتا ہے جس کی دھمکی کو کوئی پروا نہ ہو۔

۱۶۳۔ أَبْلَعُ مِنْ شَيْتَانِ -

رقس سے زیادہ بلینخ، قس ابن ساعدہ عرب کے حکما میں سے

تھا اس کے ساتھ فصاحت اور خطابت میں تشبیہ دی جاتی ہے

اسی نے سب سے پہلے "انا بدم" استعمال کیا اور اس کے سب سے پہلے کہا

کہ "الْبَيْتَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"

ردملک کے ذمے کرا۔ اور منکر کے ذمہ قسم ہے۔

۱۶۴۔ آبَلَدُ مِنَ الْجُبَارِي

جباری سے بھی زیادہ بے وقوف جباری ایک کم سمجھ اور کم عقل

پرندہ ہے کیونکہ اس کی مادہ جب اپنے انڈے چھوڑ کر جاتی ہے

تو ان کو قبول جاتی ہے اور دوسروں کے انڈے سینے لگ جاتی ہے

۱۶۵۔ إِنَّ الْبِلَادَ هُوَ كُلُّهَا الْمَنْطِقُ - (عامیانا ہر بلے بجاتی ہے)

۱۶۶۔ (معیبتیں حوایا پر بھی پڑتی ہیں) حوایا، حویلیہ کی جمع ہے۔ اس مذہ

کو کہتے ہیں جس میں گھاس بھوس بھوکے اور کھانے کے کوٹان پر رکھا جاتا ہے

۱۶۷۔ سَبَّ نَبَاتٍ لَيْسَ فِيهَا سَاعِدٌ -

ایسے اشک انکھیاں ہیں جن کا بازو نہیں، ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس میں بہت تر ہو مگر عمل نہ ہو۔

۱۶۸۔ أَنَا بِنْتُ جَدَلَا

میں جلا کا روکا ہوں، مشہور و متعارف کے لئے بولا جاتا ہے، یہ

شاعر کے قول کا ایک کڑا ہے شریبہ،

۱۶۹۔ أَنَا بِنْتُ جَدَلَا وَطَلَّاحِ السَّيِّئَاتِ مَتَى أَصَحَّ الْعَامَّةُ تَعْرِفُونِي

میں جلا کا بیٹا ہوں گھائیوں پر چڑھ رہا نیوالا جب میں عام سارا رو

گا تو تم مجھے پہچان لو گے، ابن جلا کی تقدیر ہے، أَنَا بِنْتُ النَّوْئِي

يُقَالُ لَهَا جَدَلَا الْأُمُوسَا وَكُنْسُهَا

۱۷۰۔ رَبِّ ابْنُو عَيْمَ لَيْسَ بِابْنِ عَيْمَ

بہت سے چچا زاد بھائی ایسے ہیں جو دراصل چچا زاد بھائی نہیں (کیونکہ جو

چچا زاد بھائی نفع نہ پہنچائے اور امداد نہ کرے وہ گویا چچا زاد بھائی ہی نہیں

۱۷۱۔ بِنْتُ صَقَا تَقُولُ سَمْنُ سَمَاعِ -

بنت صفا ہر آواز کا جواب دیتی ہے، بنت صفا اور بنت جبل سے

مراد مردائے بازگشت ہے۔ یہ مثال ایسے شخص کے لئے کہی جاتی ہے جو کسی

بھی کام کی طرف مدعو کیا جائے اور فوراً ہی قبول کرے۔

۱۷۲۔ سَيْبِنِي قَصْرًا وَتَيْهِيًا مُرْمِيْرًا

محل تعمیر کر رہا ہے اور شہر برباد کر رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جس کی

خیر کم اور شر زیادہ ہو۔

۱۷۳۔ آجْهُنِي مِنَ الْقَرِيْبِيْنِ -

(چاند سورج سے بھی زیادہ پرولن) "چندے آفتاب چندے ماہتاب"

۱۷۴۔ بَالُ حِمَارٌ قَا سَتَبَالُ أَخِيْرَةً -

(ایک گدھے نے پیٹا کیا بہت سے گدھوں سے پیٹا کر اویا)

احمرۃ حمار کی جمع ہے اس قوم کے لئے بولا جاتا ہے جو ایک فرد کے

بڑے عمل کی اندھی تقلید کریں

۱۷۵۔ بَالَتْ بَيْتِي مِمَّ الشَّكَلِ -

دان کے درمیان لومڑی نے پیٹا کر دیا، اس قوم کے لئے کہا جاتا ہے

جس میں پھوٹ اور لہو پڑ جائے۔

۱۷۶۔ لَوْ كَانَتْ فِي الْيَوْمِ مَلَكٌ خَلِدٌ مَا تَرَكَهَا الْعَبِيَادُ -

(اٹویں کوئی خیلان ہوتا تو شہر کی بھی نہ چھوڑتا)۔

۱۷۷۔ سَبَّ نَبَاتٍ لَيْسَ فِيهَا سَاعِدٌ -

میرا اسکا ٹیل ہے میں نہیں، دینے کے لئے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔

۱۷۸۔ تَبَاكَ اللَّهُ خَشْرًا وَهُمَّ -

(میں غضبناک ہوں اور تمہیں سہانا نہیں چہرہ کیسے متفق ہوں؟) تیشق
غصت سے جھرا ہوا اور تیشق گھبرانے والا۔ وہ مختلف العادات لوگوں
کے لئے بولا جاتا ہے۔

۱۹۱۔ اَشْبَحَ النَّاسَ لِحَايَتِهَا وَالنَّاقَةَ ذَمَامَهَا۔

(گھوڑے کے ساتھ گام ادا ناقد کے ساتھ گام بھی دو) تاکہ بخشش مکمل ہو۔

۱۹۲۔ اَشْبَحَ السَّائِبُ بِالسَّائِبِ

(ڈول کے ساتھ رتی بھی دو) ریشام۔ پانی کھینچنے کی رتی۔

۱۹۳۔ اَشْبَحَ مَرِيحُ الظَّلِيلِ (سایہ سے بھی زیادہ پھیلا کرنے والا)

۱۹۴۔ لَوْ اَنَّ جَزْرَتَ بِالْاَكْفَانِ مَا مَاتَ اَحَدًا

زاگر تو کفن کی تجارت کرتا تو کوئی نہ مرتا۔

۱۹۵۔ لَا تَجَارَةٌ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ۔ (نیک عمل بہتر تجارت ہے)

۱۹۶۔ شَرَكٌ ظَبْيٌ ظِلَّةٌ۔

رہنے اپنا سایہ چھوڑ دیا، اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو عیش و
آرام کی جگہ سے سختی و تنگی میں پھلا جائے۔

۱۹۷۔ شَرَكْتُ عَلَى اَنْفِي مِنَ التَّرَاخَةِ

میں نے اس کو تھیل کی طرح صاف حالت میں چھوڑا، یعنی اچھی حالت
میں نہیں چھوڑا جیسے تھیل پر کوئی مال نہیں چھوڑا ہے۔

۱۹۸۔ شَرَكْتُ عَلَى مِثْلِ مِثْقَالِ الْاَسَدِ۔

میں نے اس کو گویا کہ شیر کے ہونٹ کے پاس چھوڑ دیا ہے۔

۱۹۹۔ شَرَكْتُكُمْ فِي حَيْضِ بَيْضِ اَوْ حَيْضِ بَيْضِ

میں نے ان کو انتہائی شکل میں پھنسا ہوا چھوڑا، حیض فراگ اور پودھ
ڈر کر جھگنے اور چھپنے کو کہتے ہیں حیض کا ہم وزن کرنے کے لئے بونٹوں

کے واؤ کو یار سے تبدیل کر کے بیض بنا لیا ہے، ایسے شخص کے لئے
کہا جاتا ہے جو کسی ناگزیر معاملے میں پھنس جائے

۲۰۰۔ مَا تَرَكَ الْاَوَّلُ لِلْاٰخِرِ شَيْئًا

(پہلے دوسرے کے لئے کچھ نہ چھوڑا)

۲۰۱۔ مَتَّ شَرَكُ الشُّهَدَاءِ عَاشِي حُرًّا

(جس نے خرابی کو چھوڑا اس نے شرافت کے ساتھ لبرکی)

۲۰۲۔ لَوْ شَرَكُ الْعَطَالِيْلَا لَنَا هـ۔

راگ تھا کہ رات میں چھوڑتا تو آرام سے سوجاتا، اس شخص کے لئے بولا جاتا
ہے جو بلا ارادہ کسی مصیبت پر مجبور کیا جائے۔ یا فرم جو نے برابر

(اللہ تعالیٰ ان کا سر سبز بنا کر برباد کرے) بد دعا ہے

۱۷۹۔ كَانَتْ بَيْضَةً اَلْتَّيْدِ۔

(وہ چیز مرغ کا انڈا تھی) اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو صرف ایک
مرتبہ پالی جا کر نایاب ہو جائے کیونکہ بعض عرب کے گمان میں مرغ بھی
ایک مرتبہ انڈا دیتا ہے۔

۱۸۰۔ بَيْضًا اَلْيَوْمِ خَيْرٌ مِّنْ دُجَابَةِ الْعَدَا

(آج کا انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے) زلف نڈ تیرا دھار

۱۸۱۔ بَيْضَةُ الْبَيْدِ۔ (شہر کا بڑا آدمی یا شہر کا گن گن آدمی)

۱۸۲۔ دُونَتْ بَيْضُ الْاَلْتَّوْبِي۔

(اس سے ورے عقاب کا انڈا ہے) ایسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو
نادر و کمیاب ہو جیسے عقاب کا انڈا۔

۱۸۳۔ مَا كَلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةٍ وَلَا كَلَّ سَوْدَاءَ تَمْرَةٍ

(بہر سفید چیز چربی اور بہر سیاہ چیز کھجور نہیں ہوتی) ہر کچھ اور چیز سونا
نہیں ہوتی۔

۱۸۴۔ مَن بَاعَ بَعْدَ مِثْقَالِ اَنْفَقَ۔

(جو شخص اپنی آبرو بچے گا آبرو سے بیٹھے گا) جو شخص گایاں سننے
کا سامان کرے گا تو گایاں اس کو تیار نہیں گی۔ انفق کے معنی یہ
بکتا ہوا پایا۔ سہولت سے سودا ہو گیا۔

۱۸۵۔ بَعْتُ جَدْرِيًّا وَلَمْ اَبْحَ دَارِيًّا۔

میں نے پردوسی بیچا ہے مکان نہیں بیچا یعنی میں نے بد خلق پردوسی
سے بچنے کے لئے مکان فروخت کیا ہے۔

۱۸۶۔ لَا تَبِعِ نَعْدًا اَيْدِيًّا۔

(نقد کرنا دعا کے بدلے میں نہ بیچو)

۱۸۷۔ قَدْ بَيْنَ الصُّبْحِ وَاللَّيْلِ عَيْنَيْنِ۔

(آنکھوں والے کیلئے صبح ظاہر ہو گئی ہے) بالکل ظاہر معاملہ کے لئے بولا
جاتا ہے! بَیْنُ بَعْنِي بَیْنِي۔

۱۸۸۔ اَبْيَنُ مِنْ قَلْبِ الصُّبْحِ اَوْ قُرْقِ الصُّبْحِ

(صبح کی روشنی سے بھی زیادہ ظاہر) قَلْبُ اَوْ قُرْقُ دُونِ كَيْفِ فَرَكِ هِي

۱۸۹۔ اِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ كَيْسَرًا (بعض بیان جاہل کا اثر رکھتے ہیں)

۱۹۰۔ اَنَا تَوْبِي دَانَتْ مَيْتِي فَعَقِمْتَ تَمْتُوًّا۔

جائے اور ظلم کرنے لگے۔

۲۰۳۔ لَا يَذُكُ السَّاقِ إِلَّا مَتَيْبًا سَاقًا

روہ ایک تنہ کر بغیر دوسرے تن کے پورے نہیں چھوڑتا یہ گڑھ کے لئے کہا جاتا ہے۔ مراد محتاط آدمی۔

۲۰۴۔ لَا يَتْرُكُ الظُّبِّيُّ ظِلَّهُ

اہرن اپنا سایہ نہیں چھوڑتا، مانوس چیز کو لازم کر نیکی کے لئے مثال دیکھائی ہے

۲۰۵۔ اُشْرُكُ الشَّرِّيُّ تَرْكًا

تو شر کو چھوڑ دے شر تجھے چھوڑ دے گا۔

۲۰۶۔ تَرَكَ الْجَوَابَ عَلَى الْجَاهِلِ جَوَابًا

(جواب جاہل با شد خاموشی)

۲۰۷۔ تَرَكَ مَا لَا يَصْلُحُ اصْلَحَ

(نا قابل اصلاح کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے)

۲۰۸۔ إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامَ

(جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے)۔

۲۰۹۔ سَمَامُ الرِّيحِ الصَّيْفُ

نصل ریح کا ختم ہونا ہی گرمی ہے۔ اسی طرح قرب کا قول ہے اَلْعَمَلُ

بِحَقِّ آتِيهِمْ تَارًا اَعْمَالُ كَالْاَعْمَالِ

۲۱۰۔ اَنْتَمُ مِثْنُ قَمِيرِ الشَّمِ

(پورے چاند سے بھی زیادہ کامل تم کے معنی یہاں تمام کے یہی معنی

بزرگ انعام۔)

۲۱۱۔ اَلْمُهَيَّبَةُ وَالْمُهَيَّبَةُ (مہر و جگاری) یعنی اچھا اور برا نفع و ضرر

۲۱۲۔ اَلتَّارِبُ مِنَ الدَّائِبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

رگنہوں سے تو بہ کر لینے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی

گناہ ہی نہ کیا ہو)

۲۱۳۔ تَابَ الْمُرُوءَةُ التَّوَّابَةُ (تواضع شرافت کا تاج ہے)

۲۱۴۔ اَتَيْتُهُ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِي

رقم موسیٰ سے بھی زیادہ بڑھکا رہا اور (خیر) معنی حیرانی۔ قوم موسیٰ

چالیس سال تک حیرانی میں بھیگتی رہی۔

ن

۲۱۵۔ شَاطِئَةُ مَدَائِنَ بِنَاءٍ

(مڑی کپڑے کے ساتھ پانی بھی ملیگا۔ شاکتہ اس بدبودار کپڑے کو کہتے ہیں جس

کے ساتھ کڑی اور مڑی ہوئی چیز بھی شامل ہو یا کر یا اور غم پورھا)

۲۱۶۔ اَنْهَبْتُ فِي الدَّارِ مِثْنُ الْجِدَارِ

(دو دیوار سے بھی زیادہ گھر میں مجھے والا۔)

۲۱۷۔ اَنْهَبْتُ مِنَ الْوَشْمِ (رگ دونے کے نشانوں سے زیادہ پائیدار)

۲۱۸۔ مَا لَمْ تَأْخُذْ غِيَّةً وَرَرَّ غِيَّةً

رنہ اس کے پاس بھیڑے نہ ناکہ اٹنا فریجیٹ کر اور رافینہ ناکہ کو کہتے

ہیں۔ تلاش کے لئے کہا جاتا ہے۔

۲۱۹۔ اَنْعَلُ مِنْ رَضْوَى

(رضوی سے بھی زیادہ بھاری) رضوی مدینہ کا ایک پہاڑ ہے

۲۲۰۔ اَنْقَلُ مِنْ تَوْدٍ (بڑے پہاڑ سے زیادہ وزن)

۲۲۱۔ اَنْقَلُ مِنْ اُحْيٍ

(اگر پہاڑ سے بھی زیادہ وزن) اُحیٰ صریح کا پہاڑ ہے۔

۲۲۲۔ تَكَلَّمْتُ اُمَّكَ اَيَّ جَزْدٍ تَزْقَعُ

تیری ماں تجھے روئے تو کوئے کپڑے کو پیوند گا دلہے اُجرو پر آ

کپڑے کو کہتے ہیں۔ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو غلط اور

خیر نافع کام کرے۔

۲۲۳۔ اَلتَّحْفِيُّ نَجِيْبُ التَّحْفِيِّ

(گم شدہ بچے کی ماں گم شدہ بچے کی ماں کو ہی پسند کرتی ہے)۔

”کنز ہم جنس با ہم جنس پر واد“

۲۲۴۔ اَلْمَيْمِيُّ الشُّوْبُ الْوَسْبُ (کاٹا انگر کا پھل نہیں دیتا)

۲۲۵۔ شَرَّةٌ وَالْجَبْرَةُ لَا رِيْبَ وَلَا خُسْرَ

(برہنوں کا نتیجہ نہ نفع ہے نہ نقصان) خسرو نقصان کو کہتے ہیں۔

۲۲۶۔ اَلْعَبَاتُ لَا يَزْبَعُ وَلَا يَخْبَرُ

(نامرود نہ نفع پاتا ہے نہ نقصان)

۲۲۷۔ لَيْلٌ كَوَيْبٌ لَا يَسِيْ (اہر کپڑے کا کٹا پھل نہیں دیتا ہے)

۲۲۸۔ تَكَادُ كَالْمُهَيَّبَةِ عَلَى اَتَا يَلْمُسُ

(ان کا جاہل والا اس کے حیروانے پر جوش آگیا) جاہل جاہل والے کو اور

قابل تیر والے کو کہتے ہیں۔

۲۲۹۔ اَلشُّوْرُ يَخْبِي اَنْفَهُ بِوَدْقِهِ

(پل بھی اپنی ناک کی حالت اپنے سیکر سے کرتا ہے)۔ رُوْق

رہا کھینچ کر کھانا بے سدھے گھوڑوں کو سدھا دیتا ہے، ایسے شخص کے لئے کہتے ہیں جو ابتداء میں حکم نہانے مگر آخر میں صلح ہو جائے صیحاب۔ سرکش گھوڑے کو کہتے ہیں۔

۲۴۹- حَبْنُ لُحَاثِ

دکھلی دور کرنے والا گھوڑی کا لٹھا، جڈل۔ درخت کی جڑ کو کہتے ہیں یہ اونٹوں کے پاؤں میں نصب کر دی جاتی ہے اور غارشی اونٹ اس سے کھلا کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ حکاک غارش کی طرح ایک بیماری سے اس شخص کے لئے کہتے ہیں جس کی رائے اور عقل سے لوگ اپنے کام درست کرتے ہیں۔

۲۵۰- اَنَا جَدَّيْهَا لَمْ تَمَعَدَتْ وَقَدْ نَقَّهَا الْمَرْجَبُ

میں اس کے لئے غارش کے وقت کھلانے والا تیز ہوں اور چوترو سے مضبوط کیا ہوا کھجور کا درخت ہوں، جڈیل جڈل کی تصغیر ہے، یعنی درخت کی جڑ۔ ٹھلک وہ چیز جس سے غارش اونٹ کھلا لیں۔ عَذْقُ عَذْقُ کی تصغیر ہے یعنی کھجور کا درخت، جڈیل وہ چیز جس کے چاروں طرف پتھر کا چوترو بنا کر مضبوط کیا گیا ہو کھجور کے اچھے درخت کی حفاظت کے لئے اس کے چاروں طرف پتھر کا چوترو بنا کر سہارا دیتے ہیں تصغیر، تنظیم کے لئے ہے جس شخص کی عقل و رائے سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عظمت و اہمیت ظاہر کرنے کے لئے یہ مقولہ کہا جاتا ہے۔

۲۵۱- كُلُّ يَجْرُ السَّارِ ابْنِ قُرَاصِيبِ

ہر شخص اپنی ٹھیکیا کی طرف آگ کھینچتا ہے (یعنی شہنشاہ اپنے نفس کے لئے خیر چاہتا ہے۔)

۲۵۲- اَجْرًا مِنْ ذِي لُبْدَةٍ (شیر سے زیادہ جری) ذِي لُبْدَةٍ شِير

۲۵۳- اَجْرًا مِنْ اُسَامَةَ

شیر سے زیادہ بہادر، اُسَامَةُ شير کا نام ہے اہم معنی ہے اس پر الف لام تعریف کا داخل نہیں ہوتا ہے۔

۲۵۴- اَجْرًا مِنْ كَيْتِ بْنِ خَيْفَانَ

رخسان کے شیر سے زیادہ بہادر، رخسان شیروں کی ایک مشہور بھاری تھی

۲۵۵- اَجْرًا مِنْ دُيَاقِ

دکھلی سے زیادہ جری، جو بادشاہ کی ناک اور شیر کی پلک پر بھی جا بیٹھتی ہے۔

۲۵۶- اَجْرًا مِنْ صَنْفَلَةٍ

دکھلی ٹانگ سے ہی زیادہ ننگا، صَنْفَلَةٌ گنجدے کے سر کا بغیر بالوں والا

۲۵۶- اَجْرًا مِنْ صَخْرَةٍ

رخسان سے زیادہ صاف جس پر کوئی روئیدگی نہیں ہوتی۔ اس پر کوئی چیز نہیں جھتی۔

۲۵۸- مَا لَجْرَادٍ لَا يُبْقِي وَلَا يَبْنَدُ

بڑی کی طرح جو نہ کچھ باقی رکھتی ہے نہ کچھ چھوڑتی ہے۔

۲۵۹- جَرَعٌ وَأَوْشَالٌ

تھوڑا پانی اور سیرابی، جَرَعٌ سیراب ہو کر پانی پینا یعنی مال تھوڑا اور

فضل فرجی۔ کنایت سے خرچ کرنے کی توفیق کے لئے بولا جاتا ہے

۲۶۰- اَلْجَرَعُ اَرْوَى وَالْوَشِيْفَةُ اَنْفَعُ

روکنا سیراب تو کر دیتا ہے لیکن چوس کر پینا زیادہ تسکین بخش دیتا ہے۔ جَرَعٌ بے تماشائی جانا۔ رَشِيْفٌ چوس کر پینا۔ اَنْفَعُ پیاس

کھنکھنا۔ اَرْوَى جلدی سیراب کرنے والا اور اَنْفَعُ پائیدار یعنی

پیشہ والا، مطلب یہ کہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی جائے تو اچھی

طرح پیاس بجھتی ہے۔ اگرچہ اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ اسی موقع

پر کہا جاتا ہے "مَنْ دَاكَا كَمَا نَا اَجَابَا هُوَ تَاكَا"

۲۶۱- لَا جُرْمَ بَعْدَ اَلْمَدَامَةِ

ندامت کے بعد کوئی جرم باقی نہیں رہتا۔

۲۶۲- اِذَا جَرَسَ الْمَدَاكِي نَحَسَرْتُ عَنْهُ اَلْخُورُ

جب کال گھوڑا چلتا ہے تو گدھے اس سے عاجز نہ جاتے ہیں۔

مَدَاكِي وہ گھوڑا جس کی قوت اور نشور و نما مکمل ہو چکی ہو۔ اَلْخُورُ عاجز

رہ جانا۔ یہ مثل ایسے شخص کے لئے لگائی جاتی ہے جو اپنی طرفوں

کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے سہمت لے جاتے۔ گھوڑے

اور گدھے کا کیا مقابلہ؟

۲۶۳- يَجْرِي بُلَيْقٌ وَيَيْتُ مَرَّ

بلیق دوڑتا ہے، پھر بھی اس کی مذمت ہوتی ہے، بُلَيْقٌ ایک

گھوڑے کا نام ہے جو دوڑ میں جیتا کرتا تھا۔ پھر بھی اس کی برائی

ہوتی تھی، یہ مثل اس موقع پر بولی جاتی ہے جب محسن کی مذمت کی

جائے۔

۲۶۴- نَجْدِي اَلرِّيَاحُ بِبَايَ قَشْتَبِي سَفِينُ

(ایسی ہڈیں بھی ملتی ہیں جو خواہش کے خلاف ہی چلتی ہیں) سُنُّن سے مراد اہل سُنُّن ہے۔

۲۶۵۔ اَجْرًا مُكْرَمًا عَلٰی اِذْ لَا لَهَا۔ (مٹا کر آسان طریقے پر جاری رکھو)

۲۶۶۔ جَزِي الْمُنْدَرِيَاتِ عِيْلًا ؕ (اچھے گھوڑوں کی چال بھی سبوں تک ہوتی ہے) دوڑ کی آخری حد اور بھی زیادہ دور ہوگی۔ کد کی۔ پر راکھڑا بگڑوہ۔ غلّاء کی جمع ہے۔ یہ مجھروں پر کسی کی فوجیت ظاہر کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔

۲۶۷۔ اَلْجَزَعُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ مُصِيبَةٌ اٰخَرٰى (مصیبت کے وقت گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے)۔

۲۶۸۔ جَزَاةٌ جَزَاءٌ سَيِّئًا رِّبًا۔

(اس کو ستار جیسی جزا دی) ستار شاہ نعمان ابن ابراہیم القیس کے مشہور اور پر اسرار عمل خرافات کا دومی سمار تھا جس کو عمل کی تعمیر کے بعد نعمان نے اسی عمل سے گرا کر ہلاک کر دیا تاکہ کسی اور کے لئے ایسا عمل نہ جاسکے ایسے محسن کے لئے کہا جاتا ہے جس کو بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے

۲۶۹۔ جَزَيْتُهُ كَيْلُ الصَّاعِ بِالصَّاعِ۔

(میں نے اس کو پیمانہ کا بدلہ پیمانے سے دیا یعنی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور بُرائی کا بدلہ بُرائی سے)۔

۲۷۰۔ هٰذَا اِحْتَاةٌ مُّجِبُّةٌ اَمْرًا عَاطِيًا

(یہ سب کو پناہ دینے والے کی جزا ہے) اُمّ عامر سبّو کی کنیت ہے کہتے ہیں کسی مرتبے ایک خوف زدہ سبّو کو پناہ دی تھی۔ سبّو نے موقع پا کر اسی امرائی کو ہلاک کر دیا۔

۲۷۱۔ اَلْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ

(جو عمل کی قسم سے ہوتی ہے) جیسی کنی دہی بھرنی یا جیسے کرم ویسے چل۔

۲۷۲۔ تَجَسَّأَ لِقَمَانٌ مِّنْ عَنَدِ شَيْبَعِ

(لقمان نے پیٹ بھرے بغیر ہی ڈکار لیا) ایسے شخص کے لئے کہتے ہیں جو بغیر ہوتے ہوئے الداری ظاہر کرے یا کرم ہوتے ہوئے بہادر بنے۔

۲۷۳۔ جَعَجَعَتْ وَلَا آرِي لَهَا طِحْتًا

(پکی کا شور ہے مگر آٹا نظر نہیں آتا) "شور و شور ہی دیکھو نکلی"

۲۷۴۔ مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ عَظْمًا اَكَلَتْهُ الْكِلَابُ۔

رجو اپنے آپ کو ہڈی بنائے گا اس کو کتے کھائیں گے

۲۷۵۔ لَا تَجْعَلْهَا بَيْضَةً السِّبْطِ۔

(اس کو مرٹے کا انڈا نہ بناؤ) مشہور ہے کہ مرغان اپنی عمر میں ایک بار انڈا دیتا ہے۔ اسی مفروضے پر ایک شاعر نے کہا ہے۔

۲۷۶۔ قَدَرُ دُنْيَا نَارَةٌ فِي السَّاهِرِ وَاحِدَةٌ

تَتِي وَلَا تَجْعَلِيهَا بَيْضَةً السِّبْطِ (لے عبور! کونے زمانہ میں ایک ہی مرتبہ ہم سے ملاقات کی ہے یہ ملاقات دوسری مرتبہ بھی کر لے اور اس کو مرغ کا انڈا نہ بنا، جیسے متجھنی کا انڈا یا پر غنقا۔

۲۷۷۔ اَخْفَى مِنَ السَّاهِرِ۔ (زمانہ سے زیادہ بدخلق)

۲۷۸۔ جِدُّ الْخَيْرِ يَرَى لَكَ يَسَدًا بَعْدُ۔

(خزیر کی کھال کو دباغت نہیں دی جاسکتی) اس شخص کے لئے کہتے ہیں جس پر نصیحت کا رگ نہ ہو۔

۲۷۹۔ تَحْتِ جِدِّ الصَّانِ قَلْبُ الْمَذُوبِ

(بھیڑ کی کھال کے نیچے بھیرٹے کا دل) یعنی ظاہر میں بھیرٹ کی طرح پھولا اور دل بھیرٹے کی طرح بے رحم۔

۲۸۰۔ جَلِيسُ الْعَرَبِ مِثْلُهُ۔

(آدمی کا ہم نشین اسی جیسا ہوتا ہے)

۲۸۱۔ جَلِيٌّ مَّحِيًّا نَظْرًا ؕ

(دوست کو اس کی نظر نے ہی ظاہر کر دیا ہے) دوست کی نگاہ بتا دیتی ہے۔

۲۸۲۔ لَا يُجْمَعُ سَيِّفَانِ فِي عَمِيدٍ۔

(ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہوتیں)

۲۸۳۔ مَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْاَرْدِيِّ وَالنَّعَاوِ۔

(دھپاڑی بکرا اور شتر مرغ جمع نہیں ہو سکتے) اردوی پہاڑی بکرا جو رگستان میں نہیں چل سکتا اور نعام شتر مرغ۔ پہاڑی بلندیوں پر نہیں چل سکتا۔ دو متضاد چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

۲۸۴۔ اَجْمَعُ مِنْ تَمَدَةٍ۔ (چوٹی سے زیادہ جمع کرنے والا)

۲۸۵۔ مَنْ اَجْمَلَ قِيلًا سَمِعَ جَمِيْلًا۔

(جو اپنی گفتگو اچھی رکھے گا وہ اچھی ہی سنے گا)

۲۸۶۔ اَلْجَمَلُ مِنْ جَوْفِهِ يَجْتَرُ۔

(اونٹ اپنے ہی منہ سے جگالی کرتا ہے) اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو

اپنے کسبے ریزی کاتا ہے اور اس کے لئے بھی جو ایسے چیز سے نفع
اٹھائے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔

۲۸۷۔ اَلْجَنُّونُ فَتَوَاتُ (جنوں کی بہت سی قسمیں ہیں)

۲۸۸۔ لَيْكُلٍ جَنْبٍ مَضَجَعٌ (ہر سپلو کے لئے خواب گاہ ہے)

۲۸۹۔ يَعْطَى جَنْبٍ مَضْرَعٌ (ہر سپلو کو پھر دیا ہے) مطلب یہ ہے کہ ہرزندہ کے لئے موت ہے

۲۹۰۔ اِنْ جَانِبُ اَعْيَاكَ فَالْحَقُّ يَجَانِبُ (اگر ایک سپلو نے تمہارا پیٹ تو دوسرے سپلو سے مل جائے یعنی سپلو بدل لے

۲۹۱۔ جَنَّتْ عَلَيَّ اَهْلِيهَا بَرَا اِقْشَرٌ (براقش نے اپنی ہی قوم پر ظلم کیا) دیکھو ۸۹

۲۹۲۔ اِنَّكَ لَا تَجِيئُ مِنَ الشُّوْلِ الْعَيْنِ (تو کانٹوں سے اگر رکاوٹیں نہیں چنے گا) کانٹے دکھ سہل چن نہیں سکتے

۲۹۳۔ اَجْتَاوْهُمَا اَبْتَاوْهُمَا (دست درازی کرنے والے اس کے سہارا ہیں) اَجْتَاوْهُمَا جانی کی معیہ ہے۔ جرم کرنے والا۔ اور اَجْتَاوْهُمَا جانی کی معیہ ہے یعنی سہارا۔ جج کی یہ مثال نادر ہے مثل ایک مینی بادشاہ کا مقولہ جس نے ایک جنگ پر جاتے ہوئے اپنی لڑکی کو قائم مقام بنایا تھا۔ لڑکی نے درباری امراء کے مشورہ سے ایک عمارت گرانے کا حکم دیتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا جو مثل بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ عمارت گرانے کا جرم وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ بے سوچے سمجھے کام کو مٹانے کی ضرورت پڑے تو یہ مثل کہی جاتی ہے۔

۲۹۴۔ هَلْ يَجْهَلُ قُلَانَا اِلَّا مَنْ يَجْهَلُ الْقَمَرُ (فلاں چیز سے وہی بے خبر ہو سکتا ہے جو چاند سے بے خبر ہو) یعنی فلاں چیز چاند کی طرح روشن و مشہور ہے "چاند نکلا سب نے دیکھا"

۲۹۵۔ اَلْجَهْلُ مَطِيَّةٌ مَنْ رَكِبَهَا ذَلَّ وَمَنْ صَيَّرَهَا صَلًّا (جہالت وہ سواری ہے جو اس پر سوار ہوگا، ذلیل ہوگا اور جو اس کے ساتھ لگاگم راہ ہو گیا)۔

۲۹۶۔ اَلْجَهْلُ شَرُّ الْأَصْحَابِ (جہالت بدترین ساتھی ہے)۔

۲۹۷۔ اَلْجَهْلُ مِنْ عَقْرَبٍ (دیکھو سے بھی زیادہ جاہل) جو پتھر پر ڈنک مار کر پتھر کی بجائے اپنے ڈنک کو ہی نقصان پہنچاتا ہے

۲۹۸۔ اَلْجَهْلُ مِنْ قَدَاشَةٍ

(پر واز سے بھی زیادہ جاہل) جو خود کو ہی ہاک کر لیتا ہے۔

۲۹۹۔ وَعِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِينُ

(یقینی خبر تو جہنیہ کے پاس ہے) کسی معاملہ کی حقیقت کا علم ہونے

کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ حصین غطفانی اور نبی جہنیہ کا ایک شخص

اخنس ابن کعب نامی لڑکے کے ایک شخص نے ان کی تواضع کی جس نے

غطفانی نے اپنے ساتھی اخنس جہنی کی عدم موجودگی میں لڑکی میر بان

کو قتل کر دیا۔ اخنس نے حصین کو ملامت کی تو حصین نے اس

کو سزا دیا۔ اس کے بعد جہنی نے حسوس کیا کہ حصین اس پر بھی اٹھ

صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس سے قبل حصین کو قتل کر دیا اور

تمام سامان پر قبضہ کر لیا۔ راستہ میں ایک جگہ حصین کی بیوی ملی جو

اپنے شوہر کی تلاش کر رہی تھی اخنس نے یہ شعر پڑھا۔

تَسْأَلُ عَنْ حَصِينٍ كُلِّ رَكْبٍ ۚ وَعِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِينُ

(وہ حصین کے بارے میں ہر سوار سے دریافت کرتی ہے حالانکہ جہنیہ

کے پاس یقینی خبر ہے) مشہور ماہر لغت اصمعی کا بیان ہے کہ یہ

مثل جہنیہ کی بجائے جُهَيْنَةَ سے متعلق ہے۔ یہ ایک شخص کا نام

تھا جو ایک ایسے مقتول کا علم رکھتا تھا جس کے بارے میں قوم

اور مقتول کی لڑکی جستجو کر رہی تھی۔ یہ شعر اسی سے متعلق ہے۔

تَسْأَلُ عَنْ اَيْهَا كُلِّ رَكْبٍ ۚ وَعِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِينُ

۳۰۰۔ اَجْوَدُ مِنْ حَاقِصٍ (حاقم سے بھی زیادہ سخی)

۳۰۱۔ اِنَّ الْجَوَادَ عَيْنُهُ فِدَايَا

(اے ایل گھوڑا بھی کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے) تجربہ کار آدمی سے لڑائی

کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

۳۰۲۔ اِنَّ الْجَوَادَ عَيْنُهُ فِدَايَا

(اے ایل کی آنکھ ہمدان سے مستحق کو قتی ہے) فرار۔ جانور کے

دانت دیکھ کر اس کی لڑکا اندازہ کرتا یعنی شرافت صورت ہی سے

ظاہر ہو جاتی ہے۔

۳۰۳۔ يَعْطَى جَوَاہِ كَهْوًا

(ہر ایل گھوڑے کو کبھی نہ کبھی ٹھوکر لگتی ہے)

۳۰۴۔ جَاوِدًا مِثْلًا اَوْ مَجْرًا

(بادشاہ کے پڑوس میں رہ یا سمندر کے) دولت الہی ثروت ہی

رحول کی نسبت سے زیادہ بھوکا۔ رحول ایک عورت تھی جو اپنی کتیا سے گھر کی حفاظت کرتی، مگر اس کو بھوکا رکھتی۔ بھوک سے بے تاب ہو کر ایک مرتبہ کتیا نے اپنی دم کاٹ لی۔

۳۱۵۔ اَجْوَعُ مِنْ ذُوَالَةِ اَوْ اَجْوَعُ مِنْ ذَنْبِ

(بھیرٹھے سے زیادہ بھوکا) ذوالہ بھیرٹھے کا مخصوص نام ہے کہتے ہیں کہ بھیرٹھے کے منہ میں کوئی چیز ہونی ضروری ہے گویا وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ بھیرٹھے کا پیٹ ہڈی کو گھلا دیتا ہے دشمن کو بد دعائیں کہتے ہیں رَمَاكَ اللهُ مَبْدَاً اِلَى النَّشْبِ۔ خدا اس کو بھیرٹھے کی بیماری (بھوک) میں مبتلا کرے۔

۳۱۶۔ اَجْوَعُ مِنْ قُرَادٍ۔

(چھپرٹھی سے زیادہ بھوکا) کہتے ہیں کہ چھپرٹھی ایک سال تک اپنی پیٹھ اور ایک سال تک اپنا پیٹ زمین سے چٹا کر بھوکا رہ سکتی ہے۔ کافی فاصلے سے اونٹ کی موجودگی محسوس کر لیتی ہے اور اس کی طرف چلتی ہے۔ اونٹوں کے چوہر چھپرٹھیوں کی حرکت سے اونٹوں کا سراغ لگا لیتے ہیں۔

۳۱۷۔ مَعَ جَالٍ نَالَ

(جو دوڑ دوڑ کر تلے حاصل کر لیتا ہے) "حوت میں برکت ہے"۔

۳۱۸۔ اَجْوَلُ مِنْ قَطْرِ

قطرب سے زیادہ چکر لگانے والا) قطرب ایک جانور ہے جو تمام رات نہیں سوتا بلکہ چکر لگاتا رہتا ہے)۔

۳۱۹۔ جَوْلَةٌ بَاطِلٌ سَاعَةٌ وَجَوْلَةٌ اَلْحَقُّ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

(باطل کا زمانہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے اور حق کا زمانہ قیامت تک ہوتا ہے)۔

۳۲۰۔ جَاءَ بِمُطْفِئَةِ الرَّضْفِ

(وہ گرم پتھر کو بھی بات کرنے والی چیز لایا) رصف۔ گرم پتھر یعنی پہلی چیز سے زیادہ سخت۔ یا پہلے حادثے سے بھی زیادہ شدید حادثہ

۳۲۱۔ جَاءَ بِالطَّوْرِ وَالزَّيْفِ

(وہ سمندر اور زمین کی تہ کو لایا) طم۔ سمندر یا بہت پانی کو اور رقم۔ خری یا زمین کی تہ کو کہتے ہیں یعنی تمام ظاہری اور

مخفی چیزیں یا بہت سی تعداد میں مال لے آیا۔

۳۲۲۔ جَاءَ اَلْعِيَانُ قَالُوْنَ يَا لَآ سَائِسِيْ

(مشاہدہ آیا اور اسناد کر لے گیا) مشاہدہ کے بعد سب بیان کرنے

سے حاصل کرنی چاہیے۔

۳۰۵۔ كَمْجِيرٍ اِقْرَعًا

(بچو کر پناہ دینے والے کی طرح) شکاریوں نے ایک مرتبہ بچو کو گھیر لیا تھا۔ ایک اعرابی نے اس کو پناہ دیدی شکاری تو پس چلے گئے لیکن بچو نے سوتے میں پناہ دینے والے اعرابی کا پیٹ پھاڑ دیا جس نے اس کو دودھ پلا کر سیراب کیا تھا۔ اس اعرابی کے ابن عم کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا۔

۳۰۶۔ وَمَنْ يَصْنَعِ الْمَعْرُوفَ مَعَ غَيْرِ اَهْلِبِ

يَلَاقِي الْكَذٰبِي لَاقِيْ مُجِيْرٍ اَقْرَعًا

(جو کوئی نا اہل کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو وہی جزا ملتی ہے

جو ام عامر کے محافظ کو ملی جیسے "سانپ کو دودھ پلانا")

۳۰۷۔ كَالْمَسْتَجِيْرِ مِنَ الرَّمَضَاءِ بِالنَّارِ

(اس شخص کی طرح جو چھتی ہوئی زمین سے بھاگ کر آگ کی پناہ طلب کرے)۔ یہ مثل اس شعر کا مصرع ہے۔

اَلْمَسْتَجِيْرُ يَجْعُرُ وَعِنْدَ كُوَيْتِهِ بِكَ اَلْمَسْتَجِيْرُ مِنَ الرَّمَضَاءِ بِالنَّارِ

(مسیبت کے وقت عمرے پناہ چاہنے والا گرم زمین سے آگ کی

پناہ چاہنے والے کی طرح ہے)۔ "چولھے سے نکل کر بھاڑ میں گرنا۔

۳۰۸۔ اَلْجَارَ شَحَّ الدَّارِ

(پہلے پڑوس کو دیکھو پھر گھر کو) اسی قسم کا ایک اور مقولہ ہے

۳۰۹۔ اَلرَّفِيْقُ قَبْلَ الطَّرِيْقِ۔ (رات سے پہلے ساتھی کو دیکھو)

۳۱۰۔ جَارَكَ الْاَذْفَى لَا يَعْنُكَ اِلَّا قَضَى

(رادقی پڑوسی کی حفاظت کرتا کہ اعلیٰ تم پر قابض ہو سکے)

۳۱۱۔ جَاوَزَ الْجِزَامُ الطَّبِيْبِي

(تنگ پستان سے بھی تجاوز ہو گیا) "پانی سر سے گزر گیا"

۳۱۲۔ تَجْوَعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِشَدَائِمِهَا

(شریف عورت بھوک رہتی ہے مگر اپنے پستانوں کی کمائی نہیں کھاتی)

یعنی دودھ پلانے والی دایہ نہیں بنتی "ذلیل پیشہ سے بچانے کے لئے کہا جاتا ہے"۔

۳۱۳۔ اَجِزْ كَلْبَكَ يَتَّبِعُكَ

(اپنے کتے کو بھوکا رکھتا کہ تابع رہے) "کینے کو سر پر چڑھاؤ"

۳۱۴۔ اَجْوَعُ مِنْ ظَهَبَةٍ حَوْصَلِ

کی ضرورت نہیں رہتی۔

۳۲۳۔ جَاءَ بِمَا صَايَ وَصَمَّتْ

(وہ برتنے والا اور خاموش مال لایا) یعنی چہ پائے اور سونا چاندی وغیرہ

۳۲۴۔ جَاءَ بِقُرْبَىٰ جَمَارٍ

(وہ گدھ کے دو سنگ لایا) یعنی جھوٹ اور ناممکن بات

۳۲۵۔ جَاءَ بِذَاتِ الرَّغْمِ وَالصَّلِيلِ

(وہ گرجنے اور آواز والے ابرکے ساتھ آیا) صَلِيلٌ یعنی آواز

۳۲۶۔ جَاءَ نَاشِرًا أَذُنَيْهِ

(اپنے کانوں کو پھیل کر آیا) حریفیں ہو کر آیا "منہ چارے پر پٹ پھیلانے"

۳۲۷۔ جَاءَ نَافِثًا عِضِي يَسْمًا

(اپنی کلنی کو پھیل کر آیا) غزیرۃ "مرغ کی کلنی یعنی فہنناک ہو کر آیا"

"تاک پھلانے کی جوری چڑھانے"

۳۲۸۔ جَاءَ عَلَىٰ بَكْرَةٍ أَبِيهِمْ

(وہ تمام کے تمام آگے) یعنی پیچھے کوئی باقی نہ رہا۔ بَكْرَةٌ تو گوں

کی جہالت کہہ سکتے ہیں۔ یہ مثل میں بھی کہی جاتی ہے جَاءَ ا

۳۲۹۔ عَلَىٰ بَكْرَتِهِمْ وَبَكْرَةٍ أَبِيهِمْ۔ تمام ہی آگے۔

إِذَا جَاءَ أَجَلَ الْبَعِيرِ حَاوِلَ الْبَيْتِ

(جب اونٹ کی موت آتی ہے تو گویں کے گرد گھومتا ہے) جب

گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔

۳۳۰۔ إِذَا جَاءَ الْعَيْنُ حَارَتِ الْعَيْنُ

(موت آتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔

۳۳۱۔ إِذَا جَاءَ الْقَدَارُ عَشِيَ الْبَصَرُ

(جب قضا آتی ہے تو آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے)۔

۳۳۲۔ جَاءَ أَقْتًا وَقَضِيضًا

(چھوٹے بڑے سب آگے) قاضیوں پتھر کا بالکل چھوٹا ٹکڑا۔ قَضِيضٌ

بڑا ٹکڑا۔

۳۳۳۔ جَاءَ الْقَوْمُ قَضِيضًا وَقَضِيضًا قَوْمٌ كَمَا أَفْرَادًا

۳۳۴۔ جِيئَةً لَا تُعْكَو بِخَدَا (ایک مردار سمند کو گدلا نہیں کرتا)

م

۳۳۵۔ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرًا

(جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے)

۳۳۶۔ لَا أُحِبُّ ذِمِّيًّا فِي طَسْتٍ ذَهَبٍ

(مجھے اپنا خون سونے کے طشت میں بھی پسند نہیں) موت

کے بعد تمام شان و شوکت بے کار ہے۔

۳۳۷۔ لِحَبْلِكَ الشَّقِيُّ يُعْجِي وَيُصِمْ

(کسی چیز سے تمہاری محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے) یہی

مفہوم اس شعر میں کہا گیا ہے۔

۳۳۸۔ وَعَيْنُ الرَّصَنِ عَن كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

وَأَكْرَبُ عَيْنُ السَّحَابِ تُهَوِّي الْمَسَايَا

(رہسندیدگی کی آنکھ ہر عیب کی طرف سے بند ہوتی ہے مگر نازلی

کی آنکھ برائیوں کو ظاہر کرتی ہے)۔

۳۳۹۔ أَلْحَبُّ أَحْسَنُ (محبت اندھی ہوتی ہے)۔

۳۴۰۔ لَيْسَ فِي الْحَبِّ مَشْوَدَةٌ (محبت میں مشورہ کی ضرورت نہیں)

۳۴۱۔ أَحَبُّ شَيْءٍ مِرَالِي إِلَّا نَسَاتِ مَا مَنَعَا

(سب سے زیادہ محبوب چیز انسان کو وہ معلوم ہوتی

ہے جس سے اس کو منع کیا جائے) یہی اس شعر کا مطلب ہے

۳۴۲۔ رَأَيْتُ النَّفْسَ تُكْرَهُ مَا لَدَيْهَا

وَتَطْلُبُ كُلَّ مُمْتَنِعٍ عَلَيْهَا

(میں نے نفس کو دیکھا کہ اسے پاس موجود چیز کو پسند نہیں کرتا

اور ہر ممنوع چیز کو طلب کرتا ہے)

۳۴۳۔ مِمَّنْ أَحَبَّتْ تَنْشَأُ السَّجْدَةَ

(روانہ می سے تو درفت پیدا ہوتا ہے) یعنی چھلے کام سے

ہی بڑے نتیجے پیدا ہوتے ہیں)

۳۴۴۔ كُلُّ حَبِيَّةٍ لَهَا كَيْتَالٌ

(ہر دانہ کو پیمانہ میں بھرنے والا بھی ہوتا ہے)۔

۳۴۵۔ حَبْلُكَ عَلَى خَاكِ بِحَسْبِ

(تیرا رسی تیرے کو ہن پہ ہے) غارِ بکران کا بالائی حصہ

مطلب یہ ہے کہ تو پروری طرح آزاد ہے۔ یہ مثل چودا ہوں

کی اس عادت سے ماخوذ ہے کہ جب وہ اونٹ کو جرنے کے

لئے مسجد ٹٹتے ہیں تو ہمارے کران پر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس

کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ ان کا خیال تھا کہ اونٹ ہمارے

دکھتے ہوئے اونگے پاؤں والا ہر قسم کا جوتا پہن لیتا ہے وَقِحَ
يُوقِعُ وَقَعًا تَلْكَ پاؤں ہونا اور پھر یا سخت زمین پر چلنے کی
وجہ سے پاؤں کے گوشے میں درد ہجانا وَقِحٌ وہ برہنہ پاؤں کے
پاؤں سخت زمین پر چلنے کی وجہ سے دکھنے لگے ہوں یہ مثل ایسے
مصیبت زدہ کیلئے بولی جاتی ہے جو معمولی چیز پر قناعت کرے
”جو کہے کہ دردوں کی قیمت ہیں“

۳۶۲۔ الْخُرْحُرُ وَإِنْ مَسَّمَا الصَّرُّ

۔ (خریف، خریف ہی رہتا ہے خواہ اس کو تنگ سی لپیٹی ہوئی ہو) شریف
ناداری میں بھی شریف ہی رہتا ہے۔

۳۶۳۔ حِرَّةٌ تَحْتِ قِرَّةٍ

(ٹھنڈک کے نیچے پیاس) حِرَّةٌ۔ حرارت سے محفوظ ہے معنی پیکھا
قرۃ: ٹھنڈک ٹھنڈے دن کی پیاس سخت ہوتی ہے۔ ایسے شخص
کے لئے کہتے ہیں جو کینہ و غضب معنی رکھے اور خلوص ظاہر کرے۔

۳۶۴۔ بَلَا سَبْتٌ۔ اَحْرَمَتَ الْجَمْرِ۔ (انگاری سے زیادہ گرم)

۳۶۵۔ اَحْرَمِيَتْ نَارِ الْعَفْصِي

(عفصی کی لکڑی کی آگ سے زیادہ گرم) عفصی درخت کی لکڑی صرف
جلانے کے ہی کام آتی ہے اور اس کی آگ نہایت تیز و گرم ہوتی ہے۔

۳۶۶۔ اَحْرَمِيَتْ النَّارِ۔ (آگ سے زیادہ گرم)

۳۶۷۔ اَحْرَمِيَتْ مِنْ مِرْكَبٍ۔ (بندوباس سے زیادہ گرم)

۳۶۸۔ اَحْرَمِيَتْ دَمِيحِ الْمِثْلَاتِ۔

بچے کی سوگواراں کے آنسوؤں سے زیادہ گرم) مِثْلَاتِ دَمِ
عورت ہے جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ تم کے
آنسو گرم ہوتے ہیں اور خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

۳۶۹۔ اَلْحَرْبُ حُمَا عَمَةٌ

(لڑائی دھوکہ ہے) قُدْرَةٌ: ایسی تدبیر جس کے ظاہر سے دھوکا ہوتا ہو

۳۷۰۔ اَلْحَرْبُ يَسْجَالُ۔ (لڑائی میں تو عمل ہوتا ہے) سجال
اور مساجلہ ہوا باوہ کام کرنا جو دوسرا سمجھی کرتا ہے۔

۳۷۱۔ اَلْحَرْبُ عَسْوٌ مَرٌّ۔ (لڑائی ظالم ہے) عَسْوٌ: رات میں

لکڑی کا ٹٹا۔ خواہ اچھی لاکھڑے یا بڑی لڑائی میں بسا اوقات
اس شخص کو نقصان پہنچ جاتا ہے جس کا کوئی جرم نہ ہو اور مجرم سمجھا
رہتا ہے۔

۳۷۲۔ اَحْرَزَ اِمْرًا اَجَلَةً۔ (اُدھی کو اُس کی موت نے ڈیرہ
کر لیا) ”موت نے ڈیرہ کر دیا“ کہتے ہیں کہ یہ عرب کی سب سے
بھی ضرب المثل ہے۔

۳۷۳۔ اَحْرَسِيْ مِنْ كَلْبٍ (کتے سے زیادہ نگہبان)

۳۷۴۔ الْعِرْصُ قَائِدُ الْعِزْمَانِ (لا لچ محرومی کا پیش خیمہ ہے)

۳۷۵۔ اَلْحَرِيْصُ مَحْرُوْمٌ۔ (لا لچ محروم رہتا ہے)

۳۷۶۔ اَحْرَصَ مِنْ نَمَلَةٍ (چنوٹی سے زیادہ حرصی)

۳۷۷۔ لَيْسَ الْحَرِيْصُ يَسْأَلُ فِي رِزْقِهِ

(حرصی اپنے رزق میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا)

۳۷۸۔ اِنَّمَا لِيَحْتَرِقَ عَلَيَّ الْاَدَمُ (وہ مجھ پر دانت پیتا ہے) اَدَمُ

ڈاڑھوں کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس کا غیظ و غضب مجھ پر شدید ہے

۳۷۹۔ حَقِيْكَ لَهَا هُوَ اَرَاهَا تَحِيْتُ۔

(اونٹنی کے بچے کو حرکت دیکھا تو وہ پکارے گی) حُوَارُ۔ اونٹنی کا دودھ

پیتا پھر۔ فصیل، وہ بچہ جس کا دودھ چھوٹ گیا ہو سخن غم یا غمی

میں آواز نکالنا مطلب یہ ہے کہ اس کو غم یا دواؤں سے وہ حرکت

میں آئے گا۔

۳۸۰۔ الْحَدَكَةُ بَيَّكَةٌ۔ (حرکت میں برکت ہے)

۳۸۱۔ اَلْحَدْمُ حِفْظُ مَا وُلِيَتْ وَتَوَكُّدٌ مَا كُنْتُمْ (احتیاط قبضہ کی چیز

کو محفوظ رکھنے اور فریضہ کی چیز کو چھوڑنے کا نام ہے)

۳۸۲۔ اَلْحَزْمُ مَوْءُودُ النَّاسِ۔

(احتیاط لوگوں کے ساتھ بہ گمانی کرتا ہے)۔

۳۸۳۔ اَحْرَمِيَتْ مِنَ الْحَزْمَاءِ۔ (گرگٹ سے زیادہ محتاط)

گرگٹ جب درخت پر چڑھتا ہے تو ایک شاخ اسی وقت تک

نہیں چھوڑتا جب تک دوسری نہ پکڑ لے۔ عربیوں میں العت

علامت تائید نہیں بلکہ الحاقی ہے جیسے قَلِيَاءُ۔

۳۸۴۔ لَا يَحْزُنُكَ دَوْسًا اَقْبًا اَهْلًا۔

(اس خون پر تجھے رنج نہ ہو ناچلے جوں کے اہل ہی نے بنا لیا ہے)

۳۸۵۔ يَحْتَسِبُ الْمَمْلُوكُ اَنَّ كَلًّا مَطْرًا۔

(بارش میں بیگیا ہوا سمجھتا ہے کہ ہر شخص بارش میں بیگیا ہے)

۳۸۶۔ لَا حَسَبَ كَالْتَوَاضِعِ۔ (راضی جیسی کوئی شرافت نہیں)

۳۸۷۔ حَسْبُكَ مِنْ غِنَى شَيْبَعٍ دَسْمًا حَيًّا۔

کلیڈہ: "کلیڈہ" سے ام نزع ہے۔ حَشْفٌ رَدِی کھجور یعنی کھجور اور تھوڑا
وگو مکروہ خصلتوں کا جامع یا دو طرف سے نظر کرنے والا۔

۴۰۴۔ اَلْخَصَاةُ مِنَ الْعَبْلِ دکنری بھی پہاڑ کا جزو ہے،

۴۰۵۔ كَلٌّ يَخْتَطِبُ فِي حَبْلِهِ

(ہر کوئی اپنی لکڑی میں رسیاں باندھتا ہے۔)

۴۰۶۔ كَحَا طِبَ لَيْسِلِ ررات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی

طرح، طاب: لہذا من جمع کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایسا شخص

مراد ہے جو ہر ایسی بڑی چیز کو جمع کر لے۔

۴۰۷۔ حَطَّ فِي السَّحَابِ وَعَقَّلَ فِي التَّرَابِ

(نصیب آسمان پر اور عقل مٹی میں)

۴۰۸۔ حَطَّ جَزَيْلٌ بَيْنَ سِدْقِي صَنِيعِمِ

(بڑا احصہ شیر کے جڑوں میں) یعنی بہت بڑی منفعت مگر شدید

خطرات کے درمیان۔

۴۰۹۔ اِلَّا حَطِيَّةً فَلَا اٰيَةَ (صاحب نصیب نہیں تو کوتاہی کرنے

والی بھی نہ بن) حَطِيَّةٌ خَطْوَةٌ سے مشتق ہے یعنی مرتبہ عورت اور

اٰيَةٌ اَوْ اَمْرٌ بِمَعْنَى تَقْصِيرٍ ماخوذ ہے اس مثل کی اصل مقدر ہے

۴۱۰۔ اِنَّ لَمْ تَكُوْنِي حَطِيَّةً وَلَا تَكُوْنِي اٰيَةً (مَقْصُورَةً)

(اگر تو معوز و صاحب رتہ نہ ہو تو کوتاہی کرنے والی بھی نہ ہو) اس

عورت کے لئے کہا گیا ہے جو اپنے خاندان کو محبوب نہ ہو مگر خاندان

کی نسبت میسر نہیں تو اپنی طرف سے خدمت و محبت میں کوتاہی

نہ کرے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کی مدارات کر کے ان سے اپنا مطلب نکالے۔

۴۱۱۔ مَنْ حَفَرَ حَفِيْرًا اِلَّا خِيْبَهُ كَاَنْ حَفَنَهُ فَيْسِدُ

(جو کوئی اپنے بھائی کے لئے گڑھا کھودے گا، اُس کی موت

اس گڑھے میں ہوگی)۔

۴۱۲۔ مَنْ حَفَرَ حَفِيْرَةً وَقَحَهَا فِيْهَا

(جو کوئی گڑھا کھودے گا خود اس میں گرے گا) بجائے حَفَرَةً

کے مَثْوًى بھی مَرْدِي ہے مَثْوًى وہ گڑھا جو بھیر پڑا یا بھج کے لئے

کھودا جائے، وسیع تر معنی میں ہر مقام ہلاکت۔

۴۱۳۔ تَحْفُظُ اَخَاكَ اِلَّا مِنْ نَفْسِكَ

(تو اپنے بھائی کی حفاظت کر سکتا ہے مگر اس کے نفس کی

نہیں کر سکتا)۔ مطلب یہ کہ لوگوں سے بچا سکتا ہے۔

شکم پیری اور سیرابی تیرے لئے کافی مالدار ہے) امر اللیس کا تعلق
ہے مطلب یہ ہے کہ اتنے مال پر قناعت کر لو جو پیٹ بھرنے اور
پیس بچانے کے لئے کافی ہو اور باقی کی سخاوت کر دو۔

۳۸۸۔ حَسْبُكَ مِنْ شَرِّ سَمَاعِدٍ

(شرکاسن لینا ہی تمہارے لئے بہت ہے اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرو)

۳۸۹۔ اَلْحَسَدُ مُطِيَّةُ التَّعَبِ (حسد مشقت کی سواری ہے)

۳۹۰۔ مَنْ حَسَنَ كَلْمَهُ طَابَ عَيْشُهُ

(جس کا لگان نیک ہو گیا اس کی زندگی اچھی ہو گئی)

۳۹۱۔ حَسَنٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ مَا تَوَدُّ (ہر آنکھ کی نظر میں وہی

چیز اچھی ہے جس کو وہ محبوب رکھتی ہے)

۳۹۲۔ حُبُّ الشَّيْءِ يَعْزِي وَيُصِيْمُ (یہ سابقہ مثال کے ہم معنی ہے)

۳۹۳۔ حُسْنُ الظَّنِّ وَسَطَةٌ

(حسن ظن بھنور ہے) وَسَطَةٌ بھنور۔ اور ایسا معاملہ جس سے

نجات مشکل ہے۔ ہلاکی۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن ہی

کی وجہ سے آدمی دھوکے کھاتا ہے یہ مثال الخنزیر سوڈا لظن

پالتا جس کے ہم معنی ہے۔

۳۹۴۔ يَكُلُّ حَسَنٌ عَائِبٌ (ہر اچھے کا عیب کرنے والا بھی ہوتا ہے)

۳۹۵۔ اَلْحَسَنَةُ بَيْنَ التَّيْبَتَيْنِ

(نیکی دو برائیوں کے درمیان ہوتی ہے) یعنی خَيْرٌ اَلْمُؤْمِرِ اَوْ سَاطِمًا۔

(بہترین کام درمیانی ہوتے ہیں)۔

۳۹۶۔ اَحْسَنُ مِنَ الدُّنْيَا الْمُقْبِلَةُ

(آنے والی دنیا سے زیادہ خوبصورت)

۳۹۷۔ اَحْسَنُ مِنَ النَّارِ دَاكٌ سِوَى زِيَادَةِ خَيْرِ بَصِيْرَةٍ

۳۹۸۔ اَحْسَنُ مِنَ الطَّوْءِ رَمْدٌ سِوَى زِيَادَةِ خَيْرِ بَصِيْرَةٍ

۳۹۹۔ اَحْسَنُ مِنَ السِّدِّ اِمْرٌ مَعِيْرَةٌ

(برائی و زراعت کے زمانہ سے زیادہ خوبصورت)

۴۰۰۔ اَحْسَنُ مِنَ الشَّمْسِ الْقَمَرُ (چاند سورج سے زیادہ خوبصورت)

۴۰۱۔ اَلْاِحْسَانُ يَقْطَعُ اللِّسَانَ (احسان زبان کو بند کر دیتا ہے)

۴۰۲۔ اَحْسَنُكَ وَشَوْشِيْ (میں تجھ کا سچا جاتا

ہوں اور تو مجھ پر گرج کر رہتا ہے) ناسکرے اور حسن کش کہتے ہیں۔

۴۰۳۔ اَحْشَفَاؤُ سُوْكِ كَيْدِيْ (کھجور بھی ردی اور پیاز بھی کم)

اگر وہ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگے تو اس سے حفاظت نہیں کر سکتا۔

۴۱۴۔ حِفْظَتَّ شَيْئًا وَ نَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ
(ایک چیز تو نے رکھ لی مگر بہت سی چیزیں غائب ہو گئیں)

۴۱۵۔ حَافِظٌ عَلَى الصِّدِّيقِ وَ كَوْنِي الْحَدِيثِ
(دوست کی حفاظت کر خواد آگ میں کود کر ہی ہو)

۴۱۶۔ إِحْفَظْ مَا فِي الْوِعَاوِ لَشَيْءِ الْوَكَاوِ
(جو کچھ برتن میں ہے اس کی حفاظت برتن کا منہ بانڈھ کر کرو) وکاوہ: مشکیزہ کا سر بند۔

۴۱۷۔ أَحْفَظُ مِنَ الْأَرْضِ

(زمین سے زیادہ حفاظت کرنے والا)۔

۴۱۸۔ الْحَفِيفُ يُحْلِلُ الْأَحْقَادَ

(غیرت دشمنی کو تحلیل کر دیتی ہے بحفیفة: غضب وغیرت۔ جمع حَفَائِظُ۔ مطلب یہ ہے کہ کسی دوست یا رشتے دار پر ظلم ہوتے دیکھ کر غیرت جوش کھاتی ہے اور آدمی اپنا غصا اور کینہ بھول کر اس کی مدد کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اسی کے ہم معنی ہے:)

۴۱۹۔ عِنْدَ الشَّدَايَةِ تَذْهَبُ الْأَحْقَادُ

(مصائب کے وقت دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں)

۴۲۰۔ حَقٌّ يُضَرُّ خَيْرٌ مِنْ بَاطِلٍ يَسْرُرُ

(سچے رشتے داروں سے سرت رشتے داروں سے بہتر ہے)۔

۴۲۱۔ الْحَقُّ خَيْرٌ مَّا يُقَالُ

(کہنے کی چیزوں میں بہترین چیز حق بات ہے)۔

۴۲۲۔ الْحَقُّ خَيْرٌ مَّا يُقَالُ (حق بات سچ ہے)

۴۲۳۔ الْحَقُّ أَبْلَجُ وَ الْبَاطِلُ لَجَلَجٌ

(حق روشن اور باطل گمراہ ہوتا ہے) اَبْلَجٌ: روشن۔ لَجَلَجٌ: ملتبس غیر واضح۔

۴۲۴۔ هَذَا حَقٌّ مَّا نَزَلَ بِتَرْجٍ

(یہ چھوڑنے کے لئے نہایت مناسب مقام ہے) یعنی جو مقامات چھوڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان میں یہ مقام چھوڑ دینے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔

۴۲۵۔ أَحَقُّدًا مِنْ جَمَلٍ

(اونٹ سے زیادہ کینہ توڑنا) "شکر کینہ"

۴۲۶۔ مَكَّنْتُ حَقْوَ حَرَمٍ

(جس نے حقیر سمجھا، وہ محروم ہوا) یعنی جس کو حقیر سمجھے گا محروم رکھیگا۔

۴۲۷۔ أَحَقُّدُ مِنَ الشَّرَابِ (خاک سے زیادہ حقیر)

۴۲۸۔ مَا حَكَ جِلْدًا كَ مِثْلِ قَلْبِي لَكَ

(تیری کھال کو تیرے اپنے ناخن کی طرح کوئی چیز نہ کھلائے گی) یعنی تم اپنی ضرورت کو آپ اچھی طرح پوری کر سکتے ہو۔

۴۲۹۔ إِذَا حَكَّكَتُ قَرْحَةً مِثْمَهَا

(جب میں نے کسی زخم کو کھجایا تو اس سے خون نکال آیا) جب کسی مقصد کا ارادہ کیا تو اس کو انتہا تک پہنچا دیا۔

۴۳۰۔ تَحَكَّكَتِ الْعَصْرَةُ بِالْأَقْعَى

(بچھو سانپ سے ٹکرایا ہے) یعنی جو اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ ٹکرائے "اتھیروں سے گتے کھانا"

۴۳۱۔ أَحْكَمُ مِنَ لُقْمَانَ (لقمان سے زیادہ دانیا)

۴۳۲۔ الْحِكْمَةُ صَالَةٌ الْمُؤْمِنِ

(حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے) مومن حکمت و دانائی کو اس طرح حاصل کرتا ہے جیسے کوئی اپنی کھوئی چیز کو ڈھونڈتا ہے۔

۴۳۳۔ أَحْكَمِي مِنَ قَبْضِي (بند سے زیادہ نکال)

۴۳۴۔ إِذَا حَلَّتِ الْمَقَادِيرُ بِطَلْتِ الشَّدَائِدِ

(تقدیر آرائی تو تیرے بیچارہ ہو گئیں)

۴۳۵۔ أَحَلَّ لِمَنْ لَبَّى الْأَمِيرَ (ماں کے منہ سے زیادہ حلال)

۴۳۶۔ حَلَبَ الشَّوْرَ شَطْرًا

(اس نے دمانے کے قصوں کو دوا ہے) یہ قول رب کے قول: حَلَبَ الشَّوْرَ لِنَاقَةٍ سے مستعار لیا گیا ہے بشرط وہ دوس

جواک ساتھ دوہے جائیں مطلب یہ ہے کہ اس نے دمانے کے دونوں شطروں کو آزما یا ہے یعنی غیر کو بھی اور شر کو بھی "دمانے کے سرد گرم دیکھے ہیں"

۴۳۷۔ حَلَبَتْهَا بِالسَّامِدِ الْأَسْتِي

(میں نے اس کو طاقت دے کلائی سے دوا) یعنی قوت سے اپنا حق حاصل کیا۔ سَامِدٌ: پنچا۔ كَلَّأِي: حق حاصل کیا۔

۴۳۸۔ حَلَبَتْهَا بِالسَّامِدِ الْأَسْتِي

۴۲۸۔ اُخْلِبْ حَلْبًا لَكَ شَطْرُهُ ۶۔

(اچھی طرح دودھ لے، تیرا بھی حصہ ہے) دوسروں کے ساتھ مساوی جدوجہد کرنے اور شریک کار کی مدد پر آمادہ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے ہَذَا اُخْلِبُ لَكَ شَطْرَهُ ۶۔ (اس دودھ میں تیرا بھی حصہ ہے، یعنی ایسے کام میں ذریعین کا نفع ہے۔

۴۲۹۔ حَلْوِيَّةٌ تُشْوِلُ وَلَا تُصَدِّمُ ۶۔

(ایسی دودھ دینے والی ہے جو بھاگ والا دودھ دیتی ہے، خالص دودھ نہیں دیتی) حَلْوِيَّةٌ ۶۔ دودھیل جانور یہ ایسے شخص کے لئے کہتے ہیں جو بجز توجہ سے کرے اور ان کو پورا نہ کرے۔

۴۳۰۔ لَسْتُ مِنْ اَخْلَآئِيهَا ۶۔

(تو اس کے ساتھیوں میں سے نہیں ہے) اِخْلَاسٌ ۶۔ جاننے پہچاننے والے ساتھی۔

اِخْلَاسُ الْخَيْلِ ۶۔ (سائیس، گھوڑوں کے خدمت گار)

۴۳۱۔ حَلَفْتُ بِهِ عَنَقًا مُعْرَبًا ۶۔

(عناق، مغرب نے اس کا احاطہ کر لیا ہے) ناپائیدار اور نامانوس چیز کے لئے کہا جاتا ہے مغرب: انجانی چیز۔ مذکر و مؤنث مستعمل ہے۔

اور عناقِ مُعْرَبٌ سنت اور اصناف دونوں طرح سے

استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۳۲۔ حُكْمٌ كَالْحَلْفَةِ الْمَضْرَعَةِ لَا يُدْرِي أَيُّنَ طَرَفَاهَا ۶۔

(وہ دھلے ہوئے حلقے کی طرح ہیں معلوم نہیں کہ اس کے دونوں

سرے کہاں ہیں) فالطہ بنت الحوخب اناریہ کا مقولہ ہے جو

زیادہ طلبی کی بیوی تھی اور اپنے ساتھیوں میں سے باری باری

ہر ایک کو سببِ انفضال کہتی اور انہیں کہہ دیتی هُمْ كَالْحَلْفَةِ

الْمَضْرَعَةِ لَا يُدْرِي أَيُّنَ طَرَفَاهَا ۶۔

۴۳۳۔ حَلِيٌّ اَصَمٌ وَاذْفِي عَيْدٌ صَمَّاءٌ ۶۔

(میرا علم ہرا ہے، کان میرے نہیں) یعنی بردباری کی وجہ سے

فحش کلام سے احتراز کرتا ہوں اگرچہ کانوں سے سنتا ہوں)

۴۳۴۔ اُخْلِمُ مِنَ الْاُخْفِ ۶۔ (احنف سے زیادہ بردبار)

احنف بن قیس بنو تمیم میں سب سے زیادہ حلیم تسلیم کیا جاتا تھا۔

۴۳۵۔ اَلْحَلِيمُ مَطِيَّةُ الْجَحْوَلِ (بردبار جاہل کی سواری ہے) جو اس کے جبل کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے اور اس سے انتقام نہیں

۴۳۶۔ لَا تَكُنْ مَحْلُوًّا فَتُشْرَطَ وَلَا مُدًّا فَتُغْفَى ۶۔

رنہ میٹھا بن کہ نگل لیا جائے اور نہ کڑوا کہ اگل دیا جائے۔

اِشْرَاطُ: نگل جانا۔ اِنْقَاؤُ: تلخی کی وجہ سے اگل دینا یہی مفہوم

اردو میں ضرب النثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

۴۳۷۔ اَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ ۶۔ (شہد سے زیادہ شیریں)

۴۳۸۔ اَخْلَى مِنْ نَيْلِ الْمُنَى ۶۔ (حصولِ مرلوسے زیادہ شیریں)

۴۳۹۔ اَخْلَى مِنْ حَيَاةٍ مَعَاوِدَةٍ (دوبارہ زندگی سے زیادہ شیریں)

۴۴۰۔ اَلْحَمْدُ مَعْنَمٌ وَالْمَدَامَةُ مَعْرَمٌ ۶۔

(تعریف مالِ غنیمت ہے اور مذمت تاوان) یعنی تعریف کا کام کیا

توجہ دیا۔ تعریف اس کی غنیمت ہے۔ کوئی برا کام کیا تو قصور

کیا۔ برائی اس کا تاوان ہے۔

۴۴۱۔ كَانَ حِمَارًا فَاسْتَأْنَقَ ۶۔ (وہ گدھا تھا پھر گدھی بن گیا)۔

اِسْتَأْنَقَ: بمعنی صارًا تَأْتَا (گدھی) یعنی قوی تھا ذلیل و کمزور ہو گیا

مُزْنِي: تھا اور پھر ذلیل ہو گیا۔

۴۴۲۔ اَحْتَقُ مِنْ دُعَاةٍ ۶۔

(دُفْعے سے زیادہ احمق) دُفْعَاةٌ: ایک عورت تھی جس نے اپنے بچے کے

منہ کو تالو کو پھوڑا سمجھ کر چیرا اور داغ کر بیچ بچہ کو کال دیا

جب اس سے پوچھا گیا تو جواب دیا بچہ کلیم کی وجہ سے روتا

تھا اب آرام سے سو گیا۔

۴۴۳۔ اَحْتَقُ مِنْ رِجْلَيْهَا ۶۔ (رجل سے زیادہ احمق)

رجل ایک گھٹا ساگ ہے جو تیار کھیتوں کی بجائے نیلاب سے

تیار شدہ تالیوں میں اگتا ہے۔

۴۴۴۔ اَحْتَقُ مِنْ شَرِّ نَبْتٍ ۶۔ (شرنبت سے زیادہ احمق)

شرنبت کی حماقتیں مشہور ہیں۔ ایک دفعہ اس نے بدلی کے سائے

کو علامت مقرر کر کے صحرا میں اپنا مال دفن کیا تھا۔ سایہ ہٹ

گیا اور مال کی جگہ گم ہو گئی۔

۴۴۵۔ اَحْتَقُ مِنْ عَجَلٍ ۶۔

(عجل سے زیادہ احمق) عجل بنی وائل کا شخص تھا جس نے گھوڑے کی

آنکھ سے لڑکے اس کا نام اَعْوَدُ (کانا) رکھا۔

۴۴۶۔ اَحْتَقُ مِنْ نَعْمَةٍ ۶۔ (شر مزخ سے زیادہ بے وقوف)

شر مزخ فذا کی تلامذہ میں نکلتا ہے۔ کہیں دوسرے شر مزخ

”ضرورت ایسا دل کی ماں ہے“

۴۷۷۔ حَالُ الْجَرِيئِينَ دُونَ الْقَرِيئِينَ۔

(شعور کے آگے غم حائل ہو گیا ہے) جَرِيئِينَ غم۔ قَرِيئِينَ شعور۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ نعمان شاہ عرب نے انعام اور سزا کا ایک ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ سزا کے دن جہنمی اس سے ملتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ نعمت کے دن ملتا تو اس کو مال ملتا تھا۔

اتفاق سے عبید بن ابرص شاعر جو اس کے خاص ندماء میں سے تھا سزا کے دن اس کے پاس آ گیا۔ نعمان نے کہا کاش! تو کسی اور دن ملاقات کرتا۔ اب تو اپنی جان کے علاوہ جو بچا ہے مانگ

لے۔ عبید نے کہا اپنی جان سے زیادہ مجھے کئی چیز عزیز نہیں نعمان نے انکا کیا اور ساتھ ہی عبید شاعر سے اپنے اشارہ سنانے کی فرمائش کی۔ عبید نے کہا: حَالُ الْجَرِيئِينَ دُونَ

الْقَرِيئِينَ۔ یعنی غم جان شعور سنانے میں حائل ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک عرب لڑکے کا مقولہ ہے جس کو شعور کوئی میں بڑی مہارت تھی۔ باپ کے متبع کرنے سے

اس نے شعور کو تڑک کر دیا اور اس گکھن میں وہ سخت بیمار ہو گیا۔ آخر باپ نے شعور کینے کی اجازت دے دی لڑکے نے کہا حَالُ الْجَرِيئِينَ دُونَ الْقَرِيئِينَ۔ یعنی اب نا طاقتی

یا موت کا غم شعور کینے میں حائل ہو گیا۔

۴۷۸۔ حَالُ الْآجَلِ دُونَ الْأَمَلِ (امید کے ورے موت حائل ہو گئی۔ یہ پہلی شکل کے قریب قریب ہی ہے)۔

۴۷۹۔ اَنَّ حَالَ الْقَدْسِ قَسْبُهُ صَائِبٌ۔ (اگر میری کمان میری ہی ہے مگر میرا تیر نشانہ پر لگتا ہے)۔ حَالُ الْقَدْسِ۔ کمان کا ٹیڑھا ہونا۔ قَسْبُهُ صَائِبٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔ یہ شکل ایسے شخص کے لئے بولی جاتی ہے جس کی دولت و نعمت زائل ہو چکی ہو مگر اس کا کرم باقی ہو۔

۴۸۰۔ رَبِّ حَالٍ أَفْصَحُ مِنْ لِسَانٍ (سب سے زیادہ فصیح مہتما ہے) ”صورت بریں حالش میریں“

۴۸۱۔ آخُولٌ مِنْ أَيْ قَلَمُونٍ (بوتلوں سے زیادہ بدلتے والا) (بوتلوں میں سے ایک کپڑا جس میں سب سے رنگ نظر آتے ہیں)۔

۴۸۲۔ آخُولٌ مِنْ أَيْ بَرَاقِشٍ (ابو براقش سے زیادہ متلون)

ابو براقش ایک پرندہ ہے جو ایک دن میں کئی رنگ بدلتا ہے۔

۴۸۳۔ الْخَاوِي لَا يَنْجُو مِنَ الْحَيَاتِ۔ (سانپوں کا منتر جانتے والا سانپوں سے نجات نہیں پاتا) یعنی ہر سانپ پکڑتا ہے کبھی نہ کبھی سانپ سے ضرور ڈسا جاتا ہے۔

۴۸۴۔ اَحْيَاؤُنْ ضَيْبٍ۔ (گرہ سے زیادہ متیر) جو اپنے بل سے نکل کر واپسی کا راستہ بھول جاتی ہے

۴۸۵۔ حَيْلَةٌ مِّنْ لَّا حَيْلَةَ لَهُ الصَّيْرُ۔ (جس شخص کے لئے کوئی حیلہ نہ رہے اس کے لئے حیلہ میر ہے) مصیبت کی کوئی تدبیر نہ ہو تو کم از کم صبر تو کیا جاسکتا ہے یعنی مجبور ہو کر حیلہ میر ہے یا کوئی تدبیر ممکن نہ ہو تو صبر کے سوا کیا چارہ ہے۔ مجبوری کا نام صبر ہے۔

۴۸۶۔ مَا حَيْلَةُ الرَّاحِي إِذَا انْقَطَعَ الْوَحْرُ۔ (جب تانت ہی ٹوٹ جائے تو تیر انداز کیا کرے)

۴۸۷۔ إِذَا حَانَ الْقَضَاءُ ضَاقَ الْفَضَاءُ۔ (جب قضا آتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے) ”موت سے فرار کہاں“

۴۸۸۔ لَا يُحْيِي الْبَيْضَ وَتَقْتُلُ الْفَرَاحَ۔ (چوزہ کو قتل کر کے اندوں کو باقی مت رکھ) یعنی چھوٹی چیز کے لئے بڑی چیز کو ضائع نہ کرو۔

۴۸۹۔ حَيَاتٌ مِّنْ خَلَا فُؤَادٍ۔ (تجھے خالی منہ والے نے سلام کیا ہے) کسی کا نا کھلتے ہوئے کے پاس سے گذرتے ہوئے ایک شخص نے سلام کیا مگر وہ جواب نہ دے سکا اس پر یہ مثال لی گئی۔ ساتھ کی بے توجہی کرنے کے موقع پر یہ شکل بھی جاتی ہے۔

۴۹۰۔ لَا تَحْيُ فَيُدْحِي وَلَا مَيِّتٌ قَيْسِي۔ (نہ زندہ ہے جس سے امید کی جائے اور نہ مردہ جس کو بھلا دیا جائے) ناکارہ

۴۹۱۔ أَحْيَاؤُنْ كَنَاقَةٍ۔ (نوجوان عورت سے زیادہ باحیا)

۴۹۲۔ أَحْيَاؤُنْ مِّنْ مُّكْتَدِرَةٍ۔ (پروردہ نہیں عورت سے زیادہ حیادار)

۴۹۳۔ أَحْيَاؤُنْ هَدِيَّتِي (دُھن سے زیادہ حیادار) ہدیت: دُھن کو کہتے ہیں گریبا شوہر کو ہدیہ دینے کے لئے اگڑا ہوتی گئی)۔

۴۹۵۔ اَلْحَيَاةُ مِنَ الْاِيْمَانِ -

رحیاء ایمان کا جو ہے، کیونکہ ظلم و غیرت کی وجہ سے ہی آدمی بڑے کاموں سے بچتا ہے اور اس کا لے کا گیا ہے اِذَا لَمْ تَسْتَجِزْ فَاَصْنَعْ مَا مَشِئْتَ (جب جیانا کہے تو چرچا ہے کہ۔

خ

۴۹۶۔ اِمَّا جَبَّتْ وَاِمَّا بَرَكَتْ (یا تیز دوڑی یا بیٹھ ہی گئی)

الْحَبَبُ تیز دوڑنا یا خیر کی انتہا یا شر کی انتہا۔

۴۹۷۔ اَخْبِرْنَا بِعَجْوِيٍّ وَبِعَجْرِيٍّ -

(میں نے اس کو اپنے تمام رازوں کی خبر دے دی) عَجْرِيٍّ، پیچ در پیچ رگیں۔ عَجْوِيٍّ پیٹ کی تمام گرہ دار رگیں۔ یعنی اپنے عیب و ثواب سب بتا دیئے۔

۴۹۸۔ تُخْبِرُ مَنْ مَجْهُولِيٍّ مَذْمُومًا - (اس کا ظاہر مستقران

جلنے کی خبر دے رہا ہے) ظاہر باطن کی شہادت دیتا ہے۔

۴۹۹۔ يُخْبِرُكَ اَدْنَى الْاَرْضِ عَنْ اَقْصَاها رَزِيْنِ كَابْتِدَائِيٍّ

حقہ اس کے انتہائی حقے کی خبر دے رہا ہے۔

۵۰۰۔ لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ -

(خبر آنکھوں دیکھے کی طرح نہیں ہوتی) شنیدہ کے مانند دیدہ؟

۵۰۱۔ عَلَى الْخَيْبِ سَقَطْتُ - (جہاننے والے ہی کے پاس

پہنچے ہو، یعنی اسی سے پوچھا ہے جو جانتا ہے)

۵۰۲۔ يَخِيْطُ خَيْطَ عَشْوَاءٍ (اندھی اونٹنی کی طرح دو دندیا

ہے)۔ عَشْوَاءُ اور کمزور نظر اونٹنی، جو ہر چیز کو روند ڈالتی

ہے۔ اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو بے سوچے سمجھے کسی کام

میں پڑ جائے یا کسی کام کی ذمہ داری لے اور اس کے انجام

کا انتظام نہ کرے۔

۵۰۳۔ اَخْبِطُ مِنَ حَاطِبِ اللَّيْلِ

رات کو کھڑکیاں بچ کرنے والے سے زیادہ گڑ بڑ کرنا

ضروری اور غیر ضروری اشیاء کو بچ کرنے والا۔

۵۰۴۔ اَخْتَلُّ مِنَ السَّائِبِ

(بھیرے سے زیادہ دھوکے باز) ختل، دھوکہ دینا

۵۰۵۔ مَنْ خَدَّهَ الرِّجَالِ خَدًا

دبھنے لوگوں کی خدمت کی اس کی خدمت کی گئی، خدمت

سے خدمت سے یا "خدمت سے عظمت ہے"

۵۰۶۔ اَلْعَاوِلُ اَخْوَالُ الْقَاتِلِ -

(رسوا کرنے والا قاتل کا بھائی ہے) اگر یا قاتل ہی ہے

۵۰۷۔ تَخْرِجُ الْمَيْدَحَةَ مَا فِي قَهْرِ الْبُرْمَةِ

(چمچ وہی نکالتا ہے جو ہنڈیا کے پینڈے میں ہوتا ہے

مِقْدَحَةٌ۔ ڈوٹی یا چمچ اور بُرْمَةٌ پتھر کی انڈی۔

۵۰۸۔ قَدْ يُخْرِجُ مِنَ الصَّدَقِ غَيْرُ السَّدْرِ

(کبھی سیب سے موتی کے سوا کچھ اور بھی نکل آتا ہے)

۵۰۹۔ لَا تُخْرِجُ النَّفْسُ مِنَ الْاَمَلِ حَتَّى تَنْحَلُ فِي الْاَلَا

رفس امیدوں کے پھندے سے نہیں نکلتا جب تک موت

کی حد میں نہ داخل ہو جائے)

۵۱۰۔ دُونَكَ خَرَطِ الْقَتَادِ -

(اس سے آسان تو قناد کے کانٹوں کو سوختا ہے۔)

خَرَطٌ: یعنی سخت مشکل ہاتھ سے پتے سونٹنا۔ قناد، ایک

خاردار درخت ہے۔

۵۱۱۔ الْخُرُوفُ يَتَقَلَّبُ عَلَى الصُّوفِ

(بھوپڑ کا پتہ اون پر کرو میں لیتا ہے) خُرُوفٌ: خرگوش

یا بھیرا کا پتہ بے فکر سے اور آرام سے لہر کرنے والے

آدمی کے لئے کہتے ہیں۔

۵۱۲۔ اَخْرَجِيْ مِنْ نَّكَاشِرِ الْعُذُلِ -

(سوت توڑنے والی سے زیادہ احمق۔ ناکشہ الغزل) سوت

کو توڑنے والی) قریش کی ایک عورت جو ظالم لوگوں کے

سامنے مل کر سوت کا تا کرتی تھی پھر خود ہی کاٹے ہوئے

سوت کو توڑ دیتی تھی۔

۵۱۳۔ خَدَّ قَادًا تَنْبِقِيَّةً

(پھوپڑ، چتر، سنگھڑنے والی) خرقا، موہ عورت جو کام

کو اچھی طرح نہیں کر سکتی۔ تَنْبِقِيَّةٌ: تَنْبِقٌ سے فَعْلَةٌ، وہ

وزن پر نوز ہے۔ تَنْبِقٌ، کام میں ہوشیار رہنے والی دکھانا

۵۱۴۔ خَرَقَاؤُ عَيْتًا بَسَةً - (پھوپڑ، عیب نکالنے والی خود نہیں

جانتی مگر دوسروں کے کام میں عیب نکالتی ہے۔

گر وہ کسی چشمہ یا پڑاؤ سے کوپ کر جائے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ نعامتہ، شتر مرغ، ہلکا ہلکا ہونے اور تیر و قاری کے لئے مشہور ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نعامتہ بمعنی جماعت قوم ہے۔

۵۲۶۔ خَفِيفًا طَعَامًا مَكَ تَأْتُمَنَ سَقَامًا

رہلکا ہلکا کھاؤ تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہو۔

۵۲۷۔ اَخْفَ حِلْمًا مِّنْ عَضْفٍ كَرِيحًا يَأْسُ بِهِيَ زِيَادَةَ حِلْمِ طَيْشِ

میں آجانے والا، عقل کی کمی اور طیش کے لئے چڑ یا کی مثال

دی جاتی ہے۔ چڑا ہوتا بھی غضبناک ہے۔

۵۲۸۔ اَخْفًا مِّنْ يَدِ اَعْمَى

دُزُل سے زیادہ ہلکا، بَرَائتہ نزل سے

۵۲۹۔ اَخْفٌ مِّنْ رِّيشَةٍ - (پر سے زیادہ ہلکا)

۵۳۰۔ اَخْفٌ مِّنَ النَّسِيمِ - (باد نسیم سے زیادہ ہلکا)

۵۳۱۔ اَخْفٌ مِّنَ الْهَبَاءِ - (غبار سے زیادہ ہلکا)

۵۳۲۔ وَهَلْ يُخْفَى عَلَى النَّاسِ الْقَمَرُ -

کیا لوگوں پر چاند بھی مخفی رہتا ہے، ایسے معاملے یا خوبی کے

لئے کہا جاتا ہے جو چھپ نہ سکے۔

۵۳۳۔ مَا عِنْدَهُ خَلٌّ وَلَا خَمْرٌ

نہ اس کے پاس سرکہ ہے نہ شراب، یعنی خیر ہے نہ شر

۵۳۴۔ مَا أَنْتَ بِخَيْرٍ وَلَا خَيْرٌ - (تیرے پاس تو سرکہ ہے نہ شراب)

۵۳۵۔ اَلْخَلَّةُ مَدُّ عَوَالِي السَّلَّةِ (فقیر چوری کی طرف بلاتا ہے)

خَلَّة، فقر و حاجت اور سَلَّة، چوری کو کہتے ہیں۔

۵۳۶۔ تَخَلَّصَتْ قَائِمَةٌ مِّنْ قُوْبٍ (انڈا چوزہ سے نجات

پا چکا ہے، قَائِمَةٌ، انڈا اور قُوْبٍ، چوزہ۔ سختی سے چھکارا

پا جانے پر بولتے ہیں۔ جو اسد کے ایک بدوی نے کسی تاجر

کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا جب میں تجھے فلاں

مقام تک پہنچا دوں گا جو سَت قَائِمَةٌ، مِّنْ قُوْبٍ مراد

یہ کہ میں تیری ذمہ داری سے بری ہو جاؤں گا۔

۵۳۷۔ اَخْتَلَطَ الْحَايِلُ بِالْعَائِلِ - (رجال والا تیر والے کے ساتھ غلط

ہو گیا، حَائِلٌ، حال والا۔ حَائِلٌ، تیر والا۔ شکار کے یہ دونوں

طریقے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ اختیار

۵۱۵۔ اَخْسَرُ مِنَ الْقَائِمِينَ عَلَى الْمَاءِ

رُشْحِي سے پانی پکڑنے والے سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔

۵۱۶۔ مَنُ خَيْتِي الذُّنُوبَ اَعَدَّ كَلِيًا

(جو شخص میرے لئے سے ڈرے اس کو تیار کرنا چاہیے) جو

بھیڑیے کا شکار کر کے۔ دشمنوں کے لئے تیار کرنے کی

ترغیب کے لئے کہا جاتا ہے۔

۵۱۷۔ لَا تَخْصِمُ مَنُ اِذَا قَالَ فَعَلَ

(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کہے تو کہ گزرے)

۵۱۸۔ اَيُّكُمْ وَخِصْرَاءُ التَّوَمِينَ -

کوڑی پر آگی ہوئی سبزی سے بچو، جو زیادہ شاداب ہوتی

ہے مگر غلاطت پر آگنے کی وجہ سے بدبودار ہوتی ہے

یعنی ایسے ظاہری حسن سے جس کا باطن حراب ہو بچنا چاہیے

۵۱۹۔ اَلْخَطَا تَزَادُ الْعُجُوْبَ -

(خطا جلد بازی کی راہ ہے، زاہد راہ کی طرح غلطیاں ساتھ

لے کر چلتا ہے۔

۵۲۰۔ مَعَ الْخَوَاطِيءِ سَنَفْتُمْ صَائِبًا -

(خطا کرنے والے تیروں کے ساتھ نشا نہ پزیر بیٹھنے والا تیر بھی

ہونا ہے) ایسا اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بہت مرتبہ

غلطی کرنے کے بعد ایک مرتبہ ٹھیک کام کر جائے۔ خواطی

وہ تیر جو نشا نہ سے خطا کریں۔

۵۲۱۔ مَنُ خَطَبَ الْحَسَنَاءَ يَجْعَلِي مَهْنَةً هَا -

(جو کسی حسینہ کو منگنی کا پیغام بھیجے گا اس کا مہر بھی ادا کرے گا)

۵۲۲۔ اَخْطَبُ مِّنْ سَخْبَانٍ وَائِيلِ

سخبان ابن وائل سے زیادہ خلیب، سخبان قبیلہ بابلہ

کا نہایت بلند فصیح و بلیغ شاعر اور خلیب تھا۔

۵۲۳۔ يَكْفِي خِطَابُ جَوَابِ

(ہر بات سوال کا جواب ہوتا ہے)۔

۵۲۴۔ لَيْسَ الْمَخَاطِرُ مَخْمُودٌ وَكُنْ لَهَا خَطَرٌ مِّنْ كُودٍ يَرْتَدُّ

والا قابلِ تعریف نہیں ہوتا۔ چاہے وہ بچ ہی جائے۔

۵۲۵۔ خَفَّتْ نَعَامَتُهُمْ رَنِّ كَاشْتَرِ مَرْغٍ هَلْكَاءِ هَرِغِيَا اَوْ جَلْدِ كَرِيحِ

کر گیا، خَفَّتْ کی جگہ شَائَتْ بھی منقول ہے۔ کوئی بھی

کے جائیں تو پھر کوئی شکار اچھا نہیں آتا۔ یہ سب اس وقت کی جاتی ہے کہ جب کوئی معاملہ اس طرح گڑبڑ ہو جائے کہ اس کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئے۔

۵۲۸۔ اِخْتَلَطَ الرَّعْمِيُّ بِالْهَمَلِ

رچرایا ہوا اور آزاد اوزن مخلوط ہو گئے (رزمی: وہ اونٹ جس کو چرایا جائے ہٹل وہ اونٹ جس کو چرواہے کے بغیر آزاد چھوڑ دیا جائے۔)

۵۲۹۔ اِخْتَلَطَ الْخَافِرُ بِالزُّبَابِ رَكَوْعًا مَعَهُ خَرَابٌ دُونَ كَيْ سَاقِدِي كَيْ يَمْشِي اِيَسِي وَكُوْنُ كَيْ لِي دِي جَاتِي يِي جِن كَا مَعَالِمُ كَرُ بَرِي يِي رِي جَا يِي۔

۵۳۰۔ خَالَفَ نَفْسًا تَسْتَوِيحُ۔

(اپنے نفس کی مخالفت کہو تاکہ راحت پاؤ۔)

۵۳۱۔ خَالَفَ هَوَاكَ تَرْتَشِدُ۔

(اپنی خواہش کے خلاف کر دو تاکہ ہدایت پاؤ۔)

۵۳۲۔ خَالَفَ تَدَاكِيْزُ (مخالفت کرو تاکہ تمہارا ذکر کیا جائے)

۵۳۳۔ اَخْلَفَ مِنْ عَرْقُوْبٍ (عرقوب سے زیادہ وودہ

خلاف) عرقوب ممالقہ میں۔ سے ایک شخص کا نام ہے جو اپنے

بھائی کا سوال پورا کرنے کے لیے بعد دیگرے کھجوروں کے

چھوٹے کھجوروں کے ادھ کچھ رہے ہونے، گد رانے، کپینے

اور پھر خشک ہونے اور چھوڑنے کے اوقات

یک ملتا رہا اور آخر میں سب چھوڑنے گیا اور بھائی کو کچھ

نہ دیا۔ اسی وجہ سے وودہ خلائی میں یہ ضرب المثل ہو گیا۔

۵۳۴۔ اَخْلَفَ مِنْ قَارِ الْجَبَابِ (جگنو کی آگ سے زیادہ وودہ

خلاف) جو تہلکتی ہے اور نہ روشنی دیتی ہے۔

۵۳۵۔ خَلَقَ اللهُ لِلْحَرْبِ رِجَالًا

(اللہ تعالیٰ نے رزائی کے لیے اور ہی مرد پیدا کئے ہیں)۔

۵۳۶۔ خَلَا لَبَّ الْجَوْهِيْنِيْنِ وَأَصْفَرِيْنِ

(تیرے لیے میدان خالی ہو گیا۔ اب اندھے سے اور چھپا)

طرف بن عبد الشاعر کا قول ہے اس نے چند ول کے شکار

کے لیے مجال لگا یا اور تمام دن انتظار کیا۔ آخر اپنا بال

لے کر چل دیا تو دیکھا کہ چند ول اس کے ڈالے ہوئے دلے

چگ رہے تھے اس وقت طرف نے کہا: یا لَبَّ مِنْ مُنْبَرَةِ لِعَمْرٍ خَلَا لَبَّ الْجَوْهِيْنِيْنِ وَأَصْفَرِيْنِ۔ جب کسی مقصد کی راہ کے خطرات اور مشکلات دور ہو جائیں تو کہا جاتا ہے۔

۵۳۷۔ لَا يَخْلُو الْمَرْءُ مِنْ ذُوِّ وَدٍ يَمْنَحُ وَعَدَا وَيَقْدَحُ

(کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو کسی تعریف کرنے والے دوست اور بڑائی کرنے والے دشمن سے خالی ہو۔)

۵۳۸۔ خَلَّ مَنَ قَلَّ خَيْرُهُ لَكَ فِي النَّاسِ غَيْرُكَ

(اس شخص کو چھوڑ دو جس میں بھلائی کم ہو یا نہ ہو لوگوں میں نہیں اس کے علاوہ اور مل جائیں گے)۔

۵۳۹۔ خَلَّ الْحِسَابَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ۔

(حساب کو روز حساب کے لیے چھوڑ دو)۔

۵۴۰۔ خَلَا ذُوْكَ اَكْتَنِيْ لِحَيَاتِكَ

(تمہاری تیری حیا کی زیادہ محافظ ہے تمہاری میں دوسرے سے

معاملہ ہی نہیں ہوتا تو بے شرمی کا سوال ہے، اسی معنی میں

۱۰ سلامتہ فی اراہدہ بھی کہا جاتا ہے۔)

۵۴۱۔ مَنَ لَا يَخَافُ أَحَدًا إِلَّا يَخَافُهُ أَحَدًا۔

(جو کسی سے نہیں ڈرتا اس سے کوئی نہیں ڈرتا)۔

۵۴۲۔ مَنَ خَانَ حَاقَ (جس نے خیانت کی ذیل ہوا)۔

۵۴۳۔ يَا رَبِّمَا خَانَ الْمَوْتَمِنُ۔

(کہی امانت دار غیر خواہ بھی خیانت کر جاتا ہے)۔

أَخِيْبٌ مِّنْ قَائِيْنِ عَلَى الْمَاءِ

(پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے سے زیادہ ناکام)۔

۵۴۴۔ أَخِيْبٌ مِّنْ حَتِيْبِيْنِ۔

(حٹین سے زیادہ ناکام) حرف "س" میں ریح و کھو کو ختیت

۵۴۵۔ لَأَخْتَوْتِ اِكْرَحِيْ اَخْتِيَارِ دِيَا جَاتَا اِكْرَحِيَارِ لِيْنِيْ اَفِيَا

نہیں اس لیے سب سے تسلیم کوئی چارہ نہیں۔

۵۴۶۔ خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا

(معاملات میں یا نہ روی بہترین چیز ہے)

۵۴۷۔ خَيْرُ الْأُمُوْرِ مَا أَسْعَدَكَ فِي دَارِيْكَ

(بہترین کام وہ ہے جو تمہیں دونوں جہان میں نیک بخت بناتا ہے)

۵۴۸۔ خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَحْسَنُهَا مَقْبَلَةٌ۔

- ۵۶۱۔ خَيْرُ الْمَالِ مَا نَفَعَ - (بہترین مال وہ ہے جو نفع پہنچائے)
اسی کے ہم معنی مقولہ ہے لَمْ يَصْنَعْ مِنْ مَالِكَ مَا وَكَمْ تَلَدُ
تیرا وہ مال صنایع نہیں ہوا جس نے تیری خیر خواہی کی
- ۵۶۲۔ خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاِعْلُهُ (اچھوں میں اچھا وہ جو اچھے کام کرے)
- ۵۶۳۔ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ فَرِحَ لِلنَّاسِ بِالْخَيْرِ -
(بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی سے خوش ہو)
- ۵۶۴۔ خَيْرُ الْوَعْدِ مَا دَعَا -
(بہترین نصیحت وہ ہے جو برائی سے باز رکھو)
- ۵۶۵۔ الْخَيْرُ الْبَقِيَّ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِسِ
(بہترین علم وہ ہے جو وقت پر حاضر کر کے)
- ۵۶۶۔ إِنَّ خَيْرَ الْفِعْلِ مَا حَفِظَتْ يَدُ الْبِهِرِ عِلْمٌ وَهُوَ خَيْرُ تَوَقُّتٍ بِرَحْمَةِ كَرَمِكِ
لَا خَيْرَ فِي آرِبٍ الْقَالِكِ فِي لَهَبٍ
(اس مقصد میں کوئی خیر نہیں جو تجھے شعاعوں میں ڈال دے)
- ۵۶۷۔ لَا خَيْرَ فِي الْمَسْرُوفِ وَلَا سَوَفَ فِي الْخَيْرِ -
(اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں) یعنی
بھلائی زیادہ بھی ہو تو اسراف میں شمار نہیں ہوتی۔
- ۵۶۸۔ لَا خَيْرَ فِي دُوِّ يَكُونُ لِبِشَا فِرَجٍ
راہی محبت میں کوئی خیر نہیں جو کسی سفارش کرنے والے کے ذریعہ ہو
- ۵۶۹۔ الْخَيْلُ بَجْرِي عَلَى مَسَاوِيهَا (گھوڑا اپنے سبوں کے باوجود
چلتا ہی ہے) یعنی شرافت اصلی اس کو چلنے پر اور دوڑنے پر مجبور
کرتی ہی ہے۔ اسی طرح شریف الاصل آدمی تکی اور مشقت
کے باوجود اپنے کرم کا اظہار کرتا ہے۔
- ۵۷۰۔ الْخَيْلُ أَعْلَمُ بِقُرُوسَاتِهَا -
(گھوڑے اپنے سواروں کو خوب جانتے ہیں) مطلب یہ کہ معاشرہ کی
آدمی کو اختیار کر دو۔
- ۵۷۱۔ أَخْبِلُ مِنْ مُرَايٍ (کتے سے زیادہ اترانے والا)
گدا برے انداز سے چلتا ہے۔
- ۵۷۲۔ أَخْبِلُ مِنْ دِيْنٍ (دین سے زیادہ ناز دکھانے والا)

د

- ۵۸۳۔ دَأْمًا لَا يُقْلَعُ بِالْأَمَارَتِ (سند رکھ لوگوں کے پرے سے طے نہیں

(بہترین کام وہ ہے جس کی انجام میں تعویذ کی جلتے) مُغْتَبَةً؛
عاقبت انجام کر کے ہیں اسی معنی الْأَمَالُ بِجَوَائِبِهَا استعمال
ہوتا ہے۔

- ۵۵۹۔ خَيْرٌ أَنْ تَأْتِيَتْ عَمَقَاتِيْنَ -
رٹنے اپنے بہترین کواٹ رہی ہے یعنی مستحق محروم اور غیر مستحق
فیضیاب ہو رہے ہیں۔
- ۵۶۰۔ كَفَاءَ الْإِنَاءِ -
(برتن کو انڈھا کرنا) ایسے موقع پر بولتے ہیں۔
- ۵۶۱۔ خَيْرُ أَهْلِكَ مَنْ كَفَاكَ -
تیرا بہترین رشتہ دار وہ ہے جو تیرے لئے کافی ہو جائے۔
- ۵۶۲۔ خَيْرُ الْبَيْعِ نَاجِزٌ يَسْتَأْجِرُ -
(بہترین خرید و فروخت نقد ہے)
- ۵۶۳۔ خَيْرٌ عَالِيَتِكَ تَنْطَبِحِيْنَا -
(اپنے بہترین دوہنے والے کو سینگ مارتی ہے) ایک بکری کو دو
آدمی دوپتے تھے۔ نرمی سے دوہنے والے کو وہ سینگ مارتی تھی
اور دوسرے کو وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہ سب ایسے شخص کے لئے استعمال
کی جاتی ہے جو اپنے خوش معاملہ لوگوں سے برائی کرے۔
- ۵۶۴۔ خَيْرُ الْغِلَالِ حِفْظُ اللِّسَانِ
(بہترین فصلت زبان کی حفاظت کرنا ہے)
- ۵۶۵۔ خَيْرُ سَلَاخِ الْمَرْسِيِّ مَا وَقَاكَ -

_____ رادھی کا بہترین ہتھیار وہ ہے
جو اس کو بچائے) یعنی جو بھی وقت پر کام کر جائے۔
- ۵۶۶۔ خَيْرُ الْأَصْحَابِ مَنْ ذَكَرَكَ عَلَى الْخَيْرِ -
(بہترین ساتھی وہ ہے جو غیر کی طرف تیری رہنمائی کرے)
- ۵۶۷۔ خَيْرُ الْعَقْرِ مَا كَانَ عَيْنًا أَلْفًا دَرًا
(بہترین معافی وہ ہے جو قدرت حاصل ہونے کے وقت دی جائے)
- ۵۶۸۔ خَيْرُ الْعِلْمِ مَا حَضَرَكَ -
(بہترین علم وہ ہے جو ضرورت کے وقت مستحضر ہو جائے)
- ۵۶۹۔ خَيْرُ الْعَيْنِ الْقَتُومُ (بہترین مال داری قناعت ہے)
- ۵۷۰۔ خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَبِلَ وَدَلَّ
(بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مراد کو ظاہر کرنے والا ہو)

کیا جاسکتا، اذناؤ۔ سمندر، اذناؤ۔ جمع رنٹ۔ جھیل یا دریا
میں شکار کر دینا کا بنا ہوا بیڑہ۔

۵۸۶۔ اَذْبَرَّ غَيْرِ يَزْرَعَةٍ وَاقْبَلَّ هَبَّ يَزْرَعَةٍ (اس کی اچھی عادت نے
پیٹھ پھیر لی اور بد خلقی سامنے آگئی، غریزہ، اچھی عادت۔ بزرگ،
کراہیت و بد خلقی۔ یعنی پسندیدہ خصلت ختم ہو گئی اور بد خلقی آگئی۔

۵۸۷۔ اَلشَّدِيدُ يَنْصِتُ الْمَعِيْشَةَ (تدبیر آدھی مدد کی ہے)

۵۸۸۔ كَدَّ اِبْعَثَ وَقَدْ حَلَمَ الْاَدْوِيْهُ۔

(کمال رنگنے والے کی طرح مہب کہ کھاں فاسد ہو چکی ہو)

۵۸۹۔ حَلَمَ الْجَلْدُ۔ (کھال خراب ہو گئی اور اس میں کیرے پڑ کر

سوراخ ہو گئے) اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی معاملے کی اصلاح

کی اس وقت کوشش کرے جب وہ فساد کی وجہ سے ناقابل اصلاح ہو چکا ہو

۵۹۰۔ دَخَلَ قُضُوْبِيْ تَارَفًا لِّحَطَبٍ رَطْبٍ (فضولی خواہ

مخزواہ دخل دینے والا) اگر میں گھس گیا اور کہنے لگا کہ ایندھن گیا ہے۔

۵۹۱۔ يَدْخُلُ شُعْبَانَ فِي رَمَضَانَ (شعبان کو رمضان میں

داخل کر رہا ہے، بے سرو پا باقی کرتا ہے۔

۵۹۲۔ لَا تَدْخُلُ بَيْنَ الْبَصَلَةِ وَقَشْرِهَا۔ (پیاز اور اس کے چھلکے

کے درمیان مت گھسور) خواہ مخواہ، مداخلت نہ کرو)

۵۹۳۔ لَا تَدْخُلَنَّ بَيْنَ الْعَصَاوِ لِحَايِمَهَا۔ (ڈنڈے اور اس

کی چھال کے درمیان ہرگز داخل نہ ہو) لجام۔ درخت یا لکڑی کی

چھال یعنی دو دو تھل کے درمیان برائی کے ساتھ مت داخل ہو۔

۵۹۴۔ يَحْتَلِيْ دَرَّ حَالِبٍ۔ (ہر دو دھ کا کوئی دوہنے والا بھی ہے)

۵۹۵۔ اَدْرَاهَا وَاِنْ اَبَتْ۔ (اس کو روو لو خواہ وہ انکار کرے) یہ

مقرر اس ادٹنی کے لئے کہا جاتا ہے جو میانہ باز نہ ہو بیزورہ

نہ دوہنے دے یعنی ضرورت یا بھلائی کو بامرار حاصل کرو۔

۵۹۶۔ دَرَّ الْمَقَايِدِ اَوْ لِيْ مِنْ جَلْبِ الْيَتِيْمِ۔

(مفاسد کو دفع کرنا تمہیں حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے)۔

۵۹۷۔ يَسِيْرٌ رَّجِيْحٌ فِي كُلِّ وَكِيْلٍ۔ (ہر گھوسلے میں گھس جاتا ہے) یعنی

ہر معاملے میں دخل دیتا ہے اور ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔

۵۹۸۔ اَلدَّرَّ اِهْمُ مَرَّ اِهْمُ۔ (دو پے مریم کا کام کہتے ہیں)

۵۹۹۔ اَلدَّرَّ اِهْمُ اِرْقَا حُ تَيْسِيْلٍ۔ (دو پے تبتی ہوئی رو میں ہیں)

۶۰۰۔ مَنْ كَرِهِيَ اِرْقِيْطٌ يَنْتِفِعُ لِيَتِيْمَةٍ۔ (جو شخص گنگو سے

نرمی نہ رہتے گا وہ اپنی ہی داڑھی کے بال اکھاڑے گا۔

۶۰۱۔ لَا يَدْعِيْ لِحُلِيِّ اِلَّا اَخُوْهَا

(بڑے معاملے کے لئے اس کا ماہری بلایا جاتا ہے)

۶۰۲۔ اَوْعُ اِلَى طَعَانِكَ مَتَّ سَدُّ عُوْدِكَ اِلَى جَفَانِكَ

(اپنی نیزہ بازی کے لئے اسی کو بلاؤ جس کو اپنے پیالے پر دعوت

دیتے ہو)۔

۶۰۳۔ اِزْكِيْحِ الشَّرَّ لِيَجُوْدِ اَوْ هَمُوْدِ۔

(شر کو دفع کرو خواہ کڑی سے یا سہ سے کی اصلاح سے)

۶۰۴۔ اَدَّقْ مِنْ اَلْهَبَاءِ (خبار سے زیادہ باریک)

۶۰۵۔ اَدَّقْ مِنْ اَلْكُحْلِ۔ (سرم سے زیادہ باریک)

۶۰۶۔ اَدَّقْ مِنْ اَلدَّقِيْقِيْ (آٹے سے زیادہ باریک)

۶۰۷۔ اَدَّقْ مِنْ حَدِّ السِّيْفِ (تلمار کی دھار سے زیادہ باریک)

۶۰۸۔ ذَلَّ عَلَى عَاقِلٍ اِحْتَارُةٌ۔

(عقلندی کا انتخاب عقلندی کو ظاہر کر دیتا ہے)

۶۰۹۔ اَلدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِيْهِ۔

(بھلی جانے والا بھلی کرنے والے کی طرح ہے)

۶۱۰۔ ذَلِيْلٌ مَّقِيْلٌ الْمَرْءِ فِعْلُهُ وَذَلِيْلٌ عَلَيْهِ كَوَلُّهُ۔

(آدمی کی عقل کی دلیل اس کا عمل ہے اور اس کے علم کی دلیل اس

کا قول ہے)

۶۱۱۔ كَيْسٌ اَلدَّلُوْا اِلَى اَلرِّشَاءِ (ڈول رتی کے بغیر کھینچ

ڈول رتی کے بغیر بے کار ہوتا ہے)۔ اسی طرح آدمی کو قوت و بہت

اپنے رشتہ داروں ہی سے ہوتی ہے۔

۶۱۲۔ ذَمِيْتُ لِحَبِيْبِكَ قَبْلَ التَّوْبِ مَسْتَهْجَمًا

(بیت کر سونے سے پہلے اپنے پہلو کے بے پروا نرم کر لے کر توبہ

نرم کرنا مطلب یہ ہے کہ عادات کے نازل ہونے سے پہلے ہی تیار ہو

۶۱۳۔ دَمَحَتْ مِنْ عُوْدٍ اَدْمَغِيْمَةٍ بَارِدَةٌ

(اندھی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی بڑی قیمت ہے)۔

۶۱۴۔ اَدْنَاؤُ مِنْ الشَّيْءِ

(تسے سے زیادہ خیر، شے جو تے، چلپ، کاسرہ

۶۱۵۔ كَلَّ دَفِيْ دُوْنَنَا دَفِيْ

(ہر قریب سے دورے کوئی قریب سمجھو جاتا ہے) دَفِيْ

لطف و نشاط پر رشک کرنے لگے گا۔

۶۳۹۔ ذَكَرْتُ نِسِّيَ الْتَلْعَتِ وَكُنْتُ كَانِيَتًا

رتو نے مجھے نیزہ یاد دلایا حالانکہ میں بھولا ہوا تھا اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر حملہ کیا جس شخص پر حملہ کیا گیا تھا وہ وہمشت اور گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ کا نیزہ بھول گیا تھا حملہ کرنے والے دمکاتے ہوئے کہا کہ اپنے ہاتھ سے نیزہ پھینک دے اس دمک سے اس کو اپنا نیزہ یاد آگیا۔ اس نے یہ حملہ کیا اور اپنے حملہ آور کو اپنے نیزہ سے ہلاک کر دیا۔

۶۴۰۔ اذْكَرُ النِّعْمَةَ الَّتِي بَهَمَتْ عَلَيْكَ وَانْسِيَ النِّعْمَةَ

الْبَعْدِيَّةَ فَالَّتِي (اپنے اوپر پرانی نعمتوں کو یاد رکھو اور اپنے لئے نئی نعمتوں کو بھول جاؤ)۔ پرانی نعمتوں پر رشک کرو اور نئی آسائشوں کے لئے حریص و تنویر۔

۶۴۱۔ اذْكَرُ مَعَ سَعْيٍ نِعْمَةً ذَوَّاتَهَا

رہنمائی کے ساتھ اس کے زوال کو بھی یاد کرو۔

۶۴۲۔ اذْكَرُ غَايِبًا يَشْتَرِبُ

دغائب کا ذکر کرو قریب ہو جائے گا۔

۶۴۳۔ كُنْ ذَكَوْمًا اِذَا كُنْتَ كَسًا وَّجَا

بھی رکھ مشورہ ہے "دودغ کو راقظہ بنا شدہ۔"

۶۴۴۔ ذَلَّ مَنْ لَا سَيْفَ لَهُ

(جس کے پاس تلوار نہیں وہ ذلیل ہو گیا)

۶۴۵۔ لَعَنَ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الشَّالِبُ

وہ ذلیل ہو گیا جس پر لومڑیاں موت گئیں) ایک بڑی کسبت کو پوچھا تھا۔ ایک دن اس نے ایک لومڑی کو اس بت پریشاب کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے کہا،

اَرَبُّ يَبُولُ الشَّلْبَانَ يَبْرَأْسِمُ

لَعَنَ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الشَّالِبُ

رکھا وہ رب ہے جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں جس پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہو گیا ایسے ذلیل اور کمزور کے لئے کہتے ہیں جس کی کوئی امداد نہ کرے جیسے "اس پر کتے موت گئے سو"

۶۴۶۔ ذَلَّ لَوْ اِجِدْتُ نَاصِيَةً

(بڑی ذلت ہے اگر مجھے مددگار مل جائے یعنی اس مہم کے لئے مدد کی جستجو کو ذلت سمجھا ہوں۔)

۶۴۷۔ اَذَلُّ مِنْ بَيْضَةِ الْيَسْكَدِ

شتر مرغ کے چھوڑے ہوئے انٹے سے زیادہ ذلیل) بَيْضَةُ الْيَسْكَدِ۔ وہ انٹا جس کو شتر مرغ بیابان میں چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کی طرف رجوع نہیں کرتا؛ بلکہ اس سے مراد یہاں وہ رتیل جگہ ہے جہاں شتر مرغ انٹے دیتے ہیں یعنی کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔

۶۴۸۔ اَذَلُّ مِنَ النَّعْدِ

(حقیر بکری سے زیادہ ذلیل) نَعْدٌ؛ بکری کی ایک قسم ہے جس کے پاؤں چھوٹے اور چہرے بد صورت ہوتے ہیں جنس بکرین میں پائی جاتی ہے۔ اس کا واحد نَعْدَةٌ ہے۔

۶۴۹۔ اَذَلُّ مِنْ ذَوْبِي

زین سے زیادہ ذلیل) کیوں کہ زین کو ہمیشہ ٹھوکا پڑتا جاتا ہے

۶۵۰۔ اَذَلُّ مِنَ النَّعْدِ (جموتے سے زیادہ ذلیل)

۶۵۱۔ اَذَلُّ مِنَ السُّنْبِ (تسمے سے زیادہ ذلیل)

۶۵۲۔ اَذَلُّ مِنَ الْبَاسِطِ (فزش سے زیادہ ذلیل) کیونکہ

فزش ہمیشہ پاؤں میں روند جاتا ہے۔

۶۵۳۔ اَذَلُّ النَّاسِ مُمْتَدِّرُ الرِّجْلِ

(سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جو کہینے سے معذرت طلب کرے)

۶۵۴۔ اِنَّ الدَّيْلِيَّ الْكِنِيَّ لَيَسِيْتُ لَكَ عَصْدًا

(ذیل وہ ہے جس کا بازو نہ ہو (مددگار نہ ہو))

۶۵۵۔ اِنَّ الدَّيْلِيَّ مَنْ ذَلَّ فِي سُلْطَانِهِ

(در حقیقت ذیل وہ ہے جو اپنے اقتدار کی جگہ میں ذلیل ہو جائے۔)

۶۵۶۔ لَا ذَنْبَ لِي فَكُنْتُ فَعَوْرًا مَسْتَقِيمًا

(میرا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے قوم سے کدوٹا ہونے کو پانی لے لیا جب نصیحت نہ کی جائے تو مواضع سے برائے ظاہر کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔)

۶۵۷۔ مَا ذَنْبِي يَتَا اَمَّا اَوْ كَتَلْتُ لَوْ كَفْتُ نَفْعًا

(میرا کوئی قصور نہیں، تیرے ہاتھوں نے اس کا منہ بندھا ہے اور تیرے ہی منہ نے چھوٹک بھری ہے) اَوْ كَتَلْتُ رَأْسِي اسْتَقَارَ وَ

مَشْكِرًا كَامَنًا بَدْعًا، کہہ دو گوں نے ایک خلیج پاؤں کرنے کے لئے اپنے اپنے مشکیڑوں میں چھوٹک بھری۔ ایک شخص کی مشکیڑی چھوٹک بھری اور مشکیڑوں کا منہ ڈھیلا تھا۔ رات میں مشکیڑوں کی

ان لوگوں کے لئے کہتے ہیں جن کے سفر کے راستے قلف اور متضاد ہوں۔

۶۶۶ - ذَهَبًا أَوْ تَعَرَّضُوا أَيْنَ سَبَا أَوْ أَيْدِي سَبَا

(وہ اہل صبا کی طرح چلے گئے یا منتشر ہو گئے) یعنی ایسے منتشر ہوئے کہ پھر اجتماع ہی نہ ہوا۔ مثل قصہ طلب ہے۔ سببا کے باشندوں کو سیلابِ مرم سے ڈرایا گیا تو وہ مرم سے نکل گئے اور جس کا بدھرم نہ اٹھا چلا گیا۔ ایدی یا ایدوی سے مراد نفوس ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایدی کے معنی راستے ہیں یعنی ان کو راستوں نے ایسا متفرق کیا جیسے اہل صبا مختلف راستوں سے متفرق ہو گئے تھے۔

۶۶۷ - سَبَا هَبَّ الْعُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ -

(احسانِ خدا اور بندہ کے درمیان چلتا ہے) یہ مثالِ عطیہ کے شعر کا آخری مصرع ہے۔ مصرعِ اولیٰ یہ ہے،

۶۶۸ - وَمَنْ يَفْعَلِ الْعُرْفَ لَا يَبْنِي جَوَانِدًا (جو احسان کرتا ہے

اس کا احسان نہیں ملتا) لَمْ يَدَأْ هَبٌّ مِنْ مَّا لَكَ مَا وَعَظَكَ - (تیرے مال سے وہ حصہ مناع نہیں ہوا جس نے تیری خواہی کی)

۶۶۹ - إِذْ هَبَّ إِلَى حَيْثُ أَلْقَتْ رَحْلَهَا أَمْ قَشَعَمَ

(وہاں جا جہاں ام قشعم نے اپنا کجاوہ ڈالا تھا) ام قشعم ایک اونٹنی کا نام ہے جس کے اچا کجاوہ آگ میں پینک دیا تھا۔ اسی وقت سے یہ ضربِ المثل بن گئی۔

۶۷۰ - وَمَنْ لَمْ يَدَأْ عَنْ حَوْضِهِمْ يَتَّهَمُ -

(یعنی جو شخص اپنے مالاب کی مدافعت نہیں کرتا وہ منہدم ہو جاتا ہے یعنی جو شخص اپنے حقوق کا دفاع نہ کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اس کے حقوق مناع ہو جائیں گے۔

۶۷۱ - كُنْ ذَاتَ ذَيْلٍ تَخْتَالِ (ہر دامن والی ناز و اداسے طہتی

ہے) دولت مند اپنے مال و نعمت پر فخر و ناز کرتا ہے۔

۲۰

۶۷۲ - دَأَسِ الدِّينِ مِثْعَةَ الْيَعِينِ -

(اصل دین یقین کا صحیح ہونا ہے)

پھونک نکل گئی۔ ڈوبنے لگا تو ماتھا کہ دو کے لئے پکارا اس نے جواب میں یہ فقرہ کہا جو مثل بن گیا۔

۶۵۸ - ذَهَبَ أَمْسٍ بِمَارِئِنِه

(کل اپنے حالات کے ساتھ گزر چکی)

۶۵۹ - ذَهَبَ الْجِعَارُ يَطْلُبُ قَرْنَيْنِ قَعَادَ مَصْنُومِ -

الاذنين (گدھاسنگ لینے گیا تھا) کان کٹا کے لوٹا) اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو فائدے کے لالچ میں اپنا سراپا بھی کھڑ بیٹھے۔

۶۶۰ - ذَهَبَ دَمُهُ دَدَجَ الرِّيَّاحِ أَوَّادِجَ الرِّيَّاحِ

(اس کا خون ہما کے رستے گیا) یعنی رائے گاں کہ اس کے قصاص کا کوئی طلب گزار نہ ہوا اور اوج و دج یعنی ہما کی گذرگاہ۔

۶۶۱ - ذَهَبَ بَيْنَ الصَّخْوَةِ وَالتَّكْرَةِ -

(وہ ہوش اور مدہوشی کے درمیان گیا) یعنی ایسی حالت میں کہ کچھ شعور تھا اور کچھ نہ تھا۔

۶۶۲ - ذَهَبَ فِي السَّمْتِ (وہ فغا میں چلا گیا۔ سمتی۔ زمین و آسمان

کے درمیان کی فضا مراد ہے کہ بے کار ہو گیا۔ ہوا اڑاے گئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے۔ ذَهَبَتْ أَيْلَهُ السَّمْتِ اس کے اڑنے ہر طرف متفرق ہو گئے) جَدَى فَالَانَ السَّمْتِ (فلاں ایسے

کام میں گیا جس کو وہ نہیں جانتا)

۶۶۳ - ذَهَبَتْ حَيْفٌ لِأَذْيَانِهَا -

(گرم ہوا اپنی مادت کے مطابق چلی) جب آدمی اپنے حال میں مشول

ہو یا اپنی مادت کے مطابق کام کرے۔ حیف۔ وہ گرم جو بناتا

کو خشک کر دیتی ہے اور حیوانات کہ پیاس لگاتی ہے۔

لا دیا تھا۔ یعنی عبادتِ بقا ہر آدمی کے اپنے حال میں معرفت

ہونے کے وقت یا اپنی مادت کو لازم بیکر لے کے وقت بولتے

ہیں۔

۶۶۴ - إِنَّ ذَهَبَ عَيْرٌ قَعِيرٌ -

(ایک گورنر نکل گیا تو ایک تو جال میں موجود ہے) جو ہو گیا سو ہو

گیا اسی پر قناعت کرو۔ عیر۔ یہاں یعنی گورنر اور زباؤ

بہتی شکار کا حال ہے۔

۶۶۵ - ذَهَبُوا مَحْتِ كُنْ كَوَكَيْبِ - (ہر ستارہ کے نیچے گئے)

۶۶۳۔ حَلَّ رَأْسِي بِهٖ صَدَاحٌ

(ہر سر میں درد ہوتا ہے)۔ ہر سر میں کوئی سودا بھج

۶۶۴۔ رُبَّ رَأْسٍ حَصِيدٌ لَيَسَّاتِ

(بہت سے سر زبان کے کالے ہوتے ہیں۔) حَصِيدٌ یعنی
مقصود ہے۔

۶۶۵۔ كَانَتْ عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ

(گریبان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں) ساکن و مات
جیسے پرندوں کا شکاری۔ کلید پرندوں کی جماعت و اہل طائر

۶۶۶۔ رَأْسِي انْكَوَسَ طَهْرًا

(اس نے طہر کے وقت سارہ دیکھا) شربہ حالات کے موقع پر کہا
جاتا ہے: دن میں تارے نظر آنے لگے۔

۶۶۷۔ اِذَا رَأَيْتَ الرِّيحَ عَاصِفَةً فَتَطَامَنَنَّ

(جب آندھی سخت دیکھو تو پست مہجڑ) جب کوئی معاملہ
غائب آنا نظر آئے تو اس کی اطاعت کرو۔

۶۶۸۔ رَأَى الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ

(اس کو بر آنے جانے والے نے دیکھا ہے) سورج نکلا
سب نے دیکھا۔

۶۶۹۔ اُرِيَتْهَا السُّهْلِي تَوَيْتِي الْقَوْرَ

(میں اس کو سہا دکھا رہوں امدد ہے چاندی دکھا رہے) باریک
باتوں کو نہیں سمجھی "سوال آسان جواب رساں"

۶۷۰۔ يَدِّي الشَّاهِدُ مَا لَا يَرَوِي الْقَائِبُ

(حاضر وہ کہے دیکھ لیتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا)

۶۷۱۔ وَمَا تَرَانِي يَا جَبِيلُ اَرَاكَ

(جیل! جیسا تم مجھے جانتے ہو میں بھی تمہیں جانتا ہوں)

۶۷۲۔ سَوَفَ تَرَانِي اِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ اَفَدَسَ تَحْتَهُ اَوْجُهَانَا

(جب غبار مٹ جائیگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے نیچے گہرا
ہے یا گدھا۔ حقیقت کھل جائے گی اصل شعریوں ہے۔

سَوَفَ تَرَانِي اِذَا انْكَشَفَتِ الْغُبَارُ

افدس تحت رجبك امير حصار

۶۷۳۔ اَرِيَتْهَا النَّعْرَةَ اَرِيَتْهَا مَطَاةً رُؤْيِي وَكَمَا كَدَّهٖ جَنْبَرًا

(ہے تمہیں مجھے دکھاؤں گا کہ وہ برس رہا ہے) اہل بنی سہم

کی طرف مراجعہ ہے۔ سَمَاءٌ بَرْدٌ كِي طَرَحَ جَنْبَرًا اَوْ رَدَلًا وَاوَدَّ
مَادَلَّ۔ ایسی چیز کے لئے کہا جاتا ہے جس کے آثار و علامات ظاہر
ہونے سے اس کا وقوع یقینی ہو جائے۔

۶۷۴۔ رَأْسِي شَيْخٌ خَيْرٌ مِنْ مَسْتَهْدٍ مَلَاوِدٍ

(ہولہ سے کی رائے) (وہ کی موجودگی سے بہتر ہے)

۶۷۵۔ لَا رَأْسِي لِيَمَنْ لَا يَطَاعُ

(اس شخص کی کوئی رائے نہیں
جس کی اطاعت نہ کی جائے) "حضرت علیؑ نے اپنے ساتھیوں
پر خطاب کرتے ہوئے ایک خطبہ میں فرمایا تھا"

۶۷۶۔ اِنَّ الرَّأْيَ لَيَسُّ بِالْمَطْعِي رَأْيِي مَعْنَى كَمَا نَبِيَّ

نہیں ہوتی) حال کی ترغیب کے لئے بولا جاتا ہے۔

۶۷۷۔ رُبُّكَ وَمَا جِيءَكَ لَكَ نَكْبٌ بِفَيْئِهِمَا

(اپنے آقا اور دوست پر نبوت نہ لگاؤ)

۶۷۸۔ كَا لَمْ يَبُوطِ قَالِ الْمَوْحِي خَصِيْبٌ

(بندھا ہوا اور چراگاہ سرسبز) موقع سے بہت امداد مہربان مائل۔

۶۷۹۔ اِنَّ الْكُرْبِيَّةَ تَفْتَأُ وَالْغَضَبَ

(دوسو فتنہ کو لٹا کر دیتا ہے) تَرْشِي دُودِ جِسْمِي مِي مِي
ملا یا ہما ہو۔ وہی بلا لگتی۔ تَفْتَأُ دُودٌ مَعْنَى سَاكِنٌ كُوْنِي مَبْرُكًا اِلَيْهِ

شخص کا مہمان ہوا جس سے ناراض تھا اس کی توافقی دود و
لگتی پھالی گئی تو اس کا خستہ فر ہو گیا۔

۶۸۰۔ رَجِعْ بِعَفْوِي حَتِيْنِي

(وہ حنین کے موزے لیکر لوٹا) ناکام واپسی کے موقع پر کہا جاتا ہے
ایک اعرابی نے مشہور مہاجر حنین سے مزدوں کا مطالبہ کیا۔ سواذ بنا

تو اراہی کہ درپ مینے کے لئے اس نے یہ مہاجر کا کوئی موزہ
کھدقا سے اراہی کے راستے میں ڈال دیا۔ اراہی ایک

موزے کے پاس سے گذرا تو سچا کہہ حنین کے موزوں جیسا
خوبصورت موزہ ہے، دوسرا بھی ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، چھوڑ

کر چل دیا۔ کچھ دوسرے کو دوسرا موزہ دیکھا اپنی سواری
اور سامان چھوڑ کر سچا موزہ لینے کے لئے واپس ہوا اور

حنین اس کی سواری اور سامان لے کر چلتا جا۔ اراہی گھر
پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ سفر سے کیا لایا تو اس نے جواب دیا

کہ "حنین کے دو موزے"

۶۹۱۔ حَتَّىٰ يَرْجِعَ الدَّارِيَّ الطَّرِيعَ۔

(یہاں تک کہ دودھ قھنڈوں میں لوٹ جائے) مجال چیر کے لئے لڑتے ہیں
۶۹۲۔ حَتَّىٰ يَرْجِعَ السَّخْمُ عَلَىٰ قَوْعِهِمْ (یہاں تک کہ تیر اپنے فوق
چلے) پر لوٹ جائے کہا جاتا ہے کہ نَا أَفْعَلُ ذَاكَ عَشِيٌّ يَرْجِعُ السَّخْمُ
عَلَىٰ قَوْعِهِ۔ یعنی میں اس کام کو ہرگز نہ کروں گا۔ قَوْعٌ: تمانت
کا وہ حصہ جو چلتے پر رکھا جاتا ہے۔ ناکھن چیر کے لئے لڑتے
ہیں۔

۶۹۳۔ أَلْتَجَالُ أَرْبَعَةٌ (آمدنی چار ہی قسم کے ہیں)

۱۔ عالم جو جانتا ہے اور جاننے والے کا علم رکھتا ہے۔ یہ قابل اتباع
ہے۔ ۲۔ عالم بے خبر جو علم رکھتا ہے مگر اپنے علم سے بے خبر ہے
یہ ہیدار سونے کا مستحق ہے۔ ۳۔ عالم جو علم نہیں رکھتا مگر
اپنی بے علمی کو سمجھتا ہے۔ یہ طالب اور مستحق ہدایت ہے۔ ۴۔
بے علم و بے خبر جو علم نہیں رکھتا اور اپنی بے علمی سے بھی بیخبر
ہے۔ یہ جاہل اور قابل ترک ہے۔

۶۹۴۔ هَلْ يَزِيغُ مَطْرٌ مِنْ غَيْرِ سَحَابٍ

(کیا بادلوں کے بغیر بارش کی امید کی جا سکتی ہے؟)

۶۹۵۔ لَا تَرْجِعْ خَيْرٌ مِنْ لَّا يَرْجِعُ خَيْرٌ

(ایسے شخص سے خیر کی امید نہ کرو جو تیری خیر کی امید نہیں رکھتا)

۶۹۶۔ رَحْلٌ يَعْلَمُ غَارَهُ مَا مَجْهُوٌّ وَحَا۔

(کہا وہ بھی زخمی کران کو ہی جانتا ہے) گاریب دکران کا بالائی حصہ۔

۶۹۷۔ اِرْحَمْنَا مِنْ دُونِكَ يَرْحَمُكَ مِنْ قَوْلِكَ

(اپنے سے نیچے پر ہم کو نہ کہ تم سے اوپر دوسلے تم پر ہم کریں۔)

۶۹۸۔ اِرْحَمْنَا مِنَ الْقَمَرِ بِالْبَصْرِ

(بھروسے کھمدے زیادہ سجا۔)

۶۹۹۔ اِرْحَمْنَا مِنْ سَرَابٍ (مٹی سے بھی زیادہ سستا)

۷۰۰۔ رَدُّ الْعَجْرَمِينَ حَيْثُ جَاءَكَ

(پتھر جہاں سے آیا وہیں لوٹا دو) پتھر کا جواب پتھر

۷۰۱۔ مَنْ يَرُدُّ السَّيْلَ عَلَىٰ آذَانِهِ

(سیلاب کو اس کے بالائی راستوں کی طرف کن روٹا)

(کتاہے؟)

۷۰۲۔ آذَانُ الْجِبِّ السَّيْلِ۔ (بھنڈی سے آتی ہوتی سیلاب کی گزرگاہی)

ناکھن بات کے لئے کہا جاتا ہے۔

۷۰۳۔ يَتَسَنَّ اللَّيْذُ لَا يَبْعَدُ نَعْمَ رَأَىٰ كَيْفَ بَدَّ نَعْمَ بَدَّ

(برتا بچ ہے) اسی جیسا ایک شعر ہے۔

يَتَسَنَّ كَوَلِ نَعْمَ مِثْلَ بَعْدِ ۱ ۲ وَ كَيْفَ قَوْلِ لَا يَبْعَدُ نَعْمَ

(نہیں کے بعد اں اچھی بات ہے اور اں کے بعد نہیں بڑی بڑی
بات ہے)۔

۷۰۴۔ إِذَا رَدَّكَ اللَّهُ مَحْسَبَةً فَلَا تُحِبُّ يَكَ

(جب اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو تو اپنا ماتم مت جلا۔)

۷۰۵۔ رِزْقُ اللَّهِ لَا كَدُّكَ

(اللہ کا دیا رزق ہے تیری محنت نہیں) صرف محنت سے نہیں

محنت کے ساتھ عطا مالتی سے رزق ملتا ہے۔ احسان جتانے

والے کے جواب میں بھی کہا جاتا ہے۔

۷۰۶۔ رَزْمَةٌ وَ لَادَةٌ (ادب کی آواز ہے مگر دودھ نہیں)

رَزْمَةٌ: ادب کی وہ آواز جو بچے کو دودھ پلانے کے وقت

نکالتی ہے، وَ لَادَةٌ: دودھ کی کثرت۔ اس شخص کے لئے

بہتر ہے جو دودھ کرے مگر وفات کرے "ڈھول کے پل"۔

۷۰۷۔ أَرْسِلْ حَكِيمًا وَلَا تُؤْصِمَ

(عقل مند کو قاصد بناؤ اور اس کو وصیت نہ کرو) یہ حضرت زبیرؓ

کے شعر کا آخری مصرع ہے۔ پورا شعر یہ ہے۔

إِذَا كُنْتُ كَأَجْتِ مَرْسَلًا

فَأَرْسِلْ حَكِيمًا وَلَا تُؤْصِمَ

(اپنی ضرورت کے لئے عقل مند کو قاصد بناؤ، اس کو وصیت
کی ضرورت نہیں)۔

۷۰۸۔ لَا تَسْأَلُ كَالِدًا رَحِيمًا (روپیہ جیسا کوئی قاصد نہیں)

۷۰۹۔ اَلرَّشْفُ الْفَجْ

(تھوڑا تھوڑا پانی زیادہ سیراب
کرتا ہے) آہنگی اور وقار اختیار کرنے کی ترقیب کے لئے
کہتے ہیں۔

۷۱۰۔ رَغِيْبٌ مِنَ الْغَيْبِ مَا لِيَابِ (میں واپس لوٹ آنے کی

غیبت پر راضی ہوں) لَابِ: واپس لوٹنا۔ جان بچی سو

ناکھوں پائے، غیر سے بدھو گھر کر آئے

۱۱۔ رَغِيْبٌ مِّنَ الْوَقَائِدِ بِاللَّغْوِ۔

میں تھوڑی سی دفاہی راضی ہوں (لغواً)۔ تھیل چیز۔
۱۲۔ هَتَّ رَفِيْعًا مِّنْ نَّفْسِهِ كَذَلِكَ خَاطِبَتٌ يُكَلِّمُ۔

جو اپنے نفس سے ماضی ہو گیا اس نے اپنے پر نار نہ ہونے والے
زیادہ کر لئے تھا اپنی کوتاہی پر نظر نہ ہی چاہیے۔

۱۳۔ اِقَاتَرَتْ صَيْتًا اَخَاكَ فَلَا اَخَا لَكَ۔ (جب گونے
نعت سے اپنے بھائی کو راضی کیا تو گویا وہ تیرا بھائی ہی نہیں)
ترقی کر شش و شفت کے ساتھ ماضی کرنا۔ وہ بھائی کیا
جس کو راضی کرنے کے لئے وقتیں اٹھانی پڑیں۔

۱۴۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عِجَابٌ لَّا يَسْتَدْرِكُ (لوگوں کی رضامندی ایسا
مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا) اس لئے اپنی اصلاح کر کے
اند لوگوں کی طرف توجہ نہ دے۔

۱۵۔ لَا تَكُنْ رَغِيْبًا فَتُعْزَرَ وَلَا يَأْتِيَا فَتُكْسَرُ۔

(نہ انا تڑپھا کہ تجھے چھڑی اور نہ اتنا خشک کہ تجھے تڑپوں)

۱۶۔ مَن اسْتَوَى الذَّيْبَ ظَلَمَ۔ (جس نے بھیرے کو
چروا بنا یا اس نے ظلم کیا) یعنی اس نے بکیر پر ظلم کیا۔

۱۷۔ مَزْعَى وَلَا اَكُوْلَهُ۔ (چراگاہ موجود ہے مگر
کھانے والی بکری موجود نہیں) اکولہ۔ وہ بکری جو کھانے کے

لئے ملوہ کر لی جاتی ہے اور جس کو خوب ترہ کیا جاتا ہے ایسے

الدار کے لئے ہرلا جاتا ہے جس کا مال کھانے والا کوئی نہ ہو۔

۱۸۔ حَتَّى الرَّغْوِ الْمَسْرُوعِ۔ (جھاگ کے نیچے خاص
دودھ موجود ہے) ایسی چیز کے لئے بلاتے ہیں جس کی حقیقت

پر مشیدہ ہونے کے بعد ظاہر ہو۔

۱۹۔ مِّنَ الرَّغِيْبِ اِلَى الْعَزِيْزِ۔

(بیچکے کام سے سخت کے اوپر) بیچکے کا کام کرتا تھا۔ اب

تخت شاہی پر بیچ گیا ہے۔ رَغِيْبٌ۔ بیچکے

۲۰۔ تَزَوُّنٌ عِيْدٌ الْمُعْظَمَاتُ اَلِكِتَابُ۔

(بیرت) بگیرز موقوفوں پر کیسے مشفق ہوتا ہے (تَزَوُّنٌ
یعنی تَشَفُّقٌ۔ مُعْظَمَاتُ۔ غیرت کو جوش دلانے والی باتیں

گناہیں و غنیاں۔ اپنی پر ظلم یا مصیبت دیکھ کر بگیر

جوش میں آتی ہے اور لوگ پرانے کہنے کو بھول کر مد

کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

۲۱۔ اَرْقُ مِّنَ السَّمَاءِ۔ (آسمان سے زیادہ بلند)

۲۲۔ الرَّفِيْعُ قَبْلَ الطَّرِيْقِ۔ (راستے سے پہلے ساتھی
ناموافق ساتھی سفر میں خصوصاً مصیبت کا سبب ہوتا ہے

۲۳۔ بِالْوَقَائِدِ وَالْبَيْتِ۔

(مراقت اور بہتوں کے ساتھ)۔ شادی کرنے والے کے لئے

دعا ہے۔ رَفَادٌ یعنی مراقت و مناسبت رَفَاتُ الْكُرْبِ

پھٹے ہوئے کر زور کرنا۔

۲۴۔ اَرْقُ مِّنَ اللَّيْمِ۔ (راہولیم سے زیادہ لطیف)

۲۵۔ اَرْقُ مِّنَ السَّيْرِ۔ (پانی سے زیادہ تھلا)

۲۶۔ اَرْقُ مِّنَ رَفْوِاقِ الشَّرَابِ۔

(شراب کی چمک سے زیادہ لطیف)۔

۲۷۔ اَرْقُ مِّنَ الدَّامِغِ الْعَنَابِ۔ (ابر کے آنسوؤں سے زیادہ تھلا)

۲۸۔ اَرْقُبِ الْبَيْتِ مِمَّا التَّرَاقِيْبِ۔

(گھر کی حالت اس کے محافظ سے بھرا کسی نے گھر کی

حفاظت کے لئے اپنے غلام کو چھوڑ دیا۔ غلام سامان بیکر

چلتا جاتا اس نے یہ جملہ کہا تھا۔

۲۹۔ كَالَّذِي قَبِلَ مِنَ السَّيْرِ۔

(پانی پر کھنے والے کی طرح ہے) وقار اور نایداد۔

۳۰۔ اَرْقُ مِّنَ ظَلْمِيْعَةٍ۔ (اپنے گلوے ہی کا خیال رکھو
کر پودوں سے)۔ اَرْقُ مِّنَ ظَلْمِيْعَةٍ۔ (اپنے گلوے ہی کا خیال رکھو

سے چالیس فیصد سبکی اختیار کی۔ اَرْقُ مِّنَ ظَلْمِيْعَةٍ

کی اصل یہ ہے کہ کالی کدو ظلمیعتے یعنی اپنی حد سے تجاوز نہ

کر اور اپنی مایوسی و مہربانی پیش نظر رکھو۔

۳۱۔ رَكِبَتْ حَتَّى اَلتَّعَامِ الْمَوَدَّهِ شَرِيْرٌ لِّكَ اَلْوَدُوْدُ۔

(سزا ہو گیا) تیرا رفتاری کی مشیورہ "پہر گناہے"

۳۲۔ يٰۤاَيُّهَا الْمَعْظَمَاتُ مَنَ اَلَّذِيْنَ لَهٗ۔

(سرکش پر وہ سوار ہو جس کے پاس سدھایا ہوا نہ ہوا) آسانی

سے مقصد حاصل ہو تو سخت رویہ کیوں اختیار کرے۔

۳۳۔ مَن لَّمْ يَذْكَبْ اَلْاَهْوَالِ لَمْ يَسْبِلْ اَلْاَمَالَ۔

(جو بولناک اسٹیپا پر سوار نہ ہو گا وہ امید ہی حاصل

جس کو دانا تاجر پر مشکل ہو۔

۴۴۔ قَبْلَ التَّرْتِي يَوْمَ اشْرِ السَّهْمِ۔

(تیر چھیننے سے پہلے اس کو پر لگایا جاتا ہے۔ پُر اشْر یعنی

تیر کے پر لگائے گئے انھیں معنی میں کہا جاتا ہے قَبْلَ التَّرْمَا

۴۵۔ تَمْلَاؤُا لَدُنَّا مَيْتٌ۔ (تیر اندازی سے پہلے ترکش

بھولے جاتے ہیں۔

۴۶۔ مَا كَلَّ رَأْيِي عَدُوِّنِي يُصِيبُ۔

(پر نشانہ باز نشانہ پر نہیں مار سکتا، غرض رپوت) وہ بھیر جس کو

نشانہ بنایا جائے۔

۴۷۔ قَبْلَ التَّرْمَاؤُ تَمْلَاؤُا لَدُنَّا مَيْتٌ۔

(تیر اندازی سے پہلے ہی ترکش بھرا جاتا ہے) رَاكَاؤُا رَاكَاؤُا

مصدر ہے۔ باب مفاعلة كَانُوا يُتَرَكُّونَ تیر رکھنے کے تھیلے یعنی

کام کرنے سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔

۴۸۔ رَبِّ رَقِيَّةٍ مَيْتٌ عَائِدٌ رَامِنٌ۔

(کبھی تیر اندازی وہ بھی کر لیتا ہے جو تیر اندازی نہیں جانتا،

یعنی کبھی انارٹی کا تیر بھی نشانہ پر لگ جاتا ہے۔ اسی کے ہم معنی

مثل گذر چکی ہے۔ مَعَ الْخَوَاطِطِ مَسْهُمٌ صَائِبٌ۔

۴۹۔ عِنْدَ الْيَهَانَ تَعْرِفُ السُّوَابِقِ۔ (گھوڑو دوڑ کے وقت

آگے نکلنے والے گھوڑے پہچانے جاتے ہیں) یعنی آزمائش

شرط ہے اور ایسے موقع پر بھی کہا جاتا ہے جب ایسی چیز کا

دعوای کیا جائے جس کے کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔

۵۰۔ اِسْتَدْرَأَمَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهَا (جس کو عقل نہیں اس نے

راحت پائی، غم اور فکر عقل کے ساتھ ہیں۔

۵۱۔ التَّرَائِدُ لَا يَكْنُبُ أَهْلَهُ

(پیش رو جیسا سوس اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں کتا، رائد،

وہ شخص جو قافلے سے آگے گھاس دپانی کی تلاش کے لئے

جاتا ہے اگر وہ جھوٹ بولے گا تو لوگوں کے ساتھ خود بھی

ٹھاک ہو جائے گا۔

۵۲۔ اَرُوغٌ مِيْنُ ثَعَالِبَةٍ۔

(رولڑی سے زیادہ چال باز)

۵۳۔ اَلْاَعْرَمِيْنُ ثَعْلِبٌ۔ (رولڑی سے زیادہ مگام

نہ کر سکے گا) بصیبت کے بغیر راحت نہیں ملتی۔

۴۳۔ كَوَاكِبِ اِسْتَيْشِي۔ (دو ساریوں کا سوار) جو شخص دو

کاموں میں مترقو ہو۔

۴۵۔ رَقِي اَلْاَمْرَ هَلِي عَوَا هِنِيْم (اس نے کلام کو کھجور

کی نیوں پر دسے مارا) عَوَا هِنِيْم مَجْعَا مَيْتِي كَهْجُوْر كِي مَهْ

شائیں جو خشک ہو چکی ہوں۔ مراد یہ ہے کہ بے پروائی

اور بے ذہنگی سے بات کی۔

۴۶۔ وَرَمَاؤُا اَللّٰهُ يَلِيْكِيَا لَا اُسْتُ كَهَا (اللہ تعالیٰ اس پر ایسی

رات لائے جس کی میں کوئی دوسری رات نہ ہو) بدوعلی ہے

یعنی دوسری رات سے پہلے موت آجائے۔

۴۷۔ رَمَاؤُا اَللّٰهُ مِنْ كَلِي اَكْمِيَّةٍ يَجْعُو (اللہ تعالیٰ اس کو ہر

ٹیلے سے پھر مارے (چاروں طرف سے پتھر برسے)

۴۸۔ رَمَاؤُا بِاَحْتَاكِي تَمَاؤُا۔ (اس کے سر کی کھوپڑی

پر مارا، حَفْتُ: دماغ کے اوپر کی بڑی کانام ہے کھوپڑی

کھوپڑی تُوْر، یعنی ہالت یا قریب بہ ہالت۔ احقاف:

لفظ جمع لانے کا مقصد بالقہ ہے یعنی پے درپے۔ رَمَاؤُا:

يَعْتَفُ رَاؤُا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ۔

۴۹۔ رَمَاؤُا اَللّٰهُ يَشَا لِيَشِي الْاَرَكَافِي۔

(اللہ تعالیٰ اس کو چھلے کے میرے پتھر کے ساتھ مارے) اثارفا۔

پھاڑی کا گھرو یا چوٹے کے میں پتھر۔ مراد یہ ہے کہ چوٹے کا

تیسرا پتھر بھی مار دیا اور معاہدہ اتھا کر پہنچ گیا۔

۵۰۔ رَمَاؤُا اَللّٰهُ يَدَا لِيَشِي ثَيْبٌ۔ (اللہ تعالیٰ اس کو بھیرٹیلے

کے مرض میں مبتلا کرے) بھیرٹیلے کا مرض بھوک ہے۔ خدا کے

اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔

۵۱۔ رَمَاؤُا يَنْبِيْلِي الْقَصَائِبِ۔ (اس کو اپنے نشانے پر لگنے

والے تیر سے مارا) مَسْكُتٌ اور مِنْ تُوْر طَهْرَابِ دِيَا۔

۵۲۔ وَرَمَسْتِي يَدَا اِيْمَاؤُا اَنْسَلْتُ۔

(انچا بیماری میری طرف منسوب کر دی اور کھسک گئی) اچا

بیب دوسرے کو گایا۔ نَاؤُا بِالْتَرَادِ۔ کسی بیماری کا مہب

گاتا۔ اِنْسَلَّالٌ: چپکے سے کھسک جانا۔

۵۳۔ لَا تَزِمِ سَهْمًا لِيَعْسُرَ قَلْبِكَ زِدَّةً۔ (وہ تیر مت چینیگ

۶۱۔ اِذَا ارَادَ اللهُ هَلَاكَ كَمَلَتْهُ اَنْبَتٌ لَهَا
جَنتَا حَيَاتِهِ (جب چوبیسویں کی موت آتی ہے تو اس کے
پہ نکل آتے ہیں)۔

۶۲۔ مَنْ تَمَّ يَرْذُكَ فَلَا شُؤْدَةَ

(جو شخص تیرا ارادہ نہ کرے تو اس کا ارادہ نہ کر)

۶۳۔ كَمَا تَبَيَّنَ مُرْسِدُهُ وَ مَوَادُّهُ

(ارادہ اور مدار میں بڑا ناقص ہے) بسا اوقات ارادہ
کرنے والا مراد سے محروم رہ جاتا ہے۔

ز

۶۴۔ حَبَلُ الْمَرْجِ وَ مَدَامُ السِّيَابِ

(اس لے رُوحِ کراتی کے سامنے لگایا جاتا ہے اس کا بگڑ
انی کے پھیلنے ہے۔ رُوحِ اوہ پتھر جو نیرس کے نیچے والے
حصے میں لگائی جاتی ہے سبباً۔ نیزے کا سر (آئی)
اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو ادنیٰ کو اعلیٰ پر توجہ
دے دے۔

۶۵۔ اِنْ تَمَّ تَزَاوُجُ لَمَيِّعَةٍ فِي الْخُرُوجِ شَيْئًا

(اگر ترمز امت نہ کرتا تو زمین میں کوئی چیز نہ پڑتی)۔

۶۶۔ مَنْ يَلْبَسُ الشُّرُوكَ لَا يَخْصُدُ يَوْمَ اِيْتَانَا

(جو کانسے بڑے گا اس سے انگریز نہیں کٹے گا) اگر
توڑنے کے لئے کُطِفَ الْعَيْبُ بَرَلْتِهِ مِنْ جَفْتِهِ
نہیں بولتے۔

۶۷۔ كَمَا كَذَّبَتْ كُفْرُهُ

(جیسا بڑے گا ویسا کالے گا)

۶۸۔ هُوَ اَرْزَقُ الْعَيْنِ

(وہ نیلگوں آنکھوں والا ہے) دشمن کے لئے کہا جاتا ہے
اور اسی مقصد کے لئے هُوَ اَسْوَدُ الْكَلْبِ (وہ سیاہ
بگڑ ہے) هُمْ صُنُوفُ السَّبَابِقِ (وہ سُرُخ
موتھوں والے ہیں) میں بولا جاتا ہے جیسے کہنی آنکھوں
والا۔ سیاہ قلب وغیرہ۔

۶۹۔ يَكُونُ زَعِيمٌ مَقْتُومٌ (ہر گمان کے لئے کوئی مقابل)۔

۶۵۳۔ اَرُوْنَا نَا يَا كَعَالٌ وَ كَمَا مَلَقْتِ بِالْجَبَالِ

(کیا اب بھی حیلہ بازی کرے گی اسے لڑائی میں جب کہ تو مال میں
بیمس جکی ہے) اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس پر حق
واتباب ہر چکا ہو مگر پھر بھی وہ حیلہ بازی کرے۔

۶۵۴۔ اَرُوْنَا مِنْ حَيَاتِهِ

(سناپ سے زیادہ سیراب) سناپ کر پانی کی طلب نہیں ہوتی

۶۵۵۔ اَرُوْنَا مِنْ صَنْبٍ (گرم سے زیادہ سیراب)

گرہ بالکل پانی نہیں ہوتی۔ ہوا کی نمی سے پانی بجھ لیتی ہے

کسی نامکن چیز کے بارے میں کہتے ہیں عسفی یُرُوْنَا الْعَنْبَ

(یہ نہیں ہو سکتا۔ عسفی گرہ پانی پئے)۔

۶۵۶۔ اَلْزَاوِيَةُ اَحَدًا لَشَا يَتَمَيَّنُو

(نقل کرنے والی دو گالی دینے والوں میں سے ایک ہے) اسی

طرح یہ قول ہے سَبَدٌ مِّنْ بَلْفَتٍ (جس نے تہہ کر پہچانی

اس نے تہہ کر گالی دی ہے)۔

۶۵۷۔ رَبُّ نَيْبٍ يُعَقِّبُ مَوْتًا

(بسا اوقات دیر کرتا قوت ہونے کا نتیجہ دیتا ہے) یعنی تاخیر

ناکامی کا سبب ہوتی ہے ریثہ۔ دیر کرنا۔

۶۵۸۔ اِنْ كُنْتَ رِيحًا فَقَدْ لَاقَيْتَ اَعْصَارًا (اگر تو ہوا تھو تو

گرجے سے لگے گا) اَعْصَارٌ: گرد باد۔ بگڑا۔ سیر کو سوا سیر

لگ گیا۔

۶۵۹۔ اِنْ اَرَدْتَ الْمَعَا جَزَةَ فَتَعَبِلِ الْمَتَا جَزَةَ

(اگر آڑ لینا چاہتا ہے تو لڑائی یا قاتل ہونے سے پہلے کجا بڑے

ممانعت ہے کہ ہر شخص اپنے مقابل سے رکتے اور پہننے کی

کوشش کرے۔ مَتَا جَزَةٌ: لڑائی۔ بگڑا۔ یعنی فنا سے

ماخوذ ہے۔ لڑائی میں ہر طرف دوسرے کو ٹا کر کے کی کوشش

کرتا ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی سے پہچا چاہو

تو بھڑ بھڑ ہونے سے پہچا اور لڑائی کے بعد صلح طلب

کرنے والے کے لئے بھی کہتے ہیں۔

۶۶۰۔ اَرِيْدُ جِيَا قًا وَيُرِيْدُ قَسْبِي

(میں اس کو طلب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اور وہ میرے

نقل کا ارادہ کرتا ہے) جِيَا قًا: عطا و بخشش۔

ہے دایا دعویٰ کرتا ہے جس کو چھل کہا جاسکتا ہے۔

۶۶۰۔ ذَقْنَا ذِيقَ الْحَمَامَةِ فَرَحْنَا۔

(اس کو چکا دیا جیسے کبوتری اپنے بچے کو چوکا دیتی ہے، کسی کو کوتاہی کے بغیر محبت و شفقت سے پرورش کی۔

۶۶۱۔ إِذَا آدَلَّ الْعَالِمُ ذَلَّ بِذَلِكَ عَالِمٌ۔

(جب عالم بھل جائے تو اس کے پھیلنے کی وجہ سے ایک جہان بھل جاتا ہے۔)

۶۶۲۔ وَذَلِكَ الرَّأْيُ تَنْسِي ذَلَّةَ الْقَدَمِ۔

(رانے کا پھلنا قدم کے پھیلنے کو بھلا دیتا ہے، رانے کی غرض ٹھوکر گرنے سے زیادہ سمجھتا ہوتا ہے۔

۶۶۳۔ يَكُلُّ رَمَانَ رِيحَالٍ (ہر زمانہ کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں،

۶۶۴۔ هُمَا زَنْدَانٌ فِي وَعَاظِهِ۔ (وہ دونوں ایک ہی برتن میں آگ سلگانے والے ہیں، ایک تھیل کے چمچے بچے۔

۶۶۵۔ أَزْهَى مِنْ غُرَابٍ (کوے سے زیادہ متکبر،

۶۶۶۔ أَزْهَى مِنْ وَعْظٍ (پھاڑی بکے سے زیادہ متکبر،

۶۶۷۔ أَزْهَى مِنْ طَاوُوسٍ (طاؤس سے زیادہ حکیم، اتراتا ہے،

۶۶۸۔ زُرْجَانًا قَرْدًا حَبَابًا۔

(ایک دن چھوڑ کر زیارت کرنا کہ محبت زیادہ ہو، روز کا آنا جانا قدر کھودیتا ہے۔ غیب۔ ایک ن کام کرنا اور ایک ن چھوڑ دینا۔

۶۶۹۔ الرَّبِّيْتُ فِي الْعَجِينِ لَا يُغْنِيهِ۔

(رہن آٹے میں ضائع نہیں ہوتا، گھی کہاں گیا کچھڑی میں۔

(خشتہ فاصل کے ساتھ احسان کرنے والے کے لیے بولتے ہیں۔

۶۷۰۔ زَادَ فِي الظُّبُونِ نَفْسَةٌ۔

(اس نے ظنور میں ایک نغمے کا اضافہ کر دیا،

۶۷۱۔ زَيْتٌ فِي عَيْنٍ لَا يَبْرُدُ دُمًّا۔

(باب کی نظر میں بیٹا خوب صورت ہوتا ہے۔)

کیا جاتا ہے تو مال دیتا ہے۔

۶۸۳۔ كَسَانِي أُمَّ الْخِيَارِ جَمَلًا، يَسْتَيْسِي زَوْجِي أَوْ يَكُونُ آدَلًا

(ام خیار مجھ سے ایسا اونٹ مانگتی ہے جو آہستہ چلے اور اول آئے، وغوار چیز مانگتی ہے۔

۶۸۴۔ سَائِلُ اللَّهِ لَا يَخِيْبُ۔ (خدا سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا،

۶۸۵۔ نَسَبَكَ مَنْ بَلَغَكَ السَّبَّ۔

(اسی نے تمہیں گالی دی جس نے تمہارے پاس گالی پہنچائی،

۶۸۶۔ سُبَيْتِي وَأَصْدُقْ (مجھے گالی دو مگر سچ کہو،

۶۸۷۔ مَالُهُ نَسَبٌ وَلَا كَيْدٌ (نہ اس کے مال میں نہ اون،

سَبَبٌ (ہال، لَبَدٌ (داون، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔

۶۸۸۔ سَبَقَ سَيْلُهُ مَطَرًا۔ (اس کا سیلاب اس کی بارش

سے بھی پہلے آگیا، نفع سے پہلے نقصان ہو گیا۔

۶۸۹۔ سَبَقَ السَّبْفُ الْعَدْلَ۔

(ظوار ملامت سے سبقت لے گئی، فہرہ ابن اڈنے اپنے لڑکے کے

قاتل کو حرم میں قتل کر دیا۔ کھپھی نے ملامت کی تو اس نے یہ جملہ کہا۔

۶۹۰۔ سَبَقَتْ ذَرَّةٌ غَيْرًا سَامًا۔

(اس کے زیادہ دودھ سے کم دودھ سابق ہو گیا، ذرّۃ دودھ

کی کثرت۔ غوامس۔ دودھ کی قلت۔ مخرخیر سے پہلے آگیا۔

اور احسان سے پہلے ہی بدی کی۔

۶۹۱۔ مَنْ سَرَّاقِ النَّهْرِ عَثْرًا۔

(جو زمانہ سے آگے بڑھے گا وہ پھل پڑے گا،

۶۹۲۔ مَا اسْتَعْرَضَ مَنْ قَادَ الْجَمَلِ۔

(جو اونٹ کو کھینچ کر لے جائیگا، وہ چھپا نہیں رہے گا۔

۶۹۳۔ سَخَابَةُ مَسِيْفٍ عَنْ قَلْبِي تَقَشَعُ۔

(گرمی کی بدل جلد ہی چھٹ جاتی ہے، بھادوں کی بادش زیادہ دیر نہیں

ظہری تقشع دراصل تقشع ہے بمعنی معکشت ہونا۔ چھٹ جانا۔

۶۹۴۔ لَمَّا اسْتَدَّ سَاعِدُكَ رَمَانِي۔

(جب اس کی کلائی درست ہوگئی تو اس نے مجھے ہی تیر مارا، پورا شعر یہ ہے،

أَعْلَمَةُ الرِّمَانِيَةِ كُلِّ يَوْمٍ فَلَمَّا اسْتَدَّ سَاعِدُكَ رَمَانِي

(میں اس کو ہر روز تیر اندازی سکھاتا۔ مگر جب اس کی کلائی

درست ہوگئی تو اس نے میرے ہی تیر مارا،

(۶۰)
س

۶۸۲۔ إِنْ سَأَلَ النُّحْفَ وَارْتَسَيْتَ سَوْفًا۔

(اگر وہ سوال کرتا ہے تو لپٹ جاتا ہے اور اگر اس سے سوال

محمد و ذرا، وہ چر گیا، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔

۸۱۱۔ رَبِّ سَاغِرٍ يُقَابِلُ

بعض آدمی بیٹھے جوئے کے لیے دوڑتے ہیں، یہ نابغہ ذی بلی کا قتل

ہے۔ نعمان بن منذر کے دربار میں ایک عربی وفد کے ارکان میں

بنی عبس کا ایک شخص شقیق بھی شامل تھا جو فوت ہو گیا۔ جب

نعمان نے وفد کو عطیات دیے تو شقیق کے درتاء کو بھی عطیہ بھیجا

تو اس وقت نابغہ نے کہا کہ رَبِّ سَاغِرٍ يُقَابِلُ

۸۱۲۔ يَسْتَفُّ التُّرَابَ وَلَا يَخْضَعُ لِأَحَدٍ عَلَى بَابٍ

دخاک پھاکتا ہے مگر کسی کے دروازے پر نہیں جکت

خود دار کے لیے بولا جاتا ہے۔

۸۱۳۔ سَفِينَةٌ لَمْ تَجِدْ مَسَافًا

بک سر بیرون ہے کسی گال دینے والے سے، اسطہ نہیں پڑا

۸۱۴۔ حَيْثُمَا سَقَطَ لَقَا

جہاں کہیں جا پڑا وہیں سے کچھ اٹھایا، حیلہ ساز اور چالاک شخص کے

لیے بولتے ہیں جہاں دیکھا تو اپرات وہیں گناری ساری رات

۸۱۵۔ يَكِلُ سَاقِطَةً رَاقِعَةً

دہر گرنے والی چیز کو کوئی اٹھانے والی مل جاتی ہے، یعنی ہر نکلنے

والی بات کو اٹھانے والا کوئی کان جوتا ہے گفتگو میں احتیاط

کے لیے بولا جاتا ہے۔

۸۱۶۔ يَسْتَقِي مِنْ كَلِّ يَدٍ يَكْمَلُ

برہنہ سے ایک پیالہ پی لیتا ہے، متون مزاج کے لیے بولتے ہیں۔

۸۱۷۔ سَاقِيَةٌ لَا تَعْلَمُ نَحْوًا - رَجْمَةٌ نَهْرٍ مَمْدُودٍ كَمَا لَا تَعْلَمُ كَرِي

۸۱۸۔ سَكَّتِ الْفَأْوَ كَلْفًا وَكَلْفًا خَلْفًا

ہزار خط خاموش رہا، بولا تو غلط بولا، خلف۔ ردی کل وغیرہ

الف کو مفعول مطلب کی بنا پر منسوب ہے۔ یعنی سَكَّتِ الْفَأْوَ

سَكَّتَتْ وَفَتْ تَكْفَرُ بِخَطَايَا - ہزار خاموشی کے بعد بھی

غلط بولا۔

۸۱۹۔ السُّكُوتُ أَهْوَى مِنَ الصَّوْتِ - (خاموشی رضامندی کی طرح ہے)

۸۲۰۔ رَبِّي سَكُوتٌ أَبْلَغُ مِنْ كَلَامٍ

بہت سے خاموشیاں کلام سے زیادہ بیخ برتی ہیں،

۸۲۱۔ رَبِّمَا كَانَتِ السُّكُوتُ جَوَابًا

۷۹۵۔ الْبِئْرُ أَمَانَةٌ - (راز ایک امانت ہے)

۷۹۶۔ يَسْرُكُ مِنَ دَمِغٍ (تیرا راز تیرے خون سے ہے)

بسا اوقات افغانے راز موت کا سبب بن جاتا ہے۔

۷۹۷۔ مَالُهُ سَارِحَةٌ وَلَا رَائِحَةٌ

اس کے پاس نہ چرنے والے جانور ہیں نہ چر کر واپس آنی والے

اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ سارحہ۔ چرنے والے راتھتہ

چرنے کے بعد شام کو واپس آنے والے جانور۔

۷۹۸۔ اسْرَعُ مِنَ الْبَرْقِ (بکھل سے زیادہ تیز رفتار)

۷۹۹۔ اسْرَعُ مِنَ الْبَيْنِ (جھال سے زیادہ تیز رفتار)

۸۰۰۔ اسْرَعُ مِنَ الطَّرْفِ (نگاہ سے زیادہ تیز رفتار)

۸۰۱۔ اسْرَعُ مِنَ اللَّحْمِ - (نظر سے زیادہ تیز رفتار)

۸۰۲۔ اسْرَعُ مِنَ لَمْعِ الْبَصِيرِ - (آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیز رفتار)

۸۰۳۔ اسْرَعُ مِنْ رَجْعِ الصَّغْدَى (آواز بازگشت سے زیادہ

تیز رفتار)

۸۰۴۔ اسْرَعُ مِنَ الْيَدِ إِلَى الْقَوْمِ (منہ کی طرف ہاتھ سے زیادہ تیز رفتاری)

۸۰۵۔ يَسْرُقُ الْكَلْمَ مِنَ الْعَيْنِ - (آنکھ سے سُرہ چراتا ہے)

۸۰۶۔ اسْرَى مِنَ الْقَهْبَالِ (خیال سے زیادہ چلنے والا)

۸۰۷۔ السَّعِيدُ مَنْ كَفَى

(نیک بخت وہ ہے جس کو استغناء حاصل ہو گیا)

۸۰۸۔ بِالسَّاعِدِ يَبْطِشُ الْكَلْفَ

(کھائی کے ذریعہ ہی ہاتھ مضبوط کرتا ہے، یعنی کامیابی کے لیے

قوت و قدرت ضروری ہے، جو میرے پاس نہیں اور مددگاروں کی

کمی کے موقعے پر بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک شعر ہے۔

أَوْلَيْكَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَأَيْتَهُمْ

وَمَا الْكَلْفُ إِلَّا صَبْرٌ شَدِيدٌ صَبِيرٌ

وہ میرے بھائی ہیں جن کو تو نے دیکھ لیا، اور ہاتھ اٹھل در اٹھل

کے علاوہ نہیں، ایک ایک اٹھل سے ہی پورا ہاتھ بنتا ہے۔

۸۰۹۔ مَالُهُ سَعْفَةٌ وَلَا مَعْنَةٌ

(اس کے پاس پتھر کا کھانا ہے، نہ زیادہ، سعفہ۔ کھانے کی کثرت

معنہ۔ کھانے کی قلت۔ اس کے پاس پتھر یا بہت کچھ بھی نہیں۔

۸۱۰۔ مَنْ سَعَى رَعَى

- یہ نڈے سے زیادہ سخی، جو اپنے پیٹ کا کھانا بھی بچوں کو چگا دیتا ہے۔ لاقطۃ پرندہ کو کہتے ہیں۔
- ۸۳۵۔ لَقَدْ أَسْمَعْتَهُ كَوْكَبًا دَابَّتْ فَجَاءَ
اگر تو کسی زندہ کو پکارتا تو اس کو سنا دیتا، اس وقت کہا جاتا ہے جب نصیحت بے اثر رہے۔
- ۸۳۶۔ أَسْمَعُ جَعَجَلًا وَلَا أَرَىٰ رِطْنًا
دھکی کی گڑگڑاہٹ تو سنتا ہوں مگر آٹا دکھائی نہیں دیتا، بزدل اور بخیل کا شور تو سنائی دیتا ہے۔ مگر عمل نظر نہیں آتا۔
- ۸۳۷۔ أَنْ تَسْمَعَهُ بِالْمُعِيدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ
اگر امعیدی کو سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے، منذر ابن ماز السمان نے کہا تھا، جو مشقہ بن حمزہ المعیدی کے متعلق اچھی خبریں سن کر خوش فہمی رکھتا تھا، دیکھا تو وہ انتہائی بد صورت نکلا۔ اس کا یہ قول ضرب المثل بن گیا۔
- ۸۳۸۔ إِذَا لَمْ تَسْمَعْ فَأَلْمَعْ وَجِبْ تَوَسَّنْ سَكَّ تَوَاشِرُهُ
اگر نہ سنے تو لے، خواہ تصدیق نہ کرے
- ۸۳۹۔ أَسْمَعُ وَلَا تُصَدِّقُنِي - (سن لے، خواہ تصدیق نہ کرے)
- ۸۴۰۔ سَامِعًا دَعْوَتَ - تو نے سننے والے کو پکارا ہے۔
- ۸۴۱۔ بَيْنَ سَمْعِ الْأَرْضِ وَبَصَرِهَا
زمین کے کان اور آنکھ کے درمیان، یعنی چپ چپاتے۔
- ۸۴۲۔ أَسْمَعُ مِنْ قُرْأِدٍ - (جو چڑھی سے زیادہ سننے والا کہتے ہیں جو چڑھی ایک دن کی مسافت کی راہ سے اونٹ کے پاؤں کی آواز سن کر اس طرف حرکت شروع کر دیتی ہے۔
- ۸۴۳۔ قَدْ اسْتَسْمَعْتُمْ ذَاؤَرَمَ
تو نے دم والے کو مٹا سمجھ لیا ہے، ظاہر سے فریب کھایا ہے
- ۸۴۴۔ سَمِعْتُمْ هُوَيْقَ فِي أَدِيمِكُمْ
تمہارا گئی تمہاری کھال میں ہی انڈیل دیا گیا ہے، تمہارا مال تم ہی پر خرچ ہوا۔
- ۸۴۵۔ اسْمَعُنْ مِنْ يَغْرٍ
یغیر سے زیادہ فریب، یغیر ایک فریب جانور ہے۔
- ۸۴۶۔ مَنْ لِي بِالْتَّانِجِ بَعْدَ الْبَارِحِ
کون میرے لیے مبارک ہوگا، منحوس کے بعد سامع۔ واہنی طرف سے آنے والا منحوس۔ اور بارح۔ بائیں طرف سے آنے والا۔

- دیسا اوقات خاموشی ہی جواب ہوتی ہے۔
- ۸۲۲۔ سَلِّحْ الْمُجْبَارِي سِلَاحَهُ
جباری (سرفاب کا بیٹ کرنا ہی اس کا ہتھیار ہے) یہ پرندہ حملہ آور سے بیٹ کر کے ہی بچتا ہے۔
- ۸۲۳۔ سِلَاحُ الضُّعْفَاءِ الشَّكَايَةُ
دکڑوروں کا ہتھیار شکایت ہی ہے
- ۸۲۴۔ اسْلِحْ مِنَ الْجَبَارِي (سرفاب سے زیادہ بیٹ کرنے والا)
- ۸۲۵۔ السُّلْطَانُ قَلْبُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ
بادشاہ خدا کی سر زمین پر خدا کا سایہ ہے، مخلوق کو اس سایہ میں پناہ ملنی چاہیے۔
- ۸۲۶۔ لَأَسْلُطَنَّ بِلَارِجَالٍ (بغیر آدمیوں کے کوئی بادشاہ نہیں بنتا)
- ۸۲۷۔ كَيْسَ لِسُلْطَانِ الْعِلْمِ زَوَالٌ - (سلطان علم کو زوال نہیں)
- ۸۲۸۔ مَنْ سَلَكَ الْجَدَّ آمِنَ الْعِثَارِ
جو شخص ہموار زمین پر چلے گا وہ پھلنے سے محفوظ رہے گا۔ جَدُّ - ہموار زمین۔
- ۸۲۹۔ إِنْ سَلِمْتَ مِنَ الْأَسَدِ فَلَا تَطْمَعُ فِي صَيْدِهِ
اگر تو شیر سے بچ جائے تو اس کے شکار کا لالچ نہ کرے
- ۸۳۰۔ مَنْ سَلِمْتَ سِرِّيَّتَهُ سَلِمْتَ عِلَائِيَّتَهُ
جس کی باطنی خصلت درست ہوگی، اس کا ظاہر بھی سالم ہوگا۔
- ۸۳۱۔ إِنْ تَسَلَّمَ الْجَلَّةُ قَالَتِيبُ هَدْرٌ
اگر بڑے اونٹ بچ جائیں تو بڑھی اونٹیاں راٹھیاں ہیں، جَلَّةٌ بلیل کی جمع یعنی بڑے اونٹ۔ تِيبٌ ناب کی جمع بمعنی عمر رسیدہ۔ مطلب یہ کہ جب قیمتی چیز بچ جائے تو بے قیمت چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔
- ۸۳۲۔ السَّلَامَةُ كُنَيْمَةٌ - (سلامتی ایک غنیمت ہے)
- ۸۳۳۔ إِنْ السَّلَامَةُ مِنْهَا تَرَكَ مَا فِيهَا
اس کی سلامتی یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے
- مِنْهَا اور فیہا کی ضمیریں دنیا کی طرف راجع ہیں شعرا کا پہلا مصرع یہ ہے۔ وَالنَّفْسُ تَكَلَّمُ بِالذُّنْيَا وَقَدْ عَمِلَتْ رِغْفُوسَ دُنْيَا كَمَا عَاشِقٌ هُوَ
- ۸۳۴۔ اسْمَعُ مِنْ لَاقِطَةٍ -

ہل عرب سانحہ سے نیک فالی اور ہار سے بد فالی لیتے تھے
عورت کے بعد برکت کی توقع، یا بہتر حالات سے مایوسی
کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

۸۴۷۔ كَانَتْ سَنَدًا اِنْفَاصًا مَطْوُوقًا .

وہ اہرن تھا، پھر ہتھوڑا بن گیا، سندان کی طرح ذلیل تھا،
جس پر ہر وقت ہتھوڑا بکتا رہتا ہے۔

۸۴۸۔ اِذَا كُنْتَ سَنَدًا اِنْفَاصًا مَطْوُوقًا اَكُنْتَ مَطْوُوقًا قَاوِجًا .

اگر تو اہرن ہے تو مبرک اور اگر ہتھوڑا ہے تو درد پہنچا۔

۸۴۹۔ اَسْحَرُ مِنَ الْجَبَلِ . (ستارے سے زیادہ جلگنے والا)

۸۵۰۔ اَسْحَرُ مِنَ كَطُوبِ . (قطرہ مخیم سے زیادہ جلگنے والا)

قطرہ حشرات الارض میں ایک کیڑا ہے جو رات بھر نہیں سوتا

۸۵۱۔ سَهْدُكَ وَسَهْدُ هَلِيكَ .

ایک عہد تیرے موافق اور ایک تیرے مخالف

۸۵۲۔ اَسَاءَ سَمَّهَا فَاَسَاءَ اَجَابَةُ .

اس نے غلط سنا تو غلط ہی جواب دیا

۸۵۳۔ اَسَاءَ كَارًا فَاَعْمَلُ . (مجبور شخص نے برا کام کیا)

۸۵۴۔ اَسَاءَ رَعِيًا كَسَلِي .

اس نے بُری طرح چرایا اور پھر پانی بھی پلا دیا، اس نے کم

چرنے کے بعد خالی پیٹ پانی پلا دیا۔ کام اچھا نہ کیا۔ اور

اصلاح کی کوشش سے مزید فساد پھیلادیا۔

۸۵۵۔ سُوُّ الطَّلِقِ مِنْ شِدَّةِ الْعَقِيْقِ .

بدگمانی انتہائی دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی کے ہم معنی

ہے رَأَى الْعَبِيْقِ بِسُوِّ طَلِقٍ مُؤَلَّفٍ . (مربان

بدگمانی کا عیب ہے)

۸۵۶۔ سَيْدُ الْقَوْمِ اَلْقَاهُ .

قوم کا سردار سب سے زیادہ بد بخت ہوتا ہے، جو ہر ایک

کی ڈھال بن کر تمام سختیاں اپنے سر سہہ لیتا ہے۔

۸۵۷۔ مَا كُنَّ سُوْدًا اَوْ تَمْرًا .

دہریہ یا ہیز کمزور نہیں ہوتی، سختی کے موقع پر بولا جاتا ہے

اسی طرح مثل ہے۔ "مَا كُنَّ بَيْضًا لِحَمِيَّةٍ"

۸۵۸۔ كُوْنَاتُ بِيْعَارٍ لَطْمَتِي .

دکاسٹھس کہ کوئی کنگن والی عورت مجھے طمانچہ مارتی۔

حاتم طائی نے ایک قیدی کے قیدیہ میں بنی عنزہ کے پاس

خود کو رہن رکھ دیا۔ ایک لونڈی نے اس کے طمانچہ مارا۔

اس وقت حاتم نے کہا۔ کاش! کوئی کنگن والی عورت

(آزاد عورت) میرے طمانچہ مارتی۔ کینزہیں زیور نہیں پہنتی

تھیں۔ بہتر صورت حالات کے مقابلہ میں گھٹیا صورت

اختیار کرنے پر یا کم رتبہ شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے

موقع پر بولا جاتا ہے۔

۸۵۹۔ مَن مَنَّا اَلْكَرْبَ بِتَقْسِيْمِهِ مَا ظَلَمَكَ .

وہ جس نے تجھ کو اپنے نفس کے برابر رکھا اس نے تجھ پر

ظلم نہیں کیا

۸۶۰۔ مَسَاوَاكَ عَبْدًا غَيْرِكَ .

تیرے غیر کا غلام تیرے برابر ہے، کیونکہ وہ تمہاری حکم برداری

سے آزاد ہے۔ اسی مفہوم کو عوام عَبْدًا غَيْرِكَ حُرًّا

مِثْلَكَ کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔

۸۶۱۔ اِنْ اَسْتَوَى قَوْمِيْنِ وَاِنْ اَعُوْبَهُ فَمِنْجَلٍ .

وہ اگر سیدھا ہو تو چھری ہے، ٹیڑھا ہو جائے تو دانتی ہے

۸۶۲۔ يَسُوُّ وَكَمْرٌ لَّكَ .

دچلا جا اور چاند تیرے واسطے ہے، رات میں چلنے کے لیے

چند کی روشنی کو قیمت سمجھو۔

۸۶۳۔ يَسِيْرًا الْمَرْءُ كُنْبِيٌّ مَن سَرِيْرِيَّةٍ .

آدمی کی عادت اس کی باطنی خرافات کی ظہور دہی ہے،

۸۶۴۔ سَلِيْرِيْنِ فِي الْهَرْدِيَّةِ .

(وہ تو سے ایک سوراخ میں، یعنی اِحْتَمُّ سَلِيْرِيْنِ فِي الْهَرْدِيَّةِ

"ایک چنڈ دو کالج")

۸۶۵۔ سَأَلَ بِحَسْبِ السَّيْلِ وَجَاهِلٌ بِمَا اَلْبَحْرُ .

ان کو سیلاب نے بہا دیا اور ہم بہ سمندر چلا آیا، یعنی ہم

ان سے بھی زیادہ غریب مصیبت میں پڑ گئے۔

۸۶۶۔ سَيْبٌ يَمْ وَهُوَ لَا يَدْرِئِي .

اس کو بہا دیا گیا مگر اسے خبر بھی نہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی مگر

چراغ سے۔ "جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہو اسی گئے"

اس کا دودھ پھڑایا گیا۔ شہادت عمر کے دن وہ بالغ ہوا۔ شہادت عثمان کے دن شادی ہوئی اور شہادت علی کے دن اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔

۸۷۳۔ اَشَامٌ مِنْ عَطْرِ مَنْشِيَةٍ۔

(منشم کے عطر سے زیادہ منخوس) ایک عطر بیچنے والی عورت تھی اہل عرب منشم کا عطر لگا کر جنگ کے لیے عہد کرتے تھے۔ یہ عطر لگانا ہی اس کی علامت تھی کہ جنگ میں پامردی کا ثبوت دیں گے۔ اسی سے من بن گئی۔

۸۷۴۔ اَشَامٌ مِنْ غُرَابِ الْبَيْتِ۔

(جہائی کے کوئے سے زیادہ منخوس) بدوی جب کسی جگہ سے نیچے کو اٹھاتے تو کوئے اس جگہ کھانے کی اشیا پر ٹوٹ پڑتے اسی لیے بدفال نے کران کو جہائی کے کوئے کہتے۔

۸۷۵۔ مَنْ شَبَّ عَلِيَّ خُلِقَ شَابًا عَلِيًّا۔

(جس عادت پر کوئی جوان ہوا ہے، اسی پر بوڑھا ہوگا۔)

۸۷۶۔ الشَّبَابُ مَطِيئَةُ الْجَاهِلِ۔

(جوانی جہالت کی سواری ہے، الشباب شیعہ من الجہنم جوانی جنون کی شاخ ہے، "جوانی دیوانی")

۸۷۷۔ الْمَشْبَعَاتُ يَفْتُلُ لِلجَائِعِ فَنَأْبِطِيئًا۔

(رپیٹ بھرا بھوکے کے لیے آہستہ روٹی توڑتا ہے، جب کوئی آسودہ حال دوسرے کی ضرورت کو اہمیت نہ دے۔)

۸۷۸۔ إِنَّ هَذَا الشَّيْبَلُ مِنْ ذَاكَ الْأَسَدِ۔

(یہ بچہ بھی تو اسی شیر کا ہے)

۸۷۹۔ مَنْ أَشْبَهَ أَبَاكَ فَنَأْبِطِيئًا۔

(جو اپنے باپ کے مشابہ ہوا اس نے زیادتی نہیں کی)

۸۸۰۔ أَشْبَهُهُ مِنَ الْمَاءِ بِالْمَاءِ۔

(اس سے زیادہ مشابہ جیسے پانی سے پانی)

۸۸۱۔ إِنَّهُ لِأَشْبَهُهُ بِهٍ مِنَ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ۔

(وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ مشابہ ہے جیسے ایک کھجور دوسری سے۔)

۸۸۲۔ مَا أَشْبَهَ حَمْلُ الْجِبَالِ بِالْوَأْنِ حَمْلُهَا۔

(پہاڑوں کو چوکور اس کے چٹانوں کے رنگ سے کتنی مشابہ ہوتی ہے)

۸۸۳۔ مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ۔

۸۶۷۔ اَشَامٌ مِنْ بَرَاقِشٍ۔

(براقش سے زیادہ منخوس) براقش ایک کتیا کا نام ہے، جس کا نعرہ گزرجکا۔

۸۶۸۔ اَشَامٌ مِنْ اَلْبَسُوْسِ۔

(بسوس سے زیادہ منخوس) بسوس منقذ غمیہ کی لڑکی تھی۔ اور جس اس بن مرہ بکری کی خالہ ہے۔ اس کے ایک پڑوسی کی اونٹنی

کو جس نے کلیب بن وائل ثعلبی کی چراگاہ میں چرائی چرتے ہوئے کسی پرند کے انڈے توڑ دیے تھے۔ کلیب نے تیر مار دیا۔ بسوس

کی فریاد پر اس کے بھانجے جس اس بن مرہ بکری نے کلیب پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، پھر مہلہ جو کہ کلیب کا بھائی، اور بنی ثعلب کا مردار ہے۔ کلیب کے قصاص کے لیے کھڑا ہو گیا۔

اسی طرح بنی ثعلب اور بکر کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ جو چالیس سال تک جاری رہی۔ اسی وجہ سے نخوست میں بسوس کی نخوست ضرب المثل ہو گئی۔

۸۶۹۔ اَشَامٌ مِنْ حَقَّارِہِ۔

(قبر کھودنے والے سے زیادہ منخوس) حقار سے مراد حفار القبور ہے۔

۸۷۰۔ اَشَامٌ مِنْ دَا حِیْسِ۔

(دا حیس سے زیادہ منخوس) دا حیس قیس بن زہیر کا گھوڑا، جو نخوست میں ضرب المثل تھا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ذبیان اور عیس کے مابین چالیس سال تک لڑائی جاری رہی۔

۸۷۱۔ اَشَامٌ مِنْ رَعِيْفِ الْخَوْلَادِ۔

(خولاد کی روٹی سے زیادہ منخوس) ایک عربی کے سر سے ایک شخص نے روٹی اچک لی۔ خولاد نے اس کو اپنے پڑوسی کی توہین قرار دیا، جس سے قبیلوں میں اشتعال پیدا ہو گیا اور لڑائی میں ایک ہزار آدمی مارے گئے۔

۸۷۲۔ اَشَامٌ مَطْوِيْسِ۔

(طویس سے زیادہ منخوس) طویس کہتا تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پیدا ہوا تھا۔ صدیق اکبر کی رحلت کے دن

(آج کی رات کل کی گذشتہ رات سے کس قدر مشابہ ہے،

۸۸۴۔ الشَّبَهَةُ أُمَّتُ الْهَرَامِ۔

دشہ حرام کی ہی ہے، مشتبہ چیز سے اسی طرح بچنا چاہیے جیسے

حرام سے۔

۸۸۵۔ يَشْبَهُ مَرَّةً وَيَأْتِي سَوَ الْخُرَى۔

دکبھی زخمی کرتا ہے کبھی غم خورای کرتا ہے،

۸۸۶۔ اشْجَعُ مِنْ كَيْبِثٍ بِشِيرٍ زِيَادَهُ بِمَادٍ،

۸۸۷۔ اشْجَعُ مِنْ أَسَامَةَ رَشِيرٍ زِيَادَهُ بِمَادٍ، أَسَامَةُ شِيرٌ كَالْعَلْمِ جِي۔

۸۸۸۔ الشَّبَاعُ مَوْقِيٌّ۔

دبھار سے کتراتے ہیں، اسی مفہوم کو ایک شعر میں کہا گیا ہے وہ

تَعْدُو الذَّنَابَ عَلَى مَنْ لَا يَكْأَبُ لَهُ وَتَقْفِي مَرْنَعِي الْمُسْتَفْهِرِ الْحَامِي۔

جس کے پاس کتے نہ ہوں اس پر بھڑیے حملہ کرتے ہیں اور اس

بازو سے بچتے ہیں جو لنگوٹ بند مفاہمت کرنے والا ہے۔

۸۸۹۔ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَعْرٌ فَتَفَشَّ۔

اگر عربی نہ ہو تو اون کا ہی اسمی یعنی واقفیت نہیں تو دکھلا دہی سہی۔

۸۹۰۔ شَخْبٌ فِي الْإِنَاءِ وَشَخْبٌ فِي الْأَرْضِ۔

(دودھ کی ایک دھار برتن میں اور ایک زمین میں) یعنی جو کبھی

درست کام کرے اور کبھی غلط۔ شخب: دودھ کی دھار جو ایک

مرتبہ متن و بانے سے نکلے۔

۸۹۱۔ وَلَمَّا اشْتَدَّتْ سَاعِدَةُ رَمَانِيٌّ۔

جب اس کی کلائی مضبوط ہو گئی تو اس نے میرے ہی تیر مارا یعنی ہمدانی

کی بی بی اور ہم سے ہی مہاؤں۔ پورا شعر ہے۔

أَعْلَمُهُ الْإِمْرَاءُ كُلُّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّتْ سَاعِدَةُ رَمَانِيٌّ۔

۸۹۲۔ أَشَدُّ حَوْنًا مِنَ الْخَنَسَاءِ عَلَى صَنْجِيٍّ۔

دھڑھڑہم کرنے والی خنساء سے بھی زیادہ نکلین، صخر بن عمرو سلیمی،

بنی اسد پر ڈاکو ڈالنے کے دوران تیر سے زخمی ہو کر مر گیا تو اس کی

ہن خنساء نے بڑے دردناک ہرشیے کے اور شدت غم میں بھائی

کی قبر کی مجاور میں گئی، حتیٰ کہ مر گئی۔

۸۹۳۔ لِلشَّدَائِدِ إِيدٌ تَذْخُرُ الْبِتَّ جَالٌ۔

دستکیوں کے لیے آدمیوں کا ذخیرہ کیا جاتا ہے،

۸۹۴۔ عِنْدَ الشَّدَائِدِ إِيدٌ تَذْهَبُ الْأَحْقَادُ۔

(مصیبت کے وقت آپس کی دشمنیاں زائل ہو جاتی ہیں،

۸۹۵۔ وَعِنْدَ الشَّدَائِدِ إِيدٌ تَعْرِفُ الْإِخْوَانَ۔

دستکیوں کے وقت بھائی پہچانے جاتے ہیں،

۸۹۶۔ شَرُّ أَيَّامِ الدِّينِ يَوْمٌ تُفْسَلُ رِجْلَاؤُهُ۔

دین کے لیے بدترین دن وہ ہے جس دن اس کے پاؤں دھوئے

جاتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے مرغ کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔

۸۹۷۔ شَرُّ الرَّأْيِ الدَّيْرِيُّ۔

بدترین رائے وہ ہے جو بعد میں یاد آئے، رشت بعد از جنگ؛

۸۹۸۔ شَرُّ الشَّدَائِدِ إِيدٌ مَا يُضْحِكُ۔

بدترین سختی وہ ہے جو ہنسانے والی ہو، حیرتناک، جو مصیبت زدہ

یاد دشمنوں کو ہنسانے۔

۸۹۹۔ شَرُّ مِنَ الشَّرِّ فَاعِلُهُ۔

دوسرا لوگوں کی ایک برائی، برائی کرنے والا ہے،

۹۰۰۔ شَرُّ مِنَ الْمَوْتِ مَا يَتَمَنَّى مَعَهُ الْمَوْتُ۔

(موت سے بری وہ مصیبت ہے جس کے ہوتے موت کی تمنا کی جائے،

۹۰۱۔ شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِيهِ النَّاسُ۔

بدترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ پرہیز کریں،

۹۰۲۔ شَرُّ النَّاسِ مَنْ هَارَاهُ النَّاسُ بِشَرِّهِ۔

بدترین آدمی وہ ہے جس کے ٹکڑے لوگ اس کی عزت کریں،

۹۰۳۔ شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ تَرَاهُ النَّاسُ مُبِينًا۔

بدترین آدمی وہ ہے جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو بدی

کرتے دیکھیں گے)

۹۰۴۔ الشَّرُّ أَخْبَثُ مَا أَدْعَيْتَ مِنْ شَرِّهِ۔

برائی وہ سب سے زیادہ برا تو شر ہے جس کا تم نے فریاد کیا ہے۔

شعر کا معنی اول یہ ہے: الْخَيْرُ يُبْقِي دَيْنَ ظَالِمٍ النَّهْمَانِ بِه۔

خیر بھائی رہتی ہے، اگرچہ اس کو طویل زمانہ ہو جائے،

۹۰۵۔ الشَّرُّ كَلْبِيَّةٌ كَثُورٌ رِبَائِيٌّ عَرُطِيٌّ يَمِيٌّ بَسْتٌ هِي،

۹۰۶۔ الشَّرُّ قَلْبِيَّةٌ كَثُورٌ يَمِيٌّ بَسْتٌ هِي،

برائی برائی کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے، اسی طرح کا ایک مقولہ ہے

الْحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ يُفْلَدُ (لوہ لوہے کو کاٹتا ہے)

۹۰۷۔ إِنْ فِي الشَّرِّ خَيْرٌ أَوْ لَا۔

دشمنی کچھ فطری ہوتی ہے، خیالاً: جمع غیر یعنی شرمی کچھ بھی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یا خیالاً اختیار کا اسم ہے اور مثل کا مفہوم اس مثال کے مترادف ہے: بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ۔
د بعض شر بعض سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔

۹۰۸۔ يَكُلُّ شَرِّ بَاعِثٍ دہر شر کا کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے،

۹۰۹۔ لَا تَشْرَبِ السَّمَّ إِلَّا عَلَى التَّرْيَاقِ۔
د تریاق پر بھروسہ کر کے نہ ہر نہ پیو،

۹۱۰۔ اشْرَبُ مِنَ الْمُهَيَّمِ۔
د پیاسے اونٹوں سے بھی زیادہ پینے والا، هَيِّمٌ: اَهْيَمُ دھیماء کی جمع ہے۔ یعنی سخت پیاسے اونٹ۔ هَيِّمٌ پیاس سے مشتق ہے۔

۹۱۱۔ اشْرَبُ مِنَ الرَّمْلِ ریت سے زیادہ پینے والا،

۹۱۲۔ اشْرَبُ مِنَ الْقَمِيمِ رقیف سے زیادہ پینے والا،

۹۱۳۔ الشَّرْطُ أَمَلُكَ عَلَيْكَ أَمْ لَكَ۔
د شرط زیادہ لازم ہے خواہ تمھارے مخالف ہو یا موافق، دوستوں کے ذمہ شرط کی رعایت، و حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے۔

۹۱۴۔ شَرَعَكَ مَا يَلْفَكَ الْمَحَلَّ۔
د تیری زادراہ وہ ہے جو تجھے مقام تک پہنچا دے، زادراہ کی اتنی ہی مقدار کافی ہے۔

۹۱۵۔ إِنَّ الشَّرَّاقَ قَدْ مِنْ أَدِيمِهِ۔
د تمہاری کھال ہی سے کاٹا گیا ہے، و مشابہ چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔

۹۱۶۔ مَنِ اشْتَرَى الْحَمْدَ لَمْ يُفْبِنِ۔
د جس نے تعریف خریدی اس کو خسارہ نہیں رہا،

۹۱۷۔ مَنِ اشْتَرَى سَيْفِي وَهَذَا أَثْرَا۔
د میری تلوار کو خریدتا ہے اور یہ اس کا اثر ہے، ایسی چیز سے ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے جس میں ایک مہرہ جتنا ہو چکا ہو۔

یہ عارث بن ظالم مری کا مقولہ ہے۔ نعمان نے اس کی گرفتاری کے لیے کچھ سوار بھیجے تھے۔ مقابلہ ہوا تو عارث نے ان پر بے جگری سے حملہ کیا۔ جدھر رخ کرتا۔ ان کو منتشر کر دیتا اور حملہ کرتے ہوئے یہ رجو پڑھتا: مَنِ اشْتَرَى سَيْفِي وَهَذَا أَثْرَا۔

کئی سوار قتل ہو گئے اور باقی اس کو چھوڑ کر واپس ہو گئے۔

۹۱۸۔ آلا مِنْ اشْتَرَى سَهْوًا يَكُونُ۔
د کیا کوئی خریدار ہے جو نیند کے بدلے بیداری کو خریدے،

نعمت و عافیت کی ناشکری کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

۹۱۹۔ لا اشْتَرِ لِنَفْسِكَ وَلا لِسُوقِ۔
د اپنے اور بازار کے لیے خریدو، یعنی ایسی چیز خریدو جس سے خود آرام اٹھاؤ اور اگر بازار میں بیچتا چاہو تو بازار میں بھی اس کے خریدار مل جائیں۔

۹۲۰۔ الشَّعْبِيُّ يُؤْكَلُ وَيَذَمُّ۔
د جو کھایا جاتا ہے، پھر اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے، عُسْنُ كِ ذمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔

۹۲۱۔ شُعَاعُ الشَّمْسِ لَا يُخْفَى وَنُورُ الْحَقِّ لَا يُطْفَأُ۔
د آفتاب کی شعاع کو چھپایا نہیں جاسکتا اور حق کے نور کو بجھایا نہیں جاسکتا،

۹۲۲۔ إِنْ يَكُنِ الشُّغْلُ مُجْهِدًا فَإِنَّ الْفَوَاحِ مَفْسَدَةٌ۔
د شغل اگر مشقت میں ڈالتا ہے تو بیکاری باعث فساد ہے،

۹۲۳۔ إِنَّ الشَّقِيْقِيَّ يَسُوؤُ الْعِلْمَ وَالْمَوْلِمَ۔
د یقیناً مہربان برے گمانوں کا حریص ہوتا ہے، یعنی محبت کی زیادتی بدگمانی کا سبب ہوتی ہے۔

۹۲۴۔ شَقِيْقَتُ نَفْسِي وَجَدْتُ عَنْتُ أَنْفِي۔
د میں نے اپنے نفس کو شقادی مگر اپنی ناک کاٹ لی، یعنی ایک مراد پائی تو دوسرا نقصان کر لیا۔

۹۲۵۔ شَقَا فُلَانٌ عَصَا قَوْمِهِ۔
د فلان نے اپنی قوم کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا، عَصَا: اتحاد جماعت سے کٹنا یہ ہے۔ جماعت منتشر ہو تو عصا نہیں کہتے۔

۹۲۶۔ مَا يُشَقُّ عَجْبَارَةٌ۔
د اس کا غبار چیرا نہیں جاسکتا، یعنی کوئی اس کی گرد کو نہیں بیچتا۔

یا اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا۔

۹۲۷۔ يَشْقِيْقَةُ هَدْرٌ ثُمَّ قَرَّتْ۔
د اونٹ کے منہ کا لوتھرا ہے کہ پہلے آواز نکالی پھر ساکن ہو گیا

يَشْقِيْقَةُ: پھیسپڑے جیسا وہ لوتھرا جس کو اونٹ جو شش میں بلبلا تے ہوئے منہ سے نکال لیتا ہے۔

۹۲۸۔

۹۲۹۔

۹۳۰۔

۹۳۱۔

۹۳۲۔

۹۳۳۔

۹۳۴۔

۹۲۸۔ إِنَّ الطَّبِيقَ تَشْبِيهُهُ أَعْلَامًا:

دہ بخت کی تم تمام علامتیں دیکھ لو گے، یعنی بڑبختی کی تمام علامت چھپ نہیں سکتیں۔

۹۲۹۔ إِنَّ الطَّبِيقَ وَاقِدُ الْبِرِّ رَاجِحٌ:

دہ بخت براجم کا آنے والا بیشک بدبخت ہے، لالچ میں نقصان اٹانے والے کے لیے کہا جاتا ہے۔ براجم بنو تمیم کی ایک شاخ ہے جو حنظلہ بن مالک بن عمرو بن تمیم کے پانچ لاکھوں کی نسل ہے۔ یہ خال عمرو بن بند شاہ عراق کا مقولہ ہے، جس نے اپنے بھائی کے قصاص میں بنو تمیم کے سوا آدمی قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔

سنائے آدمی قتل کر کے مزید ایک کی فکر میں تھا کہ براجم میں کا ایک آدمی سفر سے واپس ہوتے ہوئے بنو تمیم میں عمرو بن بند کے یہاں پہنچ گیا کہ شاید کھانے کو کچھ مل جائے، عمرو کے دریافت کرنے پر اس نے بتا دیا کہ وہ براجم میں کا ایک شخص ہے۔ عمرو بن بند نے اس کو قتل کا حکم دیتے ہوئے کہا: إِنَّ الطَّبِيقَ وَاقِدُ الْبِرِّ رَاجِحٌ۔

۹۳۰۔ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ:

وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا،

۹۳۱۔ أَشْكُرُ مِنْ بَرِّ وَقِيَّةٍ:

بروقہ سے زیادہ شکر گزار، بروقہ، ایک چھوٹا پودہ ہے جو ذرا سی نمی میں اُگ آتا ہے۔

۹۳۲۔ تَشْكُرُوا لِي غَيْرِ مُصِيبَتِي:

(اس سے شکایت کرنا ہے جو خاموش نہیں رہتا یا خاموش نہیں کرتا، دستا ہے نہ شکایت کا تدارک کر کے خاموش کرتا ہے۔

۹۳۳۔ الْقَمَاتُ لُؤْمٌ:

دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونا کینہ ہے۔

۹۳۴۔ يَكْفُلُ شَمْسٍ مَغْرِبًا، (بہر سورج کو ڈوبنا ہے،

۹۳۵۔ مَا لِي بِشَمْسٍ لَا تُدْفِنِي:

میرے سورج کو کیا ہوا کہ مجھے گرم نہیں کرتا،

۹۳۶۔ هُوَ عَتِيدِي بِالْشَمَالِ:

وہ میرے بائیں ہے، میرا بائیں ہے۔ کم، تہہ ہے۔

۹۳۷۔ رَبِّتْ مَشَارِقِي أَخْفِي مِنْ أَيْتِي:

بت کی دشمن عورتیں ماں سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں، ان کی

عیب ہوئی سے اخلاق کی درستی کا موقع ملتا ہے اور ماں شدت محبت کی وجہ سے تمہارے عیوب کو چھپاتی ہے۔ اس لیے اصلاح نہیں ہوتی۔

۹۳۸۔ وَتَشْتَبَهُنَّ أَعْرُفَهَا مِنْ أَخْزَمٍ:

یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے اخزم سے معلوم ہے، ابواخزم طائی کا قتل ہے، اخزم اس کا لڑکا نافرمان تھا۔ وہ مر گیا تو ابواخزم نے اس کے بچوں یعنی اپنے بچوں کی پرورش کی، جب وہ بڑے ہوئے تو ایک روز اپنے دادا سے لڑتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا۔ اس وقت ابواخزم نے کہا:۔

۹۳۹۔ إِنَّ بَنِي فَهْرٍ جُودِي بِالْكَدَمِ وَتَشْتَبَهُنَّ أَعْرُفَهَا مِنْ أَخْزَمٍ:

میرے بچوں نے مجھے خون آلود کر دیا ہے۔ یہ وہی عادت ہے جس کو میں اخزم ہی سے جانتا ہوں۔

۹۴۰۔ شَاهِدُ الثَّعْلَبِ ذَنْبُهُ، (لڑکی کا گواہ اس کی دم ہے،

۹۴۱۔ شَاهِدُ الْبُغْيِ النَّظْرُ، (بغض کا گواہ خضناک نظر ہے،

۹۴۲۔ شَهَادَاتُ الْفِعَالِ خَيْرٌ مِنْ شَهَادَاتِ الرِّجَالِ:

دکاموں کی شہادت لوگوں کی شہادت سے بہتر ہے،

۹۴۳۔ أَشْهُرُ مِنَ الشَّمْسِ، (سورج سے زیادہ مشہور،

۹۴۴۔ أَشْهُرُ مِنَ الْقَمَرِ، (چاند سے زیادہ مشہور،

۹۴۵۔ أَشْهُرُ مِنَ الْبَدْرِ، (کامل چاند سے زیادہ مشہور،

۹۴۶۔ أَشْهُرُ مِنَ الصُّبْحِ، (صبح سے زیادہ مشہور،

۹۴۷۔ أَشْهُرُ مِنَ فَلَقِ الصُّبْحِ، (ظہور صبح سے زیادہ مشہور،

۹۴۸۔ أَشْهُرُ مِنَ عَلَمٍ، (پھاڑ یا جھنڈے سے زیادہ مشہور،

۹۴۹۔ أَشْهُرُ مِنَ نَارِ عَلِيٍّ عَمْرٍو، (پہاڑ پر اُگنے والے پودے سے زیادہ مشہور،

۹۵۰۔ أَشْهُرُ مِنَ الْبَيْتِ، (بیت سے زیادہ مشہور،

۹۵۱۔ أَشْهُرُ مِنَ الْبَيْتِ، (بیت سے زیادہ مشہور،

۹۵۲۔ أَشْهُرُ مِنَ الْبَيْتِ، (بیت سے زیادہ مشہور،

۹۵۳۔ أَشْهُرُ مِنَ الْبَيْتِ، (بیت سے زیادہ مشہور،

۹۵۴۔ أَشْهُرُ مِنَ الْبَيْتِ، (بیت سے زیادہ مشہور،

۹۵۵۔ أَشْهُرُ مِنَ الْبَيْتِ، (بیت سے زیادہ مشہور،

۹۵۶۔ أَشْهُرُ مِنَ الْبَيْتِ، (بیت سے زیادہ مشہور،

چل جاتا ہے، زائد نہیں ہے۔ صباہ: وہ پانی جو برتن وغیرہ میں
بچ جائے۔ غیل: وہ پانی جو زمین پر بہتا ہو۔
۹۶۴۔ عِنْدَ الصَّبَاحِ يُحْمَدُ الْقَوْمُ الشُّرَى.
(صبح کے وقت قوم رات میں چلنے کی تعریف کریگی) اس شخص کے
لیے کہتے ہیں جو راحت کی امید میں مشقت برداشت کرے یا مشقت
کے بعد راحت حاصل ہو۔

۹۶۵۔ مَن صَبَرَ ظَفَرًا. (جس نے صبر کیا، کامیاب ہوا)

۹۶۶۔ الصَّبْرُ جِيلَةٌ مَن لَّا حِيلَةَ لَهُ.

(صبر اس کا جیلہ ہے جس کا کوئی جیلہ نہ ہو)
۹۶۷۔ الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ. (صبر کشادگی کی کنجی ہے)

۹۶۸۔ أَصْبِرْ مِنَ الْوَتْدِ.

(دیخ سے زیادہ صابر سر پر کھاتی ہے مگر جی رہتی ہے۔)

۹۶۹۔ أَصْبِرْ مِنَ الْأَرْضِ. (زمین سے زیادہ صابر)

۹۷۰۔ الصَّبِيُّ أَعْلَمُ بِمَضْغِ قَبِيهِ.

(بچہ اپنے منہ چبنے کو خوب جانتا ہے، جب کسی واقعہ کا رکو
مشورہ دیا جائے اور وہ بھی غلط۔)

۹۷۱۔ دَرَبْنَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعَلِيلِ.

(کبھی جسم بیماریوں کے سبب سے تندرست بھی ہو جاتے ہیں)

۹۷۲۔ صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَغْنَى. (ضرورت مند اندھا ہوتا ہے)

۹۷۳۔ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالذَّنْبِ فِيهِ.

(مکان والا زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ مکان میں ہے)

۹۷۴۔ صَحِيفَةُ الْمُتَلَتِّيسِ. (متلس کا خط) اس شخص کے لیے کہتے

ہیں جو خود فریبی میں مبتلا ہو کر ہلاکت میں پڑے۔ مشہور شاعر متلس

اور اس کا بھانجا طرفہ دونوں عمرو بن ہند شاہ حیرہ کے پاس

پہنچے۔ بڑی تدبیریں کیں۔ مگر اس تک رسائی نہ ہوئی۔ طرفہ نے

تنگ آکر عمرو کی بھوک کی۔ عمرو کو معلوم ہوا تو اس نے طرفہ کو قتل کرنا

چاہا۔ مگر متلس کی بھوک سے ڈرتا تھا۔ اس لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ

ان کو اپنے اہل و عیال سے ملنے کا شوق دلایا اور دو خط سر بھر

ان کو دیے کہ اس کے گورنر کے پاس لیجائیں، وہ اس حکم کے

مطابق ان کو انعام دیگا۔ طرفہ اور متلس خطوط نے کر چلے تو راستے

میں ایک بوڑھے کی باتوں سے متلس کو شک ہو گیا۔ حیرہ کے ایک

۹۵۲۔ شُبُّ شَوْبًا لَّكَ بَعْضُهُ (وہ بناؤ جس کا کچھ حصہ تمہارے لیے ہو)

۹۵۳۔ نَقَابٌ يَشْوِبُ شَوْبًا دِيمَعِي مَرِكِبٌ كَرْنَا. (طانا،

۹۵۴۔ إِذَا شَاوَرْتُ الْعَاقِلَ صَارَ عَقْلُكَ لَكَ.

(جب تونے عقل سے مشورہ کیا تو اس کی عقل تمہاری ہو گئی)

۹۵۵۔ شَوْفُ النَّحَّاسِ يُظْهِرُ النَّحَّاسَا.

(جانچے کو صاف کرنا تانبے کو بھی طرح ظاہر کر دیتا ہے، بداصل کو سنوارو

تو اور بگڑ جاتا ہے۔ شوف: صیقل کرنا۔ جلا دینا۔

۹۵۶۔ مِنَ الشُّوْكَوَةِ تَخْرُجُ الْوَرْدَةُ.

(کانٹے ہی سے گلاب کا پھول نکلتا ہے۔)

۹۵۷۔ الْمَشَاةُ مَذْبُوحَةٌ لَا يُؤَلِّمُهَا السَّلْمُ.

(ذبح شدہ بکری کو کھال اتارنے سے تکلیف نہیں ہوتی)

۹۵۸۔ كُلُّ شَايَةٍ تَنَاطُ بِرَجُلَيْهَا.

(ہر بکری کو اس کے پاؤں کے بل بیٹھا جاتا ہے، یعنی ہر شخص

اپنے ہی جرم کی سزا پاتا ہے۔ تَنَاطُ: تعلق، لٹکانی جاتی ہے۔

۹۵۹۔ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى يَشْتِيبَ الْغُرَابُ.

(یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ کو اسفید نہ ہو جائے) جب تک نامکن

نامکن نہ ہو جائے، اسی طرح کہا جاتا ہے، چونکہ اندازے یا جب

تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے مطلب یہ کہ ایسا

کبھی نہیں ہو سکتا۔

۹۶۰۔ كُلُّ شَيْءٍ دُثْمَنُهُ. (ہر چیز کی ایک قیمت ہے)

۹۶۱۔ بَاتَ يَشْوِي الْقَرَاخَ. (خالص پانی کو ہی بھرتا رہا، بھرنے کے

لیے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں رہا۔ قراخ: خالص پانی۔

۹۶۲۔ شَيْبُكَ نَاعِيكَ.

(تیرے بالوں کی سفیدی تیری موت کا خبر ہے) ناعی: مخبروت، یعنی

بالوں کی سفیدی قرب موت کی خبر ہے۔

(۹۰)

ص

۹۶۳۔ صَبَابَتِي تَرَوْنِي وَكَيْسَتِ غَيْلًا.

(میرا ٹمپٹ میرا بگڑتا ہے اتنا نہیں کہ زمین پر سے یعنی کام

عالم سے کسی لغزش ہوتی ہے، بِنَا السَّيْفِ: تلوار اچٹ گئی، گنا
الْفَرَسِ: گھوڑا پھسل گیا۔ هَفْوَةٌ الْعَالِمِ: عالم کی لغزش۔
۹۸۸۔ أَصْعَبُ مِنْ رِيَّةِ الشَّجْبِ فِي الصَّوْرِجِ۔

(دوہ کی دھار کو متن میں لٹا دینے سے زیادہ مشکل)

۹۸۹۔ كَصَلْبِيَّةِ الْمَسْرِيَّةِ تَشْحَدُ وَلَا تَقْطَعُ۔

(سان کے پتھر کی طرح ہے دھار کو تیز کرتا ہے اور خود نہیں کاٹتا)

دوسروں کو نصیحت کرتا ہے مگر اپنا کام درست نہیں کر سکتا،

۹۹۰۔ صَفْقَةٌ لَحْدَيْشَمَدًا حَاطِبٌ۔

(ایسا سودا ہے جس میں حاطب موجود نہیں تھا، یعنی معاملہ ماہر کے

قدیمے انجام نہیں پایا ہے۔ حاطب بن ابی بلتعنہ نہایت محتاط

اور عقلمند شخص تھا، ان کی قوم کا کوئی شخص خرید و فروخت کرتا تو سودا

اسی کے ہاتھوں طے ہوتا تھا تاکہ نقصان نہ رہے۔ ایک مرتبہ کسی

نے ان کے بغیر ہی معاملہ طے کر لیا جس میں اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔

۹۹۱۔ أَصْفَى مِنَ الدَّعْوَةِ۔

(آنسو سے زیادہ صاف، جس میں گرد و غبار نہیں ہوتا۔)

۹۹۲۔ أَصْفَى مِنْ عَيْنِ الدَّيْلِكِ (مرغ کی آنکھ سے زیادہ صاف،

۹۹۳۔ أَصْفَى مِنْ جَنَى النَّحْلِ۔ (خالص شہد سے زیادہ صاف،

جنی النحل، مکھی کا شہد۔)

۹۹۴۔ أَصْلَحَ نَيْفٌ مَّا أَكْسَدَ الْبَرْزُ۔

(باکس نے دست کر دیا جس کو سردی نے غراب کر دیا تھا، جب کوئی

شخص کسی کا بگاڑا ہوا کام درست کرے تو کہا جاتا ہے۔

۹۹۵۔ وَهَلْ يُصْلِحُهُ الْعَطَّارُ مَا أَكْسَدَ النَّهْرُ۔

(کی عطاری اس کی اصلاح کر لیں گے کونسل نے قلم نہ کر دیا ہے؟)

۹۹۶۔ لَا يَصْلِحُهُ رَفِيْقًا مَنِ لَسَتْ بِنُكْلِهِ وَنَيْفًا۔

(وہ شخص رفیق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جو غصے کا متوک نہ

ہو، غصہ نہ پی جائے۔)

۹۹۷۔ مَا لَا يَصْلِحُهُ تَوَكُّهُ أَصْلَحُ۔

(جو درست نہ ہو کے اس کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے،

۹۹۸۔ لِاصْلِحِ نَفْسِكَ يَصْلِحْ لَكَ النَّاسُ۔

(اپنے آپ کو درست کر لو، تمہارے لیے لوگ درست ہو جائیں گے،

۹۹۹۔ رَبُّكَ صَالِحٌ تَحْتِ الرَّأْيِ عَدُوٌّ۔

ماہ چلتے مسافر غلام سے اس نے خط پڑھا یا تو معلوم ہوا کہ خط میں

انعام کی بجائے متلس کے قتل کا حکم تھا۔

۹۷۵۔ تَصَدَّقَ الْقُلُوبُ كَمَا يَصْدُقُ الْحَدِيدُ۔

(دل بھی اسی طرح رنگ آلود ہوتے ہیں جس طرح لوہا رنگ آلود ہو جاتا ہے،

۹۷۶۔ صَدْرُكَ أَوْ سَعْمٌ لِيَسْرِيكَ۔

(تیرا ہی سینہ تیرے راز کے لیے زیادہ ہے)

۹۷۷۔ صُدُورُ الْأَحْرَارِ قُبُورُ الْأَسْرَارِ۔

(شریفوں کے سینے رازوں کی قبر ہوتے ہیں،

۹۷۸۔ صَادَفَ دَرْعُ السَّيْلِ دَرْعًا يَصْدَعُهُ۔

(سیلاب کی ٹکرائی ٹکڑے ہوئی جو سیلاب کی ٹکڑے توڑ دیگی،

دَرْعًا دَفْعُ كَرْنًا۔ یعنی ایک شے سے دوسرا شے اس طرح ٹکرایا کہ پہلے

کا زور ٹوٹ گیا، اسی کے ہم معنی ہے الْحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ؛

لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔)

۹۷۹۔ مَنْ صَدَّقَ اللَّهَ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ سَجَارًا اس نے نجات پائی،

۹۸۰۔ الْقَوْدُقُ يُنْبِئُ عَنْكَ لَا الْوَعِيدُ۔

(دل کی سچائی تمہاری خبر دیگی نہ کہ دھمکی، یعنی دشمن کا سچا مقابلہ

شجاعت ظاہر کرے گی نہ کہ خیالی دھمکی۔)

۹۸۱۔ أَصْدَقُ مِنْ لَفْظٍ لَحِيظٍ (بات سے زیادہ سچی نگاہ ہے،

۹۸۲۔ أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا۔ (قطا سے زیادہ سچا،

قطار بھٹ تیرا، جو قطا قطا پکار کر اپنی سچی خبر دیتا ہے۔ کتے

ہیں کہ وہ اپنی آواز بھی کسی نہیں بدلتا

۹۸۳۔ صَوْرَةُ الْمَخْضِيِّ حَيْنَ الزَّيْدِ۔

(خالص چیز جھاگ سے الگ ہو گئی ہے، صرح: لازم اور متعدی

دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔)

۹۸۴۔ عِنْدَ التَّصْرِيفِ يُرِيحُ رِبَاتُ كَهْنَةَ كَيْفِ تَوَارِثِ الْبَائِكَا،

۹۸۵۔ الصَّيْرِيحُ تَحْتَ الرُّغْوَةِ۔ (دوران چیز جھاگ کے نیچے ہے،

حقیقت ظاہری سطح کے نیچے بھی ہے، مغرب ظاہر ہو جائیگی۔)

۹۸۶۔ مَنْ صَادَرَ الْحَقَّ صَرَعَهُ۔

(جو حق سے کشتی لڑے گا، حق اس کو بچھاؤ دے گا۔)

۹۸۷۔ يَكُلُّ صَائِمٌ بِنُورَةٍ يَكُلُّ جَوَادٌ بِنُورَةٍ وَيَكُلُّ عَالِمٌ هَفْوَةً۔

(برہنہ کسی اچٹ جاتی ہے، برہنہ کسی بھڑکے کھاتا ہے اور بر

سے فائدہ اٹھا۔

۱۰۱۱۔ کُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا۔

تمام شکار گورخر کے پیٹ میں ہیں، الفرا: گورخر۔ مثل کا قصہ یہ ہے کہ تین شکاریوں میں سے ایک نے خرگوش، دوسرے نے ہرن اور تیسرے نے گورخر کا شکار کیا، پہلے دو شکاری گورخر کے شکار سے بیخبر تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے پریشانی بگھاری، تب تیسرے نے کہا: کُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا۔ یعنی تمہارے شکار تو میرے پیٹ میں ہی سما جائیں گے۔

۱۰۱۲۔ فِي الصَّيْفِ ضَيَّعَتِ اللَّبَنَ۔

دوڑنے دودھ تو گر میوں ہی میں ضائع کر دیا، ضَيَّعَتِ: واحد مؤنث کو خطاب مگر مثل واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان عورت دختنوس بنت لعیط کی بڑھی عمر و بن عدس کے ساتھ شادی ہوئی۔ دختنوس نے بڑھے عمر کو ناپسند کیا اور اس سے طلاق لے کر ایک خوبصورت جوان سے شادی کر لی۔ قسمت سے اسی سال قحط پڑ گیا۔ دختنوس نے اپنے پہلے شوہر کے پاس دودھ لینے کے لیے آدمی بھیجا تو عمر و نے جواب میں یہ جملہ کہا۔

ض (۸۰۰)

۱۰۱۳۔ الصَّيْفُ يُحَلِّبُ الْعَلْبَةَ۔

دنگائی ہونی اونٹنی دودھ کا برتن بھر دیتی ہے، صَّيْفُ: وہ اونٹنی جو خوشی سے دودھ بندے۔ حَلِّبُ الْعَلْبَةَ یعنی ملّ العلبتہ۔

(دھان بھر کر دودھ دیتی ہے)

۱۰۱۴۔ اضْطَرَّ السَّيْلُ إِلَى الْعُلَيْشِ۔

بھلا جانے اس کو پیاس کے لیے مجبور کر دیا، خوشحالی اور وسعت سے تنگی اور مفلسی میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح ایک بدعما ہے: رَمَاهُ اللَّهُ بِالْحِجْرَةِ تَحْتَ الْبِقْرَةِ (اللہ تعالیٰ اس کو سردی کے نیچے پیاس

میں مبتلا کرے۔ حِجْرَةُ: پیاس۔ بِقْرَةُ: سردی)

۱۰۱۵۔ لَا يَضُرُّ السَّحَابَ نَبْعُ الْكَلْبِ۔

دکھوں کا بھونکن بادلوں کو ضرر نہیں پہنچاتا،

۱۰۱۶۔ الضَّرُورَاتُ تُبَيِّعُ الْمَحْظُورَاتُ۔

دگرچنے والے ابرو کے نیچے بسا اوقات خالی ہادل بھی ہوتے ہیں، صَلَفٌ: وہ ابرو جس میں گرج ہو۔ گرجنے والے بستے نہیں۔ یہ مثل مال دار بخیل، بے عمل باتیں بنانے والے، وعدہ سے پھرنے والے اور خود ستانی کرنے والے شخص کے لیے کہتے ہیں۔

۱۰۰۰۔ أَصَدُّ عَمَّا سَاءَ كَأَسَمِيعٍ۔

دستا ہے گران باتوں سے بہرے جو اس کو بری معلوم ہیں، بہرہ اپنے مطلب کی من لیتا ہے یا بری باتوں کو ایسے ٹال دیتا ہے، جیسے سنا ہی نہیں۔ اسی معنی میں ہے۔

قُلْ مَا بَدَأْتُكَ مِنْ زَوْجٍ مِنْ كَذِبٍ: حَلْبِي أَصَمٌ وَأَذْنِي غَيْرُ صَمَاءٍ۔ تجھ کو جھوٹ فریب بست کم ظاہر ہوا ہے۔ میرا عمل بہرا ہے، مگر کان بہرے نہیں۔

۱۰۰۱۔ صَمَّ صَامَةً عَمْرٍ وَبَيْنَ مَعْدِي نَكْرِبٌ۔

عمر و بن معد کی تلوار، عمرو بن معد کی تلوار کاٹ میں ضرب المثل تھی۔

۱۰۰۲۔ اصْنَعْ صَنْعَةً مَنْ كُتِبَ لِمَنْ حَبٌ۔

اس کو ایسے بنا جیسے ایک تجر بکار آؤں اپنے محبوب کے لیے بناتا ہے، انتہائی نفاست سے۔

۱۰۰۳۔ اصْنَعْ مِنَ النَّخْلِ رَشْمًا كَمَا رَجِيءٌ۔

۱۰۰۴۔ اصْنَعْ مِنْ دُودِ الْقَرْزِ رَشْمًا كَمَا رَجِيءٌ۔

۱۰۰۵۔ أَصَابَ تَمْرَةَ الْغُرَابِ۔

دکھ کو بہترین چیز مل گئی، کو بہترین کھجور اٹھاتا ہے۔

۱۰۰۶۔ مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ قَوَائِدٌ۔

ایک قوم کے مصائب دوسری کے فوائد ہوتے ہیں۔

۱۰۰۷۔ لَيْسَ بِصَيَّاحِ الْغُرَابِ يُبْحِي الْمَطْرَ۔

دکھ کے پکارتے بارش نہیں آسکتی، دکھ کے کوئے ڈھور نہیں مرتے۔

۱۰۰۸۔ هَذَا ابْيَضِدْ هَذَا يَا كَلُّ الشَّنَكَةِ۔

یہ شکار کرتا ہے اور یہ چھلی کھاتا ہے،

۱۰۰۹۔ صَيْدِكَ لَا تُحْرِمُهُ دَانِيَا شَكَارُكَ لِي اس سے محروم نہ رہ،

۱۰۱۰۔ يَا صَيْدِكَ إِنْ لَمْ تُحْرِمَهُ۔

دو تیرا شکار ہے اگر تو اس کو محروم نہ کرے یہاں صَيْدِكَ فَلَا تُحْرِمُهُ۔ تیرا شکار موجود ہے اس کو محروم نہ کر، یعنی موقع

دھڑوں میں منوع چیزوں کو ضائع کر دیتی ہیں، مجبوری میں سب مٹا ہے۔
۱۰۱۱۔ ضَرْبٌ آخْمَانًا سَائِلًا مُتَدَايِسًا۔

(اس نے پانچویں دن کی باری والے اونٹوں کو چھٹے دن کی باری بنا دیا، بری تدبیر اختیار کی۔ اخماس: جمع خمس: وہ اونٹ جن کو پانچویں دن پانی پلایا جائے، اسداس: جمع سدس: وہ اونٹ جن کو چھٹے دن پانی پلایا جائے۔ یہ اونٹ پیاسے جوتے ہیں۔ رگبتا: کے سفر کے لیے اونٹوں کو پیاس کا عادی بنانے کی غرض سے پہلے انہیں پانچویں دن اور پھر چھٹے دن ایک بار پانی پلاتے تھے۔

۱۰۱۸۔ إِذَا ضَرْبَتْ فَأُدْجِعُ وَإِذَا زَجَرْتُ فَأَسْمِعُ۔
"دار کے تو بھر پورا اور جھلکے تو اچھی طرح سناؤ،

۱۰۱۹۔ إِنَّكَ تُضْرَبُ فِي حَدِيدٍ بَارِدٍ۔

(تو ٹھنڈا لوہا پیٹ رہا ہے، بے نتیجہ کوشش کر رہا ہے۔

۱۰۲۰۔ أَرَأَيْكَ أَنْ يُضْرَبَ بِسَانَكَ عُنُقُكَ۔

(اس بات سے بچو کہ تمہاری زبان تمہاری گردن مار دے،

۱۰۲۱۔ ضَرْبُ الْخَيْبِ أَوْجَعُ۔

(دوست کی مار کا زیادہ دکھ ہوتا ہے،

۱۰۲۲۔ إِتْمَانًا لِيَضْرِبَكَ عَلَى إِبْرَائِيلَ۔

(وہ گھڑی پر ایک اور گھڑی ہے، یعنی بوجھ پر بوجھ۔ مصیبت پر

مصیبت۔ منف: ترو خشک ملی ہوئی گھاس کا ایک ٹکڑا۔

إِبْرَائِيلَ: گھاس یا کھڑی کا گٹھا۔

۱۰۲۳۔ كَذَّضَلَّ مَنْ كَانَتْ الْعُمَيَّانُ تَهْدِيهِ۔

(وہ گھوڑا بھی گیا جس کی رہنمائی اندھے کرتے ہوں،

۱۰۲۴۔ أَخْضَلُ مِنْ ضَبِّ۔

(گومے زیادہ گمراہ) جس کو اپنا بل نہیں ملتا۔

۱۰۲۵۔ إِنَّمَا يُضْنُ بِالضَّنِينِ۔

(بخیل کے ساتھ بخل کیا جاتا ہے، سخی کے ساتھ نہیں یا نفیس چیز

کے لیے بخل کیا جاتا ہے۔ ضنین: وہ چیز جس کی نفاست کی وجہ

سے اس کے دینے میں بخل کیا جائے۔

۱۰۲۶۔ أَيْضِي لِي أَقْدَمَ لَكَ۔

دو تیرے لیے مدد بخش کر میں تیرے لیے جتنا کہ سے آگ نکالوں گا،

تو تیرے لیے کام کر میں تیرے لیے کام کروں گا۔ یا میں تیرے

لیے جتنا کام کروں گا تو تیرے لیے اس سے زیادہ کر۔ مدد بخش کرنا

چھتاق سے آگ نکالنے سے زیادہ ہے۔

۱۰۲۷۔ لَا يَضِيْعُ حَقُّ ذَرَّاءَ طَالِبٍ۔

(وہ حق ضائع نہیں ہوگا جس کے پیچھے طلبگار موجود ہو۔

۱۰۲۸۔ لَسَوْ يَضِيْعُ مِنْ مَمَالِكِ مَا وَعَطَاكَ۔

(تیرے مال میں سے وہ حصہ ضائع نہیں ہوگا جس نے تیری خیر خواہی کی)

۱۰۲۹۔ أَضْيَعُ مِنْ سَوَاحِرِ فِي شَمْسٍ۔

(دھوپ میں چراغ سے زیادہ ضائع،

۱۰۳۰۔ أَضْيَعُ مِنْ غَمْدٍ يَلَا نُصْلٍ۔

(بغیر تلوار کی میان سے زیادہ بیکار،

۱۰۳۱۔ أَضْيَعُ مِنْ قَمَرِ الشَّيْءِ (جانوں کی چاندنی سے زیادہ بیکار،

غریب کی جوانی اور جانوں کی چاندنی ضائع جاتی ہے۔

۱۰۳۲۔ إِذَا ضَاقَكَ مَكْرُوْدَةٌ فَأَقْبِرْهَا صَبْرًا۔

(جب مصیبت مہمان ہو تو صبر سے اس کی ضیافت کرو،

۱۰۳۳۔ أَضْيَقُ مِنْ ظِلِّ الرَّفِيعِ (نیزے کے سائے سے زیادہ تنگ،

(۹)
ط

۱۰۳۴۔ تَطَأُ طَاءَ لَهَا تُخْتَبِكُ۔

(مصیبت کے تپانے سر جھکا لو تا کہ تم سے نشانہ خطا کر کے گذر

جائے، لہا میں ضمیر مؤنث حادثہ کی طرف راجع ہے، اسی طرح کی

مثل ہے: دَجَّ الشُّرَى يَعْبُرُ، شُرُؤُ جُوْدُوْ كُنَّ جَائِعًا۔

یعنی برائی سے بہت الجھو۔

۱۰۳۵۔ طَيْبٌ يُدَارِي النَّاسَ وَهُوَ مَرِيضٌ۔

(وہ طیب ہے جو لوگوں کا علاج کرتا ہے اور خود بیمار ہے، خود

بیمار ہیں اور دوسروں کی سیجان کرنے چلے ہیں۔

۱۰۳۶۔ يَا طَيْبُ طَبِّ نَفْسِكَ (طیب صاحب اپنا علاج کیجیے،

۱۰۳۷۔ الطَّبْعُ أَغْلَبُ (طبیعت زیادہ غالب ہوتی ہے،

۱۰۳۸۔ كَلَفُ الْفَتَى يُخَيِّرُ عَنْ جَنَابِهِ أَوْ عَنْ ضَعْفِهِ۔

(ان کی نگاہ اس کے دل کی فریفتی ہے یا اس کے ضمیر کی، کسی کا

مقرر ہے، لَا تَشَاهِدْ عَلَى عَرَبٍ أَعْدَلُ مِنْ طَرْفِ

عَلَى قَلْبٍ ذَكَرَى كَرَاهٍ كَسَى غَائِبٍ بِرَأْتِنَا عَادِلٍ نَبِيٍّ جَنَى كَرَاهٍ
قلب پر

۱۰۳۹۔ رَبِّ طُورٍ أَفْصَحَ مِنْ لِسَانٍ۔

رہت سی نگاہیں زبان سے زیادہ فصیح ہوتی ہیں، اسی طرح
ایک قول ہے: الْبُخْتُ تُبْدِيهِ لَكَ الْعَيْنَانِ (بمعنی کہ
آنکھیں تمہارے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں،

۱۰۴۰۔ الطَّرِيفُ حَقِيفٌ وَالتَّلِيدُ بَلِيدٌ۔

رنی چیز نیک اور لطیف ہوتی ہے اور پرانی چیز ٹھس، اسی کے ہم معنی
رنگل جَدِيدٌ كَدَّاءٌ (ہرنے کی لذت ہوتی ہے،

۱۰۴۱۔ أَطْرَقَ كَرَاتِ النَّعَامَةِ فِي الْقَوَى۔

دکان نظر جھکالے، شتر مرغ گاؤں میں موجود ہے، جب بڑوں کے
سامنے کوئی ذلیل و حقیر بڑھ چڑھ کر باتیں کرے، اطلاق العین،
نظر نیچے کرنا۔ کرا: کزدان (دیکھتے پرندہ ہے، کزدان یا کرا
دراصل کزدان کام خم ہے۔

۱۰۴۲۔ لَا تُطْعِمِ الْعَبْدَ الْكِرَاعَ فَيَطْمَعُ بِالْمَدَارِعِ۔

(غلام کو پاکھرت کھلاؤ ورنہ وہ دست کی طرح کرے گا، کینہ کو منہ
نہ لگاؤ ورنہ مرچڑھ جائے گا۔ کراع: چارپائے کے پاؤں کا ٹٹنے
سے نیچے والا حصہ اور انسان کے گھٹنے سے نیچے کا حصہ، ذراع:
وہ حصہ جو کراع سے اوپر ہے۔

۱۰۴۳۔ أَطْعَى مِنَ السَّيْلِ بِرَسِيَابٍ سَيَّابٍ زِيَادَةً مَرَكَشٍ،

۱۰۴۴۔ وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ كَدٍّ سَيِّدٌ رَكْرَقًا إِذَا

شَابَ الْغُرَابُ (جو بغیر مشقت اعلیٰ درجات طلب کرتا ہے
وہ انہیں اس وقت حاصل کرتا ہے جب کہ اسفید ہو جائے گا،

۱۰۴۵۔ مَنْ طَلَبَ أَخَا يَلَا عَيْبَ كَيْفِيٍّ يَلَا آيَةَ

(جو بے عیب بھائی تلاش کرے گا وہ بغیر جہنمی کے ہی رہے گا،

۱۰۴۶۔ مَنْ طَلَبَ عَظِيمًا خَاطِرًا يَعْظِيْمُ

(جو کوئی بڑی ہم طلب کرے گا وہ بڑے خطرہ کا سامنا کرے گا،

۱۰۴۷۔ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا نَالَهُ كَلَّةٌ أَوْ بَعْضُهُ۔

(جو کوئی کسی چیز کو طلب کرے گا وہ اس کے کل یا جز کو حاصل کرے
گے گا،

۱۰۴۸۔ تَطَلَّبُ أَثَرًا بَعْدَ عَيْنٍ۔

دراصل کے بعد نشان ڈھونڈ رہتے، سانپ نکل گیا کھیر پٹیا کر۔

۱۰۴۹۔ لَا أَطْلُبُ أَثَرًا بَعْدَ عَيْنٍ۔

میں اصل کے بعد اثر کو طلب نہیں کرتا، میں اصل کو چھوڑ کر
نقل کے پیچھے نہیں پڑتا۔

۱۰۵۰۔ كُلُّهُمْ طَالِبٌ صَبِيءٌ۔

(سب ایک ہی شکار کے طالب ہیں، "یک انار صد بیمار")

۱۰۵۱۔ رَبِّ طَلَبٍ جَزَّ إِلَى حَوْبٍ۔

دہشت سی طلب لڑائی تک پہنچا دیتی ہے،

۱۰۵۲۔ إِذَا طَلَعَ سَعِيلٌ رُفِعَ كَيْلٌ وَوُضِعَ كَيْلٌ

رجب سہیل طلوع ہوگا تو ایک پیمانہ اٹھ جائے گا، دوسرا رکھا
جائے گا، احکام و حالات کے تغیر کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

۱۰۵۳۔ إِذَا طَلَعَ الْقَمَرُ طَابَ الشَّهْرُ۔

(جب چاند نکلے گا تو بیداری و خوشحالی ہو جائے گی،

۱۰۵۴۔ أَطْمَعُ مِنَ الشَّعْبِ۔

(اشعب سے زیادہ حریص، اشعب مدینہ کا ایک مشہور حریص تھا
ایک مرتبہ کسی طباق بنانے والے کے پاس سے گزرا، کتنے لگا کہ
طباق کا گھیر بڑا بنائے، شاید اس طبق میں مجھے کوئی بدیہ بھیجے
تو اس میں زیادہ چیز سمائے گی۔

۱۰۵۵۔ أَطْمَعُ مِنَ طَفِيلٍ۔

(طفیل سے زیادہ حریص، طفیل کوفہ کا مشہور حریص تھا جو بغیر بلا
دعوتوں میں پہنچ جاتا تھا، اسی نسبت سے طامع اور لالچی کو
طفیلی کہتے ہیں۔

۱۰۵۶۔ مَنْ أَطَاعَ هَوَاؤَ بَاغِ دِينِهِ يَدُنِيَاكَ

(جس نے اپنی خواہش کی اطاعت کی اس نے اپنے دین کو دنیا
کے بدلے میں بیچ دیا۔

۱۰۵۷۔ مَنْ أَطَاعَ غَضَبَهُ أَضَاعَ آدِيَةَ

(جس نے اپنے غصہ کی اطاعت کی اس نے اپنا ادب ضائع کر دیا،

۱۰۵۸۔ بَيْنَ الْمَطِيْعِ وَبَيْنَ الْمُدْبِرِ الْعَاصِي

(فرمانبردار اور اوندھے، اعتماد اور بے اعتمادی کی حالت میں۔

۱۰۵۹۔ مَنْ يَكُلُ ذَيْلَهُ يَتَنَطَّقُ بِهِ

(جس کا دامن دراز ہوتا ہے وہ اس کا پٹکا باندھتا ہے، یعنی جس کے

پاس زیادہ دوات ہوتی ہے وہ غیر ضروری چیزوں میں بھی خرچ کرتا ہے۔

۱۰۶۰۔ اَطْوَلُ مِنْ قَبْلِ التَّوَلُّمِ رَنْبِرُہُ كَسَابِہُ سَے زیادہ لمبا،

۱۰۶۱۔ اَطْوَلُ مِنْ شَهْرِ النَّوْمِ (روزہ کے مہینے سے زیادہ لمبا)۔

۱۰۶۲۔ اَطْوَلُ مَحَبَّةً مِنَ الْفِرْقَانِ۔

رفیقین سے بھی زیادہ طویل محبت، فرقہ بین دوستاروں کا نام جو ہمیشہ یکجا رہتے ہیں۔

۱۰۶۳۔ مَا عِنْدَكَ طَائِلٌ وَلَا نَائِلٌ۔

نہ اس کے پاس علم فضل ہے یہ عطیہ، طول (بمعنی فضل) اور نال (بمعنی عطیہ)۔

۱۰۶۴۔ طَوَيْتُهُ عَلَى بِلَالِيہِ اَدْعَى بِلَالِيہِ۔

میں نے اس کو اس کی نئی پر ہی لپیٹ دیا، یعنی اس نے صحیفہ کو محبت کی وجہ سے یا بائید اصلاح برداشت کر لیا گھری دوہ کے مشکیزوں کو فال ہونے کے بعد تر ہی لپیٹ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے کھل جائیں۔

۱۰۶۵۔ يَكُلُّ طَيِّبٌ نَفْسُوہِ۔ (ہر لپیٹ کبھی کھلتا ہے)

۱۰۶۶۔ اَطْيَبُ مِنَ النَّفْسِ التَّرْبِيحُ مَرْمُہَا كِ بُوَا سَے زیادہ خوشگوار،

۱۰۶۷۔ اَطْيَبُ مِنَ الْحَيَاةِ۔ (زندگی سے زیادہ خوشگوار)

۱۰۶۸۔ طَارَتْ بِهِنَّ الْعَنْقَاؤُ۔

ان کو عنقا اڑانے گیا، ایسے لوگوں کے لیے بولتے ہیں جو تمام پاک برہائیں اور کول نہ چکے۔ عنقا، ایک فرضی پرندہ ہے۔

۱۰۶۹۔ اَطْيَبُ بِالطَّيْرِ يُصَادُ۔

(کبھی پرندہ سے پرندہ کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے)

۱۰۷۰۔ اِرَاتُ الطُّيُوسِ عَلَى اَشْجَارِهَا تَقَعُ۔

(پرندے اپنے ہم فکلیں پر پڑتے ہیں)

۱۰۷۱۔ اَطْيَبُ مِنْ كَرَامَتِيہِ۔

دہقانہ سے زیادہ طیبش میں آنے والا، جو بے سوچے کچھ اپنے

آپ کو آگ میں جھونک دیتا ہے،

۱۰۷۲۔ يُطَيِّبُنُ عَيْنِيہِ الشَّمْسِ۔

دجستہ آفتاب پر مٹی ڈالتا ہے، چاند پر خاک ڈالتا ہے

(۱۹۰۰)

ظ

۱۰۷۳۔ ظَلَمْتُ رُوْمًا خَيْرًا مِنْ اُمِّ سَسُوْمِہِ۔

دھربان دایہ طول مال سے بہتر ہے، ظنرا دایہ۔ رُوْمٌ: مشفق و مہربان، سَسُوْمٌ: اکتا یا ہوا، طول۔

۱۰۷۴۔ مِنَ الظُّلْمِ جُودُ السُّهْدِيہِ بِالظُّلْمِ۔

دستد دینے والے کی طرف سے برتن کی بھی سخاوت دانائی کی بات، الظلم: اول یعنی دانائی، اور الظرف: دوم یعنی برتن۔

۱۰۷۵۔ الظُّلْمُ بِالظُّلْمِ ظُلْمٌ مَرْمُہِ۔

دگر در پر فتح پانا فکست ہم کزور کے مقابلہ میں جیت بھی اپنی ہار ہے

۱۰۷۶۔ ظَلُّ الشُّلْطَانِ سَرِيْعُ الْاَدْوَالِ۔

(بادشاہ کا سایہ سریع الزوال ہوتا ہے)

۱۰۷۷۔ ظِلَالٌ صَنِيعٌ مَا كَرِهَا قَطَارُہِ۔

دگر میوں کے بادلوں میں قطار نہیں ہوتی ابے فیض ملدار کے لیے کہا جاتا ہے۔ ظلال، سایہ دار ہادل۔

۱۰۷۸۔ ظَلَمْتُ الْمَرْءَ وَيَعْرِفُهُ (آہی کا ظلم ہی اس کو پہچان دیتا ہے)

۱۰۷۹۔ الظُّلْمُ مَرْتَعَةُ وَخِيْنِہِ۔

ظلم کی ہر گاہ ناقص ہے، ظلم کی عاقبت مذموم ہے۔

۱۰۸۰۔ اَظْلَمُ مِنْ حَيَاةِ (سانہ سے زیادہ ظالم)

۱۰۸۱۔ اَظْلَمُ مِنْ اَطْفَى (سیاہ سانہ سے زیادہ ظالم)

۱۰۸۲۔ اَظْلَمُ مِنْ لَيْلِ (رات سے زیادہ سیاہ)

۱۰۸۳۔ اَظْلَمُ مِنْ رَمْلِ (ریت سے زیادہ پیاسا)

۱۰۸۴۔ يُصَيِّرُ كَلِمَاتٍ وَفِي الْبَحْرِ كَمَلَاہِ۔

(صبح ہونے کے پہلے سا ہوتا ہے حالانکہ بحر سمندر میں ہے)

ملدار بیل کے لیے بولتے ہیں۔

۱۰۸۵۔ كَرِيحُ الْعَارِقِ تَحِيْرٌ مِنَ الْيَقِيْنِ الْجَاهِلِ۔

دھنڈ کا گان جاہل کے یقین سے بہتر ہے،

۱۰۸۶۔ مَا ظَلَمْتُكَ بِجَارِكِ؟ قَالَ ظَلَمْتُ بِنَفْسِيہِ!

تیرا گن اپنے ہوش کے متعلق کیا ہے؟ کہا وہ گناہ جو اپنی ذات

کے متعلق ہے، آدمی اپنے اور ہی قیاس کرتا ہے۔

۱۰۸۷۔ اَكْثَرُ الْمَلَكُوتِ مَيُّوتٌ .

داکٹر گمان فریب ہوتے ہیں، میٹنگ، جمع میں یعنی جھوٹ۔ فریب۔

۱۰۸۸۔ عَنْ قَطْرِهَا تُجِئُ وَهَرَا .

راہنی ہی کرا بوجھ کھول رہی ہے، اپنی ہی مشکل حل کرتی ہے۔

وقرہ: بھاری بوجھ۔

۱۰۸۹۔ ظَاهِرُ الْعِتَابِ خَيْرٌ مِنْ بَاطِنِ الْحَقِيدِ .

ظاہری عتاب باطنی کینہ سے بہتر ہے، تقریباً اسی معنی کا مقولہ ہے،

۱۰۹۰۔ دَيِّقُ الْوَدِّ مَا بَقِيَ الْعِتَابِ .

رحمت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک عتاب باقی ہے،

(۷۰)

ع

۱۰۹۱۔ عَبْدٌ وَجَبِيٌّ فِي يَدَيْهِ .

غلام اور اس کے اہتوں میں زیور، کوسے کی چوڑی میں انگور۔

۱۰۹۲۔ عَبْدٌ وَسَوْمٌ .

غلام اور بے ہمار، یعنی کینہ اور بے لگام۔ سؤمہ: بمعنی اس کو

آداد چھوڑ دیا۔

۱۰۹۳۔ عَبْدٌ غَيْرُكَ حَوْثٌ مِثْلُكَ .

غیر کا غلام تمہاری طرح آزاد ہے، اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو

بے ہنر ہوتے ہوئے خود کو وہ سروں پر فوقیت سے۔

۱۰۹۴۔ الْعَبْدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا وَالْحَيُّ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ .

غلام کو ڈٹسے سے کھٹایا جاتا ہے اور آزاد کو اشارہ کافی ہے،

۱۰۹۵۔ الْعَبْدُ مَنْ لَا عَبْدَ لَهُ (غلام وہ ہے جس کا کوئی غلام نہ ہو، اس کو

اپنے کام غلام کی طرح خودی انجام دینے پڑیں گے۔

۱۰۹۶۔ فِي الْإِخْتِبَارِ غِنَى عَيْنِ الْإِخْتِبَارِ .

رجت حاصل کرنے میں امتحان سے بے نیازی ہے، یعنی دیکھ کر جرت حاصل

کرنے کے بعد اس جیسے معاملہ میں آزمانے کی ضرورت نہیں۔

۱۰۹۷۔ التَّعْيِيرُ نِصْفُ الْبِجَارَةِ .

۱۰۹۸۔ مَنْ عَتَبَ عَلَى الدَّهْرِ طَالَتْ مَعْتَبَتُهُ .

جس نے زمانہ پر عتاب کیا اس کا عتاب طویل ہو گیا، زمانہ کبھی

تکلیف سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس پر عتاب سے کبھی

فراغت نہیں مل سکتی۔ مَعْتَبَتُهُ: عتاب۔

۱۰۹۹۔ الْعِتَابُ خَيْرٌ مِنْ مَكْتُومِ الْخَطْبِ .

عتاب بچے ہوئے کیوں سے بہتر ہے،

۱۱۰۰۔ الْعِتَابُ قَبْلَ الْعِقَابِ .

سزا سے پہلے عتاب کرو، العتاب: فعل محذوف استعمال کا مفعول

ہے۔ یعنی اصلاح کے لیے سزا سے پہلے عتاب کو استعمال کرو۔

۱۱۰۱۔ لَا عِتَابَ بَعْدَ الْمَوْتِ .

۱۱۰۲۔ مَعَاتِبَةُ الْإِخْوَانِ خَيْرٌ مِنْ قَتْلِ هُوَ .

دہائیوں کا تارا تنگی ان کے نہ ہونے سے بہتر ہے، اسی طرح کہتے

ہیں: "وَفِي الْعِتَابِ حَيَاةٌ بَيْنَ أَقْوَامٍ" (عتاب میں قوموں

کی زندگی میں)

۱۱۰۳۔ رَبُّ يَتَّقِي شَرَّ مِنْ بَقِيٍّ .

۱۱۰۴۔ عَثْرَةُ الْقَدَمِ أَسْوَدُ مِنْ عَثْرَةِ اللِّسَانِ .

۱۱۰۵۔ مَا كُلُّ عَثْرَةٍ تُقَالُ وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ تَنَالُ .

۱۱۰۶۔ لَا يَعْجِزُ الْقَوْمُ إِذَا تَعَاوَنُوا .

۱۱۰۷۔

۱۱۰۸۔

۱۱۰۹۔

۱۱۱۰۔

۱۱۱۱۔

۱۱۱۲۔

۱۱۱۳۔

۱۱۱۴۔

۱۱۱۵۔

۱۱۱۶۔

۱۱۱۷۔

۱۱۱۸۔

۱۱۱۹۔

۱۱۲۰۔

۱۱۲۱۔

۱۱۲۲۔

آئی اس پر صحت سے کہا: لَا تُعَدُّمُ الْمَعْسَاءَ فِي أَمَانٍ.

۱۱۱۳۔ لَا يُعَدُّمُ الْحَوَارِ مِنْ أَيْمِهِ حَلَاةٌ.

رکھو اذنی کا پھلپن ماں کی شفقت نہیں کھوتا، حوا، اذنی کا

نومرود بھی، حوا، مرزا، شفقت

۱۱۱۴۔ الْعَدِيَّةُ مِنَ اخْتَابِجِرَ إِلَى لَيْثِيَّةٍ.

(مجلس وہ ہے جو کچھ کا محتاج ہو جائے)

۱۱۱۵۔ مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ.

جس نے حق سے تجاوز کیا اس کا راستہ تنگ ہو گیا.

۱۱۱۶۔ أَعْدَى مِنَ التَّلِيكِ (سُيُكِبُ) زِيَادَةً دُوَلْتُهُ وَاللَّهِ

۱۱۱۷۔ أَعْدَى مِنَ الشَّنْقَرِيِّ (شَنْغَرِي) سِيَادَةً دَوْلَتُهُ مَالًا

عَدُوٌّ: یعنی تیز دوزن۔ یہ دونوں عرب میں مشہور تیز دوزن تھے۔

۱۱۱۸۔ أَعْدَى مِنَ الْعَقْرَبِ (بچھو سے زیادہ دشمن) - صِدَاةٌ

سے ماخوذ ہے۔

۱۱۱۹۔ أَخَذَى مِنَ الْجَبْرِ.

دکھیل سے زیادہ متعدی (عدوی سے مشتق ہے یعنی ایک سے دوسرے

کو مرتلک جانا۔ چھت لگنا.

۱۱۲۰۔ إِيَّاكَ دَمَا يُعْتَدَّرُ وَنَهْ.

(اس چیز سے بجز جس سے معذرت طلب کی جائے) ایسا کام ہی نہ

کر دو جس سے معذرت کی ضرورت پیش آئے۔

۱۱۲۱۔ وَالْعُدْرُ عِنْدَ كِتَابِ النَّاسِ مَقْبُولٌ.

(معذرت شریف لوگوں کے یہاں مقبول ہوتی ہے)

۱۱۲۲۔ لَعَلَّ لَهُ عُدْرًا إِذَا قَاتَتْ تَلُومٌ.

(شاید اس کو عذر ہو اور تو اس کو طاعت کرنا ہو) معذرت اول یہ ہے:

۱۱۲۳۔ تَأْتِي وَلَا تَجْعَلُ بِلَوْ مِلْكٍ حَاجِبًا (ا) بَسْطِي سَعِي كَامِ لَوَاوِرِ

اپنے ساتھی کو طاعت کرنے میں جلدی نہ کرو۔

۱۱۲۴۔ أَعْتَدَرُ مَنْ أُنْذَرَ (اس نے تو عذر پیش کر دیا جس نے ڈرایا تھا)

مصیبت کے لیے اب اس کو طاعت نہیں کی جاسکتی۔

۱۱۲۵۔ الْمَعَاذِرُ مَكَاذِبٌ وَعُدْرًا كَثْرُ جَهْلِيَّةٍ هَوْتِي فِي

معاذرت جمع معذرت اور مکاذب جمع کذب، بخلاف تياس جیسے

کہ محارم جمع عقن۔ اسی معنی میں ہے، الْمَعَاذِرُ قَدْ يَشْتَرِبُنَا

الْكُذْبُ - معذرت میں کبھی کذب ملا ہوتا ہے۔

۱۱۲۶۔ نَجَالَةٌ تَعْتَقِلُ الرِّمَاحَ.

پھیل ہے ہر گونیزوں کو گھوڑے پر نصب کیے ہوئے ہے۔

جینیت سے زیادہ یعنی مارتا ہے۔ نَجَالَةٌ جمع رَجُلٌ: پھیل جمع

جس کے پاس گھوڑے نہ ہوں۔ اعتقال، سوار کا نیزہ کو گھوڑے

کے پہلو امدان کے درمیان قائم رکھنا۔

۱۱۲۷۔ عَيْرٌ مِنْ بَلْغَرِيَّةٍ وَلَا تَبَاجُثٌ.

دشمن سے اشارہ کنایہ سے کہو۔ عافیت کو، بخت، ہر

چیز کا خالص اور صاف حصہ۔

۱۱۲۸۔ إِنَّ فِي الْمَعَارِيفِ لَمَعْدُودَةً عَنِ الْكَيْدِ بَدِ

دکھائیوں میں بھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے، توفیق: جمع معرض

ظاہری معنی چھوڑ کر دور کے معنی مراد لیتا، مندو حوا، وسعت و

گنجائش۔

۱۱۲۹۔ عَرَفَتِ الْخَيْلُ قُرُوسًا نَحَا.

گھوڑوں نے اپنے ساروں کو پہچان لیا ہے، حریف کی طاقت کا

انمازہ کر کے اس کے سامنے جھک گیا۔

۱۱۳۰۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ.

(جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا)

۱۱۳۱۔ مَنْ عَرَفَ بَشِيًّا نَسِبَ إِلَيْهِ.

(جو شخص کسی چیز کے ذریعہ پہچان لیا اس کی طرف منسوب ہو گیا)

۱۱۳۲۔ لَا يَعْرِفُ الْحَقُّ مِنَ الْبُغْيِ.

حق کو باطل سے متاثر نہیں کر سکتا، حق: یعنی حق یا کلام ظاہر، حق:

یعنی باطل یا کلام ظنی اس شخص پر بولا جاتا ہے۔

۱۱۳۳۔ لَا يَعْرِفُ الْعُودُ كَا نَعَا حَبِيرٍ.

دکھائی کو چہنے والے کی طرح کون سا نہیں معلوم کر سکتا، کسی

چیز کو وہی جان سکتا ہے جو اچھی طرح جاننے کو کہے۔ عالم دکھائی

کو چہا کر معلوم کرنے والا۔

۱۱۳۴۔ مَا يَعْرِفُ قَدْرَ مَلَأَتْ حَبِيرٍ.

رانے والے کو جاننے والے سے متاثر نہیں کر سکتا،

۱۱۳۵۔ لَا يَعْرِفُ الْكُذْبُ مِنَ الْبُؤْسِ.

وہ اتنے کی بڑی کو پاؤں کی ٹہنی سے متاثر نہیں کر سکتا، کُذْبٌ، انگوٹھے

میں سے بڑی، بُؤْسٌ، پاؤں کے انگوٹھے سے منسلک بڑی۔

راہق حاطہ گھوڑے سے زیادہ نایاب، یعنی نادر نایاب، اہلق نر
گھوڑے کہتے ہیں اور عقوقی حاطہ گھوڑی کو۔ ڈگھوڑا حاطہ نہیں ہو
سکتا۔ کوئی شخص ناممکن چیز طلب کرے تو کما جاتا ہے کہ اہلق عقوق
مانگ رہا ہے یعنی ایسی چیز مانگتا ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی۔

۱۱۴۸۔ اَعَزُّ مِنْ بَيْعِنِ الْاَلْوَقِ۔

دشکرہ کے اٹھوں سے زیادہ نایاب، کما جاتا ہے کہ اہلق دشکرہ یا
عقاب کے اٹھوں تک رسائی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ پہاڑ کی چوٹیوں
اور دشوار گزار گھاٹیوں میں اٹھے دیتا ہے۔

۱۱۴۹۔ اَعَزُّ مِنَ الْغُدَابِ الْاَعْصَمِ۔

(سفید پاؤں والے کوسے سے زیادہ نایاب) اَعْصَمُ: سفید پاؤں کا کورا۔

۱۱۵۰۔ اَعَزُّ مِنَ الْاِكْبَرِيَّتِ الْاَحْمَرِ (سرخ گندھک سے زیادہ نایاب)

۱۱۵۱۔ اَعَزُّ مِنْ عُنُقَاءٍ مُخْرِبٍ (عنقا سے زیادہ نایاب)

۱۱۵۲۔ اَعَزُّ مِنْ كَيْزِ الْبَعُوْضِ (مچھر کے مغز سے زیادہ نایاب)

۱۱۵۳۔ اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ (تنگی کے بعد یقینی فراخی ہے)

۱۱۵۴۔ لَيْسَ هَذَا بِعَيْشِكَ قَادِرٌ بِحِي۔

یہ تیرا گھوسلا نہیں ہے لہذا چلی جا، یہاں تمہاری دال نہیں گلتی؛

۱۱۵۵۔ اَعْشَبَتْ قَانُزِلَ۔

ترگھاس پر پہنچ گیا ہے لہذا تڑپ متھما حاصل ہو گیا۔ اب قناعت

کو۔ اَعْشَبَ الرَّجُلُ: یعنی ترگھاس پالینا۔

۱۱۵۶۔ بِكَيْلِ عَشْبِ اَثَادِ رَعِي۔

دہرگھاس میں چرنے کے آثار موجود ہیں، جہاں دولت ہو، وہاں

مانگنے والے بہت؛

۱۱۵۷۔ تَعَاشَرُوا كَالْاِخْوَانِ وَتَعَامَلُوا كَالْاَجَانِبِ۔

(بھائیوں کی طرح بسر کرو اور اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو) یعنی

معاملات بالکل صاف رکھو۔

۱۱۵۸۔ اِنَّ الْعَصَا مِنَ الْعَصِيَّةِ۔

لاٹلی چڑی سے ہی بنتی ہے، ہر چڑی چیز ابتدا میں چھوٹی ہی ہوتی ہے۔

عصیہ: عصا کی تصنیف ہے۔ یا عصا ایک گھوڑے کا اور عَصِيَّةُ اس کی ماں

کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ گھوڑا اپنی ماں کی نسل ہے۔ اصل سے

مشابہت کے موقع پر بولا جاتا ہے۔

۱۱۵۹۔ بَيْنَ الْعَصَا وَالْحَاثِمَا۔

۱۱۳۶۔ لَا يَعْرِفُ الْبَكَعُ مِنَ الْبَاعِ۔

دو گھٹک بڑی اور پھیلے ہوئے ہاتھوں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ کاغذ اپنے

کی بڑی۔ باع: دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی مقدار۔

۱۱۳۷۔ لَا يَعْرِفُ الْهَمْدُ مِنَ الْبَيْرِ۔

دوہ تہی اور چوہے میں فرق نہیں کرتا، ہر تہی، بڑا چوہا۔

۱۱۳۸۔ الْاِعْتِرَافُ يَهْدِمُ الْاِقْتِرَافَ۔

داخرا کر لینا ارتکاب (جرم) کو ختم کر دیتا ہے)

۱۱۳۹۔ مَنْ عَزَّ بَلَدَهُ رَخَّابَ اَيَّاسَ لَمْ يَحْيَا لِيَا۔

۱۱۴۰۔ اِذَا عَزَّ اَخُوكَ فَهَمُّنْ۔

(جب تیرا بھائی عزت پائے تو تو نرم ہو جا، وہ عزیز ہو کر بھی غمزدور نہیں

کرے گا یا وہ سخت ہو تو نرمی اختیار کر، ورنہ قلعہ ختم ہو جائے گا۔

۱۱۴۱۔ يَحْزَنُ الرَّجُلُ لِمَسْتَعْنَاةٍ عَنِ النَّاسِ۔

آدمی کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہو جانا ہے،

۱۱۴۲۔ اَعَزُّ مِنْ كَلْبِ دَائِلِ۔

دائیل کے کتے سے زیادہ معزز قبیلہ بیوع کے سردار کلیب بن ربیعہ

بن حارث کا اصلی نام حارث بن وائل تھا۔ یہ بڑا معزز سردار تھا۔ اس

کی کسی چیز کی طرف کوئی شخص نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب

کوئی قطعہ زمین اس کو پسند آجاتا تو وہ اپنے ایک چھوٹے سے

کتے کو وہاں چھوڑ دیتا، جہاں تک کتے کے بھونکنے کی آواز جاتی وہ اس

کا مخصوص قطعہ ہو جاتا، اس طرح چوگاہ کی حدود وہ کتا مقرر کرتا تھا۔

اسی وجہ سے اَعَزُّ مِنْ كَلْبِ دَائِلِ مشہور ہو گیا۔ پھر یہ کتا اتنا مشہور

ہوا کہ لوگ وائل کا نام ہی کلیب سمجھنے لگے۔

۱۱۴۳۔ اَعَزُّ مِنَ النَّبَاةِ۔

(زباہ سے زیادہ معزز) زباہ علاقہ کی ایک عورت جو حیرہ کی حکمران تھی،

شکر کے ساتھ خود حملہ آور ہوتی تھی، اس نے سوائیل کے دو مضبوط

قلعوں نابوہ اور اہلق پر حملہ کیا تھا۔ یہ عورت عجب ہمت و قوت لشکر

اور عزم بالجزم میں مشہور تھی۔

۱۱۴۴۔ اَعَزُّ مِنَ الْاَنْفِ الْاَسَدِ۔ (شیر کی ناک سے زیادہ عزت والا)

۱۱۴۵۔ اَعَزُّ مِنْ جَهَنَّمَ الْاَسَدِ (شیر کی پیشانی سے زیادہ عزت والا)

۱۱۴۶۔ اَعَزُّ مِنَ الْاَبْلَقِ الْجَوْدِ فَخَاكَ عَقَابَ سَ مِنْ يَادِهِ عَزَّتْ وَالَا

۱۱۴۷۔ اَعَزُّ مِنَ الْاَبْلَقِ الْعَقُوقِ۔

دہر عالم کے لیے کوئی نہ کوئی لغزش ہے، ہفتواً بغزش۔ اسی کے لیے
بِکَلِّ تَوَادُّوْهُ دہر گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، یا بِکَلِّ قَادِمِ بَهْوَةٍ۔

دہر تلوار کبھی نہ کبھی اچٹ جاتی ہے۔

۱۱۹۲۔ الْعُلَمَاءُ أُمَّتَاءُ الْمَلِكِ عَلَى خَلْفِهِ

(علماء مخلوق خدا پر خدا کے امین ہیں)

۱۱۹۳۔ أَعْلَمُ بِهَا مَنْ عَشَّ بِهَا

(اس کو وہی زیادہ جانتا ہے جس کو اس کا اچھو لگا ہے، جس نے

بتا ہے وہی اس کو زیادہ جانتا ہے۔

۱۱۹۴۔ أَعْلَامُ أَرْضٍ جُعِلَتْ رِطَابًا

(زمین کے ہاٹ پست زمین بنا دیے گئے، جب کہیں کے معزز لوگ

ذیل کر دیے جائیں۔

۱۱۹۵۔ مَنْ عَلَّتْ هَمَّتْ طَالَ هَمُّهُ

(جس کی ہمت بلند ہوگی اس کا فکر بھی طویل ہوگا۔)

۱۱۹۶۔ أَعْمُرْ مِنْ حَيْثُ

(سانپ سے زیادہ عمر والا، خیال تھا کہ سانپ کو جب تک مارا نہ جائے

وہ نہیں مرتا۔ نیز یہ کہ ٹوٹ ٹوٹ کر سانپ سے سانپ بنتا رہتا ہے۔

۱۱۹۷۔ أَعْمُرْ مِنْ نَسِي

(گدہ سے زیادہ عمر والا، مشہور ہے کہ اس کی عمر پانچ سو سال ہوتی ہے۔

۱۱۹۸۔ بِكَلِّ عَمَلٍ تَوَابٌ وَ بِكَلِّ كَلَامٍ جَوَابٌ

(ہر عمل کی جزا ہے اور ہر کلام کا جواب ہے۔)

۱۱۹۹۔ الْأَعْمَالُ بِمَنْحَوَاتِهَا

(اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے، یہی مطلب ہے اس قول کا کہ: خَيْرُ

الْأُمُورِ أَحْسَنُهَا مَعْبُوتٌ۔ (بہترین کام وہ ہے جو قابل

تعریف انجام کا حامل ہو۔

۱۲۰۰۔ يَا كَلِّ اغْنَىٰ وَ اسْمِعِي يَا جَارَةَ

(تجھے ہی مراد لیتا ہوں اور سن لے لے لو بڑی، جب کوئی تجھ بل

عارفانہ کرے یا محزون، راکو ظاہر کرے۔

۱۲۰۱۔ وَمِنْ الْعَنَاءِ رِيَاضَةُ الْقَلْبِ

(بڑھاپے میں ریاضت اور مجاہدہ زحمت ہے، عمل بھی مشکل اور

تجربہ بھی غیر یقینی۔

۱۲۰۲۔ إِذَا الْأُمُورُ إِلَىٰ نِصَابِهِ (معاہدے کے اصل کی طرف لوٹ آیا،

۱۱۷۸۔ الْعَقْلُ وَ زَيْدٌ نَاصِحٌ رَعْلٌ فِرْعَوْنُ وَ زَيْدٌ

۱۱۷۹۔ عَقْلُ السَّرَاةِ فِي تَحَالِيهَا وَ جَهْلُ الْمَرْءِ فِي عَقْدِهِ

(عورت کی عقل اس کی خوبصورتی میں ہے اور آدمی کی خوبصورتی

اس کی عقل میں ہے)

۱۱۸۰۔ أَعْقَلُ النَّاسِ أَعَذَّرَهُ لِنَاسٍ

(سب لوگوں میں زیادہ عقلمند وہ ہے جو لوگوں کا عند زیادہ قبول کرنے والا ہے)

۱۱۸۱۔ بِعِلَّةِ الزَّرْعِ يُسْقَى الْقَرْعُ

(کھیتی کی وجہ سے کد کو بھی پانی پلا دیا جاتا ہے)

۱۱۸۲۔ بِعِلَّةِ الْوَرِثَانِ يَأْكُلُ رُطْبُ الْمَثَانِ

(ورثان کے بہانے کھجوریں کھا رہے، ورثان، کبوتر کی قسم کا

ایک پرندہ ہے، مَثَانُ: کھجور کی ایک بہترین قسم ہے، شکاری اپنے

شکار کا پیچھا کرنے کے بہانے غلستان میں گھس کر کھجوریں کھا رہے)

۱۱۸۳۔ أَعْلَقُ مِنْ خُورِدٍ

(چھڑی سے زیادہ چٹنے والا، چھڑی کی طرح چٹ گیا۔)

۱۱۸۴۔ لَيْسَ الْمُتَعَلِّقُ كَالْمُتَأَنِّقِ

(تھوڑی چیز پر اتکا کرنے والا ہیٹ بھرے کی طرح نہیں، متائق: اپنے

فدق کے مطابق پسندیدہ چیز کو چھانٹ لینے والا۔)

۱۱۸۵۔ يَعْلَمُ مِنْ آيَاتِ (أَوْ مِنْ حَيْثُ) تَوَكَّلِ الْكَيْفُ

(وہ جانتا ہے کہ شانہ دوست، کو کہاں سے یا کس طرح کھایا جاتا

یعنی کام کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ شانہ سے گوشت چھڑا کر اگر

بے سلیقہ کھایا جائے تو اگر اپنے ارد گردوں کے کپڑے خواب

کرتا ہے۔)

۱۱۸۶۔ مَا كَلَّ يَعْلَمُ يُقَالُ (بہت چیزوں کو معلوم نہ کی جاتی ضروری نہیں)

۱۱۸۷۔ لَا تَعْلَمُ الْيَتِيمَ الْجَمَادُ دَقِيمٌ كَوَرْتَانَهُ سَكَمَانَا

۱۱۸۸۔ عِلْمُ الشَّيْءِ لَا يَجْعَلُهُ دَقِيمٌ كَوَرْتَانَهُ دَقِيمٌ كَوَرْتَانَهُ

۱۱۸۹۔ الْعِلْمُ فِي الْعُسْرِ وَرَوَى فِي الشُّكْرِ

(علم بیروز میں ہے نہ کہ سفر میں، علم دسینہ باید نہ در سسینہ)

۱۱۹۰۔ رَأَى لَعْلَمٌ بِمَنَابِتِ الْقُصَيْصِ

(وہ قصص کے لگنے کے مقامات کو جاننے والا ہے، قصص: جمع

قصصہ۔ ایک ہندو ہے جو کھنبی کے پاس لکھا ہے۔)

۱۱۹۱۔ بِكَلِّ عَالِمٍ كَهْفُوتَةٍ

۱۲۰۳۔ عَادَتْ لِوَثْرَهَا لَمْ تَسِرْ فِيهَا

(میں اپنی مادت کی طرف لوٹ گئی، میں ایک عورت کا نام تھا۔

۱۲۰۴۔ عَوَّدْتُ كَعْدَاً قَادَاً قَا ضَبْرُ كَفَاً

تو نے کدو کی ایک مادت کا اثر بنا دیا ہے لہذا اب صبر کرو،

۱۲۰۵۔ عَوَّدِي اِلَى مُتَابِرِ كَيْفٍ

دلہنے! ظکاہ تھاں کی طرف لوٹ آ، یعنی پہلی حالت پر واپس آ جا۔

۱۲۰۶۔ الْعَوْدُ اِحْتَدُ

(لوٹنا زیادہ قابل تعریف ہے، اچھا کام کرنا محمود ہے تو اس کو دوبارہ

کرنا زیادہ محمود ہوگا۔ یہ فعل اس شعر سے ماخوذ ہے۔

وَ اَحْسَنُ تَمْرًا وَ فِي اَبْنِي كَانُ بَيْنَا وَ هُوَ عَادَ بِالْاِحْسَانِ فَالْعَوْدُ اِحْتَدُ

دو مرتبے بارے باہمی معاملات میں احسان کیا اور اگر اس نے

پھر احسان کو دہرایا تو زیادہ محمود ہے۔

۱۲۰۷۔ يَكُنِّي عُوْدٌ عَصَا رَهْ

دہر کر دی کا ایک بچہ ہے، عَصَا رَهْ، رس، بچہ، چریا۔ کر دی چہا

میں بیٹی ہے تو اس کا رس ہی بیٹا ہوگا اور کر دی ہے تو کڑوا ہے

یعنی بڑا بھرا کا ایک باطن ہی ہوتا ہے۔

۱۲۰۸۔ مَا كَلَّ عُوْدٌ وَ تَصَابٌ

دہر چھپے ہوئے خلل کا صبح پتہ نہیں لگ جاتا۔ محض اندازہ ہوتا

ہے اور اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

۱۲۰۹۔ يَهْتَسُ الْجَوْعَى مِنْ جَمَلٍ قَيْدَاً

(اونٹ کے بدلے اس کے پاؤں کی رسی بڑا بدلہ ہے کسی چرواہے

نے اونٹ کھو کر اس کے پاؤں باندھنے کی رسی آقا کو لاکر دی تو

آقا نے کہا تھا۔

۱۲۱۰۔ مَنِ اعَانَكَ عَلَى الْبُغْرِ ظَلَمَكَ

(جس نے شر میں تمہاری مدد کی اس نے تم پر ظلم کیا،

۱۲۱۱۔ اِعْنِ اَحَاكَ وَ كُوْبَا لِقَوْتِ

(دلہنے! بھائی کی مدد کر خواہ آواز سے ہی ہو،

۱۲۱۲۔ اِعْنِي وَ خَلَاكَ دَوْمٌ

(میری مدد کر اور مذمت تجھ سے دور ہو جائیگی، طلبِ امداد کے

مادہ دور نہ کرنے کا عیب دور ہو جائے گا۔

۱۲۱۳۔ مَا يُعْوَى وَلَا يُنْبَعُ

دہر پیراتا ہے نہ بھونکتا ہے، کَبْحٌ اِلَادِمٌ اَوْ مَتَعِي هُوَ اَوْ مَتَعِي

بلو اسطر بھی جیسے كَبْحٌ اَلْكَلْبُ الْفَلَانَا۔ اور اسطر علی بھی جیسے

كَبْحٌ اَلْكَلْبُ عَلَيْهِ مَتَعِي مَعْنَى فِي اسْتِكْمَالِ كَرْنَا هُوَ تَوَكَّبُ كَبْحٌ كِي بَابُ

حَوَاءٌ اسْتِكْمَالِ كَرْتِي هِيَ۔ مثال کے معنی ہیں، نہ کاٹنے کا نہ

بھونکنے کا۔ بیکار اور نکما۔ يُعْوَى وَ يُنْبَعُ (بعض معروف) بھی

مثال میں مستعمل ہے۔ مطلب یہ کہ نہ خوفناک دیتا ہے نہ ڈراتا

ہے۔ کیونکہ کہنے کا بھونکنا مسان کی آمد کی خوفناکی ہوتی ہے اور

بھونکنے کا غرانا حملہ کرنے کی علامت ہے۔

۱۲۱۴۔ لَا فِي الْعِيُوْدِ لَا فِي التَّغْيِيْرِ

دنہ میری اور نہ تغیر میں، چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی صلاحیت

نہیں رکھتا۔ اس بنا پر حقیر سمجھا جاتا ہو۔ عیْرٌ، اذُنٌ یا

گدھوں کا قافلہ یا صرف قافلہ۔ لَغِيْرٌ، وہ جماعت جو دس سے کم

تعداد میں ہو۔ یا عِيْرٌ سے قریش کے اس قافلہ کی طرف

اشارہ جو ابوسفیان کے ساتھ شام سے آرہا تھا اور لَغِيْرٌ کہ

کا وہ بڑا قافلہ جو معتبرین ربیع کی سرکردگی میں اس قافلے کی

حمایت میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ جس کی بنا پر

غزوہ بدر پیش آیا۔ جو عیْر و لَغِيْرٌ سے کسی میں شریک نہیں ہوا

اس کو عار دلانے کے لیے یہ مقولہ کہا گیا تھا۔

۱۲۱۵۔ مَهْمَا كَحِشٌ تَرَوَا

(جتنا تو زندہ رہے گا دیکھے گا، ترہ میں بار و قفسی ہے اور

ترہ کا مفعول محذوف ہے۔ اصل یہ ہے مَا دُمَّا حَيًّا تَرَى

أَشْيَاءَ وَ مَجِيْبَةٌ۔ (جب تک زندہ رہے گا، جمادات دیکھتا

رہے گا، حارث۔

۱۲۱۶۔ عِشٌّ تَرَوَا مَا لَمْ تَرَوْا

(زندہ رہو، وہ دیکھے گا جو تم نے نہیں دیکھا،

۱۲۱۷۔ عِشٌّ رَجَبًا كَرَّ عَجَبًا

(رجب کے مہینے تک زندہ رہو، جمادات دیکھے گا، حارث) اس

عبارت نے اپنی زبان دراز سوری کو طلاق دیدی تھی۔ عورت

نے جس شخص کو دوسری شادی کے لیے تیار کیا وہ ایک روز

حارث کو مل گیا تو حارث نے عورت کے بڑے حالات کی طرف

اشارہ کر کے کہا: رَجَبٌ كَرَّ عَجَبًا، جمادات دیکھنا۔ عنت کے

دیکھتا ہوں۔

۱۲۲۷۔ لَيْسَ لِعَيْنٍ مَّارَاتٍ .

آنکھ کے لیے نہیں ہے جو کچھ اس نے دیکھ لیا،

۱۲۲۸۔ الْعَيَانُ لَا يُحْتَابُ إِلَى الْبَيَانِ .

آنکھوں دیکھی چیز بیان کی محتاج نہیں، عیاں راہ بیان۔

۱۲۲۹۔ عَجَى صَامِتًا خَيْرٌ مِّنْ عَجَى نَاطِقٍ .

رخاموش عاجز بولنے والے عاجز سے بہتر ہے،

۱۲۳۰۔ أَوَّلُ النَّعْيِ الرَّحْمَةُ .

غضب میں آنا عاجزی کی ابتدا ہے یعنی دلائل سے عاجز انسان ہی

غصہ بہتا ہے۔ احتلاط، غصہ میں بہنا۔ خشم آلود ہونا۔

۱۲۳۱۔ آخِيٌّ مِنْ بَاقِلٍ .

باقل سے بھی زیادہ اپنی مراد ظاہر کرنے سے عاجز بنو بیجہ کے

ایک شخص باقل نے گیارہ درہم میں ایک ہرن خریدا۔ لے کر چلا تو کسی

نے ہرن کی قیمت پوچھی، اس نے ہرن چھوڑ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دس

اور زبان نکال کر گیارہ کا عدد بتایا۔ اور ہرن بھاگ گیا۔

(۱۰۰۰)

ع

۱۲۳۲۔ عَثَلُ خَيْرٌ مِّنْ سَمِينِ خَيْرِكِ .

دھارا ڈبلا غیر کے فریب سے بہتر ہے، اپنے لاغر پر قناعت کرو۔

اور دوسرے کے فریب کی طبع نہ کرو۔

۱۲۳۳۔ عَدْرَكَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْإِسَاءَةِ .

جس نے برائی کی طرف تمہاری رہنمائی کی اس نے تم سے غداری کی،

۱۲۳۴۔ أَعْدَرُ مِمَّنْ خَدِيْرٍ .

جو ہر وقت اپنے مالک کا پانی جذب کرتا رہتا ہے اور کچھ دن بعد

خشک کر دیتا ہے،

۱۲۳۵۔ إِنَّ خَدًّا لِنَاظِرٍ قَرِيْبٍ .

آنے والی کل اس کے دیکھنے والے کے لیے قریب ہے، کل دو نہیں

یہ مثل قراد بن اجدع کے شعر سے ماخوذ ہے، جو اس نے نعمان بن منذر

کے سامنے کہا تھا، فَإِنْ يَكُ صَدْرُكَ هَذَا يَوْمَ الْوَأَلِيِّ : فَوَاقِ عَدًّا

رِنَظْرِهِ قَرِيْبٍ : اگر آج کے دن رخ مولا لیا ہے تو آئندہ کل اس

زمانہ کو ماہِ رَجَبِ تَشْبِيْهِ دِيْ گئی ہے۔ رَجَبِ حَرَامِ مِيْنَهُ مَقَامًا .

یعنی اس مہینے میں جب وہ ختم ہوتا تو ہر لڑاکا واقعات رونما

ہوتے تھے، عارث کی مراد یہ تھی کہ عدت کے بعد جب تو اس

عدت کے ساتھ رہے گا تو اس کی معاشرت بدر سے عجائبات کا

ملاحظہ کریگا۔

۱۲۱۸۔ عَيْشٌ قَبِيْحًا تَكُنْ مَبِيْحًا .

قلع ہو کر زندگی بسر کر، بلا شاہ ہو جائیگا،

۱۲۱۹۔ الْعَيْشُ نُبْحَةٌ وَالْخُرْبُ خُدْعَةٌ .

زندگی روزگار کی طلب کا اور لڑائی ظاہر فریب تمہیر کا نام ہے،

نُبْحَةٌ : خوراک طلب کرنے کے لیے جانا۔

۱۲۲۰۔ أَنْتَ مَرَّةٌ عَيْشٌ وَمَرَّةٌ بَعِيْشٌ .

تو کبھی عیش ہے اور کبھی لشکر، یعنی کبھی نفع اور کبھی ضرر یا کبھی میرے

ہوا ہے اور کبھی میرے خلاف یا کبھی خوشحالی اور کبھی تنگ حالی میں۔

جیسے کہا جاتا ہے: الْيَوْمَ خَيْرٌ وَغَدًا اَمْرٌ .

۱۲۲۱۔ عَيْنٌ عَرَفَتْ فَذَرَفَتْ .

آنکھ نے پہچان لیا اور ہرائی، حقیقت کو دیکھے ہی پالیا۔

۱۲۲۲۔ عَيْنٌ اَلْمَوِيْ لَا تَصْدَقُ .

خواہشات کی آنکھ (نظر) سچی نہیں ہوتی،

۱۲۲۳۔ عَيْنُهُ قِرَارٌ .

اس کی نظر ہی دانت دیکھ لینا ہے، قِرَارٌ : قرار (چوپایہ کا منہ

کہوں کہ اس کے دانت دیکھے، مراد یہ ہے کہ ظاہر ہی سے غیبی

باطن ظاہر ہے آزمانے کی ضرورت نہیں۔

۱۲۲۴۔ عَيْنُكَ عَيْبِيٌّ وَالنُّوَادِي فِي دِيْدِيْ .

تیری آنکھ رونے والی ہے مگر قلب لہو و لعب میں ہے، عبریٰ : بٹنے

وال، دُرٌّ : لہو و لعب، اس کی اصل دُرٌّ ہے۔ غَدُّ : طرح واؤ

حذف کر دیا گیا ہے (مگر مجھ کے آنسو)

۱۲۲۵۔ رَبِّ عَيْنٍ اَنْتَ مِنْ لِسَانِ .

دہشت سی آنکھیں زبان سے زیادہ چغلخیز ہوتی ہیں۔ انہی معنی میں ہے

لِسَانُ اَلْحَالِ اَلْيَمِيْنُ مِنْ لِسَانِ اَلْمَقَالِ .

۱۲۲۶۔ بَعِيْنٌ تَرَانِيْ يَا جَمِيْلُ اَرَاكَ .

دے جمیل جس آنکھ سے تر مجھے دیکھتا ہے اسی آنکھ سے میں تجھے

کے دیکھنے والے کے لیے نزدیک ہے۔

۱۲۳۶۔ عَسَىٰ عَذَابُ الْغَيْرِكُمْ .

رنگن ہے آئندہ کل تمہارے غیر کے لیے ہو، اس لیے آج کے کام کو کل پہنچاؤ، شاید وہ تجھے کل کو نہ مل سکے۔

۱۲۳۷۔ لِكُلِّ عَذَابٍ مُّطَاعٌ .

ہر آئندہ کل کے لیے کما ہے، اللہ کے فضل پر توکل کرو۔

۱۲۳۸۔ آغْرُ مِنْ سَرَابٍ .

سراب سے زیادہ دھوکہ دینے والا، پیاسا اس کو پانی سمجھ کر دھوکا کھا جاتا ہے۔

۱۲۳۹۔ آغْرُ مِنَ الْأَمْثَالِ رَأْسُودٌ مِنْ زِيَادَةِ فَرِيحٍ دِينَهِ وَاللَّهُ

۱۲۴۰۔ آغْرُ مِنَ قَلْبِي مُقْبِرٌ .

چاندنی میں پھرنے والے ہرن سے زیادہ فریب کھایا ہوا، کیونکہ چاندنی رات میں ہرن چندھیا کر جلد خشک ہو جاتا ہے۔

۱۲۴۱۔ كَلَّ طَيْرٌ بِطَيْرٍ لَيْسَ بِرَسْمٍ سِوَا قَرِيبٍ جَوَانِحِ

۱۲۴۲۔ مَنْ خَرَّبَ النَّاسَ نَخَلُوكَ .

جو لوگوں کو بھانے گا لوگ اس کو چھان کر بھوسہ ہی سمجھیں گے، جو لوگوں کو بڑا کیسے لوگ اس کو زیادہ بڑا بھلا کہیں گے۔

۱۲۴۳۔ غَرْنَانٌ فَازٌ بَلْكَوَا كَهْ .

بھوکا ہے اس کے لیے کھانا تیار کرو، اس شخص کے لیے کما جاتا ہے جس پر ایسی حالت طاری ہو کہ وہ تمہارے کلام کی طرف توجہ ہی نہ کرے

ایک آدمی سفر سے آیا تھا۔ اس کے گھر پر کاپیلا ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ وہ بھوک سے بیتاب تھا۔ کہنے لگا، میں بڑے بڑے کھاؤں دیا

ہوں؟ بیوی نے کہا، غرنان فار بکوانہ۔ دیکھا ہے، اس کے واسطے کھانا تیار کرو، کھانا کھا چکا تو پوچھنے لگا کہ ظلاً اور اس کی

ہاں کا کیا حال ہے؟ ظلاً ہرن کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس نے استعارہ لپنے بچے کو کہا تھا۔ غرنان: بھوکا، رجب، گوند، صابری کرنا۔

ربکیہ، ایک خاص قسم کا کھانا۔

۱۲۴۴۔ اَوَّلُ الْعَزْوِ أَخْوَقٌ .

دہلی رولٹی نا تجربہ کاشکار ہوتی ہے، بار بار کے تجربے سے پنشنی پیدا ہوتی ہے۔

۱۲۴۵۔ اَغْشَمُ مِنَ السَّيْلِ سِيَابٌ مِنْ زِيَادَةِ ظَلَمٍ

۱۲۴۶۔ مَنْ غَضِبَ مِنْ لَأْسِي رَفِيٍّ مِنْ لَأْسِي .

جو آدمی اپنے غصے سے غضبناک ہو گا وہ آدمی اپنے غصے سے راضی بھی ہو جائے گا یا جو بے وجہ غصہ ہوگا، بے وجہ راضی بھی ہو جائے گا۔

۱۲۴۷۔ غَضَبُ الْغَيْلِ عَلَى الدُّجْبِ .

رگھوڑوں کا غصہ لگاموں پر ہوتا ہے، بے فائدہ غصہ۔ یا غصہ قریب ہی پر ہوتا ہے یا کمزور پر ہی ہوتا ہے۔

۱۲۴۸۔ غَلَّ يَدًا مُطْلِقًا .

رہتے ہیں اس کے آواز کرنے والے نے طوق ڈال دیا ہے،

مصیبت سے چھڑا کر احسان کا غلام بنا لیا۔

۱۲۴۹۔ إِذَا السَّمُ تَغَلَّبَتْ فَاحْلِبْ .

غالب نہ آئے تو حسین تدبیر سے کام کر،

۱۲۵۰۔ مَنْ خَالَبَ الْأَيَّامَ حُلِبْ .

جو زمانہ پر غالب آئیگی کوشش کریگا وہ مغلوب ہوگا،

۱۲۵۱۔ يَغْلِبُنَ الْيَكْرَامُ وَيَغْلِبُهُمُ الْيَقَامُ .

جو تیرے ترفیوں پر غالب آتی ہیں اور کہیں مروان پر غالب ہو جاتے ہیں،

۱۲۵۲۔ الْغَمْرَاتُ تُغْمَرُ بِزَجَلِينِ .

راپ منتیاں ہیں پھر جہاں جہاں غمراں، مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی۔

۱۲۵۳۔ غَدِمَ مَنْ سَبِحَ رَجْمًا وَهُوَ غَمِيمٌ رَمًا .

۱۲۵۴۔ آغْنَى الْقَبَاحُ عَنِ الْبِضْبِ .

رنگ نے چراغ سے بے نیاز کر دیا،

۱۲۵۵۔ آغْنَى عَنِ الشَّيْءِ مِنَ الْأَقْرَعِ عَيْنِ الشُّبْطِ .

کسی چیز سے اس سے ہی زیادہ بے نیاز جتنا گنجلے کنگھی سے،

۱۲۵۶۔ وَهَلْ يُغْنِي مِنَ الْمَجْدَانِ لَيْتٌ .

کیا کاش کتنا حادث سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ محض تمنائیں

حادث سے نہیں بچا سکتیں۔

۱۲۵۷۔ مَنْ لَحَرَ يَغْنِيهِ مَا يَغْنِيهِ مَا يَغْنِيهِ .

جس شخص کو کافی ہو نہ والی چیز نے بے نیاز نہیں کیا اس کو بے نیاز

کر نہ والی چیز عاجز کر دیگی، غنا اور مالدار کی حرص تھکا دیتی ہے۔

۱۲۵۸۔ غِنَى النَّفْسِ أَفْضَلُ مِنْ غِنَى الْمَالِ .

دماغ کی بے نیازی مالدار کی بے نیازی سے بڑھ کر ہے،

۱۲۵۹۔ إِنَّ الْغِنَى طَوِيلٌ الْبَدِيلُ مَيَّاسٌ .

رحمان اور بھی ہیں لیکن مالک جیسے نہیں، مالک نویرہ بن عمرہ ربیع
مغز ابن نزار سے، کار کا تھا جس کو حضرت خالد بن ولید نے
قتل کر دیا تھا، اس کا بھائی متم کو عرصہ تک اس کی موت کا شدید
سرخ و غم رہا۔ لوگ تعزیت کے طور پر دوسرے مقتول نوجوانوں کا
ذکر کرتے تو متم کہتا: فتنی ولا گناہک، یعنی وہ جوان تو ہے لیکن
میرے بھائی مالک جیسا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فضیلت تو مسلم
ہے مگر اس پر کسی اور کو بھی فضیلت حاصل ہے۔

۱۲۶۸۔ آتِ فتنی قتلتہ السدحان:

دکون سا جوان ہے جس کو دھوئیں نے مارا ہو کسی عورت نے ایک
ایسے جوان پر زور کرتے ہوئے کہا تھا جو دھوئیں سے مر گیا تھا۔ یعنی
مرنے والا سیدھا اور بے تدبیر تھا۔

۱۲۶۹۔ کُلُّ فتناةٍ بآئینہا مُعجِبَةٌ؟

(ہر پوشیزہ اپنے ہاپکے ساتھ ناز کرتی ہے، ناز خریدار پر۔

۱۲۷۰۔ دُبَّ قَرْحَةٍ تَعُوذُ تَرْحَةً۔

بہت سی خوشیاں رنج بن جاتی ہیں۔

۱۲۷۱۔ کَيْسُ الْفَرَسِ بِجَلْدِهِ۔

دگھوڑا اپنی جلد دھول، کی وجہ سے نہیں، گھوڑے کی قیمت گھول
کی خوب صورتی سے نہیں۔

۱۲۷۲۔ هُمَا كَفَرَسِي وَهَارِي۔

دو دونوں ریس کے گھوڑوں کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے

سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۲۷۳۔ مَا كَلُّ فُرُصَةٍ تُنَالُ۔

دہر فرصت دوبارہ نہیں ملتی، موقعے بار بار نہیں ملتے۔

۱۲۷۴۔ أَفَرَطًا فَاسْقَطَ۔ (وہ بہت بولا اس لیے غلطیاں زیادہ کیں)

جو بہت بولتا ہے غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔

۱۲۷۵۔ تَفَرَّقَ الْقَوْمُ أَيُّدِي سَبَا أَوْ آيَادِي۔

(قوم پر اگندہ ہو گئی سب کے لشکر کی طرح، ایسے منتشر ہو گئے کہ

پھر اجتماع ہی نہ ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر سیلاب کا

غلاب بھیج کر اس کو غرق کر دیا اور وہیں کو دیا تھا، سب اکثرینی قبائل کا

مورث اعلیٰ تھا، اس ویرانی کے بعد سب اور اس کی قوم یہاں سے نکل

کر مختلف ادیاریں منتشر ہو گئی، بعض کا خیال ہے کہ ایسی سبایا

مالدار و امن و راز اور ناز سے چلنے والا ہے، یعنی مال دار اپنی
کو نگری کو چھپا نہیں سکتا۔

۱۲۶۰۔ مَنْ غَابَ غَابَ نَوِيْبُهُ۔

(جو غائب ہوا اس کا حصہ بھی غائب ہوا، غائب کو یاد رکھنا دلیل کرم ہے

کہا جاتا ہے: اَلْقَسِيُّ رَفِيْقُهُ لَمْ يَكُنْ اَلْقَرْبُ (اس کا انتہائی دور افتادہ

رفیق اس کے لیے قریب ترین کی طرح ہے،

۱۲۶۱۔ اَلْغَيْبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ۔

دپیٹھ پیچھے برائی عاجز کی طاقت ہے،

۱۲۶۲۔ كَالْمُسْتَعِيْنِ مِنَ الرَّمْضَانِ بِالنَّارِ۔

(اس شخص کی طرح جو سورج کی گرمی سے آگ کی طرف لے جائے،

معمولی تکلیف سے بچنے کے لیے بڑی مصیبت مول لے۔

۱۲۶۳۔ اَخِيْرَةٌ وَجُبْنَا۔

کیا غیرت بھی اور نامردی بھی، ایک شخص بزدلی کی وجہ سے اپنی قوم کو

دشمن سے لڑتے ہوئے چھوڑ کر بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ بیوی بھی دیکھ

رہی ہے۔ کھسیانا ہو کر بیوی کو مارنے لگا تو بیوی نے کہا:

اَخِيْرَةٌ وَجُبْنَا (غیرت بھی اور بزدلی بھی)

۱۲۶۴۔ طَيِّبٌ مِنْ قِيَمِيْنِ۔

بہت میں سے تمھوڑا، جیسے دریا میں سے چلو۔ غُيْنٌ، کسی نقص،

قِيَمٌ، زیادتی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے: اَبْرَمٌ مِنْ عِيْدِ۔

۱۲۶۵۔ عِنْدَ الْغَايَةِ يُعْرَفُ السَّبَقُ۔

(انتہا کے وقت سبقت معلوم ہوگی، یعنی سبقت ابتدا کی بہتری پر

نہیں بلکہ انتہا کی حد تک پر موقوف ہے۔

(۸۰)
ف

۱۲۶۶۔ قَتَلَ فِي الدُّرُوَّةِ وَ الْغَارِبِ۔

(اس کے کوہان کے اوپر اور گے بل دیا، ہلا پھٹا کر راضی کر لیا۔

دُرُوَّةٌ: کوہان کا بالائی حصہ، ہر چیز کی چوٹی۔ غَارِبٌ: کوہان کا اگلا

حصہ، ننھے یا سرکش اونٹ کے نکیل ڈالنے کے لیے کوہان سے ہلا کر

مانوس کیا جاتا ہے اور موقع پا کر نکیل ڈال دی جاتی ہے۔

۱۲۶۷۔ فَتْنِي وَ لَا كَمَلِيْلِكَ۔

آبادی سے مراد سب کے ٹکڑوں میں کے ذریعہ وہ ٹکڑا اور لوٹ مار میں امداد
لیتا تھا۔ آبی یا آبادی حال ہونے کی بنا پر منحوس ہے۔

۱۲۷۶۔ مَنْ قَسَدَتْ بِطَائِفِهِ كَانَتْ كَمَنْ غَضَّ بِالْمَاءِ۔

جس کا ہل دھیال ہی بگڑ جائے وہ اس کی طرح ہے جس کو پانی سے
اچھو لگ جائے، کہ اس کی کوئی تدبیر نہیں، کھانا حلق میں پھنس جائے
تو پانی سے اتار لیا جاتا ہے لیکن جب پانی ہی سے اچھو لگے تو کیا
تدبیر کی جائے۔

۱۲۷۷۔ أَفْسَدُ مِنَ الشُّؤْبِ۔

دکھ رہے دگن ڈالنے والا کبیرا سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا۔

۱۲۷۸۔ أَفْسَدُ مِنَ الْجَوَادِ (مڑی سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا)

۱۲۷۹۔ أَفْسَدُ مِنَ آرْحَةِ رَدِيكٍ سِيَادَةً فساد پیدا کرنے والا،

۱۲۸۰۔ فَسَا بَيْنَهُمُ الْعُطْرِبَانُ۔

دان کے درمیان طربان نے گزار دیا، یعنی حواشی نے منتشر کر دیا۔

طربان: کتے کے پٹے سے قد سے بڑا، بد رو اور بہت گوز مارنے والا

جانور ہے کتے ہیں کہ وہ گونگے سوراخ پر آگ گوز مارتا ہے تو منتشر

بوجاتے ہیں تو اس کو کھا جاتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ انٹوں کے

گلاب میں پہنچ کر گوز مارتا ہے تو وہ منتشر بوجاتے ہیں۔

۱۲۸۱۔ أَفْضَحُ مِنَ سَمْعِيَانٍ وَابْتِلِ دَسْمَانٍ وَآلِ سَيَادَةَ نَصِيحٍ،

۱۲۸۲۔ فَضَّلُ الْفِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ مَكْرُومَةٌ۔

قول سے عمل کی زیادتی بزرگی ہے، کئے سے زیادہ کر دکھانا بزرگی ہے

۱۲۸۳۔ فَضَّلُ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ ذَنَاءَةٌ۔

قول پر قول کی زیادتی کینگی ہے، کئے سے زیادہ کتنا کینہ ہے۔

۱۲۸۴۔ الْفَضْلُ لِلْمُبْتَدِئِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْمُقْتَلِيُّ۔

رفیعت ابتدا کرنے والے کے لیے ہے، خواہ بیرونی کرنے والا

اس سے اچھا کر دکھائے

۱۲۸۵۔ أَفْضَلُ الْمَعْرُوفِ إِعْاقَةُ الْمَلْهُوفِ۔

دبتر بننے کی مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچانے،

۱۲۸۶۔ لَا أَفْعَلُ كَذَا مَا أَنَّ السَّمَاءَ نَحَاءً۔ وَلَا أَفْعَلُهُ مَا أَنَّ

فِي السَّمَاءِ نَجْمًا۔ (میں ایسا نہیں کروں گا جب تک کہ

آسمان آسمان ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ

آسمان میں کوئی ستارہ ہے، یعنی کبھی نہیں کروں گا۔

۱۲۸۷۔ كَلَّفْتُ كَفَافِي عَيْنِيهِ عَمْدًا۔

(میں اس شخص کی طرح ہو گیا جو اپنی آنکھیں عذاب چھوڑ ڈالے)

اور خطرہ کو نہ دیکھا۔ خاتم نے اپنی بیوی نزار کو طلاق دے دی تھی۔

اور بعد میں نام ہوا تو چند اشعار کے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ

كَلَّفْتُ كَفَافِي عَيْنِيهِ عَمْدًا بِفَاتِحِجٍ لَا يُضِيغُ لَهُ نَسَاءٌ۔

(میں عذاب آنکھیں پھوڑنے والے کی طرح ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا

کہ اس کے لیے اب دن روشن نہ ہوگا)

۱۲۸۸۔ خَيْرُ الْفَقِيهِ مَا خَافَتْ رِبَا۔

(بہترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تو ضرورت کے وقت جواب دے سکے)

۱۲۸۹۔ لَا تُحْكِرْ قَلْبًا صَدْرِيًّا۔

(دھڑک کر کہو کہ اس کا تدبیر کرنے والا ہے، کار ساز یا بفکر کار ما)

۱۲۹۰۔ لَا يَفْلُ الْحَدِيدُ إِلَّا الْحَدِيدُ۔

(لوہے کو لوہا کند کرتا ہے)

۱۲۹۱۔ فَسَدٌ تَسْبِيحٌ وَيَدٌ كَذِبٌ۔

(دن تیس چھوڑے اور ہاتھ تھوڑے) "ربان مٹھی اور نعل میں پھری"

۱۲۹۲۔ فِي فَيْئِ مَاءٍ وَهَلْ يَنْبَغِي مَنْ فِي فَيْئِ مَاءٍ۔

دیر سے منہ میں پانی ہے اور کیا وہ شخص بروتا ہے جس کے منہ میں

پانی ہو؟

۱۲۹۳۔ يُغْفَى مَا فِي الْقُدُورِ وَيُنْبَقِي مَا فِي الْعُدُورِ۔

(جو ہاتھوں میں ہے وہ غنٹا ہو جائیگا اور جو سینوں میں ہے وہ

باقی رہے گا، مال فانی علم باقی)

۱۲۹۴۔ كَذِبٌ يَغْفَى مَنْ كَسَبَتْ۔

(جو ہاتھ میں وہ فوت نہیں ہوا، مرنے نہیں گیا، کبھی نہ کبھی ہاتھ لگے گا۔

۱۲۹۵۔ الْقَائِمَاتُ لَا يَسْتَذِرُكِ۔

(فوت شدہ پر نہیں مل سکتا، ہو گیا سو گیا، اسی حسی میں ایک شعر ہے کہ

فَأَمْسَحَتْ لَأَنْطَبِيحُ زَوَالِهَا تَعْلِيٌّ كَمَا لَزِمَتْ الْقَدْرُ خَالِيَةً۔

(میں گنتے ہونے کو نہیں لٹا سکتا جیسے کہ فساد وہ ہے لٹا لٹا)

کو تھنوں میں نہیں لٹا سکتا،

۱۲۹۶۔ أَفْوَتْ مِنْ أَمْسٍ دَلَّ لَشْتَرَةٍ سِيَادَةَ فَوْتٍ شَدِيدَةٍ،

۱۲۹۷۔ مَطْوِيٌّ عَلَّقَ شَقًّا بَابِيًّا۔

(بیابان طے کرنے والے نے بوسیدہ مشکیزہ لٹکایا ہے، حقیر سامان

آیت قرآنی: وَذُكِّرْتُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ۔ تمہارے لیے
قصاص میں زندگی ہے۔

۱۳۰۶۔ مَقْتَلُ التَّوَجُّلِ بَيْنَ فَكَيْهِ۔

د آدمی کی قتل گاہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے،
زبان درازی بسا اوقات قتل کا سبب ہوتی ہے۔

۱۳۰۷۔ قَدَّاتُ سَيُورَةَ مِنْ أَدْيَمِكَ۔

اس کے تسمے تیری کھال سے کاٹے گئے ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں۔

۱۳۰۸۔ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّ أَمْسِ أَوْ تَطْيِينِ عَيْنِ الشَّمْسِ؟

رگزشتہ کل کے لوٹانے یا چشمہ آفتاب پر خاک ڈالنے کی قدرت
کون رکھتا ہے؟

۱۳۰۹۔ إِنَّ الْمَقْدَرَةَ تُذْهِبُ الْحَفِيظَةَ۔

قدرت پانا غضب کو زائل کر دیتا ہے، کسی قریشی نے اپنے دشمن
پر تابو پانے کے بعد انتقام سے درگزر کرتے ہوئے کہا تھا۔
حفیظہ: غضب و غصہ۔

۱۳۱۰۔ إِذَا قَدَّمَ الْإِخَاءُ سَمْبَرَ الشَّنَاءِ۔

جب بھائی چارا پرانا ہو جاتا ہے تو تعریف بُری معلوم ہوتی ہے،

۱۳۱۱۔ يُقَدِّمُ رَجُلًا دِيُوخْرًا أُخْرَى۔

ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا پیچھے ہٹاتا ہے، معاملات
میں متروک ہے۔

۱۳۱۲۔ لَيْسَ الْقَوَادِمُ كَالْخَوَافِي۔

بڑے آخر بڑے ہیں، بازوؤں کے بڑے پر چھوٹے پروں کی طرح
نہیں ہوتے۔ قَوَادِمُ يَأْتِي الْقَدَامَى: بازو کے اگلے حصے کے بڑے پر
خَوَافِي: بازو کے چھوٹے پر۔

۱۳۱۳۔ لِكُلِّ قَدِيمٍ حُرْمَةٌ۔ دہر پرانی چیز کی ایک حرمت ہوتی ہے،

۱۳۱۴۔ لَيْسَ لِمَا قَدَّرْتُ بِهِ الْعَيْنُ ثَمَنٌ۔

جس چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں،

۱۳۱۵۔ أَقْرَبُ مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ رَشْرَكٌ مِنْ زِيَادَةٍ قَرِيبٌ،

۱۳۱۶۔ لَا قُدُوبَةَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ۔

دخوش اخلاقی سے بہتر تقرب کا کوئی ذریعہ نہیں،

۱۳۱۷۔ إِذَا قَدِحَ الْجَنَانُ بِكَتِ الْعَيْنَانِ۔

جب دل زخمی ہوتا ہے تو آنکھیں ہوتی ہیں تقریباً اس مثال کے

پر خطرناک مہم سر کرنے چلا ہے۔ قَوَّرَ الرَّجُلُ: بیابان طے کرنے
کے لیے چلا۔ مَشَقٌّ: مشکیزہ۔

۱۲۹۸۔ أَفَتَى قَبْلَ أَنْ يُحْضَرَ تَرَكَ۔

دہوش میں آجا قبل اس کے کہ تیری قبر کھودی جائے، موت سے
پہلے یا بڑا انجام دیکھنے سے پہلے ہوش میں آجا۔

۱۲۹۹۔ أَقْوَاهُمَا نَجَاسَتُهُمَا۔

دان کا منہ ان کے امتحان کی جگہ ہے، گفتگو باطن کا پتہ دیتی ہے۔

جیسے اونٹ کا اچھا چارہ اس کی صحت و صلاحیت کی دلیل ہے، اس کو

ٹوٹنے کی ضرورت نہیں۔ جَبَسٌ: چھوڑ کر اور ٹوٹ کر دیکھنا۔

ق (۱۰۰)

۱۳۰۰۔ قُبَّةُ نَجْرَانَ۔

نجران کا قبہ، جیسے بسم اللہ کا گنبد۔ یمن کے ایک شہر نجران میں نہر کے
کنارے ایک قبہ تھا جس کو قبۃ نجران بھی کہتے تھے۔ لوگ اس کو
مذہب سمجھتے اور اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے، جب کوئی اس
میں پناہ لیتا تو اس کو پناہ اور آرام مل جاتا تھا۔

۱۳۰۱۔ كَالْقَابِيسِ الْعِجْلَانِ۔

(جلد باز آگ لینے والے کی طرح) جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں
جلدی کرے۔

۱۳۰۲۔ كَالْقَابِيسِ عَلَى الْمَاءِ۔

پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے کی طرح) حاصل نہ ہونے والی چیز طلب
کرنے والا۔

۱۳۰۳۔ إِنَّهُ لَقَبِصْتَهُ رُفْعَةً۔

وہ کبھی پکڑنے والا اور کبھی چھوڑنے والا ہے،

۱۳۰۴۔ قَتَلْتُ أَرْضَ مَنْ جَاهَلَهَا۔

زمین نے اپنے سے بیخبر کو مار ڈالا ہے، ایسا کام اختیار کرنے والے
کے لیے کہا جاتا ہے جس کا اسے کچھ پتہ نہ ہو۔

۱۳۰۵۔ الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ۔

دعوت قتل زیادہ روکنے والے ہیں قتل سے، قتل لبعض اشیاء للبیح
کے ہم معنی ہے، لیکن ان مثالوں سے زیادہ جامع اور بیخبر ہے۔

ہم معنی ہے: الْبَطْنُ مُبْدِئُ كَفِّ الْعَيْنَيْنِ: تمہارے سامنے بعض کو آنکھیں ظاہر کرتی ہیں۔

۱۳۱۸۔ إِذَا مَا الْقَارِظُ الْعُزْبِيُّ أَبَا۔

(جب غزنی قارظ (سلم) کے پتے چننے والا واپس آجائے یعنی واپسی کی امید نہیں۔ دوسرا معصیہ ہے: فَرَجِي الْوَيْزُ وَالْشَّيْطَرِي أَيَابِي۔ تو خیر کی امید کہ اور میری واپسی کا انتظار کر، رہمیں عام غزنی سلم کے پتے لینے گیا اور پھر کوئی خبر نہ ملی۔

۱۳۱۹۔ فَلَانٌ لَا تُفْرَعُ الْعَصَا۔

(فلان کے لیے عصا نہیں کھٹکھٹایا جاتا، یعنی اس سے غلطی ہی نہیں ہوتی جس پر متنبہ کیا جائے۔ عام بن نظر عدوان کو اپنے سٹیا جانے کا احساس ہوا تو اس نے اپنی لڑکی سے کہا کہ جب کوئی حکم کرتے وقت میرے فتور عقل کی کوئی بات محسوس کرے تو عصا سے ڈھال کو کھٹکھٹا دیا کر۔

۱۳۲۰۔ قَرِينُكَ سَهْمُكَ يُخِطِي وَيُصِيبُ۔

(تیرا ساتھی تیرا گھبراہٹ ہے جو کسی خطا کرتا ہے اور کسی نشانہ پر لگ جاتا ہے، غلطی پر چشم پوشی کرنی چاہیے۔

۱۳۲۱۔ أَقْصَى مِنْ صَخْرٍ۔ (دچان سے زیادہ سنگدل،

۱۳۲۲۔ كَثُرَتْ لَهُ الْعَصَا۔

(میں نے اس کے واسطے عصا کو چھپلا، مطلع کیا۔

۱۳۲۳۔ أَقْصَرَ لَمَّا أَبْصَرَ۔

(جب دیکھا تو باز رہ گیا، بے انجام کو دیکھ کر باز رہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اِقْصَارُ الْقَدْتِ ہوتے ہوئے کسی چیز سے باز رہنا۔

۱۳۲۴۔ مَا أَقْصَرَ الْكَيْلَ عَلَى التَّوَاتُرِ۔

(سونے والے پر رات کتنی چھوٹی ہوتی ہے،

۱۳۲۵۔ كُلُّ مُقْتَصِرٍ عَلَيْهِ كَأَنَّ (جس چیز پر اتنا گریا جائے وہ کافی ہے،

۱۳۲۶۔ يَكْفِي قَضَاءَ جَالِبٍ وَيَكْفِي دَرَجًا حَالِبًا۔

(بہر حکم کوئی موجب ہوتا ہے اور ہر وعدہ کا کوئی دوہنے والا،

۱۳۲۷۔ قَطَعَتْ جَهَنَّمَ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ۔

(جہنم نے ہر بولنے والے کی بات کاٹ دی، ختم کر دی۔ دو فریقوں میں قتل کے کسی معاملہ میں صلح کی گفتگو ہو رہی تھی۔ جہنم نامی لوٹھی نے آگرا اطلاع دی کہ مقتول کے وارثوں میں سے کسی نے

قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا: قَطَعَتْ جَهَنَّمَ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ۔

۱۳۲۸۔ إِذَا قَطَعْنَا عَلْمًا بَدَا عَلَمٌ۔

(جب ایک پہاڑ کو ہم نے طے کر لیا تو دوسرا پہاڑ ظاہر ہو گیا،

ایک مشکل طے کی تھی کہ دوسری پیش آگئی۔

۱۳۲۹۔ تَقَطَّعَ أَعْنَاقَ الْبُحَايِ الْمَطَامِعِ۔

(لاپٹے لوگوں کی گردنیں کٹوا دیتی ہے،

۱۳۳۰۔ مَنْ قَتَلَ ذَلَّ وَمَنْ أَمَرَ قَتَلَ۔

(جو شخص کم بولے وہ ذلیل ہو گیا اور جو ذلیل ہو گیا اس نے کند

کر دیا، یعنی جس کے مددگار کم بولے وہ ذلیل ہوا اور امیر کے مددگار

زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ دشمنوں کا زور توڑ دیتا ہے۔

۱۳۳۱۔ لَا قَلِيلٌ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْإِهْتِنِ وَالْمَرْحِجِ۔

(دشمنی، کینہ اور مرض ذرا سی چیز بھی کم نہیں،

۱۳۳۲۔ قَلْبٌ لَهُ قَلَمٌ الرَّبِّجِيَّةِ۔

(اس کی طرف ڈھال کی پشت پھیر دی، دیرینہ محبت کا لحاظ اٹھا دیا۔

۱۳۳۳۔ الْقَلْبُ مِعْصَفُ الْبَصَرِ (دل بینائی کی کتاب ہے،

۱۳۳۴۔ مِنَ الْقَلْبِ إِلَى الْقَلْبِ۔

(دل سے دل کی طرف، دل سے دل کو راہ ہے۔

۱۳۳۵۔ فِي بَعْضِ الْقُلُوبِ عِيُونَ (بعض دلوں میں آنکھیں ہوتی ہیں،

۱۳۳۶۔ الْقُلُوبُ تَجَارِي الْقُلُوبَ (دل دلوں کی مکافات کرتے ہیں،

۱۳۳۷۔ رَقَعَهُ فَمَوَّلَكَ بِبَيْتِكَ (دلہنے کاٹنے کو اپنے لہجے سے نکال،

۱۳۳۸۔ فِي الْقَمَرِ حَيَاةٌ وَالشَّمْسُ أَحْوَاءٌ مَهْمَةٌ۔

(چاند میں روشنی ہے لیکن سجد اس سے کم زیادہ روشن ہے،

عام ظن میں شریک ہیں مگر ایک بڑا کر ہے۔

۱۳۳۹۔ لَا تَقْنِيَنَّ مِنَ كَلْبٍ سُوِّجُوجًا (کے کا پلا مت پال،

۱۳۴۰۔ كُلُّ قَائِمٍ مِنَ قُوبٍ (ہر چیز اٹلے سے نکلتا ہے، جیسا

انڈا ویسا ہی چوزہ۔

۱۳۴۱۔ مَنْ قَالَ مَا لَا يَنْبَغِي سَمِعَ مَا لَا يَسْتَوْحِي۔

(جو شخص نامناسب بات کہے گا وہ نامرغوب باتیں سنے گا،

۱۳۴۲۔ تَوَقَّلتُ تَمْرَةً لِقَالَ جَمْرَةً۔

جو زیادہ بولے گا بوس کدیگا، اہوار، بیسودہ باتیں کرنا۔

۱۳۵۶۔ كَثُرَ الْحَوُّ وَ تَخَطَّى الْمَفْصِلُ۔

دوبت کا تپا ہے مگر جوڑ پر غلطی کھاتا ہے، سخت کوشش ہے مگر عین موقع پر غلطی کر جاتا ہے۔

۱۳۵۷۔ مِنْ كَثْرَةِ الْمَلَايِينِ غَرَقَتِ السَّفِينَةُ۔

ملاحوں کی کثرت سے کشتی ڈوب گئی،

۱۳۵۸۔ اِذَا كَانَ لَكَ الْكُثْرَى فَتَجَافَى عَنِ الْيَسْرَى۔

میرا بہت تمھارے لیے وقف ہے تو میرے ٹوٹے سے درگزر کرو

زیادہ بھلائیوں کے مقابلے میں گھوڑی بہت غلطی برداشت کرو۔

۱۳۵۹۔ اَلْيَكْفَارُ كَمَا طَبَّ لَيْلٍ۔

زیادہ بولنے والی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے،

رات میں لکڑیاں چننے والا کسی سانپ کو لکڑی سمجھ کر اٹھالیتا ہے

اور نقصان اٹھاتا ہے۔

۱۳۶۰۔ اَلْكَذَّابُ لِيْ اَكْذَابُ لَكَ۔

تو میرے لیے سچی کر میں تیرے لیے سچی کرے گا، کدو کا دوش کرنا۔

۱۳۶۱۔ اَلْكَذِبُ بِالنَّفْسِ اِذَا حَدَّثْتَ حَتْمًا۔

جب اپنے دل سے باتیں کرے تو اس سے جھوٹی باتیں بنا، یعنی بہت بڑھا

۱۳۶۲۔ اَلْكَذْبُ دَاعٍ وَ الصِّدْقُ شِفَاءٌ۔

جھوٹ بیماری ہے اور سچ شفا ہے،

۱۳۶۳۔ اِنْ كَذَبْتَ نَبِيًّا فَصِدْقٌ اَخْتَقُ۔

اگر جھوٹ نے نجات دیدی تو سچ بدرجہ اولیٰ نجات دینے والا ہے،

۱۳۶۴۔ اَلْكَذْبُ مِنْ يَلْمِجٍ۔ (سراب سے زیادہ جھوٹا)

۱۳۶۵۔ اَلْكَذْبُ اُحْدٌ وَثَلَةٌ مِنْ اَسِيْرٍ۔

رقیدی سے زیادہ جھوٹ روایت کرنے والا۔

۱۳۶۶۔ اَلْكَذْبُ مِنَ الْاُحْبِيْبِ

رقیدی سے زیادہ جھوٹا، جو نجات پانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔

اَخِيْذُ: گرفتار۔

۱۳۶۷۔ اَلْكَذْبُ مِنْ دَبِّ وَ دَرَجٍ۔

ذنوں اور مردوں میں سب سے زیادہ جھوٹا، دَبِّ: زمین پر چلا۔

دَرَجٍ: ختم ہو گیا۔ یعنی زندہ و مردہ۔

۱۳۶۸۔ اِنْ كُنْتَ كَذُوْبًا فَكُنْ ذَكُوْرًا۔

اگر میں کجھوڑوں تو وہ انگارے کے گاموں میں دن کو دن گھوں گا تو وہ رات کے گا۔

۱۳۶۳۔ قَدْ قِيلَ ذٰلِكَ اِنْ حَقًّا وَاِنْ كَذِبًا۔

یہ بات کو کسی جاچکی، سچ ہو یا جھوٹ)

۱۳۶۴۔ اِذَا قَالَتْ حَذَامٌ قَصَدَ قُوْهَا: قَاتِ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامٌ۔

رجب خدام کوئی بات کے تو اس کی تصدیق کرو۔ کیونکہ قول وہی

درست ہے جو خدام نے کہا، ہر معرعہ مثل ہے۔ یعنی اس کی

سچائی مسلم ہے۔

۱۳۶۵۔ الْقَوْلُ يَنْتَعِدُ مَا لَا تَنْتَعِدُ الْاَبْرُ۔

بات اس چیز میں بھی سوراخ کر دیتی ہے جس کو سونے نہیں چھید سکتی،

۱۳۶۶۔ مَا كَلَّ قَوْلٌ لَّهٗ جَوَابٌ (ہر بات کا جواب نہیں ہوتا،

۱۳۶۷۔ رَبُّ قَوْلٍ اَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ۔

دوبت سے باتیں حملے سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں،

۱۳۶۸۔ وَبَعْضُ الْقَوْلِ يَذْهَبُ فِي الْاَبْرِيَا ج۔

بعض باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں،

۱۳۶۹۔ اِذَا قَامَ بِكَ الشَّرُّ فَاقْعُدُ۔

رجب شر تجھے کھڑا کرے تو تو بیٹھا رہ، ہر حال میں بُرد بار رہ۔

۱۳۷۰۔ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ۔

ہر جگہ کے مناسب ایک گفتگو ہوتی ہے، ہر بات کا موقع ہوتا ہے۔

۱۳۷۱۔ هَلْ يَسْتَقِيْمُ الظِّلُّ وَالْعُوْدُ اَعْوَجُ۔

کیا سایہ سیدھا ہو سکتا ہے جبکہ کڑی ٹیڑھی ہو۔

۱۳۷۲۔ قِيَمَتُ كُلِّ اَمْرٍ مَّا يُصْنَعُ۔

ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے اچھا بناتی ہے،

(۲۰)
ل

اَكْبَرُ مِنْ كَبِيْرٍ۔

۱۳۷۳۔ دلبر سے زیادہ معتر، بدان سات گھروں میں سے ایک جن کو نعمان بن

عاد نے منتخب کیا تھا اور جو ایک طویل زمانہ تک زندہ رہا۔

۱۳۷۴۔ اَكْتَمَ مِنَ الْاَرْضِ۔ (زمین سے زیادہ چھپانے والا،

۱۳۷۵۔ مَنْ اَكْتَرَّ اَهْجَرَ۔

اگر تو جھوٹا ستیاد رکھنے والا بھی بن، کیونکہ جھوٹا بھول جاتا ہے۔

۱۳۶۹۔ کَانَ كُوَاعًا قَصَارًا اِذْرَاعًا۔

دوہ کراع تھا پھر گز بن گیا، کراع بگھر کے قریب کا حصہ یعنی ذریں قوی اور معزز بن گیا۔

۱۳۷۰۔ حَتَّامٌ تَكْرُوعٌ وَلَا تُنْفَعُ۔

توکب تک پانی پیتا ہے گا اور سیر نہ ہوگا، حوس سے باز نہیں آنے گا۔ کرع، منہ ڈال کر پانی پینا۔ نفع: سیراب ہونا۔

۱۳۷۱۔ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ۔

جس شخص کو اپنا نفس عزیز ہوگا اس کو اپنی شہوت حقیر معلوم ہوگی خواہشات کی پیروی عزتِ نفس کے خلاف ہے۔

۱۳۷۲۔ اِسْتَكْرَمَتْ فَا رَتَيْطٌ۔

دکنے شریف الاصل کو پایا ہے لہذا باندھے یعنی قدر کر۔

۱۳۷۳۔ اَكْرُمٌ مِّنْ حَاتِمٍ طَلِيٍّ رَحِيمٌ طَائِيٌّ مِّنْ زَيْدٍ مَّا حَبِ كَرَمٌ۔

۱۳۷۴۔ اَلْكَرِيمُ اِذَا رِيَّ عَلَى الْعَبِيَّةِ تَبَّ۔

شریف آدمی کو جب ظلم پر مال کیا جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے،

۱۳۷۵۔ مَكْرَةٌ اَخْوَكٌ لَا بَطْلٌ۔

دیر اجائی مجبور کیا گیا ہے پلوان نہیں ہے، جرات سے نہیں مجبوری سے کرتا ہے۔

۱۳۷۶۔ اَكْسَبٌ مِّنْ نَّمْلٍ۔

رچیڑی سے زیادہ کمانے والا، جو ہر وقت ذخیرہ کر لیتی ہے وہی گدی ہے

۱۳۷۷۔ اَكْسَبٌ مِّنْ ذَنْبٍ۔

دھیریے سے زیادہ طلب کے نوالا، جو ہمیشہ شکار کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے

۱۳۷۸۔ اَكْسَفَا وَاِمْسَا كَا۔

دیکھا ترشروٹی اور نخل دونوں؟ ان میں سے ہر برائی لوگوں کو دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔

۱۳۷۹۔ اَكْسَىٰ مِّنْ بَصَلَةٍ۔

پیاز سے زیادہ لباس پہننے والا، پیاز کی طرح تہ بہ تہ لباس پہنے ہوئے ہے

۱۳۸۰۔ كَعْبَةٌ نَّجْوَاتٌ۔

دین کا قدیم ترین شہر، تخران میں لوگوں کی زیارت گاہ۔ ایک کعبہ تھا جو برباد ہو گیا۔ زعل اور بربادی کے لیے کہا جاتا ہے۔

۱۳۸۱۔ كَا نَكْبَةٌ تَلَارُؤٌ وَلَا تَزُؤُؤٌ۔

کعبہ کا طرح ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے، وہ کسی کی زیارت کو نہیں جاتا۔

۱۳۸۲۔ هَذَا اَلْكَلْبُ مِمَّنْ ذَاكَ اَلنَّجِيْنِ رِيَّةٌ كَيْكَا سِيَّ آتِي كَا تَبِي۔

۱۳۸۳۔ اَلْكُفْرُ مَعْدَبَةٌ كَلْبَةٌ لِّنَفْسِ الْمُنَجِّصِ۔

اکفران نعمت منعم کے نفس کو فاسد کرنے والا ہے، کفر سے مراد کفرانِ نعمت، نافرمانیِ حق کو بدول کر دیتی ہے۔ مجبشتہ، باعثِ فساد۔

۱۳۸۴۔ الْمَلْفَاءُ نَدَامَةٌ رُكَاَلَتٌ اَوْ رُضَا نَتٌ مَّوَجِبٌ پَشِيَانِيٌّ هِي۔

۱۳۸۵۔ كَفَى الْمَرْءَ فَضْلًا اَنْ تُحَدَّ مَعَهُ يَبِيَّةٌ۔

آدمی کے فضل کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کے صیب شمار ہو جائیں

کیونکہ انسان میں بے شمار صیب ہوتے ہیں

۱۳۸۶۔ يَكْفِيكَ وَمِمَّا لَا تَتْرَى مَا قَدْ تَتْرَى

دھارے لیے دیکھی ہوئی چیزیں ان دیکھی چیزوں کی طرف سے کافی

ہیں، جو دیکھ وہی جرت کے بے کافی ہے۔

۱۳۸۷۔ مَنْ كَانَ نَكَ كَلْبَةً كَانَ عَذِيْبًا كَلْبَةً۔

جو شخص پورا تمھارے بے ہے اس کا پورا بوجھ تم پر ہے، اس کے

مصائب برداشت کرنے ہوں گے۔ کل، بوجھ۔

۱۳۸۸۔ وَاِسْئَلُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى ذِي الْعَمَلِ۔

جو جوہ اہل ثروت پر ہی ڈالا جاتا ہے،

۱۳۸۹۔ كَلُّ كَلْبٍ بِيَابِهِ نَبَاحٌ۔

دیر کرتا اپنے سدا زہ پر بھونکنے والا ہے، اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے

۱۳۹۰۔ اَلْكَلْبُ كَلْبٌ كَوْ طَوْ قَتُهُ ذَهَبًا۔

دکن کتا ہی رہیگا خواہ تھاس کے گلے میں سونے کا طوق ڈال دے۔

۱۳۹۱۔ كَلْبٌ عَيْسٌ خَيْرٌ مِّنْ اَسَدٍ رَّيِيْسٍ۔

دگھونے اور تلاش کرنے والا کتا شکار پر بیٹے ہونے شیر سے بہتر ہے

عس، طلب کرنا۔ طواف کرنا۔

۱۳۹۲۔ كَلَفْتَنِي مَعَ الْبَعُوْمِیْنِ۔

دکنے مجھے پھر کے مغز کی تکلیف دیا، سجاہیل کا نوت لانے کی زحمت

دی ہے۔

۱۳۹۳۔ كَلَفْتُ اِيْنِكَ عَرَقَ الْقَرْبَةِ۔

دینے تیری طرف آنے میں مشکیزہ کے پینے کی تکلیف اٹھانی،

اتنی زحمت اٹھانی جتنی مشک اٹھانے میں ہوتی ہے۔

۱۳۹۴۔ لَيْسَ مَعَ اَلتَّكَلُّفِ تَطْلُوْفٌ۔

۱۴۰۸۔ لَحْظًا أَصَدُّ قَدْ مِنْ لَفْظًا (نظر لفظ سے زیادہ سچی ہے)

۱۴۰۹۔ لَا يُحْفَنَنَّ حَوْاقِنَهُ بِيَدٍ وَاقِينِهِ۔

دیں اس کے معدہ کو ٹھوڑی سے ملاؤنگا، سر پاؤں ایک کر کے رکھ دوںگا، خواہن: وہ اعضا جو پیٹ میں کھانے کو رکھتے ہیں۔ معدہ کو کہتے ہیں۔ ذواقین: ٹھوڑی اور اس کے نیچے کا حصہ۔

۱۴۱۰۔ إِذَا تَلَّاحَتْ الْخُصُومُ تَسَافَهَتِ الْحُلُومُ۔

جب دشمن گال گلوچ پر اتر آئے تو بردبار بھی احمق بن جاتے ہیں قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔

۱۴۱۱۔ مَنْ لَأْحَاكَ فَقَدْ عَادَاكَ۔

جس نے تجھے برا بھلا کہا اس نے تجھ سے دشمنی کی، الملاحاة: ایک دوسرے کو لامت کرنا۔ برا بھلا کہنا۔

۱۴۱۲۔ تَلَدَّخُ الْعُقْرُبُ وَتَصْيَعُ

دیکھو ڈنک بھی مارتا ہے اور چیختا بھی ہے، صاء: چوہ، بچھو، خنزیر اور ان جیسی چیزوں کا چیخنا۔ آواز نکالنا۔ اس ظالم کے لیے کہتے ہیں جو خود ہی فریاد بھی کرے۔

۱۴۱۳۔ الَّذِي مِنَ الْغَنِيمَةِ الْبَارِدَةِ۔ (غنیمت بارہ سے زیادہ لذیذ)

غنیمت بارہ: بغیر زحمت حاصل ہونے والی غنیمت۔

۱۴۱۴۔ الَّذِي مِنَ الْمُنَى۔ (آرزوؤں سے زیادہ لذیذ)

۱۴۱۵۔ الْزُّمُّ لِلْمَرْءِ مِنْ ظَلِيهِ۔

ر سایہ سے بھی زیادہ آ۔ می کے ساتھ لازم رہنے والا)

۱۴۱۶۔ الْزُّمُّ مِنَ الْيَمِينِ لِلشِّمَالِ۔

دبائیں کے لیے دلہنے سے بھی زیادہ لازم،

۱۴۱۷۔ الْزُّمُّ مِنَ زَرْبِ لِعُرْوَةِ۔

اس سے بھی زیادہ لازم جتنا کہ بن کالج کے لیے لازم ہوتا ہے،

۱۴۱۸۔ لِسَانُ الْحَالِ أَبْتِنُ مِنْ لِسَانِ الْمَقَالِ۔

زبان حال زبان قال سے زیادہ واضح ہے،

۱۴۱۹۔ لِسَانٌ مِنْ رُطْبٍ وَ يَدٌ مِنْ خَشَبٍ۔

زبان تر کھو ہے اور ہاتھ کڑی کا ہے، زبان شیریں مگر ہاتھ بے فیض۔

۱۴۲۰۔ لِسَانُ الْمَرْءِ مِنْ حَدَمِ الْفُؤَادِ۔

مرد کی زبان دل کے خدام میں سے ہے،

۱۴۲۱۔ اللِّسَانُ مَرْكَبٌ ذُلُومٌ۔

مکلف کے ساتھ تافانہ نہیں ہوتی

۱۳۹۵۔ كَلَامُ اللَّيْلِ يُخَوِّكُ النَّهَارَ۔ (رات کی بات کو دن شادیتا ہے)

۱۳۹۶۔ كَلَامٌ كَالنَّفْسِ وَ فِعْلٌ كَمَا لَا سَبِيلَ۔

کلام شہد کی طرح اور کام نیزے کی طرح،

۱۳۹۷۔ كَلَامٌ لَيْتَنَ وَظَلَمٌ بَيْنَتَ۔ (کلام نرم اور ظلم کھلا ہوا)

۱۳۹۸۔ كَلَامٌ مِثْلُ رِيحٍ فِي قَفْسٍ۔ (اس کا کلام پنجرہ میں ہوا کی طرح ہے)

۱۳۹۹۔ يَكْفِي كَلَامٌ جَوَابٌ۔ (ہر کلام کا جواب ہوتا ہے)

۱۴۰۰۔ رَبِّ كَلِمَةٍ سَابَتْ نِعْمَةً۔

بہت سے کلمے نعمت سلب کر دیتے ہیں،

۱۴۰۱۔ لَوْ كُنْتُ عَلِيًّا دَارِي لَسَأَلْتُكَ۔

اگر مجھے بیماری کی بنا پر داغ دیا جاتا تو میں ناگوار نہ مانتا، بے

قصور رہتا یا گیا۔

۱۴۰۲۔ الْكَيْسُ نِصْفُ الْعَيْشِ۔ (داناؤں نصف روزی ہے)

(۳۰)

۱۴۰۳۔ تَلْبَدِي تَصِيدِي۔

زمین سے چل جاتا کہ تو شکار کرے یعنی استقامت اور حُسن تدبیر

سے کام لے۔ تَلْبَدِي: شکار پر قابو پانے کے لیے زمین سے چرنے جانا۔

۱۴۰۴۔ نَبَسَ لَهُ جِلْدُ النَّمُو۔

اس کے لیے چیتے کی کھال اڑھل، دشمنی ظاہر کی، بھیڑ یا بن گیا۔

۱۴۰۵۔ بَعْدَ الْمَتِيَا دَائِي۔

اس کے اور اس کے بعد، چھوٹی بڑی مصیبت کے بعد، مثل قصہ طلب ہے،

جدیس کے ایک شخص نے ایک اسپتہ قد عورت سے شادی کی، اس سے

بہت تکلیفیں پہنچیں، چھوڑ کر دوسری کی۔ یہ دراز قدمی اور اس سے

پہلے سے بھی دو گنی تکلیفیں پہنچیں، اس کو بھی طلاق دے دی اور عہد

کیا کہ: بَعْدَ الْمَتِيَا دَائِي لَا أَتَزَوَّجُ أَيَّمَانًا۔

۱۴۰۶۔ وَمِنْ الْجَاهِلَةِ مَا يَنْصُرُ وَيَنْفَعُ۔

بعض جہتیں وہ ہیں جو ضرر پہنچاتی ہیں اور نفع بھی دیتی ہیں،

۱۴۰۷۔ اللِّحْظُ أَصْدَقُ لِتَبَاءً مِنَ اللَّفْظِ۔

دیکھا الفاظ کی نسبت زیادہ سچی خبر دیتی ہے۔

زبان سوسن ہونے سے سوائے یعنی اختیار میں ہے، جیسے چاہے اور جہاں چاہے۔

۱۲۲۲۔ اَللّٰهُ كَوْرَتُ الْبَيْتِ۔

دہت سے لقمے غصہ اور انتقام پیدا کرتے ہیں، کہ اللہ کا غضب اور رشوت دینے والے کی ناراضگی اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔

۱۲۲۳۔ كَوْرَتُهُ عَزْزٌ لِّعَفْوِ صَبِيحِي۔

(اگر میں نے اسے شہد بھی چٹایا تو وہ میری انگلی چبا ڈالے گا،

۱۲۲۴۔ كَانَمَا الْقَمَّةُ الْحُجْرَةِ۔

اگر یہ کہ اس کو پتھر ٹھکرا دیا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا یا ایسا جواب دیا جیسے منہ پر پتھر سے مارا۔

۱۲۲۵۔ لَقَيْتُ مِنْهُ عَرَقَ الْقُرْبَةِ۔

میں نے اس سے مشک کے پینے کی محنت و مشقت اٹھائی یعنی اس مشقت سے الپے پسینہ آیا جیسے مشک لادنے سے آتا ہے۔

۱۲۲۶۔ مَا يَلْقَى الشَّيْخَ مِنَ النَّحْلِ۔

رنگین بے غم سے کیا پائے گا، جس نے غم نہ اٹھایا بروہ غمگین کی تکلیف کیا سمجھے گا۔

۱۲۲۷۔ اَلْبَيْتُ حَبْلُهُ عَلَى غَارِ يَهْ۔

اس کی رسی اس کے کون پر ڈال دی جہاں چاہے جائے۔

۱۲۲۸۔ اَلْبَيْتُ فِي الدَّلَاوَةِ نُوْكٌ۔

لڑووں میں تم بھی اپنا ڈول ڈال دو، دوسروں کے ساتھ تم بھی قسمت

۱۲۲۹۔ اَلْبَيْتُ يَلْبَسُ سَهْمِيْلًا وَالسُّهْلُ۔

دھیل اور سہا کہاں مل سکتے ہیں، سہیل: قطب جنوبی کی سمت ایک ستارہ ہے، سہا: قطب شمالی کے قریب بنات النعش کا ایک جھوٹا سا ستارہ ہے۔

۱۲۳۰۔ مَنْ يَلْقَى اَبْطَالَ الْبِحَالِ يَكْلُو۔

جو پہلوانوں سے دوچار ہوگا وہ زخمی ہوگا،

۱۲۳۱۔ يَغْيِرُ اللَّهْمُ تَرْتِيْقُ الْفُتُوْقِ۔

دکھیں ہی میں نبھان پڑے نہیں ہو جاتے ہیں،

۱۲۳۲۔ كَيْسٌ يَلَامُ هَارِبًا مِنْ حَتِيْبِهِ۔

نذرت سے جاگنے والے کو طامت نہیں کی جاتی،

۱۲۳۳۔ رُبُّ رَاشِحٍ مَيْلِيَةٌ۔

دہت سے طامت کرنے والے خود قابل طامت ہوتے ہیں،

۱۲۳۴۔ رُبُّ مَلُوْمٍ لَا ذَنْبَ لَهُ۔

دہت سے طامت کیے ہوئے لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا،

۱۲۳۵۔ رُبُّ مَلُوْمٍ وَلَا عُدْرَ لَهُ۔

دہت سے طامت کیے ہوئے لوگوں کا کوئی عذر نہیں ہوتا، واقعی عذر

نہیں ہوتا یا قابل اظہار نہیں ہوتا۔ ان معنی میں یہ مثل دُبُّ مَلُوْمٍ لَا

ذَنْبَ لَهُ تَلُوْمٌ کے ہم معنی ہے اور اسی معنوں کا یہ مصرع ہے :-

لَعَلَّ لَهُ عُدْرَةٌ اَوْ اَنْتَ تَلُوْمٌ۔

۱۲۳۶۔ اَللَّيْلُ اَخْفَى لِلْوَيْلِ۔

رات شکر کو زیادہ چھپانے والی ہے، رات ہر اچھے بڑے کام کو چھپا لیتی ہے

۱۲۳۷۔ اَللَّيْلُ كَلُوْبِيٌّ وَاَنْتَ مُقْبِرٌ۔

رات لٹی ہے اور تو چاندنی میں ہے، صبر سے حصول مقصد کا انتظار

کرو، گھبرا دینے والی بھی نہیں ہے۔

۱۲۳۸۔ مَا كَانَ يَلْبَسُ عَنْ صَبَا حِمِّيٍّ يَنْجَلِيٍّ۔

میری رات صبح کو ظاہر نہیں کرتی تھی، میری شب تاریک کی صبح ہی

نہیں ہوتی تھی۔

۱۲۳۹۔ اِنَّهُ اَللَّيْلُ وَاَصْوَابُ الْوَادِي۔

رات ہے اور وادی کے بیچ و خم، خطرات ہیں اور راہ کی مشکلات

اصواب، جمع صوبج بمعنی وادی کا موڑ۔ چکر۔

۱۲۴۰۔ لَيْتِنِ اَلْاَسْلَامُ قَيْدُ اَلْعَلُوْبِ۔

دزم باتوں کی بڑی ہے، جس میں بدل گرفتار ہو جاتے ہیں۔

۴۰

۱۲۴۱۔ مِثْلُ اَلْعَامَةِ لَا ظَنِيْرٌ وَلَا جَمَلٌ۔

شتر مرغ کی طرح ہے کہ نہ پرنہ بھی ہے اور نہ ہی اونٹ، چمگادڑ کی

طرح نہ پرنہ نہ چمگادڑ۔

۱۲۴۲۔ مِثْلُ اَبْتَةِ اَلْجَبَلِ مِمَّا يَعْزَلُ تَعْلٌ۔

رصلے بارگشت کی طرح کہ جب بھی کوئی بے وہ بول لٹے، ہر بات کی

تائید کرنے والے مغز۔ ابتہ الجبل، آواز بارگشت۔

۱۲۴۳۔ لَيْسَ هَذَا كُنْتُ اَحْبَبُكَ اَلْحَسَا۔

۱۲۷۴۔ الْمُعِيدِي تَسْمَعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَاهُ .

(معیدی کو سنتا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے) دور کے ڈھول سنانے : ایک شخص معیدی ہمیشہ نعمان کے مل پر ڈاکر ڈالتا رہتا تھا اور کسی طرح نعمان کے ہاتھ نہ آتا تھا اس کی جرات اور شجاعت کی خبریں سن کر آخر نعمان نے اس کو مان دیدی۔ جب معیدی کو دیکھا تو وہ انتہائی بد صورت تھا۔ اس وقت نعمان نے کہا: تَسْمَعُ بِالْمُعِيدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ۔ معیدی نے سنا تو جواب دیا کہ لوگ کوئی اونٹن ہوتے ہی ہیں، آدمی تو اپنے اصغر یعنی قلب ذریعہ سے سمجھا جاتا ہے، نعمان کو اس کا جواب پسند آیا اور اس کو اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔

۱۲۷۵۔ قَدْ يُمَكِّنُ الْمُفْرُوعًا بَعْدَ مَا رَوَّحَ .

(کبھی پھیرا سوار کو گرانے کے بعد اپنے اوپر قدرت دیتا ہے) سرکشی کے بعد قلوب میں آجاتا ہے،

۱۲۷۶۔ لَيْسَ يَسْلُوبُ صَيْدِيُقٌ . (طول کا کوئی دوست نہیں)

۱۲۷۷۔ مَلِكٌ ذَا أَمْرٍ أَمْرَةٌ . (کام کے لائق شخص ہی کو کام کا مالک بناؤ)

۱۲۷۸۔ مَا أَمَلِكُ شَيْئًا وَلَا رُحَاؤًا .

(میرے قبضے میں ہاتھ نہیں اور ہڈیوں میں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔)

۱۲۷۹۔ لَا يَمْلِكُ شَرُّوِي لَيْقِيَرٌ .

(وہ فقیر جیسی چیز کا مالک بھی نہیں) ایک دانہ کا بھی مالک نہیں۔ شرووی: مثل اور مانند۔ لقییر: کھجور کی گھٹی کا شکاف۔

۱۲۸۰۔ الْيَنَةُ تَهْدِمُ الصَّنِيْعَةَ (احسان جملاناٹکی کو ختم کر دیتا ہے)

۱۲۸۱۔ أَمْنَعُ الْجَمِيْعِ أَرْضِي الْجَمِيْعِ .

(سب کو نہ دینے والا سب کو راضی کرنے والا ہے) کسی کو دینا اور

کسی کو نہ دینا و جہر شکایت ہوتا ہے۔ کسی کو بھی نہ دینا، تو سب راضی رہیں گے۔

۱۲۸۲۔ أَمْنَعُ مِنَ الْغَيْبِ الْإِسْبِدِ . (شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ)

۱۲۸۳۔ أَمْنَعُ مِنَ عِقَابِ الْجَبْرِ (فضا کے عقاب سے زیادہ محفوظ)

۱۲۸۴۔ أَمْنَعُ مِنَ كَلَامِ الْإِيْثِ . (شیر کے تالے سے زیادہ محفوظ)

۱۲۸۵۔ كُلُّ مَنُوعٍ مَنُوعٌ . (ہر ممنوع چیز طلب کی جاتی ہے)

۱۲۸۶۔ إِذَا تَمَّتْ فَانْتَكَبَتْ . (جب تندی کرے تو بہت زیادہ کر)

۱۲۸۷۔ رَبُّ أَمْنِيَّةٍ حَلَّتْ مَنِيَّةً دَبَّتْ سِيَّتَانِي مَاتَ كَمَنْحِ لَاتِي .

۱۲۸۸۔ الْمَنِيَّةُ لَا الدِّيْنَةَ .

(موت بہتر ہے نہ کذات یعنی عار کے مقابلہ میں موت کو ترجیح دینا چاہیے)

اسی طرح الْمَنِيَّةُ لَا الدِّيْنَةَ اور اَنْتَارُ وَالْعَارُ جی کہا جاتا ہے۔

۱۲۸۹۔ قَمُوْتُ الْحُرِّ قُوٌّ وَلَا تَأْكُلُ بِشَدَّيْهَا .

(شریف عورت مر جاتی ہے مگر اپنے پستانوں کے ذریعے نہیں کھاتی)

ضرورت کے باوجود شرافت کا لحاظ رکھنے والے کے لیے کہا جاتا ہے۔

۱۲۹۰۔ الْمَوْتُ أَهْوَنُ مَا بَعْدَهُ وَأَشَدُّ مَا قَبْلَهُ .

(موت کے بعد کی حالت سے موت آسان ہے اور پہلے کی حالت سے

موت زیادہ شدید ہے)

۱۲۹۱۔ هَذَا الْمَيِّتُ لَا يُسَاوِي هَذَا الْبُكَاءَ .

(یہ مردہ اتنے رونے کا مستحق نہیں ہے۔)

۱۲۹۲۔ مَا لَ تَجْلِيْبُهُ الرِّياحُ تَأْخُذُهُ الرِّوَابِعُ .

(وہ مل جس کو ہوائیں کھینچ کر لاتی ہیں اس کو بگولے پکڑتے ہیں، ہفت

کی دولت ہاروں نے لٹائی۔)

۱۲۹۳۔ مَاءٌ وَلَا كَصَدَايَ .

(پانی ہے مگر صد آجیسا نہیں) صد آ کا پانی مشہور تھا اگر وہ بات

کساں مولوی مدن کی سی)

۱۲۹۴۔ يَا مَاءُ لَوْ بَغِيْرِكَ غَوَّصْتُ .

(اے پانی! کاش تیرے سوا کسی چیز سے میرے پھنسا لگتا نازل شدہ

مصیبت کے سوائے کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔)

ش

۱۲۹۵۔ أَنَا مِي مِنَ الْكُوْكِبِ . (مستارہ سے بھی مستارہ فخر)

۱۲۹۶۔ لَا يُبِيْتُ الْبُقْلَةَ إِلَّا الْخَلْقَةَ .

(ساگ کو کھیت ہی کا تار ہے) گھٹیا بات گھٹیا آدمی کے ہی منہ سے نکلتی ہے

۱۲۹۷۔ نَجْرُ الْكَلْبِ لَا يَضُرُّ السَّحَابِ دَكَّةً كَالْبُهْمِ الْبَدَلِ كَوَقْرٍ نَسِيتَا .

۱۲۹۸۔ مَا نَجَزَ حُرٌّ مَا وَهَدَ .

(خریف نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، سب سے پہلے حادثہ ابن

عمر و کنڈی نے صخرین نیشل سے کہا تھا۔ حادثہ نے صخر کو اس شرط

پر لوٹ مار کا ایک موقع بتایا کہ جو ہاتھ آئے گا اس میں سے پانچوں

حصہ حادثہ کو دے گا۔ جب صخر اس لوٹ سے کامیاب واپس ہوا

کو سمجھنا رہا کہ خطا گیا۔ اس غصہ میں اس نے اپنی کان توڑ ڈال، صبح کو دیکھا تو پانچوں تیرخون آلودے اور پانچ گورخکار بونے پڑے تھے۔ ندامت اور انسوس سے اپنی انگلیاں اتنی زور سے کاٹیں کہ ایک انگلی کٹ گئی، پھر اس نے یہ اشعار پڑھے۔

نَدَمْتُ نَدَمَةً لَوْ أَنَّ نَفْسِي بَدَّلَتْ عَنِّي إِذَا تَقَاتَتْ كَفْسِي .

مجھے ایسی ندامت ہوئی کہ اگر میرا نفس میری بات مانتا تو میں خودکشی کر لیتا،

۱۵۰۶۔ كَلَّ النَّدَاءُ إِذَا نَادَيْتُ يَخْذُلُنِي: إِلَّا اللَّيْلَةَ إِذَا نَادَيْتُ بِمَا مَالِي . (ہر آواز جو میں دیتا ہوں مجھے رسوا کرتی ہے، بجز اس آواز کے کہ میں کہوں یا مال، اپنے مال کے سوائے کسی چیز کو اپنی مدد کے لیے بلانا باعث رسوائی ہے۔

۱۵۰۷۔ التَّوَالِيحُ لَا التَّقَوُّلُ .

(دور کی عورتوں سے نکاح کرو نہ کہ قارب کی عورتوں سے) نزاع: جمع نزاع یعنی اجنبی۔ قارب: جمع قریب، یعنی رشتہ دار۔ نزاع و قارب فعل مخذوف "تزوَّجُوا" کی وجہ سے منصوب ہیں۔

۱۵۰۸۔ تَزَلَّتْ مِنْهُ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ .

(تو اس کے پاس بغیر کھیتی کی وادی میں اترے، وہاں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

۱۵۰۹۔ إِذَا نَزَلَ بِكَ الشَّرُّ فَاقْهَدُ .

جب تجھ پر شر نازل ہو تو بیٹھ جا، یعنی شر کی طرف جلدی اور سبقت نہ کر خواہ تجھے اس کی طرف سبقت کرنے پر مجبور کیا جائے۔

۱۵۱۰۔ لَيْسَ عَلَيْكَ لَسِيْبُهُ قَاتِلُهُ وَجَبْرٌ .

(اس کا بننا تیرے ذمہ تو نہیں ہے لہذا کھینچ اور گھسیٹ، مال مفت

دل بے رحم۔

۱۵۱۱۔ إِنَّهُ لَسِيْبٌ وَخَلْدٌ . (وہ ایک ہی بنا ہوا ہے، یعنی یکتا و منفرد ہے۔

۱۵۱۲۔ إِنَّ النِّسَاءَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ .

(عورتیں شیطان کے جال ہیں، جبال، جال جو فکار کو پھانسنے کے لیے نصب کیا جائے۔ اس کا واحد حبانہ ہے۔

۱۵۱۳۔ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الْأَقْوَامِ .

(عورتیں مردوں کا نصف حصہ ہیں، یعنی مساوی تو کی مالک ہیں۔

شَقَائِقُ: جمع شقیقہ۔ چیز کے دو حصوں میں کا ایک حصہ۔ اقوام سے مراد مرد ہیں۔

تو حارث نے یہ مقولہ کہا تھا۔

۱۴۹۹۔ نَاجِزًا يَنَاجِزُ .

(نقدانقد، ناجز بنا جز بھی مستعمل ہے۔ اسی قسم کی مثال ہے: يَدًا يَدِيوُ) اس لفظ دینا اس لفظ لینا، فعل مخذوف کی وجہ سے منصوب ہونا ہے یعنی اَبِيْكَ نَاجِزًا يَنَاجِزُ .

۱۵۰۰۔ دُونَكَ النَّجْمُ .

(اس سے نیچے تو ستارہ ہی ہے، نجم سے مراد عام ستارہ بھی ہو سکتا ہے اور ثریا بھی۔

۱۵۰۱۔ مَنْ نَجَّأَ رَأْسَهُ فَقَدْ رَجَعَ .

(جو اپنا سر بچالے گیا وہ نفع میں رہا، نفع کی امید میں مصائب میں مبتلا ہو، پھر سلامت بچ نکلنے پر رضا مند ہو جائے۔ یہ ایک مہرغ ہے۔

اللَّيْلُ دَاجٍ وَابْكَاشٌ تَنْتَطِرُ: تَطَا حَاسِدًا مَا أَرَاهَا تُصْطَلِحُ . (رات اندھیری ہے اور

میںڈھے سینگ مارتے ہیں شیروں جیسی نکریں مجھے وہ صلح کرتے نظر نہیں آتے لہذا جو اپنا سر بچالے گیا وہ نفع میں رہا۔)

۱۵۰۲۔ مَا أَنْتَ بِحَيَّةٍ وَلَا سَيِّئَةٍ . (تو بجات یا فتر ہے نہ مقلید،

۱۵۰۳۔ نَحْتُ أَثَلَتَا .

(اس نے اس کے جھاؤ کو چھیل ڈالا، یعنی طعی کھول دی، اثلتہ: جھاؤ کا درخت۔ یہاں مراد اصل اور حسب سے ہے۔

۱۵۰۴۔ التَّدَمُّ عَلَى الشُّكُوتِ خَيْرٌ مِنَ التَّدَمُّ عَلَى الْقَوْلِ .

(فاموشی پر ندامت ہونے پر ندامت سے بہتر ہے،

۱۵۰۵۔ أَنْدَمُ مِنَ الْكَسْبِيِّ .

(کسبی سے زیادہ نادم، کسبی کسی وادی میں اپنے اونٹ چرانے گیا۔ ایک چٹان کے شکاف میں شوحط کا پودا اگا ہوا تھا جس کی ٹکڑی سے تیر

کان بناتے ہیں، کسبی نے اپنے مفکیزہ سے اس کو پانی دیا۔ ایک سال تک اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ جب وقت بڑھ کر کچھ درست ہو

گیا تو کسبی نے اس کو کاٹ کر پانچ تیر اور گمان بنائے اور گورخر کے شکار کے لیے ایک وادی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب گورخروں کا

ایک گلوہ پانی پینے کے لیے آیا تو کسبی نے تیر چلایا جو ایک گورخر کے بازو سے لگا کر ایک چٹان سے ٹکرایا۔ جس سے چنگاریاں نکلیں، کسبی

سمجھا کہ تیر خطا گیا، اسی طرح اس نے پانچوں تیر چلائے اور ہر تیر

صبح سے زیادہ نماز، رات کے پردہ میں چھپی ہوئی چیز کو فاش کر دیتی ہے۔
۱۵۵۵۔ مَنْ تَرَفَّقَتْهُ الْحَيَّةُ حَذَرَ الرَّسْتَنِ.

دسانپ کا کاٹنا رسی سے ڈرتا ہے، جیسے دودھ کا جلا جھاچھ پھونک
پھونک کر پیتا ہے۔

۱۵۵۶۔ مَنْ يَنْحَعِ الْبَارِئِي يَلَا جَنَّا؟

کیا شکرانہ غیر بازوؤں کے اڑ سکتا ہے؟ تعاون کی ترغیب کے لیے
یا ایسے مدعی کے لیے کہا جاتا ہے جو ضروری صلاحیت سے بے بہرہ ہو۔

۱۵۵۷۔ لَا تَنْتَهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيْ مِثْلَهُ. كَسَى اِلْسِي عَادَتٍ سَلُوْكَوْنَ كُوْنُ

مت کر جو جس کو تم خود کرتے ہو خود را نصیحت و دیگران را نصیحت :-

۱۵۵۸۔ النَّاسُ يَجْزِيُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ. دَلُوْكَوْنَ كُوْلِيْ اَعْمَالٍ كِيْ جَزَائِلِكِ

۱۵۵۹۔ النَّاسُ اَتْبَاعُ مَنْ عَلَبَ رُوْكَ غَالِبِ دَمِيْ كَيْ نَابِعِ هُوْتِيْ هِيْ

۱۵۶۰۔ النَّاسُ اَعْدَاءُ مَا جَهَلُوْا. (لوگ، نامعلوم چیز کے دشمن ہوتے ہیں)

۱۵۶۱۔ النَّاسُ عَبِيْدُ الْاِحْسَانِ. (لوگ احسان کے غلام ہیں)

۱۵۶۲۔ يَكْفُلُ اُنَّاسٍ فِيْ بَعِيْرِ هِمْدٍ نَخْبِرُ

لوگ اپنے اپنے اونٹوں کی خبر رکھتے ہیں یعنی ہر قوم اپنے معاملات کو
غیروں سے زیادہ جانتی ہے۔

۱۵۶۳۔ اِسْتَنْوَقَ الْجَمَلُ. (اونٹ ناقہ بن گیا، اونٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے۔

۱۵۶۴۔ لَا نَأْقِيْ فِيْ هَذَا اِرْوَجَبِيْ.

نہ اس معاملہ میں میرا اونٹ ہے نہ میری ناقہ ہے، میں بری الذمہ ہوں۔

۱۵۶۵۔ نَامَ عِصَامٌ سَاعَةَ السَّجِيْلِ.

دکوپچ کے وقت عصام سو گیا، فکار کے وقت کتیا ہنگامی، ضرورت کے

وقت غائب ہو گیا یا اسباب تاخیر پیدا ہو گئے۔

۱۵۶۶۔ النَّوَى اَوَّلُ الشَّجْوَةِ. (گھٹل درخت کی ابتدا ہے)

۵
۸

۱۵۶۷۔ يَمْثُبُ مَعَ كُلِّ رِيْحٍ. (بر ہوا کے ہمراہ چل پڑتا ہے)

۱۵۶۸۔ اَهْدَى مِنَ النُّقْطِ.

(قطار سے زیادہ ہدایت مند ہے کہ قطار اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتی۔

۱۵۶۹۔ اَهْدَى مِنَ الْيَدِ اِلَى النُّجُوْدِ.

رہنما کی طرف جانے والے ہاتھ سے زیادہ ہدایت یافتہ)

۱۵۲۰۔ لَا يَنْفَعُ حَذْرٌ مِّنْ قَلْبٍ.

احتیاط تقدیر کے مقابلے میں نفع نہیں دیتی۔

۱۵۲۱۔ مَا تَنْفَعُ الشَّحْفَةُ فِي الْوَادِي الرَّغْبِ.

ضعیف بارش وسیع وادی کو نفع نہیں پہنچاتی، عطا اس قدر کم ہے کہ ضرورت

پوری نہیں ہوتی۔ شحفة؛ ضعیف بارش، الوادی الرغب؛ وہ وسیع

وادی جس کو تیز و تند سیلاب ہی بھر سکتا ہو۔

۱۵۲۲۔ لَا يَنْفَعُكَ رِيْحٌ جَارٍ سُوِيٍّ لَوْ قِي.

برے پڑوسی سے پھنسا بے فائدہ ہے، بچ نہیں سکتا۔

۱۵۲۳۔ وَمَا نَفَعُ السُّيُوفُ بِلَا رِيَالٍ. (غیر آدمیوں کے تلواروں کا کیا فائدہ،

۱۵۲۴۔ النَّقْدُ عِنْدَ الْحَافِرَةِ. (نقد سبقت کے وقت ہوتا ہے، آگے

نکلنے والے گھوڑوں کے کھڑوں سے جو میدان کھدا ہے وہیں انعام کی رقم

پر کھانی چاہیے، یعنی جلدی ملنی چاہیے۔ حافرة؛ گھوڑے کے کھڑوں سے

کھدی ہوئی زمین۔ فاعلة؛ یعنی مفعولہ ہے۔

۱۵۲۵۔ النَّقْدُ صَابُونَ الْقَلْبِ.

(نقد دل کا صابون ہے) صاف رہتا ہے کوئی دوسو سپید نہیں ہوتا ہے

۱۵۲۶۔ مَا نَقَصَ مِنْ مَالِكَ مَا زَادَ فِي عَقْلِكَ.

(جس مال نے تیری عقل میں صاف کیا وہ کم نہیں ہوتا) ضائع نہیں گیا۔

۱۵۲۷۔ مَنْ نَقَلَ اَيْتَكَ فَقَدْ نَقَلَ عَنْكَ.

(جس نے تم سے دوسروں کی باتیں نقل کیں وہ تمہاری بھی نقل کریگا،

۱۵۲۸۔ اَنْقَلَ مِنْ فَيْءٍ. (بہا یہ سے زیادہ منتقل ہونے والا)

۱۵۲۹۔ اَنْقَى مِنَ الدَّمَاعَةِ. (آنسو سے زیادہ شفاف،

۱۵۵۰۔ اَنْقَى مِنْ مِرَاةِ الْغُرَيْبَةِ.

ناجینی عورت کے نشینے سے صاف، غریبہ؛ وہ عورت جو غیر قوم میں شادی کرے،

وہ ہنؤ سنگھار کا زیادہ خیال رکھتی ہے اس لیے آئینہ ہمیشہ صاف رکھتی ہے۔

۱۵۵۱۔ تَرَكْتُهُ عَلَى اَنْقَى مِنَ الرَّاحَةِ.

(میں نے اس کو ہتھیلی سے زیادہ صاف حالت میں چھوڑا) اس کے پاس کچھ تھا

۱۵۵۲۔ اَنْكُرُ مِنْ شَيْءٍ رَشِيٍّ سِيٍّ زِيَادَةً غَيْرِ مَعِيْنٍ، لَفْظُ شَيْءٍ بِرَاسْمِ كَرِهٍ

سے زیادہ عام کمرہ ہے۔ ہر موجود چیز کے لیے کہا جاسکتا ہے۔

۱۵۵۳۔ اَنْسَدُّ مِنَ السُّرَابِ.

(مٹی سے زیادہ چھنور، نشان قبول کے صاحب نشان کا پتہ دیتی ہے۔

۱۵۵۴۔ اَنْسَدُّ مِنَ الْعُتْبُوْبِ.

۱۵۶۰۔ اَلْاَشْرَفُ بِمَا لَا تُعْرَفُونَ.

(جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کی تعریف میں مبالغہ مت کر، بہرہ: تعریف میں مبالغہ کرنا۔)

۱۵۶۱۔ اَهْرَقَ عَلَى جَمُوكَ .

دائیں چنگاری پر پانی ڈالوں غصہ کو ٹھنڈا کرو۔ ہرق الماء: پانی بسایا۔

۱۵۶۲۔ اِذَا هَلَكَ حَيْرٌ فَعَيْتٌ فِي الْبُزْبَاطِ۔ اگر ایک گدھا ہلاک ہو گیا

تو سڑک میں دوسرا موجود ہے، ہاتھ سے نکلنے والے پر مبرا اور موجود پر قسمت کے ٹپے کا ہاتھ ہے۔ رباط: وہ رسی جس سے ہنڈر باندھ جاتے ہیں۔

۱۵۶۳۔ اِمَامُكَ وَاِمَامُكَ دِيَابُكَ يَا كُفَّيْتِ يَا تَحْتِ يَا تَحْتِ .

۱۵۶۴۔ اَهْلَكَ مِنْ تَرْهَاتِ التَّبَايِبِ .

دھار کے شلخ و شلخ راستوں سے زیادہ ہلاک کرنا، جن کی ہول بھلا

میں پھنس کر ماہ نور ہلاک ہو جاتا ہے ترحات: وہ شاخ و درشاخ ہوتے جو کلی بڑے راستے سے نکلیں۔ تبایب: قق و دوق صحرا۔

۱۵۶۵۔ كُنْ هَسِدًا اِلَى قَرِيْبٍ .

دہر خم کشادگی کی طرف لے جاتا ہے، مصیبت کے بعد راحت ہے۔

۱۵۶۶۔ هَانَ عَلَى الْاَمَلِيسِ مَا لَا فِي الدَّيْرِ .

صان پیٹھ والے اونٹ پر وہ چیز آسان ہے جس سے زخمی پیٹھ والا

دو چار ہے۔ املیس: وہ اونٹ جس کی پیٹھ تندرست و سالم ہو۔

الدیر: وہ اونٹ جس کی پیٹھ زخمی ہو۔ آرام والے مصیبت زدہ کی

تکلیفوں کا احساس نہیں کرتے۔

۱۵۶۷۔ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَهُوَ عَلَى غَيْرِهِ اَهْوَنُ .

جو اپنے آپ کو ہلاک سمجھے گا، وہ دوسروں کے لیے اور بھی زیادہ ہلاک

ہوگا۔ اپنی عزت آپ:

۱۵۶۸۔ مَنْ اَهَانَ مَالَهُ اَكْرَمَ نَفْسَهُ۔ جو اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، اپنے

نفس کو معزز بنائے گا، جو مال خرچ کرے گا اس کو عزت حاصل ہوگی۔

۱۵۶۹۔ هَوْنٌ عَلَيْكَ وَلَا تُؤَلِّمُ بِاشْتِقَاقٍ دِرْهَمًا نَكَادًا رَمِيَتْ مِنْهُ نَفْسٌ .

شکر جو جلتا ہے جانے دے آخر چھوڑنا ہے۔ اشتقاق: کم ہونا یا کم کرنا۔

۱۵۷۰۔ اَهْوَنُ مِنَ النَّبَايِحِ عَلَى النَّسَابِ۔ بادلوں پر بھونکنے سے

زیادہ ہیندر، جس کے کل کوئی قدر کرنے والا نہ ہو وہ بارشوں میں

بھیکتا ہے اور جب بادل دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے۔

۱۵۷۱۔ اَهْوَنُ مِنْ قَعِيْسٍ عَلَى عَمْتِهٖ۔ (اس سے بھی زیادہ ہیندر

قہنا قعیس اپنی پھر پھی کے نزدیک تھا، قعیس کو فہ کا ایک شخص سرووں میں اپنی پھر پھی سے ملنے آیا۔ مکان تنگ تھا، پھر پھی نے کتے کو اندر بند دی اور قعیس کو باہر سلایا اور وہ ندوی سے مر گیا۔

۱۵۸۲۔ مَا اَهْوَنُ الْحَدْبِ عَلَى النَّظَارَةِ۔ دیکھنا دیکھنے والوں کے

نزدیک لڑائی کتنی آسان ہے، نظارۃ: تماشا۔

۱۵۸۳۔ اِرَاتَ الْعَوَانُ لِنَسِيْبِهِ مَرَامَةً۔ رکینے کے لیے بے عزتی مہربانی

ہے، وہ بے عزتی سے ٹھیک رہتا ہے۔ مہربانی کی تودہ تم کو بے عزت

کرنے کی کوشش کریگا۔ مرامۃ: مہربانی، رافت

۱۵۸۴۔ اِنَّ الْعَوِيَّ النَّوِيَّ رَحِمَتْ دَرِيْعَتُهُ هَوْنًا۔ دوری محبت

پیدا کرتی ہے، جو چیز دُر نظر آئے اس سے طبیعت اکتا جاتا ہے۔

۱۵۸۵۔ اِنَّ الْعَوِيَّ شَرِيْكَ الْعَوِيَّ۔ (محبت اندھے ہیں کی طرح ہے)

اسی طرح کی ایک مثل ہے حُبُّكَ الشَّيْءُ يُعِيْبُ وَيُحِيْمُ۔ (کسی چیز کی

محبت تم کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، محبوب کے عیوب دیکھنا سنا

کئی طرح گوارا نہیں ہوتا)

۱۵۸۶۔ اِنَّ الْعَوِيَّ الْعَوَانُ۔ (محبت ذلت کا نام ہے، اس راہ میں

ذلتیں برواخت کرنی پڑتی ہیں۔

۱۵۸۷۔ مَنْ هَابَ خَابَ (جو ڈرانا ناکام ہوا)۔

۱۵۸۸۔ مَنْ هَابَ الرَّجَالَ تَهَيَّبُوْهُ۔ (جو لوگوں سے ڈریگا لوگ ان کو ڈرائیں گے)

و

۱۵۸۹۔ لَوْلَا اِيْوَانُ نَعْلِكَ الْاِيْوَانُ۔ اگر موافقت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو

جاتے، ہر شخص دوسرے کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا۔ ایوان: موافقت۔

۱۵۹۰۔ وَجَعْتُ سَاعَةً وَلَا اَكُلُ سَاعَةً رَايْتُ كَلْبِيَّ كَيْفَ نَكَرَ بَرِّ

گڑھی کی، دم بھر کی تکلیف ہے عمر بھر کی نہیں۔

۱۵۹۱۔ كَلْبٌ اَجْدُ بِشَطْرَةِ مَحْرًا۔ میں نے چہرے کے لیے کانٹے کی

جگہ نہ پائی، یعنی میں نے معاملہ میں گنجائش نہ پائی۔

۱۵۹۲۔ قَدْ يُؤَجِدُ فِي الْاَهْوِيَّ مَا لَا يُؤَجِدُ فِي الْبَعِيْرِ۔ (کبھی نہیں

وہ چیز مل جاتی ہے جو سمندر میں نہیں ملتی)۔

۱۵۹۳۔ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْرِ۔ (بڑے ہم نشین سے

تنہائی بہتر ہے)

دگر مخاطب کے ساتھ مروی ہے، عصام نعمان کا دربان تھا۔ اس نے نابھت شاعر کو جو نعمان کی عیادت کے لیے آیا تھا نعمان کے پاس جلنے سے روک دیا تھا۔ نابھت نے اپنے قصیدہ کے ایک شعر میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: فَوَيْلٌ لِلَّالِ الْوَالِكِ فِي وَخُولٍ: وَ لَكِنَّ مَا وَرَأَكَ يَا عِصَامُ۔ (میں داخل ہونے کے سلسلے میں تجھے طاعت نہیں کرتا۔ مگر اے عصام یہ تو بتلاؤ کہ تیرے پیچھے کیا کیا حال ہے؟) یعنی نعمان کا کیا حال ہے۔ وَرَأَاكَ: بکسر کاف (مخاطب ٹرنٹ) بھی منقول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حارث بن عمر و شاہ کندہ نے ایک عورت عصام کے ذریعے عوف شیبانی کی لڑکی کے لیے شادی کا پیغام بھیجا جو عقل و جمال کے اعتبار سے اپنے زمانہ کی ممتاز لڑکی تھی، عصام، عوف کے پاس سے واپس ہوئی تو حارث نے۔ درہی سے پوچھا: مَا وَرَأَاكَ يَا عِصَامُ؟۔ ادھر کی کیا خبر ہے اے عصام؟۔

۱۶۰۴۔ اَوْرَدَتْ مَا لَحَّ تَصِيدُ۔ (تو نے وہ چیز اتاری ہے جس کو واپس نہیں کر سکتا، ایسی بری بات کہی ہے جو واپس نہیں ہو سکتی یا ایسی غلطی کی ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔

۱۶۰۵۔ حَشِي يَرِدُ الصَّبُّ۔ (سیاں تک کہ گوہ پانی پیئے) مشہور ہے کہ گوہ کسی پانی نہیں پیتی۔

۱۶۰۶۔ مَا هَكَذَا قُوْرُوْا يَا سَعْدُ الْاِبِلُ۔ (اے سعد! اس طرح اونٹوں کو پانی نہیں پلایا جاتا، یعنی معاملات کو اس بڑے طریقے سے انجام نہیں دیا جاتا۔ مالک بن زید، مناة بن تمیم نے اپنے بھائی سعد کو بے پروائی سے اونٹوں کو پانی پلانے پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

۱۶۰۷۔ هَذَا اَدْلَمًا تَرُوْدُ تَحَا مَهْلًا۔ (یہ گھبراہٹ! حالانکہ ابھی مکہ دور ہے) کسی معاملے کے بیش آنے سے پہلے گھبراہٹ۔ اسی طرح ایک شعر ہے۔ اَشْوَقًا وَاَدْلَمًا يَمْضِي لِي غَيْرَ مَبِيَّةٍ: فَلَئِنْ اِذَا سَارَ اَطْلُجًا بِنَا عَشْرًا۔ (اتنا شوق؟ حالانکہ ابھی میری ایک رات بٹی نہیں گزری، اس وقت کیا حال ہوگا جب سواری بم نمودس راتوں تک لے جائے گا۔

۱۶۰۸۔ مُوْرِدًا الْجَهْلُ وَرِيَّ الْمَنْهَلِ۔ (جہالت کا کھاٹا، شہ سواریاؤں پینے کی جگہ۔) وہی، کھانے میں ناتوشکرا اور نہ پینے والی تیز۔

۱۶۰۹۔ وَاَيْسَطَةُ الْبِقْلَادَةِ۔ (ہر میں سب سے بڑا اونٹ، اپنے ایشال میں سب پر فوق۔

۱۶۱۰۔ اَوَسَعْتُمْ نَسَاوَا وَاوَدُوْا بِالْاِبِلِ۔ (کالیاں تو بیت کھل رہیں

۱۵۹۴۔ وَخُمِي بِلَا جَهْلٍ۔ (حل کے بغیر مختلف اشیاء کی خواہش کرنے والی) ایام حل میں طرح طرح کی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ مثل لیے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو براہی چیز کا ذکر سن کر اسکی خواہش کرے پالانچ کی وجہ سے بے ضرورت مانگتا پھرے۔ وَخُمِي: وہ عورت جو ایام حل میں مختلف چیزیں کھانے کی خواہش کرے۔

۱۵۹۵۔ دَعُ عَيْتَكَ بِنِيَّاتِ الطَّرِيقِ۔ (شاخ در شاخ راستوں کو چھوڑ کر واضح راہ اختیار کرو۔) نیات الطریق: وہ چھوٹے چھوٹے راستے جو کبھی بڑے راستے سے نکلتے ہوں۔

۱۵۹۶۔ دَعُ الْعَوْرَاءَ تَهْتَاطَاكَ۔ (بڑی چیز کو چھوڑ دو کہ تم سے تجاوز کر جائے) عَوْرَاءُ: بڑی خصلت، کلمہ بد، تخطاک: یعنی تجھے چھوڑ کر آگے نکل جانے کہا جاتا ہے کہ یہ اہل عرب کی سب سے زیادہ پُر حکت مثل ہے۔

۱۵۹۷۔ دَعُ الْقَطَايِنَ وَ شَمْرَ بَعْبُوْرٍ۔ (قطا کو سو جانے دو اور شمر کو گزر جانے دو) کام کا مناسب موقع آنے تک اطمینان سے بیٹھو۔

۱۵۹۸۔ دَعُ الْكُوْمَ اِنَّ الْكُوْمَ عَيْنُ الشَّوَابِيْبِ۔ (طاعت چھوڑو، طاعت کرنا مہاسب کا معین و مددگار ہے۔)

۱۵۹۹۔ دَعُ مَا تَرُوْدُ عُدَّةً۔ (مال کو اس کے ودیعت رکھنے والے ہی نے چھوڑ دیا، مگر ہے وہ واپس نہ ملے۔) "جو ہاتھ سے نکلا وہ پرایا۔"

۱۶۰۰۔ بِكَلِّ ذَا اِدْبِنُو سَعْدٍ۔ (برہ روئی میں جو سعدی میں ہو سعد کے ایک شخص غضب من قرین نے اسی قوم کو۔) سپنیدہ بایں دینھ لان سے علمنگ اختیار کی اور جب دو سردوں میں بھی اس طرح کی باتیں دیکھیں تو اپنی قوم میں واپس آ گیا اور کہا کہ برہادی میں بنو سعد رہنے ہیں۔ یہ مثل ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کسی وجہ سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جائے اور وہاں بھی ایسی ہی چیز سے واسطہ پڑے۔

۱۶۰۱۔ بِكَلِّ ذَا اِقْرَمِيْنِ تَعْلَبَةَ۔ (برہادی میں بنی ثعلبہ کا اثر موجود ہے) یہ بنی ثعلبہ کے ایک شخص کا مقولہ ہے جو اپنی قوم کے آزار سے بچنے کے دوسرے لوگوں میں گیا اور وہاں بھی اس کو وہی کچھ پیش آیا۔

۱۶۰۲۔ فَرَاوَاكَ اَوْ سَمَّ لَكَ۔ (تیرے پیچھے تیرے لیے زیادہ وسیع معاملہ ہے، جو چھوڑ کر آئے ہو اس میں زیادہ گنجائش ہے۔)

۱۶۰۳۔ مَا وَرَأَاكَ اَوْ وَرَأَاكَ يَا عِصَامُ۔ (تیرے پیچھے کیا کیا ہے عصام؟) جہاں سے آ رہے ہو وہاں کے کیا احوال ہیں؟ وَرَأَاكَ: فتح کاف

حالانکہ وہ اونٹوں کے لیے ہی گئے، کعب بن زبیر کا مقولہ ہے (حدث
بن وقتانہ کعب کے باپ زبیر کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا اور چولہے
سیت پر کر کے گیا تو زبیر نے اس کی بھوک، جی بھر کے گایاں دیں۔
دھکیاں دیں، اس کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا۔ مگر حادث نے پرواہ
ہی نہ کی تو کعب نے اپنے باپ سے کہا تھا۔

۱۶۱۱۔ لا تَسْعَ الْخَنُوقُ عَلَى التَّوَاتُقِ۔ (پٹن، جوڑنے والے پر وسیع
برگئی، فساد اتنا بڑھ گیا ہے کہ اصلاح کا موقع جاتا رہا۔

۱۶۱۲۔ فِي سَعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوشُ الْأَرْزَاقِ۔ (وسعت اخلاق میں
رزق کے خزانے ہیں، خوش اخلاق بھوکا نہیں رہتا۔

۱۶۱۳۔ كُنْ دَهْوَى نَفْسِكَ۔ (اپنے نفس کا دمی بن کر)

۱۶۱۴۔ إِنَّ الْمَوْصِلِينَ بَنُو سَهْوَانَ۔ (وسیت کے جوڑنے لوگ
آدم کی اولاد ہیں، وسیت کے باوجود بھول جاتا ان کا ورثہ ہے۔
سہوان: بھولنے والا۔ مراد حضرت آدم جن کو ہایت کی گئی اور
وہ بھول گئے۔

۱۶۱۵۔ أَيْنَ يَضَعُ الْمَخْنُوقُ يَدَهُ؟ (گلا گھونٹا ہوا اپنا ہاتھ کہاں رکھے،
۱۶۱۶۔ ضَعِ الْفَاسَ فِي التَّوَاتُقِ۔ (تیشہ کو سر میں رکھ دے، موقع کو
غنیمت سمجھو اور اپنا کام جلد پورا کر لو۔

۱۶۱۷۔ دَعْدُ الْكِرْبِيِّ دَيْنٌ۔ (سخی کا وعدہ قرض ہے)

۱۶۱۸۔ دَعْدُ بِلَادٍ فَاءِ عَدَاوَةٍ بِلَا سَبَبٍ۔ (وعدہ پورا نہ کرنا
بادجہ کی دشمنی مول لینا ہے)

۱۶۱۹۔ الْعِدَّةُ عَطِيَّةٌ۔ (وعدہ عطیے کی طرح ہے، واپس لینا یعنی
پورا نہ کرنا برابر ہے۔)

۱۶۲۰۔ هُوَ أَعْيَدُ عُرْقُوبٍ۔ (عرقوب کے وعدے، عرقوب علاقہ میں

سے ایک شخص عرقوب نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ کھجور میں پھول
آجائیں تو وہ تیرے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ وعدہ پھل آنے،
گدڑانے سبکے اور خشک ہو کر چھوڑا۔ بن جانے پر طستار رہا۔
اور آخر میں عرقوب نے سب خود رکھ لیے اور اپنے بھائی کو کچھ نہ
دیا۔ اس لیے وعدہ خلافی میں ضرب المثل ہو گیا۔

۱۶۲۱۔ رَفَقَ شَيْخٌ طَبَقَةً أَوْ طَبَقَةً بِدُجْرَةٍ كَأَرْفِ لَيْطَةٍ
غلاف کے موافق ہو گیا یا شرف طبقہ کے موافق ہو گیا۔ دونوں ایک
جیسے ہو گئے یا ایک جیسے ہو گئے۔ اسی نے کہا ہے کہ شرف چلے

کا برتن ہوتا ہے، جب سُکڑ جاتا ہے تو اس پر ایک غلاف چڑھا
دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ بعض
ماہرین لغت کا بیان ہے کہ شرف و انا و عطلند لوگوں میں سے ایک
انتہائی عقلمند شخص تھا، اس نے یہ عہد کیا کہ اپنے ہی جیسی عقلمند
عورت سے شادی کریگا، ایسی لڑکی کی تلاش میں وہ شہر بشہر
گھومتا رہا۔ اتفاقاً ایک سفر میں جو اپنے وطن جا رہا تھا، اس کا رفیق
سفر ہوا۔ دونوں اپنی سواریوں پر جا رہے تھے کہ شرف نے کہا کہ
میں تجھے اٹھا کر چلوں یا تو مجھے اٹھا کرے چلے گا۔ ساتھی نے شرف کو
اجتنب سمجھا، اس لیے کہ دونوں سواری تھے۔ مگر شرف کا مطلب یہ تھا
کہ سفر آسانی سے طے کرنے کے لیے میں کوئی بات چھیڑوں یا تم
کوئی بات شروع کرو گے، دونوں ایک کھلیان کے پاس سے
گزرے تو شرف نے پوچھا کہ یہ کھیتی کھائی جا چکی ہے یا نہیں؟
ایک جنازہ دیکھ تو شرف نے پوچھا کہ اس چارپائی پر کوئی
زندہ ہے یا مردہ؟ یعنی اس کے نام کو زندہ رکھنے والی اولاد یا
درخت ہیں یا کوئی نہیں۔ شرف کا رفیق سفران تمام سوالات پر
شرف کو بے وقوف سمجھتا رہا اور جب اس کو اپنے ساتھ گھرنے گیا
تو اپنی لڑکی طبقہ سے شرف کے اہمقانہ سوالات کا ذکر کیا۔ لڑکی
نے سن کر کہا اے باپ، تو نہایت عقلمند آدمی ہے، اس کے تمام
سوالات کا مطلب یہ تھا۔ شرف کے رفیق نے لڑکی کی باتیں نقل
کیں تو شرف نے اس کو نکاح کا پیغام دیا اور اس سے شادی
کر لی۔ جب شرف کے گھر والوں نے طبقہ کی ذہانت دیکھی تو کہنے
لگے کہ شرف طبقہ کے موافق پڑا۔ یا شرف نے طبقہ کو پایا۔ اور یہ

قول ضرب المثل ہو گیا۔

۱۶۲۲۔ إِنَّ لَسَدَ يَكِينٍ وَفَاقٍ فُفُوقًا وَمَوَافَقَةٌ بِمَوَافِقَاتِي
(بتر ہے)

۱۶۲۳۔ أَوْفَى مِنَ الشَّهْوَانِ۔ (سوال سے زیادہ وفادار، سوال

کے پاس امراء القیس میں جو کندی نے دم جاتے ہوئے اپنی
ندیں امانت رکھی تھیں۔ امراء القیس مر گیا تو والی ختام نے سوال
سے وہ زہریں طلب کیں، اور اس کے انکار پر چڑھائی کر دی۔

سوال اپنے قلعے میں محصور ہو کر بیٹھ گیا۔ والی ختام نے سوال
کے لڑکے کو قلعہ سے باہر رہ گیا تھا طلب کر لیا اور سوال کو اس

کے قتل کرنے کی دھمکی دی لیکن سوال نے پھر بھی امراء القیس کی امانت
اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر وائی شام نے سوال کی
آنکھوں کے سامنے اس کے لٹکے کو ذبح کر دیا اور ناما کام واپس
ہو گیا۔ حج کے زمانہ میں جب لوگ جمع ہوئے تو سوال نے
امراء القیس کے ورثاء کو تلاش کر کے امانت ان کے حوالے کر دی۔
سوال کا ایک مشہور شعر ہے۔

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْرُ قَسْمَ مِنَ التَّوْبِ بِغَرَضِهِ فَكُلُّ رِدَائِهِ تَبِيرُهُ جَمِيلٌ
(جب آدمی کی آبرو کینگی سے طوٹ نہ ہو تو جو چادر بھی وہ پہن لے
گا خوبصورت ہے)

۱۶۲۴۔ لَا تَقْعَرُقِ الْبَحْرَ إِلَّا سَابِحًا۔ (دریا میں اس وقت کودو جب
تیرنا جانتے ہو، کسی معاملہ میں اس وقت پڑو جب اس سے عمدہ برآ
ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو۔)

۱۶۲۵۔ وَقَفَتْ تَحْتَ الْمِيزَابِ وَقَرَّتْ مِنَ الْمَطَرِ۔ (بارش سے
بھاگا، پنار کے نیچے جا کھڑا ہوا، آسمان سے گرا کھویریں اٹکا۔)

۱۶۲۶۔ إِنْ لَقِيَ قَوْمًا مِنْ أَحْسَنَتِ إِلَيْهِ۔ (جس کے ساتھ تم نے
احسان کیا ہو اس کے شر سے بھی بچتے رہو اسی کے ہم معنی ہے؛
۱۶۲۷۔ سَمِعْتُ كَلْبَكَ يَا كَلْبُكَ۔ (اپنے کتے کو موطا کر وہ تھیں
کھائے گا)

۱۶۲۸۔ قَدْ يَغْوِي السَّيْفُ وَهُوَ مُخَمَّدٌ۔ (کبھی میان میں ہوتے
ہوئے بھی تلوار سے خوف کیا جاتا ہے)

۱۶۲۹۔ مَنِ اتَّكَلَ عَلَى زَادٍ غَيْرِهِ طَالَ جُوعُهُ۔ (جو غیر کے
توٹنے پر بھروسہ کرے گا اس کی بھوک طویل ہوگی۔)

۱۶۳۰۔ لَا تَلِدُ الدِّيَابَةُ إِلَّا ذُبَابًا بَعِيرًا يَبْرِي أَيْ جَنْجَلًا بَعِيرًا
کا بچہ بھڑیا ہی ہوتا ہے۔ عاقبت رگ زیادہ گرنے شروع۔

۱۶۳۱۔ هَلْ تَلِدُ الْحَيَّةُ إِلَّا الْحَيَّةَ۔ (کیا سانپن سانپ کے
علاوہ اور کوئی بچہ دے سکتی ہے؟) سانپ کا بچہ سپویا۔

۱۶۳۲۔ دَلَّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَائِرَهَا۔ (معاہدے گرم حال کو بھی
اس کے سپرد کر دو جو سرد حال کا مالک ہے، اچھا پہلو جبر کے
سپرد کیا ہے بُرا پہلو بھی اسی کے سپرد کر دو۔ یا جو نفع اٹھاتا
رہا وہی بوجھ اور نقصان بھی اٹھائے، اہل عرب کے نزدیک
گرم چیز بری اور ٹھنڈی چیز اچھی سمجھی جاتی ہے۔ عَارًا تَعْلُ:

سخت اور کٹھن کام اور قارًا تَعْلُ: آسان کام
۱۶۳۳۔ أَوْهَنْ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ۔ (مکڑی کے جالے سے
زیادہ کمزور)

۱۶۳۴۔ عِنْدَكَ وَهْيٌ قَارٌ قَعِينٌ۔ (تیرے پاس بھی پھٹا ہوا ہے
پہلے ان کو پیوند لگا، پہلے اپنے پچھے کو سیو۔ یعنی اپنے عیوب
کو دیکھو۔)

۱۶۳۵۔ وَبِئْسَ لِلْمَكْسُودِ مِنْ حَسَدٍ ۵۔ (حاسد پر اس کے حسد کی
وجہ سے ہی ہلاکت آتی ہے)

۱۶۳۶۔ وَبِئْسَ يَلْتَرَأْسِ مِنَ اللَّيْسَاتِ۔ (سر کی ہلاکت زبان کے سبب
سے ہوتی ہے، زبان دلازی کی وجہ سے سر پھوٹتے ہیں۔)

۱۶۳۷۔ وَبِئْسَ لِلشَّيْخِي مِنَ الْحَيْبِي۔ (دعائیں کے لیے۔ تم لوگوں کی
وجہ سے مصیبت ہے، سب ایک سے ہوتے تو اتنا غم محسوس
نہ ہوتا۔ یا بے غم آدمی تسلی دینے کے بجائے ملامت کرتا ہے
اور غمزدہ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ غَلِيٌّ: فارغ دل۔
شَيْخِي: رنج و غم میں مشغول قلب۔)

۱۶۳۸۔ وَبِئْسَ لِعَالِيٍّ أَمْرٌ مِنْ جَاهِلِيَّةٍ۔ (نہ جاننے والے کے
مقابلے میں جاننے والے کی مصیبت ہے)

۱۶۳۹۔ وَبِئْسَ أَهْوَانٌ مِنْ وَبِيلَيْنِ۔ (ایک شر دو شروں سے زیادہ
آسان ہے، دو ہوتے تو ناقابل برداشت ہو جاتے۔)

ق

۱۶۴۰۔ أَيُّ أَسْمٍ مِنْ عَرَبِيٍّ۔ (دو بے نامی سے زیادہ نامید)

۱۶۴۱۔ يَدُ الْحَيِّ مِيزَانٌ۔ (شریف کا ہاتھ ترازو ہے)

۱۶۴۲۔ يَدٌ تَشْبَعُ وَأُخْرَى مِنْكَ تَأْسُوفِي۔ (تیرا ایک ہاتھ
زخمی کرتا ہے اور دوسرا مرہم لگاتا ہے۔)

۱۶۴۳۔ دَمًا مِنْ يَدِ الْإِلَهِ فَوْقَهَا۔ (کئی ہاتھ ایسا نہیں
جس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہو)

۱۶۴۴۔ يَدُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَتْ سَلَاةً۔ (تیرا ہاتھ تیرا
ہی ہے اگرچہ وہ بیکار ہو چکا ہو۔ اس ضرب المثل کی طرح ہے؛

أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعُ (تیری ناک تیرا ہی جُز ہے)

اگرچہ وہ کئی ہوئی کیوں نہ ہو،

۱۶۴۵۔ بِبَيْدَىٰ لَا بَيْدَىٰ يَدُكَ عَمْرُو۔

»پہنے ہاتھ سے تیرے ہاتھوں نہیں اسے عمرو!، ابنتہ الزیاد کا مقولہ ہے جو کہ قنسرین اور جزیرہ کی حکمران تھی۔ جب وہ قیصر اور عمرو کے ہاتھ میں پھنس گئی تو ان کے ہاتھوں تیل بونے کی بہ نسبت اپنی انگوٹھی چوس کر مر جانا پسند کیا۔

۱۶۴۶۔ هُوَ عَلَيْهِ يَدٌ وَاحِدَةٌ۔ (وہ سب اس پر متفق ہیں)

۱۶۴۷۔ هُوَ عِنْدِي بِالْيَمِينِ۔

(وہ میرے نزدیک مبارک اور شریف مرتبہ ہے)

۱۶۴۸۔ يَوْمَ الشُّرُورِ قَهْبِيرٌ۔ (خوشی کا دن چھوٹا ہوتا ہے)

۱۶۴۹۔ يَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا۔

(ایک دن ہمارے موافق ہوتا ہے اور ایک دن مخالف)

۱۶۵۰۔ الْيَوْمُ خَمْرٌ وَهَذَا أَمْرٌ۔

»آج شراب ہے توکل ایک اہم معاملہ، آج کا دن سرور و نشاط کا ہے توکل جنگ اور معرکہ پیش آئے گا۔ امراء القیس بن جھر کنڈی کا مقولہ ہے جس کے باپ نے شعر گوئی اور معاشرتی کی وجہ سے اس کو نکال دیا تھا۔ وہ میں چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد اور عجل نے اس کو خبر دی کہ اس کے باپ کو بنواسد نے قتل کر دیا ہے۔ امراء القیس نے کہا کہ چھوٹی عمر میں باپ نے مجھے فلاح کر دیا، لیکن مجھ پر اس کے خون کی ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ آج تو نشہ سے آفاقہ نہیں ہوگا

لیکن کل سے شراب ہی نہ ہوگی۔ آج شراب کا دن ہے اور کل اہم معاملہ (جنگ) درپیش ہے۔ امراء القیس کا یہ مقولہ ضرب المثل بن گیا۔

۱۶۵۱۔ الْيَوْمَ سَلَامٌ وَتَحَدًا كَلَامٌ۔

(آج سلام ہے اور کل کلام ہوگا)

۱۶۵۲۔ هَذَا يَوْمٌ حَلِيْمَةٌ نَيْسَبَةٌ۔

»یوم حلیمہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے، مشہور و معروف معاملہ ہے۔ یوم حلیمہ: عرب کی مشہور ترین جنگ ہے جس میں منذر بن ماد الشماہ مارا گیا تھا۔ یہ حلیمہ عارت بن ابی شمر نے منذر بن ماد الشماہ پر شکست کی تھی اور عارت کی لڑکی حلیمہ نے اسے ہم پر جانے والوں کے خوشبو لگائی تھی، اسی کے نام سے یہ معرکہ شروع ہو گیا۔

۱۶۵۳۔ إِنَّ مِنْ الْيَوْمِ آخِرَةٌ۔

»یقیناً دن کا آخری حصہ بھی اسی دن کا جز ہے تاخیر کے باوجود دن تو وہی ہے۔ وقت نہ پہنچنے کی وجہ سے کسی کو حصہ نہ دیا جانے تو تاخیر سے آیا لاکتا ہے، ان دنوں ایوم آخرہ (دن کا آخری حصہ) بھی تو دن کا جز ہے یعنی صبح نہ آسکا تو شام بھی تو اسی دن کا جز ہے،

۱۶۵۴۔ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عَدَايَا مُسْجِدًا۔

»دسے مسجد، آج کے ساتھ آنے والی کل بھی ہے، کل بھی تو ہوگی اور آج کے حالات کل نہیں گئے۔ ٹالینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے یعنی جلدی کیا ہے کل بھی تو آئے گا۔

ضمیمہ المنجد اُردو

یعنی

لغاتِ جدیدہ

عربی سے اُردو

ممالک عربیہ میں مستعمل جدید عربی الفاظ و اصطلاحات کا
 نہایت کارآمد مرقع جو المنجد جدید اور القاموس العصری
 اور عسکری اخبارات و رسائل سے منتخب کئے گئے ہیں

ناشر

دارالاشاعت

مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی۔

الف

<p>تأسیسی، بنیادی مجلس تاسیسی - مجلس قانون ساز - مؤسستہ - سیاسی، تجارتی، علمی اور وفاہی ادارہ - ج: مؤسسات - اسب - اسپیرین - اسپرڈ است - استودیو - اسٹوڈیو تصویر کشی یا فلم سازی کا مقام اسر - مأسورة - نکل - پاپ اسط - اسطوانة - (گراموفون کا ریکارڈ - ج: اسطوانات (۲) اخبار کا کالم أسفلت - ڈامر اسکندلة - اسٹول اسمنت - سمنٹ اسی - آسیا - ایشیا - آسیا الصغری - ایشیا کچک آسیوتی - ایشیائی - مأساة - ٹریجڈی - المناک حادثہ ج - ماسی اطر - اطار: فریم - ج: اطر اقر - افریز - کارنس - افاریز افق - افاق - جماندیرہ - سیاح أفقی - مسطح - چپٹا - افقی سمت کا آفندی - مسٹر - صاحب اقلید - اقلید - ملک صوبہ علاقہ اکد تاکیداً یقین دلانا - وثوق کرنا الی - آلمہ - مشین - اوزار - ذریعہ عمل ج آلات آلة متحرکة - انجن -</p>	<p>مأذبة - ضیافت - دعوت طعام ج - مادب ادی - آداة ج - ادوات - کل پرزے ادوات الكتابة - اسٹنری - ادوات متعلقہ سامان، مواد لوازم، میٹریل إذن - پرمٹ، لائسنس، اجازت نامہ پاس - إذن بتویید - پوسٹل آرڈر إذن مُردود - پاس إذن - سگنل، ریوے سگنل مأذون - سند یافتہ، اجازت یافتہ المأذونیة - علوم عالیہ کی سند قانون کی سند، ڈگری - ارد - اردواز - سلیٹ قلم اردواز - سلیٹ پنسل ارس - ارستقراطیة - معزز اور غریب لوگوں کا طبقہ - و: ارسطو اذق - مآزق - نازک صورت حال - خطرناک پریشانی - ارض - ارضیة فرش - زمین، ہر وہ جگہ جس پر پیروں رکھے جا سکیں - أرضیة الصود - بیک گراؤنڈ - پس منظر - ازم - آزمتہ - کرائس، بحران - ج: آزمات ازمة اقتصادیة - مالی بحران ازمة سیاسیة - سیاسی بحران تأزم - بحران کا شکار ہونا - محاطات کا نازک صورت اختیار کرنا - اس - آسیسی - بنیادی</p>	<p>ابر - ابرة دوامیة، انجکشن آبریل - ماہ اپریل إبریق - جگ - لوٹا - ابریق الشای - چائے دان ابن - تأبیتی - تعزیتی - ماتمی حفلة التابین - ماتمی جلسہ امث - اثاث - فرنیچر - گھریلو سامان ج - اثاث - امث - فرنیچر گانا - سامان سے آراستہ کرنا - امث - آشوقی - آثار قدیمہ سے متعلق ماہر آثار قدیمہ مأثرة - کارنامہ ج - مآثر أثیر - اتیر - ایک بے وزن لطیف اور اشم - ایشیم اشم - مجرم مجرمانہ اجس - أجرة کرایہ ج: أجود اجرة النقل - محمول ٹرانسپورٹ اجل - آجل - ... - آجلا: ملتوی ہونا آجل - تأجیل: ملتوی کرنا تأجیل - التواء احد - اکائی ج - آحاد أحدیة - اکائی سے متعلق أخذ - أخذ - مسورکن - دل گیر جاذب أخذ - آخر - تاخیرا - لیٹ کرنا، چھپے کرنا، سست کرنا تأخذ - گھڑی کا چھپے ہونا، لیٹ ہونا قوم و ملک کا پس ماندہ ہونا - مؤتخرًا - پچھلے دنوں - کچھ عرصہ قبل أخيراً - حال ہی میں - اخیر میں متأخرات - تقایا جات حساب ادب - آداب - علوم و معارف، لٹریچر</p>
---	--	--

آلة الخيالة سنے کی مشین۔
 آلة التصوير کیرہ۔
 آلتہ کا تبتہ، آپ رائٹر۔
 الآی۔ ریجینٹ، فرج کی ایک جہت
 آلف تالیف۔ جماعت یا وزارت وغیرہ کی
 تشکیل کرنا۔
 امب۔ امبالیہ امپریل ازم
 امپراطور۔ امپیر، شہنشاہ، والی۔
 امپراطوریہ۔ مکہ، امپریس
 امپراطوریہ۔ شہنشاہیت
 امر۔ آمادہ۔ ریاست۔ اسٹیٹ۔
 امیر۔ حکم، صدر، بیڈ، شاہزادہ
 امیرالآی۔ کرنل، ایک فوجی جہت
 کا اعلیٰ افسر۔
 امیرال: افسر جمادات، افسر بحریہ۔
 امیرالقیواء۔ برگیدیر جنرل
 امیری سرکاری، ریاستی، شاہی۔
 استمادہ سادہ فارم
 مؤامدہ۔ سازش
 مامور ماتحت، محکوم، ملازم۔
 ماموریتہ ہم، مشن، ڈویژن۔
 مؤتمر کانفرنس، کنونشن، مشاورتی
 اجتماع۔ ج۔ مؤتمرات
 امم۔ اقلہ۔ قوم، عوام، پبلک
 امم۔ تانبیما قومیا نا، قومی ملکیت
 میں لینا۔
 امیتی بین الاقوامی، انٹرنیشنل
 امن۔ امن علی الحیاء۔ زندگی کا بیمہ کرنا
 تائمین بیمہ۔ ضمانت ج۔ تانبینا
 تائمین علی الحیاء لائف انشورنس
 آسانہ نظامت۔ معتمدی
 امین۔ ناظم، سکریٹری، لائبریری
 حشر انجی۔ ج۔ اماناء
 امی۔ آمیریکا۔ امریکا۔
 ٹائمونٹ امریکی باشندگی اختیار کرنا

انب۔ انباشتی۔ کارپورل روس فوجی
 سپاہیوں کا افسر۔
 انبوبیتہ۔ پائپ جو انا بید۔
 انٹ۔ انٹوشی۔ رٹاز، نسوانی
 انوشہ۔ نسوانیت، زنانہ پن
 انج۔ انجلیز۔ انگریز
 انس۔ انسٹہ۔ مس، نوجوان خاتون
 ج۔ آنسات
 انف۔ استینات، مقدمہ کی اپیل
 مستائف اپیل کنندہ۔
 انج۔ انجوڈج، انجوڈج۔ نمونہ
 طرز ماڈل۔ ج۔ تماذج۔
 انی۔ آفانہ۔ صبر، انتظار
 اہل۔ اہلیتی۔ خانگی، ملکی، شہری
 مؤہبات۔ ملی یات، صلاحیت
 کالیفیکیشن۔
 اہالی۔ باشندگان، عوام
 اوت۔ اوتسمبیل۔ موزکار
 اوس۔ اوسطہ۔ بنالین، ایک ہزار
 سپاہیوں کی جماعت۔
 اوزنیک۔ سادہ فارم
 اوراق۔ کاغذات، پرچے
 اوراق التعمین کاغذات نامزدگی
 اودبا لیرپ
 اوریٹی۔ لیرپن، لیرپ کا
 اوق۔ اوقیہ۔ اونس، مساوی
 پ۔ پرنڈ۔
 اوسنہ۔ کڑو جو۔ آوصات
 اومباشتی۔ دھووار، فرج کا ایک
 چھوٹا عمدہ وار جس کے تحت دس
 سپاہی ہوتے ہیں۔
 ایوان۔ ہل، لابی پبلک ہل، محل
 ایبار۔ رومی مہینہ مطابق مئی۔
 ایٹالیہا۔ ملک اٹلی۔
 ایلول رومی مہینہ مطابق ستمبر۔

ایالة۔ صوبہ، ترکی لفظ
ب
 باقولوجیا۔ علم العلاج۔ علم ترکیب ادویہ
 بارنامج۔ بتنامج، پروگرام، فہرست
 بادومتز۔ بیرومیٹر، آلہ ہوا پیمیا۔
 بارلمان۔ بزلیمان۔ پارلمنٹ
 بارودہ۔ بندوق۔
 باشکیر۔ تولیہ (دارجہ)
 باصدہ بس۔ ج۔ باصات
 بالوعہ۔ گندہ نالہ، گندی نالی۔
 بالون۔ بخارہ (مخ)
 بتاسلہ۔ پٹارس (مخ)
 بحث۔ تحقیق، مطالعہ، ریسرچ۔
 ج۔ آبخات، بحوث
 باحث و بحثاۃ۔ محقق
 مبحث موضوع تحقیق و مطالعہ
 ج۔ مباحث
 بحری۔ بخارۃ، جہاز رانی، کشتی رانی
 طائی، سمندری سفر کی مہارت۔
 بحری و بخارۃ و بخارۃ طاح
 جہاز ران۔
 بخریکۃ بحری طاقت، نیروی
 بخریکۃ۔ جیل
 بخریکۃ۔ بخاری، سرخ،
 بخریکۃ شلشہ، ہاشمی۔
 بخری۔ بخار، ہماپ، اسٹیم، گیس
 ہاخدۃ۔ سمندری جہاز، اسٹیم
 ج۔ بوآخس۔
 بہد۔ مہندہ۔ قائمہ، اصل،
 بنیاد۔ ج۔ مبادی
 مہنداتی بنیادی، اصولی، قانونی
 مہندیگا۔ اصولی طور پر، بنیادی طور پر
 نید۔ استبداد۔ مطلق العنان ہونا
 خود مختار و خود رائے ہونا۔

بیدال - بیدالاشترکات - رالیہ انجمن
بیدالۃ ثیاب - سوٹ کپڑوں کا جوڑا
ج: بیدالات
بیدال (۱) صرمان بیکہ تبدیل کرنا والا
(۲) اشیاء کو فروخت کر کے والا
پرچون فروش
بیدالۃ التلیفون - ٹیلیفون
اسپینج ج بیدالات
تبادل و مبادالۃ تجارتی لینین
بیدالۃ ثیاب - کپڑوں کا جوڑا سوٹ
بیدالۃ سہرۃ - شام کا لباس
بیدالۃ رسمیتہ - سرکاری ادوی
بید - بیداعۃ - لائسنس، صفائی
چھٹکارا، خلاصی
بیدانی - بیرونی
بیدقال - پرتگال
بید - بیداد فیہ
بیداد الشای - چار دان بی پاٹ
بیدادۃ - ریفریجیٹر - ٹھنڈا کرنے کی
مشین - ج: بیدادات
بیدادیۃ - کولر ٹھنڈا کرنے کا کبس
بیدودۃ و بارودۃ - بندوق
بیدید - ڈاک (۲) پوسٹ میں
بیدید عادی - معمولی ڈاک
بیدید مستعجل - اکسپریس ڈاک
بیدیدی - ڈاک سے متعلق
بیداد - ڈاک بھیجنا
بیدس - بیدسرا - جائز قرار دینا، کرنا
بیدس - وجہ جواز ج مبدیرات
لامبیدس - ناقابل عفو
بیدش - پانچان
بیدشوقی - پیراشوٹ
بیدطلۃ - رشوت دینا
تبدیل: رشوت لینا
بیدطلۃ - چھتری

بیر ۶ - تبذیع بالمال و چنہ دنیا
تبذیع: چنہ، عطیہ ج تبذعات
مبتذع: چنہ دیندہ
بوق - برقیۃ - تار، ٹیلی گرام
ابواق - تار دینا
بیرکار - پرکار
بیرلیمان - پارلمنٹ
بیرنامہ ج - پروگرام، فہرست
بیرنیطۃ - ہیٹ
بیرواز - چوکتا، فریم
بیری - بیداسیۃ - قلم تراش
بیرارۃ - پیس - ٹورنامنٹ
مقابلہ
بیر - بیدادۃ الاطفال و دودھ کی شیشی
بیسط - بساطۃ: سادگی، صاف دلی
بسیطہ معمولی، سادہ، سہل
بیشو - باشو العمل - کام پر لگنا، خود
انجام دینا
بیشوکرۃ - براہ راست - بلا واسطہ
طور پر - ڈائریکٹ
بیشو - مذہبی واعظ، مشنری
بیسو - مبصار، ٹیلی ویژن سیٹ،
آلٹرنیٹو بیسی
بیطل - بیرو، شاہسوار - ج: ابطلال
بیطالۃ - بیکاری - بے روزگاری
ببعث، پیغام - نمائندہ - ج: بعوث
بعثۃ مشن، ڈیلیگیشن - نمائندہ
وفد - ج: بعثات
بعوث: نمائندہ - پیغامبر -
قاصد
بعث - ایجاد - علمدہ کرتا، معرول کرتا
جہاد من کرتا
بعث - مباحثت - ناگہانی، غیر متوقع
بقی - مستقبل، محفوظ، ریزروڈ
بکباشی - رت، لیفٹینینٹ کرنیل

لڑھی عمدہ دار
بکلوریوس - رمہ - گریجویٹ
فتون - بی - اے
بلا تین - پلانٹینم - ایک قسم کی دھات
جو سونے سے قیمتی اور بجاری ہوتی
ہے -
بدجیکا - بلجیم
بلدیۃ - میونسپلٹی
بلشفتی - انتہا پسند اشتراکی ج بلا شفتہ
بلشفتیۃ - بالشوازم
بیلط - بلاط - ٹائل فرش کا پتھر -
دبلاطۃ
بلاط الملک - دربار شاہی
بیلح - بلاعۃ: بالوعۃ: نالی،
موری گندہ آبچک -
بیلخ - بلاغ: خبر - اطلاع، اعلان
پیغام - فرمان، نوٹس -
بیلکون - باکنتی
بیلوک امین - کوارٹر ماسٹر -
(لڑھی عمدہ)
بیلیون - ایک ارب (۲) دس لاکھ
بیباشی - لیفٹینینٹ کرنل
بیتج - تیندینچا - سن کرنا
بے حس کرنا
بید قانون کی دفعہ - فقرہ ج بیود
بیدوقیۃ - بندوق - گن -
بیدولہ - گھڑی کا پنڈولم
بیزین - پڑول
بیک - بیک - ج بیوک
بیت - کافی - قہوہ
بیتی اللون - کافی کھرباؤں تک

بنی، مبنی، عمارت - بلڈنگ
 بنامہ - معمار - تعمیر (عمل بنامہ)
 تعمیری اور ترقیاتی کام
 بھو، ال - بڑا کمرہ جہاں آبشار
 ہو، بیٹہ - ماحول، محل وقوع
 جہ بیٹات
 بوب، بوابہ، پھانک - برداردوانہ
 بوح، اباحہ، رخصت - دیر حوا
 اباحتہ، بالشرازم، کیونزیم کی وہ
 قسم جس کے اصول انتہا پسندی پر مبنی ہوں
 بورصہ - (مع) تھماری منڈی
 الاوراق العالیہ، تھماری زر کی تجارت
 بوس، سک - ریشمی کپڑا -
 بوصہ، ایچ - جہاں بوسات
 بوصلہ، قطب نما -
 بوغار، تنگ نائے، دو سمندروں کے
 درمیان کی تنگ نالی -
 بوق، بگ، لرن - جہاں بوق
 بول، مینوکلہ، پیشاب دان -
 بولصہ، رسید - ہنڈی
 بویہ، پالش
 بیادہ، پیدل فوج
 بیت تجارتی، کمرشل ہاؤس
 تھماری گھر
 بیتن ... تبییناً: قلعی کرنا - چہرہ
 پھیرنا - کپڑا ادھونا -
 مبین، قلعی گر - دھوبی
 بیکار - پرکار -
 بیگہ النوس الکھمائی، بلب بلمہ
 بیان: تفصیل - رپورٹ - وضاحت
 پروگرام - لائحہ عمل -
 بیان رسمی، سرکاری اعلان

ت

تبع و تہافاً، مسلسل، نگار

تابع، ماتحت، لاحق، خادم، طفیل
 مُصاحب -
 تبعہ، ذمہ داری، نتیجہ، انجام
 تیغ، پیچہ کا تھاکہ
 تبتل ... تبدیل، معاملہ لاء تانگانا
 تبال، معاملہ فروش
 تبصرہ، تبتان - نیکر، نگرٹ، جانگی
 تجر - تاجد الجملہ، تھوک فروش
 تاجد الفرق و القطاعی -
 پرچون فروش، خرودہ فروش
 تھت - متحف، عجائب خانہ، میوزیم
 جہاں متاحف
 تراہ، ترام کار -
 ترمانہ، میجرین، السوخانہ
 ترعہ: نر جہ ترعہ
 ترعہ الايراد، آب پاشی کی نر
 ترعہ التصرفین - پانی نکالنے کی نر
 تشرین الاول، ماہ اکتوبر -
 تشرین الثانی، ماہ نومبر
 تعب، اتعاب، محنت - نفیس
 تکثکة: کثک کرنا، کھٹ کھٹ کرنا
 تلغراف، ٹیلی گراف - ٹیلی گرام
 تلغفہ: تار دنیا -
 تلغزہ، ٹیلی وین
 تلو - التالی، اگلا، متصل
 بالتالی، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ -
 تئگہ: کنٹر - میں
 توتیا، جت
 توتیا زرقاء، نیلا سموتھا
 تولستو، ٹالسٹائی
 تیار، کرٹ، ہوا کا جھنکا، بہاؤ،
 دھارا، حالات کا رخ - رو
 جہاں تیارات
 تیغود، ٹائیغید -

ت

ثارتی، انتقامی
 ثبوت، حجت، دلیل، ثبوت
 ثابت، غیر منقول، غیر متحرک، ظاہر
 تسلیم شدہ، مستقل مزاج، مستقل،
 اثبات و مثبتیت، فارغی لازم
 کہ مستقل کرنا، برقرار رکھنا -
 ثقب - ثقب و ثقبوب - دیاسلائی
 ثقف - ثقافت، کلچر، تعلیم، تہذیب
 ثقافتی: کلچرل - تعلیمی، تہذیبی
 تثقیف، ذہنی تربیت دینا، مذہب
 بنانا - تعلیم یافتہ بنانا -
 متثقف: تعلیم یافتہ - مذہب
 ثقل نوعی، (سائنس میں) کثافت نوعی
 ثکنہ، فوجی بارک، پولس کا مرکز -
 جہاں ثکنات
 ثلث: ثلاثی، سرکاری، سرکاری
 سر اجزائی، سر حوتی
 ثلج - ثلجی، ہرفانی - ہرف سا -
 ثلاثیہ، اٹس کبھی، ہرف رکھنے کا مندرجہ
 جہاں ثلاثیات
 مثلجہ، ریلز بھری، ٹھنڈا کرنے کی مشین
 ثمر - ثمر مالہ، تشمیرا، مال میں اضافہ
 کرنا - کاروبار میں لگانا -
 ثنی، ثنائی، ڈبل، دوہرا، دوہرگی،
 ثنائی، دوسرے دوہرے کا سیکڑا
 استثنائی، خصوصی، ہنگامی
 ثورہ، جوش - بغاوت، انقلاب
 ثوری، انقلابی، شورش پسند
 شایرہ، باغی، انقلابی جہاں ثوار

ت

جاویش: سارجنٹ - ایک لڑی عمدہ
 جس میں پلاسٹر کا معاملہ کھریا -

<p>مَجْمَع، کنوینشن، اجتماع علمی مَجْمَع علمی، اکیڈمی، لیٹری ادارہ مَجْمَع، داعی جلسہ جمل - بالجملة، تموک، ہول سیل - خلاصہ یہ کہ تاجروا الجملة، تموک فروش جنح، جناح، عمارت کا حصہ جبتا، تجنیڈا، فوج میں بھرتی کرنا تجنید اجباری، لازمی بھرتی جِنْسَة، تجنیڈا، حقوق قومیت عطا کرنا کسی ملک کی میٹنلی دنیا، ملکی بنانا۔ جِنْسِيَّة، قومیت، نیشنلسٹی، ملکی حقوق تجانس، ہم قوم ہونا۔ جنین، جِنِينَة الحیوان، چڑیا گھر جنی، جِنِيَّة، اشرفی، گنی، برابر تقریباً پچیس روپے یا اشلنگ۔ انگریزی پاؤنڈ، بیس شلنگ۔ جوہری، بنیادی، اصلی، ضروری۔ زہرات نیچینے والا۔ مجوہرات، زیورات۔ جہر، مَجْہَر و مَجْہَر، مہو پور۔ میکہ فون، لاؤڈ سپیکر۔ مَجْہَر، میکہ سکوپ، خوردبین جَهْرَ، تَجْہِيز، تیار کرنا۔ سامان یا زادراہ سے لیس کرنا۔ جہاز، نظام، سسٹم، نظام ترکیبی جہاز، تیار۔ آراستہ لیس۔ جواب، سیاح مَجْہَب، بیخ، سوراخ کرنے کا آلہ جوت، پٹن، سنی جس کی ہریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ جوز، جاز الامتحان، جوڈا۔ امتحان پاس کرنا۔ اَجْازَة، سند دینا، رخصت دینا۔</p>	<p>مگکانا۔ جلبیتہ، واشر، دو ٹکڑوں کو جوڑنے والا پھل جَلَاب و جَالِب، ایمپورٹ، بیرونی مالک سے مال منگانے والا۔ جَلْسَة، نشست، میٹنگ۔ قضا ئیَّة، سیشن، عدالتی اجلاس مَجْلِس، نشست گاہ، سیٹ۔ ٹریبونل، کچری۔ مجلس الادارہ، مجلس انتظامیہ مجلس الاعیان، دارالامراء مجلس التواب، پارلیمنٹ۔ مجلس المدیریة، ڈسٹرکٹ بورڈ مجلس اقلیتی، صوبائی کونسل مجلس بلدی، میونسپل کمیٹی مجلس المنتزعی، مجلس مقننہ مجلس عسکری، فوجی عدالت مجلس نیابتی، پارلیمنٹ۔ جلل، جلالة و صاحب جلالة، بادشاہ کا اعزازی لقب، ہزیمٹی مجلة، رسالہ، میگزین، مجلات جلو، حلالہ، انگلہ، انکشاف جالیتہ، پردیسی جماعت ج جالیات چھڑو، جنگی خانہ ج چھارو، کسٹم ہاؤس جمع الحروف، کپور کرنا۔ جمعیتہ، سوسائٹی، انجمن، ایسی ایجن جمعیتہ خیریتہ، فلاحی انجمن ویفر سوسائٹی۔ جمعیتہ علمیہ، پبلسٹی جماعتی، اجتماعی، جماعتی، مشترکہ جماعۃ الکھرباء، خزانہ زبلی جامع الحدوت، کپور ڈیز جامعہ، یونیورسٹی، لیگ اجتماعی، معاشرتی، سوشل، برائی مَجْمَع، سوسائٹی، معاشرہ، سماج ج مَجْمَعَات۔</p>	<p>جَبَس العنق، حوتہ جم پر پلاسٹک جَبْہَة، محاذ جنگ وغیرہ ج جہات جبی، جبی الاموال والضرائب جبا یہ، وصول کرنا (ٹیکس وغیرہ) جاب ج جباة، محفل، وصول کنندہ جَبْدَوَل، چھوٹی نر، گول، فرسٹ، پارٹ، نقشہ، کالم ج جداول جَبْدَوَل الاعمال، ایجنڈا۔ جدول القرب، پہاڑا۔ جدعتی، بنیادی جرام، گرام، مع جَدْجَار، راکٹ۔ جِرَاح، سرجن، سرجری کا طبیب جِرَاحَة، سرجری۔ جِرَاحِيَّة، سرجری، آپریشن۔ جربیدہ، اخبار نیمہ زپیر ج جرائد تجربیدہ، فوجی دستہ، فوجی عملہ مَجْرَد الاسنان، دانتوں کا برش جِد، جدارہ، آلہ جہر، ثقل ج جَدَارَات جری، اجراء قنوق، ضابطہ کی کارروائی اجراء قضائی، عدالتی کارروائی اجراءات، کارروائی مجری، دوڑ، رفتار، دھار، گذرگاہ، رخ جِز، پرزہ ج اجزاء اجزائی، کیمٹ، دو فروش اجزائیتہ، فارسی، دو خانہ جَدْرَة، پیپے کا ٹینڈر۔ جِزْمَة، بوٹ، جوتا رول جِزْمَاتی، جوتہ بنانے یا مرمت کرنے والا جِزَاء نقدی، جرمانہ جِزَائی، تعزیری، قابل سزا جیل، مزدوری، حق منت، کمیشن۔ جَفْر، غنیمت، الخط جَلْب و استجلاب، باہر سے مال</p>
--	---	--

<p>بال کاٹنے کی مشین ۔ حلق ، پارٹی غم کرنا ، نذر تڑنا ۔ احتلال : قبضہ جانا ، قابض ہونا راضی (محتلہ) : مقبوضہ علاقہ ۔ حدتہ : ڈسکن وارڈنگ ۔ احتلال : ڈیپلائمنٹ ، سستی ، کمزوری خلویات : مٹائیاں ۔ حجرۃ : سرخی ، ہونٹوں کو لگانے کی سرخی حمنز : چہرہ پر اپن ۔ حمتہ : جوش دلانا ، مشتعل کرنا ۔ حماسی : پرجوش ، مشتعل مزاج حمنص تجمیصاً : سیکنا ، عبوتنا ٹوٹے یا روٹی وغیرہ سینکنا ۔ حمل ۔ حاملہ و حاملہ ۔ پل کے ستن محمل : ڈولی ، معامل محمول : گاڑی کا لوڈ ۔ وزن حامل : اسٹیٹ ۔ جہ حوامل حوی ۔ محامی : وکیل ۔ بیرسٹر ۔ حامی : محامی ۔ وکالت کرنا ۔ مدافعت کرنا محامیات : محروسہ علاقے ۔ حمایہ ۔ حفاظت ۔ حرارت نگرانی حمایۃ دولیہ : بین الاقوامی نگرانی حامیہ : حفاظتی دستہ جہ حوامی حقیقۃ : ٹینڈر ۔ حنتک : محنتک : شہرہ کار ، ہوشیار حوجہ ۔ حاجیات : ضروریات ، لوازم حورتیہ : پری جہ : حوریتیاں محور : سہیلن ۔ لوہے کی لاک جس پر ڈونو پیسے گھومتے ہیں ۔ حزین الامکان ۔ دائرہ امکان انکار الیہ : کسی کی طرف جھکا ۔ طرف دار ہونا ۔ حیازۃ : قبضہ ملکیت تعین : طرف داری ۔ جانب داری</p>	<p>حقوق ۔ تحقیق ۔ ثابت کرنا ۔ برلانا ۔ جائچہ پر سوال کرنا ، چھان بین کرنا ۔ استحقاق ، صلاحیت ، اہلیت محقق : پچکاری ، انجکشن ۔ محققہ : سرخی ، پچکاری حکات ، کربا ۔ چاک ۔ حکاک الالنجی رائیگریہ : نگینہ ساز ۔ جوہرات کو تراشنے والا ۔ محکق : کسٹی جہ محکات حکمہ : حکومت ، فرازدائی ، اقتدار مدالتی فیصلہ : فیصلہ ۔ حکمہ عرفی : مارشل لاہ حکم الی رهاب : ذہنت پستدان حکومت ۔ حکمدار : حاکم شہر ، کوتوال ۔ حکمداریتہ : کوتوال ۔ محکمہ : مدالت ۔ کچری ۔ محکمہ جزئیہ : مدالت خفیہ محکمہ الجزاء : مدالت دیوانی محکمہ الجنایات : مدالت مجرموں کی محکمہ مدنیہ : سول کورٹ محکمہ عسکریہ : فوجداری مدالت محکمہ الاستیناف : الٹی کورٹ محکمہ : مقدمہ ، سماعت مقدمہ حکی ۔ حکامی : گرامفون ۔ فونوگراف حلب ۔ حلبیہ : محلب ۔ دودھ کا کارخانہ ، ملک ڈیری حلبیب اللوز ۔ شیرہ بادام حلجہ ۔ محلجہ : پٹائی کا کارخانہ حلزونہ ۔ پیچ دار کیل ۔ حلزونہ : پیچ دار حلت : پکیٹ ، مہلہ ، کنٹرولیشن ۔ حلف عسکری : فوجی معاہدہ ، گھڑ جوڑ جہ احلاف ۔ حلق ۔ مخلقہ : سفینہ ریزرو ۔</p>	<p>حضر حضور ، حاضر ، شرکت ، موجودگی پیش ۔ حضارة ، تہذیب ، تمدن ، شہرت حضرتی ، شہری ، تمدنی حاضرۃ : پایہ تخت جہ حواضر ۔ محضر ۔ روئداد ۔ کارروائی جہ محاضر ۔ احضار : پیش کرنا ۔ عدالت کی پیشی احضاریہ : امن عدالت استحضار : طلب کرنا مستحضرات : تیار کردہ سامان تعضر : تمدن ، تیاری تعضیر : شہری بنانا ۔ تیار کرنا حاضرۃ : کچر دینا ۔ مُحاضرۃ : کچر ، علمی تقریر جہ محاضرات ۔ مُحاضر : کچر ۔ حضن ۔ حضانتہ : پرورش ۔ نرسنگ دایہ گیری ۔ حاضنتہ : دایہ ۔ نرس ۔ جہ حواضن حظ ۔ معطیۃ : اسٹیشن جہ محطات خطر : ممانعت ۔ رکاوٹ ۔ خطر التجول : کرفیور ۔ حفظ ۔ حافظہ جہ حوافز : محرک اہمیت حفظ ۔ محافظہ ، کلکٹر ۔ نگران محافظہ القطار : گارڈ ریپورٹ محفظۃ : گیس ۔ غلاف ۔ بستہ محفوظات : ریکارڈ ۔ پرانی کاغذات حفت ۔ معقنہ ، اسٹریپر ، پاکی ۔ حفل : ہجوم ، مجمع ، جلسہ ، تقریب حفلة ، جلسہ ، پارٹی ، جہ حفلات حفلة الشای : ٹی پاسٹی حفو ۔ حفاوۃ ، غیر مقدم ، اعزاز و اکرام حقب : حقیقہ : بیگ ، سوت کیس جہ حقباب ۔</p>
---	---	--

متحیز۔ طرف دار۔ جانب دار
 حَوْضُ الْأَرْضِ، کیا ریاں بنانا۔
 حَوْضُ السُّنَنِ، گردی جس میں جہاز کھڑے
 ہوتے ہیں۔

حوط۔ اِحْتِیاطِی، ریزرو، محفوظ
 مُحِیْط، دائرہ، سمندر، ماحول۔
 ج مَحِیْطَات۔

مَحْوُوط، بصورت اندیل، قحط
 حَوَّلَ تَحْوِیْلًا، حالت بدنا، منتقل کرنا
 ریل گاڑی کی لائن بدنا۔

أَحَالَ... الی: مرسل کرنا، موصول کرنا
 أَحَالَ كَمَلِ الْمَعَاشِ، پیش دینا۔

حَالِقٍ۔ ابن الوقت
 حَوَالَتِ تَحْوِیْلِ، آرڈر، حکم
 مَالِیَّة، چیک، ڈرافٹ، منی آرڈر
 حَوَائِیُّ، تفریبا۔ برابر
 تَحْوِیْلِ الْمَعْوَد، تبادلہ سکہ۔
 تَحْوِیْلَتَ، ریلوے کاشا۔

مَحَالَّة، بردابین
 مَحْوُول: منی آرڈر بھیجنے والا
 ڈرافٹ یا چیک کے ذریعہ رقم بھیجنے والا
 مَحْوُولًا، ریلوے کاشی جس کے ذریعہ
 ریل گاڑی ایک پٹری سے دوسری پٹری
 پر جاتی ہے۔

مَحْوُولٌ جِئ۔ مَحْوُول، سوچ میں
 ریل کی کاشی بدلنے والا۔
 مَحْوُولَةٌ عَلَیْهِ، رقم پالنے والا جس
 کے پاس منی آرڈر بھیجا جائے۔
 مَحْوُولٌ لَہ، جس کے نام چیک یا
 ڈرافٹ کیا گیا ہے۔

حوی۔ کاوی۔ ماری، سپر ایشیہ والا
 ج حَوَاة۔

مَحْتَوِیَات، مندرجات
 حید۔ حیا۔ معاہدہ، غیر جانبداری
 معاہد، غیر جانب دار، کنارہ کش۔

حیوی، حیات، زندگی کا، زندگی کے لئے
 ناگزیر۔
 حَیَوِیَّة، قسمت حیات۔

ح

خبا۔ مَخْبِیاء، پناہ گاہ۔
 خبر۔ مَخَابِرَة، خبر رسانی
 اِخْتِبَار، امتحان، ٹسٹ، تجربہ
 اِسْتِخْبَار، تحقیق کرنا۔

خَبْرَة، تجربہ کار۔ واقفیت۔ مہارت
 خبیر۔ صاحب بصیرت، تجربہ کار
 ماہرین ج خُبْرَاء۔
 مَخْتَبِر، تجربہ گاہ، لیبارٹری
 ج مَخْتَبِرَات

خبر۔ مَخْبِر۔ روٹی کی دوکان، بیکری
 بسکوں کا تورد۔

ختم۔ مہر، مہر کا نشان، مہر کا آلہ
 خَتْمَة، اشاپ پید، مہر کی سیاہی
 کی ڈبیر۔

خذ۔ مَقْعَدَة، ٹکیہ، گدھا۔
 خَدَّارَة، خَدَّارَة، بے کسی سے ہوشی
 مَحْقُور، بے ہوش یا سن کرنے والا
 خدام۔ اِسْتِخْدَام، خدمت لینا۔

لازم رکھا، کام لینا، استعمال کرنا
 مَسْتِخْدَام، لازم، نوکریاں کا لگنا
 خاد مِیْنَة، ملازمت۔ نوکری۔
 خدیو۔ خدیو، ترکہ، وائسرائے
 مصر کے سابقہ فرمانرواؤں کا لقب۔
 جو سلطان ترکی کے تابع ہوتے تھے۔

خروج۔ خیر بیخ و منہ خروج۔ کسی
 تعلیمی ادارہ کا فارغ التحصیل، گریجویٹ
 تخریج، سند فارغ حاصل کرنا
 خارجی، بیرونی، غیر ملکی
 معروج، علم وغیرہ تیار کرنے والا

خوز۔ مَحْوُوز، ستاری۔
 خوط و خیراطہ، فراہ کا کام کرنے والا
 خَوَطُ الْمَخْشَب، فراہ کا کام کرنے والا
 مَحْرُطَة، فراہ کی مشین۔
 خَدِیْطَة، حیرا فدی لکھنے۔ نقشہ
 ج خَوْرَاطَة۔

خرم۔ مَخْرَم، ایجاد، ایجاد۔ مخترعات
 خرم۔ خترامہ، سوراخ کرنے کا افسار
 تَخْرِیْمَة، منقر راستہ
 خَزَلُ الْكَلَام، خزل، اختزال
 منقر کرنا۔ اشاروں میں کلام کرنا
 اختزال و فارت نویسی اسٹینوگرافی

خزن۔ خِزَانَة، الماری، بخوری۔
 خزینہ، خزانہ، بیت المال
 خَزَان، تالاب، ڈیم، حوض، بنگلی
 ج خَزَائِنَات۔

خازن، خزانچی، منتظم گروہ
 مَخْذَن، دوکان، اسٹور، گروہ
 ج مَخْازِن

خطب۔ مَخْطِیْب، بغیر پالش کیا ہوا
 خَشِیون۔ اکڑ، سامہ، بد اطلاق۔
 خصص۔ مَخْصُوص، تعلق۔ نسبت
 تَخْصِص، منظور ہونا، تیار ہونا
 مہارت حاصل کرنا، کسی عملی شے کا بہرہ ہونا
 مَخْصِص، فاضل، ماہر
 اِخْتِصَاص، دائرہ اختیار، ج
 اِخْتِصَاصَات۔

اِخْتِصَاصِی، اسپیشلسٹ، ماہر
 مَخْصُوص، اسپیشلسٹ، ماہر
 خَصْم، خصم، کسی کے مقابلہ پر قیمت
 لگا کر دینا۔

خَصْمَ لَمَّا، ماتت و دست نگر ہونا
 خَاصِم، ماتت، تابع، دست نگر۔
 خطر، خاطر، ...، مخاطب، بازی گانا
 خطر ہونے لینا۔

<p>یا سگریٹ پینا۔ داخنة مدخنة۔ دسواں نکلنے کی جہنی ذریعہ علی۔۔۔ قدریاً، مشق کرنا۔ ٹریننگ دینا، تربیت دینا۔ تدارب علی۔۔۔ مشق کرنا، تربیت کرنا ذریعہ، تجربہ، مشق، عادت درجہ مدارج، ہوائی اڈے کی سڑک رن وے۔ درجہ: میز کی درازہ جہ ادراج۔ درجہ: گریڈ۔ درس۔ دراستہ: تعلیم، مطالعہ۔ غور و خوض، موائینہ مدرسۃ فکر، مکتب فکر مدرسہ: درسی، اسکول کا۔ درجہ: مدارج، زرہ پوش۔ مددعات۔ بکتر بدگاریاں دعویٰ۔ دیعایۃ۔ پروپیگنڈا دعویٰ۔ دعویٰ، مقدمہ کیس دقت۔ دقائے، مدقاة: اسٹوڈ انگیلی۔ دفتو۔ کاپی۔ نوٹ بک جہ دفاتر دفترخانہ۔ محافظ خانہ دفعہ: ادائیگی دفعة مالیتہ، قسط دفعہ۔ محرک۔ سبب۔ دوافع مدافع۔ توپ جہ مدافع مدفوع الیہ: وصول کنندہ مدفوعہ۔ توپ خانہ دقتہ: باریکی، مہارت، نزاکت، بچنگی ہوشیاری دکتا تور۔ ڈکریٹر۔ دکتور۔ ڈاکٹر، اعلیٰ علمی ڈگری والا دکتوری الحقوق، ڈاکٹر آن لا۔ دُولاب۔ بھین، آلہ پیتہ۔ دلی۔ دلیل، راہ نما گائیڈ۔</p>	<p>خماسی۔ منجس، پانچ گنی، پانچ ایڑنی خمول۔ سستی۔ گنمی۔ خول۔ نحویلا: حق پر درگنا، ہمدرد کرنا۔ خان۔ سرائے، ہٹل جہ خانات خیط القتب: سستی، خیش: کینڈیس، ایک دیرین کپڑا خیل الیہ، کنا: اسے ایسا خیال ہوا اس نے ایسا سمجھا۔ مخیل: حیران کن۔ توہم خیز مخیلۃ: قوت تخیلیہ۔ دماغ خیمہ۔ مخیم: جہ مخیمات۔ غیر گاہ کیپ۔ پناہ گزی کیپ۔ خام۔ خام۔ باپختہ، سادہ خامات: ابتدائی میٹل، خام اشیاء</p>	<p>تخاطر: شرط برضا، بازی لگانا۔ اخطار: تبیہ، ریس۔ خَطَطَ الْأَرْضَ۔ حد بندی کرنا۔ چک بندی کرنا۔ کھیت میں کھاریاں بنانا۔ خطۃ و اختط: منصوبہ، اسکیم بنانا خط۔ لائن، سطر، کھائی، رسم خط خط جوی۔ ایرلائن۔ فغانی راستہ خط سکتہ الحدید: ریلوے لائن خطۃ: لاگت عمل، اسکیم، منصوبہ جہ: خطط تخطیط: پیمائش زمین، سروے چک بندی، حد بندی۔ خضر: خفیر: چوکیدار جہ خضراء محض: چوکی، پولیس چوکی۔ حفص۔ کم کرنا۔ تخفیف: رعایت، کمیشن۔ خت: بات برت اسلیپر جہ اخفات خفة الید: ہاتھ کی صفائی۔ شہدہ خفق البیض۔ خفقاً۔ اندھا بیننا مخففة البیض۔ اندھا بیننے کا آلہ خالص۔ خالص اجرة البرید: معول ڈاک۔ پرسٹیج استخلاص: مال چھڑانا خلج۔ خلاصہ، آوارگی۔ خلیع، آوارہ۔ بدعاش خلف۔ مختلفات۔ متروکہ سامان خلفیۃ الصورة: بگ گرائون پس منظر خلفۃ: کپڑے کا ٹکڑا۔ خلق۔ خلقات: پرانے کپڑے بیچنے والا اختلاق: اختراع کرنا۔ گھڑنا مہکتی من گھوت۔ ساختہ، جعل بناؤنی۔ بے حقیقت خلوی، دیہاتی اخلاص: اخراج، جلا وطنی</p>
<h2 style="margin: 0;">د</h2>		
<p>دایل۔ گمراہی کا ڈیل دبابۃ۔ ٹینک۔ دبابات دبح۔ دنیابجۃ۔ سرنامہ۔ القاب خط کا یا کتاب کا تمیزی مضمون دبر خطۃ، اسکیم بنانا۔ دتوسہ: اسٹار، فوجیوں کے دریا کاستارہ، پتھر توڑنے کا آلہ۔ دلیس۔ دتوس۔ پن۔ سیٹی پن۔ پھول کاکپ جہ دیا بیس۔ دبغ۔ مدبغہ۔ چھڑا صاف کر لیا کاٹا دخل، آمدنی دخیل۔ بدلی، غیر ملکی جہ دخلاء داخلیۃ۔ اندرونی معاملات کا حکم مدخلول۔ آمدنی۔ پیداوار دخن، تباہی، بھاپ، دھواں۔ دخا خفی، تباہی و لازم فروخت کرنے والا۔ دخن تدخیناً: تباہی بنیاد</p>	<p>دایل۔ گمراہی کا ڈیل دبابۃ۔ ٹینک۔ دبابات دبح۔ دنیابجۃ۔ سرنامہ۔ القاب خط کا یا کتاب کا تمیزی مضمون دبر خطۃ، اسکیم بنانا۔ دتوسہ: اسٹار، فوجیوں کے دریا کاستارہ، پتھر توڑنے کا آلہ۔ دلیس۔ دتوس۔ پن۔ سیٹی پن۔ پھول کاکپ جہ دیا بیس۔ دبغ۔ مدبغہ۔ چھڑا صاف کر لیا کاٹا دخل، آمدنی دخیل۔ بدلی، غیر ملکی جہ دخلاء داخلیۃ۔ اندرونی معاملات کا حکم مدخلول۔ آمدنی۔ پیداوار دخن، تباہی، بھاپ، دھواں۔ دخا خفی، تباہی و لازم فروخت کرنے والا۔ دخن تدخیناً: تباہی بنیاد</p>	<p>دایل۔ گمراہی کا ڈیل دبابۃ۔ ٹینک۔ دبابات دبح۔ دنیابجۃ۔ سرنامہ۔ القاب خط کا یا کتاب کا تمیزی مضمون دبر خطۃ، اسکیم بنانا۔ دتوسہ: اسٹار، فوجیوں کے دریا کاستارہ، پتھر توڑنے کا آلہ۔ دلیس۔ دتوس۔ پن۔ سیٹی پن۔ پھول کاکپ جہ دیا بیس۔ دبغ۔ مدبغہ۔ چھڑا صاف کر لیا کاٹا دخل، آمدنی دخیل۔ بدلی، غیر ملکی جہ دخلاء داخلیۃ۔ اندرونی معاملات کا حکم مدخلول۔ آمدنی۔ پیداوار دخن، تباہی، بھاپ، دھواں۔ دخا خفی، تباہی و لازم فروخت کرنے والا۔ دخن تدخیناً: تباہی بنیاد</p>

مژولتہ - دھوپ گڑھی
 زیت الآلتہ - مشین کو تیل گانا -
 زیت الغاز - مٹی کا تیل -
 زبدا - ریادہ - اضافہ - الاؤنس
 زامدہ دود تہ - اپنی سائیس
 مزاد - نیلام
 مزامیادہ - فروختگی در یہ نیلام
 زق - طرز - فیش - جس میں روپ جو ازیادہ

سجل - رجسٹر - ریکارڈ - قدیم کا قذاتہ
 دستاویزات جو ہجلاک
 سجان - جیل جیل کا فاروقہ
 سحاب - لائری ٹکاتا - کسی علاقے
 فوج ہٹانا - لائسنس دہیرو ضبط کرنا
 سحق - مسحوق - پاؤڈر - مٹی -
 مساحیق -

سفتجہ - ہندی -
 سفد - سفیر - ایک ملک کا دوسرے ملک
 میں مستقل نمائندہ - جو سفراء -
 سفارۃ : عمدہ سفارت سفارتخانہ
 سفوس - بے حجابی بے پردگی -
 سفن - سفینہ - جہاز جو سفن
 سفانتہ - شیشی رانی - جہاز رانی
 سفلی : پرانے کپڑوں کا نام -
 سفت - سقیفہ - سائبان جو
 سقائف -

سأل - مسئول - ذمہ دار
 مسئولیتہ - ذمہ داری
 سبج - کھاد (دارم)
 سبد - سبوزہ : تختہ سیاہ - بیک بورد
 مشبر و مشبار - کسری -
 سبر توہ اپرٹ -
 سبق - سوابق - گذشتہ جہاز
 سبک - دھلائی - دھاتوں کی گلائی
 مسبک - دھلائی کا کاغذ
 مسبک حروف الطباعة -
 نائب فندی -

سحن - سخان - پانی گرم کرنے کا نام
 سیر - بجل کا چولہا
 سدس - مسدس - ریوالور -
 سمسکات
 سیرب طائرات - ہوائی جہازوں کی
 کیپ -
 سترج الجیل - فوج توڑنا -
 ستراح - رانی -

سکر - شکر - کھانڈہ -
 سکرخام - گرد یا شکر -
 سکریٹہ - شکران
 سطر جہتہ - طغری - پیٹ -
 سکرتیر - سکری
 سکرتاریہ - سکریٹ - سکری آفس
 سکتہ العدید - ریلوے
 سذج - ... تسلیحہ - مسلح کرنا
 سلاح الطيران - فضائی قوت ہوائی
 فوج -

سبکتہ - سونے چاندی یا دیگر دھاتوں
 کا چکھلا ہوا ڈالا - جو سیانک -
 ست - خاتون (روا)
 ستوقی - ساٹھ سالہ
 ستر - ستار - آڈیٹ کاوٹ
 سترہ - کوٹ - آستین دار ہمدی
 سجادہ - جہاز - کالی جہاز
 سجدہ ... تسجیل ... درج کرنا -
 رجسٹر میں لکنا - بیان وغیرہ لکھنا
 ریکارڈ کرنا - رجسٹر کرنا -
 مستجل - رجسٹر
 مستجل - رجسٹر - مندرجہ
 مسجلہ - ٹیپ ریکارڈ - آواز
 محفوظ کرنے کا آلہ -

اطلاق السراح - رہا کرنا -
 مسرسم - تماشا گاہ
 مسرخیہ - ڈراما جو سرخیات
 سرد - سردقہ - خامیادہ گانا -
 سوادق - شامیانہ - نڈال
 سوعہ - تیزی - رفتار - اسپید -
 سوریع : اکیپرین
 سطر - وسطیہ - اسکیل - پیمانہ
 جدول کش
 سعادہ - خوش حال - تعظیظ لقب -
 صاحب السعادۃ یا سعادۃ فلان
 عزت آب -

تسلحہ - ہتھیار بندی
 سلطہ - اختیار - منصب - حکم -
 سلطہ مطلقہ - اختیار کامل -
 سلطتات - حکام - افسار تیز -
 سلطتہ : چٹنی
 سلطانیہ - بڑا اہلیار ڈونگا -
 سلطہ - قرعہ مع صندوق
 سکفا - پھلکی - پچھلے
 سلک - تار - لائٹی جو اسلک -
 سلک سیاسی - سیاسی لائٹی -

مساعد : مددگار - اسسٹنٹ -
 سغر - نزع - بھاؤ جو اشعار
 سغر السلعمہ - سامان کی قیمت جو کرنا
 ساعرکہ - بھاؤ کرنا - سودا کرنا
 سعرا لتبادل - شرح تبادلہ
 سعف - اسعاف - رطیف - امداد -
 طبی امداد -
 سعی - سعی البریہ - پورٹ میں -

سکوک - طرز عمل - چال چلن - برتاؤ
 سکوک - چال چلن سے متعلق -
 لاسکوک - وارنٹس -
 سئل - سلاکتہ ملکیتہ - شاہی خانہ
 سلیقہ - پراسن - اس سے متعلق -

تسلم، وصول کرنا۔
 سالمة مسالمة، صلح کرنا۔
 مسالمة، صلح پسند صلح جو۔
 مستگیر، وصول کنندہ۔
 سمح، سماحة، عالی ظرفی، فراخ دلی
 دواداری (اعزازی خطاب)
 سماحة فلان وصاحب السماحة
 مسامحة، تعظیم، چھیچھی، معافی
 سمدا الارض تسمیدا، کھاؤ ڈالنا
 سعاد، کھاؤ جو انسیدہ
 سمع، میماع، اسٹیک سکرپ۔
 طبی آدھیں کے ذریعہ سینے کی آواز سنی جاتی

ہے
 سمو، لمبھی، عظمت (کلمہ تعظیم جو عموماً
 شاہی قائدان کے افراد کے لئے استعمال
 کیا جاتا ہے یعنی اعلیٰ حضرت، عالی جناب
 سماوۃ، چھیا، سائبان۔
 سندا، رسید، واؤ پر وثیقہ، ہند
 سندات، دستاویزات
 مستندات، دستاویزات
 سہم، کپنی کا حصہ، خیر
 مساهم، حصہ دار
 ساهم و اسہم فی حصہ لینا
 سہم تارقی، ٹاک۔
 سلیم سماحة، میدان، گراؤنڈ۔
 ساحة المصارحة کیشی کا دنگل
 سوو، ساد، چھپا جاتا، سکر جانا۔
 سیادة، اقتدار، بالادستی۔
 سید، بااقتدار، مسر، جناب
 سیدات، خواتین۔
 سوریا، ٹک شام
 سوریا، ٹک شام کا بڑے والا۔
 سوع، ساعۃ، گھڑی
 ساعاتی، گھڑی ساد۔
 سونی، بازار، مارکیٹ۔

سوق سوداء، بیک مارکیٹ۔
 تسوق، خرید و فروخت کرنا۔
 سوتی، ڈرائیری، گاڑی چلانا
 سواق، سائق، ڈرائیور۔
 سوتی نسومیۃ، ہمار کرنا، جھگڑا
 چکانا، حساب بے ہاک کرنا۔
 سنیج سیاج، بارہو، چھارویاری
 سیجاق، سگریٹ جو سجاوٹ۔
 سیر، رفتار، چال، ترقی
 سیارۃ، مولو، جو سیارات
 سائر، ترقی یافتہ، متحرک، جاری

ش

شان، جو شئون، حالات، معاملات
 کیفیات، ضروریات
 شبک، شبکۃ، جال، جالی۔
 اشتباک، الجھاؤ، تضاد، جھوٹ
 شبک، سگریٹ پائپ جھک کرنے۔
 شبارق، سداوں وار کھڑکی، جو
 شبا پیک۔
 مشبک۔
 شبہ جزیرۃ، جزیرہ نما۔
 شبہ رستی، نیم سرکاری
 شتو، منشی، گرم مقام جہاں موسم
 سراگزر جائے جو مشیات۔
 شجب مشجب، بک کھونجی۔
 شجیم تشجیم، بہت افزائی
 شحط، شحیطۃ، دیاسلانی۔
 شخن، شخن، کشتی یا جہاز پر سامان
 لادنا۔
 شخن و شخنۃ، ذری لورڈ، لادی،
 لادا جانے والا سامان
 شذی، شان و ذی، جماعت سے الگ
 ہونا، خلاف قیاس ہونا، مخالف اصول
 ہونا۔

شربت، تندرہ بھا، پیوست کرنا، داغ
 میں بجانا، تعلقین کرنا۔
 شربۃ، یعنی، سوپ۔
 شراب، شربت، مشروب
 شرج، فتنہ، دود۔
 شرح، شرحا، سلاٹس کاٹنا۔
 پرسٹ، ارٹھ کرنا۔
 شرحۃ، سلاٹس، لیا کھڑا، قاش
 مشرحۃ، چیر چاڑھا پرسٹ
 مارٹھ کاکرہ۔
 شرود، فرار، آوارگی، انتشار زہنی
 شرطۃ، پولیس جو شرط و شرطی
 شرطۃ، (ب) چھوٹا خط جو دو جہلوں کے
 درمیان ہوتا ہے۔
 شرطیۃ، معاہدہ، بدھی ہوئی شرط
 شریط، فیۃ، قسم، ٹیپ، ٹی
 جو شرطیۃ۔
 مشرط، آلود جراحی جس سے جلد کو کاٹنا
 جائے۔
 شرع، شرف، قانون بنانا۔
 شرعی، قانونی، جائز
 شکار، قانون ساز، لائٹ عمل اور منقولہ
 تیار کرنے والا
 تشریح، قانون سازی۔
 مشروع، اسکیم، منقولہ، سودہ قانون
 جائز
 متشع، قانون دان، بیسٹر۔
 شرف، عزت، اعزاز، فخر
 شرفی، اعزازی
 اشرف علی، مگرانی کرنا
 المشرف، مگران، سرپرست
 شرفۃ، باکٹی، گیلری جو شرف
 تشریف، تقریب، سرکاری
 تشریفاتی، سرکاری تقریبات کا علم
 شرق، مشرقی، مالک۔

الشرق الادنى - مشرق قریب
 الشرق الاقصى - مشرق بید
 شرك - جان، پندار
 شركة وشركة - کمپنی - ذم
 شركات - ج
 شريك ومشارك - حصہ دار
 اشتراك - اخبار یا رسالہ کی خریداری
 اخبار یا رسالہ کا چندہ
 اشتراکی - سوشلسٹ
 اشتراکیت - سوشلزم
 اشتراکیت متطرفة - کمیونزم
 شطب - شطباً - مٹانا، تلم زد کرنا
 نام خارج کرنا
 شعب - پیک، عوام ج شعوب
 شعبی - عوامی، جمہوری
 شعار - نشان، امتیاز، رنگ - رنگ
 شعور - جذبہ، وجدان
 شعل - مشاعلی - مشعل بردار
 شعب و بدامنی، شرارت خاد، ہنگام
 شغاب و مشاعب - فندہ
 فنادی -
 مشاعبہ - غذا گردی فناداگری
 شعل - مشعل - معروفیت
 شغل تشغیلاً کام پر لگانا، معرفت بنانا
 مشین چالو کرنا
 شغال - کارکن، مزدور، بچہ معروف
 شفاعی، سفارشی
 شفہی، شفوی - دہانی
 شفو - مستثنیٰ، ہتھالی ج
 مستثنیات
 شقة، عمارت کی ایک منزل - ایک حصہ
 شکر - شکار: ٹوس وغیرہ سیکنے کی جالی
 بیگ - تھیلا
 شکل الکلمة به شكلاً - اعراب لگانا
 تشکیل، مصور کرنا، شکل دینا

تشکیل دینا، کیسی وغیرہ بنانا
 تشکیلات - انتظامات - تیاریاں
 مشکلة، پیچیدہ مسئلہ، الجھن قضیہ
 مشکول - با اعراب
 شلل - شلال - آبشار ج شلالات
 شمع - شمعاً کپڑے لگانے کا ٹکڑا
 یا اسینڈ
 مشمع: آئی کلا تھ - موم کی پالش کیا
 ہوا کپڑا - چمکا کپڑا
 شمعاً - لالین کا کلا - برتر
 شنت - شنتہ - بیگ، تھیلا
 شهداء المتجسین - شہودا - فریڈ ہونا
 شہادة - تصدیق نامہ - سرٹیفکیٹ
 سفیر فرانت - ڈیپلوما ج شہادات
 الشاهدة: رجسٹر مراعات میں غلطی
 کی نقول محفوظ رکھی جاتی ہیں
 شہرا البندقیة - شہر اہندوق
 تانا اشہار - اعلان
 شہی - مرغوب - مقبول
 شور، شارة، نشان خاص
 اشارۃ بوقیة - میسجرام
 اشارۃ سکتة الحديد - ریلوے
 سگنل
 اشرفی - سگنل میں
 المشير - فیلڈ مارشل
 مستشار - مشیر
 شوش - شاشہ، پردہ سیمیں
 شاولیش - سارجٹ - دی سپاہیوں کا
 انسر
 شوی - شواہد - جہنم اور سیکنے
 کالہ - فراتی پن بکر چھا
 شیت - چھینٹ - ایک کپڑا
 شیخ - شائخہ - انوار ج شائعات
 شیوع، اشاعت
 شیوعی - کمیونزم

اشاعة: انوار ج اشاعات
 ص ۹۰
 صالمة - بروا کرہ - کرہ استقبال
 صبح - مصباح - لب
 صبح - مصبح - سیکنے کی جالی
 صبح - مصبغة - رنگائی کا کارخانہ
 صبن - صبتان - صابن ساز
 صابونہ - صابن کی ٹیکہ
 مصبنة: صابن کا کارخانہ
 صحح - صحیح: صحت افزا صحت سے
 متعلق
 صحف - اخبارات - واحد صحیفہ
 صحافات - اخبار فروش
 صحافة - اخبار نویسی
 صحفی - اخبار نویس
 صحف: پلیٹ ج صحون
 صد - سلسلہ، تعلق - بصد و کذا
 فلاں چیز کے سلسلہ میں
 صدرا انکتاب - پیش لفظ لکھنا
 اصداار - جاری کرنا، شائع کرنا
 تصدیر کتاب کا پیش لفظ - پروٹی
 ماکس میں مال بیچار (کپی رٹ)
 صادوق، باہر جانے والا مال
 صادرات - برآمدات
 مصدر: سرچشمہ ج مصدر
 مصاودر علیمة - باخبر ملے
 صدارة - صدایوتی، واکٹ، صدی
 صداریة - صدوق کا سہینہ
 صدق - صادق علی... مصداقة
 منظوری دینا - جائزہ قرار دینا
 صرح بکنا - بیان دینا - وضاحت کرنا
 تصویح: بیان - اجازت نامہ
 اعلان - اقرار نامہ
 صرخ - صاروخ، راکٹ ج صواريخ

ط

ظرف - حالت، لفظہ، کاروس

جہ ظروف

ظلمت، سائبان جہ ظلل

منظمت، چھتری جہ مظلات

منظلی، چھاتہ بردار فرج کاسپاہی

ع

عبأ تعبئة، بھرنی کرنا - پیک کرنا

عبء، بوجھ - ذمہ داری جہ اعباء

تعبئة - پیننگ بھرنی

عبء، عجب و تیرا و استعباد - غلامی

مستعبد، غلام، محکوم -

عبء الطريق تعبیداً، راستہ ہموار کرنا

عبر - عبوری، عبرت آموز

عبارة، تعبیر، تفصیل، طرز ادا

عابر، سرسری

عبق، غبقری، باکمال جہ عباقرة

عبقرتیہ، کمال، فطری قابلیت

عجل، عاجل - فری، ہنگامی

مستعجل، ہنگامی - ارجح

مستعجلة، تیز رفتار گاڑی -

عجم - معجم، ڈکشنری جہ معاجم

ععن - معجون الاسنان، دانتوں کی دھوا

عدد - تعداد، میٹر، عداد ادا

عداء، سان - تیار کرنا جہ عداد

عداسہ، چشمہ وغیرہ کاسفیٹ

عدال - تعدیل، ترمیم جہ تعدلات

معدال: اوسط - رفتار -

عدن تعدینا، کان کھودنا، کان سے

معدنیات، نکاتا -

معدن - کان کن

عدوان - جارحیت

عداوتی - جارحانہ

طلقة، شرٹ - قار - فارنگنگ کی آواز

طلم - مطلمت، بیلن -

طلسمیہ، وارمپ - تل

طلی - طلیا، روشن کرنا - پالش کرنا -

طلاد، روشن - پالش، رنگ، ج:

أطلیتہ -

طھی - طاهی - ہارچی جہ کھانا

طوب - اینٹ - و، طوبتہ

طواب، اینٹ بنانے والے -

طوبچی، تڑپھی

طوبجیتا، تڑپ خانہ

طوس - قطوس - تبدیلی انقلاب جہ

تطورات

تطوری، تیرنپیر

طور بید، تار پیڈو - تباہ کن بھی جہاز

طوع تطویحا - رضا کار بنانا -

تطوع، رضا کار بننا - والنیرلی

متطوع، رضا کار - والنیر

طوت - طات البلادے، دودھ کرنا

طواف، سیاح، ایجنٹ - دلال

طائفة، گروہ - فرقہ -

طائفی، فرقہ وارانہ -

طوقۃ - تطویحا، گھیرا ڈاک - احاطہ کرنا

طاقۃ، مجموعہ، گھا، کھوکھی روشنی

طاقیۃ، ٹوپی جہ طاقیات

طوق القمیس، کار

طول - طوال: میں، ڈائریکٹ

خط طوال) میں لائن -

طوی - کواہیۃ، ڈرائی پی

طیب - طابۃ (گینڈا) بلا

طیران - ہوا بازی، پرواز

طیار، مہاباز

طیارۃ، ہوائی جہاز - پتنگ -

طاشرة، ہوائی جہاز

طابق، مکان کی ایک منزل جہ طوابق

طبلة الفنجران، ساؤنڈ بکس

طبونة - طاؤنہ، تھور، بکری،

بسکٹ وغیرہ کا کارخانہ

طبان العجلة - مائر -

طبنجۃ - پستول

طاجن، فرائنگ پن - کڑھیا

طحن - طاحونہ - آٹا پیسنے کا آئینہ -

مطحنة، آٹے کا بل

طرا - طاری - ہنگامی، غیر متوقع

طواری، ہنگامی حالات، ایمر جنسی

طرب، مطرب، نغمہ ساز - گانے والا

طربید - تاپیڈو -

طرح - مطارحة - بیت بازی کرنا

أطروحة، تھیسز تحقیقی موضوع

جو ڈگری کے حصول کے لئے مقرر کیا

جائے -

طرڈ - پارسل - پکیٹ جہ طرود -

طراد - کرود - جنگ جہاز، پہل

طربید، آوارہ -

طرز - تطریز، ایبراندی، کشیدہ کار

طراز - ماڈل، ساخت، فیشن -

طرت - تطرف، انتہا پسندی

طرم - طارمة - لکڑی کا کرہ - کین

طومبۃ، پپ، سرخ، پکاری

طست، سلنی - اٹھ دھونے کا برتن -

طعم - منطعم، ریسٹورنٹ کھانے

کی دکان جہ مطاعم -

طفأ - مظفأۃ - طفاہیت - فائناجن

آگ بجھانے کا آلہ -

طقس - موسم، متوار، میلہ جہ طعوس

طقم، کسی چیز کا سیٹ، مجموعہ، جوڑا

طلعیۃ - کاغذ کا ایک شیٹ -

طلس - آطلس - اٹلس - ریشمی کپڑا

طلق - اطلاق - راکٹنا گولی چلانا

انجام دیتے کی کوشش کرنا کسی موضوع پر قلم اٹھانا۔ بحث کرنا۔ زیر بحث لانا۔
 معالجتہ: تدبیر۔ علاج۔
 علق۔ تعلیق، تبصرہ۔ تفسیر۔
 علم۔ استعلامہ: انکوائری، تحقیق۔
 مکتب الاستعلامات: دفتر تحقیقات۔ انکوائری آفس
 تعلیمات۔ ہدایات۔
 علو۔ علاوہ۔ زیادتی۔ اضافہ
 علاوات الغلام: گرانی الاؤنس
 علوان: عنوان۔ پتہ۔
 عمدۃ۔ کھیا۔ چودھری۔
 عمدود: اخبار کا کالم جہاں عمدۃ
 عمید: سربراہ۔ پرنسپل رکیٹر
 کا لچ یا پرنسپل کا سربراہ جہاں عمداد
 اعتماد: ساکھ، منظوری، قرض
 اعتماد مالی۔ فنڈ۔
 رخطاب: اعتماد۔ ہنڈی۔ مالی رقم
 راوراق: اعتماد۔ شناختی کاغذات
 تعارفی سرکاری، کاغذات
 عمر۔ استعمار۔ سامراج، آباد کاری
 نوآبادی بنانا۔
 مستعمرۃ۔ کالونی۔ نوآبادی۔ وہ
 حصہ زمین جس پر غیر ملکی جماعت قابض ہو
 جہاں مستعمرات
 عمران۔ تعمیر، آبادی، تہذیب و تمدن
 عمارۃ۔ بلڈنگ، سمندری بیڑہ
 عمل۔ عملہ: سکتہ جہ عمل
 عمالۃ: کیش۔ ارضت
 عمیل: ایجنٹ، دلال، عملاء
 عامل۔ سبب، محرک، باعث
 جہ عوامل (۲) کاریگر، مزدور
 معمل۔ فیکٹری۔ کارخانہ، پل
 معمول۔ تیار کردہ، اثاثہ
 عملیۃ۔ خاص فعل کارروائی۔

عواصم
 عصی۔ عصیان مدنی، رسول نافرمانی
 عصو۔ کسی جماعت وغیرہ کا ممبر، رکن
 جہ اعضاء۔
 عضویۃ۔ ممبری، رکنیت
 عطفۃ۔ متعطف، گل، موڑ جہ
 منطقات۔
 معطف: کوٹ، جہ معاطف
 عاطفۃ، جذبہ جہ عواطف
 عاطفیۃ: جذباتیت۔
 عواطفی: جذباتی
 عطل: بیکاری
 عطیۃ، تعطیل، چھٹی جہ عطل
 عطل تعطیلاً: نہ کار کرنا۔ معطل کرنا
 کام بند کرنا۔ تعطیل کرنا۔ ملتوی کرنا
 تعطیل: التواء، رکاوٹ، تعویق
 عطا۔ عطاہ: سڈر جہ عطادات
 عظمتہ۔ شان و شوکت۔
 صاحب العظمتہ: ہر مجبسط۔
 سلطان کا لقب
 عذریۃ۔ گاڑی کو پورا جانے کا آلہ
 عفتش: سامان سفر، فرنیچر۔
 عفواً۔ معاف کیجئے۔ خود بخود۔
 عقب تعقیباً۔ تبصرہ کرنا، نکتہ چینی کرنا
 عقوبۃ مالیۃ: جرمانہ۔
 عقد۔ عقداً۔ معاملہ کرنا، معاہدہ کرنا
 علیہ لمانا۔ کتاب میں فصل قائم کرنا۔
 دیواریں ڈاک لگانا
 عقید۔ ایک فوجی عہدہ دار
 عقرب الساعۃ۔ گھڑی کی سوئی
 جہ عقارب
 عقل۔ اعتقال، نظر بندی
 معتقل: نظر بندی کا مقام۔ جیل
 عکبۃ: ڈبا، ڈبیر جہ عکب
 علاج۔ علاج... معالجۃ: کسی کام کو

عربۃ۔ گاڑی جہ عربات
 ۲) ریوے ویگن
 عربی، تحت جہ عربوش
 ۲) وعریش، جانوروں کا ناٹا
 ۲) و تعریضہ: ٹی۔ لکڑی یا لہے کی
 جالی جس پر انگوٹھی پیل ڈالی جاتی ہے
 عربن۔ پیش کش۔ نائس
 معربن۔ نائس گاہ۔
 استعراض: جائزہ۔ نظر ثانی
 معروبن، برائے فروخت
 عربک: معدمتہ: برائی۔ ہنگامہ۔
 فاد جہ معارب
 عربی۔ مستعار، فارسی، مصدومی
 عزیزۃ: فارم بکیت۔
 عزت۔ عزیزا بجانب طاقتور،
 مضبوط۔ با اقتدار آدمی
 عزیز المال۔ ناممکن الحصول
 عزف۔ سارنگی بجانا۔
 عازف۔ سارنگیا، گانے بجانے والا
 معزف۔ باجا، ساز۔ آلہ موسیقی
 عزم۔ عزمۃ: ولیمہ، دعوت ولیمہ
 عتس۔ چوکیدار، پرہ دار۔ دعائ
 قسنگرال جیش، فوج کا خیمہ زن ہونا۔
 عسکری: فوجی
 محسکرا، بارک، فوجی کیمپ
 عتیب۔ عتیب: جڑی بوٹیوں کا ماہر
 تابرناتات، گھاس فروش
 عصبیۃ، گروہ، جماعت۔ لیگ۔
 عصبۃ الامم: انجمن اقوام متحدہ
 رحریب العصبات، گریلا جنگ
 عصدا۔ عسیدۃ: دیا جریرہ۔
 عصفت۔ عاصفۃ: آندھی، طوفان
 عصم۔ عصا، ڈودی رتاسہ۔
 بیٹی جہ اعصیۃ
 عاصیۃ، پاپی، تحت، ناجہ دانی جہ

آپریش - ج صلیات
 عتی تقییمہ - پر خیدہ رکنا - گراہ کرنا
 طوع - طاعة و تمکید -
 عنصر: اصل جنس، مادہ، جوہر -
 عناصر: اجزاء و ترکیبہ -
 صفت، تشدد -
 اللاعنفیة - دم تشدد
 عنق - اعتنق - مذہب یا عقیدہ
 اختیار کرنا -
 عتن کتاب - عزان قلم کرنا -
 عنوان، پتہ لکنا، عزان لگانا
 عنوان: پتہ ج عناوین
 معنوی - روحانی مند -
 عهد - تعہد، نگران، دیکر بہال -
 العهد الجدید، انجیل -
 العهد القدیم، توراہ
 معہد، ادارہ ج معاهد
 متعہد، ذمہ دار - ٹھیکیدار -
 عید - جشن - ہنوار - تقریب
 عید فتنی - سطور جوبلی
 تعیید و جشن منانا - عیدک مبارکباد
 دینا -
 عود - عاڈہ - معمول -
 (فوق) العاڈہ - غیر معمولی -
 عاڈتی و معمول - نام - رائج -
 متداول - قدرتی -
 عاڈیات، آثار قدیمہ -
 عاڈہ - فائدہ - ج عواشد
 عواشد - ٹیکس، مال گداری
 عیادہ طبیہ - مطب
 عود الثقاب: پھول جھڑی -
 عوس - مستعار - معنوی - جھوٹا -
 عوق - عواقبہ - ریلوے بریک دین
 عول - عائلتہ - کنبہ فیملی گھرانہ
 ج عائلات -

عومر - عوامتہ - پھل کے کانٹے کے ساتھ
 ڈور میں بندھی ہوئی لکڑی -
 عون - اعانۃ و راستیہ - تعلیمی
 و لپیٹر - اسکا ریشپ -
 عیر - عایسہ - چانچا - ناپ تول کرنا
 لٹے کرنا -
 عیار - مقدار - ناپ ج عیارات
 عیار ناری، شرٹ -
 عیار (۲) وزن - ہاٹ
 عیار - کرین - آرمڈ ٹھیل
 عیش: چپاتی -
 عیاش، چپاتی فروش
 معاش - القفاقد، پنشن -
 عیل - عائلی - خاندانی، گھریلو
 عیالہ، کفالت، پرورش
 عین - عینی - چشم دید - مین
 عوینات - چشمہ - ٹیک -
 تعین - نام زدگی، تقرر

ع

عندس - بیخ، پردا -
 عندیستہ - فرسوی پردا -
 عنرفۃ - سنبھل (ایک قسم کا جوتا)
 عنرفۃ - بالافانہ - کرہ - دیوان چیمبر
 تجارتیہ - ایمان تجارت
 عنرم - عیلامتہ، جہانہ اوکرنا
 عوامتہ - جرمانہ - تاوان -
 عوامتی - جرمانہ کا - عشقیہ -
 عرو - عرا - عذری تغریبہ -
 سریش سے جوڑنا -
 عرا، سریش - ایسا مادہ جس سے
 کوئی چیز جوڑی جائے -
 فذل - کٹائی - سوت
 معزل - سوت کاتنے کی مشین -
 معزولہ - عذریہ -

معزوی، خلاصہ، میدان جنگ
 غطو - غطاؤ - ڈسکن - غلاف - سرپوش
 ج اغطیۃ -
 عنفر - عنفیر: رواں پرہوار
 عنقارۃ - علماء یہود کا لباس
 عنف - عنف الکتاب و غیرہ -
 کورچر دعواتا -
 غلاف - کور - ٹائٹل، سرودق
 ج اغلفۃ -
 عنک - استغلال - نفع اندوزی
 عنق - عنقاویۃ - ساور - پانی گرم کرینا
 برتن -
 مغلی الاعشاب، جوشاندہ -
 غلیسیرین - گلیسرین -
 فلیون التاخین - تباکر پاپ
 حقہ -
 عنبر - مقامرہ، جانہازی
 مغامرہ: جاننا
 عنور - مغوار ج مغاویرو
 جنگ جو - دلیر -
 غاز - گیس ج غازات
 (۲) پٹرول، مٹی کا تیل
 غوص - غواصۃ: غوطہ کشتی -
 مقاص - غوطہ گاہ
 غیبیہ: بے ہوش کرنا -
 (عقار) مغویب: بے ہوش کرینا
 دوا -
 غیو - خیاب: تبادلہ -
 (قطم) الغیار - فالقہ پڑے
 غیظانی - کھیت والا - باغ والا -

ف

فال - متفائل - بہ امید -
 فبرقہ - کارخانہ
 فتح - فتاحۃ علب، ٹھیکر لٹک پانی

<p>پچاسے وغیرہ۔ فروک - فزاک۔ ذراک ایک قسم کا لباس فروم - فروما: قیمر کرنا۔ فروامة: قیمر کرنے کی مشین۔ فرومة المطبعة: پریس کا فرمہ فرومان - حکم عالی۔ فرمان فروملة: بریک فروملى: بریک لگانے والا۔ فرون - تنور۔ نان بائی۔ دوکان بکری بکٹ وغیرہ کا کارخانہ، بھٹی۔ ج اقران فزان - بکٹ وغیرہ کا کارگر۔ فزانجہ - انگریز جیسا بنانا، فرنگی بنانا افرنجی: یورپین۔ انگریز۔ فرنسا: فرانس۔ فرنسی، فرناوٹی: فرانسیسی فسحة - تعطیل، تفریح، ج فسح: ورمیانی وقف، گنجائش۔ فسحة: گھر کا صحن۔ فسقية الماء: پانی کا قرارہ فستزمر - قاشیہ - فاش ازم۔ ایک ایٹالین سیاسی نظریہ۔ فاشی - فاش ازم کا معتقد۔ فشكة کا توس۔ ج فشكات۔ فصد - مقصد: نشتر۔ فصل - فصل: خارج کرنا: نام کا مانتا فصل تفصیلاً: کپڑا کا ٹٹا حصے بجڑے کرنا۔ تقسیم کرنا۔ تفصیلاً: کنگ۔ فصل - تفریق، تقسیم، ڈرامہ کا منظر اسکول زم، جماعت۔ فیصلہ۔ فصیلة: کتبہ، قسم۔ فصللة: کاما، واو معکوس (ہ)۔ انفصالية، علیحدگی پسندی۔ انفصالیون: علیحدگی پسند افراد۔</p>	<p>تفاریح - فروخ ورق، کاغذات کا ایک شیٹ فرد، استول - ریوالو۔ فرد - فردا: خطوط آمد کاغذات کی چھٹائی کرنا۔ فردة - شطرنج کی رانی۔ فردات العلیب، کریم نکالنے کی مشین فریڈ - کارنس ج: افارینڈ فروش تفریحا، کپڑوں پر برش پھیرنا۔ فرشة - گدا فرشة: برش۔ فروش: چپراسی، خادم مفروضات - گھر پر سامان، فرنیچر فروشینة: بالوں کا کلب فروض - فرصت: موقع، چانس ج: فرض فروض - فرضاً، سرمدھنا، مقرر کرنا فوط: ردا، مال، غائدہ، نفع مفوط: اتنا پسند، نفعی فرج فروع: شاخ۔ برانچ۔ سیکشن۔ فروع تفریحاً - جہاز وغیرہ سے سامان اتارنا۔ سانچہ میں ڈالنا۔ فروع: خالی ہونا، سبکدوش ہونا۔ فروع: خالی جگہ۔ پیکاری فروقات - خالی جگہیں۔ فروق، امتیاز۔ بلینس (حساب میں) فروقت، گروہ۔ گروپ۔ پارٹی فوج کا ایک ڈویژن۔ فوزی - جماعت پارٹی، ٹیم لفٹیننٹ (فوجی عہدہ) بالتفریق: بالتفصیل۔ ریٹیل میں خودیہ بالجملہ کی ضد مفروق - نقطہ انفصال، مرکز اختلاف مفروق الطرق: چوبیس فروقة - دھماکہ مفروقات - دھماکہ، غیر اشیاء۔</p>	<p>مفتاح - ریڑھے کا شاہد لٹے کا آلہ مفتاحی - ریڑھے کا شاہد لٹے والا فتر - فاتر - کم مہمت، نیم گرم فاتورة، بل حساب، نمونہ متفتقر - غیر مسلسل۔ فتش تفتیش - تحقیق کرنا، تماشائی کرنا فاتح پر تامل کرنا۔ مفتش - انسپکٹر۔ مفتش عام - انسپکٹر جنرل۔ مفتش اول: چیف انسپکٹر۔ مفتش ثانی: سب انسپکٹر۔ فتن - فتنان - فتن: فتنہ انگیز۔ سحر انگیز فتویٰ - استفتاء - استعجاب۔ قانونی رائے طلبی - ریفرنڈم فجر - آغاز شروع۔ فحص - معاینہ - جانچ - ٹسٹ۔ ج فحوص۔ فاحص - آڈیٹر حسابات - انگیز جانچ کنندہ۔ فحل - استفحل الامور: شکیں بھگتا فحص مصنوعی، کاربن فخر - اعزاز - سرمدی۔ فخری: اعزازی فخاری ردا، مٹی کے برتن بنانے والا فخیر: شاندار، بھرپور کار فخورة، مٹی برتن بنانے کا کارخانہ مفخرة: قابل فخر کا نامہ فخم - فخامة: شان و شوکت عظمت تعلیمی لقب جو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے (فخامة الرئيس) اور صاحب الفخامة - عزت مآب فدی - فدائی، جنگی رضا کار فروج - تفریح علی... سیر کرنا تماشائی کرنا تفریحیہ، بھروسہ، روشندان - ج</p>
---	---	---

<p>قائمتی، جاری قائمت، سود، نفع قائمتی، سودخور</p>	<p>قدح، قیاحہ، کاشتکاری، باغ کاری۔ قدحی، دیہاتی، کاشتکارانہ قدح، فولاد، فولاد قدحی، چینی۔ قدح، نم، ریل، جہاز، اقلاد قدح، ریلوے پٹری کا سپر قدح، سیجارج، سگریٹ ہولڈر۔ قدح، فانوس، قندیل، لالیں قدح، گراموفون۔ قدح، فلائیل، ایک قسم کا کپڑا۔ قدح، آرٹ، کتب، فنون القدح، الجمیلہ، فنون لطیفہ قدح، آرٹسٹ، فن کار۔ ماہر قدح (مع) فنیل، ایک کیرا مارووا۔ قدح، کوئٹہ، نقوی، اختیار دینا۔</p>	<p>مفصلہ، قبضہ جس پر کراہت ہو فصل تفضیلاً، پسند کرنا، ترجیح دینا مفضل، محبوب، پسندیدہ، مقبول فضیلة، علاوہ مشایخ کے ناموں کے ساتھ بطور اعزاز استعمال ہوتا ہے فضیلة الشیخ، صاحب الفضیلة فطر، فطور، ناشتہ۔ فطیر، خمیری روٹی، ایک پٹری جہ فطائر۔ فطیر، ایک پٹری بنا کر والا۔ فعل، افعال، اشتعال، تاثر۔ مفعول، اثر، معمول۔ مفتعل، جعلی، من گھڑت فاعلیۃ، تاثیر فعل، مؤثر فاعل، مزدور، جہ فعلتہ فعل، تفتت، جائزہ لینا، بیاد کرنا التفتی، متونی، مرحوم فقرة، پیراگراف، جملہ جہ فقرات فکر، خیال، نظریہ۔ الفکریات، آئیڈیالوجی مفکرہ، یادداشت، میمورنڈم مفکرہ، یادداشت مفکرہ جیب، نوٹ بک مفکرہ یومیۃ، روزنامہ فکر، فکر، پند، اندکرتا۔ بیچ وغیرہ کھانا، ہر توڑنا، جوڑ یا بیچ وغیرہ کرنا، ڈھیل کرنا۔ نقولات، ڈھیلا ہونا، کھلنا۔ جوڑ بنا، جوڑ کھانا۔ ذکر، نکتہ، ریزنگاری، بیچ۔ بفہ، بیچ کس۔ چابی ذکر، دلچسپ فکرتی، مزاحیہ۔ ذکر، سیرہ فردوس۔</p>
<p>قبریت، قبر کا کتبہ۔ قبض علیہ، گرفتار کرنا۔ قبض، گرفت، پکڑ، وصولیابی۔ قبضہ، ہینڈل، قبضہ۔ قبا، قبض، وصول کنندہ۔ مقبوض، وصول شدہ۔ قبطان، کپتان۔ قبض، بگل۔ قبضہ، ہیٹ، انگریزی ٹی قباط، کھراڈوں، ہر ایک گانے کا ہینڈل۔ قبیل... سے قبول، منظور کرنا۔ قابلیت، ملاقات کرنا۔ قبلی، حنبلی، جانب جنوب قبالہ، ذمہ داری، معاہدہ۔ قبالہ، دایہ گرمی۔ قبول، منظوری، تسلیم و رضا۔ قابل، منظور کنندہ، آئندہ۔ قابلیت، دایہ، مددگار۔ اقبال، توجہ، رجحان، مانگ۔ قدح، قیاحہ، سگریٹ ہولڈر۔ قدر، تقدیر، اندازہ، تخمینہ قدروالی۔ مقدار، سکت، سہولت، طاقت قدام... تقدیم، پیش کرنا۔ وقت و تیا تعارف کرانا۔ مقدّم، معزز یا شاعر کا تعارف کرائے والا۔ تقدّم، ترقی کرنا قدّم، فٹ (پہنائش میں)</p>	<p>قدح، گراموفون۔ قدح، فلائیل، ایک قسم کا کپڑا۔ قدح، آرٹ، کتب، فنون القدح، الجمیلہ، فنون لطیفہ قدح، آرٹسٹ، فن کار۔ ماہر قدح (مع) فنیل، ایک کیرا مارووا۔ قدح، کوئٹہ، نقوی، اختیار دینا۔ فادحہ، بات چیت کرنا فوضی، غیر منظم، منتشر۔ فوضی، لاقانونیت، انارکرم فوضی، لاقانونیت، پسند انارکرم۔ فوضی، اختیار، وارنٹ پاور مقاوضات، رسمی بات چیت مفوض، با اختیار۔ مفوضیۃ، نیشن، سفارتخانہ سے کم درجہ۔ فوطہ، تولیہ۔ فیوت، فن، گھڑا، اگی۔ فیڈ، فائدہ، مال، سود۔ فیشتہ، الکھرباد، ایکڑک پگ فیشتہ، لوکن فیضات، طیفانی، سیلاب، طوفان جہ فیضان، فیضان فائن، النہر، فیضان آتا</p>	

استقامت - طلب کرنا، حاضر کرنا
قدّامیہ، ڈاکٹر وغیرہ کی فیس
تقدیمتہ، پیش کش، نذرانہ
تقدیر: پیش کش، انٹرویو کشن
تعارف -

قذات القنابل - قذات، بیماری کرنا
قذیفۃ ناریتیہ: پٹاخہ بم - گولہ
ج قذائف

قرا - مقرر: پروٹھن کا اسٹینڈ -

قرب - مقرب: ٹیلیسکوپ

قرح - اقتراح - تجویز ج اقتراحات
مقترح: تجویز، تجویز کردہ -

قصر، تقریراً: طے کرنا - فیصلہ کرنا
بیان کرنا - گواہی دینا

قرار: پاس شدہ تجویز، قرارداد
ج قرارات -

قارۃ: خشکی، بڑا نظم ج قارات
تقریر: رپورٹ ج تقاریر -

مقرر - صدر مقام، ہیڈ کوارٹر -

قصرین، ہیکہ - ٹیلیٹ، ٹیلیفون ڈائل

قرد - قرد کا سیٹہ: اسٹیشنری

قردوشہ: تختہ بکٹ - جڑ بھری رتی

قردیند - لال پختہ اینٹ، کپریل -

قردش کا نائل، پلاسٹر

قردین: سرخ رنگ -

قردن - قردینتہ - پوری - ج قرینات

قردنقہ التون - کھی رنگ کا

قردوی: دیہاتی -

قرد - قیزازہ، بوتل -

قردم: شعبہ ج آفس

قردیمتہ - رسید کا مثنی ج قرائم

قردط - قسطا، بالائی آمارتا، چینا -

قردطہ، بالائی

مقسط، حرف چھیننے کا چاقو -

قصد - اقتصا د - کفایت شعاری -

مال کو خاص تدبیر سے خرچ کرنا -

اعمالا اقتصاد - علم معاشیات

وہ علم جس میں دولت کی پیدائش اور

تقسیم سے بحث کی جائے -

قصدیر: قلعی، سانگیا لاکا لگانے کا

سالہ -

قصریتیہ - گلا، پیشاب رکھنے کا برتن

قصریتیہ: بازار

مقصودہ: سینما یا ہوٹل کا کین

خلوت کا کرہ ج مقاصیر -

قصۃ قصیدۃ - افسانہ

قصۃ خیالیۃ، ناول -

قصصی: قصہ نویسی - ناولسٹ

قصۃ: کٹنگ - کاٹنے کا طرز

قصی - اقصاۃ عن المنصب:

عہدے الگ کرنا -

قضب - اقتضاب - اقتصار -

قضیب: ریلوے پٹری ج قضبان

مقضب: شاخ تراش قینچی -

قصدن - اقص مصجعا - نیند کو

حرام کرنا -

قضی - قضیۃ - مقدمہ - جگڑا، مسئلہ

قاضاۃ الی العاکم کسی کے خلاف

مقدمہ دائر کرنا -

قضاء: فیصلہ، مقدمہ، قانون

ج اقصیۃ -

دار القضاء: عدالت، کھری

قضائی: عدالتی، مقدماتی

قاضی: جج - ججٹریٹ ججسٹس -

قاصی التحقیق - افسر تحقیقات

قطر - قطار - ریل گاڑی ج قطر

قاطرۃ - اسٹین (ریلوے)

قطر: ملک، صوبہ ج اقطار

قطران: تار کول -

قطع: اقتطاع: تمغزہ کا حصہ دینا

استقطع أرضاً - زمین الاٹ کرنا

قطع - سائز - کٹنگ ج اقطاع

قطع الجیب - پاکٹ سائز

قطاع: کٹر - کاٹنے کا اوزار

قطاعی - خوردہ، ریل -

بالقطاعی - ریل میں خوردہ میں

رتاجد القطاعی - خوردہ فروش

اقطاعۃ: جاگیر -

اقطاعی: جاگیردار - زمیندار -

تقا طیع الوجہ: چہرہ کے فروقا

مقاطعۃ: انقاعی علاقہ، صوبہ

ج مقاطعات

قطف - قطیفۃ - مٹھل مٹھل جیا کپڑا

مقطعات: منتخبات، تراشے

قطل - قطیلۃ: تالیہ -

قطنی - روٹی کا - سوتی

مقطنۃ - روٹی کا کھیت -

قعد - تقاعد عن - ریٹائر ہونا -

قاعدۃ - ملک کا صدر مقام

جنگل اڈا ج قواعد

مقعد: سیٹ، پنج، صوف -

مقعدا - پنشنز - ریٹائرڈ -

قلم - سجرا حمر -

قلل - آقتا الی - ... لے جانا منتقل

کرنا -

استقلال - خود مختاری، آزادی -

مستقل - خود مختار -

قلم - دفتر - حکمہ - ڈیپارٹمنٹ، شعبہ

قلم الادارۃ: ہیڈ آفس

قلم الارردواز - سلیٹ پنسل

قلم رصاص - پنسل -

قلم حبر - نوٹن پن

قلم الاستعلامات - انکوائری آفس

اقلیم - صوبہ، ملک، ضلع - علاقہ - ج

اقالیم -

اقلیتی - صوبائی - میری
 مقلدہ - قلمدان - نپس تراش -
 قلی - مقلی - مقلدہ - فراہنگ پن
 قوس - قاموس - ڈکشنری ج
 قوامیس -
 قمش - قماش - کپڑا ج - اقمیشہ
 قنطرة البناء - ڈاٹ کاپل - ڈاٹ
 قنطرة - ڈاٹ -
 قناطر البناء تصفوا اثره نادا
 قنح - قناع التکر - مصنوعی چہرہ -
 اقمعہ... مطمئن کرنا - قائل کرنا
 مقیم - تظنی بخش -
 ۲ قنتع ب... قائل ہوجانا
 قنن - مرغی خانہ - قیس کا کت
 ج - آقنان -
 قنینہ - بریل - شیش -
 قنی - قانون الاحوال الشخصیة
 پرسنل لا -
 قانون مدنی - سول لا -
 قنو - قنات - نر - بڑی تالی ج قنوت
 قهرق - جیری - غیر ارادی - مجبور کن -
 قہرمان - میرمنشی - نگران -
 قہرمانتہ - مریتہ
 قہوہ - کافی -
 مقہری - کافی اوس ج مقاہی
 قوت - مقیت - غذا بخش
 قید - قیود - کنٹرول
 فرض القیود علی - کنٹرول
 قائم کردینا -
 قیادۃ اکان - رہنمائی - کمانڈری
 القیادۃ العیالی کمان
 قواد - دلال -
 قاسد - سامنا - لیڈر - کمانڈر گاہ
 ج قادی
 معود - مورکا اسٹیزنگ ج معاود

قود - قار - تارکول -
 قازة - برائیم ج - قازات
 قوہ - تقویرا - تارکول منا -
 قورمہ - قورمہ - گشت کاسان
 قوس نصر - مراب فتح - وہ دروازہ جو
 کسی جبل وغیرہ میں لگایا جاتا ہے
 قوش - قایش - استراحت گزرنے کا چہرہ
 قوع - قاعة - الکرہ ج قاعات
 قول - قاولہ - مقاولہ - معاہدہ کرنا
 سوا کرنا - ٹھیکہ لینا -
 مقاولہ - ٹھیکہ دار
 مقاولہ کسی کام کا ٹھیکہ
 قوم - قائم مقام - ایک فوجی عہدہ
 لیفٹیننٹ کرنل -
 قائمہ - فرسٹ - لسٹ - لکھ
 ج قواسم -
 قائمۃ الاسعار - زرغ نامہ
 قائمۃ الحساب - گزشتہ
 قسیم - نگران - پیش قیمت
 تقویم البلدان - جنری -
 تقویم السنۃ - کیلنڈر ج
 تقاویم -
 مقومات - قیمتی اشیاء - بنیادی
 مزوریات - بنیادی اجزاء
 مقاومہ - مقابلہ
 قومیسر (مع) کفتر
 قومندان - کمانڈر - کمانڈر
 قوۃ - طاقت - فورس
 قوۃ بحریۃ - بری فوج -
 قوۃ بریتیا - زمینی فوج
 قوۃ جوتیہ - ایرفورس - ہوائی فوج
 تقویتہ - اہمیت - الزام - پشت پناہی
 مقوی روق - کارڈ بورڈ -
 قیادہ - ایچ ج - قداریط -
 قیس - قیاس - پیانہ - ٹاپ - رقم

قیاسی - ریکارڈ - کسی کام کا آخری درجہ
 صوبہ رقبہ قیاسی - ریکارڈ قائم کرنا
 قیاس - پیمائش کنندہ
 مقیاس الحصارۃ - تقریباً
 قالیس بین الشئیں - موازنہ کرنا
 قیل - استقبال من الخدمۃ
 مستعمل ہونا - سبکدوش ہونا

ک

کانون الاول - دسمبر کا مہینہ -
 کانون الثانی - جنوری کا مہینہ
 کبت - کبوت - اورکوٹ - رکشایا ناگے
 کی پھتری -
 کبج - قابو -
 کبح العواطف -
 جذبات پر قابو پانا -
 کبر - مکبر الصوت - بلاؤڈ اسپیکر
 کبریت گندھک - باجس
 کبس - کبسا - شکوہ میں کتا و بانا -
 و باؤڈوانا - چھاپہ مارنا -
 کبیس - بجلی کا فیوز
 کپاس میکس - پریس شکوہ - بانے کی
 مشین
 کبشۃ التیاب - کبک -
 کتب و کتابتہ - معنون کتب
 تصنیف کرنا -
 الکتاب فی - عہدہ و دنیا باخبار
 یا رسالہ کا خرید و دینا -
 کا تہہ - مراسلت کرنا -
 کتاب و خط - پیغام - نامہ
 کتابی - تحریری -
 کتاب - مدرسہ - کتب
 کتابتہ - تحریر - کمانی معنون نگار
 انشا برداری
 کسب - کتب فروغ -

کُتیب - پمفلٹ ج کُتیبَات
 کُتیبَة : فوج کا ایک ڈویژن
 ج کتاب
 کاتب - محرر - لکھ ج کتبه -
 (۲) مضمون نگار - مؤلف ، نقل نویس
 ج کتاب -
 کاتب العقود - رجسٹرار
 کاتب علی الآلة - ٹائپسٹ -
 مکتاب - ٹائپ رائٹر -
 مکتب - لکھنے کی میر - ڈیک ،
 دفتر ج مکاتب
 مکتب التلغراف و تارگھر -
 مکتب الاسعلامات - دفتر
 معلومات ، انکوائری آفس -
 مکتبہ : لائبریری - کتب خانہ
 مکاتب - مراسلہ نگار ، نامہ نگار
 مکاتبہ - نامہ نگاری -
 کُتشینة : تاش کے پتے
 کتوت ، روا ، مرغی کے پتے ج کتاکیت
 کُتلة - دھروا ، ہاک مختلف مالک
 کا مترہ گروہ - ج کُتل
 کُتل : دھروا بندی -
 کُتلة امریکية - امریکن ہاک
 کُتلة آسیوتية - ایشیائی ہاک
 کُتلة شیوعية - کمیونسٹ ہاک
 کُتل - کتار البطن - قبض
 مکتوم البطن - پیٹ کا مرضی
 کتن - کتان : سوت ، ایک قسم کا ریشہ
 جس سے مضبوط کپڑا تیار کیا جاتا ہے
 رنسیج (الکتان - سوتی کپڑا
 کتبیہ ابریل و اپریل فول -
 کربون - کوئلہ جیسا سیاہ مادہ
 ورق کربون - کاربن پیپر -
 کو تون (محر) کارڈ بورڈ
 کرس - کراس ، پمفلٹ ، کاپی -

کراسے - پمفلٹ - کاپی
 کسر - کسارۃ - سروطا
 کا سوس : پتھر توڑنے کا بھوڑا
 کُتبان - انگشتانہ
 کشف - فرست ، نقشہ ج کُشوف
 اکتشاف - نئی دریافت ، ایجاد
 کُشوف - اسکاؤٹ - وہ سیاہی
 جو دشمن کے احوال معلوم کرنے کے لئے
 بھیجا جائے -
 کُشافة - وہ جماعت جو خدمت خلق
 کے لئے تیار کی جائے -
 کُشافة - جماعت اسکاؤٹ کا کام
 مخبری - جاسوسی -
 کُشک - لکڑی کی کوٹھڑی ، کین -
 کُشک التلیقون - کال کس
 کُشک الدید بان - سنتری کبس
 پرہ دار کے کھڑے ہونے کا کین -
 کُشکول - اخبار یا کتاب کے تراشوں
 کا مرقع -
 کُطم - کُطیمہ : قمراس -
 کعب : جوڑے کی ایلری ج اکباب -
 (۲) کتاب کا پشتہ -
 کُعد - کیک -
 کُفوف - اہل - لائق ج اکناہ -
 کُفافة : اہلیت ، یاقات -
 کُفج - کا فحہ - سامنا کرنا ، مقابلہ کرنا
 جگ کرنا -
 کُفاح : جدوجہد ، لڑائی ، مقابلہ
 کُفَر - چھوٹی بستی -
 کُف - بھیک -
 کُفل - کفالتہ : غرض من ہونا -
 کُفالتہ - ذمہ داری - ضمانت
 بکفالتہ - ضمانت پر -
 کُلبتتان - زبور ، فن جراحی کی میٹھی
 کُلابة : ادانت نکالنے کا زبور


کُلیتہ : کالج ج کُلیت
 کُلیوم - کیلیم
 کُلمة - مضمون ، تقریر -
 کُلیسین - گلیسرین -
 کُمر - کماحۃ القطار ، بریک
 کُساریتی - کنڈیکٹر - ریلوے گارڈ
 کُش - کُتاشہ - بڑھی کا زبور
 کُتہ - لیپ شیٹ -
 کُتُجۃ - سازگی -
 کُندی - کنڈاکار بیٹے والا -
 کون - کانوں - چولہا - اسٹو
 کانون الاوّل - ماہ دسمبر
 کانون الثانی - جنوری
 کُفربتہ - برقانا کسی جگہ بجلی پہنچانا
 کُھریا : بجلی - برق
 کُھرب - برقا یا ہوا
 کوبری - پیل -
 کوٹ : سلپ ج آنوائٹ
 کوسماۃ - عوبہ ضلع - چھوڑ قبضہ
 کوز - مگ ، ڈنڈی دار پیالہ
 کوس - بڑھی کا پیمانہ
 کوفیتہ - سر کو پیٹنے کا رومال
 کوکبۃ - لوگوں کی ٹکڑی - جماعت
 کون وکیان - وجود - بستی -
 کوفی - عالمی بکائاتی -
 کوی - کیتا : استری کرنا -
 کواۃ - استری - ج مکاوی
 ککوی : استری کیا ہوا -
 کُتف البناء - کُتیف : ایرکنڈیشن
 بنانا -
 کُتف بالہوا - ایرکنڈیشن -
 کیلو - کیلوگرام - ایک ہزار گرام
 کینیا - کونین - بخاری دوا

ن

<p>مارکتہ - خاص نشان - مارکہ میتز - میٹر - ناپنے کا گز وغیرہ - متعہ - دلچسپی، سامان دلچسپی - متعم مثل - مثل تمثیلاً - نمائندگی کرنا ایکٹنگ کرنا - مُمثل - نمائندہ - ایکٹر - مَثَلُ اَعْلٰی - شاندار رعایت ج المَثَلُ العُلَیَا - تِمَثَالٌ و مجسمہ ج تمکائیل - تمثیل: نمائندگی - ایکٹنگ - تمثیلیتہ - ڈراما ج تمثیلیات تمثیلی - ڈرامائی - مرد - مردور - ٹریفک (حرکت المدورہ) تعمیر - سامان پاس کرنا، گزرنے کی اجازت دینا - موس - مارس العمل - بطور پیشہ کرنی کام کرنا - پریکٹس کرنا - مرض ممرض - تیمار دار ممرضتہ - نرس - ج ممرضات مسح الارض - زمین کی پیمائش کرنا مسح الحدائق - جوئے پر پالش کرنا - مسطح: زمینی کا سروے کرنے والا - رض: جوتوں پر پالش کرنے والا - مسطحة: پیمائش - رقبہ - سروے مسطحة: پیمانے کا ربر مسطحة: پیمائش کا فیستہ - پامان - مستک - ہینڈل - مست: قبض - مناسبات مطریقہ - چتری - مطرفة: دائرہ پر وقت - برساتی مطاط: ربر مدح: ممدوحة - تمکدان مدط: ملطاً، پلا سکرنا - بال انا - ملاط: پلاسٹر</p>	<p>ملف - ریپر - لپیٹنے کا کاغذ ملقہ اوراق - قائل ج ملقات لقح... ملقحاً - ٹیکہ لگانا - لقاح - ٹیکہ - دوا - جو بدن میں پہنچائی جاتے - لقط ملقط - چمچی - لمبۃ - لپ لہب - التهاب، سوزش، ورم التهاب الرئۃ - منویہ - التهاب الزائدة الدودية اپڈی سائٹس ایک مرض جس میں مٹھی زائدہ میں ورم ہوجاتی ہے - لہو - تفریح - کھیل - تماشہ - ملہنی - تماشہ گھر، تمییر - سینما ج ملاھی - لوتازیتہ - لاری - لوح الارض تلویحاً، زمین پر تھمے پھانا لوحۃ: تختی ج لوحات لاٹتہ، پروگرام، پراس پیکٹس سرکاری قانون ج لوائح - ملوچتہ سگنل - ج ملوچات لوذا التمر تلویحاً - کچھریا، دام بھنا لوزة الحلق - ٹونسل، غدود لوکائندۃ - رمح، ہونٹل - لوکب - پیچ دار کیل، اسپرنگ ج لوالب لواء: فوج کا بریگیڈ - اللواء - میجر جنرل، فوجی عہدہ - امیر اللواء - بریگیڈیئر جنرل - لیلیٰ - شبینہ - رات -</p>	<p>لاسلکی - وائر لیس - بے تار برقی - لبنۃ - پلٹس - لبین - لبانتہ - دودھ کی ڈیری، دودھ اور کھن کی دکان - لبین، اینٹ کا سا پنجرہ - ملینۃ - دودھ کی ڈیری کا فٹا لجنۃ - کمیشن - کمیٹی - بورڈ ج لجان لجنۃ تابعۃ - سب کمیٹی - لحظ - لاحظۃ: معاینہ کرنا - نگرانی کرنا ملاحظہ - نگران - پرنٹنٹس - ملاحظۃ، وزٹ - رائے، نگرانی لحق - التحق بالمدرسۃ - داخل ہونا - (التحق به) تھی ہونا - ملحق، اصنافی، منمیمہ ج ملحقات (۲) سفارت خانہ کا ایک کزن - انامی - (امتحان) ملحق - سلیمنڈری امٹان لزم - التزام - پابندی، ذمہ داری ٹھیکہ ج التزامات ملزمۃ - ٹھیکہ - ملازم اول - لیفٹیننٹ ملازم ثان - سیکنڈ لیفٹیننٹ ملتزم - ٹھیکہ دار - اجارہ دار ملزومیۃ - ذمہ داری لیصق: متصل - قریب لصوق، پلاسٹر لطس - ملطاس - پتھر توڑنے کی چھوڑی لعب - ملعب: کھیل کا میدان، تماشہ گاہ ملعب الخیل - سرکس - لغو - ن، قانون کا منسوخ ہوجانا - الغور: منسوخ کرنا - لغتۃ - لغتاً، ترجمہ کرنا - لغتۃ - ترجمہ - ایک نگاہ - لغح - لغح - مغلہ، سرکہ پیٹنے کا کپڑا لغت - لغفۃ: تبغ، سگریٹ - لغیفۃ: تبغ، سگریٹ ج لغائف</p>
--	---	--

<p>منطقہ: علاقہ، صوبہ، ضلع ج مناطق - منطقی - علاقائی نظر - نظارہ - چشمہ، تماشین نظارۃ انتظام، نظامت ناظر - ڈائریکٹر، مینیجر، ناظم ج نظار ناظر المحطہ - اسٹیشن ماسٹر ناظر مدرستہ - ہیڈ ماسٹر منظار - دوربین - نقد - نقد - اثر و رسوخ نافذۃ - کھڑکی ج نوافذ نقطہ: پڑول - نقب - نقیب - افسر، صدر، ڈین نقد - نقدیتہ - کیش - نقد روپیہ (ورق) النقد: لوٹ - نقتش - مناقشتہ - مباحثہ علمی گفتگو نقص - مناقصہ - ٹھیکہ جو دوسرے کے مقابلہ میں کم قیمت پر لیا جائے - نقطتہ - آئٹم - پوزیشن - نقطہ نقل - ٹرانسپورٹ - نقلیۃ - اسٹریچر، مزدوروں اور زخمیوں، بیماروں کو اٹھانے کی چارپائی ناقلیہ - باربردار جہاز ج ناقلیہ نمبر تسمیہ - نمبر ڈالنا - نشارۃ - نمبرنگ مشین - نمس - ناموسیہ: مچھران نمسا - نمک آسٹریلیا - نمیلیۃ - جالیدار الماری - نموذج - نمونہ ج - نماذج - نومیۃ - باری، نمبر نیابی - پارلمنٹری نائب: ڈپٹی، نمائندہ عوام - ج نواب نوس - منادۃ - جنگل مشق - ماؤں بیچ - نیسات - ماہ اپریل -</p>	<p>نخب ج: انتخاب کرنا - ناخب: انتخاب کنندہ - ووٹر نخاب - مندوب: نمائندہ ڈیلیگیٹ مندوب سائر - ای کشز - ندال - مندال - عمل حاضر ندوۃ کلب ج ندوات نزدح عن الوطن - نزوح و گریہ گھر ہونا نازحون - تارکین وطن نزل - ہوٹل، سرکے - تنازل عن - دست بردار ہونا - نزهتہ - تفریح - منتزہ - پارک تفریح گاہ نسبۃ، تناسب، اوسط مناسبتہ: سلسلہ، سبب موقع نسف - نسفا: ڈائنامٹ سے اڑانا نشاط، تارپیڈ و کشتی - نشأۃ: ساخت، تعمیر، بنیاد، زندگی نش و نسل منشی: انشا پر داتہ منشآت - تنصیفات نشر - اشاعت نشادر - نوشار نشرۃ - اعلان، اعلامیہ سرکل پمفلٹ ج نشرات - منشور - سرکل، گشتی حکم نشط - نشاط: سرگرمی - نشف - نشافۃ - منشفۃ: تولیہ نشاف، جذاب، پلاننگ پیپر - نصب - نصاب، قانونی - کورم نق - منصفۃ - ایسج - تقریر کا پلیٹ فارم نضح - نفاحتہ - آب پاشی - نصد منصدۃ - تپائی کا ونٹر نطق - ناطق - ترجمان ناطق رسمی - سرکاری ترجمان</p>	<p>ملک ج املاک - جائداد ملک ثابت - غیر منقولہ جائداد منقول - منقولہ جائداد ملاک - وپوتا - فرشتہ - ملاک العقب - محبت کا دیوتا ملاک الاراضی - جاگیرداران منحۃ علیہ - تعلیمی وظیفہ ج منح - مہرجان - جشن ج مہرجانات مہنتہ - پیشہ ج مہنتہ - موسی الامن - سیفٹی ریزرو مول - تمویل - سرمایہ کاری مؤنتہ تموینا: رسد پہنچانا، سپلائی کرنا ضرورت کی اشیاء ہم پہنچانا - مؤنتہ - خوراک و راشن، رسد تعمین - سپلائی، رسد رسانی میز - امتیاز - رعایت، لائسنس میل - رجحان ج میل مین میٹاء - پورٹ، بندرگاہ (۲) گھڑی کا ڈائل ج مواتی ن نارجیل - ناریل نارجیلۃ - حلقہ نبا - انبویۃ - پاپ ج انابیب نبتۃ - پیراگات منبوذ - اچھوت - نبت - ناپس - بندوق وغیرہ کا گھڑا نتج - نتاج - پیداوار - غلہ - منتوجات - مصنوعات - نجمۃ سینمائیۃ - فلم اسٹار منجم - کان، سرچشمہ ج منجم نعت - منحت: بھولی نحات: سنگ تراش - نحو - نحاہ عن، ملازمت یا خدمت کے برطرف کر دینا -</p>
---	---	--

هجت	هفت	ورق
هتاف - نعرہ جہتافات ہایت - میلفیون ہجومی - صندوق نامی - اقدامی ہتہ آتہد نامہ - پر سکون بنانا، رفتار کم کرنا ہد نامہ - صلح، جنگ بندی ہدب تہدیتا - اسمگلنگ کرنا - چور بازار کرنا - منومہ اشیا کی خرید و فروخت کرنا ہتہ - حوصلہ جہتہم مہتہ - مشن مہومہ ڈیوٹی مہتات - ضروری سامان، میٹرل ہتہ نامہ - انجینری - فن تعمیر مہندس انجینر - ہوایت - خاص شوق - ہیتہ - ہرڈ - انجن جہتات ہیتہ الامم المتحدہ - انجن اقوام متحدہ -	وراق - کاغذات فروشی - کتب فروش - کاغذ ساز - وراقہ - کاغذ فروشی، کاغذ سازی کتب فروشی - وسیط - ثالث - بیچ (وساطت) ثالثی - وصف - علیہ کیفیت - احوال - وصفہ - لہجہ جہ وصفات مستوصف - مطب وصل - ایصال - وصول - رسید وکالتہ ایجنسی - رزکیل، ایجنٹ -	وہر - واپور - ریلوے انجن، اسٹور وہبتہ - ایک وقت کا کھانا - ٹوراک وہبتہ توجیہ - راہنمائی کرنا - اصلاح کرنا توجیہتی - اصلاحی - وہدہ - اکائی - پرنٹ جہ وحدات ودع - مستودع - گودام - ورد - استیراد - درآمد کرنا - ایراد - آمدنی - پیداوار واردات - درآمدات مورد - ذریعہ آمدنی جہ موارد مورد - سامان میا کرنے والا - مستورد - امپورٹ - درآمد کنندہ ورشتہ - ورکشاپ - ورق النقد - نوٹ -
	ہیٹ - مہیٹ - ایر لیلڈ - مہبطہ - پیراشوٹ، ہوائی چتری ہتہ - نعرہ گانا -	





اکیڈنیا



اڀریق




اڀریق



انڀیم




اڈز



مٹڈنہ



الماسٹہ



مٹہر

اڀرہ



اڀچام




اڀضی شوی




اڀطبوط




آله فوٹوغرافیہ



مکواة علی الکهرباء




مروحة




محلوق علی الکهرباء




کماشہ




مجهر



مقاج اورادیو




مطحنة




انڀیق




هاتف اوتوماتیکی



قبان



آله کاتبہ




شاقہ الطرق



مذیاع




نظارہ مکبرة



برميل




بطيخ احمر واصفر



بركار




باذنجان



برشي برمية



باخرة



بنديتية



برتقالة



تلفزيون




بلح




بطارية



بن




برج



ترمس



ترمس



تفتا



ترهندي



ترمومتر



توت




تفح



تفاح




توتيا




رامواي




تبيي



تلسكوب



تفارج الدرابزين



مجداف



جلبان جزر



جرس



مجهر



جامع



جلاجل



جوز هندي



جسر



جبهة



جوز



مجوز



جبال




جزيرة




جكي



حفة



جسر قصر النيل



القنطرة في طليطلة




الجسر العربي (نهر الكلب)




جسر سان فرانسيسكو



جسر الحجر في فارس



جسر في قسنطينة على نهر الرومال





جسر نهر الكلب



جسر النهر الكبير

الكربوراتور او العباق او محور التبخير





مخرز




خشتقاش



خشتقاش



خوخ



خنزیره البئر



الحوافی



مغلب



خنجر



خروب




مخس



خوذة



خودل



خلیة



دوار الشمس




دلپوت



دلفی



خیشة الدینار



دبابة



دراقة



دلب


دبوس ابري



دخن



دبوس انگلیزی



دفة



دوری




دریکتا




دوامتہ




مدافع




دراپرون



دوارہ



دک دپوس طیار



دراجتہ




دورق



داوۃ




دلو



دلومن جلد



مدافع رشاش



دراجتہ ناریہ



مدرعة



درع



سنان



الوطبة



الروندا



رز



ریة البحر



راقود




رادوق



رسن



رسنخ الطابتی



رکاب




خردن



مرساة





دبی



دکوة



دلغان وحواره




مجرفة



شربطة


مجرفة



دور



فرن



خابية



مخزن

باب بيت الشقي



صحفة



محلوب

باب بيت النار

درج

بيت الشقي



قطب



قنب



قونفل




بيت النار

فون



قصب



يقطين



قلة



اقحوان



قطن



قاعدة مثال



قبة الجرس



قارورة



قرن

قبقاب



مقرعة




قفل



کلبان



کره



مکس



کف



کامه




قنات



کاس



مکبا



کوب



مکواته على الکهرباء



کشتبان



مکنته




کنجته




کف



کفانه



مکعب



کوب



کنيته



اکليل



کفل




مندايل الوقتبه



مطرة



کاس



خيمه




مفارة



قنديل



تحيه الكشاف



فأس وخنجر




بوصلة




بطارية يداويه



معدنه



جراب






عیارات میسری

فشر متراو دسیمتر

مکاییل من قصدیر



مکاییل من تنک

دسیمتر مزدوج



عیارات من نحاس


مکاییل من خشب




متر مربع



عیارات من حدید الصب



لولب



متر مکعب



ملقط



نفاق

ملزومة



لواء



صدره



قبعة







سترة نساية



عقال




طربوش




ملعقة








نظارة



ناجذان



منفاخ




نفق




منجل



نصل الريح




منفخة




منارة




ناي



نفيذ




نابا



نبلة



فارة حديد



سنطان

ريشة المثقب

مشار



كماشه

ريشة المثقب




فارة «د رابوخ»



منزومة



منزومة



مقطع المسامير



مبرد مسامير



مبرد



مبرد




تقليجة



ازميل خشب



مطرقة شاكوش



ملحاح



مثقب

مغزق



مفتاح انكليزي



مفتاح انكليزي



منشار



مقص



منشار



منشار الحطابين



منشار سقالة



مفتاح انكليزي



منشار صدر



ريشة المثقب




زاوية



مخفر خشب

مشحف



منشار للحديد



برغي



مفتاح براغي



سراقة ظهر

بيكار مقياس



مقص تنك



سرف



نخيل




زنجبي




منثور



نقر



منجر



نافذة



نعل



منخل



نبواس



انجر




منقار



منشة



نعل الفرس




نارجلیه




نخله




نطاق



منبر



منصب



نرد



اُنبوب



هلیکون



مهراس



هلیکوپتر



ملال



هلیون



هرطمان



هاتف اوتوماتیکی



مہماز



هلیون



هرطمان

هاتف اوتوماتیکی

اهرام




خط منکسر

خط منحرف

خطان متوازیان

خط مستقیم



خط عمودی

فادین


عمود



خط عمودی



خط حارزنی




١ و ٢ زاويتان متناظرتان


٣ و ٤ زاويتان متباينتان خارجيتان

١-٢ منصف الزاوية ٣ و ٤ زاويتان متباينتان داخليتان

٥ و ٦ زاويتان متجابتان خارجيتان



زاوية منفرجة




زاوية حادة



زاوية قائمة

زاوية خالصة

زاوية منفرجة



مثلث مستقيم الزاوية
٣-٤ وتر المثلث
١-٢ مستقيم عمودي
٥-١ متوسط



مثلث متساوي الأضلاع



مربع



زاوية قائمة



مستطيل



مثلث منحرف



معيّن

٣-٢ قطر المستطيل مثلث متساوي الساقين




شبه المنحرف




مضلع سباعي


١-٣ و ٣-٤ القاعدتان
٥-١ الضلع



مضلع سداسي



مضلع خماسي




متوازي الأضلاع



كرة



منحروط دائري



شكل هرمي



موشور




مكعب





١-٢-٣ قطاع

داشرة
١ مركز الداشرة
٢-٣-٤ محيط الداشرة
٥-٦ قطرها
١-٢ شعاعها ونصف القطر
٣-٤ المساحة
٥-٦ قاطع الداشرة



١ النقطة المركزية
٢-٣-٤ قوس
٥-٦ وتر القوس





شكل إهليلجي

شكل بيضي ٢-١ المحور الأكبر ٣٠-٤ المحور الأصغر

غرض أو هدف (في الوسط)

٣-١-٢ زاوية مركزية
٣-٤-٣ قطعة الدائرة



هلال

٤-٥ جيب ٥-٤ • جيب التمام
٣-٢ مماس ١-٦ • مماس التمام
٤-٢ قاطع ١-٤ • قاطع التمام


٢-١ نصف القطر القائم ٤-١٠ شعاع
أو نصف القطر ٣-٤ ٥ مثلث ضمن
دائرة ٦-١٠ إلى المماس مماس لدائرة




وطب




ودعة



وقائض



وتر



وسام




ياسمين



ورد



وذيلة



وتن



وزنك



يقطينة



يانسون



يرقان



ينبوت

جدول مقاييس الطول

بحسب القاعدتين العشرية والانكليزية

كيلومتر	عقد	اصبع (ايش)	سنتيمتر	ميل انكليزي	كيلومتر
١,٨٥٢	١	٢,٥	١	١,٦٠٩	١
٣,٧٠٤	٢	٥,١	٢	٣,٢١٩	٢
٥,٥٥٦	٣	٧,٦	٣	٤,٨٢٨	٣
٧,٤٠٧	٤	١٠,٢	٤	٦,٤٣٧	٤
٩,٢٥٩	٥	١٢,٧	٥	٨,٠٤٧	٥
١١,١١١	٦	١٥,٢	٦	٩,٦٥٦	٦
١٢,٩٦٣	٧	١٧,٨	٧	١١,٢٦٥	٧
١٤,٨١٥	٨	٢٠,٣	٨	١٢,٨٧٥	٨
١٦,٦٦٧	٩	٢٢,٩	٩	١٤,٤٨٤	٩
١٨,٥١٨	١٠	٢٥,٤	١٠	١٦,٠٩٣	١٠
٢٠,٣٧٠	١١	٢٧,٩	١١	١٧,٧٠٢	١١
٢٢,٢٢٢	١٢	٣٠,٥	١٢	١٩,٣١١	١٢
٢٤,٠٧٤	١٣	٣٣	١٣	٢٠,٩٢٠	١٣
٢٥,٩٢٩	١٤	٣٥,٦	١٤	٢٢,٥٢٩	١٤
٢٧,٧٨١	١٥	٣٨,١	١٥	٢٤,١٣٨	١٥
٢٩,٦٣٣	١٦	٤٠,٦	١٦	٢٥,٧٤٧	١٦
٣١,٤٨٥	١٧	٤٣,٢	١٧	٢٧,٣٥٦	١٧
٣٣,٣٣٧	١٨	٤٥,٧	١٨	٢٨,٩٦٥	١٨
٣٥,١٨٩	١٩	٤٨,٢	١٩	٣٠,٥٧٤	١٩
٣٧,٠٤١	٢٠	٥٠,٨	٢٠	٣٢,١٨٣	٢٠
٣٨,٨٩٣	٢١	٥٣,٣	٢١	٣٣,٧٩٢	٢١
٤٠,٧٤٥	٢٢	٥٥,٩	٢٢	٣٥,٤٠١	٢٢
٤٢,٥٩٧	٢٣	٥٨,٤	٢٣	٣٧,٠١٠	٢٣
٤٤,٤٤٩	٢٤	٦١,٠	٢٤	٣٨,٦١٩	٢٤
٤٦,٣٠١	٢٥	٦٣,٦	٢٥	٤٠,٢٢٨	٢٥
٤٨,١٥٣	٢٦	٦٦,١	٢٦	٤١,٨٣٧	٢٦
٥٠,٠٠٥	٢٧	٦٨,٧	٢٧	٤٣,٤٤٦	٢٧
٥١,٨٥٧	٢٨	٧١,٢	٢٨	٤٥,٠٥٥	٢٨

القدم الانكليزي = ٣٠ سنتيمتراً و ٨ ميليمتراً | اليرد و ذراع = ٩١ سنتيمتراً و ٤٤ ميليمتراً
 الميل = ١٦٠٩ امتار و ٣ سنتيمتراً | الاكسر = ٤٠٤٦ متراً مربعاً و ٧١ سنتيمتراً

اوزان الشعر العربي

البيت شطران مصرعان، الصدر والعجز

والشطر اجزاء يقطع اليها الشعر حسب بحور الشعر الاتية نظمها صفي الدين الحلي:

فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ	طويل له دون البحور فضائل	البحر الطويل :
فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ	لمديد الشعر عندي صفات	البحر المديد :
مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلَاتُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِيلُ	ان البسيط له به ينسط الأمل	البحر البسيط :
مَفَاعِلَاتُنْ مَفَاعِلَاتُنْ فَعُولُ	بحور الشعر وا فرها جميل	البحر الوافر :
مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ	كتم الجمال من البحور الكامل	البحر الكامل :
مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ	على الأهراج تسهل	بحر العزج :
مُسْتَفْعِلَانْ مُسْتَفْعِلَانْ مُسْتَفْعِلَانْ	في أبحر الأراجاز بحر يسهل	بحر الوجز :
فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ	رمل الأبحر ترويه اثقات	بحر الرمل :
مُسْتَفْعِلَانْ مُسْتَفْعِلَانْ فَاعِلُ	بحر سريع ماله ساجل	بحر السريع :
مُسْتَفْعِلَانْ مُفْعُولَاتُ مُفْتَعِلُ	مشرح فيه يضرب المثل	البحر المنسرح :
فَاعِلَاتُنْ مُسْتَفْعِلَانْ فَاعِلَاتُنْ	يا حفيقا خفت به الحركات	بحر الخفيف :
مَفَاعِيلُ فَاعِلَاتُ	عهد المضارعات	بحر المضارع :
فَاعِلَاتُ مُفْتَعِلُ	اقتضب كما سألوا	بحر المقتضب :
مُسْتَفْعِلَانْ فَاعِلَاتُ	ان حبت الحركات	بحر الجثث :
فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُ	عن المتقارب قال الخليل	البحر المتقارب :
فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُ	حركات المخذت تنقل	البحر المتدارك :

عبارات الثقل او الوزن

العبارة حسب القاعدة المترية او المشرية

وحدتها الغرام (وهو ثقل سنتيمتر مكعب من الماء المقطري في حرارة 4 درجات سنتيغراد)


ديسيغرام ١٠ غرام	سنتيغرام ١٠٠ غرام	ميليغرام ١٠٠٠ غرام	ديكاغرام ١٠ غرامات
هكتوغرام ١٠٠ غرام	كيلوغرام ١٠٠٠ غرام	قنطار ١٠٠ كيلوغرام	طنون ١٠٠٠ كيلوغرام

العبارة الشرقية

الموزونات الثمينة	الموزونات العادية
قمحة ٥٠ ميليغرام	أقة ١٠٢٨٢ كيلو غرام
قيراط ٢٠٠ ميليغرام	أوقية ٣٧١٤٤ غرام (السودان)
عباس (للؤلؤ) ١.٨٦ ميليغرام (إيران)	٢١٣١٦٦ غرام
درهم ٣٦٢ غرام	بطمان توري ٢٠٧٩٠ كيلو غرام (إيران)
مقال ٤١٦٤ غرام (إيران)	بطمان شاهاني ٥٠٥٨٠ كيلو غرام (إيران)
٤٢٨ غرام	
شاكية ٤٨٠ غرام	
حمل ٢٥٠ كيلو غرام (السودان)	
رطل ٤٥٠ غرام (السودان)	
٥٠٠ غرام (المغرب)	
٢٠٥٦٤ كيلو غرام = أقتان	
٤٤٠٩٣ كيلو غرام (السودان)	
٤٥ كيلو غرام (اللقطن) (مصر)	
٥٠ كيلو غرام (المغرب)	
٢٥٦٤٠ كيلو غرام = ١٠٠ رطل عمان ومسقط	
قياس	
١٥٠ غرام (بين التجار)	
١٦٧ غرام (في الجمرات)	
٣٠٤٥ غرام (الكويت)	
٧٢ غرام (البحرين)	

العبارة الانكليزية

٤٥٣٠٥٩٣ غرام	ليبرة (باوند)	٦٤٠٨ ميليغرام	قمحة
٥٠٠٨٠٢ كيلو غرام	قنطار	١٧٧٢ غرام	درام
١٠١٦٠٤٨ كيلو غرام	طنون	٢٨١٣٥ غرام	اونس




مرفاع



ميزان الرصاص



١- الهيكل العظمي



- ١ العظم الجداري
- ٢ العظم القبيحي
- ٣ العظم الصدغي
- ٤ العظم الوجبي
- ٥ العظم الأنفي
- ٦ الفك العلوي
- ٧ الأسنان العلوية
- ٨ الأسنان السفلية
- ٩ الفك السفلي
- ١٠ الفقرات العنقية
- ١١ الرقبة
- ١٢ عظم اللوح
- ١٣ العنق
- ١٤ العضد
- ١٥ الأضلاع
- ١٦ الأضلاع السابعة الكاذبة
- ١٧ الفقرات القطنية
- ١٨ الخرقفة
- ١٩ الكتفيرة
- ٢٠ العجز
- ٢١ الرزقند
- ٢٢ المصغص
- ٢٣ شخ اليد
- ٢٤ مشط اليد
- ٢٥ السلاميات
- ٢٦ عظم الفخذ
- ٢٧ الرضفة أو الرضفة
- ٢٨ قسبة الساق أو الطنوب
- ٢ الشظية
- ٣٠ شخ القدم
- ٣١ مشط القدم
- ٣٢ سلاميات القدم



١ الجمجمة
٢ العمود الفقري
٣ الخرقفة
٤ الصلب
٥ العنق

١ العضد
٢ الكتفيرة
٣ الرزقند
٤ مفصل
٥ المرفق

١ العظم الجداري

٢ العظم القبيحي
٣ العظم الصدغي
٤ العظم الوجبي
٥ العظم الأنفي
٦ الفك العلوي
٧ الفك السفلي

٣ قباصل الرأس

١ الشفة
٢ الطلاطة
٣ اللوزتان
٤ اللسان
٥ الأسنان

٢ القدم

١- الانسان



- ١ الشعر
- ٢ العانة
- ٣ الكتف
- ٤ الصدر
- ٥ العنق
- ٦ الأذن
- ٧ الكتف
- ٨ الخنجر
- ٩ الصدر
- ١٠ الذراع
- ١١ الكف
- ١٢ الرقبة
- ١٣ جوزة الكلى
- ١٤ الكف

٢- الانثى



- ١ قبة الرأس
- ٢ الأذن
- ٣ الكتف
- ٤ الكتف
- ٥ الكتف
- ٦ الكتف
- ٧ الكتف
- ٨ الكتف
- ٩ الكتف
- ١٠ الكتف

- ١١ المعصم
- ١٢ الكتف
- ١٣ الكتف
- ١٤ الكتف
- ١٥ الكتف
- ١٦ أصابع الرجل
- ١٧ الكتف
- ١٨ الكتف
- ١٩ الكتف
- ٢٠ الكتف



- ١ الوريد
- ٢ الشريان
- ٣ الشريان
- ٤ الشريان
- ٥ الشريان
- ٦ الشريان
- ٧ الشريان
- ٨ الشريان




- ١ القلب
- ٢ الجفن الاعلى
- ٣ القرنية
- ٤ الشفحة
- ٥ اقسام العين
- ٦ الجفن الاسفل



٥- الرئة

- ١ قصبة الرئة
- ٢ الفلقة العليا
- ٣ الفلقة السفلى
- ٤ الرئة اليمنى
- ٥ الرئة اليسرى



الدهون والنسج

- ١ المري
- ٢ الكبد
- ٣ المرارة
- ٤ الاثني عشري
- ٥ الكبد
- ٦ المعدة
- ٧ بنكرياس
- ٨ المعدة
- ٩ المعى الغليظ
- ١٠ المعى الرقيق
- ١١ المعى الأعوج
- ١٢ المعى الغليظ النازل
- ١٣ الزائدة الدودية
- ١٤ المستقيم

مستند اسلامی کتابیں

- ۲۰/- الادب المفرد مترجم اردو امام بخاریؒ
 مومن کے ماہ و سال اردو شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ ۱۶۵
 ۴۰/- فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کامل مفتی محمد شفیع صاحبؒ
 ختم نبوت کامل ۲۱/-
 اسلام کا نظام اراضی ۱۶۵/-
 علمی کشکول ۱۶۵/-
 علم الفقہ کامل مولانا عبدالشکور بکنویؒ ۳۳/-
 تاریخ فقہ اردو شیخ محمد حفیظ مہری ۲۱/-
 رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی ڈاکٹر محمد حمید اللہ ۲۱/-
 حکایات اولیاء مولانا اشرف علی تھانویؒ ۱۳/۵۰
 عیسائیت کیا ہے؟ مولانا محمد تقی عثمانی ۸/۲۵
 ہمارے عائلی مسائل ۹/۵۰
 نور الصدور فی شرح القبور اردو امام سیوطیؒ ۸/۲۵
 تاریخ دارالعلوم دیوبند مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ ۷/۵۰
 آیات بینات کامل ۲ جلد محسن الملک ۳۳/-
 المنجد عربی اردو لغت ۴۰/-
 المعجم اردو عربی لغت ۳۲/-
 سیرت خاتم الانبیاء مفتی محمد شفیع ۳/۷۵
 شہید کربلاؑ ۳/-
 سیرت خلفائے راشدین مولانا عبدالشکور بکنویؒ ۴/۴

قصص الانبیاء

مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی

قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ و تفسیر پر نہایت مبصرانہ اور محققانہ کتاب

- انبیاء علیہم السلام اور پچھلی امتوں کے مستند واقعات
- ان واقعات سے حاصل ہونے والی عبرتیں
- الحاد، تحریف دین اور مادہ پرستی کا احتساب
- جدید عصری تحقیقات خادم قرآن کی حیثیت سے
- تفسیر حدیث اور کلام کے بے شمار اور مباحث
- طرز استدلال سائنٹفک اور دلنشین

یہ کتاب اپنی طبع اول کے وقت سے مسلسل وادھین حاصل کر رہی ہے لیکن پاکستان میں عرصہ سے نایاب تھی۔ اب سفید کاغذ پر فوٹو آفسٹ کی دلاویز طباعت کے ذریعہ تیار ہو گئی ہے۔

ہر جلد پر خوبصورت پلاسٹک کور

قیمت

جلد اول ۲۵/- جلد دوم و سوم ۲۷/- جلد چہارم ۲۷/-
 کامل چار جلد ۷۹/-

دستورِ مکتبہ دارالعلوم دیوبند

مندرجہ بالا قیمتیں حسب ذیل ہو سکتی ہیں خط کے ذریعہ معلوم فرمائیں۔

marfat.com

Marfat.com

عربی زبان لغت پر شاہکار تصانیف

بیروت سے شائع ہونے والی پوری دنیا میں مشہور و مستند عربی لغت المنجد الکبیر کا نہایت مستند اور ترجمہ جس میں ساٹھ ہزار عربی الفاظ کی اردو میں تشریح کی گئی ہے اور بہت سے جدید اضافے کئے گئے ہیں۔ جدید ایڈیشن عکسی طباعت کے ذریعہ تیار ہو گیا ہے۔

المنجد عربی سے اردو
جامع لغت

سائز ۳۰x۳۰ صفحات ۱۳۵۰ مجلد اعلیٰ قیمت ۶۰/-

تصنیف قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی۔ تقریباً بیالیس ہزار ان عربی الفاظ کی مکمل مستند اردو تشریح جو درس نظامی، کتب درسیہ اور مالک عربیہ کی جدید تصانیف اخبار و رسائل اور دفاتر میں مستعمل و مروج ہیں اور قرآن کریم کے جملہ لغات خصوصیت سے شامل کر لئے گئے ہیں۔

بیان اللسان
عربی سے اردو ڈکشنری

سائز ۳۰x۳۰ صفحات ۹۳۳ عکسی طباعت سفید کاغذ قیمت مجلد ۲۶/۰۰

اس لغت میں چھتیس ہزار اردو الفاظ کی جدید عربی زبان میں تشریح کی گئی ہے۔ یہ ڈکشنری اردو کے ذریعہ عربی سیکھنے والوں اور مالک عربیہ میں جانے والے اردو جاننے والوں کے لئے نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعہ عربی سے اردو اور اردو سے عربی ترجمہ اور خط و کتابت و عربی بول چال نہایت آسان ہو گئے ہیں۔

لمعجم اردو سے عربی
ڈکشنری

سائز ۳۰x۳۰ صفحات ۸۰۰ عکسی طباعت مجلد ۲۲/۵۰

عربی - یعنی محامین المعری کی مشہور و معروف کتاب طریقہ جدیدہ اردو - کی اردو و انگریزی زبانوں میں شرح۔ جس کے ذریعہ اردو اور انگریزی انگریزی پڑھے ہوئے لوگ بھی بغیر کسی استاد کے جدید عربی بول چال نہایت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔

عربی بول چال

عکسی طباعت سفید کاغذ قیمت حصہ اول ۵/۰۰ حصہ دوم ۵/- کاہل سیٹ ۱۲/۰۰

اس ڈکشنری میں عربی زبان کے ان دو ہزار جدید عربی الفاظ کی اردو تشریح کی گئی ہے جو مالک عربیہ میں سرکاری دفاتر اور عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ عکسی طباعت سفید کاغذ رنگین ٹائٹل سائز ۳۰x۳۰ قیمت ۱/۵۰

عربی کے جدید لغت
عربی سے اردو

بالکل ابتداء سے اردو کے ذریعہ عربی زبان سیکھنے کے لئے یہ بہترین اور آزمودہ نصاب ہے اس نصاب میں عربی صرف و نحو و ادب عربی کے اسباق کو نہایت سہل انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اس میں درج ذیل کتابیں شامل ہیں۔

عربی آسان نصاب
از مولانا مشتاق احمد چہ تھا ولی

عوامل النحو ۱/۲۰
عربی گفتگو نامہ ۱/۸۰
عربی صفوۃ المصادر مع لغات جدیدہ ۲/۵۰
روضۃ الادب مع عربی خطوط ۳/۰۰

عربی زبان کا آسان قاعدہ ۱/۲۰
علم الصرف اول دوم ۱/۵۰
علم الصرف سوم چہارم ۲/۵۰
علم النحو مع ترکیب ۲/۲۵

کامل سیٹ ۱۶/۹۰

دارالانشاء مولانا مسعود خان صاحب مدظلہ العالی

مندرجہ بالا قیمتیں تبدیل ہو چکی ہیں خط کے ذریعہ معلوم فرمائیں۔